

# قرآن مجید تیک کا اثر تفسیر


مقامِ حرمین شریفین میں عبدالعزیز آل سعود اور قرآن و حدیث  
اللہ تعالیٰ سزور شامندی حاصل کرنے کیلئے  
مہنگے مکتبہ پتھر  
مکتبہ حرمین شریفین

القرآن الكريم

وَرَجَعَهُ مَعَانِيَهُ إِلَى


اللُّغَةِ الْكُتْمِيَّةِ

إِنَّمَا نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاللَّيْلِ قَاطِنُونَ




خادم الحرمين الشريفين شاه سلطان بن عبد العزيز آل سعود، بمكلمت سعودی  
عربک بادشاه چچو، بمؤکریسه آن بجموده تفسیر کرجهایک کج سعادت حاصل .

تَشْرِيفَ بِالْأَمْرِ وَطِيسًا تَعْقِدُ هَذَا الْمُضْتَحِفِ التَّحْرِيفِ وَرَجْمَةً مَعَالِيهِ  
خَلَاةَ لِهَيْبَتِهِ الْمُنْتَهَى بِرِجَالِ الْمَلِكِ سُلْطَانَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ آلِ سَعُودٍ  
مَلِكِ الْمَعَالِمِ وَالْعَرَبِ بِالسُّعُودِ رِبْتَهُ




مجمع الملائك في طبائع الصلوة الشريفة



ترجمہ و تفسیر  
میر واعظ محمد یوسف شاہ

مجمع شاہ فہرہ برائے طباعت قرآن مجید

وَقَفَّ لِلَّهِ تَعَالَى مِنْ خَادِمِ الْحَرَمَيْنِ الشَّرِيفَيْنِ  
الْمَلِكِ نَيْيَامَانَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ آلِ سَعُودٍ  
وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهُ  
شُورَعٌ مَعَانَا



خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود سندہ طرفہ وقف  
اللہ تعالیٰ سزور ضامن دی حاصل کرنے خیطرہ  
امیگ کنن چھنہ جائز  
مفت تقسیم کرنے خیطرہ

قرآن مجید  
تمیک کا شُر تفسیر

مجمع شاہ فہد برائے طباعت قرآن مجید  
مدینہ منورہ مملکت سعودی عرب

# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## مقدمة

بقلم معالي الشيخ: صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ  
وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد  
المشرف العام على المجمع

الحمد لله رب العالمين، القائل في كتابه الكريم:

﴿... قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ﴾

والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد ﷺ، القائل:  
«خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ».

أما بعد:

فإنفاذاً لتوجيهات خدام الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،  
حفظه الله، بالعبارة بكتاب الله، والعمل على تيسير نشره، وتوزيعه بين المسلمين، في مشارق  
الأرض ومغاربها، وتفسيره، وترجمة معانيه إلى مختلف لغات العالم.

وإيماناً من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية  
السعودية، بأهمية ترجمة معاني القرآن الكريم، إلى جميع لغات العالم المهمة، تسهيلاً لفهمه على  
المسلمين الناطقين بغير العربية، وتحقيقاً للبلاغ المأمور به في قوله ﷺ: «بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً».  
وخدمةً لإخواننا الناطقين باللغة الكشميرية، بطيب لمجمع الملك فهد لطباعة المصحف  
الشريف بالمدينة المنورة، أن يقدم للقارئ الكريم هذه الترجمة الكشميرية، التي قام بها الشيخ  
مير واعظ محمد يوسف شاه، رحمه الله، وراجعها من قبل المجمع كل من: الشيخ عبداللطيف  
شيخ عبد الرشيد، والشيخ عبد اللطيف بت الكشميري.

ونحمد الله سبحانه وتعالى أن وفق لإنجاز هذا العمل العظيم الذي نرجو أن يكون  
خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به الناس.

إننا لنذكر أن ترجمة معاني القرآن الكريم -مهما بلغت دقتها- ستكون قاصرة عن أداء  
المعاني العظيمة التي يدل عليها النص القرآني المعجز، وأن المعاني التي تؤدها الترجمة إنما هي  
حصيلة ما بلغه علم المترجم في فهم كتاب الله الكريم، وأنه يعتريها ما يعتري عمل البشر  
كله من خطأ ونقص.

ومن ثم نرجو من كل قارئ لهذه الترجمة أن يوافي مجمع الملك فهد لطباعة المصحف  
الشريف بالمدينة النبوية، بما قد يجده فيها من خطأ أو نقص أو زيادة للإفادة من الاستدراكات  
في الطباعات القادمة إن شاء الله.

والله الموفق، وهو الهادي إلى سواء السبيل، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم.



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مقدمہ

ہفتم جناب عزت مآب فضیلۃ الشیخ صالح بن عبدالعزیز بن محمد آل الشیخ وزیر برائے مذہبی امور،  
او قاف، دعوتِ تہ ارشادِ تہ نگرانِ اعلیٰ مجمع  
ساری تعریف شوین اللہ تعالیٰ ہی، اُس کا نائیک رب ہٹھ، ہم ذاتن ہند پاک کتاب (قرآن مجید س)  
منز فر موو: ”توہودت اللہ تعالیٰ سندہ طرفہ نور تہ واضح کتاب۔“

بیہ اکن درود تہ سلام ہر ذاتِ مقدس جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ساری پیغمبرن تہ مرسلینن کھو تہ  
افضل تہ بر تر چھ، بیہند ارشاد گرامی ہٹھ، ”توہہ منز چھ بہتر سوانسان ہم قرآن مجید زون تہ لوکھ زائر آون۔“  
المابد!

خادم الحرمين الشريفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود حفظہ اللہ سند تعلیمات چھ کہ قرآن شریح  
خدمت، نشر و اشاعت، رُوے زمینگین مشرق تہ مغربہ کین مسلمانن منز آج تقسیم، تہ آج تفسیر، بیہ دنیہ جن  
مختلف زبانن منز گوگھ اک ترجمہ یکن کرنہ۔

بیہ چھ مملکت سعودی عرب وزارت برائے مذہبی امور، او قاف، دعوتِ تہ ارشاد ہم کتھ ہند یقین  
تھاوان کہ قرآن مجید کین معانین ہند دنیہ جن مختلف زبانن منز ترجمہ کرن کوتاہ اہم چھ، تاکہ کمن مسلمانن  
پیٹھ سپدہ قرآنک ہم آسان ہم عربی زبان چھد ہیگان بوتھ، بیہ بیہ سہہ تبلیغ حاصل سپدہ تھہ سمیوک حکم نبی کریم  
صلی اللہ علیہ وسلمن ہندس ہٹھ ارشاد پاکس منز چھ آمت دنہ ”بلغوا معنی ولو آیتہ“ میانہ طرفہ واتاود لوکن تام  
سو آستن اکی آیتہ“

شاہ فہد سند مجمع برائے طباعت قرآن شریف اُس مدینہ منورس منز چھ، تھہ چھ پند منین کاشتر زبان  
یون والین باین ہندہ خطیرہ قرآن مجید کہ یہ کاشتر ترجمہ پیش کرنہ سیتھ خوشی سپدان۔


یہ ترجمہ چھ جناب میر واعظ محمد یوسف شاہ صابن کورمت، تہ آتھ چھ جمجھہ طرفہ نظر ثانی جناب  
عبداللطیف شیخ عبدالرشید صابن تہ جناب عبداللطیف بہت کشمیری صابن کر مڑ۔

اُس چھ اللہ تعالیٰ سند سیٹھاہ تعریف کران کہ تم وڈا سہہ یہ عظیم کام مکمل کرنچ توفیق۔ آتھ منز چھ اُس  
یہ امید تھاوان کہ یہ آسہ خالص رب کریم سندہ رضا خطیرہ، بیہ چھ یہ امید کہ امہ سیت ولتہ لوکن فاندہ۔

اُسہ چھہ ہم کتھ ہند احساس کہ ترجمہ قرآن کر اُس منز کاژاہ تہ دقت بیہ تن مد نظر تھاونہ، تو تہ چھو آسان  
سو ترجمہ کمن عظیم معانین ہنز ادا ہیگنی لغہ قاصر، یکن پیٹھ قرآن کریمک مجزانہ آیات کر بیہ چھ دلالت  
کران، بیہ یکن معانین یہ ترجمہ چھ ظاہر کران، یہ چھو کتاب اللہ کس ہمس منز مترجم سند مبلغ ملک نتیجہ، آتھ  
ترجمس منز بیہ کہ نہ غلطی، نقص پیش تھہ، بس غلطی بشرہ سزمنہ تہ کامہ منز چھ پیش یوان۔

لہذا چھہ اُس پر ہٹھ تمس شخص نشہ یہ امید تھاوان اُس یہ ترجمہ پرہ کہ اگر سویتھ ترجمس منز کا نہہ غلطی  
نقص یا زیادتی لبہ، تمس پرہ مجمع الملک فہد برائے طباعت قرآن شریف مدینہ منورس آج خبر دن، تاکہ انہ  
والین ایڈیشنن منز بیہ یکن ملاحظاتن نشہ استفادہ کرنہ۔ ان شاء اللہ

اللہ تعالیٰ چھہ توفیق دنہ وول، بیہ چھہ سوی سینر و تھہ ہاون وول۔ دعا چھہ لے اللہ ژہ کسانن یہ کوشش  
قبول۔ بے شک چھو کھہ رمی سوری بوزہ وون سوری زانہ وون



## سُورَةُ الْفَاتِحَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ  
وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۝ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ  
غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ۝

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ گوڈ پچھس بوکران خدایہ سدہ تاوہ سیت ئس سیٹھاہ رحم کرہ ون پچھ۔ ئس  
سیٹھاہ مہربان پچھ۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ ساری تعریف تہ مدح تہ شان پزین تس ذات پاکس یسند ناؤ پچھو اللہ۔ کیا زہ پریتھ چیزاہ تہ پریتھ  
تعمتھاہ سپدہ کرہ ون تہ پچھو سؤی عطا کرہ ون تہ پچھو سؤی۔ لہذا شوئن حمد و شاکس یوت۔ رَبِّ الْعَالَمِينَ ئس  
مالک تہ پرورش کرہ ون پچھو ساری عالم ہند۔ مخلوق اتن ہند اکھ اکھ جنس پچھو گنر نہ یوان اکھ اکھ عالم۔ مثلاً  
عالم ملائکہ۔ عالم انسان۔ عالم جن۔ عالم جمادات۔ عالم نباتات۔ عالم وحوش و طیور۔ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
ئس ساری رحم کرہ ون پچھو دنیاہس اندر۔ ئس پن رحمت جاری تھاوہ ون پچھو بالیمان پیٹھ آخر تس اندر  
مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ ئس مالک تہ اختیار ہوول پچھو جزاء کہہ ڈبک جزاء کہہ ڈوہ گو قیامتک دوہ۔ سمہ دوہہ رئن  
پنہ نین عملن ہند بدلہ۔ تم پتھ کورمت آہہ سؤتله تیو تھے پھل اِیَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِیَّاكَ نَسْتَعِينُ چانی یاژ  
پچھہ آس بندگی تہ پرستش کران بیہ نہ کانہہ ہنز، بیہ پچھہ آس تری یوت یاری تہ مدد منگان بیہ نہ کانہہ۔ بیہ پچھو  
بندن ہندہ طر فہ خدایہ سزہ در گاہہ اندر التجا بیہ پچھہ ناؤ اللہ تعالیٰ ان پن بندہ جہندس دربارس اندر کتھ پاٹھ  
گدھ حاضر سپدن۔ کتھ پاٹھ گدھ سوال کردن۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ بیہ ہاؤلسہ سیز و تھہ دتج۔  
صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ و تھہ تمن لوکن ہنز تمن تریہ نعو عطا کریتھ یعنی نبوت حج نعمت رسالت  
نعمت۔ صدیق نعمت۔ بیہ شہاد حج نعمت صلاح حج نعمت غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ تہنز و تھہ  
نہ تمن پیٹھ چان ژ کہہ پچھ۔ تمن پیٹھ ژہ ہیزار پچھو کہ تہنز ہا فرمانی سبہ۔ بیہ نہ تہنز و تھہ تم گمراہ سپد، و تہ نشہ  
ڈل۔ تم گیے یہود و نصاریٰ۔ بیہ ساری باطل فرقہ تم افراط و تفریطس منز مہبتلا سپد۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الَّذِي ذَلِكِ الْكِتَابِ لِارْتِيَابٍ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ  
بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ  
بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۝

سورہ بقرہ، جہو مدنی زہ ہت تہ شیعہ شیتھ آیہ کریمہ

التَّحْمِيمِ گے حروف مقطعات یمن ہند معنی زانہ پانہ پروردگار ذَلِكِ الْكِتَابِ یہ سب کتاب یعنی قرآن مجید نُس، جُہو لِارْتِيَابٍ فِيهِ کا نہ شک، جہو نہ اتھ اندر۔ اِسْ کلام الہی آسَس اندر هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ یہ جُہو بوڈ ہدایت خدائس کھوژہ ون ہندہ خیطرہ۔ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ تم خدائس کھوژہ ون بندہ گے تمے تم پڑھہ تہ یقین جھہ کران تمن چیزن تم نہ تمود تھمتی جھہ۔ یعنی یم چیز تھند یو حواسو تہ عقلہ نَشِر پُوشیدہ جھہ۔ صرف جھہ خداو پیغمبر خدایہ سندہ فرمانہ سیت تمن چیزن پڑھہ کران تہ تمن صحیح تہ درست مانان۔ تم چیز گے خدا۔ ملائک۔ قیامت۔ جنت تہ جہنم۔ یعنی یم لوکھ خدائس کھوژان جھہ تمن جُہو یہ قرآن مجیدو تھہ ہادان۔ کیا زہ نُس اکھاہ پنہ نس خدائس کھوژان آسہ تس جھہ فخر تہ تلاش آسان تمن کا یم ہنزیمہ کامہ خدائس ہند جھہ۔ یہ یمن کا یم پڑھہ سُو بیزار چھو تمن جھہ فکر آسان خدای سز طاعت کرہ نَج۔ تھندہ معصیت و نافرمانی نَشہ پتھہ روزہ نَج۔ یمن نافرمان ہندن و لن اندر خدایہ سُنَد خوف آسہ نہ تمن جُہو نہ طاعت و معصیتک کہنہ اندیشہ تہ فکر۔ امہ اندرہ سُد معلوم تم لوکھ یمن پُوشیدہ چیزن پڑھہ آسن نہ کران تم جھہ ہدایت نَشہ محروم وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ یہ گے خدائس کھوژہ ون تم لوکھ تم برپا تہ قائم جھہ تھوان ہمیشہ نمازہ پانڑھہ۔ تمہ کیو حقوقو تہ شرطو تہ آدابوسان۔ و تچہ پابندی سان وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ یہ گے خدائس کھوژہ ون تم لوکھ تم تم مالہ اندرہ نُس اسی تمن عطا کورمت چھو آسن خرچ کران۔ اہل و عیالس تہ آشناون تہ ہمساین تہ مستحقن پڑھہ۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ یہ گے خدائس کھوژہ ون تم لوکھ تم

أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۵﴾  
 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ  
 لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۶﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ  
 أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۷﴾ وَمِنَ النَّاسِ  
 مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۸﴾

پڑھ چھ کر ان تھے کتابہ یوسہ توہہ کن نازل آہہ کرنہ۔ بیہ تمکن کتابن پیٹھہ یہہ توہہ بروٹھہ نازل آہہ  
 کرنہ بروٹھمن پیٹھن پیٹھہ۔ ایمان چھہ ونان پوزگنز رنس۔ یہہ کتابہ اللہ تعالیٰ ان حضرات مُرسَلین پیٹھہ  
 نازل کرہ مژہ چھہ۔ توریت و انجیل وزبور و صحف تمہہ سارے کتابہ چھہ پڑہ۔ تمکن کتابن ہنز پڑھہ آسن  
 چھہ شرط ایمان۔ چھہ روز عمل کرن سوچھہ صرف قرآن مجیدس پیٹھہ کرن۔ کیاہہ تمہہ سارے کتابہ  
 چھہ قرآن مجیدہ سیت منسوخ تہہ ناقابل عمل قرار دنہ آمرہ۔ **وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ** بیہ تم آخرت تہہ  
 چھہ پور پڑھہ کران۔ یہہ دُنیا چھہ جو خم گزھہ ون۔ امہ پتہ چھہ بیاکھ عالماہ۔ تھہ عالمس آخرت ونان چھہ۔  
 تھہہ عالمس اندر کرہ اللہ تعالیٰ بدکارن، نافرمان عذابس تہہ سزاس گر قرار۔ تھہہ عالمس اندر آہہ  
 باایمان جنت تہہ جتتہ نعمو عطا کرنہ۔ **أُولَئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ** تہہ لوک چھہ پنہ نس پروردگار  
 سزہہ تھہہ وتہہ پیٹھہ یوسہ تمکن تہندہ طرفہ ہاندہ آہہ **وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** بیہ چھہ تہہ لوکھہ رستگارتہ  
 کامیاب (تم ثور آہہ کریمہ چھہ باایمان ہندس مدحس اندر بیان کرنہ آمت) سموزیوہ سیت تہہ دلہ  
 سیت قرآن مجیدس تہہ دین اسلامس ایمان اون۔ امہ پتہ چھہ بیان تمکن لوکن ہند سمبو بدل وزبان انکار  
 کور **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا** بے شک سمبو لوکو انکار کور **سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ** برابر ہی چھہ بھیدہہ خیطرہ **أُنذِرْتَهُمْ أَمْ  
 لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ** تُوہہہ کروہین ہمیانہ کریوکھہ تم زانہہ ایمان اسن نہ کیاہہ **خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ  
 قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ** خداین چھہ مہر کر مژہ ہندین دین ہندین کنن پیٹھہ **وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ**  
 بیہ چھہ تہزنن اچھن پیٹھہ ٹھور تمہہ کن چھہ پڑہ کتھہ تمکن فکرہ تران۔ **وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ**

يُخِذُ عُونََ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخِذُ عُونََ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ  
 وَمَا يَشْعُرُونَ ۙ ﴿٩﴾ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا  
 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۙ ﴿١٠﴾ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ۙ ﴿١١﴾ وَإِذَا قِيلَ  
 لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ ۙ ﴿١٢﴾  
 إِلَّا أَنَّهُمْ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِن لَّا يَشْعُرُونَ ۙ ﴿١٣﴾ وَإِذَا

تہندہ خیطرہ چہو بوڈ عذاب۔ سو گونا جہنم۔ امہ پتہ چہو اللہ تعالیٰ فرماوان ترواہ آیات کریمہ منافقن  
 ہندس مذقس اندر یمن ہند ظاہر اکھ آسہ باطن بیاکھ۔ تمن ہنز زیواکھ آسہ دل بیاکھ۔ کیا زہ تمن ہند شر  
 چہو سیٹھاہ زیادہ بین ہندہ خوتہ ومن التائیس من یقول امنا باللہ وبالیوم الآخر۔ بیہ چھہ کینہہ لوکھ ایم  
 زیوہ سیت ونان چھہ آسہ کر پڑھ خدایس بیہ پتمس دوہس یعنی قیاس و ماہم یؤمنین حالانکہ ہرگز  
 چھہ تم پڑھ کرہ ون دلہ سیت خدایس نہ قیاس مکتس دوہس یخید عون اللہ والذین امنوا پتہ خیالہ چھہ  
 تم دھو کہ بازی کران خدایس تہ با ایمان سیت و ما یخید عون الا انفسہم و ما یشعرون لیکن  
 در حقیقت چھہ تم دھو کہ دو ان مگر پان پانس۔ مگر باسان تہ ثینان چھہ تم۔ امیک شعور چھہ تمن  
 فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا تہندن دن اندر چہو بڈ مرض۔ نفاق مرض۔ دین اسلامہ  
 نعیہ نفر تک مرض حسدک مرض بیہ عبادک مرض۔ تم مرض آس تمن برو نطھی۔ وون سپد  
 قرآن مجید نازل۔ اسلامس دیت اللہ تعالیٰ ان عزت و شوکت۔ بیہ سپز روز بروز اہل اسلامن ترقی۔  
 تم چیز و چھتھہ سپز تہندس مرض اندر زیادتی۔ پس کر کہ اللہ تعالیٰ ان زیادتی تھہ مرض اندر  
 ولہم عذاب الیم بیہ چہو تہندی خیطرہ آخرتس اندر کڈر عذاب کیماکا کانو ایکذ یون ای موکھ  
 کہ تم آس اپزونان۔ بل ونان آمناب اللہ۔ واذ اقبل لہم لا تفسدوا فی الارض یلہ ونہ چہو یوان  
 تمن فسادہ تلیو منافقت تہ تا فرمانی کر نہ سیت قالوا دبان چھہ تم کہہ انما نحن مصلحون اس چھہ  
 مگر معاملتن سہالہ ون تہ اصلاح کرہ ون تہہ حالات در ست گڑھن۔ اللہ تعالیٰ چہو فرماوان الا انہم

قِيلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ قَالُوْا اَنْوُمِنْ كَمَا اٰمَنَ  
 السُّفَهَاءُ ۗ اِلَّا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ ﴿۱۳﴾  
 وَاِذْ اَقْوَامٌ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا ۗ وَاِذَا خَلَوْا اِلَىٰ  
 شَيْطٰنِهِمْ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۱۴﴾  
 اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهٖمْ وَيَبْدُ لَهُمْ فِى طٰغِيٰنِهِمْ يُعٰمَهُوْنَ ﴿۱۵﴾

هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وارہ بوزوای بوزوینو تھے چھہ فی الحقیقت بتاہی تہ فساد کرہون۔ وَلٰكِنْ لَا يَشْعُرُوْنَ لیکن تمہ چھنہ تمیک شعور۔ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ تھے پاٹھ یلہ ونہ چھہو یوان تمہ منافقن ایمان انہ۔ پڑھ کر و خدا و پیغمبر خدا نئس تھے پاٹھ تھے پاٹھ ساروی لو کو ایمان اُون تہ پڑھ کر قَالُوْا اَنْوُمِنْ كَمَا اٰمَنَ السُّفَهَاءُ دپنہ چھہ لگان کہ سبہ اس انوہ ایمان تھے پاٹھ تھے پاٹھ سموبے عقلو ایمان اون۔ اللہ تعالیٰ چھہو فرماوان اِلَّا اِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلٰكِنْ لَا يَعْلَمُوْنَ خبر دار روزوارہ بوزوای بوزہ دینو۔ پڑھاٹھ تھے چھہ فی الحقیقت بے عقل تہ بے وقوف۔ مگر تمہ چھنہ پن بے وقوفنی زان تگان وَاِذْ اَقْوَامٌ اٰمَنُوْا قَالُوْا اٰمَنَّا بی یلہ تم منافق چھہ سمکھان، ملاقات کران با ایمان سیت تمہ چھہ ونان بل زیوہ سیت اسہ اُون ایمان۔ وَاِذَا خَلَوْا اِلَىٰ شَيْطٰنِهِمْ قَالُوْا اِنَّا مَعَكُمْ تمہ پتہ یلہ واتان چھہ خلوتس اندر پنہ نین شیطان نش یعنی پنہ نین شریر سر داران تہ زٹھن نش تمہ چھہ وانان بیشک اس چھہ توہی سیت دلہ کن اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِءُوْنَ اس چھہنہ مگر با ایمان آمانونہ سیت اکھ ٹھٹھاہ تہ مخلواہ کران۔ اللہ تعالیٰ چھہو فرماوان اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهٖمْ وَيَبْدُ لَهُمْ فِى طٰغِيٰنِهِمْ يُعٰمَهُوْنَ اللہ تعالیٰ تہ چھہو تمہ ٹھٹھہ کران۔ تہ گواہی زہ ڈجر چھٹھہ تراوان۔ مہلت چھٹھہ دوان تم چھہ پنہ سر کشی اندر انین ہند پاٹھ تھپہ دوان۔ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اسْتَرَوْا الصَّلٰةَ يٰۤاَلْهُدٰى یٰم گے تھے سمومل ہر گراہی ہدایتس۔ فَمَا رِيَبَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوْا مُهْتَدِيْنَ پس کانہہ نفع تہ فائدہ دیت نہ تہند تجارتن۔ بیہ آس نہ تم و تھہ لبہ ون۔ ہزس کن آہی نہ تمہ کانہہ اتھاہ و تھاہ۔ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا

أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ  
 وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۱۷﴾ مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا  
 فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي  
 ظُلْمٍ لَا يُبْصِرُونَ ﴿۱۸﴾ ضُفُّوا بِكُمْ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿۱۸﴾ أَوْ  
 كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَّرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ  
 أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ

تہنہ، مثال چھہ تہ شخصہ سزہش تم زول تہ پرزہ وواکھ نارہا، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ اُدہ یلہ تم نارن  
 روشن کور تہ یہ تہہ لہد پک اوس ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ ژہتہ کور اللہ تعالیٰ ان تہند نور تہ روشنی وَتَرَكَهُمْ  
 فِي ظُلْمٍ لَا يُبْصِرُونَ بیہ تراون تم تم اس نارزالہ وئس سیت آس انہ گئں اندر کہ بوزنہ اوسکھ نہ  
 یووان کہہنہ۔ تہہ پاٹھ یہ شخص بیہ یم تہ سیت آس روشنی حاصل سپد تہہ لہد کجہ منزرگ فقا سپد مت تہہ  
 پاٹھ سپد مناق پوزواضح تہ روشن سپد نہ پتہ ضلالت وگمراہی ہنزہ تاریکی منزرگ فقا۔ تہہ پاٹھ تہنہ اچھہ  
 تہ کن تہ زیوبکار سپد۔ تہہ پاٹھ سزہ یمن مناقن ہنزہ حالت ضُفُّوا بِكُمْ عُمَىٰ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ زہ چھہ تم  
 پوز بوزنہ نشہ۔ کل چھہ تم پزس اقرار کرنہ نشہ۔ ان چھہ تم پوزو چھنہ نشہ۔ پس پھیرن تہ رجوع کرن  
 نہ تم سمواحتو نشہ اَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمٌ وَّرَعْدٌ وَبَرْقٌ تہ چھہ کن مناقن ہنزہ مثال تمہ  
 رودج ئس آسکھ طرفہ یوان آسہ۔ تہہ اندر آس انہ کجہ تہ لگراہی تہ و زمکہ۔ تہہ رودس منز آسہ  
 پکان لوکن ہنزہ کھ جماعتہا یَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ تہ لوکھ آس  
 پنہ او گجہ زورہ واتاوان پنہ نین کن اندر ترٹن ہندہ موکھ موکھ بیہ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ تم چھہ پنہ  
 خیالہ موتہ نشہ چچہ تک تدبیر کران۔ مگر اللہ تعالیٰ گوت چھڈہ تم۔ اللہ تعالیٰ چچہ کافرن تہ نافرمان  
 پر تہہ طرفہ احاطہ کر تہہ۔ تہ نشہ ہکن نہ تم کن گڑھتہہ۔ یَا كَاذِبُ بَرَقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ وَه  
 تہنہ چھہ یہ حالت کہ خیال چچہ گڑھان تم و زلمن ہندہ گاشہ سیت ماہیہ ائیو تہنہ ان چھن کَلَّمَآ



بِالْكَافِرِينَ ۱۹ يَكَادُ الْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ  
 مَشْوَاهُ فِيهِ ۖ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ  
 بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۲۰ يَا أَيُّهَا  
 النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ  
 لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ۲۱ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً ۚ

اَضَاءَ لَهُمْ مَشْوَاهُ فِيهِ سیمہ سیمہ ساتہ وز لمن ہنز روشنی تمن پیٹھہ پیوان چھہ تم چھہ تمہ کس گاش  
 منز پن ہوان۔ وَاِذَا اَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا تو پتہ یلہ تمن پیٹھہ تاریکی تہ لہ گمہ چھہ سپان و دہہ چھہ  
 روزتھہ گوشان وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ اللہ تعالیٰ ہر گاہ یڑھہ ہا کائن کرہ ہاتھندہ  
 بوزنگ طاقت۔ بیہ وچھک طاقت نہ روزہ بچھہ کن کمنہ نہ روزہ بچھہ لہ چھہ کمنہ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  
 قَدِيرٌ بیشک اللہ تعالیٰ اس چھہ پریتھہ کمنہ چیزس پیٹھہ قدرت۔ تم لو کہ اتھہ رودہ گمہ کارس منز پکہ  
 ون آس۔ یتھہ پاٹھہ گزہ پکان آس۔ گزہ روزتھہ گوشان آس۔ یتھہ پاٹھہ چھہ تم منافع اکہ ساتہ یلہ  
 وچھان چھہ نور اسلامک ظہور روز بروز ترقی۔ تم چھہ لو کن مائل سپن یڑھان۔ تمہ ساتہ خود غرضین  
 ہنز تاریکی حاصل سپان چھہ کمنہ۔ آتی چھہ کمنہ ٹھونٹھہ لگان پزس کن انہ نشہ چھہ ہتھہ ژلان۔ اوتان سپد  
 ترشونی جماعتن ہند حال بیان۔ امہ پتہ چھو ساری لو کن خطاب کر تھہ بیان یوان کر نہ سو مضمون سیمہ  
 خیطرہ ہیہ مفہوس کتاب قرآن مجید نازل آو کر نہ یَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن  
 قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ہالو کو! عبادت تہ پرستش کرو پتہ نس نس پروردگار سنز تم ٹوہ پیدہ کدوہ۔ بیہ تم  
 پیدہ کر تم ساری لو کہ تم تو بہہ بروٹھہ آس۔ یتھہ ٹوہ پچوتہ محفوظ روزو جہنمک عذابہ نش۔ سو گو سوی  
 ہروردگار۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً یم تھندہ خیطرہ کور زمین وٹھرناہ بیہ گرن  
 آسمان امہ زینک پشاہ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً یمہ تم پروردگارن آسمانہ طرفہ تراو اتھہ زمینس پیٹھہ  
 روداہ فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ تو پتہ کھارن امہ زینہ منزہ امہ آبہ سیت میوہ جات تھندہ

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ ۖ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۲۲﴾ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ ۖ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۳﴾ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۗ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ ﴿۲۴﴾ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا

کھینے خاطرہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أُنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ پس مہ ٹھہرا او تو وہ اے لوگو معبود برحقس مقابل کئے قسمک شریک زانتھہ کرتھہ یعنی یہ کتھہ زانتھہ کہ سیمہ کامہ کرہ ون چہونہ کس وراى کانہہ تہ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا ون ہر گاہ توہہ شک وشبہ چہوتھہ کتابہ اندر یوسہ اسہ نازل کتر پنہ کس بندہ خاص پٹھہ۔ یعنی حضرت محمد امیس پٹھہ۔ یہ ماچہو تمویپانے ٹھہر وومت فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ تملہ انتونہہ تہ کانہہ سورہ تیار کرتھہ تھسئى کانہہ شخص نشہ کس امی آسہ۔ سیم نہ کینہہ تہ پورمت آسہ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بیہ دی توتہہ ناتمن سارنی یم تہہ مددگاری خیطرہ سمہ نوہ یا معنوپنہ نین معبودان باطن معبود برحقس وراى۔ چھوے ٹوہ پوز ونہ ون تھہ تھہ اندر کہہ یہ کیاہ چہو کلام بشر فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا پس ہر گاہ تھہ بیگونہ اتھہ قرآن مجیدس ہیو کلاماہ پیش کتر تھہ وَلَنْ تَفْعَلُوا بیگونہ زانہہ پیش کتر تھہ قیامس تام۔ از تام تہ از کہہ پٹھہ قیامس تام ہیو کہ نہ کانہہ اک اتھہ قرآن مجیدس ہیو فضاحت و بلائس اندر اکھ یازہ آہہ تہ پیش کرتھہ۔ یوہے چہو بوڈ معجزہ قرآن مجیدک۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ کس کھو ژوتہ بچاودہن پان تمہہ نارہ نشہ سیمہ نارچہ ترشہ چھہ سمویت تھہ ڈکھہ دنہ خیطرہ تہ ریبہہ ہینہ خاطرہ چھہ کافر لوکھہ۔ بیہ تمہہ گنہ سمن کمن تیار کرتھہ تہ گرتھہ کافر پرستش چھہ کران۔ تے گنہ دزن نار چھنمس اندر تھہ پاٹھہ گندک کنہ ریلہ ہندین انجن اندر دزان چھہ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ سؤی نار چہو تیار کرنہ امت تمن کافرن

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّ لَهُمْ حَبْطًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا  
رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ  
وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ ﴿۵﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ فَمَا  
نَوَقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا

ہندہ خیطرہ سم قرآن مجید سے نبی برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپر گزراں چھہ۔ یہ اوس  
وعیدہ شدید منکر ہندہ خیطرہ امہ پتہ چھہ فرماوان بشارت بالیمان تسلیم تہ اقرار کر وہ نین ہندہ خیطرہ  
وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِیہ فرماو و تہ بشارت لے حضرت محمد ﷺ! تم ن لوکن سمو ایمان لون  
تہ پڑھ کر خدا نس بیہ تہندس پیغمبر س۔ بیہ قرآن مجید س۔ بیہ کریکھہ رتہ عملہ اَنَّهُ لَمْ حَبْطًا تَجْرِي  
بشارت کہ بیشک تہندی خیطرہ چھہ تم جنت تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ سمو جتو منز مختلف جو یہ آسن  
پکان۔ آب زلالہ جو یہ، شراب طہور چہ جو یہ، صاف و شفاف مانچہ چہ جو یہ کَلَّمَا رُزِقُوا یلہ یلہ عطا  
کرنہ آسہ یوان تم ن مہا من ثَمَرَةٍ رِزْقًا امہ جنگ کانہ میواہ کھینہ خاطرہ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا  
مِنْ قَبْلُ وَهَلْ تَمَّ یہ چھو سو ی میوہ نس آسہ عطا کرنہ آو سمہ بروٹھہ۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا عطائہ آسہ کرنہ  
آمت تم ن سو میوہ دو شون لٹن نس اکھ نس ہیو صورتہ کن آسہ۔ مگر لذت کن تہ مزہ کن آسہ مختلف  
وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ بیہ چھہ تہندہ خیطرہ تم ن جتن اندر پاک و پاکیزہ زنانہ یمر دنیا چو آلا یثو تہ  
ناپا کیونشہ محفوظ آسن وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بیہ روزن تم جنتی تم ن جتن اندر ہمیشہ۔ بعضہ مخالفو کور  
اعتراض کہ ہر گاہ یہ قرآن مجید کلام الہی آسہ اتلہ آسن نہ اتھ اندر حقیر و ذلیل جانورن۔ چھن۔  
زلرین تہ مہن ہندناو۔ اتھ کور اللہ تعالیٰ اَن رَد۔ فرموون إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةٌ  
اللہ تعالیٰ چھنہ مند چھان سو کیاہ کرہ ہابیان کانہ مثالاہ بَعُوضَةٌ فَمَا نَوَقَهَا سو آسن اودہ مہہ سنز  
یا تمس کھو تہ کانہہ بڈس جانورہ سنز چھہ ہنزیازلر سنز فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ

الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ  
 بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴿۲۶﴾  
 الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ  
 مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ  
 هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۲۷﴾ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا

نہیں سمجھو لو کو ایمان اولن تہ پڑھے کہ تم چھہ یقینہ پاٹھہ زانان کہ یمہ مثالہ چھہ بیان کرنہ آمرہ عین موقس  
 پیٹھہ تہندس پروردگارہ سندہ طرفہ وَأَنَا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا وون سمو  
 لو کو کفر وانکار کور تمہ چھہ سنی وُن کہ یمہ حقیر مثالہ بیان کرنہ اندرہ کیاہ سنا چھہ مقصد خدایہ سُنَدُ يُضِلُّ  
 بِهِ كَثِيرًا اللہ تعالیٰ چھہوک فرماوان کہ گمراہ چھہ کران اللہ تعالیٰ یمہ مثالہ بیان کرنہ سیت وار یمن  
 لوکن۔ یم نہ سکن مثالن اندر غور و تامل چھہ کران۔ تہ وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا بیه چھہ سو ہدایت کران تہ  
 و تھہ باوان پنہ فضلہ سیت وار یمن لوکن سم سکن مثالن اندر ستنہ تامل و تفکر چھہ کران وَمَا يُضِلُّ بِهِ  
 إِلَّا الْفَاسِقِينَ گمراہ چھہونہ کران اللہ تعالیٰ امہ مثالہ سیت مگر بدکارن تہ نافرمانن سم عدول حکمی کران  
 چھہ الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ فاسق گئے تھے یم پھڑ اووان چھہ سو معاہدہ نہیں سمو  
 خدایس سیت کورمت چھہ سو عمد مضبوط کرنہ پتہ تہج ذکر اللہ تعالیٰ ان چھہ ہمیں آہیہ کرتس اندر  
 فرلامر۔ کہ حضرت آدم علیہ السلام سندہ پشتہ منزہ کڈ اللہ تعالیٰ ان تہن ساری ذریت تھے کہہ ناوان پنہ رُب  
 آسک اقرار وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ بیه چھہو ژانان سو چیز سمسمہ ملناونگ اللہ تعالیٰ ان حکم  
 کور یعنی آشنائی۔ حکم خدا چھہ وصلہ رحم گرن مگر تم چھہ تنہہ بدل آشنائی ژانان وَيُفْسِدُونَ فِي  
 الْأَرْضِ بیه چھہ تھے فساد تہ تباہی کران زمینس اندر اکھ اکس پیٹھہ ظلم کرنہ سیت، کفر کرنہ سیت۔  
 حضرت رسول کریم ﷺ سیت حسد و عداوت تھاونہ سیت۔ مسلمانن سپرہ و تہ نشہ دین اسلامہ نشہ ڈالہ  
 سیت۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ تھے لوک چھہ تاوان زد دنیاس اندر تہ آخرتس اندر تہ۔ یمہ اللہ تعالیٰ

فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۲۸﴾  
 هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى  
 السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۲۹﴾  
 وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا  
 أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ

سُءْمَرَبِي آسَن۔ خالق تہ رزاق آسَن ثابت سُبْد كَيْفَ تَكْفُرُونَ يَا لِلّٰهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ  
 يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اے لوگو تمہے کھپا پھٹہ چہوہ ادہ خدا یہ سب دس معبود برحق  
 آسَن انکار کران تمسید احسانات مشر او ان تمس ورا ای بین ہندس معبود آسَن اقرار کران۔ حالانکہ  
 تہمہ آسوہ محض بے جان۔ پس کر نوہ تمی تہمہ زندہ بدن منزر رُوح واتا ونہ سیت۔ تو پتہ ماروہ سنی سیمہ  
 ساتہ تہمزہ عمرہ ہند مدت ووبرہ تہ خم گڑھہ۔ تو پتہ کروہ سنی تو ہہ بیہ زندہ قیامتک دوہ۔ تو پتہ ایو تہمہ  
 تَسُّن واپس انہ۔ یعنی قیامتک دوہ ایو محشر کس میدانس اندر حسابہ خیطرہ تہندس اجلاس اندر حاضر  
 کرنہ۔ امہ پتہ چہو اللہ تعالیٰ پنہ نین نعمن ہنز ذکر کران هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا سُو  
 سُو پروردگار یم پیدہ گورتہ سوزی یہ یتھہ زمینس اندر موجود چہو تہندہ فاندہ خیطرہ۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ  
 إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ تو پتہ سُبْد سُو متوجہ آسمانس گن۔ پس کران تم  
 درست ستھہ آسمان۔ سُو چہو پر یتھہ چیز او پور زندون۔ او تان آہ بیان کرنہ صوری نعمت۔ امہ پتہ چہو  
 بیان کران اللہ تعالیٰ معنوی نعمت۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً بیہ پاووسو  
 وقت یادیلہ تہند پروردگارن ارشاد فر موو ملائکین کہ مہ چہو پیدہ کرن یتھہ زمینس اندر پن اکھ خلیفہ  
 یعنی نایاہ۔ بس میان احکام شرعیہ نافذ کرہ تہ واتا وہ میانین بدن قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا  
 وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ملائک لگ دہنہ کیاہ ڈہ کر ہنہ پیدہ اتھہ زمینس اندر سُو مخلوق بس قننہ تہ فساد کرہ جن  
 ہند پاتھہ اتھہ زمینس اندر بیہ کرہ واریاہ تہ ستھہ خونریزی وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ اس چہہ

بِحَمْدِكَ وَنَقَدِّسُ لَكَ قَالِ اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾ وَعَلَّمَ  
 اَدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ اَنْبِئُوْنِي  
 بِاَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ﴿۳۱﴾ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا  
 اِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ﴿۳۲﴾ قَالَ يَا اَدَمُ اَنْبِئْهُمْ

پاکي چان ياد کران۔ چان حمد و ثنا دپان۔ بيه چھتھه اس زانان منزہ تہ پاک ساروی عیبوتہ نقصانونخبر۔ لہذا ہر گاہ بيه کام اسی پشراونہ بيه ہا۔ اس کرہ ہو بيه کام پورہ دل و جانہ سان تمن اندر آسن اؤ مفید، اؤ ظالم تہ اؤ نافرمان۔ ساری نیک آسن نہ۔ يله محض کام کرہ ون موجود تہ تيار آسن نو مخلوق پیدہ کر نخی کیاہ ضرورت آس۔ بيه کورنہ ملائکو بطور اعتراض پیش۔ نہ۔ بيه کور تمبو پئن استحقاق پیش۔ قَالَ اللہ تعالیٰ ان فرمود کہ اِنِّي اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ بیشک بو چہوس زانان تمہہ کتھہ سمہ نہ تہہ زانان چہوہ۔ کس چیز توہہ نش بنی آدم تہ انسان پیدہ کرہ نگ مانع چہوسوی چیز چہوہ نش پیدہ کرہ نگ سبب تہ باعث۔ یعنی تمبو اندرہ بعضین ہند مفید تہ خوریز آسن یوہے چہوہ باعث تمن ہندہ پیدہ کرہ نگ۔ کیا زہ احکام بن تلی جاری کر نہ يله منہ قسمہ بے اعتمادی واقع سپدہ انتظام بيه تل کر نہ يله کانہہ بد نظمی واقع سپدہ۔ توہہ فرمانبردارن ہندس جماعتس اندر بيه نہ بيه امر واقع زانہہ تہ سپدہ بہر حال آوا انسان امہ کامہ خیطرہ مخصوص کر نہ۔ آوپیدہ کر نہ حضرت آدم علیہ السلام وَعَلَّمَ اَدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا تو پتہ زانرو پچھو، واللہ تعالیٰ ان آدم علیہ السلام تمام روی زمینہ کین چیزن ہندناو۔ بڈین چیزن ہند تہ لو کٹن چیزن ہند تہ۔ یعنی آدم علیہ السلام آوپچھہ ناونہ گوڈی علم لغت۔ یعنی پرتھہ چیزک ناوتہ پرتھہ چیزک خاصیت تہ فاندہ۔ ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ تو پتہ تراون تم چیز ملائکن برو تھ کن فَقَالَ اَنْبِئُوْنِي بِاَسْمَاءِ هٰؤُلَاءِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ پس فرمود اللہ تعالیٰ ان ملائکن اے ملائکو تہہ ونومہ تمن چیزن ہندناوتہ خاصیت ہر گاہ تہہ پوزونہ ون چہوہ۔ تھہ اندر کہہ اس آس اصلاح طبائع تہ انتظام شرايع تہ تبلیغ احکامن ہنز خدمت انجام دنہ خاطرہ مستحق۔ خلیفہ خداوند کس گزہن سارنی چیزن ہندناوتہ خواص تہ فوائد معلوم آسن۔ ادہ بيه سو مقوضہ کام انجام دتھہ۔ تہہ ون تو یکن چیزن ہندناوتہ خاصیت کیاہ کیاہ چھہ قَالُوْا سُبْحٰنَكَ

يَا سَمَائِرِيْمُ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِرِيْمُ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ  
 غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ﴿۳۶﴾  
 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ طَابَ أَبِي وَ  
 اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۳۷﴾ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ  
 وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا

لَعَلَّكُمْ لَنَا اِلْمَامًا عَلَّمْتَنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَلِيْمُ الْحَكِيْمُ ملائکو دوپ پروردگار اژده چھوک منزہ تہ پاک آس  
 زانوی نہ کینہہ مگر تی یہ ژہ آس بچھناوتھہ۔ بیشک ژہ چھوکھ سوڑی زانہ ون۔ ژہ چھکھہ سیٹھہا جمتہ وول  
 قَالَ يَا آدَمُ اَنْبِئْهُمْ يَا سَمَائِرِيْمُ اللہ تعالیٰ ان فرمود حکم آدم علیہ السلام سُن اے آدم بچھ ناوکھ ژہ  
 یم ملائک یمن چیزن ہنداؤ۔ فَلَمَّا اَنْبَأَهُمْ بِاَسْمَائِرِيْمُ اودہ یلہ آدم علیہ السلامن تمن چیزن ہنداؤ  
 ملائکن بیان کر قَالَ اَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اللہ  
 تعالیٰ ان فرمود ملائکن مہ فرماو یودہ نا توہہ کہ بہ چھس زانان تہ سوڑی یہ آسمان تہ زمین منز پوشیدہ  
 چھو۔ بیہ چھس بوزانان تمہہ سارے کتھہ ییمہ ٹہہ ظاہر کران تہ نیر او ان چھوہ۔ بیہ تمہہ کتھہ سمہ ٹہہ  
 پوشیدہ تہ کتھتھہ تھاوان آسوہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابْنِ وَاسْتَكْبَرَ  
 وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ بیہ چھو سو وقت ژٹس پاونس قابل سمہ وقتہ اسہ حکم کور سارنی ملائکن بیہ سم جنو  
 اندرہ ملائکن سیت روزان آس سجدہ دیو آدم علیہ السلام تعظیمک سجدہ۔ پس دیت ساروی ملائکو  
 سجدہ ایلئیس ورائے۔ سُو رود چتھہ سجدہ دنہ نغیہ۔ تمہ زون پنن پان بوڈتہ مغرور سپد۔ اوس سوا ایلئیس خدایہ  
 سندس علمس اندر کافر تہ نافرمانوی اندرہ۔ امہ ساتہ کرن عدول حکمی۔ خدایہ سندس خمس کورن نہ  
 تعمیل وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ تَوْبَتہ کور اسہ حکم آدم علیہ السلام سُن اے آدم ٹہہ  
 بسو پانہ بیہ پنن جورہ حوا علیہا السلام بیتھہ جنٹس اندرہ۔ یوسہ حوا اللہ تعالیٰ اَن آدم علیہ السلامہ سنزہ لرہ  
 کاتہ بیٹھہ اکہ مادہ نغیہ پیدہ کر وَكَلَامِهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا تَوْبَتہ کھو ٹہہ دوشوے امہ جنتہ منزہ یڈ

هَذِهِ الشَّجَرَةُ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۳۵﴾ فَازْلَمَهُمَا الشَّيْطَانُ  
عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ  
لِبَعْضٍ عَدَاوَةٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۳۶﴾ فَتَلَقَىٰ  
آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۳۷﴾  
قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِنَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ  
هُدَايَ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۸﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

بر تھ۔ بتھ جا یہ خوش کروہ تھ جا یہ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ مگر مجھ بڑہ نہ بتھ گلے یعنی تمہہ کلیک  
پھل کھیہ زہ نہ۔ ہر گاہ امہ کلیک پھل کھیہ تہہ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ پس سپد و تہہ دوشوے پانس  
نقصان و اتو نیواندرہ۔ اللہ تعالیٰ سی چھو معلوم سو کیاہ گل اوس فَازْلَمَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا  
مِمَّا كَانَا فِيهِ پس ڈال تم دوشوے شیطان امہ کلہ سیت۔ تو پتہ کڈن تم تمہہ عیش و آرامہ منزہ بتھ  
منز تم آس۔ یام تمہو تمہہ کلیک پھل کھیہ تام سپد تین حکم جتہ منزہ نیر نہرہ نگ۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا  
بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدَاوَةٌ تو پتہ وون اسہ تین سارنی بون و سولمہ جنتہ منزہ ز مینس پیٹھہ۔ بتھہ حاس اندر کہ  
تہہ آسوا ڈاؤین ہند دشمن وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ وین چھہ تہہ نہہ خطیرہ ز مینس پیٹھہ  
قرار کرہ نچ بیہ تمتہ فائدہ تلخ جائے۔ اکس ”وقس“ تام۔ یعنی ز مینس پیٹھہ چھونہ توہہ ہمیشہ روزن۔  
کینہہ کالاہ گرہ ہتھہ چھو توہہ سو گرہ ہ تراؤن۔ تمہہ گرہ منزہ ہہ انتقال گرن فَتَلَقَىٰ آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ  
کرہ تک کینہہ کلمات۔ تو پتہ ہر تم کلمات ہہ کوزن توبہ۔ پس کور اللہ تعالیٰ ان تہہ توبہ قبول بیشک  
سو چھو سیٹھاہ توبہ قبول کرہ وون سیٹھاہ رحم کرہ وون۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا حکم فر موواسہ و سوا مہ  
جتہ منزہ تہہ ساری ز مینس پیٹھہ فَإِنَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْزَنُونَ پس ہر گاہ وادہ توہہ نش میون حکم پیغمبر ہہ کتاب۔ پس بس اکھاہ پیروی کرہ ہہ پیچہ میانہ ہدایہ



وَكَذَّبُوا يَا بَنِي آدَمَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۳﴾  
 يَبْنِي إِسْرَائِيلَ أَذْكَرُونَ نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا  
 بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ ﴿۳۴﴾ وَامْنُوا يَا  
 أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰئِكَ كَانُوا فِيهَا  
 يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۳۵﴾

موجب۔ پس چھٹے تس کا نہ خوفانہ۔ نہ سپن تم پیروی کروں غمگین۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا  
 أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وون سمبولوگو انکار کورہیہ زانجھ لہر سان آیات تم لوکھ چھ  
 نارس اندروانہ ون۔ تھہ نارس اندرروزن ہمیشہ دزان۔ یوتان آیہ بیان کرنہ نعمت معنویہ۔ یتھہ منز  
 بیان آوکر نہ آدم علیہ السلامہ سزہ پیدائشہ ہند قصہ۔ وون چھو یوان بیان کرنہ خاص نعمتک یوسہ عطا  
 آیہ کرنہ بنی اسرائیلن حسب ونسب وغیرہ سمہ سیت تین امتیازی شان حاصل آس۔ یتھہ تہندہ ایمان  
 انہ سیت تمام لوکن پیٹھہ اثر پیہ یَبْنِي إِسْرَائِيلَ أَذْكَرُونَ نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ اے یعقوب علیہ  
 السلامہ سند یو فرزندو! اسرائیل گو عبد اللہ۔ یواوس حضرت یعقوبہ سندا۔ بنی اسرائیل گے حضرت  
 یعقوبہ سندا اولاد تمنی چھو اللہ تعالیٰ فرماوان اے حضرت یعقوبہ سندا یوا اولادوژ تس پاوونہہ تمہ نعرہ سمہ  
 مہ توہہ عطا کرہ وہ۔ یتھہ نعمتین ہند حق او اگر ن توہہ آسان سپہہ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي بیہ کرو تہہ وفا  
 میانس تھہ عمدس بس توہہ مہ سیت کورہہ حضرت محمد بنی آخر الزمانس متعلق اُوفِ بِعَهْدِكُمْ بوہ  
 کرہ وفا تہندس عمدس بس میہ کورمت چھو توہہ سیت وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ بیہہ کھو ژوے یوت عمد  
 پھٹراونس اندر۔ پنہ نین عوام معتقد نین مہ کھو ژو کہ تین ماروزہ نہ سون اعتقاد۔ تم یوسہ نذروہ نیازہ  
 سیت خدمت کران چھہ سواگرہہ بند۔ وَامْنُوا يَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰئِكَ كَانُوا فِيهَا  
 یسہ کرو پڑھ تھہ کتابہ یوسہ میہ نازل کر۔ یعنی قرآن مجیدس۔ توہہ پڑہ نہ تمہ سیت وحشت گڑھن۔  
 کیاہہ سو کتاب کر میہ نازل در حالیکہ سو چھہ تصدیق کرہ ون تھہ کتابہ یوسہ توہہ سیت چھہ یعنی  
 توراتس۔ بیہ مہ سپد و تہہ گوڈنک مکر امہ قرآن مجیدک۔ یعنی تہہ یلہ مکر سپد و تہہ چھتھہ کرن باقی

بِآيَاتِي ثَمَّنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ ﴿۴۱﴾ وَلَا تَلْسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ  
وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۴۲﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ  
وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿۴۳﴾ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ  
أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۴۴﴾ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ

لو کہ تہ انکار تم ساری ذمہ دار سپرد تہمہ قیاس تان۔ تم انکار کرن تہند وبال بیہ تہمدس نامہ اعمالس  
لیکنہ وَلَا تَلْسُوا بِالْبَاطِلِ ثَمَّنًا قَلِيلًا بیہ مہ رلومیانین آیاتن بدل حقیرتہ کم معاوضہ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ  
بیہ کھوڑو مے یوت ہن احکام پس پشت تراوتھہ یا تمن تغیر و تبدیل کر تھہ۔ یا تم کھنٹھہ تہ پوشیدہ تھاوتھہ  
مہ کرو عام لو کن نشہ مال دُنیا س حقیر و ذلیل چھو، حاصل وَلَا تَلْسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ  
تَعْلَمُونَ بیہ مہ ملہ ناوو پوز ا پز سیت۔ بیہ مہ تھاوو پوز پوشیدہ تہ کھنٹھہ زانتھہ کمر تھہ وَأَقِيمُوا  
الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ بیہ تھاوو ٹوہہ نماز برپا۔ بیہ گیہ عبادت بدنی۔ بیہ دیو ماج زکوٰۃ  
۔ بیہ گیہ عبادت مالی۔ بیہ آسو نماز خدایس بروٹھہ کنہ بِنَ عُن وَالْمِن سیت۔ یعنی نماز آسو پران  
باجماعت۔ اسلامہ بروٹھہ چھنہ بیہ کمنہ دیس اندر نماز باجماعت آسمہ۔ بیہ باجماعت نماز پران چھہ  
اسلامہ کیو خصوصیا تو منزہ۔ رکوع کرن تہ چھو اسلامہ کیو خصوصیا تو اندرہ۔ یسودن ہنزہ نمازہ منزاوس  
نہ رکوع کرہ نگ حکم۔ خلاصہ چھو ای زہ تم امور بیان آئی کرنہ یعنی یوت اندر چھنہ نجات۔ بلکہ  
گوہن ساری اصول و فروع بجا ان حضرت پیغمبر آخر الزمانہ سزہ پیروی اندر نماز تہ گزھہ تہندی  
طریقہ پران باجماعت رکوعہ سان۔ بعضے علماء یہود آس لو کن ونان کہہ بیہ دین اسلام چھو پوز دین۔ رُت  
دین مگر پانہ آس نہ مسلمان سپان کینہہ تمنی چھو اللہ تعالیٰ فرماوان۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ  
وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ کیاہ تہہ چھوہ بین لو کن حکم کران نیکی تہ رتھہ  
کامہ کرہ نگ۔ یعنی رسول مقبول پیغمبر آخر الزمانس ایمان انہ نگ۔ ہن پان چھو کھہ مشراوان تہ نظر  
انداز کران حالانکہ تہہ چھوہ ہن کتاب تورات پران۔ تھہ منز چھوہ تہہ پران کہ عالم بے عملس نسبت

وَالصَّلَاةِ وَرِثَةِ الْكَبِيرَةِ إِلَّا عَلَى الْحَشِيئِينَ ۝۵۰ الَّذِينَ يَظُنُّونَ  
 أَنَّهُمْ مُلْقَوَاتِ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ۝۵۱ يٰبَنِي إِسْرَائِيلَ  
 اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝۵۲  
 وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ  
 مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ ۝۵۳ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ۝۵۴

کاثرہ مذمت پجھہ کرنہ آمر۔ لہذا کونہ چھوہ تہہ عقل کران کیا زہ چھوہ تہہ تم نذ متن ہند مصداق بنان  
 امہ اندرہ سپد ثابت کہ واعظ نُس آسہ تمسند گڑھنہ بے عمل آسُن بلکہ گڑھہ تہنز تمہہ موجب گوڈہ پانہ تہہ  
 عمل کرن یہ سولو کن پران آسہ **وَأَسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ** بیہ ژھانڈو مدد صبر کرنہ سیت بیہ نماز ادا  
 کرنہ سیت۔ صبرہ سیت گڑھوہ حُب مال کم۔ نمازہ سیت گڑھوہ حُب جاہ کم تہہ زہ چیز چھوہ توہہ ایمان انہ  
 نس تہ پڑھ کرنس مانع سپدان **وَرِثَةِ الْكَبِيرَةِ إِلَّا عَلَى الْحَشِيئِينَ** بیشک یہ نماز چھہ دشوار مگر چھنہ دشوار  
 تم ن لوکن پیٹھہ یم خدائیس کھوژون چھہ **الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَوَاتِ رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ** تم ن  
 یقین تہ پور پڑھ پجھہ کہ تم چھہ ملاقات کرہ ون پنہ نس پروردگار سیت بیہ چھہ تم بزپاٹھہ تس گُن  
 وانہ ون تہ رجوع کرہ ون **يٰبَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ** اے یعقوب علیہ السلام  
 سند یو فرزندو ژیتس پادوسو نعمت یوسہ میہ توہہ عطا کر موہ پیٹھہ تہہ شکر گذاری تہ اطاعت و  
 فرمانبرداری کرو **وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ** بیہ پادوژتس یہ کتھہ تہ کہ میہ دیت وہ توہہ یعنی تہندین آباؤ  
 اجدادن فضیلت تمہہ وقتہ کین سارنی لوکن پیٹھہ لہذا پڑہ ہا توہہ مکمل اطاعت و فرمانبرداری کرن  
**وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ** بیہ کھوژو تہہ تھہ دوہس بیہ  
 دوہہ نہ کانہہ کفایتاہ کرہ کانہہ شخصاہ کانہہ شخص یعنی کانہہ اکھاہ کانہہ آگس کٹنہ چیزہ سیت نہ بیہ قبول  
 کرنہ کانہہ اکسہہ طرفہ کانہہ شفاعت تہ سفارش، یوتان نہ تس شخص اندر ایمان آسہ نہ لیس شفاعت یا  
 سفارش کران آسہ **وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ** بیہ بیہ نہ رٹنہ کانہہ ہندہ طرفہ کانہہ بدلہ

وَإِذْ نَجَّيْنَكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ  
يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ  
رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿۴۹﴾ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ  
فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۵۰﴾ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً  
ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهَا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ﴿۵۱﴾ ثُمَّ عَفَوْنَا

تہ کا نہ عوضا نہ بیہ تمہن یاری کرنے کیا زہ تمہہ دوہہ بیچہ نہ کانہہ یاری کرتھ نہ بیچہ تمہہ دوہہ کانہہ  
ہنز طرفداری چلتھ۔ امہ پتہ ہٹھو بیان یوان کرنے بین نقمن ہند سمہ بنی اسرائیلن عطا کرنے آیہ وَإِذْ  
نَجَّيْنَكُمْ مِنَ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ اے بنی اسرائیلویہ پاوژس یلہ اسہ توہہ نجات  
دیت فرعونہ سندہ قومہ نشہ یم توہہ واتاوان آس سخت عذاب تمہن صرف فکر آس توہہ تکلیف تہ ایذا  
واتاوانچ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ یم کھش کران آس تھندین نچوین وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ زندہ آس تھاوان  
کورین تھنن اتھہ تمہہ جد واتنہ پتہ تمہن خدس بکارین وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اتھہ اندر  
آس تھنز بد آزمائش تہ امتحان تھندس پروردگار سندہ طرفہ۔ کتان شخصن آس فرعونس نش پیشن گوئی  
کر مرث کہ بنی اسرائیلن اندر سپدہ پیدہ اکھ لو کٹاہ سمندہ سبہ چان سلطنت تہ پادشاہت ختم سپدہ۔ تمہہ  
موکھ ہت تمہ بنی اسرائیلن لوکٹ زیوہ ونوی مارن کورین ہند اوس نہ امہ قسمک کانہہ خطرہ۔ تمہی موکھ  
اوس کورین زندہ تھاوان تمہن اوس نہ مارن کینہہ بیچہ اوس کورین اندر یہ فائدہ کہ تمہن اوس بالغ سپدہ  
خدس لاگان وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ بیہ ہٹھو سو واقعہ تہ  
یاد کرنس قابل یلہ جد اکوراسہ تھندہ سیت دریای قلزم۔ یلہ تہہ ثلاثان آسوہ فرعونس نشہ اتھہ آو توہہ  
دریای قلزم۔ یلہ دیت اسہ توہہ نجات۔ دریاوس سپد تھندہ خیطرہ باہ کوچہ۔ تھہ و تھوہ سمعی  
کوچن اندر۔ تو پتہ واتوہ تھہ اُپور۔ فرعون تہ فرعونہ سنز لشکر یم توہہ پتہ دوران آس رنہ خیطرہ

عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۵۲﴾ وَإِذْ اتَيْنَا مُوسَى  
 الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۵۳﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ  
 يَقَوْمِ إِنَّمَا ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا  
 إِلَىٰ بَارِيكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ  
 بَارِيكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۵۴﴾ وَإِذْ

تم تہ و تھہ یعنی کوچین اندر۔ یا متھ تھندہ پتم پارہ پٹھہ کھوت فرعونین ہندہ تم شخص دریاوس اندر دوتھہ۔  
 آبس سپد حکم پھہ۔ تمی سیت کر اسہ غرق اتھہ دریاوس اندر ساری فرعونی۔ تہہ آسوہ پارہ پھس پٹھہ  
 تہندہ پھنک تہ غرق سپد تک تماشہ و چھان۔ **وَإِذْ وَعدْنَا مُوسَىٰ أَنْبِئِنَّا لَيَأْتِيَنَّكَ آيَاتُنَا وَرَأَىٰ يَدَ اللَّهِ فِي الْغَمِّ**  
 وعدہ کور موسیٰ علیہ السلامس سیت اسہ کور وعدہ تس سیت توریت عطا کرہ نگ۔ تم کور وعدہ اسہ سیت  
 کوہ طورس پٹھہ ینک۔ تو پتہ ژ تچھن ۴۰ راتن تہ دوہن کوہ طورس پٹھہ روز نگ بطور اعتکاف **ثُمَّ**  
**اتَّخَذْنَا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهَا** تو پتہ بنو دن توہہ سونہ سوند دوتھہ۔ تسزنی ہیروہہ توہہ پر سش گرن  
 موسیٰ علیہ السلامس پتہ۔ تم آس کوہ طورس پٹھہ اعتکاف کران **وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ** تہہ آسوہ معبود  
 برحقس ورا ای پانے تیار کر متس تہ گر متس وژھ سنز عبادت تہ پر سش کرنہ سیت صریح ظلم کرہ دن۔  
**ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ** تو پتہ تہ کور اسہ اتھہ بڈس جرمس عفو تہ در گذر تہندہ  
 توہہ کرنہ پتہ پٹھہ تہہ شکر گذاری کرہ۔ پانس پٹھہ مانوسون بوڈ احسان **وَإِذْ اتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ**  
**وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ** بیہ پاو وژ تس یلہ اسہ عطا کر موسیٰ علیہ السلامس کتاب سمیک اسہ تمس  
 سیت وعدہ کور مت اوس یعنی توریت۔ بیہ تم معجزہ یمو سیت پزس تہ اپزس منز فرق سپدان آس پٹھہ  
 توہہ و تھہ بیہ راہ راستس گن **وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَقَوْمِ إِنَّمَا ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ**  
**فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِيكُمْ** بیہ پاو وژ تس یلہ موسیٰ علیہ السلامن فر موو پنے نس قومس اے قوم توہہ کور وہ  
 ظلم پان پانس کیا زہ توہہ کور دن مقرر بے جان وژھاہ پن معبود۔ کس کر و تہہ توہہ تہ رجوع پنے نس

قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تَرَىٰ لِلَّهِ جَهَنَّمَ ۖ فَآخَذْنَاكَمُ  
 الصُّعِقَةَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ ﴿۵۵﴾ ثُمَّ بَعَثْنَاكَم مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ  
 لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۵۶﴾ وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا  
 عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰنَ وَالسَّلْوَىٰ ۖ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ  
 وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۵۷﴾

پیدہ کرہ و نس گن۔ تم لگ رہینہ دون کیاہ گزواںس۔ موسیٰ علیہ السلام فرمود کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ پس مارو تہ قتل کرو تہہ پن پان۔ سمو و ژہہ سز عبادت تہ پرستش کر مژ چھنہ تم کرن قتل تمہ سمو و ژہہ سز عبادت کر مژ چھہ ذلکم خیرکم عند باریکم ای طریقہ مران چھو تہنہہ خیطرہ بہتر تہہدس خالقس نشہ یعنی اللہ تعالیٰ اس نشہ۔ پس مار تمو پن پان۔ کو رکھ توبہ۔ قَتَابَ عَلَيْكُمْ پس کور تہنہد توبہ اللہ تعالیٰ ان قبول اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ پز پائٹھ سو چھو گنہگارن ہند توبہ قبول کرہ ون۔ سو چھو تمہن پیٹھہ مہربان تہ رحمتہ وول وَاذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ بِكَ حَتَّىٰ تَرَىٰ لِلَّهِ جَهَنَّمَ بیہ پا دو ژتس اے بنی اسرا سیلویلہ توبہہ دو پوہ موسیٰ علیہ السلامس اسہ نیو پانس سیت کوہ طورس پیٹھہ کلام خدا بوزانہہ خیطرہ تو پتہ بوزوہ توبہہ کلام خدا توریت مگر رہنہہ لگوہ تہہہ اسہ کیاہ چھہ خبر بیہ کلام گس چھو فرما وان۔ یوت تام نہ اس کلام فرماہ ون وارہ و چھون توت تام تھہہ پائٹھہ بیہ اسہ یعنی اعتماد بیہ اسہ بیہ کیاہ چھو کلام خدا فَآخَذْنَاكَمُ الصُّعِقَةَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ پس رتوہ تہہہ امہ گستاخی سببہ و چھان و چھان اکہ ترٹہ سیمہ ترٹہ تہہہ ساری یکدم ماروہ ثُمَّ بَعَثْنَاكَم مِّنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ تمہہ پتہ کرووہ اس تہہہ بیہ زندہ امہہ ترٹہ سیت مر نہ پتہ موسیٰ علیہ السلام سندہ دُعا کرنہ پتہ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پیٹھہ تہہہ بیہ زندہ کرنچ نعمت محسوس کر تھہ شکر گذاری کرو و ظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰنَ وَالسَّلْوَىٰ بیہ تر و اسہ توبہہ پیٹھہ اُبُرک سایہ یلہ تہہہ میدان تھہس منز تا پہ سیت دزان آسوہ بیہ و اتنو اسہ توبہہ نش غیبی خزانہ منزہ اکھ چیز اہ تھہہ ترنجبین ونان چھہ نس ویرہ مانٹھک پائٹھہ کلین ہندین برگن پیٹھہ آسان چھو۔

وَاذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فكلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ  
 رَغَدًا وَاَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَاَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ  
 خَطِيئَتِكُمْ وَاَسْتَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۵﴾ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا  
 غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رَجْزًا  
 مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۵۶﴾ وَاِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوِيهِ

بہ بائرن ہندماز کَلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ اسہ دوپ تہہ کھیو سمبو نفیس چیز واندرہ تم اسمہ توہہ  
 عطا کروہ۔ مگر اتھ اندر تہ کر کہ نافرمانی یمہ سیت تم پانس سخت نقصان ووت وَا مَا ظَلَمْتُمْ وَا  
 وَالْحٰنْ كَانُوا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ تمبو واتونہ اسمہ کانہہ تکلیف تہ نقصان بلکہ آس و اتاوان تم  
 نقصان پنہ نین پانن وَاذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فكلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا بہ پادو و تہ یلہ  
 اسمہ دوپ بنی اسرا یکن اژو تہہ ہتھہ بستہ اندر پس کھیو اسمہ بستہ اندرہ ہتھہ جاہہ توہہ خوش کرہ اسمہ  
 شہر کیو چیز واندرہ یوت توہہ خوش کرہ توت۔ یعنی یڈ برہتھہ۔ وَاَدْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَاَقُولُوا حِطَّةٌ  
 نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ وَاَسْتَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ سیتی کو رکھ اسمہ حکم کہ یلہ تہہ اسمہ شہر کہہ دروازہ کن اتھہ  
 شہرس منز او۔ اژان اژان تہو زوتہہ کلہ بون کن یعنی کلہ نومر تھہ اژو عا جزی سان۔ بہ گھہ تہند پرن لفظ  
 حِطَّةٌ سمیک معنی چھو آس چھہ توبہ کران۔ تمہ سیت کمر و آس تہند بن برو ٹھمن گنہن مغفرت بہ کمر و آس زیادہ  
 ثواب عطا تہہ عملہ کرہ و نین فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ پس بدلوو تمو ظالمو سو  
 لفظ تھہ لفظس سیت ئس نہ تمن و نہ آمت اوس۔ تمو دوپ حبہ فی شعرة فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا  
 رَجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ پس کور اسمہ نازل تمن ظالمن پٹھہ آسمانہ طرف آتھہ عذاباہ۔  
 کیا زہ تم آس کران سان نافرمانی تہ عدول حکمی۔ ناراہ آکھ گو پیدہ آسمانہ طرف تم نارن اکی ساتہ ژوہ  
 ساس ۲۴۰۰۰ انسان۔ بہ روایتہ موجب ۴۰۰۰ (ستھہ ساس) انسان زاتھہ تراو بعضی مفسر و فرماو کہ  
 سو عذاب اوس طاعون سمہ سیت اؤس دو ہس اندر ستھہ ساس لوک موو وَاِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوِيهِ

فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ  
 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ كَلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ  
 اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۱۰﴾ وَاذْقُلْنَا مِنْ مِوَسَىٰ  
 لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُنَا رَبَّكَ لِيُخْرِجَ لَنَا مِمَّا  
 تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَ  
 بَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ

بہ پاوڑتس یلہ موسیٰ کلیم اللہن طلب باران کورینہ قومہ خیطرہ آب موکھکھ اللہ تعالیٰ اس اللہ تعالیٰ  
 چھو فرماوان **فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ** پس فرموا سہ موسیٰ کلیم اللہس ژنڈ دیو پنہ لورہ سیت  
 ہتھ کنہ یوسہ توبہ بروٹھ کنہ چھ **فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا** پس جاری سپد تمہ کنہ منزہ باہ ناگہ  
 راد تمین بنی اسرا ایلین ہندن قبیلن ہنزہ گرگز۔ حضرت یعقوب علیہ السلا مس آس باہ فرزند آس آس  
 فرزندہ سند اولاد آسواکھ آکھ قبیلہ۔ تمنی قبیلن ہندہ تعدادہ ۲۰ شمارہ موجب درای تمہ کنہ منزہ باہ  
 ناگ **قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ** چنانچہ معلوم سپد پر ہتھ آس شخصس پنہ پنہ آب چنچ ۲۰ آب  
 حاصل کرنچ جائے چنانچہ ونہ آکھ **كَلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ** اے  
 بنی اسرا ایلو کھنویہ من وسلوئی بیہ چپو تمکن چشمن ہند آب۔ بیہ مہ پھیروز مینس اندر فسادہ ۲۰ فتنہ ٹھلان  
 یعنی میانین احکا من ہنزہ نافرمانی کران **وَاذْقُلْنَا مِنْ مِوَسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ** بیہ پاوڑتس  
 اے بنی اسرا ایلو یلہ توبہ درخواست کورہ حضرت موسیٰ علیہ السلا مس کہ اے موسیٰ آس حض بیہ کونہ  
 صبرہ برداشت کرتھہ اکی قسمہ کی کھینہ چیزس پیٹھہ اس آے پر ہتھہ دو ہنہ من وسلوئی کھیوان کھیوان سخت  
 عاجز **فَادْعُنَا رَبَّكَ لِيُخْرِجَ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا**  
 پس منگو حض سانہ خیطرہ پنہ نس خدا یس کہ سوکھارہ سانہ خیطرہ تم تم چیز تم زمینہ منزہ کھسان چھہ تجہ  
 ترکارہ ہشہ۔ لار تمکب بیہ کھتھہ تمک۔ بیہ روہن تمیک بیہ۔ مُر تمیک۔ بیہ پران تمیک **قَالَ**



خَيْرٌ اِهْبِطُوا مَصْرًا فَاِنَّ لَكُمْ مَآسَا لْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ  
 الذَّلٰةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَاَبَاءُ وِبِعَضٍ مِّنَ اللّٰهِ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ  
 كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيْنَ  
 بَغْيٍ الْحَقِّ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَاَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ ﴿٤١﴾

اَسْتَبْدَلُوْنَ الَّذِي هُوَ اَدْنٰى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ حضرت موسیٰ ان فرمود کہ کیا ہے چھوہ ژھانڈان  
 تم چیز ایم پست تہ بونیمہ درجک چھہ تھہ چیز بدل لیس اعلیٰ درجک چیز چھو یعنی من وسلویٰ اس بدل  
 لیس توبہ محنت و مشقتہ و رای حاصل سپدان چھو۔ کاژاہ چھہ تھنہز۔ عقل تہ ہمت پست اِهْبِطُوا مَصْرًا  
 فَاِنَّ لَكُمْ مَآسَا لْتُمْ یلہ توبہ عز تکس رُوذ لیس سیت کھر چھہ ادہ اژو تھہ شہر واندرہ ٹنہ شہر س اندر سیتہ  
 بن توبہ تم چیز تم تھہ منگان چھوہ۔ زمین کرو حاصل۔ توپتہ لاگو سو۔ تھہ منز و ووسم سم چیز تہ کھیو  
 وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلٰةُ وَالْمَسْكَنَةُ یڑھے یڑھے گستاخی کرنہ خیطرہ آہیہ تراونہ تمن پٹھہ ذلت تہ  
 خواری تہ پستی لوکن ہنزہ نظرہ اندر روزنہ تمن کانہہ وقعت تہ کانہہ قدر۔ نہ رُوذ جہندین طبعتن اندر  
 عنہ قسمہ اولوالعزمی تہ بلند ہمتی باقی وَاَبَاءُ وِبِعَضٍ مِّنَ اللّٰهِ بیہ سپد تم مستحق خداہیہ سزہ بیزاریہ  
 ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ وَيَقْتُلُوْنَ النَّبِيْنَ بَغْيٍ الْحَقِّ اتھہ ذلت و  
 خواری و بیزاری گئے تم گرفتاری موکھہ کہ تم آس انکار تہ نافرمانی کران پروردگارہ سندین احکامن بیہ  
 آس پیغمبرن قتل کران تہ ماران ناحق تہ بے گناہ ٹنہ قسمہ جرمہ و رای ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَاَكَانُوْا  
 يَعْتَدُوْنَ اتھہ ذلت و خواری گئے تم گرفتاری موکھہ کہ تم آس انکار تہ نافرمانی کران پروردگارہ  
 سندین احکامن تمن بہودن ہندیہ حال بیان کرتھہ اوس ممکن کانہہ شخصس ماگڑھہ یاخیال کہ ہر گاہ کانہہ  
 شخصہاہ یودواندرہ یاہیو لوکو اندرہ توبہ و استغفار کرتھہ ایمان لہ تس ما کرہ نہ اللہ تعالیٰ بخشائیش تھند ایمان تہ  
 توبہ و استغفار ما کرہ نہ قبول۔ سوخیال دور کرنہ خیطرہ فرمود اللہ تعالیٰ ان لمحہ پتہ عام اکھ قانوناہ تہ قاعدہ  
 کلیاہہ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالنَّصْرٰى وَالصَّبِيْنَ بیشک بالایمان بیہ یودوبیہ نصاریٰ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصْرَى وَالصَّبِيْنَ  
 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ  
 عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۶۲﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا  
 مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَ  
 اذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۶۳﴾ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ  
 فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۶۴﴾

بہ صابین یعنی سو فرقه یمن نہ مستقل کانہہ دیناہ چھو۔ پریتھہ دینہ منزہ چھو تمہو حسب خواہش اکھ اکھ  
 چیزاہ اختیار کورمت یمو ساروی فر تواندرہ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ  
 عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ لیس شخصاہ پڑھہ تہ یقین کرہ معبود برحقہ سندس  
 ذات پاکس تہ تہندین صفاتن بہ کرہ پڑھہ پتہس دوہس یعنی قیامتس بہ کرہ رتہ عملہ تمہہ شریعت  
 محمد لیس موافق آسن تہمین لوکن ہندہ خیطرہ چھہ مزور تہنز تہندس پروردگار نشہ یوسہ تمہن عطا کرنہ  
 بہ تہس نش و اتھہ بہ آسہ نہ تمہن کانہہ خوفاہ بہ سپدن نہ تمہن عملگین تہ پریشان بہ قانون بیان کر تھہ چھو  
 بہ بیان سپدان بنی اسرا اٹھن ہند حالات و معاملات اسہ کیاہ ورتو تمہن سیت تمہو کیاہ معاملہ کوراسہ سیت  
 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ بہہ پاو ورتس اے بنی اسرا ایلویلہ اسہ تہہ عمدہ کرناویوہ۔ توہہ  
 نشہ روٹ اسہ قول و قرار تورتس پیٹھہ عمل کرنہ خیطرہ تل اسہ کوہ طورک اکھ حصاہ توہہ پیٹھہ تروانہ  
 خیطرہ۔ فر موواسہ توہہ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَ اذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ تمہہ ساتہ فر موواسہ  
 تہہہ کرو قبول سو کتاب یوسہ اسہ توہہ عطا کر پورہ طاقتہ تہ مضبوطی سیت نہ تراووہ آس بہ کوہ تہندین  
 کلن پیٹھہ وارہ تھا وویاد تمہ احکام یم اتھہ کتابہ منز چھہ۔ دیوہ تہہ متقی تہ پرہیز گار بنو۔ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ  
 بَعْدِ ذَلِكَ اسہ قول و قرارہ پتہ تہ پھیروہ تہہ پوت یعنی اتھہ عمدس پیٹھہ رودونہ تہہ قائم فَلَوْلَا فَضْلُ  
 اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ پس ہر گاہ نے توہہ پیٹھہ خدا بہ سند فضل و رحمت آسما مہ

وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ  
 كُفُّوا أَعْيُنَكُمْ عَنْ حَسْبِئِنَّ ﴿۶۵﴾ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّبَايِنٍ يَدِّيْهَا  
 وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۶۶﴾ وَاذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ  
 إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً ۗ قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا ۗ

عہد شکنی سبب آسہو ہتھہ ہلاک تہ برباد سپد و نیواندرہ و لَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ  
 قُلْنَا لَهُمْ كُفُّوا أَعْيُنَكُمْ عَنْ حَسْبِئِنَّ بیہ چھوہ توہہ معلومی تمہن لوکن ہند حال تم توہہ اندرہ حدہ ڈل بیہ  
 وارہ ہندس معاملس اندر اسہ اوس تمہن منع کورمت بیہ وارہ دوہ گاڈہ شکار کرنہ نشہ مگر تمہو کراتھہ خمس  
 مخالفت پس فر مواسہ تمہن ذلیل و اندر بنہو۔ چنانچہ بنے بیہ تمہن و اندرن ہنز شکل مسخ صورت سید کہ  
 فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّبَايِنٍ يَدِّيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ بیہ کوراسہ بیہ واقعہ اکھ عبرتھہ تمہن  
 لوکن ہندہ خیطرہ تمہن تم وقتہ موجود آسن بیہ تمہن لوکن ہندہ خیطرہ تمہن تمہن پتہ آئے۔ بیہ کوراسہ بیہ  
 واقعہ بوڈو وعظ تہ نصیحت خدایس کھوڑہ و مین ہندہ خیطرہ۔ بنی اسرائیل منز اوس اکھ شخصہہ تس اوس ناو  
 عامیل۔ تس آس گور۔ بیا کہ شخصہہ تم کرامس کورہ ہندس مالس خواستگاری اس کورہ سیت نکاح کرنہ  
 خیطرہ مگر تم کور تمس یہ گوردنہ نش انکار تمس سید افسد انکار کرن سیتھہ ناگواریم موکہ تم کور سو شخص  
 پوشیدہ پاٹھہ قتل تو پتہ تروون اکس جایہ۔ لو کویلہ سوتھہ جایہ مارنہ آمت وچہ۔ تم لگ دریافت کرنہ  
 کہ یہ شخص کم سنا چھو مورمت تم آے حضرت موسیٰ کلیم اللہس نش عرض کورہ بھجہ اسہ حض گوڑہ  
 معلوم سپدن تمس شخصہہ سند قاتل گس چھو تمہو فر موو بھجہ بحکم خدائہ تھہ ماریون اکھ گاواہ تمسندی کنہ  
 تانہ سیت دیو اس مقتولس ژنڈ سو سپدہ زندہ سوونہ پانے میون قاتل گس چھو۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ  
 یوہے قصہ بیان فر ماوان وَاذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً بیہ پاو سو وقت  
 ژتس یلہ حضرت موسیٰ علیہ السلامن پنہ نس تو مس فر موو۔ یلہ تموا گس مقتول شخصہہ سند قاتل تمہن  
 نشہ دریافت کرن ہیوت کہ ہز پاٹھہ اللہ تعالیٰ چھو توہہ حکم کران کہ تھہ کرو ذبح اکس گاواہ تمسندہ تھہ تانہ

قَالَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ مِنَ الْجٰهِلِيْنَ ﴿۷۸﴾ قَالُوْا اَدْعُ لَنَا  
 رَبَّكَ يٰبِيْنَ لَنَا مَا هِيَ ؕ قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا  
 قَارِضٌ وَلَا يَكْرُمُوْنَ اَبِيْنَ ذٰلِكَ ؕ فَاَفْعَلُوْا مَا تُوْمَرُوْنَ ﴿۷۹﴾  
 قَالُوْا اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يٰبِيْنَ لَنَا مَا لَوْ نَهَا قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ  
 اِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقْعُوْا لَوْ نَهَا تَسْرُ الْظُّرِيْنَ ﴿۸۰﴾  
 قَالُوْا اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يٰبِيْنَ لَنَا مَا هِيَ ؕ اِنَّ الْبَقْرَةَ شَبَهَ عَلَيْنَا

سیت دیوامس مقتولس ژنڈ سو سپدہ عمہ ژنجہ سیت زندہ سوونہ پانے پتہ نس قاتلہ سُنْدَاو۔ قَالُوْا  
 اَتَسْتَعِيْنُ تَاهٰرُوْا تَم لَب دپنہر کیا حض تہہ ہجھوہ اسہ مسخرہ بناوان اسہ سیت ٹھٹھہ کران۔ تہہ کتہ حض  
 ہجھو یوزمت از تال کہ گاوہ ہندہ تہہ سیت ژنڈ دنہ سیت کیاسپدہ مردہ زندہ قَالَ اَعُوذُ بِاللّٰهِ اَنْ اَكُوْنَ  
 مِنَ الْجٰهِلِيْنَ موسیٰ علیہ السلام فر موو کہ بہ ہجھس اللہ تعالیٰ اس پناہ منگان کہ بہ کیاہ ہنہ جابلو  
 اندرہ۔ احکام خداوندین منز تمسخر کرن ہجھہ جابلن ہنز کوم قَالُوْا اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يٰبِيْنَ لَنَا مَا هِيَ تَمبو  
 دوپ حضرت موسیٰ اس تہہہ کروحض سانہ خیطرہ پنے نس پروردگارس عرض کہ سُوکِرہ بیان کہ اس  
 گاوہ ہند صفت کم کم گڑھن آسن قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقْرَةٌ لَا قَارِضٌ وَلَا يَكْرُمُوْنَ اَبِيْنَ ذٰلِكَ  
 فَاَفْعَلُوْا مَا تُوْمَرُوْنَ تَمبو فر موو کہ بیشک اللہ تعالیٰ ہجھو فرماوان سبو گاو گڑھنہ آسن بڈہ نہ گڑھہہ آسن  
 بالکل لوکت و ژھر ہش بلکہ گڑھہہ آسن یمن دون حالن در میان۔ وؤن مہ کتر و زیادہ پر ژھہہ پر ژھہہ۔  
 وؤن گڑو سو کام سمیک توہہ حکم کرنہ یوان ہجھو۔ قَالُوْا اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يٰبِيْنَ لَنَا مَا لَوْ نَهَا تَم لَب دپنہ  
 تہہہہ پر ژھو حض سانہ خیطرہ پنے نس پروردگارس سُوکِرہ بیان اسہ تمس گاوہ ہند رنگ کیاہ گڑھہہ آسن۔  
 قَالَ اِنَّهُ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقْرَةٌ صَفْرَاءٌ فَاقْعُوْا لَوْ نَهَا تَسْرُ الْظُّرِيْنَ حضرت موسیٰ ان فر موو کہ بیشک  
 اللہ تعالیٰ ہجھو فرماوان تمس گاوہ ہند رنگ گڑھہہ زرد آسن سوی گڑھہہ آسن شوخ زرد نیس دل پھولرا وہ  
 و ہجھہ و نین۔ یعنی نس و ہجھہ و نین فرحت و سرور بخشہ قَالُوْا اَدْعُ لَنَا رَبَّكَ يٰبِيْنَ لَنَا مَا هِيَ اِنَّ الْبَقْرَةَ شَبَهَ

وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَكَاهِنُونَ ﴿۴۰﴾ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا  
ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا  
قَالُوا لئن جِئْتِ بِالْحَقِّ فَدَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ﴿۴۱﴾ وَ  
إِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ  
تَكْتُمُونَ ﴿۴۲﴾ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى

عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَكَاهِنُونَ دینہ لگ بیہ پر تھو حض پنہ نس پروردگار سانه خیرہ کہ سو کرہ  
بیان سانه خیرہ وارہ وضاحتہ سان سوگاؤ کر تھہ گڑھہ آسن تھمنہ خاص علامت تہ نشانہ چھا کینہہ۔ بیشک  
سوگاؤ سمسندہ سیت اسہ قاتلہ سندن پتہ لہجہ سوچھہ اسہ نشہ مشتبہ۔ ہر گاہ اللہ تعالیٰ نینز او تھہ بیان فرماوہ تھہ  
صورتس اندر لہجہ اسہ ضرور پتاہ یو تھہ خداین قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ  
وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا موسیٰ علیہ السلامن فرموؤ کہ اللہ تعالیٰ چھوہ فرماوان سوگاؤ  
گڑھہ آسن محنت کش یوسہ الہ بانہ سیت زمین تلوہ ون آسہ۔ بیہ آسہ نہ اربٹس لائتھہ زمینس زر اتھس  
سگ دوہ ون سالم آسہ عیبونشہ۔ کانہہ داغاہ آسہ نہ تس۔ بیاکھہ رنگاہ آسینس نہ یعنی ٹیچہ ہار آسہ نہ بلکہ  
آسہ اکی رنگہ قَالُوا لئن جِئْتِ بِالْحَقِّ یہ یوز تھہ دوپ تمو موسیٰ علیہ السلامس دوون کیا حض آوہ تھہ  
صاف وشتہ تھہ پتھہ۔ امہ پتہ کور تمو تلاش اس گاوہ ہند۔ توپتہ لہجہ امہ قیچ گاؤ اکس جوانس نش ٹس  
پنہ ماجہ ہند اوس سخت فرما نبردار۔ تمسی نشہ ہنیر کھہ یہ گاؤ مل تیتس سونس سیمہ سونہ سیت تھمنہ مسلمہ  
تہ دالہ برنہ بیہ ہا فَدَبْحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ پس کور تمو تس گاوہ کھش۔ در حالیتھہ آس نہ یم یہ کام  
کرہ ون یہ تھند یوسوالا تو سیت ظاہر سپدان اوس مگر چارہ لوگھہ نہ کینہہ تہ۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ  
فرماوان تھہ قصس متعلق مزید بیان وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادْرَأْتُمْ فِيهَا بیہ پادو تھہ ژ تس سوقت یلہ  
توبہ اندرہ کتام شخصن موراکھ شخصاہ توپتہ ہو توبہ اندرہ پریتھہ اک پنن پان بری ہاونہ خیرہ اکھہ  
اکس ہانڑھہ لاگن یعنی چھاؤن داس ہنڑوہ کرن وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَّا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اللہ تعالیٰ اس اوس

وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۴۳﴾ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبَكُمْ مِنْ  
 بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ  
 لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَسْقَى فَيُخْرِجُ مِنْهُ  
 الْمَاءَ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ

نر او ان منظور تہ یہ تہہ کھٹان تہ پوشیدہ تھاوان آسوہ۔ تمی موکھہ یلہ اسم توبہ گاؤن بح کرہ نک حکم کور  
 قَعْلًا نَصْرًا بُوْبُوْهُ بِبَعْضِهَا پس فر موواسہ دیوژنڈ اس مردس اس مقتول شخص اس مذ بوحہ گاوہ ہندہ  
 کُنہ تانہ سیت توپتہ دژ تموا اس گاوہ ہندہ زیوہ سیت یارانہ سیت ژنڈ اس مقتولس۔ چنانچہ سو مقتول  
 گوزندہ۔ تم دون پنہ نس قاتلہ سُنْدَاو۔ سُواوس پنہ نیو دیو پترو بائو بابا پتھر و مالکہ طمعہ یا پتھر نہ دنہ  
 موکو مورمت۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان امہ پتہ قیامتہ کین مکران سم مر نہ پتہ ہیہ زندہ گڑھہ نس انکار  
 چھہ کران کَذَلِكَ يُعِی اللہ الْمَوْتِیٰ پتھہ پاتھہ کیاہ کرہ اللہ تعالیٰ قیامتک دوہ مردن ہیہ زندہ پتھہ پاتھہ ہیہ  
 مقتول ہیہ زندہ کورن وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اللہ تعالیٰ چھوہ تمہ پنہ قدر تک نشانہ ہاوان پنہ  
 قدرتہ سیت دیوہ تہہ عقلہ کام ہیہ پتھہ تہہ امہ سیت زانو کہ نس خدایس ہیہ اکھ مردہ توگ زندہ کرن تس  
 نغیر کیاہ عجائب چھو ساری مردہ قیامتک دوہ ہیہ زندہ کرن۔ حدیث شریفس منز چھو آمت کہ ہر گاہ بنی  
 اسرائیل پر ژھہ پر ژھہ کرہ ہن نہ گوڈنی مار ہن کانہہ گاواہ مقصد سپد ہکھہ حاصل امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ  
 فرماوان کہ تمکن بنی اسرائیل سپد نہ سم واقعات و چھتھہ کانہہ اثر اہ۔ ہیہند دل سپد سٹھاہ سخت ثُمَّ قَسَتْ  
 قُلُوبَكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً سمو تھید واقعات پتہ گڑھہ تھند دل نرم گڑھہ  
 خدایہ سندہ قدر تک بڈ نشانہ و چھتھہ مگر تھہ بدل سپد تھند دل سٹھاہ سخت پس سپد تھند دل کنہ ہشہ۔  
 بلکہ چھہ تھند دل کینو خوتہ تہ زیادہ سخت سمہ وجہہ کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ بیشک  
 کینو اندرہ چھہ بعضہ کنہ سمو اندرہ دریا چھہ جاری سپدان وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ يَسْقَى فَيُخْرِجُ مِنْهُ الْمَاءَ  
 بیشک ہیہ چھہ کینو اندرہ بعضہ کنہ سمہ پھٹان چھہ نس چھو تموا اندرہ تہ آب جاری سپدان وَإِنَّ مِنْهَا لَمَاءٌ

عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۳۹﴾ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ  
 فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ  
 مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۴۰﴾ وَإِذْ الْقَوَّالَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا  
 آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِبَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا آمَنَّا تَوْنُهُمْ بِمَا  
 فَتَمَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيَجْزِيَكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۴۱﴾

یہوڈوں میں خشیۃ اللہ بیشک بیدہ ہے بعضے نے سمجھ کر تہزہ پیٹھ بون و ستھ بیوان نہ ذلہ گڑھان چھہ خدایہ  
 سندہ خوفہ سیت مگر تہندین دلن پھہنہ نہ قسمہ اثر گڑھان تہند دل چھہ قساوتن ولت تمی قساوتہ سببہ  
 چھوہ تہہ یمہ یمہ پھہ کامہ کران۔ وَاللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ چھہ تہزہ و تمو پھہ کامیو  
 نشہ بے خبر۔ سوڈیہ توہہ جلدی تمیک سزا۔ یہودن ہندیم حالات بیان کرتہ پھو اللہ تعالیٰ امہ پتہ تمین  
 مسلمانن تم کوشش کران چھہ یم یہود گڑھہ ایمان ان تمی خیطرہ پھہ تم غم کھیوان فرماوان کہ  
 أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ اے مسلمانو! کیاہ تم ایت قصہ بوزتہ چھوہ تہہ توقع کہ تہزہ کوششہ  
 سیت کیا ان تم یہود ایمان حالانکہ تمو ساروی قصو علاوہ پھہ بہنہ بیاکھ اکھ عجیب کتھاہ کہ وَقَدْ كَانَ  
 فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ پڑپاٹھہ یہواندرہ  
 پھہ اکھ جماعتہ گذر تمو تم بوزان آس خدلیہ سُد کلام توپتہ آس تھہ تغیر و تبدیل کران تحریف  
 لفظی تہ کران تحریف معنوی تہ کران زانتہہ کرتہ دیدہ ودانستہ۔ بیہ آس تم زنانہ یہ کتھ کہ آس چھہ یہ  
 پھہ کام کران۔ مگر اغراض نفسانی آکھہ یہ پھہ کام کرنس پیٹھہ آمادہ کران وَإِذْ الْقَوَّالَّذِينَ آمَنُوا  
 قَالُوا آمَنَّا یہ یمہ تم منافق یہود مسلمان سیت ملاقات آس کران تمین آس و نان اسہ تہ اون ایمان  
 وَإِذَا خَلَا بِبَعْضِهِمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا آمَنَّا تَوْنُهُمْ بِمَا فَتَمَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيَجْزِيَكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ  
 تمہ پتہ یمہ تمو منافق یہود واندرہ بعضے بین خالص یہودن نش و اتان آس تمین آس دپان آس چھہ توہی  
 سیت متفق تم خالص یہود آسکھ و نان ادہ کیا زہ چھوہ تہہ یمین مسلمانن تمہ کتھہ باوان تمہہ تمین مفید

أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۴۷﴾  
 مِنْهُمْ أُمَّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيٌّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا  
 يَظُنُّونَ ﴿۴۸﴾ قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ  
 يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا قَوْلٌ  
 لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ﴿۴۹﴾ وَقَالُوا

مطلب چہ آسان یمہ کہہ اللہ تعالیٰ ان توہمہ نغمہ ظاہر تہ منکشف چہہ کر مرہہ تور اتس اندر۔ اس چہہ  
 تمہ کہہ مصلحتا پوشیدہ تھاوان تہہ چہہوہ تمہہ کہہ نتر او ان۔ انیک نتیجہ چہو کہ لگاہ قیامتک دودہ خدا بس  
 برو تہہ کنہہ کر نوہ تم توہہ لاجواب یہ کہہ چہنا توہہ فکرہ تران۔ اَوَّلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ  
 وَمَا يُعْلِنُونَ کیاہ تمہ چہنا معلوم کہ اللہ تعالیٰ چہو تہ سوڑی زانان یہ تم پوشیدہ تھاوان چہہ۔ بیہ تہ  
 سوڑی یہ تم نز او ان چہہ سو چہو با ایمان تہنزہ سمہ سارے کہہ باوان۔ امہ پتہ چہو اللہ تعالیٰ عام بھودن  
 ہند حال ظاہر کر ان وَمِنْهُمْ أُمَّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيٌّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ سمو یہود و اندر  
 چہہ اکثر ناخواندہ تہ ان پد۔ تمن چہہ خبری تور اتس منز کیاہ چہو لیکھتہ۔ مگر زان تم و اس خوش کرہ  
 ونہ کینہہ اپزہ کہتہ یمہ تمو بو زمزہ چہہ پنہ نین غیر متدین عالمن نغمہ۔ مثلاً جنتس منز واتن نہ بھودن  
 ورا کی کا نہہ تہ بیہ گرہ ناوان تہند مال ہدبب تمن ساری گو نمن بخشائش۔ تم آس تہند خیالات باکل  
 بے دلیل تہ بے سند۔ تم چہہ فی الحقیقت کینہہ تہ زانان بل چہہ تم خیالی پلاؤر نان۔ عوامن ہنزہ امہ تو تم  
 پرستی ہند سبب چہو تہندین علماءن ہنز خیانت قَوْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ  
 يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا لہذا چہہ ہذہ خرابی تہ بربادی ویل تہ انوس تمن  
 عالمن ہندہ خیطرہ یم لیکھان چہہ کتاب یعنی توریت اوڑک یور تہ اول بدل کر تہہ۔ بیہ چہس ملہ ناوان  
 پنہ طرفہ تہ یہ خوش چہہہ کر ان تہ تو پتہ چہہ ونان لوکن یہ چہو خدا یہ سندہ طرفہ چہہ سمہ سیت تم  
 حاصل کرن تہ زمین تمن نغمہ مولاہ تہ قیمتہا سٹاہ کم قَوْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا



لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذُ تُمْرَعِدُنَا  
 اللَّهُ عَهْدًا فَلَنْ يَخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَكَ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا  
 لَا تَعْلَمُونَ ﴿۵۰﴾ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَاطِبَةُ  
 فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۵۱﴾ وَالَّذِينَ

يَكْفُرُونَ کسب گنہوں کا جو تہمت ہر خطیہ ہو ڈویل سے افسوس تمہیں سبب یہ تمہیں لو کہہ پنے نیوا تھو تغیر و تبدیل کر تھ۔  
 یہ جو تہمتی خطیہ ہو ویل سے افسوس تمہیں موکہ یہ تم امہ سیت زینان سے حاصل کران آس۔ یہود آس  
 دعویٰ کران کہ دین موسوی چھو نہ منسوخ نہ دین عیسوی سیت نہ دین اسلامہ سیت لہذا چھہ تم  
 بدستور مومن حضرت عیسیٰ سندس نبوتس یا حضرت محمد ﷺ سندس نبوتس انکار کرنے سیت۔ تم کافر  
 چھہ دون ہر گاہ تم بعضی گنہوں سبب جہنم منسوخ نہ آسے کم کینہہ مدتہ خطیہ۔ تو پتہ بین تم تمہ منزہ  
 کڈنہ یہ اوس یہود ہند خیال۔ اٹھ خیالس تہمتس جو اللہ تعالیٰ رد کران وَقَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا  
 أَيَّامًا مَعْدُودَةً ونان آس یہود پنہ خیالہ کہ اسہ لگہ نہ نار جہنم اٹھ سے مگر کینہہ نے دوہن زیادہ خوتہ  
 زیادہ تین دوہن اتین دوہن تہمتس یو آبا و اجداد و گوسالہ پرستی یعنی وژہ سنز عبادتہ کر مژہ چھہ  
 قُلْ أَتَّخَذُ تُمْرَعِدُنَا اللَّهُ عَهْدًا فَلَنْ يَخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَكَ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ تہہ فرما ویکہ  
 حض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے یہود وژہ چھہ اٹھ متعلق اللہ تعالیٰ اس نشہ کا نہہ تہتہ  
 عمدہ روٹمت سے حاصل کورمت تہتہ نہ سو خلاف ہیچہ کرتھ۔ کنہ تہہ چھہ خدا سیت سو تھہ لاگان  
 تہج نہ توہہ نش کا نہہ دیلاہ سے ثبوتہ چھہ۔ امہ پتہ چھہ اللہ تعالیٰ فرماوان اٹھ ضابطہ اکہ سیمہ سیت یم  
 لوکہ نارس اندر ابدالآباد روزہ ون آس بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَاطِبَةُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ  
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ یہ تہہ چھہ ہرگز صحیح یہ تہہ ونان چھہ بلکہ چھہ اسہ نشہ نارس اندر ہمیشہ  
 روزہ خطیہ اکہ ضابطہ سے قاعدہ کلیہ مقررہ۔ سو گواوی زہ تہہ شخصہ گناہ کرہ تو پتہ بین ولنہ تس ہن گناہ  
 پر تہہ طرفہ۔ کا نہہ طرفہ آسین نہ خالی گنہوں نشہ تا اینکہ دل آسین خالی ایمانہ سے تصدیقہ نشہ یعنی بے

امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ  
 فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۸۶﴾ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اِسْرَائِيْلَ  
 لَا تَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهَ تَوْبًا لِّوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّذِي  
 الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسْكِيْنِ وَقَوْلُوا لِلنَّاسِ  
 حُسْنًا وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ ثُمَّ  
 تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ ﴿۸۷﴾

ایمان نہ کافر اسے جس تمہی قسمک لوکھ چھ نار جنہنس اندروانہ ون۔ تم روزن تمہ منز ہمیشہ لہذا الآباد  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ دون سمو لو کو پڑھ کر  
 خدایس بیہ تہندس پیغمبرس بیہ کر کیہ تہندی حکمہ موجب رزہ رزہ کامہ امی قسمک لوکھ چھ جنتی تے  
 روزن اتھ منز ہمیشہ لہذا الآباد۔ لہذا امہ قاعدہ کلیہ سیت سپردہ یہودن ہندس باطل دعویٰ اس یس تمو  
 کریاو۔ وَاِذْ اَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اِسْرَائِيْلَ لَا تَعْبُدُونَ اِلَّا اللّٰهَ بیہ پاوڑتس سو وقت یلہ مہ  
 تورا تس اندر بنی اسرائیلن نشہ عمد و بیان روٹ۔ تھہ تھہ پیٹھہ کہ عبادت تہ بندگی کر زنہ معبود برحقس  
 وراکی کانسہ ہنز۔ کیا زہ سنی یوت و تھو عبادتس سزاوار ویا الوالدین احسانا و ذی القربی  
 وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسْكِيْنِ وَقَوْلُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا بیہ کرہ نا و تم اسہ عمد اس ماجہ کر زہ آشناون  
 تہ رشتہ وارن نسبت احسان بیہ کر زہ مسکینن غریبن محتاجن نسبت احسان بیہ آسزہ عام لوکن سیت  
 زت پٹھہ خوش خلقی سان تھہ کران وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ بیہ تھاو نماز برپا۔  
 پابندی سان آسو نماز ادا کران۔ بیہہ آسو ما لچ زکوٰۃ دو ان ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْكُمْ  
 وَاَنْتُمْ مُّعْرِضُوْنَ تو پتہ پھیر وہ تھہ امہ عمدہ نشہ عمد شکنی کردہ تو بہہ کینٹرن لوکن ورا ی تم گئے  
 تے یمو تورا تس پٹھہ پورا پابند روز تھہ شریعت محمدیہ قبول کور۔ اے یہود و تہند عادتے تھو عمد شکنی

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَاسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تَخْرُجُونَ  
 أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿۸۶﴾  
 ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتَخْرُجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ  
 مِنْ دِيَارِهِمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإِنْ

کرن۔ اقرار کرتے ہوئے پھر اِن وَاِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَاسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تَخْرُجُونَ أَنْفُسَكُمْ  
 مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ سے پاؤں سو وقت سے زلتیں بلکہ اسے توہمہ نشینہ عمد روٹ سے  
 تہمت ہند کہ تمہیں نہ خانہ جنگی کرتے تھے کہ اک سُنْدُ حُونِ ہارو۔ یہ تمہیں کڈیو کہہ پن پان یعنی پانہ وان لو کہہ  
 پنہ پنوشہر واندرہ تو پتہ کو روہ تو بہ اتھے پیٹھ پورا قرار ضمنی اقرار نہ بلکہ صریح اقرار زن تہہ حج شہادت سے  
 گواہی دو ان چھوہ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ تو پتہ تم تہہ موجودہ وقس منز بہود چھوہ تہہ تہ چھوہ تہہ صریح  
 عمدہ بیانس خلاف کرتے تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتَخْرُجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ تَظْهَرُونَ عَلَيْهِمْ  
 بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ پانہ وان چھوہ قتل و قتال کر ان بہ چھون پن اتھے جماعت تہند یوشہر واندرہ غیر  
 کڈان ترک وطن کرنس پیٹھ چھو کہ تم مجبور کر ان یمہ طریقہ کہ تہندین مخالفین گناہہ سیت سے ظلمہ  
 سیت۔ اتھے متعلق آس تمن پیٹھ ترہ حکم واجب سپد مت اتھے حکم اوسکھ پانہ وان مہ آس و قتل و قتال  
 کر ان بیا کہہ حکم اوسکھ لو کہہ مہ آسیو کہہ شرہ منزہ غیر کڈان جلاء وطن کر ان ترمیم حکم اوسکھ کہ ہر گاہ  
 تہہ پنہ قوم منزہ کانہہ شخصہ بین نشہ گرفتار کرنہ آمت و چھون سو آنزرن ہارہ دتھے موکلاوتہ انان۔  
 سہموتریو حکمو منزہ آس نہ تم دون کھن پیٹھ کانہہ عمل کر ان صرف آس ترمیم کھس پیٹھ عمل  
 کر ان۔ حج صورتہ آس بیتھہ پانٹھہ کہ مدینہ شریفس منزہ آس کافرن ہند زہ قبیلہ اتھے اوس سے بیا کہ  
 خذرج سکن دون اوس سخت عداوت کئیدہ وقتہ آس سکن جنگ و جدال و قتل و قتل نوبت واتان۔  
 مدینہ شریفس لئد پک آس بہودن ہند زہ قوم بسان بنی قریظہ و بنی نصیر۔ اوس سے بنی قریظہ آس پانہ  
 وان دوست۔ تھے پانٹھہ آس خذرج سے بنی الثیر پانہ وان اتھے اسعد دوست۔ یلہ کافرن ہندین دون قبیلن

يَأْتُوَكُمْ أَسْرَى تَفْدُوهُمْ وَهُمْ مَحْرَمٌ عَلَيْكُمْ أَخْرَجَهُمْ  
أَفْتَوْمُنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ

اوس نے خزر جن پانہ وان لڑائی دو تھان آس یسودن ہندزہ قبیلہ بنی قریظہ سے بنی النخیر آس تمہ سے ساتہ پنہ  
نہن پنہ نہن دوستن مدد کران۔ بنی قریظہ آس قبیلہ اوس مدد کران بنی النخیر آس قبیلہ خزر جس مدد  
کران۔ یہ کتھہ پتھہ ظاہر کہ بنی قریظہ قتل و اخراج کران پیوان بنی النخیر سے پیٹھہ۔ بنی النخیر کہ قتل  
و اخراج اثر اوس پیوان بنی قریظہ سے پیٹھہ۔ البتہ ہر گاہ یسودن ہند یوسم دو شوی جماعتو اندرہ کانہ  
شخصہہ جنگس اندر گرفتار سپدہ ہاتمہ سے ساتہ آس یہود پنہ نہن دوستن مال و تھہ راضی کران تس گرفتار۔  
سپد تس شخصس آس موکلاو تھہ انان۔ ہر گاہ کانہ شخصہہ تمن تھہ متعلق اعتراض کرہ ہاتس آس وانان  
کہ اسہ پیٹھہ پتھو قیدی رہا کرہ ناؤن واجب۔ ہر گاہ کانہ شخصہہ اعتراض اوس تمن کران کہ قتل و  
اخراج تے توہہ ناجائز اوس تہہ کیازہ چھوہ یمن دون چیزن اندر پہلو تھی کران دپان آس اسہ پتھو پنہ  
نہن دوستن اعانت و مدد کرنس پیٹھہ عاریوان۔ اللہ تعالیٰ پتھو یمن یسودن ہنزاچی شکایت کران۔ پنہ  
نہن لوکن مقابلہ تہندین دشمن مدد کرنہ آندرہ پتھو مراد قبیلہ اوس و خزر جن۔ اللہ تعالیٰ ان فر موگناہ و  
ظلمہ سےت آس تمن امداد کران۔ امہ آندرہ پتھو مراد کہ تم آس امہ سےت زہ حق ضائع کران۔ اکھ خدایہ  
سند حق۔ کیازہ تہندس حکمس آس نہ تعمیل کران۔ بیہ اوس حق العبادتہ ضائع کران۔ کیازہ بین آزار  
واتہ ناوان۔ تی پتھو فرماوان اللہ تعالیٰ **وَإِنْ يَأْتُوَكُمْ أَسْرَى تَفْدُوهُمْ وَهُمْ مَحْرَمٌ عَلَيْكُمْ أَخْرَجَهُمْ**  
بیہ ہر گتہ تمو لو کو آندرہ کینہہہ لوکھہ لڑایہ اندر گرفتار سپد تھہ توہیہ نش و اتان چھہ تم پتھو کھہ مال و ندیہ دتھہ  
موکلاوان حالانکہ تم پنہ وطنہ منزہ کڈن تے اوس توہہ پیٹھہ حرام۔ تھے پاتھہ تم قتل کرن تے اوس تہہ  
پیٹھہ حرام مگر تمن دون کتھن ہند پتھنہ کانہ پرواہ کران ترسمہ کتھہ ہند یعنی ندیہ دتھہ قید موکلاو تھہ انہ  
نک چھوہ خیال کران **أَفْتَوْمُنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ** امہ آندرہ پتھو ننان کہ تہہ چھوہ  
توراتہ کین اڈین حکمن پتھہ کران اڈین حکمن انکار کران۔ **فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ الْآخِزِي**  
**فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا** پس و نتو تھی کہ کس شخص توہہ اندر امہ کج کام کرہ تس ماشوہہ سزاؤنیاچہ خواری تے  
رسوائی و رای کتہہ تے۔ چنانچہ تی آوہمل بنی قریظہ آس قتل کرنہ۔ بنی النخیر آسے کمال خواری جلاء وطن

مَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِيحَزِي فِي الْحَيَوَةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ  
 الْقِيَمَةِ يَرُدُّونَ إِلَىٰ أَسَدِّ الْعَذَابِ وَمَا لِلَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا  
 تَعْمَلُونَ ﴿٨٥﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ  
 فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿٨٦﴾ وَ  
 لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ ز

كرنه مسلمانن هره ذريعه وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَرُدُّونَ إِلَىٰ أَسَدِّ الْعَذَابِ امه علاوه گوکھه که تھے من قیامتہ دوہہ  
 بیہ تراوند سخت عذابس اندر وَمَا لِلَّهِ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ ہتھہ کینہہ بیخبر تہنز و ہتھہ کامیو  
 نغہہ اُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ  
 امہ سزاک وجہ ہتھوای زہ سم گوکھہ ہتھہ تھے تموسا نین حکمن ہنز مخالفت کر تھہ مول ہنزہ دنیاچ حقیر  
 زندگی آخرتچہ پائیدار زندگی بدل تمیک ذریعہ اطاعت وفرمانبرداری اوس۔ پس بیہ نہ کم کرنہ تہندس  
 عذابس اندر۔ نہ بیہ تمن کانسہ وکیلہ سندہ طرفہ یادوست رشتہ دارہ سندہ طرفہ عنہ قسمہ مدد تیار کر نہ  
 وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ بیہ کراسہ اے بنی اسرائیلو تہندہ ہدایتہ  
 خیطرہ بروٹھہ پیٹھے ہنڈ ہنڈ سامانہ مہیا۔ ساروی بروٹھہ کراسہ موسیٰ علیہ السلام کتاب توریث عطا۔  
 تمن پتہ سوزاسہ اکھ اگس پتہ بیہ پیغمبر۔ تم گئے حضرت یوشع علیہ السلام حضرت شمویل علیہ السلام۔  
 حضرت داؤد علیہ السلام۔ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت شعیب علیہ السلام۔ حضرت ارینا  
 علیہ السلام حضرت عزیر علیہ السلام۔ حضرت حزقیل علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام۔  
 حضرت الیسع علیہ السلام۔ حضرت یونس علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام۔ حضرت یحییٰ علیہ  
 السلام۔ ہم ساری پیغمبر آس لوکن نادروان دین موسولیس کن وَأَتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ  
 وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُّسِ امہ خاندانہ کس انیرس کوراسہ عطا حضرت عیسیٰ ابن مریمس نبوتچہ واضح  
 دلیلہ انجیل تہ بے بے معجزات۔ بیہ کوراسہ تمن تائید پاک رُوح یعنی جبریل امینہ سندہ سیت۔ سُو

وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ط  
 أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ ۖ  
 فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿۸۵﴾ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ ط  
 بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴿۸۶﴾

جبریل امین اوس پر تھہ وقتہ تمن سیت سیت آسان باوجود آل رُودوہ تہہ سرکشی کران **أَفَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ** کیا یہ بھٹنا بیچ تھہ کہ یلہ یلہ کانہہ پیغمبرہ توبہہ نشہ آو تم احکام پیٹھہ تم نہ تھند دل یرھان آس تمی کوروہ توبہہ تمن پیغمبرن ہنزا طاعت قبول کرنہ نشہ تکبر کران شروع **فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ** توے آسوہ تمو پیغمبر واندرہ اڈین پیغمبرن نعوذ باللہ ایزیر زانان۔ اڈ پیغمبر کروو کھہ شہید۔ رُوح القدس پھوونہ آمت قرآن وحدیث شریفن منزا کثر جبریل امینس۔ جبریل امینہ سُنڈ موید آسن حضرت عیسیٰ علیہ السلامن چھووار یسوطریقہ۔ اول ولادتکہ وقتہ یمہ سیت تمن شیطانہ سندہ اتھہ لاگنہ نشہ حفاظت سپرز۔ دوتم دیت جبریل امینن حضرت مرتس پھوکھہ۔ تمی سیت سید استقرار حمل عیسوی تھندس شکم مبارکس اندر تو پتہ آس یسود بکثرت تھند دُشمن۔ جبریل امین اوس تمن سیت سیت حفاظتہ خیطرہ چنانچہ بالآخر آمی تم آسانس پیٹھہ کھارنہ بذریعہ جبریل امین یسود وکور حضرت عیسیٰ سدس نبوتس انکار۔ بیہ کر کھہ حضرت سمی بیہ حضرت ذکر یا شہید **وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ** بیہ تھہ ونان یسود تھکنہ پاٹھہ کہ سان دل بھہہ تھہ محفوظ کہ تمن پیٹھہ بھکنہ مخالف کانہہ دین اثری کمر تھہ۔ یعنی آس بھہہ پنہ نس دینس پیٹھہ پختہ تہ مضبوط۔ اللہ تعالیٰ بھو تھندس بیہ تھہ ونہ نس رد کران۔ فرماوان بھو بیہ ہنرز پوختہ گی دینس پیٹھہ بھکنہ۔ بلکہ چھہ اللہ تعالیٰ ان تمن لعنت کر مژ تھندہ کفرہ سببہ تمی بھہہ تم دین حقہ اسلامہ نشہ دور ژلان تہ منسوخ دینس پیٹھہ قائم روزان پس سیٹھاہ کم بھو تھند ایمان سو کم ایمان قابل قبول بھکنہ آتھہ لہذا چھہ تم بدستور کافر **وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ**

وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ  
 وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا  
 جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۸۵﴾  
 بِسْمِهَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِهَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَعِيًّا  
 أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ

توپتہ یلہ تم نل شو کتاب واثر خدا یہ سبہ طرفہ یوسہ کتاب تہہ کتابہ تہ آس تصدیق کران یوسہ  
 بروٹھے تم نل آس یعنی تورایت وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا حالہم تم آس  
 امہ بروٹھے فتح و نصرت منگان خدا یس کافرن تہ عربہ کین مثر کین پٹھے۔ یلہ تم یمن پٹھے غالب  
 سپدان آس۔ چنانچہ تمہ وقتہ آس دُعا کران اَللّٰهُمَّ اَبْعَثْ هَذَا النَّبِيَّ الَّذِي نَجِدُهُ مَكْتُوبًا فِي التَّوْرَةِ  
 عِنْدَنَا حَتَّى نُعَذِّبَ الْمُشْرِكِينَ وَنُقَاتِلَهُمْ یعنی یا اللہ سوز تن یہ پیغمبر یسند نعت تہ صفت چہہ آس  
 پران تورائس اندر۔ تاکہ تم سیت اتفاق کر تہہ کرہ ہو آس یکہ وٹہ کافرن سیت جنگ۔ اللہ تعالیٰ چھو  
 فرماوان فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ پس یلہ آو تم نل سُ صاحب یس تم پرزہ ناوان آس  
 صفو سیت تس صاحبس کوزکھ انکار عمد او قصد اکیازہ اکھ اوس تم نل پیغمبرن انکار گرن عاد تھی۔ دو سم  
 اوس تم نل گمانہ کہ پیغمبر آخر الزمان آسہ بنی اسرائیل قومہ منزہ۔ خدا یمن کورہ ہندس خیالس بدل۔ تمی  
 گو یمن آس پیغمبر برحقہ سُد حسد تہ عناد فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ پس لعنت بوین یمن کافرن یعنی  
 یہودن پٹھے سمو پزس انکار کوردیدہ ودانستہ بِسْمِهَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِهَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَعِيًّا  
 أَنْ يُنَزِّلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ سُو حالت چہہ سیٹھاہ خراب تہ تہہ یوسہ سمو  
 اختیار کمر تہہ پنہ گمانہ پنہ نین پان تم آخر کجہ عذابہ نشہ موکلاون یژھان چھو۔ سہ حالت گجہ کفر و انکار  
 کرن تہہ چیزس یس اللہ تعالیٰ ان آکس پیغمبر برحقس پٹھے نازل فرمو یعنی قرآن مجید۔ سُو انکار تہ  
 چہہ کران تم محض سرکش تہ ضد کر کجہ سبہ کہ اللہ تعالیٰ کیاہ چھو نازل کران پن فضل پنہ نیو بندو

فَبَاءٌ وَبِعَصَبٍ عَلَى غَضَبٍ ۖ وَاللُّكْفِيرَيْنَ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۹﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا بَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ۗ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ ۗ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۰﴾ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ

اندره پس بندس پیٹھے یزہان پٹھو۔ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امہ حسد و سرکشی سببہ فَبَاءٌ وَبِعَصَبٍ عَلَى غَضَبٍ پس آے ز پیٹھے یم یہود اکس بیزاری پیٹھے بیا کہ بیزاری۔ انکار نبوت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرنے سببہ اکھ بیزاری۔ انکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرنے سببہ بیا کہ بیزاری یا کفرہ سببہ اکھ بیزاری حسدہ سببہ بیا کہ بیزاری وَاللُّكْفِيرَيْنَ عَذَابٌ مُّهِينٌ یمین کافرن آسہ آخرتس اندر سومی عذاب تہہ اندر ذلت تہ خواری آسہ۔ امہ پتہ پٹھو اللہ تعالیٰ فرماوان یمین یہودن ہندہ کفر حسد چ دلیل۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا بَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ ۗ یلہ تمین یہودن ونہ پٹھو یوان کہ تہہ انو ایمان تمن سارنی کتابن پیٹھے یمہ کتابہ اللہ تعالیٰ ان نازل کرہ وار یمین پیغمبرن پیٹھے تمہ ساتہ چہہ دپان اس کرو پڑھے تہہ کتابہ یوسہ اسہ پیٹھے بواسطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نازل کرنے آیہ یعنی توراہیت تمہ علاوہ، سمہ کتابہ چہہ تمن چہہ کران انکار۔ یعنی انجیلس تہ قرآن مجیدس۔ تمن دوشون چہہ کران تم انکار و ہُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ حالانکہ تمہ کتابہ تہ چہہ در ذات خود پڑہ اللہ تعالیٰ نے نازل کر مرزہ۔ تمہ علاوہ چہہ تمہ دوشوے کتابہ تصدیق کران تہہ کتابہ یوسہ تمن نشہ چہہ یعنی توراہس قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تہہ فرماویو کہ یارسول اللہ تہہ کیا زہ آسہ کہ تہہ قتل کران خدایہ سند پیغمبر از کہ برو تہہ ہر گاہ تہہ توراہس ایمان آنہ ون تہ پڑھ کرہ ون آسہ۔ لہذا چہہ تہہ سند کافر آسہ اندر شکھی کانہہ۔ تمہ علاوہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ



مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ  
ظَالِمُونَ ﴿۹۲﴾ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ  
الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاسْمِعُوا ۚ قَالُوا سَمِعْنَا  
وَعَصَيْنَا ۗ وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ  
ۗ قُلْ بِسْمَايَا مُّرْكُم بِهٖ اٰیٰتُنَا كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۹۳﴾

بَعْدَهُ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ بے آو بیشک توہہ نش حضرت موسیٰ علیہ السلام توحید و رسالت پر صاف صاف دلیلہ پتھہ۔ سُوگو عصا۔ ید بیضا۔ دریاوس شیق کر تھہ اُپور ترن۔ تم معجزات آس تہندس نبی برحق آسنس پتھہ دلالت کران۔ مگر توتہ رُتُون توہہ گوسالہ یعنی دوڑتھہ سونہ سُنڈ پُٹن معبود حضرت موسیٰ سندہ کوہ طورس پتھہ گتھنہ پتہ آسوہ ہتھہ دوڑتھہ معبود تجویز کر نس اندر ظلم و ستم کرہون تہہ چھوہ دعویٰ کران توراتس پتھہ ایمانک مگر یہ کام چھہ صرت شُرک سمہ سیت لازم چھوہ یوان بصراحت حضرت موسیٰ اس تکذیب گرن۔ لہذا تھہ پاٹھہ ہکن تم باایمان آتھہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ بے چھوہ سو وقت تہ تہیتس پاونس لایق یلہ اسہ توہہ نشہ عمد و پیمان رتھہ کوہ طور تجوسی تھاد یواسہ تہندس کلن پتھہ ہکن۔ توپتہ فرما دیواسہ توہہ حکم۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ جلد کتر و قبول توراتک تم احکام تم اسہ توہہ دت عمل کر نہ خیطرہ ہمت و چنگلی سان تہ تراو و آس یہ کوہ طور توہہ پتھہ وَاسْمِعُوا بے بوز و احکام وارہ و لوسیت۔ تمہ پتہ کور تمبو کوہ طورہ پتھہ پنہ کہ خوفہ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا دوپچھہ بوزاسہ قبول کورنہ اسہ۔ بوزاسہ کتوسیت مگر عملاً کرو آس نافرمانی۔ اسہ تہنرہ بد عملی ہند و جواس کہ وَأَشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ تہند دل آس چاونہ آمت و تھہ سُنڈ تہ و تھس پرستش کر نک حجت بِكُفْرِهِمْ تہندہ برد تھہ کفرہ سبہ۔ یلہ تمودریادہ نشہ غبور کر تھہ پور واتھہ اکھ بت پرست قوم و چھتھہ درخواست کور حضرت موسیٰ اس اجْعَلْ لَنَا الْهَآكِمَ اَللّٰهُمَّ اَللّٰهُمَّ سانہ خیطرہ کریون حض مقرر اکھ تجم معبودہ اتھہ یاٹھہ یمن لوکن چھہ قُلْ بِسْمَايَا مُّرْكُم بِهٖ

قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۹۷﴾ وَ لَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۹۸﴾ وَ لَتَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمْ مِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوْمَئِذٍ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ

ایسا تم کو ان کو تم کو مؤمنین تمہے فرما دو تم کو یہودوں سے تم ایمانک دعویٰ ہے جو اے یہودو و چھو تمہے تمہیں ایمان کہہ کہہ کفر چہ کامیہ چھوہ تمہے کہہ ناومت ستمہ کامیہ کا تہہ چھہ چھہ۔ تم کو کالمین ہند تجوز توہمہ کورمت چھو تمہیں ایمان اگر تمہے پنے خیالہ بالایمان چھوہ۔ بعض یہود آس دعویٰ کر ان زہ آخر تجہ نعمہ چھہ خالص سانی خیطرہ۔ اللہ تعالیٰ ان فرمودہ تمہے یہ دعوے چھو باطل۔ فرمودن قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اے پیغمبر برحق تمہے فرما دو تم کو یہودوں ہر گاہ تمہے دننہ موجب عالم آخرت محض تمہے خیطرہ خاص چھو بیولوگو و رای پس کر تو تمہے موٹک تمنا چھوے پزیا راتھہ دعویٰ اس اندر۔ اس چھہ سیتی و نان کہ و لَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ تم یہ دعویٰ کہہ و ان یہود کرن نہ ہر گز موٹک تمنا کیا زہ تم چھہ خبری تم چھہ کالمین ہند سزا چھو تم ضرور کھیون۔ لہذا اتھہ پانٹھ کرن تم موٹک تمنا۔ اللہ تعالیٰ اس چھہ پور خبر تم کو ظالمین ہندین حالاتن ہنز و لَتَجِدَنَّ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاتِهِمْ تم لو کہ کیاہ کرن موٹک تمنا البتہ لیبو کہ تم ساروی لو کو اندرہ پڑ حریص زندگی پوٹھہ و مِّنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا بے لیبو کہ تمہے تم مخر کن ہندہ کھوتہ زیادہ طامع تہ حریص زندگی ہند یَوْمَئِذٍ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ آرزوتہ خواہش چھو کر ان تمواندرہ پریتھہ اکھاہ ہر گے تس و انس تہ عمریہ ہس دنہ اکھ ساس ورہ تمہے سیت پچہ ہاسو عذابہ نشہ و مَا هُوَ بِمَرْحُومٍ مِّنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ حالانکہ تس بیحہ نہ عذاب نشہ دور تھاوتھہ تہ پچاوتھہ زٹھہ عمر حاصل سپدن و اللہ بَصِيرٌ لِّمَا يَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ

وَمَا هُوَ بِمَرْجُوحٍ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَذَّبَ وَاللَّهُ بِصِيرَتِهِمَا  
 يَعْمَلُونَ ﴿۹۶﴾ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ  
 عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى  
 وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۹۷﴾ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَ  
 رُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ ﴿۹۸﴾

چھو پورو چھن دول تہزہ سارے پیچھ کامہ تمَن پٹھہ تمن عذاب کرنہ پیہ۔ یہود آس و نان کہ جبریل  
 امین چھو وحی پیتھہ یوان بنی کر تمس نسیہ صلی اللہ علیہ وسلم سو چھو سون دتھمن ہر گاہ آس وراکی بیہ کانہ  
 ملکھاہ وحی پیتھہ یوان آسہ ہاتھلہ آنہ ہواس تہ ایمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ چھو تمن  
 رد کران فرماوان چھو قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلْجِبْرِيلَ فرماو وحض یمن یار رسول اللہ نس اکھاہ جبریل  
 امین سُنَد شمن آسہ آستن۔ اتھہ تھہ چھنہ کانہ دخل قرآن مجید نہ مانہ نس سیت کیاہہ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى  
 قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ پس بیشک جبریل امین دول یہ قرآن مجید تہ واتوون تھندس دلس اندر خدایہ  
 سندی حکمہ۔ اتھہ منز چھنہ جبریل امینہ سُنَد کانہ دخل۔ تمہ علاوہ چھو یہ قرآن مجید مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ  
 يَدَيْهِ تصدیق کران تمن آسانی کتابن تمہ امہ بروٹھہ نازل سپز مژہ چھہ۔ اتھہ ونس گن کیاہ چھو  
 وچھن پانہ قرآن مجید س گن بزود چھن تج حقیقت چھہ کہ سو چھو وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ  
 رہنمائی کرہ ون ضروری مصطفین گن سموسیت خیر دارین حاصل سپہ بیہ چھو سو خوشخبری دودہ ون  
 بالیمان۔ آسانی کتابن ہنز چھہ شان بیہ آسان۔ بہر حال یہ قرآن مجید چھہ آسانی کتاب قابل اتباع و  
 پیروی جبریل امینہ سُنَدہ عداوتہ سبہ یہ قرآن مجید نہ مان گیہ سخت حماقت پس رود جبریل امینہ سُنَدہ  
 عداوتک مسئلہ تھہ متعلق چھو قانون کہ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ  
 فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ نس شخصہ دشمن آسہ خدایہ سُنَد بیہ تھندین ملائکن ہند بیہ تھندین  
 پیغمبرن ہند بیہ جبریل امینہ سُنَد بیہ میکا نلہ سُنَد اده آستن پس پڑاٹھ اللہ تعالیٰ تہ چھو دشمن تھن کل فرن

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا  
 الْفَاسِقُونَ ﴿۹۹﴾ أَوْ كَلِمَاتٍ عَهْدٍ وَعَهْدًا بَيِّنَةً فَرِيقٌ مِّنْهُمْ  
 بَلَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۰۰﴾ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ  
 اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ بَيِّنَاتٍ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا

ہند تم ہندین سخن خاص ہند ہند دشمن آسن یہود آس و نان حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ  
 وسلم توہم پٹھہ کونہ ہتھہ ترشہ کانہہ واضح دلیلہ نازل سپدان تیج آسہ کانہہ زان پچھان آسہ ہا تمکسی  
 جو اہل اندر چھو اللہ تعالیٰ فرماوان کہ اہمہ دلیلہ ہنز کیاہ کھسی ہتھہ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا  
 يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ بیشک آسہ کرہ نازل توہم پٹھہ یار رسول اللہ واریاہ واضح دلیلہ یمن دلیلن  
 ہنز یمن یہودن پور خبر چھہ۔ مگر تم چھنہ تم دلیلن انکار کران بے خبری سببہ۔ بلکہ چھہ ہم انکار کران  
 عدول کھمی ہند عادت آسہ سببہ کیاہزہ قاعدہ گلیہ چھو کہ انکار چھونہ کران واضح دلیلن مگر سوئی یس  
 عدول کھمی ہند عادت آسہ تیج گئے فاسق۔ بعضے یہودن یلہ سو عمد ڈٹس آوپاوندہ یس عمد تمن نشہ  
 ہینہ اوس آمت توراٹس اندر پیغمبر آخر الزمانس پٹھہ ایمان اندہ نس تہ پڑھ کرہ نس متعلق۔ تمو کرو تھہ  
 عمدہ سی کلیدہ انکار۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ اتھ متعلق ارشاد فرماوان أَوْ كَلِمَاتٍ عَهْدٍ وَعَهْدًا بَيِّنَةً  
 فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ کیاہ یہ عمد ہینس چھا تمن اکار۔ تہنز حالت چھہ ہمہ تیج  
 کہ تمو چھونہ تسلیم کرنہ آمت عمد زاہ تہ پورہ کورمت۔ بلکہ یلہ یلہ عمد ہینس متعلق کانہہ عمد کورمت  
 چھو سو چھو ضرور تمو آندرہ اک جماعتن پٹھہ رودمت۔ بلکہ تعمیل و ایفای عمد نہ کرہ و آندرہ نیر اکثر تیج  
 یمن نہ تمہ عمد ک یقینی چھو تعمیل و ایفای عمد نہ کرن اوس فسقی۔ مگر تھہ عمدس کلہ پٹھہ انکار کرن  
 گو صریح کفر یتس فر موکھ کہ اکی جماعتن یہود و آندرہ پٹھہ رو سو عمد۔ کیاہزہ بعضے یہود روود قائم تھہ  
 عمدس پٹھہ بدستور۔ چنانچہ تمو اوان ایمان حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ امہ پتہ چھو اللہ  
 تعالیٰ فرماوان ہندہ اہمہ خاص عمد شکنی ہنز ذکر وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ

الْكِتَابِ كَتَبَ اللَّهُ وِرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۰﴾  
 وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ؕ وَمَا  
 كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعْلِمُونَ النَّاسَ  
 السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ

بَدَأَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كَتَبَ اللَّهُ وِرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ بے یلہ آؤ تم  
 کُن اکہ عظیم الشان تہ جلیل القدر پیغمبر اہ خدایہ سندہ طرفہ یعنی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم  
 اُس صاحب پیغمبر برحق آستہ تصدیق تہ کران اوس تھہ کتابہ یوسہ تم نش موجود آس یعنی توراتس  
 کیا زہ تھہ کتابہ منز آس تہندہ بتویج خبر۔ تھہ کُن نظر کر تھہ اوس تم نسبت ایمان اُن تہ پڑھ کرن عین  
 توراتس پٹھہ عمل کرن۔ توراہیمہ کتاب اللہ آس تم تہ پڑھ کران۔ تھہ آس تم خدایہ سنز  
 کتاب مانان تہ تسلیم کران مگر باوجود اکل تر و اہل بتاوی یعنی یہود و اندرہ اک جماعتن یہ کتاب اللہ یعنی  
 توراہت پس پُشت تہ پٹھہ پٹھہ کہ زن نہ تمن امہ کتاب اللہ آج خبری آس تمہ بدل کوڑکہ بیاکھ چیزہ  
 اختیار وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ؕ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا  
 يُعْلِمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ سمہ آیہ کر سمکھ ترجمہ و تشریح بیان کرنہ بروٹھہ یوزوتہ یہ کتھہ کہ  
 بروٹھہ وقتہ اوس دنیا س اندر خاص کر تھہ شہر بابلس اندر سحرک تہ جاؤیک سیٹھہ زور و شور تہ چرچہ  
 جادک تہ سحرک عجائبات و جھتھہ اوس جاہل لوکن اشتباہ تہ تردُد سپد مت کہ حضرت انبیائُن ہندین  
 معجزاتن ہنز حقیقت تہ ما آسہ امی کسج چنانچہ بعضی ساحرن آس لوکھ مقدس نظرہ و جھتھہ واجب  
 الاتباع زانان بے آس بعضی لوکھ سحرس رتکام زانتھہ سو پچھہ کسج کوشش کر تھہ تھہ پٹھہ عمل کرن  
 یرٹھان۔ اللہ تعالیٰ ان یوڑھ یہ غلط خیال گڑھہ لوکن نغہ دور سپدن۔ تم سو ز شہر بابلس اندر زہ ملک  
 آگس اوس ناوہاروت میں اوس ناماروت کی کامہ خیطرہ کہ تم تارن لوکن فکرہ سحرچ حقیقت تا ایچہ تم  
 روزن سحرس پٹھہ عمل کرنہ نغہ پٹھہ بے گزن نہ ساحرن ہنز پیر وی تہ متابعت اللہ تعالیٰ پٹھو فرماوان

وَمَا يَعْلَمِينَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا

کہ یہ چھ یہود تمہے بے عقل کہ تمہو کہ نہ خدا یہ سزہ کتابہ ہنز متابعت بلکہ کرتو متابعت تمہہ سحرچ  
 تمیک چرچہ کران آس شیطان یعنی خبیث جن حضرت سلیمانہ سندس عمد حکومتس اندر یہہ آس بعضے  
 یوقوف حضرت سلیمانس پیٹھہ سحرزانہ نگ خیال کران اُس محض غلطی لغو اوس کیا زہ سحرک اعتقاد  
 تھاوان یا تمہہ پیٹھہ عمل کرن چھو بالکل کفر حضرت سلیمان علیہ السلامن چھنہ زانہہ نہ ٹھوڈ باللہ کفرچ  
 کانہہ کوماہ کر مژ لیکن شیطان یعنی خبیث جن آس بے شک کفر چہ تمہہ ، کفرچہ کامہ یعنی سحر کران۔ پانہ  
 سو کومہ کر تمہہ آس لوکن نہ سحر چھہ ناوان سوی سحر ووت از تام۔ کی سحرچ چھہ تم یہود پیروی کران  
**وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ** بیہ چھہ تم یہود تمہہ سحرچ پیروی کران اُس سحر  
 دون ملکن پیٹھہ نازل کرنہ آوا کہ خاص حمیتہ موکہ یم شہر بابلس اندر روزان آس یمین دون ملکن ناو  
 اوس ہاروت وماروت و **وَمَا يَعْلَمِينَ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ** تم زہ ملک آس نہ  
 سو سحر چھہ ناوان کانہہ اُس یوت تان نہ احتیاطا گوڈہ تس ونان آس سون وجود نہ چھو مخلوقن ہندہ  
 خاطرہ آزمائش نہ امتحان خدایہ سندہ طرفہ تمہہ لوکن متعلق سانہ ذریعہ سحرس پیٹھہ مطلع سہدت ظاہر  
 سہدہ کہ تمہہ چھو تمہہ اندر پھسٹھہ گمراہ سہدان۔ تمہہ چھو پن پان ، پچاوان۔ لہذا تمہہ نہ سحرس پیٹھہ مطلع  
 سہدتہ کافر سہد کہ یعنی سحرس اندر پھسٹھہ **فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ**  
 پس آس بعضی لوکہ پچھان تمن ملکن نشہ تمہہ قسمک سحریمہ سیت تم دون باژن اندر جدائی کران  
**وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ** یم ساجر آسہہ ہیکان کانہہ اُس سٹنہ قسمہ ضرر  
 واناو تمہہ امہ سحرہ سیت مگر خدایہ سندی حکم تقدیرہ سیت۔ یعنی سمسندہ حقہ تم کانہہ ضرر تکلیفہ

لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ تَبَوَّأَتْهُ  
 مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۱۲۸﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ  
 آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّو كَانُوا  
 يَعْلَمُونَ ﴿۱۲۹﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَ

یڑھمت آسہ ہا۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ۔ بیہ آس پہچھان تم تمہ قسمک سحر ئیس تمن  
 گناہ آسنہ موکھ مفراوس۔ بیہ اوسنہ تہندہ خیطرہ کانہہ خاص نفع و اتناوہ ون چیزاہ۔ تم یہود چھہ تھہ  
 سحرس متابعت کر تھہ سخت نقصانس تہ ضررس اندر گر قرار۔ یہ تھہ چھہ اسی یوت دنان۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا  
 لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَالَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ۔ بلکہ یہ تحقیق تم یہود تہ چھہ یہ تھہ ضرور زمان کہ لیس  
 شخص کتاب اللہس بدل بحر چھو اختیار کران تس شخصس چھو نہ آخر تس اندر کانہہ حصہ باقی روزان  
 وَلَيْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ بیہ کوتاہ پچھہ چھو سو چیز یعنی سحر تہ کفر تھہ تمبو  
 کن تہ فروخت کر بہن پان کاش تے زمانان آسنن وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ  
 خَيْرٌ لَّو كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ بیہ ہر گاہ تم لو کہ کفرہ تہ سحرہ بدل ایمان نہ ہن۔ پر ہیز گاری تہ تقویٰ  
 اختیار کرہ ہن تھہ صورتس اندر اوس خدایہ سندا جبر تہ ثواب تہ معاوضہ سیٹھاہ بہترامہ کفرہ تہ سحرہ نشہ  
 کاش تے کینہہ زمانان آسنن۔ بعضی یہود و کور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سزہ مجلسہ اندر  
 محض شرارت تہ کن لفظ راعنا دُن شروع۔ یہ لفظ چھو عربی تہ عبرانی تہ۔ عربی لفظ آتھہ چھو امیک معنی  
 سون کر توحض رعایت۔ یعنی یہ مضمون ئیس تہہ بیان آسوہ کران سو فرماو تو حض بیہ دوبارہ۔ اسہ حض  
 تورنہ یہ وارہ فکرہ عبرانی لفظ آتھہ چھو امیک معنی پچھہ تہ خراب۔ تم یہود آس تمی معنیہ تمن بروٹھہ  
 کنہہ یہ لفظ استعمال کران عبرانی پاتھہ چھو امہ لفظک معنی اے احمق۔ عرب دان صحابہ صیب آس نہ اتھہ  
 یہودون ہندس شرارتس واقف سپد مت تم تہ آس یہ لفظ امیک رت معنی بوزت استعمال کران۔  
 حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمس کن خطاب کر تھہ یہ لفظ استعمال کران تمہہ سیت آس تمن

قُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۴﴾  
 مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ  
 أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِمَّنْ رَّبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ  
 بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۱۵﴾

شرارت کرہ نچ بیه ہن گنجائش تہ موقعہ حاصل سپدان اللہ تعالیٰ ان تھاد نہ تمن ان گنجائش تہ قسمہ  
 باقی۔ تمو فرمو مسلمانن یہ لفظ استعمال کرنہ نصیہ ممانعت **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا**  
**وَقُولُوا انظُرْنَا** اے باایمانو تہہ مہ آسہ انظرنانا لفظ راعنا بلکہ آسہ و نانا یلہ توہہ امہ قسمک  
 مطلب ظاہر کرنچ ضرورت پیوان آسہ انظرنانا امہ لفظک معنی تہ چھو سانس حاس کن کر توہن نظر۔  
 اسہ نہ حض تور نہ پورہ پاٹھہ فخرہ تہند کلام شریف **وَاسْمَعُوا** بوزوای باایمانو وارہ یہ حکم یاد تھادو کہ  
**وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ** یمن کافرن ہندہ خیطرہ چھو کڈر عذاب۔ پیغبر بر حقس نسبت امہ کسچ  
 گستاخی گرن اکھ پانہ بیه کرہ ناون دو چھہ دتھہ بین لوکن اتھہ تہ امہ کسچ گستاخی نہنہہ چالاکی سیت۔ بعضی  
 یہودی آس بعضے مسلمانن قسم ہاو تھہ ونان کہ اس چھہ تہند دلی خیرہ خواہ۔ بیه چھہ آس یرٹھان کہ  
 توہہ گڑھہ دینی احکام خدایہ سندہ طرفہ سانہ خوتہ رت عنایت سپدن تم احکام آس تہ قبول کر ہو۔ مگر کیاہ  
 بنہ تہند دینی احکام چھنہ سانیو دینی احکامو خوتہ زیادہ رت کینہہ تہ اللہ تعالیٰ چھو بیہندس اتھہ خیر خواہی  
 ہندس دعویٰ آس تردید و تکذیب کران فرماوان چھو **مَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا**  
**الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِمَّنْ رَّبِّكُمْ** ہرگز چھو نہ پسند کران کافر لوکھہ ادہ تم اہل کتابو  
 اندرہ آستن یا مشرکو اندرہ آستن ہتھہ تھہ کہ تہندس پروردگار سندہ طرفہ کیاہ سپدہ توہہ پیٹھہ نازل  
 کانہہ رٹکٹھہ۔ یعنی تم چھنہ ہیگان رتھے توہہ کانہہ خیر و آئن حسد و عداوتہ کن بل چھوہ تم زیوہ سیت  
 ظاہر کران۔ دل چھکھہ تہندہ حسدہ سیت برتھہ۔ مگر تہندہ امہ حسدہ سیت بنہ نہ کینہہ **وَاللَّهُ يَخْتَصُّ**  
**بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ** کیاہ اللہ تعالیٰ چھو پنہ رحمت و عنایت سیت خاص کران کس یرٹھان چھو تس



مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِمَّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۰۶﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّالِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۱۰۷﴾ أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللہ تعالیٰ چھو بڑ فضل عطا کر ن وول۔ یہود و کربو و اعتراض قبلک حکم بدلنس پیٹھ۔ تھے پاٹھ کربو بعضے مشرکونہ اعتراض حکمن ہندس منسوخ سپد نس پیٹھ۔ تھے اعتراض پیٹھ اللہ تعالیٰ رد فرماوان **مَا نَنْسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِمَّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا** اسے کئی آیہ کریمک حکم منسوخ کران چھہ۔ یا چھن سو آیہ کریم ذہنوشیہ مشروان یہ چھنہ اعتراض کرہ نچ کانہہ محل کیا زہ تھے بدل چھہ اس تمہ خوتہ رت یا تھے ہو بیا کہ حکماہ جاری کران۔ اتھہ منزتہ چھہ آسان بجیہ حموتہ مصلحتہ۔ اے اعتراض کرہ و نہ شخصہ **أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** کیا زہ چھو ہی نامعلوم کہ اللہ تعالیٰ چھو پر تھے چیزس پیٹھ قدرتہ وول۔ **أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ** بیہ چھو نا زہ معلوم کہ اللہ تعالیٰ اسی چھہ خاص سلطنت آسماننہ زمین ہنز تس چھہ کلی اختیارات سارنی کا مین ہندیلہ نہ تس اتھہ قدرتہ و سلطنتس منز کانہہ اکھاہ شریک نہ حصہ دار چھو۔ لہذا تم مصلحتن ہند رعایت کر تھہ دو تم حکم جاری کرنس اندر کس اکھاہ بیجہ تس مزاحمت نہ گا نگل کتر تھہ تس چھو نہ دو تم حکم جاری کرنس اندر کانہہ چھہ رٹہ ون۔ نہ چھوس کوڈ نیک حکم برقرار تھا و نہ نشیہ کانہہ اکھاہ چھہ رٹہ ون۔ یہ تھہ نہ بوز تھہ وارہ کہ **وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ قَدِيرٍ وَلَا نَصِيرٍ** بیہ چھو نہ کانہہ اکھاہ اللہ تعالیٰ اس ورا ی تھنہ نہ دوست نہ یار مددگار وون یلہ سوی تھنہ یار چھو سو کربا کانہہ کو مہ مصلحتہ ورا ی۔ بیہ یلہ سو تھنہ مددگار چھو تھہ یلہ تھنہ حکمن پیٹھ عمل کرو۔ سور چھہ تو بہ مخالفن ہندہ مزاحمتہ شرہ نشیہ۔ حکم ثانی بہتر یا تھے ہیو آسن ہیکہ باعتبار ثواب نہ آتھہ۔ کئی ہیکہ باعتبار آسانی نہ آتھہ یعنی دو تم حکم آسہ گوڈیہ حمہ خوتہ آسان۔ بیہ ہیکہ بتھہ کہ دو تم حکم آسہ گوڈیہ کچی معانی ہند حکم۔ دو تم حکم

سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ ۖ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ  
فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝۱۰۸ وَكَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ  
لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا مِّمَّنْ حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ  
أَنفُسِهِمْ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ ۖ فَاعْفُوا

جاری کرنس اندر چھہ سمہ تھہ ضروری کہ سو دو سم حکم جاری کرنس اندر چھہ ضرور کہہ نہتہ کانہہ  
مصلحت بیہ چھو سو حکم قادر مطلق۔ بیہ چھو حاکم محکوم ہند خیر خواہ۔ ہر گہ کانہ اکھاہ محکو من ہنز  
مزاحمت کرہ سو چھو تم من محکو من مدد کران۔ بعضی چھو قانون بدلاونہ یوان۔ سمہ وجہہ کہہ قانون  
ہناون والس چھہ کتہہ کانہہ غلطی آسان تھہ منز گمہ۔ امہ قسح تبدیلی یا نسخ چھو احکام ایمین منز محال کیا زہ  
اللہ تعالیٰ چھو غلطی کرہ نہ نش منزہ تہ پاک۔ بعضی چھہ حکم بدلاونہ یوان محکو من ہنز حالت بدل سپد نہ  
خیطرہ تھہ پاٹھہ مریشہ سز حالت بدل نہ موکھ چھو نسخہ تہ علاج بدلاونہ یوان۔ تھہ ہیو نسخ چھو جائز تھہ  
منز چھونہ کانہہ اشکال عقلی یا نقلی۔ بعضی یہود و کور عناد اعرض در خدمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم  
کہ تھہ پاٹہ ہر حضرت موسیٰ علیہ السلامس پیٹھہ توریت نازل سپد یکہ وٹہ۔ تھہ پاٹھہ ہر گوڑھہ قرآن  
مجید تہ توہہ پیٹھہ نازل سپدن۔ اتھہ متعلق چھو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماوان **أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ**  
**كَمَا سُئِلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ** اے یہود و کیاہ تہہ چھوہ یرٹھان پنہ نس موجودہ پیغمبرس تہہ قسمک  
سوال کرن تہ در خواست کرن سمہ قسمک در خواست ٹھندین مالین تہ بدین ہندہ ذریعہ چھہ اڑہہ بروٹھہ  
حضرت موسیٰ اس کرنہ آمت۔ مثلاً امہ ہاویون حض اللہ تعالیٰ وارہ کارہ ن پاٹھہ۔ لمہ قسمک در خواست  
سمہ منزہ صرف پیغمبرس پیٹھہ اعتراض کرن تہہ خدایہ سز من مصلحت ہنز مزاحمت کرن مقصود آہہ تہ پتہ  
آسنہ ایمان آنہ نگ تہ پڑھہ کرہ نگ کانہہ ارادہ یمہ گبیہ صریح کفر چہ تھہ **وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ**  
**فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ** ایں شخص ایمان انہ بدل کفر چہ تھہ کرہ پس پڑاٹھہ سو شخص ڈول سیزہ و تہ  
نش امہ قسمک سوال تہ در خواست کرن اس سمہ موکھ لغو تہ بے کار کہ خدایہ سز من سارنی کا مین اندر

وَأَصْفَحُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۙ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۱۱۰

چھ مجھ حکمہ کا نہ بندس چھونہ حق چون و چرا کر نک۔ بعضے یہود آس شب و روزیہ کو شش کران کہ کنبہ پاتھ گڑھہ مسلمان اسلامہ نشہ پھیرن دوستی لاکھہ خیر خواہی ظاہر کرتھہ۔ پریتھہ گنہ قسمک تدبیر بعمل آتھہ آس باوجود ناکامی پریتھہ وقتہ آتھہ خیالس آسان۔ اللہ تعالیٰ ان کر با ایمان خبر دار یہندہ امہ خیالہ سیت۔ فرمون وَاكثِرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ لِيُرِدُوكُمْ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِكُمْ لَقَدْ اٰتٰىنَا كِتَابًا لِيَعْنٰى يَهُودَ وَاَنْدَرَهٗ جِهَهٗ اَكْثَرُ لَوْ كَهٗ يَرْهٰنَ كَهٗ تُوْبَهٗ يَهْمَرَهٗ هِن تَم اِيْمَان اَتَهَهٗ بِيَهٗ كُفْرَس كُن تِيَهْمَدُ يَرْهِنَ چھونہ تہزہ خیر خواہی پیٹھہ مینی یہ تم ظاہر کران آس بلکہ حَسَدًا مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِهٖمْ مَحْضُ تِهْنَدَهٗ حَسَدِ كَهٗ وَجِهَهٗ نَس حَسَد تِهْمَدِن دِلن منز پھٹ پھٹ نیران چھو۔ بیہ نہ سمہ وجہہ کہ یمن نش کیاہ چھو پوز کھٹھہ بلکہ مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ تَمَن نَشِيْرَ پَرَوَرَهٗ ظَاہِر سَدَنَهٗ پتہ۔ وون اوس مُمَكِن یہ تہنز خباثت بوز تھہ سپدن مسلمان تَمَن پیٹھہ غضبناک۔ اللہ تعالیٰ اَن فرموو کہ فَاحْفَظُوا وَاَصْفَحُوا اے مسلمانو تہہ کرو تَمَن معاف۔ تہہ کرو تہندس اتھہ شرارتس درگذر حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرٍ ۖ یوت تان اللہ تعالیٰ یتھہ معاملس متعلق پن حکم نو قانون جاری فرماوہ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اللّٰهُ تعالیٰ چھو بیشک پر تھہ چیزس پیٹھہ قدرتہ وول۔ یوتان جماؤک عالمس اندر امن و امان قاسم تھاو نک حکم تہ دشمنان اسلامن سیت قتل و قتلک حکم نافذ کرنہ بیہ توتان روز و تہہ تہمدین بین حکمن پیٹھہ مستقیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ تہہ پرو سردست نمازہ پابندی سان بیہ یمن پیٹھہ زکوٰۃ فرض چھہ تم دیوز کوٰۃ۔ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهِ بیہ یوسہ رزکوٰۃہ پنہ بہتری خیطہ تہہ سوژ بروٹھہ کُن سولبو تہہ ضرور پورہ پورہ اللہ تعالیٰ اس نشہ اِنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ کیاہہ اللہ تعالیٰ چھو تہزہ

أَوْ نَصْرِي تِلْكَ أَمَانِيهِمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۱۱﴾ بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۱۲﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصْرَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصْرَىٰ

سارے کامیہ و چھان تہ ژر ژان۔ تمو کامیواندرہ گڑھہ نہ آکس ذرس برابر تہ ہنہز کانہ کوماہ ضائع و قالوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصْرِي۔ یہود تہ نصاریٰ چھہ دنان جنٹس اندراژن نہ مگر تہ سم یہودی آسن یہ آس دنان یہودی اسم نصاریٰ آسن یہ آس دنان نصاریٰ اللہ تعالیٰ چھو تمن دوشونی رڈ کران فرماوان بھک تِلْكَ أَمَانِيهِمْ سم چھہ تہمد خام خیالات دس تسلی دنہ چہ تھہ یمن ہنہز حقیقت نہ کیئہی چھہ سمہ ہتھہ تمن رایہ گڑھان قُلْ تہہ فرماو وحض یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین اے یہود و تہہ کروا تھہ پیٹھہ پن دلیل گر تہہ آتھہ دعویٰ اس اندر پوزونہ ون چھوہ۔ سو دلیل ہیکن نہ تم پیشی کر تھہ کیاہہ تمن نشہ چھنہ اچ کانہہ دلیل اتھہ بدل چھہ اس فرماوان کہ بلی کہ ضرور اتن جنٹس منز مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ سو شخص نیس پن تھہ نومراوہ معبود برحقس یعنی فرمانبرداری کرہ عقائدن تہ عملن اندر بکمال اخلاص۔ دلہ کن آسہ فرمانبرداری مصلحتہ و رای تہ نئے ظاہر داری و رای تھس شخصہ سندہ خیطرہ چھوامہ فرمانبرداری ہند عوض تہ مزور تہمدس پروردگارس نشہ حاصل سپدہ ون تھن لوکن آسہ نہ قیامتگ دوہ کانہہ خوفناک واقعہ پیش بیک خوفانہ آسین تم لوکھہ تہہ دہہ غمگین سپدہ ون کیاہہ ملائک آسن تمن بشارت بوزہ ناوتھہ بے فکر تھاوان منسوخ سپد قس حکمس پیٹھہ عمل کرہ و نس و نئے نئے صورتس اندر فرمانبرداری۔ لہذا چھہ یہود نصاریٰ فرمانبرداری آسینس سزاوار بلکہ حکم ثانی یعنی دو حکمس حکمس پیٹھہ عمل کرہ و نی یں شمار کرنہ فرمانبرداری تہ مطیع۔ یہ شان چھو نہ مسلمان و رای بیہ کانہہ ہند کیاہہ تمو کور نبوت و شریعت محمدیہ قبول اتھہ کن نظر کر تھہ سپد ثابت کہ تھہ چھہ جنٹس منز

لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَى شَيْءٍ وَهُمْ يَتَّبِعُونَ الْكِتَابَ كَذَلِكَ قَالَ  
 الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ  
 الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۳﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ  
 مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهِ

واتس سزاوار وهو محسن یعنی مخلص آواتھ شرط تھاوندہ یتھ امہ سیت منافق الگ سپن کیاہہ تم  
 چھ کافر ناس سزاوار کہ پھرہ سمیای کینہہ یہود تہ نصاریٰ تموی ہیوت پانہ وان مذہبی بحث گرن۔  
 یہودہ چھ پتہ اعتقادہ موجب نصاریٰ ان ہندس ونیس باطل زانان تم چھہ حضرت عیسیٰ علیہ السلامہ  
 سندس رسالتس تہ انجیلہ کس کتاب اللہ آسٹس پڑھ کران۔ نصاریٰ تہ چھہ یہودیتس منسوخ زاتھہ  
 باطل قرار دو ان تم تہ چھہ حضرت موسیٰ علیہ السلامہ سندس پیغمبر آسٹس انکار کران۔ یہہ چھہ تم  
 توریتس کتاب اللہ مانان دوشوے فریق چھہ کمال تعصب کن اکھ اگس انکار کران ہی چھو اللہ تعالیٰ بیان  
 فرماوان وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلَىٰ شَيْءٍ يَهُود لگ  
 ونہ نصاریٰ ان ہند مذہب چھونہ کئہ بنیادس پیٹھ قائم یعنی سوچھو بے بنیاد تہ غلط مذہباہ۔ تھہ پاٹھ چھہ  
 ونان نصاریٰ کہ یہودن ہند مذہب چھو بے بنیاد تہ غلط مذہب وَهُمْ يَتَّبِعُونَ الْكِتَابَ حالانکہ تم  
 دوشوے فریق چھہ پن پن آسمانی کتاب پران یعنی یہود چھہ توریت پران نصاریٰ چھہ انجیل پران تہ  
 وچھان دوشون کتابن اندر چھو دوشون پیغمبرون تہ دوشون کتابن ہند تصدیق موجود یوسہ دوشون  
 مذہبن ہنز بنیاد چھہ اگرچہ قرآن مجید نازل سپنہ موکھہ چھہ تم روزہ مرثہ قابل عمل بلکہ چھہ تم  
 دوشوے کتابہ منسوخ سپز مرثہ یہودو نصاریٰ آس یہ چھاؤن داسی کرانی تہ مشرکن تہ بت پرستن تہ آد  
 جوش كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تھہ پاٹھ تم لو کہ تم محض بے علم چھہ یعنی مشرک  
 تہ بت پرست لگ امی قسکہ تھہ ونہ۔ تودو پ یہودن نصاریٰ ان ہند مذہب چھو بے بنیاد آس چھہ  
 پس پیٹھ۔ تم گرن اکھ اگس ابکار فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ پس

أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي  
الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۳۲﴾ وَبِاللَّهِ الْمَشْرِقِ  
وَالْمَغْرِبِ قَائِمًا تَوْكُوفًا ثُمَّ وَجَّهَ اللَّهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَى اللَّهِ

اللہ تعالیٰ کرہ پانہ قیامتہ دوہہ یمن سارنی معاملن تہ مُقد من منز فیصلہ تمن منز تم لوکھ پانہ وان  
اختلاف آسن کران تحقیق اندر چھہ تم ترشوی فریق یث ظالم اے مخاطب ژہ ونتہ۔ وَمَنْ أَظْلَمُ  
مِمَّنْ مَتَّعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُدْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا وَوَلَّيْنَاكَ مَا كَانَتْ  
شَخْصَةً سَنَدَهُ خَوْفٌ لَمْ يَمْنَعْ تَهْ بَدَش كَرَهْ خَدَايَه سَنَزَن مَسْجِدَن اَنْدَرْ ذَكْرُو عِبَادَت كَرَنَه نَشَه۔ تهنند ناؤہیہ  
نہیہ۔ بیہ کرہ کوشش تمن مسجد ہنزہ ویرانی اندر۔ یہ کام چھہ کر مژہ ترشوی فریقو۔ یہود وکر قبلک  
حکم بدل سپندہ کس موقس پٹھہ لوکن اندر تمہہ قسمک شھہ تہ شہمات پیش یسویت لوکھ انکار رسالت  
کر تھہ ترک صلوة یعنی نماز تراؤس پٹھہ آمادہ سپد ہن۔ نمازہ تراؤنہ سیت سپد ہن مسجدہ غیر آباد کیاہ  
مسجدن ہنز آبادی چھہ نمازہ سیتی گویا یہود و کرے یہ سٹھہ کوشش مسجد نبولیس اندر گوژھنہ کانہہ تہ نماز  
پر نہ اٹن نصاریٰ اؤاندرہ بعضے روک پادشاہ تمن پٹھہ یلہ یہود و چڑائی کر تھہ بیت المقدس پٹھہ حملہ  
کور۔ بعضے جاہل نصرانین ہندہ اتھہ واژ سخت بے حرمتی مسجد اقصیٰ اس بد امنی ہندہ وجہہ آیہ نہ تھہ  
منزہ نمازی ہندہ کبھس کالس۔ امہ اعتبارہ سپد نصاریٰ تہ مرتکب اتھہ بجز مس جناب سرور کائنات صلی  
اللہ علیہ وسلم تمویلہ فتح مکہ کرنہ بروٹھہ بارادہ عمرہ مکہ شریفس کن تشریف انیو۔ مشرکین مکودت نہ  
تمن مکہ شریفس اندر اٹنگ عمرہ کرنگ اجازت۔ چنانچہ تمن پیو تمہہ ورہہ واپس تشریف ٹن۔ امہ  
اعتبارہ سپد مشرک تہ مرتکب امہ بجز مکہ لہذا چھہ تم ترشوی فریق بد ظالم أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ  
يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لِمِ لَوْكْه كَنے تہ یمن نہ تمن مسجدن اندر لٹھہ لدن تہ پزہ ہاخوف وہیتہ وراکی  
تڑھہ آسہ بیہ مسجدہ با عظمت و حرمت یعنی مسجدن بے حرمتی کرن لوکن نہ یمن مسجدن اندر اٹنہ  
دیون یاد خدا تہ عبادت کرنہ خیطرہ اتھہ برابر چھونہ کانہہ ظلم لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ  
عَذَابٌ عَظِيمٌ یعنی لوکن ہندہ خیطرہ چھو دناس اندر بڈ رسوائی بیہ چھو یعنی ہندہ خیطرہ دگ تہ دود  
تلہ دن عذاب یڑھہ یڑھہ بچھہ کامہ کر تھہ چھو تمن خیال پزس پٹھہ آسنک بیہ جنس و اتنک دعویٰ۔

عَلِيمٌ ﴿۱۱۵﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ  
وَالْاَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قٰنِطُوْنَ ﴿۱۱۶﴾ بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط  
اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِنَّمَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ ﴿۱۱۷﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ

یہود و کریوہ تحویل قبلہ سپد نس پٹھہ اعتراض کہ مسلمان کیا زہ پھیر اکہ جہتہ نشہ میں جہتس کن اللہ تعالیٰ ان فرمودن جو اب وَلِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ معبود بر حقہ سندی چھہ ساری طرف تہ جہت مشرق تہ مغرب تہ پر ہتھہ طرفہ پٹھو ہندی مملوک تہ مخلوق نہ طرفس پٹھو نہ تہند مکان سو چھو مکان آسنہ نشہ منزہ تہ پاک۔ سو یلہ پر ہتھہ طرفک مالک پٹھو۔ لہذا ہتھہ طرفس سو قبلہ یشہ ہتھہ طرفس کرہ مقرر۔ کیا زہ قبلہ مقرر کر نس اندر چھہ بیجے حکمت کہ عبادت کرہ و نین بدن، نماز گذارن سپدہ امہ سیت اتفاق تہ اجتماع خاطر حاصل۔ یعنی دل روز کیہ ڈجہ۔ یلہ یہ حقیقت چھہ قٰیئَمَا تُوَلُّوْا فَاِنَّ وُجْهَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ وَّاسِعٌ عَلَیْمٌ پس ہتھہ طرف کن تہہ پھیروتھہ طرفس کن پٹھو معبود بر حقہ سندہ ذات پاک رُخ۔ پزپاٹھہ اللہ تعالیٰ پٹھو سارنی طرفن احاطہ کرہ ون۔ لیکن باوجود آل کور تم جہت عبادت یعنی عبادتک طرف معین کیا زہ سو پٹھو سٹھہ زانن وول تس پٹھو معلوم تھہ چیزس اندر کیا ہیاہ مصلحت چھہ چونکہ تہندس علس اندر آس قبلہ معین کر نس اندر مصلحت۔ لہذا گورن قبلہ معین۔ بعض یہود چھہ حضرت عزیر علیہ السلا مس خدایہ سندنچو ونان۔ بیہ آس نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلا مس خدایہ سندنچو ونان۔ مشرک آس ملائکن خدایہ سزہ کورہ ونان۔ امہ پتہ پٹھو اللہ تعالیٰ سمن بہنزن سارنی لغو تھن رد کران تہ فرماوان پٹھو وَقَالُوا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ بیہ چھہ ونان ہم یہود تہ نصاریٰ تہ مشرک خدائس چھہ اولاد گبر تہ کورہ۔ کیواہ لغوتہ مہمل چھہ بیہ تھہ۔ سو پٹھو ہموتھو نشہ منزہ تہ پاک بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ بلکہ پٹھو تس معبود بر حقہ سندوی تہ ساروی بیہ آسمانن تہ زمین اندر پٹھو۔ موجود اتواندرہ كُلٌّ لَّهُ قٰنِطُوْنَ تم ساری چھہ خدایہ سندہ مملوک آسحہ علاوہ تسند محکوم تہ فرمانبردار۔ بحیا زہ تہندن تصرفات قدرتن نشہ پٹھنہ کانہ اکھاہ تمو اندرہ کلہ ہکان پھرت تم گئے مازن۔ پیدہ کرن۔ بیمارپاون۔ بلراون بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ سو پٹھو آسمانن تہ زمین ہند موجد تہ گوڈہ پیدہ کرہ ون تمسز قدرت چھہ تھہ عجیب کہ وَاِذَا قَضٰى

لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ  
 قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ  
 قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۱۸﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ

اَمْرًا قَائِمًا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ يلبہ سو کانہہ کوماہ کرن یرٹھان چھو۔ مثلاً کانہہ چیزاہ پیدہ کرن یرٹھان  
 چھو سو چھونہ کینہہ تہہ کرن۔ فقط چھو تھہ چیزس کن حکم کران کہ سپد۔ اتی چھو سپدان، بنان از عدم  
 بوجود یوان تس چھو نہ سو چیز پیدہ کرنہ خیطرہ آلاتن تہ اوزاران تہ سامانن ہنز ضرورت یوان  
 وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ بیہ چھہ بعضی جاہل تہ نادان ہبود تہ نصاری  
 بیہ مشرک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقابل یہ تھہ ونان کہ اللہ تعالیٰ کونہ چھو پائے اسہ سیت تھہ  
 کران ملائکن ہندہ وساطتہ وراہی تھہ پاٹھ سو ملائکن سیت تھہ کران چھو۔ یا ملائکن ہندہ واسطہ۔ یا تھہ  
 پاٹھ ملائیک پیغمبرن سیت بطور وحی اللہ تعالیٰ کلام چھو کران۔ تھہ کلامس منز کونہ چھو اسہ ہنن احکام  
 بیان فرماوان۔ تاکہ اسہ روزہ ہانہ نہیں کانہہ پیغمبرہ سنز ضرورتھی۔ یا کونہ چھو اسہ کم از کم یہیے تھہ پانہ  
 فرماوان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھو پیشک سون پیغمبر۔ تاہیکہ اس کرہ ہوتمن پڑھ کر تھہ تہنز  
 اطاعت و فرمانبرداری۔ یا ہر گاہ کلام فرماونہ توتہ کونہ چھو کانہہ دلیلاہ اسہ کن سوزان تہندس پیغمبر  
 آسنس پیٹھ۔ اللہ تعالیٰ چھو بہنزن تھن رد کران گوڈنی چھو فرماوان کہ سمہ تھہ بہنزہ چھہ جاہلانہ تھہ  
 كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ یڑھے تھہ آس ونان تم جاہل لوکھ تم سم تممن  
 بروٹھ گذر سمیت چھہ۔ تم تہ آس بہنترے ہشہ جاہلانہ تھہ ونان۔ معلوم سپد کہ سمہ تھہ چھنہ کنہی تہ  
 وقعت تھوادان بلکہ چھہ سم محض بروٹھنن جاہلن ہنز پیروی کران امیک وجہ چھو کہ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ  
 سممن پھنن بروٹھنن جاہلن ہند دل چھہ کج فنی اندر۔ اکھ اکس ہو۔ تمی موکھ چھہ بہند یو دلواندرہ اکی قسمیہ  
 تھہ نیران۔ چوبیہ امہ قسمہ جاہلانہ تھہ چھہ بالکل باطل لہذا آونہ سممن جاہلانہ تھن ہندہ جو ابک کانہہ  
 خیال کرنہ۔ پس روزیہ تھہ کہ اسہ نشہ کونہ چھہ واتان کانہہ تڑھہ دلیلاہ سمہ سیت ثابت سپدہ ہارسالت  
 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھہ متعلق چھو اللہ تعالیٰ فرماوان کہ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ  
 اکہ دلیلہ ہنز کیاہ چھہ کھی اسہ کرہ واریاہ دلیلہ بیان وضاحتہ سان سمہ نافع تہ کافی چھہ تممن لوکن ہندہ



بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴿۱۱۹﴾  
 وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ  
 قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهَدَىٰ وَلَئِن آتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ  
 الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۱۲۰﴾

خیطرہ یم یقین تہ اطمینان حاصل کرن یرشان چھہ۔ پتھہ رُوِدِ اعترض کرہ ون لوکھ تمن ہند مقصد  
 ہٹھو خواہ مخواہ ضد کرن۔ تمن تسلی سپد نگ ہیچہ نہ کانہہ ذمہ دار سپد تھہ۔ یتس اوس ممکن کہ یہود و  
 نصاریٰ ان ہندہ امہہ جمالہ و عنادہ سیت ماسپدہ با حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند دل مبارک  
 آزدہ۔ بیہ سپد ہن تم غمگین۔ تم دپہ ہن تہندہ اسلام نہ سچ کوسہ صورتھہ ہیچہ پادہ سپد تھہ۔ اللہ تعالیٰ  
 ان کور۔ بیان امہہ پتہ آیہ کر تمس منز تمن تسلی اِنَّا اُرْسَلْنَا بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا  
 وَلَا تُسْئَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ای پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیشک اسہ حض سوزوہ تہہ  
 پوزدین پتھہ لکن کن۔ پڑھہ کرہ و نین ہندہ خیطرہ خوشخبری بوزہ ناوہ ون بیہ نہ مانہ و نین ہندہ خیطرہ سزاو  
 عذابک یم کرہ ون۔ توہہ نہز بیہ نہ باز پرس کر نہ تمن لوکن ہند تم نار جہنم اندرو اتہ ون آسن کہ  
 تمو کونہ کور دین اسلام قبول۔ تم کیا زہ وات نار جہنم۔ تہہ رُوِز و نین کوم کر ان۔ کانہہ ہندہ مانہ نگ  
 یانہ مانہ نگ مہ ہیو غم نہ مہ کھیو فکر وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ بیہ  
 ہیکن نہ ہرگز یہود و نصاریٰ زانہہ تہ خوش گوہ تھہ توہہ نخرہ یوت تام نہ تہہ تہندہ مد سچ پورہ پیروی کرو۔  
 بیہ تھہ چھہ حال۔ لہذا چھو تہند توہہ نخرہ راضی سپدن تہ محال۔ لہذا ہر گہ گنتہ وقتہ تہندہ زبان امہہ قسمہ  
 کانہہ کتھہ بُوِز و یا کانہہ اشارہ بُوِ قُلْ إِنْ هَدَىٰ اللَّهُ هُوَ الْهَدَىٰ تہندہ گڑھہ تمن صاف فرماون کہ سمہ  
 کتھہ تراوو۔ حقیقتس اندر چھو ہدایت سنی تھہ اللہ تعالیٰ ان ہدایت فرمووو۔ سو ہدایت گو اسلام۔ تی چھو  
 ثابت بچود لیلو سیت وَلَئِن آتَبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ  
 تہندہ تہندہ مذہبک پیروئن چھو محال تہ ناممکن سمہ موکھہ کہ امہہ سیت چھو لازم یوان اکھہ حال تہ ناممکن

الَّذِينَ اتَّيَهُمُ الْكِتَابُ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ  
 بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۱۲۱﴾ يٰبَنِي إِسْرٰءِيلَ  
 اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي اٰنَعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَاِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِينَ ﴿۱۲۲﴾  
 وَاَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا

کتابہ کیازہ ہر گاہ تہہ پیروی کرنہ لگو تہندس غلط ملط مذہبئس ئس محض تہندین خواہشاتن ہند اکھہ مجموعاہ  
 چھو۔ تی کردہ جہہ (نعوذ باللہ) توہہ نشہ علم قطعئ وائتہ پتہ۔ اتھہ صورتس اندر ہیجہ نہ توہہ پچاوتھ اللہ  
 تعالیٰ اس نش کانہہ دوستانہ نہ کانہہ مددگارہ بلکہ پیہہ لازم کہ تہہ سپد و خلیہ سندس پنجہ قہرس اندر گرفتار  
 تہ ماخوذ۔ چوہجہ یہ چھو محال کیازہ دلائل قطعئو سیت چھو ثابت کہ اللہ تعالیٰ چھو توہہ نشہ ہمیشہ راضئ۔  
 پس تہند غضبناک سپدن توہہ پیٹھہ لہہ چھو محال۔ لہذا پیروی کرن تہندس باطل مذہب تہہ چھو محال۔  
 لہذا تمئن یہود و نصارے ان ہند توہہ نشہ خوش سپدن تہہ محال لہذا چھہ تہندہ اسلام نہ نچ صورتھی  
 کانہہ۔ لہذا کریون دل مبارک پئن امہ فخرہ نشہ خالی۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان تمئن اہل کتابن ہند  
 تذکرہ سمو قرآن مجیدس پڑھ کر۔ **الَّذِينَ اتَّيَهُمُ الْكِتَابُ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ** یمن یہود و نصاریٰ ان  
 اسہ عطا کرئب یعنی تورايت و انجیل تھے آسن تھتھ کتابہ تھہ پاٹھہ پران تھہ پاٹھہ ہزن شوہہ یعنی تمک  
 مضامین وارہ فخرہ تاران۔ پرس پیروی کرہ نگ پورہ ارادہ کران **أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ** تھھی لو کہ چھہ  
 پیشک تھہ دین حقس ایمان اتان تہ پڑھہ کران۔ **وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ** تم لو کہ اتھہ  
 دین حقس انکار کرن تمئن چھو تمیک نقصان تہ تاوان پنہ نس پانس۔ تم سپدن ایمانہ کیو فائدو تہ منافعو  
 نشہ محروم۔ **يٰبَنِي إِسْرٰءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي اٰنَعَمْتُ عَلَيْكُمْ**  
 ئتس پاو میانہ تمہہ نعمش تہمہ میہ توہہ عطا کر موہ **وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِينَ** بیہ دتموہ فضیلت توہہ  
 وار یمن لوکن پیٹھہ وار یمن کھن اندر۔ دوبارہ آویان کرنہ وارہ تاکیدہ خیطرہ **وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي**  
 تمہہ دوہہ کہ عذابہ نشہ **لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا** تہمہ دوہہ نہ کانہہ کھایت ہیجہ کر تھہ کانہہ اکھہ

عَدَا وَلَا تَنْفَعَهَا شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۱۳۳﴾ وَإِذِ ابْتَلَىٰ  
 إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ۖ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا  
 ۖ قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ۖ قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴿۱۳۴﴾ وَإِذْ جَعَلْنَا  
 الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا  
 إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ

کانسہ اکس منہ چیز ک۔ کانہ اکھاہیہ نہ کانسہ اکس بکار وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدَاٌ وَلَا تَنْفَعَهَا شَفَاعَةٌ  
 نہ دیر کانہ فاندہ نہ نفع کانسہ اکس کانسہ اکس شفاعت نہ سفارش۔ تمن صاحبن درای تمن اللہ تعالیٰ  
 شفاعت کرہ نگ اجازت دیر وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ نہ بیہ تمن یاری نہ مدد کر نہ کانہ نہ بجاوہ نہ تمن پنہ  
 نیوزورویت۔ وَلَا ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ ۖ ثلث پاوویلہ آزمایش کر حضرت ابراہیمس پن پروردگارن  
 بِكَلِمَاتٍ پنہ نیواحکامو اندرہ کنیو و حکومت کاتتہنن پس ان بجاتم تم حکم وارہ پاٹہ۔ قَالَ إِنِّي  
 جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا اللہ تعالیٰ ان فرموس تمہ ساتہ راضی گوتہتہ بہ کر تھ ژہ اتھ بدل نبوت نہ  
 بیخبر عطا کر تھ لوکن ہندامام نہ پیشوا قَالَ حضرت ابراہیمن دوپ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي پروردگار امانہ  
 ذریئہ منزہ نہ کرتہ کانسہ یہ مہربانی عطا۔ قَالَ اللہ تعالیٰ ان فرموس لِكَيْتَالَ عَهْدِي الظَّالِمِينَ  
 شامل سپدہ نہ میاہ طرفہ یہ عمدہ نبوت چاند ذریئہ منزہ ظالمن۔ یعنی ہم مشرک آسن تمواندرہ تمن  
 بیخبر نہ یہ مہربانی حاصل سپد تھ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا سو وقت نہ چھٹا قابل ذکر سمہ  
 وقتہ اسمہ خانہ کعبہ کور لوکن ہندہ کج، جمع سپد نجیہ انج جائے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى  
 کوراسہ حکم بالیمان۔ اے با ایمانو مقام ابراہیم بناویون عنہ عنہ وقتہ نماز پر نچ جائے کج  
 برکت حاصل کر نہ خیرہ۔ مقام ابراہیم گنیہ سوکن ہتھ پیٹھ وودنہ روز تھ حضرت  
 ابراہیم خانہ گعبک دیوار آس بنا کران۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ بیہ کوراسہ حکم حضرت  
 ابراہیمس نہ حضرت اسمعیلس أَنَّ طَهِّرَا بَيْتِيَ کہ سیٹھاہ پاک تھادیون یہ میون گھرہ لِلطَّائِفِينَ

السُّجُودِ ۱۲۵) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ  
 أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ  
 كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۱۲۶)  
 وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا  
 إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۱۲۷) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ

وَالْعَافِينَ وَالْوَكِيمِ السُّجُودِ طواف کر وہ نین ہندہ خیرہ۔ بیہ اعتکاف کر وہ نین ہندہ خیرہ۔ یا اتھ  
 شہرس منزسہ و نین ہندہ خیرہ یا تمبر میں لوکن ہندہ خیرہ۔ بیہ نمازہ پرہ و نین ہندہ خیرہ۔ وَإِذْ قَالَ  
 إِبْرَاهِيمُ بیہ پاوڈرٹس سیمہ وقتہ حضرت ابراہیم دعا کور رَبِّ اجْعَلْ هَذَا دوہن اے میانہ پروردگار  
 کُرَن یہ علاقہ بیہ منزاسہ بَلَدًا آمِنًا شہراہ امن و وہ و ن یا محفوظ پر بیہ کچو آفتوہ بلا یونشہ وَإِذْ  
 أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ بیہ کر عطا لہ کین لوکن میوہ تہ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ لہ کیو لو کو آندرہ  
 تمنی سکو ایمان اُون معبود بر حقس بیہ پختس دوہس یعنی قیامنس قَالَ اللہ تعالیٰ فرموو وَمَنْ كَفَرَ  
 کافر ن تہ کرہ بہ عطارزق میوہ جا تو سیت کیاہ زہ رزقک معاملہ چھو عام کافر ن تہ مسلمانن فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا  
 ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وون نُس کافر ی روزہ پس تمتع تلہ نا و ن سو کم کہینہ کاس۔ توپتہ و اتاوان سو  
 مجبور سپد تھ نارہ کس عذابس منز یعنی ناچار و اتہ سو تھ منز۔ کیاہہ بیہ آسہ نہ تس سزوار کا نہہ جایاہ۔  
 وَبِئْسَ الْمَصِيرُ کا زاہ پچھہ جای چھہ سونا رہمنم۔ بیہہ منز تم و اتن وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ  
 بیہ پاوڈرٹس بلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ لہ تہ دیوار کھاران آسِ وَإِسْمَاعِيلُ سیت آسبھہ حضرت  
 اسمعیل فرزند پن تعمیر چہ کامہ منز یا آسبھہ تم کنہ تہ رب پلہ ناوان تہ تم آس پانہ تمو کیو سیت دیوار  
 بلند کران۔ یہ کوم کران کران آس منگان یا بلہ امہ تعمیر چہ کامہ نشمہ دو شوہے صاحب فارغ سپد اتی  
 لگبہ دعا کر نہ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اے سانہ پروردگار بیہ کر قبول تہ یہ خدمت  
 سان۔ پر پانھہ ثی چھکھہ بوزہ و ن سون دُعَاثِی پچھہ پورہ خبر سانس نینن مقاصدن تہ ارادن ہنز رَبَّنَا

وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ وَإِرْنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا  
 إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۲۸﴾ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا  
 مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَ  
 يُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۱۲۹﴾ وَمَنْ يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ  
 إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا  
 وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۳۰﴾ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ

وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمِينَ لَكَ اے سانسہ پروردگار بیہ کراسہ دوشون بین زیادہ زیادہ تابعدار تہ فرمانبردار  
 وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُسْلِمَةٌ لَكَ بیہ گرن سانیو اولادو اندرہ تہ اکھ جماعتھاہ پنہ نین فرمانبرارن ہنز  
 وَإِرْنَا مَنَاسِكَنَا بیہ ہاواسہ تم ساری چیز تموسیت اسہ چان عبادت چھہ گرن۔ احکام حج وغیرہ وَتُبْ  
 عَلَيْنَا بیہ کراسہ گن توجہ۔ توجہ سون کر قبول إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ پڑھاہہ ژہ چھو کھ فی الحقیقت  
 اسہ گن توجہ کرہ ون سیٹھاہ توجہ قبول کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ اے سانسہ  
 پروردگار بیہ سوز تم ن ساین اولادن گن یلہ تھند تعداد بڈہ تہ بکثرت سپدہ۔ رَسُولًا مِنْهُمْ پیغراہ  
 عظیم الشان تموی اندرہ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ لیس پران اسہ تم ن پیٹھ لیس بوزہ نادان اسہ تم ن چان  
 آیات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ بیہ آسکھ، پچھناوان سو کتاب یوسہ تم ن پیٹھ نازل بیہ کر نہ وَالْحِكْمَةَ بیہ  
 آسکھ پچھہ نادان تمہہ کتابہ ہند مقاصد وَيُزَكِّيهِمْ بیہ اسہ تھند نفوس پاک کران لَأَنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ  
 الْحَكِيمُ پڑھاہہ ژہ چھو کھ طاقتہ دول، چانی قدرت چھہ غالب۔ ژہ چھو کھ حکمتہ دول۔ وَمَنْ  
 يَرْغَبْ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ بیہ گس کرہ روگردانی حضرت ابراہیمہ سندہ ملتہ لغیرہ  
 مگر کرہ سنی لیس ذاتی نادان تہ احمق اسہ وَلَقَدْ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا پڑھاہہ ژور اسہ سو حضرت  
 ابراہیم دنیا ہس اندر عمدہ رسالتہ خیرہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ بیہ چھو سو پڑھاہہ آخر

قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۱﴾ وَوَضَىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمَ بَيْنِيهِ وَ  
 يَعْقُوبَ بَيْنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا  
 وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۳۲﴾ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ  
 الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ  
 إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا  
 وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۳۳﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ

تس اندر نیکو کاری قابل شخصاً آندره بهنده خیطره سوزی کہنه چھو۔ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت  
 لرب العالمين يله فرمود و تس بین پروردگارن اسلام ان، فرمانبردار ته مطیع سپد، عرض کوزن اسلام  
 اولن مه فرمانبرداری ته اطاعت کرمه اختیار عالمن هندس پروردگارہ سنز۔ ووضی بها ابراهیم بینه  
 ای آتھ ہنز وصیت کمر حضرت ابراہیم پنہ نین فرزندن و یعقوب بیہ ایچی وصیت حضرت یعقوب  
 پنہ نین فرزندن، فرمود کھ یبئنی ان الله اصطفى لكم الدين ای میانو فرزندو پز پائھہ اللہ تعالیٰ ان  
 کور برگزیدہ تہندہ خیطره بیہ دین اسلام فلا تموتن الا وانتم مسلمون بس تھنہ منر و تھہ سمہ  
 دینہ و رای تھہ دینس پیٹھہ۔ مرنس تان روز زیوہ تھہ آتھہ دینس پیٹھہ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ  
 يَعْقُوبَ الْمَوْتَ کیاہ تھہ آسوہ موجود سمہ وقتہ ووت حضرت یعقوبس مرنگ ته بیمہ عالمہ گھہنک  
 وقت اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي بیمہ ساتہ تم ہر تھہ پنہ نین پنچوین تھہ کمسنز عبادت کرمیہ  
 پتہ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابرہم و اسماعیل و اسحاق تمود و پ عبادت کرو اس چانس خدایہ  
 سنزیہ چانین بزرگ مالین ہندس خدایہ سنز۔ تم گے حضرت ابراہیم۔ حضرت اسماعیل، حضرت  
 اسحاق۔ الہا و احدًا بس خدائی چھو لا شریک و نحن له مسلمون اس ساری چھہ تس گردن دارہ  
 دن یعنی تہندی مطیع ته فرمانبردار تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ بیہ آس جماعتھہ (یعنی حضرت ابراہیم ته

وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۷﴾  
 وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ  
 حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۳۸﴾ قُولُوا الْمَثَابَةُ لَإِنَّ  
 إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَ  
 الْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ  
 رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴿۱۳۹﴾ فَإِنْ

تہند فرزند حضرت یعقوب سے تہند فرزند) بیشک یوسہ گذرے یہ۔ لَهَا مَا كَسَبْتُمْ تہندہ نفعہ خاطرہ  
 چھوٹے یہ تم کو یعنی تمہیں بکارتے یہ تم کو اور وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ تہندہ خیرہ چھوٹے یہ تمہے کرم یعنی  
 توہم یہ بکارتے یہ تمہے کرم وَلَا تَسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ توہم یہ نہ پڑھتے تہ، تہنہزہ عملہ مند بکارتے  
 چھٹے کھی۔ معلوم سپہ بزرگن سے محبوبان الہین کن خالی نسبت گرن تہنز متابعت کرنے وای اتھہ چھوٹہ  
 کانہہ فائدہ سے نفع وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا ونان چھہ یہود اہل اسلام۔ تہہ بنو یہود۔  
 نصاریٰ چھہ ونان تہہ بنو نصاریٰ تہی سیت لبو تہہ سنز و تھہ۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا تہہ فرمو  
 یو کہ ہر گز بنو نہ اُس یہود سے نصاریٰ بلکہ کمر اسہ اختیار حضرت ابراہیم علیہ السلامہ سنز و تھہ یوسہ  
 سنز و تھہ چھہ۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اوس نہ حضرت ابراہیم ہر گز مشرک اوندہ قُولُوا الْمَثَابَةُ بِاللَّهِ  
 اے مسلمانو ونو تہہ تفصیلاً یہ ایمان اوان اسہ کنس خدا اُس وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ  
 وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَ الْأَسْبَاطِ یہ اوائین تھہ کتابہ یوسہ لہ کن یہ سوزنہ تھہ کتابہ یوسہ حضرت ابراہیم علیہ  
 السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام یہ تہندین اولاد کن کن یہ سوزنہ  
 وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ یہ یوسہ کتاب عطا کرنے آہ حضرت موسیٰ اس حضرت عیسیٰ اس وَمَا  
 أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ یہ یہ کتابہ عطا کرنے آہ بین پیغمبرن پنہ اُس پروردگار سندہ طرفہ۔  
 لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اُس چھہ یہود اوندہ کانہہ اُس منز فرق کران وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اُس

اَمْوَابِئِلٍ مَا اَمْنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ۗ وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا  
 هُمْ فِي شِقَاقٍ ۚ فَسِيْكَفِيْكُمْ اللهُ ۗ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ﴿۱۷۲﴾  
 صِبْغَةَ اللهِ ۗ وَمَنْ اَحْسَنُ مِنْ اللهِ صِبْغَةً ۗ وَنَحْنُ لَهٗ  
 عِبْدُوْنَ ﴿۱۷۳﴾ قُلْ اَتَحَابُّوْنَ اِنِّيْ اِلٰهٍ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ ۗ وَاِنَّا  
 اَعْمَالُنَا وَاَلَكُمْ اَعْمَالِكُمْ ۗ وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ ﴿۱۷۴﴾ اَمْ تَقُوْلُوْنَ  
 اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَاَلْاَسْبَاطَ كَانُوْا

چھ تہندی فرمانبردار فَاِنْ اَمْوَابِئِلٍ مَا اَمْنْتُمْ بِهِ پس ہر گاہ تمو یہودو سے نصاریٰ او پڑھ کر پڑھ پاٹھ  
 توہم پڑھ کر وہ فَقَدْ اهْتَدَوْا پس تھقیق و تھ لب تمو وَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّمَا ہُمْ فِي شِقَاقٍ ہر گاہ تم  
 اعراضی کرن توہم سیت ، یمن کھن اندر موافقت کرن نہ۔ پس چھ نہ تم مگر چھ نینس مخالفس پیٹھ۔  
 مگر تہ مہ بڑ و تہندہ مخالفک کا نہ پروا۔ فَسِيْكَفِيْكُمْ اللهُ تہ چھ بس اللہ تعالیٰ سو کرہ پانے  
 عنقریب توہم نغمہ تہند شر دور وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ سنی چھ سوڑی بوزہ دن سوڑے زانہ دن تہنزہ  
 کتھ۔ تہ تہنزہ کتھ چھ بوزان۔ تہند حال چھ پور زانان۔ سو انزرا وہ نیالے پائے۔ تہ مہ بڑ و کا نہ فخر۔  
 اے مسلمانو تہ دپو اس روز دینہ کس تھہ حالتس پیٹھ مضبوط پس حالتس پیٹھ اس اللہ تعالیٰ اَنْ رَحْمَتِ  
 چھ صِبْغَةَ اللهِ اس چھہ رخنہ امت خدایہ سدہ رنگ سیت بس نہ زانہ ڈلہ تہ تغیر سپہ۔ وَمَنْ  
 اَحْسَنُ مِنْ اللهِ صِبْغَةً خدایہ سدہ خوتہ کس بیکہ رت رنگ دتھ۔ وَنَحْنُ لَهٗ عِبْدُوْنَ اس چھہ  
 تہنزی یا تہندگی کران قُلْ اَتَحَابُّوْنَ اِنِّيْ اِلٰهٍ فرما دپو کہ تہہ یار رسول اللہ اے یہودو سے نصاریٰ او تہہ  
 چھوہ اسہ سیت خدایہ سدہ س معاملس اندر ہر کران وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ حالانچہ سو چھو سون پرورد گارتہ  
 تہند پرورد گارتہ وَاِنَّا اَعْمَالُنَا وَاَلَكُمْ اَعْمَالِكُمْ اسہ بن بکار پینہ عملہ۔ توہم بن بکار پینہ عملہ۔ ہر کی تھہ  
 پیٹھ چھہ لاکن وَنَحْنُ لَهٗ مُخْلِصُوْنَ اس چھہ تہندی رضا خیطہ سارے عملہ کران۔ اسہ منز چھو  
 اخلاص اعتقاد تہ اخلاص عمل تہ۔ اَمْ تَقُوْلُوْنَ اِنَّ اِبْرٰهِيْمَ وَاِسْمٰعِيْلَ وَاِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَاَلْاَسْبَاطَ



هُودًا أَوْ نَصْرًا قُلْ ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّٰهُ وَمَنْ أَظْلَمُ  
 مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ  
 عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۰۶﴾ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ  
 مَّا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۰۷﴾  
 سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلِهِمُ  
 الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ

کَانُوا هُودًا أَوْ نَصْرًا کیا ہے چھوہ و نان کہ حضرت ابراہیمؑ سے حضرت اسمعیلؑ۔ حضرت اسحاقؑ سے  
 حضرت یعقوبؑ سے تہمید اولاد تم کیا آس یہودیانصری قُلْ فرماؤ کہ تہمہ یارسول اللہ مختصر پانچ  
 ءَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللّٰهُ اکی یہودو ن نصری اوتوہم چھوہ خبر زیادہ کنہ اللہ تعالیٰ اس۔ یہ چھہ ظاہر تہہ کہ  
 زیادہ خبر چھہ اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ ان فرمود کہ تم حضرات انبیاء آس ملت اسلامس پیٹھہ توہم  
 تہ چھوہ اچ خبر مگر تہہ چھوہ سو خبر کھان وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللّٰهِ یہ کس  
 اکھاہ چھوہ یژ ظالم تس شخصہ سندہ کھوتہ یم کھٹ سو حقیقت حال یوسہ تس خدایہ سندہ طرفہ معلوم سہز  
 مژ آس وَمَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ توپتہ چھوہ نہ اللہ تعالیٰ تہمہ یو کر تُو تُو نشہ بے خبر تِلْكَ  
 أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ یہ آس بزرگن ہنزا کہ جماعتھاہ یوسہ گذرے یہ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ  
 تمہم یہ بکارتہ یہ تمہو کور توہم یہ بکارتہ یہ توہمہ کورہ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ توہمہ  
 یہ نہ پڑھنہ تہ تمیک یہ تم کران آس۔ سمہ آہ کریمہ سیت سپد معلوم کہ تم لو کہ بن بیان منسوب  
 کرن کنہ تھدس خاندانس کُن مگر اعمال و افعال آسکھ نہ تھہ خاندانس موافق تہ مناسب تمہن دیہ نہ  
 کانہہ فائدہ سو ظاہری نسبت۔ کنعانس دیت نہ کانہی فائدہ پیغمبر زادہ آسنن۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ  
 مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّهُمْ عَن قِبَلِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا وون و ن ضرور بے وقوف لکھ کم چیزن پھر تم  
 مُسْلِمَانِ تَمَّ قِبَلَهُ نَشْرٌ مِّنْكُمْ تَمَّ وَكُفَّامِ آس نماز پران یعنی بیت المقدس۔ قُلْ لِلّٰهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ

إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۳۲﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ  
 عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۖ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي  
 كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ  
 ۖ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۗ وَمَا كَانَ اللَّهُ  
 لِيُضَيِعَ آيْمَانَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَكَرِيمٌ ﴿۱۳۳﴾ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ  
 وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ ۖ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ

فرماؤ گھڑہے یارسول اللہ خدایہ سنووی چھو مشرق تہ مغرب تہ پریتھہ طرفہ سؤی چھو سارنی طرفن ہند  
 مالک۔ کانسہ آگس چھونہ حق واتان چون وچرا کرنگ۔ یوہے اعتقاد آسن شریعتین حکمن متعلق گوراہ  
 راست یُہْدَى مِّنْ يَّمِينِكَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ سُو چھو وتھہ ہاوان لیس یڑھان چھو تہ تس اتھہ سیزہ وتہ  
 گن۔ یعنی سُو چھونہ ونان احکام اسلامن اندر، ہو کیا زہ تہ یہ کونہ وَكَذَلِكَ بیتھہ پاٹھہ قبلہ شہد کوراسہ  
 بہتر قبلہ بیتھہ پاٹھہ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا کرہ اسہ تہہ جماعتھہ درمیانہ لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ بیتھہ  
 بیو تہہ گواہ حضرات انبیاء ان ہندہ خیطرہ تہندین اُمتن بیتھہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا بیہ سپدن  
 پیغمبر برحق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تہند گواہ صفائی وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا بیہ کورنہ  
 اسہ مقرر سُو طرف قبلہ۔ بیتھہ گن تہہ وکلتام نماز پران آسہہ یعنی بیت المقدس إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ  
 الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقْبَيْهِ مگر یہے تھہ نراونہ خیطرہ کہ گس اکھاہ کرہ متابعت تہ پیروی پیغمبر کریمہ  
 سنز۔ بیہ گس پھیر تھہ متابعت نشہ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً پڑ پاٹھہ یہ قبلہ بدلاون گذریو سیٹھاہ دشوار  
 ضیعف الايمان لکن بیتھہ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ مگر تمہن لوکن نہ یمن ہدایت کور، وتھہ ہاواللہ تعالیٰ  
 ان۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضَيِعَ آيْمَانَكُمْ اللہ تعالیٰ چھونہ بیتھہ سُو کیاہ کرہ تہند ایمان یعنی نماز ضائع۔ یوسہ  
 تہہہ بیت المقدس گن بیتھہ کبر تھہ پرہہ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَكَرِيمٌ لَرُوءٌ وَرَحِيمٌ پڑ پاٹھہ اللہ تعالیٰ چھو تھہ  
 لوکن ہندہ خیطرہ سیٹھاہ شفیق تہ مہربان۔ قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ پڑ پاٹھہ آس چھہ وچھان تہند

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۳۳﴾ وَلِئِن آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلِئِن اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ

پھر پھر وچھن آسانس کن تحویل قبلک حکم کر سنا سپدہ نازل فَلتولیتک قبلة ترضعما پس پھر وہ آسہ  
 نہ تھے قبلس کن ئیس توہمہ پسند چھو قَوْلٌ وَمَحْكُ شَطْرُ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وئن چھم حکم کران آس توہمہ کہ  
 پھر وبتھ پئن نماز پر چھم وقتہ مسجد حراس کن۔ یعنی کعبہ شریف کن۔ یہ واقعہ تحویل قبلہ چھو سپد مت  
 ژند رووارہ دومہ در میان ماہ رجب ہجر چھم دو سہمہ و رہمہ در مسجد نبوی۔ خانہ کعبہ کن آسہ دگر نماز پر نہ  
 (بخاری و مسلم) امہ تحویلہ قیلح خبر سہمہ ساعتہ بنی سلمہ چہ مسجد والن واثر تم آس دگر نماز ہنز دویمہ  
 رکوعہ منزاک صاحبین فرماؤبہ چھس گواہی دون کہ میہ پئر نماز بنی کر سمس صلی اللہ علیہ وسلم سیت مکہ  
 ہس کن۔ یم صحابہ صیب سپد خانہ کعبہ کن نماز منزی متوجہ توی پیو اتھ مسجد مسجد قبلتین ناو  
 وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ یہ چھونہ توبی یوت حکم خصوصی بیہ چھو یہ حکم توہمہ تہ تہندین  
 امتین تہ۔ نہہ ساری تہ آسوپر تہہ جایہ کمر و پئن تہہ نمازہ اندر مسجد حراس کن۔ ئیس مسجد احرام کعبہ  
 شریفس آسہ تہ چھو۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ پڑاٹھ اہل کتاب چھم یقیناً  
 زانان کہ یہ حکم چھو پوز حکم تہندس خدا یہ سندی طرفہ کیاہہ تمو چھو پورمت تور اتس اندر کہ پیغمبر  
 آخر الزمان پرہ نماز دون قبلن کن وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ بیہ چھونہ اللہ تعالیٰ بے خبر بہودن  
 ہنز وکامیونہ سم انکار قبلہ کران چھم وَلِئِن آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ قسم  
 ہاوت چھوس بو فرماوان کہ ہر گاہ نہہ سم بہودن اہل کتابن سارے دلیلہ فرماو یوتو تہ کرن نہ سم  
 تہندس قبلس خانہ کعبہ قبول۔ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ نہہ تہ ہیكونہ اختیار تہ قبول کمر تھ تہندس

إِذِ الْبَنَ ظَالِمِينَ ﴿۱۵۵﴾ الَّذِينَ اتَّبَعَهُمُ الْكُتُبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ  
 أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۵۶﴾  
 الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۱۵۷﴾ وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ  
 مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمْ اللَّهُ جَمِيعًا  
 إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۵۸﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ

قبلس وَمَا بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ قِبَلَةٌ بَعْضٌ تمن چھو تو پتہ پانہ وان تہ اختلاف یہود تہ چھنہ کران تسلیم نصاران  
 ہندس قبلس ئس مشرقس گن چھو۔ نصاریٰ چھنہ کران تسلیم یہودن ہندس قبلس ئس مغربس گن  
 چھو۔ تمن دون جمع سپدن چھو سیٹھاہ دشوار ولین اتبعت اھو اھو من بعد ما جاءك من العلم اگر  
 و سن تہ تہ تہ ہندین یمن نفسانی خواہش تہ خیالاتن اختیار کرو۔ توہہ بشر علم قطعی وحی الہی واتتھہ لانک  
 إِذِ الْبَنَ ظَالِمِينَ یقیناً اوتھہ صورتس اندر توہ تہ شمار کرنہ حکم عدولی کرو نیواندرہ سمہ اندرہ چھو  
 مطلب اتس وئ۔ اگرچہ خطاب آو کرنہ بنی کر تمس گن الَّذِينَ اتَّبَعَهُمُ الْكُتُبَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ  
 أَبْنَاءَهُمْ تم لوکھ یمن اسہ عطا کر کتاب یعنی تورايت وانجیل تم چھہ پرزہ ناوان اسس پیغمبر برحقس  
 تھہ پاتھہ تھہ پاتھہ پرزہ ناوان چھہ پنہ نین پچوین تموبشار تو موجب سمہ بیان آمزہ چھہ کرنہ تہزن  
 کتابن اندر وَلَٰنَ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ باوجود آل چھہ تمواندرہ اکھ جماعتھاہ ضرور  
 پوزکھٹان زانت کتر تھہ۔ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ یہ پوز حکم تحویل قبلس متعلق چھو  
 تھندس پروردگار سہہ طرف۔ پس مہ آبو تردد کروہ و نیواندرہ۔ یمن امورن ہند پوز آئن چھو ثابت  
 تھندس پروردگار سہہ طرف۔ لہذا چھو پرت آگس و نہہ یوان کہ ہرگز مہ آس شک وشبہ کرہ و نیواندرہ۔  
 وَلِكُلِّ وِجْهَةٍ هُوَ مُوَلِّيهَا پرستھہ آگس دیدازس چھو او سمت اکھ اکھ طرفاہ قبلہ خیطرہ تھہ گن سو  
 پھیران اوس۔ دین محمدی تہ چھو اکھ مستقل دیناہ۔ اتھہ تہ کور اللہ تعالیٰ ان مستقل اکھ قبلہ مقرر۔  
 مقصد چھو عبادت تہ رزہ کامہ کرنہ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ پس کمر و تہہ اے مسلمانو تکین منز بر تھہ گونج

شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا  
تَعْمَلُونَ ﴿۱۹۹﴾ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ  
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ  
حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي قَوْلًا تَمَّ  
نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۲۰۰﴾ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ

کوشش کیا وہ۔ آئین ماں کو تو آیات بکرم اللہ جیباً تہمتیہ آہوتیہ تہمتیہ، ساری لہ وہ سو نبرت اکہ وہ اللہ تعالیٰ بن فیصلہ بوزنانونہ خطیرہ قیامتہ دوہہ نیکو کارن دیہ رت جزا بدکارن دیہ سخت سزا اِن اللہ علیٰ کل شیء قدیئر لیس پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو پر ہتھہ چیزس پیٹھہ قدرتہ دول وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلًا وَهَكَذَا شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مَعْرَر چھو بیہ ونہ یوان سمہ طرفہ تہہ نیر و سفرس مغربہ طرفہ یا مشرقہ کہ طرفہ یا شمالہ کہ طرفہ یا جنوبہ طرفہ۔ پر ہتھہ جایہ پیٹھہ گزہ نمازہ منزہ ہتھہ گرن مسجد حرامس یعنی کعبہ شریفس کن وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ بیشک یہ حکم چھو پزپاٹ تہندس پروردگار سدہ طرفہ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بیہ چھو نہ اللہ تعالیٰ بے خبر تہنز و کامیونشہ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ قَوْلًا وَهَكَذَا شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بیہ چھو بیہ حکم بیان یوان کرنہ کہ یمہ طرفہ تہہ نیر و سفرس، پر ہتھہ جایہ پیٹھہ گزہ نمازہ منزہ ہتھہ گرن مسجد حرامس یعنی کعبہ شریفس کن۔ یہ حکم چھو توی یوت بلکہ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ اے لکو تہمتیہ تہمتیہ آہوتیہ پیٹھہ کمر و تہہ پن ہتھہ آتھہ مسجد حرامس کن یہ حکم چھو بس بوفردان لئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ ہتھہ گنہ قسمہ تھہ کر تک اعتراض کرنک موقہ روزوہ لوکن یعنی یہ ہودن تہ مشرکن إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ سوای تہن لوکن سمپان پانس ظلم کمر تہمواندرہ تہند بغض تہ عناد تہوانہ سیت۔ تم کرہ نی طعنہ زنی بہر حال مگر فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي تہن مہ کھوژو تہنز پان ہندمہ بزوکانہہ پرواء کھوژوان آہو میانس کھمس خلاف کرنس وَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ بیہ چھو بس بویہ حکم فرماوان ہتھہ پورا کمر و پن نعمت تہہ پیٹھہ بیہ ہتھہ تہہ دینہ کین

يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمُ مَا  
لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ﴿۱۵۱﴾ فَأَذْكُرُوا لِي آذْکُرْکُمْ وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا ۚ ﴿۱۵۲﴾  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۵۳﴾  
وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا  
تَشْعُرُونَ ﴿۱۵۴﴾ وَلَنَبِّئُكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ

احکام من گن و تھ لبو اسلامس پیٹھ مضبوطی سان قائم رُوڑو۔ چونکہ قبلک معاملہ اوس نہایت مہتمم  
بالشان مخالفو اوس اتھ پیٹھ سیٹھاہ شور تلمت بیہ اوس امہ کین بعضی جزئیاتن اندر ترد و سپدنگ احتمال  
لہذا آویہ حکم مکرر بیان کرنہ امیہ کین سارنی پہلوون ہند لحاظ تھاوت امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان کعبہ  
شریفہ کہ مقبولیتنگ و عاکور اسہ قبول۔ سو بنو واسہ اہل اسلامن ہند قبلہ بیتھ پاٹ اسہ حضرت ابراہیمہ  
سند بیاکھ دعار حق بعثت پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم قبول کور کَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِّنكُمْ  
کعبہ شریف بنو واسہ اہل اسلامن ہندہ خیطرہ قبلہ بیتھ پاٹھ اسہ سوز توہیہ گن عظیم الشان پیغمبرہ توہی  
منزہ يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا کس سان آیات پتر پتر توہہ بوزہ ناوان چھو وَيُزَكِّيكُمْ بیہ چھوہ توہہ پاک  
وصاف کران شرکچہ تہ گو نمن ہنزہ نا پاک نشہ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ بیہ چھو توہیہ چکھناوان قرآن مجید  
گانہ جارچہ تھہ تہ طریق عمل وَيُعَلِّمُكُمُ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ بیہ چھوہ چکھناوان تم علوم تہ تم اسرار تہ تم نہ  
گنہ چکھہ ہو۔ امہ امہ قسچہ نعموہ کرہ موہ میہ عطا۔ فَأَذْكُرُوا لِي آذْکُرْکُمْ کتر و تھہ میون یاد۔ بو کرہ تھہ یاد  
وَأَشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُوا میان نعمن ہنز شکر گذاری کتر و میان حکم مانہ سیت۔ کفران نعمت مہ کتر و  
میان تا فرمانی کرنہ سیت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے باایمانو اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ یاری تہ مدد ڈھاہڈ  
واکھہ صبر کرنہ سیت کیا زہ صبر چھو پر بیتھہ کامیابی ہنز کونز بیہ نمازہ پر نہ سیت کیا زہ نماز چھہ افضل  
عبادات إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو صبر کرو نین سیت۔ نماز پرہ و نین سیت گو آتھی وَلَا  
تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بیہ مہ و تو تھن لو کون تھم مارنہ یں تہ شہیدین کرنہ خدایہ سزہ و تہ

الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّرَائِبِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴿۱۵۵﴾ الَّذِينَ إِذَا  
 أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴿۱۵۶﴾  
 وَأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴿۱۵۷﴾  
 إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَبَّ الْبَيْتَ أُوَاعْتَصَرَ  
 فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ

اندر یعنی دینہ خیطرہ تم چھ مردہ بَلْ أَحْيَاةٌ وَلَكِن لَّا تَشْعُرُونَ بلکہ چھ تم امہ مخصوص حیاتہ سیت  
 زندے۔ مگر تمہہ بیخونہ تنہز زندگی محسوس کمر تھہ کیا زہ سو چھ سمہ زندگی خوتہ تنہز زندگی وَلَنَبَلِّغَنَّكُمْ  
 بِئْسَىٰ مِنَ الْغُوفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالشَّرَائِبِ بیہ آزماوہ اس تمہہ ضرور۔ کنیوہ ہاہ  
 خوفہ سیت بیہ بو چھ سیت۔ بیہ مال و جان تہ میون ہندہ نقصانہ سیت۔ وچھو صبر کم کرن تہ بے صبری کم  
 کرن وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ بشارت فرماو یو تمہہ صبر کرہ و نین یم بڈین مصیبتین پیٹھہ تہ صبر کرن لو کٹین  
 مصیبتین پیٹھہ تہ صبر کرن۔ یہند عادت چھو الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ تَمُنُّ بِلَه كَانَهُمُ مَصِيبًا وَاتَّانَا  
 چھو قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ تمہہ ساتہ چہ تم دپان اس چھہ مال و جانہ تہ اولادن سان خدایہ  
 سندی ملک۔ بیہ چھہ اس تس کن پتولا کہ رجوع کرہ دن اُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ تہ  
 لو کہ تم تکالیف و مصیبتین پیٹھہ صبر کرہ دن تہ مصیبتہ کہ وقتہ آیہ استرجاع یعنی اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ پرہ  
 دن آسن تمنی پیٹھہ چھہ خدایہ سندہ طرفہ بیشمار مہربانی بیہ بڈ رحمت اُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ بیہ چھہ تہ  
 لو کہ تمہو پڑپاٹ راہ راست لوب۔ بروظھین آیات کریمن منز آس ذکر خانہ کعبہ کہ سو چھو قبولو اندرہ  
 بہتر قبلہ عباد تو اندرہ بہتر عبادتس یعنی نمازہ اندر کمر و بٹھہ پئن اتھہ خانہ کعبس کن و سن چھہ اللہ تعالیٰ فرماوان  
 اتھہ متعلق بیہ لمحہ بڈہ عبادت حج ذکر سو گنیہ عبادت حج اِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَائِرِ اللَّهِ پڑپاٹ صفاروہ  
 یم زہ کوہ بیہ یمن منز سہ یعنی دورہ دور کرن چھہ پروردگارہ سندہ دینہ کیو یادگاروتہ نشاواندرہ فَمَنْ  
 حَبَّ الْبَيْتَ أُوَاعْتَصَرَ پس تم شخصن حج ادا کر نہ خیطرہ احرام گوئد مت آسہ یا عمرہ کر نہ خیطرہ فَلَا

شَاكِرٌ عَلَيْهِ ۝۱۵۸ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ  
 مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ  
 يَلْعَنُهُمُ الْعَالَمُونَ ۝۱۵۹ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا  
 فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ۝۱۶۰ إِنَّ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمُ لعنةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ

جَنَانِ عَلَيْهِ أَنْ يَكْتُمُونَ بِعَمَّا تَسْتَجْتَمِعُونَ كَانَهُ حَرْجٌ تَهْتَمُونَ بِهَا أَلَمْ تَرَ سَوِيحُنَ دُونَ كُوَيْبِ بْنِ دُرَيْمٍ دُونَ دُرَيْمٍ كَرِهَ  
 سِتْرَ بَعْضِهِمْ سِتْرَ بَعْضِهِمْ وَنَانَ جَهْدٌ وَمَنْ تَقَوَّعَ خَيْرًا بِهِ لَيْسَ أَكْهَابُ بَعْضِهِمْ خَوْشَى سَيْتِ كَانَهُ رِثَاكَاهُ كَرِهَ - فَإِنَّ  
 اللَّهُ شَاكِرٌ عَلَيْهِمْ پس پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو نیکن ہنز قدر کرہ دن سوڑی زانہ دن کم کوسہ کام کمہ نیتہ  
 کتر ان الذین بیشک تم لو کہ یکتُمُونَ ہم پوشیدہ چھہ تھاوان مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ یہ کیوہا سہ  
 نازل کرنیو دلیو آندره تہ ہدایتہ اندرہ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ وارہ پاٹھہ لوکن ہندہ خیطرہ  
 تورات وانجیل منروضاحتہ سان بیان کرنہ پتہ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَ يَلْعَنُهُمُ الْعَالَمُونَ امنی لوکن  
 پیٹھہ چھو اللہ تعالیٰ لعنت کران پزکھنہ خیطرہ ہیہ چھہ امنی ہیہ لعنت کرہ ون تہ لعنت کران - کیا زہ ہندہ  
 پزکھنہ سیت نہ خدایہ سندنور لوکن نغمہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُّوا مگر ہم لو کہ توبہ کرن  
 سمو کامیونشہ پھیرن - ہیہ سنہالان پزہ کلمہ دین اسلام قبول کرنہ سیت ہیہ کرن وضاحتہ تمن کھن ہنز  
 سمہ پوشیدہ تہ کھٹت تھاوان آس فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ پس ہم لو کہ ہم چھہ ہمین ہند توبہ کرہ بو  
 قبول وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بوی چھوس سیٹھاہ توبہ قبول کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون - کانہ توبہ کرہ  
 وانہ گزٹھہ آسن إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا پزپاٹھہ ہم گھر سی پیٹھہ رُو دِ سمو یودو آندره  
 ہیہ موڈ گھر سی پیٹھہ - أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمُ لعنةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ تمن لوکن پیٹھہ چھہ بدستور  
 خدایہ سز لعنت - ہیہ ملائکن ہنز لعنت - ہیہ سارنی لوکن ہنز لعنت خُلْدِيْنَ فِيهَا تھہ لعنتس منزر روزن  
 ہیہ - سو گونار جہنم ہمیں لعنتک گھرہ چھو لَا يَخْفَىٰ عَنْهُمْ الْعَذَابُ لو ژراندہ تہ کم ہیہ نہ کرن تمن نشہ



وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۱۶۱﴾ خَلِيدِينَ فِيهَا لَا يَخْفَىٰ عَنْهُمْ الْعَذَابُ  
 وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۱۶۲﴾ وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ  
 الرَّحِيمُ ﴿۱۶۳﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ  
 وَالنَّهَارِ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ  
 اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا  
 وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ

عذاب وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ نہ یہی تمہیں مہلت دینے وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ بیہ چھو معبود تہند کئی معبود  
 لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کا نہ معبود چھو نہ تس وراہی۔ کا نہ چیز چھو نہ سزاوار عبادتس، تس اگس ذاتس وراہی  
 کیا زہ تہند صفت چھو الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ عام رحمتہ وول، خاص رحمتہ وول۔ لیس منزیم زہ صفت آسن  
 سوی چھو معبود آسن سزاوار۔ بلہ یہ آہ کریمہ وَاللَّهُمَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ نازل سپد۔ کافر لگ ونہ آج دلیل  
 کیا چھہ اتی سپد نازل إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ پڑاٹ آسمان ہندس تہ زمین ہندس پیدہ کرنس  
 اندر وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ راتہ کس تہ دوہہ کس انس تہ گڑھس اندر۔ وَالْفَلَكَ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بیہ  
 تمہن ناؤن تہ جہازن اندر تمہن سمدرن تہ دریاون اندر پکان چھہ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ تم چیز تہ سامانہ ہیبت  
 سمہ سبت لوکن نفع تہ فائدہ و اتان چھو۔ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ بیہ تھہ آسن منزیم  
 اللہ تعالیٰ چھو آسانچہ طرفہ ابرہ منزہ نازل کران فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا لیس چھو تمی سبت  
 مردہ زمینس زندہ کران وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ بیہ چھو چھکر اوان اتھہ زمینس اندر پریتھہ  
 قسمک جاندار وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ بیہ اوان ہندس اورہ یور کرنس اندر وَالسَّحَابِ الْمُسْتَعْرَبِينَ السَّمَاءِ  
 وَالْأَرْضِ بیہ تھہ ابرس منزیم رام تابع تہ فرمانبردار چھو لیس الوند چھو آسانس تہ زمینس در میان  
 لَا يَتْلُو لِقَوْمٍ يَعْتَلُونَ پڑاٹ بڈ بڈ نشانہ چھہ یمن ستن چیزن اندر عقلہ والین ہندہ خیرہ۔ پریتھہ  
 چیزہ چھو دلالت کران تہندس خالق مطلق تہ معبود برحق آسن پٹھہ وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَكْفُرُونَ

الْمُسَخَّرِينَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۱۴۴﴾  
 وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ  
 اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ  
 يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ﴿۱۴۵﴾  
 إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ

دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا بے چہرہ لو کو اندرہ بعضے لو کہ یم ٹھہراوان چہرہ خدا لیس ورا کی بین خدایہ سندہ ہم پلہ تہ  
 برابر يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ تہندی محبت چہرہ تھوان خدایہ سُندہ ہو محبت۔ تمنی چہرہ عبادتس اندر،  
 اطاعتس اندر خدایہ سند شریک تھوان۔ خیال چہرہ کہ یم چہرہ ذریعہ تہ واسطہ، سفارش کرہ وون خدا لیس نشہ  
 یکن تہ چہرہ اندرونی طاقت قدرتس اندر یا کانہ دخلہ خدایہ سزنا کا یم اندر وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ  
 مگر ہمہ لو کو پڑھ کتر خدایہ سندس گن آسٹس تمن چہرہ ساری ہندہ خوتہ خدایہ سندوی سخت محبت کیا زہ  
 تمن چہرہ یقین کہ سوی چہرہ سوڑی عطا کرہ وون تہ بے نہ کانہ۔ تم چہرہ منگان تس ورا کی بے کانہ۔ تم  
 چہرہ کھوژان تس ورا کی بے کانہ سوی چہرہ ساری نفعک تہ نقصانک مالک بے نہ کانہ۔ تمن چہرہ محبت  
 چہرہ خدایہ سُند تہ چہرہ نہ بے کانہ ہند خدایہ سندی رضا خیطرہ چہرہ تم خدایہ سندین رتین بدن۔  
 انبیاءن تہ اولیاءن ہند محبت تھوان۔ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا ہر گاہ زانہ ہن تم ظالم ہمہ خدا لیس  
 شریک ٹھہراو سوتھہ یوسہ زانہ سچہ تمن تمہ ساتہ إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ ہمہ ساتہ تم عذاب وچھن سونگنیہ  
 بے سچہ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا کہ پڑاٹھہ سوڑی قوت چہرہ خدایہ سی بوت وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ  
 بے چہرہ اللہ تعالیٰ کڈر عذاب کرہ وون۔ تلہ ٹھہراو ہن نہ خدا لیس شریک إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ  
 الَّذِينَ اتَّبَعُوا یلہ لوب بین تہ بے تعلقی ظاہر کرن آخر تس اندر تم لو کہہ ہنہز متابعت تہ پیروی کرنہ  
 یوان آس، تمن لو کن نشہ یم پیروی کران آسچہ وَرَأَوْا الْعَذَابَ بے وچھن دو شوے عذاب ننیو آچھو  
 وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ژھین تمن برو ٹھہم ساری تعلقات وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً

وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابَ ﴿۳۶﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّا كَرِهْنَا  
 فَنَتَّبِعَ آيَاتِهِمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ  
 حَسْرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِمُخْرِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿۳۷﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا  
 مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ط  
 إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿۳۸﴾ إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَإِن

بیہ و ن تمہ وقتہ تم لو کہہ یم پیروی کران آس ہر گاہ اسہ دوبارہ بیہ ا کہ لہہ دنیا ہس کن گوہنک موقعہ بہہ ہا  
 فَتَبَرَّأ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا اُس تہ روزہ ہو تمن نشہ الگ پتھہ پاٹھہ تم اسہ نشہ لوب تہ الگ رُود  
 كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسْرَاتٍ عَلَيْهِمْ پتھہ پاٹھہ کیا ہا وہ اللہ تعالیٰ تمن پتھہ عملہ سمہ تمہو خدا ہس  
 وراکی بین ہندہ خیطرہ کرہ مژہ آس نہ امت تہ پیشمانی وَمَا هُمْ بِمُخْرِجِينَ مِنَ النَّارِ بیہ آس نہ تم نار جہنمہ  
 منزہ نیرہ ون بلکہ چھو تمن تھہ منز ہمیشہ روزن۔ مشرکن عرب آس پوتلین ہندن ناون پیٹھہ بعضہ  
 جانورن نامزد کتر تھہ تھاوان۔ تمہ پتہ آس تم تمن جانورن سیٹھاہ تعظیم و تکریم کران۔ تمن جانورن  
 نَشْرَ آس نہ کانہہ نفع تہ فائدہ تھان۔ خیال آس کران یہ چھو حکم خدا۔ امہ سیت سپدہ اسہ نشہ  
 خدا راضی۔ امہ سیت کرہ سوا سہ بن قرب عطا۔ اللہ تعالیٰ چھو تھہ تھندس خیالس رد کران۔ فرماوان  
 چھو يَا أَيُّهَا النَّاسُ اے لو کو كَلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا کھنیو تم چیزیم ز مینس اندر شرعہ موجب  
 حلال تہ پاک چھہ۔ پانے مہ کتر و پانس پیٹھہ کانہہ چیز حرام۔ حلال گو تہ یہ خداین حلال کور حرام گو تہ یہ  
 خداین حرام کور وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ پتہ مہ چھو شیطان سندین پدین یعنی تہنز متابعت مہ  
 کتر۔ یوکن سو پکناوہہ توکن مہ پکو۔ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ کیا زہ پڑپاٹھہ سو چھو تھند نون دشمن  
 إِنَّمَا يَأْمُرُكُم بِالسُّوءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ سو چھو نہ توہہ امر کران مگر گو نہن  
 ہند۔ بیہ پتھہ کا میں ہند۔ بیہ امحوی کہ تھہ نور اوو خدایس پیٹھہ تے تھہ یمہ نہ توہہ معلوم چھہ۔ حرام  
 کتر و حلال چیز۔ حلال زانو حرام چیز وَلَا ذَاقِيلَ لَهُمْ یلہ وننہ یوان چھو تمن مشرکن تم شیطان سنز پیروی

تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۶۹﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا  
 أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا آفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا وَلَوْ كَانَ  
 آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿۱۷۰﴾ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا  
 كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمُّوا بِكُمْ  
 عُمًى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۷۱﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ  
 مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنْ كُنْتُمْ رِيبَاءَ تَعْبُدُونَ ﴿۱۷۲﴾

کران چھہ اَتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ اے لو کو تمہ حمہ موجب پکوںس نازل کور اللہ تعالیٰ ان پیغمبر برحقس  
 پڑھے یعنی قرآن۔ مجید قَالُوا جواب چھہ تم دیان بَلْ نَتَّبِعُ مَا آفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا بلکہ پکوں اس تمہہ  
 طریقس پڑھے تمہہ طریقس پڑھے لب اسہ پن مال تہ بدبب اولو کان اباءوہم لا یعقلون شیئا ولا  
 یہتدون کیاہ تم لوکھہ کرنہ پنہ نین مالین ہنز پیروی ہر حالتس اندر۔ تلہ تہ بلہ نہ تم کنہ تہ زانان  
 آسن بیہ نہ کنہ صحیح و تہ پڑھے آسن۔ یہ گنیہ تلہ کمال بے وقونی وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي  
 يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ میں کافر ن ہنز مثال چھہ تس جانور سنز مثال ئس نہ مضمون کلام بوزان چھو  
 اِلَادُعَاءً وَنِدَاءً مگر ناداہ تہ اولوا صمُّ بکم عُمًى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ سم کافر چھہ زر کل ان۔ ئس چھہ  
 تم زانان کنہ تہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا با ایمانو سمو پڑھ کمر وہ کنس خدا ئس بیہ تہندس پیغمبرس  
 كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ کھو تم پاک چیز سم اسہ توبہ عطا کر مت چھہ۔ تلو تم چیزن ہند تمہہ  
 دنیاچہ زندگی منز۔ پانے مہ آسومیہ ور لے کانہ ہندہ خیرہ پانس پڑھے کانہہ نعمت حرام کران تہ ترا  
 وان وَاشْكُرُوا لِلَّهِ شکر دیو تس خدا ئس سم بے شمار نعمہ عطا کردہ ان كُنْتُمْ رِيبَاءَ تَعْبُدُونَ چھوے  
 تس یوت معبود زابت عبادت کران اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ تم کور نہ توبہ پڑھے کنہ تہ حرام مگر کرن  
 سو جانور ئس پانے مومت آسہ وَاللَّحْمَ مِنَ الْخَنزِيرِ بیہ کرن حرام خون وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ بیہ کرن حرام سورہ ماز

إِنسَاخَرَمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ  
 لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ  
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۴۷﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ  
 وَيُسْتَرُونَ بِهِ تَسَاءَلِيلًا أُولَٰئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا  
 النَّارَ وَلَا يَكْلَهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ  
 أَلِيمٌ ﴿۱۴۸﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ وَالْعَذَابُ

وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ بے کورن حرام بے کبڑہاہ خدا بس وراکی بے کانسہ ہند قرب تہ رضا حاصل کرنہ  
 خیطرہ کانسہ ہندہ ناوہ تھاوند آمت آسہ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ پس ئس شخصہ  
 لاچار تہ مضطر سیدہ کانسہ چیزہ ہمیش نہ ہمو چیز ووراکے۔ سوی ہمو چیز واندردہ نافرمانی کرنہ وراکی، لذت  
 ژھانڈنہ وراکی تہ حدہ نغمہ ڈالندہ وراکی کہنہ کھیہ تس چھونہ کانسہ گوناہ۔ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پز پانٹھ  
 اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت کروون، سیٹھاہ رحم کروون إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ الْكِتَابِ  
 بيشک ہم لوکھ کھٹان چھہ تم مضمون تمہہ کتابہ ہند یوسہ نازل کمر اللہ تعالیٰ ان وَيُسْتَرُونَ بِهِ تَسَاءَلِيلًا  
 بے چھہ حاصل کران تمہہ بدل قیمتھاہ سیٹھاہ کم اُولَٰئِكَ ہم لوکھ ہم کھٹان چھہ پزہ تمہہ تمہہ بدل چھہ ہارہ  
 تہ دیار حاصل کمرت کھیوان تہ چیوان مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ چھہ تم کھیہ کھیہ بیڈن منز  
 واتاوان مگر نارہ تیونگل۔ وَلَا يَكْلَهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ تعالیٰ کرنہ یمن سیت قیامتہ دوہہ تمہہ تہ۔  
 وَلَا يُزَكِّيهِمْ بے کریچھہ نہ پاک گناہ معاف کرنہ سیت وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بے چھو تہدی خیطرہ  
 دگ تہ دود تلہ ون عذاب اُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالََةَ بِالْهُدَىٰ ہم لوکھ گئے تہ ہمو گمر ای منزل  
 ہنوز ہدایتس وَالْعَذَابُ بِالْمُغْفَرَةِ بے ہمو چھہ عذاب مل مغفرتس فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ کاتیاہ ژید کرہ  
 ون چھہ ہم نارس پیٹھہ یعنی بے پروائی سان چھہ کامہ کران ہمو سیت نازس گرفتار سپدن ذَلِكْ يَأْتِيَنَّ  
 اللَّهُ نَزْلًا الْحَقُّ بِه سوڑی چھو تمہن ہمہ وجہ کہ اللہ تعالیٰ ان کمر نازل پن کتاب پز

بِالْمَغْفِرَةِ ۚ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ ﴿۱۷۵﴾ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ  
 الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ  
 بَعِيدٍ ﴿۱۷۶﴾ لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَ  
 الْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ  
 وَالْكِتَابِ وَالرَّسُولِ ۚ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ  
 وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّائِلِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ وَالسَّائِلِينَ وَفِي

ہیئت۔ سمو کورتھہ منز اختلاف۔ اؤس کر کہ پڑھ۔ اؤس کو رکھ انکار۔ اوڈ تھو دکھ کھٹھہ اوڈنتر وکھ۔  
 وَلَئِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ پڑپاٹھہ سمو اختلاف کور اتھہ کتابہ اندر یعنی توراتس  
 اندر اؤس پڑھتہ اؤس انکار کرنہ سیت تم چھہ زٹھس اختلافس اندر سمیت پٹھنہ زانہہ واٹھہ لیکھہ۔  
 یلہ بروٹھن آیتس اندر پنہ نہ پٹھہ کامہ نہ تمن ہندسز ابوزکھ یہودتہ نصاریٰ لگ ونہ اسہ کیا زہ آسہ  
 ہایہ سز اسے چھہ نمازہ اندر پنہ نس پنہ نس قبلس گن پٹھہ کتر تھہ نماز پران۔ اللہ تعالیٰ ان کو رکھ تھہ  
 خیالس رد لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب نیکی چھنہ ایشی یا زکھ تہہ  
 پھرو نمازہ اندر پٹھہ مشرقس گن اے نصار او یا مغربس گن اے یہودو وَلَئِنَّ الْبِرَّ لیکن نیوکار گے  
 گوڈہ تے مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ سمو ایمان اون۔ پڑھ کتر کہ اگس خدا نیس بیہ تھندس گن آسئس  
 بیہ قیامکس دوہس وَالْمَلَائِكَةَ بیہ ملائکس ہندس وجودس وَالْكِتَابِ بیہ سارنی آسمانی کتابس وَالرَّسُولِ  
 بیہ سارنی پیغمبرن وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ تو پتہ دن مال پٹن خدا یہ سندی محبتہ سوما لٹوٹھہ آتھہ  
 ذَوِي الْقُرْبَىٰ پنہ نین محتاج آشناون وَالْيَتَامَىٰ بیہ نادار یتیمن یمن مول مودمت آسہ  
 وَالسَّائِلِينَ بیہ عام مسکینن نہ محتاجن وَابْنَ السَّبِيلِ بیہ بے خرچ مسافرن وَالسَّائِلِينَ بیہ معہ و نین  
 - وَفِي الرِّقَابِ بیہ گردنہ آزاد کرنس اندر۔ مقروضن نہ غلامن ہنزہ گردنہ آزاد کرنس اندر  
 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ بیہ تھاون بریا نماز وَآتَى الزَّكَاةَ بیہ آس او اکران ماج زکوٰۃ وَالْمُؤْتُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا

الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ  
 إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّادِقِينَ فِي الْبَيْعَاتِ وَالضَّرَّاءَ وَحِينَ  
 الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۱۷۷﴾  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ط الْحُرُّ  
 بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ  
 شَيْءٌ فَأَتْبَاعُ الْبِعُودِ وَأَدَّاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ط ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ

عَهْدُوا یہ آسن پنہ نس عمدس وفا کرہون یلہ پانہ وان معاہدہ کران آسن وَالصَّادِقِينَ یہ آسن صبر  
 کرہون فِي الْبَيْعَاتِ وَالضَّرَّاءَ وَحِينَ الْبَأْسِ یہ سختی اندر، تکلیف اندر یہ لڑایہ اندر کافرن  
 سیت جبکہ وقتہ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا یہ لوکھ کیاہ گے پزبار۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ یہ لوکھ  
 کیاہ گے پر ہزگار خدا بس کھوڑہون۔ مھتھو فرما کمالات انسانی۔ اگرچہ تم چھ واریہ چیز مگر اجمالاً چھہ تم  
 منحصر ترین چیزن اندر صحت اعتقاد، حسن معاشرت۔ تہذیب نفس۔ صحت اعتقاد گو پڑہ کرن معبود  
 برحقس یہ پڑہ کرن تمہن چیزن تمہن پڑہ کرن لازم چھہ۔ حسن معاشرت گو پرت حقدار س پن حق  
 واتانوں۔ تہذیب نفس گو نماز پرن، زکوٰۃ دن عمدس وفا کرن بہ صبر کرن۔ تم ساری چیز چھہ جمع  
 ہتھہ آئیہ کرتس اندر۔ یہ آئیہ کریمہ چھو انسانی کمالاتن جمع کرہون تہجہ گے اصول بر۔ یعنی نیکین  
 ہند اصول۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماون فروع بر یعنی نیکن ہند شاخ بہ اقسام۔ گوڈنیک قسم گو قانون  
 قصاص يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے باایمانو كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ مقرر آو کرنہ تو یہ پٹھہ  
 قانون قصاص یعنی مساوات مقتولن ہندہ حقہ الْحُرُّ بِالْحُرِّ آزاد شخصس قتل کرنہ آزاد شخصس  
 بَدَلُ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ غلامس قتل کرنہ غلامس بَدَلُ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ زنانہ قتل کرنہ زنانہ بَدَلُ یعنی  
 شریف بہ کمینہ آنجیادولت مندہ فقیر آنج چھہ کانہہ فرق فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ بس قاتلس  
 عفو آو کرنہ پنہ نس بائیہ سندہ طرفہ کانہہ چیزاہ یعنی مقتولہ سند یو وار تواندرہ ہر گاہ کانہہ اکھاہ عفو بہ

رَّيِّكُمْ وَرَحْمَةً فَمِنَ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۶۰﴾  
لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوَةٌ يَاۤأُولِيَ الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ ﴿۱۶۱﴾  
كُتِبَ عَلَيْكُمُ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًا لِّوَصِيَّةٍ  
لِّاُولِ الدِّينِ وَالاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِ حَقًّا عَلٰى الْمُتَّقِيْنَ ﴿۱۶۲﴾ فَمِنَ  
بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَبَعَهُ فَاَتَمَّ اٰتَمُّهُ عَلٰى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهُ  
اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ﴿۱۶۳﴾ فَمِنَ خَافَ مِنْ مَّوْصٍ جَنَفًا وَاِثْمًا

در گذر کره **فَاتَّبَعُوا بِالْمَعْرُوفِ** پس شوبه باقی وارثن دینک مطالبه کرن سختی وراکی **وَاَذَا اِلَيْهِ بِاِحْسَانٍ**  
بیه شوبه قاتلس سودیت ادا کرن مقتوله سندن وارثن گن تارته درگی کرنه ورا ای **ذَلِكَ تَمَنِّيْتُ مِنْ**  
**رَّيِّكُمْ وَرَحْمَةً** یہ قانون دیت و عفو چھو بڈ آسانی بڈ رحمت تہندس پروردگارہ سہدہ طرفہ **فَمِنَ اعْتَدَىٰ**  
**بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ** کس کس اکھاہ حدہ ڈلہ امہ عفو کرنہ پتہ یعنی دیتس پیٹھہ تصفیہ سپدیحہ باوجود  
کرہ مقتولہ سند یو وارثو اندرہ کانہہ قاتلن نغہ انتقام تہ قصاص پچ کوشش۔ تسندہ خیطرہ چھو آخرتس اندر  
دودوہ و ن عذاب۔ **وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوَةٌ يَاۤأُولِيَ الْاَلْبَابِ** تہندہ خیطرہ چھہ قصاصہ  
کس کس اندر بڈ زندگی اے عقلہ و ایو کیا زہیلہ کانہہ اک سہدہ قتل کرن ارادہ کرن وول یہ زانہ کہ  
میہ بیہ امیک قصاص ہینہ سوروزہ پانے قتلہ نشہ پتھہ **لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ** چھہ تہہ قتلہ نشہ پتہ روزو قصاصہ  
کہ بیمہ **كُتِبَ عَلَيْكُمُ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ** فرض آو کرنہ توہہ پیٹھہ ای باایمانو یلہ حاضر آسہ سپدان  
توبہ اندر کانہہ موت یعنی مر تک وقت آسہ واتان موتک علامت آسن ظاہر سپدان **اِنْ تَرَكَ خَيْرًا**  
ہرگاہ ہے سو تراوہ پتھہ گن کانہہ مالہہ **لِوَصِيَّةٍ لِّاُولِ الدِّينِ وَصِيَّتِ** کرن اتھہ ماس اندر ماس ماجہ ہندہ  
خیطرہ **وَالاَقْرَبِيْنَ** بیہ آشناون ہندہ خیطرہ **بِالْمَعْرُوْفِ** انصافہ موجب تہ حسب دستور **حَقًّا عَلٰى**  
**الْمُتَّقِيْنَ** یہ چھو لازم پرہیزگارن ہندہ خیطرہ **فَمِنَ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَبَعَهُ** پس ایم اک تبدیل کور  
اتھہ و صیتس بوزنہ تہ معلوم سپدنہ پتہ **فَاَتَمَّ اٰتَمُّهُ عَلٰى الَّذِيْنَ يُبَدِّلُوْنَهُ** پس چھونہ امیک گناہ مگر



فَاصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا تَمْرَعَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۸۲﴾ يَا أَيُّهَا  
 الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ  
 مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۸۳﴾ أَيَّامًا مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ كَانَ  
 مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى  
 الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا  
 فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ ﴿۱۸۴﴾ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۸۵﴾

تمخی پیٹھ تم اتھ تبدیل کرن اِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ جو سوزی بوزہ ون سوزی زانہ ون یہ  
 حکم اوس ابتدائی اسلامس اندر پتہ سپدیہ حکم منسوخ آہ میراث سیت فَمَنْ حَافٍ مِنْ مُّؤْمِنٍ جَنَفًا وَّ  
 اِثْمًا پِسْ اِسْ کھوڑہ وصیت کرہ ون سندہ طرف نہ کہہ قسمہ بے انصافی یا حق تلفی فَاَصْلَحَ بَيْنَهُمْ پس کرہ  
 وارثن منزاتھ وصیتس کینہہ اصلاح فَلَا تَمْرَعَلَيْهِ تَسْ جھونہ کانہہ گناہ اِنَّ اللّٰهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ بیشک  
 اللہ تعالیٰ جو مغفرت کرہ ون رحم کرہ ون اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اے باایمانو کُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ  
 فرض آہ کر نہ توہہ پیٹھ روزہ داری کَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ جتھ پاٹھ فرض آمرش آس  
 کر نہ تمن لو کن پیٹھ یم توہہ بروٹھ آس لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ جتھ تہہ متقی تہہ پر ہیز گار بنو۔ اَيَّامًا  
 مَعْدُودَاتٍ کینون دوہن تم دوہ گزرنہ آمت چھہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ  
 أَيَّامٍ أُخَرَ تمہہ پتہ توہہ اندرہ کانہہ بیمار پیہ یا سفرس نیرہ تمن دوہن اندر تمس جھو اجازت تمن  
 دوہن اظہار کتر تھہ تم دوہ پورہ کرن ہلکھ یا سفرہ نشہ واپس بیتھ۔ بیاکھ آسانی چھہ وَعَلَى الَّذِيْنَ  
 يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ بیہ گڑھہ تمن لو کن ہند بین طاقت آسہ روزہ دار روز نک مگر روزن  
 نہ۔ فدیہ دیون اِس محتاجس اکہ دوہن بدل دون وقتن برابر کھین دیون یہ حکم چھہ آمت منسوخ کر نہ  
 فمن شهد منكم الشهر فليصمه سیت مریض تہہ مسافرن چھہ استثناء فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ پس  
 اِس نیکی کرہ یعنی محتاجس زیادہ پن دیہ تہہ جھو تہندہ خیرہ بہتر وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
 تَعْلَمُونَ توپتہ توہہ روزی داری ہند ثواب تہہ فضیلت معلوم آسہ ہاتلہ اوس تہندہ خیرہ روزہ دار

شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ  
 بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ  
 فَلْيُصِمْهُ ۖ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ  
 يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ  
 وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۸۵﴾ وَإِذَا  
 سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا

روزنوی بہتر شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ماہ رمضان گو سوربتہ تہتہ ربتس منز پورہ قرآن  
 مجید نازل آؤ کر نہ لوح محفوظ پٹھہ بیت المعمور سُنْ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ  
 وَالْفُرْقَانِ لیس قرآن مجید بوڈ ہدایت چھو لوکن ہندہ خیطرہ تہتہ منز ہدایت تہتہ دلیلہ چھہ سہمہ دلیلہ  
 بزس تہ لہزس منز فرق کرہ ونہ چھہ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيُصِمْهُ لیس لیس اکھاہ توبہ اندرہ اتھہ  
 بتس لہہ سوروزن اتھہ ربتس روزہ دار وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ بہہ لیس توبہ اندرہ تمہ قسمہ بیمار  
 آسہ تہتہ روزہ درتھہ مضرسپد لیس یا مسافر آسہ اتھہ ربتس اندر فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ تلمہ چھہ تمس تم  
 یاری ہندوہ یا مسافر تک دوہ بین دوہن اندر ذرن لازم يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ اللَّهُ  
 لعالی چھو یشھان تہندہ خیطرہ آسانی۔ سو چھونہ یشھن تہندہ خیطرہ سختی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ بہہ  
 چھو یشھان اللہ تعالیٰ کہ پورہ سحر ونہہ روزہ داری ہندوہ تہتہ ثوابس اندر کمی روزہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ بہہ  
 تہتہ تہہ اللہ تعالیٰ بزرگ تہ بوڈ زانیون۔ بوڈ زانتھہ آسہ تہندہ یاد کران۔ پر ان آسہ اللہ اکبر علیٰ مَا  
 هَدَاكُمْ تہتہ تہتہ چھہ کہ اللہ تعالیٰ ان کیاہ کورہ توبہ ہدایت، تم کیاہ ہاودہ توبہ وتھہ رتہ کامہ کرنس سُنْ  
 وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ یو تہتہ تہہ پروردگار سزنا مہربانین پٹھہ شکر گذاری سحر۔ نبی کریم صلی اللہ  
 علیہ وسلم نشہ آسہ اکھہ جماعتھاہ، تموی ہر تہہ یار رسول اللہ خدا چھا اسمہ نغہ نزدیک تلمہ منگہ ہوس لو تہ  
 تہ تہتہ سو چھو ڈور تلمہ منگہ ہوس بڈہ بڈہ۔ آتی سپڈ نازل یہ آسہ کریمہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي

دَعَانِ فَلَيْسَتْ جَبِيَّةً إِلَىٰ وَلِيٍّ مُّؤْمِنًا وَإِن لَّعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ ﴿۱۸۶﴾  
 اِحْلَلْ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ  
 لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ  
 تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْآنَ  
 بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ

قَوِيْبٌ۔ بے یلہ تو بہہ پر ژھن میان بندہ کہ بو چھوسہ تمن نزدیک نہ دور فرماؤ کہ میانہ طرفہ کہ بو  
 چھوسکھ نزدیک اِحْبِبْ دَعْوَةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَا دَعَانِ اجابت تہ قبول چھوس کران پر ہتھہ معہ ون  
 سدس معہ نس۔ پر ہتھہ درخواست کرہ ون سدس درخواست کرنس یلہ سو آسہ مناسب تہ قابل  
 قبول یلہ سو عاجزی سان مے یوت معہ تہ مے یوت زانہ حاجت روا فَلَيْسَتْ جَبِيَّةً إِلَىٰ پس مان تم تہ  
 میان حکم۔ میہ نشہ کرن طلب اجابت وَلِيٍّ مُّؤْمِنًا بے کمرن پڑھ میہ میانہ نزدیک آسک تھاون  
 یقین لَعَلَّكُمْ يَرْشُدُونَ ہتھہ تمن تمہ سیت میہ نشہ واتج و تھہ بے اِحْلَلْ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ  
 اِلَىٰ نِسَائِكُمْ حلال آہ کر نہ تھندہ خیطرہ اے با ایمانوروزن ہنزن راتن اندر پنہ نین منکوہ  
 زمانن نشہ شج خواہش پورہ کر نہ خیطرہ نزدیک سپدن هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ  
 تمہہ چھہ تھندہ لباس۔ تھہ چھوہ تھندہ لباس آکھہ اک سدس بدنس سیت متصل ملیتھہ لباسک  
 پاٹھہ یا آکھہ اک سدس سرس سرپوش تہ ستر۔ ہتھہ پاٹھہ لباس چھوہ بدنس ستر کران بدنک عیب پوشیدہ  
 تھوان عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ اللہ تعالیٰ اس آس خبرے کہ تھہ کمر و خیانت  
 پنہ نین پانن یعنی خدایہ سدس کھس مخالفت کر نہ سیت کر یو کہ گنہگار پن پان۔ تو پنہ سپد و نادم تہ پشیمان۔  
 پن معذرت کمر و پیش۔ فَتَابَ عَلَيْكُمْ پس اللہ تعالیٰ ان کو توبہ تھندہ، معذرت تھنر قبول وَعَفَا  
 عَنْكُمْ تھندین گوئمن کورن عفو فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ پس وون کمر و نزدیک پنہ نین زمانن سیت ماہ  
 رمضانہ چن راتن اندر بلاترد وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ تھانہ و تہ حاصل کمر و تہ یہ اللہ تعالیٰ ان از لہ

يَتَّبِعَنَّ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ  
 ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ  
 عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا  
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِيَتِّبِهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۱۸۹﴾

تہمدہ خیرہ لیو کھمت آسہ یعنی اولاد۔ امہ اندرہ در او کہ زنانہ نشہ نزدیکی کرنہ اندرہ گروہہ آسن قصد بقائی نسک محض۔ نفع خواہش پورہ کرنی یوت نہ ای چہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امہ وقتہ بن امتہ تم دعا پیکہ ناؤ مرثتم اتہ مقصدس مناسب چہہ بسم اللہ۔ اللہم حَبِّنَا الشَّيْطَانَ وَحَبَّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا۔ متفق علیہ اللہم لَا تَجْعَلْ لِلشَّيْطَانِ فِيمَا رَزَقْتَنَا نَصِيبًا (مصنف عبدالرزاق بحوالہ فتح الباری)۔ امیوک معنی گو پروردگار اسہ دوشون باژن تھاوشیطانس نشہ دور۔ بیہ یہ ثیہ اسہ عطا کرت اولاد تس تشہ تھاون شیطان دور۔ پروردگار ایہ ثیہ اسہ عطا کور تہ یعنی اولاد۔ تہہ منزہ تھاوشیطانہ سہد کا نہ حصہ۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا بیہ کھیوتہ چہوماہ رمضانہ کین شمن اندر حَتَّى يَكْبِتَ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ توتان یوتان مشرقہ کہ طرفہ ظاہر آسہ سپدان توبہ صبح صادق سفید دھاوہ کرہنہ دھاوہ نشہ یعنی شبہ چہ تاریکی نشہ آسہ صبح صادق سفیدی ننان ثُمَّ أَتُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ توتہ آسوروزہ داری پورہ کران شامس تان بس ابتدا ہی شب چھو وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ بیہ مہ آسوپنہ نین زنانہ نزدیک سپدان نفع خواہش پورہ کرنہ خیرہ ہاشوت معانقہ کران۔ تھس ژپنہ ہیوان یا مونہ میٹھہ کران یلہ تہ مجدہ اندر اعکافس روزان آسوادہ سوا اعتکاف ماہ رمضانہ اندر آستن یا بین رتین اندر آستن تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ تہم چہہ نشانہ خدایہ سہد مقرر کر مت فَلَا تَقْرُبُوهَا پس مہ سپدو یمن نشانہ حدن نزدیک۔ تہوحدو نشہ دلچ چہہ کتہہ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لِيَتِّبِهَا لِلنَّاسِ تہہ پاٹھہ چھو اللہ تعالیٰ نر اتھہ بیان کران آیات پن لوکن ہمدہ اصلاح خیرہ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تہہ تم خدایہ سنزونا فرمایو نشہ کچن۔ تہ پتھہ

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا  
إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ  
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ  
قُلْ هِيَ مَوَاقِيتٌ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ  
تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ۝

روزن۔ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بِالْبَاطِلِ یہ مہ کھینچو مال کھہ اسد ناحق تہ حرام طریقہ  
ثور، خیانت، غصب کرنہ سیت زار گندہ سیت یا عقود فاسدہ کرنہ سیت یعنی تم معاملہ کرنہ سیت تم  
شر عس اندر ناجاز چھہ۔ تم گے پھلیہ اندرے ٹھیکہ کرن ہی چیز۔ پیدہ سپدہ نہ بروٹھے خریدو فروخت  
کرن ہیو وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ یہ مہ آسو آپز مقدمہ نوان حاکم نشہ لِنَاكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ  
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ ہتھہ حاکم نشہ مقدمہ زینت لوکن ہند مال کھیوان آسو بظلم وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
زارتھہ کمرتھہ یعنی توہہ آسہ خبری ہند لہزہ دعویٰ آج۔ تہ لہزہ مقدمہ  
پرژھان چھہ توہہ لوکھ ہلالن ہند تم کیا زہ چھہ یک آسان تو پتہ بڈان بڈان زون سپدان تو پتہ یہ پتہ نس  
حالس پٹھہ واتان۔ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتٌ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ہتھہ فرماؤ کہ توہہ کیاہ پٹھو یمن تھن  
سیت۔ ہتھہ بوڑو سوکھتھہ ہتھہ سیت توہہ تعلق پٹھو۔ یم ہلال چھہ نشانہ لوکن ہندین معاملاتن ہندہ  
خیطرہ۔ مثلاً مزورن ہنزہ مزورہ۔ زنانن ہندہ عدتک حساب مدت حملک حساب۔ مدت رضاع و فصال  
یعنی دود چھنک تہ ژٹنک حساب۔ روزہ داری۔ زکوٰۃ بیہ جگ وقت معلوم سپدہ خیطرہ نون تہ صاف  
حساب قمری حساب ہلالو سیت معلوم سپدان پٹھو۔ کفار مکہ آس احرام گنڈت گزن اندر کتھہ ضرورتکہ  
وقتہ دروازو کن اژن گناہ زنانن لہذا آس گزن ہند یو پٹھو کن دیوار ژٹھتھہ یاد یوار کن گزن منز اثران۔ اتھہ کور  
اللہ تعالیٰ ان ردِّ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا یہ چھنہ نیکی تہہ کیاہ ایو گرن  
منز گرن ہند یو پٹھو کن بلکہ چھہ یہ زمانہ جالپتج طریق وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى بلکہ نیو کار گو سوی نیس

وَاتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۸۹﴾ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۹۰﴾ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ

خدا ایس کھوڑہ وَاَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا بلکہ ایو گرن منز گرن ہند یو دروازو کن۔ پانے پنہ خیالہ کانہہ کتھاہ گوناہ زانن یہ چھو خلاف اسلام۔ نیکی گنیہ سوی سمیک حکم خداین تہ پیغبر خداین کورمت آسہ بدی گنیہ سوی سمہ نشہ تمبو ممانعت کمر مژ آسہ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کھوڑو خدا ایس تمی سیت سپد وچہہ رستگار تہ کامیاب دون عالمن منز وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ جگ کرو جگ تیری کمر و خدا یہ سزہ وتہ منز تہند دین بلند کرنہ خیطرہ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ تمن سیت تم توبہہ سیت جگ کران چہہ، جگ تیری کران چہہہ وَلَا تَعْتَدُوا وَادُّوہ ڈلو کانہہ پیٹھ مہ کمر و زیادتی، لوکت، زنانہ تہ بدہ مہ ماریو کہ قصد سبزل مہ ڈیو کہ، زراعت مہ کمر وتاہ تہ بر باد عمد شکنی مہ کمر و اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو نہ پسند کران حدہ ڈلہ و نینن وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ ہر گاہ توبہہ تمن سیت کانہہ عمد و پیمان آسہ نہ تلہ یتنس تہہ تم لیوکھہ تہنس ماریوکھہ وَأَخْرِجُوهُمْ مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ نیبر کڈیوکھہ تم تمہہ شہرہ اندرہ بیمہ شہرہ منزہ تمبو تہہ نیبر کڈہوہ پروامہہ بروکھنہ کیاہہ تم چہہہ فتنہ و فساد کران۔ کنس خدا ایس شریک ٹھراوان وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ فتنہ فساد تہ شرک چھو قتلہ خو تہ زیادہ مشکل وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ تہہ مہ کرو جگ تمن سیت مسجد حرامس نزدیک یوتان نہ تہہ تورہ جگ

فِيهِ فَإِنْ قَتَلْتُمْ قَاتِلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ  
 الْكٰفِرِينَ ﴿۱۹۱﴾ فَإِنْ اٰنْتَهَوْا فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ﴿۱۹۲﴾  
 وَقَتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَا تَكُوْنَ فِتْنَةً وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ  
 لِلّٰهِ فَإِنْ اٰنْتَهَوْا فَلَا عُدُوَانَ اِلَّا عَلٰى الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۹۳﴾  
 الشّٰهُرُ الْحَرَامُ بِالشّٰهُرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ فَمَنْ  
 اَعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدٰى عَلَيْكُمْ

کرنس ابتدا کرن مسجد حرامس منز **فَإِنْ قَتَلْتُمْ قَاتِلُوهُمْ** ہر گاہ جنگ کرنس اندر تموی شروع کور  
**قَاتِلُوهُمْ** تیلہ مار یوکھ تہہ تہ تہے **كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِيْنَ** کیا زہ یو ہے چھو سزا کافرن ہند۔  
**فَإِنْ اٰنْتَهَوْا** ہر گاہ تم لمہ پتہ شرک و کفر ہ نشہ ہتھ روزتھ مسلمان سپدن تہ توبہ کرن **فَإِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ**  
 پس بخشہ اللہ تعالیٰ تم کیازہ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ بخشہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون **وَقَتِلُوْهُمْ حَتّٰى**  
**لَا تَكُوْنَ فِتْنَةً** بیہ کرو تم سیت جنگ تو تاتان کہ فتنہ تہ فساد روزہ نہ کمنہ۔ شرک سپدہ معدوم  
**وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ** پرستش تہ اطاعت بیہ کرنہ خدایہ سزای یاثر **فَإِنْ اٰنْتَهَوْا فَلَا عُدُوَانَ**  
**اِلَّا عَلٰى الظّٰلِمِيْنَ** پس اگر تم ہتھ روزن شرکہ نشہ فتنہ و فسادہ نشہ۔ پس چھنہ زیادتی کرن جائز  
 ظالمن ورائی کانسہ بیٹھ۔ **الشّٰهُرُ الْحَرَامُ بِالشّٰهُرِ الْحَرَامِ** تعظیمک رت چھو مقابل تعظیمکس رتس  
**وَالْحُرُمَتُ قِصَاصٌ** تعظیمک چیز چھہ اولہ بدلہ۔ یعنی بروٹھمہ ورہہ یلہ تہہ آئے وہ عمرہ کرنہ خیطرہ  
 ماہ ذی القعدس اندر سہمو کافر و رتوہ تہہ ہتھ عمرہ کرنہ نشہ۔ خدیبیہ نشہ ڈیت ہوہ نہ بروٹھمہ پخنہ۔ ہتھ  
 موقس بیٹھہ اوہ صلح خدیبیہ سہد۔ پتہ آوہ تہہ دو سہمہ ورہہ عمرہ القضا کرنہ خیطرہ اتھہ ماہ ذی القعدس  
 اندر مگر تہہ چھوہ اندیشہ کرن ماہ ذی القعدس اندر جنگ کرنس اندر۔ ہتھ متعلق چھو اللہ تعالیٰ احکام  
 فرماوان۔ ہر گاہ تم توبہ تعظیم کین ریتن اندر تعظیم کین جاین اندر اوہ مقابلہ کرنہ خیطرہ کین تہہ  
 مہ بروکانسہ پروا۔ تمہ تہ کرو تم سیت خوب مقابلہ **فَمَنْ اَعْتَدٰى عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اَعْتَدٰى**

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۹۴﴾ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۹۵﴾ وَاتَّبُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ

عَلَيْكُمْ نَسْ نَسْ حده ڈلے توہہ پیٹھہ نَسْ تہہ تہ ڈلو حده تس پیٹھہ تہہ ہن ایشہن سوحده ڈولمت آسہ  
وَاتَّقُوا اللَّهَ تہہ کھوڑو خدا نَسْ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ یقین زانو کہ پڑاٹھ اللہ تعالیٰ چھو کھوڑوہ  
وین سیت یاری تہ مدد کرنہ خیطرہ وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بیہ کرو خرچ مال پن خدایہ سزہ دتہ  
اندر دشمن سیت مقابلہ کرنہ خیطرہ ہیو منل جنگ سامان۔ تھر وے اتھومہ آسو جہاد کرنہ نیران۔ سو  
گوپان پن پائے ہلاکتس منز تراون وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ مہ آسو پن پان پنہ نیو اتھو  
ہلاکتس منز تراوان مال خرچ نہ کرنہ سیت۔ ماس اندر تھین موقعن پیٹھہ نخل کر تک انجام چھو ہلاکت  
تہ تباہی وَأَحْسِنُوا کام آسو عتہ تہ مضبوط کران إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ پڑاٹھ اللہ تعالیٰ اس  
چھہ پندر رکام تہ پختہ کام کرہون وَاتَّبُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ پورہ کروچ تہ عمرہ خدایہ سندہ خیطرہ  
یعنی بلہ حج یا عمرک احرام گذان آسو سو آسو با تمام واتاوان منزے مہ آسو احرامہ نشہ نیران بلا وجہ  
فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ ہر گاہ توہ بند ایو کرنہ، پتھہ ایو رٹنہ، کانہہ دشمن یا بیماری رٹہ توہہ پتھہ فَمَا اسْتَيْسَرَ  
مِنَ الْهَدْيِ پس چھو لازم توہہ قربانک جانور نَسْ توہہ میسر سپدہ ذبح کرنہ خیطرہ سوزن وَلَا تَحْلِقُوا  
رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ بیہ مہ کاسو کلن مس یعنی احرامہ منزہ مہ نیر و توتان یوت تان نہ  
قربانک جانور پنہ چاہے وانہ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا پس اگر توہہ منزہ کانہہ بیمار آسہ اَوْ بِهِ أَذًى مِّن  
رَّأْسِهِ یا آسپس کس کینہہ تکلیف یہ سبہ مس پَسْ کاسن سو کاسن مس تہ دین فدیہ فِدْيَةٌ مِّن



فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتَ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي السَّجْدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿١٦٦﴾ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَتَزَوَّدُوا

صیامِ اَوْصَدَاقَةِ اَوْسُكِ پس جھوٹس پیٹھہ فدیہ دین، ترین دوہن روزہ دار روزان یا صدقہ کرن شین مسکین کھین دین یا ٹھہ یا ژھاول ذبح کرن **وَإِذَا أَمِنْتُمْ** پس یلہ توہمہ تمو چیز ونشہ امن وامن سپدہ **فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ** پس لیس اکھاہ عمرہ چو کا میونشہ فارغ سپدت حجک احرام کنڈہ یعنی تیج کرہ **فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ** پس جھوٹس پیٹھہ لازم ذبح کرن پس جانور میتر سپدیس **فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ** پس لیس اس نہ جانور میتر سپدہ تس جھومطہ ترین دوہن روزہ دار روزان حجہ کین دوہن اندر **وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ** بیہ ستن دوہن حجہ پتہ یلہ واپس ہیومن **تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ** تے گے پورہ دہ دوہ۔ **ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي السَّجْدِ الْحَرَامِ** بیہ حکم گو تھن یم نہ کی آسن بلکہ آسن آفاتی **وَاتَّقُوا اللَّهَ** بیہ کھو ژو خدا لیس بیٹھہ نہ تھندین **وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ** بیہ زانو کہ بے شک اللہ تعالیٰ جھو سخت عذاب کرہ وں احکامن ہنز مخالفت کرہ و نین **الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ** حجک موقعہ جھو کبھنہ ریتھہ تم مقرر چھہ شوال ذی قعدہ تہ ذی الحجک دہ دوہ **فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ** پس لیس اکھاہ یمن رتین حج کرنے خیطرہ احرام کنڈہ **فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ** پس گڑھہ نہ زنانن سیت نزدیکی کرن یا تھہ متعلق تھہ باتھہ کرن نہ گڑھہ بدکاری تہ خلاف شرع کا نہ کام کرن۔ نہ گڑھہ پانہ وان ہرہ ہر تہ لایہ لای کرن اتھہ حجہ کس زمانس اندر۔ **وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ** یوسہ خیر حج کا ماہہ کران جھوہ بدنی عبادتو اندرہ یا مالی عبادتو اندرہ تہ سوڑی

فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ ﴿۱۹۲﴾  
 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ  
 فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ  
 الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ وَإِنْ  
 كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ﴿۱۹۳﴾ ثُمَّ أَيْضًا مِّنْ  
 حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ

چھوڑانان اللہ تعالیٰ وَتَزُوذُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ بیہ آسوتہ خرچ تانان سیت۔ پچھان پچھان  
 مہ آسوج کرنہ نیران۔ بیشک رت و تہ خرچ گو تقویٰ لیس بیس اتھہ دارنہ نشہ بچاؤہ وَاتَّقُونِ يَا أُولِيَ  
 الْأَلْبَابِ مے یوت کھوڑوای عقلہ والیومہ کرو میانین حکمن ہنز مخالفت لیسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ  
 تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ توبہ چھونہ کانہہ گوناہ ہر گاہے ہتہ چھس موقس پیٹھہ کسب گرتھہ، مزدور  
 محنت کرتھہ یا تجارت تہ کاروبار کرتھہ تلاش کرو معاش پُئن پنہ نس پروردگارہ سندہ فضلہ اندرہ۔ عام  
 خیال نیس لوکن ہند چھو کہ سفر جس اندر گھونہ منہ قسمہ کسب و کاریا تجارت تہ کاروبار کرن اتھہ خیال  
 چھو اللہ تعالیٰ صریح طور رڈ کران فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ  
 الْحَرَامِ ادہ یلہ ہتہ میدان عرفاتہ نشہ واپس پیویئن نیس کرو خدایہ سندیاد میدان مزدلفس نزدیک  
 تھہ راتس یعنی عید ہندس شمس روزو میدان مزدلفس اندر خدایہ سندیاد کران (مشعر حرام چھو میدان  
 مزدلفس اندس پیٹھہ اکہ کوکب ناو) وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْكُمْ خدایہ سندیاد کرو ہتھہ پاٹھہ تم بیان  
 کورنو یعنی لیک لیک پرولالہ اللہ پرودعا کرو۔ یا گو معنی خدایہ سندیاد کرو کیازہ تم کورودہ ہدایت،  
 تم ہادوہ و تھہ چھین احکامن کن وَإِنْ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ ورنہ آسونا توہ تسمندو تھہ  
 ہاونہ بروٹھہ گمراہو اندرہ، و تہ ڈلتیو اندرہ۔ یا گو معنی پزپاٹھہ آسوتہ اس رہبر کامل حضرت محمد صلی اللہ  
 علیہ وسلم سندہ تشریف انہ بروٹھہ و تہ ڈلتیو اندرہ ثُمَّ أَيْضًا مِّنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ تو پتہ بیو

عَفُورٌ سَرَّحِيمٌ ﴿۹۹﴾ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ  
فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فِىنَ  
النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا اتِّنَا فِى الدُّنْيَا وَمَا  
لَهُ فِى الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ﴿۱۰۰﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ  
رَبَّنَا اتِّنَا فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْآخِرَةِ حَسَنَةً

واپس تمی جایہ پیٹھے سیمہ جایہ پیٹھے ساری کوکھ واپس آئے یعنی میدان عرفاتہ پیٹھے، قریش ہند پانچہ مہ  
آسو عرفاتس منز سارنی لوکن سیت سمن توپتہ تتی پیٹھے سارنی لوکن سیت واپس سُن عازنانان۔ تم  
قریش آس پُن پان تھوز انتھہ مزلدلفہ پیٹھے واپس یوان۔ تمہہ نشہ فرماواللہ تعالیٰ ان ممانعت۔  
وَاسْتَعْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ سَرَّحِيمٌ ججین حکمن اندر جالبیتکین رسمن پیٹھے عمل کرنس  
پیٹھے منگو خداپس مغفرت پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون فَاذَا  
قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ ادہ یلہ تہہ موکلاوان آسونینہ جہہ چہ کامہ یعنی وڈر ہندکنہ پھل تراوتھہ،  
مَس کاتھہ، طواف زیارت کرت آسو موکلاوان فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا پس  
آسو خدایہ سندیاد کران۔ تھہ پانچہ ہٹہ مالین بڈین ہندیاد کران آسوہ بلکہ تمہہ خوتہ زیادہ آسو خدایہ سندوی یاد  
کران۔ اتھہ موقس پیٹھے چھونہ کانہہ ہندیاد کرن لازم خدایہ سندہ یادہ وراہی۔ مالین بڈین ہندہ سیت فخر  
کرن چھو بے سودتہ بے فائیدہ۔ پدرم سلطان بودونہ نیک جواب چھو ٹراچہ۔ قبرہ منزہ لیہ نہ پڑھنہ  
پدرت کیست۔ تہتہ پیہہ پڑھنہ عملت جیست فِیْمَنَ النَّاسِ پس چھہ لوکواندرہ بعضے مَنْ يَقُولُ  
رَبَّنَا اتِّنَا فِى الدُّنْيَا سمن دنان چھہ ای سانہ پروردگارہ اسہ کر عطاد نیاس اندر رتوی تم چھہ  
ژھانڈان فقط دنیا کوئی مطلب وَمَا لَهُ فِى الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ تھندہ خیطرہ چھونہ آخرتس اندر  
کانہہ حصاہ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ لوکواندرہ چھہ بالیمان سمن دپان چھہ، منگان چھہ رَبَّنَا اتِّنَا فِى  
الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِى الْآخِرَةِ حَسَنَةً ای سانہ پروردگارہ اسہ کر عطاد نیاس اندر رتہ رتوی آخرتس

وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۶۱﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا  
 وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۶۲﴾ وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي  
 أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ  
 عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ  
 اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۶۳﴾

اندر تیر توی و قِنَا عَذَابَ النَّارِ بجاو آسہ عذابہ نشہ۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تمن نشہ چھو نقل کرنہ آمت کہ تمو فرمود حسنه دنیا کیسہ نیک زنانہ حسنه آخرت گیہ حور عین۔ عذاب نار گو خراب زنانہ بد خوئی۔ بد شکل و صورت تیز کلام کرہ ون اُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا کی لوکھ گے تم تمن ہندہ خیطرہ بو ڈھصہ چھو تمن نیکن ہند سہہ تمو حاصل کرہ تمنی نیکن ہند ثواب کر بکھ عطا زہ زرہ حساب بو زتھہ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللہ تعالیٰ چھو جلد حساب بوزہ ون۔  
 وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ بیہ کرو اللہ تعالیٰ سندا یاد گز۔ ارانہ آستین دوہن اندر۔ تمو اندرہ چھہ مراد ایام تشریق قربان کر تک دوہ۔ تمن دوہن اندر آسہ تکبیرات پران اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، فرض نمازہ پتہ بیہ تمنہ ورا ای تہ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي  
 یَوْمَیْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ نَسِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا کی لوکھ نیک زنانہ حسنه آخرت گیہ حور عین۔ عذاب نار گو خراب زنانہ بد خوئی۔ بد شکل و صورت تیز کلام کرہ ون اُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا کی لوکھ گے تم تمن ہندہ خیطرہ بو ڈھصہ چھو تمن نیکن ہند سہہ تمو حاصل کرہ تمنی نیکن ہند ثواب کر بکھ عطا زہ زرہ حساب بو زتھہ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللہ تعالیٰ چھو جلد حساب بوزہ ون۔  
 وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ بیہ کرو اللہ تعالیٰ سندا یاد گز۔ ارانہ آستین دوہن اندر۔ تمو اندرہ چھہ مراد ایام تشریق قربان کر تک دوہ۔ تمن دوہن اندر آسہ تکبیرات پران اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، فرض نمازہ پتہ بیہ تمنہ ورا ای تہ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي  
 یَوْمَیْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ نَسِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا کی لوکھ نیک زنانہ حسنه آخرت گیہ حور عین۔ عذاب نار گو خراب زنانہ بد خوئی۔ بد شکل و صورت تیز کلام کرہ ون اُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا کی لوکھ گے تم تمن ہندہ خیطرہ بو ڈھصہ چھو تمن نیکن ہند سہہ تمو حاصل کرہ تمنی نیکن ہند ثواب کر بکھ عطا زہ زرہ حساب بو زتھہ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللہ تعالیٰ چھو جلد حساب بوزہ ون۔  
 وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ بیہ کرو اللہ تعالیٰ سندا یاد گز۔ ارانہ آستین دوہن اندر۔ تمو اندرہ چھہ مراد ایام تشریق قربان کر تک دوہ۔ تمن دوہن اندر آسہ تکبیرات پران اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، فرض نمازہ پتہ بیہ تمنہ ورا ای تہ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي  
 یَوْمَیْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ نَسِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا کی لوکھ نیک زنانہ حسنه آخرت گیہ حور عین۔ عذاب نار گو خراب زنانہ بد خوئی۔ بد شکل و صورت تیز کلام کرہ ون اُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا کی لوکھ گے تم تمن ہندہ خیطرہ بو ڈھصہ چھو تمن نیکن ہند سہہ تمو حاصل کرہ تمنی نیکن ہند ثواب کر بکھ عطا زہ زرہ حساب بو زتھہ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللہ تعالیٰ چھو جلد حساب بوزہ ون۔  
 وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ بیہ کرو اللہ تعالیٰ سندا یاد گز۔ ارانہ آستین دوہن اندر۔ تمو اندرہ چھہ مراد ایام تشریق قربان کر تک دوہ۔ تمن دوہن اندر آسہ تکبیرات پران اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، فرض نمازہ پتہ بیہ تمنہ ورا ای تہ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي  
 یَوْمَیْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ نَسِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا کی لوکھ نیک زنانہ حسنه آخرت گیہ حور عین۔ عذاب نار گو خراب زنانہ بد خوئی۔ بد شکل و صورت تیز کلام کرہ ون اُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا کی لوکھ گے تم تمن ہندہ خیطرہ بو ڈھصہ چھو تمن نیکن ہند سہہ تمو حاصل کرہ تمنی نیکن ہند ثواب کر بکھ عطا زہ زرہ حساب بو زتھہ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللہ تعالیٰ چھو جلد حساب بوزہ ون۔  
 وَادْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ بیہ کرو اللہ تعالیٰ سندا یاد گز۔ ارانہ آستین دوہن اندر۔ تمو اندرہ چھہ مراد ایام تشریق قربان کر تک دوہ۔ تمن دوہن اندر آسہ تکبیرات پران اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، فرض نمازہ پتہ بیہ تمنہ ورا ای تہ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي  
 یَوْمَیْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ نَسِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا کی لوکھ نیک زنانہ حسنه آخرت گیہ حور عین۔ عذاب نار گو خراب زنانہ بد خوئی۔ بد شکل و صورت تیز کلام کرہ ون اُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا کی لوکھ گے تم تمن ہندہ خیطرہ بو ڈھصہ چھو تمن نیکن ہند سہہ تمو حاصل کرہ تمنی نیکن ہند ثواب کر بکھ عطا زہ زرہ حساب بو زتھہ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ اللہ تعالیٰ چھو جلد حساب بوزہ ون۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهَدُ  
 اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ ۖ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ ﴿۲۴﴾ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى  
 فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ  
 لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ ﴿۲۵﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ  
 الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْبِهَادُ ﴿۲۶﴾ وَمِنَ

آخر حج چھکنہ کا نہہ فکر۔ بیاکھہ قسم گو قسم دنیا تہ چھہ ژھانڈان آخرت تہ چھہ ژھانڈان ترسم قسم گو قسم  
 ظاہرہ پاٹھہ چھہ نر او ان دنیا نشہ بیزاری تہ آخر تک خیال۔ بہنرہ چھہ تھہ توہ یار رسول اللہ عجائب چھہ  
 بوژنہ یوان دنیا چہ زندگی متعلق۔ چنانچہ اخس بن شریق ثقفی منافق اوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
 نشہ یوان تو پتہ چھہ تہ مدرہ تھہ کر کر تہن پن سچائی بہناونچ کوشش کران **وَيُشْهَدُ اللَّهُ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ**  
 خدا ایس اوس گواہ پیش کران پنہ دلہ کس حاکس پیٹھہ۔ اللہ تعالیٰ اس اس خبرے جہند حال کیاہ چھو۔ سو چھو  
 فرماوان **وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ** حقیقت چھہ یہ کہ سو چھو تھہند سخت دشمن۔ تھہندین پیرون ہند سخت دشمن۔  
**وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ** امہ پتہ یلہ توہہ نشہ نیران چھو،  
 کوشش چھو کران شہرس منز فساد کرنچہ۔ یہ تباہ کران زراعت تہ چاروای لوکن ہند۔ چنانچہ یوہے منافق  
 اخس بن شریق یلہ اکہ دوہنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشہ کبہنہ کالاہ تھہ کرت دراؤ۔ نیہر نیرتھہ  
 دین نار غریب مسلمان ہندس زراعتس بیہ مارن جہند چاروای تہ گین **وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ** اللہ  
 تعالیٰ اس چھو نہ پسند فساد **وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ** تو پتہ یلہ تہس و نہ چھو یوان خدا ایس کھوژ لوکن مہ  
 واتاوا نقصان **أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ** آمادہ چھو تہس کران سبخر تہ نخوت زیادہ گناہ کرنس پیٹھہ  
**فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ** تسدہ حقہ چھو بس نار جہنم تھہ منزواتھہ ہمہ تہس سو سبخر تہ عر و رک نار **وَلَبِئْسَ**  
**الْبِهَادُ** کاژاہ چھہ جای آراج چھہ سو جہنم **وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُشْرِي نَفْسَهُ** بیہ چھو لو کو اندرہ  
 ژورسم قسم یم پن پان کنان چھہ **ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ** خدا یہ سدر رضا ژھانڈنہ خیرہ **وَاللَّهُ**

التَّاسِ مَنْ كَثُرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ  
 اللَّهُ رَأُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿۹۲﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
 ادْخُلُوا فِي السَّلَامِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ  
 الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ﴿۹۳﴾ فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ

رَأُوفٌ بِالْعِبَادِ اللہ تعالیٰ چھو تھیں بندن پیٹھے سیٹھاہ مہربان  
 فِي السَّلَامِ كَافَّةً اے باایمانو داخل سپدو اسلامس اندر پور پور۔ اسلامک ساری حکم ابو بجاؤ حکم  
 مانہ تہ اڈین حکم پیٹھے نہ عمل کرن یہ چھہ یسودن ہنز طریق مسلمان گو سوی ٹیس سارنی حکمن گردن  
 دارہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ پتہ پتہ مہ چکو شیطانہ سندین پدین دورگی تہ نفاق تراود۔  
 اسلامہ کین حکمن سیت مہ ملہ ناو پندہ خیالہ یا شیطانہ سندہ وسوسہ سیت بدل احکام إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ  
 مُبِينٌ پزپاٹ شیطان چھو تہند نون دشمن۔ ہتھہ آہیہ کر سمس منز چھو اللہ تعالیٰ بدعتہ چین کا میں رد  
 کران پتھس آہیہ کر سمس اندر آس مخلص بندن ہنز تعریف۔ بعضہ وقت چھو مخلص بندہ تہ افراطس  
 گرفتار سپدان۔ سو چھو پندہ خیالہ کانہہ رژکاماہ کران مگر سو چھہ شریعتس تہ سنتس موافق آسان۔ یوسہ  
 کام نہ سنتس موافق آسہ تھہ چھہ ونان بدعت۔ یودی دینس منز آس بڑ وار اٹھہ تعظیمک دوہا۔ چنانچہ  
 حضرت عبداللہ بن سلام تم یسودن ہندیو عالمہ اندرہ آس تم آس اسلام اتھہ تہ اتھہ دوس تعظیم چہ  
 نظرہ وچھان۔ بیہ اوس یسودتیس منز وونہہ ماز حرام تہ حضرت عبداللہ بن سلام آس نہ اسلام اتھہ تہ  
 وونہہ ماز کھیوان اتھہ منز آس زانان پندہ خیالہ خدلیہ سز اطاعت۔ اللہ تعالیٰ ان کور اتھہ خیالس اصلاح  
 فرموان اے باایمانو اسلامک ساری احکام ابو بجا۔ سمہ آہیہ کر سمسک معنی تہ تفسیرہ سیت چھو ظاہر  
 سپدان کہ بدعتہ چین تہ خلاف شرع کا میں اتھہ پاٹھ چھو اللہ تعالیٰ مذمت تہ رد فرماوان حدیث شریفن  
 منز چھو وضاحتہ سان بدعتہ چین، خلاف شرع تہ خلاف سنت کا میں ہنز مذمت بیان کرتھہ سخت وعید  
 بیان کرنہ آمت حقیقتس اندر چھو بدعت سیٹھاہ مذموم چیز۔ کیا زہ بدعت گو غیر شریعتس شریعت

بَعْدَ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
 حَكِيمٌ ﴿۹۹﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي  
 ظُلُمٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَالنَّجْمِ وَالْشَّجَرِ وَالْأَنْهَارِ  
 وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿۱۰۰﴾ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ

بنی اسرائیل۔ شریعت گوئی یہ خدایہ سیدہ طرف آسہ۔ یہ حضرت شارع اسلام صلی اللہ علیہ وسلم خدایہ سیدہ طرفہ اوئمت آسہ۔ دونوں کس شخصہ پنے طرفہ کانہہ چیزہ نور اوہ کس نہ شرع سے شمس منز آمت آسہ نہ گو خدایس پیٹھہ افتراء کرن اپز نور اون وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا کس خدایس پیٹھہ اپز نور اوہ تس برابر چھو نہ ظالم کانہہ۔ زیادہ مشکل چھو یہ کہ اس بد عیج کام کرہ و کس چھو نہ توبہ کرنک توفیق نہ بنان کیازہ اس چھو نہ امہ کامہ ہندہ گناہ آسک احساسی سپدان زانہ سو چھو زانان بو چھو س یہ کام رثا کرن۔ حالانکہ یہ چھہ سر اسر نافرمانی نہ گناچ کام قَانِ زَلَلْتُمْ پس ہر گاہ تہند قدم ڈلہ نہ ثابت رودنہ اسلامس پیٹھہ یعنی تہہ کرونہ اسلامہ کین ساری احکاسن پیٹھہ عمل و سِنِ بَعْدَ مَا جَاءَتْكُمْ الْبَيِّنَاتُ توبہ اسلامہ مذہب حق آسچہ نہ دلیلہ واتنہ پتہ ادہ تمبیک نقصان چھو نہ کانہہ اس دمو خلاف اسلام کامہ کرہ و نین ضرور سزا فاعلموا ان الله عزيز حكيمة تہند گنہہ زانن وارہ پاٹھہ کہ بیشک اللہ تعالیٰ چھو زبردست حکمت و ول هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلُمٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَالنَّجْمِ وَالشَّجَرِ وَالْأَنْهَارِ چھہہ پراران تم مگر اتھہ تھہ کہ اللہ تعالیٰ نہ تہند ملائیک گنہہ واتن تم نیشہ سفید ابرہ کین سائبانن منز تم سزا دنہ خیطرہ وَقَضَىٰ الْأَمْرَ بِیہ گوٹھہ قصی ختم سن کرنہ۔ یعنی جزاء و سزا ک قصہ کس قیامتکہ وہہ طے کرنہ پیہ۔ سو گنہہ دنیا ساری منز طے کرنہ سن۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اللہ تعالیٰ س کین سارے کامہ و اتاوندہ۔ ساری مقدمات پیش کرنہ۔ سو ہی گرہ پائے ساری امرن ہند فیصلہ بانبران کیازہ چھہ یم۔ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَهُمُ مِنَ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ پر تھو تہہ بنی اسرائیلن اسہ کاژاہ نہہ دلیلہ کرہ تم پیش ہدلیتہ چہ، سمہ تہندہ خیطرہ جہ نعمو آسہ مگر

اتَيْنُهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيِّنَةٍ ۖ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ  
 مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۲۱۱﴾  
 زِينِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ  
 آمَنُوا وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَاللَّهُ يَرْزُقُ  
 مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۲۱۲﴾ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ

تموزان نہ تمن نعمن ہنز قدر تموبدلاوہ تمہ نعمو کفرس سیت وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ  
 مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ وَنَ لُس ا کھاہ بدلاوہ خداہ سز نعمت کفران نعمس سیت سو نعمت واتتمہ  
 فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ادہ اللہ تعالیٰ تہ چھو سخت عذاب کرہ ون تس سو سز ایہہ دنہ تس  
 دنیا سی اندر یا آخر تس اندر زُيْنِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا دنیا ج زندگی چھہ کافر ن  
 مزین تہ خوبصورت بوزنہ یوان وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا توے چھہ تم مسکین تہ فقیر  
 با ایمان تسنہ کران تہ ٹھٹھہ کران وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حالانکہ سم کوکھہ  
 خدائس کھوژ تہ شرکہ نشہ ہتھہ رُود تم آسن قیامتہ دوہہ تسمن پوٹھہ کنہ سیٹھاہ تھدین مرتبن اندر  
 اعلیٰ علیس اندر۔ انسانس پزہ نہ مال و دولتہ سیت مغرور سپدن کیا زہ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ  
 حِسَابٍ اللہ تعالیٰ چھورزق عطا کران یمن یشھان چھو حسابہ روستوی۔ امیک دار و مدار چھو  
 قسمس پوٹھہ۔ امیک دار و مدار چھونہ کماس تہ مقبولیتس پوٹھہ۔ یعنی یہ چھونہ ضروری کہ بس مال و  
 دولتس اندر بوڈ آسہ سوی چھو اللہ تعالیٰ اس نشہ مقبول تہ مقررے۔ بدکتھہ چھہ خدائس نشہ  
 مقبول آسن تھہ چھونہ مالس سیت تعلق کنہہ تہ سو چھوئہ وقتہ فقیرس مالدار بناوان تہ کنہ وقتہ  
 مالدارس فقیر تہ محتاج بناوان۔ چنانچہ یے فقیر صحابہ صیب یمن سم کافر مالدار ٹھٹھہ کران  
 آس بناو اللہ تعالیٰ ان بنی قریظہ تہ بنی نضیر کہ مال و دولتک، بیہ روم تہ فارسین بجن بجن سلطنتن  
 ہند مالکِ كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً اکھ زماناہ اوس ساری لوکھہ آس اکی دینس پوٹھہ۔



فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ  
الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا  
فِيهِ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعْدِ مَا  
جَاءَتْهُمْ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا  
لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ  
إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۳۱﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ

کیا زہ گوڈنی آے دنیاں منز حضرت آدم بیہ تہند باڑ حضرت حوایین سم اولاد زائے تمن آس  
حضرت آدم علیہ السلام دین حق تعلیم دو ان تم آس تمہہ تعلیمہ موجب عمل کران، اکس مدتس  
تال رو دیہ سلسلہ تھے پاٹھے پکان تو پتہ پیو طبعی متن منز اختلاف تمہہ سیت پیو اغراض اندر تہ اختلاف  
تو پتہ پیو کہنہ کالاہ گڑھتھہ عملن تہ اعتقادن منز تہ اختلاف فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّنَ مُبَشِّرِينَ  
وَمُنذِرِينَ سو اختلاف دور کرنہ خیطرہ سوز اللہ تعالیٰ ان تمن کن پیغمبر بشارت ودہ ون پڑتھہ  
مانہ ونین تیم کرہ ون پڑس انکار کرہ ورنَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ بیہ سوزہ تم تمن سیت پنہ  
کتاہہ یمن منز پوز اوس لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِي مَا اخْتَلَفُوا فِيهِ تھہ سو تمن کتابن تہ پیغمبرن  
ہندہ ذریعہ فیصلہ کرہ تمن معاملن ہند یمن منز یمن لوکن اختلاف اوس وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ  
أُوتُوهُ اختلاف پوونہ تھہ اندر مگر تموی یمن سو کتاب دنہ آس امرُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ  
الْبَيِّنَاتُ نن تہ واضح احکام تمن نشہ واتنہ پتہ بَغْيًا بَيْنَهُمْ پانہ وان اکھ اکس پیٹھہ سر کشی کر نکہ  
سببہ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا پس کور ہدایت اللہ تعالیٰ ان باایمان لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ  
بِإِذْنِهِ تھہ پڑہ تھہ کن تھہ منز تمن اختلاف اوس پنہ حکمتہ سیت وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ  
مُسْتَقِيمٍ اللہ تعالیٰ جھووتھہ ہوان یکن یڑھان چھو سیزہ وتہ کن۔ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَ  
لَنْ يَأْتِيَكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ ای مسلمانو کیاہ توہہ جھوہ گمانہ تہہ کیا اڑو جنس

وَلَمَّا يَا تِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسَّتْهُمُ  
 الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ وَزُلْزَلُوا حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ ۗ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ  
 قَرِيبٌ ﴿۲۱۴﴾ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ  
 خَيْرٍ فَلِلَّهِ الدَّيْنُ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ  
 السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿۲۱۵﴾

مختہ وراى۔ حالانکہ وہ وات نہ توہہ تہہ تکلیف تہہ تکلیف بروٹھمن مسلمانن واتمت چہہ  
 مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَاءُ رٹ تنگی تہ فقرن بیماریوتہ سختی۔ وَزُلْزَلُوا بلایوتہ مصیبتوسیت آى  
 تم دونوتہ الراونہ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ یوت پیٹھہ واثرنوبت کہ تمہ  
 وٹک پیٹھہ تہ بیہ سم تمین سیت باایمان آس ساری لگ ونہ۔ مَتَى نَصُرَ اللَّهُ کرسناواتہ مددخدا  
 سمیک اسیہ وعدہ چھو اُمت کرنہ أَلَا إِنَّ نَصْرَ اللَّهِ قَرِيبٌ جواب آکھ دنہ خبردار روزویاری تہ  
 مددخدا چھو نزدیک واتہ وُن يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ پرژھان چہہ توہہ یارسول اللہ باایمان خرچ  
 کیاہ کرو کوتاہ کرو۔ کس پیٹھہ کرو قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فرما یو کھہ یہ کینہ ہاہ تہہ خرچ کرو مالہ اندرہ  
 کم یا زیادہ فَلِلَّهِ الدَّيْنُ پس گڑھہ گوڈہ وین ماس ماجہ یلہ تم محتاج آسن وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ  
 وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ بیہ آشناون بیہ یتیمن تمین نہ مول آسہ بیہ مسکینن بیہ مسافرن وِمَا  
 تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ توپتہ یوسہ نیکیاہ کرو تہہ پس بیشک اللہ تعالیٰ آس چہہ سچ  
 پورہ خبر کُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ اے مسلمانو فرض آو کرنہ توہہ پیٹھہ جمادہ ہمیشہ خیطرہ۔  
 اگرچہ سو چھو توہہ ناپسندی مگر توہہ چھہ چیزن ہزنن یہ حقنن پیٹھہ نظر وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ  
 خَيْرٌ لَّكُمْ بَسَاوَات بٹہ توہہ بس چیز ناپسند آسہ سو آسہ تہندہ خیطرہ رُت تہ بہتر وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا  
 شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ کئہ وقتہ بہرہ توہہ آسہ کانہہ چیز پسند مگر سو آسہ تہندہ خیطرہ چھہ، خراب تہ مضر

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تَكُونُوا شِئًا  
 وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شِئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ  
 يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٢١٧﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ  
 قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ  
 كُفْرٍ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجِ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ

والله يعلم وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ ای چھو سو زوی زانان جہہ چھوہ نہ زانان۔ جماد کرنس اندر اگرچہ توہمہ آستن ناپسندی، چھو پریتھہ حالس اندر فائدے فائدہ۔ کامیالی۔ مال غنیمت یا شہادت تہ بڈمزور۔ جماد نہ کرنس اند اگرچہ توہمہ آستن پسندی چھہ بچہ خرابیہ اکھہ ذلت تہ فقرہہہ ثوابہ نشہ محرومی۔ جمادس اندر چھہ کلمہ اسلاج بلندی۔ مسلمان ہند عزت تہ سطوت۔ لہذا آسو خدایہ سدس خمس تقیل کرنس اندر جلدی کران۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوزاکھہ لوکٹ لشکرہ جماد کرنہ خیطرہ۔ تمیگ امیر لشکر کوزکھہ حضرت عبداللہ بن نجش پٹن پو پھتر برادر تموکور مشرکن سیت جمادیتھہ منز مور تمو عمر بن عبداللہ حضرمی اکھہ کافرہ۔ ماہ جمادی الثانی کہ ہتمہ دوہہ ہتھہ منز احتمال اوس ماہ رجبکہ غرہ آسک۔ اکھہ پٹھہ کور کافر و اعتراض کہ مسلمان چھہ تعظیم کین رتین منز تہ جماد جاری تھوان۔ مسلمان سپد تردد پیدہ تمو پر ژھہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ۔ ائی سپدیہ آسہ کریمہ نازل یَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ پر ژھان چھہ توہمہ باایمان تعظیم کس رتیس اندر جنگ کرنس متعلق قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ تہہ فرما یوکھہ واقعی تعظیم کس رتیس اندر جنگ کرن چھو بوڈ گوناہہ یلہ قصد ازاتھہ کرت واقع سپدہ وَصَدُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٍ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجِ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ مگر لوکھہ خدایہ سنزہ و تہ نشہ یعنی دین اسلامہ نشہ ہتھہ رٹن۔ خدایہ سدس گن آسٹس انکار کرن مسجد حرامس منز گھر تہ شرک جاری تھاون تہہ پوتل تھاون تہن ہنز پرستش کرن بیہ تنک لوکھہ جلا، وطن کرن تمہہ شہرہ منزہ کڈن یہ چھو زیادہ

اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ  
 حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا وَمَنْ يَرْتَدِدْ  
 مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ  
 أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  
 هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿١٦٥﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا  
 وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ

بوڈ گناہ خدا ایس نشہ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ زیادہ بوڈ گناہ گودین حقس اندر با ایمان ہندین دلن  
 اندر شبہ تر لوتھہ تم لمہ دینہ نشہ پھرن۔ بیہ تمس پٹھہ ظلم و تشدد کرن۔ بیہ کنس خدا ایس شریک  
 ٹھہر لون۔ بیہ چھو زیادہ مشکل کانہہ شخص مارنہ خوتہ تعظیم کین رتین اندر وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ  
 حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا بیہ چھولامہ خوتہ مشکل کہ تم مشرک چھہ ہمیشہ توبہ  
 سیت جنگ کرنگ ارادہ تھوان پنہ گمانہ۔ توتان یوتان توبہ واپس پھرہ توبہ دین اسلامہ نشہ بس دین  
 توبہ اختیار کورمت چھوہ۔ کفر س کن، ہر گاہ یکن پلہ ہا۔ ون یلہ یہند ارادہ امہ قسمک چھہ لہذا چھو  
 توبہ لازم سارنی رتین اندر یکن سیت جہادہ خیطرہ تیار روزن۔ تعظیمک ریٹھہ آسک نہ کانہہ  
 پرواہ کرن۔ لہ گھہ وارہ تھند خیال کرن کہ۔ وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ لیس اکھہ توبہ اندرہ  
 کافرن ہمزہ کوشہ سیت امہ پنہ دینہ، دین اسلامہ نشہ پھیرہ تمہ منزہ نیرہ یعنی مرتد سپدہ العیاذ باللہ  
 فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ توبہ مرہ کفری پٹھہ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لیس  
 تم لوکھہ تم چھہ تہزہ سارے عملہ گڑھن ضائع دنیا و آخرتس اندر وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
 فِيهَا خَالِدُونَ سبے آسن نارس منزواتن والیواندر ریٹھہ نارس اندر تم ہمیشہ روزن دزان ہاں ہر گاہ  
 کانہہ مرتد سپدہ دوبارہ مسلمان سپدہ آسند اسلام چھو قبول۔ تخر رثہ عملہ تہ دین دوبارہ اسلام  
 اتھہ قبول کرنہ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بیشک سمولو کو

## وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۱۸﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ

ایمان بخدا الٰہ بیاہ سمو ہجرت کر بیہ سمو جہاد خدایہ سنزہ و تہ اندر کرز اولیک یرجون رحمت اللہ تم لوگھہ چھہ امیدوار پروردگارہ سندس رحمتس واللہ غفور رحیم اللہ تعالیٰ تہ چھو تہندہ حقہ مغفرت کرہ ون رحم کرہ ون۔ یو صحابہ صیو اتھہ مذکورہ جہادس اندر شمولیت کر مرثاس تمن اوس ترزد کہ خبر چھالاسہ ما آسہ گناہ کھو حتمت تظلمہ کس رحمتس اندر جہاد کر نہ سیت۔ سو ترزد کوزکھہ اللہ تعالیٰ ان سمہ آیہ کریمہ سیت دور یسئلونک عن الخمر والمیسر پر ژھان چھہ توبہ یار رسول اللہ با ایمان شرابس تہ زارس متعلق قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس بہہ فرماویو کھہ یمن منز چھو بو ڈگناہ اگرچہ نفع تہ چھو کینہہ یمن منز لوکن ہندہ خیطرہ واثمہما اکبر من نفعیہما مگر گناہ تمن ہندوی چھو زیادہ یمن ہندہ نفعہ خوتہ۔ یہ چھو گوڈنیک آیہ کریمہ ئیس شرابس تہ زارس متعلق نازل کر نہ آو۔ یتھہ منز بیان کر نہ آو کہ سمو دویو چیزو یعنی شرابہ تہ زارہ سیت چھو شخص وار یمن گو نمن منز گر فاقر سپدان۔ کیا زہ شراب چینہ سیت چھنہ عقل ڈنجہ روزان۔ یوسہ عقل انسان گنہہ کر نہ نشہ ہتھہ رٹان چھہ۔ یلہ عقلہ اندر فتور یوان چھو، انسان چھو گنہن تہ نافرمانین منز دروؤ دوان۔ عقل چھہ ونان تھہ رزہ یمہ سیت چار وای سنزن زنگن گنڈ (ڈنگ) چھو کر نہ یوان ادہ چھونہ سوما لکس نشہ ژلتھہ ہیکان۔ ہتھہ ڈنگ ونان چھہ۔ ہتھہ پاٹھہ چھہ عقل انسانس گنہو تہ نافرمانیو نشہ ہتھہ رٹان۔ زارہ سیت چھو مال و دولتک حرص تہ طمع پیدہ سپدان سمہ حرصہ تہ طمعہ موکھہ چھو شخص تھہ دوان تہ زورہ کران۔ لوکن ہندس حقس پیٹھہ ناجائز طریقہ پاٹھہ قبضہ کران۔ امی طریقہ چھو سوار یمن گنہن گر فاقر سپدان۔ یمن دون چیزن شرابک تہ زارک نفع تہ فایدہ چھو عارضی لذتہ حاصل سپدن کم کینہہ و قس تان۔ بیہ مال حاصل سپدن زار گندت۔ سو تہ چھو عارضی پاٹھی آسان۔ کیا زہ سو چھو بے برکت جلدی ختم گدھان۔ لہذا چھو نہ یمن دوشون چیزن ہند نفع تہ فائدہ یمن ہندس نقصانس تہ ضررس مقابل کنی۔ لہذا یوت یمن منز نقصان چھو تیوت چھو نہ نفع تہ فائدہ۔ نفع تمن دون چیزن ہند چھو عارضی تہ وقتی۔ ذاتی تہ انفرادی۔ مگر ضرر یمن دون ہند چھو دائمی متعدی تہ عام۔ بعضہ صحابہ صیو تر و شراب چون تہ زار گنڈن فور امی آیہ کریمہ کہ نازل سپدنہ سیت۔ مگر بعضی روادیمہ کیو مضر تو نفعہ چنہ خاطرہ احتیاطی

## قُلْ فِيهَا آتٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرٌ

تدابیر اختیار کرتے بدستور استعمال کران۔ پتہ یلہ سپد بیاکھہ آئیہ کریم لیس سورہ مایدس منز چھو نازل۔ یکدم رُودساری صحابہ صیب شراب چہنہ نشہ تہ زار گندہ نشہ ہتھ۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْمُونُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَذْكَامُ رَجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ أَلَىٰ بَالِيغٍ مِّنَ الشَّرَابِ چون، زار گندن، پوتلین پرستش کرن تہ تیرو سیت ماز تقسیم کرن تم ٹرو شوے چیز چھ مردار نجس تہ ناپاک۔ تمہو چیز و نشہ روز و ہتھہ لائما یرید الشیطن ان یوقع بینکُم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیمر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلوٰۃ فہل انتم تفتہون شیطانہ چھونہ یرشان مگر توہہ منز عدوات تہ دشمنی تراوان۔ شراب چنیہ سیت تہ زار گندناونہ سیت۔ بیہ چھو شیطانہ سند غرض تمہو دو یو چیز و سیت ہتھہ رٹن خدایہ سندہ یادہ نشہ۔ خصوصاً نماز پر نہ نشہ۔ کیا زہ شراب چیتھہ چھو شخص بیہوش تہ مست سپدان۔ اتھہ حاکس منز کتھہ پاٹھہ ہیگہ خدایہ سند یاد کرت۔ یا نماز ہرت۔ زار گندتھہ چھو زینہ ون شخص خوش سپدان۔ اتھہ خوشی منز چھونہ تس خداتھ تیس پیوان۔ لیس شخص ہاران چھو سو چھو غمگین تہ آزردہ سپدان۔ تمہ علاوہ چھو سو اتھہ فکرہ آسان کہ بیس بازس منز کتھہ پاٹھہ زینہ بو۔ امہ فکرہ سببہ چھنہ تس خدایہ سنزیاد کرنس گن یا نماز پر نس گن اتھہ وتھہ پیوان۔ شیطانہ سنز چھہ کام بنان۔ اصل مقصود اوس ہتھہ آئیہ کر تمس منز شراب تہ زار حرام آسن بیان کرن۔ مگر سیت آی بیان کرنہ بیہ زہ چیز۔ ازالام تہ انصاب۔ ازالام چھو زارہ کیوی قسمواندرہ اکھہ قسم۔ ہتھہ پاٹھہ کہ پانژھہ شہ زن آس سمت چندہ کرت مول ہیوان وونھاہ یا کانہہ جانوراہ تو پتہ آس تس کھش کران تہ ماران تو پتہ آسنہ رقمہ موجب تسدس مازس تقسیم کران، تم ہیوت رقم کوڈمت آسہاتس دہن تیوت حصہ نہ بلکہ آس کہنہہ تیرانان یمن تیرن علامات تہ نشانہ آس آسان تھاوانہ آستے تیر آس اکس تھیلکس منز تراوان تو پتہ تھیلہ منزہ اکھہ تیراہ کڈان۔ تمی موجب اکس زنس مازدوان امہ سیت اوس اکس کم تہ اکس زیادہ حصہ واتان۔ انصاب گیہ بت پرستی۔ امہ اندرہ چھو مطلب شراب چینج تہ زار گندنج پور مذمت کرن۔ یا فرماو کھہ شراب چون تہ زار گندن چھو اتھہ سزاوار کہ تم گزہ ہن بت پرستی سیت ذکر کرنہ بن کیا زہ تم زہ چیز چھہ خدایہ سندہ یادہ نشہ خصوصاً نمازہ نشہ (یوسہ نماز اسلامہ کیو تہ ایمانہ کیو شعایر و تہ نشانواندرہ بوڈ نشانہ چھو) ہتھہ رٹان یلہ امہ موجب ایمانہ نش شخص دور پیو دو بیمہ طرفہ چھو اس گفس تہ بت پرستی سیت واٹھہ

مِنْ تَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ هُ قُلِ الْعَفْوَ  
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿۳۱﴾  
 فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحُ  
 لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ  
 مِنَ الْمَصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ إِنْ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۳۲﴾

لگان۔ امی مناسبہ آو شراب چینس، زارگندس تہ بت پرستی منع کرنہ۔ وارہ گشہہ عقلہ والین ہند غور  
 کرن کہ کوتاہ پچھہ جھو شراب چون تہ زارگند۔ اسلامس اندر جھو شرابک ناؤام الخبائث بیہ راس  
 الاثم یعنی سارنی پچھہ کامین ہنز موج تہ سارنی گنہن ہند منع تہ اصل جھو شراب چون **وَيَسْأَلُونَكَ**  
**مَاذَا يُنْفِقُونَ** بیہ پچھہ تم پر زھان توہہ کیا کرن خرچ کوتاہ کرن خرچ **قُلِ الْعَفْوَ** تہہ فرما یو کہہ  
 یہ پنہ نیوتہ پنہ عمیالہ کیو ذالی اخر اجا تو لغہہ بچان آسہہ **كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ**  
**تَتَفَكَّرُونَ** \* **فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ** کیاہ جھو اللہ تعالیٰ واضح کران تہ نہ راوان تہندہ خیطرہ پنہ احکام تہہ  
 تہہ وارہ فکر کران آسود نیوا آخر تہ کین معاملتہ اندر **وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى** بیہ جھو تم پر زھان  
 توہہ یتیم تعلق **قُلْ إِصْلَاحُ لَهُمْ خَيْرٌ** تہہ فرما یو کہہ پر تہہ کاماہ تہنز سنبھال تہ درست کرن  
 پچھہ بہتر **وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِحْوَانُكُمْ** ہر گاہ تہہ تم پانس سیت تھینس چینس اندر، تجارتس اندر ملہ  
 نا یو کہہ کانہہ حرج جھو نہ۔ پن جھوہہ **بِأَيِّ جُحُودٍ** مگر اللہ تعالیٰ جھو زانان  
 توہہ اندرہ بدنیت گس جھو۔ نیک نیت تہ کوم سنبھالہ ون گس جھو۔ **وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْتَبْتُمْ** ہر گاہ اللہ  
 تعالیٰ یشہہ ہا سخت تہ دشوار احکام نازل کرت کرہ ہیوہ مشفقس گرفتار مگر تم یو تہ نہ تہ **إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ**  
**حَكِيمٌ** پزپاٹ اللہ تعالیٰ جھو زبردست حکمتہ وول۔ صحابہ صیوہ اندرہ کہہ صاحبہ یمن ناواوس مرشد  
 بن ابی مرشد۔ تمہن آس خواہش اکس مشرک زنانہ سیت نکاح کرنج بروٹھہ پیٹھے۔ تہہ متعلق آیود  
 سو صاحب اجازت پنہ نبی کر تہمس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ان کور نازل یہ آیہ کریمہ

وَلَا تَتَكْفُرُوا بِالْمُشْرِكِ حَتَّىٰ يُوْمِنَ ۖ وَآيَةٌ مِّنْهُ خَيْرٌ مِّنْ  
 مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۚ وَلَا تَتَكْفُرُوا بِالْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا  
 وَلِعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ  
 يَدْعُونَ إِلَى التَّارِكِ ۚ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ  
 بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۳۱﴾  
 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي

وَلَا تَتَكْفُرُوا بِالْمُشْرِكِ حَتَّىٰ يُوْمِنَ اے باایمانو نکاح مہ کرو مشرک زنان سیت یوتان نہ تمہہ ایمان  
 ان و آيَةٌ مِّنْهُ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ پڑپاک مسلمان باایمان کینری چھہ بہتر مشرک آزاد  
 زنانہ ہندہ خوتہ اگرچہ سو آستن حسن وجمالکہ لحاظ توہمہ پسندی وَلَا تَتَكْفُرُوا بِالْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا  
 مسلمان باایمان زنان مہ کرو نکاح مشرک مردن سیت یوتان نہ تمہہ ایمان ان وَلِعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ  
 خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ پڑپاک باایمان غلامی چھو بہتر مشرک آزاد مردہ سیدہ خوتہ اگرچہ  
 سو آستن بیہ گنہہ اعتبارہ پسندی أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى التَّارِكِ کیا زہ تم مشرک چھہ نادوان  
 نارس گن وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ اللہ تعالیٰ چھو نادوان بواسطہ حضرات  
 انبیاء علیہم السلام جنتس تہ مغفرتس گن پنتہ حکمہ سیت وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ  
 بیہ چھو اللہ تعالیٰ پنن احکام نراوت بیان کران لوکن۔ بیٹھہ تم نصیحت حاصل کرن و يَسْأَلُونَكَ عَنِ  
 الْمَحِيضِ بیہ چھہ پڑرٹھان توہمہ لوکھہ حیض متعلق۔ یلہ زنان سو وقت یوان آسہ تھس حالتس  
 منز چھا تمن نزدیک گڑھن جائزہ نہ قُلْ هُوَ أَذَىٰ جہہ فرماو یوکھہ سو چھہ ناپاکی فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي  
 الْمَحِيضِ پس آسوا لگ روزان زنان نشہہ حیضہ کس حالتس اندر۔ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ تمن  
 نزدیک مہ آسوسپدان نفع خواہش پورہ کرنہ خیطرہ توتان یوتان نہ تمہہ پاک آسن سپدان۔ بلکہ  
 گڑھنہ مردہ سہہ حیضہ کین دوہن اندر تونہ پٹھہ کوٹھہ آہن تان، نہ اتھہ لاگن نہ توکن نظر دن۔



الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ ۚ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ  
 مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ  
 الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿۳۴﴾ نِسَاءُكُمْ حَرَّتُمْ لَكُمْ فَأْتُوا حُرَّتَكُمْ أَنْ سَلِمْتُمْ

ہر گاہ کانہ شخصین حیضہ کین دوہن اندری نزدیکی کرت نسیج خواہش پورہ کرتس پڑہ توبہ کرون، استغفار پدن کیا زہ یہ سڈ سخت گنہس گرفتار۔ امہ علاوہ چھو امس مردس جرمانہ تہ دین سوگو بہنہ رقم گڑھہ خیرات کرون **فَاِذَا تَطَهَّرْنَ فَاْتُوْهُنَّ مِنْ حَيْثُ اَمَرَكُمُ اللّٰهُ** یلہ تمہہ پاک آسن سپدان۔ بس آسو تمہن نزدیک یوان نسیج خواہش پورہ کرنہ خیطرہ۔ مگر تمی جایہ کن تمہہ جایہ کن یک تجویز اللہ تعالیٰ ان کوروہ۔ سوگیہ سوی جای تمہہ نشہ دور روز تک حکم کورنوہ حیضہ کین دوہن اندر۔ سوگیہ برو تمہہہ طریق جائے۔ امہ جایہ نشہ گڑھہ نہ ڈکن زاہ تہ بیس جایہ کن تہ چھو حرام تہ ناجائز ہمیشہ ہتھہ پاٹھہ حیضکن دوہن اندر برو تمہہہ طریق جای استعمال کرن حرام تہ ناجائز چھو۔ کیا زہ یمن دوہن چھہ آسان سو جای ملوث تہ ناپاک حیضک خون جاری آسنہ موکھہ۔ پتہ چھہ سو جای حیضک دوہ ختم گڑھہ تھہ پاک سپدان۔ مگر بیاکھہ تھہ پتمہہ طریق یوسہ پتمہہ سو پتمہہ ہمیشہ آسان ناپاکھے۔ مردن ہنز تہ زنانن ہنز تہ لہذا گڑھہ ہمیشہ تمہہ جایہ نشہ دور روزن۔ بیہ چھو حیضکن حالتس اندر نسیج خواہش پورہ کرنہ خیطرہ زنانہ نشہ گڑھہ منزیہ خطرہ کہ مردس چھو ستر چہ جایہ تمہہ سیت ورم کھسان تہ نار گنڈان۔ زنانہ چھو پچہ دانہ اندر نیتھہ قصور پیدہ سپدان تمہہ سیت سہ ہاٹھہ تہ بے اولاد چھہ سپدان **اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّابِيْنَ** بیشک اللہ تعالیٰ اس چھہ ٹاٹھہ توبہ کرہ ون بندہ **وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِيْنَ** بیہ چھہس ٹاٹھہ صاف و پاک پاٹھہ روزن وال بندہ۔ یہود آس ونان یلہ زنانہ نشہ مردیہ برو تمہہہہ جائے استعمال کرنہ خیطرہ مگر پشتہ کہ طرفہ تیلہ چھو اولاد یعنی شر دولہ اچھہ کرتھہ زیوان۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان یہودن ہند یہ خیال چھو بالکل غلط **نِسَاءُكُمْ حَرَّتُمْ لَكُمْ فَاْتُوا حُرَّتَكُمْ اَنْ سَلِمْتُمْ** زنانہ تمہزہ چھہ زراعت تمہند۔ بس بیوزراعتس پنہ نس یہ پار خوش کردہ مگر جای گڑھہ آسن سوی ہتھہ منزیہ یول تراو تھہ کل کھسہ۔ ادہ سہ جای ہتھہ پاٹھہ استعمال بیجو کرتھہ ہتھہ پاٹھہ۔ ذقن کرتو۔ پشتہ کن کرتو۔ لہ روز تھہ کرتو۔ بہتھہ کرتو۔ و تھہ ونہ کرتو تمیم چھوہ توبہ اختیار۔ مگر جای گڑھہ آسن

وَقَدْ مَوَّالِ أَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ وَ  
بَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۱۳﴾ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ  
تَبْرُوا وَتَتَّقُوا وَتُصَدِّقُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۱۴﴾  
لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ  
بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۲۱۵﴾ لِلَّذِينَ يُؤَلُّونَ

سوی یوسہ امہ خیطرہ مخصوص چھہ سوگیئہ بروٹھہ طرحُ فجائے۔ وَقَدْ مَوَّالِ أَنْفُسِكُمْ بروٹھہ کُن  
سوزوپنہ طرفہ کانہہ رث عملاہ۔ یعنی زنانہ نشہ نزدیک سپدنہ اندرہ آسویت تھوان اولاد حاصل  
کرئج محض نہ نفع خواہش پورہ کرنہ خیطرہ۔ بلکہ آسو امیدوار روزان کہ دیوہ اللہ تعالیٰ ونہ کنہ کی وقتہ  
اسہ اولاد عطا کرہ۔ کیاہہ اولاد صالحہ تہ چہور رث عمل۔ باقیات الصالحاتہ اندرہ آھہ چیزہ وَأَتَّقُوا اللَّهَ  
بیہ کھوژو اللہ تعالیٰ اس تہدین حکمن مخالفت کرنہ نشہ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ بیہ تھاو یقین بیشک  
چھوہ ہتہ خدائس بروٹھہ کُن واتہ ون تس سیت ملاقات کرہ ون۔ سارنی عملن ہند حساب دنہ خیطرہ  
وَبَشِيرِ الْمُؤْمِنِينَ بیہ دیو بشارت خدائس کھوژوہ ونین بالیمان صلح تہ دیدار ج وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ  
عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ اے بالیمانومہ کرو خدایہ سُن نام پاک ٹھور پنہ نین قسمن منز رثہ کامہ کرنہ نشہ  
یعنی خدایہ سُن قسم مہ آسو ہوان أَنْ تَبْرُوا وَتَتَّقُوا وَتُصَدِّقُوا بَيْنَ النَّاسِ نیکو نشہ ہتہ روزنہ  
خیطرہ۔ پرہیز گاری نہ کرنہ خیطرہ۔ لوکن منز صلح نہ کرنہ خیطرہ۔ مثلاً کانہہ ہادہ ہاتم خدایہ سُن قسم  
نماز نہ پرنس پیٹھہ۔ یا کانہہ رث کام نہ کرنس پیٹھہ۔ حکم چھو تہمند گڑھہ سو قسم پھڑاون کج کفارت  
دن۔ سہ رث کام گڑھہ ضرور کرن وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو سو رے بوزہ ون۔ سو رے زانہ  
وَنْ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ اللہ تعالیٰ رثہ نہ توہمہ لغوتہ بیہودہ قسمن پیٹھہ وَلَكِنْ  
يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ لیکن سو رٹوہ توہمہ تمن قسمن پیٹھہ یمن متعلق  
دلہ سیت اپزونہ تک قصد کورمت آسوہ۔ اللہ تعالیٰ چھو مغفرت کرہ ون تمن تم اپزہ نشہ توبہ

مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ  
 عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۳۸﴾ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ  
 عَلِيمٌ ﴿۲۳۹﴾ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا  
 يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ  
 يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي

کرن۔ اللہ تعالیٰ چھو تحمل سے زیادہ کرہ و ان لیلین یقولون من نساءہم تمن لوکن ہندہ خیرہ چھو  
 حکم ہم قسم ہاؤن زنانن نزدیک گزھنن بیٹھ تَرَبُّصُ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ بیان گزھنن ہندہ ژون ریتن  
 فَإِنْ فَاءُ فَإِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ پس اگر یمن ژون ریتن اندر اندر تمومر دو قسم پھر طوات زنانن  
 نیشہ نزدیک کر پس اللہ تعالیٰ چھو رحم کرہ و ان مغفرت کرہ و ان تہندہ حقہ۔ تمن چھونہ کانہہ باز  
 خواست وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ ہر گاہ تموملہ اندرہ طلاقہ کوی قصد کوراتھہ مدتس اندر رجوع  
 کورکھہ نہ زنانن نیشہ نزدیک سپدہ سیت فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ پس چھو اللہ تعالیٰ سوڑی بوزہ و ان  
 تہ سوڑی زانہ و ان۔ تلہ گوہوی طلاق اداہ پزہ نہ مردس زنانہ نزدیک گزھنن نوو نکاح کرنہ و رای۔  
 ایجاب و قبول تہ فاتحہ خیر نوو پرنہ و رای وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ طلاق دنہ  
 آمزہ زنانہ پیارہ ناوون پنہ نین پانن یعنی نکاح مہ کرن ترین عذرن یعنی حیض تان وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ  
 أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ تمن طلاقہ واجینن زنانن چھو جائیز کہ تمہ کیاہ کھن تھہ یہ  
 اللہ تعالیٰ ان آسہ پادہ کورمت تہندین رحمن چہہ دانین اندر اولاد یا خون حیض کیاہہ عدتک حساب  
 چھوتی موجب کرنہ یوان إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ہر گاہ تمن پور پڑھہ چھہ خدلیہ سزہ  
 کامل یقین چھو کہ ہتمہ دوہک۔ پتم دوہ گو قیامتک دوہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ  
 أَرَادُوا إِصْلَاحًا یمن مطلقہ زنانن ہندرین، خاوند چھہ زیادہ حقدار یمن کن رجوع کرنس تہ یمن بیہ  
 واپس پنہ نس نکاحس منز تھونس منز اتھہ انتظار کس مدتس اندر اندر نو نکاح کرنہ و رای۔ ہر گاہ تم

ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ  
 بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ  
 حَكِيمٌ ﴿۲۸﴾ الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ مِنْ قَامَسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ  
 تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا  
 آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

تھے اندر نیک نیتی ہند ارادہ تھاوان آسن۔ یہ لحم اصلاح او بیان کرنے سمہ خیطرہ کہ ولہن مِثْلُ  
 الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ زنان ہند تہ چھہ نفسی حق مردن پٹھہ، تھے مردن ہند چھہ زنان پٹھہ  
 یعنی واجب آس منز چھہ برابر۔ مردہ سُد حق چھو زنانہ پٹھہ فرمانبرداری کرن۔ مردہ سُد عزت  
 رچھن۔ تمس دس چیزس تہ مال و متاعس راجھہ تہ حفاظت کرن۔ بیہ پنہ نس پانس راجھہ کرن و وپر  
 مردن سیت تعلق تھاونہ نشہ۔ تمن سیت کتھہ ہاتھہ کرنہ نشہ۔ زنان ہند حق چھو مردن پٹھہ۔ تمن  
 سیت رت سلوک کرن۔ تہند اخراجات پورہ کرن۔ تمہ دیک احکام پچھہ ناوان وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ  
 دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ بیہ چھہ مردن پنہ بین خاندار میں پٹھہ فضیلت اللہ تعالیٰ چھو  
 عزتہ وول تہ حمتہ وول تمس چھو اختیار میں فضیلت دیہ تہ تَس الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ طلاق تھے منز یہ  
 رجعت کرن جائیز چھہ مردس سو چھو دون لئن تانن وَامْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ  
 تمہ پتہ چھونہ بیہ رجعت کرن کہ حق مردس یعنی دومہ طلاق پتہ۔ بلکہ چھہ زی صورتہ تمہ پتہ  
 یاریس پانس نش باقاعدہ یا تراؤ نس بلکہ توتان یوتان عدت و بریس پور حقوق ادا کرت۔ عدت و برت ہر گاہ  
 تو پتہ مرد یٹھہ بیہ اس زنانہ سیت نکاح کرن۔ نو نکاح کرت نو ایجاب و قبول کرت سپہ  
 سہ بیہ آسنز زنانہ۔ ہر گاہ ترسم طلاق تہ دُتینس تلہ گنیہ بیہ اس مردس نشہ تڑھہ جدانہ الگ۔ ادہ  
 چھونہ اس زنانہ اس مردس سیت بیہ نکاح کرن توتان جائیز یوتان نہ سوزنانہ میں مردس سیت گوڈہ  
 نکاح کرہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماوان بروشمس آہیہ کر تمس منز پانے وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ جَائِزٌ تَوْبَهُ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۹۹﴾  
 فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ

اے مردو ان تَاخُذُوا مِمَّا اتَّيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ایںکہ واپس کیا ہو تبہ تمہ مالہ منزہ کہنہ نُس مال توہمہ یکن زنانہ دیوہمت آسوہ اِلَّا أَنْ يَخْفَاَ الْاَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ مگرے کھوژن سم باژہ کہہ قائمہ یکن نہ تھادت سم پروردگارہ سند احکامہ تہ قانون یعنی تعلقات باہمیں متعلق فَإِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ہر گاہ تبہ واقعی طور کھوژو۔ اسی خدلیہ سند احکامہ تہ قانون قائم تھاونہ کیوزمہ دارو کہہ سم باژہ یکن نہ قائم تھوتھہ خدلیہ سند احکامہ تہ قانون فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا پس چھونہ کانہہ حرج تہ گناہ تمن پٹھہ فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تھہ اندر کہہ زنانہ کیادیہ طلاق بدل یکہنہ مال مردس۔ اٹھہ چھہ ونان خلع یعنی زنانہ ہیہ مردس طلاق یکہنہ مال دت تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ سم احکام چھہ پروردگارہ سند قانون فَلَا تَعْتَدُوهَا پس مہ کھر و یکن قانون ہنز خلاف ورزی وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ نُس اکھاہ خلاف ورزی کرہ خدلیہ سندین قانون ہنز پس تہ لوکھہ چھہ پنہ نس پانس ظلم کرہ ون۔ آخرتس منز گرفتار عذاب کرنہ سیت فَإِنْ طَلَّقَهَا پس ہر گاہ مردن امس زنانہ بیاکھہ طلاق ذیت دیو یو طلاقو پتہ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ اودہ چھنہ سوزانہ حلال امس مردس پٹھہ۔ یعنی امس سیت نکاح کرون چھونہ جائیز حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ یوتان نہ سوزانہ پس شخصس سیت نکاح کرہ فَإِنْ طَلَّقَهَا پس اگر سؤدو سم خاوند امس زنانہ طلاق دیہ۔ تو پتہ تہنز عدت تہ دوہر پس فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا پس چھونہ کانہہ گوناہ ہر گاہ ہم گوڈنک باژہ پانہ وان رجوع کر تھہ ہیہ نکاح کرن اِنْ طَلَّقَا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ

يَتَرَاجَعَانِ ظَنًّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ  
 حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ  
 النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  
 أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا  
 لَتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ  
 وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ

ہر گاہ یمن یقین آسہ اس کیا تھا و خود ایہ سند احکام سے قانون یعنی حقوق زوجیت قائم و تِلْكَ  
 حُدُودُ اللَّهِ یُبَیِّنُهَا لِقَوْمٍ یَعْلَمُونَ تم چھ پروردگارہ سند احکام سے قانون تم چھ سو و ژہنا وان  
 زانن والین ہندہ خیطرہ وَاِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ ای مرد و یلہ تمہ طلاق دتوہ پنہ نین زنانن طلاق رجعی  
 یعنی سو طلاق یتھہ منز مردس چھوا اجازت نو نکاح کرنہ و رای رجوع کرن فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ تو  
 پتہ واتن تمہہ زنانہ عدتک مدت و برنس قریب فَاَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ پس چھوا اختیار توہہ  
 عدت گرہنہ بروٹھہ رجعت کر تھہ ریوٹھہ تمہہ پانس ریشہ پنہ نس نکاحس تل باقاعدہ سے رتہ طریقہ  
 اَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ یا تراویکھہ یلہ رتہ طریقہ یوتان عدتک دوہ تمن پورہ پاٹھہ کُزَن  
 وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا مہ آسبوکھہ تمہہ بند کران تمن تکلیف و اتاوانہ خیطرہ تمن پٹھہ  
 ظلم کرنہ خیطرہ عدتک مدت زبٹھراونہ سیت وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِكَ پس نس شخصہ امہ کج کوم  
 کرہ یعنی ناحق کانہہ ظلم کرہ۔ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ سمو کورپان پانس ظلم کیا زہ آخرتس منزکھیہ  
 سو ظلم کر نک سزا وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا خدلیہ سد آیات سے احکام مہ آسوزانان ٹھٹھہ  
 باشیہ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ بیہ پاو و ژ تیس خدلیہ سنزہ تمہہ نعمو سمہ توہہ عطا  
 کرہ نوہ و مَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ خصوصاً کرو یادیہ بڈ نعمت کہ نازل  
 کرن توہہ پٹھہ یہ بڈ کتاب یعنی قرآن مجیدیہ حکمتہ تھہ یہ سیت اللہ تعالیٰ چھوہ توہہ و عظ و نصیحت

عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ  
يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
عَلِيمٌ ﴿۱۷﴾ وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ  
فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا  
بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ  
مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى

کران وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بِهِ کھو ٲو اللہ تعالیٰ اس یقین زانو یتک اللہ تعالیٰ چھو پر ہتھ چیز اہ پورہ زانوں وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ بہ یلہ توہمہ طلاق وٲوہ پنہ نین زنانن تو پتہ ووبریہ ٲہنز عدت فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ پس مہ رٲو کھہ ہتھہ ٲہہ (ای رشتہ دارو) تمہہ زنانہ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ نکاح کرنہ ٲہہ پنہ نین مجوزہ خاوندن سیت اودہ آستن سٲو یہوی طلاق وودہ ون خاوندیا بہہ کانہہ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ یلہ تمہہ پانہ وان راضی سہد مت آسن قاعدہ موجب ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ سمو کھو سیت چھہ نصیحت یوان کرنہ تس مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ئس آسہ توہمہ اندرہ ٲرہہ کران معبود بر حق بہہ ٲتمس دوہس یعنی قیاس۔ تعمیل احکام خداوندی کرہ سٲو شخص یس خدایہ سنز پورہ ٲرہہ آسہ بہہ آسیس قیاس ٲرہہ سمہہ دوہہ خدایس بروئھہ کنہ استادہ بہہ کرنہ۔ ئس نہ تعمیل احکام کران چھو زن نہ تمس خدایہ سنز تہ قیاس ٲرہہ چھہ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَظْهَرُ یہ نصیحت قبول کرن چھو تہندہ خیطرہ زیادہ صفائی ہنز تہ زیادہ پاکی ہنز سمہہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ چھو زمانان سارے مصلوہ ٲہہ زانونہ کینہہ تہ۔ لہذا پزہ توہمہ خدایہ سدہ نی حکمن ٲٹھہ عمل کرن۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ماجن ہند گڑھہ دودھہ دیکن پنہ نین اولادن پورن دون وٲر بن اودہ تمہہ ماجہ نکاحس اندر آستن یا طلاق دنہ آمرہ آستن لَبِنَ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ یہ گوئہندہ خیطرہ ئس پورس

لَكُمْ وَ أَطَهَرُ وَ اللهُ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۲۲﴾  
 وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ  
 يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ  
 لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا لَأُنْصَارُ الْوَالِدَةَ كَيْدَ مَا وَ لَامَوْلُودٍ  
 لَهُ يَوْلَدُهَا وَ عَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ الْفِصَالُ عَنْ  
 تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ

مُدّ تس دودھ چاؤن بیترہہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اس چھ سندس ماس پیٹھ  
 چھوٹے اس ماجہ ہند کھین چین تہ پوشاک قاعدہ موجب لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا کانہہ شخص جھونہ  
 خدایہ سیدہ طرفہ کانہہ حکماہ دنہ یوان مگر سبوی حکم نیس سوبرداشت بیجہ کمر تھ لہذا آؤزنانہ حکم کرنہ  
 اس چھس دود و نک کیازہ تہندہ حقہ چھوتی سہل تہ آسان۔ مردس آؤ حکم کمر نہ تمس زنانہ ہند کھین  
 چین تہ پوشاک و نک کیازہ تہندہ حق چھوتی سہل تہ آسان لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا أَوْسَعَهَا وَ لَامَوْلُودٍ لَهُ يَوْلَدُهَا  
 ضرر تہ نقصان بیہ نہ و اتناونہ کانہہ ماجہ پنہ نس بچہ سیدہ سیت نہ کانہہ ماس پنہ نس چھ سیدہ سیت۔ یعنی  
 چھ سندس ماس ماجہ ہند کمر ہ نہ اکھ اکھ چھ سند و وجہ تکلیف و اتناون۔ مثلاً موج کرہ ہا اس چھس دود و نہ  
 نغیر بلا وجہ انکار یا مول کرہ ہاجرا اس چھس ماجہ نشہ جداتہ دور تو پتہ دیاوہ بیس کانہہ زنانہ اتھہ اس  
 دود۔ یا کرہ اس ماجہ آہنزہ کھینہ چہنہ کن تہ اخراجا تو کن تنگ تہ کمر ہ نہ کزان وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ  
 وارث پیٹھ تہ چھو یسوی حکم نیس ماس پیٹھ چھو فَإِنْ أَرَادَ الْفِصَالُ عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَ تَشَاوُرٍ فَلَا  
 جُنَاحَ عَلَيْهِمَا پس ہر گاہ سم دوشوے یعنی مول تہ موج پانہ و ان رضامندی تہ مشورہ سان دون  
 و رہن اندر اندر اس چھس دود تڑن یرھن ادہ تمن پیٹھ چھنہ کانہہ گناہ وَلَنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا  
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ بیہ ہر گاہ تہہ یرھو کہ چھ کیاہ چاودہ ناوون دود بیہ کانہہ زنانہ ہند کمنہ خاص وجہ  
 موکھ۔ مثلاً پنہ ماجہ ہند دود آسہ تس چھس مضر یا آسہ ماجی کمنہ تکلیف و اتنک خطرہ تھہ تہ چھونہ کانہہ



تَسْتَرْضِعُونَ أَوْلَادَكُمْ فَلَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذْ أَسَلْتُمُوهُنَّ مِمَّا آتَيْنَهُنَّ  
 بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۲۳﴾  
 وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا لَا تَرَكْنَ بِلِأْسِهِنَّ  
 أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ۖ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
 فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۲۴﴾  
 وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَنْتُمُ

گناہ توہمہ بیٹھہ اِذَا اسَلْتُمُوهُنَّ مِمَّا آتَيْنَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ یلہ تہمہ دیو تہم سوز و رپوسہ توہمہ تہم سیت مقرر  
 کر مرث آہوہ رت پاٹھہ تہ ضابطہ موجب وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ کھو ژو خدا ایس  
 بیہ تھا و یقین کہ پڑ پاٹھہ اللہ تعالیٰ جھو تہمزہ سارے کامہ وارہ و چھان وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ  
 أَزْوَاجًا بیہ ہم شخص توہمہ اندرہ مران ہتھہ کُن تراوٹھہ زنانہ منکوہہ يَتَرَكْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ  
 وَعَشْرًا تہم زنانہ ہند گڑھہہ پیارن ژورن ریتن تہ دہن دوہن۔ بیہہ جھہ تہمزہ عدت ایس کاس جھونہ  
 جائز تہم زنانہ پانس زینت گرن۔ مشک مٹھن۔ گرہ منزہ ٹیرن۔ بیہ گچہ عدت تس زنانہ ہمزہ تمس خاوند  
 مومت آسہ بچہ آسیس نہ شکس منز کہنہ تہ۔ ہمہ بروٹھہ گذرے بیہ عدت تس زنانہ ہمزہ ٹیس مردان  
 طلاق آسہ و ہجرت تمسز عدت جھہ تریہ حیض۔ بیاکھ گنہہ تس زنانہ ہمزہ عدت ٹیس خاوند مودمت  
 آسہ۔ شکس منز آسیس بچہ۔ تمسز عدت گیہ توتان یوتان سو پرہسہ یعنی تمسز عدت جھہ بچہ زینس  
 تان تمیک حکم بیہ بیان کرنہ سورہ طلاقس اندر فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَجُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي  
 أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ پس یلہ زنانہ پورہ کرن ہنن عدت پس جھونہ توہمہ کانہہ گناہ اے زنانہ ہندیو  
 متعلقو تہ رشتہ دارو ہتھہ تھہ منز کہہ تمہہ زنانہ کیاہ کرن پنہ جھہ دوہمہ نکاحک تلاش ٹیس شرعس موافق  
 آسہ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللہ تعالیٰ جھو تہمزہ سارنی کائین ہمزہ پور خبر تھاوان وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ  
 فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خُطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَنْتُمُ فِي أَنْفُسِكُمْ بیہ جھونہ توہمہ کانہہ گناہ ای مردوہر گاہ تہہ کانہہ

فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تَأْتُوا بِهِنَّ  
 سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرُزُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ  
 حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي  
 أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ<sup>ع</sup> وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ<sup>ع</sup>  
 لَأَجْنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ

اشاره کمر و امه قسمه چن زنان سیمه خاوند مرت عدتس منز آسن نکاحس پیغامس متعلق یا پوشیده تھا دور  
 تمیک اراده پنہ نین دلن منز۔ علم الله انکم ستذکرونهن الله تعالی اس چھو معلوم کہ تمہہ کرو ضرور  
 تمس زنان سیت نکاح کر تک تذکرہ خیر۔ اشارہ پیٹھ تذکرہ کرنس چھو نہ کانہہ حرج ولکن لا  
 تواعدونهن سترًا لیکن نکاحس متعلق گزھنہ وعدہ قرار کرن پوشیدہ پاٹھہ إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا  
 مَعْرُوفًا مگرے کانہہ کتھاہ کمر و ضابطہ موجب تہ گو اشارہ پاٹھہ نکاحس متعلق کتھاہ واتا دن  
 وَلَا تَعْرُزُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ بیہ مدہ کرو پوختہ ارادہ فوراً اس زنانہ سیت نیتھر  
 کر تک یوتان نہ تس عدتک ایام خم کزھن۔ سیمہ عدتک حکم تہ تجویز الله تعالی ان پنہ کتابہ اندر  
 فرمود و اعلموا ان الله يعلم ما فی انفسکم بیہ زانووارہ یقینہ سان کہ بیشک الله تعالی چھو زنانہ تہ  
 سوزی بیہ تہندین دلن اندر چھو فَاَحْذَرُوهُ پس کھوژد تس۔ ناجاز ارادہ مہ آسولن اندر تھاوان۔  
 یعنی عدتس منزی مہ آسو نکاح کر تک ارادہ کران۔ کیا زہ عدتس منز نکاح کرن چھو حرام تہ ناجائز  
 وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ بیہ زانووارہ یقینہ سان کہ الله تعالی چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ دن توبہ  
 کرہ و نین بدن ہر گاہ کانہہ ناجاز کامہ ہند ارادہ کورمت آسہ تو پتہ پیہ جس نادم تہ پشیمان گزھت کرہ  
 توبہ تس ہجہ امید مغفرت۔ الله تعالی چھو حلیم ہر گاہ توبہ نہ کرہ و نس جلدی سزادتن نہ تمہہ سیت گزھہ  
 نہ دھو کہ کھین سو کیاہ مولکیو بلکہ چھو خطرہ نہ نہ عتہ وقتہ رٹیس لَأَجْنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ  
 مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً توبہ پیٹھ چھو نہ کانہہ گناہ ای مردو ہر گاہ تمہہ طلاق دیو

تَفْرِضُوا لِهِنَّ فَرِيضَةً مِّمَّا مَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۳۷﴾  
 وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۳۳۸﴾

زنان تمّن اتمہ لاکنہ بروٹھ، کٹھس منز اژنہ بروٹھ۔ بیہ مہر مقرر کرنہ بروٹھ۔ اتمہ صورتس منز چھونہ توہہ تمّن زنانں مہر دین مطہ کھسان وَمَتَّعُوهُنَّ تھہ صورتس اندرو اتا ووتہہ تمّن کانہہ فاندہ تہ نفعاہ یعنی تمّن دیوتہہ خرچاہہ سمیک ادنی درجہہ گوپاشاگک اکھ جورہہ تہ اعلیٰ درجہہ گو مہر ک نصف عَلَی الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ آسن والس پیٹھ تھہ تہ شوبہہ تنگد ستس پیٹھ تھہ تہ شوبہہ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ خرچاہہ دستورہ تہ قاعدہ موجب حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ بیہ چھو لازم نیک معاملہ کرہ وین لوکن پیٹھ۔ پریتھ مسلمانس پڑہ رتوی معاملہ گرن۔ خوش معاملہ آسن بد معاملہ نہ لاگن وَلَٰن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ہر گاہ تہہ طلاق دیو تمّن زنانں خلوت صحیحہ کرنہ بروٹھہ در حالیکہ مہر اوس مقرر کرنہ آمت فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ تہہ گڑھہہ تمّن دین مقرر کرنہ آمتہ مہر ک نصف إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ مگرے زنانہ پندہ خواہشہ موجب سو نصف تہہ معاف گرن اَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ تہہ سو شخص معاف کرہ بس اتمہ نکاح جاری تھا ونگک یا نہ تھا ونگک اختیار چھو۔ سو گو خاوند۔ یعنی خاوند پہ بودہہ سوڑی مہر پن حق کرنہ وصول وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ای حقداروتہند معاف گرن خوشموی چھو زیادہ قریب پرہیزگاری سیت وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ مہ مٹرا اوپانہ وان اکھ اگس پیٹھ احسان گرن إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بیشک اللہ تعالیٰ چھو تھہ سارسی بیہ تہہ کران چھوہہ وارہہ وچھان حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ راچھہہ کرو سارنی

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقَوْمُوا لِلَّهِ  
 قُنُوتَيْنِ ۖ ﴿۲۳۸﴾ فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَدْكُرُوا  
 اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ ۗ ﴿۲۳۹﴾ وَالَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ  
 مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى  
 الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا

نماز نہجھہ کا نہ نماز تھہ گوشوہ یا پینہ وقتہ لئہ ڈلہ وہ۔ بیہ کرور لھجھہ منزموہ نمازہ۔ منزموہ نماز گبیہ وگر  
 نماز۔ تہ چھو بیہ تہ تاکید ساری نماز نہ ہدہ خاطرہ۔ کیا زہ پر تھہ نماز چھہ پانژو نماز و اندرہ منزموہ نماز۔  
 ساری نماز متعلق گوشہ لازم تہ ضروری آسک ہبوی خیال تھا لون **وَقَوْمُوا لِلَّهِ قُنُوتَيْنِ** و دھد  
 روز و خدا ئس برو تھہ گنہ عاجزی سان۔ تھہہ کا نہہ حرکتھہ مہ کرو نمازہ اندر سمہ سیت لبندہ بیہ بیہ چھو نہ  
 نماز پر ان۔ سو گو کھیون چون۔ تھہہ کرنہ تہ اورہ یور نظرہ دینہ۔ **فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا** پس ہر گاہ  
 تھہ کھو ژو دشمنس یا بیہ کانسہ پس پرو نماز پتھر، وودنہ یا سوارین پیٹھ بہتھہ **فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَدْكُرُوا اللَّهَ كَمَا  
 عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ** ادہ یلہ امگ پورہ اطمینان سپدہ خونج حالت گوشہ دور پس کمر و خدا لیہ سند  
 یاد یعنی ہر و نماز حسب دستور تھہ پاٹھ اللہ تعالیٰ ان پٹھنا و وہ تھہ تہ پینہ تھہ زانہو۔ یعنی لڑا بیہ منز یاد شمنہ  
 سدہ خوف کمر وقتہ وودنہ یا سوار ی پیٹھ اشارہ سیت نماز پر ان چھوہ جائیز۔ مگر امن و امان یلہ حاصل سپدہ تلہ  
 گوشہ بیہ تھہ طریقہ نماز ادا کرن سمہ طریقہ خدا این حکم کور۔ سمہ آسہ کریمہ اندرہ چھو صاف ظاہر  
 سپدان کہ نماز و قس پیٹھ ادا کرن کوتاہ ضروری تہ لازمی چھو **وَالَّذِينَ يُتَوَقَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ  
 أَزْوَاجًا** بیہ ہم تو بہہ اندرہ مرئس قریب آسن (اے مردو) تہ پتھ گن تراؤن زنانہ تمن پزہ وصیت کرن  
**وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ** وصیتا پنے نین زنانہ ہدہ خاطرہ **مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرِ إِخْرَاجٍ** خرچ دنہ خیطرہ  
 اکس و رہس تان۔ بیہ گوشہ نہ گھر و منزہ کڈنہ تمہہ زنانہ **فَإِنْ خَرَجْنَ** پس ہر گاہ تمہہ زنانہ پانے درایہ  
 گھرہ اندرہ **فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ** پس چھو نہ تو بہہ کا نہہ گناہ اے اس یثہ سند یوار تو فی ما فعلن

فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۳۰﴾  
 وَاللَّمْطَلَقَاتِ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴿۲۳۱﴾  
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۲۳۲﴾  
 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ  
 فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى  
 النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۲۳۳﴾ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ

فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَّعْرُوفٍ تہ اندر یہ کیوں ہاہ تمہ زانہ کرن پنہ نس پانس منز کانہہ جائز کا ماہ۔ زینت یابیہ  
 کینہہ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو غالب حکمتہ وول۔ یہ حکم چھو منسوخ سپد مت وراشتہ کہ  
 حکمہ سیت وَاللَّمْطَلَقَاتِ مَتَاعُ بِالْمَعْرُوفِ۔ بیہ سکن زنان طلاق دنہ آمت آسہ تمن شو بہ خرج دین  
 ضابطہ موجب حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ یہ چھو لازم پر ہیہ گزارن پیٹہ۔ ساری مسلمان گے پر ہیہ گاری  
 كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ تہہ پاٹھہ چھو اللہ تعالیٰ وارہ بیان کران تہ ویرثہ  
 ناوان توبہ ہین آیات تہ احکام تہہ توبہ فخرہ ترہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ  
 الْمَوْتِ تہہ وچھونا تمن لوکن کن سیم درای ثلثہ خیطرہ پنہ نیوگرو اندرہ (تم آس واریاہ ساس لوکھ)  
 مرحبہ خوفہ۔ تہندس شہرس اندر یلہ طاعون ووتھہ یاد شمن سیت مقابلہ کر نک تاب اونکھ نہ تہ توے  
 ثل۔ تمو کور خیال ثلثہ سیت لبو آس مر نہ نشہ نجات۔ تقدیرس پیٹہ رودنہ راضی۔ تمہ پتہ یلہ وات  
 تم اکس میدانس منز فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا اتی فرموو کہ اللہ تعالیٰ ان مسرو۔ یکدم موو ساری  
 ثُمَّ أَحْيَاهُمْ توبہ گو کینہہ کالاہ (تہہ آٹھ دوہ تقریباً) اللہ تعالیٰ ان کمر تم بیہ زندہ تہہ تم امہ گنہہ نشہ توبہ  
 كَرْنَ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ پڑپاٹ اللہ تعالیٰ چھو فضل کرہ ون لوکن پیٹہ یکن پیٹہ تہ  
 کورن یکن فضل۔ بیہ زندہ کمر تہہ دیتھہ توبہ کر نک موقعہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ مگر اکثر لوکھ  
 چھنہ خدایہ سنز شکر گذاری کران وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ سَبِيحٌ عَلِيمٌ ای مسلمانو تہہ منہ

اللَّهُ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ سَبِيعٌ عَلَيْهِمْ ﴿۲۳۷﴾ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ وَيُؤْتِي مَنْ يَشَاءُ بِرُحْمَةٍ يُؤْتِيهَا مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۳۸﴾

اللَّهُ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ

آسومر نس کھوژان۔ تہہ آسوخدا یہ سزہ دتہ اندر خدایہ سندہ دینکہ تھزہ خپڑہ جہاد کران۔ جہاد کرنے خپڑہ تیار روزان۔ بیہ تھاو یقین اللہ تعالیٰ جھو سوڑی بوزہ ون سوڑی زانہ ون مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کہہ اکھاہ جھوئیس ووڑم دیہ خدائیس ووڑماہ رت یعنی تہزن وتن اندر کرہ مال پن خراج وڑھہ وانجہ۔ اتھ تھو واللہ تعالیٰ ان ناو قرض مجازہ پاٹھ۔ امہ اندرہ جھو مطلب جتھ پاٹھہ قرضک عوض ضرور جھو دنیوان، تھہ پاٹھہ بیہ ضرور خدایہ سند جھمہ موجب رژن وتن اندر مال خراج کر نک عوض عطا کرنے فَيُضِعُّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً پس کرہ تم عطا اللہ تعالیٰ حج مزور واریاہ گن زیادہ۔ کسی دہہ گن تہ، ستہ گن تہ، ست بہت گن تہ، ستہ ساسہ گن تہ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْضُطُ اللہ تعالیٰ ای جھورز قس اندر تنگی کران آزمانہ خپڑہ سوی جھورز قس اندر وسعت کران امتحانہ خپڑہ وَالَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کہہ نہ کانسہ گن ایو تہہ ساری واتانہ اَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَا تہہ وچھو ناشر یفن ہنزہ اگس جماعوں مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ یٰمُ بَنِي إِسْرَائِيلَ اسیلو اندرہ آس مِنْ بَعْدِ مُوسَى حَضْرَتِ مُوسَى سِنْدِہ وفاتہ پتہ اِذْ قَالَ الْبَنِيُّ لَهُمْ يٰلَهُ تَمُودُونَ پَنہ نس بینبرس حضرت شوبیس اَبْعَثْ لَنَا مَلِكًا مقرر کریون سانہ خپڑہ پادشاہ تہ امیراہ اکھ نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جتھ تہنزہ ماتحتی اندر اس خدایہ سندہ خپڑہ تہندس دشنس جالوتس سیت جہاد کرو قَالَ تَمِ بِنِبْرِنِ فَرَمُودُكْ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ کیا یہ ماسپدہ کہ اگر توہہ پٹھہ جہاد فرض آو کر نہ تہمہ پتہ گرونہ توہہ جہاد تمبو

دِيَارِنَا وَابْنَانَا فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالَ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا  
 مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۲۳۶﴾ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ  
 قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَأَتَىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ  
 عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ  
 قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَ  
 الْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۳۷﴾

دو پ اسہ کیاہ گوا اس کرو نہ جہاد خدایہ سزہ و تہ اندر و قد اخرجنا من ديارنا و ابنائنا حالانکہ اسہ  
 چھو تہندہ دستہ ذاتی تکلیف تہ و اتانہ نہ اُمّت اس چھہ جلا وطن کرنہ آمت، شر یو باژو و منزہ کڈنہ آمت  
 فَلَمَّا كَتَبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالَ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ پس بلہ فرض کرنہ آو تہن پیٹھ جہاد تمہہ وقتہ ژل تھہ  
 پھیر کھ۔ بز دل سپد۔ مگر نہ کیش و شخصو تمہواندرہ تم آس تریہ تہ تہ تہ ترواہ شخص وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ  
 اللہ تعالیٰ چھو پوزانہ ون ظالمین تہ تا فرمان و قَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا  
 بیہ فر مو و تہن پیغمبرن ہن۔ پز پاٹ اللہ تعالیٰ ان کور مقرر طالوت تہندہ بادشاہ قَالُوا أَتَىٰ يَكُونُ لَهُ  
 الْمُلْكُ عَلَيْنَا دینہ لگ تہ تھہ پاٹھ چھو حق اسہ پیٹھ حکمرانی کرنک و نَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ اس  
 چھہ پانہ حکومت کرنک حقدار تسنہ خوتہ۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ بیہ چھونہ تس وسعت مال د  
 دو لتس اندر سانہ کھوتہ زیادہ کینہہ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ پیغمبرن فر مو و کھ پز پاٹھہ اللہ تعالیٰ آن  
 کور سو ی برگزیدہ تو بہہ پیٹھہ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ بیہ کرن تس زیادتی عطا کلس منزتہ تہ  
 جسمس منزتہ اللہ تعالیٰ ان اوس تس علم سیاست علم تدبیر ملک علم حرب یعنی جنگ کرنک علم  
 عطا کور مت بیہ اوس سو قد بلند تہ خوبصورت وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ اللہ تعالیٰ چھو عطا کران  
 ملک ہن بس یڑھان چھو تہ تس۔ کانہہ چھونہ حق تس اعتراض کرنک وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ  
 چھو سیٹھاہ آسن دول۔ سو کربہ تس تہ وسعت عطا۔ سو چھو سیٹھاہ زانن دول۔ تمسی چھہ خبر کہہ تھہ قابل

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ  
 سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ  
 تَحْمِلُهَا الْمَلَائِكَةُ ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ٢٣٨  
 فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ  
 فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي ۖ وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي ۖ إِلَّا مَنِ

چھو۔ سمبو بنی اسرائیل و دوپ۔ سمیک کیاہ نشانہ تہ علامت چھو کہ اللہ تعالیٰ ان کیاہ چھو و قعی یسوی طالوت  
 حکمرانی خیطرہ مقرر کورمت **وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّنْ رَبِّكُمْ**  
 فرموو کہ پن پیغمبرن بیشک آسندہ بادشاہی ہند نشانہ چھو یہ کہ توہم نش و لہ سہ صندوق تہ اندر خدایہ  
 سندہ تہمدہ خیطرہ و لک قرار چھو **وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهَا الْمَلَائِكَةُ** بیہ کیہہ سچے مت  
 چیز تمبو چیز و اندرہ ہم چیز پتھ گن تراومت چھہ حضرت موسیٰ ان تہ حضرت ہارون تہ تا بوتس و اتاون  
 توہہ نشہ ملایک یعنی حضرت موسیٰ سند نعلین۔ حضرت ہارونہ سند عمامہ بیہ کیہہ حصہ من وصولو انک  
 بیہ تورا تہ کیہہ چہ **إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّكُم إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ** بیشک اتھ منز چھو پور نشانہ تہمدہ خیطرہ  
 چھوے تہہ پڑھ گروہن۔ اتی آئے ملائکہ سہ صندوق ہیہ توپتہ و اتوو کہ طالوتس نشہ بنی اسرائیل آس  
 سو حال پانہ و چھان۔ اتی کور تمبو تسلیم تہندس پادشاہتس۔ توپتہ سپد ساری آمادہ اسندس قیادتس اندر  
 جہاد کرنس پیٹھ۔ **فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ** ادہ یلہ دراو طالوت بنی اسرائیلن ہنز لشکر ہت۔ بیہ  
 اوس گر مگ موسم۔ فوجس لوج و تہ پکان سخت تریش۔ تمبو ژھونڈ آب **قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ**  
 دو پکھ طالوتن ای لوکو معلوم چھونہ توہہ اندرہ گس چھو مخلص تہ گس چھونہ مخلص۔ لہذا کرہ اللہ تعالیٰ  
 توہہ آزمائش بروٹھ اکہ دریاہ سیت **فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي** پس بس اکھاہ تہمدہ دریاوک آب  
 چہ سو چھونہ میون یعنی میانہ جماعتک **وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي** بس نہ سو آب تہمدہ تہ سوی چھو  
 میون **إِلَّا مَنِ اعْتَرَفَ غُرْفَةً بَيْنَهُمَا** مگرے کاژ شاہ دوژہ سیت تہ تہدہ دامہ ہناچہ۔ اتی آو بروٹھ دریاواہ



اعْتَرَفَ عُرْفَةَ بَيْدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ  
هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا الْوَاقِعَةُ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ  
قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقُوا بِاللَّهِ كَرَمًا مِنْ فِتْنَةٍ قَلِيلَةً  
غَلَبَتْ فِتْنَةٌ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۳۶﴾ وَلَمَّا  
بَرَزُوا لِلْجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ  
أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۳۷﴾ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ

اکھ مگر یمن رُودنہ طالوتہ سند اتھ متعلق بیان کُرَن یادے فَشَرِبُوا مِنْهُ یمن آس سخت تریش لُحْمُو۔  
تمو چوید برستھ آباہ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ مگر نہ کم کئیو و تمبو اندرہ۔ تمو کور صبری فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ  
امْتُوا مَعَهُ پس یلہ طالوت بے تم بالیمان تم اتھ امتحان سنز کامیاب روو تمونہ آب چوویا تمبو اتھ  
سیت تلتھ کم دامہ ہناہ چہ تم آس ترہ ہت تہ تراہ۔ تمے یلہ لمہ دریاوہ لشہ پور تر۔ پور تر تہ وچھ  
تمو دشمنہ سنز لشکر یعنی جالوتہ سنز قَالُوا الْوَاقِعَةُ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ جالوتہ سنزیہ لشکر وچھت  
کھوڑ پنے لگ اسہ کتہ چھو طاق ت جالوتس تہ تہنزہ لشکرہ سیت جنگ کر تک قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ  
مُلِقُوا بِاللَّهِ مگر یمن یقین اوس پنہ نس خدا یس سیت ملاقات کر تک تمو دو پکھ کم مِّن فِتْنَةٍ قَلِيلَةً  
غَلَبَتْ فِتْنَةٌ كَثِيرَةٌ بِإِذْنِ اللَّهِ پروامہ برو کینہ۔ کثیراہ کمی یہ جماعہ آسہ تے سپزہ غالب وار یمن جماعتن  
پیٹھ خدایہ سندہ لحمہ سیت وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ اللہ تعالیٰ چھو صبر کر وین سیت سیت  
وَلَمَّا بَرَزُوا لِلْجَالُوتَ وَجُنُودِهِ تمہ پتہ یلہ طالوتہ سند فوج دراو جالوتس تہ تہندس فوجس سیت  
مقابلہ کرنہ خیطرہ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ دعا لگ  
کرنہ اے سانہ پروردگارہ ژہ تراوہ پیٹھ صبر واستقلال بیہ در او قدم سان بیہ کریاری اسہ غلبہ وہ  
کافرن ہندس قوس پیٹھ فَهَزَمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ پس دیت شکست طالوتہ سنزی لشکرہ ہتھ منز حضرت  
داؤد اوس اکھ سپاہ جالوتس تہ تہنزہ لشکرہ خدایہ سندہ لحمہ سیت وَقَتَلَ دَاوُدُ الْجَالُوتَ حضرت

وَقَتَلَ دَاوُدَ جَالُوتَ وَاتَّهَىٰ اللَّهُ الْمَلِكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَيْهِ مِمَّا  
يَشَاءُ ۗ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ  
الْأَرْضُ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٢٥١﴾ تِلْكَ  
آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢٥٢﴾  
تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُم عَلَىٰ بَعْضٍ مِّنْهُمْ  
مَّن كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۗ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ

داوودن مور جالوت یلہ طالوتن لشکرہ منزاعلان کور کہ کوہ اکھاہ مارہ جالوتس۔ تس کرہ یونپنہ صاجزادہ  
سیت نکاح بیہ دمس نصف سلطنت حضرت داوود راو برونظہ گن دوہین بو کرہ یہ کوم۔ چنانچہ یان مقابلہ  
سپد حضرت داؤد آو جالوتس قتل کر تھ تو پتہ کور طالوتن وعدہ پن پور۔ دامادہ بناؤن بیہ تھوون  
سلطنتک شریک پانس سیت۔ پتہ یلہ طالوت بیٹس اگس لڑایہ اندر شہید سپد پتہ سپد ساری مملکتک  
پادشاہ حضرت داؤد وَاتَّهَىٰ اللَّهُ الْمَلِكَ وَالْحِكْمَةَ اللہ تعالیٰ ان کور حضرت داؤدوس عطا پادشاہت تہ  
حمت وَعَلَيْهِ مِمَّا يَشَاءُ بیہ بچھناؤن تم تم چیز سم تس خوش کمر وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم  
بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ ہر گاہ نے اللہ تعالیٰ اڈیو لو کو سیت اڈین لو کن ہند شر دور کرہ ہاملک گڑھہ ہاتباہ تہ  
بر باد کفر و شر کہ سیت فتوتہ فسادو سیت وَلَٰكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ مگر اللہ تعالیٰ چھو فضلہ وول  
مخلوقن بیٹہ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّكَ لِمِنَ الْمُرْسَلِينَ سم قصہ برو نکھین لو کن  
ہند چھہ نن نشانہ پروردگارہ سہہ قدر تک ایم آس توہہ بیٹہ پر ان چھہ پزپاٹ تہ چھہ جدہ دلیلہ تھہ بیٹہ  
کہ تہہ چھوہ بیٹک پیغمبر واندرہ۔ تِلْكَ الرُّسُلُ تم پیغمبر یمن ہنز ذ کر تھہ سورہ شریفص منز آیہ  
کر نہ یا تہو پیغمبر واندرہ تہہ چھوہ فَضَّلْنَا بَعْضَهُم عَلَىٰ بَعْضٍ فضیلت ڈیت اسہ تمواندرہ بعضی  
پیغمبرن بعضین بیٹہ۔ مِنْهُمْ مَّن كَلَّمَ اللَّهُ تمواندرہ چھہ بعضی تم سمین سیت اللہ تعالیٰ ان کھہ گڑہ  
بلا واسطہ مثل موسیٰ علیہ السلام وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ بعضین ہند درجہ کمرن بلند تم کمرن خاص تمو

مَرِيَمَ الْبَيْتِ وَأَيُّدُنُهُ بَرُوجِ الْقُدُسِ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ  
الَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيْتُ وَلَكِنْ ائْتَفَقُوا  
فِيهِمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا  
وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انْفِقُوا  
مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعُ فِيهِ وَلَا خِلَّةٌ وَلَا  
شَفَاعَةٌ ۗ وَالْكَافِرُونَ ۗ اللَّهُ لَإِلَهٌ الْإِلَهِ الْأَحْيَ

خصوصاً تو سیت تم نہ بین آئی عطا کرنے۔ حضرت ابراہیم خلت۔ حضرت داؤد نسل ملک تہ نبوت  
حضرت سلیمان تسخیر جن وانس و ہوا۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت عامہ ختم  
نبوت۔ معراج جسمانی۔ سیر ملک و مملکت بے کمال قرب و ائینا عیسیٰ ابن مریم البیت بے  
کرہ اسمہ عطا حضرت عیسیٰ اس نسل فرزند حضرت مریمہ سندھو، منہ دلیلہ، بڑی معجزات و ائینہ بروج  
القدوس بے کور اسمہ تمن تائید جبریل امینہ سندہ سیت۔ سواوس تہمدہ حفاظتہ خیرہ تمن سیت سیت  
آسان و لو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعدہم تو پتہ ہر گاہ اللہ تعالیٰ یرہہ ہا سارنی لو کن ہند ہدایت  
تیلہ کرہ ہن نہ تم لو کہ تم پیغمبرن پتہ آئی پانہ وان اختلاف تہ قتل و قتال و خونریزی من بعد ما  
جاءہم البیت نہ دلیلہ تمن نعمہ واتتہ پتہ و لكن ائتفقوا فیہم من امن و منهم من کفر مگر تمہو کور  
اختلاف سمہ سببہ تمہو قتل و قتال تہ خونریزی تہ کمر۔ چنانچہ تمہواندرہ رود بعضے حقس تہ ایمانس پیٹھ  
ثابت، بعضیو کور تمہواندرہ کفر تہ انکار حقیقت جھہ و لو شاء اللہ ما اقتتلوا ہر گاہ اللہ تعالیٰ یرہہ  
ہا تمن سارنی ہند ہدایت تم اختلاف تہ قتل و قتال و خونریزی کر ہن نہ و لكن اللہ یفعل ما یرید لیکن  
اللہ تعالیٰ سند ارادہ اوس ستھہ پاٹھ۔ سو یہ یرہان چھونپنہ حکمتہ سیت تہ چھو کران پنہ قدر تہ سیت۔  
یا ایہا الذین امنوا انفقوا مما رزقناکم اے بالیمانو خرچ کرو تمہہ مالہ اندرہ نسل اسی عطا کور تو بہ۔  
من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خیلۃ ولا شفاعۃ سو خوفناک دودہ ینہ بروٹھہ سمہ دودہ نہ ہیون

الْقِيَوْمَ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي  
الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ  
أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا

کُنن آسه نہ یار برادری آسه نہ سفارشہ ہند کانہہ سلسلہ آسه وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ کافر ی چھہ بڈ ظالم۔ سمو پنہ نس پانس ظلم کور کفر و شر کہ سیت۔ خدایہ سزہ نافرمانی سیت۔ تمنی نہ دیہ کانہہ ہنز دوستی فائدہ نہ کانہہ ہنز سفارش۔ ای باایمانو تہہ مہہ ہو تم ہی اِنَّهٗ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ اللّٰهُ تَعَالٰی گو سؤی کانہہ اکھاہ چھونہ عبادتس سزاوارتس و رای الْحَيُّ الْقَيُّومُ سؤی چھو پانہ زندہ بین سارنی زندہ تھواہ وَاَنْ لَا تَأْخُذَهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ کھسان چھہ تس نہ پنک تہ نہ نندر۔ یعنی مغلوب چھہ تس کر ان نہ لوژ نندر تہ نہ گوب نندر لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ تہندوی چھوتہ سوروی یہ آسمان اندر چھو بیہہ زمینس اندر چھو مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ اِلَّا بِاِذْنِهٖ کس اکسد طاقت تہ جرات چھو سؤ کیا کرہ کانہہ شخصس سفارش تس نشہ تہندہ حکمہ تہ اجازتہ وراے۔ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ سو چھو پانے زمانان مخلوقن ہند ساری حالات۔ تم تمک بر و تھہ کنہ چھہ بیہہ تم تمک پتہ کنہ چھہ یعنی پوشیدہ تہ تن حالات۔ حاضر و غائب حالات ظاہر و باطن حالات زندہ و ن چھو سؤی لہذا سفارش کرہ و ن کیاہ چیز بیجہ تمہو حالاً تو علاوہ پیش کثرت وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ اِلَّا بِمَا شَاءَ مخلوق بیجہ نہ احاطہ کثرت کنہ چیزس تہندہ علمہ اندرہ مگر تیزوی ہنہ سیت ایڑہن سویشہہ۔ حدیث شریفس اندر چھو کہ حوض کوثرس پیٹھ یں مہ پیش کر نہ کینہہ لوک۔ تہ یں پکانو نہ جہنمس کُن۔ بہ دپہ تم چھہ میان تم چھہ میان۔ تم کیا زہ نیو کہ جہنمس کُن۔ دپنہ اسم اِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا اَحَدٌ نَّوَابِعِدُكَ توبہ نہ حض چھو نہ پتہ سمو کیاہ نوو روو توبہ پتہ دینس اندر۔ وَاَلَمْ يَجْعَلْنَا اَنْدَرہ چھہ اکھ جماعتھاہ معتزلہ۔ تم چھہ انکار کر ان شفاعتس۔ مگر اہل سنت و جماعتن ہند اعتقاد چھو اللہ تعالیٰ یمن شفاعت کر تک اختیار دیہ تم کرن ضرور شفاعت تہ تہند شفاعت کرہ اللہ تعالیٰ قبول۔ اللہ تعالیٰ ان چھو سانس رسول کر سمس عَلَيْهِ وَاَعَدَّ كُورْمَتٍ شَفَاعَتِكْ۔ تم کرن پنہ نس اُتس ضرور شفاعت۔ تمو فر موو حدیث شریفس اندر شَفَاعَتِيْ لِاَهْلِ الْكِبَايِرِ مِنْ اُمَّتِيْ میون شفاعت چھو بڈین گنہ گارن ہندہ خیطرہ میانیاوتیو اندرہ۔ مگر تم تہ ہن گوڈہ

شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ﴿٢٥٥﴾ لَأَكْرَاهُ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ

اللہ تعالیٰ اس شفاعت کر تک اجازت۔ چنانچہ عرش مجیدس بروٹھ کنہ یتھہ دن تم دنیا کین ستن دوہن برابر کنوی سجدہ۔ تھہ سجدس منز پر ن تم تم حمد و ثنا پروردگارہ سجدہ۔ ہم نہ کانہہ پر مت آکن۔ سترہ دوہ فرما دیکھ اللہ تعالیٰ تلوحض تھودر مبارک سل نعط و اشفع نشفع مگو ہزیہ مگو تہ کردوہ عطا۔ بیہ کمر و شفاعت۔ تھہ شفاعت کرو اس قبول۔ امہ اجازتہ پتہ کرن تم ادہ شفاعت۔ مگر تھس چھہ وارہ اکھ کتھاہ سو چلس قابل۔ سو گنیہ بیہ تھہ کہ کانہہ اکھد گڑھہ نہ ناجیزتہ حرام چیز، ممنوع کام کرنس پیٹھہ یافرائیس تہ واجبات تراونس پیٹھہ آمادہ سپدن تہ جرأت کرن۔ شفاعتس پیٹھہ اعتماد تہ بھروسہ کرت یعنی کانہہ دیہ بہ کہہ تہنز مخالفت تہ نافرمانی تم کرنم شفاعت بیہ چھو عقلہ تہ انصافہ نثہ سیٹھاہ دور تمہ علاوہ چھویہ محض اکھ خیالہ باطل تہ بے بنیاد۔ اللہ تعالیٰ چھوپانہ فرماوان قرآن مجیدس اندر وَمَنْ يَثْقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا اُس اکھہ مخالفت کرہ سانس پیغمبرہ سز احکام تس نش وارہ پاٹھہ واتنہ پتہ بیہ کرہ سو پیر دی بایمان ہنزوتہ وراپی بیہ کنہ و تہ ہنز۔ پکا وون اس سوتی و تہ یاسہ و تھہ تم اختیار کمر۔ بیہ و اتنا وون اس سو جھنٹس یوسہ سیٹھاہ پیٹھہ جای چھہ۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ ویرا وہ گری ٹھہد پانس منز آسمانس تہ زمینس تیوت چھو بوڈ تہ کھول۔ حدیث شریفس منز چھوست آسمان چھہ کر سیس منز تھھی پیٹھہ ست ہنیشہ چھہ بڈس میدانس منز۔ عرش مقابلہ چھو کر سی تھوی پیٹھہ اکھ ہنیشہ چھو بڈس میدانس منز۔ تہ گو معنی احاطہ کرت چھو ٹھہد علم آسمان تہ زمین وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا تھکر اوان چھو نہ تس یعنی دشواری تہ تکلیف منز چھنہ تراوان تس آسمان تہ زمین راجھہ تہ حفاظت کرن وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ بیہ چھو سیٹھاہ عالی۔ تھندس علوس نما۔ تھاہ چھنہ سو چھو سیٹھاہ بوڈ۔ تھندس۔ بجز نما۔ تھاہ چھنہ۔ لَأَكْرَاهُ فِي الدِّينِ زور تہ زبردستی چھنہ دینس اندر قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ کیازہ ۶ پز پات وارہ نیو و بذات خود بیہ دیلو سیت۔ ہدایت تہ گمراہی، ایمان تہ کفر حق تہ باطل پوز تہ اُپز فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ پس اُس

بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۵۶﴾  
 اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ  
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ  
 إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۳۵۷﴾  
 اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِي حَآجَّ اِبْرٰهٖمَ فِى رَبِّهٖ اَنْ اَشْهٖ اللّٰهُ  
 الْمَلِكُ اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّى الَّذِى يُعْبٰى وَيُبَدِّئُ قَالَ اَنَا

اکھاہ انکار کرہ باطل تہ ایزین معبودن شیطان وغیرن اقرار تہ پڑھ کرہ کئس معبود برحقس فَقَدْ اسْتَمْسَكَ  
 بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ پس بیشک تمی کر تھپ محکم گندس رزہ ہندس۔ سو گو حدیث قال اللہ قال رسول  
 اللہ۔ لَا انْفِصَامَ لَهَا تھہ نہ ڈبجر چھوٹنے قسمہ۔ یوسہ نہ مژراونہ بیہ زانہ تہ۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  
 اللہ تعالیٰ چھو سو زوی بوزہ ون سو زوی زانہ ون اَللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ تعالیٰ چھو دوست تہ مددگار  
 ایماندارن ہند تہ مو طاغوتن انکار کر تھ کئس خدائس پڑھ کر يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ سو چھو  
 تمن کھر چوتار کیو منزہ کڈت یا لوب رتھہ اسلامکس نوس اندرو اتاوان وَالَّذِينَ كَفَرُوا سو لو کو خدائس  
 معبود برحقس انکار کور اُولَئِكَ هُمُ الطَّاغُوتُ تہند دوست گے شیطان يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ  
 تم چھہ تمن اسلامکہ نورہ نشہی کڈت یا لوب رتھہ کفر چن تاریکین اندرو اتاوان اُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ  
 فِيهَا خَالِدُونَ تھے لو کہ چھہ نارہ وال تھہ منز تمن ہمیشہ روزن چھو خدائس گرفتار اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِي حَآجَّ  
 اِبْرٰهٖمَ فِى رَبِّهٖ اَنْ اَشْهٖ اللّٰهُ الْمَلِكُ تھہ وچھو ناے پیغمبر یا زیہ وچھو ناے وچھہ ونہ تس شخصس کن  
 یس ناؤوس نمرو د۔ سیم بحث کرو حضرت ابراہیمس سیت تھندس پروردگر ارہ ہندس وجودس متعلق کیا زہ  
 اللہ تعالیٰ ان اوس دتمت ملک تہ پادشاہت باوجود آل اوس خدایہ سندس وجودس مکر اِذْ قَالَ اِبْرٰهٖمُ رَبِّى  
 الَّذِى يُعْبٰى وَيُبَدِّئُ یہ بحث سپد تھہ وقتہ یلہ تم پر تھہ حضرت ابراہیمس علیہ السلام تھندس پروردگار سند  
 شان کیاہ چھو۔ حضرت ابراہیمن فر مووس میون پروردگار گو سوئی یس سارنی زندہ کران چھو بیہ ماران

أُحْيِ وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالسَّمْسِ مِنَ  
 الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ  
 لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۲۵﴾ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَ  
 هِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ  
 مَوْتِهَا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ  
 قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَلْ لَبِثْتَ مِائَةَ

چھو قَالَ آكَأُحْيِ وَأُمِيتُ نمرودن دوپ بہ تہ چھوس زندہ کران تہ ماران قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي  
 بِالسَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فر موس حضرت ابراہیمن اللہ تعالیٰ سزہ بیا کہ کام چھہ  
 سُو چھو آفالس کھاران پرستھ دوہہ مشرق کہ طرفہ ژہ کھارتن اکہ دوہہ مغربہ کہ طرفہ فَبُهِتَ الَّذِي  
 كَفَرَ پس سپد بہ کافر نمرود حیران لاجواب تہ کینہہ پھورسنہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ  
 تعالیٰ چھونہ و تھ ہاوان ظالمین۔ یہ دلیل آس ذات باری تعالیٰ سیدس وجودس پیٹھ۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ  
 مرنہ پتہ زندہ کرنس پیٹھ زہ دلیلہ فرماوان أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ بیہ و چھتھناژیہ تس شخصس کن بس  
 پوک اکہ شہرہ کن وَ هِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا سو شہر اوس منہدم تہ ویران سپد مت مکانن ہند پیش  
 آس دبہ بیٹھمت تمہ کینن ژ کینن پیٹھ۔ سو پکہ ون اوس حضرت عزیز۔ شہر اوس بیت المقدس بس بخت  
 نصران اوس ویران تہ تہاہ کورمت۔ امی ویران شہرہ کن یلہ حضرت عزیز پوک سیت اوس سوار ی ہند کھر  
 بیہ توشہ دالس منز کینہہ چینک چیز قَالَ دینہ لوگ پان پانس سیت أَنَّى يُحْيِي هَذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا  
 کتھہ سنا پٹھہ کرہ اللہ تعالیٰ تھہ شہرس آباد (بیہ) اکہ ویرانی پتہ۔ یہ وون نہ تمونامکن زانتھ بلکہ ونوکھہ مہ  
 گڑھہ کج کیفیت معلوم سپدن فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِائَةَ عَامٍ پس کر اللہ تعالیٰ ان تہنز زندگی زایل یعنی ماتم اللہ  
 تعالیٰ ان آس بس و رہس ثُمَّ بَعَثَهُ توپتہ کرن اکہ ہتہ و ہر بیہ زندہ توپتہ تلن تھود قَالَ پر ژھنس پانہ یا  
 ملکہ سندہ ذریعہ کج لَبِثْتُ ژہ کیتس کالس ٹھہر پوک کیتس قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ بو ٹھہر یوس

عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَايِكَ كَمْ يَتَسَنَّهٗ ۖ وَانظُرْ  
 إِلَى حِمَارِكَ ۖ وَلَنَجْعَلَ لَكَ آيَةً لِلنَّاسِ ۖ وَانظُرْ إِلَى  
 الْعِظَامِ كَيْفَ نُنشِرُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا الْحَمًا فَلَمَّا تَبَيَّنَ  
 لَهُ ۙ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۸۱﴾  
 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ ۖ قَالَ أَوْ لَمْ  
 تُؤْمِنُ ۖ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيُطَهِّرَ قَلْبِي ۖ قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً

غالباً دوس یا دوہہ خویہ کم کاس اؤس دوس قَالَ بَلْ لَيْسَتْ مِائَةَ عَامٍ اللہ تعالیٰ ان فرموس نہ بلکہ گویا وہ تیس تھہرت اکھ ہت وری قانظر الی طعامک وشرایک کم یتسنہ وچہ ون سان قدرت۔ ملاحظہ کرینہ نس کھن چینس کن۔ یوت کال گرتہت پھنہ سوکنتہ قسمہ ڈولکت تہ متغیر سپد مت و انظر الی حمارک بیہ وچہ ژہ پنہ نس کھر س کن تمس کیاہ چھو بیومت اؤجہ تان پھس دودر سمرہہ و لنجعلک آیة للناس بیہ چھوسون مقصد ژہ کرو تھہ اس لوکن ہندہ اعتمادہ خیطرہ پنہ قدرتک اکھ نشانہ و انظر الی العظام دون وچہ ژہ یمن کھرہ سزنن اؤجن کن کیتف نُنشِرُهَا کتھہ پاٹھہ ملہ ناو کہ اس تمہ اؤجہ ثُمَّ نَكْسُوهَا الْحَمًا توپتہ کتھہ پاٹھہ ولو اس تمن پیٹھہ مازہ بیہ چھو و چھانی یکدم سپد کھر زندہ توپتہ دو تھہ تھو دژن ناگ۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ ۙ اودہ یلہ بیہ سوروی حال تمس نیو و قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وپنہ لوگ بو چھوس یقین کران کہ بیشک پھو اللہ تعالیٰ پریتھہ چیزس پیٹھہ قدرتہ دول وَاذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ بیہ پاو وژ تیس تہہ سو وقت یلہ حضرت ابراہیمن عرض کور خداکس ای میانہ پروردگارہ مہ ہاوتہ کتھہ پاٹھہ کرہ بکھ ژہ مردہ زندہ قیامتک دوہ بوھاوہ ہامیک علم حاصل کھر تھہ کیاہہ خبر چھایہ کافر نمرد ما پرژہ اتھ متعلق دوبارہ قَالَ أَوْ لَمْ تُؤْمِنُ اللہ تعالیٰ ان فرموس کیاہہ ژہ آئی نا پھہ ونہ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيُطَهِّرَ قَلْبِي دہن گڑھما پرژہہ بین مگر امہ عرض کرنہ اندرہ چھو میون مطلب پھہ میون دل مطمئن سپدت چانین دشمن سیت بحث کرنہ خیطرہ قوی سپدہ۔



مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ  
 جُرُءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعِيًّا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
 حَكِيمٌ ﴿۲۶﴾ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
 كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَايِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ  
 وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۷﴾ الَّذِينَ  
 يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَّا أَنْفَقُوا

قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ إِنَّ فَرْمُوسَ وَفَخْدًا أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ بِسَ رَمَكِ ذَهَبًا زُورًا جَانُورًا - مَوْرًا، كُوْمَرًا، كُوْمُرَةً كَاو  
 فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ بِسَ رَهْمَكْهُ كِنِهِنَه كَالَاهَا نَسْ نَشَه - وَارَه تَهْلَاكَه وَنَه - تَوَيْتَه مَارَكَه - كَلَه تَهْمَد تَهَاوَالِك - بَدَن  
 تَهْمَدِيْنَ كَرُكْفَتَه - تَهْمَد مَازَلَه نَاوَاكْ اَكْسَ سِيْت - ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُرُءًا تَوَيْتَه تَهَاوَرَهْمَه كُوْمَسَ  
 بِئِيْطَه تَهْمَدَه مَلْنَاوَمَه مَازَه اَنْدَرَه اَكْه اَكْه حَصَه - ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِيَنَّكَ سَعِيًّا تَوَيْتَه وَه تَمَن اَلَا - تَمَّ يَنْ تَزِيَه  
 نَشَ دُوْرَانِ دُوْرَانِ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ تَوَيْتَه زَانَ ذَهَبِيْشَكِ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَجْهَوُ پَرَهْمَه جِيْزَسَ بِئِيْطَه  
 قَدْرَتَه دُوْل - حَمْتَه دُوْل مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِثَالِ تَمَن لُوْكَن هَنْزِيْمِ خَرْجِ  
 چَهه كِرَانِ مَالِ بَنِ خَدِيَه سَنْزَه وَتَه اَنْدَرِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَبْعَ سَايِلٍ تَمَه پَهْلُجِ مِثَالِ تَهْمَه نِيْرَانِ  
 چَهه زَمِيْنَسَ مَنْزُوْتَه تَه تَه بِيْلِ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّائَةٌ حَبَّةٌ پَرَهْمَه بِيْلَسَ چَهه اَسَانِ تَهْمَه تَهْمَه پَهْلِ وَاللَّهُ  
 يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ اَمَه عِلَاوَه چَهوَالله تَعَالَىٰ بَرَه رَاوَانِ بِيْئَه خِيْطَرَه يَرْشَاهَانِ چَهو وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  
 اللَّهُ تَعَالَىٰ چَهو وَسَعْتَه دُوْل تَسَ چَهْمَه كُنْه جِيْزِجِ كِي - اللَّهُ تَعَالَىٰ چَهو رَتَ زَانَ دُوْل - تَسَ چَهو مَعْلُوْمَ كَمَسْنَرِ كَبِيْئَه  
 نِيْتَه چَهه - تَمِيْنَتَه مَوْجِبَ چَهو سُوْوسَعْتَه عَطَا كِرَانِ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ  
 مَّا أَنْفَقُوا مَثًا وَلَا آدَى تَمَّ لُوْكَه تَمَّ خَرْجِ چَهه كِرَانِ مَالِ بَنِ خَدِيَه سَنْزَه وَتَه اَنْدَرِ تَوَيْتَه چَهْمَه پِيْتَه  
 تَمَسَ رُطَه وَنَسَ بِئِيْطَه اِحْسَانَتَه مَنْتَه تَهَاوَالِنَه چَهْمَسَ تَهْمَه رَنَكِ اِذَاوَاتَاوَانِ لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ هَنْزِ  
 مَزُوْرَه چَهو اَمَه خَرْجِ كَرُجِ تَهْمَدِ سَ پَرُوْرِدْ گَارَسَ نَشَ وَلَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَاهُمْ يُعْزَنُونَ بِيَه اَسَه نَه تَمَن

مَنَّا وَلَا آذَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ  
 وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۳۱۱﴾ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ  
 يَتَّبِعَهَا آذَىٰ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ﴿۳۱۲﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا  
 تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ  
 رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ  
 صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَّا يَقْدِرُونَ  
 عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۳۱۳﴾

کانہ خوفہ قیامتک دود نہ آسہ تمں کانہ غماہ قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتَّبِعَهَا آذَىٰ  
 رزق تھہ ون سائیس بیہ درگذر کرن یہ چھو بہتر تمہ خیراتہ کھوتہ پتہ تھہ رنگ تکلیف تہ اذہ آسہ واللہ  
 غَنِيٌّ حَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو آسن دول تہ بیہ ٹیڈ ہینہ وول۔ جلد چھونہ رٹان تہ گرفتار کران سائیس  
 تکلیف تہ اذواتا وونین۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ ای با ایمانومہ کمر و  
 خیرات پٹن بر باد منت تہ احسان تھا و نہ سیت۔ بیہ پامہ تہ اذہ دنہ سیت کَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ  
 تس شخصہ سہر پاتھہ بس مال پٹن خرچ کران چھو لوکن ہاونہ خیطرہ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ بیہ چھو  
 نہ سو پڑھہ کران کنس خدائیس تہ پتیس دوہس یعنی قیامتس فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ بس چھہ  
 تہنز مثال تمہ پشاجہ کنہ ہنز تھہ پیٹھہ میڑہ آسہ لار تھہ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا تھہ پیہ گئل رود۔ سومیڑہ  
 ایس پھلنہ بس تھا و ہ اتھہ کنہ چھلنہ چھو تھہ ترہ ہی۔ ہر تھہ آس۔ سمواتھہ کنہ ہنزہ میڑہ ہ پیٹھہ کینہہ وومت آسہ  
 لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا تم ممکن نہ کانہ چیزے حاصل کمر تھہ تمہ منزہ یہ تمو وومت آسہ۔ تھہ  
 پاتھہ تم خرچ کمر تھہ منت تھا وں یا کرن خرچ تھینہ تہ لوکن ہاونہ خیطرہ تمں چھونہ تھہ خرچ کر نس کانہ  
 ثوابہ تہ مزوریہ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ چھونہ و تھہ ہاونہ کافرن وَمَعْلُ الَّذِينَ

وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَ  
تَشْبِيئًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ  
فَاتَتْ أَكْطَافَهَا ضَعْفَيْنِ ۖ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ وَاللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۲۱۵﴾ أَيُودُ أَحَدَكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ  
تَجْوِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا مِنْ كُلِّ  
الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعْفَاءُ ۚ فَأَصَابَهَا  
إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَشْبِيئًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۖ وون گیه مثال تمن لوکن ہنز یم خرچ کران  
چہر مال پن خدایہ سدر رضا تھانڈ نہ خیطرہ بیہ پنہ نین پان ہنڈ اعتقاد یقین صدقات و خیراتہ کس ثوابس  
متعلق مضبوطہ پختہ کرنہ خیطرہ کَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ ۖ تمہہ باغ مثال بس تھن رسن پیٹھ آسہ تمیم زمین  
سیٹھاہ رت آسہ أَصَابَهَا وَابِلٌ ۖ فَاتَتْ أَكْطَافَهَا ضَعْفَيْنِ ۖ تمہہ آسہ بیوان گئل رُود سمہ سیت تمہہ دو گن  
میوہ نیران آسہ ۖ فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ ۗ ہر گاہ گئل رُود چیس تہ نہ توتہ چھو تمہہ نیگ نیگ رُود پیوٹوی  
کانی سپدان رت زمین آسنہ موکھ۔ سٹھہ پاٹھ چھو اللہ تعالیٰ بالیمان بندن صدقات و خیراتن بد نفع تہ فائدہ  
عطا کران ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۖ یہ کیڑھاہ تہہ کران چھوہ تہ سوزی چھوہ اللہ تعالیٰ و چھان  
أَيُودُ أَحَدَكُمُ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ تَجْوِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۖ کیاہ توبہ اندرہ چھا کانہ  
تہ تمہہ پسند کہ تس کیا آسہ باغاہ، خضر کلن تہ دچھہ رائٹھن ہنڈ تمبوے کلیو منز آسن جوہہ پکان کہ فیہا مِّنْ  
كُلِّ الثَّمَرَاتِ ۖ آس شخص آس اتھہ باغس منز پر تھہ حنہ تمسک میوہ ۖ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعْفَاءُ ۚ  
آس شخص آسہ بجزک وقت آمت بیہ آسہ آس خام عیال ۖ فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ  
توپتہ واتہ اتھہ باغس آسندس تند ولواہ تھہ سیت نار تہہ آسہ یعنی نار سموم ای سیت پیہ یہ باغ دژتھہ۔ یہی

الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۳۰﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ  
طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا  
تَيَسَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا  
أَنْ تُغْضُوا فِيهِ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿۱۳۱﴾  
الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ

کیفیت چھہ بنان یتکین پیٹھ احسان تہ منت تھاوہ نہ سیت۔ اذہ تہ پامہ دنہ سیت۔ ریا کر نہ سیت۔ گنڈک  
یُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ یتھہ پاتھہ چھو اللہ تعالیٰ ویرثہ ناوان توہہ بہن آیات۔ یتھہ  
تہہ غور و فکر کتر تھہ بہن صدقات و خیرات منت تہ احسان تھاوہ نہ سیت۔ اذہ تہ پامہ دنہ سیت، لوکن ہاوانہ  
سیت ضابطہ تہ تہاہ کران آہونہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ** ای باایمانو خرچ  
آہو کران رثن کاہن اندر۔ تمہ اندر رت رت چیزہ تہہ زینان تہ کماوان چھوہہ **وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ** بہہ رت رت چیز تمہ اندر بہہ آسہ زمینہ اندرہ تہہہہ خطیرہ کھور۔ **وَلَا تَيَسَّمُوا الْخَبِيثَ** بہہ مہ  
آہو رڈی تہ خراب چیزن ہند قصد کران **مِنْهُ تُنْفِقُونَ** تہی رڈی چیزہ منزہ آہہو خرچ کران رڈی تہ  
کھوٹ چیز آہو ثارت تہ الگ کڈت تھاوان خدلیہ سہہہ خطیرہ وئس کیت۔ بہہ گوپست ہمت لاگن۔ کھوٹ  
پانسہ۔ کھوچہ روپیہ۔ کھوٹ پٹھہ ووٹ یاد زشرہ ژوچہ۔ دودر یومت غلہ مہ آہو خدلیہ سزہ وئہ دوان  
**وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ** حالہہ تہہ چھوہہ نہ سوی چیز پانس رٹہ ون کتہ صورتس اندر **إِلَّا أَنْ تُغْضُوا  
فِيهِ** مگر تہہ سائہ اچھہہ بو تھہ تھہ اندر سہل انگاری کرو تہہ بل کتہ ہیو۔ **وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ  
حَمِيدٌ** وارہ زانوہ تھہ کہ اللہ تعالیٰ چھوہے نیاز حمد پنےہ آمت تعریف کر نہ آمت۔ تمس چھونہ تہندین  
رڈی مانن ہنز ضرور تھی۔ سوچھونہ راضی سپدان کھوٹو دیارو سیت۔ سوگتہ ہما خوش فقیرس مسکینس  
حاجت نیر نہ سیت۔ تمس بلہ نہ کھوٹ پانسہ کتہہ چلیو و تمس کیاہ حاجت دراؤ **الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ  
وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ** شیطان چھوہہ توہہہ کھوٹہ ناوان محتاج سپانس۔ بہہ چھوہہ امر کران توہہہ چھہ

يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۸۹﴾  
يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ  
أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿۳۹۰﴾  
وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ﴿۳۹۱﴾  
إِنْ تَبَدُّوا وَالصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَ  
تُوتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ

کامین ہند یعنی مخلک وَاللَّهُ يَعِدُكُمْ مَغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا اللہ تعالیٰ چھوہ توہمہ صدقہ و خیر اس پیٹھ  
وعدہ کران پتہ بدہ مغفر تک بیہ رزق اس اندر وسعتک وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھوپانہ آسن  
دول سوزی زانن وولل یُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ عقل ودانائی چھو عطا کران لیس یرشان چھو اس و مَن  
يُؤْتِي الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا لیس اکس عقل ودانائی ایہ عطا کرنہ پیشک اس او عطا کرنہ  
خیر کثیر۔ یعنی واریہ خیر وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ نصیحت چھنہ قبول کران مگر عقلہ والی وَمَا  
أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذِيرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ بیہ یہ کثیر ہاہ جہہ خرچ کرہ وہ  
یانذر تھو وہ کانہہ نذراہ پس چھو اللہ تعالیٰ تہ سوزی زانان وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ چھونہ  
ظالمین ہندہ خیطرہ کانہہ مدد گارہ اسم مخلہ سیت۔ احسان تھاونہ سیت، اذاندہ سیت، لوکن ہاونہ تہ تھیجہ  
سیت خیر اسمچہ ثوابہ نعمہ پنہ نین پانن محروم کرن یا اسم حرام مالہ سیت خیرات کرن۔ یا ایم نذرنا جائیز تھاون  
غیر اللہ یعنی خدا ایس ورا ی مخلوقن ہندہ خیطرہ یا اسم جائیز نظرن وفا کرن نہ إِنْ تَبَدُّوا وَالصَّدَقَاتِ  
فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُوتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ہر گاہ تُوہ ہن صدقات ن پاتھہ دیو  
جیتہ گو سیٹھاہ جان۔ مگر ہر گاہ لو تہ پاتھہ تہ ژورہ پاتھہ دیو بیہ دیو فقیرن سو چھو ژور بہترن پاتھہ تہ آسن والین

مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۲۴۱﴾ لَيْسَ  
 عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُشَاءُ وَمَا  
 تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا  
 ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّوقَ إِلَيْكُمْ  
 وَأَنْتُمْ لَا تَظُنُّونَ ﴿۲۴۲﴾ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي  
 سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ

دنه خوت۔ فرضک صدقہ آسہ ز کوٹہ وغیرہ ہیوسون پانٹھ دین چھو بہتر تھہ بیس تر رغبت پادہ سپدہ۔ ہر گاہ  
 فلک صدقہ آسہ سو چھو پوشیدہ پاشی دین بہتر تھہ ریالہ بیہ۔ **وَيَكْفُرُ عَنْكُمْ مِّنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ**  
**بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ** بیہ چھو اللہ تعالیٰ لمہ سببہ تھہ دین بعضی گنہن بخشایش تہ در گذر کران۔ بیہ چھو اللہ  
 تعالیٰ پورہ زمانہ بیہ تہہ کران چھوہ **لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يُشَاءُ** توبہ نہ  
 حض چھوہ مہ یار رسول اللہ سم کافر اہ راستس پیٹھ ان۔ مگر اللہ تعالیٰ ہی نیس یٹھہ تس کرہ ہدایت **وَمَا**  
**تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَا تُنْفِكُمْ** تہہ نیس مالہ خرچ کرو خدلیہ سندہ خیطہ تمیگ فاندہ چھوہ توبہ پانس **وَمَا**  
**تَنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ** توبہ چھوہ نہ خرچ کران خدلیہ سندی رضا حاصل کرنہ خیطہ **وَمَا**  
**تَنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُّوقَ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَظُنُّونَ** تہہ یہ کیوہا خرچ کتر ونہنہ مالہ اندرہ تمک ثواب تہ بدلہ  
 ایہ توبہ عطا کرنہ۔ توبہ کنہ قسمک ظلم بیہ نہ کرنہ۔ تہہ حق پیہ نہ ضائع کرنہ۔ **لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي**  
**سَبِيلِ اللَّهِ** خیرات گھہہ دین تمن فقیرن سم بند آسن کرنہ آمت خدلیہ سزہ وتہ اندر یعنی تہہ وقت  
 آسن مصروف دینہ جن تمنی کاین اندر یمن اندر عام لوکن ہندہ خیطہ بہتری آسہ۔ سوگو جہاد ہیو، تبلیغ ہیو طلب علم  
 دین ہیو۔ سم ہتھہ مصارف صدقا توادنرہ بہتر مصرف **لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ** یم نہ تی سببہ آسن  
 ہیکان اورہ یور پھیر تھہ رزق کمانہ خیطہ **يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعْفُفِ** ناواقف لوکھ آسن  
 تمن مالدار زمانہ تہہہ سوالہ نقشہ ہتھہ روز بچہ سبب **تَعْرِفُهُمْ بِسَيِّئَاتِهِمْ** تہہ پر زنا و بچہ تم تہہہ ہتھہ علامتہ

الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ  
لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ  
فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۝۴۳ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ  
بِالْئِيلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ  
عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۝۴۴  
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا أَلَّا يَكْفُومُوا الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ

سیت یعنی فادگی ہندہ سببہ آسن تہندہ بھہ زرد۔ لَا یَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَاقًا تم آسن نہ لوکن منگان چھہ  
لاگت وَا مَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ یہ کنیہ ہاہ جہہ خرچ کمر و مالہ اندرہ یمن مسکینن پیٹھہ یمن منزیم پانڑھہ  
صفت موجود آسن فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ پس اللہ تعالیٰ اس چھوتہ سوڑی معلوم الَّذِينَ يُنْفِقُونَ  
أَمْوَالَهُمْ بِالْئِيلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً سم لوکھ مال پٹن خرچ کران چھہ رات کیت یادولہہ  
لوت پانٹھہ یان پانٹھہ فَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تہندہ خیرہ ہہہ تہنز مزدور پروردگار س نش وَا  
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ بیہ آسہ نہ تمن کانہہ خوفانہ کانہہ غماہ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا سم  
لوکھ سوڈ کھیوان چھہ لَا یَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ تم دوٹھن نہ قیامتہ  
دوبہہ قبر و منزہ مگر تس شخصہ سندر پانٹھہ پس زورہ ژنڈ آسہ دژمژ شیطان کی سیت آسیس دماغ خراب  
گومت یعنی سیتہ لدہ ہو ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا یہ سزا آسہ تمن امی موکھ کہ تمہو کیا  
دوپ ہیون کنن یہ چھو بیازی ہو وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا حالانکہ اللہ تعالیٰ ان چھو ہیون کنن  
حلال کورمت۔ سوڈ چھن حرام کورمت حلال و حرام کرنگ اختیارہ دول چھو سوڑی یوت فَمَنْ جَاءَكَ  
مَوْعِدًا مِنْ رَبِّهِ فَآتِهِ فَإِنْ كُنْتَ مِنْكُمْ لَوْ لَمْ يَأْتِ بِمَوْعِدٍ مِنْ رَبِّهِ فَآتِهِ فَإِنْ كُنْتَ مِنْكُمْ لَوْ لَمْ يَأْتِ بِمَوْعِدٍ مِنْ رَبِّهِ فَآتِهِ

مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ  
 وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۹۰﴾  
 يَبْحَثُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَاقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ  
 كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿۲۹۱﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَقَامُوا  
 الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا  
 خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۲۹۲﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا

سوامہ سوڈ کہ معاملہ نشہ ہتھہ فلہ ماسلف و امرہ الی اللہ پس یہ کیوہا ہتھہ کن گذریو و تہ گوہند  
 وی ملک۔ فیصلہ ہند کر پانہ خدا و من عادہ سم لو کہ خدایہ سند حکم بوزتھہ بیہ دوبارہ کرن زاتھہ کمرتھہ  
 سوڈ کہ معاملہ فأولیک اصحاب النار ہم فیہا خلدون تے لو کہ گے دوزخی تم روزن تھہ  
 دوزخس منز ہمیشہ کیا زہ تمو کور خدایہ سند حکم نظر انداز یبحث اللہ الربوا و یریبی الصداقات  
 گالان ہتھو اللہ تعالیٰ سوڈس سوڈکین دیارن چھنہ کانہہ برکتھہ ہر راوان ہتھو اللہ تعالیٰ خیر اتس۔ اگس  
 ہتھو اللہ تعالیٰ ذہہ گن تہ ساسہ گن بیہ لچھہ گن تہ دوان واللہ لایحب کل کفار اشیم اللہ تعالیٰ اس ہتھونہ  
 پسند کہنی ناسپاس بندہ یس سوڈس حلال آسہ زانان کہنہ مجرم بندہ یس سوڈہ کس معاملس پیٹھہ ڈاڈ آسہ  
 کمرت إن الذین امنوا و عملوا الصالحات و اقاموا الصلوة و اتوا الزکوة پزیاٹ۔ تمو لو گو ایمان  
 اون بیہ کرکھہ رزہ عملہ بیہ تھو کہ نماز پرپا۔ بیہ ڈرک مانج زکوة لہم اجرہم عند ربہم ولا خوف  
 علیہم ولا ہم یحزنون پس تہندہ خیطرہ ہتھہ تہنز مزدور ہندس پروردگارس نشہ بیہ آسہ نہ تمس کانہہ  
 خوفہ بیہ نہ کانہہ غماہ یا ایہا الذین امنوا اتقوا اللہ و ذروا ما بقی من الربوا ان کنتم مؤمنین ای با  
 ایمانو کھو ژو خدا ایس بیہ تراو سور تم یس باقی آسہ رودمت سوڈ کہ لو کن نشہ ہتھوے تہہ پزیاٹھہ با ایمان



اللَّهُ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۳۸﴾ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿۳۹﴾ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۴۰﴾ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۴۱﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَايِنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ پس ہر گاہ سودہ نشیہ پیٹھہ روزونہ تلہ روزو خبردار تہ تیار جنگ کرنہ خیطرہ خدائس تہ جہدس رسولس سیت وَاِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ ہر گاہ تہ توبہ کرو سودہ نشیہ پیٹھہ روزو تلہ ابوہ اصل رقم واپس دنہ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ نہ مہ کرو تہہہ کانہہ پیٹھہ ظلم۔ نہ بیہ توبہہ پیٹھہ کانہہ ظلم کرنہ وَاِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ اَگر قرضدار آسہ تنگدست فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ تس گڑھہ پیازن یوتان تس وسعت ہنہ وَاَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ دون ہہ تہہ سورقم صدقہس پیٹھہ تس قرضدارس تراو تہ چھو تہندہ خیطرہ بہتر۔ ہر گاہے توبہہ تمیک ثواب معلوم آسہ ہایا ہر گاہے تہہ مناسب زانو۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ بیہ کھوڑو تہہہ دوہس سمہ دوہنہ تہہہ واتاننہ ایو خدائس بروٹھہ گن ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ توپتہ بیہہ پریٹھہ آگس تمہہ ساری نیک و بدک بدلہ پورہ دنہہ تہم کورمت آسہ۔ بیہہ نہ تمن بہ بیچ وجہ گنہ قسمہ ظلم کرنہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَايِنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَالْكُتُبُہ ای با ایمانو تہہہ یلیہ قرضک لین دین آسہ کران گنہہ خاص مقرر مدتس تان، پس آسہ لیکھان وَلِيَكْتَبَ بَیْنَكُمُ الْكَاتِبُ بِالْعَدْلِ بیہ لیکھن بیہ کاغذ توبہہ اندرہ کانہہ لیکھن وولاہ پوز پوز۔ ئس نہ کی یا زیادتی کرہہ رقمس اندریا



وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ  
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ  
 لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً  
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا  
 تَكْتُبُوهَا وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبُ  
 وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَ  
 اتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۲۸۷﴾

دُعُوا گواہن ہند گروہ نہ انکار کرن یلہ تم گواہ روزنہ خیر ہ ناد آسہ یوان دنہ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ  
 صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ سستی مہ آسہ کران یہ معیادی کاغذ لیکن نہ لہ اده معاملہ لوگت آسٹن یا بوڈ  
 ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ یہ چھو تہندہ خیر ہ انصاف زیادہ قایم تھاوہون خدا بس نسیہ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ  
 یہ چھو یہ لیکن زیادہ قائم تھاوہون گواہیہ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا یہ چھو زیادہ نزدیک ہتھہ تھہ کہ توہہ  
 روزہ نہ شک نہ شبہ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً مگرے آسہ تجارتاہ فوری ہینہ دنک تَدِيرُونَهَا  
 بَيْنَكُمْ بس تجارت تہہ پانہ وان پھران آسہ یعنی ہینہ دول آسہ قیمت دووان کنن دول آسہ چیز پیش  
 کران فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا پس چھو نہ کانہ حرج توہہ ہر گاہ اتھہ صورتس  
 منز لیکان آسہونہ وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ یہ آسہ گواہ تھاوان یلہ تہہ خرید و فروخت کران آسہ۔  
 ہتھہ کانہ دو یواندرہ انکار کرہ وَلَا يُضَارَ كَاتِبُ وَلَا شَهِيدٌ نقصان گروہ نہ و اتناونہ سن نہ لیکن  
 والس نہ نہ شاہدن وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ہر گاہ توہہ نہ کورہ کاتین نہ شاہدن و اتنودہ  
 تکلیف نہ ضرر سو چھو تہندہ خیر ہ بوڈ گناہ وَ اتَّقُوا اللَّهَ کھوژو خدا بس ہمیشہ خصوصاً تمہ کامہ کرنس  
 اندر سمبول نسیہ منع آو توہہ کرنہ۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ چھوہ دین و دنیاچہ کامہ نہ احکام چھہ تاوان

وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ  
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ  
 رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ  
 بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۸۳﴾ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
 وَإِنْ تُبَدُّوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفَوُا يُحَاسِبْكُمْ بِهِ  
 اللَّهُ فَيَغْفِر لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ


والله بكل شئ عليم اللہ تعالیٰ چھو پرستہ چیز او پورزانہ دن و ان کنتم علی سفر و لم تجدوا کاتباً وون ہر گاہ تہہ آسو سفرس اندر تو پتہ لیون نہ تہہ کا نہہ لیکن وولہ تہہ سفرس منز فرہن مقبوضہ تہہ صورتس اندر گدھن بند تھو تک چیز پیش کرن یمن چیزن قبضہ کرہ قرضگ رقم وند وول فان اومن بعضکم بعضا پس ہر گاہ مطمئن آسہ تو ہہ اندرہ اکہ ہمیش پیٹھ یعنی اکہ اوس پیٹھ اعتمادتہ اعتبار آسہ فلیؤد الذی اؤتین امانتہ ولیتق اللہ ربہ پس ہمیش پیٹھ اعتمادتہ اعتبار آو کر نہ سو کرن ادا پین امانت۔ بیہ کھو ژن خدا یس پنہ نس پروردگارس تمسد حق مہ گھن ولا تکتوموا الشہادۃ اے مسلمانو مہ آسو گواہی کھٹان وامن یتکتومها فائتہ اثم قلبہ یس اکھاہ شہادتتہ گواہی کھٹان آسہ تمسند ول چھو گنہگار۔ یعنی سو مہ زنان یہ شہادت نہ دن ما چھو زیوہ ہندی یوت گناہ بلکہ چھو یہ دلگ گناہتہ واللہ بما تعملون علیم کیا زہ پرستہ گنہگ ارادہ چھو ولہ پیٹھے ووتھان۔ اللہ تعالیٰ چھو پور زنان یہ تہہ کران چھوہ ولویا تا نو سیت للہ ما فی السموات و ما فی الارض خدا یہ سندوی چھو تہ سوزی یہ آسمانن اندر چھو بیہ یہ زمینن اندر چھو۔ خود آسمان تہ زمین چھو تہندوی وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوهو یحاسبکم بہ اللہ ہر گاہ نہ را ووتہ یہ تہندین دلن اندر چھو یا کھٹھ تھاو۔ اللہ تعالیٰ چھو تہ سوزی زنان۔ تہہ سارسی پیٹھ ہیوہ سو حساب فیغفر لمن یشاء و یعذّب من یشاء تو پتہ یس خوش کریس تس کرہ مغفرت یس خوش کریس تس کرہ عذاب واللہ علی کل شئ قدیر اللہ تعالیٰ چھو پرستہ

شَيْءٌ قَدِيرٌ ﴿۲۸۷﴾ اَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ  
 الْمُؤْمِنُونَ كُلُّ اَمَّنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ  
 لَا نَفَرِقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا  
 غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيرُ ﴿۲۸۸﴾ لَا يَكْفُرُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا  
 وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا

چیزس پیٹھ قدرتہ دولیلہ یہ وان تُبَدُّوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تَخْفَوْا يَحْسِبْكُمُ اللّٰهُ نازل سپد صحابہ  
 صیب سپد غمگین عرض کوزکھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلمن ہندس خدقس منزکہ یارسول اللہ  
 یہ حض چھو سیٹھاہ مشکل سانہ خیترہ۔ فرمودہ کچھ کیاہ تہہ نہ ونوہ تی یہ یہودوتہ نصاروؤون پنہ نین  
 پیغمبرن سمعنا وعصینا تہہ مانو، تہہ کمر و تسلیم خدایہ سُنْد کُھم تہہ دپو سمعنا واطعنا بوزاسہ مون  
 اسہ۔ اللہ تعالیٰ کرہ توہہ پیٹھہ رحم۔ چنانچہ امیک نتیجہ دراولد اللہ تعالیٰ ان کمر نبی کریم صلی اللہ علیہ  
 وسلم سیت بالایمان ہند تعریف فرموان اَمَّنَ الرَّسُولُ بِمَا اُنزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ  
 پیغمبر برحقن کمر پڑھ تھہ ساری یہ نازل آدکمر نہ تمن پیٹھہ تہندس پروردگار سندنہ طرفہ بیہ کمر پڑھہ تھہ  
 بالایمانو كُلُّ اَمَّنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ پریتھہ اک اون ایمان کنس خدایس بیہ تہندین  
 ملائکن۔ بیہ تہنزن کتابن بیہ تہندین پیغمبرن ساری تہودوپ لَا نَفَرِقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ اس چھنہ  
 فرق کران پیغمبر واندردہ کانسہ اگس منز۔ اسہ نش چھہ ساری پیغمبر برحق۔ ہم حضرت آدمس علیہ الصلوٰۃ  
 والسلامس پیٹھہ حضرت محمدس صلی اللہ علیہ وسلم تان آی سوزنہ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا بیہ  
 دون بالایمانو بوزاسہ مون اسہ غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيرُ دون چھہ تھاندن اس چون مغفرت  
 ای سانہ پروردگادہ پتولا کہ چھو وائن ثرے نش لَا يَكْفُرُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا عبادتک تکلیف چھونہ  
 اللہ تعالیٰ دون کانسہ اگس مگر تہندہ طاقتہ موجب لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ پرت اگس چھو  
 ثواب تہہ کوی بیہ ہم کمومتتہ حاصل کورمت آسہ نکیواندردہ بیہ چھو پریتھہ اگس تہہ کوی عذاب تہ

تَوَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا  
 إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا  
 مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا إِنَّكَ  
 أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٧﴾

سزایہ تم گرمت آسہ بدیو اندرہ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ای سانہ پروردگارہ رطہ متہ  
 آسہ ہر گاہ آسہ کینہہ مشمت گویا خطا گو رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ای  
 سانہ پروردگارہ بیہ متہ کھارتہ آسہ پیٹھہ عبادتک سُورئیس یور کھو رتھہ ژبیہ تمن لو کن پیٹھہ سم آسہ  
 بروٹھہ آس رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ای سانہ پروردگارہ بیہ مہ ٹلنا واسہ سُور سمجھہ تلنگ  
 آسہ طاقتہ چھوندہ۔ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا بیہ کر عفو اسمہ۔ بیہ کر مغفرت اسمہ۔ بیہ کر اسمہ  
 پیٹھہ رحم أَنْتَ مَوْلَانَا ژبی چھو کہ سون مولانہ آئہ فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ پس کر ژہ  
 آسہ یاری تہ مدد کافرن پیٹھہ حدیث شریفس منز چھو آمت یلہ سم آیات کریمہ نازل سپد تو پتہ پتہ  
 حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سم آیات اللہ تعالیٰ ان فرما و کہ اگس اگس دعاء س پتہ ادہ  
 ہز۔ یعنی اجابت کو زم اسمہ اسمہ ٹھندین سارنی مطالباتن



## سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 اللَّهُمَّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۝ نَزَّلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ  
 بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ۝  
 مِن قَبْلُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا

الکفر خدایہ سی چھو معلوم امہ اندرہ کیاہ مراد چھو اللہ لاکلہ الاھوالحی القیوم اللہ تعالیٰ چھو معبود برحق۔ کانہہ معبوداہ چھونہ تس وراہی۔ سوی چھو زندہ مر نہ نشہ منزہ تہ پاک۔ سوی چھو سارنی زندن زندگی عطا کرہون۔ پانہ چھو قائم بذات خود۔ سوی چھو سارنی چیزن قائم تھاوہون۔ سوی چھو ازلا وابدأ موجود۔ تس وراہی تم چھہ تم ساری چھہ پنہ نس وجودس اندر۔ پنہ وجودہ کس حفاظت تہ راچھہ کرنس اندر۔ تس کن محتاج۔ لہذا چھونہ کانہہ اکھاہ عبادتس سزاوار تس وراہی۔ عبادت گنیہ عاجزی تہ پستی نراون۔ یہ شوبہ تمس بروٹھ گنہ نراون کس سیٹھاہ بے حدودے نہایت عزت تہ بجز آسہ۔ کس نہ حیات وبقاءس منز کانہہ کن محتاج آسہ۔ سو چھونہ کانہہ تہ تس کنس خدا کس وراہی۔ اتھہ کن نظر کمر تھہ شوبہ نہ بدن ہنز کانہہ بروٹھ گنہ عاجزی وپستی نراون تس عزت و عظمتہ ولس خدا کس وراہی نزل علیک الکتب بالحق تمی کر توبہ پیٹھہ بہ نازل یہ بد کتاب پناٹھہ یار سول اللہ مصدقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ چھہ حالتس اندر کہ یہ کتاب چھہ تصدیق کران کمن سارنی کتابن سمہ امہ بروٹھ نازل کرنہ آہی وَاَنْزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ \* مِنْ قَبْلُ یہ کور تمی نازل توراہیت تہ انجیل امہ بروٹھ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہس پیٹھہ توراہیت حضرت عیسیٰ روح اللہ ہس پیٹھہ انجیل هُدًى لِّلنَّاسِ سمہ دوشوبے کتابہ آسہ لوکن ہندہ خیطرہ بوڈہدایت وَاَنْزَلَ الْفُرْقَانَ یہ کرہ تمی نازل حضرت انبیاءن پیٹھہ تمہ کتابہ تہ تم معجزات سموسیت پمز تہ پمزس فرق سہز۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ بيشک تم لوکہ انکار چھہ کران خدایہ سندین کمن آیاتن تم تہندس وحدانتیس پیٹھہ دلالت چھہ کران لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ

بِآيَاتِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ۝  
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۝  
 هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ ۚ لَإِلَهَ إِلَّا  
 هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝  
 آيَاتُ مُحَمَّدٌ هُنَّ أَمْ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مَتَشَبِهَاتٍ فَأَمَّا الَّذِينَ

تہندی خیطرہ چھو سخت عذاب وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ اللہ تعالیٰ چھو غلبہ وول تہ قدر تہ وول بدلہ تہ انتقام ہینہ وول إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ بیٹک اللہ تعالیٰ اس نش چھونہ کانہہ چیزاہ کھٹھہ نہ زمین تہ نہ آسمان اندر لہذا چھو تمند علم نہایت کامل هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ سوگو سوئی قدر تہ وول بس ما جن ہندن شکمن اندر، چیرہ دانین اندر چھو توہمہ ساری شکل و صورتہ عطا کران۔ ہتھہ پاتھہ سو یڑھان چھو اکس اکھ صورت بیس بیاکھ صورت۔ ساری اعضاء ہتھہ اچھہ نس۔ آس۔ ڈیکہ ہوگن۔ سارنی برابر مگر باوجود آل چھونہ کانہہ کانہہ ہیو۔ امہ اندرہ چھہ ننان تہنز کمال قدرت پس سڈ ثابت کہ حیات کاملہ تہ تش یوت قیومیت تہ تش یوت۔ علم کامل تہ تش یوت۔ قدرت کاملہ تہ تش یوت۔ سم گئے اصول صفات۔ سم ساری چھہ موجود تس ذات پاکس اندر بدرجہ اتم بغایت کمال کانہہ ہندہ شرکتہ وراى۔ امی سیت سڈ ثابت کہ لآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ کانہہ اکھہ چھونہ عبادتس لایق معبود آس سزوارتس وراى الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سوئی چھو غالب توحیدہ کین مکران ہیچہ سوئی انتقام ہتھہ جتہ وول تہ چھو۔ تہ گو سین چھونہ مکران عذابس گرفتار کران۔ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ سوگو سوئی یم نازل کتر توہمہ پٹھہ یارسول اللہ بہ بد کتاب قرآن مجید منہ ایتُ مُحَمَّدٌ هُنَّ أَمْ الْكِتَابِ تمہ منزہ چھہ کینہہ آیات مضبوطہ حکم پنہ نین معین پٹھہ صاف تہ واضح تین پٹھہ احکامن ہند دارودار چھو وَأُخْرُ مَتَشَبِهَاتٍ بیہ چھہ کینہہ آیات امہ کتابہ ہند یمن ہندین معین ہتھہ بین لفظن ہندین معین سیت یمن آیاتن ہند معنی پرتھہ اکس معلوم چھونہ فَأَمَّا الَّذِينَ



فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ  
 الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ مَرُّ  
 الرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا  
 وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ④ رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ  
 هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ⑤

فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ ۱ پس تمہیں لوگوں ہندین دل اندر بھرتہ وٹھ چھو ۲ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ۳ تم  
 چھہ تمی بدیتی تہ بجرہ موکھہ پتہ لگان تمہی آیاتن تمہی ہمدہ معنی وضاحت چھہ آسان ابْتِغَاءَ  
 الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۴ فتنہ تہ فساد تھکھہ غرضہ بیہ پندہ طرفہ غلط معنی کرکھہ غرضہ بھتھہ لوکن اندر  
 شک تہ شبہات پادہ سپدن تم ڈلن راہ راستہ نشہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۵ حالکھہ تمہن آیاتن ہند  
 صحیح معنی چھونہ زانان کانہہ تہ اللہ تعالیٰ اس ورائے وَالرَّسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ۶ توے تم گائل تہ پختہ کار  
 عالم چھہ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۷ تم چھہ وان اسہ اُون ایمان تمہن متشابہہ آیاتن ساری  
 آیات محکمہ تہ تہ تشابہہ تہ چھہ سانس پروردگارہ سندی طرفہ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ۸ صحیح تھہ سمرن  
 نہ قبول مگر عقلہ والی۔ تم عقلہ وال چھہ اتھہ پندہ نس صحیح طریقہس پیٹھہ آسٹس پیٹھہ تھیکان تہ تہیگان  
 بلکھہ چھہ تم خدایہ سزے مہربانی تہ نعمت زاتھہ تس بعاجزی منگان رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا  
 اِی سانہہ پروردگارہ ہل متہ کرچھہ ڈالتھہ متہ دل سان اسہ ہدایت کرنہ پتہ۔ وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ  
 رَحْمَةً ۹ عطا کر تہ اسہ پن ہڈر رحمت۔ سورحمت گیدہ پتھہ اسہ تھواتہ قائم تہ محکم راہ راستس پیٹھہ إِنَّكَ  
 أَنْتَ الْوَهَّابُ ۱۰ پڑپاٹھہ ڈی چھہ سبھہ عطا کرہ ون۔ ہڈر رحمت عطا کرہ ون رَبَّنَا اے سانہہ پروردگارہ  
 اَس چھہ بیہ دُعا منگان تھہ دُنوی غرضہ خیطرہ بلکہ چھہ اَس یہ دُعا کران محض چانہہ آخرچھہ عذلبہ نشہ  
 چھہ خیطرہ کیا زہ اسہ چھہ پڑھہ۔ إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ أَدْرَبْتَهُ فِيهِ ۱۱ بیشک ڈی چھہ سونبرہ ون  
 ساری لوکن محشر کس میدانس اندر تمہہ دوہہ یمہ دوہہ کس یس منز کانہہ شک تہ خُبہ چھونہ۔ کیا زہ تہیہ

رَبَّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ أَرَادَ رَبُّكَ فِيهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ  
 الْمِيعَادَ ۙ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ نُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا  
 أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ ۙ كَذَّابِ  
 آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَآخَذَهُمُ  
 اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۙ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا  
 سَعْتٌ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۙ وَتَحْشُرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْبِهَادُ ۙ قَدْ كَانَ

چھٹ تئمہ دوہجہ تک پانہ وعدہ فر موومت اِن اللہ لا یخلف المیعاد پڑیاہم اللہ تعالیٰ چھونہ ہر گز پنے  
 نس وعدس خلاف کران اِن الذین کفروا لن نغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئاً بیشک  
 سمولو کو کفر سے انکار کور ہر گز ہیچنہ تم نفع سے فائدہ و اتناوتھ نہ تہند مال ودولت نہ تہند اولاد خدا اس نے  
 کئی چیزک و اولیک ہم و قود النار یہ آسن تے یہندہ سیت نار جنم تاونہ یہ تہوند حال چھو کذاب  
 آل فرعون و الذین من قبلہم فرعون لوکن تہ یہ تہن کافرن ہند ہیو حال تم بروئھ آس کذبوا  
 بالآینا تمویہ کیا زمان لہر سان آیات توے کمر کھ نافرمانی فآخذہم اللہ بذنوبہم پس کمر تم گرفتار  
 خدا اس اللہ تعالیٰ ان پنے نین گنہن تہ نافرمانین ہندہ سببہ۔ واللہ شدید العقاب اللہ تعالیٰ چھو سخت  
 عذاب کرہون سخت سزاوہون قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَعْتٌ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَتَحْشُرُونَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْبِهَادُ  
 فرماوہنہ یارسول اللہ ﷺ یمن کافرن ای کافروہنہ سپد و جلدی مغلوب مسلمان ہندہ اتھہ دنیا س اندر تو  
 پتہ بیو سونبرت و اتناونہ نار جہنم۔ سوچھہ سیٹھاہ پچھہ جایاہ تہندہ ٹھہرنہ خیطرہ۔ تھہ منز قرارہ بدل  
 سخت بیقراری آسہ توہہ قَدْ كَانَ لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا تَتَّبِعِ الْأَوْسَ تَتَّبِعُوا هَيْدَرَةَ هَيْدَرَةَ هَيْدَرَةَ هَيْدَرَةَ هَيْدَرَةَ هَيْدَرَةَ  
 عبرت حاصل کرنگ نشانہ تم دون جماعتن ہندس مقابلہ کرنس منز سم میل اکھ اس سیت جنگ  
 بدرس منز فِتَّةٌ تَقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اکھ جماعت آس جماد کران خدا یہ سبہ خیطرہ یعنی حضرت محمد  
 صلی اللہ علیہ وسلم سز لشکر۔ تم آس تریہ ہتھہ تہ خرواہ (۳۱۳) صاحب۔ مہاجر و اندرہ ستہ ستھہ

لَكُمْ آيَةٌ فِي فِئَتَيْنِ التَّكَاثُفَةِ تَقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأُخْرَى  
كَافِرَةٌ بَرُّوهُمْ مِمَّنْ لِيَهُمْ رَأْيَ الْعَيْنِ وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ بِنَصَرِهِ  
مَنْ يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿۱۳﴾ زِين  
لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ  
الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ  
وَالْحَرِّثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ

(۷۷) انصار و اندر زه هتمه ته شیه تره (۲۳۶) صاحب۔ سیت آسکھ زه ۲ گمر۔ سته ۷۰ و ونه۔  
آه ۸ شمیرہ۔ شہ ۶ زہ۔ و اُخْرَى کافِرَةٌ بیاکھ جماعت آس خدا نِس انکار ته مگر کره ون ابو جهله  
سنز لشکر تم آس نوشته ته پنواہ ۹۵۰ زن تمن سیت آس اکھ ہتمہ گمر۔ سته ہتمہ و ونٹ بَرُّوهُمْ  
مِمَّنْ لِيَهُمْ رَأْيَ الْعَيْنِ مسلمان آس و چھان کافر ن پانس دو گن واره کاره اچھو سیت۔ باوجود آل آس  
قوت ایمانی سبب تمن سیت مقابلہ کرنہ خیطرہ تیار۔ تہمد حوصلہ آس بلند سپدان۔ نتہ گو معنی کہ کافر  
آس و چھان مسلمان پنہ خوتہ دو گن۔ تہمد حوصلہ آس بہت سپدان بکنہ گویہ یاری خدا وَاللَّهُ يُؤَيِّدُ  
بِنَصَرِهِ مَنْ يَشَاءُ اللہ تعالیٰ چھو یاری ته مدد کران نِس یڑھان چھو تس۔ ہتمہ پاٹھ یڑھان چھو تھ  
پاٹھ۔ لَاتَ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ پڑ پاٹھ ہتمہ جنگ بدرہ کس واقص اندر ہتمہ بڈ عبرت  
گا شدارن ہمدہ خیطرہ زِين لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ  
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرِّثِ زینت آودنہ لوگن ہمدہ خیطرہ نفسچن خواہشاتن ہمدس  
محبس۔ مثلاً زنانہ۔ غمر۔ گمر۔ بیہ سوئرمٹ واریاہ مال۔ سون ته روپھہ۔ بیہ نشانہ دار گمر۔ بیہ چار وای۔  
وونٹ۔ کُن ته تیر۔ بیہ زراعت۔ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بیہ سوڑوی چھو دنیا چہ ناپائیدار زندگی  
ہمد اکھ سامانہ۔ نہ دنیا س اعتبارنہ اتھہ سامانس کینہہ اعتبار وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَتَابِ اللہ تعالیٰ سی  
نِس چھہ جای رتھہ واپسی ہنز قُلْ أُوْتِيتُكُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكَ فَرَاو بوکھ تہہ یار سول اللہ کیاہ بو کرووہ توہہ

الْمَاءِ ۱۴) قُلْ أَوْبَسْتُمْ بِخَيْرٍ مِّنْ ذَلِكَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَدَّتْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ ۱۵) ع  
الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا أَمْنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۱۶) الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ  
وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالسَّحَارِ ۱۷) شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ

خبر تمجید ساروی چیز و خوتہ سیٹھا بہتر تہ افضل چھو للذین اتقوا عند ربہم جدت تجری من تحتہا الأنہار کھوژن تہندہ خیطرہ چھہ تہندس پروردگار س نش تم تم باغ سمومنز جو یہ پکان چھہ۔ خلدین فیہا تمنی باغن منز چھو تمن روزن تہ بسن ہمیشہ ابد الابد و ازواج مطہرہ بیہ چھہ تہندی خیطرہ تمن باغن اندر پاک و پاکیزہ زنانہ سمہ پاک و صاف آسن حیضہ نشہ، نفاسہ نشہ بیہ ساروی آلائیٹھوتہ گندہ گیہ نشہ و رضوان من اللہ بیہ چھو تہندی خیطرہ رضای خدا یوسہ ساروی نعمتو اندرہ بڈ نعمت چھہ واللہ بصیر بالعباد اللہ تعالیٰ چھو وارہ و چھان بدن ہند حال۔ پرستھہ آسں دیہ جزا پندہ پنہ کامہ ہند الذین یقولون ربنا انما منا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار تم متقی بہندہ خیطرہ سمہ مہربانی تہ انعامات چھہ۔ تہندہ صفت چھہ سم۔ تم چھہ عاجزی سان منگان آسان کہ سانہ پروردگارہ بیشک آسہ اوان ایمان۔ وون کر تہ سائین گنہن مغفرت۔ بیہ رچھتہ اسہ نار کہ عذابہ نشہ۔ بیہ چھہ تہندہ صفت الصابریں والصادقین والقانتین والمستغفرین بالسحار تم چھہ صبر کہ وون بیہ چھہ تم پوزونہ وون۔ بیہ چھہ تم فرمانبرداری کرہ وون بیہ چھہ تم رژن کائین اندر مال ٹین خرچ کرہ وون خدایہ سندہ رضا خیطرہ۔ بیہ چھہ تم گنہن مغفرت تہ بخشائیش معہ وون سحرہ کین و قن اندر پاس آخرس۔ کیا زہ تمہ وقتہ چھہ دعا قبول سپدج زیادہ امید شہدا اللہ انہ لآلہ الاہو گواہی چھہ وژ مژ اللہ تعالیٰ ان بروٹھن کتابین اندر اچی کہ کانہہ معبوداہ چھونہ تس ذات پاکس وراہی

لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْهَيْكَلُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ  
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۱۸ إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ  
الإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ  
مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعْيًا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ  
فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۱۹ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلَمْتُ  
وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۲۰ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

وَالْهَيْكَلُ وَأُولُو الْعِلْمِ۔ بیہ چھہ ڈژمز گواہی ایچ ملا نکو پنہ نین اڈکارو اور ادن اندر، تہنز ذکر چھہ  
تسبیحات و تحمیدات و تہلیلات۔ بیہ چھہ ڈژمز گواہی ایچ علمہ و الیو پنہ نین تقریر اتن و تحریر اتن و بیاناتن  
اندر قَائِمًا بِالْقِسْطِ در حالیکہ سو معبود بر حق چھو قائم تھاوت پر چھہ چیزک نظام اعتدالہ سان۔  
تھی چھو مکر و نہہ یوان لآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ کانہ معبودہ چھونہ تس واری سو چھہ غلبہ وول تہ حکمتہ  
وول۔ کیا زہہ چھہ تمیزی کام بیہ نہ کانہ ہنز اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ بیشک پوز دین تہ  
مقبول دین چھو اللہ تعالیٰ اِس نِعمہ صرف دین اسلام وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ  
مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ اختلاف کور نہ یہود و تہ نصار او اسلامس دین حق آسس اندر مگر تمن نشہ امہ تھہ  
ہند پور علم و اتنہ پتہ۔ یعنی یہ اختلاف کور تمو خبر آستہ دیدہ و دانستہ زانتہ کر تھہ بَعْيًا بَيْنَهُمْ سُو  
اختلاف کور زک حسدہ کن تہ عنادہ کن اُس تمن منز آتھی اوس وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ  
الْحِسَابِ وول اُس انکار کرہ پروردگارہ سنیدین آیاتن یعنی قرآن مجیدس تہ معجز اتن چھہ پاتھہ سمو  
یہود کور پس اللہ تعالیٰ چھو تمن جلد حساب ہیوہ وول تس لجنہ زیادہ وقت تمن حساب ہمیس اندر۔ حسابہ  
پتہ گو تہندہ خیطرہ سخت عذاب فَإِنْ حَاجُّوكَ وول ہر گاہ توہمہ سیت یار سول اللہ تم لوک بحث لاگن  
فَقُلْ تہمہ فرما دیو کہ اَسَلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ میہ کور ہن رخ کنس خدا اُس کن بیہ تمو ساروی  
تم میہ پتہ پتہ پکان چھہ میان متابعت کران چھہ تہہ مانو یا متہ مانو وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ

وَالَّذِينَ آمَنُوا فَآسَلِمُوا فَمِنْ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ  
تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ ۚ إِنَّ  
الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيْنَ بِغَيْرِ  
حَقِّ ۚ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ  
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ  
أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۚ

وَالَّذِينَ آمَنُوا فَآسَلِمُوا فَمِنْ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا  
تہہ چھوہ اسلام قبول کران۔ یعنی تمہ کہ تو اسلام قبول۔ تمہ اندر آس تہندہ حقہ بہتری فَإِنْ أَسْلَمُوا  
فَقَدِ اهْتَدَوْا ہر گاہ تمہو اسلام قبول کور تلہ لب تموسر و تمہہ وَإِنْ تَوَلَّوْا ہر گاہ اسلام قبول کرنہ  
نشہ تمو تمہہ پھر۔ تمہہ مہ بز و تمیک کانہہ پروا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ تہہہ اوس نہ مہ مگر پیغام  
واتناون۔ نہ واتووہ تہہہ پورہ پانہہ وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِالْعِبَادِ اللہ تعالیٰ چھووارہ و چھان بندن ہند حال۔  
سو پر تہہہ پائے نافرمان۔ کیاہ کور تمہو اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِآيَاتِ اللّٰہِ ہم لو کہہ انکار کران چھہ خدایہ  
سندین آیاتن مثلاً یہود تم چھہ مانان انجیلس یہ قرآن مجیدس وَيَقْتُلُونَ النَّبِيْنَ بِغَيْرِ حَقِّ بے چھہ قتل  
کران پیغمبرن ناحق۔ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ بے چھہ قتل کران تمہن  
لوکن ہم تمہن امر چھہ کران انصاف کر گہ۔ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ تمہن و بو بشارت کڈرہ عدل۔  
مروی چھو نازی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیلو مگر شہید صحیحس تہہ تاجہ ۴۳ پیغمبر۔ توپتہ کریم چھہ  
فہمایش نیک لو کو اندرہ اکھ ہت سے تہہ تو زینو۔ تمی دوہہ شامس تان کر کہہ ہم تہہ شہید۔ تہمزی ذکر  
چھو اللہ تعالیٰ فرماوان تہہہ آئیہ کرتہس اندر اُولَٰئِكَ الَّذِينَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ  
تہہ لو کہہ گے ہم بہنرہ عملہ ضائع کیہہ دنیا س اندر تہہ نہ آخرتس اندر تہہ۔ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ بے  
آسہ نہ تمہن کانہہ مدگارہ سزاکہ وقتہ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اٰوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكُفْبِ آیا چھان چھوہ نامہن

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ  
 اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فِرْقًا مِّنْهُمْ وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۳۳﴾  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً وَعَرَهُمُ  
 فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۳۴﴾ فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتَهُمْ لِيَوْمٍ لَا  
 رَيْبَ فِيهِ تَوَفَّيْتُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۳۵﴾  
 قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ

لو کن گن یمن اکھ کافی حصہ چھو آمت دنہ تور اتک۔ اگر تم ہدایت ڈھانڈھو ان آسن سوی حصہ اوس  
 تہندہ حقہ کافی۔ یُدْعَوْنَ اِلَى کِتَابِ اللّٰہِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ناد چھو یوان دنہ تمن خدایہ سنزہ تھہ کتابہ گن یوسہ  
 تمنی نشہ چھہ بٹھہ تمنی سیت تمن منزہ ہی اختلاف فیصلہ ایہ ہا کرنہ ثُمَّ يَتَوَلَّى فِرْقًا مِّنْهُمْ وَهُمْ  
 مُّعْرِضُونَ تو پتہ چھہ تمہ نشہ ژلان تہ روگردانی کران تمواندرہ اکھ جماعت۔ بیہ چھہ تم بٹھہ پھر ان  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَنْ تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً بیہ اعتراض کرن تہند چھو تمی موکھہ تمن چھو پتہ  
 جایہ اکھ خیالہ کہ تمن زالہ نہ نار جہنم مگر کہیون دوہن۔ تو پتہ بٹھہ تمن مغفرت۔ نارہ نشہ بن کڈنہ۔ بیہ  
 چھو تہند باطل اعتقاد۔ اتھہ پٹھہ چھنہ تمن نشہ دلایہ کانہہ تہ وَعَرَهُمُ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ تم چھہ  
 دینہ کس حقس منز دھو کس منز تراومت پتہ نیو کتھویہ تموپانے ٹھراوہ مشہ چھہ فَكَيْفَ إِذَا جُمِعْتَهُمْ  
 لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ پس کیا سنا حال آسہ تہند بیلہ آس تم سو نبر او دکھہ تمہہ دوہنہ سمہہ دوہنہ تہنہ پیشی بیہ احکم  
 الحاکمین نشہ کرنہ۔ سمہہ دوہنہ کس پیش منز نہ کانہہ شکھاہ تہ شہاہ چھو۔ وَوَفَّيْتُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَ  
 هُمْ لَا يُظْلَمُونَ بیہ بیہ تمی دوہنہ پریٹھہ آگس پنہہ کر تو تک پورہ پورہ بدلہ دنہ۔ کانہہ نسبت بیہ نہ نہہ  
 قسمگ ظلم کرنہ۔ ہی وومت آسکھہ تی کونن۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رنج مکہ پتہ مسلمانن روم تہ  
 فارس فتح سپد تک وعدہ۔ منافق تہ یہود لگ اتھہ پٹھہ ٹھٹھہ تہ استہرا کرنہ۔ اتی سپد نازل بیہ آہ کریم  
 قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا جس آسویہ دعامگان۔ یا

مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعْزِمْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِبِيَدِكَ الْخَيْرُ  
 إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۶﴾ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ  
 فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ  
 وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۷﴾ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ  
 الْكُفْرَانَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ  
 ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَهُ

اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے ساری ملکہ مالک، عطا چھوٹے کران تھی ملک نیک بیٹھان چھوٹے۔ وَتَنْزِعُ الْمَلَكَ  
 مِمَّنْ تَشَاءُ اچھے چھوٹے ہیوان ملک نیک نشہ بیٹھان چھوٹے۔ وَتُعْزِمْ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ یہ چھوٹے  
 عزت دوان نیک بیٹھان چھوٹے۔ یہ چھوٹے ذلیل کران سوس بیٹھان چھوٹے بیدار الخیر تھی  
 اچھے چھوٹے خیر إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بیشک تھی چھوٹے پر ہتھ چیزس پیٹھ قدرتہ دول تُولِجُ  
 اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ داخل چھوٹے کران راتہ دوس منہ۔ یہ چھوٹے دوہ داخل  
 کران راتس منہ یعنی مختلف موسمن اندر۔ راتہ ہند وقت کم کرتہ دوہ بڑاوان۔ دیک وقت کم کرت  
 رات بڑاوان۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ یہ چھوٹے تھے جاندار کڈان بے جانس نشہ۔ پوت تھولہ  
 منہ۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ یہ چھوٹے تھی بے جان کڈان جاندارس نشہ۔ تھول جانورس نشہ  
 وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ یہ چھوٹے تھی رزق عطا کران نیک بیٹھان چھوٹے تہ نیک حسابہ وراہی  
 اسبابہ وراہی اورای لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفْرَانَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ مہ بناوان تہ مہ تھاون  
 باایمان کافرنا ہن دوست۔ باایمان مسلمان تراہتہ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ  
 نیک اکھاہ ہتھہ کام کرہ نیک چھوٹے نیک خدا نیک سیت کا نہ تعلقاہ کتہ چیزس اندر یعنی خداہ سندن دشمن  
 سیت ہم دوستی لاج سوشوبہ نہ خداہ سندن دوست۔ نیک تھیون خداہ سزہ دوستی ہند تعلق إِلَّا أَنْ  
 تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتَهُ مگرے تہ ہتھہ شرہ نشہ چھوٹے خطرہ ظاہر داری سان چھوٹے۔ وَيُذِلُّكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ



وَيُحَدِّثُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ ۖ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿۲۸﴾ قُلْ إِنْ  
تُخَفُّوْا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُّوْهُ يُعَلِّمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا  
فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۹﴾  
يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۖ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ  
سُوْءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  
نَفِيسٌ ۗ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ ﴿۳۰﴾ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي

اللہ تعالیٰ چھو توہمہ پنڈ ذات پاکہ نشہ کھوڑہ ناوان یعنی پنہ بیزاری تہ غضبہ نشہ۔ تمس کھوڑو تہمز منہ کھو  
تا فرمانی **وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ** اللہ تعالیٰ سی نشہ چھو پر ہتھہ کالہہ پتولا کہ واتن۔ آخر سو کہہ ہتھہ سپہ  
تس نش پیش۔ **قُلْ إِنْ تُخَفُّوْا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبَدُّوْهُ يُعَلِّمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ**  
تہہ پو شیدہ تھاوو تمہہ تھہ سمہ تہندین دلن اندر چھہ یانزراوو بہر حال تمہہ سارے چھہ اللہ تعالیٰ اس  
معلوم **وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ** بیہ چھو تس معلوم تہ سوڑی۔ بیہ آسمان اندر چھو۔ بیہ  
زمینس اندر چھو **وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** بیہ چھو اللہ تعالیٰ پر ہتھہ چیزس پیٹھ قدر تہ وول **يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ  
نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّحْضَرًا ۖ وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوْءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا**  
لیہ پر ہتھہ شخصہہ تہ سوڑی بیہ تم کورمت آسہ خیر چو کامیواندرہ پانس بروٹھ کنہ بیہ تہ سوڑی بیہ تم  
کورمت آسہ چھہ کامیواندرہ تھہ تہ لیہ پانس بروٹھ کنہ **تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا** تمنا کرہ  
ہر گاہے میہ منزہ تہ ہتھہ قیامس منز آسہ ہاز ہتھہ زبوتھ وقاہ۔ بیہ تمنا کرہ سو شخص بس بیجیہ تہ وچھہ تہ  
بدیہ تہ وچھہ۔ وون بس بدیئے بدیہ آسن سو کوتاہ افسوس تہ غم آسہ کیوان **وَيُحَدِّثُكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ**  
بیہ چھو اللہ تعالیٰ توہمہ کھوڑہ ناوان پانس نشہ یعنی پنہ بیزاری نشہ۔ **وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ** بیہ چھو اللہ  
تعالیٰ مہربان پنہ نین بدن پیٹھ۔ کھوڑہ ناوان تہند تہ چھہ بڈ مہربانی۔ **قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي**  
یُحِبُّوْكُمْ اللَّهُ فرماو کہ تہہ یار رسول اللہ خدیہ سہہ محبک دعویٰ دوہ و نین کہ ہر گاہ توہمہ خد الوٹھ چھو

يُحِبُّكُمْ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳۱﴾ قُلْ  
 أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ ﴿۳۲﴾  
 إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرٰهِيْمَ وَآلَ عِمْرٰنَ عَلَى  
 الْعٰلَمِينَ ﴿۳۳﴾ ذُرِّيَّةً بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۴﴾  
 إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرٰنَ رَبِّ إِنِّي نَدَّيْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي  
 مُحرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۳۵﴾ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا

تلہ کر دو میان متابعت۔ تمہے سیت ہو خدایہ سد محبوب وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ بیہ کرمہ  
 مغفرت تمہدین گنہمن۔ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ ر حم کرہ ون میانین تابعدارن  
 قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فرما دیو کھہ فرمانبر داری کرو خدایہ سز یہہ تہندس پیغمبرہ سزہ فَإِن تَوَلَّوْا  
 فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ پس ہر گاہ تم ہتھہ پھرن اطاعت قبول کرن نہ پس اللہ تعالیٰ اس چھہ  
 ناٹھہ کافر تہ مکر بندہ۔ تھین بدن پیٹھہ چھو اللہ تعالیٰ بیزار إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرٰهِيْمَ  
 وَآلَ عِمْرٰنَ عَلَى الْعٰلَمِينَ پز پٹھہ اللہ تعالیٰ ان کور حضرت آدم بیہ حضرت نوح بیہ خاندان حضرت  
 ابراہیم تہ خاندان حضرت عمران برگزیدہ سارنی عالین پیٹھہ ذُرِّيَّةً بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ سم آھہ  
 اکند اولاد چھہ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو سوڑی بوزان۔ سوڑی زانان۔ تس چھہ خبر کوہ تھہ  
 قابل چھو إِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرٰنَ یلہ حضرت عمرانہ سند یو باٹو دوپ سم ناناوس حنہ دت ربّی  
 نَدَّيْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحرَّرًا اے میانہ پروردگارہ بہ چھس نذر تھاون چانہ خیطرہ بیہ میانس شمس  
 منز اولاد چھو۔ آزاد گوہہ روزن سوڈو نیاچو کامیوشہ چانہ عبادتہ خیطرہ فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ  
 الْعَلِيمُ پس کرن قبول تھہ میانہ طرفہ پز پٹھہ تھی چھو کھہ سوڑی بوزہ ون سوڑی زانہ ون۔ فَلَمَّا  
 وَضَعَتْهَا پس یلہ تس زلیہ کور قَالَتِ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا نثی دین پروردگارامہ آس امیدمہ زیوہ پتو۔  
 سوئی تھاون بو محض چانہ عبادتہ خیطرہ بیت المقدسہ کہ خدمتہ خیطرہ آزاد۔ مگر میہ زلیہ کور وَاللَّهُ

قَالَتْ رَبِّ اِنِّي وَضَعْتُهَا اُنْثَىٰ ۗ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ ۗ وَ  
 لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثَىٰ ۗ وَاِنِّي سَوَّيْتُهَا مَرْيَمَ ۗ وَاِنِّي اُعِيذُهَا  
 بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ﴿۳۶﴾ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ  
 حَسَنٍ ۙ وَاَبْتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا ۙ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا ۙ كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيْهَا

اَعْلَمُ بِمَا وَضَعْتَ اسمدہ اظہارہ وراى آس اللہ تعالیٰ اس خبرى اس كیاء زاو۔ مگرام كور اظہارِ ندامت  
 پنہ طرفہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْاُنْثَىٰ پیہ پنچو جھنہ كورہ ہیو۔ سو چھو آسان قوت وول یہ مشقت  
 برداشت كرن وول وَاِنِّي سَوَّيْتُهَا مَرْيَمَ بیشك میہ كور اس كورہ ناو مریم یعنی عابدہ  
 وَاِنِّي اُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ وون چھس بوتھاوان سنوبیہ تمسز ذریت یلہ  
 سوامس ژہ عطا كركھ چانس پنہس منز۔ مردو شیطانہ سدہ شرہ نشہ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُوْلٍ حَسَنٍ پس كر  
 قبول سنو اللہ تعالیٰ ان چوسدہ خوتہ زیادہ رت پاٹھہ۔ وَابْتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا اللہ تعالیٰ ان  
 ذیت اس رت تھدن پائے تہ بدن پائے یہ آس ونہ ماجہ ہندس ششمسی اندر تہ حضرت عمران گوہمہ  
 عالمہ۔ امہ پتہ یلہ یہ زلیہ۔ آسنز والدہ حضرت حنہ آیہ بیت المقدسہ کین خاد من نشہ۔ دو پنچھ ریٹون  
 یہ میان گور یوسہ مہ بیت المقدسہ کہ خدمتہ خیطرہ نذر تھاو مڑ چھہ۔ یمن خاد من پیو اختلاف پریتھہ  
 اک كر خواہش بوی نتہ بوی رشن یہ كور پنہ نگرانی اندر۔ حضرت ذکریا علیہ السلام تہ اوس بیوی اندرہ  
 اکھ خاد م بیت المقدسگ تمبو دوپ یہ گور روزہ مہ نش کیا زہ یو چھوس اسند ماسو۔ آسنز ماس چھہ میانس  
 عقد نکاح اندر۔ بہر حال اختلاف رفع كرنہ خیطرہ تراوہ تمبو چیرہ۔ چیرہ تراونچ طریق آس تمن دوہن  
 یہ کہ قلم آس تراوان دریواس اندر۔ سمسد قلم آبس پیٹھہ ایستادہ روزہ ہا۔ ہیورن پنچہ باتمسدہ حقہ اوس  
 فیصلہ سپدان۔ چنانچہ تمبو خاد مویہ تراونہر آرونس اندر پنن قلم۔ تمبو اندرہ رُود حضرت ذکریا سند قلم  
 ایستادہ۔ ہیورن لوگ پنچہ۔ پس آیہ تمنی یہ حضرت مریم سپرد كرنہ تمبو ہنووا كھ بالاخانہ۔ تھہ منز تھاو كھ  
 یہ حضرت مریم۔ تھہ بالاخانس آس تم ہیر لاگان۔ تمی ہیرہ پیٹھہ آس تمن نشہ كٹہ كٹہ یوان۔ تمہ پتہ

ذَكَرِيَّا الْبُحْرَابَ وَجَدَ عِنْدَ هَارِزُ قًا قَالَ يَمْرِي أَنِي لِكَ هَذَا  
 قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۷﴾  
 هُنَالِكَ دَعَا ذَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً  
 طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴿۳۸﴾ فَنَادَتْهُ الْمَلِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ  
 يُصَلِّي فِي الْبُحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيحْيَى مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ

آس سوہیر تھلان۔ پانس سیت نو ان تہ قفلس تل بند کرتھ تھوان۔ کلمہ داخل علیہا ذکر کیا البُحْرَابِ  
 وَجَدَ عِنْدَ هَارِزُ قًا یلہ یلہ حضرت ذکر کیا آس یوان تمن نشہ اتھ بالاخانس منز لبان آس تمن نشہ  
 عجیب وغریب رزقاہ۔ وندک میوہ ریتہ کالس منز۔ ریتہ کالک میوہ وندس منز قَالَ يَمْرِي أَنِي لِكَ هَذَا  
 پر ژھان آسجھ اے مرتم مہ ورا ی چھونہ یوت ژہ نش کانہ یوان تم چیز کتہ چھنکھ ژہ اتان قَالَتْ هُوَ  
 مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ دپان آس سنیوہ چھو خدلیہ سندہ طرفہ واتان۔ پزپاٹ  
 خدا چھو رزق سوزان نئس یژھان چھو تس حسابہ رو ستوی اسبابوتہ ذرا یو ورا ی۔ یہ بوڑتھ سبز عجیب  
 کیتیاہ پیدہ حضرت ذکر کیا آس۔ تمن اوس نہ اولاد پینہ بجز کہ سببہ پنہ نین باژن ہندہ ہانٹھ آسنہ سببہ آس  
 اولادہ نشہ سپدمت ما یوس۔ مگر حضرت مریمہ سندہ کلام بوڑنہ سیت سپر کھہ اکھ امیداہ پیدہ۔ اتی کوڑکھہ  
 اتھہ محر اس۔ اتھہ بالاخانس منز خدا نئس گن رجوع تی چھو فرماوان اللہ تعالیٰ هُنَالِكَ دَعَا ذَكَرِيَّا رَبَّهُ  
 قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ امی وقتہ اتھہ جاپہ موگک دعا حضرت  
 ذکر کیا عن۔ دوہن ای میانہ پروردگارہ عطا کر میہ خاص پنہ طرفہ پنہ کمال قدرتہ سیت، رت فرزندہ۔  
 پاک نافرمانیو نشہ۔ پزپاٹ ژہی چھو ک بوڑوہن قبول کرون دعاء اس فَنَادَتْهُ الْمَلِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ  
 يُصَلِّي فِي الْبُحْرَابِ پس دیت آلو تمن ملا نکیو یلہ تم نماز آس پران اتھہ بالاخانس منز أَنَّ اللَّهَ  
 يُبَشِّرُكَ بِيحْيَى پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو بشارت دوان توہمہ فرزند عطا کر تجھ پسند ناو چھو یحییٰ مُصَدِّقًا  
 بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ تم تصدیق کرہ و ان آسن اللہ تعالیٰ سندس

مَنْ اللَّهُ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿۳۹﴾ قَالَ رَبِّ  
 أَنِّي يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَأُمْرَاتِي عَاقِرٌ قَالَ  
 كَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ﴿۴۰﴾ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً قَالَ  
 آيَتُكَ الْأَنْتَ كَلِمَ النَّاسِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا وَاذْكُر رَبَّكَ  
 كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ﴿۴۱﴾ وَاذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ  
 يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَكَ وَطَهَّرَكَ وَاصْطَفَكَ عَلَى

کلس یعنی حضرت عیسیٰ اس۔ بیہ چھہ تم سزاوار تہ رغبت نہ کره ون زنان کن قادر آتھہ بیہ پیغمبرہ  
 نیوکا رواندرہ۔ قَالَ رَبِّ أَنِّي يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَقَدْ بَلَغَنِي الْكِبَرُ وَأُمْرَاتِي عَاقِرٌ دوہن ای میانہ پروردگارہ  
 ہتھہ پاتھہ بیہ میہ فرزند۔ حالانکہ میہ چھو بزرگ وقت دوہمت بیہ چھہ میان آشین ہانٹھ۔ قَالَ  
 دویس کَذَلِكَ اللَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ہتھہ پاتھہ بغیر اسباب وذرائع۔ اللہ تعالیٰ یہ یڑخان چھو تہ چھو کران  
 تس نش چھونہ مشکل کنی چیز قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً دوہن پروردگار امیانہ خیطرہ کرکینہہ علامتہ  
 ہسمہ سیت مہ معلوم سپدہ ژیسہ کیاہ کورٹھہ میون دُعا قبول ژیہ کیا کورٹھہ میہ فرزند عطا۔ قَالَ اللَّهُ  
 تعالیٰ ان فرموس آيَتُكَ الْأَنْتَ كَلِمَ النَّاسِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ إِلَّا رَمْرًا نشان تہ علامت چون چھو ژہ ہیکھنہ  
 کتھہ کرٹھہ لوکن سیت ترین دوہن مگر اشارہ پاتھہ۔ یان سُو حال ژہ پانس منز لبحہ تان زانزہ اللہ تعالیٰ ان  
 کورژ ژیسہ فرزند عطا۔ وَاذْكُر رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ بیہ کرژہ پنہ نس پروردگارہ  
 سُدیاد بکثرت۔ بیہ آسن سُو پاکی یاد کران شامس تہ صحن تہ۔ کیاہہ اللہ تعالیٰ ان کور چون دُعا قبول۔  
 مایوسی تہ نامیدی پتہ کورن فرزند عطا۔ وَاذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَمْرُؤُا إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَكَ وَطَهَّرَكَ  
 وَاصْطَفَكَ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ بیہ پاوو ژ تیس بلکہ ملکو دوپ حضرت مرمس بیشک اللہ تعالیٰ ان  
 کتر کتھ ژہ برگزیدہ ژہ کرکٹھ قبول ماجہ ہند نذر بیہ کتر کتھ پاک ساروی آلودہ گیونشہ۔ بیہ کرکٹھ ژی منتخب  
 علیوز ناواندرہ۔ ژی یوت کورنہ عطا فرزند ماس وراي يَمْرُؤُا أَقْبَىٰ لِرَبِّكَ وَأَسْجَدِي وَأَرْكَعِي

نِسَاءِ الْعَالَمِينَ ﴿۲۲﴾ يُرِيْمُ أَقْنَتِي لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي  
 مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿۲۳﴾ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا  
 كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ وَمَا  
 كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿۲۴﴾ إِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَمْرُؤُكُمْ  
 إِنَّ اللَّهَ يَشْرِكُ بِكَلِمَتِهِ مِنْهُ ۖ اسْمُهُ السَّبِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ  
 وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿۲۵﴾

مَعَ الرَّاكِعِينَ اے مریم عبادت آس کران پنہ نس پروردگارہ سنزیتھہ نہ برگزیدہ گی ہند غرور پیدہ  
 سپدی۔ یہ آس سجدہ تہ رُوع کران یعنی نماز پران بین نمازہ پرہ وین سیت ذلک من انباء الغیب تیم  
 قصہ چھہ غیبہ جو خیر و آندرہ نُوحِيهِ إِلَيْكَ یہ خبرہ آس تو بہہ کن یار سؤل اللہ بطریق وحی سوزان چھہ۔  
 وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ تُوہ ما آسُوہ تمہن اجبارن تہ خادمن نش إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ یلہ تم دریاوس منزین  
 قلم تراوان آس آس منز چیرہ تراوتھہ دریافت کرنہ خیرہ۔ یہ آس تمہ وقتہ چیرہ تراوتج طریق۔ یا کور  
 تمو خادمو اتھہ پاٹھہ پانہ وان فیصلہ کہ قلم تراود دریاوس منز و چھو کسند قلم روزہ آس اندر وودنہ۔ سمسند  
 قلم آس منز وودنہ روزہ سؤی کرہ حضرت مریم پرورش آیتھہ یكفُلُ مَرْيَمَ نمو اجبار و اندرہ  
 عس کرہ کفالت حضرت مریمہ سنز وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ یہ آسودنہ تہہ تمہن نغمہ یلہ  
 تم پانہ وان تنازعہ آس کران إِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ يَمْرُؤُكُمْ إِنَّ اللَّهَ يَشْرِكُ بِكَلِمَتِهِ مِنْهُ ۖ ثتمس پاو ویلہ وون  
 ملائکو حضرت مریم پر پاٹھہ اللہ تعالیٰ چھوی ژہ بشارت فرماوان آس کلمہ سنز نس تہدی طرفہ  
 آسہ اسْمُهُ السَّبِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ سمسند ناو آسہ مسیح عیسیٰ مریمہ سندر چٹو۔ مسیح چھوس لقب۔  
 عیسیٰ چھوس ناو۔ بعضی وقتہ چھو لقب ناوس پیٹھہ مقدم یوان کرنہ تعظیمہ خیرہ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا  
 وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ نس باعزت باوقار آسہ دنیا و آخرتس منز یہ پروردگارہ  
 سند یومقر بند و آندرہ وَيَكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا یہ کرہ سؤ کلام لو کن سیت منز نس اندر تھہ

وَبِكَلِمٍ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهَلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۳۱﴾ قَالَتْ  
 رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ قَالَ كَذَلِكَ اللَّهُ  
 يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۳۲﴾  
 وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ ﴿۳۳﴾ وَرَسُولًا إِلَىٰ  
 بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ إِنِّي أَخْلُقُ

پاٹھتے تھے پاٹھ بُوڈواتھہ جوان سپد تھہ کرہ کلام وَ مِنَ الصَّالِحِينَ بیہ آسہ سُو نیکو کار و آندرہ قَالَتْ  
 رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي وَلَدٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ حضرت مریم دوپ پروردگار ہامہ تھہ پاٹھ بنہ اولاد حالہ  
 مہ چھونہ تھہ تہ لوگت کانسہ انسان۔ کانہ مرد چھونہ مہ نزدیک آمت نہ جائیز طریقہ پاٹھ نہ ناجائز  
 طریقہ پاٹھ۔ عادات چھونہ پیر زیوان مردہ سہہ نزدیک بنہ ورائی کانسہ زنانہ۔ معلوم چھونہ کہ اللہ تعالیٰ  
 تھہ پاٹھ کرہ مہ فرزند عطا۔ کانسہ سیت نکاح کر تھہ کر مہ عطا مہ محض پنہ قدرت کاملہ سیت کریم عطا  
 قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ أَنْ فَرْمُوسَ مَلِكَةَ سِدِّهِ وَاسْطَه كَذَلِكَ تَهَّه پاٹھ یعنی پنہ قدرت کاملہ سیت۔ اللہ  
 يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ اللہ تعالیٰ چھو پیدہ کران اسبابو تہ ذریعہ ورائی یہ یثہان چھو تہ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا  
 يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ سویلہ سٹہ چیز کہ پیدہ کر نک ارادہ کران چھو بس چھونہ تس کہہ کرن آسان فقط  
 فرماون تھہ گن یہ تہندس علمس منز آسان چھو کہ سپد۔ آتی چھو چیز سپد وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ  
 وَالتَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ بیہ پچھناوہ تس چانس فرزندس کتاب یعنی پزان تہ لکھن بیہ گائہ جار چہ تھہ بیہ  
 تورایت تہ انجیل۔ بعضے عالمو فرموو کتابہ اندرہ چھو مراد قرآن و حدیث۔ کیاہہ آخر زمانس منزلیہ  
 حضرت عیسیٰ آسمانہ پٹھہ نازل سپدہ بر زمین تمہ وقتہ کرہ سُو پیروی بکتاب و سنت حضرت محمد صلی اللہ  
 علیہ وسلم وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بیہ سوزہ تس سارنی بنی اسرائیل گن پیغمبر بس فرماوہ تمہن آتی قَدْ  
 جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ای بنی اسرائیلوہ آسوہ توہہ پٹھہ کینہہ معجزہ تہندس پروردگارہ سہہ طرفہ ایم  
 معجزہ میانس پیغمبر آسٹس پٹھہ دلالت چھہ کران أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفَخُ فِيهِ

لَكُمْ مِنَ الطَّيْرِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ فَأَنْفَخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ  
 اللَّهِ وَأُبْرِيءُ الْأَكْمَهَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَ  
 أَنْبِئَكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَاتَ خِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ  
 لَآيَةً لِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۴۹﴾ وَمَصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ  
 التَّوْرَةِ وَإِلْحَالٍ لِّكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِدْتُمْ  
 بَيِّنَةً مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۝ إِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ

فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ بیشک بہ بنوان تہندہ خیطرہ میترہ ہند جانوراہ۔ تس دمہ پھوگھ۔ سوہنہ وڈہ ون جانور  
 خدلیہ سیدہ جمتہ سیت۔ دوہم معجزہ گو و اُبْرِيءُ الْأَكْمَهَةَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ بیہ بلہ  
 راؤن بو سوئس او نوئی زامت آسہ ماجہ۔ تس بیہ آتھن گاش۔ بیہ بلہ راؤن بو ہتر ہلدہ۔ بس بدنس آسن  
 سفید داغ۔ ہم زہ مرض آس تمہ وقتہ لاعلاج۔ چنانچہ اکی دوہنہ بلراو تمو پنواہ ساس (۵۰،۰۰۰)  
 بیمارمہ قسمک۔ بیہ کرکھ زندہ مومت انسان خدلیہ سیدہ حمہ سیت وَأَنْبِئَكُمْ بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا  
 تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ بیہ کرودہ بو توہہ خبر تھیہ تہہ کیہوان چھوہ بیہ یہ تہہ گرن اندر موجود تھاوان  
 چھوہ۔ اِنِّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ بیشک اتھ منز چھہ بڈ لیل تہندہ خیطرہ ہر گاہ تہہ  
 پڑھہ کرہ ون چھوہ وَمَصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ بیہ چھوس بو توہہ گن یوان تھہ کتابہ تصدیق  
 کران یوسہ مہ بروٹھہ چھہ نازل کرنہ آس۔ سو کتاب گنیہ تورايت وَإِلْحَالٍ لِّكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ  
 بیہ آس بو توہہ گن تھہ بو حلال کرہ تہندہ خیطرہ تمو چیز واندرہ بعضہ چیز تم توہہ بیٹھہ حرام آست آس  
 کرنہ بیہ میون دعوائے نسخ چھونہ بلاد لیل بلکہم وَجِدْتُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ بیہ آس بو توہہ گن جہندس  
 خدلیہ سیدہ طرفہ انج و لیل بیٹھہ۔ سو دلیل گنیہ میون بنی آسن فَاتَّقُوا اللَّهَ پس کھوڑو اللہ تعالیٰ آس  
 تہندس حکم مہ کمر و مخالفت وَأَطِيعُوا دینہ کس معاملس منز ما نو میون حکم۔ خلاصہ میانہ دینی  
 تعلیمہ ہند چھوای کہہ اِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ پڑھاٹھ اللہ تعالیٰ چھو میون



فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿۵۱﴾ فَلَمَّا أَحَسَّ عَيْسَىٰ مِنْهُمْ  
 الْكُفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ  
 أَنْصَارُ اللَّهِ إِمْنَا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّكَ مُسْلِمُونَ ﴿۵۲﴾ رَبَّنَا إِنَّمَا  
 بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿۵۳﴾  
 وَمَكْرُوهًا وَمَكْرَ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِيينَ ﴿۵۴﴾ إِذْ قَالَ اللَّهُ

تہ تہند معبود پس کرو تہنزی عبادت۔ یو ہے چھوہ راہ راست۔ تہتہ وتہ کن ساری پیغمبر آی نادوان  
 فَلَمَّا أَحَسَّ عَيْسَىٰ مِنْهُمْ الْكُفْرَ پس یلہ ژیون حضرت عیسیٰ ان تمن بنی اسراہیل نشہ تہند انکار تہ کفر  
 قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ دوچھہ بنی اسراہیل کن گوہ اکھاہ چھو توہہ اندرہ میون مددگار خدا پس کن  
 لُوکن نادونہ خیطرہ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ روشن دلواندرہ خدا پس کن رجوع کرہ و نیواندرہ و تہہ اکھہ  
 جماعتھاہ تم آس باہ زن۔ تمہوی ڈوپ سخن أَنْصَارُ اللَّهِ اس چھہ خدایہ سندہ دینک مددگار اِمْنَا بِاللَّهِ  
 اسہ اون ایمان تہ اسہ کمر پڑھہ کنس خدا پس وَأَشْهَدُ بِأَنَّكَ مُسْلِمُونَ اے عیسیٰ تہہ ژوزو گواہ۔ اس چھہ  
 فرمانبردار اس خدایہ سندہ تہند۔ رَبَّنَا إِنَّمَا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتَبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ای  
 سانہ پروردگارہ اسہ اون ایمان تہتہ ساری یہ ژیہ نازل کور تہہ۔ یہہ کراسہ پیروی تمس چانس پیغمبر س  
 حضرت عیسیٰ اس۔ پس لیچھہ اسہ تہ شاہدن سیت وَمَكْرُوهًا بیہ کمر یہو ڈوواریاہ جیلہ تہ مکر۔ پوشیدہ  
 تدبیر حضرت عیسیٰ اس تہ حوارین تکلیف و اتانونہ خیطرہ وَمَكْرَ اللَّهِ اللہ تعالیٰ ان تہ کمر تم تدبیر  
 تمہو سیت حضرت عیسیٰ ان تہ حوارینو نجات لوب۔ یہودن ہند تدبیر میل خاکس سیت۔ چنانچہ  
 یہود ویلہ تم گرفتار کرنہ تہ توپتہ کاٹھس پیٹھہ کھارنہ خیطرہ تیاری کمر اللہ تعالیٰ ان کمر ہمیں اس شخص  
 حضرت عیسیٰ سنز شکل تہ تم کھارن آسانس پیٹھہ۔ پس شخص حضرت عیسیٰ سنزہ شکلہ بناونہ آو  
 سُوروث تمہو یہودو تہ دیو چھہ پھہہ۔ اللہ تعالیٰ چھو اتھہ متعلق ہمیں جلیہ فرماوان وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ  
 وَلَٰكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ - وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِيينَ اللہ تعالیٰ چھو ساروی تدبیر کرہ و نیواندرہ بہتر تدبیر کرہ و ن

يُعِيسَىٰ إِبْنِ مَرْيَمَ ۚ وَرَافِعُكَ إِلَىٰ وَمُطَهَّرُكَ مِنَ الَّذِينَ  
كَفَرُوا وَاجْعَلْ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ  
يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنْتُمْ  
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝۵۵ فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا  
شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۝۵۶ وَأَمَّا  
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ۙ

اِذْ قَالَ اللَّهُ سُوِّت كَرِيْمًا وَيَدِيهِ اللَّهُ تَعَالَىٰ اِنْ فَرَمُوْا حَضْرَتِ عِيْسَىٰ اِسْ يٰعِيْسَىٰ اِي عِيْسَىٰ  
كِنِيهَةِ غَمِّ مَهْ بَرِ اِنِّي مُتَوَفِّيكَ بِشَيْخِ بُوَجْهَسْ ثَرِيهٖ وَفَاتِ دُوْهَانِ پَنَهٖ نَسْ مَوْقَعَسْ پِيْطْهٖ۔ لِهَذَا مَهْ كَهُوْثَرَهٗ  
سَمِ دُشْمَنِ مَآكِهَارِنَمْ كَا طْهَسْ پِيْطْهٖ۔ اِيَوْمَهٗ نَهٗ تَمْنِ تَمِيكِ مَوْقَعِ۔ وَرَافِعُكَ اِلَىٰ بَلَكِهٖ كَهَارَتِ ثَهٗ بُوپَا نَسْ  
كُن۔ وَاِتَاوَجْهٖ بُوْثَرَهٗ عَالَمِ بِالْاَسْ مَنْزِ وَمُطَهَّرُكَ مِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِهٖ كَرْتِ اِيْثَرَهٗ پَاكِ مَكْرَنِ هَنْزُو تَمْتُو  
نِشْہ۔ لِيَعْنِي بُوْرَجْهَتِ ثَهٗ تَمْنِ لُو كُنْ هِنْدِ بُو اِرَاوْ دُوْشْمِہ۔ سَمُوْثَرِيهٖ اِنْكَارِ كُوْرِي وَجَاعِلُ الَّذِيْنَ اَتَّبَعُوْكَ فَوْقَ  
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ بِهٖ كَرَكْهٖ بُوچَانِ پِيرو۔ چُوْنِ كْهَمْ مَانِ وَاِلْ غَالِبِ تَمْنِ لُو كُنْ پِيْطْهٖ  
سَمُوْثَرِيهٖ اِنْكَارِ كُوْرِي قِيَامَتِ دُوْشْمِ تَانِ ثُمَّ اِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ تُوپَتِهٖ چَهٗ مِي كُنْ تُوْبَهٗ سَارِنِي هِنْدِهٖ وَاتَّجِ  
جَاہِ۔ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ پَسِ كَمْرَهٗ بُوِي فَيَصْلُهٗ تُوْبَهٗ مَنْزِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيْهِ تَخْتَلِفُوْنَ تَمْنِ سَارِنِي مَعَالِنِ  
مَنْزِ تَمْنِ مَنْزَرَهٗ اِخْتِلَافِ كِرَانِ اَسُو۔ تَمُوچِيْزِ وَاَنْدَرَهٗ گُوَاكْهٖ مَعَالِمِ حَضْرَتِ عِيْسَىٰ سُنْدِ۔ اَتْهٖ تَهٗ كَرَهٗ اِي  
فَيَصْلُهٗ فَاَمَّا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا نَسْ تَمْ لُو كْهٖہ سَمُوْكْرَتِهٖ اِنْكَارِ كُوْرِي لِيَعْنِي يَهُودِ وَنَسَارِي فَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا  
شَدِيْدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ نَسْ كَرَهٗ اِي تَمْنِ سَخْتِ عَذَابِ۔ دِنْيَا سْ مَنْزَرَتِهٖ اٰخِرَتِ سْ مَنْزَرَتِهٖ۔  
وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِيْنَ بِهٖ اَسْنَهٗ تَمْنِ كَانَهٗ مَدْدِ گَارَهٗ تَمْنَهٗ عَذَابِهٖ نِشْمِہ مَوْكَلَاوْنَهٗ خِيْطَرَهٗ ۙ وَاَمَّا الَّذِيْنَ آمَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ دُوْنِ سَمُوْ لُو كُو اِيْمَانِ اُوْنِ پْرَهٗ كَمْرِ كْهٖ نَسْ خَدَانَسْ بِهٖ كَرِكِيهٗ رِثَهٗ عَمَلِهٖ فَيُوَفِّيهِمْ  
اٰجُوْرَهُمْ پَسِ كَرَهٗ اللّٰهُ تَعَالَىٰ تَمْنِ پُوْر مَزُوْرِ عَطَا ۙ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِيْنَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ اَسْ چَهٗنَهٗ پَسِنْدِ

وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿۵۷﴾ ذَلِكَ نَتَلَوُهَا عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَ  
 الذِّكْرِ الْحَكِيمِ ﴿۵۸﴾ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ  
 مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۵۹﴾ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا  
 تَكُنْ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۶۰﴾ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ  
 مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَ  
 نِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ

ظالم ذلك نَتَلَوُهَا عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ یہ سوزی قصہ حضرت عیسیٰ سید چھہ آس توبہ  
 پیٹھہ پران یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمہ چھہ جبر دلیلہ تہندس نبوتس پیٹھہ۔ بیہ چھو یہ قرآن  
 مجید محکم بیان۔ إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ۔ پزپاٹ حضرت عیسیٰ سز مٹال چھہ خدا ئس  
 نیش حضرت آدمہ سز ہش۔ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ حضرت آدم کورن پادہ مزہ نشہ نہ اوس مولیٰ تہ نہ  
 اوس موجبی ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ توپتہ فرموان تس سپدہ پیدہ انسان، اتی سڈ تھتھہ پاتھہ فرموان  
 حضرت عیسیٰ سپدہ پیدہ ماس وراى، تی سڈ۔ حضرت آدمہ سند ماس ماجہ وراى پیدہ سڈن اوس زیادہ  
 عجایب مگر تہزہ الوپتک چھو نہ کانہ تہ ذکر کران حضرت عیسیٰ زاو ماس وراى ماجہ نشہ۔ تہندس پیدہ  
 سڈنس چھہ لوکھ زیادہ عجایب زانتھ تہن متعلق خدا آسک دعویٰ کران۔ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُنْ  
 مِنَ الْمُمْتَرِينَ پوز چھوتی یہ حضرت عیسیٰ اس متعلق ووت توبہ نشہ پنہ نس پروردگارہ سندہ طرفہ  
 پس مہ آسوتہہ شک تہ خبہ کرہ و نیو آندرہ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ پس ئس  
 اکھاہ توبہ سیت اتھہ معاملس منزہر تہ قضیہ کرہ توبہ نشہ امیک علم واتتہ پتہ سو کریون خبہ مغلوب  
 بیہ طریقہ تس سیت کمر و تہہ مبالغہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا  
 وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكٰذِبِينَ پس فرماو یو کہ ای عیسیٰ و لو آس دمونا د توپتہ  
 سونبر اوکھ پن لوکٹ تہ تہند لوکٹ۔ پنہ زانہ تہ تہزہ زانہ۔ بیہ پن پان تہ تہند پان۔ ساری سبت گرو

عَلَى الْكٰذِبِيْنَ ﴿۱۱﴾ اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ الْقَصْصُ الْحَقُّ وَمَا مِنْ  
 اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿۱۲﴾  
 فَاِنْ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ ﴿۱۳﴾ قُلْ يٰٓاَهْلَ  
 الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوّآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا  
 اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا

خدا ئس گن التجا۔ تو پتہ منگو خدا ئس لعنت اپز یارین ہمدہ خیطرہ۔ اس ذنویا اللہ ئس اسہ منزہ اپز یور چھو  
 حضرت عیسیٰ سیدس معاملس اندر تمس کر لعنت۔ آتھہ چھہ ونان مہابلہ۔ بحر انک عیسائی سیم بحث کرہ  
 آس آمت تمودوپ، چھہ اسہ دیو سوچ مہلت۔ تمن اندرہ تم کاثل ہی آس تمودوپ بین عیسائین  
 پنہ جایہ چھہ تھہ توبہ چھو معلوم یہ صاحب چھو بیشک پیغمبر خدا۔ یہ تہ چھو توبہ معلوم کہ سیم قوم  
 کانسہ پیغمبرس سیت مہابلہ کور سو قوم گوفنا تہ تباہ۔ لہذا چھوئی مشورہ اس صاحبس سیت گرو آس  
 مصالحت۔ چنانچہ درای امی خیالہ۔ یورہ آس درامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیت آسچہ  
 حضرت علی۔ حضرت سیدۃ النساء فاطمہ زہرا حضرت امام حسن تہ حضرت امام حسین۔ تمن صاحبین  
 اوسچہ فرمودت بوکرہ دعائتہ نکر زہ آمین۔ مگر یلہ سیم عیسائی نزدیک وات تمن نشہ عرض کور بگ آس  
 حض کرو نہ مہابلہ توبہ سیت کینہہ تہ۔ پس سپز یمن سیت مصالحت۔ حدیث شریفس منز چھو آمت  
 ہر گاہ سیم عیسائی مہابلہ کرہ تمن۔ مال وجانہ گدھہ تمن تباہ و برباد اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ الْقَصْصُ الْحَقُّ پز پاتھہ یہ ذکر  
 کرنہ آو سیم چھہ ہمز واقعات وَمَا مِنْ اِلٰهٍ اِلَّا اللّٰهُ بیہ چھونہ کانہہ معبود آس سزوار۔ اللہ تعالیٰ  
 اس ورا۔ وَاِنَّ اللّٰهَ لَهٗوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ بیہ چھو پز پاتھہ اللہ تعالیٰ سیٹھاہ غالب۔ سیٹھاہ  
 حکمتہ وول قَانَ تَوَلَّوْا فَاِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ بِالْمُفْسِدِيْنَ پس اگر سیم توتہ حق قبول کرنہ نشہ چھہ پھرن۔ ئس  
 پُتھر آوتھہ یہ معاملہ خدا ئس سو چھو پور زانان مُفْسِدِيْنَ۔ سو بہہ پانے تمن انتقام قُلْ يٰٓاَهْلَ الْكِتٰبِ  
 تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوّآءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ فرماو یو کہہ تہہ یار سول اللہ ای اہل کتابو ولوتھہ کلس گن ئس

مَنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ ﴿۶۲﴾  
يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَحْجُونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا نَزَلَتِ التَّوْرَةُ  
وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ هَٰذَا فَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۶۳﴾ هَٰأَنْتُمْ  
هَٰؤُلَاءِ حَاجِبَتُمْ فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ

اسمہ منزه تہ وہی منزه برائے مسلم چھو۔ اَلَا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ وَلَا تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَاَلَيْسَ عِبَادَتُ بَعْضُنَا بِبَعْضًا اَرْبَابًا  
مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ سُو کلمہ گو یہوی کہ اس گزرو نہ کانہہ ہنز عبادت اللہ تعالیٰ اس وراہی۔ یہی ٹھہرو نہ  
تس کانہہ چیزہ شریک کنہہ چیزس اندر۔ یہی رثن نہ اسمہ اندرہ اڈاؤین روب تہ معبود۔ معبود برحقس  
ورای۔ عیسای آس پوپ یا تین مشائخ تہ مولوین امہ طریقہ مانان کہ ہر گاہ تم سر اسر عنہ چیزس اندر  
عقلہ خلاف یا نقلس خلاف کانہہ کتھاہ کرہ بن۔ سو آس تم بے چون وچر امانان تہ تسلیم کران۔ چنانچہ از تہ  
چھہ عیسای تی کران۔ امہ قسمگ مذہبی تقلید چھو یقیناً حرام۔ کیا زہ یہ مرتبہ یعنی کانہہ ہنز تھہ بے چون  
وچر امان چھونہ خدائس وراہی بیہ کانہہ اکسند۔ پیغمبرہ سند مرتبہ تہ چھویہ مگر تل یلہ خدایہ سدہ طرفہ  
تھہ متعلق ارشاد آس۔ الغرض بے چون وچر اچھو صرف خدایہ سند یا پیغمبر خدایہ سند حکم مانہ یوان۔  
تمن پتہ چھونہ کانہہ اکسند قول قابل تسلیم تہ قابل قبول۔ مگر سوئی ئس نقل اسمہ آمت کرنہ از خدا  
ورسول۔ اسلامس اندر ئس تقلید ائمہ مذہب چھو۔ سو چھوئی قسمگ۔ لہذا امہ طریقہ ارباب مذہب  
ہند قول مان گونی الحقیقت خداورسولہ سندی قول مان۔ البتہ ہر گاہ تہوند کانہہ قولہ قرآن وحدیثہ کس  
صریح نقلس خلاف اسمہ سو چھونہ ہرگز قابل تسلیم و عمل تھہ متعلق چھو پانہ ارباب مذہب بافاق  
فرمودت کہ سون کانہہ قولہ ہر گاہ قرآن وحدیثس خلاف اسمہ سو دیولہ ہر تھہ۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا نَسَّ  
ہر گاہ تم امہ توحیدہ نشہ بھہ بھرن فَقُولُوا اشْهَدُوا پس دیوکھ تہ اے اہل کتابو گواہ روزو۔ يَا اَنتُمْ  
مُسْلِمُونَ تھہ تھہ بیٹھہ کہ اس چھہ مسلمان مؤحد يَا اَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَحْجُونَ فِي اِبْرَاهِيمَ اے اہل کتابو ہشہ  
کیا زہ چھوہ قضیہ لاگان، تازعہ کران۔ حضرت ابراہیمہ سندس حقس اندر۔ ونان چھوہ تم آس یہودی  
نصاری وَمَا نَزَلَتِ التَّوْرَةُ وَالْإِنْجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِ هَٰذَا حالانکہ نازل آونہ کرنہ تورایت تہ انجیل۔

مُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۷۶﴾ مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۷۷﴾ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا

مگر تم نے پتہ واریاہمہ کال۔ یہودیہ تہ نصرانیت زلیہ تورایت و انجیل نازل سپد نہ پتہ۔ تورایت او نازل کرنہ حضرت ابراہیمس علیہ السلام پتہ اسکہ سلسلہ و ہر۔ انجیل او نازل کرنہ حضرت موسیٰ اس پتہ دویہ سلسلہ و ہر۔ اَفَلَا تَعْقِلُونَ کونہ چھوہ عقل کران۔ بُوڈ ٹھہرہ زمانک شخص کتھہ پاتھہ ہنہ پیر و ہتمہ کتابہ ہند۔ مَا أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ حَاجِبَتُمْ واره یوزوای لو کو اختلاف چھوہ تہہ کران فِيمَا لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ تھہ منزج توبہ کثیرہ ہاہ خیر چھوہ یعنی حضرت عیسیٰ اس متعلق۔ اُو چھوس دپان خدا تہ اُو چھوس دپان خدا تہ سُنْدُو۔ تہندس معاملس منز چھوہ نہ توبہ کئی تھہ فَلِمَ تُحَاجُّونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ پس کیا زہ چھوہ اختلاف کران تمن معاملن اندر یکن ہنز نہ توبہ کینہہ خبر تہ علم چھوہ یعنی حضرت ابراہیمس علیہ السلام متعلق وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ اکی چھوہ زانان حضرت ابراہیم گوہ صاحب اوس تہہ چھوہ نہ زانان مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا اوس نہ حضرت ابراہیم نہ یہودی تہ نہ نصرانی وَ لَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا بلکہ اوس سوساروی اپز بودینوزہمہ بیزار۔ یوزدین اختیار کروان تابعدار تہ فرمانبردار موحدا کامل وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ یہ اوس نہ سوسا مشرک اوندہ۔ ہم دعویٰ چھہ کران اس چھہ تہندس ملتس پٹھہ۔ حالانکہ ہم چھہ پائے کا نہہ چیزاہ بناوان۔ کئیو۔ چو یا یہ کئیہ چیزک۔ تھہ چھہ نمان۔ تھہ نشہ چھہ برکت ژھانڈان۔ تس چھہ حاجت منگان۔ ای چھا کورمت حضرت ابراہیمس نعوذ باللہ۔ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ پزپاٹھ زیادہ نزدیک چھہ لو کو اوندہ حضرت ابراہیمس علیہ السلام تہہ ہموز تہمتابعت تہ پیروی کمر تہندس و قس اندر وَ هَذَا السَّبِيحُ یہ چھوہ تمن نزدیک یہ بوڈ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَالَّذِينَ آمَنُوا

السَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ وَرِثَةُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۸﴾  
 وَدَّتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ  
 وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۳۹﴾ يَا أَهْلَ  
 الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿۴۰﴾  
 يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبَسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ  
 وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۴۱﴾ وَقَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي

بہ چھ تم نزدیک با ایمان۔ امتی تمس پیغمبر برحقہ سند یعنی یہ وہ وُن اس چھہ بردین ابراہیمی نہ کہ  
 توہہ یا مشرکین وَاللَّهُ وَرِثَةُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ چھو دوست با ایمان ہند تہزہ کامہ  
 سنہالان وَدَّتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ یہوویہو وَاُندرہ اک جماعتن لَوْ يُضِلُّوكُمْ تم  
 کرہ ہن توہہ دین حقہ نغمہ گراہ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ فی الحقیقت چھہ تم توہہ گراہ کرن  
 یڑشان بلکہ چھہ تم امہ سیت پنہ نین پانن گراہ کران وَمَا يَشْعُرُونَ مگر تمیک چھہ نہ زینان  
 يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ اے اہل کتابو کیا زہ چھوہ خدیہ سندین  
 آیتن، قرآن مجیدس انکار کران۔ حالانکہ توہہ چھوہ پنہ جاہہ اتھہ اقرار کران يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ  
 تَلْبَسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ای اہل کتابو کیا زہ چھوہ ہز اہز سیت ملہ  
 ناوان بہہ کیا زہ چھوہ ہز کھٹان یعنی نعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ توہہ چھوہ زانان یہ چھو  
 بیشک پیغمبر آخر الزمان وَقَالَتْ طَآئِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجَهَ النَّهَارِ  
 وَآكْفُرُوا وَالْآخِرَةَ بہہ وون یہود وَاُندرہ اک جماعتن بین یہودین مسلمان گراہ کرنچ اکھ صورت چھہ یہ تہ  
 کہ ظاہر پانٹہ اینوا ایمان اتھہ یہ نازل آو کرنہ مسلمانن پیٹھہ یعنی قرآن مجیدس صبحس توپتہ کڑ وتھہ انکار  
 شامس لَعَلَّكُمْ يَزِنُونَ یٹھہ تم با ایمان ای سیت اسلامہ نغمہ پھیرن تہ رجوع کرن۔ شکھہ پٹھہ تہ  
 حوصلہ سپد چھہ ہست۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ بہہ منہ آہو و تھہ واثبہ تصدیق کران تہہ دینس

أَنْزَلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَالْكُفْرَ وَالْآخِرَةَ لَعَلَّهُمْ  
يَرْجِعُونَ ﴿۴۲﴾ وَلَا تَتُومِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى  
هُدَى اللَّهِ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ أَوْ يُجَاجُوكُمْ  
عِنْدَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ  
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۴۳﴾ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ  
ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۴۴﴾ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنَهُ

مگر تمہی تم پیرو آسن تہندس دینس یعنی یہودیتس۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ تہہ فرما یو کھ تہنز و  
چالا کیو سیت ہیجہ نہ کیہنہ بنت۔ کیا زہ پز پاطھہ ہدایت نئس لوگن بنان چھو سو ہدایت چھو خدایہ سُنَد  
ہدایت۔ سو ی چھو اصل ہدایت۔ سو چھو خدایہ سندس اتھس اندر۔ تمیک اختیارہ دول چھو سو ی۔ نئس  
سو ہدایت کرہ نئس ہیجہ نہ ڈالٹھہ کانہہ کنہہ طریقہ۔ نئس نہ سو ہدایت کرہ نئس ہیجہ نہ کانہہ ہدایت کرت  
أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيْتُمْ بیہ ڈوپ یہو ڈواندرہ اک جماعہ۔ تصدیق مہ آسو کران تھہ تھہ کہ  
کانہہ کیا بیہ عطا کرنہ تہہ توبہ بنی اسرائیلن عطا کرنہ آو۔ سو گو نبوت، کتاب۔ حکمت۔ اَوْ يُجَاجُوكُمْ  
عِنْدَ رَبِّكُمْ تھہ تھہ تہہ آسو تصدیق کران کہ مسلمان کیاہ کرن توبہ مقابلہ خدائس تہندس نفعہ۔  
کیا زہ تہندس چھو مضبوط تہنز دلیل چھہ قوی۔ یہ آس یہو دونان پانہ وان اکھہ اکس۔ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ  
بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ تہہ فرما یو کھ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پز پات فضل و کرم چھو  
خدایہ سندس اتھس اندر۔ نئس خوش کر لئس نئس کرہ عطا۔ ہر گاہ کیہنہ کلاہ نبوت و ہدایت تم عطا کر بنی  
اسرائیلو اندرہ بعضی صاحبن و سن یو تھہ تم نبوت و ہدایت عطا کرن بنی اسماعیلو اندرہ اکس مخصوص  
صاحبس تہہ کم چھوہ۔ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ سز رحمت چھہ وسیع۔ سو چھو سیٹھہ زانہ وان  
تمس چھہ خبر گوہ چھو قابلہ سزوار اتھہ رحمتس يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لیدہ حقہ سو یٹھہ نئس  
کرہ مخصوص رحمتہ سیت۔ نبوتہ سیت کتابہ سیت تہہ حکمتہ سیت تہہ کم چھوہ۔ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ



يَقْتَارِ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنُ إِن تَأْمَنَهُ بِدِينَارٍ لَا  
يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا  
لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّينِ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَ  
هُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۵۵﴾ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
الْمُتَّقِينَ ﴿۵۶﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا

اللہ تعالیٰ چھوڑنے اور فضلہ دینے اور اہل الکفر سے امن نہ لینے اور ان کے پیمانے کو بے شمار مال، زہ ساس زہ ہتھ اوقیہ سو تک امانت دینے تھانہ سو دینی  
اور اس کے لیے یہ کہہ گئے ہیں کہ میں نے اللہ سے امن نہ لیا ہے اور ان کے پیمانے کو بے شمار مال، زہ ساس زہ ہتھ اوقیہ سو تک امانت دینے تھانہ سو دینی  
یہود و اندر وہ جھوٹے تم ہر گاہ تم نے ان سے امن نہ لیا ہے اور ان کے پیمانے کو بے شمار مال، زہ ساس زہ ہتھ اوقیہ سو تک امانت دینے تھانہ سو دینی  
دینا ہے۔ - (الآ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا) یہ تو اتنا دینی رو نہ کہہ کہ تمس مطالبہ نہ و گرائی کر ان کے پیمانے کو بے شمار مال، زہ ساس زہ ہتھ اوقیہ سو تک امانت دینے تھانہ سو دینی  
قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّينِ سَبِيلٌ یہ خیانت کرہ نک وجہ چھو تم جھوٹے پیمانے دینا ہے چھو نہ ناخواندن،  
تا تعلیم یافتہ غیر اہل کتابین ہند مال کھینچیں اندر کانہ قصورہ نہ گنہاہ۔ یہ اسی تم و نان کہہ تورا میں اندر  
چھو اسے سانبہ دینکین مخالفین ہندس ماس اندر خیانت کرن جائیز۔ اللہ تعالیٰ چھو کہہ اتھ رو فرماوان  
وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ نُوَادُّوا ان چھو یہ تمہ و نہ سیت اللہ تعالیٰ اس پٹھہ اپز وَ هُمْ يَعْلَمُونَ  
زانتھہ کمر تھ۔ لیکن چھو معلوم کہ اللہ تعالیٰ ان چھو نہ کنبہ جائیہ ایک اجازت دی تھی۔ امانت اندر  
خیانت کرن چھو پر تھہ کانہ ہندہ حقہ ممنوع۔ پر تھہ دینس نہ مذہب منز نا جائز بلی۔ یہ نہ یہ کتبہ چھنہ  
ہرگز صحیح بلکہ خیانت کرن چھو سخت گناہ۔ خیانت کرو اس پٹھہ چھو ضرور سخت الزام۔ کیا زہ تھہ  
متعلق چھہ سان زہ قانون۔ کہہ گو مَن أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ سیم اک وفا کور پنے نس عمدس بس تم خدا میں  
سیت کورمت اسے یا جائز عمدہ کانہ مخلوقس سیت کورمت آسے و اتقی یہ کھو تھہ اللہ تعالیٰ اس کہہ  
کانہ ہند مال زانہ نہ حلال بلا وجہ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ بس بیشک اللہ تعالیٰ چھو دوست تھوان،

قَلِيلًا أُولَٰئِكَ لَآخِلَاقٌ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ وَلَا يَكَلِمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۷۰﴾  
 وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونِ السِّنَّةَ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ  
 مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ  
 اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَ

پسند کران پر ہیز گار۔ دو قسم قانون گواران الذین یشترؤن بعهدا اللہ وایمانہم شمتاً قلیلاً پڑنا  
 ہم لو کہ کمان تہ بدلاوان چھہ خدلیہ سندس عمدس بس امانس متعلق چھو توراتس منز بیان کرنہ آمت۔  
 یائس عمد نبی کرسمس صلی اللہ علیہ وسلم متعلق چھو پنہ نیواپز یو قسمو سیت کم مؤلس حاصل چھہ کران  
 تم قہمتھہ تہ مولہہ سیتھہ کم۔ یعنی وشتمہ ہنداکھہ ترکھہ یا کپک یکہنہ گز۔ ہم تمین کعب بن اشرف  
 یہودیس نشہ بنان آس نعت پیغمبر آخر الزمانس تحریف کرنس پیٹھہ اُولَٰئِكَ لَآخِلَاقٌ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ  
 ہم عہد شکن تہ اپزیا راہز قسم ہادہ ون ہم چھہ بہندہ خیطرہ چھونہ آخرتس اندر کانہہ حصہ ثوابک۔  
 وَلَا يَكَلِمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہ کہہ نہ تمین سیت اللہ تعالیٰ تھہ تہ۔ یہ دیہ نہ تمین کن  
 نظر تہ قیامتک دہ۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ نہ کہہ تمہنر کانین ہنز کانہہ تعریف نہ گزہ تمین گنہو نشہ پاک  
 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بلکہ آسہ تمہدی خیطرہ ہڈر عذاب۔ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلُونِ السِّنَّةَ بِالْكِتَابِ  
 سمویہود واندہہ چھہ اکہ جماعتھہ ہم زیو وٹھہ تہ ہج کر تھہ توراتچ عبارت پران چھہ۔ ہتھہ جایہ نبی کریمہ  
 ﷺ سندین تعریفن تہ نعتن تحریف تہ تغیر چھو آسان آمت کرنہ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ ہتھہ توبہ  
 گمان گزہہ یہ تہ چھہ تور تہی عبارت وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ حالانکہ فی الواقع چھہ نہ سنو توراتچ عبارت  
 کینہ تہ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وان چھہ ہم کہ یہ عبارت تہ چھہ خدلیہ سندس طرفہ  
 وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ حالیکہ سنو عبارت چھنہ ہرگز خدلیہ سندہ طرفہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَ  
 هُمْ يَعْلَمُونَ نودوراوان چھہ ہم خدائس پیٹھہ اپز۔ حالیکہ ہم چھہ زنانان اس چھہ اپز وان مگر زانتھہ

هُم يَعْلَمُونَ ﴿۴۸﴾ مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ  
وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ  
دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ  
وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ ﴿۴۹﴾ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا  
الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ  
أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۵۰﴾ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا

کہ تھے چھہ ایزدان۔ پتھ پاتھ چھہ نصاریٰ تہ ایز نور اور ان خدائس پیٹھ۔ تم چھہ دپان حضرت عیسیٰ ان  
چھو کورمت خدا آسک دعویٰ۔ لوکن ڈیت نادمو پنہ نس عبادتس کن تھہ چھور ڈکر ان اللہ تعالیٰ  
ماکان لبشران یوتیہ اللہ الکتب والحکم والنبوۃ کاسہ بشرس نش چھہ یہ تھہ ممکن کہ اللہ  
تعالیٰ ان کیا آسہ تس عطا کر مش سوتاب تھہ اندر توحیدک حکم تہ شرح مانت آسہ۔ بیہ آسٹس عطا  
کر مش عقل تہ فہم۔ بیہ آسٹس عطا کورمت نبوت تھہ یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ تو  
پتہ کیاونہ سولوکن تہہ بنو میان بندہ خدائس ورا ی یعنی میان کرو عبادت۔ ولکن کونوا ربین بلکہ  
چھہ تہنز کوم لوکن وئن۔ بنو تہہ اے لوکو خدایہ سند بندہ۔ پن خاص تعلقات تھاوہ ون تس سیت۔  
عبادت کرد تہنزی یا تہ۔ کیازہ سکو تہہ ہر گاہ ی لوکن پنہ نس عبادتس تہ پر ستشہ کن نادمہ۔ اللہ تعالیٰ ان  
یوسہ مہربانیاہ چھہ عطا کر مش سوتاب وائس بیہ گہہ ہم بزار بما کنتم تعلمون الکتب وبما کنتم  
تدرسون ای وجہہ کہ تہہ چھو کہ پتھنا وان لوک سوتاب تھہ منز توحید کی سبق چھہ۔ ای وجہہ  
کہ تہہ چھو سوتاب پانہ ہران ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکة والنبيين اربابا بیہ بیہ نہ  
سو بشر امر کر تھہ کہ تہہ بناو کھہ ملا یک تہ پیغمبر معبود پن خدائس ورا ی ایأمرکم بالکفر بعد اذ  
انتم مسلمون کیاہ یہ چھہ ممکن کہ سو بشر کیاہ کرہ تومہ کفرک تجویز، تہہ مسلمان بنہ پتہ واذ اخذ  
اللہ میثاق النبیین سو وقت پاو وژ تمس یلہ اللہ تعالیٰ ان عمد کرنا و ساری پیغمبر لہا اتیتکم من

اتَّيَبْتُمْ مِّنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ  
 لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ  
 عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَأَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ  
 مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۸۱﴾ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
 الْفَاسِقُونَ ﴿۸۲﴾ أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿۸۳﴾

کِتَابٍ وَحِكْمَةٍ البتہ یہ کثیرہاہ میہ توہمہ عطا کور کتاب تہ حجت تہم جَاءَكُمْ رَسُولٌ توپتے واتر  
 توہمہ نش پیغمبرہ اعظیم الشان مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ سُو آسہ تصدیق کرہون تہزن سارنی بنیادی تھن  
 ہمہ توہمہ سیت جہہ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تہہ کرزہ تمس پیغمبرس ضرور پڑھہ وَلَتَنْصُرُنَّهُ بیہ کرزہ  
 تہندس دینس ضرور مدد قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ اللہ تعالیٰ اَن فرموؤکھ اے پیغمبر ووارہ کرو اتھ پیٹھہ اقرار  
 وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي اتھہ پیٹھہ کرہہ میون عمدتہ حکم قبول ہتھہ عمدس تہہ وفا کرو قَالُوا  
 أَأَقْرَرْنَا ساروی پیغمبر و دُوب اسہ کور اقرار قَالَ فَاشْهَدُوا اللہ تعالیٰ اَن فرموؤکھ پس روز و اڈا دین  
 گواہ وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ بوتر چھوس توہی سیت گواہو اندرہ فَمَنْ تَوَلَّىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ  
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ہس سہو منزہ روگردانی کرہ امہ معاہدہ پتہ تے چھہ کافر تہ نافرمان۔  
 أَفَغَيْرِ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ کیا تم عمد شکن چھا خدایہ سہدہ دینہ ورا یاکھہ دینا تھانڈان وَلَهُ أَسْلَمَ  
 مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حالہہ ہس اکھاہ آسانس تہ زمینس اندر چھو تموساروی چھہ گردن دار مژ  
 خدایہ سندس خمس طَوْعًا وَكَرْهًا خوشی سیت یا لاچار سہدت وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ پتولا کہ چھو تس  
 اَن سارنی رجوع کرن۔ قُلْ اَللّٰهُ وَمَا اَنْزَلَ عَلَيْنَا فرماؤکھ تہہ یارسول اللہ ﷺ آسہ کر پڑھہ

قُلْ امَّا بِاللّٰهِ وَمَا اُنزِلَ عَلَيْنَا وَمَا اُنزِلَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَ  
 اِسْحٰقَ وَ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ وَالْاَسْبَاطِ وَمَا اُوْتِيَ مُوسٰى وَ  
 عِيسٰى وَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ  
 لَهٗ مُسْلِمُونَ ﴿۸۳﴾ وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ  
 وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۸۵﴾ كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا  
 كَفَرُوْا وَاَبْعَدًا اِيْمَانِهِمْ وَشَهِدُوْا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ وَجَآءَهُمُ  
 الْبَيِّنٰتُ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ ﴿۸۶﴾ اُولٰٓئِكَ جَزَاؤُهُمْ

کُنس خدائیس بیه تمّھے یہ آسہ کُن نازل آو کر نہ وَمَا اُنزِلَ عَلٰى اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ  
 وَالْاَسْبَاطِ بیه تمّھے یہ نازل آو کر نہ حضرت ابراہیمس، حضرت اسماعیلس، حضرت اسحاقس، حضرت  
 یعقوبس بیه تمّھدین اولادن پیٹھے وَمَا اُوْتِيَ مُوسٰى وَ عِيسٰى وَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ بیه تمّھے یہ عطا کر نہ آو  
 حضرت موسیٰ اس، حضرت عیسیٰ اس، بیه سارنی پیغمبرن پنہ نس پروردگارہ سدہ طرفہ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ  
 اَحَدٍ مِنْهُمْ کانہہ فرق پھنہ اس کران سمواندرہ کانہہ اس اندر وَنَحْنُ لَهٗ مُسْلِمُونَ اس جھہ خدایہ  
 سندی فرمانبردار تم کوراسہ یہ دین عطا۔ آسہ کُر قبول تہ اختیار یوہے دین وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا  
 فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وون نس اکھاہ ژھانڈہ اسلامہ وراى بیاکھہ دیناہ۔ آدہ سو دین انس تہ ہرگز قبول تہ منظور  
 کر نہ وَهُوَ فِى الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ بیه آسہ سو آخرتس اندر تاوان زدو اندرہ سم نہ نجات ہیکن  
 لبست۔ كَيْفَ يَهْدِى اللّٰهُ قَوْمًا كَفَرُوْا وَاَبْعَدًا اِيْمَانِهِمْ اللّٰهُ تعالیٰ تمّھے پاٹھے ہاوہہ تھہ تمن لوکن سموکفر تہ  
 انکار کوراکہ پھرہ ایمان انتھہ وَشَهِدُوْا اَنَّ الرَّسُوْلَ حَقٌّ بیه سمواکہ پھرہ گواہی دژہ پیغمبر چھو پز زیور  
 وَجَآءَهُمُ الْبَيِّنٰتُ بیه واژہ تمن نشہ نہ دلیلہ۔ وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ بیه کتہ انہ اللّٰهُ تعالیٰ

اِنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ۙ  
 خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يَنْظُرُوْنَ ۙ  
 اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ  
 غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ۙ ۙ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاَبْعَدُوْا اِيْمَانِهِمْ ثُمَّ  
 اَزْدَادُوْا كُفْرًا لَّنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الضّٰلُّوْنَ ۙ  
 اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفّٰرٌ فَلَنْ يُقْبَلَ  
 مِنْۢ اَحَدِهِمْ مَّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَّلَوْ اَفْتَدٰى بِهٖ ۙ

سیزہ و تہ پیٹھ سمن ظالمین سموا ایمانچہ جاہیہ کفر تھوو اولیک جزاؤھم اَنّ علیھم لعنۃ اللہ و الملائکۃ  
 و الناس اجمعیّن سمنی لوکن ہند سزا چھو یمن پیٹھ لعنت خداہ سنزیہ ملائکن ہنزیہ سارنی لوکن  
 ہنز خلدیّن فیہا تنھہ لعنتس منز روزن گرفتار ہمیشہ یا لعنتس اثرس منز۔ سوگو عذاب جہنم تنھہ منز  
 روزن ہمیشہ لَا یُخَفَّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ یَنْظُرُوْنَ لوثر اونہ تہ کم پیہ نہ کرنہ تہن نشہ سو عذاب نہ  
 پیہ تہن مہلت ونہ یعنی جہنمچہ قید خانہ منزہ یمن کٹنہ وقتہ نینہر کڈنہ اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ  
 وَاَصْلَحُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ مگر سمو توبہ کورامہ پتہ بیہ سنبھالکھ دل پنن بیہ عملہ پننہ کس  
 جہنہہ خیطرہ چھو اللہ تعالیٰ مغفرت کرہ ون، رحم کرہ ون اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاَبْعَدُوْا اِيْمَانِهِمْ پڑاٹ  
 سمو کھ کورایمان انہ پتہ تھہ اَزْدَادُوْا كُفْرًا تو پتہ کرکھ زیادتی کفرس اندر لَن تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَاُولٰٓئِكَ  
 هُمُ الضّٰلُّوْنَ یہند توبہ پیہ نہ ہرگز قبول کرنہ کس توبہ تم بین گئہن ہندہ خیطرہ گرن۔ پیہ چھہ تے گراہ  
 تہ ذلت اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَمَاتُوْا وَهُمْ كُفّٰرٌ پڑاٹھہ سمو کفر کور تہ موڈ کفر سی پیٹھ فَلَنْ يُقْبَلَ  
 مِنْۢ اَحَدِهِمْ مَّلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا پس ہرگز پیہ نہ تہن نشہ قبول کرنہ شیوت سون سمہ سیت سوروی  
 زمین پڑ آسہ و لو اُفْتَدٰى بِهٖ ہر گاہ سو تیوت سون عذابس بدلہ دیہ ہرگز پیس نہ قبول کرنہ۔

أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۙ ﴿٩١﴾  
لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا  
مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۙ ﴿٩٢﴾ ۚ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا لِّبَنِي  
إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
تُنزَلَ التَّوْرَةُ ۗ قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ

أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۙ تمہیں لو کن ہندہ خیطرے چھو کڈر عذاب ۙ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ  
بیہ آسہ تمہن کا نہ مددگارہ۔ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۙ ای مسلمانو ہرگز بیہ کو نہ کامل  
نیکی یعنی یوڈ ثواب حاصل کر تھہ یو تان نہ خرچ آسو کر ان تمہ مالہ منزہ ئس تو بہہ ٹوٹھہ آسہ آدہ سو کم  
آستن یا زیادہ ۙ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۙ بیہ یہ تمہ خرچ کرو تھہ چیزہ اندرہ۔ ئس اللہ  
تعالیٰ چھو تہ پور زمانان۔ تمہہ پیٹھہ کر وہ ثواب عطا مگر ثواب عظیم گو تھہہ خیطرہ تمہ چیزہ منزہ خرچ  
کرن ئس ٹوٹھہ آسہ ۙ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلالًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَىٰ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ  
أَنْ تُنزَلَ التَّوْرَةُ ۙ ساری کھینک چیز آس حلال بنی اسرائیل ہندہ خیطرہ تورات نازل سپد نہ  
برونٹھہ۔ تمہو چیز وورای تم حضرت یھو بن پانس پیٹھہ حرام آس کر مت بطریق نذر۔ تمہو اوس نذر  
تھوومت کہ ہر گاہ عرق النساء ک تکلیف مہ دور گھہ تلہ تراوہ یو وٹھہ مازتہ و وٹھہ دود کھیون۔ امہ سبہ  
آس نہ تمہ تمہ زہ چیز استعمال کران۔ جھندس شریعتس منز آسا مہ طریقہ نذر تھاون جائیز۔ یعنی کانہہ  
چیز پانے پانس پیٹھہ حرام گرن یا کانہہ حلال چیزاہ ترک کرن ئس خدا ئن حلال کور مت آسہ۔ تہ چھو  
اسلامس منز ناجائیز۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان نبی کر تمس صلی اللہ علیہ وسلم لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ  
تہہ کیا زہ چھوہ پانس پیٹھہ سو چیز حرام کران ئس خدا ئن جھندہ خیطرہ حلال کور مت چھو قُلْ فَأْتُوا  
بِالتَّوْرَةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۙ فرماو یو کھہ تہہ یار سول اللہ ای بیہو دود تھہ چھوہ تورا تک  
حوالہ دوان۔ ئس کرو پیش تورات تہ سوی پرو۔ ہاو وکتہ ئس چھو توراتس اندر لیجھت۔ ہر گاہ تہہ

صَدِيقَيْنِ ﴿۹۳﴾ فَمَنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ  
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۹۴﴾ قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ  
 حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۹۵﴾ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ  
 لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ﴿۹۶﴾ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ  
 إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ

اعتراض کرنس اندر پزیرا چھوہ سو اعتراض اوس تہوندیو ہے کہ توہمہ مسلمانے چھوہ دپان اس چھہ  
 برملت ابراہیمی تلہ کیا زہ چھوہ تم چیز کھیوان تم چیز حضرت ابراہیمس پیٹھہ اللہ تعالیٰ ان آس حرام  
 کرمت۔ تھہ اعتراض کوزھہ اللہ تعالیٰ ان رد۔ فَمَنْ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ  
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ جس نس اکھاہ آپن نووراوہ معبود برحقس پیٹھہ امہ پتہ۔ جس تھے چھہ ظالم بے  
 انصاف قُلْ صَدَقَ اللَّهُ فرما دیو کہ پوز فرموا اللہ تعالیٰ ان حضرت ابراہیمس متعلق یہ خبر۔ ولو اتھہ  
 پزہ تھہ پیٹھہ کرو فیصلہ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ جس ہر گاہ توہمہ تہندہ متابعک  
 دعویٰ چھوہ۔ تیلہ کمر و تہنز متابعت۔ تم آس ساروی دنیو غیہہ بیزار۔ ثابت آس بردین اسلام۔ بیہ  
 آس نہ تم مشرکواندرہ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبْرَكًا پز پاتھہ عبادتک گوڈکوی سوگرہ  
 جس تعمیر آو کرنہ لوکن ہندہ عبادتہ خیطرہ، سوگو سوئی گرہ جس مکہ شریفس منز چھوہ۔ جس سیٹھاہ با برکت  
 چھوہ۔ سمہ آیہ کریمہ سیت چھو اللہ تعالیٰ رد ذکر ان یہوڈن ہندس بیس اعتراض سوگو یو ہے کہ تم  
 آس دپان ہر گاہ تھہ حضرت ابراہیمہ سندس ملتس پیروی چھوہ کران۔ تلہ اوس حضرت ابراہیمن  
 عراقہ پیٹھہ ہجرت کر تھہ شامس منز پن وطن بنومت۔ تہند قبلہ اوس بیت المقدس۔ تھہ تھہ پاتھہ چھوہ  
 دعویٰ کران تم سیت قرُبک تہ نزدیکی ہند۔ اللہ تعالیٰ ان فرموا تھہ ساروی مقامات مقدس برو تھہ  
 چھو گوڈکوی مقدس تہ مشرک گرہ کعبہ شریف جس مکہ معظمہ اندر چھو وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ بیہ چھویہ  
 کعبہ شریف یوڈ ہدایت عالمن ہندہ خیطرہ فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ اتھہ خانہ کعبس منز چھہ خدایہ



مِّنْ اسْتِطَاعٍ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ  
 الْعَالَمِينَ ﴿۹۷﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ  
 شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ ﴿۹۸﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنِ  
 سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ أَمْنٍ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ ۗ وَمَا اللَّهُ  
 بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۹۹﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَطِيعُوا فَرِيقًا

سندہ قدر تک بن نشانہ۔ تمواندرہ گواکھ مقام ابراہیم۔ سوکن تھہ پیٹھہ ایستادہ رُوڑتھہ حضرت ابراہیم  
 خانہ کعبہ بنا کر ان آس۔ تھہ کتہ منزے چھہ ژور نشانہ۔ تھہ منزچہہ حضرت ابراہیمہ سند پائے مبارک  
 سنے متی (۲) تے پائے مبارک چھہ سنے صنت ژنہ نین تان (۳) تے نشانہ چھہ تھہ کتہ پیٹھہ یوت کال  
 گڑھتھہ تہ ونہ موجود (۴) بیہ چھہ سوکن از تان موجود۔ باوجود آنکہ کعبہ شریف چھہ دشمنواریاہ  
 پھرہ بے خرمتی کر مرث۔ لوہر مت تہ منہدم کورمت۔ مکتھہ کتہ چھونہ کانہہ تغیراہ سپد مت وَمَنْ  
 دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا بیہ نُس اکھاہ اتھہ گرس منز ژاؤ تم لوب امن وامن وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ  
 بیہ چھو خدایہ سدی خیطرہ لوگن پیٹھہ مہ امہ گرج زیارت کرنہ خیطرہ بقصد سفر کزان مِّنْ اسْتِطَاعٍ إِلَيْهِ  
 سَبِيلًا یوہے چھو مہ لوکو اندرہ تم پیٹھہ یمن توت واتنک طاقت آسہ مالی و بدنی وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ  
 غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ دون نُس اکھاہ حج مہ آتھہ حج کرہ نہ۔ متہ کرتن۔ تمیک نقصان چھو تس پانس۔  
 اللہ تعالیٰ چھو بے نیاز ساروی مخلوقا تو نشہ۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ فرماو دیار سول  
 اللہ اے اہل کتابو کیا زہ چھوہ انکار کران خدایہ سندن آیاتن وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا تَعْمَلُونَ حالانکہ اللہ  
 تعالیٰ چھو و چھان تہ یہ ہتہ کران چھوہ۔ سو دیہ وہ ضرور امیک سزا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنِ  
 سَبِيلِ اللَّهِ فرماو ہتہ یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اہل کتابو کیا زہ چھو کھہ تھہ رنان خدایہ  
 سزہ ہوتہ نشہ دین اسلامہ نشہ مِّنْ أَمْنٍ تم لوکھہ سموا ایمان اون تہ پوز دین قبول کور تَبْغُونَهَا عِوَجًا  
 ژھانڈان چھوہ ہتہ اتھہ دینس اندر نقصان تہ خرابی وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ حالانکہ توہہ چھوہ معلوم بیہ چھو

مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ ﴿۱۰۰﴾  
 وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ  
 وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۰۱﴾ يَا أَيُّهَا  
 الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ  
 مُسْلِمُونَ ﴿۱۰۲﴾ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا  
 نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ

دین حق و ما اللہ یفعل عما تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ چھو نہ بے خبر ٹھہر و کامیو نہرے یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِنَّ  
 تُطِيعُوا فَرِيقًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ ای با ایمانو ہر گاہ ہنہ کانہ کتھاہ مانو نہرے جماعی اہل کتابو اندرہ  
 یَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كُفْرِينَ تم و اتنا وہ توہمہ ہنہدہ ایمان انہ پتہ بہہ کُفْرَسُ كُنَّ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ  
 وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ ہنہ کتھہ پاٹھہ بیکو بہہ کُفْرَسُ كُنَّ پھیرت توہمہ پیٹھہ ہے چھہ  
 خدایہ سند آیات پر نہ یوان۔ عیے توہمہ منز چھو موجود تسند پیئمبر وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ  
 صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ کس اکھاہ زورہ کرہ تھپ اکسی خدا کس کس تھیق کس آہہ و تھہ ہانہ سیزہ و تہہ کُنَّ  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ اے با ایمانو کھو تُو اللہ تعالیٰ اَسُ تھہ کس کھو تُو ن شوبہ۔ کس  
 کھو تُو ن گو کہ تھہ پاٹھہ ہنہ کُفْر و شر کہ نہرے تھہ رُو زو تھہ پاٹھہ رُو زو ساروی گھو نہرے تہہ تھہ وَلَا تَمُوتُنَّ  
 إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ بیہ مہ مہر و مگر اسلامس پیٹھہ جان دیو اسلامس پیٹھہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ  
 جَمِيعًا بیہ کُفْر و زورہ تھپ اللہ تعالیٰ سزہ محکم رزہ ساری سمٹھہ تہ حُفْن رُو زتھہ۔ محکمہ رزہ تھپ  
 کرن گو سارنی اسلامین حمن اصولن تہ فروغن پیٹھہ پور عمل کرن وَلَا تَفَرَّقُوا اَللَّكُم مَّ سَدِيدٌ  
 نا اتفاق مہ کرو مسلمان آہتہ کیازہ اسلامس اندر چھہ اچ سخت ممانعت وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  
 تُو کس پاو سو نعمت خدایہ سز یوسہ خاص توہمہ عطا کرنوہ اے قبیلہ اوس و نزر ج کیو مسلمانو اِذْ كُنْتُمْ  
 اَعْدَاءً یلہ ہنہ آسوہ اسلامہ بروٹھ کھہ آسند سخت دشمن فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا

بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۳۳﴾ وَلَتَكُن مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يُدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۳۴﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ

پس تروا اللہ تعالیٰ ان آفت تہندین دن اندر چنانچہ تمہ سپدوہ تہنزہ ہر بانئ سیت پانہ وان بائ بائ۔  
 پانہ ہر بانئ گینہ تہندہ حقہ یہ کہ **وَکُنْتُمْ عَلٰی شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ** بیہ آسوہ تمہ کہ نارہ کھوڈہ کس  
 پشس بیٹھہ واتمہ۔ تیار آسوہ تمہ منز کیا بیہ ہو تمہ۔ **فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا** اللہ تعالیٰ ان بجاوہہ تمہ منز  
 پینہ نشہ ایمانہ برکتہ۔ لہذا کریوہ توہمہ یمن خدایہ سزمن ہر بانئ ہنز قدر۔ پانہ وان مہ کمر و ہر ہر تہ لایہ  
 لای۔ امہ سیت سپد نوہ سمہ ہر بانئ ضایع **كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ آيٰتِهِ** تمہ پانہ اللہ تعالیٰ ان یہ  
 حکم واضح تہ ن پانہ بیان فر مووتہ پانہ چھو اللہ تعالیٰ جن احکام تہ ہدایتہ چہ دلیلہ صاف صاف  
 بو صاحت بیان کران۔ **لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ** تمہ توہمہ تمہ بیہ راہ راستس کن تہ تمہ وتہ بیٹھہ روز و تمہ  
 ثابت تہ محکم **وَلَتَكُن مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يُدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ** بیہ چھو لازم توہمہ اندرہ آسن اکھ جماعتہاہ سم  
 ناد آسن و وان لو کن خیرس کن یعنی دین اسلامس کن یا خیرہ چن کاین کن۔ پانہ وان متحد و متفق روز نس  
**کُن وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ** بیہ سم امر آسن کران رثن کاین ہند۔ منع آسن کران  
 چھہ کامیو نشہ۔ معروف گینہ تمہ کامہ بیہ موافق آسن قرآن و حدیثس۔ مکر گینہ تمہ کامہ سمہ مخالف  
 آسن کتاب و سنس **وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ** رثن کاین ہند امر کرہ ون تہ چھہ کاین ہند منع کرہ ون  
 جماعتی چھہ آخرتس منز ثواب حاصل کر نس اندر کامیاب تہ رستگار **وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا  
 وَاخْتَلَفُوا** بیہ مہ آسوہ تمہ اے مسلمانو تم لو کن بہمہ سمو مفرق تہ الگ الگ سپدت دینس اندر پانہ وان  
 اختلاف کور **مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ** صاف صاف تہ واضح احکام تمین نشہ واتہ پتہ **وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ**

عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۵﴾ يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا  
 الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ اٰيْمَانِكُمْ فَذُوقُوا  
 الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۱۶﴾ وَاَمَّا الَّذِينَ اَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ  
 ففِي رَحْمَةِ اللّٰهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۷﴾ تِلْكَ اٰيَةُ اللّٰهِ  
 نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللّٰهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ ﴿۱۸﴾  
 وَاللّٰهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ

عَذَابٌ عَظِيمٌ جہندی خیطرہ چھوہیہ یوڈ عذاب یوم تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ تمی دوہہہ سمہ  
 دوہہہ اڈین ہند بٹھہ سپدن سفیدہ تہ اڈین ہند بٹھہ سپدن سیاہ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ کس یمن ہند  
 بٹھہ سیاہ سپدن تمن بیہ ونہہ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ اٰيْمَانِكُمْ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ کیاہہ انکار کو روہہ  
 توہیہ اقرار کرنہ پتہ۔ کس ژہو مزہ جہنمکہ عذابگ۔ کیاہہ توہے ایمان اتنہ پتہ کھر چہہ کامہ آسہہ کران  
 وَاَمَّا الَّذِينَ اَبْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ ففِي رَحْمَةِ اللّٰهِ وون یمن ہند بٹھہ روشن تہ سفید آسن۔ تم آسن خدایہ  
 سندس رحمتس اندر یعنی رحمتہ جایہ اندر۔ سوگو جنت۔ ہُم فِيهَا خَالِدُونَ تم روزن تھہ جنتس اندر  
 ہمیشہ تِلْكَ اٰيَةُ اللّٰهِ نَتْلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ یہ بیان آو کرنہ تم چھہ خدایہ سند آیات تہ فیصلہ  
 جات۔ تم آسن توہیہ بیٹھہ صحیح طور پر ان چھہ یار سؤل اللہ وَمَا اللّٰهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعٰلَمِيْنَ اللہ تعالیٰ  
 چھونہ ہر گز مخلوقن پیٹھہ ظلم یرھان کرن۔ وون یہ کئیہ ہاہہ کانسہ ہندہ خیطرہ جزاء و سزا بیان آو کرنہ تہ  
 چھو بالکل مناسب تہ موزون جہندہ کامہ موجب وَاللّٰهُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ خدایہ سند  
 چھوتہ سوزی یہ آسمان تہ زمینس اندر چھوتھہ کُن نظر کھر تھہ پڑہہ ہاسارنی پنہ نس مالکہ سز فرمانبرداری  
 کرن۔ تموز فرمانبرداری کرتم چھہ ثواب و اجرس مستحق۔ تموز نافرمانی کرتم چھہ عذاب و سزاس  
 مستحق وَ اِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورُ خدایہ سی گُن یمن و اتناونہ ساری معاملات تہ ساری مقدمات۔  
 فیصلہ چھو تس کرن۔ تس و رای بیاکھہ اختیارہ و ولایہ آسہ نہ کانسہ تہ کُنْتُمْ خَيْرًا اُمَّةً اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ

الْأُمُورَ ۱۹ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ  
 بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ  
 آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ  
 الْفَاسِقُونَ ۲۰ لَنْ يَضُرُّكُمْ إِلَّا آذَىٰ وَإِنْ يُقَاتِلْكُمْ يَوَلُّوكُمْ  
 الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ۲۱ ضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةَ آيِنَ مَا  
 تَقِفُوا إِلَّا إِلْحَبِلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبِلٌ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءٌ وَبِغَضِبِ

اے مسلمانو! آج وہ جہہ امواتا ہے بہتر امتا در علم ازلی۔ کڈنہ آمر لو کن ہندہ فائیدہ خیرہ۔ تہندہ بہتر  
 آسگ وجہ چھو کہ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ جہہ چھوہ لو کن رثن کا مین ہند امر  
 کران۔ تہ چھہ کامیونہ منع کران۔ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ یہ چھوہ پانہ کنس خدا ایس پڑھہ کر نس پڑھہ  
 ڈاڈ کران۔ خدا چھوہ ہمیشہ مژرہ تہ پاک زانان شریک آسنہ نہہ۔ تس ایمان آنتہ تہ پڑھہ کمر تھہ۔ تمین  
 تمین پڑھہ کرن لازم چھہ تمین سارنی چیزن چھوہ پڑھہ کران وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ  
 ہر گے یہود و نصاریٰ تہ ایمان آنہ ہن، خدا ایس عسوی زانہ ہن، پیغمبر بر حقس پڑھہ کرہ ہن۔ تہ اوس تہندہ  
 خیرہ سبھہ بہتر۔ تلہ سپد ہن تم خیر الام آسس منز توہہ سیت شامل۔ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ  
 وَالْأَكْثَرُ الْفَاسِقُونَ تمواترہ چھہ بعضی ایمان آنہ ون۔ اکثر چھہ فاسق تہ کافر۔ بلکہ چھہ تم مسلمان  
 دینی و دنیوی ضرور اتا و تہ خیرہ سخت کوشش کران مگر لَنْ يَضُرُّكُمْ إِلَّا آذَىٰ ہرگز ہمین کہ تم توہہ  
 ضرور اتا و تھہ۔ مگر زیوہ سیت و ن چھہ تھہ تمی سیت شملاون دل پن وَإِنْ يُقَاتِلْكُمْ ہر گاہ تم  
 توہہ سیت مقابلہ کرنہ خیرہ نیرن يَوَلُّوكُمْ الْأَدْبَارَ ہمین نہ مقابلہ کر تھہ بلکہ ڈلن توہہ کن تھر  
 پھر تھہ شکست کھیوان ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ توپتہ اکتھہ نہ کڈنہ طرفہ مدد کرنہ ضَرَبْتَ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةَ آيِنَ مَا  
 تَقِفُوا تراوندہ چھہ آمر تمین پڑھہ خواری تہ تم لینہ ہن تہ تہتہ إِلَّا إِلْحَبِلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبِلٌ مِّنَ النَّاسِ  
 مگرے کاہہ۔ بجا وک ذریعہ خدایہ سیدہ طرفہ یا لوگ ہندہ طرفہ تمواترہ کانسہ حاصل آسہ سوروزہ تمہہ

مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا  
يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ ۗ ذَٰلِكَ  
بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿۱۱۲﴾ لَيْسُوا سَوَاءً ۗ مِنْ أَهْلِ  
الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّبِعُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنْتَاءَ اللَّيْلِ وَ  
هُمْ يَسْجُدُونَ ﴿۱۱۳﴾ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ  
يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ

خواری نشہ محفوظ۔ خدایہ سُنْد ذریعہ گوکہ کانہہ آسہ تمو اندرہ خدایہ سُنْدس عبادتس سیت مشغول۔  
مسلمان سیت آسہ نہ مقابلہ و مقاتلہ کران لوگن ہندہ ذریعہ اندرہ چھو مطلب تم آسہ مسلمان سیت صلح تہ  
معاہدہ کورمت۔ و بَاءُ وَ يَغْضَبُ مِنَ اللَّهِ حاصل کر تھہ آسے تم یہود خدایہ سُنْد غضب وَ ضُرِبَتْ  
عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ بیہ آسہ تراونہ تمن پیٹھہ محتاجی تہ بد حالی۔ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ  
وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ یہ سزا آکھ ائی موکھہ دنہ کہ تم آس خدایہ سندین آیات تہ احکامن انکار  
کران۔ تمن ہمدہ تعمیل کرنہ نشہ دانستہ پتھہ روزان۔ بیہ آس پیغمبرن یعنی تم احکام الہی و اتاودہ و نین  
ناحق قتل کران ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ یہ بے عملی تہ بد کرداری تہ شقاوت سہز تمن امی  
وجہہ کہ تمو کران فرمانی، بیہ آس تم حدہ ڈلان لَيْسُوا سَوَاءً چھہ تم ساری ہی تہ برابر کیاہہ مِنْ  
أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتَّبِعُونَ آيَاتِ اللَّهِ أَنْتَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ اہل کتاب اندرہ چھہ  
آکھ جماعتھہ ہم راہ راستس پیٹھہ، دین حقس پیٹھہ قائم روز تھہ چھہ۔ رات گیت چھہ خدایہ سند آیات  
پران۔ بیہ چھہ تم سندس حضورس اندر سر بسجود روزان يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ  
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ پڑھہ چھہ تمن کنس خدائس بیہ قیامتس  
دوئس۔ بیہ چھہ رٹن کائین ہند امر کران بیہ چھہ تھہ کامیونشہ منع کران۔ بیہ چھہ تم رٹن کائین اندر  
برونٹھہ گڑھان۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ بیہ چھہ تم نیکو کارواندرہ وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ

فِي الْخَيْرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّٰلِحِينَ ﴿۱۱۳﴾ وَمَا يَفْعَلُوا  
 مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿۱۱۴﴾  
 إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ  
 مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۗ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۱۵﴾  
 مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا  
 صُرٌّ ۖ صَابَتْ حَرَّتٌ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ ۗ وَمَا  
 ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۱۶﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا

يُكْفَرُوا ۗ بیه یوسہ رث کامہ سم کرن۔ سو ہرگز تمہیں نش پوشیدہ اینہ تھاوند۔ بلکہ پیچھے تمہوک  
 ثواب ضرور عطا کرنہ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ اللہ تعالیٰ چھو پورزان وول پرہیزگارنَ إِنَّ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا لَنْ تُغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا پزپاٹ سمو لو کو انکار کور، کفر سی پیٹھ  
 رُود، تمہن بیکہ نہ خدایہ سہدہ عذابہ نیشہ بجاوت تہ موکلاوت کانہہ۔ تہوند مال تہ تہند اولادئہ قسمہ  
 وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تہی لوکھہ چھہ جہنمی۔ یعنی چھو تہہ منز ہمیشہ روزن۔  
 مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مثال چھہ تجہیہ سم لوک خرچ کران چھہ ہتھہ دُنیاچہ زندگی  
 اَندر۔ کَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صُرٌّ ۖ صَابَتْ حَرَّتٌ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُ تہہ واوچ مثال تہہ منزخت  
 سردی آسہ۔ سُوی ولتہ کئہ قومہ کس زراعتس سمویان پانس ظلم کور۔ کس کور تم واون سہو تہو نذراعت تباہ  
 تہ بُر باد تہہ پاٹھہ گنہہہ تمہ ہند خرچ کمرن سوزی آخرتس اندر ضائع تہ بیکار وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ  
 أَنفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ اللہ تعالیٰ ان کورنہ تمہن پیٹھہ ظلم۔ بلکہ کور تمویان پانس ظلم کفر کرنہ سیت  
 کیا زہ کافر ن ہنز کانہہ عمل چھہ کفر سببہ قبولیتس سزوار یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِلطَانَتِهِ مِنْ

لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِّنْ دُونِكُمْ لَا يَأْتُونَكُمْ خَبْرًا وَّذُومًا  
عَنِّي قَدْ بَدَأَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ  
أَكْبَرُ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۸﴾ هَآئِنْتُمْ أَوْلَاءُ  
تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذِ الْقَوْمُ  
قَالُوا آمَنَّا بِهِ وَإِذِ الْوَعْدُ الْأَكْمَلُ مِنَ الْعِظْمَاءِ  
قُلْ مَوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۱۹﴾

دُونِكُمْ لَا يَأْتُونَكُمْ خَبْرًا اے باایمانوہ آسیدو کہ بناوان پنہ جماعتہ ورا ای بیہ کانہہ سر بوج، پنہ نین اسرازن محرم۔ سم دشمن چہنہ کانہہ کمی کران توہہ خلاف قنہ و فساد کرس اندر و ذومًا عنیتم کانچھان چہہ تم پر ہتھہ وقتہ تہند تکلیف تہ سختی منز آسن قَدْ بَدَأَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ تہنزد شمنی چہہ تہند یو چائلیو اندرہ نیران۔ تہنزد و کتھو اندرہ وارہ نان۔ یہ چھو توتہ کی وَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ اَکْبَرُ کس عدوت تہند بن دلن اندر چھو۔ سو چھو سیٹھاہ بوڈتہ زیادہ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ إِن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ اپز پاٹھہ آسہ کمر واضح تہندہ خیطرہ تہندہ عدوتک نشانہ۔ چھوے تہہ عقلہ وال تلہ زانو تہہ پائے سمبو نشانویت تہند بن دلن ہند حالات هَآئِنْتُمْ أَوْلَاءُ تُحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ وارہ یوزواے باایماؤ۔ تہہ چھوہ تہند محبت تھوان حالانچہ تمن چھونہ تہند محبت کہنہ تہ و تُوْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ تہہ چھوہ سارنی آسانی کتابن ایمان آنان۔ پڑھ کران تمن چھنہ سارنی کتابن ہنز پڑھ۔ تم چھہ تہہ سیت ڈھو کہ پاٹھہ پکان۔ مگر تہہ چھوہ توتہ تمن سیت دوستی ہند تعلقات تھوان۔ وَإِذِ الْقَوْمُ قَالُوا آمَنَّا بِلہ تم توہہ سمکھان چھہ تمہہ ساتہ چھہ تہہ ہونہ خیطرہ منافقانہ طریقس پیٹھہ و نان کہہ اسہ اون ایمان وَإِذِ الْوَعْدُ الْأَكْمَلُ مِنَ الْعِظْمَاءِ قُلْ مَوْتُوْا بِغَيْظِكُمْ فرادیو کہ تہہ یار سول اللہ اتھہ کھن کیاہ کتھہ چھہ ہر گاہ تہہ ڈکھہ سیت مروتہ توتہ نیرہ نہ تہند مطلب إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ پز پاٹھہ اللہ تعالیٰ چھو پوزانہ ون



تَسْسِكُمْ حَسَنَةً سَوْهُمْ وَإِنْ تَصْبِكُمْ سَيِّئَةً يَفِرْ حُوا  
 بِهَا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ  
 اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿۱۲۰﴾ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ  
 تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۲۱﴾  
 إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتٌ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلُوا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا وَعَلَى  
 اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۲۲﴾ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ

تمہ سارے تمہہ سیمہ تہندین سین اندر پو شیدہ چہہ ان تَسْسِكُمْ حَسَنَةً سَوْهُمْ ہر گاہ توہہ کانہ  
 رثا لہا پیش یوان ہہہ۔ کانہ خوشی ہنز کتھاہ واتان ہہہ تمن چھو تمہ ساتہ موصیت یوان وَإِنْ  
 تَصْبِكُمْ سَيِّئَةً يَفِرْ حُوا بِهَا ہر گاہ توہہ کانہ موصیتاہ یا غماہ واتان چھو تمہ ساتہ چہہ تم خوش گردھان  
 تمہ سیت۔ وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا تَمْنِ سِيت شوبیا توہیہ دوستی لاگن یا دوستی ہند تعلقات  
 تھاون۔ مگر تھنہ جہہ بانہر و تہزہہ دشمنی سیت۔ تمیوک علاج چھو صبر وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ  
 كَيْدُهُمْ شَيْئًا ہر گاہ جہہ صبر و استقلال کثرت خدا جس کھو ژو، کہہنہ ضرر پہچنہ نہ واتا تھہ توہہ  
 نہوند مکرو فریب کتہ قسمہ إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ پز پاٹ اللہ تعالیٰ چھو تھہ سارسی یہ تم  
 کران چہہ احاطہ کرہ و ن تہ پوزانہ و ن۔ سُو دِیہ توہہ تہندین حالاتن ہند اطلاع۔ تمن دِیہ سزا وَإِذْ  
 غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ بیہ چھوہ توہہ یادیا رسول اللہ علیہ  
 در اوہ جہہ حضرت عائشہ صدیقہ سہدہ حجرہ مبارک کہ آندرہ تو پتہ واتوہ جہہ کوہ احد س نزدیک تہہ پتو کھہ  
 توہیہ بالیمان مخاژ جنگس پٹھہ مناسب مناسب جاين ٹھہراون۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ اوس  
 تمہہ ساتک تہند سوزوی کلام یوزان تہند حال زانان إِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتٌ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلُوا وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا  
 یلہ نا توہیہ اندر دو یو جمارت و ممت ہار نک تہ واپس ژلہ تک ارادہ کریو۔ خدا چھو تہند دوست تہ مددگار۔  
 سُو تھہ پاٹھہ دِیہ ہا تمن ممت ہار تھہ ژلہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ بالیمان پزہ خدا یہ سی پٹھہ

اذَلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۳۳﴾ اذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ  
 اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ اَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ  
 مُنْزَلِيْنَ ﴿۱۳۴﴾ بَلٰٓ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوا وَيَاۡتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ  
 هٰذَا يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ ﴿۱۳۵﴾  
 وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بَشْرٰى لَّكُمْ وَلِتَطْبِئْنَ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ط وَمَا  
 النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ ﴿۱۳۶﴾ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ

بھروسہ کرن۔ تمہند مددگار چھوڑ پرتھہ وقتہ سؤی۔ کم ہمت گتھ نہ کتھہ وقتہ لاگن۔ وَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ  
 بِيَدِيْ بِرِزْقِهِ اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْ كُوْرِدْ دُوْهہ جنگ بدرس منز؛ وَمَا نَكَمُ اذَلَّةٌ يِلہ تھہ بظاہر سامانچہ کى تہ  
 فوجہہ کى سبہ ہست آسوہ سُوْحال آتھہ کمر نوہ یاری محض تھندہ پر ہیز گاری تہ صبر واستقلال کھہ برکتہ  
 فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بھس کھو شوڑو تھہ ہمیشہ خدا بھس تاکہ توبہہ آسہ یو اِن موقعہ تھنزہ شکر  
 گزاری ہند اذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَكْفِيَكُمْ اَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ اَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ  
 یہ مدد تیاری سبز توبہہ تمہہ وقتہ عطا یلہ تھہ یار سُوْل اللّٰهِ دِپان آسوہ با ایمان (تم) یہ خبر یوزت پریشان  
 آس سپد مت کہ کافرون دوت یہہ فوج مدد نہہ خیطرہ۔ کیاہ توبہہ پھنادل مضبوط کرنہ خیطرہ یہہ تھہ کافی  
 کہ توبہہ کرہ اللّٰہ تَعَالٰى مدد تریو ساسو (۳۰۰۰) ملا نیکو سیت۔ تم والنہ آئے تھندہ مدد کہہ خیطرہ آسا کھہ  
 طرفہ بَلٰٓ اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوا وَيَاۡتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ بے شک چھہ یہہ تھہ کافی بلکہ اچ کیاہ چھہ کتھہ  
 ہر گاہ تہہ صبر واستقلال کمر وہیہ کھو ژو خدا بھس اڈے دُشمن توبہہ پٹھہ جوش و خروشہ سان بھگتہ تہہ مکہ تہہ  
 حملہ کرن هٰذَا يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ تمی ساتہ کرہ توبہہ اللّٰہ تَعَالٰى بھس  
 تھندہ رُب چھوپانز ساس (۵۰۰۰) ملا نیکو سیت مدد۔ تم نشانہ دار آسن مخصوص وردی لاگت۔ تم یوزہ  
 کتھہ تیار آسن وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بَشْرٰى لَّكُمْ اللّٰہ تَعَالٰى اِن کور نہہ ہمداد مگر تھندہ غلبہہ بشارتہ تہہ خوشخبری  
 خیطرہ وَلِتَطْبِئْنَ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ بیہ تھہ تھندہ دل قرار رن امہ سیت وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ

الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْتُمُهُمْ فَتَنقِلُوا حَافِيَيْنَ ﴿۱۲۴﴾ لَيْسَ لَكَ  
 مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۲۵﴾  
 وَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَ  
 يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۲۶﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
 آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا

العَذَابَ الْعَظِيمَ ۚ بھہ چھ حقیقت کہ یاری تہ مدد چھونہ کانہہ ہندہ طرفہ عزتہ وائس تہ حکمتہ وائس  
 خدائس وراى لِيَقْطَعَنَّ طَرَفَاتِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ يَتَّخِذُهُمُ كَافِرًا وَانْدَرَهُ اَكْسَ جَمَاعَتَسْ هَلَاكُ غَرِّهِ اَوْ يَكْتُمُهُمْ  
 فَيَنْقَلِبُوا حَافِيَيْنَ ۚ یا کرکھہ خوار و ذلیل پس ژلن تم وائس ناکام گدہتھہ۔ چنانچہ ستن کافرن تم ہڈا نگر  
 آس آہہ گردن دنہ۔ ست زن آہہ گرفتار کرنہ۔ باقی ژل شکست فاش تھیتھہ۔ نبی کریم صلی اللہ  
 علیہ وسلم یلہ جنگ احدس منز کافرن ہندہ طرفہ سخت تکلیف ووت۔ ذندان مبارک سپد شہید روی  
 مبارکس سنیاى خود شریفک کرواریاہ زخم آہہ بدن مبارکس بیہ آہہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نہایت بے دردی سان  
 شہید کرنہ۔ دل مبارک سپد نبی کریمہ سند تمہہ سیت سیٹھاہ آزدہ۔ ارادہ کورکھہ کہ دشمن پٹھہ کرہ ہن  
 دُعای بد۔ آتی سپد نازل بیہ آہہ کریمہ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ اے پیغمبر خدا تو بہ نہ حض چھونہ  
 دخلاہ اتھہ معاملس اندر کاہہ سپد تن مسلمان کانہہ متہ سپد تن۔ امیوک سوزوی اختیار چھو خدائس  
 اتھہ توبہ پڑہ صبر کرن۔ اَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ ۚ توتان یوتان دو یو چیز واندہرہ اکھہ چیز لبنہ بیہ  
 یادہ اللہ تعالیٰ تمن توبہ کرنک توفیق۔ تم سپدن مسلمان۔ جہند دل مبارک سپدہ خوش یا کرکھہ  
 عذابس گرفتار۔ ہر گاہ گھرسی پٹھہ تمواصرار کور۔ تمہہ سیت شہلن مسلمانن ہند دل ۚ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ  
 کیاہہ تم چھہ پڑھاہہ ظالم کفر و شرک کرکھہ سببہ۔ وَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ خدایہ سندی  
 چھوتہ سوزی بیہ آسمان تہ زمین اندر چھو یَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَ يُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ مغفرت گروہ پس  
 یڑھہ تہ تہس۔ عذاب کرہہ پس یڑھہ تہ تہس ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ بیہ چھو اللہ تعالیٰ سیٹھاہ مغفرت کرہون

اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿۱۳۱﴾ وَأَتَقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ  
 لِلْكَافِرِينَ ﴿۱۳۲﴾ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۱۳۳﴾  
 وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ  
 وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۱۳۴﴾ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ  
 وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ

سیٹھاہ رحم کرہ ون یَايُمَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اٰلِهٰبًا مَّضَعَفَةً اے باایمانو مہ کیو  
 مال دُوگناؤ دُوگناؤ کیازہ یہ چھ سو کام یوسہ جنہنس واتاؤہ۔ سو د پھو حرام کم آستن یازیاہ۔ یہ پھونہ  
 مُراد دُوگناؤ دُوگناؤ مہ کیو کم کم کیو۔ تھہ چھہ ونان قید واقعی۔ تمہ وقتہ اوس واقع تھہ پانھ سپدان۔  
 لوک آس دُوگناؤ دُوگناؤ سو د و صول کران۔ یہ پھونہ قید احترازی تمیک مطلب یہ نیر ہاکہ دُوگناؤ  
 دُوگناؤ آسانا جائیز کم کم آسا جائیز۔ وَأَتَقُوا اللَّهَ کھوژو و خدائس لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ تہہ  
 تہہ سپد و کامیاب۔ نارہ نشہ نجات لبتھہ واتو جنس وَأَتَقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ  
 لِلْكَافِرِينَ اُس نار دراصل تیار آمت پھو کرنے کافرن ہندہ خیترہ۔ باایمان آتھہ مہ واتاؤ یو کھہ پن پان  
 کافرن ہنزہ جاپہ منز۔ نافرمانیو سیت۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ حکم مانو خدایہ سُد وَالرَّسُولَ بیہ تھہ س  
 بیٹھہ سُد لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ دیوہ توہہ پٹھہ رحم بیہ کرنے قیامتک دوہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ  
 بیہ تلو دور پنہ نس پروردگارہ سیدس بدس مغفر تس گن۔ تمہ عملہ کرو سُموسیت مغفرت تہ جنت  
 حاصل سپد یو وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ بیہ تھہ جنس گن سُمیک پنہ چھو تیوت یوت  
 سٹھہ آسمان تہ ست زمین دُوگنہارہ نشہ مُوراد تہ کھہ اکس سیت ملناوتھہ تھاوت گدھہ۔ یہ گوپناہ  
 تمیک۔ ز پھوک اندازہ پھو خدایہ سی معلوم أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ سوی جنت پھو تیار کرنے آمت  
 خدائس کھوژو ونین ہندہ خیترہ۔ ہم خدایہ سیدس حکمس تعیل کرن۔ ممنوع چیز نشہ پتھہ روزن  
 الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ اول درجہ متقی گے تے لوگ ہم خرچ کرن خدایہ سندہ خیترہ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ

يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۳﴾ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا  
 أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ  
 اللَّهُ فَهُوَ عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ  
 يَعْلَمُونَ ﴿۳۴﴾ أُولَٰئِكَ جَزَاءُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَ  
 جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ  
 الْعَامِلِينَ ﴿۳۵﴾ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي

پرستہ حائس اندر۔ وسعتس اندرتہ تنگی اندرتہ وَالْكُفَّيْنِ الْعَيْظِ بِيه سم رکھہ ژاپون آسن  
 وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ بِيه سم عفو کرہ ون آسن لوگن بیٹھہ واللہ یحبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ پھو  
 پتھن نیکو کارن ٹوٹھ تھاون وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً بِيه گئے دوسمہہ درجک منٹی تے سم کانہہ پھہ  
 کاماہ کرن اَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ یا کرن ظلم پنہ نین پانن پیٹھہ ذَكَرُوا اللَّهَ تمہہ ساتہ آسن یاد کران  
 خدایہ سندس وعیدس تہ گنہکس سزاس فَاَسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ پس آسن مغفرت ژھانڈان پنہ نین  
 گوئمن ہندہ خیطرہ۔ تمہہ طریقہ یوسہ معافی ہینہ خاطرہ مقرر کرنہ آمرچھہ۔ سوگو ہر گاہ گنہگارن بین  
 پیٹھہ زیادتی کر مثر پھہ لوکن ہند حق ضایع کورمت پھو تلہ گوہہہ حد ازان پئن حق واتاوان۔ یا تم نیشہ  
 معافی حاصل کرن۔ پتھہ گنہتس پنہ نی پانن سیت تعلق آسہ تمہہ سیت بیه کانہہ ہند حق ضائع سپدمت  
 آسہ نہ تھہ منز گوہہہہ خدایہ سی نش معافی حاصل کرن وَمَنْ يَغْفِرُ اللَّهُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ کس اکھاہ پھو  
 مغفرت کرہ ون سارنی گنہن خدائس وراہی۔ وَلَمْ يُصِرُّوْا عَلٰی مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ بیه آسن  
 نہ تم لوکھہ تھہ پھہ کامہ پیٹھہ اصرار تہ ڈاڈ کران زاتھہہ کر تھہ اُولَٰئِكَ جَزَاءُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ  
 تے لوکھہ گئے تم تمکن ہنرمزور پھہہ یوڈ مغفرت پنہ نس خدایہ سندہ طرفہ وَ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا  
 الْأَنْهَارُ بیه تم جنت سمونزہہ بجویہ پکان آسن خَلِدِينَ فِيهَا تمنی جتن اندر روزن تم ہمیشہ وَ نِعْمَ  
 أَجْرُ الْعَامِلِينَ کیاہ ر ژمزور یاہہ پھہہ یہ رثہ کامہہ کرہ ون ہندہ خیطرہ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَنٌ

الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ﴿۱۲۶﴾ هَذَا  
 بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۱۲۷﴾ وَلَا تَهِنُوا  
 وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۲۸﴾ إِنْ  
 يَمَسُّكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ وَتِلْكَ  
 الْآيَاتُ لِمَنْ ذَاكِرٌ لِّذُنُوبِهِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا  
 وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿۱۲۹﴾

پڑھاؤ گڈریے توبہ بروٹھہ واریاہ طریقک لوک۔ یمن منز مسلمان تہ آس یمن منز کافر تہ آس۔ تمن  
 سپدانہ وان اختلاف تہ مقابلہ۔ لیکن انجام کار سپد کافرن شجکت تہ تباہی مسلمان فتح و نصرت۔ ہر گاہ  
 تہ تہمدین ہلاکتہ کین آثارن تہ نشان ہند ملاحظہ کرن بیڑھان چھوہ۔ قَسِطُوا فِي الْأَرْضِ  
 پھیر توتہہ روے زمینس فَاَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ پس وجھوتنا فرمان۔ پڑھہ نہ کرہ  
 ونین ہند انجام کیاہ چھو سپدمت۔ هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ یہ چھو واضح کلام لوکن ہندہ خیطہ۔ تم ہر گاہ اتھ  
 منز غور کرن۔ بڈ عبرت سپد چھہ حاصل۔ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ یہ چھو بڈ ہدایت تہ نصیحت  
 خاص خدا نس کھوڑہ ونین ہندہ خیطہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا یہ ہر گاہ تہہ و کین تہہ جنگ احدس منز  
 مغلوب تہ سپد و کیا ہش کتھہ گنیہ۔ امہ سیت مہ سپد و تہہ سست یہہ مہ کھنہو امیک غم وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ  
 كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تہمی سپد و غالب ہر گاہ تہہ پوختہ با ایمان تہ پڑھہ وال آس۔ تھہ پڑھہ ثابت قدم  
 رُوڑو۔ إِنْ يَمَسُّكُمْ قَرْحٌ ہر گاہ از تہہ جنگ احدس اندر ووت توبہہ تکلیف کیاہ ہش تھہ چھہ فَقَدْ  
 مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِّثْلُهُ پس تھت ووت اتھہ قوس یعنی سمن کافرن تھوی تکلیف جنگ بدرس منز  
 وَتِلْكَ الْآيَاتُ لِمَنْ ذَاكِرٌ لِّذُنُوبِهِ اس چھہ تم زندگی ہند ایام لوکن اندر وازہ وارہ بدلاوان۔  
 اکہ دوہہ عیش و آرام یہہ دوہہ غم تہ تکلیف وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا یہہ ووت توبہہ یہہ تکلیف تھہ  
 نر اوہ اللہ تعالیٰ با ایمان۔ وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ یہہ تھہ و اتاودہ توبہہ اندرہ بعضین شہادتہ کس

وَلِيَمِخَّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَبْحَثَ الْكٰفِرِيْنَ ﴿۱۳۱﴾ اَمْ  
 حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا  
 مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ﴿۱۳۲﴾ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ  
 قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ﴿۱۳۳﴾ وَمَا  
 مُحَمَّدٌ اِلَّا رَسُوْلٌۙ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهٖ الرُّسُلُۙ اَفَاٰنِ

مرتبس یعنی توبہ اندر بعضین کرہ شہادتک درجہ عطائس ٹھو در تہ چھو۔ واللہ لایحب الظالمین  
 اللہ تعالیٰ چھو نہ پسند کران ظالمین یعنی کافرن تہ مٹر کن۔ یعنی تمنی غلبہ دین امہ موکھ نہ کہ تم کیاہ  
 چھس ناٹھ بلکہ آسہ اتھ اندر تہندی خیطرہ واریاہ مصلحہ ولیمخص اللہ الذین امنوا اچی بیاکھ  
 مصلحت آس ہتھ اللہ تعالیٰ صاف وپاک کرہ بابا ایمان امہ تکلفہ سیت گنہن ہندو آلایشونہ وینحق  
 الکفرین۔ یہ ہتھ گاہا تین کافرن۔ یعنی تمن دین موقعہ ظلم وستم کرہ تک بس ظلم وستم تہندہ تباہی  
 ہند باعث بنیو۔ اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُوْا الْجَنَّةَ کیاہ توبہ چھا خیال تہہ کیاہ و اتوجس آزمایشو تہ  
 امتحانورای۔ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ ونہ آسہ نہ نیومت کہ جہاد  
 گموکور توبہ اندرہ تہ تکلیف ہتھ صبر کردون کم چھہ توبہ اندرہ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ  
 قَبْلِ اَنْ تَلْقَوْهُ پزپاٹھ آسو تہہ موتک تمناکر ان سو وچھنہ بروٹھ یعنی خدایہ سزہ و تہ اندر آسو تہہ  
 مرن یشان۔ فَقَدْ رَاَيْتُمُوْهُ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ پس تھتین وچھون توبہ سو اچھو سیت۔ وون کیازہ  
 چھوہ بانبران۔ یلہ جنگ احدس منز کافرو غلبہ لوب تمن تیر اندازن ہندہ جایہ ڈانہ سیت یم کوہ ورس  
 اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حفاظتہ خیطرہ مقرر کورمت آس۔ فر موومت او سہکھ اگر تہہ وچھو  
 اسہ ڈٹمن حکمہ حکمہ ماز ثنان توتہ ڈلڑہ نہ تہہ پتہ جایہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسے دوہہ شتہہ زخم۔  
 دند ان مبارک سپد شہید یعنی اکھ کھنڈ آہہ و سٹھ اکس دندس سمہ سیت خون جاری سپد۔ یہ آہہ کرہ کھ  
 دنہ تہندہ شہادت سمہ سیت بعضے صحابہ صغین ہند حوصلہ پست سپد تہی وقتہ کورنازل اللہ تعالیٰ ان وما

مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقْبَيْهِ فَلَنُيَضِّرَنَّ اللَّهُ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿۳۷﴾  
 وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُوَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ ﴿۳۸﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قُتِلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا

مُحَمَّدٌ الرَّسُولُ پُھونہ حضرت محمد ﷺ مگر پیغمبر اور۔ قَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُلُ گنمت بہتہ تمن بروئٹھ واریاہ پیغمبر آفائین مَات کیاہ ہر گاہ تم پائے۔ سمہ عالمہ گنمت آسَن اَوْ قُتِلَ یَا شَمْن ہندہ اتھہ شہید سپد مت آسَن انْقَلَبْتُمْ عَلٰی اَعْقَابِكُمْ کیاہ تہہ پیھروہ پُوت تمہہ موکھہ تراوہ تہہ جماد کرن۔ یاڈلوہ تہہ امہ دین اسلامہ نشہ گھر س گن وَمَنْ یَنْقَلِبْ عَلٰی عَقْبَيْهِ اُس اکھاہ پیھرہ پُوت اڈہ پیھرتن فَلَکَن یَضِّرَ اللّٰهُ شَیْئًا پس کانہہ ضرر تہ نقصانہہ بیکنہہ واتاوتھہ اللہ تعالیٰ اس بلکہ پُھوس تمیک ضرر تہ نقصان پان پانس وَسَيَجْزِي اللّٰهُ الشَّاكِرِينَ اللہ تعالیٰ دیہ جلدی رتھمزور شکر گزارن وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ اَنْ تَمُوتَ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ بیہ تھادوواید کانہہ اکھاہہ بیکنہہ نہ مژتھہ خدایہ سندہ حکمہ ورا ی کِتَابًا مُّوَجَّلًا پریتھہ اکھند مرُن پُھو لیکنہہ اُمّت، وقت مُقر ر کرنہ اُمّت۔ ثلثہ سیت نہ ہیکنہہ سو وقت ہتھہ نیرتھہ۔ ثابت قدم روزه سیت ہیکنہہ بروئٹھہ ہتھہ۔ وَمَنْ یُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا دون اُس اکھاہ عمل کرتھہ دنیاگو ی ثواب تہ مژور یرتھان پُھو تس چھہ کران اس تمہہ منزہ کینہہہ عطا وَمَنْ یُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا بیہ اُس اکھاہ آخر تک ثواب تہ مژور یرتھان پُھو تس تہ چھہ اس تمی منزہ عطا کران۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ بیہ گزواس جلدی رتھمزور عطا شکر گزارن۔ وَكَأَيِّنْ مِنْ نَبِيِّ قُتِلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ بیہ کنتیہاہ پیغمبر یمن سیت سیت جماد آس کران۔ واریاہ لوکھہ خدایہ سند یور تویندواندرہ کافر ن سیت۔ فَمَا وَهَنُوا لِمَا اَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ پس



لِمَا صَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا  
 وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴿۱۳۶﴾ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ  
 قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا  
 وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۱۳۷﴾  
 فَاتَّخَذَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ۗ  
 وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ  
 تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا وَيُرَدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا

آسن نہ تم خدایہ سبب بندہ سست سپدان خدایہ سزہ دیتے جسک اندر تکلیف وابتہ سیت وَمَا ضَعُفُوا  
 وَمَا اسْتَكَانُوا نہ آس تم ہمت ہارن۔ نہ آس تم دشمن بر وٹھہ کنہ ہتھیار تراوان نہ آن مانان بلکہ  
 آس خوب مضبوطی سیت تکلیف پیٹھہ صبر کران۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ اللہ تعالیٰ چھو صبر و  
 استقلال کرہ وٹن سیٹھاہ پسند کران۔ ہونہ چھو محبت تھاوان وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ آسن نہ تم  
 تکلیف واسکھہ وقتہ کینہہ وانان إِلَّا أَنْ قَالُوا مگر آس خدایہ سی منگان رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا اے  
 سانہ پروردگارہ مغفرت کرتے گئین سائین۔ وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا بیہ ہر گاہ سانہ طرفہ کینہہ زیادتی  
 نہ گوتای لبہ آیہ سانہ کامہ اندر وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا مضبوط تھاو قدم سانان وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ  
 الْكَافِرِينَ غلبہ دہ اسہ کافرن پیٹھہ صبر و استقلال کجہ برکتہ بیہ دعاء و التواء کہ برکتہ فَاتَّخَذَهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ  
 الدُّنْيَا پس عطاو اللہ تعالیٰ ان تمں دنیہک ثواب یعنی غلبہ نہ مال غنیمت وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ  
 بیہ آخر تک رت ثواب نہ تر زمزور وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ آس چھہ سیٹھاہ ناٹھہ امہ  
 قسمک نیوکار بندہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اے ایمانو إِنْ تَطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا اگر تہہ مانو  
 کافرن ہنزہ تھہ يُرَدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ تم پھر نوہ توبہہ پوت گُرس گُن فَتَنْقَلِبُوا خسرین پس ہنو

خَسِرِينَ ﴿۱۳۹﴾ بَلِ اللّٰهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ ﴿۱۴۰﴾  
 سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا  
 بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطٰنًا وَمَا لَهُمُ النَّارُ وَ  
 بِئْسَ مَثْوٰى الظّٰلِمِينَ ﴿۱۴۱﴾ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعَدَا  
 اِذْ تَحْسُونَهُمْ بِاٰذِنِهِ حَتّٰى اِذَا فِشَلْتُمْ وَتَنٰزَعْتُمْ  
 فِي الْاٰمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْ اٰبَعْدِ مَا اٰرٰكُمْ مَا تُحِبُّونَ ط

تہہ تاوان زد دنیاو آخرتس اندر۔ یہ سپدہ توبہ پر تھہ قسمہ ناکامی۔ کافر بن نہ زانمہ تہ تہند دوست  
 بل اللہ مولاکم بلکہ چھو اللہ تعالیٰ تہند مولیٰ تہ آقا۔ مددگار تہ دوست وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ  
 سوی چھو توبہ سارنی ہندہ خوتہ بہتریاری کرہون سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالرُّعْبَ جلدی  
 تراو آس کافر ہندین دلن منز بہیت تہ رعب بِمَا أَشْرَكُوا بِاللّٰهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطٰنًا  
 کیا زہ تمویکیا ہٹھراؤ کنس خدائس تجے چیز شریک تمکن ہندہ قابل شریک آسنہ خیطرہ نہ تم کانہہ دیلاہ  
 نازل کر وَمَا لَهُمُ النَّارُ تمن کافرین تہ مشرگن ہنز جای چھہ نار جہنم وَ بِئْسَ مَثْوٰى الظّٰلِمِينَ  
 شو چھہ سٹھاہ چھہ جائے تمکن ظالمین تہ مشرگن ہندہ خیطرہ تم خدائس ورا ی بین تہ معبود زانان چھہ  
 وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعَدَا تھنن پوزور اللہ تعالیٰ ان وعدہ پن توبہ سیت اِذْ تَحْسُونَهُمْ بِاٰذِنِهِ  
 یلہ تہہ تم کتر او ان آسوکھہ ماران آسوکھہ تہندہ حکمہ توتان یوتان تہہ مضبوط آسوہ حَتّٰى اِذَا فِشَلْتُمْ  
 اودہ یلہ تہہ پانہ سست سپدیہ وَتَنٰزَعْتُمْ فِي الْاٰمْرِ یہہ کورہہ اختلاف نبی کریمہ سدس خمس اندر  
 وَعَصَيْتُمْ مِّنْ اٰبَعْدِ مَا اٰرٰكُمْ مَا تُحِبُّونَ تہندہ حکمک پابند رودونہ تہہ۔ حالانچہ تم (خداین)  
 اوس توبہ ہوومت سوو چیزئس توبہ پسند اوس غلبہ تہ فح۔ وون آس ضرورت یہہ کہہنہ کالاصبر کرنج۔  
 مگر توبہ کورہہہ مِنْكُمْ مَّنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا توبہ اندرہ آس بعضی تم دنیا تھانڈان آس وَمِنْكُمْ

مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۖ  
 ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ۗ وَ  
 اللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿۵۶﴾ إِذْ تَصْعَدُونَ وَلَا  
 تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ ۖ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ  
 فَأَتَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ  
 وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۵۷﴾

مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ۖ بِہ آس بعضی تم آخرت ژھانڈان آس امی سببہ سپد توبہ منز اختلاف سمہ وجہ  
 تہہ نبی کریم ﷺ سدس خمس پیٹھہ رودودہ نہ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ توپتہ پھر نوہ تمہ اللہ تعالیٰ  
 ان تم کافرن نشہ تہہ آسوہ غالب توپتہ سپدوہ مغلوب۔ توبہ سزاوہ نہ بلکہ توبہ آزمائش کرنہ  
 خیطرہ کہ توبہ اندرہ کہ تہہ منافق کہ تہہ باایمان۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ یقین زانو کہ اللہ تعالیٰ ان کور توبہ  
 عفو۔ توبہ سپدہ نہ آخرتس اندرتہ امیک کانہہ بازخواست وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ  
 تعالیٰ چھو فضلہ وول باایمان ہندہ حقہ۔ تاہنکہ امہ نافرمانی سببہ کرنوہ نہ تہہ ساری ہلاک إِذْ تَصْعَدُونَ  
 وَلَا تَلُونَ عَلَى أَحَدٍ تہہ پاوونہن حال تہہس جرم چہند کوتاہ سخت اوس یلہ تہہ کوہس کھسان کھسان  
 ژلان آسوہ تہہ تہہ کن آسوہ نہ کاسہ کن نظر تہہ دوان وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ حالانچہ یہ  
 بوڈ پیغمبر اوس توبہ پتہ پتہ نادناد ووان اکی خدایہ سند یو بندو ژلو مہ وانس پھیر ومہ کن یو چہوس پیغمبر خدا  
 مگر توبہ بوزوی نہ کھنہ۔ فَأَتَابَكُمْ پس واتوودہ توبہ خداین غَمًّا بِغَمٍّ غمس پیٹھہ غم۔ لِكَيْلَا  
 تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ یوتھہ تہہ مال غنیمت اتھہ گدھنک تہہ جسمانی  
 تکلیف واستنک غم کھنہ۔ کیا زہ بڈہ غمہ سیت چھو لوٹ غم مشتہہ گدھان۔ بڈہ غم گئے صحابہ صیبن ہند  
 شہید سپدن سبہ نبی کریم سبہ شہادتچ خبر بوزن۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ اس چھہ  
 خبر تمہ سارچی یہ تہہ کران چھوہ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمْنًا ۖ توپتہ سوز اللہ تعالیٰ ان توبہ پیٹھہ

ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَآئِفَةً  
 مِنْكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ  
 ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ  
 الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ  
 لَوْ كَان لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ نَأْتِلْنَا هُنَا قُلْ لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ  
 لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ

ای مسلمانوں پر غم سے آرام و قرار نوحا سے ندرہا یغشی طائفہ منکم یودسہ ولکہ آیه توہم اندر  
 آس جماعتس۔ یعنی بالیمان۔ تمہر سیت رودنہ تمن غمہ ژ تیس و طائفہ قداہمتہم انفسہم بیاکہ  
 جماعت تمن آس پے مرچنہ پانچ فجر کہ آس تہہہ ہاٹھ موکویتہ یعنی منافع یظنون باللہ غیر الحق ظن  
 الجاہلیۃ تم آس خدا جس نسبت لہر خیالات تھاوان جاہلیتک تہ حماک خیالات یقولون هل لنا  
 من الامر من شئی ونان آس تم اسہ چھا اختیار کتہ چیزک۔ یعنی سون چھا بوزان سم۔ سانبہ مشورے  
 سم پچھن یوت پیٹھ ماوانتہ ہانوبت۔ نتہ گو معنی تم آس ونان۔ بنیوہ اسہ، حاصل سپدہ اسہ سو چیز سمیوک  
 وعدہ اسہ تھاوانہ اوس یوان۔ یعنی فتح تہ غلبہ۔ یہ آس منافع ونان۔ مسلمان ڈالنتہ۔ گمراہ کرنہ تہ بدظن  
 کرنہ خیطرہ قل تہہ فرماو کہہ یارسول اللہ ان الامر کللہ پڑاٹھ سارگوئی اختیار چھو کس خدا جس۔  
 یہ سو پڑھتہ تی بنہ یخفون فی انفسہم کھفت چھہ تھاوان پانس نشہ۔ نالایبڈون لک تمہ تمہ تھہ  
 سمہ نہ نتر اوان چھہ توہم نش یقولون لوکان لنا من الامر شئی ونان چھہ سم منافع ہر گاہ اسہ تان  
 کیمہنہ اسہ ہالینی سانبہ مشورہ موجدے عمل کرنہ آسا آٹریا ہر گاہ سون دین پوز آسا نافتلنا ہنا تیلہ  
 سمہونہ اس مارنہ چھہ میدان اھدس اندر۔ اسے دیوہہ جنگ کرونہ قل لوکنتم فی بیوتکم فرماویا کہہ  
 تہہ یارسول اللہ ہر گاہ ہے چہہ آسوگرن پنے نین اندرتہ لبرزالذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم  
 البتہ ضرور نیرہ ہن تم لوکھہ سمین یتہ میدان اھدس اندر مرن لیکھنہ اوس آمت۔ پنے نین مرچن جائن

اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُنَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ  
بذَاتِ الصُّدُورِ ۝۱۷۱ إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ  
إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ  
عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝۱۷۲ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّكِبُوا  
كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ  
أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ

گن ولینبئنی اللہ بہ یہ یہ کنیوہا ہ سپد سپد تھے اللہ تعالیٰ آزمائش کرے ہا ما فی صدورکم تمہارے تہہ تہہ ہندین  
سینین منزتہ ذلن منزہ چھو یعنی ایمان ولینحیص ما فی قلوبکم یہ تھہ وارہ صاف نر اوہ ہاتہ یہ  
تہندین ذلن اندر چھو واللہ علیہم بذات الصدور اگرچہ اللہ تعالیٰ اس چھوپائس پور علم سارنی ہندین  
ذلن ہند۔ مگر تھہن موقن پیٹھہ چھو سو آزمائش تہ امتحان کران یٹھہ لوکن تہ پتہا لھہ کم چھہہ با ایمان تہ کم  
چھہہ منافق ان الذین تولو امنکم پڑپاٹ تم لوکھہ سم توہہ اندر ڈل یوم النقی الجمعن تمہہ ڈوہ تہہ  
سمہہ دوہہ زہ جماژ مسلمان ہنز جماٹہ تہ کافرن ہنز جماٹہ کھہ اکس مقابلہ رُود جنگ احدس اندر انما  
استزلہم الشیطن تم ڈال نہ کانسہ مگر ڈال شیطان ببعض ما کسبوا ٹھنز و بعضی کامیوسیت سمہہ  
تمو کرہ یعنی کوہ ڈرہ منزہ نیرنہ سیت سو جای خالی تراونہ سیت۔ ولقد عفا اللہ عنہم پڑپاٹھ اللہ  
تعالیٰ ان کور تمن عفو ان اللہ عفور حلیم پڑپاٹھ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ ذلن ٹیڈ کرہ ذلن۔  
گھہ گارن چھونہ نور انان یا ایہا الذین امنوا لا تکوبوا کالذین کفروا ای با ایمانوہہ بنو تہہہ کافرن  
ہی۔ یعنی منافقن ہی۔ تم اگرچہ و نان چھہہ پائس مسلمان مگردو حقیقت چھہہ تم کافر۔ تہہہ مہہ کرو تھہہ قسچہ  
تھہہ سمہہ تم کران چھہہ وقالوا لایخوانہم تم چھہہ پنہ نین باسن ہندہ حقہ و نان لادضرؤوا فی الارض  
او کانونا غزی یلہہ تم سفرس چھہہ نیران ٹھہہ شہرس گن یلہہ جہاد کرنہ چھہہ نیران تو پتہہ چھہہ سفرس  
اندر مران یا چھہہ جہادس اندر شہید سپدان لو کانونا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ہر گاہہ تم آسہن اسکی  
نیشہ پنہ نس شہرس اندر سفرس یا جہادس آسہنی نہ درامت تلبہ ما مرہ ہن نہ یکن مارنہ۔ ای با ایمانو تہہہ مہ

اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ<sup>(۱۵۶)</sup> وَلَئِنْ قَتَلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ<sup>(۱۵۷)</sup> وَلَئِنْ مِتُّمْ أَوْ قَتَلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُمْشِرُونَ<sup>(۱۵۸)</sup> فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

آسوا مہ تسکھ تھہ ونان لیجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم يحته الله تعالى کرہ سمہ تھہ تھنزہ تھندین ولن اندر بوذ حسرت تہ افسوس۔ واللہ یحیی ویمیت اللہ تعالی ہی چھو زندہ تھوان تہ ماران۔ سفر آستن یا حضر۔ جنگ آستن یا امن موت و حیات۔ جوہو تسندی اختیار س اندر واللہ بما تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللہ تعالی چھو تھہ ساری تہ تہہ کران چھو ہارہ و چھان۔ سو دیہ توہہ تجم و در۔ وَلَئِنْ قَتَلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِتُّمْ بیہ ہر گاہ توہہ خدایہ سزہ و تہ اندر یعنی جہاد کران کران مارنہ بیو یامر و تہ کیاہ پروا چھو۔ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ خدایہ سُد مغفرت تہ تھنز رحمت چھہ تھندہ خیطہ سیٹھاہ بہتر تہ ساری خوتہ تہ سم لوکھہ سونبر اوان یا و تان چھہ وَلَئِنْ مِتُّمْ أَوْ قَتَلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُمْشِرُونَ بیہ ہر گاہ تہہ ستر ویا مارنہ بیو جہاد س اندر، ضرور چھو توہہ سمن تہ جمع سپدن معبود برحقس نشہ بیہ نہ کانسہ نشہ۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ پس خدایہ سندی رحمتہ سیت سپدہ توہہ یا رسول اللہ تھندہ حقہ نرم تہ حلیم یمن لوکن ہندہ خیطہ سمو تھنز مخالفت کر۔ توہہ اوس حق تمن سختی سیت باز خواست کر نک وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اگر تہہ آسہو خدا نخواستہ تہ کھل۔ ولہ در۔ تھند خو ضرور تزلہ بن تم تیلہ توہہ نشہ۔ محروم سپدن تم تھند یو فیض و برکات و نشہ۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ پس کرو تہہ تہ تمن معاف بیہ مگو تھندہ خیطہ خدایس مغفرت وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ بیہ آسو تمن سیت تھین معاملن پیٹھ مشورہ کران۔ تمہ سیت سپدن تھند

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿۱۵۱﴾  
 إِنَّ يَنْصُرْكُمْ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي  
 يَنْصُرْكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۵۰﴾ وَمَا  
 كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلُطَ وَمَنْ يُغْلُطْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
 ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۴۹﴾ أَفَمِنْ أَتْبَعَهُ  
 رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَاءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّهِ وَمَا لَهُ جَهَنَّمَ

حوصلہ بلند فاذا اعزمت پس یلہ ہتھ کئے معاملہ اندر مشورہ کرتے رہیے پیٹھ پوختہ ارادہ آسو کر ان  
 فتوکل علی اللہ پس آسو پورہ اعتماد کر ان خدا ئس پیٹھ تو پتہ سو کام کر ان إِنَّ اللہَ یُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ  
 پز پاتھ اللہ تعالیٰ اُس جھہ ٹاٹھ کس پیٹھ اعتماد کر وہ ن بندہ إِنَّ یَنْصُرْکُمُ اللہُ اگر اللہ تعالیٰ توہم مدد  
 تیار کرے فَلَا غَالِبَ لَکُمْ تیلہ بیجہ نہ کانسہ اکھاہ توہم پیٹھ غالب سپد تھه وَإِنْ یَخْذُلْکُمْ ہر گاہ سوہ  
 توہم مدد کرہ نہ فَمَنْ ذَا الَّذِي یَنْصُرْکُمْ مِنْ بَعْدِهِ پس گوہ اکھاہ پچھو ئس توہم کس پتہ یاری ہیجہ کرتھ  
 وَعَلَى اللہِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ پس خدایہ کئی پیٹھ بیہ نہ کانسہ کس پیٹھ کرن اعتماد با ایمان جنگ بدر  
 کہ مال غنیمتہ اندرہ یلہ زاؤ اکھہ سزخ ژادراہ۔ لو کو ڈوپ یہ ژاڈر آسہ تھومژ تلٹھہ نبی کریم صلی اللہ  
 علیہ وسلم پتہ خاص استعمالہ خیطرہ۔ اللہ تعالیٰ ان سوزیہ آہ کریمہ۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلُطَ پچھو نہ  
 ہر گز سزادار کانسہ پیغمبر س سوزیا کرہ خیانت مال غنیمتس اندر وَمَنْ یُغْلُطْ یَأْتِ بِمَا غَلَّ یَوْمَ الْقِيَامَةِ کس  
 اکھاہ مال غنیمتس اندر خیانت کرتھ کانسہ چیز تھاوہ تلٹھہ خاص پتہ خیطرہ۔ سو یہ قیامتک دوہ سو چیز پتھ  
 پیش کرنہ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ تو پتہ پیہ پریتھہ کس پورہ بدلہ نہ تملوک یہ تم کورمت آسہ  
 وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ تم بیہ نہ کئے قسمہ ظلم کرنہ أَفَمِنْ أَتْبَعَهُ رِضْوَانَ اللہِ آہ کس اکھاہ بیروی کرہ خدایہ  
 سزہ رضامندی۔ مال غنیمتس اندر کرہ نہ کئے قسمہ خیانت۔ یعنی تی کرہ پتھہ خداراضی آسہ کَمَنْ بَاءَ  
 بِسَخَطٍ مِنَ اللہِ سو چھا برابر کس شخصس ہیوہ کس واپس گزھہ خدایہ سزہ پزاری ہیٹھہ۔ نافرمانی نہ

وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿۱۲۲﴾ هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ بِصِيرِهِمْ  
يَعْمَلُونَ ﴿۱۲۳﴾ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا  
مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ  
وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۱۲۴﴾ أَوَلَمْ  
أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ

خیانت کرنے سبب۔ ہرگز چھنہ ہم زہ برابر بلکہ چھو فرمانبردار سے امتداد رس خدا راضی۔ نافرمان سے خیانت  
کرہوئیں پڑھے چھو خدا بیزار۔ وَمَا لَهُ جَهَنَّمُ بِيَهُ تَسْزِي جَائے نار جہنم و بِيئْسَ الْمَصِيرُ کا زاہ  
پچھہ جای چھہ سوار جہنم هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ تم لوکھہ چھہ مختلف درجائن پڑھے امانت داری چھو  
تھو دور جہنہ نس خدائیں نشہ جتنن اندر۔ خیانت کرہون چھہ جنسی وَاللَّهُ بِصِيرِهِمْ يَعْمَلُونَ بِيَهُ  
چھو اللہ تعالیٰ تہزہ سارے کامہ پانہ و چھان۔ کہہ چھو امانتدار کہہ چھو خیانت کرہون۔ ئیں مال عام  
مسلمان ہند آسہ یاکنہ انھمک یاکنہ مدرسک آسہ تھہ منز خیانت کرئیں تہ چھو یوہے سزائیں مال غنیمتس  
خیانت کرہون سبہہ خیطرہ اوبیان کرنے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ پڑھا اللہ تعالیٰ اَن تھاد بدمت  
بالیمان پڑھے۔ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ کیا زہ سوژن تمن منز پیغمبر اہ جلیل القدرتہ عظیم  
الشان تموی منزہ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ئیں پیغمبر تمن خدایہ سبہ آیات پرائن چھو۔ وَيُزَكِّيهِمْ بِيَهُ ئیں  
پیغمبر تمن جاہلانہ خیالو نشہ پاک کران چھو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ بِيَهُ چھو کھہ پچھہ اوان قرآن مجید  
وَالْحِكْمَةَ بِيَهُ عقلہ ہنزہ تھہ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ پڑھا آس تم تہزہ تشریف آنہ  
بروٹھ نہ گرائی اندر أَوَلَمْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ کیاہ یلہ ووت توبہہ جنگ احدس منز اکھہ تکلیفہ تہ  
مصیبتہ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا حالانکہ توبہہ واتووہہ تمن دشمن تمہہ دوگنہ جنگ بدرس منز۔ سٹھہ کروکھہ  
قتل۔ سٹھہ کروکھہ قید تمومنزہ قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا دینہ لگوہ تہہ تجبہ کن یہ مصیبت کیا زہ سنا ووت آسہ یعنی  
تھہ پڑھے ووت آسہ آسہ گوڑھ نہ واٹن آکے مسلمان آس۔ آسہ سیتے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اوس۔





تَالَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿۱۷۸﴾ الَّذِينَ قَالُوا  
 إِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا لَوْ أَطَاعُونَا مَا قَتَلُوا قُلَّ فَاذْرُوهُ وَعَنْ  
 أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۷۹﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا  
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿۱۸۰﴾  
 فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ  
 يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۱۸۱﴾

الَّذِينَ قَالُوا إِخْوَانِهِمْ ہم گئے تھے تمہو دوپ پنے نین ہم نسب باہن ہندہ حقہ سم جنگ احدس  
 منز شہید سپد وَقَعَدُوا حالانکہ پانہ رُو د بہتھہ گرن اندر لَوْ أَطَاعُونَا مَا قَتَلُوا ہر گاہ تم سون مانہ ہن  
 مارہ گوشہ ہن نہ۔ اسمہ دیوک مہ نیر و جنگس۔ گرہ بہتھہ کیاہ ہتھہ مکن تھہ پھوران قُلَّ فرماؤ یوکھ تھہ یا  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَاذْرُوهُ وَعَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ تلا دور ہتھو کر تھہ تھہ  
 پنے نیوپا نوٹھہ مرن۔ ہر گاہ تھہ پوزونہ ون چھوہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بیہ مہ کر تھہ ہر گز  
 گمانہ اے بوزونہ تمن لوکن متعلق سم شہید سپد خدلیہ سزہ وتہ اندر أَمْوَاتًا تم کیاہ چھہ مُردہ  
 بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ بلکہہ چھہ تم زندے پنے نس پروردگار س نش۔ تمن چھو تھہ عالمک  
 رِزق تہ یوان عطا کرنہ نس تھہہ عالمس منز شوبہ۔ فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ خوش چھہ تم تمبو  
 مہر بانوسیت سمہ تمن عطا کرہ مژہ چھہ اللہ تعالیٰ ان پنے فضلہ سیت وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ بیہ چھہ  
 تم خوش تہ مُسرور سپدان تمن لوگن ہندہ رتہ حالہ سیت لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ بیہ ونہ تمن نغہ  
 وات۔ یہ بوزنہ سیت کہہ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تمن کیا چھونہ کانہ خوفانہ تہ کانہ غماہ۔ تم  
 چھہ امن و امانس اندر زندگی بسر کران يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ خوش چھہ گوشان  
 پروردگار سبہ نعمتہ سیت تہ تھندہ فضلہ سیت وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضَيِّعُ أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ بیہ سمہ تھہ سیت کہہ اللہ  
 تعالیٰ چھونہ ضایع کران با ایمان ہنزن عملن ہنز مزور۔ جنگ احدہ پتہ یلہ کافر واپس گوشان آس تم

يُسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلِ<sup>ج</sup> وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ  
 الْمُؤْمِنِينَ<sup>۱۴۱</sup> الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا  
 أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ<sup>ج</sup> لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَالْقَوَّامِينَ<sup>ج</sup> عَظِيمًا<sup>۱۴۲</sup>  
 الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ  
 فَزَادَهُمْ إِيمَانًا<sup>ج</sup> وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ<sup>۱۴۳</sup>

لگ پانہ وان دہنہ کہ اسہ کر بد غلطی۔ سون گوژھہ مسلمان پیٹھہ پورہ حملہ کرن۔ کیا زہ اس سہزای تمن  
 پیٹھہ غالب۔ لہذا چھو بہتر اس گڑھویہ پیٹھہ بہہ واپس۔ بہہ کرو تمن سیت جنگ توپتہ کروکھہ تم اکی ساتہ  
 ختم۔ مگر اللہ تعالیٰ ان ترود تہندین ولن اندر رعب۔ تمو ہیوک نہ امہ جلیہ پیٹھہ بہہ واپس گڑھتہ۔ انج  
 خبر و اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بذر ییہ وحی۔ تمو سوز صحابہ صین ہنز اکھہ لشکرہ تمن کافرن  
 تعاقب تہ لار کرنہ خیطرہ۔ آتھہ اندر سمکھہ تمن کافرن اکھہ قافلہ نئس تجارتہ خیطرہ مدینہ شریفس کن  
 گڑھان اوس۔ تمن دو چھہ ٹہہ و نرہ مسلمان کہ منک لوکھہ چھہ توہہ سیت بہہ جنگ کرنج تیری کران۔  
 مسلمانو یلیہ بہ خبر یوز تمو دوپ کانہہ پروا چھونہ۔ اسہ چھو نئس اللہ تعالیٰ۔ آئینہ آیات کر یمن منز چھو  
 اللہ تعالیٰ امی واقعہ تذرہ کران۔ اکثر مفسر چھہ فرماوان کہ یہ چھو غزوہ حراء الاسدک واقعہ۔ یہ چھو  
 اکہ جایی ہندناؤیسہ مدینہ شریفہ پیٹھہ آتھہ میل دور چھہ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ تم بالیمان  
 تمو حکم مون خدایہ سند بہہ پیغمبر خدایہ سند یعنی درای کافرن تعاقب تہ لار کرنہ خیطرہ مِنْ بَعْدِ مَا  
 أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ جنگ اُحدس منز تکلیف تہ زخم واتنہ پتہ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَالْقَوَّامِينَ عَظِيمًا تہندہ  
 خیطرہ تمو نیکی کر حکم مانہ سیت۔ بہہ روو پتھہ نافرمانی نشہ چھہ بڈمزور سوگو جنت۔ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ  
 النَّاسُ یمن بعضی لو کوونیوو إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ پزپاٹ دشمن چھہ سپدان جمع یا چھہ تم سامان  
 حرب جمع کران توہہ سیت بہہ جنگ کرنہ خیطرہ فَاخْشَوْهُمْ پس کھو ژو تمن۔ تمن سیت مقابلہ کرنہ نشہ  
 روزو پتھہ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا یہ بوزنہ سیت ہر یوو تہندہ ایما لگ جوش وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ

فَانْقَلِبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمَسَّهٖمُ سُوٓءٌ وَّاَتَّبَعُوا  
 رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۴۲﴾ اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ  
 يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهُ فَلَا تَخَافُوهُمَّ وَخَافُوْنَ اِنۡ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۴۳﴾  
 وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يَسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ اِنَّهُمْ لَن يَصُرُوْا اللّٰهَ شَيْئًا

الْوَكِيْلُ بِيہ دُپک کانہہ پروا چھو نہ اسہ۔ بس چھو اسہ اللہ تعالیٰ بیہ چھو سوی رت وکیل۔ اس چھہ پینہ  
 سارے کامہ تس پُشر او ان۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ چھہ فرماوان بیہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل  
 چھو سو کلمہ بس حضرت ابراہیم پد۔ نارس منز تراویحہ وقتہ اللہ تعالیٰ ان کو رکھ کفایت۔ بس کلمہ پد  
 حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہ تہند یو صحابہ صیو جنگ احدس منز اللہ تعالیٰ ان کو رتمن تہ  
 کفایت۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان فَاَنْقَلِبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمَسَّهٖمُ سُوٓءٌ پس گے نبی  
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہ تہند صحابہ صیب خدایہ سز بد نعمت تہ بوڈ فضل بتھہ۔ ووت نہ تمن کانہہ  
 تکلیفہ تہ کانہہ سختیہ۔ **وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللّٰهِ** پتہ پتہ پک تم خدایہ سزہ رضامندی **وَاللّٰهُ ذُو فَضْلٍ  
 عَظِيْمٍ** اللہ تعالیٰ چھو بوڈ فضلہ وول۔ جنگ احدہ پتہ یلہ کافر ژل ابو سفیان لگ دپنہ وون چھو توہہ تہ  
 اسہ بیاکھہ مقابلہ بدر صغریٰ کس موقعس پیٹھہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وندہ ناوس ادہ کیاہ  
 منظور چھو اسہ۔ سو دودہ یلہ سپد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درای صحابہ صیب بتھہ تھہ جلیہ۔ مگر ابو سفیانس  
 درے بیہ نہ کوٹھہ۔ اگرچہ تمواوس اکھہ شخصہہ سو زمت بس مسلمان ہندین دن اندر خوف و  
 ہیبت تراوان اوس۔ مگر تہندین دن اندر سپد نہ تمبوک کانہہ اثر بلکہ سپد تہوند ایمان تمہہ سیت بیہ ہن  
 زیادہ مضبوط۔ تم سپد لڑایہ خیطہ ہا نکل تیار تمہہ جی تعریف چھو اللہ تعالیٰ فرماوان۔ بیہ چھو کھہ اللہ تعالیٰ  
 حوصلہ بڑاوان۔ فرماوان چھو کھہ **اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهُ** بیہ خبر دند وول چھو نہ مگر شیطان بس  
 کھوڑہ ناوان چھو توہہ پنے نین ہم مذہب دوستن ہندہ سیت یعنی کافر ہندہ سیت ای میانو دوستو  
 باایمانو **فَلَا تَخَافُوهُمَّ** تہہ مہ کھوڑو تمن کنہہ وقتہ **وَخَافُوْنَ** تہند گڑھہ کھوڑن مے یوت **اِنۡ كُنْتُمْ  
 مُّؤْمِنِيْنَ** چھوے تہہ بالایمان تہ پڑھہ وال **وَلَا يَحْزُنْكَ الَّذِيْنَ يَسَارِعُوْنَ فِي الْكُفْرِ** توہہ مہ ہز کرن غمگین

يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُجْعَلَ لَهُمْ حِطًّا فِي الْآخِرَةِ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۴۶﴾  
 إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا ۗ وَلَهُمْ  
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۴۷﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُسَبِّحُ لَهُمْ خَيْرٌ  
 لِّأَنفُسِهِمْ إِنَّمَا نُسَبِّحُ لَهُمْ لِيَزِدَ دُؤُلَانِيَّاهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۴۸﴾  
 مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ

تم لوکھ تم کفر س کن جلدی چھہ کران یعنی منافق۔ یان تم وچھان چھہ مسلمان ہند پو تر لوت گوشان۔  
 آئی چھہ تم کفر س کن واپس پھیران تہ کفر چہ کتھہ ونہہ ہوان **لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا** پڑاٹ تم ہیکن نہ  
 ہرگز کانہہ نقصان و اتنا و تھہ اکس ذرس برابر تہ خدا ہیس یعنی خدایہ سیدس دینس۔ بلکہ چھہ و اتنا و ان  
 نقصان پنہ نسی پانس **يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُجْعَلَ لَهُمْ حِطًّا فِي الْآخِرَةِ** اللہ تعالیٰ چھو یڑھان تمن دیہ نہ آخر تس  
 اندر کانہہ حصہہ یعنی تمن کرہ آخر تکہ کیونعتوتہ مہربانیونشہ محروم **وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ** بیہ چھو تہندہ  
 خیطرہ بوڈ عذاب نار جہنم س اندر **إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ** پڑاٹھہ سو مثل ہیوت کفر ایمانس  
 یعنی ایمانہ بدل کوزکھہ اختیار کفر **لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا** تم تہ ہیکن نہ ہرگز کانہہ نقصان و اتنا و تھہ خدایہ  
 سیدس دینس ہیہہ قسمہ **وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ** تہہ مہ کھبو تمن ہند کانہہ غم کیازہ تہندی خیطرہ چھو ڈگ  
 تہہ ون عذاب **وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُسَبِّحُ لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ** بیہ مہ کران گمان کافر اس  
 یوسہ مہلت دوان چھہ تمن سو کیاہ چھہ رثہ جان تہندہ خیطرہ **لِنَّمَا نُسَبِّحُ لَهُمْ لِيَزِدَ دُؤُلَانِيَّاهُمْ** اس چھہ  
 تمن مہلت دوان مگر ہیٹھہ تم گنہن منز زیادتی کرن۔ یعنی ہیٹھہ تہندین گنہن ہنز ناؤ بر نہ ایہ۔ پتو لاکہ  
 ہیٹھہ ہیٹھہ و نہ سزاؤ نہ۔ دنیا س منزے تمن عذاب بیہہ کرنہ **وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ** بہر حال چھو تہندی  
 خیطرہ آخر تس منز کڈ ر عذاب **مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ** اللہ تعالیٰ چھو نہ  
 یڑھان سو کیاہ تراوہ توہہہ با ایمان تھہہ حاس پٹھہ تھہہ حاس پٹھہ تھہہ و یکنیس چھوہ یعنی امتیازہ و رای بلکہ  
 چھو سو یڑھان با ایمان تہ بے ایمان منز فرق کرن۔ تھہہ کن نظر کر تھہ چھو سو سختی تہ تکلیف نازل

الْخَبِيثَاتِ مِنَ الطَّيِّبِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِؕ وَاِنْ تُوْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ﴿۱۶۹﴾ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اتَّهَمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَٰخَلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِؕ

کران حتی یبیز الخبیث من الطیب یتھم اللہ تعالیٰ ناپاکن پاکونشہ یعنی کافرن تہ منافقن باایمانونشہ الگ کرہ۔ تہ چھو ننان آزمایشویت باایمان چھ آزمایش پٹھہ صبر کران۔ مناق چھنہ تاب کران۔ تم چھہ ایمانہ نشہ دست بردار سپدان وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ بیہ چھونہ اللہ تعالیٰ سندان سئو کیاہ کرہ توہم خبر پوشیدہ معاملن ہنز یعنی توہم کیاہ باوہ سو۔ کبہ چھو باایمان تہ کبہ چھو منافق۔ نہ تہ ہنہ نہ۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِيْ مِنْ رُّسُلِهِ مَنْ يَّشَاءُ بلکہ چھو سو برگزیدہ کران۔ پنے نیو پیغمبرواندرہ یس یڑھان چھو تس چھو پوشیدہ حالات باوان فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِؕ پس کمر و پڑھہ کنس خدانس بیہ تھندین سارنی پیغمبرن وَاِنْ تُوْمِنُوْا وَتَتَّقُوْا فَلَكُمْ اَجْرٌ عَظِيْمٌ ہر گاہ تہہ کفر و شرک تراوتھہ ایمان انو، کفر و نافرمانی نشہ تھہ روزوتلہ چھہ تھندہ خیطرہ بدمزور آخر تس اندر وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا اتَّهَمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بیہ مہ کمرن گمان تم لوکھہ تم بخل چھہ کران سئو مال خرچ کرنس اندر یس تمن اللہ تعالیٰ نے عطا کرنہ فضلہ سیت۔ سو بخل کرن کیاہ چھو تھندہ خیطرہ جان۔ ہرگز نہ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ بلکہ چھو سو بخل کرن تھندہ خیطرہ سیٹھاہ تھہ کیاہہ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَٰخَلُوْا بِهِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ جلدی بیہ نال تراونہ تمن سئو مال سون تہ روپھہ) تجز کلاۃ تہ صدقہ و نس اندر تم بخل کران آس قیامتک دوہ۔ تھہ ماس بیہ سرفاہ تہ اژدھا بناوت خیلہ سزہ گردنہ منز نال تراونہ۔ یس تس ٹوپہ آسہ دوان تہ ژپ آسہ ہیوان پرازہ آسہ ژٹان۔ سؤی اژدھا آسیس وپان انا مالک انا کنزک بو چھو سے نہ دوہر ٹو چھوس مال بچون۔ بو چھوس خزانہ چون سمہ پٹھہ نہ تہ خدایہ سندان حقوق اوسکھہ ادا کران۔

وَاللَّهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝<sup>(۱۸۰)</sup>  
 لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ  
 أَغْنِيَاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ۖ  
 وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝<sup>(۱۸۱)</sup> ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ  
 أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝<sup>(۱۸۲)</sup> الَّذِينَ قَالُوا  
 إِنَّ اللَّهَ عَهْدَ الْبَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ يَأْتِينَا

مُخْلِ كَرُونَ چھو سیٹھا پچھہ کیا زہ ساری ینہ مرن سوزی ولتہ خدایہ سی نش و اللہ میراث السموات  
 وَالْأَرْضِ خدایہ سندی سپدہ خود بخود سوزی۔ حقیقتہ پانچہ آسمان وزمین ہند مالک اوس تہ سوی تہ سپدہ  
 تہ سوی۔ لہذا بے سندس ماس اندر مخل کرون کا ظاہ حماقت چھہ۔ یہ شخص نے مخل کرہ ہا خدایہ سند مال  
 خدایہ سزہ و تہ اندر خرچ کرنے سیت زینہ ہا منزیہ اکھ بوڈ فاندہ۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ بیہ چھو اللہ  
 تعالیٰ تہ سوزی زانان یہ تہہ کران چھوہ۔ لہذا یہ خرچ کران آسوتہ آسوتہ مخلو ص دل خرچ کران۔ محض  
 خدایہ سدہ رضا خیرہ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ تنہین اللہ تعالیٰ ان بوزہ پانہ  
 تمن لوگن ہنزہ تہہ سم وان آس اللہ تعالیٰ چھو (نعوذ باللہ) محتاج۔ تمی چھو لوکن قرض منگان وَنَحْنُ  
 أَغْنِيَاءُ اُس چھہ مالدار۔ بوزنس پیٹھے پچھہ اکتفا کران سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا بلکہ چھہ اس لیکھتہ  
 تھاوان تہزہ۔ سمہ سارے تہہ تہندین نامہ اعمال منز وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ بیہ چھہ اس لیکھان  
 تہزہ کامہ تہ کر توت۔ ایم کنیہ ناولاد تمن لوکن ہند سمو پنجمیر چھہ ناقح مارمت یمیلہ چھہ خمس منز تراونہ  
 يٰن وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ اس ولوکھ ژہو مرزہ دزیمہ عذابک۔ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ  
 أَيْدِيَكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ بیہ عذاب چھو تمنی کا میں ہندہ بدلہ سمہ کامہ پنہ نیوا تھو کرہ  
 مرزہ چھوہ۔ اللہ تعالیٰ کتہ چھو بدن نسبت ظلم کرہ و نکتہ طریقہ جزمہ و رای کیاہ دیہک سزا الَّذِينَ قَالُوا  
 إِنَّ اللَّهَ عَهْدَ الْبَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ سم بہود گے تمے لوک سمو اپز نور او ت ذوب کہ اللہ تعالیٰ ان

بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ  
 وَبِالذِّمَى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۸۲﴾  
 فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ جَاءُوكَ  
 بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ﴿۱۸۳﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ  
 الْمَوْتِ وَإِن تَتَوَقَّوْنَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن  
 زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا

پھو اسے بروٹھین پیغمبران ہندہ ذریعہ حکم فرمودت کہ اس کروندہ پڑھہ کانہہ پیغمبرس توشتان  
 حَتَّى يَأْتِيَنَّاهُ بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ یوتان نہ سواسہ ہا وہ خاص معجزہ سو گو خدا یہ سیدہ خیرہ الیہ نذرو  
 نیاز کرنہ۔ تھہ قربانس یعنی نذرو نیازس گوہہ آسائجہ طرفہ نارہ و سوسوی کھیہ تھہ نذرس یعنی زاکیس  
 قُلْ فرماویکھ تہہ یارسول اللہ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ ہز پانھہ آسے توبہہ کن واریاہ  
 پیغمبرمہ بروٹھہ نہہ دلیلہ ہتھہ۔ وَبِالذِّمَى قُلْتُمْ بیہ سو معجزہ ہتھہ تہہ سیک تہہ مطالبہ کران چھوہ قَلِمَ  
 قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ادہ کیا زہ مارو کھہ توبہہ تم پیغمبر اگر تہہ پوزونان چھوہ۔ فَإِنْ كَذَّبُوكَ  
 فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ پس ہر گاہ توبہہ تم لو کھہ تکذیب کران کانہہ پروامہ بروٹھہ یارسول  
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیشک توبہہ بروٹھہ کیناہ پیغمبر آسے تمن تہہ آو تکذیب کرنہ۔ یہ نو کتھہ کانہہ  
 چھنہ۔ جَاءُوكَ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ تم تہہ آس نہہ دلیلہ ہدایت نامہ تہہ روشن کتابہ ہتھہ  
 آمت۔ ای لو کو توبہہ مہ روز نو خیال دنیا سی منز ما چھوروزن نہ۔ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ پر تھہ  
 شخصہہ چھومرہ نک مزہ تہہ ون یعنی پر تھہ اکس چھومرُن۔ سمہ دنیاہہ اندرہ نیران وَإِن تَتَوَقَّوْنَ  
 أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ توبہہ سارنی پیہ پورہ پورہ بدلہ دنہ تہہ مزور دنہ پنہ نین پنہ نین کا مین ہنز۔ نیکن  
 رتھزور نا فرمان سخت سزا۔ مگر قیامتک دوہ۔ فَمَن زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ  
 جس کس تہہ دور پیہ تھاونہ نارہ نشہ واتاونہ پیہ جنتس منز۔ ہز پانھہ سوی سپد کامیاب تہہ رستگار۔ تہہ



الْحَيَاةَ الدُّنْيَا الْاِمْتِاعُ الْغُرُورِ ﴿۱۸۵﴾ لَتُبْلَوُنَّ فِي  
 اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا  
 الْكِتٰبَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اِذْى كَثِيْرًا  
 وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ﴿۱۸۶﴾  
 وَاِذَا خَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ لَتَبَيِّنُنَّهُ  
 لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُوْنَهُ فَبَدُوْهُ وَاَرَاءَ ظُهُُوْرِهِمْ وَ

مرد سپید حاصل۔ بتھے پانچ لیس جنہ لیسہ دور آؤ تھاوند۔ چہنمں منز آؤ تراوند سوسپد سخت ناکام تہ نامراد  
 وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا الْاِمْتِاعُ الْغُرُورِ بے چھنہ یہ دنیا بچ زندگی مگر ڈھو کھک آکھ سوداہ سمیک  
 ظاہری رونق وچھتھ خریدار تہلان چھو۔ توپتہ چھو سو چیز مثل ہیوان۔ کچھنہ دوہ گڑھتھہ چھو تھہ سوماہ  
 ووتھان۔ تلہ کنہ چھونہ سوکھی آسان۔ چھنہ مثال چھہ دنیا چہ زندگی ہنز۔ امہ زندگی ہند عارضی رونق  
 وچھتھہ گڑھنہ نہ آخرتہ لیسہ غافل سپدن لَتُبْلَوُنَّ فِيْ اَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ضرور ابو چھہ  
 آزماوند ای مسلمان مالی نقصانہ سیت تہ جانی نقصانہ سیت وَلَتَسْعُنَّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ مِنْ  
 قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا اِذْى كَثِيْرًا بے یوزو چھہ ضرور آئندہ تمن لوکن لیسہ تمن توہہ بروٹھہ  
 کتابہ آیہ ونہ یعنی بہودو نصاری ان لیسہ بے مشرگن لیسہ دل آزاری ہنزہ واریاہ کتھہ سمو سیت توہی سیٹھاہ  
 تکلیف ولتہ مگر وَاِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ ہر گاہ تہ تھہ پٹھہ صبر کرو  
 خلاف شرع کامیو لیسہ چھہ رُوزو تھنہہ خیطرہ چھوتی بہتر۔ کیا زہ یہ صبر تہ تقوی چھو تمو کامیواندرہ  
 تمن ہند سیٹھاہ تاکید چھو وَاِذَا خَذَ اللّٰهُ مِيْثَاقَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ تریس پاوولہ عمد کرنا و  
 اللہ تعالیٰ ان اہل کتاب یعنی تمن کوزن حکم توپتہ کور تمو تسلیم لَتَبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ ضرور نراوہ سمہ  
 کتابہ ہند ساری مضمون واضح طور و اتاوزہ تم لوکن وَلَا تَكْتُمُوْنَهُ ہر گز تھاوزہ نہ امہ کتابہ ہند کانہہ  
 مضمونا کھٹھہ فَبَدُوْهُ وَاَرَاءَ ظُهُُوْرِهِمْ پس ترودو تمو یہ عمد پس پشت اٹھ پٹھہ کرکھ نہ کانہہ عمل

اشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿۱۸۷﴾ لَا تَحْسَبَنَّ  
 الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ  
 يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ  
 عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۸۸﴾ وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ  
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۸۹﴾ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
 وَاجْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿۱۹۰﴾

وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا یہ لکھ یہ کتاب کم موکس بیچ نہ کہے یہ حقیقت چھہ فَبُئْسَ مَا يَشْتَرُونَ  
 پس سیٹھاہ چھہ چھو تہ یہ سوا تھہ زبون کیا زہ امیک سزا چھو نار جنم لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا  
 آتَوْا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا تہہ مہ ہز کر و خیال کہ تم لوکھہ ہم خوش سپان چھہ پنہ نین  
 چھہ کا مین پٹھہ یہ چھہ پسند کران لوکھہ گڑھہ تہزن کا مین ہنز تعریف کران سمہ نہ تمو کرہ مشرے چھہ  
 ہر ہرہ۔ فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ پس ہر گز مہ کر و تہہ گمان دنیا اس اندر تہندہ خاص  
 عذابہ نشہ بیچ کیا چھہ کانہہ صور تھاہ بلکہ دنیا اس اندر تہہ یہ تم عذاب کرنہ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  
 یہ چھو تہندی خیطرہ ہڈر عذاب آخرت اس اندر وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ یہ چھہ اللہ تعالیٰ  
 سزے سلطنت آسمان تہ زمین ہنز چونکہ سوی چھو پادشاہ حقیقی لہذا چھو لازمی تہ ضروری تہندہ حکم  
 گڑھہ مان۔ تہنز نا فرمانی کرن چھو سخت جرم وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ یہ چھو اللہ تعالیٰ پر تہتہ  
 چیزس پٹھہ قدر تہ وول تمس چھہ نا فرمان سزا دس پٹھہ تہ پور قدرت إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ  
 وَالْأَرْضِ پڑا تھہ آسمان تہ زمین ہندس پیدہ کرنس اندر وَاجْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ یہ  
 دیکھس تہ را حکس پس گڑھہ ہنس اندر چھہ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَبْصَارِ ضرور واریاہ دلیلہ تہ نشانہ خدایہ  
 سندس سوی آسس پٹھہ عقلہ والین ہندہ خیطرہ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُوبِهِمْ  
 تم عقلہ وال تہ کاٹل لوک گئے تہ تم یاد چھہ کران معبود برحقہ سند پر تھہ حاس اندر۔ وودنہ روز تھہ

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ  
وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا  
خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۹۱﴾  
رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْرَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ  
مِنْ أَنْصَارٍ ﴿۱۹۲﴾ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي  
لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا

تہ۔ بگتھہ تہ لرتراوتھہ تہ ویتفکرون فی خلق السموات والأرض بیہ تم فکر تہ تامل چھہ کران  
آسمان وزمینہ کس پیدہ کرنس اندر۔ درذکر و فکر مشغول روت چھہ۔ دنان تم۔ ربنا ما خلقت هذا  
باطلا اے سانہ پروردگارہ تہہ کرھکنہ تم مخلوقات پیدہ بے معنی تہ بیکار۔ بلکہ چھہ تم ساری  
چیز چاہہ قدرت کاملہ چھہ دلیلہ۔ تہہ چیز چھہ دلالت کران چانس وجودس تہ وحدانتیس سُبْحَانَكَ  
منزہ تہ پاک چھو کہ تہ کانہہ کام بے ہودہ کرنہ نشہ۔ اس چھہ اتھہ بدل و جان اقرار کران قِنَا  
عَذَابِ النَّارِ پس بچاوا اسہ مؤحد آسکہ وجہہ نارہ کہ عذابہ نشہ رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ  
أَخْرَيْتَهُ اے سانہ پروردگارہ اس چھی تہ نارہ نشہ سمہ مؤکھہ نجات منگان کہ تہ پس اکھاہ و اتاواہ ہن  
نارس پس بیشک سوکور تھن تہیہ سخت رسوا تہ خوار تمہ عذابہ سیت وَاللَّظْمِلِينَ مِنْ أَنْصَارٍ  
چھونہ ہرگز تھن ظالم تہ نشہ کانہہ مددگارہ پس چاہہ امہ عذابہ نشہ بچاواہ چھہ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا  
مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ اے سانہ پروردگارہ ہتھہ پاٹھہ اسہ چانیو مخلوقا تو سیت چانس  
وجودس تہ وحدانتیس پٹھہ استدلال کورتھہ پاٹھہ بوز اسہ بواسطہ یا بلاواسطہ آلودہ و ناہ آلودان ایمانس  
گن اعلان عام کران کہ اے لوکو أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ انواسمان پنہ نس پروردگارہ سندس ذاتس تہ  
تہمدین صفاتن فَا مَنَّا پس اُون اسہ ایمان امہ نقلی دلیلہ سیت تہ رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا اے  
سانہ پروردگارہ۔ وون کرتہ مغفرت اسہ سائین بڈین گنہن وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا بیہ کر معاف اسہ

ذُنُوبَنَا وَكَفَرُوا عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَقَّنا مَعَ الْاَبْرارِ ﴿۱۴۳﴾  
 رَبَّنَا وَاِتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلٰی رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ ؕ  
 اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْبِعْدَادَ ﴿۱۴۴﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اِنِّي لَا اُضِيعُ  
 عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ۗ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضٍ ؕ  
 فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَاُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوذُوا فِي سَبِيلِ  
 وَقْتَلُوا وَقْتُلُوا الْكٰفِرِيْنَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَا دُخْلَ لَهُمْ  
 جَدَّتْ بَحْرِيٌّ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ۗ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط


سان لوکھ گناہ تہ و تَوَقَّنا مَعَ الْاَبْرارِ بیہ مارا سہ نیکو کارن سیت شامل تھوتھہ۔ یعنی سون اندر  
 بر ایمان رَبَّنَا وَاِتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلٰی رُسُلِكَ اے سانہ پروردگارہ عطا کر اسہ تمہ سارے مہربانی یمن  
 ہند وعدہ کور تھہ ژ یہ پنے نین بیٹھرن ہندہ ذریعہ۔ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ رسوا نہ کر اسہ قیامتگ دوہ  
 نارس منز و اتا و نہ سیت۔ اسہ و اتا و ابتداء جنتس۔ ژ تہ چھوتھہ امیک وعدہ کورمت اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ  
 الْبِعْدَادَ پڑ پانھہ ژہ ہرگز وعدس بدل کر کھنہ فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اِنِّي لَا اُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ  
 مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى کس اجابت کور تمہ تہند پروردگارن تہندس منگنس۔ فر مو و بھہ یو چہوس نہ ضایع  
 کران تہ راوہ راوان کانسہ عمل کرہ ون سز عمل تو بہ اندرہ۔ ادہ سومرد آستن یا زانانہ بَعْضُكُمْ مِنْ  
 بَعْضٍ تہہ چھوہ پانہ وان اڈاؤین ہند جزو یعنی ثواب حاصل کرنس اندر چھوہ تہہ ساری برابر فالَّذِينَ  
 هَاجَرُوا وَاُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوذُوا فِي سَبِيلِ وَقْتَلُوا وَقْتُلُوا پس سمو لو کو بھرت کر تم پنے نیو  
 شہر و اندرہ کڈنہ آئے۔ تم میاہ و تہ اندر ایذا تہ تکلیف ونہ آو سمو مقابلہ کور کارن سیت تم مارنہ تہ  
 شہید کرنہ آئے لُكْفِرَانَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ البتہ ضرور کرہ بہ تمہ بخشایش تہندین تمہ گنہن یمن  
 میانین حقون سیت تعلق چھوہ وَلَا دُخْلَ لَهُمْ جَدَّتْ بَحْرِيٌّ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ بیہ و اتا و کھہ یو تم تمہ

وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ ﴿۱۹۵﴾ لَا يَغْرَتُكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ  
كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ ﴿۱۹۶﴾ مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۖ ثُمَّ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَ  
يَسُّ الْبِهَادِ ﴿۱۹۷﴾ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي  
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا  
عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْآبِرَارِ ﴿۱۹۸﴾ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ  
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَشِيعِينَ

جنتن اندر سمومنز جو یہ پکان آسن کوا بامین عنید اللہ یہ چھ تمن خدایہ سندہ طرفہ تهنزن رثن  
عملن ہنز مزور و اللہ عنیدہ حسن الثواب اللہ تعالیٰ سی لغہ چھو رثن عملن ہند رت ثواب  
لا یغرٹک تقلب الذین کفروا فی البلاد اے پوزر ہانڈونہ تھہ نہ حض یہ دھوکہ دہی کافر ن ہند  
اورہ پوزر کن شرن اندر دنیا ک تمت تلان متاع قلیل یہ چھو زندگی ہند کم سامانہ۔ بے اعتبار کیون  
دو ہن روزہ ون۔ مرنہ سیت گڑھہ یہ سورے ختم ثما و لہم جہنم پتولا کہ چھ تهنزے جاے  
نار جہنم۔ و یس البہاد کا زاہ چھہ جایاہ چھہ سو لکن الذین اتقوا ربہم لیکن تمبولو کو اندرہ  
تم کھوژن خدائس پنہ بس تہ مسلمان تہ فرمانبر دار سپدن لہم جنت تجری من تحتہا الأنہار تہ ہدہ  
خیطر چھہ تم تم جنت سمومنز جو یہ پکان آسن خلیلین فیہا تمنی جنتن اندر روزن ہمیشہ۔ نزل من  
عنید اللہ یہ چھہ پیش کشاہ یوسہ تمن واتہ ونوی بروٹھ کنہ یہ تھاونہ خدایہ سندہ طرفہ۔ وما  
عنید اللہ خیر للابرار یہ سم کیوہاہ خدائس نشہ چھو نیو کارن ہمدہ خیطر کہ تہ چھو بدر جما سیٹھا رت  
تمہ خوتہ یہ کافر ن چھو دنیا اس اندر وان من اهل الکتاب لمن یؤمن باللہ بیشک یہ چھہ  
اہل کتابو اندرہ ضرور کہنہ لو کہہ تم پڑھ کران چھہ کئس خدائس وما انزل الیکم یہ تھہ یہ کیوہاہ  
توہر کن نازل آو کر نہ وما انزل الیکم یہ یہ کیوہاہ تمن لو کن کن نازل آو کر نہ خشیعین اللہ سمہ  
طریقہ چھہ تم کھوژان خدائس کہ لا یشترون بایت اللہ ثما قلیلا تم چھنہ بین اہل کتابن ہند پاٹھ

لِلّٰهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللّٰهِ ثَمَنًا قَلِيلًا اُولٰٓئِكَ لَمْ اَجْرُهُمْ  
عِنْدَ رَبِّهِمْ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۹۹﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
اصْبِرُوا وَاصْبِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۰۰﴾

خدا یہ سُنَد کلام کم حقیقت مونس کنان اُولٰٓئِكَ لَمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ تے کیاہ چھہ تم لوکھ بہنر۔  
رژمزور چھہ تہندس پروردگار س نَشہ اِنَّ اللّٰهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ بیشک اللہ تعالیٰ چھو جلد حساب بوزہ ون  
حساب بوزہہ کرہ سونمن مزور عطا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَاصْبِرُوا صبر کرو نکلیفن پیٹھہ  
مضبوط رُو زویلہ کافرن سیت مقابلہ کرو وَرَابِطُوا مُستعد تہ تیار رُو زو وَاتَّقُوا اللّٰهَ بیہ کھو ژو خدا س  
پریتھہ حاس اندر۔ شریعتہ کیوحد ونشہ مہ ڈلوکنہ حاس اندر لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ تمی سیت سپد و تہہ کامیاب  
پریتھہ کامہ اندر۔ دُنیا س اندر تہ تہ آخرت س اندر تہ۔



سُورَةُ النِّسَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ  
 وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا  
 وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝۱ وَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ  
 وَلَا تَتَّبِعُوا لَهَا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ اے لو کو کھو ڈو پنہ نس پروردگار س مخالفت نہ نافرمانی کرنہ نشہ الَّذِي  
 خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ تم تہہ پیدہ کر وہ کسی شخص نشہ یعنی حضرت آدم وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا  
 بیہ ہم پروردگار ن پیدہ کر تمہی شخص نشہ تہنہ آشین یعنی حضرت حوا یوسہ پیدہ کرن حضرت آدمہ  
 سنزی لرہ کانہ منزہ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً بیہ سم چھکر او عالس منز تہن دون نشہ موہو  
 تہ زنانہ بے شمار وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ بیہ کھو ڈو تس خدائس سمسد واسطہ دتہ  
 تہہ اکھ افس نشہ چھوہ پنہ نین حقن ہند مطالبہ کر ان یعنی ونان چھوہ پانہ وان کہ خدائس کھو ڈو میون حق کر  
 اول دون یلہ تہہ چھوہ خدائس کھو ڈو نک تجویز کر ان لہذا آرزوہ تہو ند تہ پانہ تس کھو ڈو۔ خصوصاً گڑھہ  
 آشنائی ہند حقوق ضایع کرنس تہ کھو ڈو اِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا بیشک اللہ تعالیٰ چھو ہمیشہ  
 توہہ پیٹھہ پورنگرانی کر ان۔ سوچھو تہند ساری حالات پانہ وچھان وَاتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ بیہ آسوامی  
 والیہ تہ سر بہو تہن پنہ نوی مال حوالہ کر ان تہ وائس دوان وَلَا تَتَّبِعُوا لَهَا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ بیہ مہ  
 آسوپن ردی مال تہندس رتس ماس سیت بدلاوان وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ بیہ مہ کھیو

إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ۝ وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَثَمَىٰ فَاذْكُرُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِثْنِي وَثُلْثَ وَرُبْعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۝ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۝ وَلَا تَوْتُوا

تہند مال ملہ ناوت پنہ نس ماس سیت۔ اِنَّہَ کَانَ حُوبًا کَبِيرًا ہر پانچویں مال بدلوان چھو سیٹھا ہوؤ گناہ۔ وَلَنْ خِفْتُمْ اَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَثَمَىٰ بیہ ہر گاہ تمہ کھو ژو یتیم کورین سیت نیتھر کر تھہ ماہیکو نہ اس تمن منز عدل و انصاف قائم تھاوتھہ فَاذْكُرُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مِثْنِي وَثُلْثَ وَرُبْعٍ تلہ گدھہ تہند کال کزن تمن یتیم کورین ورا ی بین زنان سیت سمہ توہہ خوش کرنوہ زیزتہ۔ تریہ۔ تریہ تہ۔ ژور۔ ژور تہ۔ فَإِنْ خِفْتُمْ اَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً پس ہر گاہ زہ زنانہ۔ تریہ زنانہ یا ژور زنانہ آسنہ کس صورتس منز تہہ کھو ژو عدل تہ انصاف نکیاہ ہیکونہ کر تھہ تمن منز سارنی معالمن اندر تیلہ گدھہ کسی زنانہ پٹھہ اکتفاء کزن اَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ یا کثیرہ بیٹھی۔ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ اَلَّا تَعُولُوا بیہ یعنی کسی زنانہ پٹھہ یا صرف کثیرہ پٹھہ اکتفاء کزن چھو زیادہ نزدیک بیتھہ کتھہ کہ تہہ کرنوہ بے انصافی وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً بیہ آسودوان زنان مہر تہند دلہ چہ خوشی سان فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا پس اگر تمہہ زنانہ پنہ خوشی سیت مہرہ اندرہ کا نہ حصہ یا سوزی مہر تراوان پس کھیو تہہ تہ گہکہ تہ ضرر کہہ اندیشہ ورا ی سوہ چھو تہندہ خیطرہ مزہ دار تہ خوشگوار جبر کر تھہ مہر بخشاوند سیت چھونہ مہر معاف سپدان۔ بیتھہ پانچہ مجلسازی کر تھہ کاغدس پٹھہ زنانہ ہند دستخط یا پٹھہ کرناوند سیت چھونہ مہر بخشش سپدان وَلَا تَوْتُوا الشُّفَهَاءَ أَمْوَالِكُمْ اگر یتیم بالغ سپدن مگر تم آسن و نہ کم عقل تلہ مہ آسودوان تمن کم عقلن سو مال پن۔ الَّذِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ



السُّفَهَاءَ أَمْوَالِكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝  
 وَابْتَلُوا الْيَتِيمَ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ

قیماً نِس مال عام طور اللہ تعالیٰ ان چھو بنو موت زندگی قائم تھا ونک اکھ ذریعہ سوی تمن کم عقل بچن اتھہ لعم تم کرن سوا ضایع تہ خراب۔ **وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ** بیہ آسیہ کھہ تمہ منزہ کھیوان چوان۔ بیہ آسیہ کھہ پو شاک بناوان **وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا** بیہ آسیہ کھہ زیوہ سیت معقول طریقہ سیت فہمائش کران تسلی روان کہ یہ مال چھو تہندی۔ اس چھہ محض لہج حفاظت کرنہ خیرہ **وَابْتَلُوا الْيَتِيمَ** بیہ آسو یتیم آزمائش کران۔ تہندہ ذریعہ آسو بازہ کانہ چیزانہ ناوان تا اینکه معلوم آسہ سدان تمسند فہم وشغور کوت دوت **حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ** یوتان تم نیتہر کرنس قابل سدان آسن **فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا** پس اگر تہہ لبو تمن منز صلاحیت مالمہ حفاظت کرنج **فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ** ادہ دیو تمن مال پئن یعنی کریو کھہ سپرد **وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا** بیہ منہ آسو مال تہند زیادہ خرچان، جلد جلد موکلاوان۔ سمہ خیالہ کہ تم ماڈن تہ بالغ سدان۔ پتہ بیہ نہ آسہ خرچنک تہ کھینک کانہ موقع **وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ** بیہ نِس ولہیہ تہ سر پر ستاہ مالدار آسہ سوروزن بالکل پاک یتیمہ سند مال کھینہ نشہ **وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ** بیہ نِس سر پر ست فقیر آسہ سو کھین چھین تمہ منزہ مناسب طریقہ موجب **فَإِذَا**

وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
 الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ ۝ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا  
 تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ  
 نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ۝ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو  
 الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْتُمْ قُلُوبَهُمْ مِنْهُ  
 وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ۝ وَلِيُخَشِ الَّذِينَ

دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ تُوپتے یلہ تہہ واتا و تمن کن مال تہمد یعنی تمن کرو سپرد فَاثْبَهُدُوا  
 عَلَيْهِمْ پس گواہ تھا دیو کہہ تمن پیٹھ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا کافی چھو اللہ تعالیٰ حساب ہیوہ و ن  
 لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مردن اده تم لوکت آستن یلہ تہمدہ خیطرہ  
 تہ چھو اکھ حصہ تھہ ماس اندر۔ بس تراون پتھہ کن مر نہ پتہ مول موج تہ نزدیک آشنا وَلِلنِّسَاءِ  
 نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ پتھہ پاٹھہ چھو زنانن اده تمہ لوکت آستن یاجہ تہمدہ خیطرہ  
 تہ اکھ حصہ تھہ اندر بس تراون پتھہ کن مر نہ پتہ مول موج تہ نزدیک آشنا۔ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ  
 اده سو مال کم آستن یازیدہ آستن نَصِيبًا مَّفْرُوضًا سارنی ہمدہ خیطرہ چھو تھہ ماس اندر اکھ حصہ  
 مقرر کرنہ آمت خدلیہ سندہ طرفہ۔ تہذاکر شہرنہ کانہہ تہ مرد تہ زنہ۔ نہ بوڈ تہ نہ لوکت تمہ حصہ  
 نیشہ محروم یں کرنہ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ  
 فَأَرْتُمْ قُلُوبَهُمْ مِنْهُ بیہ یلہ حاضر آسن سدان ترگس تقسیم کرنکہ وقتہ آشنا یتیم تہ مسکین بس آسو  
 تمن کہین چین دیوان تمی تر کہہ مالہ منزہ۔ بیہ حکم اوس ابتداء س اندر۔ پتہ چھو نہ بیہ حکم رودمت یلہ  
 وراثتک صریح احکام نازل سپد۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا بیہ آسو تمن سیت کتھہ کران  
 مناسب طریقہ وَلِيُخَشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا  
 عَلَيْهِمْ بیہ گھہہ کھوٹن تمن لوگن ہند یتیمن ہمدہ تھہ تہمدس نقصان۔ زان گھہہ کہ ہر گاہ تمن



التَّصْفُ وَالْأَبْوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ  
كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ  
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي  
بِهَا أَوْ دَيْنٍ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ  
نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ وَلَكُمْ  
بِصَفِّ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِهِنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ  
لِهِنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِينَ بِهَا

تمود و یواندره پر ہتھہ اکس ولتہ شیم حصہ۔ تمہ مالہ منزہ نیس مال مومت شخص ہتھہ کن ترودمت آسہ  
ان کان لہ ولد ہر گے تس مومت شخص آسہ رومنت اولادتہ فان لکم یکن لہ ولد نیس ہر گاہ  
تس اولاد آسہ نہ رومنت وورثتہ آسہ وارث آسہ رومنت مول موج فلاولہ الثلث تلہ گوماجہ  
ترتم حصہ باقی گومالس فان کان لہ اخوۃ فلایہ السدس ہر گاہ امس مردس آسن رومنت بای یابینہ  
تہ تلہ ولتہ ماجہ شیم حصہ باقی گومالس بین باسن نہ کنہی من بعدا وصیۃ یوصی بہا اودین یہ تقسیم یوسہ  
بیان کرنہ آسہ گنید وصیت تہ قرض ادا کرنہ پتہ اباؤکم و ابنائکم لاتدرون ایہم اقرب لکم نفعا مال  
جہند بیہ پتو جہند۔ توہہ چھنہ یکہنہ خبر کوہ چھو توہہ تموا اندرہ زیادہ فاسیدہ تہ نفع واتاودہن۔ انج خبر چھہ  
خدایہ سی یازہ فریضۃ من اللہ تمی خدایں چھو پر ہتھہ اکسند حصہ مقرر کورمنت ان اللہ کان علیمًا  
حکیمًا بیشک اللہ تعالیٰ چھو سوزی زانہن۔ سوی چھو حکمتہ وول۔ ولکم بصف ما ترک ازواجکم  
بیہ چھو جہندہ خیطرہ نصف تمہ مالگ نیس ہتھہ کن تراون جہنہ زنانہ ان لکم یکن لہن ولد ہر گے  
تمن روزہ اولاد فان کان لہن ولد فلکم الربع مما ترکن ہر گاہ تمن اولاد روزہ ہتھہ کن تلہ چھو جہندہ  
خیطرہ ژور تم حصہ جہندہ مالگ نیس تموی پتہ کن ترودمت آسہ من بعدا وصیۃ یوصین بہا اودین یوسہ

أَوْ دَيْنٍ ط وَ لَهِنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ  
 كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي  
 تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ط وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً  
 وَ لَهَا أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ  
 مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي تُوَصَّى بِهَا  
 أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ١٧ ط

تقسیم چھوتمیہ وصیت پتہ یوسہ تمو کر مرث آسہ کانسہ ہندہ حقہ بیہ قرضہ ادا کرنہ پتہ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ بیہ زنانہ ہندہ خیطرہ زور تم حصہ تہندہ مالہ منزہ لیس جہہ ہتھہ گن ترا و و ہر گاہ لے توہہ آسہ اولاد فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ لیس ہر گاہ توہہ ہتھہ گن اولاد تہ آسہ تلہ ولتہ ٹہنزن زنانہ تہندہ مالک اوتھیم (۸) حصہ لیس توہہ ہتھہ گن ترا و و مت آسہہ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ سوی وراثت بیہ جاری کرنہ تہنزن وصیت تہ قرض پورہ کرنہ پتہ وَلَئِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً وَسُن ہر گاہ کانہہ شخصہ آسہ لیس نہ مول موج آسہ نہ اولاد آسن أَوْ امْرَأَةً یا کانہہ زنانہ آسہ لیس نہ مول نہ مول موج تہ اولاد آسن وَ لَهَا أَخٌ أَوْ أُخْتُ لیس آسہ بوی یا بیہ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ لیس چھو تمود و یو اندرہ پر ہتھہ آسہہ خیطرہ شیم حصہ وَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ وون ہر گاہ تمہہ خوتہ زیادہ آسن تم تلہ چھہ تم ساری شریک لیس ترا تمس حصس اندر مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي تُوَصَّى بِهَا أَوْ دَيْنٍ بیہ تقسیم تہ وراثت بیہ جاری کرنہ تمہہ وصیتہ پتہ یوسہ وصیت کرنہ امر آسہ بیہ قرض بچھہ واللہ غَيْرِ مُضَارٍّ مگر یہ وصیت گورہ آسن تو ہی یوسہ نہ کانسہ وارثس ضرر و اتا و ہ۔ یعنی مالکہ تریمہ حصہ خوتہ گورہ نہ زیادہ آسن۔ یوسہ وصیت ترا سمہ حصہ خوتہ زیادہ آسہ سکو بیہ نہ جاری کرنہ وَصِيَّةً مِّنَ اللَّهِ یوسہ حکم چھو خدایہ سندہ طرفہ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو سوزی زنانہ و ن تہ ٹیڈ کرہ و ن۔ تمس چھو معلوم کہہ چھو میان حکم مانان تہ کہہ

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ  
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ  
الْعَظِيمُ ﴿۳۳﴾ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ  
يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿۳۴﴾ وَالَّذِي  
يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فاسْتَشْهِدُوا  
عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فامسكوهنَّ فِي  
الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ

پھونہ مانان۔ تہ مان والین پھونہ سیتی سزاوان کیا زہ سو چھو حلیم تہ۔ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اسم احکام  
پچھ خدایہ سند نشانہ بیونشہ گدھہ نہ ڈکن وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لیس اکھاہ حکم مانہ خدایہ سند بیہ  
تہندس پیغمبرہ سند یُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا تَس و اتا وہ خدا تمن  
جنتن اندر یومنز جو یہ پکان آسن۔ تمنی جنتن منز روزن تم ہمیشہ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ بیہ گنیہ  
بڈ کامیابی تہ رستگاری وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بیہ لیس نافرمانی کرہ خدایہ سز بیہ تہندس رسولہ  
سز و یَتَعَدَّ حُدُودَهُ بیہ ڈلہ تہند یوحود و نشہ۔ مساوی زانہ یمن حدان ہنز پابندی کرن سو گو کفر۔  
تمیک سز چھو یُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا تَس و اتا وہ خدا نار جنتن س اندر ہمیشہ خیطرہ وَلَهُ عَذَابٌ  
مُهِينٌ بیہ چھو تہندی خیطرہ ذلیل کرہ دن عذاب وَالَّذِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ بیہ  
سمہ زانہ پچھہ کامہ کرن تہنز و منکوحہ زنا واندرہ فاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ لیس رٹو  
تہہ تمن پیٹھہ ژور گواہ مسلمان فَإِنْ شَهِدُوا لیس یلہ تم ژور گواہ گواہی دن تہنزہ پچھہ کامہ پیٹھہ  
فَامَسْكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا لیس کریوکھہ تمہہ  
زانہ بند کرن اندر یوتان تمہہ مرن یا فرماوہ اللہ تعالیٰ تہندہ خیطرہ بیاکھہ حکماہ۔ وَالَّذِي يَأْتِيَنَّهَا مِنْكُمْ

سَبِيلًا ۱۵) وَالَّذِينَ يَأْتِيْنَهَا مِنْكُمْ فَاذُوْهُمَاۙ فَاِنْ تَابَا  
 وَاصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَاۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا ۱۶)  
 اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ  
 ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ  
 عَلَيْهِمْۗ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا ۱۷) وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ  
 لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمْ  
 الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ تَابْتُۙ اِنَّ الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ

بہ ایم زہ شخص مردتہ زنانہ پچھہ کوم کرن توبہ اندرہ فَاذُوْهُمَاۙ نپس و اتناوہ تکلیف تمن  
 اَتْھوسیت تہ کتھوسیت۔ فَاِنْ تَابَا وَاصْلَحَا فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمَاۙ نپس ہر گاہ تمہو توبہ کور۔ پن  
 حالت درست کرکھہ نپس تراوہ تمن تکلیف و نک خیال۔ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيْمًا پڑپاٹ اللہ تعالیٰ  
 پچھو سیٹھاہ توبہ قبول کرہ و ن۔ سیٹھاہ رحم کرہ و ن۔ تم احکام آس حد زنا نازل سپد نہ بروٹھہ اِنَّمَا  
 التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السُّوْءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوْبُوْنَ مِنْ قَرِيْبٍ توبہ قبول کرن ہٹھو  
 نہ مٹہ اللہ تعالیٰ اس پیٹھہ مگر تمن لوگن ہند توبہ تم پچھہ کوم کرن نادانی سببہ توبہ کرن تمہہ پتے توبہ یعنی مر نک  
 وقت واتنہ بروٹھہ فَاُولٰٓئِكَ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ نپس تہندروی توبہ گرہ اللہ تعالیٰ قبول  
 وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا اللہ تعالیٰ ہٹھو سوڑی زانہ و ن تہ سیٹھا حکمتہ و ول۔ کس پچھہ پور خبر کم  
 پچھہ دلہ کن توبہ کران تہ کم ہجھنہ بصدق دل توبہ کران۔ ہند حکیم آسن گوکہ سو پچھونہ بصدق دل توبہ  
 کروین منہ چھوان تہ رسوا کران وَ لَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ السَّيِّئَاتِ بہہ چھونہ توبہ  
 قبول سپدان تمن لوکن ہند تم پچھہ کلمہ روزن کران حَتّٰى اِذَا حَضَرَ اَحَدَهُمْ الْمَوْتُ قَالَ اِنِّىْ  
 تَابْتُۙ اِنَّ الَّذِيْنَ يَمُوْتُوْنَ یوتان تمن مر نک وقت واتنہ عالم آخر تک چیز نپچھہ بوزنہ تمہہ ساتہ و پن اس پچھہ توبہ

وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۱۸  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا  
 تَعْضُلُوهُنَّ لِيَتَذَّبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ  
 بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ  
 فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝۱۹ وَإِنْ  
 أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنطَارًا

کران دون۔ تمہے ساتھ توبہ چھو نہ قابل قبول ولا الذین یموتون وھم کفارہ بیہ چھو نہ تم  
 لوکن بند توبہ قبول تم مرن کفر سے۔ اولئک اعدنا لھم عذابا الیما تم لو کہ تم چھہ  
 تہدہ خیترہ چھو اسہ تیار تھو مت کدر عذاب یا ایھا الذین امنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرھا  
 ای با ایمانو ہرگز چھو نہ توبہ جائزہ حلال تہہ کیا ہر سید و جبرأتہ زبردستی زنانہ ہند وارث ولا تعضلوھن  
 بیہ مہ آسیو کہہ زنانہ بند کران لیذہ ہوا بعض ما اتیتموھن شہ تہہ وصول کتر و تمہ مالہ اندر کہہ نہ  
 ئس توبہ تم دیتمت آسوہ الا ان یاتین بفاحشہ مبینہ مگرے تمہ کا نہ تین چھہ کاماہ کرن تلہ  
 چھو تہہ خیترہ تمہ بند کرنے جائز مگر سوما و وصول کرن ئس توبہ تم دیتمت آسوہ چھو ناجائز بدستور  
 وعاشروھن بالمعروف بیہ آسوزنان سیت زندگی بسر کران رت پاٹھ۔ فان کرھتموھن  
 جس ہر گاہ توبہ تم ناپسند آسن فعسی ان تکرھوا شیئا پس ممکن چھو ئس چیز توبہ ناپسند آسہ ویجعل  
 اللہ فیہ خیرا کثیرا اللہ تعالیٰ تھاوہ تمہ اندر تہدہ خیترہ واریاہ خیرتہ برکت وان اردتم استبدال  
 زوج مکان زوج ہر گاہ تہہ ارادہ کتر وگس زنانہ بدل بیا کہہ زنانہ کرن یعنی اکھ موکلاون تس بدل بیا کہ  
 کرن و اتیتتم احدھن قنطارا تھہ حلس اندر ہر گاہ تموزنانواندرہ کانہ واریاہ مال آسوہ دیتمت  
 فلا تأخذوا منہ شیئا پس یتھنہ تمہ مالہ منزہ واپس ہوان آسیو کہہ کینہہ اتأخذونہ بہتانا و انما مبیننا  
 کیاہ ہو کہہ سوما واپس ظلم کتر تھہ۔ پن یان بدس ظلمس گرفتار کتر تھہ۔ تہ گڑھہ نہ ہرگز کرن و کیف



فَلَا تَأْخُذْ وَاْمِنْهُ شَيْئًا تَأْخُذْ وْنَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ۲۰ وَ  
 كَيْفَ تَأْخُذْ وْنَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم  
 يَتِيْمًا قَاغْلِيْطًا ۲۱ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ  
 سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا ۲۲ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ  
 أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ

تَأْخُذْ وْنَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمُ إِلَىٰ بَعْضٍ تہہ تمھ پاھمہ بیو تم ن ش سوماں حالانکہ بتھین نزدیک چھوہ سپد مت تہہ تم ن یعنی خلوت صحیحہ چھوہ لینہ آمت۔ وَأَخَذْنَ مِنْكُمُ يَتِيْمًا قَاغْلِيْطًا بیہ چھوہ تموز ناوقتہ توہمہ نش عمد و بیان روٹمت عقد نکاح یعنی ایجاب و قبول کریمہ وقتہ۔ تہہ چھوہ مہر کی بدلہ زمانہ نفسیہ تمتع تلن قبول کورمت۔ لہذا ایلیہ تہہ تمتع تلوہ تمیک بدلہ تہ عوض یعنی مہر کیا زہ کمر و نہ ادا۔ چھوہ گیہ سخت بے انسانی تہ ظلم وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ اے بالیما نوبیہ مہ آسو نیتھر کران تم ن زمانن سیت یمن سیت جہند یو مالو یابدہ بونکاح آسہ کورمت یا ناجائز طریقہ پاھمہ ہمسری آسہ کمر مثر إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ مگر یہ آتہ بروٹھ گذر یومت آسہ یعنی اسلامہ بروٹھ تہ آو اسلامہ کہہ برکتہ عفو کرنہ۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا پز پیا تہ چھوہ عقلہ کن تہ سیٹھاہ چھہ عرفہ کن تہ سیٹھاہ قابل نفرت وَسَاءَ سَبِيلًا بیہ چھوہ شرعاً تہ سیٹھاہ خراب طریقہ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ حرام آہیہ کرنہ توہمہ پیٹھہ ماجہ تہمزہ۔ بیہ کورہ تہمزہ۔ بیہ بینہ تہمزہ۔ تمہ سگھہ بینہ آستن۔ مال بینہ آستن یا ماجہ بینہ آستن۔ یعنی تم ن سیت نکاح کرن چھوہ توہمہ حرام تہ ناجائز وَعَمَّاتُكُمْ بیہ پوپھہ تہمزہ۔ تہمز ن مالین ہنزہ بینہ۔ سگھہ بینہ۔ مال بینہ۔ ماجہ بینہ وَخَالَاتُكُمْ بیہ باوزہ تہمزہ یعنی باہی سزہ کورہ۔ سگھہ باہی سزہ تہ۔ مال باہی سزہ تہ۔ ماجہ باہی سزہ تہ۔ بیہ بیزہ تہمزہ یعنی بینن ہنزہ کورہ۔ سگھہ بینہ ہنزہ تہ مال بینہ ہنزہ تہ۔ ماجہ بینہ ہنزہ تہ وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْتُمْکُمْ بیہ چھہ حرام توہمہ پیٹھہ تہمزہ تمہہ ماجہ تمکو توہمہ دود دیتمت آسہ

الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتِكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي جُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَسَأْتِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ دَخَلْتُمْ بِهِنَّ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿٧٧﴾

وَأَخَوَاتِكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ بیه ہٹھو حرام توہہ۔ تمن بیلن سیت نکاح کرن سمہ دود چہنہ سبہ ہنزہینہ آسن سہز مژہ یعنی توہہ آسوہ تہزن حقیقی ماجن ہند دود چومت یادودہ ماجن ہند دود چومت یا آسہ تمو تہزن حقیقی ماجن یادودہ ماجن ہند دود چومت وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ بیه آیہ حرام کرنہ توہہ تہزن زنانہ ہنزہ ماجہ یعنی تہزہ ہشہ، ماسہ ہشہ تہ پو پھہ ہشہ۔ وَرَبَائِبِكُمُ الَّتِي فِي جُجُورِكُمْ مِمَّنْ نَسَأْتِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ بیه آیہ حرام کرنہ توہہ تہزن تمن زنانہ ہنزہ کورہ تمن سیت خلوت صحیحہ کورمت آسہ۔ یمہ کورہ تہہ رجھان چھووکہ سمہ کورہ تمن برو ٹھمین خاوندن ہنزہ آسن وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پس ہر گاہ تہہ آسونہ تمن سیت خلوت صحیحہ کورمت تلہ ہٹھونہ کانہ حرج تہزن کورین سیت نکاح کرنس۔ کیا زہ صرف نکاح یعنی ایجاب وقبول سیتی ہٹھنہ زنانہ ہندین اصول و فرو عن ہنزہ حرمت سپدان۔ بلکہ ہٹھہ حرمت سپدان خلوت صحیحہ سیت وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ بیه ہٹھہ حرام توہہ ہٹھہ تہزن پٹھون ہنزہ منکووحہ زنانہ بیه تمہہ زنانہ یکن سیت تہند یو پٹھو یونا جائز طریقہ ہمسری کر مژہ آسہ۔ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ بلکہ تمن پٹھون ہنزہ زنانہ ہٹھہ توہہ ہٹھہ حرام سمپٹھو توہہ پنہ پٹھک آسن۔ منکو پٹھون ہنزہ زنانہ سیت نکاح کرن ہٹھو جائز۔ یلہ نہ تمہہ زنانہ تہندس نکاحس اندر روزن سٹھہ طریقہ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بیه آو حرام کرنہ توہہ ہٹھہ دون بیلن سیت یکہ وٹہ نکاح کرن إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ مگر یہ کثیرہ ہا امہ قسمہ اسلام اندہ برو ٹھہ گذر یومت ہٹھو تہہ ساری ہٹھو عفو۔ آئندہ خپترہ گڑھہ احتیاط کرن إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا پڑپاٹھ اللہ تعالیٰ ہٹھو سیٹھہ مغفرت

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ  
 اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ  
 مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَعْتَمْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ  
 أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ  
 الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۳۵﴾ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ  
 طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنَ

کرهون سیٹھاہ رحم کرہون وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ بیہ پھو حرام آمت کر نہ توہہ پیٹھہ تمن زمانن  
 سیت نکاح کرن یمن خاوند موجود آسن إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مگر نہ تمہہ زمانہ یمن تہہ مالک سپدو  
 بیہ تہنہہ کینزہ سپدن تمہہ خاوند زندہ ہن آسن دارالحر بس اندر۔ تمہہ پھہ حلال کِتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ سنی  
 احکام پھہ لیکھت اللہ تعالیٰ آن توہہ پیٹھہ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ بیہ آہہ حلال کر نہ تہندہ خیطرہ تمہہ  
 سارے زمانہ سمہہ تموزانو وراوی پھہ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ ایئلہ ژھاند یوک تہہ تمہہ زمانہ پنہ نیو  
 دیار و بدل مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ در حالیتہ گنہہ نشہ بچہ ون آسود۔ گنہہ کرہون آسونہ یعنی باقاعدہ  
 ایجاب و قبول کثرت مہر مقرر کثرت دون شایدن بروٹھہ گنہہ بیہ نکاح کر نہ فَمَا اسْتَعْتَمْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ  
 پس تموزانو منزہ تمن نشہ توہہ نفع تلوہ یعنی نفع خواہش پورہ کثروہ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً پس دیو  
 کن تہندہ مہرہ پس مقرر کر نہ آمت پھو وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ بیہ پھو نہ  
 توہہ کانہ گناہ تھہ چیزس پیٹھہ پھہ پیٹھہ تہہ باژہ پانہ وان راضی سپدو۔ عقد نکاح و زہ کانہہ چیز مقرر کر نہ  
 پتہ۔ زیادتی کر تو یا کمی کر تو کثرت چیزس منز تمیک پھو توہہ اختیار إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا پڑاٹھ اللہ  
 تعالیٰ پھو سو زوی زمانن۔ کس پھو معلوم تہندہ فائدہ ہن نفع تھہ چیزس منز پھو۔ تمی مناسبہ پھو سو  
 احکام تہندہ خیطرہ جاری کر ان سو پھو سیٹھاہ حکمتہ وول۔ حکمت پھو سو احکام پین توہہ پیٹھہ مقرر کر ان  
 اگرچہ توہہ متہ تر تن فہرہ۔ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ بیہ پس اکھاہ

فَتَيْتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِّنَ بَعْضٍ  
 فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ  
 غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتَ فَإِنَّ أَتَيْنَ  
 بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ  
 لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ

ہیکہ نہ توبہ اندرہ با ایمان آزاد زانہ سیت نکاح کثرت **فَمَنْ كَانَتْكُمْ إيمَانِكُمْ مِنَ فِتْيَتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ**  
 کس کثرت سونکاح کانہہ با ایمان کیزہ سیت یوسہ کانہہ مسلمانہ سز کیزہ آسہ۔ کیا زہ کیزہ ہند مہر چھو آزاد  
 زانہ ہندہ خوتہ کم آسان۔ کیزہ سیت نکاح کرنس منز گھنہ عارزان **وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ** اللہ  
 تعالیٰ سی چھہ پور خبر تھندہ ایمانچ۔ ممکن چھو سو کیزہ آسہ ایمانکہ اعتبارہ تھندہ کھوتہ بہتر۔ تمیک پور علم  
 چھو اللہ تعالیٰ آس۔ کس روو سبکہ اعتبارہ تھہ منز چھو توبہ **بَعْضُكُمْ مِّنَ بَعْضٍ** اڈ اڈین ہند جزو۔  
 ساری برابر کیا زہ سارنی انسان ہند اصل چھو حضرت آدم تہ حضرت حوا علیہما السلام۔ وون یلہ معلوم  
 سڈ عار گھنک چھو نہ کانہہ وجہا۔ لہذا آتھہ ضرور سبکہ وقتہ کیزہ سیت نکاح کرن **فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ**  
**أَهْلِهِنَّ** پس کرونکاح کیزہ سیت بشر طیکہ تھندین ماکن ہند اجازت کرو حاصل **وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ**  
**بِالْمَعْرُوفِ** بیہ دیو کمن تھند مرہ قاعدہ موجب **مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ** درحالیسہ  
 تمہ کیزہ آس پاس رچھہ کرہ و نین پاٹھہ۔ چھہ کامہ کرہ و نہ آس نہ۔ نہ آس دوستی تہ بارز لاگونہ کانہہ  
 سیت یعنی ڈورہ پاٹھہ چھہ کامہ کرہ و ن آس نہ **فَإِذَا أَحْصَيْتَ** کس یلہ تمہ کیزہ نیتھر گراکنہ بن **فَإِنَّ**  
**أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ** کس ہر گہ تمہ پتہ تمہ کانہہ چھہ کامہ کرن **فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ**  
**الْعَذَابِ** کس چھو تھند سز اتھہ سز اک نصف کس سز مقرر کرنہ آمت چھو نیتھرہ گراکنین آزاد زانان  
 ہند۔ **ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ** یہ کیزہ سیت نکاح کرن چھو تھندی خیطرہ کمن بے نکاح  
 روز کس حالتس اندر چھہ کاین منز بتلا سڈ نگ خطرہ آسہ توبہ اندرہ **وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ** ہر گاہ

رَحِيمٌ ﴿۲۵﴾ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۲۶﴾ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَبِيلُوا مِيلًا عَظِيمًا ﴿۲۷﴾ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۗ وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ﴿۲۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ

ہمہ صبر کمر و تہ چھو بہتر تہندہ خیرہ۔ تمہ سیت سپدہ راہجہ تہندس نسلس غلام بنہ نشہ۔ نتہ ہر گاہ صبر کمر ونہ کینزن سین کمر و نکاح تلہ بن تہند اولاد غلام کس شخصہ سدہ سم سنز سوکینز آسہ ۷ اللہ عَفُوٌّ رَحِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو مغفرت کرہ ون۔ رحم کرہ ون تمن تم نہ تاب بیکن کمر تہ۔ مجبور سپدہ تہہ کرن کینزن سیت نکاح يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ ۗ یشہان چھو اللہ تعالیٰ وارہ نز او تہہ توہہ حلال و حرامک احکام بیان کرن وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ ۗ بیہ چھو توہہ ہاوان و تہہ تمن اہل حقن ہنزیم توہہ برو تہہ آس، تمن ہند قصہ بیان کمر تہہ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۗ بیہ چھو سو برحمت متوجہ توہہ کن۔ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھا علمہ و ول سیٹھا حکمتہ و ول وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ اللہ تعالیٰ چھو یشہان کہہ توہہ دیہ توفیق توبہ کر نک تہ تہند توبہ کرہ قبول۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ ۗ مگر تم لوکھ پیروی چھہ کران نفسہ چن خواہش تم چھہ یشہان أَنْ تَبِيلُوا مِيلًا عَظِيمًا ۗ ایچہ تہہ ذلو سیزہ و تہہ نشہ۔ خدایہ سدہ یو حکمو نشہ و وکھہ پاٹھہ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ ۗ اللہ تعالیٰ چھو یشہان احکامن اندر توہہ پیٹھ یو لور لور اون وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا ۗ انسان چھو پیدے کرنہ آمت کمزور۔ توے آئے نہ اس پیٹھ تہہ احکام فرض کرنہ یم نہ سورد اشتی کمر تہہ ہیچہ ہا۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ای باایماؤمہ کھیو مال اکھہ اکھد ناجایز طریقہ پاٹھہ، سودہ پاٹھہ، غصبہ پاٹھہ تہ دھوکہ پاٹھہ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ لیکن ہر گاہ پانہ وان رضامندی سان تجارت کمر وئس شریعتہ کیو

إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۞ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا  
 فَسَوْفَ نُصَلِّيْهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۞ إِنْ  
 تَجْتَنِبُوا كِبَارَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نَكَرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ  
 مُدْخَلَ كَرِيمٍ ۞ وَلَا تَتَّبِعُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ  
 لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ

اصولاً مطابق آسہ تھو نہ کا نہ خرچ وَلَا تَتَّبِعُوا أَنْفُسَكُمْ بیہ مہ کرئو کہ مارہ پن پان۔ یعنی تڑوہ  
 کامیہ مہ کر و سمو سیت چہ تملک سز او ار سپدو إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ہر پڑھہ اللہ تعالیٰ چھو ہمیشہ توہیہ  
 پیٹھہ رحمتہ دول وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيْهِ نَارًا بیہ لیس اکھاہ تم چیز کرہ سمو نشیہ  
 ممانعت آہیہ کر نہ سر کشی تہ ظلمہ کن۔ پس جلدی و اتا دون آس سونا رس اندر وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ  
 يَسِيرًا یہ چھو اللہ تعالیٰ اس نفعہ سہل تہ آسان إِنْ تَجْتَنِبُوا كِبَارَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ای لو کو ہر گاتہہ  
 پتھہ روز و بڈیو ممنوع چیزو تہ بڈیو گھو نشیہ بیہ کمر ورژہ عملہ نَكَرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ بخشایش گزو آس  
 تھندین لو کٹین گھنن وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلَ كَرِيمٍ بیہ و اتا دووہ اس تہہ عزتچہ جایہ منز سوگیہ جنت  
 وَلَا تَتَّبِعُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ بیہ مہ کمر و آرزو تہ تمنا تہہ ساری مرد تہ زنانہ تمہہ کٹنہ  
 چیزک ہمہ سیت فضیلت دنہ آؤ توہیہ اندر اڈین یعنی مردن اڈین پیٹھہ یعنی زنان پیٹھہ۔ مثلاً مرد آسن یا  
 مردن دو گن بوگ آسن یا دون مردن ہنز گوانی مکمل آسن کیاہہ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا  
 مردن ہندہ خیطرہ چھہ تمن عملن ہنز مزور تہ ثواب مقرر آخرتس اندر ہمہ تمو کرہ مرہ آسن۔  
 وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ زنان ہندہ خیطرہ تہ چھہ تمن عملن ہنز مزور تہ ثواب مقرر آخرتس  
 اندر ہمہ عملہ تمو کرہ مرہ آسن۔ آخر حکمہ نجائک دارو مدار چھو عملن پیٹھہ۔ تھہ منز چھہ خصوصیت  
 کانہ ہندہ خیطرہ۔ لیس پیٹھہ رت کرہ دنیا اس اندر پیٹھہ رت لہ سؤ آخرتس اندر۔ تمنا کر نہ سیت کیاہہ  
 ہنہ۔ بلکہ پڑہ وَسَلُّوا لِلَّهِ مِنْ فَضْلِهِ در خواست کرن تہ مکن اللہ تعالیٰ اس تھند فضل۔ سؤی کڈہ تھند

وَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿۱۲۱﴾ وَلِكُلِّ  
 جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ  
 أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿۱۲۲﴾  
 الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى  
 بَعْضٍ وَبِهَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظَتْ  
 لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

ساری مطلب تہ آرزو۔ یہ سید نازل یلہ زانو تمنا کور آس تہ ہے مرد آسہو آسہ تہ بہہ ہامردن ہنز دس  
 مزدور تہ حصہ۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا پڑ پانٹھ اللہ تعالیٰ چھو پریتھ چیزہ پور زانہ دن وَلِكُلِّ  
 جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ پڑ پانٹھ کتہ مالہ خیطرہ ہس مال پانٹھ کُن تراؤن مؤل مؤج تہ  
 رشتہ دار کور آسہ مقرر تمہ مالک وارث تہن ہند بیان کرنہ آؤ۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانَكُمْ دون رو دہ باقی  
 تم لو کہ تہن سیت توہم معاہدہ کورمت آسہہ فَاآتُوهُمْ نَصِيْبَهُمْ کس دیو تہن پٹن حصہ یعنی شیم حصہ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا پڑ پانٹھ اللہ تعالیٰ چھو پریتھ چیزس پٹھہ گواہ۔ پریتھ چیزہ چھو پانہ  
 وچھان۔ یہ حکم اوس ابتداءس اندر۔ پتہ چھو یہ حکم منسوخ آنت کرنہ بائہ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ  
 أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ - الرِّجَالُ قَوْمُونَ عَلَى النِّسَاءِ مرد چھہ حاکم پٹھہ اول زنانن پٹھہ دیو وچہو بِمَا فَضَّلَ  
 اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ اکہ سمہ مو کہ کہ اللہ تعالیٰ ان چھو قدرتی فضیلت دیتمت اڈین، اڈین پٹھہ  
 یعنی مردن زنانن پٹھہ وَبِهَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ بیہ سمہ مو کہ کہ تمو مردو چھو خرچ کورمت پٹن مال  
 تہن پٹھہ۔ مرس منزلان و نفقس منز۔ لہذا چھہ زنانہ محتاج مردن کُن۔ خرچ دوہ دن سُد اتھ چھو بلند تہ  
 تھو دتسدہ اتھ خو تہ کس خرچ دتہ بیہ۔ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَفِظَتْ لِلْغَيْبِ پس سمہ زنانہ نیک تہ رتہ  
 چھہ مردن ہندس فضیلتس کُن نظر کر تھہ تہنز فرمانبر داری کران۔ تمہ چھہ مردن ہندہ بروٹھہ کتہ نہ  
 آسہہ کس صورتس منز پتہ کس پانس تہ مردہ سبس ساری ماس راجھہ تہ حفاظت کران۔ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ

وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ  
فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿۳۴﴾  
وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ  
وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿۳۵﴾ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا

اللہ تعالیٰ سیدہ راجھہ کرنے سے توجہ کرنا کہ توفیق دہ دیتے۔ یا تھہ بدل کہ اللہ تعالیٰ ان کیا چھو  
تہندین حقون ہندہ حفاظتک امر کورمت مردن وَاللّٰی تَخَافُوْنَ نَشْوَاهُمْ پتھہ روزہ تمہہ زنانہ تمن  
ہندہ نافرمانی ہند توبہ اندیشہ آسہ قَوِّطُوهُنَّ ہنس کمر وگوڈہ تمن زبانی ہمیشہ نہ نصیحت وَاهْجُرُوهُنَّ  
فِي الْمَضَاجِعِ توپتہ کریوکھ الگ بستر ورتہ۔ یعنی پانس نشہ مہ دیوکھ شوکھنہ وَاضْرِبُوهُنَّ توپتہ لایوکھ۔  
مگر تھوی سمہ سیت نہ زخم لیکھہ یا کانہہ تان پٹھیکھہ۔ اعتدالہ سان۔ اتھہ منزچھہ ترہ درجہ (۱)  
نافرمانی ہندہ خوفہ نہ اندیشہ وقتہ گیہ ہمیشہ (۲) نافرمانی ظاہر سپدیکھہ وقتہ کبیرہ جدائی و تھرس اندر (۳)  
گرہ گرہ نافرمانی کرنس پٹھہ گوادہ لائنن فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ پس ہر گاہ تہنز فرمانبرداری کرنن فَلَا تَبْغُوا  
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ہنس مہ ڈھلڈ و تمن ناقظلم کرنے خیطرہ کانہہ و تھاہ نہ بہانہہ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا  
كَبِيرًا پنز پاتھہ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھہ تھودتہ بوڈ۔ تمسند علم نہ قدرت چھہ سیٹھہ بڈ۔ اگر تہہ تمن  
زنانن ناقظ تکلیف و اتنووہہ تیلہ کیاہ کرہ اللہ تعالیٰ نہ توبہ پنہ نافرمانی کرنے موکھہ گرفتار بلا و ان خِفْتُمْ  
شِقَاقَ بَيْنِهِمَا پس ہر گاہ کھوژو تہہ اے حاکمو یا سر پرستو تمن دون باژن ہندس زیادہ مخالفتس کنہ  
قسمہ اصلاح نہ سپدس فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا تیلہ سوزیوکھ تہہ مردہ سند یو  
رشتہ دار و اندرہ تہہ کھہ فیصلہ کرہ و ناہ نہ زنانہ ہند یورشتہ دار و اندرہ تہہ کھہ فیصلہ کرہ و ناہ تمن بیچ قابلیت  
آسہ إِنَّ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ہر گاہ تم دو شوے فیصلہ کرہ و ن سودلہ اصلاح سپدن  
آسن یرشان اللہ تعالیٰ دیہ توفیق ملہ ژار کرنک تمن دون باژن اندر إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا پز





أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا ﴿۳۸﴾ وَمَا ذَا  
عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ  
وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا ﴿۳۹﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يُظِلُّهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكَ  
حَسَنَةً يُضَعِفْهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۴۰﴾ فَكَيْفَ  
إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ﴿۴۱﴾

أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ بے تم لوک یم مال پئن خرچ کران چھ لوکن ہاونہ خیرہ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
بے چھنہ ایمان انان کنس خدا ایس وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ بے چھنہ پڑھ کران تمس دوہس یعنی قیامت  
وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا بے سمندر فیت تہ دوست شیطان آسہ۔ پس سیٹھاہ چھنہ  
چھو تھنہ دوست سو چھو تمن کاین ہند مشورہ دووان یکن کاین ہند سخت ضرر چھو وَمَا ذَا عَلَيْهِمْ  
بے کیاہ سنا نقصان گڑھہ ہامن کافرن لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ہر گاہ تم ایمان انہ ہن پڑھ کرہ ہن  
کنس خدا ایس بے قیامتہ کس دوہس وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ بے کرہ ہن خرچ سو مال نس اللہ تعالیٰ نے  
دیتمت اوسکھ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا اللہ تعالیٰ اس آس گوڈہ پیٹھے یہندہ نیک و بد چ پور خبر۔ تی  
موجب دیکھ سزا إِنَّ اللَّهَ لَا يُظِلُّهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ پڑ پٹھ اللہ تعالیٰ چھونہ ظلم کران کانہہ آس ذرّس  
برابر وَإِنْ تَكَ حَسَنَةً يُضَعِفْهَا بلکہ چھو تیوت رحمتہ وول کہ ہر گاہ با ایمان بندہ سز آسہ اکھ نیکی  
تتھ چھو اللہ تعالیٰ تمس واریاہ گن زیادہ ثواب عطا کران۔ وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا بے چھو پنہ  
طرفہ بطور انعام عملن ہندہ معاوضہ ورا ی بڈ مزور عطا کران۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ  
پس کیاہ سنا حال سپدہ ہمن کافرن ہند تمہ وقتہ سمہ وقتہ اس حاضر کروکھ پریتھہ اٹجہ طرفہ اکھہ اکھ گواہ۔  
یعنی پئن پئن پیغبر وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا جہہ تہ انودہ ہمن پنہ نین اٹتین ہند گواہ یار سول اللہ  
يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ كُونُوا فِي هَؤُلَاءِ يَوْمَئِذٍ يَوْمَئِذٍ

يَوْمَئِذٍ يَوْمَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصُوا الرَّسُولَ لَوْ سَأَلُوا  
 بِهِمُ الْأَرْضَ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ۖ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
 آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا  
 مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا  
 وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ  
 الْغَائِطِ أَوْ لَسْتُمْ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا

کہ تمنا کرنا کافر بیہ ہمو نا فرمانی کر پیغمبر برحقہ سنز ہر گئے تم ز میس منزد و برت۔ تمن بیٹھہ بیہ ہا زمین ہموار کرنہ۔ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا مگر تمہ سیت ماندیکہ کہہنہ پروردگار س نسیہ میکن نہ تم کا نہہ کتھاہ ژورہ تھاوتھہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ اے بالیمانوتہہ مہ آسو مستی تہ بے ہوشی اندر نماز پران۔ بلکہ آسو ٹھہران ٹوتان یوتان توہہ ہوش آسہ یوان۔ تہ زائن آسہ توہہ نگان کہ ٹہہ کیاہ چھوہ نمازہ منز پران۔ یاگو مطلب نماز پرچہہ جایہ مہ آسو نزدیک سپدان درحالت سُکرو بیہوشی۔ یعنی مسجدن منزمہ آسو اذان اتھہ حالس منز۔ (پہ آسہ کریمہ چھو شراب حرام سپدنہ بروٹھہ نازل سپدنت) وَلَا جُنُبًا بیہ مہ آسو بے غسلی ہندس حالس منز نماز پران إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ مگرے ٹھہرنہ وراى فقط چکن آسوہ مسجدہ منز حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا یوتان نہ غسل کران آسو وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ بیہ ہر گاہہ بہہ بیمار آسو ہتھہ بیماری اندر آب استعمال گرن مضر آسہ ٹھہدہ خیطرہ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ یا آسو مسافرہ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ یا بیہ توہہ اندرہ کاژشاہ بیت الخلاء نشہ فارغ سپدت، فضلات دفع کترتھہ۔ أَوْلَسْتُمْ النِّسَاءَ یا سپدوہتھہ نزدیک زمانن نشہ سمیہ سیت غسل چھوہہ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً کس لبونہ ہتھہ آب سمیہ سیت غسل یا طہارت کتر ہو۔ فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا کس قصدتہ ارادہ کتر و تھہ پاک میوہ ہند فَا مَسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ کس اکھ ژنڈ و نہ پتہ دیو پھش ٹھہن پنہ نین وَآيَاتِكُمْ دویم ژنڈ و تھہ دیو پھش نرین پنہ نین إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفْوًا غَفُورًا

صَعِيدًا طَيِّبًا فَاْمَسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَاَيْدِيكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ  
 عَفُوًّا غَفُوْرًا ﴿۳۳﴾ اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكُتُبِ  
 يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ ﴿۳۴﴾ وَاللّٰهُ  
 اَعْلَمُ بِاَعْدَائِكُمْ ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا ؕ وَكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا ﴿۳۵﴾  
 مِّنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا وَيُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهَا وَ  
 يَقُوْلُوْنَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاَسْمَعُ غَيْرُ مَسْمَعٍ وَّرَاعِنَا

پڑھا اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ عفو کرہ ون سیٹھاہ مغفرت کرہ ون۔ پس پروردگار سُنْدِ شَانِ یہ چھو، سو چھو  
 بدن پٹھہ سہل احکام نازل کران پس شخص نشہ آب دُور آسہ اگس میلس تَس چھہ تمم کر تک  
 اجازت۔ اَدہ سُو مسافر آستن یا مُقیم آستن شرعی میل گوڈور ساس اتھ یعنی زہ ساس گز اَلَمْ تَرَ اِلَى  
 الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكُتُبِ آیا وچھان چھوہ نامن لوکن گن تمن کتابہ منزہ یعنی توراحمہ علمہ منزہ  
 اکھ حصہ آودنہ یعنی یہ چھہ بنظر تعجب وچھسن لائق اکھ کتھاہ يَشْتَرُوْنَ الضَّلٰلَةَ مثل چھہ ہیوان تم  
 گراہی یعنی کُفر چھہ اختیار کران وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ تَضِلُّوا السَّبِيْلَ پانہ آس تم ڈلستی مگر تم چھہ  
 یرشھان تھہ تہ گدھو گراہ سہد تھہ سیزہ وتہ نشہ ڈلن۔ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِاَعْدَائِكُمْ بیہ چھو اللہ تعالیٰ آس پور  
 معلوم تھندین دُشمن ہند۔ یعنی تھند دُشمن کم چھہ توے چھو سُو توبہ آگاہ کران وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَلِيًّا کافی  
 چھو اللہ تعالیٰ تھند دوست تہ رفیق وَكَفٰى بِاللّٰهِ نَصِيْرًا اللہ تعالیٰ چھو کافی تھند مددگار مِّنَ الَّذِيْنَ  
 هَادُوْا وَيُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مَّوَاضِعِهَا تمن ہنز ذکر کر نہ آہ تم چھہ یہود و منزہ۔ تم تغیر دوان  
 چھہ توراتہ کین معاملاتن۔ ڈالان چھہ تمن کلماتن پنہ نیو حالو نشہ۔ معنیو تہ مطلبو نشہ وَيَقُوْلُوْنَ  
 سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاَسْمَعُ غَيْرُ مَسْمَعٍ وَّرَاعِنَا بیہ چھہ ونان بوزاسہ کتو سیت مگر مون نہ آسہ کہنہ۔  
 بوزتھہ بوزانومہ ایوبیہ کمر و سون رعایت لیکاً اَلْاَسْتِثْمُ تہ چیز چھہ ونان زیو پن گول مول  
 کتر تھہ۔ لہجہ بد لاوتھہ۔ لہجہ تحقیرہ بدل لہجہ توقیر کتر تھہ یٹھنہ لوکن فخرہ ترہ و طعناتی الدین بیہ دین

لَيَّا بِالْأَسْنَتِهِمْ وَطَعْنَا فِي الدِّينِ ط وَ لَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا  
 وَأَطَعْنَا وَأَسْمَعُ وَأَنْظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ وَ  
 لَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۳۷﴾  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آوَتُوا الْكُتُبَ آمِنُوا بَمَا نَزَّلْنَا مُصَدِّقًا لِمَا  
 مَعَكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَنْطِقَ وَجُوهًا فَزُدَّهَا عَلَى آذَانِهَا

اسلامس طعنه زنی کمر تھے۔ سم الفاظ آس سم یہود استعمال کران یمن زہ زہ معنی چھہ۔ آکھ معنی  
 تعریفک۔ بیاکھ معنی مذمتک مسلمان ڈھوکہ دنہ خیطرہ۔ مسلمان آس تعریفک معنی مراد یوزان۔ مگر  
 سم آس پنتہ جلیہ مذمتک معنی نوان۔ لفظ راعنا ہجور عالیہ اندرہ تہ رعوتہ اندرہ تہ۔ صحابہ صیب آس  
 رعایتک معنی یوزان۔ مگر سم یہود آس پنتہ جلیہ رعوتک معنی یوزان۔ بیاکھ معنی چھو آتھہ ”پہل“ سند۔  
 تمہہ خیطرہ آس تم سچ زیر ز شہرات پر ان رعینا یعنی ای سائہ پہلہ۔ گجہ راجھہ۔ امی سیت آس طعنے  
 دووان۔ نبی کر سم صلی اللہ علیہ وسلم گجہ راجھہ وان۔ بیہ آس دین اسلامس تہ طعنے دووان کہ یہ چھو  
 آس گجہ راجھہ سند دین۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان **وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا** ہر گاہ سم دنہ یمن یوز  
 آسہ بیہ مون آسہ **وَأَسْمَعُ وَأَنْظُرْنَا** بوزوحص سون۔ سانس حاس کن کمر و نظر لکان خیراً لہم  
 البتہ تی اوس جہندہ خیطرہ بہتر **وَأَقْوَمَ** بیہ اوس بی مناسب **وَلَكِنْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ** مگر  
 اللہ تعالیٰ ان کر سم پنتہ رحمتہ نغیرہ ہندہ حق تہ پوز پوشیدہ تھا ونہ سببہ دور **فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا** پس  
 ان نہ ایمان سم مگر کمی کہہ نہ لو کہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آوَتُوا الْكُتُبَ** ای تمولو کو تمین کتاب دنہ آسہ **آمِنُوا**  
**بِمَا نَزَّلْنَا** ایمان آو پڑھ کمر و تھہ کتابہ یوسہ آسہ نازل کمر **مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ** یوسہ کتاب  
 تصدیق کران چھہ تھہ کتابہ یوسہ توہہ سبت چھہ یعنی تورات **مِنْ قَبْلِ أَنْ نَنْطِقَ وَجُوهًا** سو وقت  
 واتنہ برو تھہ کہ آس کیا دموتغیر ٹہنزن سکلن نس آجھہ تہ نمبہ تھا و کھ نہ کنتہ تہ **فَزُدَّهَا عَلَى آذَانِهَا**  
 پس بنا و کہ آس چھہ تہند تھر ہی **أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعْنَا أَصْحَابَ السَّبْتِ** نتہ کرو کہ تڑھی لعنت پڑھہ بیہ

أَوْلَعْنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿۳۷﴾  
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ  
 يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا ﴿۳۸﴾  
 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن  
 يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ﴿۳۹﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى  
 اللَّهِ الْكَذِبَ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا ﴿۴۰﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ

وارہ والین لوکن کر تمن کمر اسہ واندرن ہنزہ خنزیرن ہنزہش شکل وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا خدایہ  
 سُنْدُئِسْ حُكْمٌ هُوَ صَادِرٌ سِوَا سُوِّ هُوَ ضَرُورٌ پُورہ سپدان إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ پزپاٹ اللہ  
 تعالیٰ ہجھونہ سزاوتھہ تہ مغفرت کران شرکس۔ تہس کیاہ ٹھہراوہ کانہہ شریک۔ بلکہ ہجھو مشرک دانہی  
 سزاس اندر بتلاء تھاوان وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ تمہہ وراہی ہجھو مغفرت کران سارنی گنہن  
 لو کٹن تہ بدین تہ۔ سزاوتہ وراہی تمہن بڑھہہ تہ تمن۔ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا  
 ئیس اکھاہ شریک ٹھہراوہ خدا ئیس۔ ئیس نتیجت نووراوہ تم گناہ سیٹھاہہڈ۔ یعنی سوسپدہڈہ جرمک مرکتب  
 ئیس نہ قابل مغفرتھی ہجھو۔ توتان یوتان نہ شرکہ نغیر ہتھہ روزہ تہ توبہ کرہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ  
 أَنفُسَهُمْ آیاوہجان ہجھکھنازہ تمن لوکن گن تم پن پان مقدس تہ پاک زانان چھہ۔ ہم پان پانس  
 تعریف کران چھہ۔ تمہہ سیت اندیکھہ نہ کہہنہ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ بلکہ ہجھو قابل تعریف سُوٰی  
 ئیس خدا پاک کرہ تہ مقدس وتہ۔ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ظلم بیہ نہ کرنہ کانہہ اگس تھہہ پنہ پیتئیس برابر  
 تہ ئیس خضر آنچہ ہندس سترس منز آسان ہجھو أَنْظِرْ كَيْفَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وچھہ تھہ  
 پاٹھہ چھہ ہم نووراوان کنئیس خدا ئیس پیٹھہ اپز۔ پن پان مقدس تہ پاک زانہ، سیت۔ باوجود کفر و شرک  
 چھہ ہم پن پان مقبول زانان۔ وَكَفَىٰ بِهِ إِثْمًا مُّبِينًا یکی تھہ چھہ کافی نئیس گنہس مبتلا آسنہ  
 خیطرہ۔ اتھہ گن نظر کمر تھہ ئیس عذاب تمہن کرنہ بیہ سُوِّ ہجھونہ بہندہ جرمہ کھوتہ کہہنہ تہ زیادہ۔ أَلَمْ

أَوْ تَوَانِصِيًّا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ  
 وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ  
 آمَنُوا سَبِيلًا ۝۵۱ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَنْ يَلْعَنِ  
 اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا ۝۵۲ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ  
 فَإِذَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا ۝۵۳ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ  
 عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ  
 إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا ۝۵۴

تَرَ إِلَى الَّذِينَ أَوْتُوا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ آیاد بھجان پھکھناژہ اے مخاطب تم لو کن کن تم ن کتابہ ہند یعنی تورا تک کہ حصہ عطا کر نہ آمت بھجو۔ مگر باوجود آل چھ تم یؤمنون بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ پڑھ کر ان قریش ہندین پوتیلن بیه شیطانس وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وناں چھ تم کافر ن خوش کر نہ خیطرہ هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا کہ کافر چھ زیادہ سیزہ وتہ پیٹھہ بالیمان ہندہ خوتہ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ سبے لو کہ کیاہ گے تم تم ن اللہ تعالیٰ ان لعنت کر سم پنیہ رحمتہ نشہ دور کرن وَمَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا بس اگس اللہ تعالیٰ لعنت کرہ بس لہ نہ نہ ژہ تمسندہ خیطرہ کانہہ مدد گارہ عذابہ وقتہ۔ أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّنَ الْمُلْكِ کہ تم چھ کتہہ قسمہ پادشاہت فَإِذَا الْيُوتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا تلہ تہ دہن نہ سم لو کن کہہ رتھہ تہ نقیر چھ وناں خضرہ آنچہ پیٹھ بس زاویل دیل چھ آسان أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ بلکہ بھجو تم ن یہود ن حسد لو کن ہند بالخصوص نبی کریمہ صلی اللہ علیہ وسلم بتھہ کتھہ پیٹھہ کہ تم ن گور اللہ تعالیٰ ان عطا پئ ن یوڈ فضل نبوت تہ رسالت بیه متعدد ازواج طاہرات فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا بس یہ نوکانہ کتھاہ چھہ۔ تحقیق اسہ کرنا عطا حضرت

فِيَهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ  
 سَعِيرًا ۝۵۵ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا كَلِمًا  
 نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِهَا لِنُهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ  
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝۵۶ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
 سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا  
 لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا ظِلْلِيلًا ۝۵۷ إِنَّ اللَّهَ

ابراہیمہ سندس خاندانس کتابت حکمت۔ یہ کثر اسمہ تمن بڈاشاہت عطا۔ تمن اندراوس حضرت  
 یوسف سے حضرت سلیمان تمن بڈسلطنت آس یہ حضرت داؤد یمن بے شمار نکاح آس **فِيَهُمْ مَنْ**  
**آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ** پس تموتہ وقتہ کیویہود واندہ آس اڈیو تمن پیغمبرن پڑھ کثر یہ  
 آس اڈیم کفر و انکار سی پیٹھ رود۔ تمن نشہ پھر کھ بٹھ۔ ہر گاہ وون از کہ وقتہ یہود سے توه پڑھ کر نہ  
 یار رسول اللہ تہہ مہ حض سپدو آزدہ۔ یہ بہنز نوکٹاہ جھنہ **وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا** کافی چھو جہنم تہہ  
 زانہ خیطرہ تمن سزادہ خیطرہ **إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصَلِّيهِمْ نَارًا** پڑپاٹھ سمو لوگو انکار  
 کورسائین آیاتن سے آکا من جلدی و اتا نوکھ اس تم نارس اندر **كَلِمًا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بِهَا لِنُهُمْ**  
**جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ** یلہ یلہ بز نہ اسمہ یوان سے دز تھہ اسمہ پیوان تھنز ژم۔ فوراً آسو کہ تھہ  
 ژمہ بدل بیا کہ ژم پیدہ کران تھہ وارہ آسن عذابک مزہ ژبان **إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا** پڑپاٹھ  
 اللہ تعالیٰ چھو غالب حکمتہ وول **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** سمو لوگو پڑھہ گر کنس خدا س یہ  
 تھندس پیغمبرس یہہ کریکھہ رثہ عملہ **سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ** جلدی و اتا نوکھ آس  
 تم تمن جشن اندر سمو منز جو یہ پکان آسن **خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا** تمنی جشن اندر روزن تم ہمیشہ **لَهُمْ فِيهَا**  
**أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ** تھندی خیطرہ آسن تمن جشن اندر پاک و پاکیزہ زنانہ **وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظِلِيلًا** یہہ و اتا نوکھ  
 آس تم ژتھس سائس تل **إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا** پڑپاٹھ ای باایمانو اللہ



يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَوَدُّوا الْأَمْنَتَ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذْ أَحْكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ  
 أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا  
 الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ  
 إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
 ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ

تعالیٰ چھو توبہ امر کران سمعوی کہ امانت و اتاود تمکس حدقارس وَإِذْ أَحْكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ  
 تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ بپہ چھو حکم کران اللہ تعالیٰ کہ یلہ تہہ لوگن منز فیصلہ کرن ہیوان آسو، سو فیصلہ آس  
 زیوہ عدلہ موجب کاسہ آسبز طرفداری و رای کران إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ پزپاٹ اللہ تعالیٰ سمہ  
 کتہہ ہنز توبہ فمابش تہ نصحت چھو کران کیاہ رکتھاہ چھہ سو إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا پزپاٹ  
 اللہ تعالیٰ چھو تہ سوزوی بوزون یہ تہہ امانت متعلق ونان چھوہ تہ سوزوی وچھہ ون یہ تہہ امانت کران  
 چھوہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ اے باایمانو! حکم خدایہ سُنْد بپہ پیغمبر خدایہ  
 سُنْد وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ بپہ تم توبہ منز یعنی مسلمان تہندہ حاکم آسن تمن ہند احکام تہ ملو فَإِنْ  
 تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ لیس اگر اختلاف سپدہ توبہ کتہہ امرس منز کتہہ یہ چھا خداو پیغمبر خدایہ سُنْد حکم کتہہ چھو  
 نہ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ لیس نیون سو معاملہ خدائیس تہ پیغمبر خدائیس نشہ تہ پیغمبر خدا کران  
 پائے تمیک فیصلہ یہ گوہدر سالتس اندر -- تمن پتہ کرو پیش ائمہ مجتہدین تہ علماء دین سو معاملہ۔ تم  
 کرن تمیوک فیصلہ قرآن و حدیث موجب إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ چھوے تہہ پڑھ  
 کران خدائیس بپہ پتمس دوہس یعنی قیاس ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا یہ اختلافہ وقتہ رجوع کرن  
 قرآن و حدیثس گن ای چھو بہتر یہ سیٹھاہ رت انجامہ کن۔ کیاہہ امیک نتیجہ چھو دنیاہ اس اندر آمن و  
 راحت تہ آخرتس اندر نجات و سعادت أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نَزَّلَ إِلَيْكَ وَمَا

أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا نُزِّلَ إِلَيْكَ وَمَا نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ  
 أَنْ يَتَّخِذُوا كَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا  
 بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضَلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿٦٠﴾  
 وَإِذِ اقْبَلْ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ  
 رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا ﴿٦١﴾ فَكَيْفَ إِذَا  
 أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ تُمْرَجُوا وَك  
 يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا أَحْسَانًا وَتَوْفِيقًا ﴿٦٢﴾ أُولَئِكَ

نُزِّلَ مِنْ قَبْلِكَ وچھان چھوہ ناٹھہ یار رسول اللہ تمن لوکن گن تم زیوہ سیت دعویٰ چھہ کران پڑھہ  
 کرنگ تھہ کتابہ یوسہ توہہ پڑھہ نازل آہہ کرنہ ہیہ یہ توہہ بروٹھہ نازل آو کرنہ یعنی تورات یُرِيدُونَ  
 أَنْ يَتَّخِذُوا كَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ باوجود آل چھہ تم ارادہ کران کہ فیصل بناؤن شیطانس وَقَدْ أُمِرُوا  
 أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ حالانکہ تمن ابو حکم کرنہ شیطانس انکار کرنگ۔ تھند نہ کانہہ چیز مانہ تک وَيُرِيدُ  
 الشَّيْطَانُ أَنْ يُضَلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا کیا زہ شیطان چھوہ پڑھان تمن سینٹا ز چھہ گمر اہی منز بتلا کرن  
 وَإِذِ اقْبَلْ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بیہ یلہ ونہ چھوہ یوان تمن ولور رجوع عکرو تھہ حکمس گن نئس اللہ  
 تعالیٰ ان نازل کور۔ وَإِلَى الرَّسُولِ بیہ کمر ورجوع پیغبر خدا نئس گن تم یہ فیصلہ کرن تی کمر و منظور  
 رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا وچھو کھہ تھہ یار رسول اللہ منافق تھہ ساتہ اعراض کران تہ  
 نچھہ پھر ان توہہ بروٹھہ گن بینہ نشہہ عجیب طریقہ فکفیف إِذَا أَصَابَتْهُمُ مُصِيبَةٌ نئس کیاہ سنا حال ہیہ  
 تھہ وقتہ یلہ تم گنہ مصیبتس گر فدا کرگنہن بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ تھہ ناجاز حرکتہ کہ شامتہ یوسہ  
 تمویہ مصیبت واتنہ بروٹھہ کر مژ آس۔ یعنی مقدمک فیصلہ کرناوہہ آس امتہ آگس کافر س نشہہ۔  
 تُمْرَجُوا وَك يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ تھہ پتہ من توہہ نش قسم ہاوان إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا أَحْسَانًا وَتَوْفِيقًا کہ اسہ اوس

الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَعِظُهُمْ  
 وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا ﴿۱۴﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ  
 رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ  
 جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ  
 لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿۱۵﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ  
 حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ  
 حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿۱۶﴾ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا

نه اراده امه آندره مگر رتوی۔ بیه اوس آسه اراده دون منزهه موافقت سپدن اولیک الذین یعلم الله  
 مَا فِي قُلُوبِهِمْ تم گے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی چھو زمانان جہندین وکن منزگمہ قسمک اتفاق تہ کفر چھو  
 فَأَعْرَضَ عَنْهُمْ وَعِظُهُمْ وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنْفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيغًا نہیں کردہہ تمن نشہ درگذر بیه کرئو کہ تمہ  
 حر کثر تراوچ نصیحت۔ بیه فرماوئو کہ پندہ جایہ موثر کلاماہ بیه حر کثر تراوس متعلق وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ  
 إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ بیه سوزنہ آسہ کانہہ پیغمبر اہ مگر بی خیطر ہہ جہند حکم بیه مانہ خدایہ سدہ حکمہ  
 سیت وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ بیه ساسہ سمونا فرمانی کر تھہ پندہ نین پانن ظلم کرئو و ہر گاہ  
 توہہ نشہ آسہ ہن آمت نادوم تہ پشیمان گڑھتھہ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ عَنْهُمْ مغفرت خدا نہیں  
 وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ بیه مگہ ہاہندہ خیطر ہ مغفرت پیغمبر برحق تہ یعنی تہہ تہ مگہ ہو تہندہ خیطر ہ  
 دعای مغفرت لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا البتہ لبہ ہن تم اللہ تعالیٰ اس توبہ قبول کرہ و ن تہ رحم  
 کرہ و ن فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ پس قسم چھو جہندس پروردگارہ  
 سندن ہرگز جہنہ تم ایمان یوتان نہ تھی اتھہ فیصلہ آسن کرہ ناوان پندہ نین تناز عن آندر ثُمَّ لَا يَجِدُوا  
 فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ توبتہ آسن نہ گنہ قسمہ دل تنگ سپدان تہندہ فیصلہ سیت وَيُسَلِّمُوا

عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ أَوْ أَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا  
فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ طَوَّلُوا لَهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ  
بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا ۶۷ وَإِذْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ  
لَدُنَّا آجْرًا عَظِيمًا ۶۸ وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۶۹  
وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ  
اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ  
وَحَسَنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا ۷۰ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى

تَسْلِيمًا بلکہ آس پورہ پاتھ سو فیصلہ مانان تہ تسلیم کران وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنْ اقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ  
أَوْ أَخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ بیہ ہر گاہ اس تمن کرم کہ مار یوکھ پان پن یا نیر و پنہ نیو شر و  
آندرہ مآ فَعَلُوا إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ تھے کھس کرہ پن نہ تعیل مگر تموا آندرہ کھی لوکھ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا  
مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيثًا بیہ ہر گاہ تم عمل کرہ پن تمن یصیحتن پیٹھ سمہ نصیحو  
تمن کرنہ چھہ یوان۔ البتہ سیٹھاہ جان اوس تہندہ خیطرہ۔ بیہ اوس زیادہ بہتر تہندہ ایما کھہ درہ رہ خیطرہ  
وَإِذْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ لَدُنَّا آجْرًا عَظِيمًا بیہ گرہ ہو تھے صورتس اندر اس تمن پننہ طرفہ بڈمزور عطا۔  
وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا بیہ باوہ ہو تھے اس ضرور و تھاہ سیز جنس وان۔ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ  
وَالرَّسُولَ بیہ تم لوکھ کرم مان خدایہ سندیہ پیغمبر خدایہ سُنْدُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ  
پس تھے لوکھ آس تھے جماعتس سیت یمن اللہ تعالیٰ ان پن انعام عطا اور مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ  
وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ تم گے حضرات انبیاء بیہ صدیق، بیہ شہداء۔ بیہ، نیکوکار۔ وَحَسَنَ أُولَئِكَ  
رَفِيقًا کیاہ رثہ چھہ تمن حضر اتن ہنز رفاقت ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ بیہ چھوہ خدایہ سندی فضل  
وَكَفَى بِاللَّهِ عِلْمًا پس چھو اللہ تعالیٰ ہی پور زان اول يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اخذُوا حذرکم ای

بِاللَّهِ عِلْمًا ۝ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خذُوا حِذْرَكُمْ فَانفِرُوا  
ثَبَاتٍ أَوْ انفِرُوا جَمِيعًا ۝ وَإِنْ مِنْكُمْ لَمَنْ لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ  
أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْنَا إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ  
شَهِدًا ۝ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولُنَّ كَأَنْ لَّمْ  
يَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَأْتِيَنِّي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ  
فَوْزًا عَظِيمًا ۝ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ  
الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۝ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

بايمانو چا و پڻ ڪرو تههيار۔ سلاح سامانه پڻ آسوپائس سيت تلان کانفروا ثبات اوانفروا جبعيا  
اوه آستونيران جماڙو جماڙو آستونيران اڪه وڏه گئي جماعت وان منكم لمن لبيبطنن بهه بهه  
پڙاهه توبه منزه بعضي تم ضرور جهاده خيتره نيرئس منزستي ڪران جهه۔ پتهه روزان جهه فان  
اصابتكم مصيبه توبه هر گاه توبه جهادس منزبههه تڪليف واتان جهه قال قد انعم الله على اذكم  
اكن معهم شهيدا وان جهوسو شخص تمه سانه پيشڪ خدا من ڪرميه پيڻه مهرباني كه به اوس نه جهاد  
ڪرنه درامت تمن سيت ولين اصابتكم فضل من الله ليقولنن توبه هر گاه نهه ڪانه فضلاه ته مهربانياه  
خدايه سنده طرفه واتان جهه يعني فتح ته غنيمت تمه سانه جهه وان كان لهن بينكم وبينه  
مودة زن نه توبه سيت ڪمبي تعلق جهس محبڪ مال آهه گو هئس پيڻه افسوس ڪر ته ياتيني كنت  
معهم فافوز فوزا عظيما ڪاش كه به ته آسما تمنى سيت۔ ميه ته سپهه هابڙ ڪاميابي حاصل۔ الله  
تعالى جهوس فرماون۔ بڙ ڪاميابي حاصل ڪرڻ ليله خواهش ڪانهه آسه فل يقاتل في سبيل الله الذين  
يشرون الحيوه الدنيا بالآخرة سو ڪرن تله جهاد خدايه سنزه و ته اندر۔ ڪلمه اسلامهه تهره خيتره۔  
نهایت ايماندارى ته اخلاصه سان، نفاق تراوتهه۔ تمن ڪافرن سيت تم دنيا چ زنگي جهه مثل بهوان

فَيَقْتُلُ أَوْ يَغْلِبُ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۴۳﴾ وَمَا لَكُمْ  
لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ  
وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا  
مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ  
لَدُنْكَ وَلِيًّا ﴿۴۴﴾ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا ﴿۴۵﴾  
الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا

آخر تس بدل وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا نِس اكهاه  
جماد كره خدایه سزوه و تہ اندر نِس بیہ مارنه یاسپده سوی غالب۔ دوشون حالتن اندر گزواس نِس عطا  
بدمزور آخر تس اندر وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بیہ کیاہ عذر چھو توہہ کہ تہہ چھوہ نہ جماد  
کران خدایہ سزوه و تہ اندر۔ حالانکہ جماد کرنگ سبب چھو موجود۔ سوگو گوونی پروردگار سہہ کلمہ کہہ  
تہزہرہ خیطرہ تمہ علاوہ چھو بیا کہ وجہ کہ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ  
يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا کمزور با ایمان ہندہ حفاظت خیطرہ تہ چھو  
جماد کرن ضروری۔ تمہہ تم کافرن ہندہ ظلمہ تہ ستمہ نشہ آزاد سپدن۔ ستمن منزکیہ نہہ مر دچھہ کہینہہ  
زنانہ چھہ تہ کہینہہ لوکت چھہ۔ ستم کافرن ہندیو ظلمو سببہ پریشان سپدن دُعا کران چھہ۔ بعا جزی منگان چھہ  
ای سائہ پروردگار اسہ کڈتہ ستمہ شہرہ اندرہ نمبر۔ ستمک لو کہ سخت ظالم چھہ۔ ستم اسہ رنگارنگ مضیبتن  
گرفار کران چھہ۔ وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا بیہ  
تلتن ژہ سانہ خیطرہ پنے طرفہ کانہہ دوستاہ۔ بیہ سوزتن ژہ سانہ خیطرہ پنے طرفہ کانہہ مدد گارہ نِس  
اسہ ستمن ظالمن ہندہ ظلمہ نشہ موکلاوہا۔ الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ستمو لو کو پورہ  
اسمان اولن کیش خدائس تم چھہ ستم احکام بو زتہہ جماد کران خدایہ سزوه و تہ اندر محض تہندی رضا  
خیطرہ۔ تہندہ گمہ کہہ تہزہرہ خیطرہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الظَّالِمِينَ ستمو عفر تہ انکار

يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاعُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۚ  
 إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا ۝۱۰۱ ۚ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ  
 لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ  
 عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ  
 اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْ  
 لَأَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ

کوہ تم جہہ جنگ کران شیطانہ سندہ خیطرہ یعنی کفر کہ غلبہ خیطرہ فقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ بس جہاد کور  
 جہہ ای با ایمانو شیطانہ سندہ یازن سیت یعنی کافر سیت۔ یقین تھا و کہہ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ  
 ضَعِيفًا بز پانہ شیطانہ سندہ چالہ ہتھ گوڈہ بیٹھے سٹتہ کزور۔ اَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا  
 أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ توہہ وہتھ دکھنا تم لو کہہ تمَن وندہ آیو جنگ مہ کور و اتھہ بن  
 رتو تمہ نعہ ہتھ۔ سر دست تم حکم توہہ کرنہ یوان ہتھہ تم پٹھہ کرو عمل۔ نماز پو پابندی سان بیہ دیو  
 زکوٰۃ۔ مگر تم آس بے تانی سان جہاد ک اجازت طلب کران فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ ادہ یلہ تمَن  
 پٹھہ جہاد فرض کرنہ آو إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ تمہہ وقتہ جاکھ جماعت  
 تمہوی اندرہ لو کن یعنی مکہ کین کافر ن تھوی کھوژنہ ہتھہ خدا بس شوہہ ہاکھوژن اَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً بلہہ  
 تمہہ خوتہ زیادے وَقَالُوا وَنَبِيٌّ لَكِ وَلَا سِيْرَتَ لَنَا سِيْرَتِ رَبِّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ خدا یا سہ پٹھہ  
 کیا زہ کوڑتھہ ژہ ون جہاد فرض لَوْ لَأَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ اسہ کونہ ڈرا ہتھہ ژہ مہلت کتہہ و قس  
 تام قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِمَنِ اتَّقَىٰ فرما و کہہ تہہ یار رسول اللہ دُنْيَا ک تمعہ چھو سیٹھاہ  
 کم۔ آخرت چھو سیٹھاہ بہتر تم ہندہ خیطرہ ہم خدا یہ سندہ ہا فرمانی نعہ ہتھہ روزن۔ سو آخرت حاصل  
 کرنہ خیطرہ چھو بہترین ذریعہ جہاد۔ وَلَا تظلمونَ قَتِيلًا توہہ ہر گز مٹھہ قسمک ظلم بیہ نہ کرنہ اگس  
 پنہ داوہ برابرہ۔ ایڈ عمل کرو مٹیوت بیو ثواب عطا کرنہ۔ عملو اندرہ چھو جہاد کرن خدا یہ سندہ رضا خیطرہ

خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝۷۰ اَيْنَ مَا تَكُونُوا  
يُذَرِكُمْ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ ۝۷۱ وَإِنْ تُصِبْهُمْ  
حَسَنَةٌ يُّقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ  
يّقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ ۝۷۲ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ۝۷۳ فَمَالِ  
هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا ۝۷۴ مَا أَصَابَكَ مِنْ  
حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ

بذعمل۔ امہ نشہ کیا زہ چھو کھہ پن پان محروم کران۔ کیا نہہ چھوہ مؤس سے مرئس کھو ژان موتہ خیطرہ  
نہس وقت مقرر کر نہ آمت چھو تمہ نشہ ہیجہ نہ کانہہ تہ پختہ این ما تکونوا یذریکم الموت ولو  
کنتم فی بروج مشیدہ بیہ آسوتہ تہ تہ، ضرور ولتہ توبہ موت اگرچہ آستوتہ چونہ مرئی سیت  
مضبوط تہ حکم کر نہ آمتین قلائن تہ مکان اندر وان تصبم حسنہ یقولوا ہذہ من عند اللہ بیہ  
ہر گاہ واتان ہجہ ثمن منافقن نعمتہ۔ وان ہجہ تمہ ساتہ نعت واثر از طرف خدا، اتفاقاً تہ مسلمان ہند  
طانت اوسنہ کنہی وان تصبم سیتہ یقولوا ہذہ من عندک بیہ یلہ واتان ہجہ ثمن کانہ سخیلہ  
ججس اندر تمہ ساتہ ہجہ دپان بیہ واثر نہ ٹہندہ طرفہ۔ ٹہندہ بے تدبیری سیت۔ گرن منز آس آرامہ  
سان خواخواہ کڈوہ گزواندرہ قل کل من عند اللہ ہجہ فرماؤ کھہ میون ہجھونہ اتھ اندر کنہی دخل۔  
سو زوی ہجھو خدایہ سدی طرفہ فمال ہؤلأ القوم لا یکادون یفقہون حدیثا نہس کیاہ گو تمکن  
منافقن تمکن ہجھنہ اکھ کتھ تہ تران فجرہ ما اصابک من حسنہ فمِن اللہ حقیقت چھہ ہی کہ اے  
انسان یہ کیہڑہاہ واتان ہجھوے ژیہ رت رت سو ہجھو خدایہ سبہ طرفہ سوی ہجھوے عطا کران پنہ  
فضلہ سیت وما اصابک من سیتہ فمِن نَفْسِکَ بیہ یہ کیہڑہاہ واتان ہجھوی ژیہ خراب تہ ہجھہ تہ  
ہجھوی پنہ نی طرفہ کیا زہ سبب تمیوک ہجھو چاہہ ہجھہ عملہ تہ نافرمانی وارسلناک للناکس رسولاً اسہ  
حض سوزوہ نہہ واقعی لو کن گن پیغمبر برحق۔ منافق تہ کافر متہ ماتن وکفی باللہ شہیداً نہس ہجھو



لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا ۝۹۰ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ  
فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۝  
وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ فَإِذَا بَرَأُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ  
مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ ۗ وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ  
عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ۝۹۱ أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ  
الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا

گواہ آہے کہہ ہند اللہ تعالیٰ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ جس اکھاہ حکم مانہ پیغمبر برحقہ سہد تہی  
مؤن حکم خدا لہ سہد۔ ہم نافرمانی کمر تہمز تم کر نافرمانی اللہ تعالیٰ سزہ۔ ہتھہ پاٹھہ اللہ تعالیٰ سزہ اطاعت  
کمرن عقلا تہ واجب ہتھہ ہتھہ پاٹھہ ہتھہ رسول کریمہ سزہ اطاعت کرن تہ عقلا واجب۔ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا  
أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا یہ جس اکھاہ ہتھہ پھر ہ تہ اعراض گرہ کمر تہ۔ ہتھہ مہ حض کھو تہمک غم۔ جس  
سوزہ نہ آہہ ہتھہ ہتھہ خیلر ہ راہتھہ کہ ہتھہ مہ دیو تہن ہر گز کھر کرنہ۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ یہ ہتھہ تم  
منافق ونان توہہ برو تھہ کنہ سان کام ہتھہ حکم مان۔ فرمانبر داری کرن فَاذَا بَرَأُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ  
طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ جس یلہ نیران ہتھہ توہہ نشہ رات کتت ہتھہ اکھ جماعت تہمؤ آندہ  
یعنی تہہہ زہہ تہہہہ فرماؤس بدل کرہ نگ مشورہ کران وَاللَّهُ يَكْتُبُ مَا يُبَيِّتُونَ اللہ تعالیٰ ہتھو  
لیکھان تہ سوزوی یہ تم راہتھتت توہہہ خلاف سازشہ کران ہتھہ موقعس پٹھہ دیکھہ سؤ خوب سزہ۔  
فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ جس مہ کرو تہہزن بے ہود گین گن کانہ خیال تہ التفات وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ہتھہ ہتھہ او  
یہ معاملہ خدا جس جس پٹھہ کردہہ اعتماد وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا جس ہتھو اللہ تعالیٰ تہہہ وکیل تہ کار ساز  
أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ کیا زہ ہتھہ ہم منافق تامل تہ غور کران قرآن مجید س اندر، اچ نفاحت و  
بلاغت و چھان۔ کوتاہ تہہہ درجہ ہتھو یہ فصیح و بلیغ۔ آتھہ منز ہتھہ تمہ خبرہ میہ چیز چ دلالت ہتھہ کران  
کہ ہتھو بیشک کلام خدا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا کثیرا ہر گاہ ہے یہ قرآن

كَثِيرًا ۞ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ  
 وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ  
 يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَتَبَعْتُمْ  
 الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا ۞ فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا  
 نَفْسَكَ وَحَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِ بِأَسِ الدِّينِ

مجید آسما خدائیس و رای یہ کہ نہ ہندہ طرفہ ضرور لہ من تم تلمہ تھہ منز واریاہ اختلاف باعتبار فصاحت و بلاغت تہ تہ پوشیدہ حالات بیان کر نکہ اعتبارہ تہ وَاذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ یہ بلکہ و اتان چھہ تم نلش کا نہ خبراہ ارج یا خوچ سنو خیر چھہ تم شائع کران تھقیقہ و رای۔ تھہ منز چھہ نیران واریاہ خبرہ بے بیاد تہ بے اصل وَاذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ہر گاہ بے سو معاملہ تم پیش کرہ ہن پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم نشہ یا تم لو کن نشہ تم تمواندرہ معاملہ شناس آس یعنی اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ البتہ زانہ ہن تم لو کھہ تم پورہ تحقیقات کرہ و ن چھہ تمواندرہ ارج حقیقت کیاہ چھہ تو پتہ یوسہ کھہ تم مشہور کرہ نس لایق زانہ ہن سنوا یہ ہا مشہور کر نہ۔ یوسہ کھہ نہ تھہ لایق آسما سو یہ ہا تھو ظ تھاونہ وَاذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوْ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ہر گاہ نے خدایہ سندیہ خاص فضل تہ رحمت توہہ پیٹھہ آسما کہ توہہ کورنورہ قرآن مجید عطا۔ توہہ گن سوزن ہن پیغمبر برحق تہ کرہ ہو تھہ ساری کم کینوہ و شخصو و رای شیطانہ سنز متابعت فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پس ای پیغمبر تھہ کمر و جہاد خدایہ سنزہ و تہ اندر۔ امیک مہ بحر و پروا لو کھہ نیر نہ توہہ سیت جہادس کنہ نہ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ توہہ چھونہ مگر پنہ لی کامہ ہنزہ ذمہ داری ہند تکلیف نہ یوان۔ لو کن ہنزہ کامہ ہنزہ چھہ توہہ پیٹھہ کا نہ تہ ذمہ داری وَحَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ تھہ دیو صرف ترغیب با ایمان جہاد کر نگ تو پتہ نیر تن جہاد کر نہ خیطرہ کا نہ یا مہ نیر تن تھہ سپدہ خدائیس نہ بری الذمہ۔ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَكْفِ بِأَسِ الدِّينِ كَفَرُوا شاید کہ اللہ تعالیٰ رطہ چھہ کافر ن ہند قوت،

كَفَرُوا وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا ﴿۸۴﴾ مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً  
 حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ  
 لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيبًا ﴿۸۵﴾ وَإِذْ أَحْبَبْتُمْ  
 بَنِي إِسْرَائِيلَ فَحَبَّوْا بِأَحْسَنِ مِثْلِهَا أُورُودُ وَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ  
 كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا ﴿۸۶﴾ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ  
 الْقِيَامَةِ لِأَرْيَبَ فِيهِ ط وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا ۚ ﴿۸۷﴾

طاقت تہ زور و اللہ اشد باسا کبارہ اللہ تعالیٰ چھو زیادہ سخت زورہ کن تہ طاقتہ کن و اشد تنکیلا بیہ  
 چھو زیادہ سخت عذاب کرنہ کن تا فرماں مَنْ يَشْفَعُ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا نَسِيبٌ مِّنْهَا نَسِيبٌ  
 نَسِيبٌ مِّنْهَا نَسِيبٌ مِّنْهَا نَسِيبٌ مِّنْهَا نَسِيبٌ مِّنْهَا نَسِيبٌ مِّنْهَا نَسِيبٌ مِّنْهَا نَسِيبٌ مِّنْهَا نَسِيبٌ مِّنْهَا  
 شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا بیہ نَسِيبٌ مِّنْهَا نَسِيبٌ مِّنْهَا نَسِيبٌ مِّنْهَا نَسِيبٌ مِّنْهَا نَسِيبٌ مِّنْهَا  
 آسہ تمجہ سزا ک آھ حصہ آخر نَسِيبٌ مِّنْهَا نَسِيبٌ مِّنْهَا نَسِيبٌ مِّنْهَا نَسِيبٌ مِّنْهَا نَسِيبٌ مِّنْهَا نَسِيبٌ مِّنْهَا  
 طاقتہ وول۔ سو چھو پختہ قدر تہ سیت نیکی پختہ ثواب عطا کران تہ بدی پختہ سزا ووان۔ وَإِذْ أَحْبَبْتُمْ  
 بَنِي إِسْرَائِيلَ فَحَبَّوْا بِأَحْسَنِ مِثْلِهَا أُورُودُ وَهَا بیہ یلہ آسہ تو بہ ای مسلمانو تعظیم تہ سلام یوان کرنہ نَسِيبٌ مِّنْهَا  
 تہہ تمیوک جواب ووان تمہ خوتہ رتہ طریقہ۔ تہ تہ توتہ تمہہ ہیو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا  
 بے شک اللہ تعالیٰ چھو پختہ چیزس پختہ باز خواست کرہ و ن تہ حساب ہیو و ن اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
 معبود برحق گوسوی کہ کانہہ معبوداہ چھونہ نَسِيبٌ مِّنْهَا نَسِيبٌ مِّنْهَا نَسِيبٌ مِّنْهَا نَسِيبٌ مِّنْهَا نَسِيبٌ مِّنْهَا  
 تو بہ سارنی قیامتک دہہ لَرَيَبَ فِيهِ کانہہ شکاہ چھونہ تمہہ کس واقعہ سپد نَسِيبٌ مِّنْهَا نَسِيبٌ مِّنْهَا  
 اللہ حدیثا بیہ کہہ آکھاہ چھو خدایہ سدہ خوتہ زیادہ پزیر کلام فرمائس اندر۔ مکہ کیو مثر گو اندرہ آکھ  
 جماعتھاہ آیہ مدینہ متورہ جموی کور ظاہر کہہ آس آی مسلمان سپد تہ ہجرت کرت۔ تو پتہ گئے بیہ  
 وائس جیلہ کوز کہ آس انو تورہ مال تجارت تو پتہ آی نہ وائس کہینہ تہ تہ سپد مر تہ۔ تمن معلق سپزہ

فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنْفِقِينَ فِتْنِينَ وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا  
 أَتْرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَنْ يُضِلِّ اللَّهُ  
 فَلَنْ يَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۝ وَذُؤَالُو تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا  
 فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ حَتَّىٰ يَهَاجَرُوا  
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ  
 وَجَدْتُمُوهُمْ وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وِلِيَاءَ وَلَا نَصِيرًا ۝ إِلَّا

مسلمانان زہ جمائے۔ آڈیو دوپ تم چھہ کافر آڈیو دوپ نہ تم چھہ مسلمان۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان تم چھہ  
 واقعی کافر ای مسلمانو چھہ کیا زہ چھوہ اختلاف کران اتھہ منز **فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنْفِقِينَ فِتْنِينَ** ای  
 مسلمانو کس کیاہ سپدوہ توہہ۔ منافقن ہندس معاملس منز کیا زہ گیہ توہہ اندر زہ جمائے۔ اکہ جماعت چھہ  
 دپان تم چھہ کافر۔ بیا کہ جماعت چھہ دپان تم چھہ مسلمان مشتق سپدوہ ہندس کافر آس پیٹھہ۔ **وَاللَّهُ  
 أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا** اللہ تعالیٰ ان پھر تم واپس گھر س گن۔ پنہ نیو چھہ عملو سببہ **أَتْرِيدُونَ أَنْ تَهْدُوا  
 مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ** کیاہ چھہ چھوہ یرھان و تھہ ہاون تمن سمن و تھہ راوہ راوہ اللہ تعالیٰ ان **وَمَنْ يُضِلِّ  
 اللَّهُ** فلن یجد لہ سبیل کس و تھہ راوہ راوہ اللہ تعالیٰ تسدہ خیطرہ لبوہ نہ چھہ کانہہ و تھہ با ایمان بندہ  
**وَذُؤَالُو تَكْفُرُونَ كَمَا كَفَرُوا** تم کیاہ آسن مومن بلکہ چھہ تھندہ دلچ خواہش کہ ہر گاہ چھہ تہ  
 ہو کافر تھہ پاتھہ تم کافر چھہ **فَتَكُونُونَ سَوَاءً** کس بندہ ہو چھہ ساری معاذ اللہ برابر گھر س اندر وون  
 یلہ ہند خیال توہہ نسبت یہ چھو **فَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ** پس مہ بناویون تمن اندرہ کانہہ پن  
 دوست تیار **حَتَّىٰ يَهَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ** یوتان نہ تم بیہ ہجرت کرن محض خدایہ سدہ رضا خیطرہ  
**وَأَنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوهُمْ وَأَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ** پس اگر تم اسلامہ نشہ اعراض کرن چھہ  
 پھرن۔ گھر سی پیٹھہ بدستور روزن۔ تلہ ریو کہ تہ مار یو کہ تیس پنیہ تہ تیس **وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ  
 وِلِيَاءَ وَلَا نَصِيرًا** ہر گزمہ بناویون تمو اندرہ کانہہ اکھانہ دوست تہ نہ مددگار۔ تمن نشہ روزو بالکل



الْفِتْنَةَ أُرْكَسُوا فِيهَا فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ  
السَّلَامَ وَيَكْفُرُوا أَيْدِيَهُمْ فَاخْذُوا مِنْهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ  
تَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا ۝۱۱  
وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَاً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً  
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِن  
كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوًّا لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن  
كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَ

يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمْ السَّلَامَ وَيَكْفُرُوا أَيْدِيَهُمْ ہنس ہر گاہ تم توہمہ نش الگ روزن نہ پیغام  
صلح سوزن نہ۔ آتھہ بن ہتھہ رثن نہ۔ فَاخْذُوا مِنْهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ تَقِفْتُمُوهُمْ تلمہ کر یو کہ تم گم گرفتار  
بیہ مار یو کہ ہتس پیوہہ تہ تتس وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُّبِينًا سم امہ قسملہ لو کہ یہ ہدہ  
خیطر ہہ ڈر اسہ توہہ دلپلاہ صاف تہ روشن رٹس تہ قتل کر نس پیٹھہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا  
إِلَّا خَطَاً بیہ چھو نہ جائز کانہہ با ایمانس سو کیاہ مارہ کانہہ با ایمانس مگرے وشفہ پاٹھہ بغلطی کانہہ کانہہ  
مارہ تمیک حکم چھو بیہ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ ہنس اکھاہ کانہہ  
با ایمانس بغلطی مارہ، قتل کرہ تسد گدھہ اکھ با ایمان غلام یا کنیز آزاد کرن۔ بیہ گدھہ خون بہادسن مشقولہ  
سدین وارثن کن وراثتہ کہ حصہ موجب إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا مگرے تم مشقولہ سد وراثت معاف کرن  
سوزوی یا کانہہ حصہ تمہہ منزہ تلمہ نہ کینہہ فَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوًّا لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ہنس ہر گاہ مشقول  
آسہ دشمن ہدہ قومہ منزہ مگر آسہ سو مشقول پانہہ با ایمان فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ تلمہ چھو قاتلس پیٹھہ مہ  
صرف با ایمان غلام آزاد کرن بیہ نہ کینہہ وَإِن كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ہر گاہ مشقول آسہ تمہہ  
قومگ سم سن سیت توہہ عمد و بیان آسہ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ تلمہ چھو قاتلس

تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۚ  
 تَوْبَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۹۲﴾ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَدِّلاً  
 فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ  
 عَذَابًا عَظِيماً ﴿۹۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
 فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ  
 عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ كَثِيرَةٌ ۖ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ

پیٹھے منہ اکھ ٹھون بہا دین مقتولہ سندین وارثن کن بیہ بالیمان غلام آزاد کرن فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ  
 شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ دین تمس نہ غلام آزاد کرن میسر سپدہ تمسند گروہہ دون۔ ریتن پے در پے روزہ  
 دارروزن تَوْبَةٌ مِّنَ اللَّهِ یہ مٹھو اللہ تعالیٰ سدہ طرفہ تہمدہ حقہ توبہ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ  
 چھو سوزی زان وول بو ذحمتہ وول۔ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَدِّلاً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا بیہ نُس اکھاہ قتل  
 کرہ کانسہ بالیماس دیدہ ودائستہ تمسند سزا چھونار جہنم۔ تھہ منز روزہ ہمیشہ ابد الآباد وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيماً بیہ چھو نُس پیٹھے غضب خدا، بیہ لعنت خدا، بیہ چھو تہمدہ خیطرہ تھاومت تم  
 تیار بو ذعذاب يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ای بالیمان اولیہ تہہ سفر آسو کران خدایہ  
 سنزہ و تہ اندر یعنی جہاد کرہ آسو نیران فَتَبَيَّنُوا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْفَىٰ إِلَيْكُمْ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا پس  
 تحقیق آسو کران بیہ مہ آسو تم ن تم توبہ اسلامی سلام کرن یا کلمہ شریف برن سمہ سیت تہمد  
 مسلمان اُن ظاہر سپدہ زورہ و نان کہ تہہ چھوہ نہ دلہ گن مسلمان تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تہہ  
 حاکس منز کہ تہہ آسو ژھانڈان دُنیا چہ زندگی ہند سامان مال غنیمت حاصل کرنہ سیت فَعِنْدَ اللَّهِ مَغَانِمٌ  
 کثیرہ ۹۲ جس اللہ تعالیٰ سی تھہ چھو پشمار مال سوی کونہ کمرو تہہ جائیز طریقہ حاصل ناجائز طریقہ دُنیا ک  
 مال حاصل کرن چھو ناجائز کَذَلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ تہمد حال تہہ اوس تھوی یعنی اسلامہ کلمہ ورا ی  
 اوسنہ توبہ اسلامگ کانہہ علامتھا فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ اللَّهُ عَلَيْهِ كَمُ

قَبْلُ فَمَنْ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوا إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿۹۶﴾  
 لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ  
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ  
 بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ  
 الْحُسْنَىٰ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۹۷﴾  
 دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً ط وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
 رَّحِيمًا ﴿۹۸﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي

توفیق دہ سیت فَبَيَّنُوا پس آسوجہ وارہ تحقیق کران کہ تمکن لوکن ہند حال کیاہ ہجو۔ تم چھاؤ شمن  
 کنہ دوست۔ ہرہ مرہ گڑھہ نہ کنہ قومس پیٹھ حملہ کرن۔ بیہ کمر و غور کہ ٹہز حالت نہ آس ابتداء س اندر  
 یہ ہی اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا پڑیاہ اللہ تعالیٰ چھو پوزانان یہ جہہ کران چھوہ لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ  
 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ اُولِي الضَّرَرِ جھنہ برابر باایمانو اندرہ تم تمکنہ عذرہ دوراکی جمادس نیرنہ لغیرہ ہتھہ روزن۔  
 وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ بیہ تم محض خدلیہ سہہ خیطرہ مال وجانہ سیت جماد  
 کرن۔ فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً فضیلت دیت خداین مال و  
 جانہ سیت جماد کرہ ونین، جمادہ لغیرہ ہتھہ روزہ ونین لغیرہ درجس نہ مرتبس منزر وکُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ  
 اگرچہ دو شون چھو اللہ تعالیٰ اَنْ رتہ ثوابک وعدہ عطا کورمت ایمانہ سبہ و فَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى  
 الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا مگر فضیلت دیت خداین جماد کرہ ونین تمہہ لغیرہ ہتھہ روزہ ونین پیٹھہ جہہ مزدہ سیت  
 دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً تم چھہ پروردگارہ سہہ طرفہ درجات تم سوتمن عطا کرہہ بیہ  
 گزرن تم عطا مغفرت نہ رحمت۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ ون  
 سیتھاہ رحم کرہ ون إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ



أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ  
 فِي الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا  
 فِيهَا فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿۹۰﴾  
 إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ  
 لَاسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا ﴿۹۱﴾  
 فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ ط وَكَانَ اللَّهُ

ہز پاشہ علیہ تمن گره بہہ وینن، جمادس نہ نیرہ وینن، سمو پان پانس ظلم کور ترک ہجرت کرنہ سیت قبض  
 روح کرنہ خیطرہ ملایک یو ان چھہ۔ تم چھکھہ پر ژھان جہہ کتھہ حالس منز آسوہ قَالُوا كُنَّا  
 مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ تم چھکھہ جواب دو ان آس کمزوری تہ بے ہسی ہندس حالس اندر۔  
 دشمن ہندہ خوفہ آس نہ ہیکان پنہ نین اسلامی عقایدن پیٹھہ عمل کترت۔ ضروریات دین تہ شعایر  
 اسلام بجاکتھہ قَالُوا ملایک چھکھہ دپان اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا کیاہ خدایہ  
 سُنْد زین او سنا کھول۔ جہہ ہیچہ ہونا بیہ کُنہ جایہ کُن ہجرت کترتھہ تمن پھورنہ امیک جواب۔ قَالُوا لَئِنْ  
 مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا بس تمن لو کن ہنز جای چھہ جہنم۔ کاژاہ پتھہ جایا چھہ سو تہندہ  
 واتنہ خیطرہ إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانَ مگر چھہ مُسْتَضْعَفِينَ امہ نشہ تم سم  
 واقعی کمزورنہ ہیچہ ون آسن۔ مردو آندرہ زنا نو آندرہ تہ لو کئیو شر یو آندرہ لَاسْتَطِيعُونَ حِيلَةً  
 وَلَا يَهْتَدُونَ سَبِيلًا سم نہ ہیچہ کن عُنہ حیلہ سیت امہ شرہ آندرہ ثرت نہ ایہ ہا تمن کا نہہ و تھاہ  
 ژاکنہ خیطرہ وتہ نشہ بے خبری سببہ قَالُوا لَئِنْ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُو عَنْهُمْ بس تم سم چھہ تہندہ  
 چھہ چھہ امید کہ اللہ تعالیٰ کرہ تمن معاف وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ معاف  
 کرہ ون سیٹھاہ مغفرت کرہ ون وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرْعَبًا  
 كَثِيرًا وَسِعَةً بیہ بس اکھاہ ہجرت کرہ خدایہ سزہ وتہ آندر سولہہ زینس آندر واریاہ جای بسنہ

عَفْوًا غَفُورًا ۹۹ وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ  
 فِي الْأَرْضِ مَرْغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً ۖ وَمَنْ يَخْرُجْ  
 مِنْ أَبِيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ  
 الْوَيْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا  
 رَحِيمًا ۱۰۰ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ  
 جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ۖ إِنَّ خِفَتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ  
 الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِنَّ الْكُفْرَانَ كَانُوا كَالْمُغْتَابِ ۱۰۱

خاطر، وسیع جای گذاره معاشره خیرہ و مَنْ یُخْرُجُ مِنْ أَبِيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ  
 کس اکھاہ در او پندہ وطنہ منزہ ہجرت کر تھہ خدا کس تہ ہندس رسول کس تھہ یُدْرِكُهُ الْوَيْتُ تو  
 پتہ پتہ کس اتھہ کس منز مرگ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ بیگ تمسز مرور تہ ثواب سپد منہ  
 خدائس وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ تعالیٰ پھو سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون  
 وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ۖ پتہ یلہ تھہ تھہ  
 سفرس نیران آسوا ی بالہما نو کس پھونہ کانہہ خرچ توہہ ہر گاہ تھہ نمازہ ہندین رکعتین کمی کثرو۔ ثورن  
 رکعتن نمازہ بدلہ پیروزی رکعت۔ سوگنیہ پشمن نماز، وگر نماز تہ حقن نماز۔ تمہورای سمہ نمازہ ثور و  
 رکعتو خوتہ کم چھہ تمہہ گیمہ صبح نماز تہ شام نماز۔ تمہہ چھہ برابر پتہ نسی کس پٹھہ تھاوینہ۔ صبح زہ رکعت  
 فرض۔ شام ترے رکعت فرض۔ سنت پھو اختیاری آؤ موقعہ ہرن آؤنہ موقعہ تراون۔ تمہہ پھونہ  
 کانہہ باز خواست إِنَّ خِفَتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ ہر گاہ توہہ خوف آسہ کافر ن تہ دشمن ہندہ  
 پریشان کر نک إِنَّ الْكُفْرَانَ كَانُوا كَالْمُغْتَابِ ۖ پزپاٹ کافر چھہ ہمیشہ ہندین دشمن وَإِذَا  
 كُنْتُمْ فِيهِمْ کس یلہ تھہ تھمن منز تشریف تھاوین آسویا رسول اللہ یا توہہ پتہ کس امام آسہ فوجک

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلِيَأْخُذُوا وَإِذَا رَأَوْهُمُ وَادَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ

فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ توپے تہہ ارادہ کرو تم نمازہ پڑھنا تو تم نے فلتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ پس و تھن اٹھ جماعت تم پر ن توہرہ سیت نماز و لِيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ یہ رن تم سلاح پٹن پائس سیت وَاذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ پس یلہ تم اٹھ رکعت پرن تم نیرن توہرہ پٹھن نگرانی تہ پھرہ و نہ خیرہ و لَتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ اٹھ جلیہ کین دویم جماعت لَمْ يُصَلُّوا سمونہ و نہ نماز ادا کر فليُصَلُّوا مَعَكَ پس پر ن تم نماز مسبوق بنت توہرہ سیت و لِيَأْخُذُوا وَإِذَا رَأَوْهُمُ وَأَسْلِحَتَهُمْ تم تہ رن پائس سیت پٹن سلاح سامانہ کیاڑہ نمازہ منزے مایہ دشن سیت مقابلہ کرن۔ وَاذ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ کیاڑہ کافر ن ہنز خواہش پٹھہ ہر گاہ تہہ سلاح سامانہ نشہ کٹہ وقتہ بے خبر سپد ہو۔ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً تم کرہ ہن تمہہ ساتہ توہرہ پٹھہ کوی حملہ۔ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ یہ پٹھونہ توہرہ کانہہ گناہ ہر گاہ توہرہ روڈک، بارشہ ہند کانہہ تکلیف آسہ یا آسوتہہ بیمار تمہہ ساتہ کیاہ مؤرا و وجہہ سلاح وَاخُذُوا وَإِذَا رَأَوْهُمُ وَادَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعْلَمُ بِاللَّذِينَ عَدَابًا

وَحُذُوا حَذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ آعَدَ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ﴿۱۲۰﴾  
 فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا  
 وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ  
 الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴿۱۲۱﴾ وَلَا  
 تَهْنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِنْ تَكُونُوا تَأْمُونًا فَإِنَّهُمْ  
 يَأْمُونُونَ كَمَا تَأْمُونُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ ۗ

مُهِينًا یعنی پایش اللہ تعالیٰ آن چھو تیار تھوومت کافران ہندہ خیرہ خوارتہ ذلیل کرہون عذاب فَاذَا  
 قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَمًا وَقَعُودًا کس یلہ جہہ نماز خوف موکلاو کس کمر و خدایہ سُنَد  
 یادووتھتہ تہ سہ بہتہ تہ وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ بیہ کر تراوت تہ غرض پریتھہ کس اندر روزو مشغول  
 بذکر الہی۔ نمازہ منز اوس تھتف مگر ذکر خدا چھو پریتھہ کس منز برابر فَاذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا  
 الصَّلَاةَ کس یلہ توہہ خوف دور سپد تھہ اطمینان حاصل سپدہ۔ یاسفر ختم سپد تھہ پنہ نس شہرس منز واتو  
 تہ مقیم سپدو کس تھادو برپا نماز قائمہ موجب۔ حسب معمول إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  
 كِتَابًا مَوْقُوتًا کیازہ پیر پاٹ نماز چھہ فرض تہ ملہ بالیمان پیٹھہ و قیچہ پابندی سان۔ کس چھہ نماز  
 فرض آسنہ موکھ ادا کرن لازم وقت مقرر کرنہ آسہ آسنہ موکھ پنہ نس و نفس پیٹھہ ادا کرن ضروری تہ  
 لازم وَلَا تَهْنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ بیہ منہ آسو سستی تہ کوتاہی کران دشمن پتہ لارنس اندر تھکنہ  
 کہ سببہ إِنْ تَكُونُوا تَأْمُونًا فَإِنَّهُمْ يَأْمُونُونَ كَمَا تَأْمُونُونَ ہر گاہ تھہ دود تہ دگ محسوس چھوہ  
 کران زخم تہ چھوگن ہندہ وجہہ تھند دشمن تہ چھو چھو کن تہ زخم ہنز دگ محسوس کران تھندی پاٹھہ  
 مگر تھن کونہ چھہ سستی تہ کوتاہی کرہ تھان حالانچہ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ تھہ چھوہ خدا بس نشہ  
 تھی بدہ تو ایک امید وار تھنہ تھن کا نہہ برانتھاہ چھہ نہ امہ موکھ گدوہوہ تھہ زیادہ چست و چالاک آسن  
 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ چھو سوزی زانہون سیٹھہ حکمتہ وول إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ

وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۱۰۳ اِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ  
بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۷ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ۱۰۵  
وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۱۰۶ وَلَا تَجَادِلْ  
عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ  
كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا ۱۰۷ لَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا  
يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى  
مِنَ الْقَوْلِ ۷ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۱۰۸ هَٰئِنْتُمْ

بِالْحَقِّ لَتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ ۷ پز پائمه نازل کر اسه توبه پيٹھ به کتاب قرآن مجيد پوز حکم  
پيٹھ۔ پيٹھ تبه فيصله کرو لو کن منزحی موجب به به توبه الله تعالى ان بذريعه وحى هو و نه يو و وَلَا تَكُنْ  
لِلْخَائِبِينَ خَصِيمًا ۱۰۵ به به حض سپد و تبه خيانت کره و نين به طرفدار ۷ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهُ به منگو  
خدائس مغفرت ۷ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۱۰۶ بيٹک الله تعالى پيٹھ سيٹھاه مغفرت کره و ن سيٹھاه رحم  
کره و ن وَلَا تَجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ ۱۰۷ تبه به حض کر و جواب دهی تمن لو کن به به  
طرفه تم خيانت به به کر ان، نقصان به به و اتنا و ان پان پانس ۷ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ خَوَانًا أَثِيمًا  
پز پائٹ الله تعالى پيٹھ نه پسند کر ان کس کس يو و خيانت کره و ن آبه کس يو و خطا کار آبه  
يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ ۱۰۷ تم لو که به به به بن خيانت لو کن نشيه منده  
به به به که ان مگر خدائس نشيه به به منده چهان نه که ان ۷ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ  
حال به سو پيٹھ تمن پر به به و قه سبت سبت آسان خصوصاً سمه سابه رات کيوت تدبير سو پيٹس متعلق تم  
کتبه کر ان به به تمن نه سورا ضي پيٹھ ۷ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا ۱۰۸ الله تعالى پيٹھ تهنن سارنى  
کابين پنه علم و اطلاع سبت احاطه کر تبه۔ تهنده علمه نير به به به که نه که نه که ما به هَٰئِنْتُمْ هَٰؤُلَاءِ جَادَلْتُمْ

هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل  
الله عنهم يوم القيمة أمر من يكون عليهم وكيلًا ۱۰۹  
من يعمل سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد  
الله غفورًا رحيمًا ۱۱۰ ومن يكسب إثمًا فإنا يكسبه على  
نفسه ۱۱۱ وكان الله عليما حكيما ۱۱۲ ومن يكسب خيبة  
أو إثما ثم يرمه بريًا فقد أحتمل بهتانًا وإثما مبينًا ۱۱۳  
ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لهتت طائفة منهم

عَنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ای مسلمانو جنہ گوتے تم جو اب دہی چھوہ کران مجر من ہندہ طرف یتہ دنیاچہ  
زندگی اندر فَمَنْ يُجَادِلُ اللَّهَ عَنْهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جنہ وننو قیامتک وہہ گس کرہ جواب دہی جنہدہ  
طرفہ خدائس نشہ اَمَمَنْ يَكُونُ عَلَيْهِمْ وَكَيْلًا نتہ کس کوہ سانبہ وکیل جنہدہ طرفہ خدائس نشہ وَمَنْ  
يَعْمَلُ سُوءًا اَوْ يَظْلِمُ نَفْسَهُ بیہ نئس اکھاہ کانہہ پیچھہ کاماہ کرہ۔ سمیک ضرر ہیئس ولتہ نتہ کرہ ظلم پان  
پانس۔ یعنی سمیک ضرر اس پانسی ولتہ ثُمَّ يَسْتَغْفِرُ اللَّهَ توپتہ معہ مغفرت اللہ تعالی اس تمہ گناہہ  
نشہ يَجِدُ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا سولہ اللہ تعالی اس سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون وَمَنْ  
يَكْسِبُ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ بیہ نئس اکھاہ کانہہ پیچھہ کاماہ چھوہ کماوان سو چھوہ کماوان کینہہ مگر  
پنہ نئس پانس پیٹھہ بڈ خرابی وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالی چھوہ سوروی زانہ ون سارنی کاین  
اندر سیٹھاہ حمتہ وول وَمَنْ يَكْسِبُ خَيْبَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْمِيهِ بَرِيًّا وَن نئس اکھاہ کانہہ گناہانہ  
زانٹھہ یازانٹھہ کرہ پانہ توپتہ لاکہ تج ہانٹھہ کانہہ بے گنہس فَقَدْ اِحْتَمَلَ بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُبِينًا نئس تھتھق تم  
کھور پنتہ گردنہ پیٹھہ اپڑیک تہ نتہ گنہگ اکھ بوڈ بوراہ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ بیہ ہر گز نئ  
خدا یہ سڈ بوڈ فضل تہ بڈر حمت توہرہ شامل حال آسا لھنتت طائفة منهم اَنْ يُضِلُّوكَ البتہ تمبو

أَنْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكُمْ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُونَ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَظِيمًا ﴿۱۳۱﴾  
 لِأَخَيْرٍ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۱۳۲﴾ وَمَنْ

آندره اک جماعتن کر یو محنته اراده توبه ڈالنه خيتره، غلطی اندر تراونه خيتره وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكُمْ مِنْ شَيْءٍ ڈالنه بن نه گراه کره بن نه تم مگر پنه بے پان۔ تبه بيه نو نه کاننه ضرر نه نقصان و اتاوت پنه نیو چالاکیو اندره عننه چیزه سیت وَأَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكُم مَّا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُونَ کيازه الله تعالیٰ ان سوز توبه پیٹھے یہ کتاب (قرآن مجید) بیه پچھے ناو نو تبه عقله هنزه کنه۔ بیه پچھے ناو نو تبه تمه تمه کنه سمه نه تبه زانهو بروئنه وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ عَظِيمًا ہمیشہ رُو توبه پیٹھے الله تعالیٰ سُد بوڈ فضل لِأَخَيْرٍ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ کاننه خیر و برکت پچھنه عام لوکن ہندین اکثر پوشیدہ مشورن اندر إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ مگرے کانسه تمبو آندره خیرات کرنگ یا عننه رتہ کامه ہندہ کرنگ یا لوکن اندر اتحاد و اتفاق کرنگ تجویز و ترغیب آسہ کورمت۔ تمن مشورن اندر پچھو واقعی خیر و برکت وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا نِس اکھاہ امه قسمچی کامه کره محض خدایه سُد رضا تھاندنہ خيتره۔ ریاست نه شهرت حاصل کرنه خيتره نه نِس کروا نِس بروئنه پهن عطا۔ رتہ زور۔ مگر تمن خیانت کره و نین ہند پوشیدہ مشورہ امه قسمک پچھنه کيازه تمبو کر مخالفت نبی کریمه سنز۔ وَمَنْ يُثَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ نِس اکھاہ مخالفت کره رسول کریمه سنز ہدایت تھه نِس نشہ وارہ ظاہر سپدن پنه وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ بیه کره پیروی

يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَ  
يَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ  
جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝۱۱۵ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ  
بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۝ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ  
فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا بَعِيدًا ۝۱۱۶ إِنَّ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا

با ایمان ہنزه و تہ و راہی بیہ کنہ و تہ ہنزہ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا پھر دن  
سُوَاسِ تھمہ طرفس کن ہتھہ گن سُو پھیور دُنیا س منز۔ یہ سُو کر نہ لوگ تی دموس کر نہ۔ وگ تراوس  
دُتج۔ مگر و اتا دون سُو اس پتولا کہ نار جہنم۔ سیٹھاہ پتھہ پتھہ سو تہندہ و نتج جایاہ إِنَّ اللَّهَ لَا  
يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ہنز پاپ اللہ تعالیٰ کر نہ بخشایش سزا تھہ تہ ہتھہ تھہ کہ تَس کیا یہ کا نہ چیز اہیا  
کا نہ شخصہ تہند شریک ٹھہرون۔ بلکہ پتھو مثر کس ہمیشہ ابد الابد سزاس منز گرفتار روزن وَيَغْفِرُ  
مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ تمہہ و راہی تم گناہ آسن تم کرہ مغفرت تہ بخشایش اللہ تعالیٰ سزاوندہ و راہی  
نِس یرھہ تہ تَس۔ گناہ صیغہ آسن یا گناہ کبیرہ۔ البتہ اگر مثر ک شر کہ نشیہ پتھہ روزہ، پوز توبہ کرہ،  
بصدق دل مُسلمان سپہ، کُنس خدا نِس پتھہ کرہ سُولیہ تلہ عذاب دائمی نشیہ نجات۔ مثر کس بخشایش نہ  
سپہ نیک وجہ پتھو ای زہ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلًّا بَعِيدًا نِس شخصہ اللہ تعالیٰ آس سیت  
کا نہ شریک ٹھہروان پتھو۔ سُو پتھو امر حقہ نشیہ دُور جہ گمراہی اندر پیوان۔ سُو امر حق گو توحید باری  
تعالیٰ نِس عقلہ کن تہ واجب پتھو۔ تمہ علاوہ پتھو حضرت خالق مطلق سند یو حقو تواندرہ تَس تعظیم کرن  
لازم۔ مثر ک پتھو پتہ شریک سیت حضرت خالق سزاہانت تہ بے تعظیمی کران۔ تمی پتھو تَس عذاب  
دائمی سزا مقرر کر نہ آمت باقی گناہ تم پتھہ اگر چہ تم پتھہ گمراہی مگر توحیدس خلاف پتھہ تمہ مَوکھ آہی  
تم قابلِ عفو و مغفرت قرار دہ۔ شرک تہ گھر گو کئی نا قابلِ مغفرت آسن اندر کیا زہ گھر س اندر تہ  
پتھو انکار خالق لبند یوان لہذا پتھہ دوشوے نا قابلِ مغفرت۔ سزاوار عذاب ابدی۔ تم مثر ک کا تیاہ





## الشَّيْطَانِ وَلِيًّا مَنْ دُونَ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا ۝۱۱۹

سیت میلاد وہ دین زنائن بٹھہ گون مس بوزنہ پیہ بٹھس، ڈیکس لٹھہ وال کڈوونین زنائن۔ دندن پھمراوہ سیت یابہ گنہ چیزہ سیت خوبصورتی خیطرہ بٹھراوہ دین زنائن۔ تے کیا گنہ خدلیہ سزہ پیدہ گرمہ شکلہ تغیر دیوہ دین زنائن۔ تے پٹھہ پٹھہ چھو حدیث شریف من زائت زین الرجال باللحی وزین النساء بالذوائب مردان آوزینت دینہ ریشہ سیت۔ زنائن آوزینت دینہ متہ سیت۔ لہذا گومردان ہند ریش کاسن یا کرہن یا زنائن ہند مس کاسن یا کرہن خدلیہ سزہ پیدہ گرمہ شکلہ تغیر دین۔ امکوئی تجویز چھو انساں شیطان کران توے پٹھو ریش کاسن گناہ کبیرہ اندرہ۔ تمہ علاوہ چھہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندس صریح کھمس، ریش کاسنہ سیت مخالفت سپدان۔ بخاری شریف من چھو حدیث شریف کہ فرمود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہہ کراوی مسلمانو، باایمانو، مشرکن ہنز مخالفت، تہہ تھاووریش پور، گونزہ کمر و پست مشرک چھہ گونزہ تھاوان تہ ریش کاسان۔ بیاکھ حدیث شریف چھو صحیح مسلم اندر کہ فرمود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خالفوا المحوسن والمشرکین مخالفت کمر و آتش پرستن ہنز پیہ مشرکن ہنز۔ مشرک آس ریش کاسان۔ مجوس آس ریش کرپان۔ یہ چھو صریح فرمان پیغمبر اسلام ریش متعلق۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان قرآن مجید اندر فلیحذروا الذین یخالفون عن امری ان یتصیبہم فتنۃ او یتصیبہم عذاب الیم کھو تہ تم لوکھ تم پیغمبر برحقہ سندس کھمس مخالفت کرن کہ تم ولتہ دنیا اس اندر بد بلا یاہ آخرتس اندر کڈر عذاب۔ پیس آہ کر تمس اندر چھو اللہ تعالیٰ فرماوان وماکان لیؤمنین ولا مؤمنۃ اذا قضی اللہ ورسولہ امرًا ان یتکون لہم النجیۃ من امرہم ومن یخص اللہ ورسولہ فقد ضلّ ضلالًا مبینًا کاسہ باایمان مردس یا باایمان زنائہ چھو نہ ہرگز سیمہ تھہ ہند اختیار کہ یلہ اللہ تعالیٰ پیہ تہند پیغمبر گنہ تھہ متعلق کاسنہ حکماہ فرماون تمں کیاہ روزہ کاسنہ گنجا بیجاہ تھہ کھمس بدل کرچ لیس شخصہ خدا ورسولہ سندس کھمس بدل کرہ لیس تھتھیں سو پیونہ گراہی اندر۔ سیموک انجام چھو نارہنہم۔ کوتاہ افسوس تمں مسلمان ہندہ حقہ تم رسول کریم سہہ محبتک تہ متابعتک دعویٰ دوان چھہ تو پتہ چھہ تہندس اتھہ صریح کھمس مخالفت کران۔ ریشہ کاسنہ سیت۔ تہند کھم لیس پٹھت تراوتھہ نظر انداز کر تھہ شیطانہ سندس کھمس تعمیل کران۔ تسزہ لاف زنی ہند تصدیق کران۔ امی چھو شریعتک کھم کہ لیس ریش کاسہ یا کر پیہ سو چھو فاسق۔ ومن یتخذ الشیطان ولیًّا من دون اللہ فقد خسر خسرانًا مبینًا وون لیس اکھاہ شیطانس



وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿۱۲۳﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ  
 مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ  
 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا ﴿۱۲۴﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ  
 دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ

سُوًّا يُجْزَى بِهِ وَلَا يَجِدُ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا پس جس شخصہ اطاعتس منز کی کران  
 کانہہ تھہ کوماہ گرہ۔ سواز قسم عقائد آستن یا از قسم اعمال آستن تھہ بدلہ بیہ تس ضرور سزاونہ آخر تس  
 اندر۔ ہر گاہ سوچھہ کوم از قسم عقائد شرکی و گھری آسہ تلہ چھو تم عذاب دائیس تہ سزاء ابد پس  
 گرفتار سپدن۔ ہر گاہ سوچھہ کوم عملی آسہ تمہ نشہ توبہ آسہ آمت کرنہ۔ تھہ خدایہ سیدہ طرفہ  
 بخشاش آسہ سہز مثلہ بیہ تس سزاونہ کنہہ خود و قس تان۔ تمہ عذابہ نشہ لبہ نہ سو خدا جس و رای  
 کانہہ جس کانہہ دوستس، کانہہ مددگار پس تمس مولاوہ ہا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ  
 أَوْ أَنْتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ بیہ پس اکھاہ کانہہ رز کاہہ کرہ۔ مردو آندرہ یا زانوا آندرہ با ایمان آتھہ  
 فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا پس تے کوکھ واتن جنتس تمن لیہ نہ کنہہ قسمہ ظلم  
 کرنہ تھمز کانہہ صحیح عمل لیہ نہ ضائع کرنہ۔ تھہ آیہ کر تمس منز آؤذ کر کرنہ با ایمان آسنگ۔ امہ اندرہ  
 چھو مراد تے تم تھہ دینس پیٹھہ آسن پس دین خدا جس نشہ منظور تہ مقبول دین آسہ۔ سو گودین اسلام  
 ”اہل اسلام“ گے تے تمن منز تم تہ صفت آسن۔ پور تہ کامل فرمانبرداری۔ اخلاص بیہ اتباع ملت ابراہیمی۔  
 چنانچہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ  
 مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا جس اکھاہ چھو رت دینہ کن، تمس شخصہ سیدہ خوتہ تم پن گردن دار، پن تھہ  
 کوزن معبود برحقس سن یعنی فرمانبرداری عقائد کن تہ عملن اندر۔ درحالیجہ سو آسہ با اخلاص سارنی  
 کائین آندر۔ کانہہ عملہہ گرہ نہ کنہہ ذاتی مصلحتہ یا ظاہر داری خیطرہ۔ بیہ کرہ متابعت حضرت ابراہیمہ  
 سندس ملتس یعنی اسلامس۔ تھہ منز نہ کنہہ قسمہ ہجرتہ گئی چھو۔ تمہ علاوہ تہ چھو سولت قابل اتباع تہ

إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا ﴿۱۲۵﴾ وَ لِلَّهِ مَا فِي  
 السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا ﴿۱۲۶﴾  
 وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا  
 يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا  
 تُوْتُوهُنَّ مَا كَتَبَ لَهُنَّ وَتَرَعْبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ

پہروی وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا کیازہ اللہ تعالیٰ ان چھو اختیار کورمت حضرت ابراہیم بنی نخلص  
 دوست۔ یہ تھے چھو ظاہر کہ دوستہ سندس طریقہ پوٹھہ پن چھو محبوب تہ مقبول آسان۔ سم تہندہ ملج  
 متابعت گزن تہندی خیطرہ چھو نجات تہ سعادت۔ اللہ تعالیٰ سنزی پورا طاعت کرن چھہ لازم کیاہ  
 وَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خدایہ سنزوی چھو تہ سوزوی یہ آسمان تہ زمین اندر چھو  
 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا بیہ چھو اللہ تعالیٰ پریتھہ چیزس احاطہ کمر تھہ پنہ علمہ سیت۔ امنی دون  
 چیزن پوٹھہ چھو وجوب اطاعتک دار و مدار اکہ کمال سلطنتس پوٹھہ۔ بیہ کمال اطلاع و علس پوٹھہ۔ سم  
 دو شوے چیز چھہ اللہ تعالیٰ سی مندر جہ اکمل موجود وَ يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ای پیغمبر برحق  
 صلی اللہ علیہ وسلم بیہ حض چھہ لوکھ توہہ یتیم زنان ہندس نکاحس متعلق توے پر ژھان قُلِ اللَّهُ  
 يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ تہہ قرما یو کہ اللہ تعالیٰ چھو توہہ اجازت دوان تمن سیت نکاح کر نگ۔ بشر طیکہ تہہ  
 کمر و تہند حقوق پورہ ادل۔ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتِمَى النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُوْتُوهُنَّ  
 مَا كَتَبَ لَهُنَّ وَتَرَعْبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ دون سم آیات پر نہ یوان چھہ توہہ پوٹھہ تمن چھو  
 تعلق تمن یتیم زنان سیت تمن نہ تہہ سو پن حصہ دوان چھوہ ئس تہندہ خیطرہ مقرر کرنہ آمت چھو۔  
 بیہ چھوہ تہہ خواہش تھوان تمن سیت نکاح کر نگ یتھہ حتی بہانہ کھوی تہندہ مال۔ تمن یتیم زنان  
 ہر گاہ تمہہ مال و جائدادہ تہ حسن و جمالہ واجبہ آرن تلہ چھوہ تمن سیت نکاح کران مگر شریعتہ موجب ئس  
 میراث تہ مہر تہند حق چھو آسان تہ چھو کھنہ برابر ادا کران۔ اگر صاحب حسن و جمال تمہہ آسان

وَالْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الْوُلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ  
بِالْقِسْطِ ۖ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا ﴿۱۷﴾  
وَإِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا  
جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ  
وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ ۗ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ

پہنچنے تلہ چھوہ تم ن سیت نہ پانہ نکاح کران نہ چھو کھہ بیہ کانہہ سیت نکاح دوان کرنہ۔ کیا زہ ٹھہ چھوہ  
آسان کہ تہند مال و دولت ماروزہ نہ تلہ امہ نش وَالْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الْوُلْدَانِ بیہ چھو اللہ تعالیٰ  
حکم فرماوان ضعیف تہ بے کس لو کٹن ہندہ حقہ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ بیہ چھو اللہ تعالیٰ  
حکم فرماوان کہ یتیم ن ہندہ حقہ کمر و پریتہہ معال مس اندر عدل تہ انصاف وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ  
اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا بیہ تھا و وارہ سمہ کھہ ہند خیال کہ یوسہ رژ کا ماہ ٹہہ کمر و یتیم ن تہ زنان ن نسبت تہ  
سوزی چھو وارہ پاٹ اللہ تعالیٰ پور زنان وَإِنَّ امْرَأَةً خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا بیہ  
ہر گاہ کانہہ زنانہ کھو ترہ تہ اندیشہ کرہ پنہ نس خاوندہ سدس مای تہ محبت باقی نہ روزہ نس بے التفاتی  
کرہ نس۔ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا اتھہ صور نس اندر چھو نہ کانہہ حرج تہ کن  
دوشون ہر گاہ یم پانہ وان عنہ طریقہ صلح کرن۔ مثلاً اگر زنانہ یرشان آسہ کہہ بوروزہ ہا مٹی خاوندس نشہ  
بیہ گوژہ نہ میہ تراوت بیا کھ نکاح کرن۔ اتھہ صور نس اندر تراوہ سنوچن کینہہ حقوق سم تہند مردس  
پیٹھہ آس۔ مردس چھو جایز تہ کن تسلم کرن تہ زنانہ سیت صلح کرن وَالصُّلْحُ خَيْرٌ تنازعہ خوتہ،  
جدائی تہ موبکارہ خوتہ چھو صلحی رت تہ بہتر وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ انسانی طبیعتن چھو سیت  
تھاوندہ آمت بخل۔ پریتہہ اکھاہ چھو یرشان خرچس اندر کمی کرن۔ ہر گاہ زنانہ اخراجا تن اندر کمی کرہ۔  
مردس بیہ یوزنہ میہ سپد مالی فاندہ۔ سو سپدہ امس زنانہ پانس سیت تھو نس پیٹھہ راضی۔ دوشون باژن  
ہنز خواہش تہ طبع یلہ پورہ سپدہ دوشوے سپدن صلحس پیٹھہ راضی وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ

كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا ۝ وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا  
 بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَدْرُوهَا  
 كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا  
 رَحِيمًا ۝ وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاَ مِنْ سَعَتِهِ ۝ وَكَانَ

بِمَا تَعْمَلُونَ خَيْرًا جس ہر گاہ تہہ ای مرد و زنان سیت احسان کرو و ہجھہ سلوک کرنے نشہ ہتھہ روزو توہہ بندہ بود ثواب کیا زہ اللہ تعالیٰ چھو تہمزہ سارے کامہ پورہ زنان تمی موجب دیوہ سو توہہ مزدور۔  
 وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ یہ کتھہ ہجھہ مسلم کہ تہہ بیگونہ ہر گزوار یمن زنان منز  
 یمن سیت توہہ نکاح کورمت آسوہ پر ہتھہ چیز س اندر عدل تہ برابر ی کمر تھہ۔ خصوصاً دلہ چہ مایہ تہ  
 مجتہس اندر وَلَوْ حَرَصْتُمْ اگرچہ تہہ دل آستن سو برابر ی کرن سیٹھہہ یڑھان مگر چوہجہ ذلک مُعَامَلِہ  
 ہجھونہ کانسہ پنہ نس اختیارس اندر تمہہ موکھ ہجھونہ دلہ کس معاطس اندر بازخواست کینہہ مگر باقی معاطن  
 اندر تم اختیاری چھہ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ تمین اختیاری چیزن اندر گڑھہ نہ کسی زنانہ کن سوروی توجہ  
 تہ رغبت کرن فَتَدْرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ سمہہ یکطرفہ توجہ کرنے سیت بیاکھ زنانہ تراوہون تہہہ بالکل  
 الوندہ ہجھہ چیزاہ۔ حقوق شرعیونشہہ بالکل محروم۔ نہ کتر و تمسہہ حقوق پورہ آدایمہ سیت سہ خاندنہ و اجن  
 بوزنہ پیہہ ہا۔ نہ ایہ موکلا و نہ رتہ طریقہ تا اینکہ یوزنہ پیہہ ہا سوبے نکاح تہ بے خاندن۔ بیاکھ شخصہہ گره ہا نس  
 سیت نکاح۔ امہہ طریقہ زنانہ الازن تھاون پیہہ گوئس نسبت صریح ظلم کرن۔ ہر گاہ پنہ نس نکاحس منز  
 تھون آسہ تلہ تھاون رتہ طریقہ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا تھہہ صورتس اندر ہر گاہ بروٹھہ کنہ ناگوار  
 معاملات آسن پیش آمت تمین معاطن کرو اصلاح آیندہ خیطرہ روزو تھہہ معاطلہ تو نشہہہ بالکل ہتھہ۔  
 بروٹھہہ معاطلن کرہ وہ اللہ تعالیٰ تہہ درگڈر فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا کیا زہ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھہہ  
 مغفرت کرہ ون، سیٹھہہہ رحم کرہ ون وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلاَ مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا  
 حَكِيمًا وون ہر گاہ تمین دون باژن منزمنہہہ طریقہ موافقت سپدہ نہ بلکہ سپدن تم اکھ آگس نشہہہ جد اطلاقہ

اللَّهُ وَإِسْعَاحِكِيمًا ﴿۱۳۰﴾ وَبِاللَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
 وَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ  
 اتَّقُوا اللَّهَ ط وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي  
 الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا ﴿۱۳۱﴾ وَبِاللَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ  
 وَمَا فِي الْأَرْضِ ط وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿۱۳۲﴾ إِنَّ يَشَاءُ يَذُوبَكُمْ

سیت یا خلعہ سیت تھے منزہ تھوں سمودویہ منزہ کا نہ یہ خیال کہ میانہ درای پچہ نہ نہیں و تھے بلکہ کرہ  
 اللہ تعالیٰ پر تھے اگس سمودویہ اندرہ بیس نشہ بے نیاز۔ کیا زہ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھ سوسہ وول سیٹھہا جمتہ  
 وول وبللہ ما فی السموات و ما فی الارض اللہ تعالیٰ سدوی ملک چھو تہ سوروی یہ آسمان اندر چھو،  
 یہ زمین اندر چھو س مالک حقیقی تہ مالک کلہ سنز فرمانبرداری کرن چھہ لازم تہ ضروری۔ امیک حکم  
 چھونہ تو ہی یوت کرنہ یوان **وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ**  
 بلکہ واقعی طور فرمودہ امیک حکم تہن لو کن تہ سمن آسمانی کتاب یعنی تورات و انجیل عطا کرنہ آیہ  
 توہہ بروٹھہ۔ توہہ تہ چھو حکم کرنہ یوان کہ کھو ژو اللہ تعالیٰ اس۔ تہند ساری حکم ماو۔ نافرمانی نشہ روزو  
 پتھہ۔ پتھہ سورہ شریف چھو گوڈ کرنہ آمت امی حکمہ سیت **يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ - وَإِنْ تَكْفُرُوا**  
 یہ کتھہ تہ آیہ تہن یهو وونصاری ان بیہ توہہ تہ وارہ بیان کرنہ کہ ہر گاہ تہہ احکامن ہنز مخالفت کتر تھہ کفر  
 کرو تمیک چھونہ اللہ تعالیٰ اس کا نہہ پروانہ کا نہہ ضرر **فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ**  
 کیا زہ اللہ تعالیٰ سدوی چھو ملک تہ سوروی یہ آسمان تہ زمین اندر چھو تھس بڈس پادشاہس چھونہ  
 کا نہہ نقصان تہنزہ نافرمانی سیت۔ بلکہ نقصان چھو توہہ پان پانس تھس بڈس شہنشاہ اعظمہ سنز مخالفت  
 کرنہ سیت۔ **وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا** اللہ تعالیٰ چھونہ کانہہ ہندس اطاعت و فرمانبرداری کن محتاج۔  
 سو چھو کامل الصقات آسنہ موکھ بذات خود تعریف کرنہ آمت۔ لہذا چھنہ کانہہ ہنزہ نافرمانی سیت  
 تہندین صفین اندر گنہ قسمہ کی لبندہ یوان **وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا**



أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخِرِينَ ۖ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ  
 قَدِيرًا ﴿۱۷۶﴾ مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللَّهِ  
 ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿۱۷۷﴾

اللہ تعالیٰ سہولت سے اور سہولت سے آسمانوں اور زمینوں اور جو سہولت سے تمہیں ساری چیزیں اندر  
 قادر مختار، پتہ نین فرمانبردار بدن ہندہ خیرہ، جو سہولت سے کار ساز سہولت سے کار ساز آستہ گوہ اکھاہیکہ  
 تمہیں فرمانبردار بدن ضرورتاً وہہ ان کیشاید ہبکم ایہا الناس ویات باخیرین اللہ تعالیٰ سمہ  
 دینہ چہ کامہ توہمہ فرماوان جوہوہ جوہوہ سہولت سے خیرہ فرماوان۔ ورنہ سہولت سے کوم بین لوکن نشہ  
 تہ پورہ کرناو تہ تمہہ آج پور قدرت۔ ای لو کو توہمہ مہ روزنہ یہ خیال کہ اس چہہ کتمان۔ ہر گاہ سو  
 یث توہمہ ساری کر وہہ ختم توہمہ بدل انہ بین لوکن تمہی دپہ یہ کوم گرن وکان اللہ علی ذلک قدیرا  
 اللہ تعالیٰ جوہوہ ہمیشہ پر تہہ وقتہ تہہ پیٹھہ قدرت وول۔ کانہ تہہ یہ کہ نہ تہہ س حکمں پتہہ رتہہ وول ہر گاہ  
 تم تہہ یوٹھہ نہ یہ جوہوہ تمہند بوڈ عنایت تہہ مرسانی۔ لہذا زانوہہہ تمہندین حکمں تعمیل گرن سیٹھہ  
 غنیمت۔ بیہ پتہہ خیرہ بوڈ سعادت۔ دینہ چن کائین ہند عوض تہہ بدلہ ہنہ آخرتسی اندر۔ لہذا دنیاہ س  
 منزلہہ چن کائین ہند نفع تہہ فائدہ نہ ہنہ سیت مہ آسودہ دل سپدان مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا  
 لیس اکھاہہ دینچ کوم کتر تہہ دنیاہ ک ثواب تہہ نفع تہہ فائدہ تہہ ہانڈہ سوہوہ سخت غلطی پٹھہ فَعِنْدَ اللَّهِ  
 ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کیازہ اللہ تعالیٰ اس نشہہ جوہوہ دنیاہ ک ثواب تہہ آخرتک ثواب تہہ۔ یلہ اللہ  
 تعالیٰ اس نشہہ اعلیٰ تہہ ادنیٰ دو شوے چیز ہنہ خیرہ جوہوہ شرط بالیمان نزن۔ اکھہ پھرہ مر تہہ سدنک تہہ جوہوہ  
 یوہے حکم۔ پس کیازہ یہیہ ہست ہمت ہنت ادنیٰ چیز سی تہہ نشہہ تہہ ہانڈہ نہ یہ جوہوہ تہہ سدنک۔ وَكَانَ اللَّهُ  
 سَمِيعًا بَصِيرًا اللہ تعالیٰ جوہوہ سیٹھہ یوزن وول سیٹھہ وچہن وول ساری ہنزہ تہہہ، منگن تہہ  
 درخواست کرن جوہوہ بوزان۔ ساری ہنزین ہنہن جوہوہ تہہ پور علم۔ آخرتک ثواب تہہ ہانڈہ وین دینہ  
 سہولت سے آخرتک ثواب۔ دنیاہ ک ثواب تہہ ہانڈہ وین دینہ دنیاہ کوی ثواب مگر آخرتک ثوابہ نشہہ سپدان تم  
 حرم۔ لہذا گدھہ دینچ کوم یعنی عبادت کرت آخرتہ کسی ثوابس امید وار روزن۔ عبادت تہہ دینچ کوم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ  
 وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا  
 أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا  
 وَإِن تَلَوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿۱۷۵﴾  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ

کرم تھ گڑھ نہ دنیا ک ثواب تہ مزور ژھانڈن۔ امہ اندرہ ہجو نہ مراد دنیا گڑھ نہ ژھانڈنوی۔ نہ بلکہ  
 گڑھ ضرور ژھانڈن۔ مگر عبادتک معاوضہ نہ بلکہ گڑھ مستقل طور خدائس نفعہ دنیا ضرور ژھانڈن  
 يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُوْنُوْا قَوْمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ اے باایمانو ساری معاملاتن اندر اداء کہ وقتہ  
 تہ بیہ فیصلہ کریمہ وقتہ تہ آسو عدل وانصاف بیٹھہ قائم روزان۔ ہر گاہ اقرار یا گواہی دج نوبت پیوان  
 آسہ تمہ ساتھ تہ خدایہ سزہ خوشنودی خیرہ آسو نیز گواہی، حقیقت حال صاف صاف ظاہر کران  
 وَلَوْ عَلٰی اَنْفُسِكُمْ اگرچہ سو گواہی یا اظہار آستن توہمہ پنتہ حقہ مضر سپدان اَوِ الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ  
 یا تہندس ماس ماجہ یار شتہ دارن متعلق مضر سپدان اِن يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا گواہی دیمہ وقتہ مہ آسو  
 مہ کتھ ہند کا نہ خیال تھاوان کہ ہمیں بیٹھہ آسہ گواہی دن چھ سو چھا امیر کہہ فقیر۔ تمہ مہ آسو کا نہ  
 ہنزہ امیری و فیری گن و چھان فَاِنَّ اللّٰهَ اَوْلٰى بِهٖمَا اللہ تعالیٰ اس ہجو تمن دو شون سیت تہندہ خوتہ  
 زیادہ تعلق اللہ تعالیٰ ہجو ژھان آتھہ معاملس اندر پوز پر لون فَاَلَا تَتَّبِعُوْنَ الْهَوٰى اَن تَعْدِلُوْا لہذا نہ  
 کرم و تہہ پیروی پنتہ فسخہ خواہیمہ ہنز پزہ نفعہ ولس اندر وَلٰن تَلَوْا اَوْ تَعْرَضُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا  
 تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا ہر گاہ جہہ گواہی دوان اوزک یور و نو۔ صاف صاف پوز، پوز و نو نہ یا نیز گواہی دنہ نفعہ  
 کروانکار۔ یاد تھاوزہ اللہ تعالیٰ ہجو ہنزہ سارے کامہ پوز زانان۔ سودیہ توہمہ پائے پور سزا يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ  
 اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ اے مجمل پاتھہ ایمان آنہ و نو تہہ پوز ووارہ ضروری عقایدن ہند تفصیل۔ تو پتہ  
 کرم و تمن چیزن پور پڑھہ۔ پڑھہ کرم و خدایہ سندس ذاتس۔ بیہ تہند من سارنی صفحن۔ بیہ کرم و پڑھہ تہندس

عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ  
 وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا  
 بَعِيدًا ۱۳۷ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ  
 أَزْدَادُوا كُفْرًا الَّذِي يَكُنِ اللَّهُ لِيُغْفِرَ لَهُمْ وَلَا يَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا ۱۳۸  
 بَشِيرِ الْمُنْفِقِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا  
 الْكُفْرَانَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَلْيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمْ

پیغمبر یعنی حضرت محمد سندس رسالتس وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى رَسُولِهِ یہ کرم و پرشہ تھہ کتابہ  
 یوسہ کتاب تم نازل کر پنے نس پیغمبرس پیٹھ یعنی قرآن مجیدس وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ قَبْلُ یہ  
 تمن ساری کتابن یمہ تم نازل کرہ قرآن مجیدہ بروٹھہ بین پیغمبرن پیٹھہ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ  
 وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ہس شخصہہ اکار کرہ خدا یہ سندس ذاتس یا تہندین صفن یہ تہندین ملائکن  
 یہ تہزن کتابن، یہہہ تہندین پیغمبرن یہ پیٹھس دوہس یعنی قیاس فقہ صلا صلا بعیڈا پز پات  
 سو شخصس پیو حقہ نشیہ، علم واقعی نشیہ، یہہ مقصد اصلی نشیہ، یعنی نجات نشیہ گمراہی ہندس سلس چاہس اندر  
 تھہ نہ دوشوی چھوکنہہ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا ہز پات سم لوک  
 گوڈہ مسلمان سپد تو پتہ یہہ کافر مرتد تو پتہ سپد یہہ مسلمان تو پتہ سپد یہہ مرتد کافر تو پتہ کر کہ زیادتی کفرس  
 اندر مرتدس دس تان لہ یکن اللہ لیغفر لہم وَلَا يَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا یہ بے نہ زانہہ کہ اللہ تعالیٰ کیاہ کرہ  
 تمن مغفرت تہ بخشایش تہ ہواہ اللہ تعالیٰ تمن منزل مقصود یعنی جنس کن کاسہہ و تھاہہ کیاہہ مغفرت تہ جنت  
 چہ ایمانس پیٹھ ثابت قدم روزن والسن کیتھرہ بَشِيرِ الْمُنْفِقِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَسْخُوشْ خَبْر بُوْرَهْ نَابُوْهُ  
 مُنَافِقٍ سَمَّہ تھہ ہز کہ تہندہہ خیطرہ چھو آخرتس اندر سخت دودوہون عذاب تجویز کر نہ آنتس بِالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ  
 الْكُفْرَانَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ تم گئے نائے سمبو کافر بناوہن دوست با ایمان تراوتھ  
 اَيَّبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْوَزَّةَ تم چھامن نشیہ گوہتھہ معزز بن یشھان تمن نشیہ عزت بیچھ نہ کینہہ فَإِنَّ

الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا ﴿۱۳۹﴾ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ  
 أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا  
 مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِكُمْ ۖ وَإِذَا مِثْلُهمُ  
 إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا ﴿۱۴۰﴾  
 الَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْنَةٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا  
 أَلَمْ تَكُنْ مَعَهُمْ ۖ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ

الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا کیازہ سوروی عزت چھوی خدائس اتھہ سوی نسی عزت یثہہ دیکن تس بہہ عزت  
 وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتَ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ اى  
 مسلمانو جنہ مہ آسو منافقن ہند پاتھہ کافرن سیت کانہہ تعلق تھاوان خصوصاً سمہ وقتہ تم کفریات ہند  
 تذکرہ کران آسن۔ چنانچہ سمہ بروٹھہ تہ چٹھو اللہ تعالیٰ اَن سورہ انعامس اندر حکم نازل کورمت توبہہ  
 پیٹھہ کہہ یلہ کتبہ جلسہ اندر خدایہ سندین آیات واحکامن نسبت انکار یا ٹٹھہ آسہ یوان کرنہ تھہ جلسہ منز  
 آسونہ تہہ تمن سیت بہان حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِكُمْ یوتان نہ تم بہہ کانہہ بدل کتھہ تلان تہ  
 شروع کران آسن اِنکُم اِذَا مِثْلُهمُ ورنہ سپدوتہہ تمنی ہی گنہس اندر۔ اتھہ منز چھہ من کافر تہ  
 پو شیدہ کافر یعنی منافق برابر۔ چنانچہ سزاء کفر یعنی نار جہنم تھہ منز تہ چھہ برابر اِنَّ اللَّهَ جَامِعُ  
 الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا بیشک اللہ تعالیٰ چھو سو نہرہ ون تہ جمع کرہ ون منافقن تہ  
 کافرن نار جہنمس منزاکہ وٹہ اِلَّذِينَ يَتَرَبَّصُونَ بِكُمْ سیم منافق پیاران تہ امید وار چھہ آسان  
 تھندس نقصاس اِن كَانَ لَكُمْ فِتْنَةٌ مِنَ اللَّهِ قَالُوا اَلَمْ تَكُنْ مَعَهُمْ توبہ تہ اگر توبہہ حاصل سپدان چھہ  
 خدایہ سندہ طرفہ کانہہ فچاہ تمہ ساتہ چھہ تھندی تھہ توبہہ وان آس آس ناتوبہی سیت جمادس، منز شریک  
 آسہ تہ دیو کینہہ مال غنیمتہ اندرہ اِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ ہر گاہ کافرن حاصل سپدہ غلبہ کانہہ  
 حصا تمہ ساتہ چھہ تمن نشہہ گوتھہ تمن وان قَالُوا اَلَمْ نَسْتَحِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ

نَسْتَحُودُ عَلَيْكُمْ وَنَنْعَمُ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ قَالَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ۗ<sup>(۱۲۱)</sup>  
إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ۖ وَإِذَا قَامُوا  
إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ  
اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ۗ<sup>(۱۲۲)</sup> مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ ۗ لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا  
إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ ۖ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا ۗ<sup>(۱۲۳)</sup> يَا أَيُّهَا

کیا آس ہیو ان ناتوہہ پیٹھہ غالب سپدن کیاہ آسہ بچاود ناتوہہ مسلمان نش آسہ کورنہ زانتھہ کر تھہ توہہہ بچاوندہ  
خیطرہ مسلمان مدد سؤ طریقہ کور اختیاریمہ سیت جنگ حال بدلیووتہہ سپدوہ غالب لہذا دیواسہ تہ کینہہ  
حاصل کرمتہ مال اندرہ غرض کہ دو شوی طرفو آس تم مال حاصل کران - دنیاس اندرے تم اپڑہ  
مسلمان ہتھہ زندگی بسر کران آس مگر **قَالَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ** اللہ تعالیٰ کرہ فیصلہ توہہہ تہ تم  
منز قیامتک دوہ **وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا** تھہ فیصلس منز دیہ نہ اللہ تعالیٰ ہرگز  
کافرین مسلمان ہتھہ غالب سپدنج کا نہہ تھہاہ **إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهَ** ہڑباٹھہ منافق ہتھہ آسہ  
دورنگی چالہ سیت دھوکہ دیوان ہنہ خیالہ خداس **وَهُوَ خَادِعُهُمْ** سؤ ہتھو تمین امی قسمہ امیک بدلہ تہ  
سزاوندہ وول - چونکہ تہمدسن دن اندر ہتھونہ ایمان کنی تمہہ موکھ ہتھہ تم نماز فرض زانان نہ ہتھو تمین  
نماز پرئس پیٹھہ سئہ ٹوالب اعتقاد تمہہ موکھ ہتھہ تہمد حال **وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كَسَالَىٰ** یلہ  
تم منافق ووتھان ہتھہ نمازہ گن ووتھان ہتھہ سیٹھہ سستی سان کیاڑہ دلچسپی تہ فرحت ہتھہ اعتقادہ تہ  
امیدواری سیت پیدہ سپدن **يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا** تم ہتھہ نماز پران فقط  
لوکن ہاوندہ خیطرہ خدلیہ سندیاد ہتھہ تم کران مگر زیہ سستی سؤتہ کمی **مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ** کافرین  
تہ بالیمان در میان ہتھہ تم اللہ - متردد تہ حیران - نہ اور تہ نہ یور - **لَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ وَلَا إِلَىٰ هَٰؤُلَاءِ**  
نہ ہتھہ ہم مسلمان سیت نہ ہتھہ ہم تہمدین دشمن یعنی کافرین سیت **وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا**



اِنْ شَكَرْتُمْ وَاْمَنْتُمْ وَاَكَانَ اللهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ﴿۱۲۷﴾  
 لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَن ظَلَمَ  
 وَاَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا ﴿۱۲۸﴾ اِنْ تُبَدُّوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفَوْهُ اَوْ تَعْفُوْا  
 عَن سُوْءٍ فَاِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ﴿۱۲۹﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ  
 بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُقَرَّرُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ  
 وَيَقُوْلُوْنَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ وَّيُرِيْدُوْنَ اَنْ

شکر گذاری کرده و بیله تسلیم شده که و الله تعالی چھو لوکن همزن عملن ہند قدر دان تمس چھہ سارنی ہندہ  
 حاج پور خبر - سو چھو زانان کوہ گمہ نیتہ چھو عبادت کران - گنبدس ولس اندر کوتاہ خلوص چھو لا یحب  
 اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَن ظَلَمَ اللهُ تعالی چھونہ پسند کران کانسہ ہنز بیچھہ کتھ زیوہ  
 پیٹھ ہن تہ مشہور کرن مظلومس و رای یعنی بس ظلم کرنہ آسہ آمت - سوی ظالمہ سنزہ بیچھہ کتھ مشہور  
 کرہ تس چھونہ کانسہ گناہ وَاَكَانَ اللهُ سَمِيْعًا عَلِيْمًا اللهُ تعالی چھو مظلومہ سند فریاد یوزہ ون - ظالمہ سند  
 حال پورہ زانہ ون اِنْ تُبَدُّوْا خَيْرًا اَوْ تُخْفَوْهُ اَوْ تَعْفُوْا عَن سُوْءٍ فَاِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيْرًا ہر گاہ رث  
 کوم ن پاٹھ کر ویا پو شیدہ پاٹھ یا کانسہ ہنزہ بدی درگزر کر و سو چھہ رث کوم - بس اللہ تعالی چھو سیٹھاہ درگزر  
 کرہ ون سیٹھاہ قدر تہ وول - با جوہ قدر تہ چھو درگزر کران لہذا آسو تہ تہ درگزر کران - تھہ بدل کرہ  
 اللہ تعالی تہندین گنہن درگزر اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَرُسُلِهِ بے شک تم انکار چھہ کران خدا ایس  
 تہ تہندین پیغمبرن وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُقَرَّرُوْا بَيْنَ اللّٰهِ وَرُسُلِهِ بیہ تم بیٹھان چھہ فرق کرن باعتبار  
 ایمان - خدا ایس تہ تہندین پیغمبرن اندر یعنی خدا ایس کرہ ہن بیٹھ، تہندین بعضی پیغمبرن کرہ ہن انکار  
 وَيَقُوْلُوْنَ نُوْمِنُ بِبَعْضٍ وَنُكْفِرُ بِبَعْضٍ بیہ چھہ تم پانہ اقرار کران کہ آس چھہ، بعضی پیغمبرن ایمان  
 اتان بعضین چھہ کران انکار وَيُرِيْدُوْنَ اَنْ يُقَرَّرُوْا بَيْنَ ذٰلِكَ سَبِيْلًا بیہ چھہ بیٹھان ٹھرس تہ  
 ایمانس در میان کتھ ترمیم و تھہ کڈن اُولٰٓئِكَ هُمُ الْكٰفِرُوْنَ حَقًّا امہ قسمک لوکھ تم خدا ایس ایمان

يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝١٥۰ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ حَقًّا وَ  
 أَعْتَدْنَا لِلْكَٰفِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۝١٥١ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَ  
 رُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ  
 وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ۝١٥٢ يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَنْ تُنزِلَ  
 عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ الْكَبِيرَ مِنْ ذَلِكَ  
 فَقَالُوا أَرِنَا اللهُ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْقَةُ بِأَنْفُسِهِمْ ۗ ثُمَّ  
 اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْهُم

اَنْ پیغمبر تہمدین کرن انکار، یا اذین پیغمبرن کرن پڑھہ نہ اذین کرن انکار چھہ یقینا کافر وَاَعْتَدْنَا  
 لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا اسہ چھو کافر ن ہمدہ خیطرہ عذابہ ذلیل کرہ و ن تیار تھو و مت سوی عذاب ییہ  
 تمن نہ کرنہ - وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وون گنیہ تم لو کہ یمو پڑھہ کر  
 کئس خد ایس بیہ تہمدین پیغمبرن بیہ کر کہ نہ کانہہ فرق تمن اندر پڑھہ کر بحہ اعتبارہ ایمان آنہ بحہ اعتبارہ  
 أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ یعنی لو کن بیاہ کرہ اللہ تعالیٰ آخرتس اندر مزور بین عطا یوسہ تمن شو بیہ  
 وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَّحِيمًا اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ و ن، سیٹھاہ رحم کرہ و ن يَسْئَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ  
 أَنْ تُنزِلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِنَ السَّمَاءِ ای پیغمبر برحق اہل کتاب یعنی یسود چھہ درخواست کران تو بہ کہہ  
 تہہ والو تمن بیٹھہ ستا ہہ آسانہ بیٹھہ - اتھہ اہدس و نہ نس مہ کرو اعتبار فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ الْكَبِيرَ مِنْ  
 ذَلِكَ پس تحقیق درخواست نہ سوال کور تمو حضرت موسیٰ آس امہ خو تہہ بدہ چیزک فَقَالُوا أَرِنَا اللهُ  
 جَهْرَةً پس وون تمو حضرت موسیٰ اس کہہ اسہ ہاویون اللہ تعالیٰ ن پانٹھہ، بے حجاب - تا ییحہ اس  
 وچہون سو پنہ نیو اچھو فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْقَةُ بِأَنْفُسِهِمْ چنانچہ اتھہ گستاخی بیٹھہ رٹ تم ترٹہ - پنہہ ظلمہ نہ  
 شرارہ سببہ - تو پتہ گے حضرت موسیٰ سندہ دعاسیت بیہ زندہ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ



ذٰلِكَ وَاَتَيْنَا مُوسٰى سُلٰطٰنًا مُّبِيْنًا ۝۱۵۳ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ  
 الطُّوْرَ مِيْنًا قِيَمًا وَقُلْنَا لَهُمْ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَّقُلْنَا  
 لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَاَخَذْنَا مِنْهُم مِّيْنًا قَاغِيْلًا ۝۱۵۴  
 قِيَمًا نَقُضُهُمْ مِّيْنًا قَهُمْ وَكُفِّرُهُمْ بِآيٰتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ الرّٰسِيْنَ  
 بِغِيْرِحَقٍّ وَّقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلِيْهَا بِكُفْرِهِمْ

بَيِّنَاتٌ کورکھ بیاکھ شرارت - ووژھ بنووکھ معبودین - حق و باطلیہ کا ترازو نہ دلیلہ تمن نشہ واتنہ  
 پیہ یعنی معجزات حضرت موسیٰ علیہ السلام فَعَفَوْنَا عَنْ ذٰلِكَ پس کور بیہ آسہ تمن اتھہ جُرْمَس تہ  
 عَفْو تہ و رگڈر تہند توبہ کور بیہ قبول وَاَتَيْنَا مُوسٰى سُلٰطٰنًا مُّبِيْنًا بیہ کور عطا آسہ حضرت موسیٰ اس  
 نون غلبہ، بیہ کافی رُعب - مگر نہ کرسان عفو تہ در گذر کرن کا نہ اثر تمن پیٹھ نہ حضرت موسیٰ سند  
 رُعبن - بلکہ رُو تہم بدستور پنہ نس شرار تس پیٹھ تہ نافرمانی پیٹھ - وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّوْرَ مِيْنًا قِيَمًا  
 بیہ تہل آسہ کورہ طور تمن نشہ عمد رنہ خیطرہ تمن پیٹھ کن - مُعْلَق تہ الوند تھوو تمن سیدہ سیود وَقُلْنَا لَهُمْ  
 ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا بیہ کراسہ، حکم تمن شہر کہ دروازہ کن آژو خدا بس کن نمٹھ - وَقُلْنَا لَهُمْ لَا  
 تَعْدُوا فِي السَّبْتِ بیہ کریو حکم آسہ تمن بے وارہ و وہ مہ ڈولوسانہ حکمہ نشہ گاڈر تنس آندر وَاَخَذْنَا  
 مِنْهُم مِّيْنًا قَاغِيْلًا بیہ کرہ نا و آسہ تم وارہ پاتھہ عمد تہ اقرار مگر تمو پٹھہر اوساری عمد تہ اقرار قِيَمًا  
 نَقُضُهُمْ مِّيْنًا قَهُمْ وَكُفِّرُهُمْ بِآيٰتِ اللّٰهِ پس اسی سبب کہ تمو کیا پٹھر ووسو پنہن عہد - بیہ کورکھ انکار خدایہ  
 سندس آیاتن وَقَتْلِهِمُ الرّٰسِيْنَ بِغِيْرِحَقٍّ بیہ کمر کہ شہید حضرات انبیاء ناطق، کمر آسہ تم عذابس  
 گرفتار - وَقَوْلِهِمْ قُلُوْبُنَا غُلْفٌ بیہ تہندہ بیہ وندہ موکھ کہ سان دل چھہ محفوظ تمن کرہ نہ کا نہ بیاکھ  
 مخالفت دین یعنی اسلام عنہ قسمہ اثر - بیہ وندہ آندرہ پھو تہند مراد کہ آس چھہ پنہ نس مذ بس پیٹھ مضبوط تہ  
 چختہ - بَلْ طَبَعَ اللّٰهُ عَلِيْهَا بِكُفْرِهِمْ مضبوطی و چختہ گی چھہ کینہ بلکہ چھہ اللہ تعالیٰ ان تہندہ ہرہ سببہ  
 تہندین دلن پیٹھ شروک دیو تہمت تہ مہر کمر مژ - تا اینکہ پڑھتھہ ہند اثر چھو نہ بہندین دلن پیٹھ سپدان

فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۱۵۵﴾ وَيَكْفُرُهُمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا ﴿۱۵۶﴾ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا ﴿۱۵۷﴾ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴿۱۵۸﴾ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ

فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا پس ایمان آن نہ تم مگر کمی۔ سو کم ایمان قابل قبول چھونہ لہذا اچھے تم بے ایمان تہ کافرے وَيَكْفُرُهُمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَىٰ مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا یہ کفر اسہ تم عد اس گرفتار تہندہ کفرہ سبہ۔ یہ حضرت مریمس پیٹھہ بڈاپرتہ بھتان نوراونہ سبہ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَىٰ ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ۔ یہ یہ دعویٰ کرنہ سبہ کہ اسہ مور حضرت مسیح عیسیٰ حضرت مریم سندنیو پیغمبر خدا وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ حالانکہ یہ چھہ تم محض غلط تہ اپزونان۔ حقیقت چھہ کہ نہ مور سو تمونہ دیو محٹھہ پھہہ وَلَٰكِن شُبِّهَ لَهُمْ بلکہ آویاکہ شخص تین ہیو بناونہ۔ سوی دکھور تموکا ٹھس۔ سوی شخص دیو محٹھہ پھہہ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ پترپاٹھہ تم اتھہ منز اختلاف کران چھہ اہل کتاب اندرہ تم چھہ بڈس شکس تہ غلط خیالس منز قیمت مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ چھہہ تین اچ کا نہ خبراہ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ تخمینہ تہ قیاسی ٹھس پیروی کرنہ وراوی وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ حقیقت چھہ یہ کہ ہرگز کرنہ تمونہ ہود و حضرت عیسیٰ شہید۔ بلکہ کھار تم اللہ تعالیٰ ان پانس گن آسانس پیٹھہ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ چھو ہمیشہ سارنی پیٹھہ غالب حکمتہ وول پتہ قدرتہ سیت تہ حمتہ سیت موکہ لوون حضرت عیسیٰ علیہ السلام تہندہ شرہ نشہہ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ پترپاٹھہ اہل کتاب اندرہ کہینہہ لو کہ آن ضرور حضرت عیسیٰ اس ایمان تہندہ مر نہ ہر تھہ امہ اندرہ تہ چھو معلوم سپد انکہ ونہ چھہہ تم مومت کہینہہ بلکہ چھہہ ونہ زندے آسانس پیٹھہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُكُونُ عَلَيْهِمْ

وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ﴿١٥٨﴾ فَيُظْلَمُ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا  
 حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  
 كَثِيرًا ﴿١٥٩﴾ وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ  
 بِالْبَاطِلِ ۗ وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٦٠﴾ لَكِنِ  
 الرَّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ  
 وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ  
 الْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿١٦١﴾

شَهِيدًا قیامتک دوه دن تم یعنی حضرت عیسیٰ تمین یہودن ہندہ انکار کرچ گواہی فَيُظْلَمُونَ مِنَ الَّذِينَ  
 هَادُوا حَرَمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ پس یہودن ہندو ظلموتہ نافرمانیو سبہ کراس حرام تمین پیٹھے  
 رت رت لذیذہ مفید چیز تمین پیٹھے حلال آس بروٹھے وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا - بیہ تہندہ  
 وار بہن لوکن خدا یہ سزہ وتہ یعنی دین حقہ بچہ پیٹھے رسیجہ سبہ - وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ بیہ  
 سودہینہ خیرہ - حالانچہ تمہہ نچہ اوس تمین منع آمت کرنہ تور اتس آندر وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ  
 بیہ تہندہ ورا کی لوکن ہند مال ناحق مشروع ذریعہ ورا کی کھینہ خیرہ وَاعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا  
 آسہ چھو تمہو آندرہ کافرن ہندہ خیرہ تیار تھاومت عذابہ سیٹھاہ نڈر - لَكِنِ الرَّسُخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ  
 وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ لیکن تمیم یہودو آندرہ علم دیس آندرہ چھہ بیہ  
 تمیم تمہو آندرہ با ایمان چھہ تمیم چھہ پڑھ کران تھہ کتابہ یوسہ تمین نازل آسہ کرنہ بیہ تمین کتابن تمیمہ تمہہ  
 بروٹھے نازل آسہ کرنہ - وَالْمُقِيمِينَ الصَّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ بیہ تمیم  
 تمہو آندرہ نماز پڑھون چھہ، بیہ تمیم زکوٰۃ دوه ون چھہ - بیہ تمیم پڑھ کرہ ون چھہ کئس خدا پس بیہ پیٹھس  
 دوهس یعنی قیامتہ کس دوهس أُولَٰئِكَ سَنُؤْتِيهِمْ أَجْرًا عَظِيمًا یعنی لوکن گرو اوس عطا آخرتس منز

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ  
 وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ  
 وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ  
 وَاتِّبْنَا دَاوُدَ زَبُورًا ۗ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ  
 قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى  
 تَكْلِيمًا ۗ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ  
 عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۝

مزوریہ سیٹھاہ بڈ۔ اِنَّا اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ كَمَا اَوْحَيْنَا اِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ۔ پڑھاٹھ لہ سوز وحی توہم  
 کن یارسول اللہ تھے پاٹھ ہتھ پاٹھ آہہ وحی سوز حضرت نوح سے بین پیغمبرن پٹھ تم پتہ۔ وَأَوْحَيْنَا  
 اِلَى اِبْرَاهِيمَ وَاِسْمَاعِيلَ وَاِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْاَسْبَاطِ وَعِيسَى وَاَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ  
 وَاتِّبْنَا دَاوُدَ زَبُورًا۔ تموا آندرہ بعض حضرات تم کن آہہ وحی سوز مثلاً حضرت ابراہیمس کن حضرت  
 اسماعیلس کن حضرت اسحاقس کن، حضرت یعقوبس کن بہہ تہندین اولاد کن بہہ حضرت عیسی اس کن  
 بہہ حضرت یوسف کن بہہ حضرت یونس کن، بہہ حضرت ہارونس، بہہ حضرت سلیمانس۔ بہہ سوز آہہ  
 حضرت داؤدس کن وحی۔ آہہ کمر عطا تم نین کتاباہ زبور۔ وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ  
 وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا۔ بہہ سوز آہہ وحی تم پیغمبرن کن یہند حال  
 بروٹھ آہہ بیان کور۔ بہنز ذکر سورہ النعامس منز کرنہ آمر۔ بہہ تم پیغمبرن کن یہند حال نہ ونہ  
 آہہ توہم بیان کور بہہ کور اللہ تعالیٰ ان حضرت موسیٰ سے صاحب وحی۔ چنانچہ تم سیت کور اللہ تعالیٰ ان  
 کلام۔ خاص طور کلاماہ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ۔ ہم ساری پیغمبر سوز آہہ ایمانس پیٹھ نتاج بشارت دودہ ون  
 وَمُنذِرِينَ۔ کفرس پٹھ عذابک نیم کرہ ون لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ

لَکِنَ اللّٰهُ یَشْهَدُ بِمَاۤ اَنْزَلَۤ اِلَیْکَ اَنْزَلَهُۥ بِعِلْمِهِۦ وَالْمَلٰٓئِکَةُ  
 یَشْهَدُوْنَ وَکَفٰی بِاللّٰهِ شَهِیْدًا ﴿۱۶۷﴾ اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَ  
 صَدُّوْا عَنِ سَبِیْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْۤا ضَلٰلًاۙ اَعِیْدًا ﴿۱۶۸﴾ اِنَّ  
 الَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَاطْلَمُوْۤا لَمْ یَکُنِ اللّٰهُ لِیَغْفِرْ اَمْرًا وَّلَا لِیَهْدِیْهُمْ  
 طَرِیْقًا ﴿۱۶۹﴾ اِلَّا طَرِیْقَ جَهَنَّمَ خٰلِدِیْنَ فِیْهَاۙ اَبَدًا وَّكَانَ ذٰلِکَ

پیغمبر بناوٹھ سوزا سہ تم می موکھ کہ شہدہ لوکن عذراہ خدا پس نشہ پیش کرنہ خیطرہ باقی روزہ سہم  
 حضرات انبیاء سوزنہ پتہ۔ ورنہ تم بچہ ہن ورتھہ قیامتک دؤہ وار بین کھن ہندرت آسن سہندہ آسہ  
 معلوم عقلہ سیت لہذا کیا ہنگناہ چھو سونو یہ دنہ نچ تھاو نہ خدا لہن کانسہ گنجائش وکان اللہ عزیزاً حکیمًا  
 اللہ تعالیٰ چھو پنے نین کا مین اندر سارنی پٹھہ غالب تمہ اعتبارہ ہبچہ ہاسو تمن عذاس گرفتار کر تھہ۔ مگر  
 سارنی کا مین منز چھو حکمتہ وول تمسنر حکمت پیغمبر سوزنس لَکِنَ اللّٰهُ یَشْهَدُ بِمَاۤ اَنْزَلَۤ اِلَیْکَ  
 اَنْزَلَهُۥ بِعِلْمِهِ۔ لیکن اللہ تعالیٰ چھو گواہی دوان تمہ کتابہ ہندہ ذریعہ یوسہ توبہ کن نازل کرن۔ نازل تہ  
 کرن سو پندہ کمال علمہ سیت۔ سہم کتابہ جن تہ انسان اولین و آخرین عاجز کر تھہ ہیواکھ آسہ کریمہ  
 پیش کرنہ نشہ تمی سبہ چھہ سو کتاب بد دلیل تہندس نبوتس پٹھہ وَالْمَلٰٓئِکَةُ یَشْهَدُوْنَ۔ یہ چھہ  
 ملائکہ تہ گواہی دوان تہندس نبوتس پٹھہ وَکَفٰی بِاللّٰهِ شَهِیْدًا حقیقت چھہ کہ اللہ تعالیٰ چھو گواہ آسس  
 اندر بس۔ اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْۤا وَصَدُّوْۤا عَنِ سَبِیْلِ اللّٰهِ قَدْ ضَلُّوْۤا ضَلٰلًاۙ اَعِیْدًا بیشک سمبولو کو نہ  
 دلیلہ وچھتھہ تہ انکار کوربہہ رکھہ لوکھ تہ پتھہ خدایہ سزہ ورتھہ نشہ یعنی دین اسلامہ نشہ تم ڈل سزہ ورتھہ  
 نشہ۔ ہزہ نشہ سیشاہ دور گراہی اندر اِنَّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْۤا وَاطْلَمُوْۤا لَمْ یَکُنِ اللّٰهُ لِیَغْفِرْ اَمْرًا وَّلَا لِیَهْدِیْهُمْ  
 طَرِیْقًا ہز پات سمبولو کو انکار کوربہہ کورکھہ ظلم لوکن نقصان عظیمہ واتانہ سیت، دین تھہ نشہ چھہ رتھہ  
 سیت اللہ تعالیٰ کر نہ تم زانہ تہ جشائش۔ یہ ہاو نہ تم ورتھہ جنس کن الاطریق جہنم خلدین فیہا  
 ابدا مگر ہاو کھ نچ ورتھہ تھہ منز چھو روزن تم ہمیشہ ابد آلاباد وکان ذلک علی اللہ یسیرا اللہ

عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿١٦﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ  
 مِنْ رَبِّكُمْ فَامْنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾  
 يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ  
 إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ  
 أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَامْنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ تَتَوَلَّوْنَ

تعالیٰ آس نشہ چھو یہ سزا دین تمن سیٹھاہ سسل تہ آسان  
 مِنْ رَبِّكُمْ فَامْنُوا خَيْرًا لَكُمْ ای ساری جمانہ کیولو کو پز پیاٹ او توہہ کن یہ پیئمبر برحق حضرت محمد عربی  
 صلی اللہ علیہ وسلم پز تھہ، پوز دعویٰ تہ پز دلیل ہتھ تھندس پروردگارہ سندہ طرفہ لہذا چھو پوز دعویٰ  
 دلیل آسن لازم کہ تھہ کرد پز تھہ تمن بیہ کرو یقین تھہ بیہ تم فرماون۔ یہ چھو تھندہ خیطرہ سیٹھاہ ہتر  
 وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ہر گاہ تھہ انکار کرد تمیک نقصان چھو توہہ پائس۔  
 خدا بس چھونہ تمیک کانہہ پرول کیا زہ بیشک تھندوی چھو ملک تہ سوڑی یہ آسمان اندر تہ زمینس اندر  
 چھو۔ لہذا تھس بدس مالکس کیاہ نقصان بیجو تھہ واتناوتھہ پنہ انکارہ سیت وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا  
 حَكِيمًا اللہ تعالیٰ چھو پوز زان وول سارنی ہندہ ایمانک تہ کفرک۔ حمتہ وول تھنز حمت چھنہ  
 مُقْتَضًى بِتَهْتِه تَهْتِه كِه مَعْرِكِيَا كِه هِن فورا گر فثار عذاب کرن يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ ای اہل  
 کتابو یعنی نصارومتہ کرو پنہ نس دنیس اندر زیادتی۔ حدہ نشہ مہ نیر ونبہ پیئمبرن ہندس تعریف کر نس  
 اندر۔ مہ ٹھہر او یو کھہ تم خدا یہ سند پجو۔ خدا چھو اولاد آسنہ نس منزہ تہ پاک۔ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا  
 الْحَقَّ بیہ مہ ونبو خدا بس نسبت کیہہہ تہ مگر تی یہ پوز چھو إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ  
 كَلِمَتُهُ چھونہ حضرت مسیح عیسیٰ حضرت مریمہ سند پجو۔ مگر چھو پیئمبر خدا یہ سند بیہ تھندہ حکم أَلْقَاهَا  
 إِلَى مَرْيَمَ نِس تم واتنوو حضرت مریمس کن وَرُوحٌ مِنْهُ بیہ چھو اللہ تعالیٰ سند اکھ روحہ وول یعنی

تَقُولُوا ثَلَاثَةٌ ۖ إِن تَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهُ وَاحِدٌ ۗ  
 سُبْحٰنَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ ۗ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي  
 الْأَرْضِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿٤١﴾ لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ  
 يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ ۗ وَمَنْ يَسْتَنْكِفْ  
 عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا ﴿٤٢﴾ فَأَمَّا

جانداراہ۔ سو جان نہ زووا تو واللہ تعالیٰ ان جبریل امینہ سندرہ پھو کہ کہ واسطہ حضرت مرتس منز۔ سونہ  
 چھو خدایہ سندیچونہ چھو خدا۔ نہ چھو تریو خدایہ اندرہ اکہ تم ساری عقائد چھہ باطل تہ ایزیلہ سمہ  
 سارے کتھ باطل تہ ایزہ چھہ لہذا کرو تہہ ساری امہ نشہ توبہ۔ **فَاٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ**۔ پس پڑھ کرو  
 کنس خدا پس یہ تہندن پیغبرن۔ تمنی ہنزہ تعلیمہ موجب زانیون خدا کنوی، توحید کرو اختیار۔ تثلیث  
 گالوتہ توحید پالو **وَلَا تَقُولُوْا ثَلٰثَةٌ**۔ یہ کتھ مہ ونیو کہ خدا چھہ تریہ **اِنْتَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ**۔ یہ گو  
 شرک۔ پڑھ کتھ ونہ نشہ یعنی شر کہ نشہ زو و چھہ تی چھو تہندہ خیرہ بہتر **اِنَّمَا اللّٰهُ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ**  
 کیا زہ معبود برحق چھونہ مگر کنوی **سُبْحٰنَهُ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ وَلَدٌ** منزہ تہ پاک چھو سوا اولاد آسنہ نشہ۔  
 تمس کیا ہ ضرورت چھہ اولاد ہنز۔ **لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ** تہندی چھوتہ سوزوی یہ  
 آسان اندر چھو یہ زمین اندر چھو۔ **وَكَفٰى بِاللّٰهِ وَكِیْلًا** سو چھو ساری بدن ہنزہ کامہ خیرہ کنوی  
 کافی۔ سوی چھو کار ساز مطلق۔ یہ چھہ تمسدہ معبود برحق آج بڈ دلیل۔ تس و رای تم چھہ تہ تم  
 ساری چھہ کار سازی اندر تس گن محتاج۔ لہذا چھونہ معبود آسنس سزوار تس و رای کانہ تہ۔ نصاری  
 چھہ بل حضرت عیسی اس تہ ملائکہ مقرر بین معبود تہ خدا زانان۔ حالانکہ تمو کرنہ پانہ زانہ انکار خدایہ  
 سہ بندہ آسنہ نشہ۔ نہ کرن تم زانہ تمہ نشہ عارتہ مند چھہ۔ یہ کرن نہ زانہ مند چھہ تہ عار ملائکہ  
 مقرر بین مثل جبریل امین وغیرہ۔ کیا زہ تمن چھہ خبری کہ خدایہ سزہ بندگی نشہ عارتہ مند چھہ کرنک  
 نتیجہ کیا چھو **لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَسِيحُ اَنْ يَكُوْنَ عَبْدًا لِلّٰهِ وَلَا الْمَلٰٓئِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ** عار چھونہ زانان

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَ  
 يَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ ۚ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكفُوا وَاسْتَكْبَرُوا  
 فَيَعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۗ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
 وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿۱۴۶﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ  
 مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ تَوْرًا مُبِينًا ﴿۱۴۷﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ  
 آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ

پانہ مسیح یعنی حضرت عیسیٰ خدایہ سُد بندہ آسمس بیہ نہ مقرب ملائک و مَن یَسْتَنکِفُ عَنْ عِبَادَتِهِ  
 وَیَسْتَكْبِرُ تم چھہ زانان کہ نُس کھاہ خدایہ سنز عبادت کرنہ نشہ عارتہ بحیرہ کرہ فَسَبَّحُوا لَهُمُ الْبِیْه  
 جَمِيعًا پس اللہ تعالیٰ کرہ سارنی لو کن پانس بروئھ کنہ قیامتک دوه جمع فَاثُمَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
 الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ توپتہ سمو لو کو ایمان آنتھ رثہ عملہ آسن کرہ  
 مژہ تم دیہ پوز مزدور۔ بیہ کر کھیہ زیادہ پنن فضل عطا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيَعَذِّبُهُمْ  
 عَذَابًا أَلِيمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا بیہ سمو لو کو خدایہ سنز عبادت کرنہ  
 نشہ عارتہ بحیرہ کورمت آسہ پس کرہ تم عذاب۔ سوی آسہ کڈر عذاب۔ توپتہ لئن نہ تم پنہ رہانی  
 خیطرہ خدایس ورائی نہ کانہہ دوستانہ کانہہ مددگارہ۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ  
 وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ تَوْرًا مُبِينًا ای ساروی لو کو بیشک آسہ توہہ کن تھندس پروردگارہ سہہ طرفہ بد  
 دلیل، ہڈت یعنی ذات مبارک حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بیہ کوراسہ نازل توہہ کن  
 نورہ روشن تہ صاف یعنی قرآن مجید فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ پس سمو لو کو  
 پڑھ کمر کئس خدایس بیہ رُو دتھپ کمر تھ تھندس دئس سمہ خیطرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیہ  
 قرآن مجیدس پڑھ کرن لازم چھ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ پس واتا وہ تم سو پنہ نس  
 رحمتس اندر سو گو جنت بیہ فضلس اندر سو گو چتہ بچہ نعمہ، دیدار خدا رضای الہی وَیَهْدِيهِمْ إِلَى



مِنْهُ وَفَضْلٍ لَّا يَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝<sup>٤٥</sup>  
يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنْ أَمْرُو أهلكَ  
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ، وَهُوَ يَرِثُهَا  
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا  
تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ  
الْأُنثَى ۚ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝<sup>٤٦</sup>

صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا بیہ باوہ تمین و تھہ پنہ نس قر بس کن۔ و تھہہ سیر۔ یَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ  
يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ لو کہ چھہ توہہہ نہہ فتویٰ طلب کران کلاس متعلق کالہ گو بس نہ وارثو اندر نہ  
مول آسہ نہ اولاد آسن۔ تہہ فرما دیو کہ کہ اللہ تعالیٰ چھو توہہہ یہ حکم فرماوان کلاس متعلق۔ إِنْ أَمْرُو  
أهلكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ یلہ کانہہ شخصہہ مرہ تس روزہ نہ چھہ کن اولاد نہ  
آسیس مول موج۔ فقط آسیس بینہ، سچھہ بینہ بس چھو تس (بینہ) تمسندہ مالہ منزہ و اتان نصف حصہ، باقی  
نصف حصہ گو عصبو اندرے کانہہ آسیس نہ تس۔ ہر گاہے آسیس۔ تلہ یہ سو نصف حصہ تہ آسیس بینہ  
و نہ۔ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ سو کالہ چھو وارث سپدان اس بینہ ہند ہر گاہہ سو مرہ تس روزہ  
نہ پتھہ کن پٹن اولاد کینہہ تہہ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَ بس ہر گاہہ کانہہ روزان پتھہ کن  
زہ یاد دیو خونہ زہ یاد بینہ تمین چھو آسندہ مسز کہ مالہ منزہ و اتان تریو حصو منزہ زہ حصہ۔ وَإِنْ كَانُوا  
إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَى بیہ ہر گاہہ کانہہ روزان پتھہ کن باسے تہ بینہ، مرد تہ  
زنانہ، بس چھو تمین و اتان مردس زہ حصہ زنانہ کہ حصہ آسندہ مالہ منزہ یُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا  
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو دینک احکام توہہہ فرماوان تہ بیان کران پتھہ نہ چھہ ناواقفی سبہ گمراہ  
سپدو۔ اللہ تعالیٰ چھو پرتھہ چیزہ پورزانہ ون۔

## سُورَةُ الْمَائِدَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ  
 الْأَنْعَامِ إِلَّا مَيْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرُ مَحْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ  
 يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ① يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ اے ایمان آورے! ایمان اُن سے چھو مکان سے چھو کہ تمہارے پورے پورے معاہدہ تم توہم ایمان اُن سے منہ خدا سے سیت کر مت چھو۔ یعنی شریعت کے احکام اُن سے بجا۔ کیا یہ ایمان اُن سے سیت سپرد توہ پیٹھ تم ساری احکام لازم۔ لہذا اُن سے چیز لازم سے منہ کھوت سے گوشت پورہ کرن سے پورہ ہو رُن اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ حلال آئی کہ نہ تہمہہ خیطہ چار پاگن سے تیر چار پاگنہ اُن سے اَلْمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ تم چار و این درائی تہمہہ حکم توہم پیٹھ برونٹہہ پر نہ پیہ غَيْرُ مَحْلَىٰ الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ۔ مگر شکار کرن گدھ نہ حلال زانن بلکہ جگ یا عمر ک احرام گنڈت آسویاتہہ زمین پاکس اُن سے آسویاتہہ حرم و نہ پوان چھو اِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ہر پائے اللہ تعالیٰ چھو سوئی حکم فرماوان اُن سے حکم۔ ہر شان چھو۔ کانسہ ہند طاقت چھو نہ چون و چر اگر نک۔ ہر کیا یہ تہہ کونہ۔ سوئس جانور سے ہر شان چھو تس چھو ہمیشہ خیطہ حرام کران۔ پس ہر شان چھو تس ہمیشہ خیطہ حلال کران۔ پس ہر شان چھو تس چھو ٹہہ مخصوص حالتس اُن سے حلال کران۔ پس ہر شان چھو تس چھو ٹہہ خاص حالتس اُن سے حرام کران۔ اے لوگو توہم چھو پر تہہ حالتس منہ حکم تقیل کرن لازم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ اے ایمان آورے! حلال سے زانو یعنی بے خرمتی سے کہہ خدا سے سیدین وینہ کین سے عبادت سے کین نشان۔ یعنی پس چیزن ہندہ ادب سے تعظیم کر نک حکم کرنہ آو تم کمن خلاف کر تہہ تم چیزن ہنر بے ادبی کرن چھو حرام۔ مثلاً حرم شریفک سے احرامک ادب چھو احرام گنڈت سے حرم شریفس منہ آتہہ گدھ نہ شکار

الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَيْمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ  
يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا  
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن  
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ

کرن یہ چھو حرام۔ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَيْمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ یہ مہ کروہ  
خر متی تعظیمہ والین ریتن۔ تم گے ذیقعدہ، ذی الحج، محرم تہ ماہ رجب۔ یمن ریتن اندر مہ کروہ کافر ان  
سیت جنگ یہ مہ کروہ خر متی تمن جانورن تمن ہنز رہ نال یوان چھو تراونہ۔ تم کیا یمن خدلیہ سندہ  
خیطرہ خر مس منز قربان کرنہ۔ کیا زہ تم چھہ خدلیہ سند نیاز۔ یہ نیاز تھاویون مخصوص تہندی  
خیطرہ۔ تس ورا ی یہ کانسہ ہندہ خیطرہ ادہ سو ملک مقرب آسن یانہی مُر سل یا لئی اکمل۔ تس ورا ی  
بہ کانسہ ہندہ خیطرہ کانہ جانورہ نیاز تھاون یہ گوثرک محض حرام۔ بہ مہ کروہ خر متی تمن لوکن  
سیم عزتہ والہ گہرہ زیارتہ خیطرہ یوان آسن یعنی کعبہ شریفکہ زیارتہ خیطرہ یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ  
وَرِضْوَانًا سیم ژھاٹڈان آسن پنہ نس پروردگارہ سند فضل تہ رضا مندی۔ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا  
توپتہ یلہ حج یا عمرہ کرت موکہ لو، احرام مژراو وپس کرو وپکار۔ ہر گاہ توہہ حج خواہش آسہ بشرطیکہ سو  
پکار آسہ نہ حرم شریفس منز وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا  
باعث مہ بنن توہہ ہرگز تمن لوکن ہنز دشمنی سمونہہ چھہ رچیوہ کعبہ شریفکہ زیارتہ نشہ حد تبیس  
گن۔ چہہ کیاہ ڈلوحدہ توپتہ کروا حکان ہنز خلاف ورزی۔ تمن یہو انتقام قتل و غارت کرنہ سیت۔ تمن  
نشرہ روزوہ چھہ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ اکھ اکس کرو مدد وژن کا مین اندر بہہ پرہیز گاری اندر  
شرعی احکا من پٹھہ پابندی کرنس اندر۔ تمیک آسو اکھ اکس ترغیب ووان۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ  
وَالْعُدْوَانِ مدد مہ آسو کران اکھ اکس گنہن، چھہ کا مین تہ طلسم اندر۔ مثلثائے حکم سیم چھہ تمن خلاف  
کرنس اندر مہ آسو کانسہ مدد کران وَاتَّقُوا اللَّهَ کھوژو خدائیس تس کھوژنہ سیت چھہ سارنی حکم

وَالْعُدْوَانَ مَا اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝۲  
 حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَحُمُّ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ  
 اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا  
 أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا

پیٹھ پابندی گرن سسل تہ آسان سہ ان ان اللہ شَدِيدُ الْعِقَابِ اللہ تعالیٰ چھو پڑ پاٹ احکامن ہنز  
 مخالفت کرہ وینن سخت عذاب کرہ و ان حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَحُمُّ الْخِنْزِيرِ حرام آی کر نہ توہم  
 پیٹھ اکی مسلمانو تم چیز، مُردار جانور نئس شرعی گھش کر نہ و رای پائے آسہ مؤمت، بیہ زٹھہ یعنی ٹھون۔  
 بیہ سورہ مازہ بیہ تمسہ ساری اجزاء۔ تمّن ترین چیزن اندر چھہ مادی خباثت تہ گندگی لینہ یوان۔ امہ پتہ  
 فرمؤ و خدا سنن تمّن حرام چیزن ہنز ذکر تم بذات خود حلال تہ پا کھی آسن مگر مالک حقیقیس و رای بیہ  
 کانسہ ہند قرب تہ رضامندی تمہ سیت ژھاٹنہ خیطرہ آوسو بیس کن لاگنہ تہ نامزد کر نہ۔ نئس نہ خاق و  
 مالک چھو مؤت و حیاتک۔ تمہ مکھہ سپنر آتھ اندر بد نیتی ہنز تہ بد اعتقادی ہنز اکھ ناپا کیاہ تہ خباثناہ  
 پیدہ لہذا آویہ تہ حرام کر نہ سوگو وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ بیہ چھو حرام سو جانور نئس خدا نئس و رای بیہ  
 کانسہ ہندہ ناوہ تھانہ بیہ وَالْمُنْخَنِقَةُ بیہ نئس ہوت بیہ چیرنہ وَالْمَوْقُوذَةُ بیہ نئس ژنجہ سیت مارنہ آسہ  
 آمت وَالْمُتَرَدِّيَةُ بیہ نئس تھز رہہ پیٹھ کوہ پیٹھ یا کیرس منزوس پیٹھ مؤمت آسہ وَالنَّطِيحَةُ بیہ نئس  
 جانور بیس جانورہ سنز و ٹھولہ سیت مؤمت آسہ۔ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ۔ بیہ نئس جانور کانسہ درندن ژاپلن  
 کھیومت آسہ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ مگر نئس ساروی جانور زو اندرہ کانسہ جانورس امہ صدمہ سیت مرنہ  
 بروٹھ زندے آتھ شرعی ذبح کر نہ بیہ سو چھو حلال۔ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ۔ بیہ چھہ حرام تم جانور  
 تم ذبح کن کر نہ تمّن جائین، تمّن جائین خدا نئس و رای بیہ کانسہ ہنز پرستش کر نہ یوان آسہ یا خدا یہ  
 سندہ گرہ یعنی خانہ کعبہ و رای۔ بیہ ٹنہ جاہی ہندہ تعظیمہ خیطرہ ذبح کر نہ یکن۔ اگرچہ ذبح کر چھہ وقتہ اتن  
 تس پیٹھ بسم اللہ اللہ اکبرے پر نہ۔ سوگو حرام وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْكَرِ بیہ چھو حرام تہہ کیاہ کرو  
 مشترک جانورہ سندماز تقسیم زارہ کیوتیر و سیت ذَلِكُمْ فَسُقُ بیہ سوروی چھو گناہ ناجائز تہ حرام سمؤ

بِالْاِزْلَامِ ذَلِكُمْ فَسُقُطِ الْيَوْمِ يَسِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ  
 فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتَمَمْتُ  
 عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي  
 مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِاِثْمٍ فَاِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۰﴾ يَسْئَلُونَكَ  
 مَاذَا حَلَّلَ لَهُمْ قُلُوبُ اِحْلَ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ وَمَا عَلَّمْتُمُ مِنَ الْجَوَارِحِ

جیز و نشہ روز و پتہ الْيَوْمِ يَسِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ از کہ دوہہ (یعنی ۹ ذی الحجۃ الحرام ۱۰ھ، حجۃ الوداعہ دوہہ نُس پیٹوم حج اوس نبی کریمہ سُنَدِ صلی اللہ علیہ وسلم سہمہ پتہ قریب تر یور یو انتقال پُر ملال سید حضرت پیغمبر اسلامہ سُنَدِ سید کافر نا امید ٹہندہ دینیکہ مغلوب سید نہ نشہ کیا زہ لچھہ بود لاکہ آس امہ دوہہ حاضر اتھ جس اندر فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ ۔ نُس مہ کھو ژو تہن کافر ن۔ ہلچہ کھو ژو مے یعنی میانین احکامن ہنزمہ کرو مخالفت اَلْيَوْمِ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ از کی دوہہ کر مکمل مہ ٹہندہ خیطرہ ٹہندہ دین۔ قوتس اندرتہ احکامتہ قولعدن ہندس پور کر نس اندرتہ سہمہ سیت کافر ما یوس سید وَاَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْاِسْلَامَ دِينًا بیہ کر میہ امہ اکمال دین کرنہ سیت پور توہہ پیٹھہ پن نعمت۔ بیہ رو دس بو ٹہندہ خیطرہ راضی، ٹہندہ دین دین اسلام آسنس۔ بیہ چھو مہ ٹہندہ دین آسنہ موکھہ ہمیشہ ہند۔ وون روزہ قیامت تان ٹہندہ یوہے دین۔ بیہ دین منسوخ کرت بیہ نہ بیا کہ دینا ہر گز تجویز کرنہ۔ نُس شوبہ توہہ شکر گذار سید تھ اتھ دینس پیٹھہ پور قاسم روزن۔ امہ کین احکامن پیٹھہ پور پابندی کرت۔ امہ بروٹھہ ہم احکام توہہ بو زوہ کہ کم چیز چھہ حرام تھ متعلق چھہ بیہ کتھ کہ قَمِينِ اضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِاِثْمٍ نُس نُس شخصہ ہر ایشان آسہ سید مت بو چھہ ہندہ سببہ، کئہ گنہس گن مایل سید نہ خیطرہ نہ، سوی سَمُو حرام چیز و اندرہ کانہہ چیز کھیہ تس چھو اجازت تمیک فَاِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ کیا زہ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ وون سیٹھاہ رحم کرہ وون يَسْئَلُونَكَ مَاذَا حَلَّلَ لَهُمْ لَوَکھہ چھہ توہہ پر ژھان کہ شکار ہونیوتہ پازہ سندر ٹیو جانور و اندرہ ٹہہ کہہ جانور آوٹہندہ خیطرہ حلال کرنہ قُلُوبُ اِحْلَ لَكُمْ الطَّيِّبَاتِ ٹہہ فرما بود کہ حلال آئے تھاونہ بدستور ٹہندہ خیطرہ ہم ساری حلال جانور ہم

مُكَلِّبِينَ تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَمِلَكُمْ اللهُ فَكُلُوا مِمَّا امْسَكْنَ عَلَيْكُمْ  
 وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۳﴾  
 الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ  
 لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلَلٌ لَّهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ

ہوئیں تہ پازن ہندہ ذریعہ شکار کرنے بروٹھ حلال کرنے آمت آسن۔ ہونین بیازن ہندہ شکار کرنے سیت یا  
 تہندہ آس منزر ہندہ سیت پیہ نہ تہندس حلال آسئس پیٹھ کانہ اثر وَمَا عَمِلْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ  
 تَعْلَمُونَهُنَّ مِمَّا عَمِلَكُمْ اللهُ بیہ سم شکارہ جانور تہہ پچھہ ناویو کہ شکار کرن تمہ طریقہ سمہ طریقہ تہہ  
 اللہ تعالیٰ ان شریعتہ ذریعہ پچھہ ناوہ سو طریق گوئیو ہے کہ ہون گڑھہ پچھہ ناون کہ شکار س رٹہ مگر  
 تمسندہ مازہ منزہ کھیہ نہ پانس اکھہ رٹھہ تہ۔ تھہ پاٹھہ پیہ پازس تعلیم دنہ کہ ہر گاہ تس وانس پیہ خیطرہ  
 آوازیہ دنہ، فور ایہہ وانس، سوے اڈہ شکار س پتہ دوران تہ آسہ فَكُلُوا مِمَّا امْسَكْنَ عَلَيْكُمْ امہ قسمک  
 شکارہ جانور نئس شکارہ تہندہ خیطرہ رٹھہ آن، پئس کھیو تہہ حمہ منزہ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ بیہ آسو تم  
 ہون بیاز شکار س پیٹھ تراوہہ وقتہ خدایہ سند ناوہ ہوان یعنی بسم اللہ پر تھ آسئو کہ تراوان۔ بیہ کھو ژو تہہ  
 خدائس تم سارنی تھن اندر یعنی تمکن آیت کریمین اندر فرماو اللہ تعالیٰ ان شکار جانورن ہندہ ذریعہ  
 شکار کر نکب ژور شرط۔ اکھ گو شکار ہون وغیرہ گڑھن شکار کرن پچھہ ہوان۔ تو پتہ سن تم شکار س پیٹھ  
 تراوند۔ بیہ ایہ امہ وقتہ بسم اللہ پر نہ۔ بیہ واتاوان تم سو شکار توہہ برٹھ گن وَاتَّقُوا اللهَ بیہ  
 آسو سارنی کائین اندر اللہ تعالیٰ اس کھوژان۔ شکار کر نس منزہ آسو تمہہ قسمہ مشغول سپدا نکہ نماز یا بیو  
 فر ایضو نشہ سپد وغافل۔ یا شکار حلال سپد نہ کیو۔ تمو ژور و شرطو اندرہ منہ شرطس منز کرو پہلو تہی۔ إِنَّ اللهَ  
 سَرِيعُ الْحِسَابِ بیشک اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ جلد حساب ہیوہ دن سمہ پتہ سو سارنی جزاتہ سزاویہ۔ لہذا  
 گڑھہ تس کھوژان الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ اژکہ دوہہ پیٹھ پاٹھہ دینی، ابدی امہ انعامہ سیت تہہ  
 مشرف سپدہ تھہ پاٹھہ آو توہہ اکھ ذنیوی انعامہ تہ عطا کرنے سو گوئیہ کہ از آی حلال کرنے تہندہ خیطرہ  
 رتہ تہ پاک چیز ہمیشہ خیطرہ ہم نہ زانہہ تہ آئندہ حرام سپدن وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلَلٌ لَكُمْ

مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَ اتَّيَمُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ  
مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخُسْرَيْنِ ۝

وَعَامُّكُمْ جِلْدُكُمْ بِسِيَةِ يَهُودِيَّةٍ خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ لَوْ كُنَّ يَهُودِيَّةً كَشَّ كَشَّ كَرْنَةُ آمَتِ جَانُورِيَا تَهْتَدُ  
اتھ زنہ آمت غذا سمن کتاب آیہ عطا کرنے یعنی یہودیت نصاری۔ سب سے بہتر تہندہ اتھ کھش کرنے آمت  
جانور یا زنہ آمت طعام تہندہ خیرہ حلال وَالْمُحْصِنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصِنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا  
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَ اتَّيَمُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ سب سے بہتر پانچ حلال چھ تہندہ خیرہ آزاد پاک زانہ با ایمان  
آندرہ سب سے بہتر پانچ حلال پاک زانہ تم لو کو آندرہ سمن تو بہر برو تھ آیہ کتاب عطا کرنے یعنی یہود  
نصاری او آندرہ پلہ تہ باقاعدہ سمن مہر تہند عطا کر و مُحْصِنِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ درحالیہ کہ توہ آسیدو کہ  
تمہ زانہ پنہ نس نکاح اندر آندہ ون۔ سمن سیت نن پانچ تھہ کام کرہ ون آسونہ۔ الحاصل کتابی زانہ  
سیت نکاح کرن چھو شریعت اسلام میں اندر جائیز مٹرک زانہ سیت چھونہ جائیز تمہ خیرہ چھو صریح  
حکم ممانعتک قرآن مجید س منز موجود وَلَا تَنْكِحُوا النَّسْرَةَ حَتَّى يُؤْمِنَ مٹرک زانہ سیت مہ  
کرو نکاح یوتان نہ تمہ ایمان آن۔ مگر یہ تھہ گڑھہ تھاون یاد کہ سانہ و تھک نصاری چھہ عموماً ناوہ  
خیرہ نصاری سمن آندرہ چھہ اکثر تم سمن نہ سمنہ آسمانی کتابہ مانان چھہ نہ چھہ سمنہ مذہب مانان بلکہ چھہ  
تم خدا میں تہ مانان سمن اہل کتاب ون چھو بے کار۔ لہذا تہندہ مذہب حکم یا تہنر زانہ ہند حکم چھونہ  
اہل کتاب ہند ہیو حکم۔ یہ گڑھہ تھاون نظرہ تل کہ سمنہ چیزہ حلال آسک مطلب چھو کہ تھہ آندرہ چھونہ در  
ذات خود کا نہہ حرام آسک و چھہ۔ مگر ممکن چھو کا نہہ خارجی چیز آسہ تمہ قسٹک لبہ یوان سمنہ سبہ سو  
حلال چیز استعمال کرنے سبہ بہ وار یہن حرام چیز ہندار نکاح آسہ سدا ان بلکہ آسہ خطرہ ٹھرس بتلا  
سدا نک تھہ حلال چیزہ سیت فاسدہ تہ نفع تلن چھونہ جائیز موجودہ زانس منز یہود و نصاری ان سیت  
وو تھن یہن۔ کیون چون بے ضرورت اختلاط کرن، تہنر زانہ ہند س زانس آندر لکن سمن چیزن  
ہند سمن نتیجہ نیر ان چھو سچ چھہ ساری پور خبر۔ لہذا چھو بدی نشہ تہ بددینی ہند یو اسباب و ذرایع نشہ  
اجتناب کرن تہ لوب روزن لازم وَلَا تُتَّخِذِي أَخْدَانٍ سب سے نیارز لاگھہ پوشیدہ پانچ تھہ کام کرہ ون

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا  
وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ  
إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ  
مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ  
أَوْ لَسْتُمْ بِالنِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخٰسِرِينَ بہ نِس اکھاہ شر یعتکین لحمین انکار کرہ، یعنی حلال قطعی زانہ حرام تہ حرام قطعی زانہ حلال ہمہ کس حلال آسئس تہ سمہ کس حرام آسئس کرہ انکار۔ پس تحقیق تمنز پریتھہ رث عملاہ گزہہ ضایع تہ برباد۔ سو شخص آسہ آخرتس اندر تاوان تہ نقصان زدو آندرہ لہذا از ابو حلال چیز حلال تہ حرام چیز حرام **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ** ای بایمانویلہ ہنہ نماز پر نہ خیرہ و تھان آسو نماز او اگر نک ارادہ کران آسو ہتھہ حاکس منز کہ ہنہ آسو باطہارت تہ با وضو جس کمر و گوڈہ وضو حج طریق چھہ یہ کہہ **فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ** کس آسو گوڈہ پھھلان ہتھہ ہنن یہ نہ پنے کھونہ وکن تان۔ بیہ آسو مح کران یعنی اوریو اتھو دیوسیت کس پنے نس ہتھس دو ان۔ بیہ آسو کھ کھور ہنن نہ نین تان پھھلان۔ سم ژور چیز چھہ طہارت تک فرض امہ علاوہ باقی چیز گئے سنت تہ مستحب **وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا** ہر گاہ ہنہ آسو بے غسل۔ تلہ کرو نماز لاگنہ برو نھہ سو زوی بدن پورہ پاک۔ **وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ** ہر گاہ ہنہ بیمار آسو آب استعمال کرن آسوہ مضر یا مسافر آسو آب میسر پدن آسوہ دشوار **أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ** یا بیہ توبہ آندرہ کا نہہ بڈہ حاجتہ یا لوطہ حاجتہ نشہ فارغ ہدیت **أَوْ لَسْتُمْ بِالنِّسَاءِ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً** یا کرو اورہ یور تھپ زنان سیت یعنی تم حرکات سمو سیت غسل منہ گھسان چھو توپتہ کہونہ موقعہ آب استعمال کرنک آب نہہ بنہ موکھہ یا آب استعمال کرن مضر آسنہ موکھہ **فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا** نہس کرو امہ بدل میثر استعمال کرنک ارادہ



طَيِّبًا فَاَمْسَحُوا بوجوهكم وَايديكم مِنْهُ مَا يَرِي اللهُ  
 لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ وَ  
 لِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۶﴾ وَاذْكُرُوا  
 نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اِذْ  
 قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاَتَقُوا اللهَ اِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ

فَاَمْسَحُوا بوجوهكم وَايديكم مِنْهُ سمہ طریقہ کہ دیکھ پھس پیشترہ پیٹھہ ژنڈ دتھہ آتھو سیت پنہ نین  
 پتھن، پنہ نین زرین، تھہ چیزس پیٹھہ دویدو آتھو ژنڈ دتھہ لیس زینیکہ جلسہ آسہ یعنی لیس نہ پارس منز ویگلہ  
 مَا يَرِي اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ اللہ تعالیٰ چھونہ یشھان توہہ پیٹھہ کیاہ تراوہ نہہ سچ تنگی تہ سختی  
 سمہ سیت ہبہ پریشان گدہ ہو وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهَّرَكُمْ بلکہ چھو یشھان اللہ تعالیٰ توہہ پاک و صاف  
 کرن تمی موكھ کرن مقرر طہارتک احکام تہ قواعد۔ بیہ کرن نہ اکے صورتھہ طہارتچ یعنی فقط آبہ سیتی  
 یوت۔ بلکہ کوزن کہ ہر گاہے کانسہ آب بنہ تمہ ساتہ بیکہ سو میڈہ سیت تہ تسم کر تھہ۔ تمی سیت بیکہ  
 سوبے غسلی تہ بے وضوئی نشہ پاک سہت وَاِتَمَّتْ نِعْمَتُهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بیہ  
 چھو یشھان اللہ تعالیٰ پور کرن ہن نعمت توہہ پیٹھہ بیٹھہ ہبہ اتھہ مہربانی پیٹھہ شکر گزار سپد و نعمن ہنز قدر  
 زانو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ بیہ پاوڈر تیس خدایہ سزہ نعمہ سمو نعمتو آندرہ ہڈ نعمت گنیہ کہ تم کر  
 تہنزہ فلاح و دستگاری خیرہ اسباب و ذرائع مقرر و مِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ بیہ کر و یاد تہند سو  
 معاہدہ لیس تم توہہ سیت کورمت چھو۔ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا یلہ توہہ دوپ و ہوڈ آسہ تہ مؤن  
 آسہ پر تھہ کلمہ پرہ و ناہ چھو بزبان حال سمعنا و اطعنا و ناں کلمہ پرہ و ثوی گو سمعنا و اطعنا و نہ و ناں اگر چہ زیوہ  
 سیت مہہ کرتن سم الفاظ بیان وَاَتَقُوا اللهَ اِنَّ اللهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بیہ کھو ژو خدا لیس ہن پاپ  
 اللہ تعالیٰ چھو پور زانہ و ناں دلہ چن سٹھن لہذا ایسہ کام کر و سو کر و کمال اخلاص محض خدایہ سہدہ رضا  
 خیرہ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا كُونُوا قَوْمِيْنَ لِلّٰهِ اکی با ایمانو خدایہ سزہ خوشنودی خیرہ روزو

الصُّدُورِ ۷ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوْمِينَ لِلَّهِ  
 شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى  
 الْآتَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا  
 اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۸ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ  
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ ۹  
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ  
 الْجَحِيمِ ۱۰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ

استادہ خدایہ سند احکام بجانہ خیرہ شہداء بِالْقِسْطِ ہر گاہ شہادت تہ گواہی درج نوبت بیہ تمہ  
 ساتہ آبرو عدل وانصافہ سان گواہی دوان وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَى الْآتَعْدِلُوا بیہ منہ  
 کترن توہمہ آمادہ منہ قوی دُشمنی تین نسبت بے انصافی کرنس پیٹھہ اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى  
 پریتھہ حاکس منکر و عدل وانصاف تی چھو یژ نزدیک پر ہیز گاری۔ تقوی اختیار کرن چھو توہمہ پیٹھہ  
 فرض کیا زہ اللہ تعالی چھوہ فرمادان وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ بیہ کھو ژواللہ تعالی  
 سزہ نافرمانی کرنہ نشہ۔ پڑپاک اللہ تعالی چھو پور خبر تھاوہ ون تھنزن سارنی کاین ہنزن وَعَدَّ اللَّهُ  
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ وعدہ کور اللہ تعالی ان تین لوکن بیو  
 ایمان اتھہ رتھہ عملہ کرہ کہ تھنہہ خیرہ چھو بوڈ مغفرت تہ بد مزور وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا  
 بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ بیہ سمولو کوانکار کور پوز دین قبول کرنہ نشہ بیہ زانک اہیز سان  
 آیات تہ لوک گے جھنمس اندر روزن والِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  
 اکی با ایمانو ژتیس پاوو خدایہ سز نعت تہ احسان اذْهَمَّ قَوْمًا أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ إِلَيْهِ

عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَنْ يَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ  
فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ  
الْمُؤْمِنُونَ ۝ وَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ  
وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ  
لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ  
بِرُسُلِي وَعَزَرْتُمْ أَوْلِيَاءَكُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا  
لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي

تو من یعنی قریشو، مکہ کیو کا فرو قصد کریو توہمہ کن بن آتھ ز پٹھر اونک یعنی توہمہ پیٹھہ ہنکہ تہ منکہ حملہ  
کر نک، یلہ جہہ ونہ ضعیف آسہ۔ فکفّ ایدِ یہم عنکم پس رب اللہ تعالیٰ پتھ تہند آتھ پنہ فضلہ  
تہ کر مہ سیت۔ تمن دُئین نہ توہہ پیٹھہ غالب سپد نہ۔ یہی نعمت یاد کرتھ و اتقوا اللہ کھوژو اللہ تعالیٰ  
اس تمسندین احکامن ہنزمہ کمر و مخالفت۔ و علی اللہ فلیتوکل المؤمنون خدایہ سی پیٹھہ بیہ نہ کانہ  
پیٹھہ پڑو اعتماد کرن با ایمان ہمیشہ و لقد اخذ اللہ ميثاق بني اسرائيل پزپاٹ اللہ تعالیٰ ان  
کرہ ناؤ بنی اسرائیل عہد حضرت موسیٰ سدہ خیطرہ۔ وبعثنا منہم اثنی عشر نقیبا بیہ کر اسہ  
تمو اندرہ باہ (۱۲) سردار تہند نمایندہ مقرر و قال اللہ انی معکم اللہ تعالیٰ ان فرمو وکھ بوہ جھوس  
توہہ سیت پریتھہ وقتہ تہند سو زوی حال و چھان لکن اقمتم الصلوة و اتیتم الزکوة و امنتم  
برسول و عزرتهم سو عہد اوس ایڑہ کہ ہر گاہ تہہ نماز برپا تھا و بیہ زکوة ادا کرو بیہ زود و پڑھ  
کر ان میانین سارنی پیغمبرن بیہ کمر و تمن مدد تہندین دشمن سیت مقابلہ کرتھ و اقروضتم اللہ قرضًا  
حسنًا بیہ کمر و زکوة علاوہ خیر چن کائین اندر تہن مال خرچ بیتھ اللہ تعالیٰ جھو قرض فرماوان قرضہ  
زرت رہ مالہ اندرہ دلس پیٹھہ بورجہہ و رای۔ بیتھ آو قرض ناو تھا ونہ امی موکھ کہ بیتھ پاٹ قرض ادا نیگی

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴿۱۳﴾ فَبِمَا نَقَضْتُمْ مِيثَاقَهُمْ لَعْنَهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ ۖ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ۖ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۴﴾

بہے لازمی آسان۔ تھے پاٹھ کرہ اللہ تعالیٰ امیک عوض تہ بدلہ عطا لاکفران عنکم سبب انکم البتہ ضرور کرہ ہو بخشایش تہندین گوئمن ولادخلتکم جنت تجری من تحتہا الأنہار بیہ واتاودو ہو تہمن جشن الدر سمو منز جو یہ پکان چھہ فممن کفر بعد ذلك منکم فقد ضل سوا السبیل پس نیس امہ عمدہ پتہ تہ گھر کرہ نیس ہز پاپ سؤ ڈول سیزہ و تہ نشہ سیٹھاہ دور۔ فبما نقضتم ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قسيه لیکن بنی اسرا نیلو پھڑ وو سو عہد۔ تمی سببہ گے تم گر قار رنگار رنگ مصیبتیں بیہ سید مہربانیہ نشہ محروم رحمت والطافونشہ دور۔ تمی لعنتک اثر اوس کہ تہندہ دل کراسہ سیٹھاہ سخت۔ ہون تھن ہند اوس نہ تمن کا نہ اثر سپدان یحرفون الكلم عن مواضعہ چنانچہ تہندہ عالم آس بد لاوان تورا تہ کین گلمائتہ عبارتس پنہ جاہ نشہ ونسوا حظا مما ذکروا بہ بیہ مشروو تمبو اکھ بوڈ حصہ تمبو نیجتو آند رہہ سمہ تمن گرنہ آسہ یوان تمن منز تہندہ خیطرہ فلاح دارین اوس ولاتزال تطلعون علی خائنة منهم الا قلیلا منهم ونہ چھونہ تمن ہین۔ چنانچہ توہمہ روزہ تہندین خیانتن تہ بد نیتن ہند ہمیشہ اطلاع سپدان۔ مگر نہ تمبو آند رہہ کم کنیشن لوکن ہند سم مشرف بہ اسلام سپد تمبو آند رہہ فاعف عنہم واصفح ان الله یحب المحسنین پس کمر و جہہ تمن معاف بیہ درگزر۔ پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو دوست تھاوان احسان کرہ ونین بندن ومن الذین قالوا اننا نصری اعداؤنا ميثاقهم بیہ تمبو آند رہہ سم ونان چھہ اس چھہ نصاریٰ یعنی

وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ  
 فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ  
 الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ۗ وَسَوْفَ  
 يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿١٣﴾ يَا أَهْلَ  
 الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا  
 مِّمَّا كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَنْ  
 كَثِيرٍ ۗ قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ

پنہ نس دینس نصرت کرہ ون تم ن نشہ تہ رث اسہ ایمان و عمل کر نس پیٹھ عمد۔ فَنَسُوا حَظًّا مِمَّا  
 ذُكِّرُوا بِهِ کس مشر و تہوتہ اھ لود حصہ تمو نصحتو اندرہ تم تم کرنہ اسہ یوان تم ن منز تہندہ  
 خیطرہ فلاح دارین اوس فَاغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کس  
 تیز گور اسہ تم ن منز بغض و عداوتک نار قیاس تام۔ کیا زہ تم ن منز تہ سپد ترہ ۳ فرق۔ اھ لسطوریہ۔ یم  
 حضرت عیسی اس چھہ خدایہ سند پتو مانان۔ بیا کھ یعقوبیہ یم حضرت عیسی اس چھہ خدلمانان تر یم ملکانیہ یم  
 حضرت عیسی اس چھہ تر یو اندر و اھ خدلمانان امنی چھو پانہ وان سخت اختلاف وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ  
 اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ آئندہ کرہ اللہ تعالی خبر تم ن تمہ ساریچی یہ تم کران آس، تو پتہ  
 کر لیکھ گز فتر عذاب آخر ترس اندر یَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا آی الہ کتابو یہود و ن  
 نصار او ہز پات او توہم کن سون پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِمَّا  
 كُنْتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ یہندہ ملک شان چھو کہ تم چھہ وارہ نر او ان توہمہ واریاہ تھہ تمو کھو  
 اندرہ ہمہ توہمہ کھٹھہ تھوان چھوہ تورات و انجیلہ منزہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ یہ چھوہ توتہ وار کھن  
 تھن در گزدر کران قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ تھیق ووت توہمہ کن خدایہ

مُبِينٌ ⑤ يَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ  
 سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ  
 بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ⑥ لَقَدْ  
 كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ  
 قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ  
 الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا  
 وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ

سندہ طرفہ ہدایتک بود نور بیہ روشن نہ صاف بتابہ یَهْدِي بِهِ اللَّهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ  
 سُبُلَ السَّلَامِ وَتھ چھو ہاوان تمی سیت اللہ تعالیٰ تمہ لوکن تم طالب چھ تہندہ رضا مندی ہند،  
 سلامتی ہنزن دتن کن وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ تمہی کڈان کھر چو نہ نافرمانیو  
 ہنز وگھو آندرہ ایمانہ کس نہ فرمانبرداری ہندس گاش کن وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ بیہ  
 چھلکھ ہاوان سو و تھ یوسہ و تھ سیز چھ تھ پیٹھ چھو کہ تھوان قاسم نہ محکم لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ  
 قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ بیگ تم لو کہ چھہ کافر سمو وون خدا چھو عین مسیح، مریم  
 سُنْدِيُو قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ  
 فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا تھہ ہر تھو تمہن ہر گاہ اللہ تعالیٰ مسیح بن مرتمس حضرت عیسیٰ اس، بیہ  
 تہنزہ ماجہ، بیہ تم زمینس پیٹھ آباد چھہ تمہن سارنی گان یرتھہ۔ لیس کہہ اکھاہ بیگھ کڈہ چیزس خدا لیس نغہ  
 مالک لائتھ نہ تمہن چچاوتھ و لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا خدلیہ سزنی پادشاہت  
 چھہ آسمان نہ زمین آندر، بیہ یہ تمہن دون منز باگ چھو تھہ آندر يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُو چھو پیدہ  
 کران یہ یرتھان چھو وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سُو چھو پر تھہ چیزس پیٹھ کڈر نہ

مَا يَشَاءُ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۷﴾  
 وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ  
 وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا  
 بَيْنَهُمَا ۗ وَالْيَهُودُ الْهٰصِرُ ﴿۱۸﴾ يَا هٰٓهَلِ الْكٰتِبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا  
 يٰبَيِّنْ لَكُمْ عَلٰى فِتْرَةٍ مِّنَ الرَّسْلِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا جَآءَنَا مِّنْ اَبْسِرٍ

دول۔ تم بڑھ آسمان وزمین بے مادہ پیدہ کرن تی کرن۔ تم یوڑھ حضرت آدم بے پدر مادہ پیدہ کرن  
 تی گزوں۔ تم بڑھ حضرت حوا بے مادر پیدہ کرن تی کرن۔ تم یوڑھ حضرت عیسیٰ بے پدر پیدہ کرن  
 تی کورن وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذِّبُكُمْ بِذُنُوبِكُمْ یہود و نصاریٰ  
 چھہ دعویٰ کران کہ اس چھہ خدایہ سُنْدُچُو بہیہ تہند دوست تہ محبوب یعنی اولادان تہ مجبور ہند پاٹھ چھہ  
 اس مقبول۔ ہتہ فرما یو کہ ادہ کیا زہ کرہ سو توہہ تہنر ونا فرمایو سبہ عذائس گرفتار آخرتس اندر۔ توہہ  
 چھہ کانہہ خصوصیت بین لوکن ہندہ خوتہ بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِّمَّنْ خَلَقَ بلکہ چھوہ توہہ تہ تموے عام لو کو  
 اندرہ تم تم پیدہ کر یَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ کس یشہہ تہس کرہ مغفرت کس یشہہ تہس کرہ  
 عذاب۔ آسمانی کتابن اندر چھو ثابت کہ مغفرت ہنہ تہس کس بایمان آسہ۔ کافرن تہ مشرکن ہندہ خیطرہ  
 چھو عذاب ابدی مقرر کرنہ اُمّتِ ۗ وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالْيَهُودُ الْهٰصِرُ یہ  
 چھہ آسمان تہ زمین ہنر پادشہت یہیہ کیوہاہ تمین در میان چھو تمہہ سارہی پادشہت خدایہ سنزے  
 یاثر۔ یہیہ چھو سارنی تہس کن پتولا کہ واٹن۔ يَا هٰٓهَلِ الْكٰتِبِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلُنَا يٰبَيِّنْ لَكُمْ عَلٰى فِتْرَةٍ مِّنَ  
 الرَّسْلِ اکی اہل کتابو پزپاٹ او توہہ کن سون پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تم توہہ شریعتک  
 احکام ن پاٹھ یا کران چھہ تہی وقتہ کہ پیغمبرن ہند من اوس واریاہہ کالہ پیٹھ ہند سپد مت اَنْ تَقُوْلُوْا مَا  
 جَآءَنَا مِّنْ اَبْسِرٍ وَلَا نَذِيْرٍ یہ پیغمبر برحق او توہہ کن سوزنہ، پیٹھہ توہہ و تہہ ہیو قیامتک ڈوہہ آسہ

وَلَا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ ۝۱۹ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۲۰ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ ادْكُرُوا لِنِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ۝۲۱ يَقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ

نہیہ آونہ کانہہ خوش خبرونہ وناہیا بيم کرہ وناہ **فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ** پس پزپاٹھ آوتوبہ کن بشارت فرماوہ و ن تہ بيم کرہ و ن تہ۔ یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم **وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** اللہ تعالیٰ چھو پر ہتھ چیزس پیٹھہ قدرتہ و ول منزہ کنہیہ کالاہ پیغمبرن ہند سلسلہ بند کرنس پیٹھہ تہ، توپتہ بیہ پیغمبر سوزنس پیٹھہ تہ **وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يُقَوْمِ ادْكُرُوا لِنِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكُمْ** بیہ چھو سو وقت تہ قابل ذکریلہ حضرت موسیٰ پیغمبرن فرمووینہ نس قومس ای میانہ قومہ ژتیس پاووتہمہ نعمہ، سمہ اللہ تعالیٰ ان توہمہ عطا کرہہ **إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ** اکھ نعمت گمہ کہ توہمہ منزہ بناون واریاہ پیغمبر مثل حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام حضرت موسیٰ، بیہ حضرت ہارون علیہما السلام وغیرہ **وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا** بیہ بناونوہ ٹہہ پادشاہ۔ چنانچہ فرعونہ سندس ملکش پیٹھہ کورودہ توہمہ قبضہ **وَالنَّكْمُ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ** بیہ گرہ نوہ توہمہ تمہہ تمہہ نعمہ عطا سمہہ کانہہ کرین عطا عالیو اندرہ۔ دریاو منز دژن توہمہ و تھ۔ تہہ تاری نوہ اپور، ٹھند و دشمن فرعون تہہ تہنز لشکر کرن غرق تھہ دریاوس منز **يَقَوْمِ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ** ای میانہ قومہ سمہن نعمن تہ احسان شوہہ قدر کرن۔ خدایہ سندس جہادہ کس تعمیل کرنہ سیت، آژوشا کس ملکش اندرئیس ٹھندہ حکمرانی خیطرہ اللہ تعالیٰ ان مقرر گورمت پٹھہ۔ کرو اتھ اندر آژتھ عمالقن سیت جماد۔ بیہ ملک چھو ٹھندہ خیطرہ اللہ تعالیٰ ان مقرر کورمت لہذا سپدہ توہمہ اتھ منز اژہ و نوی فتح حاصل **وَلَا تَرْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ** ٹھندہ پوت پھیرو، دشمن سیت مقابلہ کرنہ نشہہ و انہس ایوہ



فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ ﴿۲۱﴾ قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ  
 وَإِنَّا لَنُتَخَلَّفُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا  
 فَإِنَّا دَاخِلُونَ ﴿۲۲﴾ قَالَ رَجُلَيْنِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ  
 اللَّهُ عَلَيْهِمَا ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَانكَبُوا  
 عَلَيْكُمْ هَٰ وَ عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۲۳﴾  
 قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنُتَخَلَّفُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَازْهَبْ  
 أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ ﴿۲۴﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي

سُوپوت پھرن تہند آسہ تہندہ حقہ سیٹھاہ نقصا تک باعث قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّ فِيهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ دہنہ  
 لگ ای موسیٰ آتھ ملکس اندر چھہ زبردست لوکھ روزان۔ اس بیکو نہ تین سیت مقابلہ کرتے وَاِنَّا  
 لَنُتَخَلَّفُهَا حَتَّىٰ يَخْرُجُوا مِنْهَا اَس اژونہ ہرگز آتھ ملکس اندر یوتان نہ تم امہ ملکہ منزہ نیرن  
 فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ کس ہر گاہ تم نیرن امہ ملکہ منزہ تل اژوا اس ضرور قَالَ رَجُلَيْنِ  
 مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا امہ ساتھ و تھہ مرد جو راہ تین پوشع تہ کالب ناواوس، خدا ایس  
 کھوژہ و نیو آندرہ۔ تمکن پیٹھ اللہ تعالیٰ ان پن مہربانی کر مژ آس۔ تمہو دو پیک اکی بنی اسرا ایلو ادخلوا  
 عَلَيْهِمُ الْبَابَ وَ تھوا اژو تھہ امہ شہر کس دروازس تام فَادَا دَخَلْتُمُوهُ فَانكَبُوا عَلَيْكُمْ تھہ یلہ دروازس  
 تل واتو تھہ سپد ضرور تمکن پیٹھ غالب وَ عَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ بیہ کرو خدا بیہ سی  
 پیٹھ توکل ہجھوے با ایمان دشمن ہندس بے ایمان آس پیٹھ مہ کرو نظر۔ مگر تمکن پیٹھ سپدہ نہ تہنزہ  
 نہما پیٹھ ہند کا نہہ اثر۔ بلکہ کورنہ تمہو تین دون شخصن ہنزہ نہما پیٹھ کن کا نہہ توجہ۔ تہنزہ تھہ و تھہ نہ جو ابے  
 قَالُوا يَا مُوسَى إِنَّا لَنُتَخَلَّفُهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا فَازْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هُنَا قَاعِدُونَ تم  
 لگ توجہ و ہنہ ای موسیٰ اس نہ حض اژونہ ہرگز آتھ شہر س منز یوتان ایک لوکھ جبارین اتھ منز

لَا أَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ  
 الْفَاسِقِينَ ﴿۲۵﴾ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً  
 يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿۲۶﴾  
 وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ  
 مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ  
 إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿۲۷﴾ لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ

روزن۔ ہر گاہ وئی تین سیت جنگ کرن چھوٹلہ گڑھو جہہ تہ تہند پروردگار۔ ٹہی زہ کرد تین سیت جنگ  
 سون طاقت چھونہ اس بہو وہ یہ نی۔ قَالَ رَبِّ إِنِّي لَأَمْلِكُ إِلَّا نَفْسِي وَأَخِي حضرت موسیٰ ان  
 کور دُعا پروردگار امیہ چھونہ اختیار مگر پنہ نی پانس پیٹھ۔ بیہ پنہ نس پانس حضرت ہارونس پیٹھ  
 فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ نس مناسب فیصلہ کر ژہ اسہ منزبہ اتھ نافرمان تو س منز  
 قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ  
 اللہ تعالیٰ ان فر مو پس چھو میون فیصلہ یہو ی کہ یہ ملک روزہ ژ تہن ورین تام تہن پیٹھ حرام۔ ہم ہمکن  
 نہ اتھ پیٹھ تسلط حاصل کر تھ۔ ہم روزن اتھ میدانس منز حیران۔ اسہ طرفہ یوان بیہ طرفہ گڑھان۔  
 اتھ و تھانہ یوان کئہ طرفس کن۔ لہذا نہ کھیو جہہ امہ نافرمان تو مگ کانہ غمی وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِي  
 آدَمَ بِالْحَقِّ ای پیغمبر برحق بیہ ہر وحض تہن لوکن کن پانس نسبت کرہ تک غرور تہ تکبر زانہہ إِذْ قَرَّبَا  
 قُرْبَانًا فَتَقَبَّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ یلہ تمہو دوشوی قربان کور خدایہ سدہ خیطرہ ہس آو  
 قبول کرنہ اسدوی قربان ہس ہاتیل ناؤاوس۔ سو اوس قبولیتس لایق۔ بے سند قربان ہس ناؤاوس قابیل  
 آونہ قبول کرنہ کیا زہ سو اوس نہ تھہ لایق۔ بیہ اوس ہاتیل پزس پیٹھ۔ قابیلہ سند دعویٰ اوس غلط۔  
 قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قابیلن دُوب ہاپلس یومار تھہ ژہ ضرور قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ہم

لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطِ يَدَي إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ  
 اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿۴۸﴾ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَ  
 إِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿۴۹﴾  
 فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الخَاسِرِينَ ﴿۵۰﴾  
 فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِئِي  
 سَوْءَةَ أَخِيهِ قَالَ يُؤَيِّلَتِي أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا

دوبس۔ میون قصور چھونہ کینہہ تہ۔ قبول چھونہ یوان کرنہ مگر پرہیز گارئی ہند نیاز لہن بسطک الی  
 یدک لتقتلنی ہر گاہہ اتھ زبھر اوکھ میہ کن میہ مارنہ خیترہ ماآنا بسطییدی الیک لاقتک  
 یو ہرگزین اتھ زبھر اونہ ژیہ کن ژیہ مارنہ خیترہ۔ تہ نہ سمہ موکھ کہ یوکیاہ پوشے نہ ژیہ چانہ کھوتہ  
 چھوم طاقت زیادہ مگر **إِنِّي أَخَافُ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ** محض سمہ موکھ کہ یوچھوس کھوژان خدا پس  
 ئس ساری جہانک پروردگار چھو **إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ**  
**وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ** میون ارادہ چھو ژہ گرہھکھ گرہھن میانہ قتلک گناہ ہتھ تہ۔ پینہ نافرمانی ہند گناہ  
 ہتھ تہ تاکہ بچھہ ژہ پوختہ پانھہ نار جہنم منزواتن والیواندرہ۔ تی چھوسز اظالم ہند **فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ**  
**قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ** پس اجازت دیت تمس نفس پئن یوی مارنک ئس موژن سو **فَأَصْبَحَ مِنَ الخَاسِرِينَ**  
 توپتہ سپد سو تاوان زدواندرہ۔ توپتہ سپد حیران کہ یوکیاہ کرہ ہای سندس لاش **فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ**  
**فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُورِئِي سَوْءَةَ أَخِيهِ** ادہ سوز اللہ تعالیٰ ان کاواہ اکھ سم تونہ سیت تہ بچو سیت  
 زمین ہیوت کھن۔ توپتہ کھنن دوبہ ہنا توپتہ اونن بیاکھ مردہ کاواہ سوتروون اتھ دوبس منز۔ پٹھ  
 تراوس میو۔ امی موکھ ہتھ ہاوہ اللہ تعالیٰ اس قابلس سمہ ہتھ پانھہ دو براوہ سو ہای سندس لاش تہ  
 بدس۔ چنانچہ قابلس یلہ وچہ کاوہ سند یہ حال تہنہ لوگ **قَالَ يُؤَيِّلَتِي أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا**  
**الغُرَابِ فَأَوْرِي سَوْءَةَ أَخِي** یلہ کاوہ سند حال وچھون دہن افسوس چھو میانہ خیترہ، کیاہ بوچھوسہ

الْغُرَابِ فَأَوَارِي سَوَاءً أَخِي فَأَصْبَحَ مِنَ الشَّدَائِمِ ﴿۳۱﴾  
 مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ  
 قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ  
 النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا  
 وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ نُوْحًا إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ  
 ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَكُسْرُفُونَ ﴿۳۲﴾ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ  
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ

عاجز سمس کاوس ہیو بنہ نشہ تہ۔ اُسدی پاٹھ تھوون بای سُد بدَن دُور اوتھ فَاصْبَحَ مِنَ الشَّدَائِمِ  
 اُسد پتیلہ دُور لون تہ سُد نادِم تہ پشیمان کیازہ وری اوس گومت ڈاک، بای سندا لاش تہ بدن لکھ وان، اورہ  
 یور پھر وان، یہ اوس نہ فخرہ اندر یوان سمس کیازہ کرہ بو مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ  
 مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا اُتھ کن نظر کمر تھ کہ خون  
 ناحق کمر تھ کیا چھوپانہ قاتل نادِم تہ پشیمان سِد ان، لیو کہ اسہ یہ حکم ساری انسان ہندہ خیطرہ عمو ماتہ بنی  
 اسراہیلن ہندہ خیطرہ خصوصاً کہ پز پاپ سم شخصن مورا کانہہ شخصہ ناحق۔ در حالیکہ تم اوس نہ  
 مورا مت کانہہ شخصہ انہ اوسن ز مینس منز کانہہ فتنہ و فساد پر پار کور مت زَن تم مار ساری لو کہ وَمَنْ  
 أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا بیہ سم بچو کا کانہہ شخصہ مارہ گھنہ نشہ زَن تم بچاوساری لو کہ۔  
 وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ پز پاپ آئی تمن نشہ یعنی بنی اسراہیلن نشہ اُمہ کھمہ پتہ سان پیغبر  
 نہ دلیلہ بیہ۔ بیہ اُتھ کھمس تائید کران نُوحًا إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَكُسْرُفُونَ تو پتہ  
 تہ چھ بے شمار لو کہ تموا اندرہ تو تہ ز مینس اندر زیادتی کران تمن سُد نہ کانہ اثر بلکہ کمر تموشہد بعضہ  
 پیغبر تہ۔ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا کانہہ سزا چھونہ  
 تمن لو کن ہند سم جنگ کرن خدا یس تہ تھندس پیغبرس سیت تھ پاٹھ کہ کوش گرن ز مینس اندر

يُصَلُّوْا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۗ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝۳۳ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ ۖ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝۳۴ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا

بدامنی تہ فساد پھیلاؤ۔ مگر شوہر تمین یہوی عزاکہ۔ اَنْ یُقَاتَلُوْا اَوْ یُصَلُّوْا اَوْ تُقَطَّعَ اَیْدِیْہُمْ  
 وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ تم گدھن مارنہ بین شمشیرہ سیت اگر تمو کا نہ  
 شخصہہ مورمت آسہ یا گدھن پھہہہ دن ہر گاہ تمو کا نہ مورمت آسہ یہہ آسکھ مال تہ نیومت۔ نتہ گدھنک  
 اتھہ کھورٹن اوڑک یور کھر تھہ۔ ڈچھس اتھس سیت کھو فرنگ۔ ہر گاہ تمو مالنی یوت نیومت آسہ  
 مورمت آسکھ نہ کا نہ نتہ گدھن ملک بدر کرن ملکہ منزہ کڈن۔ ہر گاہ تمو مورمت آسہ نہ کا نہ نہ  
 آسکھ مال نیومت صرف آسکھ تمیوک قصد و ارادے کورمت ذلک لہم خیزی فی الدنیا یہ  
 کیہ تہندہ خیطرہ بڈرسوائی دنیاء س اندر و لہم فی الآخرة عذاب عظیم یہ چھو تہندہ خیطرہ  
 آخرتس اندر عذابہہ سیٹھاہ بوڈ۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ  
 اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ مگر نہ تمین لوکن سموتو بہ کور تہندہہہ تمین پیٹھہہ غالب سپد نہ بروٹھہہ۔ کس زانو اللہ  
 تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت کرہہہ و ن سیٹھاہ رحم کرہہہ و ن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا  
 إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ ای بایمانو کھوڑو خدا نیس تہندہہہہ کھمن مخالفت کر نہ لٹھہہ یعنی گنہو لٹھہہ روز و پوٹھہہ۔  
 یہہہ تھانڈو تھند قرب تہ نزدیکی تسز فرما نبرداری کر نہ سیت یا تھانڈو تم اسباب تہ ذرائع سموسیت  
 تھنز نزدیکی تہ قرب حاصل سپدوہ۔ ساروی ذریکو کھو تہ گو بوڈ ذریعہ پیغمبر خدلیہ سنز پیروی کرن و مَا  
 اتَّكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا اس پیٹھہہ پور عمل کرن۔ یوہے چھو یوڈوسیلہہ قرب خدا  
 حاصل سپد نک۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان امہہہہ و جَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ ﴿۳۵﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ لَهُمْ  
مَائِنٌ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ  
يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُقْبَلُ مِنْهُمْ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۳۶﴾  
يُرِيدُونَ أَنْ يُخْرِجُوا مِنَ التَّارِ وَمَا هُمْ بِخُرْجِينَ  
مِنْهَا ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿۳۷﴾ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا  
أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً لِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

بہ گم و تہیزہ و تہ اندر جماد۔ یہ لیس راہ عمل تہندہ خیطرہ تم مقرر کور۔ تہ منز کور پور جد و جہد تہ تہ  
رستگار تہ کامیاب سید و ان الذین کفروا والذین لهم مائین فی الارض جمیعاً و مثله معہ لیفتدوا  
بہ من عذاب یوم القیامۃ ما تقبل منهم و لهم عذاب الیم ہمز پات سمو تہ انکار کور  
ہر گاہ تہندس قبض منزیہ سو سوروی مال و دولت لیس زوی زمینس منز چھو ظاہر تہ پوشیدہ بہ تیوت  
تہ سمیت تو پتہ و ان سوی تیوت مال فدیہ قیامتہ عذابہ نغیر چھہ خیطرہ سو قبول ایچہ نہ کرنہ بلکہ چھو  
تہندہ خیطرہ کڈر عذاب مقرر کرنہ آمت یُریدون ان یرخرجوا من التار وما هم بخرجین  
ومہا و لهم عذاب مقیم کوتاہ یرضن تم تہ نارہ منزہ ہند پات نیرن مگر نیر تہ نیکن نہ نچہ صور لیس  
منز۔ تہندہ خیطرہ چھو عذاب دائمی و السارق و السارقة فاقطعوا ایدیہما جزاء لیم کسبا نکالاً من  
اللہ و اللہ عزیز حکیم یہ لیس مرد ڈورہ کرہ یا لیسہ زنانہ ڈورہ کرہ تمن ژ ٹود چھن آتہ ہرہ  
پٹہ۔ یہ چھو تہندہ ڈور کر تک سزا خدایہ سدہ طرفہ۔ اللہ تعالی چھو عز و ول تہ قویہ و ول۔ لیس سزا سو  
بہہ سو کرہ مقرر۔ سو چھو سیٹھا حکمتہ و ول۔ سو چھو مناسب سزا مقرر کران۔ فمن تاب من بعد  
ظلمہ و اصلح فان اللہ یتوب علیہ اده لیس اکھاہ توبہ کرہ چھہ قصورہ پتہ۔ یہ سبھاہ بن حال،

حَكِيمٌ ﴿۳۸﴾ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ  
يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳۹﴾ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ  
مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ  
يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۴۰﴾ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا  
يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا  
أَمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ  
هَادُوا وَاسْتَمْعُنَ لِلْكَذِبِ سَمْعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ لَمْ

آئینہ روزہ زور کرنے لغت پتھ پس اللہ تعالیٰ کرہ تہند توبہ قبول إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ بیشک اللہ تعالیٰ  
بھو سیٹھا مغفرت کرہ ون سیٹھا رحم کرہ ون أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ثبہ  
چھ ناخبر آئی مخاطب کہ پیر پاک اللہ تعالیٰ سزای پادشاہت نہ حکومت چھ آسمان اندر نہ زمین اندر۔  
يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ نیس خوش کر نیس تس کرہ عذاب تس دیر سزا۔ نیس خوش  
کر نیس تس کرہ مغفرت تس دیر معافی وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ تعالیٰ بھو پر ہتھ چیز س پیٹھ  
قَدِيرٌ وول يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ ای بڈہ پیٹھ بہ سز کرن  
آزردہ توبہ تم لوک تم دور ان چھ گھر س گن۔ یعنی تم بے تکلف گھر چہ کامہ کر ان چھہ مِنَ الَّذِينَ  
قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ آندرہ تم چائیو سیت وناں چھہ اسہ اُون ایمان مگر ایمان  
بھونہ اومت تہند یو دلو یعنی تم چھ منافق۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا بیہ بہود و آندرہ سَمْعُونَ  
لِلْكَذِبِ تم چھ اپنورنہ خیطرہ تہنزن کھن زورہ گن دوان سَمْعُونَ لِقَوْمٍ آخِرِينَ لَمْ يَا تُؤْكُ  
تم زورہ گن دوان چھہ تھ تہنزن تھ بین لوگن لغتہ واتا ون ہم نہ پانہ توبہ نسیہ وات یُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ مِنْ  
بَعْدِ مَوَاضِعِهِ تم چھہ تورانہ کین کمن پندرہ جلیہ پیٹھ آتھہ تمہ جلیہ نسیہ ڈالان۔ بیہ تم کلماتن ہند غلط

يَا تُوكَ طِيحِرْفُونَ الْكَلِمَ مِنْ أَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ  
 إِنْ أُوْتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا  
 وَمَنْ يُرِدِ اللهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ أَلَلِ شَيْءٍ  
 أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ لَهُمْ  
 فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۳۱﴾  
 سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثُونَ لِلسُّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ

معنی یہ مطلب بیان کران تحریف لفظی و معنوی کران۔ يَقُولُونَ إِنْ أُوْتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ توبہ  
 جماعت اس نبی کریم سے نسیہ سوزان۔ تمن چہہ و نان کہ ہر گاہ نبی کریم تی فرمویہ اسے بیان کور تلہ  
 کر زہ قبول وَإِنْ لَمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا ہر گاہ تمہہ درای بیہ کا نہہ حمماہ تمبو فرمویہ تمہہ نسیہ روزو پتہہ  
 تہ مہ کتر و قبول وَمَنْ يُرِدِ اللهُ فِتْنَتَهُ کس شخصہ سبہہ خیطرہ اللہ تعالیٰ بہرہہ کہ ستر گزہہ آزمایشہ  
 اندری روزن کفر و گراہی اندر فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ أَلَلِ شَيْءٍ تہہ بہیکونہ تہبہہ خیطرہ اللہ تعالیٰ  
 اس نسیہ بہہہ حاصل کتر تہہ۔ یعنی تمن لوگن ہنز شقاوت اتہہ در جس واثر مہ آسہ کہ تم آسن ہدایت بندہ  
 نسیہ خرؤم تہبہہ خیطرہ مہ سپدن تہبہہ دل مبارک آزردہ تہہ نمگین اُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ  
 يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ تم گئے بہبہہ خیطرہ نہ اللہ تعالیٰ ان یو تہمت و تہبہہ تہبہہ دل گیا گزہہ من پاک سپدن  
 لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۗ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ تہبہہ خیطرہ چہہ ذنیاء س اندر بڈ  
 خوری۔ بہہ چہہ تہبہہ خیطرہ آخرت س اندر یو عذاب سَمِعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْثُونَ لِلسُّحْتِ تم  
 لو کہ چہہ ایزہ خیطرہ تہبہہ ن تہن زورہ کن دوہون۔ سخت حرام کھیوہون فَإِنْ جَاءُوكَ پس ہر گاہ تم  
 توبہہ نش سن حکم پر زہنہ خیطرہ فیصلہ کرناوہ خیطرہ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ کس چہہ توبہہ  
 اختیار خوش کر وہ فرماؤ کہ حکم، خوش کرہ کینہہ مہ فرماؤ کہ انکار کرؤ کہ فیصلہ فرماوہ نسیہ وَإِنْ  
 تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصُرُوا شَيْئًا ہر گاہ کینہہ فرماؤ کہ نہ ادہ تہبہہ مہ بر وکانہہ پروا۔ توبہہ تمکین نہ تم



بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرَضُ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَصُرُوا  
 شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ  
 الْمُقْسِطِينَ ﴿۳۲﴾ وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا  
 حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ  
 بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۳﴾ إِنَّا أَنْزَلْنَا التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ  
 يُحْكَمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا الَّذِينَ هَادُوا وَ

كانه ضرورتاً و تھ کیازہ اللہ تعالیٰ چھو توہم نگہبان نہ رہو تھہ۔ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ہرگاہ  
 حکم فرمایو کہ تہ فیصلہ دیو کہ تلہ گڑھی کھ بعدل و انصاف حکم فرماون۔ اسلامک قانونہ مطابق إِنَّ اللَّهَ  
 يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ پڑ پاٹ اللہ تعالیٰ چھو پسند کران تہ ٹوٹھ تھاوان عدل و انصاف کرہ و نمین۔  
 وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ تجب چھو تم تھ پاٹھ چھہ دینہ کین معاملات  
 اندر توہم پٹن فاصلہ بناوان حالانکہ تمں نشہ چھو تورات موجود۔ تھ منز چھواتھ متعلق خدایہ سند  
 حکم تہ موجود تو پتہ توہم نشہ تھہ، توہم نشہ تہ سؤی حکم یوز تھہ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا  
 أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ تو پتہ تہ چھہ تم تمہ حکمہ نشہ تھہ پھر ان۔ حقیقت چھہ کہ تمں چھہ تمہ  
 تورات تہ کینہہ پڑھاہ۔ بلکہ چھہ تمں کٹھ چیز چڑ پڑھ۔ نہ تورات تہ نہ تمہندہ فیصلہ۔ إِنَّا أَنْزَلْنَا  
 التَّوْرَةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ پڑ پاٹ اسہ گور تورات نازل حضرت موسیٰ اس پیٹھہ تھہ منز یوز  
 ہدایت چھو صحیح عقائدین ہند تہ یوز گاش تہ ن وضاحت چھہ اعمال ہنز۔ يُحْكَمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ  
 أَسْلَمُوا الَّذِينَ هَادُوا امی توراتہ موجب چھہ بنی اسرائیلن ہند تم پیٹھہر۔ مؤخداہ سندس حکم  
 گردن دار یسوزن حکم بیان کران وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَالَّذِينَ هَادُوا بھہ چھہ امی موجب حکم بیان کران۔ ہوزن  
 ہند علماء تہ متخاص تہ۔ بِمَا اسْتَحَقُّوْا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءً کیازہ تم چھہ امہ

الرَّبِیُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ  
 اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْا  
 اللَّهَ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا  
 أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ ﴿۳۳﴾ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ  
 فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ  
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ

کتابہ ہنزراچھ تہ حفاظت کرن۔ امہ کتابہ موجب پانہ عمل کرن بیہ لوک تہ عمل کرہ ناوین مہ آمثر  
 کرنہ۔ بیہ آس تم امہ کتابہ ہند گواہ تہ اقرار کرہ ون **فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْا اللَّهَ** پس اکی بہو دو ہدیج  
 پیروی کرنس اندر یعنی حضرت محمد ہندس رسالتس تصدیق کرنس اندر مہ کھو ژو لو کن۔ کھو ژن شو بہ  
 سے۔ کیا زہو چھوس ٹھند پروردگار۔ تصدیق رسالت محمدیہ نہ کرنس پیٹھ کر وہو ٹو سخت عذاب **وَلَا  
 تَشْتَرُوا بِآيَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا** بیہ مہ آسبو کھ سان آیات کنان دنیاحاصل کرنہ خیرہ کم مؤلس بس توبہ  
 لو کن نشہ حاصل سپدان چھو۔ یہوی چھو توبہ باعث بنان تصدیق نہ کرہ تک۔ توبہ چھو اندیشہ ہر گاہ  
 اسہ تصدیق کور تلہ ماگڑھ بیہ آمدنی ہند **وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرُونَ**  
 بیہ تھا وہی تھ وارہ یاد کہ بس اکاہنہ خدایہ سزہ نازل کر مہ بتلہ موجب حکم دیہ تم ساری چھ کافر یعنی  
 ہموی پس انکار کور تھہ پاٹھ تھہ کر ان چھو۔ **وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا** بیہ اوس اسہ تمن بہو دن ہندہ  
 خیرہ تور اس اندر بیہ حکم لیو کھمت تمن پیٹھ فرض کور مت کہ ہر گاہ کانہہ شخصہہ کانہہ مارہ عمد ابے گنہ یا  
 زخمی کرہ **أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ  
 بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ** پڑپاک اکھ شخص یعنی (قاتل) بیہ مارنہ پس شخص یعنی مقتول  
 بدل۔ اچھہ بیہ کڈنہ اچھہ بدل، نس بیہ ژفہ نہ بدل گن بیہ ژفہ کنہ بدل، دندیہ کڈنہ دندہ بدل۔ تھے  
 پاٹھ بیہ زخم قصاب ہینہ۔ **فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارًا لَهُ** پس بس شخص بدلہ ہیون معاف

قِصَاصٌ طَمَنُ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ط وَمَنْ  
 لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۵﴾  
 وَقَفِينَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ  
 يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ  
 مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ  
 لِلْمُتَّقِينَ ﴿۳۶﴾ وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ ط وَمَنْ  
 لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۳۷﴾ وَأَنْزَلْنَا

گرہ تمس سپدہ سونگمن ہنزہ بخشایشہ ہند سبب یعنی معاف کرنس چھوڈو ثواب وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا  
 أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ چونکہ یہود و اوس یہ حکم تہ پس پشت ترومت لہذا چھو اللہ  
 تعالیٰ یہ مکرر فرماوان کہ یہ سمنہ فیصلہ کرن تمہ حکمہ سیت نئس اللہ تعالیٰ ان نازل کورئس تچے گئے ظالم  
 وَقَفِينَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَةِ یہ سوزاسہ تمن  
 پیغمبران پتے حضرت عیسیٰ فرزند حضرت مریم سندا نئس تصدیق کرہ دن اوس تھہ کتابہ یوسہ تمن بروئٹھ  
 نازل کرنہ آمز اس یعنی توراہس۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فِيهِ هُدًى وَنُورٌ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ  
 التَّوْرَةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ یہ کراسہ عطا حضرت عیسیٰ اس پن کتاب انجیل تھہ  
 منزتہ چھو توراہ کی پاٹھ صحیح اعتقادن ہند لوکن ہندہ خیطرہ یوڈ ہدایت یہ کافی روشنی تہ وضاحت  
 اعمالن متعلق۔ یہ چھو سوانجیل تہ تصدیق کران تھہ کتابہ یوسہ حکمہ بروئٹھ نازل کرنہ چھہ آمز یعنی  
 توراہس یہ چھہ سوتاب و تھہ ہاوه ون۔ یہ ہڈ نصیحت خدا نئس کھوڑہ وئین ہندہ خیطرہ وَلِيَحْكُمَ أَهْلُ  
 الْإِنجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ یہ اوس اسہ حکم کورمت فیصلہ کمرن انجیلہ وال تموے احکامو سیت تم  
 اللہ تعالیٰ ان تھہ منز نازل کرمت چھہ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ سمنہ

إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ  
 وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ  
 أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً  
 وَمِنْهَا جَاوِلُونَ وَإِنْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ  
 فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ

وتمت نصاریٰ یوزن و ارہمہ تم نہ فیصلہ کر تمہے حکمہ سیت یس اللہ تعالیٰ ان نازل کورہیں تھے لو کہ گے  
 فاسق۔ انجیلس منزجھہ حضرت محمد عربی سندہ رسالہ خبر تہہ ہجھوہ تیجہ خلاف کران **وَإِنزَلْنَا إِلَيْكَ**  
**الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ** بیہ کر اسہ تیجھے پاٹھ تورات و  
 انجیلہ پتہ نازل توہے کن یار رسول اللہ یہ کتاب یعنی قرآن مجید ہر پڑاٹ یس تصدیق چھو کران تمن کتابین  
 سمہ امہ بروٹھ نازل آمرہ چھہ کر نہ بیہ چھہ یہ کتاب تمن کتابین ہنزرا چھہ **فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ**  
**اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ** یس فیصلہ کرو تہہ تمن اہل کتابین منزجھی حکمہ سیت  
 یس خدا لمن نازل کورمت چھو۔ پیروی مہ کرو تہہ تمنزن خواہش ہنز سو پڑ کتاب نظر انداز کر تھہ یوسہ  
 توہہ نشہ واژ **لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَاوِلُونَ** توہہ اندرہ پر تھہ امتہ خیطرہ چھو اسہ فروعی  
 مسالین متعلق اکھ شریعتہ، اکھ دستور العلماء مقر کورمت، مثلاً یہودن ہندہ خیطرہ تورات نصاران  
 ہندہ خیطرہ انجیل مسلمان ہندہ خیطرہ قرآن مجید **وَإِنْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ**  
**فِي مَا آتَاكُمْ** ہر گاہ اللہ تعالیٰ یژہہ ہا توہہ سارنی بناوہا کنی امتہ، سارنی ہند کرہ ہا کوئی شریعتہ مگر تہہ کوزن نہ  
 ای خیطرہ کہ تیجھہ ٹھہہ مختلف وقتن اندر مختلف احکاموسیت آزمایش کرہ **فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ** یس کرو  
 رٹن کائین تہ مفید تھن اندر اکھ اس نشہ بروٹھہ گڑھج کوشش۔ یعنی قرآن مجیدس کرو پڑہہ تمہہ کین  
 احکامن پیٹھہ کرو عمل **إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا** خدایہ سی کن چھو توہہ سارنی لہہ دوہہ رجوع کرن  
**فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ** یس باوہ سو توہہ تمہہ سارے کتھہ تمن منز توہہ حق و صداقت ظاہر

بِأَكْثَرِ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۳۸﴾ وَأَنْ أَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ  
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا  
أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ  
بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴿۳۹﴾ أَفَحُكْمَ  
الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۴۰﴾  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ

آسحہ باوجود اختلاف کران آسہہ وَأَنْ أَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ بیہ چہہ  
اس توبہ مکرر حکم فرماوان کہ جہہ کرو فیصلہ لوگن آندر تمی حکمہ سیت بس اللہ تعالیٰ ان توبہ پیٹھ نازل کور  
پتہ پتہ مہ پکو ہمزون خواشن۔ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ بیہ کھو ژو تم  
پور احتیاط کرو پتھ نہ تم توبہ خدایہ سندہ احکامو آندرہ عنہ خمس تعمیل تہ جاری کرنہ نشہ ڈالن فَإِنْ  
تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ قرآن مجیدک فیصلہ واضح تہ روشن آسحہ باوجود  
ہر گاہ تم لوک توتہ روگردانی تہ نافرمانی کران روزن تلہ زانو تہہ سم اللہ تعالیٰ چھو پڑھان بعضی گنہن ہندہ  
وجہ مصیبتس گرفتار کرن وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ پزیاٹ واریاہ چہہ سمولو کو آندرہ نافرمان  
أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ یلہ بعضی یہودو وون آسہ چھونہ قرآن و توراتک حکم قبول، اللہ تعالیٰ ان  
فرموؤ کہ کیاہ تم یہود چھاننہ جاہلیتک حکم ژھانڈان بس کافر و آسانی شر پتس خلاف پالے بنو مت  
چھو۔ لہذا خدائی فیصلہ تراوتھ بیہ کانہہ فیصلہ ژھانڈان یہ گنہہ عین جمالت وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ  
حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ فیصلہ کرنس آندر کہہ اکھاہ بیہ آتھ یژرت خدایہ سندہ خوتہ یقینہ والین نشہ۔  
لیکن یہ کتھ حکم زان یقینہ والین ایمان دارن۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَىٰ أَوْلِيَاءَ  
آی با ایمانو! یہود تہ نصاریٰ مہ بنلو یو کہ پن دوست تم دو شوے چھ مسلمان ہند دشمن بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ  
بَعْضٍ تم چہہ پانہ والی اڈاؤین ہند دوست یعنی یہودی یہودی پانہ وان، نصاریٰ نصاریٰ پانہ وان تم

بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ ۖ  
 إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۵۱﴾ فَتَرَى الَّذِينَ فِي  
 قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ  
 تُصِيبَنَا آيَةٌ ۖ قَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ  
 فَيُصِيبُوا عَلَىٰ مَا أَسْرَوْا فِي أَنفُسِهِمْ نِدْمِينَ ﴿۵۲﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ  
 آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ

چھہ پانہ وان مناسبت۔ توہہ چھہ تمن سیت کانہ مناسبت۔ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ نِس  
 اکھاہ دوستی لاگہ تمن سیت توہہ اندرہ۔ سوپیہ گزر اونہ تموی اندرہ۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ  
 الظَّالِمِينَ پزیاٹ اللہ تعالیٰ چھونہ کامیابی ہنزہ تھہ ہاوان ظالمن تمن نہیہ بو زن تگان چھو کہ کن سیت  
 گڑھہ دوستی لاگن کن سیت گڑھہ دشمنی تھاون تم چھہ پٹن نقصان پانے کران فَتَرَى الَّذِينَ فِي  
 قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ نِس وچھان چھہک ژہ ای وچھہ ونہ تم لوک یہندین وکن اندر نفاق چھہ جاری چھہ۔  
 يُسَارِعُونَ فِيهِمْ تم تھہ پاٹھ چھہ جلدی کران یہود و نصاریٰ ان سیت رنس اندر تو پتہ تمن کانہ  
 شخصہہ تھہ پٹھہ ملامت چھو کران يَقُولُونَ نَخْشَى أَنْ تُصِيبَنَا آيَةٌ دپان چھہ اس چھہ نہ دلہ کن  
 تمن سیت ز لان، بلکہ چھہ اس تمہ خاص مصلحتہ کن تمن سیت ز لان۔ اس چھہ کھو ژان کہ اسہ مالہ  
 کانہ بلایاہ تمی موکھ چھہ اس تمن سیت یارز تھاون لاگتھہ تمہہ ساتہ کرن تم اسہ کانہ مدتہ قَعَسَى  
 اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِنْدِهِ نِس قریب چھو کہ اللہ تعالیٰ کرہ عطا مُسلمانن فتح یارہ جاری پتہ  
 طرفہ کانہ حکماہ تھنزہ کامیابی ہند، منافقن ہنزہ رسوائی ہند فَيُصِيبُوا عَلَىٰ مَا أَسْرَوْا فِي أَنفُسِهِمْ نِدْمِينَ  
 نِس پدن تمہ ساتہ تم مناق تمن تھن پٹھہ تمہہ پتہ نین وکن اندر کھٹت تھوان آس نادم تہ پشیمان  
 وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ تمی ساتہ ونن با ایمان  
 تجبہ کن یکاہ تمہ کتہ تم لوک تم خدلیہ سد سخت قسم ہاوا ہاوا سہ دنان آس زہ آس چھہ توہی سیت۔ تحقیق

لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَاصْبِرُوا خَيْرِينَ ﴿۵۹﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
 آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ  
 يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكٰفِرِينَ  
 يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذَلِكَ  
 فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۶۰﴾ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ  
 اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

اندر آس سائین دشمن سیت رتھ۔ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَاصْبِرُوا خَيْرِينَ ہنزہ سارے کار سازی  
 سہزہ امہ نفاقہ سیت تباہ تہ بُر باد ہس سپد تم تاوان زدو اندرہ۔ دوشوی طرفوسپد تم تا کام کیا زہ کافر سپد  
 پانہ مغلوب۔ مسلمان سہز ہنزہ خباثت معلوم۔ نہ گئے اور ک تمہ نہ گئے یورک يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ  
 يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ اکی بالیمانویس اکھاہ توہمہ اندرہ پنہہ دینہ نشہ یعنی اسلامہ نشہ نیرہ، مہر تدسپدہ، سومہ  
 زان تمسپدہ مہر تدسپدہ سیت ملاوت پزس دینس کا نہہ نقصانہاہ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهَ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ  
 وَيُحِبُّونَهُ کیا زہ اسلامی خدمت انجام ونہ خیطرہ کرہ اللہ تعالی پیدہ جلدی کو کو اندرہ تھس جماعتس تم  
 خداہس ناٹھہ آسن۔ تمن تہ آسہ خداوٹھہ اذِلَّةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٌ عَلَى الْكٰفِرِينَ تم نرم دل شفیق  
 آسن بالیمان پیٹھ سخت زبردست آسن کافرن پیٹھ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جہاد کرہ ون آسن  
 کافرن سیت خدلیہ سزہ وتہ اندر وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ پڑہ چہ جایہ تہ دینہ کس معاملس اندر آسن نہ  
 تم کھوڑہ ون کا نہہ ملامت کرہ ون سندس ملاقتس ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ بالیمان تم  
 صفت آسن یہ چھو خدا یہ سہر فضل۔ تھہ جماعتس خوش کریس تھہ جماعتس چھو عطا کران وَاللَّهُ وَاسِعٌ  
 عَلِيمٌ اللہ تعالی چھو پنہ نس فضلس منز سیٹھاہ وسعتہ وول۔ اگر سوڑھہ سارنی کرہ تم صفت عطا۔ مگر  
 سارنی ہند حال چھو پور زان وول۔ تس چھہ خبر کس چھہ قابلیت کس چھہہ قابلیت إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ  
 وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا اکی بالیمانو ہند دوست چھو اللہ تعالی یہہ ہند پیغمبر یہہ تم بالیمان الَّذِينَ

وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رِكَعُونَ ﴿۵۵﴾ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ ﴿۵۶﴾  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ  
وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۵۷﴾  
إِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُؤًا وَلَعِبًا ذَلِكُمْ  
بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۵۸﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَنْقِمُونَ

يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رِكَعُونَ سُنَّ هنز طریق چھہ کہہ برپا چھہ تھاوان تم نماز، ادا چھہ کران تم زکوٰۃ، درحالیتمہ تم چھہ خشوع کرہون خدایہ سی بروٹھہ کنہہ نمہ ون وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ بیہ سم لو کہ دوست تھاون خدا کیس بیہ تھندس پیغمبرس بیہ باایمان۔ تم گے خدایہ سد لو کہہ تہ خدایہ سز جماعت پزپاٹ خدایہ سز جماعتی چھہ غالب۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُؤًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكَفَّارَ أَوْلِيَاءَ اکی باایمانو تم لو کہہ سم تھندس دینس چھہ ٹھٹھہ کران تہ گندان، بکمال حقارت و چھان نُس انکارک علامت چھو تمہو لو کو اندرہ تمکن کتاب آہہ دنہ توہہ بروٹھہ یعنی یہود و نصاریٰ بیہ تھتھے پاٹھہ کافر تہ مشرک مہ بناو لو کہہ پن دوست وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ بیہ کھوڑو خدا کیس، یعنی تھنز نا فرمانی کرنس چھوے تہہ پزپاٹ باایمان وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هُزُؤًا وَلَعِبًا ذَلِكُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ تھتھے پاٹھہ تھندہ دینہ کین اصولن سیت چھہ تم ٹھٹھہ کران تھتھے پاٹھہ تھندہ دینکن فروغن سیت تہ ٹھٹھہ کران۔ چنانچہ سمہ ساتہ تہہ لوگن نادووان چھوہ نمازہ کن یعنی بانگ دپان چھوہ۔ تھہ تہ چھہ سم ٹھٹھہ کران۔ گند تھناہ بو زان۔ کیا زہیہ چھہ جماعتھہ



مِنَّا إِلَّا أَنْ أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ  
 قَبْلُ وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ ﴿۵۹﴾ قُلْ هَلْ أُنبِئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ  
 مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ وَغَضَبِ عَلَيْهِ وَجَعَلَ  
 مِنْهُمْ الْقِرَادَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ أُولَئِكَ شَرٌّ  
 مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿۶۰﴾ وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا

عقله رستی۔ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ هَلْ تَتَّقُونَ مَثَلًا إِلَّا أَنْ أَمَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ مِنْ  
 قَبْلُ وَإِنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ فرماؤ گویا کہ تم میرا رسول اللہ کی اہل کتابو یعنی یہود و تمہ کو سہ کتبہ چھوہ آسہ  
 اندر لبان ہتھ پیٹھ نہ آسہ چھوٹھہ کران۔ کیاہ یوہے الزام چھو توه ووان کہ آسہ کیا کرا پڑھ کئس  
 خدائس یہ تھ یہ آسہ گن نازل او کر نہ یعنی قرآن مجید۔ یہ تھ یہ نازل او کر نہ آسہ بروٹھ یعنی تورات و  
 انجیل۔ یہ کیاہ چھہ آس ونان کہ توبہ اندرہ چھہ اکثر تم تم نافرمان چھہ۔ تم نہ پنہ کتابہ ہند یعنی  
 توراتک کھ مانان چھہ۔ نہ چھہ توبہ قرآن مجید چھہ نہ تورات و انجیل پڑھ۔ کیا زہ تورات و انجیل  
 منز چھو قرآن مجیدس پڑھ کر تک کھم۔ چہہ چھوہ تھہ انکار کران۔ تمم آس حصص انکار کور تم کور  
 سارسی انکار۔ لہذا چھو عیدارتہ قابل مذمت چہہ۔ کھٹھس سزاوارتہ چہہ مگر پن عیب چھوہ نہ یوزنہ  
 یوان کینہہ آسہ چھوہ پھیرت ناحق کھٹھہ کران قُلْ هَلْ أُنبِئُكُمْ بِشَرِّ مِنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ فرماؤ گویا کہ  
 چہہ یار رسول اللہ کہ یوما کروہ خبر زہ خدائس نشہ کوسہ و تھ چھہ بدتر جزاء کھہ نہ مزورہ ہندہ اعتبارہ  
 مِنْ لَعْنَةِ اللَّهِ وَغَضَبِ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ الْقِرَادَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتِ سوچھہ تمنی  
 لوگن ہنز و تھ تمن پیٹھ اللہ تعالیٰ ان لعنت کر۔ تمن پیٹھ ہنز بیزاری چھہ تمن اللہ تعالیٰ ان مسخورت  
 کرتھہ و اندرن تہ سوزن ہنز شکل کر۔ بیہ کر تمبو پر سٹش شیطانہ سنز۔ ووان و چھو تھہ کوسہ و تھ چھہ  
 چھہ سو و تھ چھہ منز غیر اللہ سنز پر سٹش کر نہ یہ کہہ سو و تھ چھہ منز توحیدی توحید چھو ہتھ منز انبیاءن  
 ہند تصدیق چھو۔ أُولَئِكَ شَرٌّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ سے کوکھ چھہ تم سیٹھاہ بد

امَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ ط وَاللَّهُ  
 اَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ ﴿۶۱﴾ وَتَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ  
 فِي الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَكْلِهِمُ السَّحْتِ لَئِنْ مَا كَانُوا  
 يَعْمَلُونَ ﴿۶۲﴾ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّيُّونَ وَاَلْحَبَّارُ عَنِ  
 قَوْلِهِمُ الْاِثْمِ وَاَكْلِهِمُ السَّحْتِ لَئِنْ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿۶۳﴾  
 وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ غَلَّتْ اَيْدِيهِمْ وَاَعْنَابُهُمْ

ترجمہ آخر آندرس آندر جابہ کن کیا زہ ہنرز جابہ چھہ نار جھنم بیہ چھہ ہم ڈلمت سیزہ و تہ نشہ کیا زہ توحید و  
 تصدیق رسالتہ نشہ چھہ تم سیٹھاہ دور، یقین شخص ہنز و تہ یوسہ سب سپدہ نار جھنم خدائس نشہ  
 دوری ہنز، یقینا کنیہ سوی و تہ سیٹھاہ چھہ، اکی یہود توہہ چھوہ اختیار کر مزیہے و تہ۔ لہذا کمہ تہہ  
 چھوہ تہہ موحدان تصدیق انبیاء کرہ و نین معبود برحقہ سز عبادت کرہ و نین ٹھٹھہ کران وَاِذَا جَاءَكُمْ  
 قَالُوا امَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكَفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ بیہ یلہ تم منافق توہہ نشہ یوان چھہ دپان چھہ  
 توہہ آسہ اون ایمان حال چھہ ہم ڈای تہ گھر بیٹھی تہ درای تہ گھر بیٹھی وَاللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ  
 اللہ تعالیٰ سی چھو پور علم تمن سارنی کھن ہند سمہ تہہ تہ عقائد تم دلن منز کھٹان آس یعنی عقائد کفر یہ  
 و تری کثیرا منہم یسارعون فی الایثم و العداوان و اکلہم السحت بیہ چھوک تہہ و چھان سمو  
 یہود و اندرہ واریاہ لوکھہ تم دورہ دور چھہ کران گنہہ یعنی اپزونہ نس آندر بیہ ظلم کر نس تہ مال حرام کھینس  
 آندر لیس ما کانوا یعملون واقعی سیٹھاہ چھہ تہہ کامہ سمہ تم کران آس لولای نھہم  
 الربیون و الاحبار عن قولہم الایثم و اکلہم السحت لیس ما کانوا یصنعون تمن کونہ  
 سنا چھہ عالم تہ مشاخ منبع کران اپزونہ نشہ تہ حرام کھینہ نشہ۔ البتہ سیٹھاہ چھہ چھو تہ سوروی بیہ تم کران  
 آس وَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُوبَةٌ یہود و دوپ خدایہ سندا تہہ چھو عطا و بخشہ کرنہ نشہ بند یعنی لغوز  
 باللہ نخل چھو کران۔ غلَّتْ ایدیہم و اعنابہم قالوا تحقیق س منز چھہ بند گامت تہندی اتھ، کیا زہ

قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا  
 مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ  
 الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا  
 لِلْحَرْبِ أَطْفَأَهَا اللَّهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا  
 يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿۶۷﴾ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا  
 عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَادْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿۶۸﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ آتَمُوا

تم چھ پانہ سخت بخیل۔ اذہ آتھہ ونہ سبہ آیہ تمن لعنت کرنہ۔ تم آی خدلیہ سزہ رحمتہ نغیرہ دور کرنہ۔  
 بل یداہ مبسوطتن ینفق کیف یشاء بلکہ چھہ خدلیہ سندوشوے آتھہ و تھی۔ سو چھہ خراج کران، مین فضل  
 و کرم عطا کران۔ ہتھہ پاٹھ خوش چھوس کران۔ تمن خوش چھوس کران و لیزیدن کثیرا منھم  
 ما انزل الیک من ربک طغیاناً و کفراً توہہ پٹھہ یہ نازل کرنہ آو تھندس ہر دور گارہ سندہ طرفہ  
 ہر راوہ ضرور تمبو اندر زہ وار مین ہر و دن سرکشی تہ کفر۔ تمن سپدہ نہ پندہ جر مگ احساس مٹنہ وقتہ و القینا بینہم  
 العداوۃ و البغضاء الی یوم القیامۃ تمی سرکشی تہ کفر نتیجہ چھو کہ اسہ تر و تمن اندر عداوت تہ  
 بغض یس نہ قیاس تام مین منر دور سپدہ کلما اوقدوا ناراً للحراب اطفاھا اللہ یلہ یلہ تم لڑیہ تہ  
 جنگ نار چھہ مسلمان خلاف زوہ راوان اللہ تعالی چھو تھہ نارس ژھیہ تہ کران یلہ تم تھہ منز نام چھہ  
 سپدان و یسعون فی الارض فساداً واللہ لا یحب المفسدین تم چھہ پوشیدہ طور سیٹھاہ کوشش  
 کران ملکس اندر خرابی ہنز تہ فسادیچ، چوہیہ اللہ تعالی چھونہ ہر گز پھند کران مفسدان تہ خرابی کرہ  
 ونین۔ لہذا دیہ تمن ضرور سزا و لو ان اهل الکتاب امنوا و اتقوا لکفرنا عنھم سیئاتھم و لادخلنھم  
 جنت النعیم ہر گاہ اہل کتاب پڑھ کرہ ہن بیہ نافرمانیو نشہ پتھہ روزہ ہن اس کرہ ہو ضرور تھندین  
 گنہن بخشائیش، بیہ واتاوہ ہو کہ ضرور نعمن ہندس جنس اندر مگر تم چھہ سرکشی تہ نافرمانی تراوان سمہ  
 سبہ تم مین پان مڑوم چھہ کران۔ و لو انھم اتاموا التورۃ و الانجیل و ما انزل الیھم من ربھم

التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكْفُوا مِنْ  
فَوْقِهِمْ وَمَنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُّقْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ  
مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ ﴿۶۷﴾ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ  
مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ  
مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۶۸﴾ قُلْ يَا أَهْلَ  
الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا

لَأَكْفُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمَنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ  
نازل کرنے آئی بواسطہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بخا امن تمن ژله ہا ساری حتی، آدہ آسن  
کیوان خدایہ سزہ تمہہ نمو سہہ سمن پیٹھکن آسماحہ طرفہ وسان چھہ۔ سہہ بہند یوکھور وون کن زینہ  
منزہ کھسان چھہ۔ مگر تمنو کر تورات وانجیل ساری تعلیم ضایع تھے گے خوارتہ ذلیل مِنْهُمْ أُمَّةٌ  
مُّّقْتَصِدَةٌ تمنو آندرہ چھہ اکھ جماعتھہ میانہ روی کران تم گے سمنو پیغمبر آخر الزمان ایمان اون تہ پڑھ  
کر، حضرت عبد اللہ بن سلام ہو بہو ڈن آندر، حضرت نجاشی ہو نصاری ان اندر  
مَایَعْمَلُونَ اکثر چھہ ہو دو آندرہ تم بہنرہ کامہ سیٹھہ چھہ چھہ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنْ  
رَبِّكَ، ای بڑہ پیغمبر و اتا و خدایہ سیدین بدن تہ سو روی یہ نازل آو کر نہ تو بہ کن ٹھندس پروردگارہ  
سیدہ طرفہ۔ دُشمن ہندمہ برو کانہہ پروا۔ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، ہر گاہ ٹہہ تہ کر دہ یعنی  
سو روی نہ و اتا نہ سیت تھہ پاتھہ یہ فرض پٹھان چھو تھہ پاتھہ تمہہ منزہ کانہہ کتھانہ و اتا نہ سیت تہ چھو  
یہ فرض پٹھان۔ تبلیغ احکامن آندرہ برو تہہ دُشمن ہند کانہہ پروا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللَّهُ  
تعالی حض گرہ پانہ تو بہہ رلچھہ لو کن ہندہ شرہ نشہ۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ہر پاتھ اللہ  
تعالی ہا دہ نہ ہر گز کامیابی ہنز و تھہ کافرن۔ تم ہیکن نہ تو بہہ کینہہ کر تھہ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى  
شَيْءٍ فرماؤ کہ تھہ یار رسول اللہ ای اہل کتابو تھہ چھو نہ کنہ صحیح و تہ پیٹھ۔ حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَةَ

أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَئِذَا كُنْتُمْ أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّنْ رَبِّكُم مِّنْ رَبِّكُمْ طَغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۶۸﴾  
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغُونَ وَالنَّصَارَى  
 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
 يَحْزَنُونَ ﴿۶۹﴾ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ  
 رَسُولًا قُلْنَا جَاءَ هُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا

وَالْإِنجِيلَ وَمَا أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّنْ رَبِّكُمْ يُؤْتَانِي بِهِ نَبَأَ تورات و انجیل احکام بیہ تم احکام تم نازل  
 کرنے آئے تو بہر گن بواسطہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قرآن مجید وَلَئِذَا كُنْتُمْ أَنْزَلَ إِلَيْكُم مِّنْ رَبِّكُم مِّنْ رَبِّكُمْ طَغْيَانًا وَكُفْرًا ۚ  
 پروردگار ہندہ طرفہ تم کہہ دوں کہ نصاریٰ ان سرکشی سے بفر فلا تأس علی القوم الکفرین کس مہ  
 کڑوٹہ افسوس تمن لوکن ہندس حلس پیٹھ سمو پزہ نغمہ انکار گور إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا  
 وَالصَّابِغُونَ وَالنَّصَارَى یہ چھ پڑتھ کہ تم لو کہ سمو ایمان اون بیہ تم لو کہ تم یہودی، صابی نہ نصاریٰ چھ  
 مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا سمو ساری اندرہ سمو ایمان اون کنس خدا کس بیہ تمس  
 دوس یعنی قیاس۔ بیہ کر بھ رتھ عملہ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ کس چھو نہ تمن آخر کس اندر  
 کانہ خوفانہ چھو تمن کانہ غماہ لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَارْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رَسُولًا  
 کانہ شک کہ آسہ کرناو بنی اسرائیل سارنی پیغمبرن تصدیق و اطاعت کرنس پیٹھ بروٹھ نہ عمد۔ بیہ سوز  
 تمن گن واریاہ پیغمبر سو عہد ژ تمس پاونہ خیطرہ کُلُّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ رَبِّكُم بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا  
 وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ مگر تمنز حالت آس یلہ تمن نغمہ کانہ پیغمبرہ اوس و اتان تم حکم ہیست تم نہ تمنز ن نفسانی  
 خواہش موافق آسان آس تم آس سمو پیغمبر و اندرہ بعضین اپز یرونان بعضین آس قتل کران۔  
 وَحَسِبُوا أَنَّهُم لَأَكْبَرُونَ فِتْنَةً خِیَالِ آس کران اتھ پیٹھ ووتھ نہ باز خواستی کینہہ فَعَمُوا وَصَمُّوا کس سپد ان

وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ۝٤٠ وَحَسِبُوا أَن لَّكُونُوا فِتْنَةً فَاعْمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ  
 تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرًا مِنْهُمْ وَابصُرُوا مَا  
 يَعْمَلُونَ ۝٤١ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ  
 وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ عِبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ  
 مِنْ يُشْرِكٍ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ  
 وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ۝٤٢ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ

تہ زہرِ ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ توپتہ کر اللہ تعالیٰ ان تمن بیٹھ پنہر رحمتہ سیت توجہ کہ بیا کہ پیغمبرہ سوزن  
 تمن گن دیوہ تم سیزہ دستہ پیٹھ سن۔ مگر ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا کثیر متھم توپتہ سپدیہ تمہو اندرہ واریاہ ان تہ  
 زہ یعنی تعمیل احکام کرنہ نشیہ کر کہہ زوگردانی وَاللَّهُ بِصِيْرَتِكُمْ يَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ اوس تہنہ سارے  
 کامہ وچھان یعنی ٹھنڈ خیال اوس غلطیہ آسہ ہتھونہ باز خواستی کینہہ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ  
 هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ یقینا چھہ تم کو کہ کافر سم ومان چھہ خدا چھو عین مسیح مریمہ سہنچو یعنی تم زہ چھہ متھ  
 تہ گئی وَقَالَ الْمَسِيحُ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ عِبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ حالانکہ پانہ چھو فرماوان مسیح بن مریم ای  
 بنی اسرائیلو عبادت کرو تہہ معبود برحقہ سنز، کس میون تہہ ٹھنڈ پروردگار چھو إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ  
 فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ بیشک ایم اک خدا کس، بیہ کانہہ کئی چیزس منز شریک ٹھرو و  
 تس بیٹھ کور یقینا اللہ تعالیٰ ان جنت حرام۔ تہنہز جائے چھہ نار جہنم وَاللَّظْلِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ تہنہ  
 ظالمں ہندہ خیطرہ آسہ نہ کانہہ مددگارہ کس نارہ نشیہ موکاوت تمن جنتس منز و اتاودہ۔ چھہ پاٹھہ عقیدہ  
 اتحاد باطل چھو تہہ پاٹھہ چھو عقیدہ تثلیث تہ باطل۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ  
 قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ یقینا چھہ تم کو کہ تہ کافر سم و پ خدا چھو تریو اندرہ اکھ (مول۔ گوہر۔ بیہ  
 روح القدس وَمَا مِنْ دُونِ إِلَهِ إِلَّا اللَّهُ وَاحِدٌ حالانکہ کانہہ معبوداہ چھونہ کس خدا کس وراہ۔ وَإِنْ كَفَرُوا  
 يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيْسَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ إِلَّا اللَّهُ ہر گاہ تم سمو کھو نشیہ پتھہ روزنہ البتہ



وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۴۷﴾ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي  
 دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ  
 قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ ﴿۴۸﴾ لُعِنَ  
 الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى  
 ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ﴿۴۹﴾ كَانُوا لَا  
 يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۴۹﴾

اے یہود و نصاریٰ اؤ کیا ہر جھوٹے معبود پر حق تراوی تھ تمہن مخلوقن ہن پر سبش کران تم نہ مالک چھہ  
 تمہن س کٹنے چیزس تہ نفیس تہ ضرر س وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ حالانکہ اللہ تعالیٰ اکی چھو سوزوی بوزہ  
 ون سوزوی زانہ ون توتہ جھوٹہ نہ ہرہ تس کھوژان تہ کفر و شر کہ نشہ بازیوان قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا  
 تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ فرماؤ کہ ہرہ یارسول اللہ ای اہل کتابو ناقم مہ آسوپنہ وینہ کین معاملن  
 اندر حدہ ڈلان وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ بیہ مہ آسوپنہ وینہ کین معاملن  
 تم توبہ برو نشی چھہ گمراہ سپد مت وَأَضَلُّوا كَثِيرًا بیہ چھہ تمبو پانس سیت واریاہ گمراہ کرمت  
 وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ بیہ چھہ تم پانہ سیزہ وتہ نشہ بالکل ڈلت لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي  
 إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ یہ لعنت آہہ کرنہ تمہن تم بنی اسرائیلو اندرہ کافر سپد  
 حضرت داود و عیسیٰ بد دُعا کرنس پیٹھ۔ تم گے شہر ایلبک لو کہ۔ بیہ حضرت عیسیٰ فرزند حضرت  
 مریمہ سدس بد دُعا کرنس پیٹھ۔ تم گے اصحاب مایدہ۔ تمہن ہنر ذکر بروٹھہ ایہ تہ چھو مراد تمہن ہنرہ  
 لعنت ذکر چھہ زبورس منز تہ انجیلس منز تہ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ یہ لعنت آہہ تمہن کرنہ  
 امی موکھہ کہہ تمبو کیاہ کرنا فرمانی تہ مخالفت بیہ ڈل تم حدہ مخالفت تہ نافرمانی کرنس اندر كَانُوا لَا  
 يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ تم آس نہ بازیوان تہ چھہ روزان تمبو چھہ کامیونہ سمہ بیچہ کامہ تم  
 کران آس یعنی استمرار تہ ڈاڈ آس کران تمہن چھہ کائن پیٹھ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ واقعی سیٹھاہ



تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْبَسَسَ مَا قَدَّمْتُمْ  
لَهُمْ أَنفُسَهُمْ أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ لَهُمْ  
خُلْدٌ ۝ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ  
إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوا لَهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ  
فُسِقُونَ ۝ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا  
الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً  
لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصْرِي ذَلِكَ بَانَ

تجھ اوس تہ یہ تم کران اس تری کثیراً منہم يتولون الذين كفروا وچھو کہ تمہہ واریاہ تمہو یہود و  
اندرہ تم دوستی چھہ لاگان مٹرک یسودن سیت لبس ما قدمتم لهم انفسهم البتہ سیٹھاہ تجھہ  
چھوتہ یہ یہند یونسو تمن بروٹھہ کنہ تروو۔ تمیک نتیجہ چھو سیٹھاہ خراب ان سخط اللہ علیہم و فی  
العذاب ہم خلدون دنیاہ س منزگو تمیوک نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ چھو تمن پیٹھہ ہزار۔ آخر اس اندر  
اس تم ہمیشہ گرفتار عذاب نار ولو كانوا يؤمنون باللہ والنبي وما انزل اليہ ما اتخذوہم  
اولیاء ہر گاہ تمن ہزیاٹ ایمان آسہا معبود برحق بیہ پنہ نس پیغمبرس یعنی حضرت موسیٰ اس بیہ تھہ کتابہ یوسہ  
تمن گن نازل کرنہ امر اس سمجھہ پیروی ہند تمن دعویٰ چھو تلہ بناوئین نہ کافرین تہ مٹرگن پن دوست  
ولکن کثیراً منہم فسقون لیکن تمہو اندرہ چھہ واریاہ فاسق تہ بے ایمان۔ تجہ چھہ کافرین سیت  
دوستی لاگتہ اسلامس تہ پیغمبر اسلامس تہ خلاف سازشہ کران لتجدنن اشدد الناس عداوة  
للذین امنوا اليهود والذین اشركوا البتہ لیوکہ تہہ ساروی غیر مسلمو اندرہ با ایمان ہند سخت دشمن  
کھہ یہودیہ مٹرک ولتجدنن اقربہم مودة للذین امنوا الذین قالوا اننا نصری بیہ لیوکہ  
تہہ ساروی غیر مسلمو اندرہ نزدیک با ایمان ہنزہ دوستی تہ محبتس اندر تم لو کہ ہم دونان چھہ اس چھہ نصاریٰ

مِنْهُمْ قَسِيصِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۸۶﴾  
 وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ  
 تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا  
 فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ﴿۸۷﴾ وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا جَاءَنَا مِنَ  
 الْحَقِّ وَنَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ ﴿۸۸﴾  
 فَاتَّابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَدَّتْ تَجْرِمِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خُلِدِينَ  
 فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۸۹﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا

ذَلِكِ يَأْتٍ مِنْهُمْ قَسِيصِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اسی مؤکدہ کہ تمہن منز چھہ واریہ عالم  
 تہ زاہد تارک دنیلہ بیہ چھہ تم مغرور تہ مخبر۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ  
 تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ تموعیسا نیلدرہ بعضی یلہ تم پوزان چھہ سو کلام پاک نئس  
 نازل او کر نہ بیغمیر برحقس پیٹھ یعنی قرآن مجید و پھان چھوہ توہہ کہ جنزہ او چھہ چھہ اوش ہلان کیاہہ تمویہ زہ نوو  
 دین حق اسلام بیہ امہ کلام پاک حقایت يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ ونان چھہ تم ای سانہ  
 ہرورد گارہ امہ کمر پڑھ اتھہ کلام پاکس۔ وون لیٹھ آسیہ تہ امہ کین گواہن سیت وَمَا لَنَا لَا نُؤْمِنُ بِاللَّهِ اَسہ  
 کیاہہ اس کیا انوہ اسمان ثریعت محمدیہ موجب معبود برحقس وَمَا جَاءَنَا مِنَ الْحَقِّ بیہ نئس پوزاہہ  
 نغمہ ووت بواسطہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَقَطْمَعُ أَنْ يُدْخِلَنَا رَبَّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ بیہ  
 کیاہہ تھا وونہ اس اُن اُمید کہ امہ کیا و اتنا و ہرود گارسون جنئس نیکو کارن ہندس جئاتئس سیت فَاتَّابَهُمُ اللَّهُ  
 بِمَا قَالُوا جَدَّتْ تَجْرِمِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خُلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ نئس کر اللہ تعالیٰ اُن عطا  
 تمہن بیہ ونکھہ برکتہ تچے جنت سمو منز جو بیہ پکان چھہ۔ تمنی جئن منز روزن تم ہمیشہ۔ بیچہ چھہ مزور  
 نیکو کارن ہنز وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ اٹھہ بدل گے تم لوکھ سمو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۸۵﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِرِزْقِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ فِي حَالٍ طَيِّبَةٍ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِرِزْقِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ فِي حَالٍ طَيِّبَةٍ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِرِزْقِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ فِي حَالٍ طَيِّبَةٍ

انکار کو رہیہ زانک آپہرسان آیات نہ احکام نمی لکھ گئے جنہی ہمیشہ ناس اندر ذہ دن **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ** اے باسماؤ حرام نہ کمر و پاس پٹھہ تم پاک نہ لذیذ چیز، قسم ہادت یا عہد کمر تھہ۔ تم حلال کر تہندہ خیطرہ اللہ تعالیٰ ان ادہ تم کھینک چیز آستن، چینک چیز آستن، لباس آستن یا معوحات آستن **وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ** تحلیل و تحریمس متعلق تم حدود مقرر کرنے آست ہجہ تمہو و حدود نشہ مہ ڈلو۔ ہز پاتھہ اللہ تعالیٰ ہجھونہ پسند کران حدہ نشہ ڈلہ و نین **وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا** بیہ کھیبو تمہو چیز و اندرہ تم چیز عطا کر توبہ اللہ تعالیٰ ان حلال نہ پاک **وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ** بیہ کھوژو و س خدا ایس ایس توبہ ہز ہجھہ کمر مرد ہجھوہ یعنی کانہہ حلال چیزہ ہ حرام کرن اتھہ ہجھوہیز ار اللہ تعالیٰ۔ لہذا کھوژو تہنہز ہیزاری۔ حلال چیزس حرام کرن اتھہ ہجھہ تریہ قسم۔ کھہ گو اعتقادہ کن۔ بیا کھہ گو زیوہ سیت، بیا کھہ گو عملہ سیت۔ اعتقاد کانہہ حلال چیزہ ہ حرام زانن بیہ ہجھوہ کھر۔ زیوہ سیت و ن کنہ حلال چیزس بیہ ہجھوہمہ پٹھہ حرام، ہر گاہ بیہ قسم ہاوتھہ و ن بیہ ہجھوہ گناہ۔ سو قسم کھوہہ ہجھرن۔ تمہ کچ کھوہہ کفارت دن تہ سو چیز کھوہہ ضرور کھویون۔ تر تم قسم گو عملاً کانہہ چیزہ ہ تراون بیہ ہجھہ بدعت۔ بیہ گنیہ رہانیت۔ امیک ہجھونہ اسلامن اجازت ڈیئت۔ امہ نشہ کھوہہ ہجھہ روڈن۔ ہر گاہ کانہہ کانہہ حلال چیز آستہ ترک کورمٹ کنہ مصحلت جسمی یا نفسی خیطرہ بطور علاج اتھہ ہجھہ نہ کانہہ قصور مگر ہر گاہ کانہہ آستہ تر و مٹ کانہہ بزرگہ سہد قرب، نزدیکی تہ رضامندی حاصل کرنے خیطرہ تہ ہجھوہ ناجائز نہ شرک۔ کیا زہ قرب و رضامندی کھوہہ کنہ عملہ سیت کانہہ آکسز ژھانڈن خدا ایس و رای تم ہجھہ ترک اکل و شراب مقرر کورمٹ پنتہ خیطرہ کھہ عبادت۔ بیہ س و رای بیہ کانہہ ہندہ خیطرہ کرن یو ہے گو شرک، تھو ذبالہ من ذالک **لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ** اللہ تعالیٰ ہجھونہ توبہ باز خواست

بِالْغُورِ فِي آيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ مِنَ الْآيْمَانِ  
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ  
أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَخْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ  
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ آيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا  
آيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٨٩﴾

کران لغوتہ ہے ہودہ قسم ہاؤس پیٹھ۔ لغو قسم گو سوی بس بغیر ارادہ زبہ منزہ نیرہ۔ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمْ مِنَ الْآيْمَانِ مگر باز خواست چھو کران تو ہمہ ضرور ثمن قسمن پیٹھ تم تو ہمہ ارادہ کر تھ مضبوط کرمت چھوہ ہر گاہ تم قسم تہہ پھڑاون اس تھ گڑھہ کفارت دن۔ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَخْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ تمہ تھ کفارت چھہ کہہ دہ مسکین غذا کھیوان، درمیانی غذا۔ بس روزمرہ تہہ پن عیال کھیوان چھون۔ یا وہن مسکین پو شاک دین، یا غلام آزاد کران۔ بس اس نہ یہ بہتہ میسر سپدہ سو روزن ترین دوہن پو بس پتھہ روزہ دار ذَلِكْ كَفَّارَةُ آيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ یکہ چھہ کفارت تہندین قسمن ہنز۔ یلہ تہہ کتہہ چیز س پیٹھہ قسم ہاوان تہ پتہ پھڑاون آہو وَاحْفَظُوا آيْمَانَكُمْ چوہہ یہ کفارت دن چھو واجب لہذا آہو را چھہ کران قسمن پنہ نین قسم کر تھ گڑھہ نہ پھڑان پیون۔ پھڑاوتے بہ تھ کفارت ضرور دن۔ تھنہ اژہ کتھہ کر وکہ قسم پھڑ تھ آہو نہ کفارت تھ دوان تہ چھو سخت گناہ مگر انوس لوکن چھونہ امیک کاہہ خیالہ۔ کاہہ شخص کانہہ نشہ گڑھان۔ سو چھوس کاہہ چیز کھینہ یا چنہ خیطہ ہونان۔ یہ چھو قسم ہاوتھہ دپان یو کھیمہ نہ یا چیمہ نہ سو چیز۔ تو پتہ چھوس سو اصرار کران زور کران کھینہ خیطہ۔ اتی چھو سو چیز کھیوان یا چیوان۔ پھڑاوان چھو سو قسم بس ہوومت اوسن۔ تو پتہ چھونہ تمہ تھ کفارت دوان۔ لہذا یلہ کانہہ شخصن کاہہ چیز کھینس یا چینس پیٹھہ قسم ہو اودہ گڑھہ نہ تمس زور کران سو چیز کھینہ خیطہ ہ تھہ پاتھہ چھو اللہ تعالیٰ ویڑھہ ناوان حکم پن یو تھہ تہہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ  
 رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٤١﴾ إِنَّمَا  
 يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ  
 وَالْمَيْسِرِ وَيُصِدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٤٢﴾  
 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا  
 عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿٤٣﴾ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا

امہ تمک شکر ہو۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رَجَسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ**  
 فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اکی باسماو شراب زار پتل تہ چیرین ہند تیر سم ہنہنہ مگر گندہ تہ ناپاک کلمہ  
 شیطانہ سنزو کامیو اندرہ۔ مہوسا دی کامیو نشہ روز و پتہ۔ ہنہنہ تہہ کامیاب سپد و سمن چیرین ہندیو مضرتو  
 نشہ ہو۔ سمن چیرین ہندیو مضرت ہنہنہ۔ **إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي**  
**الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ** شیطان چھو نہ بیڑھان مگر ای زہ توہہ اندر تراوہ پانہ وان عداوت تہ بغض وان اندر  
 شرابہ تہ زار کہ ذریعہ **وَيُصِدِّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ** بیہ چھو شیطان بیڑھان توہہ رتہ ہنہنہ شرابہ  
 تہ زار کہ ذریعہ خدایہ سدہ یادہ نشہ بیہ نمازہ نشہ بیہ سدہ خدایہ سد یاد کہ بکیو طریقو اندرہ بہتر تہ افضل طریق  
 ہنہنہ بیوہ خرائی تہ نقصان سمن چیرین منز آتہ **فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ** کیا بیہ بوڑھ روز و ناتہہ امہ نشہ  
 ہنہنہ۔ بیہ کیہ کر سہ بوڑھ و ون صحابہ صیو **إِنْتَهَيْنَا** یعنی اس روڈ ہنہنہ۔ کس اس نشہ امہ وقتہ کیہنہ شراب  
 موجود اس تم دیت سو دیر تہ تہ **وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَأَعْلَمُوا إِنَّمَا**  
**عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ** بیہ کرو فر مانبر داری خدایہ فر مانبر داری رسول خدایہ ہنہنہ کھس اندرہ۔ بہنہ  
 نافر مالی نشہ روز و پتہ۔ کس ہر گاہ تہہ پوت پھر و حکم ملانہ کس زانو تہہ وارہ پانہہ کہ سانس پیغمبرس چھو  
 نہ مہ مگر ن پانہہ یوضاحت حکم و اتیان تعمیل کرن یاہ کرن بیہ چھہ تہنہنہ کو م۔ تمیک نتیجہ تلو تہہ پانے۔  
 یلہ بیہ کیہ کر سہ نازل سپد بھمی لو کو کور عرض در خدمت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم تہ یار رسول اللہ واریاہ

الطَّلِحَاتِ جُنَاحٌ فِيهَا طَعِيمٌ إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
 ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۶﴾ يَا أَيُّهَا  
 الَّذِينَ آمَنُوا لِيَبْلُوَكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالَهُ أَيْدِيكُمْ وَ  
 رِمَاحُكُمْ لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ  
 ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ

لوک تم شراب چیدان آس زار گندان آس تم حض گئے۔ سمہ عالمہ تم چیز حرام سپدہ بروٹھ۔ تہند حال کیا  
 حض آسہ آتی سپدہ سمہ آئیہ کر سمہ نازل لئیں علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناتم چھو نہ تمہن  
 لوکن پٹھہ تمہو اسمان اون تہ رزہ عملہ کر کیکھ کاہہ گناہ فیما طعموا تنھہ منز یہ تمو چو شرابہ اندرہ یا کھیو  
 زارہ سیت زینمتہ مالہ اندرہ حرام سپدہ نہ بروٹھ۔ إذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات یلہ تمو لوکو تمو چیز و  
 نشہ ہر ہیز کور تم تمہ وقتہ ناجائز آس۔ یہہ اونکھ اسمان تہ یہہ کر کیکھ رزہ عملہ ثُمَّ اتقوا وامنوا  
 و احسنوا تو پتہ رود ہر ہیز گاری پٹھہ اسمانس پٹھہ ثابت تو پتہ کور کھ یہہ تمہ وقتہ کیو حرام چیز و نشہ  
 ہر ہیز یہہ کر کیکھ رزہ عملہ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ چھو دوست تھاوان امہ قسمہ کین نیکو کارن  
 تہ رزہ عملہ کرہ و نینن یایہا الذین آمنوا لیبلوکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم و رماحکم ای با  
 اسمانو البیتہ اللہ تعالیٰ کرہ توہہ ضرور آزمائش شکار کہ کئے قسمہ سیت احرامکس حالتس اندر۔ سوگو سوئی شکار  
 تھہ شکارس تہند اتھہ پلن۔ یہہ تہند نیزہ پلن۔ نیس شکار تہہ باکل قریب تہ نزد یک آسہ اتھہ پلہ و نہ سیت  
 بیگون سور تھہ یا نیزہ لائتھہ بیخون سوز خمی کتر تھہ۔ یہہ آزمائش کرہ اللہ تعالیٰ توہہ تھہ لیبلوکم اللہ من  
 یخافہ بالغیب مطلب امتحانک تہ آزمائشہ ہند چھو کہ حالت احرامس منز و حشی جانور شکار کرن کور تم توہہ  
 پٹھہ حرام۔ تمیک حکم ن پاتھہ بروٹھہ لوہون چھو۔ تم و حشی جانور آن توہہ بروٹھکن پھر ان تھہ اللہ تعالیٰ  
 نجر لوہ کہ کہہ چھو کھوژان تس تہند اس عذابس و چھہ و رای فمِنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ پس  
 نیس اکھاہ حدہ ذلہ یعنی عدول خمی گرہ۔ احرامکس حالتس اندر کرہ شکار تسدہ خیطرہ چھو آخر تس اندر عذابہ

حُرْمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ  
يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا لِبَلِغِ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ  
مَسْكِينٍ أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ  
عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ⑤  
أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرْمٌ

دگ تله ون لیکنہا الذین المؤمنوا لاکفتموا الصیڈ وانتم حورم ای با اسمائومہ ماریون شکار احرامس حالتس  
اندر اده احرامس حج کر نہ خیطره آستو گوڈ مت یا عمره کر نہ خیطره۔ یتھہ پانھہ یلہ سو جانور آسہ حرم شر یفیس منز  
آدے شکار کرہ ون احرامس منز آسہ تھہ تہ چھو یوسے حکم یعنی حرم شر یفیک جانور گڑھہ نہ رٹن نہ زخمی  
کر نہ **وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ** ایس اکھلہ ملہہ شکارس زانتھہ کر تھہ عمدائس چھو  
تس واجب تمیک بدل دین تس جانورس ہیو ایس مورن چل پآو آندرہ اکھ جانور نہ تہ گو مثا لہر گل شتر مرغ مورن تس  
بدل گڑھہ ونٹ قربان کر نہ۔ ہر گل گور خر مورن تھہ بدل گڑھہہ گل ملن۔ ہر گل زوس کٹ ملن تس بدل  
گڑھہہ کٹھ مارن **يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ** تمیک فیصلہ کرن توہہ مسلماؤ آندرہ زہ شخص عدل وانصاف  
کرہ ون **هَدْيًا لِبَلِغِ الْكَعْبَةِ** ایس جانور قربان بیہ کر نہ کعبہ شریف واتیاوتھہ **أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسْكِينٍ**  
تہ بیہ آس جانورہ سدس قیتس برابر مسکین غذا ونہ **أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا** تہ بیہ تمک مسکین ہنزہ  
گر نزد وین روزہ دار روزہ **لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ** تھہ سوزہ تہہ پتہ کامہ ہندہ سخی ہندتہ تھہ انجامک  
**عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ** اللہ تعالیٰ بخور عفو تھہ بیہ از نام لو کو کور **وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ** ایس آئندہ دوبارہ  
تھہ جرم کرہ تس ہیہ اللہ تعالیٰ انتقام آبر تس اندر **وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ** اللہ تعالیٰ چھو غالب انتقام ہنہ  
وول تس ایس بار بار عدول حکمی کرہ **أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ** ای لو کو حلال آنو  
کر نہ تہ ہندہ خیطره دریائی شکار کر نہ۔ احرامس منز آستو یلہ آستو۔ دریائی کھینہ چیز وسیت تمتع نکلن  
چھو توہا کل حلال بیہ سدرنی مسافر ن۔ **وَحُرْمٌ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا** حرام آکرہ نہ تہ ہندہ خیطره خشکی

عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرَمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ  
 تُحْشَرُونَ ﴿٩٦﴾ جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ  
 وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهُدَىٰ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
 يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ  
 عَلِيمٌ ﴿٩٧﴾ اِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
 رَّحِيمٌ ﴿٩٨﴾ مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ

ہند شکار یوتنان تہہ حالت احرامس منز آہو۔ ہر گاہ بیاکھ شخص ئیس نہ احرامس منز آسہ شکار کرہ تو پتہ دیہ  
 حرمس تس چھوتہ کھیون جائیزتہ حلال و اتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون بیہ کھوژوتس خدلیہ  
 سندن حکمن مخالفت کرنس تیسس بروٹھہ کنہ تہہ ساری سکتھہ لہ و و اتناون ایو جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ  
 الْحَرَامَ قِيَمًا لِلنَّاسِ اللہ تعالیٰ ان کور خانہ کعبہ ئیس واجب تعظیم گرہ چھو لوکن ہندہ دینی و ذویعی  
 کاین ہندہ قائم تہ بر پاروز تک باعث وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ بیہ کرن تعظیمہ وال ریتھہ تہ امن و اما تک باعث  
 وَالْهُدَىٰ وَالْقَلَائِدَ بیہ کور اللہ تعالیٰ ان نذر و نیازک جانور تسم محض خدلیہ سندہ خیطرہ چھہ یوان خانہ  
 کعبس کن و اتناون۔ بیہ تمن جانورن ہند ہنز رہ تسم تمن جانورن نال تراونہ یوان چھہ تم تہ کرن امن  
 و اما تک باعث۔ ذلک بیہ کور اللہ تعالیٰ ان امی سببہ لیتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السموات و ما فی  
 الارض و ان اللہ بکُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بیٹھہ تہہ وارہ زانویشک اللہ تعالیٰ چھوژوانان تہ سوزوی بیہ آسمان  
 تہ زمین اندر چھو۔ بیہ بیٹھہ تہہ زانوہ اللہ تعالیٰ چھو پد بیٹھہ چیزس پٹھہ قدرتہ و ول اِعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
 شَدِيدُ الْعِقَابِ و ان اللہ غَفُورٌ رَّحِيمٌ زانوہیشک اللہ تعالیٰ چھو بیٹھہ عذاب کرہ و نافرمان بیہ  
 چھو اللہ تعالیٰ مغفرت کرہ و ن۔ رحم کرہ و ن فرمانبر دارن مَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ چھو تہ سمس  
 سانس پیغمبرس مہ مگر پیغام وانہ ناون ئیس تم و واتوو تہ طریقہ واللہ یعلم ما تبذرون و مات کتھون  
 اللہ تعالیٰ چھو تہ سوزوی زانان بیہ تہہ زیوہ سیت تانوسیت نزاوان تہ ظاہر کران چھوہ۔ بیہ بیہ تہہ دن منز



وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿۹۹﴾ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ  
 أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ  
 تُفْلِحُونَ ﴿۱۰۰﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن  
 بُدِيَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ الْقُرْآنُ بُدِيَ  
 لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿۱۰۱﴾ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ

کھنیت تھوان چھوہ۔ قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ فرماؤ لکھ تمہے یارسول اللہ برابر چھوہ  
 ناپاک تہ پاک یعنی گناہ تہ اطاعت۔ یا آنکھگار تہ فرمانبردار۔ بلکہ چھو خبیث مردود، طیب چھو مقبول۔ عاقل  
 گو سوی نیس پٹن پان مقبول بناوہ مردود بنہ نشہ ولو أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ اگرچہ تجھیں کدر  
 تراوتے تہ اے مخاطب ناپاک زیادتی توئن مہ کثرہ خیالی فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
 بلکہ کھوژو تہ خدایہ سندس کھمس مخالفت کرنہ نشہ اکی عقلہ والیو تہ تہ کامیاب تہ رستگار سپد حصول  
 جنتہ سیت بیہ حصول رضای اہلی سیت۔ یلہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرضیت حج بیان  
 فرماتہ اک شخص ہر تہہ تمن کیا حض ہر تہہ ڈریہ چھان حجزان فرض تریہ پھر ہر تہہ نبی کرسم صلی  
 اللہ علیہ وسلم تمبوہ فر موؤس نہ کہنہ جواب۔ توپتہ فر موؤکھ ہر گاہ یوہ فر ماوہ ہاؤہ۔ تلہ بیہ ہا توہہ ہر تہہ ڈریہ  
 حججران نیس نہ تہہ کتر تہہ بیہ ہو۔ برو ظہم لکھ گے تباہ زیادہ ہر تہہ ہر تہہ کہ نہ سیت۔ یوسہ تہہ یوہ فرماوان  
 آسووہ تہہ پٹھہ آسوہ عمل کران۔ یوسہ تہہ نہ یوہ فرماوان آسووہ تمیک مہ آسوہ تہہان۔ آتھہ مطان سپد  
 آئیہ کرسمہ نازلل يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن بُدِيَ لَكُمْ تَسْأَلُكُمْ ای ہا۔ سمانو فضول تہہ  
 غیر ضروری معاملن متعلق مہ آسوہ ہر تہہان ممن متعلق احتمال چھو کہ ہر گاہ بیان بیہ کرنہ توہہ سپدہ تہ  
 بوژن ناگوار وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنزَّلُ الْقُرْآنُ بُدِيَ لَكُمْ بیہ ہر گاہ تہہ تہہ تہہ تہہ وقتہ یلہ قرآن مجید  
 نازل سپدان آسہ توہیہ بیہ پورہ تہہ وضاحت کرنہ توپتہ بیہ کوہ تہہ کوم پورہ انجام آتھہ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا اللہ  
 تعالیٰ ان کور توہیہ عفو فضول سوال کرن از تمام مگر آئیہ کمر و احتیاط وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو

مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ ﴿۱۲﴾ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ  
بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ وَلَا كَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا  
يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَكَثُرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۳﴾  
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا

سیٹھاہ مغفرت کر وہ دن سیٹھاہ حلیم تہ چھو سو تھنہ تو بہ حکم عدولی پیٹھہ عذاب تہ باز خواست نہ کرنہ سیت  
دھوکہ لگہ کہ اسہ آونہ خلاف ورزی پیٹھہ باز خواست کرنہ۔ قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ بِزَيْطٍ يَهْبِطُ  
تھہہ ہر ژھہ تمبو لو کو کوسم تو بہہ یوٹھہ آس پنہ نین پیغمبر، تو پتہ یلہ تم کھن کھن ہند جواب دہہ آو تمبو کرنہ تھہہ  
پیٹھہ عمل۔ تھنہ تہہ سوی نوبت پیش ایہ۔ لہذا چھو بہتر سوالے مہ آسو کران تھہ  
أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ پتولا کہ سپد تم تم کچیران منکر۔ کافر ان ہند رسم اوس کہ حیوانا تہ حیوانا تہ ہند من  
چکن آس معبودان باطلن ہندہ ناوہ نیاز تھوان۔ تو پتہ آس تہ ہند من کنن تر تھہ دو ان نشانہ تھوانہ خیطرہ تس  
آس ونان۔ خیرہ۔ بعضی جانورن آس پو تیلن ہندہ ناوہ تھوان۔ کلمہ نشہ آزاد تھوان۔ تھہہ پاٹھہ ازک  
کافر چھہ درم داند تھوان۔ تس آس ونان سائبہ۔ بعضی کافر آس ماجہ ہندس شیکسی اندر آہتھہ چس  
متعلق ونان کہ ہر گاہ یہ تر آسہ تلہ کر ون فلان پو تلہ سیدہ خیطرہ ذبح ہر گاہ مادہ آسہ تلہ تھاون و چھہ خیطرہ  
پانس کیت۔ آس آس ونان وصیلہ۔ بس وونندہ وہ چہ آسمن پیدہ سپد مت تس آس سواری نشہ، یور تلتہ نشہ  
الگ تھوان۔ آس آس حامی ونان۔ تمنی چیزن آس خدایہ سہ حکم زمان۔ آتھہ سارسی چھو اللہ تعالیٰ رد  
کران۔ مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ کتر نہ اللہ تعالیٰ ان مقرر کانہہ  
خیرہ نہ سائبہ نہ کانہہ وصیلہ نہ کانہہ حامہ۔ وَلَٰكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَكَثُرُهُمْ  
لَا يَعْقِلُونَ لیکن کافر چھہ پائے تم لہر سوم ٹھہر او ان۔ خدایس کن منسوب کران۔ اکثر چھہ تمبو  
کافر و اندرہ بے عقل۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ یلہ تم ونہ یوان چھو ایو  
رجوع کرو تم ن ارشاد ان کن تم اللہ تعالیٰ ان نازل کر ہیہ تہ ہندس پیغمبرس کن۔ تمن پیٹھہ تم احکام

حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ الْآبَاءُ نَآءًا أَوْ لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ  
 شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿۱۴﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا  
 يَصُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فِيمَنِّيْتُمْ  
 بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۵﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةٌ بَيْنَكُمْ إِذَا  
 حَضَرَ أَحَدُكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَاعِدٍ مِّنكُمْ  
 أَوْ آخَرِينَ مَن غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَاصَابَتْكُمْ

اور شادات نازل کرنے آئی۔ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ الْآبَاءُ نَآءًا تھہ چھہ جواب وانان آسہ چھو کافی تی یہ  
 آسہ وچھہ بن مال تہ بڈبب کران اَو لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ اللہ تعالیٰ چھو فرما  
 وان یکما سو طریقہ آسہ تمن ہر تھہ حاس منز کافی۔ یکما ہر گاہ تھہ مال بڈبب کینہ تہ زمانان آسہن نہ نہ  
 آسہن کئہ آسمانی کتابہ ہندس ہدایتس پٹھہ توتہ کرہنہ ثم تہنزی پیر وی یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ  
 آئی بالہ سماو کمر و پنہ نس پانس اصلاح کر چ فخر۔ اصل گوم چھویئے توبہ منہ۔ بین اصلاح کرنس متعلق چھو  
 یہ حکم کہ تہہ پنہ مقدورہ تہ طاقتہ موجب بین اصلاح کر چ کوشش کمر و مگر تمن کانہہ اثر سپدہ نہ تہہ مہ  
 کھیو تھیک غم کہ تمن کونہ چھو اثر سپدان لَا يَصُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ لیس شخص تھہندہ اصلاح کرنے  
 باوجود گمراہی پٹھی روزہ توبہ چھونہ تھیک کانہہ نقصان تہ ضرر۔ یلہ تہہ پانہ پور ہدایتس پٹھہ آسہو اِلٰی  
 اللہ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فِيمَنِّيْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ خدایہ سی گن چھو تہہ سارنی رجوع کرن۔ لیس گرہ وہ سو توبہ  
 خیر تمہ ساریجی یہ تہہ کران آسہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آئی بالہ سماو شہادۃ بَيْنَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ  
 الْمَوْتُ تھہندین باہمی معاملاتن اندر مثلاً وارثن گن مال سپر دکر نہ خیرہ گڑھن آسہن زی شخص وصی یلہ  
 توبہ اندرہ کانہہ مرنگ وقت واتان آسہ۔ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنِ ذَوَاعِدٍ مِّنكُمْ أَوْ آخَرِينَ مَن غَيْرِكُمْ  
 تمہ ساتہ وارثن گن مال سپر دکر نہ وصیت تہ کر نہ خیرہ گڑھن زہ شخص مسلمان دیندار آسہ تم وصی بناونہ  
 بین۔ یازہ شخص غیر مسلم ہر گاہ تہ زہ مسلمان تیر سپدان إِنْ أَنْتُمْ صَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَاصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ

مُصِيبَةَ الْمَوْتِ تُحْسِنُونَ نَهْمًا مِنْ بَعْدِ الصَّلَاةِ فَيُقْسِمُ بِاللَّهِ  
 إِنْ ارْتَبْتُمْ لَأَنْشُرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ وَلَا نَكْتُمُ  
 شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذْ لَمِنَ الْأَثِمِينَ ﴿۱۶﴾ فَإِنْ عَثُرَ عَلَىٰ أَنَّهُمُ اسْتَحَقَّ  
 إِنَّمَا فَآخَرِينَ يَقُومُونَ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ  
 الْأُولَىٰ ۗ فَيُقْسِمُ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتَيْهِمَا وَ  
 مَا عَتَدْنَا نِيًّا ۗ إِنَّا إِذْ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۷﴾ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا

الموت ہر گاہ تو بہ سفرس منز آتھم رنگ وقت واتہ تحسینون نہما من بعد الصلوة نہند گزہن  
 تم زہ گوارہ رن اوائے شہادتہ خیطرہ نماز پڑتھ۔ آسنہ زہ مسلمان بہتر چھوڈ کر نماز پڑتھ۔ آسنہ غیر مسلم تلہ یوسہ  
 تم ن پندہ طورہ کانہہ نمازہ عبادتھہ مقرر آسہ سوعبادت کمرتھہ لوکن تھی فیقسمن باللہ إِنْ ارْتَبْتُمْ ہس  
 ہاون تم زہ قسم خدایہ سندر ہر گاہ تم متعلق تو بہ شک آسہ۔ لَأَنْشُرِي بِهِ ثَمَنًا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ قسم  
 ہاون تم ہتھہ کتھہ پڑتھ کہ اس گروہ حاصل سمہ قسمہ سیت کانہہ فائدہ یعنی میت سندر مالکہ طمعہ موکھ گزو  
 نہ اس کہز قسم اودہ آستن آسہ آشاہن رشتہ دار ہن کانہہ ہندر علیت کرو نہ اس وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ  
 ہرورد گزارہ سندر طرفہ یوسہ تھہ و نہ نگ حکم چھو سوتھہ تھاو نہ اس کھنت إِنَّا إِذْ لَمِنَ الْأَثِمِينَ ہر گاہ  
 اس ہر تھہ گزو بیشک اس چھہ تلہ گتھگازوتہ مجر مو آندرہ فَإِنْ عَثُرَ عَلَىٰ أَنَّهُمُ اسْتَحَقَّ إِنَّمَا ہس ہر گاہ  
 طریقہ معلوم سپدہ کہ سمودو یو گواہو اکور پن حق ثابت گنہہ سیت یعنی خیانت کرتھہ ہو و کھ قسم اہز فالآخرین  
 يَقُومُونَ مَقَامَهُمَا ہس بدل زہ گواہ سپن قائم ہن دون گواہن ہنزہ جاییہ مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ  
 الْأُولَىٰ تہمدہ طرفہ ہند حق ضایع کرنہ او سم زہ ہو گواہ آسن تم ہند نزد یک رشتہ دار فَيُقْسِمُ بِاللَّهِ  
 ہس خدای سندر قسم ہاو تھ ورن سم زہ گواہ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتَيْهِمَا سان گواہی چھہ زیادہ درست  
 برو نظمین گواہن ہندہ حوثہ وَمَا عَتَدْنَا نِيًّا اسہ کتھہ قسمہ زیادتی کرنہ اس حدہ ڈل نہ ہر گاہ اس حدہ ڈلت آسہ  
 إِنَّا إِذْ لَمِنَ الظَّالِمِينَ تلہ چھہ اس ضرور ظالمو آندرہ ذَلِكَ آدْنَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا

بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُونَ أَنَّ شُرْدَ إِيمَانٍ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ  
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْمِعُوا طَائِفَةً مِّنَ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ذُرِّيَّةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ  
 يَوْمَ يُجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ قَالُوا لَا عِلْمَ  
 لَنَا إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ ۝١٠٩ إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْقُوبَ إِنِّي  
 أَزِيدُكَ بِيَدِي بِرُوحِ الْقُدُسِ مِن قِبَدِي لَأُنشِرَنَّ لَكَ  
 أَلْسِنَتَهُم بِرُوحِ الْقُدُسِ فَصَبْرًا حَسْبُكَ ۚ إِنَّكَ كَرِيمٌ

سمہ طریقہ قسوسیت چھوڑنا زیادہ امید کہ تم دن گواہی جان پائے۔ رتہ طریقہ۔ اَوْ يَخَافُونَ أَنَّ شُرْدَ إِيمَانٍ  
 بَعْدَ إِيمَانِهِمْ یا کھوڑنا کم از کم سمہ کتھہ نشہ کہ ہر گاہ اس پوز پوز نو نہ تلہ ایہ سان گواہی تہ رد کر نہ دو سمہ  
 گواہی سیت۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَسْمِعُوا بیہ کھوڑو اللہ تعالیٰ اس معاملات و حقوقن منزمہ آسوا ہونان۔ بیہ  
 یوز و خدایہ سدا احکام تو پتہ مانو۔ ہر گاہ مانو نہ تلہ سپد و فاسق تہ نافرمان وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ  
 اللہ تعالیٰ چھوڑ نہ نافرمان نجاق تہ سعادتی و تھہ ہوا ان یَوْمَ يُجْمَعُ اللَّهُ الرُّسُلَ سُودوہ پاوڑ تیس سمہ دو بہ  
 جمع کرہ اللہ تعالیٰ ساری جینمیرن اُتیوسان سوگو قیامتک دوہ کوتاہ ہونانک چھہ فَيَقُولُ مَاذَا أُجِبْتُمْ تو  
 پتہ ہر ژھیچھہ تو بہ کیاہ جواب اووہ نہ سمن اُتین ہندہ طرفہ قَالُوا لَا عِلْمَ لَنَا تم ذہن آسہ چھوڑ نہ  
 ژیتسی کہنی۔ تہ آسہ تمہ دو بہ شرت ہو لک اثر تمن پیٹھہ۔ زہول آسبھہ سپد مت إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ  
 الْغُيُوبِ ہر پات ژری چھوک ساری پو شیدہ چیز زانہ ون إِذْ قَالَ اللَّهُ لِيَعْقُوبَ إِنِّي أَزِيدُكَ بِيَدِي بِرُوحِ  
 الْقُدُسِ وَاعْلَمْتَ أَنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ فَاتَّقِ اللَّهَ يَا إِدْرِيسَ إِذْ وَقَفَ عَلَى الْمَوَاقِفِ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ  
 نَادَىٰ خَفِيًّا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَزَّلْنَا سُلَيْمَانَ بِرُوحِ الْقُدُسِ عَلَى الْهَيْكَلِ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْعَالَمِينَ  
 سیت (سوگو جیریل ابن علیہ السلام) تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَاعْلَمْتَ أَنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ فَاتَّقِ اللَّهَ  
 سیت منزلس منزمہ بیہ بوڈو اتھہ دون کلامن منزلس نہ کانہہ فرقاہ وَاعْلَمْتَ أَنَّ رُوحَ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ فَاتَّقِ اللَّهَ



يَعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ۗ قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۳﴾ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتُنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشُّهَدَاءِ ﴿۱۱۴﴾ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ

هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ يُنَزِّلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ کیا ہے تمہند پروردگار میں کیا اسے پیٹھ  
 آسمان سے طرفہ نعمت بند خواجہ نازل کرے، واللہ، مہ ماہ جو تہندس مگر خمس خلاف قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنْ  
 كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ حضرت عیسیٰ ان دو کچھ کھوڑو خدا بس ہر گاہ تہہ بالہ اسمان چھوہ۔ بڑھ کھ کر نہ نشہ روزو  
 پٹھہ بیچارہ بالہ اسمان پہر نہ مجرں ہمز فرمایش کرن۔ بے ضرورت امہ قسمک چیز طلب کرن چھو خلاف  
 اوب۔ قَالُوا نُرِيدُ أَنْ نَأْكُلَ مِنْهَا وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتُنَا وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ  
 الشُّهَدَاءِ تم لگ ونہ امہ خدایہ سندس قادر مطلق آسکس اندر مگر قسمہ شک تہ تردو چھو نہ بلکہ چھو  
 سون مقصدیہ ونہ اندرہ اکھ کہ اس کہمہ ہو کینہہ اسہ چھہ پوچھہ لچر بہ روزہ ہن سان دل مطمئن۔ اسہ پیہ  
 ہنہ معاشرہ خیرہ فخر تھاون تمہ نشہ بے فخر روز تھہ کرہ ہوا اس خدایہ سز عبادت۔ بیہ سپدہ معلوم اسہ توہہ  
 فر مووہہ پوز۔ بیشک چھوہ تہہ بیغمبر خدا۔ بیہ روزہ ہوا اس تہندس اتھہ مجرں پیٹھ گواہ۔ سو سپدہ ہاتین لوکن  
 ہنہ ہدایتک ذریعہ تہ سبب قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ چنانچہ یہ جواب بوز تھہ سپدہ معلوم حضرت عیسیٰ اس کہ  
 تہند غرض چھو صحیح اتی کور کھ دعا اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ یا اللہ ای سانہ پرورد گارہ  
 نازل کر اسہ پیٹھہ خواجہ۔ پیٹھہ منزرتھہ کر تھہ، تیار سپدہ تھہ تھیک چیز اس آسمان سے طرفہ تَكُونُ لَنَا عِيدًا  
 لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ تمیک و سُن تہ نازل سپدن بنہ سانہ خیرہ، ساتین  
 برو تھمین ہتین ہنہ خیرہ فرحت و سرورک باعث۔ بیہ سپدہ سوچانہ قدرت کاملک بوڈ نشانہ۔ کر اسہ امہ





إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنْ أَعْبُدُ وَاللَّهُ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ  
 شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتُ أَنْتَ الرَّؤُوبَ عَلَيْهِمْ  
 وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۱۴ إِنَّ تَعَذُّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ  
 تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۱۵ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ  
 الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ

برحقہ سنزئیس میون تہ تہند ہرورد گار چھو وکنت علیہم شہیداً انا دمت فیہم ایتس کالس یو تمن  
 منز اوس آسمانس پیٹھ کھار نہ بندہ بروٹھ تہ آسمانس پیٹھ کھار نہ بندہ پتہ تہ تیتس کالس اوس یو تمن عجرانی  
 کران تہ ہونہ حال وچھان فلما توفیتنی کنت انت الرؤوب علیہم وانت علی کل شیء شہیداً تمہ پتہ بلہ ثیہ  
 میون وقت پورہ کور تھ اڈہ اسکھ ژی تہند ر اچھہ ژی چھو کھ ہر ہتھہ چیزک حال وچھان ان تعذبہم  
 فانہم عبادک ہر گاہ ژہ تمن عذاب کرکھ تم چھہ بندہ چانی۔ ژیہ چھوی پورہ اختیار تمن پیٹھ۔ وان  
 تغفر لہم ہر گاہ تمن بخشکھ تہ مغفر تھی کرکھ فانک انت العزیز الحکیم چان اتھہ کانہہ ہتھہ ہیکہ  
 نہ رٹھہ کیاہ ژہ چھو کھ بیشک سارنی پیٹھ غالب تہ جنتہ وول قال اللہ ہذا یوم ینفع الصادقین  
 صدقہم فر موو اللہ تعالیٰ ان یہ از یک دودہ چھو سیمہ دوہہ نفع دیہ پز یارین پوز ہن۔ سکو لوکو ہزس  
 اعتقادس پیٹھ روز تھہ ر ژہ عملہ کر مژہ اس لہم جنت تجری من تحتہا الانہر خالدين فیہا ابدا تہندی  
 خیطرہ ہتھہ تم جنت تہ بلغ ممومنز جو یہ پکان اسن تم روزن تجن جنتن منز ہمیشہ لہا ابدا رضى اللہ عنہم  
 ورضوا عنہ خدا تمن نشہ راضی تم خدا بس نشہ راضی تہ خوش۔ ذلک الفوز العظیم ییہ گیبہ بد  
 رسنگاری تہ کامیابی یعنی رضای خدا حاصل سپدن۔ دنیا عج کانہہ کامیابی چھنہ اتھ برابر لله ملک

فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۱۱۹﴾  
 لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۲۰﴾

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ پادشاہت چھہ آسمان منزتہ زمین منزبہ تین سارنی پیٹھہ سیم تین دون  
 منز روزان چھہ۔ عالم علویک مخلوق تہ عالم سفلیک مخلوق تہ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سؤی چھو ہر پیٹھہ  
 چیزس پیٹھہ قدرتہ وول۔ امسی مالک کس ہزہ پنہ نین مخلوقن پیٹھہ احکام مقرر کرن۔ سیٹھاہ پیٹھہ تہ ناجائز  
 چھو پیٹھہس پادشاہہ سز، پیٹھہس قدرتہ وال سز نافرمانی تہ عدول حکمی کرن۔





رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿۴﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ  
 فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۵﴾ أَلَمْ يَرَوْا كَمْ  
 أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يُمَكِّنْ لَكُمْ  
 وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ  
 تَحْتِهِمْ فَاهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿۶﴾  
 وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قُرْطَائِسٍ فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ

اندره۔ تمو ترشوی آیات کرسموسیت سید ثابت توحید باری تعالی کیا زہ نس اندر سیم صفات آس  
 سوی چھو عبادتس سزاوار بیہ نہ کانہہ وماتاتہم من الیوم من الیوم الا کانوا عنہا معرضین یہ  
 چھو نہ سکن مکہ کین کافرن تہ مکنر نشہ خلیہ سیدہ وحدانیتہ کیونشاواندرہ کانہہ نشانہہ کانہہ دلیلہ  
 واتان۔ مگر تم چھہ تمونشاوتہ دلیلونشہ نھہ پھر ان۔ فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ چنانچہ تموکور انکار  
 یتھہ ہزس قرآن مجیدس یلہ سوتمن تشہ دوت۔ مگر تممن ہندہ امہ انکار کرنہ تہ نھہ پھر نہ نشہ لیہ نہ اچھہ  
 ٹونہ فَسَوْفَ يَأْتِيهِمْ أَنْبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ جلدی لکھہ تمن پتہ تمہ چیزک یوتھہ تم ٹھٹھہ کران  
 آس یعنی عذابس گڑھن گرفتار اَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يُمَكِّنْ لَكُمْ  
 وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا کیاہہ تمووچھناہ پنہ نین سفرن اندر۔ اسہ کاژہ اُمرچھہ ہلاک کرہ  
 مرہ تمکن اسہ دنیاس اندر سوتوت تہ طاقت دیوتمت اوس ٹس نہ توبہہ دیمتت چھو۔ یہہ آس آس تمن  
 بیٹھہ آسلیجہ طرفہ پے درپے وزہ وزہ رود تراوان وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ یہہ آسہ ہمزو  
 بستیتہ آبادیہ منزہ جوہہ تہ کولہ جاری کرہ مرہ فَاهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ باوجود آل کراسہ تم ہلاک تھدیو  
 گتھوتہ نافرمانیوسبہ۔ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ توپتہ کڑہ آسہ تمن پتہ واریاہ جمائس پیداہ۔ یتھہ پاٹھ  
 توبہہ بیٹھہ تہ ہمزہ نافرمانی سببہ اس عذاب نازل گرو۔ یہہ کیاہہ عجائب چھو۔ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قُرْطَائِسٍ  
 فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسْحارٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِمْ تھن لوگن ہندہ کفر وعناد چچ چھہ یہ کیفیت

الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۴﴾ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ  
 عَلَيْهِ مَلَكٌ ۖ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ ﴿۵﴾  
 وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا  
 يَلْبَسُونَ ﴿۶﴾ وَلَقَدْ اسْتَهْزَى بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَخَاقَ  
 بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۱۰﴾ قُلْ

کہ ہر گاہ اس کاغذس پٹھے لیجھتے کتاباہ تو بہر پٹھے نازل کرہ ہو تو پتہ کرہ ہن تم پنہ نیوا تھوسیت تھہ  
 تھپ۔ تو تہ ونہ ہن سیم کافر تہ مجر یہ ہچونہ مگر ناکارہ ہوجودتہ سحر کیا زہ یلہ نہ ولہ کن ما ن غرض چھو  
 آسان تلہ چھو پر ہتھہ دلیلہ نسبت کہ ہنہ تہ کہ ہنہ کھہ یدان کڈنہ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ مَلَكٌ بِہ  
 وون سیمو کافر وکیازہ چھونہ ہن پاتھہ نازل سپدان حضرت محمد س ﷺ ہتھہ کانماہ ملکا کس یہ ہندس  
 پیغمبر آسس پٹھے تصدیق کرہ ہا۔ وَلَوْ أَنْزَلْنَا مَلَكَ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان ہر گاہ آس نازل کرہ ہون ملکاہ  
 ہتھہ پاتھہ سیم یزہان آس لُقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنظَرُونَ تلہ پیہ ہاقصہ ختم کرہ نہ یعنی تھہ صورتس  
 اندر ہر گاہ تم ایمان آنہ ہن نہ۔ تلہ پیہ ہا تہ ہدہ ہلانک تہ گالنگ حکم جاری کرہ نہ ہتھہ اندر نہ تم ن سہ قسمہ  
 مہلت پیہ ہاونہ موجود صورتس اندر آہہ تم ن مہلت ونہ ہتھہ تم ن توبہ کرنگ موقعہ حاصل سپدہ وَلَوْ  
 جَعَلْنَاهُ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا بیہ ہر گاہ اس پیغمبر بناوتھہ سوز ہون کانہہ ملک سوتہ کرہ ہون اس  
 بصورت انسان کیا زہ عام انسان وچھونہ طاقت ملک وچھنک وَاللَّبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ تو پتہ  
 تراوہوک اس تم تم ن شہن اندر تم ن اندر وچھنس تم پیمت چھہ تمہ ساتہ تہ ونہ ہن تم تھہ سمہ وچھنس  
 ونان چھہ تم سدس بصورت انسان آسس پٹھے کرہ ہن شہہ خبر چھایہ چھا ملک کنہ چھونہ۔ لہذا نہ  
 سپد و تہہ یار رسول اللہ ہنہز و تھوسیت آزر دہ یہ نو تھہ چھنہ وَلَقَدْ اسْتَهْزَى بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَخَاقَ  
 بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ پڑ پاتھہ ٹھٹھہ آو کر نہ تم ن پیغمبر ن  
 سیت تہ سیم توبہ ہر و تھہ آس۔ تو پتہ ول تم تم ن عذابن ہتھہ تم ٹھٹھہ کران آس۔ لی نہ تم ن لوکن تہ

سَيُرَوُّ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ﴿١١﴾  
 قُلْ لِمَنْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كُتِبَ عَلَى  
 نَفْسِهِ الرَّحْمَةُ لِيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ  
 خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿١٢﴾ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْبَيْلِ  
 وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿١٣﴾ قُلْ أَعِزَّ اللَّهُ أَخِذُوا وَلِيًّا

تم توہم ٹھٹھہ کران چھوہ۔ لہذا نہ بانہر وکینہہ۔ قُلْ سَيُرَوُّ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
 الْمُكذِبِينَ فرماؤ کہ تہہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای لو کو پھیر و تہہ سارسی زمینس تو پتہ و چھو کیاہ  
 چھو سہمت انجام مکران ہند سموسان آیات اہزان قُلْ لِمَنْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ پر تھو کہ  
 تہہ یارسول اللہ آسان وزمینس منزیہ چھو تہہ گہند چھو قُلْ تم نے امیک جواب دن یورے فرماؤ کہ  
 نلکہ سوڑی چھو معبود برحقہ سند کیا زہ امیک جواب چھو نہ امہ ورا ای کہنی۔ کُتِبَ عَلَى نَفْسِهِ  
 الرَّحْمَةُ تم چھو ذمہ ہر مٹپانس پٹھہ لوکن نسبت مہربانی کرن۔ تم شکر کہ نفعہ توبہ کرن لِيَجْمَعَنَّكُمْ  
 إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ضرور کرہ توبہ سارنی جمع قیامتک دوہ تو پتہ ہیہ سارنی حساب قیامتک دوہ  
 گو تہکس بینس منزہ شکتہ چھو کانہہ۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان ڈیٹھہ کیتھہ تہہ سکن کافرن توحیدہ چہ  
 دلیلہ زحمتک تہ عذابک وعدہ وعیدہ کتر و الْاٰیٰتِ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ مگر سمولو کوٹن پان  
 پائے نقصانس تہ تاوانس منزرتو تم پڑھ کرن نہ، ایمان آئن نہ، کیا زہ سموچھہ پن عقل تہ نظر صحیح  
 ضایع کر مٹ۔ کانہہ چیز حاصل کرن خیطرہ چھو قوت فکریہ استعمال کرن لازم تہ ضروری آسان۔ تھہ  
 قوتس چھنہ تم کامی ہوان۔ لہذا کتھہ پاٹھہ آن تم ایمان۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْبَيْلِ وَالنَّهَارِ ہیہ چھو  
 تہندوی تہ سوڑی ہیہ رانس تہ دوہس منزرو ز تھہ چھو۔ یعنی مکان وزمانس منزریہ کینہہاہ چھو تہ چھو  
 تہندوی وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سوی چھو سوڑی بوزہ ون سوڑی زانہ ون قُلْ فرماؤ کہ تہہ یا  
 رسول اللہ اَعِزَّ اللَّهُ أَخِذُوا وَلِيًّا قَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطَعَّمُ وَلَا يُطْعَمُ ای کافر و تہہ چھوہ

فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُهُ وَلَا يُطْعَمُ قُلُوبُ  
 إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ  
 الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۴﴾ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ  
 يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۵﴾ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَ  
 ذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ ﴿۱۶﴾ وَإِنْ يَسْسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ  
 لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ

پڑھان بویارٹن محبوب برحقس وراى بیه کانہ دوستاہ مددگاراہ تہ معبود المنسز عبادت بوکرہ سوتر او تھہ  
 ئس آسان تہ زمین ہند پیدہ کروون چھو۔ بیہ چھوسارنی کھیواون۔ تس چھونہ کھیواون کانہ۔ کیا زہ سو  
 چھو کھینہ چنہ نیشہ منزہ تہ پاک قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ  
 الْمُشْرِكِينَ فرمایو کہ تہہ یارسول اللہ سمو عقلی دلیلو علاوہ چھہ نقلی دلیلہ سمو موجب نہ بوئہ صورتہ  
 تس وراى کانہ معبود زان۔ سو نقلی دلیل گنیہ بیہ کہ میہ اوامر کرنہ کہ بو آسہ گوڈھوئی خمس تعمیل  
 کرون۔ بیہ آم حکم کرنہ بیٹھ نہ ہرگز بنو تہہ شرک انہ وینو آندرہ۔ بیہ یلہ تس صاحبس وندہ آؤ ئس  
 صاحب شرک انہ نیشہ معصوم تہ پاک چھو۔ وئن چھنہ بین ہننز تھس۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ  
 رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ فرمایو کہ تہہ یارسول اللہ بوچھوس کھوژان ہر گاہ بو نا فرمانی کرہ  
 پروردگار س پنے ئس۔ بڈہ دو بھس عذابس۔ ئس عذاب حکم نہ مانوین کرنہ بیہ۔ سو بوڈوہ گو قیامتک دوہ  
 مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ ئس آس نیشہ تمہ دوہک عذاب ہتھہ لیہ رنہ بیشک تس  
 کورخدان بوڈر حم۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ سوئ گنیہ نرستگاری تہ کامیابی یعنی تمہ دوہبجہ عذابہ نیشہ  
 نجات لبین وَإِنْ يَسْسُكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ ای انسانہ ہر گاہ ژیہ واتاوی اللہ تعالیٰ کانہ  
 تکلیفہا، کانہ بلا یاہ کانہ بیماریاہ کنہ تنگیاہ ئس چھونہ کانہ اکھاہ ئس بیٹھہ تکلیفیس ژیہ نیشہ ڈور ہجہ کمر تھہ  
 تس معبود برحقس وراى۔ وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہر گاہ سو واتاوی ژیہ

قَدِيرٌ ۱۴) وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۱۵) وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ۱۶) ۱۷)  
 قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً ۱۸) قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ  
 وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ۱۹) أَيْتَكُمْ  
 لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى ۲۰) قُلْ لَا أَشْهَدُ قُلْ إِنَّمَا  
 هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ ۲۱) وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ۲۲) الَّذِينَ اتَّيَبْتَهُمْ  
 الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمُ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ

کانہ خیرا صحتہ، دولتہ، تسلطہ کانہہ رتھہ ہیجہ نہ سو چھو پریتھ چیزس پیٹھ قدرتہ دول۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ سؤی چھو غالب پنہ نین بدن پیٹھ۔ ہیہ چھو سؤی بو ذحمتہ دول سارچی خبر تھادون قُلْ أَيْ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً تہہہ پر تھو سمن توحیدور سالتہ کین مکران کہ ساروی اندرہ تہہہ چھو بوڈ گواہ آسنہ کن۔ سمسنہ گواہی سیت کنہ مختلف فیہ مسلس منز فیصلہ ہیہ کرنہ قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ یورے فرماوی کہ تہہہ ساروی خوتہ چھو بوڈ گواہ آسنہ کن اللہ تعالیٰ۔ سؤی چھو میہ منزتہ توہہ منز گواہ۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ أَيْتَكُمْ لَتَشْهَدُونَ أَنَّ مَعَ اللَّهِ إِلَهَةً أُخْرَى کیا تہہہ چھو اہمہ عہ گواہی پتہ تہہ گواہی دوان کہ خدا ایس سیت کیاہ چھو ہیہ کانہہ معبودتہ شریک۔ ہر گاہ تم دمن تم چھہ تو تہہ امہ شریک گواہی دوان۔ تھہہ صور تس اندر چھو تھن سیت گفتگو کرن بے کار قُلْ لَا أَشْهَدُ تہہہ فرماوی کہ بوہر گزار تھہہ تھہہ ہنز گواہی چھو سنہ دوان قُلْ إِنَّمَا هُوَ اللَّهُ وَاحِدٌ وَإِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ تہہہ فرماوی کہ تھہہ صور تس اندر ہن اعتقاد کہ سؤ معبود چھو نہ مگر کئی۔ بو چھوس بیزار تمو چیز ورتھہہ ہتم چیز تہہہ تس شریک ٹھہر او ان چھوہ۔ رسالتس متعلق چھہ کافر دنان کہ اسہہ پرتھہہ بہو دو نصاری ان تھہہ متعلق چھہ یہ تھہہ تھن کہہ الَّذِينَ اتَّيَبْتَهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ آبَاءَهُمْ تم لو کہ تھن اسہہ کتاب عطا کر تم چھہ امس پیغمبر بر حقس شک و شبہہ واری تھہہ پاٹھ زانان تہہہ پرزہ ناوان گوڈہ پیٹھہہ تھہہ پاٹھہہ پنہ نین نچوین زانان تہہہ پرزہ ناوان چھہ الَّذِينَ



فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۲۰﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ  
 كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۲۱﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا  
 ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا آيِنَ شُرَكَائِكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ  
 تَزْعُمُونَ ﴿۲۲﴾ ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَنْتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا  
 مُشْرِكِينَ ﴿۲۳﴾ أَنْظِرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَصَلَّ عَنْهُمْ  
 مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۲۴﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ

حَسْرًا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ سمو لو گو باوجود شہادتِ گہری یعنی بدگواہی آسمیہ باوجود بین پان تاوانس  
 تہ نقصانس منز تراو تم ہرگز پڑھ کرن نہ، نہ توحیدس نہ رسالتس۔ سیم مکرین توحید و رسالت ہجہ  
 عقلا تہ نہایت بے انصاف وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ  
 الظَّالِمُونَ بیہ سبہ اکھاہ چھو یژ ظالم تہ بے انصاف تہ شخصہ سندہ خود تہ سیم اپز نوو زود کئس خدائس پیٹھ  
 شریک ٹھراونہ سیت۔ یا اہز زان تہند آیات سیم پیغمبرن عطا آی کرنہ۔ پز پاپ کامیابی تہ رستگاری  
 چھند ہرگز تھین ظالم قیامتک دوہ بلکہ آس تم گرفتار عذاب وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا بیہ چھو سودوہ  
 تہ قابل ذکر سمہ دوہنہ اس تم ساری خلائق جمع کرو کہ محشرہ کس میدان اندر ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ  
 أَشْرَكُوا آيِنَ شُرَكَائِكُمْ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ توپتہ و نو اس تمن لو کن سیم خدائس شریک  
 ٹھراوان آس۔ ای مشرگو کتہ چھوہ تم معبودان باطل سیم ٹھہ خدایہ سند شریک زانان آسوکہ۔  
 سفارشہ خیرہ کو نہ چھو کہ پیش کران ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فَتَنْتَهُمْ توپتہ آس نہ تمن پینہ خیالہ نجامتک کانہ  
 حیلہ تہ بہانہ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبَّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ اپز وندہ ورا ی کانہ چیزاہ۔ دین قسم تہ  
 خدایہ سندئس سون پروردگار چھو۔ اس آس نہ خدائس شریکی ٹھراوان أَنْظِرْ كَيْفَ كَذَبُوا عَلَىٰ  
 أَنْفُسِهِمْ وارہ و چھو کیتھ اپز و تھ پینہ نین پان ہندہ حقہ۔ وَصَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ  
 بیہ مشکھ تمہ سارے تھ، اپزہ تھ سمہ ٹھراوان آس تم دنیا س اندر وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ

قُلُوبِهِمُ الْكِنَّةَ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ يَرَوْا كَلِمًا  
 آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۲۵﴾ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ  
 وَيَنْتَوْنُ عَنْهُ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ﴿۲۶﴾  
 وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبُ  
 بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۷﴾ بَلْ بَدَأَ اللَّهُ مَا كَانُوا

سمو کافر و اندرہ چھہ بعضی سم تہند قرآن مجید ہر دن چھہ بو زان۔ مگر سو تہند بو زان حق تھانڈنہ خیر ہ  
 آسان چھونہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ الْكِنَّةَ أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا اس چھہ تہندین دلن پیٹھہ  
 تراومت پٹھہ۔ پٹھہ تمن فخرہ ترہ کینہہ بیہ چھو تہندین کنن تر وومت زریٹھہ بو زان جھکھ کینہہ۔ تہن زان  
 اچھن ہنز کیفیت چھہ کہ وَإِنْ يَرَوْا كَلِمًا آيَةً لَا يُؤْمِنُوا بِهَا ہر گاہ تمہ سارے ذلیلہ تہ وچھن توتہ  
 کرن نہ پڑھ زن نہ کہی وچھمت آسکھ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا  
 أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ تالینک یلہ توبہ نشہ یوان چھہ پنہ خیالہ بحث کرنہ خیر ہ مکر کینہہ چھو کھ نہ  
 اندان لاجواب گوہتھہ چھہ ونان سم کافر کہہ بیہ قرآن مجید چھونہ مگر بروٹھن ہندا ہنز قصہ تہ افسانہ وَهُمْ  
 يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنُ عَنْهُ بیہ چھہ سم کافر قرآن مجید بو زنہ نشہ پتھہ رٹان تہ منع کران بیہ چھہ پانہ تہ  
 آسہ نشہ پتھہ ژلان تہ دُور روزان وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ مگر بیہ کرنہ سیت چھہ سم  
 تباہ کران مگر پنہ نی پان بیہ چھہ بیہ پن تباہی ژنیان تہ محسوس کران وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وَقَفُوا عَلَىٰ النَّارِ ہر گاہ  
 ژہ وچھکھہ اکی وچھہ ونہ سو وقت سمہ ساتہ سم کافر تہ مکر وودنہ تھاونہ یلن نار کس پٹھس پیٹھہ پر ژہ گار  
 کرنہ خیر ہ یلن پنہ خیر ہ تمہ ساتہ وچھکھہ ژہ سیٹھا ہولناک منظر اہہ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ تمہ ساتہ  
 لگن دپنہ تم اکی کاش لسے دُنیا س لگن بیہ سمہ ہو سوزنہ وَلَا نُكَذِّبُ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونُ مِنَ  
 الْمُؤْمِنِينَ وَنَاسٍ پنہ نین خدایہ سندین آیاتن انکار کردہ ہونہ، تم اپز زانہ ہونہ۔ وگن بنہ ہو آس تہ

يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۲۸﴾ وَقَالُوا لَإِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ ﴿۲۹﴾ وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۳۰﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا لِمَ حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا فِيهَا

با ایمانوی آندره۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان بیہندیہ تمنا کرن چھونہ سُنَّہ حقیقتس پیٹھہ مینی بَلْ بَدَا لَهُمْ مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ بلکہ سپد تخن چیزن ہند اثرات ظاہر سم پو شیدہ تہ کھٹھ تھوان آس تم از کہہ بروٹھہ دنیا س اندر وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ہر گاہ تم بیہ دنیا آس کن وانس یلن سوزنہ بیہ گزن تے کامہ سمونیشہ منع اوسکھ یوان کرنہ پز پانٹھ تم چھہ سم وعدہ کرنس اندر بالکل اپزیر وَقَالُوا لَإِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوثِينَ بیہ آس سم کافریتہ دنان کہہ بیاکھ زند گیاہ چھنہ بیہ کینہہ سمہ سانہ دنیا چہ زندگی ورا ی۔ بیہ کتھ چھ غلط کہ اس کیا سمومرنہ پتہ بیہ زندہ کرنہ وَلَوْ تَرَى إِذْ وَقَفُوا عَلَى رَبِّهِمْ ہر گاہ تہہ ڈوچھ بکھ ای ڈوچھ ونہ سو وقت سمہ ساتہ سم قیامتک مکر دودنہ تھاونہ یلن پنہ نس پروردگار س بروٹھہ کنہ تہہ گروہکھ حیران تہ پریشان سو وقت ڈوچھتھہ قَالَ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ اللہ تعالیٰ فرماو یکھ ای مکر وکیا آسنا یہ قیامت تہ مرنہ پتہ زندہ سپن حق تہ پوز قَالُوا بَلَى وَرَبِّنَا دین سانس پروردگارہ سُنَّہ قسم یہ اوس واقعی بالکل پوز قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اللہ تعالیٰ فرماو یکھ یہ تہہ س اقرار کرنس چھونہ کینہہ اعتبار لہذا تہہ وون تہہ عذاب پنہ ٹھک تہ انکارک تو پتہ یلن سوزنہ سم جہنمس منز قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ بیشک تاوان پیو تخن لوکن سم انکار آسن کران مرنہ پتہ بیہ زندہ سپت خدا یس بروٹھہ کنہ پیش سپد نس یہ انکار و تکذیب چھو دنیا س اندر کیرہون دون حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا لِمَ حَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَّطْنَا

وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلْسَاءَ مَا يَزِرُونَ ﴿۳۱﴾ وَ  
 مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ  
 يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۳۲﴾ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي  
 يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بَايَتِ اللّٰه  
 يَجْحَدُونَ ﴿۳۳﴾ وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبْرٌ وَعَلَى  
 مَا كَذَّبُوا وَأَوْذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا وَلَا مَبْدَلَ

فِيهَا تمہ پتہ پلہ واتھ پیہ تمن قیامت ہجھہ تہ معجہ دینہ لکن افسوس چھو سانہ خیطرہ اسہ کیا زہہ کرے پیہ  
 سستی تہ کوتاہی اتھ اندر وَّهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ أَلْسَاءَ مَا يَزِرُونَ درحالیجہ تلکن تم پیہ  
 نین گنن ہند بور پیہ نین پشمن پیٹھ۔ وارہ بلوزکمہ کوتاہ پیٹھ اسہ یہ ہدیہ بور کیا زہہ تمیگ انجام اسہ سیٹھاہ  
 پیٹھ وَ مَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهُمْ چھنہ پیہ دنیاہ چ زندگی مگر گند ناہ تہ شغلاہ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ  
 خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ البتہ آخر تک گرہ چھو سیٹھاہ بہتر پرہیز گارن ہندہ خیطرہ کیا۔ مہ  
 دلہلہ بلوز تھ تہ چھوہ ناتوہہ فکرہ تران۔ قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ ہن پاپٹھ اس چھہ  
 بخوبی پیہ تھ زانان کہ توہہ چھہ غمگین کران کافر ن تہ مفرن ہنزہ تھہ۔ مگر پروامہ ہر دیکھنہ خدا جس پشور  
 پیہ معاملہ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ تم نہ حض چھنہ براہ راست توہہ اپزور زانان وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ  
 بَايَتِ اللّٰه يَجْحَدُونَ لیکن ہم ظالم چھہ خدایہ سندین آیتن زاتھ کتر تھ عمدا انکار کران خدا  
 چھڈہ نہ تمن عذابس گرفتار کرنہ وراہی۔ تہہ رُوزوبے فکر وَلَقَدْ كَذَّبْتَ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ پیہ معاملہ  
 سپدہ توہی سیت، بلکہ توہہ بروٹھہ تہ آو پیغمبران انکار کرنہ۔ فَصَبْرٌ وَعَلَىٰ مَا كَذَّبُوا تمہ کور  
 صبر لوکن ہندس انکار س، نہ مانس پیٹھ وَأَوْذُوا حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا پیہ انکار علاہہ آو تمن عذاب تہ  
 تکلیف تہ واتانہہ تاہیکہ ووت تمن مددسون۔ تمہ پیغمبر ویتھہ پاپٹھ صبر کور تیتھہ پاپٹھ کتر و تہہ تہ صبر،  
 تیتھہ پاپٹھ ولتہ توہہ تہ سون مدد۔ کیا زہہ پیہ اعانت و مدد کرن چھو اسہ پیہ نین بدن ہندہ خیطرہ مقرر

لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَقَدْ جَاءَكَ مِنْ تَبَائِي الْمُرْسَلِينَ ﴿۳۳﴾  
 وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ  
 نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ  
 لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿۳۴﴾ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ  
 الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ ﴿۳۵﴾

کورمت وَاكْمِبِدَالِ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ هرگز هیچکس نه کانه اکهاه بدل کمر تھ خدایہ سندن مقرر کر متین  
 حمن وَاكْمِبِدَالِ مِنْ تَبَائِي الْمُرْسَلِينَ بیشک توہمہ واثرہ بروظھین پیغمبران ہنز خبرہ قرآن مجید  
 کہ ذریعہ یعنی تمن تھہ پاٹھ اؤ تکلیف ونہ۔ تھہ پیٹھہ تھہ پاٹھ کور تمومو صبر وَاكْمِبِدَالِ كَبُرَ عَلَيْكَ  
 اِعْرَاضُهُمْ ہر گاہ توہمہ پیٹھہ کافرن تہ منکرن ہنز روگردانی کرن چھو ناگوار سپدان۔ تھنز خواہش چھہ  
 تمن تم معجزات ہاون تمن ہند تم مطالبہ کران چھہ۔ دیوہ تمی سیت تمن ہدایت بنہ وَاكْمِبِدَالِ اسْتَطَعْتَ أَنْ  
 تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلْمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ بلیتہ نپس ہر گاہ توہمہ طاقت چھو تھہ کمر و  
 تلاش زمینس منز کانہ گویاہ یا آسمانس کن لاگو کانہ ہیراہ توپتہ دیو کہ اکتھہ تم معجزہ تمیم تم توہمہ نشہ  
 ژھانڈان تہ طلب کران چھہ۔ چھوے طاقت تہ کمر و۔ یہ چھو پور کہ توہمہ چھو سیٹھاہ آرزو مالک لو کہ  
 گھہہ سیزہ و تہ پیٹھہ بین۔ مگر یہ چھو خدایہ سندس یژھنس خلاف وَاكْمِبِدَالِ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى  
 پروردگارے یژھہ ہاسارنی سونبر اوہ ہدایتس پیٹھہ۔ مگر تم یژھند تہ فَلَآ تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ نپس  
 مہ یو تھہ بے خبر و آندرہ۔ یہ غم تہ فخر ترا و تھہ اِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ پرتھہ چھہ مانان تہ  
 قبول کران مگر تہ تم وارہ یازان چھہ پرتھہ پوزھانڈنہ خیترہ۔ تمن چھو اللہ تعالیٰ تہ ہدایتک توفیق  
 دووان۔ سمومو کافر و یوزنہ تھہ پاٹھ۔ لہذا تھہ پاٹھہ بنہ بکھہ ہدایت۔ دون ہر گاہ ائمہ انکار و اعراضہ مومکھ  
 تمن دنیاس منز پورہ عذاب آؤ کرنہ تمن چھلایت روزن آخر چھو کہ مَرْنَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ  
 اِلَيْهِ يُرْجَعُونَ سارنی مردون کرہ اللہ تعالیٰ زندہ قیامتک دوہ آخر تہس اندر توپتہ بین تم و اتاوندہ حسابہ

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۶﴾ وَمِمَّنْ دَابَّ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَلِيمٌ يَبْتَغِي بِنَحْبِهِ إِلَّا أُمَّمًا مُنْتَلَكًا مَافَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ ﴿۳۷﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا

خیطرہ اللہ تعالیٰ اس نشہ۔ سوی دینہ تمن پورہ سزائتمہ انکاروا واضک لہذا تراوئتمہ ٹہند خیال۔ تہنز فخر  
 تہ غم مہ بز و کینہہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ بیہ دوپ مکہ کیو کافر و کو نہ چھو نازل سپدان  
 سس پیغمبرس پیٹھہ کانہ نشانہ معجزہ پنہ نس پروردگارہ سندہ طرف۔ تمو معجزہ آندرہ سمن ہند اس  
 مطالبہ چھہ کران ستمہ سیت بہند س پیغمبر آسس تانسید سپدہ ہا۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً  
 وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ فرمادیو کہ تہہ یارسول اللہ بیشک اللہ تعالیٰ چھو پریتھہ نشانہ تہ معجزہ نازل  
 کر نس پیٹھہ قدر تہ دول۔ لیکن اکثر لو کہ چھہ زانان کہ معجزن ہند نازل کرن چھو آس قانونس تحت  
 آسان۔ یہ چھونہ لو کن ہنز خواہشہ مطابق نازل کرنہ یوان امسہ انجامہ نشہ چھہ اکثر لو کہ بے خبر۔ امہ  
 قسم مکین معجزن ہند انجام چھو کہ ہر گاہ تم فرمائی ش معجزہ ہتھہ تم ایمان ان نہ پڑھ کرن نہ تلہ بین تم یکدم  
 ساری گانہ تہ تہا کرنہ وَمِمَّنْ دَابَّ فِي الْأَرْضِ وَلَا ظَلِيمٌ يَبْتَغِي بِنَحْبِهِ إِلَّا أُمَّمًا مُنْتَلَكًا بیہ ستم  
 جاندار زمینس منز خشکی پیٹھہ یادریاوس منز چھہ۔ بیہ ستم جانور پنہ نیودو یو ہر وسیت ہوا س منز ووان  
 چھہ۔ ستمو منزہ چھونہ کانہ قسم نس نہ قیامتک دوہ ٹہندی پاٹھہ جماژو جماژو محشرہ کس میدانس منز جمع  
 کرنہ ایہ۔ اگرچہ تم ساری چھہ بے شمار، لیکن اسہ نشہ چھہ تم حسابس اندر جمع کرنہ آمت مَافَرَطْنَا  
 فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ کیا زہ اسہ چھونہ ترودمت پنہ نس دفترس منز یعنی لوح محفوظس اندر لیکنہ درای  
 کانہ چیزہ۔ پریتھہ آس چیزس متعلق چھو اسہ یوکھمت ستم چیز قیامتس تان پیدہ سپدہ ون چھہ کسند  
 کیا حال اسہ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ توپتہ بین ستم ساری انسان جاندار تہ جانور پنہ نس پروردگار س  
 نش جمع کرنہ سوی کرہ ساری منز فیصلہ۔ چنانچہ حدیث شریف چھو ”مشفق علیہ“ کہ اگر دنیا س اندر

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ فِي الظُّلُمَاتِ مَن يَشَاءِ اللَّهُ يُضِلِّهُ وَمَن يَشَاءُ  
يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۳۱﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَنتُمْ عَذَابُ  
اللَّهِ أَوْ أَنتُمْ السَّاعَةُ أَعْبَرِ اللَّهُ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۲﴾  
بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ  
مَا تُشْرِكُونَ ﴿۳۳﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَآخَذْنَا مِنْهُمُ  
بِالْبِئْسَاءِ

اک پیغمبر دار جانورن پیگو رستیس جانورس ٹھول آسہ لائعو قیامتک دوہ لپہ تیس ریشہ امیوک بدلہ پینہ۔ تمہ  
پتہ لپہ حیوانتان تہ جانورن لحم کرنہ میو گوگہ ہنووہ تمن سپدہ میو۔ تمی ساتہ دین کافر' یا لیتنی کنت  
ثرابا' کاش کہ بو تہ آسامیوے وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِالْيَتَاظُمِ وَبِكُفْرٍ فِي الظُّلُمَاتِ تم لو کہ سمو لہوہ زان  
سان آیات یعنی قرآن مجید تم جھہ پوز یوزنہ ریشہ زہ پوزونہ ریشہ کل۔ کھر چن رنگارنگ گلن اندر گر فتر  
مَن يَشَاءِ اللَّهُ يُضِلُّهُ کس یژہہ اللہ تعالیٰ پزہ ریشہ اعراض کرنہ موکھہ گمراہ کن تیس جھو گمراہ کران  
وَمَن يَشَاءُ يَجْعَلْهُ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بیہ کس یژہہ اللہ تعالیٰ تیس جھو سیزہ وتہ پیٹھہ دین حقس پیٹھہ اتان  
پینہ فضلہ سیت۔ بھتس حالس منزہند غم کھیون جھو بے سوڈ۔ یہ معاملہ کھر وتہ خدا کس سپرد  
قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن أَنتُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَنتُمْ السَّاعَةُ أَعْبَرِ اللَّهُ تَدْعُونَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فرما دیو کہ تمہ  
یا رسول اللہ ای مکہ کیو کافر و میہ ونٹو ہر گاہ توہمہ خدایہ سد عذاب پیہ دنیاس اندر تمو عذابو آندرہ  
کانہ عذابہ ہم ازتام مخبرن تہ نافرمان پیٹھہ نازل کرنہ آئے یا قیامتھی پیہ واتھہ توہمہ ہتھہ  
منزہ ہولناک واقعات آسن کیا تم ہولناک چیز دفع کرنہ خیطرہ دیوہ تمہ آلو خدا کس ور ای بیہ کانہہ  
جھوے تہہ شریک ٹھہراونس اندر پزیر۔ بَلْ إِيَّاهُ تَدْعُونَ فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ وَتَنْسَوْنَ  
مَا تُشْرِكُونَ ہر گز نہ ہر گز نہ بلکہ دیو تمہ ناوتہ آلو تمہ ساتہ تیس یوت تہ بیہ نہ کانہہ۔ پس کروہ سوی  
دور تہ دفع سو عذاب سمہ خیطرہ کس نا دیو۔ ہر گاہ سو یژہہ سو عذاب دور کرن۔ بیہ مشبوہ تمہ ساتہ تم  
ساری لہو معبود ہم کس شریک ٹھہراوان آہو۔ ای آندرہ زاتو تمہ خدا کس ور ای بلہ نہ قادر مختار کانہہ

وَالضَّرَاءَ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ ﴿۳۲﴾ فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ بِأُسْنَاتُنَا تَتَضَرَّعُوا  
 وَلَكِنْ قَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۳﴾  
 فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمُ أَبْوَابَ كُلِّ شَيْءٍ  
 حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِهَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ  
 مُبْلِسُونَ ﴿۳۴﴾ فَقُطِعَ دَابِرَ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ  
 رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۵﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَّهُ سَمْعَكُمْ

جھو عبادتس سزاوار کس بیجھ آتھہ ولقد انزلنا الی امیمن قلیلک بیشک یہ سوزا سہ بن پیغمبر وار میں  
 متن کن توہہ بروئھ تمہو کر تم پیغمبر انکار تم زانھہ اپڑ۔ فأخذنہم بالأسنات والضراء لعلہم  
 يتضرعون کس رٹ آسہ تم رزقہ تنگی سیت تہ بیمار یوسیت ہتھہ تم ہنا پھن تہ اسہ کن رجوع کر تھہ  
 عاجزی تہ زارہ پارہ کرن۔ پنہ میں کفر و تکذیبہ کین گنہن ہندہ خیرہ۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا  
 کس کونہ سنا کرے یہ سمو عاجزی تہ زارہ پارہ سمہ ساتہ تم سون عذاب واژو۔ ولكن قست قلوبہم  
 لیکن یہ ہندول آس سپد مت سخت عاجزی تھہ پاٹھہ کرہ عن وزین لہم الشیطن ما کانوا یعملون یہ اس  
 دیمت شیطان زینت تہزن تم پھہ کاین سمہ تم کران آس۔ کس آئی نہ باز تم سمو پھہ کامیونشہ  
 فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحننا علیہم ابواب کل شیء کس یلہ تمو مخر واوہ تمہ سارے نصیحو سمہ  
 تم کرنہ آسہ یوان پیغمبر ہندہ ذریعہ ادہ مور او اسہ تہندہ خیرہ ساری نعمن ہند دروازہ ہتھہ زیادہ  
 غرق گوہن نافرمائن اندر حتی اذا فرحوا بہا اوتوا اخذنہم بغتہ فاذا ہم مبلسون تا اینکه  
 یلہ تم سیٹھہ خوش لگ گوہنہ تمو نعمتوسیت سمہ دنہ آسکھ آتھہ۔ غرور تہ سبجہ ہیوت بھہ گوہن اتی  
 رٹ اسہ تم عذابہ سیت ہتھہ تہ مگھ کس سپد تم حیران تہ پشیمان یہہ ساروی چیزونشہ نامید ققطع دابر  
 القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین کس ژنہ اومول ظالم ہند۔ عالم سپد آزاد تہندہ شرہ  
 نہہ۔ حمد یون خدائس کس رب العالمین جھو سم تم ظالم ہنز بنیاد گاج قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَخَذَ اللّٰهُ





وَالَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا يَسُسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا  
 يَفْسُقُونَ ﴿۳۹﴾ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ  
 الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ إِنْ أَتَيْتُمُونِي بِالْحَدِيثِ إِلَّا قُلْتُمْ  
 قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ ﴿۴۰﴾  
 وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخْفَوْنَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ

کمر تھ رتھ عملہ کرہ تمھن آئند آخرتس اندر کانہ خوفانہ کانہ غماہ آئند وَالَّذِينَ كَذَبُوا  
 بِآيَاتِنَا يَسُسُّهُمُ الْعَذَابُ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ بیہ سبھو لو کو پیغمبرن ہندہ بشارت و نذارت کرنہ پتہ تہ  
 سائین آیاتن اُپز زاتھہ انکار کور تمھن رتھ عذاب دنیا س اندرتہ آخرتس اندرتہ تہ کیا زہ تم کیا آسن  
 نافرمانی کران قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ بیہ قاعدہ تہ اصل کتھہ بیان کرنہ پتہ فرما یو کھ تھہ  
 یارسول اللہ ای لو کو دعویٰ نبوت و رسالت کمر تھہ چھوس نہ بو تو بیہ دپان میہ نشہ تہ میانس قدرتس  
 منز کیا جھہ خدایہ سندین مقدوراتن ہند خزانہ۔ سبھہ ساتھ تھہ کتھہ چیز چ فرمائش کریوم تمہ ساتھ کیاہ  
 نتر اوہ بوسو چیز پندہ قدرتہ تہ طاقتہ سیت وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ نہ چھوس بو بیہ ونان کہہ بو کیا زانہ  
 علم غیب۔ بلکہ چھوس بو پیغمبر یوسہ پیغمبری میان دلیلو سیت ثابت چھہ۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ  
 نہ چھوس بو تو بیہ دپان کہہ بو کیاہ چھوس ملک إِنْ أَتَيْتُمُونِي بِالْحَدِيثِ إِلَّا قُلْتُمْ کہہ پیردی کران مگر  
 تھہ بیہ میہ نشہ بطریق وحی سوزنہ یوان چھو۔ سبھہ پاٹھہ بئن پیغمبرن کن وحی سوزنہ یوان اوس قُلْ هَلْ  
 يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ فرما یو کھ ای لو کو اُون تہ گاشدار چھا برابر ی بیہ کتھہ جھہ مسلم کہہ تم زہ ہر گز  
 برابر چھنہ۔ کیاہ تھہ جھوہ ناپڑھان گاشدار ہتھہ سبھہ میانس کلامس اندر فخر کرن۔ أَفَلَا تَتَفَكَّرُونَ  
 کونہ جھوہ بس تھہ سبھہ میانس کلامس اندر فخر کرن وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخْفَوْنَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ  
 رَبِّهِمْ تھہ کمر وحض نیم سبھہ قرآن مجیدہ سیت تمھن لوکن سبھہ کھو ژان چھہ کہہ تم کیا بین واتا ونہ پندہ نس  
 پروردگار س نشہ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ سبھہ حالس منز کہہ نہ آسہ

لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۵۱﴾  
 وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ  
 يُرِيدُونَ وَجْهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَ  
 مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ  
 الظَّالِمِينَ ﴿۵۲﴾ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ  
 مَنِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ﴿۵۳﴾

تمن تس وراى كانه دوستاه تنه كانه شفاعت كره وناه ناهه تم چن احتياط سان نه كهوژ كهوژ وَلَا تَطْرُدِ  
 الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ بيه مه حض كرى كه دور پانس نيه  
 تم لوک تم عبادت کران جهوپنه نس پرود گاره سز صبح نه شامن ته۔ تم ژهانڈان جهه جهند رضا، اده  
 استن تم فقيرى۔ مگر تم مه حض آسيو كه كڈان پنه جلسہ آندره مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ  
 وَ مَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ توبه پيٹھ جهنه مه تهندين عملن  
 هنز جوابده نه جهو تمن پيٹھ مه جهنزن عملن هنز جوابده نه۔ جهه گن نظر كرتھ جهه تم پنه جلسہ آندره  
 نيهر كڈيو كه۔ هر گاه تبه كوم كرونه تله ايو نه شمار كرنه به انصافى نه ظلم كره ونيو آندره وَكَذَلِكَ فَتَنَّا  
 بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنِ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ بَيْنِنَا تبه پانھه كراسه آزمائش بعضى لوكن بعضى  
 لوکو سیت (شريف سیت لوکو سیت۔ مالدارن فقير و ته مسكيو سیت) تبه مكر شريف ته مالدار دپن  
 بايمان فقيرن هند حال و جهته۔ كيا آسه منز كره الله تعالى ان امنى پيٹھ پن فضل ته مهربانى بيخيزه اع  
 آسه سانه خو ته زياده تبه سزوار اليس الله يا علم بالشاكرين كياه نه تبه جهنا تھق كه خدا جهو بيزانن  
 وول شكر گذارن ته حق شناس۔ وَاذِ اجَاءَ لَوِ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآيَاتِنَا فَعَلَّ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بيه يله آسن  
 توبه نيه يو ان يارسول الله تم لو كه سمو پره كرساين آياتن بس آسيو جهه دپان سلام بومن توبه پيٹھ  
 اى بايمانو جهنده خيتره جهه بڈ بشارت كه توبه جهو سلامتى تموساروى آتو ته بلا يونه تمن آفتن ته

وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا قُلْ سَلِّمْ عَلَيْكُمْ كَتَبَ  
 رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ ۗ أَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا ابْجَهَالَةً ثُمَّ  
 تَابَ مِن بَعْدِهَا وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٥٦ ۝ وَكَذَلِكَ  
 نَقُصُّ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ٥٥ ۝ قُلْ إِنِّي  
 نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَّا  
 أَسْبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ٥٧ ۝

بلاسن آخرتس اندر کافر تہ مشرک گرفتار سپدن کتَبَ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ پانس پیٹھ ہنزو مژ  
 چھو مٹھ تھند ہر دور دگارن مہربانی کرن سو مہربانی گپہ بیٹھ کہ۔ اَنَّهُ مَن عَمِلَ مِنكُمْ سُوءًا ابْجَهَالَةً ثُمَّ  
 تَابَ مِن بَعْدِهَا وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ہم شخصن توبہ اندرہ کانہہ گناہ کور، نادانی سببہ، توبہ تہ  
 کوزن تمہہ نیشہ توبہ بیہ کوزن پانس اصلاح، سبوں کن پنن پان، گنہو نیشہ رود پتھہ گنہہ وقتے توبہ پتھس بیہ  
 کوزن توبہ پتھس بیشک سو چھو تپس تہ سببہ مغفرت کروون سببہ رجم کرہ ون ۝ وَكَذَلِكَ نَقُصُّ  
 الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ بیہ پتھہ پاتھہ پتھس با ایمان تہ کافر ن ہند حال تہ انجام واضح  
 کور پتھہ پاتھہ چھہ آس آیاتن اندر تہ حق وضاحت کران۔ پتھہ با ایمان ہنز و تھہ تہ ظاہر سپدہ کافر ن  
 ہنز و تھہ تہ وارہ نینہ۔ حق تھاندونین ہندہ خبطرہ سپدہ معاملہ سسل تہ آسان قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ  
 أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فرماؤ گہ تھہ یارسول اللہ کہ پز پاتھہ میہ چھو خدا بیہ سبہ طرفہ منع  
 آنت کر نہ تھن معبودان باطن عبادت کر نہ نیشہ تھن تھہ خدا ایس و رای عبادت چھوہ کران قُلْ  
 لَّا أَسْبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ایتہ فرماؤ گہ توبہ بو کرہ نہ پیروی تھن  
 خواہن ہنز ہر گز۔ ہر گاہ توبہ کرہ نعوذ باللہ تلہ چھوس نہ یوسیزہ و تہ پتھہ پکہ و نیو اندرہ تہ ہدایت لبہ و نیو  
 اندرہ قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ پتہ فرماؤ گہ تھہ کہ میہ نیشہ چھہ سبہ دین اسلام کس  
 دین حق آسٹس پتھہ کافی دلیل یوسہ میانس پروردگار سبہ طرفہ میہ نیشہ واژ۔ سو دلیل گپہ قرآن

قُلْ إِنِّي عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُمْ بِهِ مَاعِنْدِي مَا  
تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ يُقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ  
خَيْرُ الْفَاصِلِينَ ﴿۵۷﴾ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ  
لَقَضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ ﴿۵۸﴾  
وَإِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۵۹﴾

مجیدئیس میون بوڈ مجزہ چھو۔ سمہ سیت میانس پیغمبر آسئس تصدیق سپدان چھو۔ تہہ چھو بے وجہ  
تہہ ایزگنزران تہہ انکار کران۔ تہہ چھو نہ اتھہ صحیح دلیلہ تہہ بدئس معجزس پیٹھہ اکتفاء کران۔ بلکہ چھوہ  
تہہ فوری عذاب نازل سپدنک درخواست کران۔ مَاعِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ میہ اتھہ تہہ  
میانس قدرتس منز چھو نہ سو عذاب سمیک تہہ فوری مطالبہ کران چھوہ کس تہہ جلد ژھانڈان چھوہ  
إِن الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ امیک حکم چھو نہ مگر خدایہ سی اتھہ۔ تس نشہ بیہ کانسہ ہند حکم چلان چھو نہ۔ سو  
حکم سپدنہ ونہ جاری۔ یوتھہ پاٹھہ انودہ پائے سو عذاب۔ ہتھہ رُودیہ بوڈ مجزہ قرآن مجید امکہ نزولک سپد  
حکم جاری۔ یہ چھوہ یوتھہ پیش کران تہہ ہوان یَقْضُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ اللہ تعالیٰ چھو  
بیان کران پزہ تھہ بدلیل۔ سوئی چھو سارنی ہمدہ خوتہ بہتر فیصلہ کرہ ون۔ قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي  
مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ وارہ وضاحت کرنہ خیطرہ فرماؤکھ تہہ ہر گاہ میہ اتھہ تہہ میانس اختیارس  
منز آسہاتہ ہتھہ منز تہہ جلدی کران چھوہ یعنی عذاب نازل کران لَقَضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ تلہ  
آسہاؤ ہتھام تہہ تہہ منز کینہہ کالک فیصلہ آمت کرنہ۔ تہہ چھو فقط خدایسی اتھہ۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ  
بِالظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ آس چھو پورہ علم ظالمن ہند۔ سوئی رطہ تھن پنہ نس موقس پیٹھہ پائے وَعِنْدَكَ  
مَقَاتِعُ الْغَيْبِ بیہ چھہ تس نشہ یعنی تہہ ندس قدرتس منز غیبہ چہ کوزہ تہہ خزانہ تمام پوشیدہ چیزن ہند  
لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا اللَّهُ تمہہ زانہ نہ کانسہ تس وراہی۔ تموجیزہ واندرہ سمہ چیزج سمہ وقتہ ایشہن سو ظاہر  
کران چھو تہہ ہن چھو سو ظاہر کران وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبُرُوجِ وَالْبَحْرِ بیہ چھو سوئی زانان تہہ سو روی یہ خشکی پیٹھہ

تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمِتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ  
 وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿۵۵﴾ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَ  
 يَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى  
 ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵۶﴾ وَهُوَ الْقَاهِرُ  
 فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ  
 الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ ﴿۵۷﴾ ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ

تہ دریاؤں منہر چھو وَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلْمِتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ  
 مُّبِينٍ بیہ چھو نہ کانہہ پنہ بر گاہ کلہ بیٹھہ وَس پوان مگر سو چھو نہ سوروی زانان بیہ چھو نہ کانہہ نہ  
 پھولہ زینہہ چہ تاریکی منہر پوان مگر سو چھو نہ زانان۔ بیہ چھو نہ کانہہ اوڈرتہ ہو کھمت چیزاہ لیس نہ  
 روشن کتابہ اندر درج کرنہ آمت چھو یعنی لوح محفوظ اس اندر، تہہ منہر چھو پر تہہ چیزاہ لیس قیاس تان  
 پیدہ سپدہ ون چھو درج کرنہ آمت وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ سُو معبود  
 بر حق گو سُو لیس توبہ (ای انسانو) رات کیت ندرہ اندر اکہ قسمہ ماران چھو (پوان چھو تہہ مردہ ہی  
 فرش پیٹھہ) بیہ چھو سُو زانان دوہس منہر کمہ کامہ کتر دتہہ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ رات کیت ندر پیاوتہہ  
 چھو سُو بیہ ہشمار کتر تہہ تھو دتلان لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى تہہ پورہ بیہ کرنہ مقرر کرنہ آمت میعاد یعنی  
 شہزہ زندگی ہند مدت راجہہ نہہہ کتر تہہ سیت ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ توپتہ چھو تہس کن توہ رجوع کرن  
 حقیقی مرنہ پتہ زندہ سیدت ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ توپتہ کردہ سُو توبہ خبر تہہ کمہ کمہ کامہ آسو  
 کران لیس دیوہ مزدور پر تہہ کامہ ہنز رتہ کامہ رتہ مزدور بیچہ کامہ بیچہ مزدور وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ  
 وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً سُو پروردگار چھو غالب قدرتہ سیت پنہ نین بندن پیٹھہ بیہ چھو سُو سوزان  
 تہہ بدن بدن ہندہ حفاظتہ خیطرہ ملائکن سیم ژر ژران چھہ تہزہ سارے کامہ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمْ  
 الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفِرُّونَ تالینکہ یلہ واتان چھو توبہ اندرہ کانہہ کس مر نک وقت۔ قبض

مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ ۗ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَسِيبِينَ ﴿۱۶﴾ قُلْ مَنْ  
 يُنَجِّيكُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ۗ لَئِنْ  
 أَنْجَيْنَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۱۷﴾ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُمْ  
 مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنْتُمْ مُشْرِكُونَ ﴿۱۸﴾ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ  
 أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ  
 يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُزَيِّقَ بَعْضَكُمْ لِبَآسٍ بَعْضٌ ۗ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ نُصَرِّفُ

روح چہہ کران تس سان بدل سوزمت ملک۔ تم چہہ کئے قسمہ سانس کس اندر کانہہ اس کی یا زیادتی  
 کران۔ بلکہ بتہہ پاٹھہ سے ستمہ وقتہ تمہن قبض روی حکم سپدان چھوتتہ پاٹھہ چہہ کران ثُمَّ تَدْعُوْا اِلٰی اللّٰهِ  
 مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ تو پتہ بن و اتاوانہ مرنہ پتہ ساری بندہ آخر تس منز معبود بر حقس کن۔ بس تہہہ حقیقی  
 مالک چھو۔ اَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ اَسْرَعُ الْحَسِيبِينَ وارہ لوزو تمہہ ساتہ آس حکم تو ہندوی حکم، فیصلہ  
 تہندوی فیصلہ سوی چھویش جلد حساب ہبہہ ون۔ حساب بتہہ جزاء سے سزا دودہ ون قُلْ فرماویو کہ تہہ  
 یارسول اللہ مَنْ يُنَجِّیْکُمْ مِنَ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ کس چھو بس توہہ اے مکہ کیو کو تہندین سفران اندر،  
 خشکی سے دریا وان ہنز، وختیو سے مشکو نشہ بتہہ حالس منز نجات چھو دو ان کہ تَدْعُوْهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً تہہ  
 چھوہ تس نجات منگان عاجزی سان کئے وقتہ، لو تہہ لو تہہ کئے وقتہ ونان چھوہ تمہہ ساتہ بتہہ پاٹھہ۔ لَئِنْ اَنْجَيْنَا  
 مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ اکی سانہ پروردگار ہر گاہ تہہ اسہ نجات دکہ سیمہ ختی نشہ و عینس، تیلیہ  
 سپدواس سیٹھاہ شکر گزار حق شناسی پیٹھہ قائم روزہ وینو آندرہ قُلِ اللّٰهُ يُنَجِّیْکُمْ مِنْهَا وَمِنْ كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ  
 اَنْتُمْ مُشْرِكُونَ تہی فرماویو کہ کہ اللہ تعالیٰ ای چھوہ توہہ ہمیشہ نجات دو ان امہہ ختی نشہ سے۔ امہہ ختی  
 ہنز کیاہ کتھی چہہ ساروی نختیو نشہ چھوہ سوی نجات دو ان تو پتہ سے چھوہ تہہ تس بدستور شریک  
 ٹھہراوان۔ شکر کچہ کامہ کران یوسہ بدنا شکری سے ناسپاسی گیہ۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا  
 مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيْعًا وَيُزَيِّقَ بَعْضَكُمْ لِبَآسٍ بَعْضٌ تہہ فرماویو کہ یارسول

الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿۶۵﴾ وَكَذَّابٌ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ قُلْ  
 لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿۶۶﴾ لِكُلِّ نَبِيٍّ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۶۷﴾  
 وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى  
 يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ  
 بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۶۸﴾ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ

اللہ کی کتب سے کہ سُو پروردگار اٹھ پائے نجات دہون چھو تھے پائے چھو بوڈ قدر سے وول سے کہ تمہدہ کُفرو  
 شرک سے سبہ سوزہ توہمہ پیٹھ عذاب ہر سے طرفہ۔ یعنی آسمان کے طرفہ کتبہ ہضمہ یا رود سے سیت سیلاب  
 ایوہ۔ یا تمہدہ پو کھور وتلہ یعنی زمین کے طرفہ، بونیول ہیو، یا کرہ توہمہ واریاہ جماثر۔ سکن پانہ وان سخت  
 اختلاف آسہ، تج نوبت وائتہ جنگ وجد اُس پیٹھ۔ توپتہ ژھناوہ توہمہ آندرہ اُکس بے سزہ لڑایہ ہند  
 مزہ۔ یا کرہ سُو توہمہ تمن سارنی تخمین گرفتار۔ غرض نجات دین سے تس اٹھ بلا یہ گرفتار کزن سے تس اٹھ  
 اُنظُر کَیْفَ نَصَرْتُ الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَفْقَهُونَ ﴿۶۵﴾ وچھو تھے پائے چھہ مختلف طریقوں سے بیان کران آیات یعنی  
 توحید چہ دلیلہ بیٹھ تمن وارہ فخرہ ترہ وَكَذَّابٌ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ باوجود آن زون اپز سے غیر واقعی  
 توہمہ قومن سے عذاب۔ حالانکہ یہ چھو بالکل حق سے پوز۔ یقیناً واقع سپدہ ون۔ یہ یو ز تھ ہیگن تم صرف  
 یو ثوی پر ژھتھ کہ یہ عذاب کر سپدہ واقع قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ تھہ فرماوے کہ تھ متعلق کہ  
 یو چھو سنہ توہمہ عذاب واقع کر نک ذمہ دار۔ میہ کیا آسہ تج پور خبر یا سو کیا آسہ میانس اختیار س اندر  
 لِكُلِّ نَبِيٍّ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۶۷﴾ پر سبہ خبر ہندہ واقع سپدہ نہ خیلرہ چھو اکھ وقاہ مقرر کر نہ آمت۔  
 توہمہ سپدہ جلدی معلوم وَاِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ  
 یہ بیلہ تھہ وچھان آسہ کہ تم لو کہ یعنی دشمن سیم سائین آیتان سے احکامن نکتہ چینی چھہ کران۔ پس  
 آسہ تھہ تمن ریشہ لوب روزان۔ تمن منزمہ آسہ بہان یوتان تم مشغول آسن سپدان تمہہ ورا ی یہ کنبہ  
 تھہ منزر وَاِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ہر گاہ کنبہ وقتہ شیطان آسہ



مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرِي لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۱۹﴾ وَذَرِ  
 الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهُمْ آخِرَتُهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَ  
 ذَكَرِيهِ أَنْ يُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ  
 وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِنْ تَعْدِلْ كُلُّ عَدِيلٍ لَا يُؤْخَذُ مِنْهَا أُولَئِكَ  
 الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ

توہم پر یہ ممانعت مشروان، تہہ آسو مشر نس منز بغلظی تہنزہ مجلسہ اندر بہان۔ تہس مہ بہو (یلہ توہمہ  
 تہیس پوان آسہ یہ ممانعت۔ ظالم قومس سیت تہنزہ مجلسہ اندر بلکہ آسو نور اتریس پیوہ ونوی تمہ  
 جلسہ منزہ نیران وما علی الذین یقتون من حسابہم من شیءٍ ولكن ذکرى لعلہم یتقون ہم لو کہ  
 ممنوعات شریعتہ ہتھ روزن۔ تم منز تہن جلسن اندر بلا ضرورت شمولیت کرن تہ پائے او  
 تم جلسن منز احکام اسلامن پیٹھ طعن و تشنیع کرنہ آسہ یوان۔ تم پیٹھ چھو نہ طعنہ دوہ ونین ہندہ  
 سزائے اندرہ کانہہ چیزاہ۔ ہر گاہ کتہ سخت ضرورتہ مو کہ تم تہ وقتہ تہنر ان جلسن اندر گوہن پوان آسہ۔  
 مگر تم پزہ توت گدہ تہ تم وعظ و نصیحت کرن دیوہ تم تہ طعنہ زنی نشہ ہتھ روزن و ذکر الذین  
 اتخذوا دینہم لعباً ولہم آخیرتہم الحیوۃ الدنیا بلکہ تراوی کہ تم لو کہ تہ ہم پنہ نس دینس (ہتھ مان  
 تہ تسلیم کرن تم پیٹھ فرض اوس یعنی دین اسلامس) ٹھٹھ تہ تمسخر چھہ کران۔ تم چھو ڈھوکہ  
 دہمت دنیاچہ زندگانی۔ تم چھہ دنیا کس کھیس چیس اندر مسمت، آخرت چھٹھ نہ یادے و ذکر یہ  
 ان تبسل نفس بما کسبت ترک تعلقات کتر تہ کتر و تم لو کن وعظ و نصیحت تہہ امہ قرآن مجیدہ  
 سیت ہتھ تھس عذابس گرفتار گوہہ کانہہ شخصاہ پنہ نیوہ اعمالیہ سیت لیس لہا من دون اللہ ولی و  
 لا شفیعہ وان تعدل کل عدیل لا یؤخذ منہا ہمہ عذابہ نشہ مو کتہ خیطرہ آسہ تہ شخصس خدائس  
 وراہی کانہہ مددگار تہ کانہہ شفاعت کرہ وناہ۔ نہ مو کتہ سوتہ عذابہ نشہ تیوت مال دت ایس دنیا عس  
 برابر آسہ۔ سوی سوزوی مال تہ سویوہ توتہ ایس نہ سوما ہرگز قبول کرنہ اولئک الذین ابسلوا

إِلَيْهِمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۱۰﴾ قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ كَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا لَهُ أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ امْتِنَّا قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ فَهُوَ الْهُدَىٰ وَإِنَّمَا نُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ ﴿۱۱﴾ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ

بِمَا كَسَبُوا چنانچہ تم دینس ٹھٹھہ سے تمسخرہ کرہ ون آی گرفتار کرنہ پنہ ثمن بد اعمالین ہندہ سنیہ۔  
 نصیحت نہ مانجیہ وجہ۔ لَّهُمْ شُرَآئِبٌ مِّنْ حَبْلِهِمْ وَعَدَابٌ إِلَيْهِمْ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ تہندی چینہ خیرہ آسہ  
 آخرتس اندر پہنچ کر یکہ وہ ون زسر۔ تمہ علاوہ بیہ کڈر عذاب کیا زہ تم آس گھر کر ان۔ سمیک اکھ  
 شاخ یہ اکھ لند تو ہن احکام اسلام اوس۔ قُلْ أَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا فرمایو کہ  
 تمہ یارسول اللہ ساری مسلمان ہندہ طرفہ کیاہ آس کروہ عبادت معبود برحقس وراہی تمہ باطل معبودن  
 ہنز تم نہ آسہ کانہ فائدہ میکن و اتاوت۔ عبادت کمر تھہ سے نہ کانہ ضرراہ میکن و اتاوت تھہ عبادت نہ  
 کمر تھہ وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ بیہ چھا تمہنز خواہش آس کیاہ پھیر و پوت کھر س گن  
 اسلام تراوت تھہ خدیہ سندہ آسہ ہدایت کرنہ پتہ سے تھہ ہاونہ پتہ آتھ دین حقس گن۔ کَالَّذِي اسْتَهْوَتْهُ

الشَّيَاطِينُ فِي الْأَرْضِ حَيْرَانًا تھہ صورتس اندر بندہ سان مثال تس شخصہ سنز ہش نیس بریم بریم چاکیو  
 و تھہ راور او مثر آسہ گنہ جنگلس منزہ سو آسہ سپد مت حیران آتھ و تھاہ آسینس نہ یوان گنہ گن۔ لَّهُ  
 أَصْحَابٌ يَدْعُونَهُ إِلَى الْهُدَىٰ امْتِنَّا تس آس کنہ دوست سے تم ناداد آسہ نس دوان کہ وولہ آسہ گن  
 و تھہ چھہ پیار مگر سو آسہ حیرانی سببہ تمہند آلوے یوزان۔ نہ آسہ سیزہ و تہ پیٹھہ یوان۔ کیاہ تمہنز  
 خواہش چھا آس تہ گوہو تھہ بن۔ تہ ہنہ نہ ہرگز قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ فَهُوَ الْهُدَىٰ فرمایو کہ تھہ کہ راہ  
 راست گنیہ سوی و تھہ یوسہ اللہ تعالیٰ ان پانہ ہاو مثر سے ہاو مثر تھہ سنو و تھہ گنیہ دین اسلام۔ تم یہ تراوسو  
 ڈول سیزہ و تہ نشہ۔ آس ہیگو نہ گنہ صورتس اندر تمہ نشہ پھیر تھہ وَإِنَّمَا نُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ

وَاتَّقُوا<sup>ط</sup> وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ<sup>۲۲</sup> وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ<sup>ط</sup> وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ<sup>ط</sup>  
قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ عِلْمُ الْغَيْبِ وَ  
الشَّهَادَةُ<sup>ط</sup> وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ<sup>۲۳</sup> وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرَزَرَ

تھے پانچہ اوثرک بخدا۔ اے تم کہ نہ آؤ فرما بردار روزن عالمین ہندس پروردگار س وان آقیموا  
الصلوة واتقوا بیہ آؤ حکم کہ نہ آسہ کہ نماز تھادو برپا بندی سان۔ بیہ آؤ حکم کہ نہ کہ کھوژو  
خدا س۔ تس شریک تھانہ تہ تسزنا فرمانی کہ نہ نشہ روز و پتھہ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ سو گو سوی  
پروردگار س برو تھبکنہ توہہ سارنی حساب و نہ خیطرہ جمع پیو کہ نہ، مشرک و تھن پائے تمہہ دوہہ  
شرک مڑہ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ بیہ گو سو پروردگار سوی تیم آسمان تہ  
زمین پیدہ کتر پز پائت مخلوقن ہندہ فاندہ خیطرہ، بوڈ فاندہ چھو یوے کہ تم دو شوے چھہ تمسدی  
مخلوق، دو شوے چھہ دلالت کران تمسدس وحدانتیس پیٹھہ وَيَوْمَ يَقُولُ كُنْ فَيَكُونُ بیہ سمہ دوہہ  
دپہ سو خالق کل حکم کہہ قیامس سہد برپا۔ اتی سپدہ قیامت برپا۔ قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ  
فِي الصُّورِ تمسدیہ ون چھو باثر۔ توہندوی چھو ملک۔ تہزنی چھہ یاد شاہت۔ سمہ دوہہ پو غس منز  
دو تم چھو کہ بیہ ونہ تمی دوہہ نہ حکومت اللہ تعالیٰ سنز۔ یلہ سو فیصلہ کہہ موحدن تہ مشرکن منز۔  
عِلْمُ الْغَيْبِ وَ الشَّهَادَةُ سوی چھو زانہ ون تہ سو روی یہ کھٹھہ چھو مخلوقن نشہ بیہ تہ سو روی یہ نون  
چھو مخلوقن نشہ۔ تس نشہ چھو نہ کھٹھہ کانہ چیز۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ سوی چھو سیٹھاہ حکمتہ وول  
تہ سیٹھاہ زان وول۔ تس چھہ سارچی پورہ خبر۔ مضمون آیات قرآنیہ سیت چھو معلوم سپدان کہہ  
حضرت ابراہیمہ سند قوم اوس بت پرستی تہ کران۔ بیہ اوس ستارن آفتابس تہ زونہ تہز پرستش  
کران۔ تمہن دو شون خیالن ہند رد کور حضرت ابراہیمن۔ تمہہ جی چھو اللہ تعالیٰ یمن آیات کریمن اندر  
ذکر فرماوان وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ أَرَزَرَ بیہ چھو سو وقت تہ ژٹس پاونس قابل یلہ حضرت ابراہیمن

اَتَّخِذْ أَصْنَامًا لِلَّهِ ۚ إِنِّي آرِيكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۴۳﴾  
 وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيْكُونَ  
 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۴۴﴾ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا  
 رَبِّي ۚ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَأُحِبُّ الْإِفْلِينَ ﴿۴۵﴾ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا  
 قَالَ هَذَا رَبِّي ۚ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ  
 مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ ﴿۴۶﴾ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً قَالَ هَذَا رَبِّي

دوپ ماس پنہ نس، آڈر کس ناؤس اَتَّخِذْ أَصْنَامًا لِلَّهِ ای آڈر کیاہ ژہ چھو کہ پوہل زماناں معبود  
 پنہ سم پائے گران چھو بھکھہ اِنِّي آرِيكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ پوہو سٹھ وچھان ژہ تہیہ چون قوم،  
 سم ژہ آٹھ اعتقادس اندر موافق چھیں نہ گراہی اندر۔ شوہیا انسانس اشرف المخلوقات آٹھ بے جان  
 چیز پنہ معبود ڈان۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَيْكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اٹھ  
 پاٹھ حضرت ابراہیمس ہاؤاسہ بت پرستی ہنز خرابی تہ نطلان۔ تھتھ پاٹھ ہاؤاسہ کس آسمان وز پتچ پادشہت  
 تھتھ سوسپدہ کامل یقینہ والیو آندرہ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا قَالَ هَذَا رَبِّي چنانچہ یلہ رات  
 تھن پیٹھ تاریک سہز۔ وچھہ تھمؤ تارکاہ اکھ۔ پنہ نس قومس لگ وندہ یوسے چھامیون تہ ٹھند رب تھندہ  
 خیالہ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَأُحِبُّ الْإِفْلِينَ دوہن پوہو چھو سٹھ نہ ٹھند کران لوسون چیز۔ سم ٹھگن نہ کانسہ  
 ہند رب آٹھہ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِعًا تھمہ پتہ یلہ تھم وچھہ زون زوتان تہ نہ پہ کران قَالَ هَذَا رَبِّي  
 تھمؤ ہڈژہ قومس یوسے چھامیون رب ٹھند خیالہ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ  
 الْقَوْمِ الضَّالِّينَ کس یلہ سوتہ لوس دوپچھہ ہر گاہ لے میہ پروردگار و تھ ہاؤہ ہے تلہ ہنہ ہلاؤتہ ٹھند پاٹھ  
 گراہ لو کو آندرہ۔ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسَ بَازِعَةً کس یلہ رات گزھتھہ دوہ آؤتہ آفتاب وچھہ تھمؤ شولہ ماران  
 کھسان قَالَ هَذَا رَبِّي هَذَا الْكَبَرُ دوپکھہ یوسے آسہ میون رب ٹھندہ خیالہ کیاہ یہ چھو بوڈوی ٹھن  
 بین ستارن ہندہ خوتہ۔ فَلَمَّا أَفَلَتْ کس یلہ سوتہ لوس قَالَ لَئِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ الضَّالِّينَ دوپکھہ

هَذَا أَكْبَرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يُقَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ﴿۸۸﴾  
 إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا  
 أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۸۹﴾ وَحَاجَّةُ قَوْمِهِ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ  
 وَقَدْ هَدَيْتُمْ وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا  
 وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿۹۰﴾ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا  
 أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ

اے قوم بے شک بوجھوس بیزار تمہو ساروی چیز ونشہ تم نہہ معبود برحقس شریک چھو کہ ٹھہراوان  
 إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ بیزا پٹ یو پھورس تس  
 معبود برحقس کن تم آسمان تہ زمین گوڈنی پیدہ کور۔ ساروی ایز یو دنیو نشہ الگ سپد تھہ یہہ چھوس نہ  
 یو ہرگز ٹھہر پاتھہ خدائس شریک آنہ دنیو اندرہ وَحَاجَّةُ قَوْمِهِ قَالَ أَتُحَاجُّونِي فِي اللَّهِ وَقَدْ هَدَيْتُمْ  
 پتہ آؤ تم نرہہ بحث کرنہ قوم ٹھہر۔ تم دو پھو اکی قوم کیاہ تھہ چھوہ بہان بحث لائنہ میہ سیت خدایہ  
 سدس توحیدس اندر۔ حالانکہ تم کور میہ ہدایت تہ وتھہ ہاونم توہہ بروٹھکنہ صحیح دلیل پیش کر نس کن  
 یوسہ میہ پیش کر وَلَا أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ میہ مہ بہو کھوژاندر۔ میہ چھونہ کانہہ پروا ٹھہرین  
 معبودان باطلن ہند۔ تم نہہ لاشریکس شریک چھو کہ ٹھہراوان۔ تم یکن نہ میہ کینہ کر تھہ میہ بیجہ نہ  
 کانہہ تکلیف واتھہ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا مگرے کنہہ یژہ میون پروردگار وَسِعَ رَبِّي كُلَّ شَيْءٍ  
 عِلْمًا أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ واتھہ چھو میانس پروردگارہ سُنْد علم پر ہتھہ چیزس۔ تس چھہ قدرت کاملہ تہ  
 علم کامل ٹھہرین معبودان باطلن نہ قدرت تہ نہ علم۔ میہ تھہ چھوہ کھوژہ ناوان۔ مگر افسوس ایہ وضاحتہ  
 پتہ تہ چھوہ ناٹھہ نصیحت رثان وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ بِوَتھہ پاتھہ کھوژہ ٹھہرین معبودان باطلن۔  
 تم نرہہ چھونہ کنہی۔ وَلَا تَخَافُونَ أَنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا  
 ہزہ ہا توہہ مگر نہہ چھوہ نہ کھوژان پنہ نس بدس جبرس۔ کیا زہ وہہ ٹھہروہ کنس خدائس شریک نس

سُلْطَنَا فَإِنِّي الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۱﴾  
 الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ  
 وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿۸۲﴾ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ  
 نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۸۳﴾ وَهَبْنَا  
 لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ

شریک آسنہ نش چھو منزہ تہ پاک تحہ شریک یہندس شریک آسنس پیٹھ نہ خدا سن کا نہہ دلیلاہ نازل  
 کر مر چھہ۔ یہ دلیل بوزتھ و نئو وارہ تامل ستر تھہ فَاِئِنِّي الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
 سمو دو یو جماعتو آندرہ یعنی مخر گو تہ مؤجد و اندرہ کوسہ جماعت چھہ امنس تہ بے خوئی زیادہ مستحق و نئو  
 ہر گاہ توہمہ کینہ خیر چھہ یا کینہ زانان چھوہ تہہ کیاہہ بیکو و تھہ۔ اس و نووہ یورے وارہ بوزو۔ الَّذِينَ آمَنُوا  
 وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُّهْتَدُونَ تم لو کہ سمو ایمان اون معبود بر حقس تو  
 پتہ ملہ نوونہ تمو ایمان پن شریکس سیت تحہ گئے تم بہندہ خیطرہ چھو قیامتک دوہ امن تہ دک قرار۔ یہ  
 چھہ تحہ دنیاس اندر سیزہ و تہ پیٹھ۔ صرف مؤجد، پتھہ رود مخرک تہندہ خیطرہ کئہ قسمہ امن و امان  
 چھو نہہ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ سبے گھہ سانہ تمہہ دلیلہ سمہ اسمہ عطا کرہ حضرت  
 ابراہیمس پنہ نس قومس سیت بحث کرنہ خیطرہ۔ چونکہ سمہہ دلیلہ کرہ اسمہ عطا حضرت ابراہیمس تحہ  
 مو کہ چھہ سمہہ رزہہ دلیلہ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ حضرت ابراہیمہ سبز چھہ  
 کانہہ خصوصیت بلکہ چھہ اس بلند کران علمی و عملی درجہ، مرتبہ تہوند، یسند اس یڑھان چھہ۔ پڑا پٹھہ  
 چون پروردگار چھو سیٹھاہ حمتہ و ول، سیٹھاہ زان و ول۔ پر پتھہ اگند حال تہ استعداد چھو سو پورہ زانان  
 تمی موجب چھو پر پتھہ اکس سو کمال عطا کران اس نس مناسب آسہہ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ  
 بیہ کور عطاسہہ حضرت ابراہیمس اکھ فرزندہ، حضرت اسحق، بیہ اس فرزندہ سُد فرزند حضرت  
 یعقوب علیم السلام کُلًّا هَدَيْنَا تم سارنی کور آسہہ ہدایت۔ پڑس گن ہاواسہہ و تھہ تم ن وَنُوحًا هَدَيْنَا

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۸۴﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿۸۵﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۸۶﴾ وَمِنُ آبَائِهِمُ ذُرِّيَّتِهِمْ وَآخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۸۷﴾ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مَن عِبَادِهِ وَلَوْ

مِنْ قَبْلُ بِيَهُ كُورَسِهِ هَدَايَتِ نُوْحٍ مِّنْ بَرُونِثِهِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ حضرت ابراہیمہ سُودوی اولادو منزہ کوراسہ ہدایت، داؤدس بیہ حضرت سلیمان بیہ حضرت یونس، بیہ حضرت یوسف، بیہ حضرت موسیٰ اس بیہ حضرت ہارون علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ تھے پانچھی اسی مناسبت بدلہ تہ جزاء دوان نیکو کار بندن وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ بیہ کور ہدایت اسہ حضرت زکریا اس بیہ حضرت عیسیٰ اس بیہ حضرت الیاس سیم ساری اس رتبہ بندواندرہ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُوسُفَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ بیہ کوراسہ ہدایت حضرت اسمعیلس۔ بیہ حضرت یونس بیہ حضرت یونس، بیہ حضرت لوطس۔ تین ساری دیت اسہ فضیلت نبوتہ سیت تمہ وقتہ کین عالمکین لوکن پیٹھہ وَمِنُ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَآخْوَانِهِمْ بیہ ہند یومالیو، بُدبہ اندرہ بیہ اولادواندرہ بیہ باپواندرہ تہ کوراسہ وارنہن ہدایت دین حقس گن۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بیہ کوراسہ سیم ساری برگزیدہ تہ مقبول۔ بیہ کوراسہ تین ہدایت سیزہ دوتہ گن یعنی دین حقس گن ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مَن عِبَادِهِ یوہے دین تھہ گن تھن ہدایت کرنہ آو۔ یوہے گوخدا یہ سُنَد ہدایت۔ اتھہ گن چھو اللہ تعالیٰ و تھہ ہاوان تھن یژشان چھو پنہ نیو بندواندرہ اتھہ گن ہاوسے یہ و تھہ اللہ تعالیٰ ان ساری لوکن مگر بھہ یو کرنہ یہ و تھہ اختیار۔ تمو تھہر او خدائس شریک۔ شرک چھو اللہ تعالیٰ اس تھتھہ

أَشْرَكُوا لِحَيْطِ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۸۸﴾ أُولَئِكَ الَّذِينَ  
 اتَّيَبَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ۖ فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ  
 فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَفِرِينَ ﴿۸۹﴾ أُولَئِكَ  
 الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ اِقْتَدَاهُ قُلُوبًا لَا  
 أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۹۰﴾

ناہند۔ عام لوکن ہنز کیاہ چہہ تھی۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا لِحَيْطِ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ہر گاہ بفرض محال  
 تم حضرات انبیاء تہ نعوذ باللہ شرک انہ ہن خدا بس ضرور سپدہ ہن ضالچ تمہ سارے رتہ کامہ سمہ تم  
 کران آس امہ شریکہ وجہہ۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اتَّيَبَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ہم حضرات انبیاء  
 یمن ہنز ذکر کر نہ آیہ تیے گئے تم تمکن آسہ مجموعی طریقہ کتاب شریعت تہ نبوت عطا کرے فَإِنْ يَكْفُرْ  
 بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَفِرِينَ پس اگر نظیر موجود آسہ ہم مکہ لو کہ اتھ  
 تہندس نبوتس انکار کرن، کرتن، تمیک مہ ہنز وجہہ کانہہ غم توبہ چھونہ تہ کینہہ۔ کیا زہ پزیاٹ آسہ چھو  
 امہ خیطرہ مقرر کر مزا کہ جماعتھاہ ہم نہ ہرگز اتھ نبوتس تہندس انکار کرن۔ بلکہ زانن امہ ہنچ پور  
 قدر۔ تم گے مهاجر تہ انصار۔ ہیہ تمکن ہند پیر و قیاس تام أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهِدَاهُمْ  
 اِقْتَدَاهُ ہم حضرات انبیاء گے تم بندگان خاص تمکن اللہ تعالیٰ اَنْ دُشْمَن ہنز کن تھن پیٹھہ صبر  
 کر کنس گن ہدایت کور۔ پس ہنز ی و تہ پکوتہہ تہ صبر کر کنس اندر قُلُوبًا لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا یہ تہ  
 فرماویہ کہ تہہ یارسول اللہ ای لو کو یو چھوس نہ منگان توبہ امہ تبلیغہ تہ رہنمائی خیطرہ کانہہ مزوریاہ۔ بلکہ  
 چھسورہ بوبے غرض نصیحت کران اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ یہ قرآن مجید چھونہ مگر عالمین  
 ہندہ خیطرہ بوڈو وعظ تہ نصیحت، سمکہ مانہہ سیت تو ہی بوڈو فائیدہ تہ نفع چھونہ۔ نہ مانہہ سیت تو ہی سخت  
 نقصان چھونہ۔ اکھ ہنودیاہ اکھ آونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمن ہندس خدس اندر۔ تمی ہیوت تمکن  
 سیت مذہبی گفتگو کرن تھہ اندر اوس سو تھہ تھہ کران جوش اندر لوگ دہنہ اللہ تعالیٰ اَنْ چھونہ



وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّىٰ قَدَرُوا إِذْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا بَشِيرًا  
مِّنْ شَيْءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ نُورًا وَ  
هُدًى لِّلنَّاسِ يَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ يُبَدُّونَهَا وَيَخْفُونَ كَثِيرًا  
وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي

از تمام کانہ کتابے نازل کر مر۔ اتی سپدیم آیات کریمہ نازل وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّىٰ قَدَرُوا إِذْ قَالُوا  
مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْنَا بَشِيرًا مِنْ شَيْءٍ بیہ کرنے سمو مکرو خدا یہ سز کانہ قدر۔ اژھہ قدر کرن شوبہ ہا۔  
کیازہ تمودون اللہ تعالیٰ ان چھنہ نازلے کمر مر کانہ بشرس پیٹھہ پن کانہ کتاباہ۔ یہ ون گو خدا بس  
نسبت بے قدری کرن۔ کیازہ امہ سیت چھو لازم یوان نبوتس انکار کرن نئس نبوتس انکار کرہ تم زون  
اللہ تعالیٰ سند فرمان اپر نعوذ باللہ۔ پزس تصدیق تہ تسلیم کرن چھو واجب تھی سیت چھہ یوان خدا یہ  
سز قدر کرن۔ لہذا سمو تصدیق و تسلیمہ بدل تکذیب و انکار کور۔ تمو کر بے قدری یہ گو امیک تھقی  
جواب۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان امیک الزامی جواب قُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاءَ بِهِ مُوسَىٰ  
تہہ پر ژھتو کہ ائی بہو دو حضرت موسیٰ یوسہ کتاب پتھہ اول یعنی تورات سمو کمر نازل نُورًا وَ هُدًى  
لِّلنَّاسِ تہج کیفیت یہ چھہ کہ سمو بذات خود نورک پاٹھہ واضح تہ روشن تمن لوکن ہندہ ہدایتہ خیطرہ  
سمو سوزنہ آہی تمن لوکن ہندہ خیطرہ چھو سو بوڈ ہدایت يَجْعَلُونَهُ قَرَاطِيسَ یوسہ کتاب تہہ پنہ  
نیو نفسانی اغراضو موکہہ ورقہ ورقہ کروان يُبَدُّونَهَا وَيَخْفُونَ كَثِيرًا نئس ور قاہ پنہ مطلب براری  
خیطرہ چھو خوش کران۔ سو چھو ہاوان تہ ظاہر کران۔ کھٹھہ تہ پوشیدہ چھو تھوان تمہ منزہ واریاہ  
چھہ۔ تھہ منز تھہدس مطلبس خلاف چھو کینہہ آسان مثل نعت پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم  
وَعَلِمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ بیہ اوہ تہہ پچھہ ناوانہ تمہ تورا سمہ ذریعہ سو علم نئس۔ نہ زانہو تہہ  
نہ تہہد مال تہ بدبب سمو تورات نازل سپد نہ برو تھہ قُلِ اللَّهُ يورے فرماویو کہ تہہ کہ اللہ تعالیٰ نے  
کمر سمو کتاب نازل لہذا کمہ تھہ چھو توہہ یہ ونان کہ اللہ تعالیٰ ان چھنہ کانہ کتابے نازل کمر مر تھہ  
ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ بیہ جواب بو زانوانہ پتہ تراویو کہ تم پنہ نین شعلن منز۔ اپزن تھن تہ

خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴿۹۱﴾ وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبْرُكٌ مُصَدِّقٌ لِّذِي  
بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ  
بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿۹۲﴾ وَمَنْ  
أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ

بیہودہ کا مین سیت روزن تم مشغول۔ توبہ پیٹھہ یہ فرض اوس تہ ائوہ توبہ بجاون مہ بئر وئہہ کاہہہ فکری  
بو بوزہ پائے تمن سیت وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مَبْرُكٌ مُصَدِّقٌ لِّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ تہہہ پائہہ تورات اسی  
نازل کورمت اوس۔ تہہہ پائہہ چھویہ قرآن مجید تہ کتاباہ یوسہ اسی نازل کمر توبہ پیٹھہ یارسول اللہ صلی  
اللہ علیہ وسلم۔ یوسہ خیر وبرکج کتاب چہہ۔ کس اکھاہ تہہہ پڑہ کرہ۔ تمہہ موجب عمل کرہ تہہہ خیطرہ  
چھو فلاح دارین۔ یہ کتاب یعنی قرآن مجید چھو تصدیق کرہ ون تمن بتائن سمہ امہ بروئہہ چہہ نازل  
کر نہ آثرہ۔ لہذا چھویہ قرآن مجید دو یو کٹھو خیطرہ نازل کورمت۔ اکھ مخلوق ہندہ نفعہ خیطرہ ہہہ تمن  
کتائن ہندہ تصدیق کر نہ خیطرہ کہ تمہہ کتابہ چہہ بے شک خدایہ سندی طرفہ نازل کر نہ آثرہ  
وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا یہ تہہہ تہہہ خصوصیتہ سان کھوڑہ نا یو کہ مہہ شریفک لو کہ۔ یہہ تم  
اتھہ انداہہ چھو تمام عالمک لو کہ کیا زہ بیس جایہ چہہ اللہ تعالیٰ فرماوان لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا تہہہ  
سوعالمہ کین لو کن کھوڑہ ناوہ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ساری لو کہ اگرچہ تہہہ  
انذارہ تہہہ بیم کر نہ سیت ایمان آن نہ لیکن تمن لو کن آخروج پور پڑہ چہہ تم چہہ اتھہ قرآن مجیدس پڑہ  
کران وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ یہہ چہہ تم ایمان آنہہ پنہ نین نمازن پیٹھہ ڈاڈ کران۔ پابندی  
سان پانژوے وقت پورہ ادا کران۔ کیا زہ ایمان و اعتقادس سیت یلہ عمل تہہہ مکمل آسہ تلہ چہہ عذابہ  
نیشہ نجات لہجہ امید وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا یہہ کس اکھاہ چھو پڑہ ظالم تس شخصہ سندہ  
خوتہہ تم اپز نو وروو معبود برحقس پیٹھہ نبوتس انکار کر نہ سیت تہہہ پائہہ تمویہو دو کور تمو دوپ ما انزل  
اللہ علیٰ بشر من شیء اللہ تعالیٰ ان کور نہ کانسہ بشرس پیٹھہ کہنی نازل اَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ

إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ  
الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا  
أَنْفُسَكُمْ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ  
غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ ﴿۹۳﴾ وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا  
فِرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ  
وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُفَّالَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاءُ

يُوحَى إِلَيْهِ شَيْءٌ سے کورن پہنہ حقہ دعوی نبوت۔ ون من عن ۛھو وحی یوان نازل کرنہ حال ۛھہ تس  
کُن اوس نہ کانہہ وحیہ نازل سپدان مثل میلہ کذاب وغیرہ وَمَنْ قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ۛھہ  
پاٹھ ۛھہ ۛھو بیو ظالم تس شخصہ سبہ خوتہ سم دوپ بوتہ بیہ نازل کمر تھہ تہ لوکن ۛشہ پیش کمر تھہ تھہ  
پاٹھہ ۛھہ ۛھہ پاٹ خدا ۛھو نازل کران۔ کانہ اکھاہ ۛھو نہ ۛھن لوکن ہندہ خوتہ بیو ظالم وَلَوْ تَرَى إِذِ  
الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُوا أَيْدِيهِمْ ۛھن ظالمن ہند حال ۛھو یہ کہہ اگر ۛھھ ۛھہ ۛہ سو  
وقت سمہ ساتہ سم ظالم آسن موتہ ۛہ سختی اندر مبتلا، رُوح کڈہ ون ملایک آسن پنن اتھہ مڈہ راوت تمن  
ظالمن کن ونان۔ أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمْ ائی ظالمو جلد ۛھن کڈیو کہ پنن رُوپنہ نیو پاؤ اندرہ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ  
عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ اڑکی ڈوبہہ کیالیہ توہہ  
مَرَس سیتی سزادہ۔ خواری ہندہ عذابہ سیت۔ کیاڑہ ۛہہ آسہہ ناخذ الحسن نسبت تھہ لاکان سمہہ  
بالکل اپڑہ آسہ آسان۔ بیہ آسہہ ۛہہ ہندہ آیات مانہ ۛشہ تہ تسلیم کرنہ ۛشہ ۛھہ کران  
وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فِرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ سمہہ ڈوبہہ قیامت سپدہ تمہہ ڈوبہہ فرماو کیہ اللہ تعالیٰ  
آوہ ۛہہ آسہہ ۛشہ پتولا کہ۔ اکہ اکہ تن تنہا۔ یارن تہ مددگارن وراہی۔ ۛھہہ پاٹھہ آسہہ ۛہہ گوڈیچہ لہہ تنہا  
ڈنیاءس اندر پیدہ کرمت آسہہ خئی تہ ۛھسی۔ ۛھہہ نئی تہ نہ واری وَتَرَكْتُمْ مَا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ  
بیہ ترووہ تہ سو روی یہ آسہہ توہہہ دہمت اوس پانس ۛھہ گن۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَ كُفَّالَّذِينَ

لَقَدْ نَقَطَعُ بَيْنَكُمْ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ﴿۹۳﴾<sup>ع</sup>  
 إِنَّ اللَّهَ فِئِ الْحَبِّ وَالْتَّوَى يُخْرِجُ الْحَى مِنَ الْبَيْتِ وَخُجْرُ  
 الْبَيْتِ مِنَ الْحَى ذَلِكُمْ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿۹۴﴾<sup>ب</sup> فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَ  
 جَعَلَ الْبَيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ  
 الْعَلِيمِ ﴿۹۵﴾<sup>ب</sup> وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي  
 ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۹۶﴾<sup>ب</sup>

رَمَتْكُمْ أَنَّهُمْ فَيَكُونُ شُرَكَاءَ بِيَهُ هَهَنَ آس وَجَهَان تَوَهَبَ سِيَت تَم لُوك تَم تَوَهَبَ پَنَدِ گَمَان زَانان آسُو كه پَنه  
 نِين كَامِن اندر خدایه سِد شَرِك تَبُو هَجْوَه تَم - لَقَدْ نَقَطَعُ بَيْنَكُمْ پَزَاث چَهله كَبِيَه تَمِن سَارِنِ تَعْلَقَاتِن  
 يَم تَوَه پَانه وان آس وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ ضَايَع سِد تَوَهَبَ نَشَه تَه سُو زُو يَه تَوَهَبَ گَمَانَه  
 اُوس كه مَعْبُودَان بَاطِل كَرِن اَسَه شَفَاعَتِ إِنَّ اللَّهَ فِئِ الْحَبِّ وَالْتَّوَى پَزَاث اللّهُ تَعَالَى هَجْوَه پَهَاث  
 وَن پَرِيَتَه بَحْلِس تَه آنچَه يَاسَه زَمِينَس مَنزَوَنه يُوَان چَهه يُخْرِجُ الْحَى مِنَ الْبَيْتِ وَخُجْرُ الْبَيْتِ مِنَ الْحَى  
 سُو يَه هَجْوَه كُذَّان زَنْدَس مُرْدَس نَشَه، مُرْدَس زَنْدَس نَشَه ذَلِكُمْ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ يَاسَه كِيَاه گُو مَعْبُود  
 بَر حَق نَس تَه پَهَاث هَجْوَه نَهه تَس پَرَه كَرَنه نَشَه گَرِي زَكْرَان تَه ثَلَان فَالِقُ الْإِصْبَاحِ سُو يَه هَجْوَه صُح پَهُولَه  
 رَاوَه وَن وَجَعَلَ الْبَيْلَ سَكَنًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا بِيَه كَر رَات تَمِي آرَا مَك وَتِ كَه سَارِي هَجْوَه  
 نَهْتِ تَه تَه هِيَتَه شَوِيَتَه سِيَت آرَا مَه حَاصِل كَرَان - بِيَه كُو زَن آقَاب تَه زُونَه هُنْدَر فَنَار حَسَابَه مَوْجِب  
 سَمَه سِيَت وَتَن هِنْدَس ضَبْط وَرَبْطَس اَنْدَر آسَانِي چَهه سِپَدَان ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ يَه هَجْوَه اَنْدَازَه  
 تَه كَار يَكْرِي، تَس خدایه سَنز نَس غَالِب تَه سُو زُو زَانَن وُول هَجْوَه - وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ النُّجُومَ  
 لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِيَه هَجْوَه پَر وِرْد گَار سُو يَم سِتَارَه كَر پِيدَه هَجْوَه نَهه وَتَه لَبُو اَنَه گَلَن  
 اَنْدَر خَشَكِي هِنزَن وَتَن تَه سَمَنْدَرِن اَنْدَر قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ تَهْتَمِن اَسَه كَره پَنه تَوْحِيدَه  
 چَه دَلِيلَه بِيَان وِرْشَه نَاوَتَه تَمِن لُوكِن هِنْدَه خَيطَرَه تَم زَانان هَجْوَه رُت كِيَاه هَجْوَه تَه چَهه كِيَاه هَجْوَه وَهُوَ



لَا يَتْلِقُ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۹۹﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ  
 وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿۱۰۰﴾  
 بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۗ أُنۢىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ  
 صَاحِبَةٌ ۗ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۰۱﴾  
 ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ ۗ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ۗ وَهُوَ

کمال قدرت اِن فی ذلکم لآیت لقوم یؤمنون وچھو پڑ پائھہ سمن چیزن اندر چھہ توحید چہ مجھہ  
 دلیلہ ایمان ہندہ خیطرہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ  
 ٹھہر اوہ لو کو شیطان خدایہ سد شریک حالانچہ تم تہ چھہ کرمت اللہ تعالیٰ نئی پیدہ۔ بلہ نہ پیدہ کرہ ون  
 تس وراى کانہہ چھو۔ معبود تھہ پائھہ بیجہ تس وراى کانہہ آتھہ۔ بیہ ٹھہر او لو کو خدا ایس پچو تہ کورہ زانہ  
 تہ پچھانہ وراى از بس جہل و نادانى سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُصِفُونَ منزہ تہ پاک چھو سو پروردگار تہ سوساروی  
 تھو نہ۔ نہ چھوس شریک کانہہ نہ تھس پچو تہ نہ تھس کورہ۔ بیہ چھو سیٹھہا ہلندہ تہ بالاتھو کھو نشہ  
 سہ تس کن لو کھہ لاگان چھہ بے دلیل بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ سو چھو موجد تہ گوڈہ پیدہ کرہ ون  
 آسمان تہ زمین ہند تس وراى چھونہ آسمان وزینک موجد کہنی۔ لہذا شو بہ سوی معبود برحق اُنۢىٰ يَكُونُ  
 لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَّهُ صَاحِبَةٌ تس تھہ پائھہ آسن اولاد۔ حالانچہ تس چھنہ آسمو آشی زانہ وَخَلَقَ كُلَّ  
 شَيْءٍ تمی کور سوزوی پیدہ۔ تھہ پائھہ آسمان وزمین پیدہ کرن تھہ پائھہ کرن تم تہ پیدہ تھہ تھہ تھہ  
 اولاد یا شریک چھو کھ ٹھہر او ان۔ بنیا کہ خالقس آسن مخلوق شریک۔ تھہ کیاہ فرق روزہ خالقس تہ  
 مخلوقس منز وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ بیہ چھو سوی پر تھہ چیزہ پورہ پورہ زانہ ون ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ  
 لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ یو ہے معبود برحق کیا چھو تھہ پروردگار۔ کانہہ معبودہ چھونہ تس وراى خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ  
 فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ سارہ کوی پیدہ کرہ ون چھو سوی پس کور و تھزی یا تہ عبادت تہ ہندگی۔  
 سوی چھو پر تھہ چیزک کار ساز۔ تس وراى چھونہ کانہہ تہ کار ساز حقیقی۔ لہذا اگر تسنزی یا تہ عبادت کرو

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكَيْلٌ ﴿۱۳۶﴾ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ  
 الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿۱۳۷﴾ قَدْ جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ  
 رَبِّكُمْ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ  
 بِحَفِيفٍ ﴿۱۳۸﴾ وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِيُقُولُوا اذْأَسْت

سُوَاتِنَا وَهُوَ سَيُطَاعُ نَفْعٌ تَائِدٌ - بَيْنَ هُنْزِ عِبَادَتِ كَرْتِه كِيَاهِ فَا نَدَه نَبِيُو - تَم كِيَاهِ دَوْنَه - تَمَن اَتَه كِيَاهِ  
 چھو - خَالِق تہ چھو سُو ی - عَلِيم تہ چھو سُو ی - وَكَيْل تہ چھو سُو ی - تَم سَارِی جِيز چھہ مَنگَان کہ مَعْبُود تہ  
 گڑھہ سُو ی آسَن - تَهْدُو ی شَان چھو کہہ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ  
 الْخَبِيرُ تَس بِيَكِن نہ وچھت - وَچھنہ پتہ حَقِيقَتِ دَرِيَا فِت كَرْتِهہ ، لُو كِن ہنزہ اچھہ دِنْيَا س اَنْدَر -  
 آخِر تَس اَنْدَر وچھن تَس بَا اِيْمَان جَتْس اَنْدَر - مگر حَقِيقَتِ تہ مَاہِيَّتِ سِپَدہ نہ تَمَن تہ دَرِيَا فِت - سُو چھو پَانہ  
 تَمَن سَارِنِی اچھن تہ اچھہ وَا لِيْن وچھان تہ تَهْنَز حَقِيقَتِ تہ مَاہِيَّتِ زَانَان سَمہ اچھہ نہ تَسْنَد اِدْرَا ك كَرْتِهہ  
 ہِيَا ك چھہ سَارِی چھہ تَمِي پِيْدہ كَرْمَت - تَس چھہ خَبْرِي کہ كَس جِيز تھہ چھو مِيہ پِيْدہ كُورْمَت كَمہ جِيز ج  
 كِيَاهِ حَقِيقَتِ چھہ - بَعْضِي مَفْسُور فَر مَوُو كہ مَخْلُوقِن ہَنْزَان اچھن مَنز چھو نہ يہ قُو تھہ كہ تَس كِيَاهِ بِيَكِن وچھتھہ -  
 مگر سُو چھو لَطِيف ، اَزْرَاه لَطْف و مہْر بَانِي ہِي كہ سُو كَانَسہ ہَنْزَان اچھن اَنْدَر سُو قُو ت پِيْدہ كَرْتِ سَمہ سِيْت سُو تَس  
 وچھتھہ ہِي كہ - بَا اِيْمَان تہ كَرہ جَتْس مَنز سُو قُو ت عَطَا سَمہ سِيْت تَم تہ وچھن پَنہ نَس خَدَا نَس - سُو چھو  
 سَارِنِی وچھان - كِيَا زہ سُو چھو خَبِير - تَس چھہ خَبْرے كَس شَخْص كِيَاهِ چھو كَمَسْنَز حَقِيقَتِ كِيَا چھہ قَدْ  
 جَاءَكُمْ بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ پَرِيَا تِ وَا تَرہ تَوْبہ نَشْرہ دَلِيلہ پَنہ نَس پُر و ر د گَارہ سَنَدہ طَرَف تُو حِيد و ر سَالَتہ  
 كَس حَق آسَس پِٹھہ فَمَنْ أَبْصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمِيَ فَعَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيفٍ تَس تَمَس شَخْص تَمَن  
 دَلِيلِن مَنز غُور و فِكْر كَر نہ سِيْت حَق تہ پُو ز د ر نِيْٹھہ آؤ تَمِي ك فَا نِيْدہ چھو تَس پَانَس - ہِيہ تَم اُون لُو ك تَمَن  
 دَلِيلِن كُون نہ تُو جہ تہ نَظَر تَمِي ك ضَر ر تہ نَقْصَان چھو تَس پَانَس - لُو چھو نَس تَوْبہ پِٹھہ رَا چھہ - مَجْبُور  
 كِيَاهِ كَر و دہ يُوَا ر ہ وچھن پِٹھہ وَكَذَٰلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ تِٹھہ پَا ٹھہ چھہ اِس تَوْبہ پِٹھہ پِٹھہ پِنہ دَلِيلہ

وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۱۰۳﴾ اَتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۰۴﴾ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ﴿۱۰۵﴾ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ ثُمَّ

مختلف طریقوں میں بیان کران۔ بھتہ تمہہ ساری لوکن و اتنا وو۔ وَلَيَقُولُوا اَدْرَسْتَ تمن سپدن زہ جماش۔ تمہو اندرہ ضدی تہ مذہ تم ذہن تم ہم پیغمبرن چھو سبق پورمت کتال نشہ۔ ورنہ ہم تمھہ مضامین تمھہ کن ہمیکہ ہایہ بیان کرتھہ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ہمہ بھتہ وارہ وضاحت کرو اس زانن والین ہندہ خیطرہ۔ یعنی سمجھدار تہ انصاف ہند لوکن پھٹھ سپدہ واضح تہ روشن۔ تمن ٹرکن ساری شک تہ شبہات اَتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ تمہہ روزوپانہ پیروی کران تمھہ یہ توہمہ کن وحی چھو یوان سوزنہ تمہدس پروردگار ہندہ طرفہ یارسول اللہ۔ اتھہ منز چھو یو ڈ چیز یہ اعتقاد تھاوان کہ کانہہ معبوداہ چھونہ نس ذات پاکس ورا ہی اتھہ پیٹھہ قائم روز تمھہ۔ مہ کرو کانہہ توجہ مشرکن کن کہ تمن کیاہ گو تمہو اوان نہ ایمان وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا تمیک وجہ چھو ای کہ ہر گاہ خدا بڑھہ ہاتم لوک انہن نہ شرک وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ہمہ نہز کمر وند اسہ تمہہ تمہدرا چھہ نگہبان وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ہمہ چھونہ تمہہ تمن ہند ذمہ دار تہ جواب دی کرہ ون۔ توہمہ چھو ہ مظہ فقط تمن تبلیغ کرن سان پیغام و اتنا وو وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ای مسلمانو تمہہ مہ آبولیکہ ژاران، بدوان۔ تمن معبودان باطلن تمن ہم مشرک معبود برحق تراوتھہ عبادت چھہ کران۔ کیاہہ تمیک نتیجہ نیرہ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ تمہہ ژاران لیکہ معبود برحقس حدہ نشہ تجاوز کرتھہ جملہ تہ بے علمی سبہ۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ اسہ چھوتھہ پاتھہ پر تمھہ کنہ جماعس پنتہ پنتہ کامہ زینت دیو ثمت تمھہ پاتھہ تمہہ و چھان چھو ہ تمھہ دنیا س منز کوم تمھہ پاتھہ جاری۔ یہ دنیا چھونہ



إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۰۸﴾ وَأَقْسَمُوا  
 بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِّيَوْمِئِذٍ بِهَاقِلٍ  
 إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا  
 يُؤْمِنُونَ ﴿۱۰۹﴾ وَنَقَلَبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا  
 بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۱۱۰﴾  
 وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْهَوَىٰ وَ  
 حَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا مَا كَانُوا يُوْمِنُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ

دار الکافات۔ بدلہ تہ سزاؤ تک گرہ نشہ اِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ توپتہ چھو  
 چانسی پروردگار س نشہ تم ساری رجوع کران۔ سوونہ تم پائے تمہہ سار کوی یہ تم کران آس توپتہ  
 دیکھہ سزا۔ تہہ مہ برو کا نہہ غم وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ سہو مکروہا و سخت قسم خدایہ سند نہایت  
 زورہ سان کہہ لَئِن جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لِّيَوْمِئِذٍ بِهَاقِلٍ ہر گاہ تم نشہ وائتہ کا نہہ فرمائیشی معجزہ تہ نشانہ تم اَن  
 ضرورت تہہ ایمان۔ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ تہہ فرماو یو کہہ جواب کہ ساری آیات چھہ خدائس  
 اتہہ۔ میہ اتہہ چھو نہ کنی۔ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ توپتہ کہہہ چیز زائر اوہ توہہ  
 یہ کہہہ کہ ہر گاسو نشانہ تہ سو معجزہ تہ تم نشہ وائتہ۔ توپتہ تہ اَن نہ تم ایمان۔ اسہ چھہ اچ خبر۔ وَنَقَلَبُ  
 أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرَهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ تہہہہ ایمان نہ  
 انہ مو کہہ پھر واس تہ تہہہ دل تہ تہزہہ اچھہ توپتہ سو معجزہ و ہجرت تہ ان نہ تم ایمان تہہہہ پاتھہ نہ ایمان  
 اوچھہ تہہ پڑھہ کر کہہ اتہہ قرآن مجید س گوڈ پڑھہ۔ یہہ تراو کہہ اس تم پتہہ سر کشی تہ مگر ایہ اندر حیران  
 وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْهَوَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قَبْلًا یہہہہ عبادو  
 سر کشی ہنز کیفیت چھہ یڑھی کہہ ہر گاہ اس۔ یہہہہ فرمائیشہ مطابق تم گن سوزو کہہ ملا تیکھہ، یہہہ ہر گاہ یمن

اللَّهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ ﴿۱۱۱﴾ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ  
 عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ  
 زُخْرَفَ الْقَوْلِ عُرُورًا ۖ وَأَوْشَاءَ رَبِّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ  
 وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿۱۱۲﴾ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  
 بِالْآخِرَةِ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُّقْتَرِفُونَ ﴿۱۱۳﴾ أَفَعَبِّرَ

سیت مُردہ زندہ سیدت کتھہ کرن، بیہ ہر گاہ اس ساری پوشیدہ مخلوقات ہنزن اہنن بر و تھہ کنہہ جمع  
 کرو کہہ۔ تاکانوا لیلومینوا الا ان ینشاء اللہ ولکن اکثرهم یجھلون توتہ تم ایمان اُن نہ پڑھہ کرن نہ  
 مگرے کانہہ ہندہ حقہ یڑھہ اللہ تعالیٰ۔ لیکن تموزہ ہجھہ اکثریت جاہلن تہ بے خبرن ہنزن تمکن نہ  
 حقیقت معلوم ہجھہ ایمان انہ نک ہجھونہ تمن قصدی تہ ارادے۔ خواخواہ ہجھہ فرماشی مجڑہ طلب  
 کران وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ ہتھہ ہاٹھہ ہم لو کہہ تھند دُشمن ہجھہ  
 ہتھہ ہاٹھہ کر اسہ پر ہتھہ پیغمبرس دُشمن انسان شیطان تہ تہ جن شیطان تہ لہذا ہجھنہ یہ ہنو کتھہ کینہہ  
 یوحی بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ عُرُورًا ہمو اندرہ بعضی شیطان بعضی کافران انسان شیطان  
 ہجھہ تہ مزہ دار کتھہ بطور وسوسہ ڈھوکہ ونہ خیطرہ دلن منز تراوان آس۔ امہ اندرہ ہجو مُراد فخر چہہ تہ  
 مخالفتہ چہ کتھہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ہر گاہ یڑھہ ہاٹھند پروردگار تم کرہ ہن  
 نہ یہ کوم یعنی دُشمنی مگر تم ہجھو ڈھمت دوستن سیت دُشمن گاش سیت گتھہ۔ پزس سیت اپز اسن۔  
 ہندس یڑھنن منز ہجھہ ہجہ ہجہ حکمہ۔ لہذا امہ سپدن تھند دل مبارک آزرده بہنرہ دُشمنی سیت۔ ہس  
 تراو کہہ تم لو کہہ بیہ یہ کینرہ ہاہ تم کران ہجھہ دینس منز افترا پردازی اندرہ تمیک غم مہ برو تھہ  
 وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ہجھہ ہم شیطان یمن کافران ہندین دلن اندر  
 ہمو مٹھہ وسوسہ تراوان ہتھہ تمکن لو کہن ہند دل تمکن تھن گن پھرن۔ مایل سپدن تمکن پور پڑھہ ہجھہ  
 آخرت۔ یعنی اہل کتاب یهود و نصاریٰ۔ کیا زہ تے پور پڑھہ آسہ ہا آخرت تہ تہ کرہ ہن نہ نبی آخر الزما نس



إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿١١٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ  
هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿١١٨﴾  
فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١١٨﴾  
وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ

دلایلیک ہندہ واضح تہ صاف آسکھ چھہ دُنیا س اندر زیادہ مخری۔ ہر گاہ ہنہ یارسول اللہ بالفرض تہنہ تھہ  
مانوتلہ ڈالں تم توبہ پروردگارہ سبزہ سبزہ ووتہ نشہ کیازہ تم چھہ پانہ ووتہ نشہ ڈلت۔ **إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا  
الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ** تم چھہ اعتقادن منز پیروی کران مگر بے اصل خیالاتن ہنز۔ یہ چھہ  
تم مگر اپز ٹھہراوان قیاسی تھہ کران۔ **إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ مَنْ يُضِلُّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ  
بِالْمُهْتَدِينَ** تم مقابلہ چھہ بعضی خدایہ سند بندہ راہ راستس پیٹھ پکان۔ پز پاپ تھہد پروردگار سُوی چھو  
یژزانہ ون تَس تَس تہنہ ووتہ نشہ چھو ڈالان۔ سُوی چھو یژزانہ ون تم سبزہ ووتہ پیٹھ پکان چھہ۔ سُ  
تھہ پٹھہ مگر ہن سزادیہ تھہ پٹھہ کرہ سبزہ ووتہ پیٹھ پکہ وین انعام واکرام عطا۔ کافر و تروو مسلمان اندر  
یہ شہہ تہ شک کہ ای مسلمانو عجیب تھہا چھہ تہنہ کہ پانہ مورت جانور چھون کھیوان مگر خداین تَس مورت  
آسہ یعنی خود مر دہ جانور سُو چھون نہ کھیوان۔ مسلمان آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشہ۔ یہ شہہ  
کر تھہ پیش۔ ائی سپد نازل تم آیات کریمہ۔ ای مسلمانو توبہ یلہ ممانعت آسہ کر نہ کہ تھہ مہ آسہ کافر  
ہنز ن کھن گن تھوان **فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ** لہذا کھو تم جانورن  
ہند ما تَمَن ذبح کر کجہ وقتہ خدایہ سند ناوکاسہ ہندہ شرکتہ ورا ی ہینہ آمت آسہ۔ ہر گاہ تھہدین آیاتن پڑھہ  
کرہ ون تہ احکامن پیٹھ ایمان آنہ ون چھوہ جانورہ سند حلال سپدن تہ حرام سپدن چھو موقف خدایہ سند  
ناوہیس پیٹھ تہ نہ ہیس پیٹھ ذبحہ وقتہ۔ یہ ٹونہ والس جانورہ سند خون تھہدہ ہندہ منزہ نیر تَس تہ نہ  
نیر تَس پیٹھ۔ **وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ** توه کیازہ وجہ چھو کہ تھہ چھوہ نہ کھیوان تَس  
جانورہ سند ما تَس ذبح آسہ کر نہ آمت خدایہ سند ناوہیتہ **وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ** حالانکہ تم

لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا  
 لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ  
 بِالْمُعْتَدِينَ ﴿۱۳۸﴾ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ  
 يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيَجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۱۳۹﴾ وَلَا تَأْكُلُوا  
 مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ  
 لَيُوْحِيَنَّ إِلَىٰ أَوْلِيَٰهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ

فرمود توہمہ تفصیل ہمیں آئیہ کر تمس منز تم ساری چیز تم توہمہ پیٹھہ تم حرام کرے إِلَّا مَا اضْطُرُّرْتُمْ  
 إِلَيْهِ مگرے جہہ سخت مجبور سپد وکنہ وقتہ۔ تمہہ ورا ای بنوہ نہ توہمہ کا نہہ چیز۔ تلہ جہہ تم حرام چیزتہ بقدر  
 ضرورت توہمہ حلال۔ تمہن حرام چیزن منز چھو نہ کنہ جلیہ تذکرہ کس جانورہ سُنْدُسُ بسم اللہ ہر تھہ آسہ  
 باقاعدہ ذبح کرنے آمت **وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ** پڑتھہ جہہ یہ کہ واریاہ لوکھہ  
 جہہ لوکن ڈالان تہ گمراہ کران پنہ نیو غلط خیالوسیت بلا وجہ تہ بلا دلیل۔ لیکن کیتس کالس کرن تم لوکن  
 گمراہ **إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ** پڑاٹ تھہ پُروردگار چھویار سُول اللہ زیادہ زانہ و ن حدہ نشہ  
 ڈلہ و نین۔ سوویہ تمہن پانے سخت سزا۔ **وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ** ای مُسْلِمًاؤ تھہ ترا و نین گناہ تہ  
 پوشیدہ گناہ یعنی جھہ نہ وکن اندر اعتقاد آسہ تھاوان حلال چیزہمہ حرام آسک۔ حرام چیز کہ حلال آسک  
**إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيَجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ** پڑاٹھہ تم لوکھہ گناہ کرن آدہ یہہ قسمگ  
 گناہ آسہ تہ تمہہ قسمگ۔ لوگٹ آسٹن یا بوڈ، پوشیدہ آسٹن یا نون ضروریہ تمہن سزا نہہ تمہہ سار کوی یہہ  
 تمہن کران آس تھہ کامیواندرہ **وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ** یہہ مہ آسہ کھیوان ای مُسْلِمًاؤ  
 تمس جانورہ سُنْدَسُ ماز کس پیٹھہ نہ ذبحہہ وقتہ خدلیہ سُنْدَسُ ناؤہینہ آسہ آمت **وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ** پڑاٹھہ سوکھیون  
 چھو سخت گناہ **وَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَيُوْحِيَنَّ إِلَىٰ أَوْلِيَٰهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ** پڑاٹھہ جن شیطان جہہ پنہ نین  
 دوستن تہ پیرون ہندسکن و ن منز تمہہ عجیب تھہ تراوان توہمہ سیت بحث کرنے خیطرہ **وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ**

لَشِرْكَوْنَ ۝۱۳۱ أَوْ مَنْ كَانَ مَبِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا  
يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ  
مِّنْهَا ۚ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۱۳۲ وَكَذَلِكَ  
جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِيهَا لِيُبْكَرُوا فِيهَا وَمَا  
يَبْكَرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ ۝۱۳۳ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ

انکھ لَشِرْكَوْنَ ہر گاہ توہمہ تہمزہ تھہ مانوہ۔ عقائد یا عملن متعلق تہمہ تہ گنوہ تلہ ضرور مشر کے اومَن  
كَانَ مَبِيتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا  
آیائس شخصہ گوڈہ اوس مردہ گمراہ تہ ویتہ ڈولمت۔ توپتہ کوراسہ سوزندہ یعنی مسلمان بنوہیہ کورس عطا  
اسہ نورائس نور پتھہ کان ہتھو سولوکن اندر گمراہی ہند یوساروی عاپلو نشہ ہتھو سو محفوظ۔ سوچہا برابر  
تس شخص سیت لیس گمراہی ہمزہ انہ گتھہ اندر ولنہ آمت ہتھو۔ تمہ منزہ چھونہ بیکان سونیر تھے ہرگز  
چھونہ برابر کَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تھہ پاٹھہ بایمان چھو ایمان تہ اعمال صاحب رتھہ  
معلوم سپان تھہ پاٹھہ آوزینت دنہ کافرن ہنزن تمن کالین تمہ تم کران چھہ یہ نوٹھہاہ چھنہ وَكَذَلِكَ  
جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرًا مُّجْرِمِيهَا لِيُبْكَرُوا فِيهَا بلجہ تھہ پاٹھہ از مکہ شریفک زٹھ زٹھہ لوکھہ چھہ  
پزس دعوتس مخالفت کران لوکن سیزہ ویتہ نغہ ڈالان تھہ پاٹھہ کمراسہ بروٹھمن اُمتن ہند پر تھہ شہرس  
اندر زٹھ زٹھہ لوکھہ تم گوڈہ ارتکاب جرم کران آس۔ تہندہ اثرہ سیت آس عام لوکھہ تہ سوجرم کردن  
ہیوان تالیکہ تم لوکھہ آس حضرات انبیاءن ضرر و اتناونہ خیطرہ تہ تہندس تبلیغس ناکام بنانہ خیطرہ  
شورش پھیلاوان۔ تمہہ موکھہ تم ساری عذابس گرفتار آس یوان کرنہ وَمَا يَشْعُرُونَ تھہ پاٹھہ  
وَمَا يَشْعُرُونَ تم لوکھہ آس پتہ خیالہ پیغمبرن تکلیف و اتناونہ خیطرہ شرارت کران مگر تمیگ ضرر اوس  
تمن پتہ نینے پان و اتان مگر جہل و بے علمی سببہ اوسکھہ نہ فجری تران۔ تمن مکہ کین کافرن ہند جرم ہتھو  
یوت زیادہ کہہ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَا حَتَّىٰ نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ ۗ يٰۤاَيُّهَا

آيَةٌ قَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَىٰ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُلُ اللَّهِ ۗ  
 اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ۗ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا  
 صَغَارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۳۳﴾  
 فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ  
 وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَانَمَا  
 يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ ۖ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ

واتان چھو پڑیگ کا نہ نشانہ، بوڈ مجرہ نیس پیغمبر برحقہ سندس نبوتس پٹھہ بدو دلیل چھو آسان تمہ  
 ساتہ چھہ تم ونان تمہ اس گرونہ توتان پڑھہ یوتان نہ اسہ پانس تہ من عطا کرنہ تم تم چیز سم پیغمبر ان عطا  
 کرنہ آئے یعنی وحی، کتاب وغیرہ۔ اتھہ چھو کران اللہ تعالیٰ رڈ۔ فرماوان چھو اللہ اعلمہ حیث یجعل  
 رسالتہ اللہ تعالیٰ چھو بہتر تہ رت زمانان زہ کوسہ جای چھہ مناسب تہ لائق پیغمبری خیرہ۔ سمہ شخص  
 چھو قابل تہ سزاوار امہ عمدہ جلیلہ خیرہ سبیب الذین اجرمو اصغار عند اللہ عنقریب وایہ  
 تمن لو کن سمویڑھ سمہ ون تہ تھہ جرم عظیم کوز خدا نیس نش و اتھہ بذلت تہ خواری آخرتس اندر  
 وعذاب شدید بہا کانو ایٹکرون۔ بیہ و اتھہ کڈر عذاب مکر تہ فریب تہ شور و شر پھیلاونہ خیرہ  
 فمَنْ یُرِدِ اللَّهُ أَنْ یَهْدِیْهُ سَمَّ بُرُوتھہ آویان کرنہ حال با ایمان تہ کافرن ہند تمہ اندرہ سپد معلوم  
 کہ ہندہ حقہ اللہ تعالیٰ یڑھہ ہدایت چہ و تہ پٹھہ انون تہ نجاتچہ و تہ پٹھہ پکانون یشرح صدرہ للإسلام  
 تسند سینہ یعنی دل چھو مودراوان تہ کشادہ کران اسلام قبول کرنہ خیرہ ومن یرد ان یضلہ یجعل  
 صدرہ ضیقًا حرجًا بیہ ہندہ حقہ اللہ تعالیٰ یڑھان چھو گمراہی تسند سینہ یعنی دل چھو کران تنگ  
 سنی سیٹھان تنگ اسلام قبول کرنہ خیرہ کائما یصعد فی السماء زن سو شخص زورہ آسان چھو  
 کھن ہیوان۔ مگر چھونہ کھسرت بیگان دل چھوس تنگ سپدان کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین  
 لا یؤمنون تہ پٹھہ چھو اللہ تعالیٰ شیطانہ سند وسوسہ تراوان تمن لو کن پٹھہ یم نہ ایمان اتان تہ پڑھہ

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۳۵﴾ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا  
 الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿۱۳۶﴾ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ  
 وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۷﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ  
 جَمِيعًا يَبْعَثُ الْجِنَّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ  
 أَوْلِيَاهُمْ مِنَ الْإِنْسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَوَلَّغْنَا  
 آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَلِيدِينَ

کران چہرہ تھی و سوچ ناپاکی چہرہ روز بروز زیادہ سپدان و ہذا صراطِ ربِّکِ مُسْتَقِيمًا یہ دینِ اسلام صحیح  
 ذکرِ برونہ سبز پتھے تہندس پروردگارہ سبز سبز و تہہ۔ امہ درای چہنہ بیہ کانہہ و تہاہ نیز سیمہ و تہہ پونٹہ  
 پختہ سیت شخص نجات لہہ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ بیشک امی صراطِ مستقیمہ کہ  
 وضاحتہ خیطرہ کہ اسہ پن آیات تفصیل بیان نصیحت رتہ و نین لوکن ہندہ خیطرہ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ  
 رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تمن نصیحت رتہ و نین تہ دینِ اسلام قبول کرہ و نین ہندہ خیطرہ  
 چھو سلامتی تہ امن و مانک پو شون گرہ یعنی جنت تہندس پروردگار س نشہ۔ سوی چھو یہ ہند دوست تہ  
 مددگار تہہ بدل تہ تم کران آس رتہ عملہ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا بیہ چھو سُودوہ قابل ذکریمہ  
 دُوہہ آس ساری مخلوقات جمع کر وہ بیٹھہ منز جن تہ انسان ساری جمع آس۔ تمومنزہ بیہ جن شیطان  
 تھہ ہوت و نندہ يَبْعَثُ الْجِنَّ قَدْ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ ای جن شیطانو واریاہ لوکھ بناو وکھہ ٹوہہ  
 پن تابع انسانو آندرہ ہم گراہ کر و وکھہ پُاس سیت وَقَالَ أَوْلِيَاهُمْ مِنَ الْإِنْسِ تو پتہ و ن تہن شیطان  
 ہندو دست انسانو آندرہ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ ای سانہ پروردگارہ بیشک چھو چون فرماون پوز۔  
 واقعی تُل نفسانی فائیدہ اسہ آندرہ بعضیو بعضین ہندہ سیت۔ واقعی تحقیق س اندر آس شیطان ہندہ ڈالہ  
 سیت قیاس انکار کران وَوَلَّغْنَا آجَلَنَا الَّذِي أَجَلْتَنَا و ن وات اس تہہ موعین و قس بس تریہ سانہ  
 خیطرہ مقرر او تھہ کورمت یعنی وون چھو از فیصلہ تری آتھہ قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَلِيدِينَ فیہا الا



فِيهَا أَلَمْ يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۱۳۸﴾ وَكَذَلِكَ  
 نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۳۹﴾  
 يَمَعَشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ  
 يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ الْآيَاتِ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ  
 هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا وَخَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ  
 الدُّنْيَا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿۱۴۰﴾

مَا شَاءَ اللَّهُ اللَّهُ تَعَالَىٰ فَرَمَا وَبِحَكْمِهِ أَيْ جَنِّ تَهْ اِنْسَانِ كَافِرٍ وَتَهْمِدِهِ خَيْرٌ هُوَ تَهْمِيُونِ فِيصَلُهُ نَارِ جَهَنَّمَ مَنَزْ هَمَزْ  
 جَاى۔ ہمیشہ چھو توہمہ روزن تھہ منز مگرے اللہ تعالیٰ ائی یرھہ توبہ تمہ منزہ کڈن مگر سو یرھہ نہ  
 زانہ۔ اِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ہر پات تھہد رُب چھو سٹھا حکمتہ دول تہ سٹھا علمہ دول۔ علمہ سیت  
 چھہ تَس سارنی ہند جزم معلوم حکمتہ سیت چھو پر ہتھہ مجرَس مناسب سزا دو ان وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ  
 الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ہتھہ پاتھہ تھاو کھہ اَس اُو گنہگار بن گنہگار ن نزد یک ہتھہ پاتھہ  
 تم دُنیا س اندرا کہ وٹہ روز تھہ چھہ کامہ کر ان اَس يَمَعَشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ اَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ  
 مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمُ الْآيَاتِ وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا ائی جَنِّ تہ اِنْسَانِ ہنز و  
 جماژو توبہ چھوہ پنہ نین گرا بن تہ چھہ عملن ہند اقرار کر ان۔ کیاہ توبہ نش واژاى ناسان پنچمبر سم  
 توبی منزہ اَس سم توبہ پر ان آسٹن پوزوان آسٹن اعتقاد تہ اعمال متعلق سان آیات ہہ آسٹن  
 توبہ نیم کر ان از کہ دُبھہ پیش انک۔ ادہ کیاہ وجہ اوس تہہ آسودہ نہ تھر ونا فرمانی نسرہ باز یوان۔ قَالُوا  
 شَهِدْنَا عَلَىٰ أَنفُسِنَا تم ساری دپن اَس چھہ پنہ نین پان پٹھہ پائے جرج گواہی دو ان کہ واقعی  
 حضرات انبیاء واژاى اَسہ نَش تم اَس چان آیات اَسہ بوزہ ناوان۔ ہہ اَس اڑہ دُبھہ نیم تہ کر ان۔  
 مگر اَس اَس نہ تھہد مانان۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان۔ وَخَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا تم اَس دہمت  
 دُنیاچہ زندگانی دھوکہ۔ تم اوس دُنوی عیش دُومت مقصد اعظم آخروج آسکھ نہ فخری تمیک نتیجہ

ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلَهَا  
 غَفِلُوْنَ ﴿۱۳۱﴾ وَاِلٰى دَرَجٰتٍ مِّمَّا عَمِلُوْا وَّمَا رَبُّكَ  
 بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳۲﴾ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمٰةِ  
 اِنْ يَّشَآءْ يَهْبِكُمْ وَّيَسْتَخْلِفُ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ كَمَا  
 اَنْشَاكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ اٰخِرِيْنَ ﴿۱۳۳﴾ اِنَّ مَا تُوْعَدُوْنَ

در او کہ و شَهِدُوا عَلٰی اَنْفُسِهِمْ اَلَهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ تمود و تپانے پنہ نس کافر آسئس پیٹھہ گواہی  
 مگر نتیجہ اقرار کر نس کیاہ فائدہ نیرہ ذٰلِكَ اَنْ لَّمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرٰى بِظُلْمٍ وَّاَهْلَهَا غَفِلُوْنَ یہ  
 پیغمبرن ہندہ دعوت حق پیٹھہ سوز نک سلسلہ آو جاری کرنہ۔ کیا زہ تہند پروردگار (یار رسول اللہ) چھونہ  
 کتہ شہرہ کین لوگن ظلم کر تہہ تہزہ بے خبری اندر گالان۔ بلکہ چھو کھ گوڈہ پیغام و اتنا وان حضرات انبیاء ان  
 ہندہ ذریعہ وَاِلٰى دَرَجٰتٍ مِّمَّا عَمِلُوْا وَّمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُوْنَ یلہ پیغمبر آئے  
 سوزنہ تمودیت لوکن ناد سارنی لوگن سپدا اطلاع۔ تمہ پتہ چھہ جن نہ انسان نیکو کارن نہ بدکارن سارنی  
 عملہ کرہ وین ہندہ خیطرہ در جات مقرر کرنہ امت۔ تہزہ عملہ مطابق تہنہ در جاتن مطابق ولتہ تمکن پنہ  
 نین عملن ہند نتیجہ تہ بیہ چھونہ تہند پروردگار لوکن ہنزہ عملونشہ بے خبر و رَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمٰةِ بیہ  
 چھو تہند پروردگار بے نیاز نس چھنہ لوگن ہنزہ عبادت ضرورتہ۔ سو چھو رحمتہ وول۔ محض پنہ رحمتہ  
 سیت سوز تم حضرات انبیاء پیٹھہ تہندہ ذریعہ معلوم سپدن نفع و ضرر ک چیز۔ اتھ اندر چھو بندن ہندوی  
 فاسدہ۔ اِنْ يَّشَآءْ يَهْبِكُمْ وَّيَسْتَخْلِفُ مِنْۢ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَآءُ ہر گاہ سوزیٹھہ توہہ سارنی نیہ یکدم  
 سمہ حالہ منزہ ہلاک کر تھہ۔ توہہ بدل اُنہ توہہ پتہ تمکن یٹھہ تہ تمکن کَمَا اَنْشَاكُمْ مِنْ ذُرِّيَّةٍ قَوْمٍ  
 الْاٰخِرِيْنَ پیٹھہ پاٹھہ تہہ کر تھہ پیدہ بیہ اکہ قومہ نسلہ اندرہ تہند چھونہ وجود کتہ تہہ چھوہ تہزہ جابہ  
 موجود پیٹھہ پاٹھہ چھو یہ سلسلہ جاری مگر وارہ وارہ۔ ہر گاہ اس یٹھہ تہہ کر وہہ ختم یکدم کیا زہ سانہ کامہ  
 چھنہ کانسہ ہندہ آسنہ سیت یا نہ آسنہ سیت کانسہ رکاوٹ۔ حضرات انبیاء سوزے یہ آسہ تہندہ مفادہ

لَا تِلْكَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۱۳۴﴾ قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۱۳۵﴾ وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِعْمِهِمْ وَهَذَا لِلشُّرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۖ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ

خیطره۔ آسہ اوس نہ تھے اندر پُئن کا نہ غرض۔ لہذا پڑھہ ہا توہمہ تمہن پیغمبرن تصدیق کرن۔ تمہن پیروی کرن۔ تمہہ سیت سپدہ ہا توہمہ سعادت حاصل۔ اِن مَّا نُوْعِدُوْنَ لَا تِلْكَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ یٰمَن جیزن ہمد توہمہ پیغمبرن ہمدہ واسطہ وعدہ یوان چھو کرنہ قیامت یا عذاب تمہہ چھہ یقیناً ضرور اودہ ونہ۔ تمہہ میسون نہ خدا عاجز کرت۔ عذابہ نغمہ پُئن پان بچاوت تڑ چھہ ونہ سیت۔ زوپوش روزنہ سیت یا نہیں شہر س تہ ملکن تڑنہ سیت قُلْ يَقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ بِالآخر فرما یو کھہ تمہہ یا رسول اللہ ای لو کو تمہہ گدھو پین کام کران پنتہ جایہ توتہ چھوس پین کام کران پنتہ جایہ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ عنقریب سپدہ توہمہ معلوم مَنْ تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ کہ کہندہ چھہ آسہ رت انجام آخر تہس لدر۔ بیشک ہمہ چھہ یقینی تمہہ کہ ظالم گدھن نہ زمانہ کامیاب وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا بیہ لگ تم کافر خدایہ سپدہ خیطرہ (تمہی منزہ یہ تمہی پیدہ کورمت چھو زراعت تہ چارو ایو منزہ) اکھ حصہ مقرر کرنہ۔ بیا کھہ حصہ پوتلین ہمدہ خیطرہ حالانکہ پیدہ کر تہس منز چھونہ تہس کا نہ تہ شریک فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِرِعْمِهِمْ وَهَذَا لِلشُّرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا پنتہ خیالہ بیہ حصہ گو خدا تہس بیہ حصہ گوسانین ٹھہر او متین شریکن فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا یَصِلُ إِلَى اللَّهِ تہس تہس حصہ آسہ تہمدین شریکن ہمدہ خیطرہ تھا ونہ اُمت سُوی آسہ جان تہ رت۔ تمہہ منزہ ولتہ نہ کہنی خدا تہس وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ یَصِلُ إِلَى اللَّهِ فَهُوَ یَصِلُ إِلَى اللَّهِ بِرِعْمِهِمْ بیہ تہس حصہ آسہ

يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۱۳۱﴾ وَكَذَلِكَ  
 زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ  
 شُرَكَاءُهُمْ لِيُرِدُّوهُمْ وَلْيَلِيسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ  
 وَكَوَشَاءِ اللَّهِ مَا فَعَلُوهُ فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ ﴿۱۳۲﴾  
 وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتُ حِجْرًا لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ  
 نَّشَاءُ بَرَعِبِهِمْ وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا وَأَنْعَامٌ

خدايہ سیدہ خیطرہ تھاوندہ آمت سؤی جان بہن اوس سؤیہکھ واتھہ تھندین شر مکن کن۔ سَاءَ  
 مَا يَحْكُمُونَ کوتاہ پچھ چھوہندہ فیصلہ تہ تجویز۔ کیا زہ نلس چیز خداين پیدہ کور۔ سو کیا زہ بیہ  
 تھاوندہ نس وراى بیہ کانہ ہندہ خیطرہ وَكَذَلِكَ زَيْنَ لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ أَوْلَادِهِمْ  
 شُرَكَاءُهُمْ لِيُرِدُّوهُمْ وَلْيَلِيسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ پچھہ پانھہ دیت زینت وار بہن مشرک بہن  
 اولاد مار نس تھند یو شیطانو۔ چنانچہ تمین آس یہ وحشیانہ کوم رر تہ جان یوان یوزنہ۔ پچھہ تم مشرک تباہ  
 بر باد سپدن آخر نس منز۔ بیہ پچھہ تمین مشرک پچھہ دین تھند خلط ملط سپدہ۔ تم روزن ہمیشہ غلطی منزى  
 وَكَوَشَاءِ اللَّهِ مَا فَعَلُوهُ تہہ منہ سپد و تھمز و پچھہ کامیوسبہ غمگین۔ ہر گاہ اللہ تعالیٰ بڑھہ تہندہ حقہ  
 جانیر تلہ آسمن نہ تم یہ پچھہ کوم کران فَذَرَهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ کس ترا یو کھہ تم تہ تھند اہز نور اوان  
 تہ غلط کھہ ٹھہراونہ تم تلن پانے تمیگ خراب نتیجہ وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْتُ حِجْرًا لَّا يَطْعَمُ بِہہ پچھہ تم  
 پنہ باطل خیالہ موجب یہ تہ ونان کہ تم چارواى تہ یہ زراعت نلس تم حاصل کران آس پچھو حرام  
 لَّا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَّشَاءُ بِرَعِبِهِمْ سکن بہکھ نہ کانہ شخص استعمال کرت نس شخص نس وراى نلس  
 اس پنہ خیالہ موجب کھیاون یڑھون (یعنی تم بہکھ معبودان باطلن ہندہ خیطرہ نذر تھاوان۔ تو پتہ پچھہ  
 کھیوان تھندین مجاورنی یوت تم وراى بین ہندہ خیطرہ پچھہ زانان حرام وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا  
 بیہ آس ونان تم جانور (بہہ جانور مخصوص کرت) تم پچھہ چھو سوار سپدن یا یور کھارن حرام کیا زہ

لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا افْتِرَاءً عَلَيْهِ سَيَجْزِيهِمْ  
بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۱۳۲﴾ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ  
خَالِصَةٌ لِّذُنُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِنْ يَكُنْ  
مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصَفَّهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ  
عَلِيمٌ ﴿۱۳۳﴾ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا  
بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَىٰ اللَّهِ

سم چھہ منسوب معبودان باطلن کن کرنہ آمت و انعام لا یذکرؤن اسم اللہ علیہا افتراء علیہ  
بہ کیہہ چارواں تمں پیٹھ آسنہ ذبحہ وقتہ خدلیہ سنداویوان خدائس پیٹھ اپز نور او تھہ۔ کیا زہیہ آس  
زانان کہ امہ بیت گڑھہ اللہ تعالیٰ خوش سیجزیہم بما کانوا یفترون عنقریب دہ اللہ تعالیٰ تمں  
امہ اپز نوراونہ موکھ سزا وقالوا ما فی بطون ہذیہ الانعام خالصہ لذنورنا و محرم علی ازواجنا  
بہ آس ونان سم مٹرب، ہم چہ تمں چاروا من ہندین شمن منز چھہ تم چھہ فقط اسہ اندرہ مردن ہندہ  
خاطرہ حلال، زنان پیٹھ چھہ تم حرام ولان یکن مینتہ فہم فیہ شرکاء ہر گاہ سوچہ مردہ زیوہ  
تلہ چھہ ساری مردتہ زنانہ تمہہ کس گھنیں منز برابر شریک سیجزیہم و صفہم انہ حکیم علیم  
عنقریب دہ اللہ تعالیٰ تمں پائے حرامہ تہ حلالہ بیت جانورن صفت کرنس پیٹھ ضرور سزا۔ بیشک سو  
چھو شہاہ حکمتہ و ول تہ شہاہ زان و ول۔ تمسند گرفتاری اندر تاخیر کرن چھونہ بے خبری موکھ بلکہ تس  
چھہ پور خبر مگر تاخیر عذائس منز چھہ حکمت آسان قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا  
بِغَيْرِ عِلْمٍ تھمق تاوا اس منز پے تم لوکھ سمواولاد پن بے وقوفی تہ جمالت سبہ بلاد لیل مار و حرموا  
مآرزقہم اللہ بہ کرکھہ حرام پائس پیٹھ سوزق لیس اللہ تعالیٰ ان عطا کریوکھ افتراء علی اللہ ہم  
ساری چیز چھہ کران تم اپز نور او تھہ خدائس پیٹھ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ بیشک سپد تم لوکھ  
گمراہ بہ آس نہ تم زانہ تہ سیزہ و تہ پیٹھ پکہ ون و هو الذی انشأ جنات معروشات و غیر

قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ۝۱۳۰ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ  
 جَدَّتِ مَعْرُوشَتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ  
 مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ  
 مُتَشَابِهٍ طُكُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوهُ حَقَّهُ يَوْمَ  
 حَصَادِهِ ۝ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ۝۱۳۱ وَ  
 مِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَاتٌ كُلُّوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَ  
 لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝۱۳۲

مَعْرُوشَتِ سُورِدگار گوسوی تم پیدہ کرتے باغ میں آندر تم کل چھہ ایم ڈھکن پٹھن کھسان چھہ  
 (دو چھہ گل ہی) بیہ تم کل تم ڈھوورائے کھسان چھہ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ بیہ تم خضر  
 گل بیہ زراعت پیدہ کور سمہ کین میون تہ دان مختلف صورت تہ مختلف مزہ آسان چھو وَالزَّيْتُونَ  
 وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ بیہ کورن پیدہ زیتون بیہ دان تم آھہ آس ہی تہ چھہ آسان۔ آھہ  
 آس بدل تہ چھہ آسان كُلُّوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ تمی فرمووای لو کو کھیو تم سارنی کلین ہند میوہ  
 یلہ سونیران آسہ وَآتُوهُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ بیہ آسو تم فصلن ہند حق ادا کران یعنی زکوٰۃ دوان  
 سمہ دوہہ بیہ فصل زمان آسو وَلَا تُسْرِفُوا تھہ دس منز تہ مہ آسو اسراف کران إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
 الْمُسْرِفِينَ پڑپاٹ اللہ تعالیٰ چھو نہ اسراف کرہ و نین پسند کران وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرَشَاتٌ  
 بیہ کمر پیدہ اللہ تعالیٰ آن چارپاؤ آندرہ بعضی چارپاؤ سمہ تھہ چھہ بورتلہ و ن چھہ بیہ تم ژھوٹ تہ پست چھہ  
 بورتلس قابل چھہ كُلُّوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ ای لو کو کھیو بے فخر تم  
 جانورن ہند ماڑ سم اللہ تعالیٰ آن تھہدہ خیطرہ حلال کمر پائے پنہ خیالہ کانہہ چیز حرام کر تھہ مہ بکو شیطانس  
 پتہ پتہ۔ سوزانیون ناسو کھہ چھو إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ پڑپاٹ سُچھو جھہ نون ڈشمن باوجود آینکہ

ثَنِيَّةَ أَزْوَاجٍ ۖ مِنَ الضَّانِّ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ ۗ  
 قُلْ ءَآلَ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْاُنْثَيَيْنِ أَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ  
 أَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ۗ يَسْئُرُنِي بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝۳۰  
 وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ۗ قُلْ ءَآلَ الذَّكَرَيْنِ  
 حَرَّمَ أَمِ الْاُنْثَيَيْنِ أَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ ۗ  
 اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ وَصَّوْكُمْ اللّٰهُ بِهٰذَا فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّن

پڑھو۔ دلیلہ سبزہ توہمہ بشرہ واضح تر روشن مگر سوچو توہمہ راہ راستہ بشرہ ڈال کر یہاں ثَنِيَّةَ أَزْوَاجٍ  
 مِنَ الضَّانِّ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ تم چاروازی تمکن منزجہہ پالے اڈ حلال تہ اڈ حرام کران محو کھ  
 ہم ساری کر خدائی پیدہ۔ یعنی جھہ آٹھ قسم۔ کٹو آندرہ زہ نر تہ مادہ بیہ ژھا ویو آندرہ زہ نر تہ مادہ  
 قُلْ ءَآلَ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْاُنْثَيَيْنِ جہہ پڑھو کھ یار سؤل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای مٹر کو نر زہ  
 چھا خدائمن حرام کر مت کنہ مادہ زہ اَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ کنہ تم کھ چہ یا ژھا ول چہ  
 یکن دوشون قسم ہنزہ مادہ پنہ نین رحمن منز تلت جھہ یَسْئُرُنِي بِعِلْمٍ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ دو مہ  
 امیک جواب کنہ دلیلہ سیت ہر گے جہہ پوزوندون جھوہ وَمِنَ الْاِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ بیہ  
 جھو اللہ تعالیٰ ان پیدہ کر مت دونو منزہ ہر تہ مادہ بیہ گا دو منزہ ہر تہ مادہ قُلْ ءَآلَ الذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ  
 اَمْ الْاُنْثَيَيْنِ پڑھو کھ جہہ ای مٹر کو نو زہ نر چھا حرام کر مت خدائمن کنہ زہ مادہ اَمَا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ  
 اَرْحَامُ الْاُنْثَيَيْنِ کنہ زہ چہ تم ہمہ نین مادن ہندین رحن آندر چھہ۔ توہے دعویٰ جھوہ کران کہ اللہ  
 تعالیٰ ان جھہ تم حرام کر مت تھہ بیٹھہ کمر وکانہہ دلیلہ پیش۔ اچ دلیل ییکن زی چیز آستھہ۔ یا آسہ اللہ  
 تعالیٰ ان کانہہ بیٹھہ یا ملکہ سہہ ذریعہ توہہ فر موومت یا آسہ تم توہہ بلا واسطہ پالے فر موومت۔ گوڈیکس  
 صؤر تس یعنی نبؤس جھوہ انکار کران دو قسم صورتس متعلق پڑھو کھ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ  
 وَصَّوْكُمْ اللّٰهُ بِهٰذَا کیاہ جہہ آسہہ تمہہ ساتھ حاضر ہمہ ساتھ اللہ تعالیٰ ان توہہ امہ حلال کر نک تہ





ذِي طُفِيرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمَ عَلَيْهُمْ شَحُومَهُمَا  
 إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ  
 بِعَظْمٍ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَعْضِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۳۷﴾  
 فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ  
 بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۳۸﴾ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا

ہن کھیہ سہ سیت زندہ بیچہ روزت سؤڈلہ نہ کھئیس اندر حدہ نشہ بیہ آسہ نہ خدلیہ سندس لھمس نافرمانی  
 کرہ ون تہ طالب لذت تہ مزہ زھاندہ ون۔ تس چھہ امید بخشایشہ ہنز۔ کیا زہ اللہ تعالیٰ چھو سٹھاہ  
 مغفرت کرہ ون سٹھاہ رحم کرہ ون وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي طُفِيرٍ بیہ کر آسہ  
 بیہودن پیٹھہ حرام پریتھہ نمہ وول جانور نیس نہ انجہ الگ الگ آسن بلکہ آسنس جملہ وجھہ سؤگو وونٹھہ، گر،  
 شتر مرغ، آنز، بطخ وغیرہ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمَ عَلَيْهُمْ شَحُومَهُمَا گاڈوتہ کٹواندرہ کتر آسہ حرام  
 تمں پیٹھہ تہنز چربی إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ مگر نہ سؤ  
 چرب نیس تہند من پٹھن پیٹھہ آسہ یا اندر من سیت آسہ یا کٹہ اڈجہ سیت میلیتھہ آسہ۔ امہ ورا ی آسکھ  
 ساری چربی حرام تم چیز آس نہ فی نفسہ حرام کینہہ تہ۔ مگر ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِبَعْضِهِمْ وَإِنَّا  
 لَصَادِقُونَ بیہ سزادیت آسہ تمں تہزہ سر کشی موکھہ۔ آس چھہ یقیناً پوزونان وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ  
 رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ نیس ہر گاہ توتہ تم دشمن توبہ انکاری کرن، نعوذ باللہ اہزس کن نسبت  
 کرن سہمہ کٹھہ موکھہ کہ تمں کونہ چھو ادہ عذاب نازل سپدان، تہہ فرماؤ کھہ تہند پروردگار چھو وسبع  
 رحمتہ وول۔ بعضہ حمتو موکھہ چھونہ سؤنا فرمان جلد گر قنار عذاب کران۔ مگر تہہ مہ زانو ہمیشہ روزہ  
 یوہے حال۔ نہ بلکہ سہمہ وقتہ عذاب وقت (نیس مقرر کرنہ آمت چھو) ولتہ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ  
 الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ تمہہ ساتہ بیچہ نہ تہند سؤ عذاب کا نہہ کھہ دور کتر تہہ تہہ رتھہ نافرمانی تہ گٹھکار  
 لوگن لہمہ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ مُّشْرِك

لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِنْ شَيْءٍ  
 كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا  
 قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِنْ تَتَّبِعُونَ  
 إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تُخْرِصُونَ ﴿۱۳۸﴾ قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ  
 فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۳۹﴾ قُلْ هَلْ شَهِدْنَاكُمْ

بین وُن زہ ہر گاہ اللہ تعالیٰ پر تھہ ہاتلہ نہ کرہ ہو اُس شرک نہ کرہ ہن سان مال بڈبب شرک۔ نہ کرہ ہو اُس کا نہہ چیز حرام۔ نہ آسمن کران سان مال۔ بڈبب۔ سڈ معلوم کہ اللہ تعالیٰ اس جھونہ یہ ناہسند کینہہ تہ۔ کَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ تہہ پاتھہ جھو انکار کورمت تموتہم تبکن بروٹھ کافر اُس یمہ گتھہ تہ یہ جواب دین پتھہ محض غلط تہ باطل۔ امہ سیت جھو لازم یوان پیغمبرن ہند لہز وُن شو ذبا اللہ لہذا سموسمو کو کو پیغمبرن جھدیب کور۔ تم آی عذائس گرفتار کرنہ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جھو فرماوان حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا تمی موکھہ ژہ تمبو سانہ عذابگ مزہ۔ تہہ پاتھہ ژہن تم کافر تہ ضرور عذابگ مزہ قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا تہہ فرماؤ یوکھہ یارسول اللہ ای کافر و سبیاہ توبہ نش چھنا کانہہ دلیلہ اتھہ تھہ پٹھہ کہ اللہ تعالیٰ ان دژ توبہ قدرت شرک کرنچ یا حلال چیز حرام کرنچ۔ سمہ اندرہ معلوم سڈ یوسو جھو اتھہ پٹھہ راضی، چھ توبہ نشہ اتھہ پٹھہ کانہہ دلیلہ سوکتر و پیش۔ دلیل وغیرہ چھنہ توبہ نشہ کینہہ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تُخْرِصُونَ تہہ جھو نہ پیروی کران مگر خیالی گتھن۔ بیہ جھو نہ تہہ مگر غلط اندازہ کران۔ اٹھکلہ سیت گتھہ کران قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فرماؤ یوکھہ تہہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمودو شوی جوابو سیت سڈ معلوم کہ خدایہ سنزی دلیل چھہ کامل تہ پور۔ تہنز دلیل چھہ باطل غلط۔ اتھہ اوس لازم تہہ ساری گڑھوین راہ راستس پٹھہ مگر تمیک توفیق تہہ جھو خدایسی اتھہ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ تہہ ہر گاہ سو تہہ پاتھہ پاتھہ سارنی ہاؤہ ہاؤتھہ۔ مگر اللہ تعالیٰ اس چھہ پنہن سارنی کامین اندر جہ جہ حکمہ۔ سو تہہ پٹھہان جھو تہہ جھو ہدایت کران۔ تہہ نہ

الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ هَذَا فَإِنْ شَهِدُوا  
فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ كَذَّبُوا  
بِآيَاتِنَا وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ  
يَعْدِلُونَ ﴿۱۵﴾ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ إِلَّا  
تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا  
أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ طَعْنٌ نَزُّقُكُمْ وَإِيَاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا

یرشان چھو۔ نس چھو نہ کینہہ تہ بیان قُلْ هَلْ شَهِدَآءُكُمْ الَّذِينَ يَشْهَدُونَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ  
هَذَا فرما یو کھ تہہ کہ بُرود نھ گن اینو کھ تہہ تم گواہ یم یہ گواہی دن کہ واقعی اللہ تعالیٰ ان کیاہ کر یم چیز  
حرام تہن ہنز ذکر کرنہ آیہ فَإِنْ شَهِدُوا فَلَا تَشْهَدُ مَعَهُمْ ہنس ہر گاہ تم بالفرض گواہی دن  
کہ توتہ گزہہ نہ تہنہ یار رسول اللہ تہنہ رس ونہ نس اعتبار کرن تہ تہنز گواہی قبول کرن۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ  
الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بیہ مہ کمر و بیروی تہن لو کن ہنز خواہش تہم ہوزان سان آیات۔  
وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ بیہ تہن نہ پڑھہ ہتھہ آخر حج بیہ ہتھہ تم  
پنہ نس پروردگار سیت معبود آس اندر مخلوق آندرہ بین برابر تھاون، شریک زانان قُلْ تَعَالَوْا  
أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبِّي عَلَيْكُمْ إِلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا فرما یو کھ تہہ یار رسول اللہ ﷺ ولو پوروہ کیاہ چھو  
حرام کورمت تہنہہ پروردگارن توتہہ پیٹھہ۔ تم چیز چھہ تم۔ اکھ چیز گواہی زہ شریک مہ ٹھراو نس  
مخلوق آندرہ کانہہ چیزاہ۔ خدا نس تہہ قسمہ شریک ٹھراون چھو حرام وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بیہ مہ  
کمر و ملس ماجہ نسبت نافرمانی۔ بلکہ کمر و تہن سیت احسان۔ تہنز نافرمانی کرن، تہن سیت بدسلو کی کرن  
چھہ حرام۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ طَعْنٌ نَزُّقُكُمْ وَإِيَاهُمْ بیہ مہ مار یو کھ اولاد بین فقرہ،  
تہنگستی تہ افلاس سببہ۔ تہہ پاتھ زمانہ جاہلیتس منز لو کھ کمر ان آس۔ اس و مووہ توتہہ تہ رزق بیہ تہن  
تہ اولاد مارن تہ قتل کرن چھو حرام وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ بیہ مہ آسوزدیک

الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّوْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۵۱﴾  
 وَلَا تَقْرَبُوا أَمْوَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا يُكْفِئُ  
 نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۗ  
 وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّوْكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ﴿۱۵۲﴾

یوان بے حیائی سے تا فرمانی ہنزن کا میں نہ نمن پانہ نہ نہ پوشیدہ پانہ۔ پریتھ طریقہ بدکاری سے زنا چھو  
 حرام۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ بیہ مہ ماریون کا نہ شخصہ اسمند مارن اللہ تعالیٰ ان  
 حرام کور مگرے کا نہ پز پانہ قلنس سزاوار آسہ سپدمت بیاکھ شخص ناحق مارنہ سیت ذلکم ووصکم بہ  
 لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ایک چھوہ اللہ تعالیٰ تاکیدہ سان حکم فرماوان یتھ نہہ وارہ زانو تہ فخرہ تاروتو پتہ  
 کرمی موجب عمل وَلَا تَقْرَبُوا أَمْوَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ بیہ مہ  
 آسویتمہ سدس ماس چھہ یوان مگر تہی و تہ یوسہ رتہ تہ مفید آسہ۔ سمہ سیت تھہ ماس حفاظت واتہ،  
 نقصانہ نشہ روزہ محفوظ یوتان سو یتیم پانہ بالغ تہ گائل سپدہ۔ مال یتیم کھیون چھو حرام وَأَوْفُوا الْكَيْلَ  
 وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ بیہ چھو اللہ تعالیٰ حکم کران زہ مینان تہ تولان آسوپور پور، انصاف تہ عدلہ  
 سان۔ اٹھ منز دعائہ دھوکہ دیون چھو حرام۔ سم احکام مشکل تہ دشوار چھہ کیا زہ لَا يُكْفِئُ نَفْسًا إِلَّا  
 وُسْعَهَا اس چھہ کانسہ ارس تکلیف ووان مگر تہی یوت سوہیکہ ہتھہ کیا زہ چھہ مین احکامن ہندس  
 تعیل کرئس منز سستی کرنہ یوان وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ اگرچہ معاملہ آستن توہہ  
 کانسہ آشنا سندا یا کانسہ دوستہ سندا بیہ سمہ ساتہ نہہ ئنہ فیصلس یا شہادتس منز کانسہ کتھاہ آسوکران سبو  
 آسوپوز و تان سمہ ساتہ عدل و انصافس خلاف کتھہ کرن چھہ حرام۔ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا بیہ آسوخدلیہ  
 سدس عہدس و فاکران۔ بد عہدی تہ وفانہ کرون چھو حرام ذلکم ووصکم بہ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ بیہ سار

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ  
 فَتَفْرَقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۵۶﴾  
 ثُمَّ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا  
 لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ۙ  
 وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا عَالَمَكُمْ  
 تُرْحَمُونَ ﴿۱۵۷﴾ ۙ أَنْ تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى طَائِفَتَيْنِ

کوی کرده الله تعالیٰ ان تا کیدی حکم بیٹھ نہہ یاد تھا و تہ عمل کرو۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ  
 فَاتَّبِعُوهُ میں حکمن ہنر چھن زیادہ خصوصیت۔ بیہ کر وہ الله تعالیٰ ان حکم کہ یہ دین اسلام بیہ تمکب  
 ساری احکام بیہ چھوہ میان سیز و تھہ امی و تہہ پکو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ بیہ و تومہ پکو۔ فَتَفْرَقَ بِكُمْ عَنْ  
 سَبِيلِهِ تمہہ و تہ کر نوہ جداتہ دور خدایہ سزہ سزہ و تہ نشہ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ امہ  
 کوی کور وہ توہہ الله تعالیٰ ان تا کیدی حکم بیٹھ نہہ باقی و تونشہ ہتھہ روزو۔ راہ راستہ نشہ بیہ کا نہہ و تھہ  
 اختیار کرن چھو حرام ۛ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تَمَامًا عَلَى الَّذِي أَحْسَنَ وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ شرکس رد  
 کرنہ پتہ چھہ اس مسئلہ نبوئس متعلق مضمون بیان کر ان کہ امہ حض سوزوہ نہ نمی یات پیغمبر بنا و تھہ  
 بیٹھہ پیٹھہ لوکن تردتہ حُجہ سپد ان چھو بلکہ سوزا سہ توہہ برو تھہ حضرت موسیٰ پیغمبر بنا و تھہ۔ تو پتہ کتر  
 امہ عطا حضرت موسیٰ اس کتاب یعنی تورات۔ پن نعمت پوزہ کرنہ خیطرہ تمن لوکن پیٹھہ سموتہ  
 موجب رتہ عملہ کرہ بیہ ضروری احکامن ہند بیان تہ تفصیل کرنہ خیطرہ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ بِلِقَاءِ  
 رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ بیہ بیٹھہ تمہہ واسطہ سارنی لوکن رُہنمائی سپدہ بیہ بڈر حمت تعمیل احکام کرہ و نین ہندہ  
 خیطرہ۔ بیہ امہ صحیح کتاب سوزا سہ بیٹھہ تم لوکھہ یعنی بنی اسرائیل پنہ نس خدا نس سیت ملاقات کرہ نس  
 پڑھہ کرن۔ تھہ اعتقاد س ماتحت کرن سارنی حکمن پیٹھہ عمل یلہ تمہہ کتابیہ ہند تہ اخیلک دور ختم سپد  
 وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا عَالَمَكُمْ تُرْحَمُونَ سمود و یو کتابیہ پتہ چھوہ قرآن مجید



بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا  
 إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا قُلِ  
 انْتظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ ﴿۱۵۸﴾ إِنَّ الَّذِينَ فَتَقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شَيْعًا  
 لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا  
 يَفْعَلُونَ ﴿۱۵۹﴾ مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ  
 بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۶۰﴾ قُلْ إِنِّي

واتہ تمہیں نشہ تمہیں پروردگارہ سُنَد کا نہ ہوڈ نشانہ قیامتہ کیونشانو آئندہ یعنی مغربہ کہ طرفہ آفتاب  
 کھن۔ وارہ بوزن تم کہ یَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ آيَاتِ رَبِّكَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيْمَانُهَا لَمْ تَكُنْ أَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ  
 كَسَبَتْ فِي إِيْمَانِهَا خَيْرًا سمہ دہہہ تمہیں پروردگارہ سُنَد سو بوڈ نشانہ ظاہر سپدہ تمہہ دہہہ دہہہ نہ کانسہ  
 شخصس کانسہ فائیدہ تہ نفع ایمان اُن تہ پڑھہ کرن یم نہ تمہہ بروئہ ایمان آسہ اُوئمت یا آسین نہ ایمان  
 اتھہ کانسہ رژکامہ کر مژلکہ آسس پیچہ کانسہ کرہ مژہ تمہہ دہہہ چھونہ ایمان اُنہ نَس اعتبارہ توبہ کرنس  
 نہ گنہن مغفرت معہ نَس اعتبار قُلِ انْتظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ فرماو یو کہہ تمہہ کہ ہر گاہ تمہہ اتھہ انتظار پڑھان  
 چھوہ کرن کروئلہ انتظار۔ اس تہ چھہ آپس تہ ہزس منز فیصلہ سپد نَس انتظار کران إِنَّ الَّذِينَ فَتَقُوا دِينَهُمْ  
 وَكَانُوا شَيْعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ پڑپاٹ سمو کو کو دینس  
 پنہ نَس چھلہ کرہ تہ بیون بیون کو رکھہ یعنی دین حق کو رکھہ نہ پور پور قبول یا کو رکھہ اوڈ قبول تہ اوڈ تروڈ کہہ۔  
 دینس آندر نور اویکھہ شرک و بد عتجہ کہہ۔ بیہ بنیای الگ الگ جہاژ تہ فرقہ۔ توہہ چھونہ تمہن سیت کانسہ  
 تعلق۔ تمہد معاملہ چھوسپہر د اللہ تعالیٰ آس۔ سوونہ پانے تمہن تمہہ سارے کہہ بیہ تم کران آس مَنْ  
 جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا نَس اکاہہ کہہ نیکی پتھہ ایہ سُنَدہ خیطرہ چھہ توشے دہ نیکی۔ یعنی اللہ  
 تعالیٰ کرنس اِس نیکی دہن نیکن ہند ثواب عطا۔ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ  
 لَا يُظْلَمُونَ بیہ نَس اکاہہ کہہ بدی پتھہ بیہ نَس بیہ نہ نَس سزاونہ مگر اکی بدی ہند۔ گھکارن، بدکارن

هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ  
 حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۷۱﴾ قُلْ إِنْ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَ  
 حَيَاتِي وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۷۲﴾ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ  
 وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴿۷۳﴾ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ  
 وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ  
 رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۷۴﴾ وَهُوَ الَّذِي

ظلم بیہ نہ کرنہ قُلْ اِنِّیْ ہَدَانِیْ رَبِّیْ اِلَی صِرَاطٍ مُسْتَقِیْمٍ دِیْنًا قِیْمًا مِلَّةَ اِبْرٰہِیْمَ حَنِیْفًا وَمَا كَانَ  
 مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ فرما یو کہتے تھے یا رسول اللہ پڑپاٹ مہ ہاوتھہ پروردگارن پنن راہ راستس کن، مضبوط  
 دینس کن بیٹھہ منز نہ کننہ قسمہ کجر چھو۔ حضرت ابراہیمہ سندس ملتس کن نیس اپز یو دینو نشہ ہنس  
 دینس کن پھر ہون اوس۔ بیہ اوس نہ سو مشر کو اندرہ قُلْ اِن صَلَاتِی وَنُسُکِی وَحَیَاتِی وَمَمَاتِی لِلّٰہِ رَبِّ  
 الْعَالَمِیْنَ \* لَا شَرِیْکَ لَہٗ وَبِذٰلِکَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ فرما یو کہتے تھے پڑپاٹ میان نماز بیہ میان  
 ساری عبادت بیہ نیون زندہ روزن بیہ میون مران، بیہ سو زوی چھو خاص خدایہ ہندی خیطرہ تھندس  
 اختیارس اندر نیس کل جمائک پروردگار چھو۔ نس چھونہ شریک کانہہ مہ آواکوی حکم کرنہ۔ یو چھوس  
 خدایہ سند یو فرمانبردار بندواندرہ گوڈکوی فرمانبردار قُلْ اَغَیْرَ اللّٰہِ اَبْغَیْ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ کُلِّ شَیْءٍ فرما یو کہتے  
 تھے ای کافر وکیا ہو ڈھانڈنہ معبود برحقس ورا بیہ کانہہ پروردگارہ حالنہ سوی چھو پریتھہ کننہ چیزک  
 پروردگار وَلَا تَکْسِبُ کُلُّ نَفْسٍ اِلَّا عَلَیْہَا کانہہ شخصہہ کرہ نہ کانہہ مگر تمیک یور چھو نس پانس پیٹھہ  
 تلن وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرٰی کانہہ اکھاہ تلہ نہ بیہ کانہہ ہند یور پانس پیٹھہ ثُمَّ اِلَی رَبِّکُمْ مَرْجِعُکُمْ  
 فِیَنْبِئُکُمْ بِمَا کُنتُمْ فِیْہِ تَخْتَلِفُونَ تو پتہ چھوہ تھے پننہ نس پروردگارس کن رجوع کرن نیس گرہ سوی تو بیہ  
 خبر تھرہ سارچی تھہ منز تھے اختلاف کران آسوہ وَهُوَ الَّذِیْ جَعَلْکُمْ خَلِیْفَہٗ الْاَرْضِ وَرَدَّہٗ بَعْضَہُمْ فَوْقَ



جَعَلَكُمْ خَلِيفَةَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ  
 فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ <sup>ن</sup> وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ <sup>ع</sup> (۱۶۵)

بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ بیه چھو سو پروردگار سومی تم تہہ زمینس اندر بہن نایب بناووه بیه کرون  
 توبہ اندرہ بعضن ہند مرتبہ بلند بعضن پٹھہ پٹھہ توبہ سو آزمائش کرہ تمن نعمتن اندر سمہ توبہ عطا  
 کرنوہ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ پزپاٹ پروردگار چھو جلد سزاوہ ون بیه چھو سیٹھاہ  
 مغفرت کرہ وون سیٹھاہ رحم کرہ وون



## سُورَةُ الْأَعْرَافِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 الْمَصَّ ۱ كِتَابٌ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ  
 مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ۲ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلْنَا  
 إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مِمَّا  
 تَذَكَّرُونَ ۳ وَكَمُ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا

الْمَصَّ \* كِتَابٌ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ لِتُنذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ الْمَصَّ  
 -- امکہ معنی چھ خدایہ سی خبر۔ یہ قرآن مجید چھ کتابا خدایہ سدہ طرفہ توبہ کن نازل کرنے آشر۔ چھ  
 تہہ لو کہہ نافرمانی ہند سزا بیان کرنے سیت کھوڑہ ناویا کہہ۔ ہر گاہ کا نہ شخصہ آتھ کتابہ ایمان لینہ، تسلیم  
 گرہ نہ تھند دل مہارک مہ سپدن تمہ سیت تنگ۔ بیازہ کانسہ ہندہ نہ مانہ سیت تو ہنزہ تیم کرچہ کامہ اندر  
 کانہ نقصان واتہ نہ۔ قرآن مجید چھ خصوصیتہ سان وعظتہ نصیحتہ بالیمان ہندہ خیطرہ اتبعوا  
 مَا أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ای لو کو تہہ یلہ معلوم سپد کہ یہ قرآن  
 مجید چھ خدایہ سندی طرفہ نازل کرنے آمت۔ تہہ کمر واتباعتہ پیروی تجیہ توبہ کن بواسطہ چھ تمبر برحق  
 نازل آو کرنے تھندس پروردگارہ سدہ طرفہ۔ اتباع کرن گو تصدیقتہ کرنتہ عملتہ کرن۔ (خدا تم  
 تھندہ و تھہ ہاونہ خیطرہ یہ عظیم الشان کتاب نازل کمر) تراوتھہ مہ کمر و بین رفیقن تہ دوستن ہنز پیروی۔  
 سم توبہ گمراہ گرہ ون تہ سیزہ وتہ نغمہ ڈالہ ون چھہ انسان شیطانو تہ جن شیطانو اندرہ قَلِيلًا مِمَّا  
 تَذَكَّرُونَ مگر باوجود سمہ مشتقانہ ہما نیش کریمہ چھہ توبہ اندرہ کمی لو کہہ نصیحتہ رثان۔ تھی چھہ گمراہ  
 تہ گمراہی زیادہ۔ مگر گمراہن چھونہ روزن سو کہے۔ وَكَمُ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا  
 أَوْهُمْ قَالُوا وَارِیَاہ شہرن تہ بستین منز روزہ ون کمر آسہ ہلاک تہ تباہ گھر وانکار تہ نافرمانی تہ گمراہی

أَوْهُمْ قَائِلُونَ ﴿۷﴾ فَمَا كَانَ دَعْوُهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأُسْنًا إِلَّا أَنْ  
 قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۸﴾ فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ  
 وَلَنَسْئَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ﴿۹﴾ فَلَنَقْضِيَ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا  
 غَائِبِينَ ﴿۱۰﴾ وَالْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ  
 فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۱۱﴾ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ  
 الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بَمَا كَانُوا يَأْتِيَانِظِلْمُونَ ﴿۱۲﴾ وَلَقَدْ

مؤکھ۔ کس ووت تمین نشہ سون عذاب رات منزی۔ یا تمہہ ساتہ سمہہ ساتہ تم دپہر س شوجت آس  
 قیلولہ کران فَمَا كَانَ دَعْوُهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بِأُسْنًا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ کس اوس نہ تمہہ ساتہ سمہہ  
 ساتہ تمین نشہ سون عذاب ہمکہ تہ مکہ واتھہ پیو کانہہ کتھاہ تہندہ چانہہ منزہ نیران۔ مگر یہیہ تھہ کہ واقعی  
 چھہ آس ظلم و خطا کرہ ون۔ یہ گو ذنبوی عذاب فَلَنَسْئَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْئَلَنَّ  
 الْمُرْسَلِينَ امہہ پتہ گو اخروی عذاب۔ قیامتک دوہہ پر تھو آس ضرور لوکن تمین کُن پیغمبر سوزنہ آئی۔  
 یکیہ توہہ نشہ آئی یہ پیغمبر۔ توہہ کیہہ معاملہ کورہہ تمین سیت۔ یہہ پر تھو ضرور آس پیغمبرن تہ کہہ توہہ  
 کیہہ جواب ون تہمز و اُمتو فَلَنَقْضِيَ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ کس بیان کر و اس تمین ساری بیرون تھہ  
 کنہہ ساری حالات پنہہ علمہ موجب کیازہ اس تہندہ یو کارو کر تو تو نشہ بے خبر آسنہ وَالْوِزْنَ يَوْمَئِذٍ  
 الْحَقُّ تمی دوہہہ من لوکن ہنزہ عملہ تہ اعتقادات تولنہ ہر پانہہ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ  
 الْمُفْلِحُونَ کس سمین ہند پوخر ایمانہ سیت تہ نیکیو سیت گوب لکھ تہ لوکھ آسن رستگار تہ کامیاب  
 نجات لبہ ون وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ بیہہ سمین لوکن ہند پوخر لوت لکھ ایمان نہ انہہ سیت تہ اعمال  
 صالحہ نہ آسنہ مؤکھہ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بَمَا كَانُوا يَأْتِيَانِظِلْمُونَ کس تہہ لوکھ گئے سہو  
 پنہہ نین پانن نقصان تہ تاوان واتوو کیازہ تم آس سائین آیاتن ہنز حق تلفی کران۔ انکار تہ نافرمانی  
 کرنہ سیت وَلَقَدْ مَكَرْتُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا إِنَّا نَشْكُرُونَ پزناٹ اسہہ دث

مَكَّنَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝۱۰ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۖ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ۝۱۱  
 قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ۖ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ ۝۱۲ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِيرِينَ ۝۱۳ قَالَ أَنْظِرْنِي

توہم بسنہ خیطرہ جای زمینس پیٹھ۔ بیہ کوراسہ مہیا تہندہ خیطرہ اتھہ زمینس اندر زندہ روزنگ سامان مگر شکرنگ ارچھہ توہم اندرہ کمی لوکھہہ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ بے شک بیہ کروہ اسہ تہم پیدہ یعنی تہندہ جد اعلیٰ حضرت آدم علیہ السلام۔ توپتہ دثرو اسہ توہم شکل و صورت یعنی حضرت آدمس علیہ السلام ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ توپتہ کور حکم اسہ ملائکن کہ سجدہ دیوون حضرت آدمس کن۔ پس ڈیت تموسجدہ ابلیس ورا ای لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ سؤاوس نہ سجدہ ونہ والیواندرہ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ اللہ تعالیٰ ان پرتھس ای ابلیس تہ کم چیزن روکھہ پتھہ سجدہ ونہ نشہ۔ بلہ میہ پانہ تہیہ حکم کریوی سجدہ کرنک۔ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ دہنہ لگ بوچھوس بہتر حضرت آدمہ سندرہ خوتہ کیاہہ بوکور تھس پیدہ نارس۔ سبو کور تھن پیدہ میہہ تہ آہس یعنی رپہ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّغِيرِينَ اللہ تعالیٰ ان فرمووس تہیہ اویہ پنن پان بوڈ بوژنہ تھی کر تھہ میانس تھس نافرمانی۔ لہذاوس یون آسانہ نشہ۔ تہیہ پزی نہ کبر تہ نافرمانی کرن اتھہ آہاس منزیوسہ جای چھہ فرمانبردارن ہنز لہذا نیر جلد پیکک تہہ چھو کھہ ذلیل و خوار گتھہ نیو اندرہ قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ابلیس لگ ونہ پروردگار میہہ وتہ مہلت مر نہ نشہ قیامت تان سمہہ دوہہ ساری سین قبر ونزہ نیر کڈنہ۔ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ اللہ تعالیٰ ان فرمووس پیکک چھو کھہ تہہ مر نہ نشہ مہلت دنہ آتیہ اندر وقت معلومس

إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ ﴿۱۳﴾ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ ﴿۱۴﴾ قَالَ فِيمَا أُغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿۱۵﴾ ثُمَّ لَأَنْزِلَنَّ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ﴿۱۶﴾ قَالَ أَخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْبَعِينَ ﴿۱۷﴾ وَيَأْتِمُّرُ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۸﴾ فَوَسَّوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ

تَانِ قَالَ فِيمَا أُغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ایلین لوگ ونبہ ژئیہ کور تھس بو گراہ۔ اتھہ بدل کرکھہ بو تہ بنی آدم گراہ۔ قسم بیٹھہ چھوس بونان کہ ضرور بہمہ بو تم گراہ کرنہ خیطرہ چاہہ سیزہ دوتہ پوٹھہ بروٹھہ دکھہ نہ پختہ ٹھہ لایئہم من بین ایدیہم ومن خلیفہم وعن ایمانہم وعن شمایلیہم ولا یجد اکثرہم شکرین تو پتہ سمکھہ بو حملہ کرنہ خیطرہ پر بیٹھہ طرفہ تمن بروٹھہ کن تہ، تہزہ تھر کن تہ تمن دچھن تہ، تمن کھو فرتہ۔ اتھہ پاٹھہ ممکن سپد تم تہ تھہ پاٹھہ ڈاکھہ بو تم سیزہ دوتہ نشہ۔ چنانچہ ژہ بلہ بھکھہ نہ تمو اندرہ زیادہ شکر گزار چائین نعمون پوٹھہ قَالَ أَخْرُجْ مِنْهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا اللہ تعالیٰ ان فرموس خوارو ڈلیل سپد تھہ نیر جلد نیر آسمانو اندرہ۔ ژہیہ ونان چھو کھہ کہ بو ڈاکھہ تم، گدھہ ڈاکھہ۔ بو چھوس نہ پرو ابران کانسہ ہدہ عبادت کرہ نگ لکن تبعکم منکم لاملئن جہنم منکم اجبعین البتہ ئس چان پیروی کرہ تمو اندرہ تو بہہ اکہ ڈٹہ برن بونار جہنم ویادم اسکن انت و زوجک الجنۃ فکلا من حیث شئتما اسمہ فرموس حضرت آدمس، ای آدم، بسو تھہ پن باڑ بیٹھہ جنٹس منز۔ ئس کھی بو چتو نعمتو اندرہ سمہ نعمہ خوش کر نوہ، بیٹھہ جاہہ خوش کر نوہ ولا تقربا ہذہ الشجرۃ مگر نزدیک سپد زہ نہ تھہ دوشوے بیٹھہ کس یعنی اسمہ کلک میوہ تہ پھل کھی زہ نہ ہرگز فتکونا من الظالمین ئس سپدوہ تو بہہ

عَنْمَا مِنْ سَوَاتِيهَا وَقَالَ مَا نَهَكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ  
 إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ ۝۱۰ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي  
 لَكُمَا لَئِنِ التُّصِحِّحِينَ ۝۱۱ قَدَلَهُمَا بَغْرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا  
 سَوَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَّرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا اللَّهُ  
 أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ ۝۱۲  
 قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ

نقصان تله ونيو آندره فوسوس لهما الشيطان ليبيد لهما ما ورى عنهما من سواتيها نفس ترو و شيطان  
 تهندين وكن آندروسوسه يتهمه شز اوه سوتمن بد نك سوجه نيس تمن كهه اكس نسه پو شيد ه اوس- بيه  
 آسها تمه كليك خاصيت، يا حكم عدولي كرنه موكهه وقال ما نهكهما ربكهما عن هذه الشجرة الا ان تكونا  
 ملكين او تكونا من الخالدين وپنه لوكهه پروردگارن تهنيد كرنه توبه ممانعت امه كله نسه مكر مي موكهه  
 كه تبه كرهونه بن ملك زه يا كرهونه تبه بن هميشه زنده روزه ونيو آندره وقاسمهما قسم با و با و لك ونه تمن  
 اتي لكمالين التصحيحين يشك بو ههسوه تهنيد بو ذخير خواه قدلها بغرور نيس تهده مرتبه نسه يا تهزه  
 رايه نسه ناست رايه كن والرن يون- مایل سترن ذهوكه سبت امه كليك پهل كهيس پيئه قلتما  
 ذاقا الشجرة نيس يا تهده مزه زهه تمو امه كله كه پهللك بدت لهما سواتهما تان گئے تم نسه- تهده  
 بدنه پيئه ودهه لباس تهنيد خود بخود ظاهر سپد تهنيد سوزوي بدن و طفيقا يخصفن عليهما من ورق الجنة اتي  
 لك ووشوے جنك پنه و تهه كهه اكس سبت مله و تهه پاس پيئه تهاونه بدنس ستر كرنه خيتره وناداهما  
 ربهما الله انهكهما عن تلك الشجرة و اقل لهما ان الشيطان لهما عدو مبين تمه وقته كور آلو تمن ووشون بن  
 پروردگارن- اى آدم حواء امه كمر ونا تهه منع امه كله نسه- بيه ونونامه تبه بز ياث شيطان جهو تهنيد نون  
 دشمن- يتهمه امسزن كهفن كن تهوو قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخالدين  
 ووشوے لك ونه اى سانه پروردگار ه اسه كور ظلم يان پاس- وون لى ذه اسه مغفرت كرهه بيه رحم

الْحَسْرِينَ ﴿۳۳﴾ قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي  
 الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۳۴﴾ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا  
 تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ ﴿۳۵﴾ يَبْنِيٰ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا  
 يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ  
 آيَةِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ يَذَكَّرُونَ ﴿۳۶﴾ يَبْنِيٰ آدَمَ لَا يَفْتِنَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ

کرکھ اس سید و ضرور نقصان تلوہ و نیو آندره قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ  
 مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ اللہ تعالیٰ ان فرموو کھ جنہ منزہ و سو یون زمینس پیٹھہ ہتھہ حاس منزکہ توہ  
 یعنی ٹھہد اولاد آسن پانہ وان اڈاؤمن ہند دشمن۔ یہ آوٹھہدہ خیطرہ تجویز کرنہ زمینس پیٹھہ قرار کرن۔  
 یہ تمخ نکل معیشتہ کیواسباؤ سیت۔ اکس خاص و قس تان۔ یعنی مرجس و قس تام قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ  
 وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ اللہ تعالیٰ ان فرموو کھ آتھہ زمینس منزہ ہتھہ توہہ زندگی گزارن۔  
 آتھہ زمینس منزہ چھوہ توہہ سرت روزن۔ اسی زمینہ منزہ۔ اوکڈنہ قیامتک دوہ۔ تمہہ پتہ نیس۔ ہتھہ عمل  
 آسہ توہی یہ تس جای دنہ۔ رتھہ عملہ ولس رتھہ عملہ ولس ہتھہ ہتھہ جای یَبْنِيٰ آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا  
 عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوَاتِكُمْ وَرِيشًا اکی حضرت آدمہ سُنڈ پوٹھو پو، تھتھن پیدہ کوراسہ ٹھہدہ  
 خیطرہ پو شاک، نیس ٹھہدس عیب ناک بدنس ولہ تہ ستر کرہ۔ یہ نیس ٹھہدہ بدنگ زینت چھوہ ولباس  
 التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ یہ چھوہ آمہ ظاہری لباسہ علاوہ باطنی لباسہ تہ آسہ ٹھہدہ خیطرہ تجویز کورمت۔  
 سوگو پر ہیزگاری تہ دینداری ہند لباس۔ سوہ چھوہ آمہ ظاہری لباسہ خوتہ سیٹھہا ضروری تہ بہتر۔ ذَٰلِكَ مِنْ  
 آيَةِ اللَّهِ یہ لباس ظاہری چھوہ خدایہ سیدہ فضل و کرمہ کیونشانو تہ دلیلو آندره لَعَلَّكُمْ يَذَكَّرُونَ ہتھہ  
 لوکھہ یہ نعمت وارہ یاد تھاوتھہ منعم حقیقی سُنڈ حق ادا کرن۔ اسلامن چھوہ کورمت مردن ہند لباس الگ  
 زنانن ہند لباس الگ۔ نیس ہتھہ نہ مردن زنانہ لباس لاگن۔ زنانن پڑہ نہ مردہ لباس لاگن۔ مردن پیٹھہ  
 آوریشی لباس حرام کرنہ۔ تم مردو نیاس آندره ریشی لباس استعمال کرن تم آسن جنکھہ ریشی لباسہ

كَمَا أَخْرَجَ أَبُو يَكْمُومٍ مِنَ الْجَنَّةِ يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتَهُمَا  
 إِنَّهُ يَرِيكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ  
 أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۴۱﴾ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا  
 عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرْنَا بِهَا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ

نشر محروم۔ زنانن پیٹھ آوٹون تہ بار یک لباس حرام کرنہ یمہ منز بدن یاس، کلک موی بوزنہ ایہ۔  
 اچی پابندی کرن۔ یہ گولباس تقویٰ یٰبٰی اَدَمَ لَا یَفْتِنٰکُمُ الشَّیْطٰنُ کَمَا اَخْرَجَ اَبُو یَکْمُوْمٍ مِنَ الْجَنَّةِ اکی  
 حضرت آدمہ ہند یوٹو یوٹو بلکہ تہہ تقویٰ تہ پر ہیز گاری ہند واجب آسن معلوم سپد، یہ سپد توبہ معلوم کہ  
 شیطان کوتاہ دشمن چھو تہند وون تہہنا توبہ تہ شیطان ڈالتھ تقویٰ پر ہیز گاری تہ ویش خلاف تہہ گنہس  
 بتا کر تھ خرابی اندر تراوہ۔ تہہ مول مون تہند حضرت آدم تہ حضرت حواجنہ منزہ ڈالتھ کڈن۔  
 یَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا توبہ کڈن تم تہہ حاکس منز کہ کڈن اوس لباس تہند تہند ہ بدنہ  
 پیٹھ۔ تہہ پاتھ نزاوہ تہ ہک کرہ تہوند مسطور تہ پو شیدہ بدن۔ تہہ پاتھ اسہ بیان کور کہ سو چھو تہند سخت  
 دشمن تمس نشر کور پور احتیاط۔ زیادہ تاکید چھوہ اس توبہ تہہ مکھہ کران إِنَّهُ یَرٰی کُمْ هُوَ وَقَبٰیِلُهُ مِنْ  
 حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ بیشک اکھ سو تہہ تہنز لشکر چھہ توبہ وچھان تہہ پاتھ تہہ پاتھ نہ تہہ چھون سو  
 وچھتھہ ہیکان۔ تہہس دشمن نشر پزہ سخت بچاویج صورت اختیار کران۔ سو بچاویج صورتھ چھنہ کنہی  
 ایمانہ تہ تقویٰ ورا ی إِنَّا جَعَلْنَا الشَّیْطٰنَ اَوْلٰیاءَ لِلَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بیشک اسہ کمر شیطان دوست تہ  
 رفیق تہن لوکن ہند تم نہ ایمان اتان تہ ہر تھہ کران چھہ کنس خدائس وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا  
 عَلَيْهَا اَبَاءَنَا وَاللَّهُ اَمَرْنَا بِهَا ہمہ لو کو نہ ایمان اون تہن پیٹھ چھو شیطانہ سندا تسلط تہہ قسمہ کہ  
 بلکہ تم لو کہ کانہہ چھہ گاہہ کران چھہ۔ وناک چھہ اسہ وچھہ مال بڈب پئن ای کران۔ یہ چھو نعوڈ باللہ  
 خدائنی اسہ یہ کرنگ حکم کورمت۔ چنانچہ تم آس ننگے خانہ کعبس طواف کران کانہہ منع اوسکھہ کران  
 جواب آس دیان اسہ چھو خدایہ نی امیک حکم کورمت قُلْ فرما دیو کہہ تہہ یارسول اللہ (صلی اللہ علیہ



أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۲۸﴾ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ  
وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ  
لَهُ الدِّينَ هُوَ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴿۲۹﴾ فَرِيقًا هَدَىٰ وَ  
فَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيْطِينَ  
أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ ﴿۳۰﴾

و سلم) إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ بیشک اللہ تعالیٰ چھونہ ہر گز تجھہ کا میں ہند حکم کران۔ یہ کیاہ چھوہہ  
بکواس کران أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ کیاہ تہہ چھوہہ خدائس کن تی لاگان تچانہ توہہ نشہ کا نہ  
خبرہ چھہ۔ کا نہ دلایاہ چھہ۔ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ فرمایا کہ میان خدائس چھوہہ حکم کورمت عدل و  
انصاف۔ پریتھہ کامہ منز افراط و تفریطہ زچہ نیک و اَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ یہ  
چھون حکم کورمت تہہ تھا و وسیوڈ پریتھہ عبادئس اندر۔ متوجہ رزودولہ سیت خدائس کن یعنی پوئل یا  
یہ کا نہ چیزمہ آسیون برونتھہ کنہ زمان وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ یہ آسو تہنزی یا اث عبادت  
کران۔ تس یات ہن حاجت منگان۔ باخلاص آسو تہنزی فرمانبرداری کران۔ سم چھہ پروردگارہ سند  
حکم سم مانو کیا زہ تم فرماونہ توہہ سم حکمی یات تہ بس۔ بلکہ یہ سؤ توہہ اکہ دوہہ تمن کھن پیٹھہ حساب تہ  
کَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ چنانچہ ہتھہ پاٹھہ گوڈہ پنہ قدرتہ سیت تم تہہ پیدہ کمر نوہ تھہ پاٹھہ سپد یوہ تہہ  
دوبارہ پیدہ کرنہ ایو۔ تی دقتہ یہہ توہہ حساب ہنہ فَرِيقًا هَدَىٰ وَ فَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ دنیا س  
اندر ہا و اکس جمائس اللہ تعالیٰ ان وتھہ۔ تمن دیہ رثمزور۔ میں جمائس پیٹھہ کرن مقرر گرا ہی۔  
تمن ایہ سزا ونہ کیا زہ إِنَّهُمْ اتَّخَذُوا الشَّيْطِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ اللَّهِ تمہو کیا رٹ شیطان ہن  
دوست تہ رفیق خدائس تراوتھہ۔ یعنی خدایہ سزا طاعت تہ فرمانبرداری تراوتھہ کرکھہ شیطان ہنز  
فرمانبرداری وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُم مُّهْتَدُونَ یہ آس تم خیال تھاوان کہ اس چھہ ہدائیس تہ راہ  
راستس پیٹھہ بس خیال محض باطل تہ غلط اوس یَبْنِيْ اَدَمَ حُنُودًا وَإِنَّ دَابَّتَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ اٰی نبی آدمو

يَبْنِي أَدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا  
تَسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿۳۱﴾ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي  
أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي

یلہ توہم معلوم سپد کہ ننگے طواف کرئس چھو خدا بیزار لہذا آسوئہہ پو شاک لاگان پر یتھ وقتہ۔ یلہ یلہ  
کانہہ عبادت کرنہ خیطرہ مسجدہ منز حاضر سپدان آسو نماز پر نہ خیطرہ یا طواف کرنہ خیطرہ طواف تہ نماز  
مہ آسو پر ان ننگے۔ یتھ پاٹھہ ننگے روزن چھو شیطانہ سز گمراہی۔ یتھ پاٹھہ چھو حلال چیز حرام کرن تہ  
شیطانہ سز گمراہی وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تَسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ لہذا آسوئہہ حلال چیز کھیوان تہ  
چوان مگر مہ آسو اسراف تہ فضول خرچی کران۔ پز پاٹھہ اللہ تعالیٰ چھونہ راضی اسراف تہ فضول خرچی  
کرہ و نین تمین آیات کر یمن منز چھو اللہ تعالیٰ رد کران تمن لوکن تم خانہ کعبس ننگے طواف آس  
کران۔ یتھ آس زانان بڈ عبادت بعض لوکھ آس جُملہ کین دوئمن کھیون چون تراوان۔ کم کینترہ ہاہ آس  
کھیوان سمہ سیت شہ کھسُن و سُن باقی روزہ ہا۔ مازی گنیو کھیون آس کلیتاً تراوان۔ تمن ساری چھو اللہ تعالیٰ  
فرماوان کہ یہ کرن کانہہ رث کا ماہ چھنہ تقویٰ و پرہیز گاری ہنز گوماہ چھنہ۔ یہ چھو محض شیطانی وسوسہ۔  
خدا یہ سُن عطا کورمت لباس تہ پو شاک سمہ سیت نہند بدن ولتھہ روزن بس نہندہ بدق شُوب چھہ یہ  
آسو پر یتھ وقتہ لاگان عبادت کر چھہ وقتہ چھو زیادے مناسب رت پو شاک لاگان۔ خدا یں یہ توہمہ لاگنہ  
خیطرہ یا کھیہ چینہ خیطرہ عطا کورمت چھو تمیگ آسو تمتع تہ فائدہ تلان۔ مگر شرط چھوئوی کہ اسرافہ نشہ  
آسو چھہ روزان۔ اسراف گو حدہ نشہ ڈلن تہ مہ آسو کران۔ یتھ اسرافس چھہ واریاہ صورتہ۔ حلال  
چیز مہ آسو حرام کران۔ اتہ گو اسرافے یا ہر خوری تہ پے خوری کرن تہ گو اسرافے۔ یا میل، خواہش  
آسنہ و رای کھیون تہ گو اسرافے۔ یا ثبوت، کم کھیون یہ سیت بدنس تو تھی حاصل سپدہ نہ، یا تم چیز  
کھن چین تہ استعمال کرن تم مضر صحت آسن شراب ہیو، آفین ہش، ٹموکھ ہیو تہ گو اسرافے۔  
بعضی سلف صالحیو فرموو کہ اللہ تعالیٰ ان چھہ جمع کر مژ ساری طب اڈسی آیہ کر تمس اندر۔ سوگو  
” وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تَسْرِفُوا “ پر یتھ قسمہ کین اسراف کرہ و نین چھو اللہ تعالیٰ بیزار۔ امہ پتہ چھو اللہ  
تعالیٰ فرماوان تم لوکھ لباس ولن، طعام کھیون تہ چون حرام چھہ زانان تمن ہر ڈھو ہز نہہ۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ

الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا خَالِصَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَقِصُّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ  
يَعْلَمُونَ ﴿۳۲﴾ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَ  
الْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا  
وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ

زِينَةُ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ کہہ ای لو کومہہ وبتو کہ کم شخصن کر سوزینت  
تہ شوب حرام۔ بس اللہ تعالیٰ ان پیدہ کور پنے نین ہندن ہندہ خیطرہ۔ بیہ کم شخصن کثرت رت میٹھ میٹھ  
تہ پاکیزہ کھیک چیز حرام۔ حرام کر تک اختیار ہونہ خدا بس ورا ای کانسہ تہ۔ تم یلہ حلال کرو دن کہہ  
کر زین سونس تمن چیزن حرام بیہ کر تہہ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا نَهْمٌ فَرَاوُكْہ بیہ  
زینت، لباس تہ قدرت کھیک تہ چیک چیز چہہ فی الحقیقت با ایمان ہندہ خیطرہ دنیاس اندر خَالِصَةٌ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ بیہ آسن سمہ نعمہ قیامتک دودہ تہ خاص با ایمان ہندہ خیطرہ۔ اگرچہ کافر تہ چہہ سمونعمو  
سیت فائیدہ ٹلان مگر بیہ گو دنیاسی اندر۔ آخر آسن اندر نیرہ تمن سو روی کھومت چیومت نستہ کن  
كَذَلِكَ نَقِصُّ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ تہہ پانچ آس و بڑھہ ناوتہ بیان کران ساری آیات زانن والین تہ  
بجھدار لوکن ہندہ خیطرہ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَ الْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ  
الْحَقِّ تہہ فرماو کھہ یار سول اللہ ای لو کو تہہ ہم چیز پانے بلاد لیل حرام زانتہ تراوان چھو کہ۔ بعضی  
وقتہ چھوہ و نان یم چیز حرام آسن چھو خداینی فر موومت بیہ سو روی چھو اپز تہ بہتان۔ تہہ فرماو یو کہ  
میان پروردگارن کو رنہ حرام کانہہ چیز مگر سارے چھہ کامہ نین پاٹھ تہ۔ مثلاً ننگے طواف کرن پوشیدہ  
پاٹھ تہ مثلاً بدکاری کرن بیہ پر تہہ ٹھنہا بیہ کانہہ پیٹھہ تاق ظلم کرن زیادتی کرن وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ  
يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بیہ کور اللہ تعالیٰ ان حرام کانہہ چیزہ تہندس عباد آسن  
اندر شریک تھاون۔ سمسندس شریک آسنس پیٹھہ تم کانہہ دلایاہ نازل کر مثر چھنہ۔ بیہ کر تم حرام تہہ  
کیاہ ٹھہر او آسن پیٹھہ تہہ کتھہ یمن ہنز نہ کانہہ خبراہ چھہ۔ کانہہ علماہ چھو۔ ہر گاہ کانہہ بیہ شہہ گدھہ کہہ  
ہر گے ہم چیز ممنوع تہ ناجائز ہچہ تہہ کونہ چھو اللہ تعالیٰ یمن مجر من سزاووان۔ تمیک جواب چھو کہہ

أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿۳۷﴾ يَبْنِي أَدَمَ إِمَامًا  
يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُضُونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۳۸﴾ فَمَنْ  
كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِنِّي أَكْثَرُ مُتَّبِعِينَ ﴿۳۹﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا  
وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۴۰﴾ فَمَنْ  
أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ أُولَئِكَ

وَلَعَلَّ آتَاءَ أَجَلٍ قَادِحِينَ ۗ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ۗ بپہ چھو پرستہ اُمّت پرستہ فرودہ  
سندہ نیر نہ خیرہ اکہ وقاہ معین کرنہ اُمّت۔ پس یلہ سو معین وقت واتہ۔ تمہ ساتہ نہ بیکن تم پتہ نیر تہ  
نہ بیکن تم برونتہ گوتہ تمہ معین وقتہ نشہ یبنی ادم اما یاتینکم رسل منکم یقضون علیکم ایاتی ای  
بنی آدمو اسہ اوس عالم ارواحہ سی اندر توہمہ دوئمت کہ یلہ توہمہ نشہ واتن پیغمبر تم توہی منزہ آسن تہ  
ہرآن تہ بوڑہ ناؤن توہمہ بیان آیات فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِنِّي أَكْثَرُ مُتَّبِعِينَ ۗ پس پس  
اکہاہ توہمہ اندرہ تم آیان انکار کرنہ نشہ پتہ روزہ ہر سنبھالہ پن پان رثو عملو سیت یعنی پورہ اتباع تہ  
پیروی کرہ پس چھو نہ آخرتس منزہ تم لوکن کانہ خوفانہ سپدن تم غمگین وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا  
وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا ۗ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ۗ تم لوکہ جہہ اندرہ اہر زان تم آیات تہ احکام  
سان۔ پیہ کرن حکم آیات قبول تہ تسلیم کرنہ نشہ تہ لوکہ آسن نارس اندر واتن وال۔ تہ  
نارس منزہ روزن ہمیشہ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ أُولَئِكَ يَتَالِهَهُمُ  
نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ ۗ یلہ توہمہ مجمل پاٹہ معلوم سپد کہ مکرن چھو عذابس گرفتار سپدن پس بوڑو بتفصیل  
کہ ہمہ اکہاہ چھو یہ ظالم تم لوکن ہندہ خوتہ تمو نوڑو معبود برحقس پیٹہ ایزا اچھہ ایز تہ آیات، پیہ  
نہ تم فر موؤمت چھو تہ تس کن۔ پیہ تم واقعی طور فر موؤمت چھو تہ کوڑکھہ انکار۔ تم کن ولتہ دنیا س  
اندر پن حصہ پس تم ہندہ خیرہ لیکنہ اُمّت چھو لوح محفوظس اندر رزقہ منزہ یا عمرہ منزہ دنیا س  
اندر۔ مگر آخرتس اندر چھو تہ خیرہ مصیبتی مصیبت۔ حتیٰ إِذَا جَاءَهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَقَّوهُمْ

يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُمْ رَسُولُنَا  
يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ ﴿۱۷﴾  
قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ  
فِي النَّارِ كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا حَتَّىٰ إِذَا دَارَكُوا فِيهَا  
جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَأَمْرُهُمْ

تالیہ کے لیے واٹن تمن نشہ ملک سان بسختی قبض روح کرنے خیرہ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ تم ملائکہ دیکھو و بھیس کت گئے تم تم کہ تمہے معبود برحق تراوت عبادت آسو کران۔  
سہہ مصیبت کہ وقتہ کونہ بھہ تم توہیہ کامہ یوان قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا تم کافر دین تم ساری راوتہ ضائع  
گئے آسہ نشہ یعنی بنہ آئی نہ تم آسہ بکار و شَهِدُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ امہ وقتہ دن گوانی  
پنہ نین پان پوٹھ یعنی اقرار کرن زہ تم آس واقعی کافر۔ مگر امہ وقتہ اقرار کرئس نہ نام و پشیمان  
سپدئس چھونہ کانہ اعتبار قَالَ ادْخُلُوا فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ فِي النَّارِ اللہ تعالیٰ  
فرمادیجھہ اتر و تم کافر جماژن سیت تم توہیہ بروٹھ ڈرے غوہ چھہ جوتہ انسانو اندرہ نار جہنمئس اندر  
كُلَّمَا دَخَلَتْ أُمَّةٌ لَعَنَتْ أُخْتَهَا یلیہ یلیہ اژان آسہ جہنمئس منزاکہ اکہ جماعتہا۔ سو آسہ لعنت کران  
پانسی ہشہ بھیس جماژ۔ یعنی تمن آسہ نہ پانہ وان کانہ ہمدردی بلکہ آسن اکہ اکس بچھہ نظرہ و چھان حَتَّىٰ  
إِذَا دَارَكُوا فِيهَا جَمِيعًا تالیہ یلیہ ساری سمن جہنمئس اندر قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولِهِمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا  
فَأَمْرُهُمْ عَدَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ و شہہ پتہ جماعت تم تابع روزت کفر کران آس بروٹھہ جماژ ہندہ  
خیرہ ای سانہ پروردگارہ میوی کیا ڈال آس کیا زہ تم آس سان زٹھہ۔ پس کر تم سانہ خوتہ دو گن  
عذاب نار جہنمئس قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٌ وَلَٰكِنْ لَّا تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ فرمادیجھہ پریتھہ آس چھو دو گن  
عذاب۔ مگر توہیہ چھونہ معلوم۔ وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُولِهِمْ قَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهِمْ مِنْ فَضْلٍ فذوقوا

عَذَابًا ضِعْفًا مِّنَ النَّارِ ۗ قَالَ لِكُلِّ ضِعْفٍ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾  
 وَقَالَتْ أُولَٰئِهِمُ الْخُرْبَةُ ۖ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْهَا مِنْ فَضْلٍ  
 فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿۳۹﴾ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا  
 بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْعَمُ لَهُمُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا  
 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّىٰ يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ ۚ وَكَذَٰلِكَ  
 نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ ﴿۴۰﴾ لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ  
 وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿۴۱﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

العَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ بیه و نہ گوئی جماعت تمو آند رہ پتیس جماعتس پس کیاہ زیادتی بنیہ توہیہ  
 آسہ پیٹھ۔ جس ژہو عذاب تمں چھہ کاین بدل سمہ توہ کران آسہہ اِنَّ الَّذِیْنَ كَذَّبُوا بِآیَاتِنَا  
 وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفْعَمُ لَهُمُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ پڑپاٹ سمبولو کو اہرز ان سان آیات بیہ کو رکھ سبخر تم  
 آیات قبول کرنہ لٹہ ہرگزین نہ مژرانہ ہندین رُوح ہندہ خیطرہ آسمان ہند دروازہ بلکہ بن تم دارتھ  
 دنہ تہ واتانہ تل پاتلس منز۔ بالیمان ہندین رُوح ہندہ خیطرہ بن آسمان ہند دروازہ موزرنہ۔ تہند  
 رُوح بن واتانہ اعلیٰ علیئیس منز۔ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِیہ اژن نہ مکر تہ کافر جنتس حتیٰ یلج  
 الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ یو تان نہ ووٹھ اثرہ سزہ نہ پپہ کن۔ ووٹھ سُد شرنہ پپہ کن اژن تہ پٹھہ پاٹھہ  
 نامکن تہ محال چھو تہ پٹھہ چھو کافر ن تہ مژر کن ہند جنتس واژن نامکن تہ محال۔ جمل چھہ عربی پاٹھہ  
 ونان و پٹھہ رزہ تہ تہہ دراب ونان چھہ۔ و پٹھہ رزہ ہند سزہ نہ پپہ کن اژن تہ چھو محال تہ نامکن تہ  
 پاٹھہ چھو کافر تہ مژر کن ہند جنتس منز واژن تہ محال۔ سزہ نہ چھہ زیادہ مناسبت و پٹھہ رزہ سیت پٹس  
 سیت مشابہت آسہہ اعتبارہ و کذالک نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ تہ پٹھہ کیاہ موآس سزانا فرمان لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ  
 مِهَادٌ وَمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ تہندہ خیطرہ آسہہ جہنمہ کوئی و طھر ن۔ بیہ پٹھکن

لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ ﴿۲۲﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ تَجْرِي مِنْ  
 تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا  
 لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ  
 وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۲۳﴾  
 وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا

تمہ کو ی ورن۔ یعنی پریتھ طرفہ آسہ تمن نار ی نار۔ اس چہہ متھین خالسن بھوی سزادوان۔ وَالَّذِينَ  
 امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بیہ سمو  
 لو کو ایمان اون خدایہ سیدین آیاتن بیہ کریکھہ رزہ عملہ۔ رزہ عملہ کرنہ چھونہ تیوت مشکل کینہہ پتہ۔  
 کیا زہ اس چھنہ کانہہ شخصس زور کران عمل کرنگ مگر توی ہن ایشہن سوہیجہ۔ تے لوک چھہ جشس  
 منزواتن وال سم ثوت واتھہ ہمیشہ روزن تنھہ منز۔ بیہ آسن نہ جھنن ہند پاتھہ اکھہ آسن سیت بد کلامی  
 کران کیا زہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ اس کڈوتھند یو لو اندرہ ساری رنجش۔ بیہ آسہ نہ کانہہ  
 بنن ہند تھود مرتبہ تہ تھودورجہ وچھت ناخوش یوان بلکہ آسہ پریتھہ اکھہ پندہ پندہ جایہ خوش تَجْرِي مِنْ  
 تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا پکان آسن تھند یو باغو تہ مکاتو منز واریاہ جوہہ۔ خوشی۔  
 فرحت تہ سرورہ سیت آسن تم ونان حمد وثاوبین اس معبود برحقس سم وٹھہ ہاؤ آسہ تمن کامین کن یمن  
 کامین ہنز مزوریہ جنت چھو۔ وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ اس بیجہ ہونہ واتھہ تہ وٹھہ لیتھہ۔  
 ہر گاہے آسہ اللہ تعالیٰ وٹھہ ہاؤہہ لَقَدْ جَاءَتْ رَسُولُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ واقعی سانس پروردگارہ سند پیغمبر  
 آئے آسہ نشہ پزہ کٹھہ بیتھہ۔ وَنُودُوا أَنْ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ توپتہ لیکھہ ہڈہ  
 آلودنہ۔ ای جنیتو تم جنت آی توہرہ وراشتہ پاتھہ عطا کرنہ۔ تنھہ بدل بیہ تہہ کران آسہہ دنیاس اندر  
 رزہ عملو اندرہ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَنْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبَّنَا حَقًّا بیہ بلہہ جنتی جشس

رَبَّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ  
 مُؤَدِّنُ آيَاتِنَا أَنْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ﴿۳۴﴾ الَّذِينَ يَصُدُّونَ  
 عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ ﴿۳۵﴾  
 وَيُنْهَاهَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ

منزواتن پهن خوشی ته فرحت ظاهر کرنه خیطر هبیه جهنمین همد حسرت ته افسوس زیاده کرنه خیطر ه دن تم  
 تمه ساه جهنمه کین لو کن کن آلو۔ ای جهنمیو پز پاطه آسه سیت نس و عده سان پروردگارن کورمت اوس که  
 ایمانس ته ر ژن عملن بدل کروده تو به عطا جنت ته لوب آسه حق ته پوز **فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ  
 حَقًّا** ای جهنمیو نهه و نو کیه تو به ته لبوه سو عذاب سیمک و عده اوسوه کورمت پروردگارن پهن پوز ته  
 واقعی۔ که گهره سبیه واتا ووه نار جهنمکس اندر۔ کیه ون آیه بوزنه پهن گمرانی ته خدا ورسوله سند فرمان  
 حق ته پوز آسن **قَالُوا نَعَمْ** تم وین جواب واقعی اللہ تعالیٰ سند ته جهنمکس پهنمبر برحقه سند فرمانن دراؤ  
**بِأَنَّهُمْ يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ** تم ظالم نهه پهر ان آس خدایه سزوه و ته  
 هنز خوشی ته مسرت زیاده سپده جهنمین همد حسرت ته افسوس هر که لعنت خدا یونین ظالم۔ **الَّذِينَ  
 يَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ** تم ظالم نهه پهر ان آس خدایه سزوه و ته  
 نهه جهنمکس قبول کرنه نهه بلکه آس زهانان دین حقس منز پهنه خیاله نیره ناکانه، حج کتاه۔ کانه  
 عیابه۔ نهه تم ای اعتراضک موقعه بیه به آس تم آخرتس ته انکار کران۔ سیمک نتیجه تم از تخان چجه  
**وَيُنْهَاهَا حِجَابٌ** تمکن دوشون فریقن منز۔ جنتین ته جهنمین منز آسه اکھ ٹھوراه ته اکھ دیواراه سمه  
 ٹھر ه ته دیواره سیت جنگ اثر جهنمکس کن واتان آسه نه ته جهنمک اثر جنتس کن واتان آسه نه۔ ای  
 ٹھر یگ ته دیوارک بهیر سم حصه تهه پھو ناوا اعراف۔ تمه پٹھه آسه نظر جنتس پیٹھه ته ته جهنمکس پیٹھه ته۔  
 بوزنه آسن یوان تمه پیٹھه جنتی ته ته جهنمی ته **وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ** اعرافس پیٹھه  
 آسن واریاه لکھه سم تمکن دوشونی جاتن جنتین ته ته جهنمین ته هرزه ناؤن پهنه پهنه علامته سیت۔ سو گواوی  
 که جنتین همد نهه آسن سفید ته روشن۔ تمکن آسه نهه پیٹھه نور وسان۔ جهنمین همد نهه آسن سیاه ته



وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْنَا لَمْ يَدْخُلُوها وَهُمْ يَطْمَعُونَ ﴿۳۷﴾  
 وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا  
 تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۳۸﴾ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا  
 يَعْرِفُونَهُمْ بِسَيِّئِهِمْ قَالُوا مَا اغْنَىٰ عَنْكُمْ جَعَدَكُمْ وَمَا كُنْتُمْ  
 تَسْتَكْبِرُونَ ﴿۳۹﴾ أَهْلَ الْأَيْدِي الَّذِينَ أَسْمَتْهُمُ لَيْلَىٰ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ

گفت۔ تمہیں آسہ ہتھ پٹھہ تاریکی ہٹپان۔ اعراف پٹھو اکھ کو ہاکھ جٹس تہ جہنم منز باگ۔ تہ تہ من  
 تھاونہ تم لوکھہ تمکن ہنزہ نیکی تہ بدی برابر آسن تو لئس منز لجرہ۔ پتولا کہ واتن تم تہ جٹس خدلیہ سدہ  
 فضلہ سیت **وَنَادُوا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلِّمُوا عَلَيْنَا لَمْ يَدْخُلُوها وَهُمْ يَطْمَعُونَ** ہم اعراف منز روزہ ون  
 لوکھہ ون آودت جنتہ کین لوکن ای جنیتو سلام یوینوہ۔ تم آسن نہ ونہ جٹس منز ثامت مگر سخت  
 خواہش تہ امید آسکھہ تھہ منز واتج۔ حدیث شریف منز پٹھو آمت کہ ہنز امید پیہ پورہ کرنہ۔ تہندہ  
 خیرہ سپدہ ہم جٹس منز اژنگ **وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ قَالُوا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ**  
**الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ** تو پتہ یلہ ہنزہ اچھہ نارہ کین لوکن کن پھر نہ من یعنی یلہ ہم اعرافہ کین لوکن  
 جہنم پیٹھہ نظر پیہ۔ خوف کھیتھہ لکن ڈپنہ ای سانہ پروردگارہ آسہ مہ تھو تمکن ظالم سیت عذاب منز  
 شامل **وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسَيِّئِهِمْ قَالُوا مَا اغْنَىٰ عَنْكُمْ جَعَدَكُمْ وَمَا كُنْتُمْ**  
**تَسْتَكْبِرُونَ** ہتھہ پٹھہ اعرافہ کیو لوکو جٹس سیت سلام وکلام گورتھہ پٹھہ دن تم آلو جہنمیو منزہ وارہین  
 لوکن تمکن تم پرزہ ناؤن تہند یو علامتو سیت کہ ہم ہتھہ کافر جہنمی کیازہ تم آسہ ہتھہ پٹھہ تاریکی ہٹپان۔ تمہی  
 دہن ای جہنمیو گنہ تہ آلو نابکار توہہ ہن جماعت۔ پیہ ڈیت نہ توہہ کانہہ فاسدہ تکبر و غرورن۔ پٹن پان  
 آسہوہہ بوڈوز نہ یوان۔ مسلمان با ایمان آسہوہہ چھان پٹھہ نظرہ۔ پیٹنبرن ہنز فرمانبر داری آسن نہ توہہ  
 گوارا گھوان **أَهْلَ الْأَيْدِي الَّذِينَ أَسْمَتْهُمُ لَيْلَىٰ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ** کیا ہم جٹس منز واتھہ عیش کران ہتھہ تہ  
 چھاتم تمکن متعلق قسم ہا ہو آسہوہہہ ونان کہہ تمکن زچورن کرہ نہ اللہ تعالیٰ ہن رحمت عطا۔ وچھان

أَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ﴿۳۹﴾ وَنَادَى  
 أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ آفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا  
 رَزَقَكُمْ اللَّهُ قَالَ الْوَارِثُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهَا عَلَى الْكٰفِرِينَ ﴿۴۰﴾ الَّذِينَ  
 اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلِعْبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ  
 نَسَبْنَاهُمْ كَمَا نَسَبْنَا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا أَوْ مَا كَانُوا يٰبْتَغِيْنَ الْجَدُونَ ﴿۴۱﴾  
 وَلَقَدْ جُنْدُنَاهُمْ بِكِتٰبٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً

بجوه تمنی ہندہ حقہ سپد لحم خدایہ سندرہ طرف اَدْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ای  
 غریب بالیماوا اثر و جنس بیتہ نہ توہمہ زمانہ کانہ خوف نہ کانہ غم آسہ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ  
 الْجَنَّةِ أَنْ آفِضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ ہتھہ پاتھہ جنتیو گمرہ کتھہ جھنمین سیت ہتھہ پاتھہ وان ناد  
 جھنمک لوکھہ جتہ کین لوکن کمر ای جنتیو۔ بوچھہ سیت تہ تریشہ سیت جھہ کوٹھن زیو پھٹھہ۔ تراووانا سہ گن  
 اکھہ تریشہ داماہ۔ یادیسو آسہ کثیرہ ہاہ تمہہ منزہ یہ توہمہ اللہ تعالیٰ ان کھینہ خیطرہ عطا کورمت ہتھو۔ قَالَ الْوَارِثُ  
 اللَّهُ حَرَّمَهَا عَلَى الْكٰفِرِينَ جنتی و پھکھہ اللہ تعالیٰ ان جھہ ہم دوشوے چیز یعنی جنتک کھین تہ چین حرام  
 کورمت کافرین پیٹھہ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلِعْبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا تمن کافرین پیٹھہ ہتھو  
 دنیاس منز دین پٹن ہس قبول کزن تمن پیٹھہ واجب اوس۔ زورمت اوس تماشہ تہ گندناہ۔ بیہ اوس تمن  
 دھوکہ دستمت دنیاجہ زندگی۔ تمن اوس خیال زہ مرئوی پھو نہ زمانہ تمی سبہ اوسکھہ سوروی  
 مشر وومت۔ دینک آس نہ بران کانہ پروا سوا سکھہ سر دست ہس پٹھہ تروومت قَالِیَوْمَ نَسَبْنَاهُمْ كَمَا  
 نَسَبْنَا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا أَوْ مَا كَانُوا يٰبْتَغِيْنَ الْجَدُونَ اس تہ مشر اوکھہ تم از کہ دوبہ نارس منز وائت ناوتھہ  
 ہیمونہ اس جھند ناوتہ ادہ جھنہ کتھہ کھیاونج تہ چاونج۔ ہتھہ پاتھہ تمہو مشروومت اوس از کہ دہک ملاقات  
 سہہ دہک سامانہ تیار نہ کرنہ سیت بیہ ہتھہ پاتھہ آس تم سائین آیاتن انکار کران وَلَقَدْ جُنْدُنَاهُمْ بِكِتٰبٍ  
 فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ یُّؤْمِنُونَ پزپاتھہ اسہ وائت ناوے یہ تمن نیش بتاباہ یعنی قرآن

لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۶﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي  
تَأْوِيلَهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ  
رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلُ  
غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۖ قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا  
كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۵۷﴾ إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَ  
الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُعْشَى الْبَيْلِ

مجید۔ سچھ منز پورہ علمہ سان اسہ تمام چیزن ہنز وضاحت کرے یہ۔ تی کریو اسہ بیان سارنی لوکن  
یوزا ونہ خیطرہ۔ مگر سبکو کتاب سہز ذریعہ ہدایت ور حمت تمنی لوکن ہندہ خیطرہ سموسو یوزتھہ پڑتھہ کرتہ  
ایمان اون۔ سمو باوجود اتمام حجت پڑتھہ کمر نہ تہ ایمان اون نہ تہندہ حالہ اندرہ پٹھو پریڈان کہ ہل  
یَنْظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلَهُ کہ تم پھنہ ہزاران مگر قرآن مجیدس منز بیان کرنہ آتس  
تہ وعدہ تھاونہ آتس وعیدس یعنی سزاس یَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ  
سمہ دوہہ سو عذاب واقع سپد تک موقعہ والہ تمہ دوہہ دہن تم لوکھہ سمویہ قیامتک دوہ مشروومت اوس  
مجبور و مضطر سپد کہ واقعی سانس پروردگارہ سہد پیغمبر آئے ہزہ تھہ پتھہ مگر اسہ لوگ نہ بوڈن فَهَلْ  
لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا ۖ وَوَنِ چھاسنا کانہہ سفارش کرہ وناہ۔ اسہ کرہ ہاشفار شاہ سمہ سیت اس  
جات کہہ ہو اُوْرُدُّ فَنَعْمَلُ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۖ سمہ ہواس واپس دنیاس گن سوزنہ تہ کرہ ہواس  
تے رتھہ عملہ سمہ تمن پتھہ کاین ہدل آسہن سمہ اس بروتھہ کران اس دنیاس اندر۔ اللہ تعالیٰ  
پٹھو فرمادان کہ سمہ تھہ گیبہ وون پھنہ تمن کانہہ صور تھہ نجاحت قَدْ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بیشک تموتراؤ  
پن پان ٹھر کرنہ سیت تاواُس تہ نقصاُس اندر وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ بیہ گیبہ ضایح تمہ سارے  
اپزہ تھہ سمہ تم نوور اووان آس کہ اسہ کرن معبودان باطل شفاعت إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ  
السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ پڑ پاتھہ تھند پروردگار چھو اللہ تعالیٰ تم آسمان تہ زمین پیدہ

التَّهَارِ يَطْلُبُهُ حَيْثُ مَا وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مَسْحَرَاتٍ  
 يَا مِرَّةَ الْآلَةِ الْخَلْقِ وَالْأَمْرُ تَبْرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۴۷﴾ اَدْعُوا  
 رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ﴿۴۸﴾ وَلَا تَقْسِدُوا  
 فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ

کرشین ۶ دوہن برابر مدتس منز نَمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ تو پتہ سُدِ مستوی عرش مجیدس پیٹھ تمہ  
 طریقہ نُس تہندس ذات پاکس شایان شان چھو یُعْشَى الْكَيْلَ التَّهَارُ سُوی پروردگار چھو راز ہمزہ تاریکی سیت  
 ولان دُوچہ روشنی يَطْلُبُهُ حَيْثُ مَا تھانڈان چھو دوہہ رَأْس تہ رات دوس ول ول، دوشوے چھہ اکھ  
 اِس پتہ یوان تہ گوهان وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ مَسْحَرَاتٍ يَا مِرَّةَ بیہ کمر اللہ تعالیٰ اَن پیدہ  
 آفتاب تہ زون بیہ باقی تارک سمہ طریقہ کہ ساری چھہ پنہ نُس ر فانس تہ انوار آثارن اندر تابع  
 تہندس کھمس۔ تھہہ پانھہ سو یکہ ناویکھہ تھہہ پانھہ چھہ پکان۔ نُس تصرف تمن پیٹھ تراون یڑھان چھو  
 تھہ پیٹھ چھہ تم روزان الْآلَةِ الْخَلْقِ وَالْأَمْرُ تَبْرَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ دارہ بوزو کہ پیدہ کزان چھہ  
 خاص تہنزی کوم۔ کھم کزان تہ چھہ تہنزی کوم۔ سیٹھاہ مجہ خوبیہ وول چھو اللہ تعالیٰ نُس سارنی عالمین  
 ہند پروردگار چھو۔ یلم سو سیٹھاہ خوبی وول چھو توبہہ پڑہ اَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ  
 الْمُعْتَدِينَ ای لوگو کہ تہہہ مگو پن ساری حاجت پر تھہ وقتہ پنہ نُس پروردگار س عاجزی سان تہ، پو شیدہ  
 پاٹ تہ۔ ہز پانھہ سو چھو نہ پسند کران تمن سم دُعاءن ہندیو آدابو نغہہ حدہ ڈلان چھہ یعنی تی مگن یہ نہ  
 شوہہ بیہ تھہ پانھہ مگن تھہ پانھہ نہ شوہہ وَلَا تَقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا بیہ مہ تلوتاہی  
 دنیاءس اندر ٹر کہ سیت تہ نافرمانیو سیت تھہ اندر توحید و اطاعت سیت تہ پیغمبرن ہندہ تبلیغ  
 وارشادہ سیت امن و امان قائم سپدنہ پتہ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا خدا نُس کھو تڑکھو تڑتہ تہندہ  
 رچھچ امید تھاوت تہ آسو کران تس دعاء نہ عبادت کرت نہ گڑھہ مغرور گڑھن نہ

اللَّهُ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۳﴾ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ  
بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حَتَّىٰ إِذَا أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا  
سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ  
كُلِّ الشَّجَرِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ ﴿۵۴﴾  
وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ

گوشه نا امید شدن کیازه اِنْ رَحِمْتَ اللَّهُ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ به پاهه خدایه سز رحمت بهته  
زدیک نیکو کارن وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ سو پروردگار گو سوی نیس  
باران رحمت تراونه برو ننه بهوه سو اسوزان بهته سو بار شه هنز امید دته لوکن همدول خوش کره حَتَّىٰ إِذَا  
أَقَلَّتْ سَحَابًا ثِقَالًا سُقْنَاهُ لِبَلَدٍ مَّيِّتٍ تا اینکه یله تم هو ائخان چه گوئین ابرن، پکانوان چهن اَس  
سو ابر تهته شهرس کن نیس آبه داده هو کھمت آسان بهوه۔ توپته بهوه سو ابر تهته شهرس پیته رود تراوان۔  
سو شهر بهوه سر سبز سپدان۔ تمه شهر کمه مومت زیمنه منز بهته کل ته گاسه کسان۔ امی سیت بهوه سپدان  
ثابت سون کن آسن ته قدر ته وول آسن۔ به ته سپد ثابت کمه آسه بهته قدرت مر نه پته بهه زنده کرنس  
پیته فَأَنْزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الشَّجَرِ نیس چه تراوان اَس تمه ابره منزه رود۔ نیس  
بهته اَس کدان تمه روده سیت پر بهته قسمک میوه كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ بهته پاهه  
کیاه کدو کله اَس مرده قبر و آندره زنده کتر ته۔ اَس بهته پننه قدر تک اثار بیان کران۔ تاکه نهه کمر و تمکن  
کهن اندر غور۔ توپته کمر و پشه مر نه پته بهه زنده سپد نیس ته قیاس۔ سون کلام پاک اوس پننه جایه پر بهته  
کاسه هنده خیطه کافی۔ به اوس مکان که پر بهته اکھ گوشه توحیدور سالت ته معادس پشه کرن۔ مگر داه  
کیازه بهته ساری پشه کران۔ تمیگ وجه بهوه که کانه بهوه قابل آسان ته کانه ناقابل آسان۔ بهته  
پاهه رود بهوه ساری زمیئس پیته بیوان مگر ساری زیمنه منز بهوه کنوی نتیجه نیران وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ  
يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرِجُهُ إِلَّا نَكِدًا نیس زمین رت بهوه آسان تمیگ پیداوار

لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ ﴿٥٨﴾  
 لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَتَّبِعُونَ آلَاءَ اللَّهِ مَا  
 لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ ۗ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥٩﴾  
 قَالَ الْمَلَأِمِّنُ قَوْمَهُ إِنَّا لَنَرِيكَ فِي ضَلِيلٍ مُّبِينٍ ﴿٦٠﴾ قَالَ  
 يَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ ۖ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦١﴾  
 أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

پھو خدا پر سب سے فضلہ سیت واریاہ تہ رُتوی نیران۔ نِس زمین پتھ تہ خراب پھو آسان تمہ منزہ پھونہ  
 نیران کینہہ تہ مگر خراب تہ ردی سینہاہ کم کَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ تہ پتھ پاتھ ہتھہ اس  
 پنہ دلیلہ پھیر پھیر واریہو طریقو بیان کران قدردان لوکن ہندہ خیطرہ لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ  
 فَقَالَ يَتَّبِعُونَ آلَاءَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ غَيْرُهُ تہ تھنن آسہ سوز حضرت نوح پیغمبر ہنہ نِس قوس کن۔ نِس  
 فر موو تھو پنہ نِس قوس۔ اکی میانہ قومہ۔ تھہ کمر و عبادت صرف معبود برحقہ سنز۔ تہس واری پھونہ  
 کانہہ تہ تھندہ خیطرہ معبود آس قابل۔ تھن کنہ وین تھن تھہ پر ستش کران پھوہ۔ تھہ نشہ روزو  
 پتھ۔ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ہر گاہ تہ تھنزی یا تہ عبادت کمر و میہ پھو اندیشہ  
 تھندہ خیطرہ کہ تھہ ماگو ہو شر کہ تہ بت پرستی سببہ بڈہ دُکس یعنی قیامتہ کس عذابس یا طوفانس گرفار  
 قَالَ الْمَلَأِمِّنُ قَوْمَهُ إِنَّا لَنَرِيكَ فِي ضَلِيلٍ مُّبِينٍ وندہ لکس قومک ز تھہ اکی نوح آسہ پھو کھہ تہ بوزنہ  
 یوان تہہ گراہی تہ غلطی اندر بتلا۔ کیا زہ تھہ چھوہ توحیدج تعلیم کران۔ بیہ پھوہ تھہ عذابس کھو تہ  
 نادان قَالَ يَقَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ ۖ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ حضرت نوح دو پتھہ جواب  
 اکی میانہ قومہ مہ پھنہ کانہہ گراہی تہ غلطی۔ لیکن چونکہ بو پھس پیغمبر۔ رب العالمینہ سبہ طرفہ تہ  
 پھوہ حکم فر موو تہ اُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنْصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بو پھوس توہہ نشہ  
 پنہ نِس پروردگارہ سند پیغامات و اتاوان۔ بیہ پھوس بو پھن فرض منصبی ادا کران۔ میہ پھونہ اتھ اندر

أَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْكُمْ  
لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۳۷﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ  
وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا  
إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ ﴿۳۸﴾ وَاللِّي عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ  
يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۳۹﴾

کاہنہ ذاتی غرضاً۔ یہ چھوس تہمیدہ خیرہ رت یرھان۔ کیا زہ توحید پالنس منز چھو تہندوی فایدہ تہ  
نفع۔ یہ ئس توبہ بڑہ دہجہ عذابک تعجب چھوسپدان یہ چھہ تہمز سخت غلطی کیا زہ بوچھوس زانان تم  
چیز اللہ تعالیٰ اس نشہ تم نہ تہہ زانان چھوہ۔ مہ چھو خدا این فر موومت کہ ئس خدا ئس شریک ٹھہراوہ  
تسندس ٹھوی آسئس پڑہہ کرہ نہ تس کرہ بو عذاب اَوْ عَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ  
مِنْكُمْ کیا تہہ چھوہ یہ تھہ عجائب زانان کہ توبہ نشہ واژ تہندس پروردگارہ سدہ طرفہ توبی اندرہ  
آکس شخصہ سدہ ذریعہ وعظ و نصیحت تھہ۔ سو نصیحت تھہ گیدہ تہتہ کم عبادت کمر و معبود برحقہ سنزی یاژ  
لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تھہ سو شخص توبہ خدایہ سدہ حکمہ، تہندہ عذابہ نشہ نیم  
گرہ۔ یہ تھہ تہندہ نیم کرنہ سیت تہہ کھوژو۔ شرک و کفرہ نشہ پتھہ روزویمہ سیت توبہ پیٹھہ رحم ایہ کرنہ  
فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ مگر ایہ نمائش کمر تھہ زون تمو حضرت نوح (نعوذ باللہ)  
اپزبور، بدستور رُود تم انکار کران۔ ئس دُیت اسہ حضرت نوحس یہ تم تہن سیت ناوہ اندر کھت نجات  
طوفانچہ عذابہ نشہ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ یہ پھاؤ اسہ طوفانہ کس  
عذابس اندر تم لوکھہ سمو اپہ زان سان آیات۔ بیشک آس تم انین ہنز جماعت تمکن نہ خدایہ سدہ  
وحدانینگ نشانہ بوزئ آسہ یوان وَاللِّي عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا یہ سوزاسہ قوم عادس حضرت ہود علیہ  
السلام پیغمبر۔ ئس تہند برادری یا وطنی ٹوی اوس قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا  
تَتَّقُونَ تمو فر موو تمین ای میانہ قومہ عبادت کرو صرف معبود برحقس چھوہ نہ توبہ کاہنہ معبود تس

قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّكَ لَنَرِيكَ فِي  
 سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِينَ ﴿٦٦﴾ قَالَ يَقَوْمِ  
 لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعٰلَمِينَ ﴿٦٧﴾  
 اٰبَلِغْكُمْ رِسٰلَتِ رَبِّيْ وَاِنَّا لَكُم نٰصِحٌ اٰمِيْنٌ ﴿٦٨﴾ اَوْعَجِبْتُمْ  
 اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ  
 وَاذْكُرُوْا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَآءًا مِّنْ اٰبَعْدِ قَوْمِ نُوْحٍ وَّزَادَكُمْ

ورای۔ بت پرستی تراود۔ کیا تمہے جرم عظیم شرک آنتھ جھوہ ناہتھ کھوژان خدایہ سندس عذابس قال  
 الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّكَ لَنَرِيكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكٰذِبِينَ تومہ  
 کیوزیشو دوپیکھ جواب اسہ جھوہ بوزنہ یوان تہہ کم عقل۔ تہہ جھوہ اسہ توحیدج تعلیم کران۔ توحید  
 پیکھ ناوان تہ عذابس کھوژہ ناوان۔ بیہ چھہ آس زانان تہہ جھوہ اپزہ خلاف واضح تھہ ونہ ونیواندرہ۔  
 یعنی (نعوذ باللہ) نہ چھو توحیدک مسئلہ صحیح نہ چھو خدایہ سندہ طرفہ عذابگ نازل سپدن صحیح قَالَ يَقَوْمِ  
 لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ تمو فرموو ہیکھ اکی قوم میانہ عقلہ منزکتہ قسمہ کی چھہ وَلٰكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ  
 الْعٰلَمِيْنَ لیکن بوجھوس پیغبر توبہ گن پروردگارِ عالیہ سندہ طرفہ۔ تمی چھوس بوسوزمت توبہ  
 توحیدج تعلیم کرنے خیطرہ بیہ عذابگ نیم کرنے خیطرہ بوجھوس پتن فرض منصبی ادا کران اٰبَلِغْكُمْ  
 رِسٰلَتِ رَبِّيْ بوجھوس توبہ نشیہ واتاوان پروردگارِ سند پیغامات تہ احکام وَاِنَّا لَكُم نٰصِحٌ اٰمِيْنٌ  
 ہتھ تھہ اندر چھوس بوجھہد خیر خواہ، بے غرض تہ قابل اطمینان ایمازہ توحیدو ایمانس اندر چھو بوجھ  
 فائدہ تہندی خیطرہ اَوْعَجِبْتُمْ اَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلٰى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ کیا تہہ جھوہ  
 یہ عجیب تھہہ زانان کہ توبہ نشیہ کیا واثر و عطا نصیح تھہ تہندس پروردگارہ سندہ طرفہ توبی اندرہ۔ تہندی  
 چہہ آس شخصہ سندہ ذریعہ۔ بس توبی ہیو بشر تہ انسان چھو۔ ہتھ سو شخص توبہ وارہ پاٹھ خدایہ سندہ  
 عذابہ نشیہ نیم کرہ۔ یہ چھہ کنبی چچ تھہ نبوتس تہ بشریتس چھاپانہ وان کہنہ اختلافہ وَاذْكُرُوْا



فِي الْخَلْقِ بَصُطَةً ۖ فَادْكُرُوا الْآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۶۹﴾  
 قَالُوا أَجِئْنَا لِنُعْبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَمَا كَانَ يَعْبُدُ  
 آبَاؤُنَا ۖ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ ﴿۷۰﴾  
 قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۗ  
 أَتَجَادِلُونِنِي فِيْ أَسْمَاءِ سَيِّئَاتِيْهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَّا  
 نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۗ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ

اُدْجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ اَبَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ اى ميانہ قومہ بپا و توہمہ ژیتس کہ اللہ تعالیٰ ان کس احسان کور  
 توہمہ نسبت تہہ کر نوہ زٹھہ زمیس اندر قوم نوحہ پتہ وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَصُطَةً بپہ گور نوہ تہہ  
 جسمہ کس ڈول ڈاکس اندر برژر۔ قوٹ تہ طاقت گور نوہ عطا فَادْكُرُوا الْآءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کس  
 ژیتس پا و و خدایہ سزہ نعمو تمسزہ نعمو ژیتس پا و تھہ کرو تھز۔ فرمانبر داری۔ دیوہ تہہ رنگار تہ کامیاب  
 سپدو قَالُوا أَجِئْنَا لِنُعْبَدَ اللَّهَ وَحْدَهُ وَنَذَرَمَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا ۖ دپتہ لگ تم واہ کیاہ تہہ  
 آوہ اسمہ نشیہ سمہ تھہہ خیطرہ کہ اس کیا کرو کئسی خدا کس عبادت۔ باقی یمن پو تیلن ہنز عبادت سان مال  
 ہڈبب کران اس تم کیا ترا و تھہ اس۔ اس تہ گرونہ کینہہ فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ  
 کس سانس نہ مانس پیٹھہ سمہ عذابک تہہ اسمہ بیم کران چھوہ سو عذاب و اتا و اسمہ نشیہ۔ ہر گاہ تہہ پو زونہ  
 دن چھوہ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِّن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ حضرت ہودن فر موکھ تھزہ  
 سر کشی ہنز یلہ بہ حالت چھہ۔ تحقیق و دن سپد توہمہ پیٹھہ تھندس پروردگارہ سیدہ طرفہ عذاب نازل بپہ  
 بیزاری أَتَجَادِلُونِنِي فِيْ أَسْمَاءِ سَيِّئَاتِيْهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ کیاہ  
 تہہ چھوہ مہ سیت ہر تہ قضیہ لاگان۔ کینون پو تیلن ہندین نا و لن پیٹھہ تم نا و بے حقیقت چھہ پانے توہمہ  
 یا تھند یو مایو ہڈببو ٹھہر او مت چھہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ ان چھنہ کانہہ ذلیلاہ تھندہ معبود آج نازل کر مرث۔  
 توہمہ نشیہ نہ چھہ پتہ دعویٰ اچ دلیل۔ نہ چھو توہمہ نشیہ میانہ ذلیلہ ہند جواب۔ کس ہر تہ قضیہ لا کنگ کیاہ

الْمُنْتَظِرِينَ ﴿٤١﴾ فَأَجْبِدْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَ  
 قَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٤٢﴾  
 وَإِلَىٰ شَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا  
 لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ  
 هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فذُرُّوهَا تَأْكُلْ فِي

فاندہ چھو۔ لہذا کروہر نہ قضیہ ختم فانتظرُوا إِلَیَّ مَعَكُمْ مِّنَ الْمُنْتَظِرِينَ وَنِیَّارِ وَجْہِہ عذاب۔  
 تُوہ چھوس تُوہی سیت پیارہ و نیو آندرہ۔ کس سوز اللہ تعالیٰ اَن تمن پیٹھ تیز واؤسم تم ساری کال  
 فَأَجْبِدْنَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا کس دیت آسہ نجات حضرت ہودس علیہ السلام بیہ تمن  
 سم کس سیت آس بالیمانو آندرہ پنہ رحمتہ سیت وَقَطَعْنَا دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا  
 مُؤْمِنِينَ بیہ ثرت آسہ مول تمن لوگن ہند شمو ایزران سان آیات بیہ آسہ تم بوجہ سخت قساوت قلبی  
 اسمان انہ و نیو آندرہ۔ ہلاک تہ نے گوہہ ہن توتہ انہ ہن نہ ایمان۔ لہذا ذکر آسہ تم بمقتضائے حکمت تباہ و  
 برباد وَإِلَىٰ شَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يُقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَهِ غَيْرُهُ بیہ سوز آسہ قوم  
 شمودس کن جہند یوی حضرت صالح علیہ السلام پیغمبر، تمو فرمود تمن اے قوم عبادت کرو فقط اللہ تعالیٰ  
 سنز کس و رای چھو نہ توہہ کانہہ اکھاہ معبود آسہ قابل تہ سزاوار۔ تمو کور حضرت صالحس اکہ خاص  
 مُنْجِرٌ ک در خواست۔ دُو کچھ بیہ خاص پلہ منزہ گوہہ اکہ والِ و نِیَّانِ نیرن۔ چنانچہ حضرت صالحہ  
 سُنَدَ دُعَايَتِ سُدِّ ثَبُو نَدِ دَرِ خَوَاسْتِ مَنظُور۔ سُو پل چھوٹ۔ تمہہ منزہ در لیہ اکہ پچر دار و و نِیَّانِہ  
 قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ بیہ کیاہ چھہ بیہ و و نِیَّانِ خدایہ سنز۔  
 یوسہ امہ پلہ منزہ در لیہ جہزہ خواہشہ موجب۔ بیہ آیہ جہندہ خیطرہ اکہ بڈ لیلہہ بناو تھ ظاہر کرنہ۔ امی  
 آس ناوتھاونہ نَاقَةُ اللَّهِ خدایہ سنز و و نِیَّانِ کیا زہ بیہ چھہ جہزہ قدر تچ بڈ دلیل میانہ پیغمبر آس تہ چھہ بیہ  
 بڈ دلیل لہذا چھہ توہہ پیٹھ آسندہ حقوق مٹہ فذُرُّوهَا تَأْكُلْ فِي اَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوْهَا سُوْءَ

أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوْهَا سُوًى فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۴۱﴾  
 وَادْكُرُوا الْإِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ  
 فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ  
 الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا الْآءَ اللَّهِ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ  
 مُفْسِدِينَ ﴿۴۲﴾ قَالَ الْمَلَأَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ  
 لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوهُنَّ مِنْ أَمْنٍ مِنْهُمْ آتَعْلَمُونَ إِنَّ صِلِحًا

نہں تراویوں یہ، بیٹھ یہ اورہ یور پھیر تھ کھیہ گھاسہ تہ پھل خدایہ سندس زمینس پیٹھ۔ تھہ پاتھہ چہہ پنہ  
 وارہ ہندہ ڈوہہ تریش، خبردار بیٹھہ اس آتھہ لاگوکانہہ تکلیف واتاوانہ خیطرہ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ  
 تلہ رتہ توہہ خدایہ سندر عذاب ہر گاہ جہہ اس کھینس چینس منز مزاحمت کرویا تکلیف واتاواو وَاذْكُرُوا  
 اذْجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ بیہ پاووجہہ تریش سووقت سمہ وقتہ اللہ تعالیٰ ان توہہ زمینس پیٹھ  
 بسہ تک خلیفہ بناوئوہ قوم عاوس پتہ۔ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا بیہ  
 کرنوہ جہہ آباد زمین پیٹھ سمہ طریقہ کہ جہہ چھوہ بناوان پاتھس، میدانی زمینس پیٹھ جہہ جہہ کرہ تہ  
 مندورہ۔ تمن منز چھوہ بسان ریتہ کالس وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا بیہ چھوہ کوہن پیٹھ تہ گورگور کرہ تہ  
 ٹھہ بناوان تمن منز چھوہ روزان وندس فَاذْكُرُوا الْآءَ اللَّهِ نہں تریش پاووخدایہ سزہ نعوہ وَلَا  
 تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ شرکہ تہ نفرہ سیت مہ آسو بر بادی کرہ ون زمینس اندر قَالَ الْمَلَأَ الَّذِينَ  
 اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ دپنہ لگ زٹھ زٹھ لوکھ تہندہ قومہ اندرہ سموہ بخر گور ایمان آنہ نغہ  
 لِلَّذِينَ اسْتَضَعُّوهُنَّ مِنْ أَمْنٍ مِنْهُمْ تمن لوکن سموہ تموہ منزہ غریب تہ کمزور آتھہ ایمان اوس  
 اؤمئت آتعلمون ان صلیحاً مرسلاً کیا جہہ چھوہ یقین کران تہ زانان کہ حضرت صالح چھوہ پیغمبر مین  
 دپہ پنہ نس خدایہ سندہ طرفہ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ تمودو پچھوہ قعی اس چھہ تھہ ساری  
 یہ بیٹھ تم سوزنہ آئی پورہ پڑھ کرہ ون قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ

مُرْسَلٌ مِّنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِنَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ ﴿۴۵﴾  
 قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتُمْ بِهِ  
 كَفِرُونَ ﴿۴۶﴾ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ  
 وَقَالُوا يُضِلُّهُمُ اسْتِنَابُ مَا عَبَدْنَا وَإِنْ كُنْتَ مِنَ  
 الْمُرْسَلِينَ ﴿۴۷﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ  
 جِثِيًّا ﴿۴۸﴾ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ

یہ کفرؤن تمونمبر دوویچھ اس چھ انکار کران تھہ تھہ توہہ پڑھ کروہ۔ غرض تمونہ کر پڑھ  
 حضرت صالح نے کہ دوئٹھ ہند حقوق پورہ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ چنانچہ سووون مار تمونزنگہ تھہ  
 وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ یہ کہ کہ سرکش پنہ نس پروردگارہ سندکم مانہ نسیہ وَقَالُوا يُضِلُّهُمُ اسْتِنَابُ  
 بِمَا تَعَدُّنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ توپتہ لگ بکمال بے باکی تہ بے پروائی دینہ اکی صالح  
 واتا وواسہ نش سوعذاب سمیک ہنہ اسہ نیم کران آسوہ، تھہ اسہ کھوڑہ ناوان آسوہ چھوے تھہ پزپاٹ  
 بیغمبر واندرہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جِثِيًّا نس رٹ سخت بئل۔  
 بیس آہ کر سمس منز چھو فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ تم رٹ سخت کریجہ۔ آسماکھ طرفہ گیکھ سخت  
 کرکھ زبردست کریکہ پتہ آکھ بوئیل۔ نس پے تم تھہ کن دستھ پنہ نین گرن اندر زمینس پیٹھ  
 (پھر بیٹھ گڑھتہ مود) فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَاقَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رَسُولًا رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ  
 وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ یلہ قوم نمود عذابہ سیت تباہ گو۔ حضرت صالح دراؤ تمن نسیہ توپتہ فرموونچھ  
 ای میانہ قومہ تھقیق مہ واتا وواسہ توہہ نسیہ پنہ نس پروردگارہ سند پیغام تھہ پیٹھ عمل کرنہ سیت توہہ  
 بڈا میابی سپدہ ہا۔ بیہ کرے یہ میہ توہہ نصیحت تہ خیر خواہی گمہ گمہ طریقہ تار یوموہ توہہ فکرہ،  
 لیکن افسوس کہ ہنہ آسوہ نہ پنہ نین خیر خواہن تہ نصیحت کرہ وئین پسندی کران۔ وعظ تہ نصیحت  
 یوزن اوس توہہ کھران۔ لہذا یلہ توہہ میون یوزوہ نہ، میانین نصیحتن پیٹھ عمل کروہ نہ توے گوہ

رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّصِيحِينَ ﴿٤٩﴾  
 وَلَوْ طَإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ  
 بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿٥٠﴾ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ  
 شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ط بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ ﴿٥١﴾  
 وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ  
 مِنْ قَرْيَتِكُمْ ۗ إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٥٢﴾ فَأَجْبَيْنَاهُ

عذائس گرفتار۔ یہ فرمود تمہیں حضرت صالحؑ تمہارے ہلاک گزشتہ پتہ۔ تم زندہ تصور کرتے بطور تاسف  
 تمہارے ہاتھ سان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمود یہ کہین کافران ہلاک گزشتہ۔ امہ اندرہ اوس  
 عرض بین لوکن یعنی پتہ ادہ وٹین یہ تمہارے اتاؤن کہ لوکن پڑہ مخلص خیر خواہن ہنرتھ ضرور مانن۔ تم  
 لو کہ پنہ نس معتبر خیر خواہہ سنر نصیحت مانان آسن نہ تم سبت تہ سپدہ سوی معااملہ نس قوم ثمودس  
 سبت سہ۔ (العیاذ باللہ الی نجات) وَلَوْ طَإِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ کیا جہہ چھوہ سوچھہ کوم کران  
 یلہ عمو فرمود پنہ نس قومس یعنی انس اتاؤن الْفَاحِشَةَ کیا جہہ چھوہ سوچھہ کوم کران  
 مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ یوسہ نہ توہہ بروٹھہ کر مڑ چھہ کانہہ اک شخص عالیو اندرہ  
 إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ہز پٹاٹ جہہ چھوہ ہن شہوت تہ خواہش پورہ کرنہ  
 خیطرہ زنانہ تراوت مردن نیشہ یوان کیے چھہ سوچھہ کوم یوسہ نہ توہہ بروٹھہ کانہہ کر مڑ چھہ۔ یہ بیچھہ  
 کوم کر نس اندر چھوہ نہ توہہ کتہ کتہ دھو کہ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ بلکہ چھوہ جہہ اتھ اندر انسانیت تہ  
 حَدِّ نَشِيْطَاهُ ذُلْدُونِ وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ  
 إِنَّهُمْ أَنْاسٌ يَتَطَهَّرُونَ تھند قومس دون نہ تم اتھ تمہہ کانہہ معقول جوابہ۔ مگر پانہ وان لگ ونہ  
 تم (یعنی حضرت لوط تہ بیہ ہنز جماعت) کڈ لو کہ پنہ شہرہ منزہ تم لو کہ چھہ سیتھہ شونت تم چھہ پاک  
 و صاف روزن پڑھان۔ اسہ چھہ تم زنان گندہ لو کہ۔ لہذا صاف و پاک لوکن تہ پڑہ گندہ تہ نا صاف

وَأَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۸۳﴾ وَأَمْطَرْنَا  
عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿۸۴﴾  
وَالِى مَدِيْنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ  
مٰلَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ  
رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ  
أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِى الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

لوکن سیت روزن۔ یہ آس و نمان تم ٹھٹھ پاتھ تہ لسنہ پاتھ۔ اوت پیٹھ یلہ واثر توبت اسہ کور نازل اتھ  
تومس پیٹھ عذاب فَأَجْبِيْهُ وَاَهْلَكَ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ کس دیت اسہ نجات تمہ  
عذابہ نغیر حضرت لوطس بیہ تہندین متعلقن، اہل و عیالس بیہ بالیمان مگر نہ تہنزہ آخہ سوزو زایمان نہ  
آنہ موکھ تھہ تومس سیت تہن پیٹھ عذاب نازل سپد وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ  
عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ اسہ تروو تہن پیٹھ بدلے قسمک روادہ۔ یعنی تہ تراویکھ رووک پاتھ تہس وچہ تہ  
اکی وچہ ونہ کہ کیاہ سپد انجام تہن نافرمان ہند۔ اگر غورہ سان وچہ تھہ تعجب کر کہہ بیہ تری فخرہ وارہ کہ  
خدا یہ سزہ نافرمانی ہند انجام کیاہ چھو آسان وَالِى مَدِيْنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللّٰهَ  
مٰلَكُمْ مِّنْ إِلٰهٍ غَيْرُهُ بیہ سوز اسہ شہر مدین کین لوکن گن جہو ند لوی حضرت شعیب پیغبر۔ تمہو  
فر موو پتہ نس تومس اکی میانہ قومہ عبادت کرو تہہ فقط معبود برحقہ سنز، کیا زہ چھو نہ توبہہ کانہہ معبودہ  
تس ورا ی قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ تحقیق واثر توبہہ نشہن دلیل میانس پیغبر آسس پیٹھ  
تہندس پروردگارہ سہدہ طرفہ۔ لہذا مانو اکام شرعین منز میان تھہ تہ میون ونن فَأَوْفُوا الْكَيْلَ  
وَالْمِيزَانَ نو چھوہ و نمان کہ تہہ آسو پور پور میان تہ پور پور تولان وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ  
بیہ مہ آسو لوکن ہندین چیزن اندر نقصان تہ کی کران، چھو نہ راون۔ تھہ پاتھ توبہہ عادت چھوہ  
وَلَا تُفْسِدُوا فِى الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا بیہ مہ کرو ز مینس اندر شر کہ تہ تکرہ سیت، بیہ لوکن

ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۸۵﴾ وَلَا تَقْعُدُوا  
بِجُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  
مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ  
قَلِيلًا فَكَتَرْتُمْ وَاَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الْمُفْسِدِينَ ﴿۸۶﴾ وَإِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا  
بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا

چھون تہ ناقص کنند سیت تباہی تہ بربادی۔ آتھ ز میںس اندر حضرات انبیاءن ہندہ واسطہ توحیدہ سیت ،  
حقوق العبادن اندر۔ تولس تہ میںس منز۔ عدل وانصاف کرنہ سیت اصلاح درستی سپدہ پتہ ذلکم  
خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یہ بووان پھسودہ یہ پھو تہندہ خیرہ سیٹھہ جان تہ بہتر دنیاس  
اندر تہ تہ آخرتس اندر تہ۔ ہر گاہ تہہ میانس ونہ نس پڑھ کردہ تہ تمہ موجب عمل کرو۔ وَلَا تَقْعُدُوا  
بِجُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا یہ مہ  
آبرو ون تہ سڑگن پیٹھہ بہان لوکن خوف وہی کرنہ خیرہ۔ یہہ سم خدا نس پڑھ کردہ ون چھہ تم تہنرہ وتہ  
نشبہ پتھہ رہنہ خیرہ۔ یہہ خدلیہ سزہ وتہ اندر کتبہ تہ کتبہ طریقہ، تجر، خرابی تہ ٹگ وشبہ پیدہ کردہ نہ خیرہ  
وَاذْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلًا فَكَتَرْتُمْ یہہ پاوونہہ تھیس پئن حال یلہ تہہ تعدادس یامال و  
دولتس منز کم آبروہ۔ نس کردہ خدا سن مہرانی تہندس تعدادس اندر یامال و دولتس اندر کردہ زیادتی  
وَاَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ یہہ وچھو مفسدان سمو کفر وافرمانی سیت تباہی کر  
تہند انجام کیاہ سپدہ بولا کہ سمو خدا نس تہ تہندین پیغبرن انکار کور توبہ بروٹھ۔ قوم نوح قوم عادوشمود  
وغیرہ تم تھہ پاٹھ چھہ اللہ تعالیٰ ان گالت تہ تباہ کرت۔ تھہ پاٹھ پھو اندیشہ کہ توبہ پیٹھہ تہ ماسپدہ خدلیہ  
سدہ طرفہ عذاب نازل وَإِنْ كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآئِفَةٌ  
لَّمْ يُؤْمِنُوا وون ہر گاہ توبہ زہ جماژگوشن۔ اکھ جماعت آنہ ایمان تھہ یہہ یو تھہ آس بیاکھ جماعت

حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿۸۵﴾  
 قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ  
 يَشْعَبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا  
 قَالَ أَوْلَوْكُمَا كُرْهِيْنَ ﴿۸۶﴾ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنَّا  
 فِي مِلَّتِكُم بَعْدَ إِذْ بَخَّسْنَا اللَّهُ مِنهَا وَمَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا  
 إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ

کرہ نہ تھے پڑھ۔ یعنی منصفہ طور کر وہ نہ تھے ساری تھے پڑھ یہ بُو ہتھ آس قاصدو ا حَتَّىٰ يَحْكُمَ  
 اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ کس ٹھہر ویوتان پانہ اللہ تعالیٰ اسے منر فیصلہ کرہ۔ پز یارین دینہ  
 نجات اپز یارین کرہ ہلاک تہ تباہ عذابہ سیت۔ سؤی چھوڑت کھم کرہ ون۔ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ  
 اسْتَكْبَرُوا مِن قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَشْعَبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِن قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلَّتِنَا تہندہ قومہ  
 کیوز ٹھیو، سمو مجھ کور ایمان آنہ نشہ، سمو یلہ تہند کلام بوز، تم لگ دینہ آکی شعیب یاد تھوزہ آس  
 کڈوتھ ژہ بیہ سمو ژہ پڑھ کری پندہ شہرہ آندرہ۔ تے تہہ وانس بیہ سانس دینس گن پھیرو قَالَ أَوْلَوْكُمَا  
 كُرْهِيْنَ حضرت شعیب فر موو کھ کیاہ ہر گاہ آس تہندہ دینہ نشہ، ناخوش متفر، تہ بیزارتہ آسو توتہ  
 چھوہ تہہ یرھان سون تہہ دینس گن پھیرو۔ تہ بیہ نہ بتھ زانہہ کیاہہ آسہ نغمہ چھہ پختہ دلیل تہند دین  
 باطل آسس پیٹہ تہ سون دین حق تہ پوز آسس پیٹہ قَدْ افْتَرَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنَّا فِي مِلَّتِكُم  
 بَعْدَ إِذْ بَخَّسْنَا اللَّهُ مِنهَا ہر گاہ بالفرض آس تہندس دینس گن پھیرو تھہ صور تہس منر نور و آس خدائس  
 پیٹہ بُوڈ اڈواہ، کیاہہ باطل دینس پوزونہ سستی چھو لازم بوان خدائس پیٹہ افتراء تہ اپز نوراون و گن چھہ  
 گھئی تھہ منر بیہ داخل سڈن۔ خصوصاً یلہ اللہ تعالیٰ ان آسہ تمہہ باطل دینہ نشہ نجات دیت و ما یكون  
 لَنَا أَنْ نَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّنَا سان تھہ بیہ نہ بتھی تہ زانہہ کہ آس کیا پھیرو تہندس دینس  
 گن مگرے اللہ تعالیٰ آکی ژھہ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا واتھہ چھو سون پروردگار پریتھ چیزس



تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ  
الْفَاتِحِينَ ﴿۸۹﴾ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِيَنِ اتَّبَعْتُمْ  
شُعَيْبًا إِنَّكُمْ إِذًا الْخٰسِرُونَ ﴿۹۰﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا  
فِي دَارِهِمْ جثِيمِينَ ﴿۹۱﴾ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا لَمْ يَغْنَوْا  
فِيهَا الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخٰسِرِينَ ﴿۹۲﴾ فَتَوَلَّى  
عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ

علمہ سیت۔ اُس جگہ پر یہ تھ چیزیں پور خبر علی اللہ توکلنا خدایہ سی پیٹھ کور اُسہ توکل۔ اِس جگہ  
مکان اِس رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ اسی سانہ پروردگارہ نیای انزراؤ  
اسہ سہ سانس قوس منز۔ اسی جگہ رت فیصلہ کرہ دن۔ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ بیہ  
دو پ ہند یوز تھیو سموا انکار کور تہندہ قومہ اندرہ بین کافر ن۔ ایتھہ تمن حضرت شعیبہ سہہ موثر  
تقریرہ سیت کہنہہ اثر سپدہ لیں اتبعتم شعیبًا انکم اذ الخسرون ہر گاہ جہہ حضرت شعیبہ پیروی  
کر و پڑیا تلمہ سپدو جہہ نقصان تلمہ و نیو اندرہ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جثِيمِينَ اِس  
رٹ تم سخت نعل سمہ سیت سپد تم گرن اندر پھر لہ سیت جگہ کن اِس پیٹھ مردہ۔ اِس پتیس اوس سوگو  
تقشہ روز تھ الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا سموا پڑیا تھ انکار کور حضرت شعیبہ، زن نہ  
تم روزانی اِس تھ شہرس اندر۔ تم اِس دپان با ایمان اِس کدوہہ سمہ شہرہ اندرہ۔ تم سپد پانہ نایود  
الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخٰسِرِينَ سموا پڑیا تھ انکار کور حضرت شعیبہ۔ تم اِس تاوان  
زودو اندرہ۔ تم اِس و نان با ایمان تو بہ سپدہ نقصان پر تھ رنگہ تمنی سپد پانس سخت نقصان تہ تاوان  
فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ فَكَيْفَ آتَىٰ عَلَىٰ قَوْمٍ كُفْرًا اِس  
دراؤ تمن نغہ حضرت شعیبہ علیہ السلام تو پتہ فر موون تمن کن افسوس کر تھ زن تم زندے اِس،  
اکی قوم تقشہ منہ و اتاو تو بہ پنے اِس پروردگارہ سند پیغامات، بیہ کر مہ تو بہ نصیحت، وون تھہ پاٹھہ کھیمہ

فَكَيْفَ اسَى عَلَى قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿۱۳﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيِّ  
 إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّحُونَ ﴿۱۴﴾  
 ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا وَقَالُوا قَدْ مَسَّ  
 آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۵﴾  
 وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا فَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ  
 مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا

بوغم کافر کو کین ہندس ہلاک گزھس پیٹھ۔ بٹھ ووو کھ تٹھ لوٹھ وَاَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّبِيِّ إِلَّا  
 أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضُرَّحُونَ یہ سوزنہ آسہ تم شہرن گن تم ذکر کرنہ آئے،  
 یہ بیو شہر و اندرہ عنہ شہرس گن، کانہہ پیغمبرہ، سوزنہ آو مگر متہ کیوںن والیو یلہ تس پیغمبر سوزنا فرمانی  
 کر، آسہ کر بتلا تم تنگی تہ بیماری سیت، تھہ تم نافرمانی نشہ باز تھہ، عاجزی سان آسہ گن رجوع تہ توبہ  
 کرن، نافرمانی کرنہ نفیہ تھہ رُوژن ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّىٰ عَفَوْا یلہ تم نافرمانی نشہ  
 تبتوتہ کر تھہ تہ باز آئی نہ تو پتہ بدلوؤ آسہ تم سخی ہنزہ جلیہ آسانی، یوتان تین دولت تہ صحت یہ  
 اولادن منز خوف ترقی سہز۔ تہمز ذریا تھہ واریاہ نوے یہ۔ وَقَالُوا قَدْ مَسَّ آبَاءَنَا الضَّرَّاءُ وَالسَّرَّاءُ غلط فہمی  
 سببہ لگ تہمہ ساتہ وینہ کہہ سختی تہ آسانی پھنہ عنہ نافرمانی یا فرمانہ داری ہند نتیجہ۔ تم چیز تھہ بروٹھ پیٹھ  
 آمت تھہ پاٹھ سائین مالین بد بٹن تہ آس عنہ وقتہ سختی آسان عنہ وقتہ آسانی ورنہ اس چھہ نافرمانی بدستور  
 کران محوش حالی کیاہہ آسہ ہاتلہ آسہ فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کس رٹ آسہ تم بھگہ تہ  
 معہ۔ تم آس نہ خیر عذ لجمہ بیچ آسہ رٹ تم محض تہندہ کفرہ تہ نافرمانی سببہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا  
 وَاتَّقَوْا فَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ورنہ ہر گاہ تم شہرن تہ بٹھن ہند لو کھ خدا کس  
 ایمان آنتھ تہ پڑھہ کر تھہ پیغمبرن ہنزہ مخالفتہ نشہ بٹھ روزہ کن تہ پرہیز گاری ہنزہ تھہ اختیار کرہ کن تلہ  
 مہ راہہ ہو آس تین پیٹھ آسمان وزینہ کن برکن ہند درواہہ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا

كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ  
بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ ﴿٩٧﴾ وَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ  
يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضَعْفَىٰ وَهُمْ يُلْعَبُونَ ﴿٩٨﴾ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ  
فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩٩﴾ أَوَلَمْ يَهْدِ  
لِلَّذِينَ يَرْتُدُّونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِهَا أَنْ لَوْ نَشَاءُ  
أَصْبَنَهُمُ بِدُلُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَمَا لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٠﴾

يَكْسِبُونَ لیکن تمہو زون سون پیغمبر ایڈ، تسنز کر کہ مخالفت پس رٹ اسہ تم تہنز، و تمہو پتھہ عملو سبہ  
افامن اهل القرى ان یاتیتہم باسنا بیاتاً و ہم نایمون کیا تمن شہرن ہند لو کہ یم توہہ انکار  
کران نہ نعوذ باللہ اپز بورانان چھہ تم چھابے فجر تہ سوکھے سمہ کتھہ نشہ کہ تمن کیا و اتہ سون عذاب ہجھہ  
تہ مچھہ رات منزی سمہ ساتہ تم شو کتھہ آسن اوامن اهل القرى ان یاتیتہم باسنا ضعی  
و ہم یلعبون کیا تمن شہرن ہند لو کہ چھابے فجر تہ سوکھے سمہ کتھہ نشہ کہ سون عذاب کیا پیہ و اتھہ  
تمن نشہ کاجہ وقتہ سمہ ساتہ تم گندس سیت آسن مشغول افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ  
الا القوم الخسرون خدایہ سزہ آزمایشہ نشہ روزن نہ سوگھس منز مگر تہ لو کہ تم دون عالمن ہند  
تاوان زد آسن۔ او لم یهدی للذین یرتدون الارض من بعد اهلہا کیا سموند کورہ واقعاتو  
ہا و ناوتھہ تمن لو کن تم سمہ زینک وارث نہیت چھہ امہ کنن برو ٹھین لو کن ہندہ گلنہ پتہ یعنی یم  
موجودہ و قس منز اتھہ زمینس پیٹھہ بسان چھہ تو پتہ چھہ خداوندی احکامن ہنز نافرمانی کران کہہ ان  
لو نشاء اصبنہم بدلوبہم و نطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون کہ ہر گاہ اس یرشو اس کرو کہ تم تہ  
گرفار عذائس نافرمانی کرنہ سبہ برو ٹھین نافرمان امتن ہند پاٹھہ۔ واقعی آسن تم تھہ واقعات سموسیت  
ہزہ ہا تمن عبرت رٹن تہ سبق حاصل کرن۔ مگر اسہ چھہ مہر کر مژ تہندین دلن پیٹھہ پس چھنہ ہیکان تم  
بور تھہ پرتھہ تلك القرى نقص علیک من انبائہا تمن مذکورہ کینون شہرن ہند کینہہ مختصر قصہ

تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِهَا ۗ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ  
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِهَا كَذِبًا ۚ مِنْ قَبْلُ  
كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ ۝۱۱۱ ۚ وَمَا وَجَدْنَا  
لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ ۚ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ۝۱۱۲  
ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ  
فَطَلَمُوا بِهَا ۗ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝۱۱۳

چھ آس بیان کران توہمہ یار رسول اللہ **وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ** تحقیق آئی تین سارنی  
نہی تہندہ پیغمبر معجزات تہ نبرہ دلیلہ ہیت مگر تہندہ شرارتج تہ ہت دہرمی ہنز کیفیت آس کہ  
**فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِهَا كَذِبًا مِنْ قَبْلُ** ہس اون نہ تموا ایمان تہ تہ تہ تموا انکار کورمت اوس گوڈہ  
امہ بروئہ۔ بلکہ روڈ تہ انکار س پیٹہ بدستور **كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ** تہ پانٹہ کیا  
چھو اللہ تعالیٰ کافرن ہندین وکن پیٹہ مہر کران۔ تہند دل خیرہ نشہ بند کران۔ تموا منزہ بعضی لوکھ آس  
مضہبتہ کہ وقتہ عمد کران ہر گاہ یہ مضہبت امہ نشہ دور گزہہ اس او ایمان **وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ  
عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ** مگر اسہ لوب نہ تموا اندرہ اکثرن منز عہدک کانہ پاس۔  
یعنی مضہبت دور گزہہ آس تمہیہ بدستور نافرمانی کران۔ تموا اندرہ اکثر آس نافرمان تہ فاسق **ثُمَّ  
بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ۗ فَطَلَمُوا بِهَا** توپتہ سوز اسہ ہن پیغمبرن پتہ۔  
بہنز ذکر سہ بروئہ سہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پنن آیات ہتہ فرعونس تہ بیہ تہندین وزیرن  
امیرن کن تہندہ ہدایت و تبلیغہ خیرہ۔ ہس کور تموا کفر تہ انکار تین آیاتن **فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الْمُفْسِدِينَ** ہس وچھو کیاہ چھہ انجام سہ تین مضہبتن ہند **وَقَالَ مُوسَىٰ يُفْرِعُونَ إِيَّيْ رَسُولُ  
مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ** حضرت موسیٰ ان فر موخدا لیہ سہہ حکمہ فرعونس نشہ گزہہ تہ۔ ای فرعون بیشک  
نوپچھوس رب العالمین سہہ طرفہ توہہ لوکن کن پیغمبر مقرر کر نہ امت تہندہ ہدایتہ خیرہ **حَقِيقٌ عَلَىٰ**

وَقَالَ مُوسَى يُفْرِعُونَ إِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۰۳﴾  
 حَقِيقٌ عَلَىٰ أَن لَّا أَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ  
 مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۱۰۴﴾ قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ  
 بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۰۵﴾ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ  
 فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ﴿۱۰۶﴾ وَنَزَعْنَا مِن مِّمْلِكِهِ قَائِلًا بِبَيْضَاءَ  
 لِلنَّظِيرِينَ ﴿۱۰۷﴾ قَالَ الْمَلَائِكَةُ قَوْمٌ فَرِعُونَ إِن هَذَا السَّحَرُ

آن لَّا أَقُولُ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ میون شان نبوت چھوای کہ بولاگہ نہ خدائیس کن کا نہ کہتا ہ پرہ ہتھہ  
 وراہی۔ بوجھوس نہ خالی پیغمبر آسک دعویٰ بوت کران۔ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِيَ  
 بَنِي إِسْرَائِيلَ بلکہ چھوس بوجھوس کن توبہ کن تھندس پروردگارہ سندہ طرفہ نبرہ دلیلہ نہ بد معجزہ ہتھہ آمت تم  
 معجزہ توبہ بوقت طلب ہاوتھہ نہ ہیجہ۔ دون یلہ بویقیناً پیغمبر چھوس یہ کیوہاہ بوجھوس توبہ ونودہ تہ مانو۔ تھہ پیٹھ  
 کرو عمل۔ تمو چیز واندرہ چھو اکھ چیز کہ آزاد کران تہ میون قوم بنی اسرائیل غلامی نشہ۔ تم تراو کھ تم  
 نمکھ بوجھوس سیت ملک شامس کن ئیس تھوندا اصلی وطن چھو۔ قَالَ إِن كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِن  
 كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ فرعون دیکھ ہر گاہ توبہ نشہ چھو کا نہ نغمانہ خدایہ سندہ طرفہ تھندس پیغمبر  
 آسک پیٹھ، سوکر و پیش، ہر گاہ توبہ بوجھوس توبہ ونودہ تہ مانو۔ فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ آتی  
 ترو تمو پین عصا زمینس پیٹھ تھہ بنیو ہتھہ نہ منکھ اکھ بوجھوس توبہ وارہ کارہ وَنَزَعْنَا مِن مِّمْلِكِهِ قَائِلًا بِبَيْضَاءَ  
 لِلنَّظِيرِينَ دو تم معجزہ ہوو کھ یہ کہہ اتھہ پین ئیس نالہ کن کوہس تل تھو تھہ اوسکھ سوئی کوڈ کھ  
 نمبر۔ آتی اوسو سارنی لوکن تم و چھان آس، نہ نہ کہہ و ن بوزنہ قَالَ الْمَلَائِكَةُ قَوْمٌ فَرِعُونَ إِن  
 هَذَا السَّحَرُ عَلِيمٌ فرعون سندہ قومہ منزہ تم تھندس تھنن نہ دربار آس تم لگ پانہ وان ونہ کہ ہر پانٹھ  
 یہ (یعنی حضرت موسیٰ) چھو بوجھوس اول جاو گراہ یُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ  
 یہ چھو واقعی یشھان پنہ جاو کہ زورہ سیت، توبہ سمہ شہرہ منزہ کڈن۔ لہذا کیاہ

عَلَيْهِ<sup>(۱۰۹)</sup> يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ<sup>(۱۱۰)</sup>  
 قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ<sup>(۱۱۱)</sup> يَا تُولَكُ  
 بِجَلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ<sup>(۱۱۲)</sup> وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا  
 إِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ<sup>(۱۱۳)</sup> قَالَ نَعَمْ وَإِنِّكُمْ لَبِنَ الْمُقَرَّبِينَ<sup>(۱۱۴)</sup>  
 قَالُوا يَمُوسَى إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ نَحْنُ الْمُلْقِينَ<sup>(۱۱۵)</sup>  
 قَالَ أَلْقُوا فَلَمَّا أَلْقَوْا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَهْبَؤُا هُومًا

یہو تہم ہمشورہ قالوا دینہ لگ تم فرعون سد زٹھہ زٹھہ ہمشین فرعونس آرجہ و آخاہ و آرسیل فی  
 المدائین حشیرین اکی فرعون ژہ دہ کینہہ کالاہ مہملت حضرت موسیٰ اس بیہ تہمدس بایس حضرت  
 ہارونس، تیس کالس سوژک ژہ مختلف شہرن کن مللازم ہن، پرستہ طرفہ کین بڈین بڈین جادوگر  
 سونبراونہ تہ جمع کرنہ خیطر یاتولک بجلل سحر علیہ تے ملازم دے آنتھ ساری مملکت ساری زانن  
 وال جادوگر۔ چنانچہ آتھ مشورس پیٹھ سدا اتفاق توپتہ آے سونبر او تھ آنتہ جادوگر۔ و جآء السحرة  
 فرعون توپتہ یلہ یم جادوگرو ات فرعونس نعبہ قالوا ان لنا اجرا ان کنا الغالبین و ہن لگ  
 فرعونس ہر گاہ اس غالب سدا تلہ آسہ سانہ خیطر ہوڈ انعاماہ قال نعم و انکم لہن المقربین فرعون  
 دوپٹک انعام گو آتھی تمہ علاوہ بیو تہہ میانو مقربو منزہ مقر کرنہ۔ توپتہ یلہ دوستھہ ساجرا کہہ طرفہ،  
 حضرت موسیٰ بیہ حضرت ہارون بیہ طرفہ میدانس لدر مقابلہ کرنہ خیطر ہ سمیای، لوک تماشہ گیرتہ  
 آی بے شمار قالوا یموسى ساحر و دوپ حضرت موسیٰ اس اکی موسیٰ امانا ان تلقى و اما ان نکون  
 نحن الملحقین یا تراو گوڈہ پن عصایا تراو اس گوڈہ پنہ لورہ تہ رزہ قال القوا حضرت موسیٰ ان  
 دوپٹک ٹھی تراو گوڈہ کیاہ چھوہ تراون فلما القوا ہس یلہ تموی گوڈہ تراوہ لورہ تہ رزہ پنہ سحر و  
 اعین الناس واستهبؤا ہومًا سحر کور تمولوکن ہنز ان چھن تمین آہ تمہ لورہ تہ رزہ بوزنہ پرستھہ  
 طرفہ سرفے سرف۔ تہ کر تمو نظر بندی تمی سیت کھوژہ ناوکھ لوکھ و جآء و یسحر عظیمو بیہ آی

وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَزِيمٍ ﴿١١٦﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ  
فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿١١٧﴾ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا  
كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٨﴾ فَغَلَبُوا هَذَاكَ وَأَنقَلَبُوا صِغِيرِينَ ﴿١١٩﴾ وَ  
أَلْقَى السَّحْرَةَ سَاجِدِينَ ﴿١٢٠﴾ قَالُوا الْمَثَابُ رِيبٌ الْعَالَمِينَ ﴿١٢١﴾  
رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿١٢٢﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ امْنَتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ  
أَذِّنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا الْمَكْرُ مَكْرَتُهُ فِي الْمَدِينَةِ لَتُخْرِجُوا مِنْهَا  
أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿١٢٣﴾ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ

تم پندہ گمانہ بود جوداہ تہ سزراہ ہیتمہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ اسہ تہ سوزو حی حضرت موسیٰ  
اس کن کہ جہہ تہ تراود حض پن عصا ز میس پیٹھ چناخہ یان تموسو پن عصا پھر ترزو فَاذًا هِيَ تَلْقَفُ  
مَا يَأْفِكُونَ تان بیووتھ بوداژدہا۔ سم سم کن ہیوت ساجرن ہند سوزوی سرتہ جود۔ فَوَقَعَ الْحَقُّ  
وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ کس سپد ظاہر ہو ز۔ بیہ سپد باطل سوسوزوی جود کس تمو کورمت اوس  
فَغَلَبُوا هَذَاكَ وَأَنقَلَبُوا صِغِيرِينَ پس مغلوب سپد ہیوت فرعون تہ تہند قومن تمہ وقتہ واپس  
رکن ذیل ورسو اگرہتہ وَالْقَى السَّحْرَةَ سَاجِدِينَ تراونہ آی جادوگر سجدس قَالُوا تَمَّوْهُ تَوْبَهُ بِدِہ  
وَأَنَّ الْمَثَابُ رِيبٌ الْعَالَمِينَ اسہ کر پڑھ سارنی جہان ہندس پالن والس رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ کس  
حضرت موسیٰ تہ حضرت ہارونہ سند تہ رب چھو قَالَ فِرْعَوْنُ فرعون کھو ژ خبر چھاساری رعایا  
ما کرن حضرت موسیٰ سندی دین قبول۔ سولوگ ساجرن دپنہ امْنَتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ أَذِّنَ لَكُمْ اکی  
ساجروکیاہ میانہ اجازتہ ورا ای اونوہ توبہ ایمان حضرت موسیٰ اس إِنَّ هَذَا الْمَكْرُ مَكْرَتُهُ فِي الْمَدِينَةِ  
لَتُخْرِجُوا مِنْهَا اہلہا فسوف تعلمون پڑپاٹ بیہ چھہ اکھ چلاہ یوسہ جہہ پانہ وان ملیتھ چلاوہ

مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَصَلْبِنَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۱۳۳﴾ قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا  
 مُنْقَلِبُونَ ﴿۱۳۴﴾ وَمَا تَنْقُمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ أَمَّنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا لَمَّا  
 جَاءَتْنَا رَبَّنَا أَفِرُّغُ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ ﴿۱۳۵﴾ وَقَالَ  
 الْهَلَامُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا  
 فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالْهَتَكَ ط قَالَ سَنَقْتِلُ أَبْنَاءَهُمْ  
 وَنَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ ﴿۱۳۶﴾ قَالَ مُوسَىٰ

یہ شہر اندر تھہ امہ شہر منزه اتیک لو کہ کڈ تھہ بیسی کہ۔ دون سپدہ توہہ معلوم توہہ کیاہ بجز اوہہ یو  
 لاقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف ثم لصلبتکم اجمعین بوڑھے ضرور توہہ کہہ طرف  
 اتھہ ، بیہ طرف کھور۔ تو پتہ دمووہ پھہہ نہہ ساری قالوا جاؤ گرو تم با ایمان آس سپد مت پورہ  
 پاٹھہ دولہس کانہہ پرواٹھونہ۔ آس گھوٹونہ مر تھہ کٹہ خراب جایہ انا الی ربنا منقلبون بلکہ واتو  
 آس پنہ نس ہر دور دگار س نشہ۔ بیہ آسہ امن و راحت واتہ وَمَا تَنْقُمُ مِنَّا إِلَّا أَنْ أَمَّنَّا بِآيَاتِ رَبِّنَا  
 لَمَّا جَاءَتْنَا ژہ چھوٹھہ آسہ اندر کانہہ قصور تہ عیبہ لبان مگر یو ہے کہ آسہ کیاہ کر پڑھ پنہ نس خدایہ  
 سندین احکامن بیلہ آسہ نشہ تم نشانہ وات۔ یہ چھونہ کانہہ عیبہ نہ کانہہ جرماہ رَبَّنَا أَفِرُّغُ عَلَيْنَا صَبْرًا  
 وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اکی سانہ پروردگار آسہ منز تراوڑہ سیٹھاہ صبر تھہ آس فرعونہ سند تکلیف برداشت  
 کر تھہ بیجو۔ بیہ مارڑہ آسہ مسلمان۔ فرعونے آسہ پیٹھہ سختی گڑہ تھہ نہ آس پریشان سپدو۔ تھہ نہ سانس  
 ایمانس منز کینہہ خلل واقع سپدہ وَقَالَ الْهَلَامُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ أَتَذَرُ مُوسَىٰ وَقَوْمَهُ لِيُفْسِدُوا  
 فِي الْأَرْضِ وَيَذَرَكَ وَالْهَتَكَ بیہ بیلہ حضرت موسیٰ سندیہ یوڈ مجڑہ لو کو وچھہ کہہ سار و تہ اون ایمان  
 بعضی لوک تہ سپد تمین سیت متفق۔ تمہہ وقتہ ون فرعونس پنہہ قومہ کیوز ٹھیو ای فرعون کیاہ ژہ تراوہ نہ  
 یلہ حضرت موسیٰ تہ ٹھہم قوم تھہ تم تباہی تہ بر بادی تلن تھہ ملکس اندر بیہ تراون چان پرستش تہ  
 چائین معبودن ہنز پرستش کران۔ قَالَ سَنَقْتِلُ أَبْنَاءَهُمْ وَنَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ



لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ  
يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۱۷۸﴾  
قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا  
قَالَ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي  
الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿۱۷۹﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ

فہرؤن فرعون ڈوٹھ بانہر ومہ تہہ آس مارو کہ بیہ تہند پوچھتھ تہند زور زیادہ بیجہ سپد تھ زندہ  
تھا و کہ زنانہ تہنزہ۔ کیا زہ زنانہ ہند چھونہ کا نہہ خطرہ۔ بیہ لگن تمہ خدش تہ کامہ کوچہ آسہ چھوٹن پیٹھ  
پورہ غلبہ حاصل۔ امیک اطلاع یلہ بنی اسرائیل ووت تم گے سخت پریشان۔ تمہو ہنواچ چارہ جوئی  
ژہانڈن حضرت موسیٰ اس نشہ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا حضرت موسیٰ ان  
فر مو پنے نس قومس مدد معگو خدائس بیہ کرو صبر بانہر ومہ کینہہ إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ  
مِنْ عِبَادِهِ ہز پاٹ بیہ زمین چھو سو روی خدایہ سندی امیک وارث کرہ سوئس نس ریشہ پنے نیو  
ہند و اندرہ۔ کہہ کالاہ وئن فرعونس مگر وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ آخر چھہ کامیابی تمہم خدائس کھوژہ و ان  
آس تہہ روزو مستقیم ایمان و تقویٰ آس پیٹھ۔ ہر گاہ اللہ تعالیٰ ریشہ بیہ سلطنت کرہ توہی عطا  
قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا تمہو دوپس ای حضرت موسیٰ آسہ وچھہ  
ہیشہ مصیبتھی مصیبت۔ آسہ آو سخت تکلیف دنہ تہندہ ہینہ بروٹھ تہ تہ توہم پتہ تہ۔ توہم بروٹھ آئی سان  
بے شمار لوگ مارنہ۔ وون چھو سوئی تجویزیہ کرنہ یوان۔ آخر ہنہ کیاہ وون۔ قَالَ حضرت موسیٰ ان  
وچھہ تسلی فر مو نکھ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُهْلِكَ عَدُوَّكُمْ وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرَ كَيْفَ  
تَعْمَلُونَ مہ چھہ امید کہ عنقریب کرہ تہند پروردگار تہندس دشمنس ہلاک۔ بیہ کرہ توہی سمہ ملک  
پادشاہت عطا۔ تو پنے وچھہ سو تہہ کڑھ گوم کرو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالْيَمِينِ وَنَقَضْنَا  
مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعْنَهُمْ يَدِيكَوْنُ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان یلہ فرعون تہ تہند قومس انکار و مخالفس پیٹھ کر

فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْضِ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿۱۳۰﴾  
 فَإِذَا جَاءَتْهُمْ الْحُسْنَىٰ قَالُوا الْبَأْسَ هَذِهِ وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ  
 يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ إِلَّا إِنَّمَا ظَنُّهُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
 وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۳۱﴾ وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ  
 مِنْ آيَةٍ لِنَسْحَرَنَّ بِهَا فَتَمَنَّوْنَا لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۱۳۲﴾ فَأَرْسَلْنَا  
 عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ

گوئڈ آسہ کور مبتلا فرعونہ سند خاندان قحط سالی سیت۔ بیہ میون ہندہ نقصانہ سیت۔ تہہ تم تم می سیت  
 نصیحت زتن۔ پائس پین تہ پزتھ قبول کرن۔ مگر تم سید نہ تمہ سیت کانہ اصلاحاہ۔ بلکہ سید ہونہ  
 حال کہہ۔ قَاذِ اَجَاءَتْهُمْ الْحُسْنَىٰ قَالُوا الْبَأْسَ هَذِهِ اودہ بلکہ تم خویاہ واتان آس دپان آس یہ آیہ سانی  
 خیطرہ۔ اتھ سزوار آس آس آس پھناڈیکہ بڈ تہ خوش قسمت۔ یہ آس نہ تم کران کہ خدایہ سز نعمت  
 زاتھ دپہ ہنس شکر توپتہ کرہ ہن اطاعت تہ فرمانبرداری قبول وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَّيَّرُوا بِمُوسَىٰ  
 وَمَنْ مَعَهُ توپتہ ہر گاہ کانہ بد حالیہ، قحط سالیہ ولتہ ہجھ۔ تھہ آس دپان یہ واژ حضرت موسیٰ یہ  
 تہمدین بیرون ہندہ شامتہ تہ نحوست۔ إِلَّا إِنَّمَا ظَنُّهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وارہ بوزوتہندہ نحوستک اسباب ہجھ  
 خدایہ سندس علس منز موجود وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مگر تموا اندرہ ہجھنہ اکثر لوکن کج خبری۔ تم  
 اسباب گئے تہنزہ ہفتر چہ کلمہ سر کشی تہ ظلم۔ بیہ بغاوت تہ شرارت۔ سو نحوست آسکھ تمہ ٹوی سزا۔  
 وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لِنَسْحَرَنَّ بِهَا فَتَمَنَّوْنَا لَكَ بِمُؤْمِنِينَ تمہ علاوہ آس تم دنان کہہ  
 اکی موسیٰ ڈٹھ کیتھ اتھو تہ امہ نشہ کانہ عجیب مجراہ، میہ سیت تہ امہ پیٹھ سحر تہ جو دکرو پنتہ خیالہ۔ مگر  
 امہ پیٹھ تمیک اثر پیہ نہ کینہہ۔ توتہ انونہ آس توتہ پیٹھ ایمان ہر گز۔ ہنس یلہ تہنزہ سر کشی اوت پیٹھ واژ  
 فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ ہنس سوزہ امہ تمہن  
 پیٹھ قحط سالی تہ میون اندر نقصانہ علاوہ تمہہ تمہہ بلاہ، اکھ کثرت بارشہ ہند طوفان تہ سیلاب ہنس تمہن

مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿۱۳۶﴾ وَلَمَّا  
 وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ  
 عِنْدَكَ ۗ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ  
 مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۱۳۷﴾ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَى  
 أَجَلٍ هُمْ بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ ﴿۱۳۸﴾ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ

گھرن اندر کھین منرووت۔ یہ سوزا سہ تمن کن ہالو۔ سمو تھند سو روی زراعت تباہ و برباد کور۔ یہ سوز  
 اسہ تمن کن کریل تہ کیم سمو تھند سو روی غلہ کس تمو ذخیرہ کورمت اوس تباہ کور۔ یہ سوزہ اسہ تمن کن  
 نترہ مونڈجہ۔ سمہ کھینہ کین تہ چنہ کین چیزن منز آسکھ و سان تہ پھیران بیہ خون کس تریشہ بدل  
 چوان آس۔ آس اوسکھ خون بنان۔ سہ واریاہ نشانہ تہ واضح مچرہ۔ سم ستوے مچرہ تہ بیہ عصاء تہ پید  
 بیضاء گئے نو مچرہ ساری۔ سم مچرہ و پھتھ پڑہ ہاتمن ایمان اُن تہ پڑہ کرن مگر فَاَسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا  
 قَوْمًا مُّجْرِمِينَ کور تمو کھر۔ در حقیقت آس تم جرم پیشہ۔ ایشختی واتھ تہ آی نہ سم سرکشی نشہ باز  
 وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَى ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۗ یلہ تمن سمو عذابو آندرہ  
 کانہ عذابا و اتان اوس تمہ ساتہ آس و نان اکی موسیٰ سانہ خیطرہ مگو پنہ نس خدا کس سمیوک تم توہیہ  
 سیت وعدہ کورمت مٹھو کہ ہر گاہ تم نافرمانی نشہ با زین تلہ گرو آس تمن نشہ سختی تہ عذاب دور۔ لَئِن  
 كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ آس چھہ قسم ہاوتھ و نان کہ  
 ہر گاہ یہ عذاب اسہ نشہ دور کرو، ضرور گرو آس توہیہ پڑہ۔ یہ سوزو کہ آس آزاد کر تھ بنی اسرائیل توہیہ  
 سیت فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى أَجَلٍ هُمْ بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ آس حضرت موسیٰ سندہ دعاء سیت دور کران آس عَنْهُمْ الرِّجْزَ إِلَى  
 أَجَلٍ هُمْ بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ تمن نشہ عذاب تھہ و قس تان۔ تھہ و قس تان تمن و اُن اوس۔  
 آتی آس تم سو عہد بیہ پھڑوان۔ تمہ پتہ یلہ اسہ و چھ کہ تم چھنہ پنہ شرار تہ نشہ باز یوان فَانْتَقَمْنَا  
 مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ کس ہیوت اسہ تمن انتقام سمہ طریقہ کہ پھاو اسہ تم دریای قلمس اندر



الِهَةُ قَالِ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ﴿۱۳۸﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَرِّمًا هُمْ فِيهِ وَبِطْلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۹﴾ قَالَ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۱۴۰﴾ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَاسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ ﴿۱۴۱﴾

کر و مقرر ا کہ پوتلاہ۔ ہتھ پاٹھ کن لوکن کچھ واریا ہ پوتل بروٹھ کنہ۔ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ حضرت موسیٰ ان فرمود کہ پڑ پاتھ چھوہ تہہ سخت جاہل قوم۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ مُتَبَرِّمًا هُمْ فِيهِ وَبِطْلٌ مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ پڑ پاتھ تم لو کہ ہتھ کامہ سیت لگمت چھہ، یہ سوڑی چھو تباہ گڑھ ون۔ یہ چھو باطل تہ لغوتہ سوڑی یہ تم کران چھہ شرکچو کامیو اندرہ۔ قَالَ أَغَيَّرَ اللَّهُ أَبْغِيكُمْ إِلَهًا وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ حضرت موسیٰ ان فرمود کہ کیاہ بوڑھانڈنہ معبود برحقس ورا ی تہندہ خیطرہ بیا کہ معبوداہ۔ حالانچہ توحید پوڑیلو علاوہ چھو تہند محسن تہ منعم سوی، تمی معبود برحقن و توه توبہ فیلیت سارنی عالمین پیٹھ وَاذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان اکی بنی اسرائیلو بیہ پاو و تہہ تریس یلہ اسہ نجات دیت توبہ فرعونہ سز یو لو کو نشہ یسومونکم سوء العذاب تم توبہ و اتاوان آس سخت تکلیف تہ عذاب یقتلون ابناءکم تم کھش کران آس بے در لچنویں تہندین و یستحیون نساءکم زندہ آس تھاوان زنانن تہنزن بیکارہ تہ خدمتہ خیطرہ و فی ذلکم بلائ من ربکم عظیم اتھ منز آس تہند خیطرہ بڈ آزمایش تہندس پروردگارہ سنبہ طرفہ۔ امہ ورا ی تہ آس توبہ پیٹھ خدایہ سند کم کم احسان مگر توبہ تھو و و نہ کانہ احسانا تریس۔ تہہ سپدہ آمادہ شرکس پیٹھ۔ بہر حال یلہ بنی اسرائیل ساروی پریشانیو نشہ آزاد سپد، تمبو کوز در خواست حضرت موسیٰ اس کہ وون کرو ہز مقرر سانہ خیطرہ ا کہ شریعتھاہ سمہ موجب آس بفر اغت عمل کرو حضرت موسیٰ ان کور تمیک در خواست اللہ تعالیٰ آس تہہ متعلق چھو اللہ تعالیٰ فرماوان و وعدنا موسیٰ ثلاثین لیلۃ و اتمننا بعشرہ یہ کور اسہ وعدہ حضرت

وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَمْنَا بِهَا بَعَثَ فِتْمَ  
 مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ  
 هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ  
 الْمُفْسِدِينَ ﴿۳۳﴾ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ  
 رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرِيكَ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى

موسیٰ اس ترین شمن روزو کوہ طورس پیٹھ اعتکافس۔ بیہ روزو تمن دوین روزہ دار۔ ادہ کروہ اس عطا  
 توہہ تورات۔ توپتہ کرہ نو سو اسہ پورہ تم ترہ (۳۳) دوہ بیہ دہو (۱۰) دوہو سیت فتہ مِیقَاتُ رَبِّهِ  
 اَرْبَعِينَ لَيْلَةً کہس پورتہ مگمل سہد تمسیدس پروردگار سہد مقرر کر نہ اُمت وقت تزتجہ (۳۳) راژ۔ یعنی  
 تزتجمن راژن عبادت تزتجمن دوین روزہ دار روزتھ کور تموملاقات خدا کہس سیت کوہ طورس پیٹھ، تہہ  
 ملا قاس منز کوڑ کہ اللہ تعالیٰ ان پن کتاب تورات عطا۔ وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي  
 فِي قَوْمِي وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ بیہ سمہ ساتہ حضرت موسے کوہ طورس پیٹھ یہ  
 خیطرہ درای سمہ وقتہ فرمو و تمو برادرس پنہ نس حضرت ہارونس زہ سپد خلیفہ میون میانہ قومہ  
 خیطرہ۔ بیہ یوت ہا توت کر زہ قومس اصلاح۔ بیہ بیٹھنہ پکھہ مفسدن ہنزہ وتہ بد نظمی کرہ و شن ہنزہ  
 رایہ موجب کر زہ نہ عمل وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا اتھ واقس اندر یلہ حضرت موسیٰ آو سانہ  
 ملاقاتہ خیطرہ وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ تمن سیت کرہ واریاہ لطف و مہربانی ہنزہ تہہ تہندہ پروردگارن۔ شدت  
 انبساطہ سببہ سپد کہ شوق دیدار لذت گفتار حاصل سپدت کوڑ کہ تھی لذت دیدارک در خواست  
 قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ حضرت موسیٰ ان کور عرض اکی میانہ پروردگارہ ہاوتہ پن ذات پاک،  
 یو وچہ ہت زہ قَالَ لَنْ نَرِيكَ اللهُ تعالیٰ ان فرمووس زہ بیٹھنہ نہ مدو جھت دُنْیَا س اندر کیا زہ  
 سمہ آہہہ ان نہ تاب میانہ دیدارک دُنْیَا س اندر وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ مگر تہندہ تسلی خیطرہ  
 چھو سون تجویز کہ تہہ دیو نظر بیٹھ کوہس گن۔ اس تراووتھ پیٹھ پن اکہ پرتواہ فَإِنْ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ

الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي ۖ فَلَمَّا تَجَلَّى  
رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّمَ مُوسَىٰ صَعِقًا ۖ فَلَمَّا أَفَاقَ  
قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبِّتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۳﴾  
قَالَ يُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَ  
بِكَلَامِي ۖ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۳۴﴾ وَكَتَبْنَا  
لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ

فَسَوْفَ تَرَانِي ۖ ہنس ہر گاہ یہ کوہ پتہ جلیہ بر قرار نہ ڈنجر رود۔ تیلہ شاید ہیجو تہہ مہر و چھتہ چنانچہ حضرت  
موسیٰ رود اتھ کو ہنس گن و چھان ۖ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّمَ مُوسَىٰ صَعِقًا ۖ ہنس یلہ  
جلوہ ترود حضرت موسیٰ سد پروردگارن کوہ طورس پیٹھ تم جلون کور تھہ کو ہنس ژس تو پتہ گیس پھلہ  
حضرت موسیٰ پیو بیوش سپد تھہ پتھر دستھہ ۖ فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحٰنَكَ تُبِّتُ إِلَيْكَ ۖ ادہ یلہ ہوشہ آی  
حضرت موسیٰ، عرض کورکھ، واقعی پھو چون ذات پاک ستموا پھو سیت و چھنہ نشہ منزہ تہ پاک۔ اکی  
میانہ پروردگارہ یو پھوس چانس خدس اندر امہ مشتاقانہ درخواست کرنہ نشہ معذرت منگان  
وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ یو پھوس چانس ارشاد کن ترانی ہنس پیٹھ گوڈہ لکھوی پڑھ کرہ ون  
قَالَ يُوسَىٰ إِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَ بِكَلَامِي ۖ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ  
فر موس اللہ تعالیٰ ان آی موسیٰ۔ یہ پھو سیٹھاہ تہندہ خیطرہ کہہ ہن پاپٹھ مہ کورکھ ژہ برگزیدہ لو کو اندر  
پتہ پیٹھری سیت بہ پتہ کلامہ سیت۔ ہنس رٹ ژہ یہ مہ ژہ عطا کوروی۔ بہ آس ژہ شکر گزار بندو  
اندرہ۔ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَابِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۖ بہ دیت اسہ لیکتھ کینون چکن پیٹھ پرتھہ چیزہ تج  
دینس منز ضرورت آس مَّوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۖ یوسہ بد نصیحت چھہ بہ تھہ منز پرتھہ  
چیزک بیان و پڑھہ ناوتھہ پھو ۖ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ ۖ ہنس کرو پانہ تہ امہ موجب عمل کوششہ سان وَاْمُرُ  
قَوْمَكَ يَاخُذُوا بِأَحْسَنِهَا ۖ بہ کرو حکم پتہ نس قومس کہہ تم تہ رٹن اچہ رڈہ رڈہ کتھ تہ رت رت

سَمِيٌّ فَخَذُّهَا بِقُوَّةٍ وَأَمْرٌ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسِنَهَا  
 سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ ﴿۱۳۵﴾ سَأَصْرَفُ عَنْ آيَتِي الَّذِينَ  
 يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ  
 لَا يُؤْمِنُ بِهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا  
 وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْعِغْيِ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
 كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ ﴿۱۳۶﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا

ہدایات تھے منزہو سوروی رُتوی سَأُورِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ عنقریب ہا وہ یو توہمہ نافرمان ہند گره۔  
 آتھ منزہہ بشارت تہ وعدہ کہ یو و اتا و وہ تہہ مصرس یا شامس اندر تہج سلطنت کرو وہ عطا۔ خدایہ سزہ  
 فرمانبرداری ہند ہجہ سے فائدہ نافرمانی سم کرن تہہہہ خیطرہ ہجہ سَأَصْرَفُ عَنْ آيَتِي الَّذِينَ  
 يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ عنقریب ہجہ کہ یو پنے نیو آیا تو نشہ قدر تہ کیو نشا تو نشہ تم لو کہ تم  
 مہجر کران ہجہ زمیں منزہ ناحق۔ یعنی تم سپدہ نہ آیاتو تہ مجز و سیت کا نہہ اثرہ۔ دلن ہنزہ قساوت و  
 شقاوت سبہ و ان یروا کل ایہہ لا یؤمنوا بہا ہر گاہ تم و چھن ساری آیات تہ معجزات تو تہ کرن  
 نہ تم پڑہ۔ تہنز ذہنتی ہجہ عجیب و ان یروا سبیل الرشد لا یخذوہ سبیلًا ہر گاہ تم ہدایت و تہ  
 ہجہ و ہجھان تمہہ و تہ چھنہ تم پکن ہیوان و ان یروا سبیل العی یخذوہ سبیلًا ہر گاہ گرا ہی ہنز  
 کانہہ و تہا و چھان ہجہ تمی و تہ ہجہ پکن ہیوان یہ ہجہ علامت دلن ہندہ مسخ سپد نک ذلک یا انہم  
 کذبوا بالآیاتنا و کانوا عنہا غافلین یہ حالت بنے یہ تم ای سببہ کہ تم آس مہجرہ سببہ اہرز انان  
 سانین آیاتن ہیہ آس تم تمکن آیاتن اندر غور و فکر کرنہ نشہ بالکل غافل۔ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا  
 و لِقَاءَ الْآخِرَةِ حَبَلَتْ أَعْمَالُهُمْ ہیہ سمولو کوسان آیات تہ اسہ سیت ملاقات کرن آخرتس اندر  
 اہرزون، تہہ کورکھ انکار، تہنزہ سارے عملہ تمکن ہندہ نفع تہ فایدہج تمکن امید آس گیہ ضائع  
 هل یجزون إلا ما كانوا یعملون تمکن یہ نہ سزاوندہ مگر تمکوی یہ تم کران آس، ہجہ و انکار تہ



بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ  
 الْآمَانَ كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۷﴾ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ  
 حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا آلَهُ خُورًا أَلْمُرُوا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ  
 وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوا وَكُورًا وَكَانُوا ظَالِمِينَ ﴿۱۳۸﴾ وَلَمَّا  
 سَقَطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا قَالُوا لَئِن  
 لَّمْ يَرْحَمْنَا رَبُّنَا وَيَغْفِرْ لَنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۱۳۹﴾

نا فرمائی ہند سزا اٹھو ای و اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا آلَهُ خُورًا یعنی حضرت  
 موسیٰ کو ہر طور سے پیٹھ تورات انہ خیرہ گئے۔ تہہ قوم بنو تم پتہ پنہ نس تہہ گہنس بس تمبو قطن نشہ  
 خاند کہہ ہمانہ معیت اوس او نمٹ اکھ وو ڈھاہ۔ نس لگ کرنہ پر ستش۔ تمسز حقیقت اس صرف یہ کہہ  
 سو اوس بدناہ اکھ سمہ منز گا وہ ہنز آواز نیر ان اس، بیہ اوس نہ تہہ منز کانہ کمالا سمہ سیت تہہ  
 معبود آسگ کانہ عاقلس خیال گدھہ ہا۔ اَلْمُرُوا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا تمبو کونہ  
 سناو چہ ہتھ کتھہ کن کہہ سو اوس نہ انسان سدیوت نہ کمال پانس منز تھاوان۔ یعنی سو وو ڈھاہ اوس نہ تمن  
 سیت کانہ کتھہ ہیکان کرتھہ نہ اوسکھ دینچ یا دنیاء چ کانہ و تہہ ہیکان ہاوتھ اتَّخَذُوا وَكُورًا وَكَانُوا ظَالِمِينَ  
 یو ہے وو ڈھاہ زون تمبو معبود پین، اس تم یہ کرنہ سیت پنہ نس پانس ظلم کرہ و نیو آندرہ وَلَمَّا سَقَطَ  
 فِي أَيْدِيهِمْ حضرت موسیٰ سیدہ کوہ طورہ پیٹھ و اہل نہ پتہ یلہ تمبو اتھ پیٹھ تمبہ کور تم گے سیٹھاہ شرمندہ  
 نادم تہ پشمان اتھ پیٹھ وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا زون تمبوہ واقعی تم ہتھ بالکل و ملت، گمراہی آندرہ پیمت  
 قَالُوا آتَىٰ هِيَ مَجْهُدًا مَتَّعَنَا رَبُّنَا وَلَقَدْ جَاءَنَا رَبُّنَا بِالْحَقِّ وَكُنَّا مِنْ الْخَاسِرِينَ ہر گاہ  
 نے رحم کرہ آسہ پیٹھ پروردگار سون۔ بیہ نے سو آسہ ہتھ سٹھس مغفرت کرہ تلہ سپد اوس بڈیو تاوان زدو  
 آندرہ وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا تو پتہ یلہ و اہل آی حضرت موسیٰ پنہ نس  
 قَوْمٌ كُنَّ سَيْئًا مَكْرَهُوا وَكَانُوا ظَالِمِينَ سخت غمگین قال فرمو کہ قومس پنہ نس کن گوڈہ بَسْمًا خَلَقْتُمُونِي مِنْ

وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بِئْسَمَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي أَعْمَلْتُمْ أَمْرًا رَّبِّكُمْ وَأَلْقَيْتُمُ الْأَوْاحِ وَأَخَذْتُم مِّنْ أَيْدِيهِمْ مَّخْرُجًا ۚ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي ۖ فَلَا تُشِيبْتَنِي الْأَعْدَاءُ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥٠﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخْوَتِي وَادْخُلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿١٥١﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا

بَعْدِي سِيَّئًا مِّمَّا كَرِهَ اللَّهُ لِقَوْمِهِ تَوْبَهُ مِمَّا بَدَأَ بِذُنُوبِهِمْ لَمَّا سَأَلُوا رَسُولَهُمْ أَنْ يُخْرِجَهُمْ مِنَ الْبَلَدِ الْمُنَافِقِ وَأَنْ يَسْعَىٰ فِي الْأَرْضِ الْأَرْضِ وَأَخَذُوا مِنْ أَيْدِيهِمْ مَّخْرُجًا ۚ قَالَ ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي ۖ فَلَا تُشِيبْتَنِي الْأَعْدَاءُ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿١٥٠﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخْوَتِي وَادْخُلْنَا فِي رَحْمَتِكَ ۖ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿١٥١﴾ إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا

بَعْدِي سیئہ پتھہ حرکتھاہ کروہیہ توبہہ مہ پتہ اَعْمَلْتُمْ اَمْرًا رَبِّكُمْ کیاہ بانہیز کروہ تہہ پنہ نس پروردگارہ سُنْد حکم واتتہ برو نخس یوی تہندہ خیطرہ احکام آنہ نئ کوہ طورس پیٹھہ گوئت اوسس وَالْقَى الْأَوْاحِ وَأَخَذْتُم مِّنْ أَيْدِيهِمْ مَّخْرُجًا ۚ توبتہ پھیر حضرت ہاروسس گن گوڈہ تھاویکھ تمہ چھہ تمکن پیٹھہ تورات لیکتھہ اوسس پتھر زورہ سان۔ اتھ زہ خالی کر تھہ روٹھہ توبتہ پنہ نس باہی سُنْد حضرت ہارونہ سُنْد کلہ نس لگب متہ رتھہ پانس گن لمنہ دوپہس توبہہ کیا زہ کوہ وہ نہ توٹگ پورا نظام قَالَ ابْنَ أُمَّ حضرت ہارونن دوپٹھہ اکی میانہ ماجہ ہند پوتھرہ، یعنی اکی میانہ بابہ مہ کرے یہ پنہ طرفہ سیٹھاہ کوشش سم پتھہ زینہ خیطرہ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضَعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي لیکن سمولو کو زونس یوکمزور میان نصیحت کرن آس نہ تمکن شریبان پتھہ منزتموہ، ہیوسس یومازن فَلَا تُشِيبْتَنِي الْأَعْدَاءُ کس مہ کرکھ مہ پیٹھہ ہاتھ پھردا ونہ سیت دُشمن خوش وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ بیہ مہ سیت اُمہ قسمک برتاو کرنہ سیت مہ گزرو مہ ظالمین تہ جُر من سیت تہ کیوہر گاہ مہ تم پتھر رتھس اُنڈر کوتاہی تہ سستی کر مژ آسہ

قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِإِخْوَتِي حضرت موسیٰ ان مونگ خدا ایس اکی میانہ پروردگار مغفرت کر مہ بیہ میانس بانس سون خطا کر معاف وَادْخُلْنَا فِي رَحْمَتِكَ اَسہ دوشون واتاوپنہ نس خاص رحمتس منز۔ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ژہ چٹھو کھ ساروی اُنڈرہ یژرم کرہ ون۔ اَسہ چٹھہ سیٹھاہ امید ژہ کرکھ سون دُعا قبول۔ اللہ تعالیٰ ان فرموو تمکن لوکن متعلق سموو ژھس پڑ سٹش کر إِنَّ الَّذِينَ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ بَدَلًا

الْعَجَلِ سَيْنَا لَهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ ﴿۱۵۲﴾ وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا  
مِّنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۵۳﴾  
وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَابَ وَفِي نُسُخَتِهَا  
هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَهْتَدُونَ ﴿۱۵۴﴾ وَاخْتَارَ مُوسَى

پاٹھ سمول کو بنو سامری سُد و ڈر تھ پُن مَعْبُود۔ اگر نہ و نہ تہ تم توبہ کرن سَيْنَا لَهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ  
وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تلہ وسہ عنقریب تمَن پیٹھ غضب تہ بیزاری۔ تہندس پروردگارہ سندہ  
طرفہ۔ بیہ تمہ علاوہ خواری تہ رسوائی دُنیاچہ زندگانی اندری۔ بیہ مہنہ تہنزی کینہہ خصوصیتاہ  
وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ بلکہ چھہ آس اٹھوی سزاووان اہز ٹھہراوہ و نین کہ دُنیا سی منز چھہ آس تم  
ذلیل و خوار کران۔ کانہہ فوراً کانہہ پتہ نین وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِهَا وَآمَنُوا بِرَبِّهِمْ  
تم لو کہ سمو چھہ کامہ کرہ مثلاً و ڈر تھ سز پرستش، توبہ کور کہ توبہ بیہ اوتھہ ایمان کفر تراوتھہ رَانَ  
رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ہز پات تہند پروردگار مٹھو بندن ہندہ توبہ کرنہ پتہ تہندین گنہمن ضرور  
مغفرت کرہ دن۔ بیہ تہندس حالس پیٹھ رحم کرہ دن وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُّوسَى الْغَضَبُ یلہ اڈہ  
حضرت موسیٰ ان حضرت ہارونہ سزہیہ معذرت بوڈر کہ بنی یٹھہ أَخَذَ الْأَلْوَابَ بچھہ تمہ ہچہ تمَن  
پیٹھ تورات لیکھتھہ اوس وَفِي نُسُخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَهْتَدُونَ در حالیکہ تمہ کس تحریرس  
منز اوس بوڈہدایت تہ بڈر حمت تمَن لوکن ہندہ خیطرہ تم پنہ نس پروردگارس چھہ کھوڈران۔ مُراد چھو  
تمہ اندرہ تمک تم احکام تمَن پیٹھ عمل کرنہ سیت شخص چھو ہدایت یاب سپدان۔ رتھس امیدوار  
سپدان۔ یلہ و ڈر تھہ سُد قصہ ختم سُد تہ حضرت موسیٰ ان ہیبت توراتک احکام اطمینانہ سان لوکن واتنا دن۔  
مگر تمَن لوکن یعنی بنی اسرائیلن اوس عادت کہہ تم آس پریتھہ تھہ پیٹھ شہبات پیش کران۔ چنانچہ  
اتھہ موقعس پیٹھ تہ کور تمویہ شہہ پیش کہہ اسہ تھہ پاٹھ سپدہ یقین کہہ تم احکام کیا چھہ واقعی اللہ تعالیٰ

قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّبَيِّقَاتِنَا فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ  
 لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلِ وَآيَاتِي أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ  
 مِنَّا إِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تُضِلُّ بِهَا مَن تُشَاءُ وَتَهْدِي مَن  
 تَشَاءُ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ ﴿١٥٥﴾

سندی احکام۔ اِسْمِ تَرَوْنَ پانہ اللہ تعالیٰ بٹھ اِسْمِ پورہ یقین سپدہ چنانچہ حضرت موسیٰ ان کرہ اللہ تعالیٰ  
 اِس نغیر یہ تھ پیش تورہ سپد کہ حکم سمو بنی اسرائیلو آندرہ کر یو کہ منتخب کینہہ لو کہ تھے ائیو کہ پانس سیت  
 کوہ طورس پیٹھ۔ یوزنہ تمن پانہ کہ واقعی چھہ سم میان احکام تو پتہ آو تمہہ خیطرہ اکھ وقت مقرر کرنہ  
 وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلًا لِّبَيِّقَاتِنَا چنانچہ ژار تہ منتخب کر حضرت موسیٰ ان ستھہ (۱۵۵) زن  
 پنہ قومہ منزہ سانس مقرر کر قس و قس پیٹھ اِسْمِ نغیر انہ خیطرہ چنانچہ توت واتھہ یوز تمو خدایہ سُنَد  
 کلام۔ خدایہ سُنَد کلام یوز تھ لگ وننہ اِسْمِ تھہ پاٹھ بہہ کہ یہ چھو خدایہ سُنَد وی کلام لہذا یوتان نہ اِس وارہ  
 کارہ پنہ نیوا چھو اللہ تعالیٰ و چھن توتان گرونہ اِس پڑھ امہ گستاخی سببہ آو تمَن بئیل۔ ہر کن پچھہ ترٹھ۔  
 ساری گئے تھی روز تھ فَلَمَّا أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ اِدہ یلہ تم بنی اسرائیل رٹ بئل قَالَ رَبِّ حضرت  
 موسیٰ ان کور عرض اکی میانہ پروردگارہ مہ چھو معلومی کہ تمَن لو کن چھو سزاد مَن منظور، ہلاک کرن  
 مقصود چھونہ، کیا زہ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُم مِّن قَبْلِ وَآيَاتِي ہر گاہ ژیہ تہ منظور آسہی تلہ کرہ بھک ژہ  
 برو نٹھی تم ساری ہلاک۔ مہ تہ کرہ ہک ہلاک تمنی سیت أَتَهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا سببہ کر کہ  
 کیون احمقن ہند کہ حرکتہ سیت اِس ساری ہلاک اِنْ هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ یہ واقعہ چھونہ مگر چان اکھ آزمایشاہ  
 تہ امتحانہ تَضِلُّ بِهَا مَن تُشَاءُ وَتَهْدِي مَن تَشَاءُ تھہو امتحانوسیت ہم ژیہ خوش کرہ نے تم کرہ بھک  
 گمراہ ہم ژیہ خوش کرے تم تھو؛ بھک ہدایتس پیٹھ أَنْتَ وَلِيُّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ  
 ژی چھو کہ سون مالک پس کر ژہ اِسْمِ مغفرت۔ اِسْمِ دہ معافی۔ یہہ گر اِسْمِ پیٹھہ رحم۔ ژی چھو کہ رت  
 مغفرت کرہ ون تہ گنہن مغفرت کرہ ونیو آندرہ سیٹھاہ بہتر۔ بنی اسرائیلو آندرہ سمو یہ گستاخی کر تمن تہ  
 دہ معافی۔ چنانچہ تم ساری گے یہہ زندہ اتھہ دعاء س سیت مگر حضرت موسیٰ ان یہ بیا کہ دُعَاةِ بنی

وَكَتُبْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُنَا أَلَيْكُ ط قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَاكُنْهَا الَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٧﴾ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ يَا مَعْرُوفُ

اسرائیلین ہمدہ جتہ وَاكْتُبْنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ بے لیکھ سائہ خیطرہ دُنْیَا س اندرتہ رت حال بیہ آخرتس اندرتہ رت حال اِنَّا هُنَا اَلَيْكُ کبازہ پزپاٹ اسمہ کور خلوصہ سان ژے گن رجوع۔ دُنْیَاو آخر تک خیر ژھونڈ حضرت موسیٰ ان پندہ ائمہ خیطرہ۔ امہ اندرہ اوس جہند مقصد کہ میانی امت کرتن سارنی اُمتن ہنز سردار تہ مافوق قَالَ اللہ تعالیٰ ان فرموو کہ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ مینون عذاب تہ غضب بس چھو سوواتاودہ بوتس لیس بوژہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ میان رحمت جتہ تیہ عام۔ واتتہ جتہ سو پرتتہ چیزس فَسَاكُنْهَا ساروی اندرہ کرن بوخمہ رحمتہ سیت خاص سوی امت بیہ لیکھ بو سورحمت تمنی لوکن ہمدہ خیطرہ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ تم خدائس کھوژن۔ بیہ آسن مالج زکوٰۃ ودوان۔ بیہ تم آسن سائین آیاتن پڑہ کران یعنی تمکن ہمد اعمال و افعال و اعتقادات دُرست آسن۔ اتتہ منزاس احتمال کہہ بہودن اندرتہ مانیرہ ہن بعض اشخاص تمکن پیٹہ بیہ تعریف صادق بیہ ہا۔ اللہ تعالیٰ ان فرموو مزید توضیح خیطرہ کہ امت جتہ حضرت پیغمبر آخر الزمانہ سنزی امت۔ یمن خیریت دُنْیَاو آخرت اللہ تعالیٰ ان عطا کور الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ تمن لوکن یم پتہ پتہ آسن پکان، متابعت آسن کران تس پیغمبرس، بس رسول تہ چھو، نبی تہ چھو یم نہ کانسہ نطہ نہ پرمٹ چھو کینہ نہ ہو چھمت چھو کینہہ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ تس پیغمبرس بس تم لو کہ لبان جتہ

وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَجْلُ لُهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيَحْرِمُهُمْ عَلَيْهِمُ  
 الْخَبِيثَاتِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ  
 عَلَيْهِمْ ۗ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُواهُ وَنَصَرُواهُ وَ  
 اتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٥٤﴾  
 قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا  
 ۗ إِلَٰذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ ۗ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ يُحْيِي

پاس نشہ پنہ نین کتان تورا س تہ انجلیس اندر لیکنہ آمت یعنی نعت تہ صفت تہند کرنہ آمت۔ تمہ  
 علاوہ چھو تہند صفت یامرہم بالمعروف وینہم عن المنکر سو پیغمبر برحق چھو تمن نیکن ہند  
 حکم کران۔ بیہ چھوک بدیو نشہ منع کران و یجل لہم الطیبات و یحرم علیہم الخبثات بیہ چھو  
 رت رت تہ پاک چیز حلال کران تم تمن پیٹھ حرام آس۔ بیہ چھو تمن پیٹھ ناپاک تہ گندہ چیز حرام  
 کران و یضع عنہم اصرہم والان تمن پیٹھ تہند گوب بار یعنی تم سخت احکام تم تمن پیٹھ نافذ  
 کرنہ آمت آس و الاغلال الی کانت علیہم بیہ احکام ہنزہ تمہ سختیہ سمہ تمن پیٹھ آسہ برو تھمین  
 شریعتن اندر فالذین امنوا بہ و عزروا و نصروا ہس تم لو کہ سمو پڑھ کر اس پیغمبر س  
 بیہ کر بھہ حمایت تہ مدد و اتبعوا النور الذی انزل معہ اولیک ہم المفلحون بیہ کر کہ متابعت  
 تہ نورس ہس نور تمن سیت نازل آو کرنہ یعنی کتاب و سنت، قرآن مجید تہ حدیث شریف تم لو کہ  
 چھہ رستگار تہ کامیاب تم عذاب ابدی نشہ چھو ظ روزن قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ  
 جَمِيعًا فرماؤ کہ جہہ یار سول اللہ اکی تمام دنیا کیو لو کو پڑ پڑھو بو چھوس پیغمبر خدا تو ہہ سارنی کن۔  
 ۗ إِلَٰذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالأَرْضِ ۗ تم خدایہ سہہ طرفہ سینس حکومت تہ بادشاہی سارنی  
 آسمانن تہ زمینن منز چھہ لَا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ ۗ و رای چھونہ عباد تم سزاوار کانہ اکھ یعنی و بیوت  
 سوی چھو زندگی عطا کران تہ سوی چھو ماران فامنوا باللہ و رسوله الذی الی تم پڑھ آس

وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ الْيَوْمِ الَّذِي  
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ ۗ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۵۶﴾  
مِنْ قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٍ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿۱۵۷﴾  
وَقَطَّعْنَهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا ۗ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ  
مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ اصْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ۗ  
فَاتَّبَعَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ

کُنس خدائس بیه تسدس آسسی پیغمبرس نیس ان پره پیغمبر چھو الذی یؤمن باللہ وکلمتہ سم پانہ  
کُنس خدائس بیه تہندین کھمن پڑھ کر مر پڑھ۔ یعنی باوجود پتھ تھود مرتبہ آستھ چھونہ تمن خدائس،  
خدایہ سندین پیغمبرن تہ کتائن ایمان انہ نس منز کانہ عارہ۔ اکی لو کو جہہ کیا زہ چھوہ خدائس تہ تہندس  
پیغمبرس پڑھ کر نس تہ ایمان انہ نس منز انکار کران **وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ** بیه کر داس پیغمبرہ  
سزمنتابعت دیوہ ہتہ و تھ پوراہ راستس پیٹھ ایو۔ بعضی لو کو کر اس پیغمبر برحقہ سزمنتاقت مگر **وَمِنْ  
قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٍ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ** بیه چھہ حضرت موسیٰ سندہ قومہ منزہ اکھ جماعتھہ  
ہزج۔ دین حج یعنی اصلاح و تھ ہاولان۔ بیه چھہ تمی ہزہ سیتی پنہ نین معاملاتن تہ بین لو کن ہندین  
معاملاتن اندر عدل و انصاف تہ کران **وَقَطَّعْنَهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا** اسہ کوراکھ انعام بنی  
اسرائیلن پیٹھ بیه تہ کہہ تمن منز اصلاح و انتظام قائم کرنہ خیطرہ کرہ اسہ تمن الگ الگ بھن بڈین ہند اولاد  
آستھہ مناسبہ باہ حصہ تہ باہ قبیلہ پرستھ اس قبیلس کور اسہ اکھ اکھ سردارہ مقرر تہندہ مگرانی خیطرہ  
**وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنْ اصْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ** بیاکھ انعام کور اسہ تمن کہہ  
سوز اسہ وحی حضرت موسیٰ اس کن یلہ تمن نیشہ پنن قومن آب تھونڈ۔ تمومونگ وعا خدائس آہ  
خیطرہ۔ اللہ تعالیٰ ان فرموک کہہ تھنڈ دیوہ پنہ امہ لورہ سیت فلان نینہ اودہ یلہ تموتھ کنہ تھنڈ و تھ  
**فَاتَّبَعَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا** اتی پھت تم کنہ منزہ باہ ناگ راد۔ تمنی بنی اسرائیلن ہنزہ بھن

مَشْرَبَهُمْ وَظَلَلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ  
 الْمَنَّٰنَ وَالسَّلْوَىٰ طُكُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَ  
 مَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٦٠﴾ وَاذْقُلْ  
 لَهُمْ أَسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ  
 شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ ۗ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَّغْفِرْ  
 لَكُمْ خَطِيئَتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٦١﴾ فَبَدَّلْ

قبیلن ہنزہ گرنز قد علم کل اناس مشربہم چنانچہ پریتھ قبیلن پرزہ نو پین مین گھاٹ تہ بارہ  
 بل یعنی آب حاصل کرچ جائے وظلنا علیہم الغمام وانزلنا علیہم المَنَّانَ والسَّلْوَى  
 بیاکہ انعام گوراسہ تمن پیٹھ یہ کہ ترواسہ تمن پیٹھ ابرک سایہ۔ بیاکہ انعام کوراسہ تمن پیٹھ کہ آسمانہ  
 دول اسہ تہندہ کھینہ خطرہ خزانہ غیبہ منزہ آسمانی خوانچہ پیٹھ منز تیار کر تھ اوس آسان باثمازہ ترنجبین۔  
 وندہ اوسکھ یوان کُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ کھیو تمونفیس چیز و منزہ تم اسہ توبہ عطا کردہ  
 مگر آتھ منز تہ کرتمو سانس کھمس برخلانی۔ و ما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون  
 تمہ نافرمانی سیت تمواسہ کانہ نقصان واتنونه، بلکہ آس تم پان پانس ظلم تہ نقصان واتاوان واذقُلْ  
 لهم اسکنوا هذه القرية بپہ کرو یاد سو وقت یلہ اسہ بنی اسرا یملن کھم گور بسو پیٹھ شہرس منز  
 پیٹھ ناوچھواریجا وکلوا منها حیث شئتم بپہ کھیواتھ شہرس منز سیمہ جاہہ توبہ خوش کرہ  
 وقولوا حطة بپہ آکھ کھم گرنہ آتھ شہرس منز اژان اثان و نرہ حطہ، یعنی اس چھہ توبہ کران  
 وادخلوا الباب سجدا بپہ اژرہ شہر کہ دروازہ منز کلہ نو مراوت عاجزی سان نغفر لکم  
 خطیئتکم تمہ سیت گرو اس بخشایش تہندین بروظھمن گنھن سنزید الموحسنین بپہ گرو  
 اس پیجو کارن زیادہ مہربانی عطا فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم  
 پس بدلو تمبولو کو تمواسہ اندرہ ظلم کوراکھ لفظا پس خلاف اوس پیٹھ لفظس پس تمن تجویز کرنہ آیود۔



الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ  
فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا  
يَظْلِمُونَ ﴿۷۲﴾ وَسَأَلَهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ  
حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ  
حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ  
كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۷۳﴾  
وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعْبُدُونَ قَوْمًا لَا إِلَهَ مَعَهُمْ أَوْ

تمن آیہ ورنہ کہ حطہ ونبو، تمک معنی اوس سائین گنہن سپن بخشائش، تہہ بدل دون تموجہ فی  
شعرہ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ پس سوز اسہ تمن پیٹھ  
عذابہ آسماحہ طرفہ امی وجہہ کہ تم آس ظلم کران یعنی تعیل احکام آس نہ کران وَسَأَلَهُمْ بِيہ  
پر رٹھو ہتہ یار رسول اللہ آتہ زمانہ کین یہودن عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ تمہ  
شہرہ کین لو کون ہند حال یمہ شہرک ناڈا ایلہ ہجو۔ پس شہر بحر قلمز مہ کس پٹھس واقع اوس۔ شہر  
مدینس تہ کوہ طورس منز باگ تمہ شہرک لو کہ آس دریاء کس پٹھس بسنہ مو کہ گاڈہ ہکار کران زیادہ۔  
تمنی اوس بے وارہ دوہ گاڈہ رٹھک منع آمت کرنہ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ بیلہ تم بے وارہ دوہ گاڈہ  
رٹھ کس خمس اندر حدہ ڈلان آس إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا بیلہ بے وارہ دوہ  
تمن نغہہ گاڈہ ہمزہ یوان آسہ آپس پیٹھ ووتلٹھ کلہ آہ نغہہ ہیور کھارتھ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا  
تَأْتِيهِمْ بے وارہ وراے بین دوہن آسہ نہ گاڈہ تمن کھ یوان کینہہ۔ تمن دوہن آسہ بیس طرفس کن  
گروہان کَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ تہہ پانھ آس آس تمن آزمائش کران حکایازہ تم  
آس نافرمان وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعْبُدُونَ قَوْمًا لَا إِلَهَ مَعَهُمْ عَدَا بَاسِدِيدًا بیلہ

مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَعَلَّامٌ  
يَتَّقُونَ ﴿١٦٣﴾ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ  
السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَیِّنٍ بِمَا كَانُوا  
يَفْسُقُونَ ﴿١٦٤﴾ فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا  
قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿١٦٥﴾ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ  
يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ سَوْمٍ مُّهِمٍ سَوَاءٌ الْعَذَابُ إِنَّا رَبُّكَ لَسَرِيعٌ

پر ژھڑیو کہ حض تمہہ وقتک حال تہ یلہ تمہو بنی اسرا نیلو آندره اک جماعتن وون نتھہ جماعتس سم نافرمان  
نصیحت کران آس کیاہہ چھوہ تمہہ تمن لوکن نصیحت کرنہ سیت پئن وقت ضائع کران تمن عنقریب اللہ  
تعالیٰ نافرمانی ہندہ سبہ ہلاک کرہ وون چھوہ نہ کڈر عذابہ کرہ وون چھوہ قَالُوا مَعذِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَعَلَّامٌ  
يَتَّقُونَ تمہو نصیحت کرہ وون دو دو یکھہ، آس چھہ تمن نصیحت کران نتھہ آس تہندس پروردگارس نشہ عذر  
پیش کر تھہ بری الذمہ سپد و سیدہ دیوہ تمن سانہ نصیحت کرنہ سیت کینہہ اثر سپدہ تہ تم روزن بٹہ وارہ دوہہ  
تکار کرنہ نشہ پتھہ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ نَسِ يَلِيهِ تمن موٹھہ تہ سوڑوی سمہ سیت تمن وعظ تہ نصیحت  
کرنہ یوان اوس یعنی تم زود نہ پتھہ نافرمانی نشہ اُنَجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ اَسہ دیت نجات تمن  
سم امہ بیچھہ کامہ نشہ تمن منع کران آس وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَیِّنٍ تمن نجات دتھہ  
کر اَسہ گرفتار تم لو کہ تمہو ظلم کور سخت بیچھہ عذابہ سیت ہما کَانُوا يَفْسُقُونَ تہ کیاہہ تم آس نافرمانی  
تہ عدول حکمی کران فَلَمَّا عَتَوْا عَنْ مَا نُهُوا عَنْهُ نَسِ يَلِيهِ تمہو زیادہ سرکشی کر باز آئی نہ تمہو بیچھہ کامیو نشہ  
سمو نشہ تمن منع کرنہ اوس یوان قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ اَسہ کور تمن مٹھ صورت۔ حکم کور تمن کہہ  
سپد و اندر ذلیل وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لِيُبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ سَوْمٍ مُّهِمٍ سَوَاءٌ الْعَذَابُ  
بیہہ کرو سو وقت یاد یلہ اعلان کور تہندس پروردگارن کہ ضرور کرہ مسلط سو تمن بہودن پیٹھہ سمو گستاخی تہ  
نافرمانی کر قیامتس دوہس تان تھین حاکمن سم تمن سخت سخت عذابو سیت تکلیف و اتاوان آسن

الْعِقَابِ ۖ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۶۷﴾ وَقَطَعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمْثًا  
 مِنْهُمْ الصُّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ  
 وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۱۶۸﴾ فَخَلَفَ مِنْ أَجْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا  
 الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا  
 وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهَا يَأْخُذُوهَا أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ  
 الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ وَاللَّارِ

إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيمُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۶۷﴾ پڑھا پھند پروردگار چھو بیہ سوڑھ سخت عذاب کرہون  
 تہیہ چھو سیئہ مغفرت کرہون تس تس نافرمانی نشہ بازایہ وَقَطَعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أَمْثًا بیہ گرہ اسہ  
 تمن دنیاس اندر واریہ جمائہ مِنْهُمْ الصُّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ چنانچہ اُو آس تمواندرہ نیکوکار  
 تہیہ آس اُو تھہ بدل یعنی بدکار وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اسہ کر تمن بدکارن  
 تہ آزابیش ریتو چیز وسیت۔ صحت تہ دولتہ سیت بہیچہ چیز وسیت یعنی بیماری و فقرہ سیت تھہ تمی سیت  
 بیچہ کامیو نغیر پتہ روز تھہ اسہ کن پھیرن تہ رجوع کرن۔ کیا زہ کنہ چھہ خوشحالی، صحت و غنا باعث  
 ہدایت بنان، تہ کنہ چھہ بد حالی تہ فقر و بیماری باعث عبرت بنان۔ یہ اُو س حال تھہن بین اسلافن ہند مگر  
 فَخَلَفَ مِنْ أَجْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَىٰ نہس سپد تمن پتہ تھہن خلف تہ  
 جانشین تھہی لو کہ تمہو تورات تمن نشہ حاصل کر تویہ آس امی توراتک آیات کن کن ستمہ اونی زندگی  
 ہند سامان حاصل کران۔ تویہ پتہ بدیانتی کر تھہ اتھہ کنہس حقیر زمانان وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا بیہ آس  
 بے پروائی سان زبان اسہ چھونہ کانہہ پروا۔ اسہ سپدہ سارنی گنہن بخشایش کیا زہ اسے چھو خدایہ سُد پتہ  
 خدایہ سُد یار تہ دوست وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِّثْلُهَا يَأْخُذُوهَا تم چھہ پنہ بے باکی تہ گناہ حقیرانہ نس پیٹہ  
 تیوت ڈاڈ کرہون۔ کہ ہر گاہ آیندہ دوبارہ دین کنہ نس پیٹہ تمن کینہہ مال حاصل سپدہ سُو کرن حاصل پتہ  
 روزنہ تمہ نشہ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَنْ لَا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ کیاہ تمن

الْآخِرَةَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۳۹﴾ وَالَّذِينَ يَمْسُكُونَ  
بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُنصِئُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ ﴿۱۴۰﴾  
وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ ؕ  
خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴿۱۴۱﴾ وَ  
إِذَا خَذَرْتُكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ

نشیہ چھنا تمہ کتابہ ہندہ سمہ مضمونک عمد آمت ہینہ کہ خدائیس کن لاگن نہ کانہ کتھاہ واقعہ پزہ کتھہ  
ورای۔ تھہ بدل کم کم اہز چیز نور او تمو، تمے لاگھہ خدائیس کن۔ حالانکہ تمو پور سو عمد نامہ ئیس تورا تس  
منز لیگھتھہ اوس مگر تمو کور نہ دنیا ک متاع فانی حاصل کرنہ خیطرہ تمیک کانہہ پروا **وَالَّذِينَ يَمْسُكُونَ**  
**الَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ** حالانکہ آخر تک گھرہ چھو بہتر تمن لوکن ہندہ خیطرہ یم خدائیس کھوژن۔  
تھہ کامیہ تہ پیچھ عقاید ونشیہ روزن ہتھہ۔ ائی بہودو کیاہ توہہ چھناہ کتھہ فخرہ تران **وَالَّذِينَ يَمْسُكُونَ**  
**بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ إِنَّا لَا نُنصِئُ أَجْرَ الْمُصْلِحِينَ** بیہ تم لوک بنی اسرا نیلو آندرہ زورہ تھہہ کر تھہ  
چھہ اتھہ کتابہ یعنی تورا تس بیہ چھہ نمازہ ہنز تہ پابندی کران اس کرو نہ ہر گز تمن نیو کارن ہنز مزور تہ  
ثواب ضایع۔ تم پائس امہہ طریقہ اصلاح کرن تہ سنھان **وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُوا**  
**أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ** بیہ پاویو کہ ژئیس تمن بہودن یلہ امہہ کوہ تھودنل تمن پیٹھ تراونہ خیطرہ۔ تھندین  
کلن نزدیک تھو اس سنا تک پاٹھ تمن سپد یقین کہہ بیہ پو اسہ پیٹھ **خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ**  
**لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ** تھہہ حاس اندر فر موو کہ اسہ کہہ جلد کرو قبول بیہ کتاب یو سہ امہہ توہہ عطا کر۔ مضبوطی  
سان۔ بیہ کرو تم احکام یاد تم اتھہ کتابہ منز چھہ پیٹھ تھہ متھی تہ پر ہیز گارہ بتہ نے کر وتلہ تراوودہ بیہ کوہ  
توہہ پیٹھ۔ بیہ گو خاص عمد ئیس بنی اسرا نیل کرناونہ آس آمت جبراً۔ امہہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ بیان کران  
عام عمد ئیس ساری بنی آدم انسان آس کرناونہ آمت **وَإِذَا خَذَرْتُكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ**  
**ذُرِّيَّتَهُمْ** بیہ پاویو کہ ژئیس سو وقت یلہ تھند پروردگارن عالم اروا اس منز حضرت آدم علیہ السلام



لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ  
 كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثُ  
 ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصْ  
 الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۶۷﴾ سَاءَ مَثَلًا لِقَوْمِ الَّذِينَ  
 كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا بِظُلْمٍ ﴿۱۶۸﴾ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ  
 فَهُوَ الْمُهْتَدِىٌّ وَمَنْ يُضِلِّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۱۶۹﴾

آیا تو تہ ہدایا تو موجب پھر ہا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ مگر سو سپد مایل تہ خام طمع دُنیا س کن وَاتَّبَعَ  
 هَوَاهُ بیہ پوک سو پتہ پتہ نفسہ چن خواہش۔ زنانہ ہندس ونہ نس پیٹھ کرن عمل تہ آیا تو موجب کرن  
 عمل تراون فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ آیا تو موجب عمل کرن تراونہ موکھ بوسہ پریشانی تہ ذلت تس و لہ  
 آہ تمہ اعتبارہ جھہ تسز۔ مثال ہون سز ہش مثال إِنْ تَحْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَثُ أَوْ تَتْرُكُهُ يَلْهَثُ ہر گاہ تہ  
 تس چہ کر کہ، تس پیٹھ حملہ کر کہ، زیو کڈہ نیہ۔ ہر گاہ چہ کر ہس نہ توتہ کڈہ زیو نیہ۔ یعنی تس چیز ہوس  
 آڈرنہ منز لازم آمت آسہ تھاونہ سو چیز تراونہ سو کونہ حالتس منز۔ تھہ پاٹھ تس آڈرنہ منز خست تہ  
 ذلت تھاونہ آسہ آمز سو تھہ تراونہ نہ کونہ صور تس منز ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا  
 یجیہ جھہ مثال تمن لو کن ہنز سمو لہز زان سان آیات یمن منز توحید و رسالتہ دلیلہ جھہ فَاقْصُصْ  
 الْقِصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ تس بیان کرو تم قصہ تسمن بہو ذن دیوہ تم فخرہ بین سَاءَ مَثَلًا لِقَوْمِ  
 الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنْفُسُهُمْ كَانُوا بِظُلْمٍ تھقیقس منز جھہ سیٹھہ جھہ مثال تمن لو کن ہنز سمو  
 سان آیات اہز زان۔ تمہ سیت و اتنو کہ نقصان تہ ظلم پان پانس مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِىٌّ تس  
 اللہ تعالیٰ ہدایت کرہ سو می جھو ہدایت لہون وَمَنْ يُضِلِّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ تسمن سو و تہ  
 لغیر ذالہ تس جھہ تے ابدی تاوانس منز پنہ وال تمن لغیر ہدایتک توقع تھاون یا تہندس بے ہدایت روزہ  
 تس پیٹھ غمگین سپدن مٹھو بے کار۔ تم لوک یلہ نہ پنہ عقلہ ہندین قوتن کامی جھہ ہیوان تمن کپار بنہ

وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ أذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ﴿۹۹﴾  
 وَبِاللَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ

ہدایت۔ لہذا جہنم تہنہ دلتج جای جنم۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ اسے جہنم پیدہ کرمت ہنمسن منز روزنہ خیطرہ واریاہ شخص جنوا ندرہ تہ انسانا ندرہ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا تمن ناوہ خیطرہ دل چھو۔ مگر زان چھوک نہ تگان کینہہ۔ تم جہنہ تمیک ارادے کران کہ اسے گوژہ فخرہ تزن کینہہ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا ناوہ خیطرہ چھ اچھ تمن مگر درینٹھ چھک نہ یوان کینہہ وَلَهُمْ أذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا ناوہ خیطرہ چھ گن تمن مگر بوژن چھک نہ تگان کینہہ۔ پرتھ یام کنن گروہان چھک تام چھ گوش دووان اُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ غرض تم لوکھ چھ آخرتہ نشی بے توجہ آسئس اندرگین تہ چارپای بلکہ تہنہ خونہ یژڈلت اُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ تمے لوکھ گئے غافل کیا زہ تم چھ باوجود جس دت تہ بے حسی لاگان۔ غفلت چھ مرضوا ندرہ اکھ بوڈ مرضاہ۔ امیک علاج چھو خدا یہ سندیاد وَبِاللَّهِ الأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا خدایہ سی چھ رت رت ناؤئس آسوتہ ای مسلمانو تموی ناؤوسیت گس آلو دووان، سندیاد کران۔ تم چھ حدیث شریفس منز نمہ نمت (۹۹) ناؤ بیان کرنہ آمت۔ بیہ چھو آمت حدیث شریفس منزئس تم اسماء یاد کرہ سوژاؤ جئس تمون ناؤوسیت آسوس چھ پاٹھ آلو دووان : يَا اللّٰهُ يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ يَا مَلِكُ يَا قُدُّوسُ يَا سَلَامٌ يَا مُؤْمِنُ يَا مُهَيْمِنُ يَا عَزِيْزُ يَا جَبَّارُ يَا مُتَكَبِّرُ يَا خَالِقُ يَا بَارِئُ يَا مُصَوِّرُ يَا غَفَّارُ يَا قَهَّارُ يَا رَزَّاقُ يَا فَتَّاحُ يَا عَلِيْمُ يَا قَابِضُ يَا بَاسِطُ يَا خَافِضُ يَا رَافِعُ يَا مُعِزُّ يَا مُدِلُّ يَا سَمِيْعُ يَا بَصِيْرُ يَا حَكِيْمُ يَا عَدْلُ يَا لَطِيْفُ يَا خَبِيْرُ يَا حَلِيْمُ يَا عَظِيْمُ يَا غَفُوْرُ يَا شَكُوْرُ يَا عَلِيُّ يَا كَبِيْرُ يَا حَفِيْظُ يَا مُقِيْتُ يَا حَسِيْبُ يَا جَلِيْلُ يَا كَرِيْمُ يَا رَقِيْبُ يَا مُجِيْبُ يَا وَاسِعُ يَا حَكِيْمُ يَا دُوْدُ يَا مُجِيْدُ يَا بَاعِثُ يَا شَهِِيْدُ يَا حَقُّ يَا وَكِیْلُ يَا قَوِيُّ يَا مَتِيْنُ يَا وَلِيُّ يَا حَمِيْدُ يَا مُحْصِيُّ يَا مُبْدِئُ يَا مُعِيْدُ يَا مُحْيِيُّ يَا مُمِيْتُ يَا حَيُّ يَا قَیُّوْمُ يَا وَاجِدُ

فِي أَسْبَابِهِ سَيُجْرُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۸۰﴾ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً  
يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿۱۸۱﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا  
سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۸۲﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي  
مَتِينٌ ﴿۱۸۳﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ

يَا مَاجِدُ يَا وَاحِدُ يَا صَمَدُ يَا قَادِرُ يَا مُقْتَدِرُ يَا مُؤَخِّرُ يَا أَوَّلُ يَا آخِرُ يَا ظَاهِرُ يَا بَاطِنُ يَا وَالِي  
يَا مُتَعَالِي يَا بَرُّ يَا تَوَّابٌ يَا مُنْتَقِمٌ يَا عَفُوٌّ يَا رُؤُوفٌ يَا مَالِكُ الْمُلْكِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ  
يَا مُقْسِطُ يَا جَامِعُ يَا غَنِيُّ يَا مُغْنِيُّ يَا مَانِعُ يَا صَارٌ يَا نَافِعُ يَا نُورُ يَا هَادِي يَا بَدِيعُ يَا بَاقِي يَا وَارِثُ  
يَا رَشِيدُ يَا صَبُورُ ﴿۱۸۰﴾ وَذُرُّوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْبَابِهِ ﴿۱۸۱﴾ تراویو کہ تم لو کہ تم ڈلان تہ تجہ و تہ پکان  
جہہ تہندین ناؤن اندر یعنی اللہ تعالیٰ اس جہہ پائے پنہ طرفہ ناؤ ٹھراوان یا تہند ناؤ جہہ تہس و رای بین  
پیٹہ استعمال کران یا جہہ پیٹہ صفین ہند ناؤ تہس پیٹہ استعمال کران۔ تم سیت مہ تھاو و تعلق سَیُجْرُونَ  
مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۸۰﴾ بروٹھ پکن تہن تم نتیہ تمیک یہ تم کران جہہ ﴿۱۸۱﴾ وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةً يَهْدُونَ بِالْحَقِّ  
وَبِهِ يَعْدِلُونَ ﴿۱۸۱﴾ جن تہ انسان اندر جہہ ساری ڈلتی بلکہ جہہ سانیو مخلوق اندرہ اکہ جماعتہا تم دین حق  
یعنی اسلامہ موجب جہہ لوکن و تہہ ہاوان بیہ جہہ پنہ نین لوکن ہندین معاملاتن اندر عدل و انصاف  
کران ﴿۱۸۱﴾ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۸۲﴾ بیہ سمولو کو اہز زان سان آیات تم  
کھا رو کہ اس آہستہ آہستہ نا فرمانین اندر سیٹھا تھو دتھ پاتھ پاتھ نہ تم زانہ نوی جہہ یوتان تم  
نا جہہ تہس نزدیک سہن ﴿۱۸۲﴾ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿۱۸۳﴾ بیہ دمہ یو تم مہلت، جلدی کر کہ نہ گرفتار  
عذاب دُنیا س اندر۔ پزیاٹ میون تدبیر جھو سیٹھا مضبوط ﴿۱۸۳﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِهِمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ  
إِلَّا نَذِيرٌ مَتِينٌ ﴿۱۸۳﴾ کیا سمولو کو کرنا غور تہ فخر کہہ آخر آیات اللہن انکار کران۔ تمہ کہہ خراب نتیہ نشہ  
غافل روز نک کیاہ سبب جھو۔ تم آیات پیش کرہ و ن صاحب نعوذ باللہ بے عقل جھو نہ تم کتہ قسمہ  
مثر جھو نہ، عمر گیہ وہ تو بہ تم سیت روز تہ تہند حالات، تہمز عقل تہ گا ہ جار، امانت تہ دیانت  
و چھان۔ تم جھو اللہ تعالیٰ ان عقل کل عطا کورمت۔ تم جہہ مگر نا فرمانی ہندہ سزاو عذابہ نشہ لوکن نین



مُتَّبِعِينَ ﴿۱۸۴﴾ أَوْ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ  
 اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ۗ وَأَنْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ  
 حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۸۵﴾ مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ ۗ وَ  
 يَذُرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۱۸۶﴾ يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ  
 مُرْسِلُهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي لَا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلَّا هُوَ يُضِلُّ  
 مَن يَشَاءُ ۗ

پاٹھ نیم کرہ ون۔ یہ گوئس صاحبہ سند حال بس صاحب آیات ہتھ آؤ۔ ورنہ نیس نیش ہتھ آؤ سؤزات  
 پاک گوئس بس ساری جہانک مالک تہ شہنشاہ مطلق چھو اؤ لکم یظنرؤا فی ملکوت السموات و الارض  
 و ما خلق اللہ من شئی کما سمو و چھنا آسمان و زمینہ کس انتظامس تہ سلطنتس کن۔ یہ تمویجز و اندرہ کئی چیزس  
 کن تم چیز اللہ تعالیٰ ان پیدہ کرمت چھہ۔ کتھہ پاٹھ چھو تھند انتظام مضبوط تہ حکم۔ کتھہ پاٹھ چھو پرہتھ  
 چیزاہ پرہتھ ذراہ تھندس کمال قدرتس پیٹھ گواہی ووان۔ تھس شہنشاہ مطلقہ سند ارشادات یم تھس  
 پیغمبر برحقہ سند واسطہ تمن و اتمت آسن۔ تے شوبہ نہ نظر انداز کرن۔ وآن عسیٰ ان یكون قدا اقرب  
 اجلہم۔ یہ کرنا تمو غور ہتھ کتھ کن کہ تھندہ مرنگ وقت ما آسہ نزدیک و و تم۔ تم کہہ ہتھ ین خدا بس  
 برو تھ کن۔ لہذا ہزہ ہا تمن مر نہ پتہ عذابہ نیشہ بچہ نچ صورت کرن۔ یلہ نہ قرآن مجیدہ سیت، یوسہ  
 سیدشاہ بڈ مقدس کتاب چھہ تمن کینہہ اتر گڑھہ، یلہ نہ تم قرآن مجیدس ایمان ان تہ پڑھ کرن فبای  
 حدیث بعدہ یؤمنون قرآن مجیدہ پتہ کتھہ کتھہ تہ کلامس ان تم ایمان من یضلیل اللہ فلا  
 ہادی له حقیقت چھہ یہ کہ بس اللہ تعالیٰ و تھ راورہ بس چھو نہ و تھ ہا و ون کانہہ و یذرہم فی  
 طغیانہم یعمہون اللہ تعالیٰ چھو تمن کافرن تراوان یلہ ہتھ تم سریشی اندر سرگردان سپدن۔ تو پتہ  
 دیکھ سزا کہ وٹ۔ لہذا نہ سپدن تھند دل مبارک غمگین یار رسول اللہ یسألونک عن الساعۃ ایان  
 مرسہا پر ژھان چھہ تم توہر یار رسول اللہ قیاس متعلق کہہ کر چھو تھمہ برپا سپدنگ تہ واقع سپدنگ  
 وقت قل انما علمہا عند ربی تہہ فرما دیو کہ تمیک علم چھو نہ میانس پروردگارس و رای کانہہ

فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا تَأْتِيَكُمْ الْبَغْتَةُ بِسْئَلُونَا كَأَنَّكَ خَفِيٌّ  
عَمَّا قُلْنَا إِنَّمَا عَلِمَهَا عِنْدَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۸۷﴾  
قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ  
كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ  
السُّوءُ إِنَّا إِنَّا لَنَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۸۸﴾ هُوَ الَّذِي

لَا يُجِيبُهَا لَوْ قَالَتْ أَلَهُوَ ظاهر کرہ نہ تھے قیاس تہ پنے نس وقتس پیٹھ کا نہ تہ تس وراي۔ تمکھ ظہورک  
وقت چھونہ بیانے کر نہ آمت کا نہ نعہ کیا زہ ثَقُلْتُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سُو چھو سیٹھا ہوناک  
واقعا تہ حادثا ہاکہ آسمان وز میس منز یعنی تمن دون ہندین بسہ ونین پیٹھ لَا تَأْتِيَكُمْ الْبَغْتَةُ أمہ موکھ  
ایو نہ سو قیامت توہہ مگر ہیکہ تہ معکہ تہزہ بے خبری منز یَسْئَلُونَا كَأَنَّكَ خَفِيٌّ عَمَّا پر ژھان تہ  
چھہ تم لوکھ توہہ امہ قیامتک۔ زن توہہ سچ پور خبر چھہ قُلْ إِنَّمَا عَلِمَهَا عِنْدَ اللَّهِ لہذا فرما یو کہ تہہ  
بصراحت کہ تمک تمک علم چھونہ کا نہ خدائس وراي وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوکھ چھہ یہ تہہ  
زانی کہ بعضی علوم چھہ اللہ تعالیٰ آن تھاومت پنے نس خزانہ علمس آندر محفوظ۔ حضرات انبیاء تہ چھونہ  
تمن ہند تفصیل باونہ آمت۔ قیامتک واضح سپدنگ خاص وقت تہ چھو تموی چیز و آندرہ اکہ چیز قُلْ لَا أَمْلِكُ  
لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ فرما یو کہ تہہ یار رسول اللہ قیامتکہ معالج چھہ تھی، سُو چھو  
مخصوص خدایہ سدسی ذاتس سیت۔ مہ چھہ پائس متعلق پیش ایوہ ونین حالان ہنز تہ کہینہ خبر۔ یو  
چھوس نہ مالک تہ اختیارہ وول پنے ذاتہ خطیرہ نہ کئہ نفیس تہ نہ کئہ ضررس مگر تڑی ہنہ ایشمن اللہ تعالیٰ  
یڑھہ۔ یعنی یو ہیکہ نہ پنے نس ذاتس کا نہ نفع و اتاوتھ۔ نہ ممکن ہنن ذات کئہ نقصانہ نشہ محفوظ تھاوتھ  
تہ بچاوتھ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَأَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ ہر گاہ یوزانان آساغچ پر تہہ کتھاہ تلہ  
واتاوہ ہا پائس تم تم خیر تہ فاندہ یم نہ یو سو روی علم غیب نہ آسنہ موکھ و اتاوتھ چھوس ہکان۔  
وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ تلہ آسہ ہانہ مہ واتان کئہ قسمک تکلیفہا، نہ آسہ ہامہ پیش یوان کا نہ

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا  
فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ  
دَعَا اللَّهَ رَبُّهَا لِيُنزِلَ إِلَيْهَا صَالِحًا لَكُنَّ ذُنُوبًا كَثِيرَةٌ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٨﴾  
فَلَمَّا آتَاهَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيهَا أَتَتْهُمُ فَتَعَلَى اللَّهُ  
عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨٩﴾ أَيْشُرُّوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ ﴿١٩١﴾

ناخوشگوار حالتہاہے اِن اَنَا الْاِلٰہُ الَّذِیْ رُوِّیْتُ لِقَوْمٍ یُّؤْمِنُوْنَ یُوْجُوسُ مَحْضُ شَرِیْعَتِکُمْ حُمِّ وَاثَاتِہِ تَہِ نِیْمِ  
کرہ وں۔ تہ بشارت دودہ وں تم کو کن تم پر تھ کرن تہ ایمان آن۔ یوئیک اصل مقصد چھو تشریحی  
امورن ہند علم اسن تہ کورمہ اللہ تعالیٰ ان عطا بکمال پتھ رُود امور کو تین ہند علم سو چھونہ نبوتہ کیولوازمو  
آندرہ۔ تمہ آندرہ ایسٹن اللہ تعالیٰ ان یُوْثَہ تیرہ ہن کرن عطا زورہ تہ زبردستی سیت بیگونہ سوکانہ  
اکھ خدائس نشہ حاصل کر تھ ہُوَالَّذِیْ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ سُو پروردگار گو سوی تم توہ پیدہ  
کر وہ اکی ذاتہ نعیم، سُو گو حضرت آدم علیہ السلام وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا تمی اسمہ ذاتہ منزہ کوزن  
پیدہ جورہ ہند یعنی حضرت حواء لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا بیٹھ سوا لقت تہ قرار رتہ تہس سیت فَلَمَّا تَغَشَّاهَا  
حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ اودہ یلہ در کمال لطف وانبساط حضرت آدمن پان پان وول حضرت  
حواء س یعنی ہجستری کرن تہس سیت سوسپز باردار، تہس حمل ابتداءس آندر لو توی اوس، چنانچہ سُو  
بیٹھ آس سواورہ یور پتھہ ہیکان فَلَمَّا أَثْقَلَتْ تمہ پتہ یلہ چہ سبہ دودہہ خو تہ دودہہ بڈنہ سیت سگو بے یہ  
تم لگ دوشوے باہرنہ۔ دہنہ لگ بہ کیاہ سناقصہ چھو۔ دَعَا اللَّهَ رَبُّهَا دوشوی باژومونگ اللہ  
تعالیٰ اس یعنی پنہ نس پروردگار س یہ مشکل گو تھ آسان سپدن لکن ایتنا صالِحًا لَكُنَّ ذُنُوبًا كَثِيرَةٌ مِنَ  
الشَّاكِرِينَ دہنہ لگ سانبہ پروردگارہ ہر گاہ تہ اسہ عطا کرہ ہن رت فرزندہ اس سپد و ضرور شکر گزارو  
آندرہ فَلَمَّا آتَاهَا صَالِحًا تہس یلہ اللہ تعالیٰ ان رت صحیح و سالم فرزند عطا کر تک جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ  
فِيهَا أَتَتْهُمُ اُتی لگ بنی آدم خدائس شریک ٹھراونہ اتھ مہربانی اندر یوسہ مہربانی سُو عطا او سٹھ

وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ ﴿١٩٢﴾ وَإِنْ  
تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُهُمْ  
أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ ﴿١٩٣﴾ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ  
صَادِقِينَ ﴿١٩٤﴾ أَلَمْ أَرْجُلُ يَمشُونَ بِهَا أَمْ أَمْ أَيْدِيَّ بَطْشُونَ

کران فَتَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللہ تعالیٰ پھو سیٹھا ہند تہ بالا منرہ تہ پاک تمہو ساروی شرکچو کتھو  
نہیہ یہ تس گن بنی آدم لاگان چھہ۔ ایشُرُونَ مَا لَإِنْفِئْتُمْ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلِقُونَ کیاہ تم بنی آدم  
بھٹاس تے چیز شریک ٹھہراوان سمہہ کینہہ تہ ہمکن پیدا کر تھہ۔ تم چھہ پانہ مخلوق پیدا کرنہ آمت۔  
معبود ہیچہ آتھہ سوی بس نہ پانہ مخلوق آسہ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ یہ  
ہمکن نہ تم معبودان باطل تمہو آندرہ کانہہ اک سنزیاری کر تھہ۔ نہ ہمکن تم پنہ نس پانس کانہہ یاری کر تھہ  
بین یاری کر نچ کیاہ چھہ کھی وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَتَّبِعُوكُمْ کم ہر گاہ ہتہ تمین معبودان  
باطلن ہنہ کامہ خیطرہ نادو یو تم ہندس آلوس تہ ناس اجابت ہمکن نہ کر تھہ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُهُمْ  
أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ تھندہ خیطرہ چھہ دوشوے امر برابری۔ ہتہ تمین نادو توتوتہ تم ہند آلو  
بوزن نہ یا تھو پہ کر تھہ روز توتلہ چھہ کھی إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ  
ای مشرک کو پڑ پاتھہ تمین تمین ہنز تہہ عبادت تہ پرستش کران چھوہ خدایس ورا ی تم چھہ ہند ی پاتھہ  
خدایہ سند مملوک تہ بندہ، پانہ خدایہ سی گن محتاج پر تھہ چیزس اندر ہند ی پاتھہ فَادْعُوهُمْ  
فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بس دیتو ہتہ تمین نادو تھنہ ہندس تھہ ناس اجابت کران  
چھوے ہتہ ہندس معبود آسکس اعتقادس اندر پزیر ہندس آلوس کیاہ کرن تم اجابت تمین چھہ تم  
تان پوزر سموسیت کام چھہ یوان کرنہ وچھو اَلَمْ أَرْجُلُ يَمشُونَ بِهَا أَمْ أَمْ أَيْدِيَّ بَطْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ  
أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ہتہ وچھو توارہ کیاہ کھور چھا تمین سموسیت پلہ ہن



أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ<sup>(۱۹۷)</sup> وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا  
وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ<sup>(۱۹۸)</sup> خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ  
بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ<sup>(۱۹۹)</sup> وَإِنَّمَا يَنْزَعُكَ مِنَ  
الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ<sup>(۲۰۰)</sup> إِنَّ الَّذِينَ

برحقس وراي تم ہيکن نہ توہمہ کانہ مدد کر تھ نہ ہيکن پنہ نين پانن مدد کر تھ۔ مدد کران گيہ بدتھ وان  
تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ لَا يَسْمَعُوا ہر گاہ تہہ تم ن کانہ تھ و نہ خيترہ آلودو سو آلو تہند تہ ہيکن نہ تم  
بوز تھ کيا زہ تھہ پاٹھ نہ تم ن نشہ بوز تک تان موجود چھہ تھے پاٹھ چھہ تم ن نشہ و تھنک تان تہ موجود،  
تہزن سکن تہ صورت ن اندر سمہ آچھہ بناونہ آمزہ چھہ تمہہ بھہ بالکل بے کار۔ ہٹھوک ژہ کٹو تھوی ژہ  
آنيو پنہ نوي و تَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ چنانچہ تہہ تھو کھ تم معبودان باطل و چھان۔  
ژن تم توہمہ گن و تھنک چھہ۔ حالانچہ تم ن تھونہ ني الواقع و چھنک تو تھی کانہ۔ کيا زہ تھنکس منز چھہ  
تم و تھتھی ہيکان کينہہ۔ آتھ گن نظر کر تھ گھہہ تہند ين بين قوتن ہند قياس کران۔ پس تھنک عاجزان  
نشہ کياہ تھوہ تہہ مہ کھوژہ ناوان۔ اژتھ صرتح پزہ دليلہ بوز تھ تہ آس نہ تم ن کافرن ہندس کفر و  
عمادس منز تھنکہ قسمہ کي سپدان۔ سيمہ سبہ ذات مقدس منز تھ کھہہ تک احتمال اوس۔ سو غصہ تہ  
ژکھ دور کر نس منز تھو اللہ تعالیٰ فرماوان خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اکی پنچمبر  
برحق تہہ کرو اختيار تھہ و زہ درگزر کر نس۔ بيہ کرو تہہ رژن کا مين ہند حکم حسب معمول۔ بيہ مہ کرو  
التفات جاہلن گن تہہ روزو بدستور پن کوم کران وَإِنَّمَا يَنْزَعُكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ بيہ ہر گاہ کئہ وقتہ  
شيطانہ سئہ طرفہ کانہہ و سوسہ پيدہ سپدہ توہمہ تھہ منز احتمال آسہ خلاف مصلحت کانہہ کوم کر تک  
فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تمہہ ساتہ مگو پناہ پنہ نس خدا نيس شيطانہ سئہ شرہ تہ و سوسہ نشہ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ  
ہز پائٹ سو تھو سو روي بوزہ ون، سو روي زانہ ون، تہند پناہ مگن تھو بوزان۔ تہند مقاصد تہ مطالب  
تھو بوزان۔ تھہ پاٹھ خدا نيس گن توجہ کر تھ شيطانہ سئہ شرہ نشہ پناہ مگن تہندہ خيترہ مفيد تھو تھہ پاٹھ

اتَّقُوا إِذَ امْتَسَّهُمْ طَيْفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ ﴿٢٠١﴾ وَإِخْوَانُهُمْ يَبُدُّوَنَّهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ ﴿٢٠٢﴾  
وَإِذَ الْمُتَاتِبَةُ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا اتَّبَعْتُ مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَذَا بَصَائِرٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى

مُحُو سارنى خدائس کھوژہ وئین بندن ہندہ خیطرہ تہ سیٹھاہ مفیدہ اِنَ الَّذِیْنَ اتَّقَوْا إِذَ امْتَسَّهُمْ طَيْفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا پزپاٹھہ سم خدائس کھوژہ وئین بندہ چھہ بلہ تمن تہ شیطانہ سہدہ و سوسگ خیال کڈ اران چھو تم تہ چھہ فوراً تمہہ ساتہ خدایہ سدس یادس سیت مشغول سپدان، اعوذ باللہ پران۔ خدایہ سہدہ عظمت و جلال، ثواب و عذاب یاد کران۔ **فَإِذَا هُم مُّبْصِرُونَ** کس چھہ فوراً تمہہ آچھہ مؤثرہ یوان۔ تو پتہ چھہ حقیقت تمن پیٹھہ ظاہر سپدان۔ سمہ سیت نہ تمن پیٹھہ خطرک کانہہ اثر چھو واتان **وَإِخْوَانُهُمْ يَبُدُّوَنَّهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ** شیطان ہندہ بای سم چھہ تمن نہ خدایادے پیوان چھو تمن چھہ تم شیطان گمراہی کن کھکھہ پکھہ ناوان۔ لہذا چھہ تم گمراہی اندر کھہ قسمہ کمی کران۔ **وَإِذَ الْمُتَاتِبَةُ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا** بلہ نہ تہہ تمن نشہ تمہہ خواہشہ مطابق کانہہ فرمایشی معجزہ پیش کران چھوہ۔ کیا زہ معجزہ پیش کرنگ اختیار چھو خدایہ سی اتھہ تمہہ ساتہ چھہ ونان تم ہر گاہ توہہ پیغمبر برحق چھوہ تلہ کونہ انہہ توہہ ژار تھہ پنہہ خیطرہ رت معجزہ سمہ سیت تھہ پیغمبر آسن ثابت سپدہ ہا قُلْ **إِنَّمَا اتَّبَعْتُ مَا يُوْحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي** تہہ فرماؤ کھ کہ میان کوم چھہ پنہہ اختیارہ توہہ نشہ معجزہ پیش کران۔ میان اصلی کوم چھہ کہ بوکرہ نہ پیروی معر تھہ یہ مہ کن وحی سوزنہ یوان چھو میانس پروردگار سہدہ طرفہ۔ نبوتہ خیطرہ چھو معجزہ آسن ضروری تمہہ خیطرہ چھو ساروی معجزہ و اندرہ یوڈ معجزہ یہ قرآن مجید۔ یوہے چھو بے شمار دلیلہ تھہ سدس پروردگار سہدہ طرفہ۔ امیک پریتھہ سورہ شریفہ چھو اکھ اکھ دلیل، پریتھہ آیہ کریمہ چھو اکھ دلیل۔ پریتھہ آئس چھہ امی موکھ آیہ ونان کہ سو چھو بجای خود اکھ دلیل۔ کمی چھہ ساری انسان تہ جن قرآن مجیدہ کس آئس آئس آیہ کریمس سیت مقابلہ کرنہ خیطرہ عاجز تہی


وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۴۲﴾ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۴۳﴾ وَإِذْ كُنَّا فِي نَفْسِكَ نَتَضَّرَّعًا وَخِيفَةً وَدُؤَانَ الْجَهْرَمِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ

جھو پر تھ آیہ کریمہ اکھ مجزاہ ہذا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهَدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ تمک  
 بو فائدہ سے نفع جھو بالفعل تم لوکن ہندہ خیرہ تم تھ مانان سے پڑھ کران چھہ۔ تہندہ خیرہ جھو بوڈ  
 ہدایت سے رحمت۔ مگر سو فائدہ سے نفع حاصل کرنے خیرہ چھہ کینہہ شرط۔ تم گئے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ  
 فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ بلکہ یہ قرآن مجید پر نہ آسہ یوان تلہ آسز وہتہ سوکن دار تھ  
 وارہ یوزان۔ بیہ آسزہ پانہ ژھویہ کر تھ روزان تھ توہہ تمک مجزاہ آس نہ تجہ تعلیمات و ہدایات فخرہ  
 ترن۔ تھ توہہ مزید رحم ایہ کرنے بیہ فرما و وہتہ پر تھ شخصس کہ اکی شخصہ وَإِذْ كُنَّا فِي نَفْسِكَ  
 تَضَّرَّعًا وَخِيفَةً وَدُؤَانَ الْجَهْرَمِ مِنَ الْقَوْلِ پنہ نس پر و رگاہ سہ یاد آس کران قرآن مجید پر نہ  
 سیت، تسبیح و تہلیل پر نہ سیت پنہ جایہ، آہستہ آہستہ، لوتہ لوتہ، عاجزی سان سے خوفہ سان۔ بیہ آس  
 بڈہ بڈہ پر نہ خوتہ کم کم آوازہ سیت پران عاجزی سے خوفہ سان بِالْغُدُوِّ وَالْأَصْلَالِ صبح سے شام سے  
 یعنی ہمیشہ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغٰفِلِينَ بیہ مہ آس عاقلو اندرہ تم تمہ ذکرہ تر او ان چھہ بمن ہند حکم جھو  
 تہ بیہ سیٹھاہ ضروری چھہ۔ حاصل جھو کہ یاد خدا کریمہ وقتہ گزھہ عاجزی سے خوف حاصل سپدن آوازہ  
 ہندہ اعتبارہ گزھہ نہ سیٹھاہ بڈہ بڈہ یاد خدا کرن، بس لوکن باعث تشویش سپدہ۔ نہ گزھہ بالکل سستی سان  
 ہرن سیمہ سیت غفلت سے نندر طاری سپدن نہ گزھہ زیادہ لوتہ ہرن یوسہ نہ پانس سے فخرہ تر بس نہ زیادہ  
 بڈہ ہرن سیمہ سیت حضورس اندر فتور ایس اِنَّ الَّذِيْنَ عِنْدَ رَبِّكَ يَشْكُرُ سَمَّ مَلَائِكَةٍ تَهْتَدِسُ خَدَايَه  
 سہد مُقَرَّبَ بِنَدِهِ چھہ اَلَّذِيْنَ يَدْرُوْنَ عَنْ عِبَادَاتِهِ وَيَسْمَعُوْنَ اَوْلٰٓئِكَ يَسْجُدُوْنَ تم سے چھہ تہزہ عبادتہ  
 نعہ تکبر کران۔ بلکہ چھہ تہزہ عبادت کران بیہ چھس پر تھ وقتہ پاک گزران، زیوہ سیت یاد کران،  
 بیہ چھس سجدہ ودان یعنی تانوسیت سے تہوند یاد کران۔ بیہ آیہ کریمہ پر نہ سیت تہ بوزنہ سیت جھو پرہ  
 و بس سے بوزہ و نین پیٹھ سجدہ مٹہ کھسان۔ حج و لیل چھہ کہ اللہ تعالیٰ جھو فرماوان کہ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ



# وَالْأَصَالُ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغٰفِلِينَ ﴿۲۵﴾ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَحْسِنُونَ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿۲۶﴾

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ساری قرآن مجیدس منز چھہ ژوداہ (۱۴) آیہ کریمہ تمن ہندہ پر نہ سیت تہ یوزنہ سیت سجدہ تلاوت چھو مٹہ کھسان۔ امام شافعی صائبش نش چھہ تم پنداہ آیہ کریمہ، سجدہ تلاوت چھو پر تھہ مسلمان مردس تہ زنانہ پیٹھہ نُس عاقل تہ بالغ آسہ مٹہ کھسان۔ دیوانس تہ تابا لغس، یا عذره واجبہ زنانہ پیٹھہ چھو نہ یہ پر نہ سیت تہ یوزنہ سیت مٹہ کھسان۔ سجدک آیہ کریمہ ہر گاہ روان پیہہ پر نہ تلہ چھو سجدہ مٹہ کھسان ہر گاہ چمکڈت الگ الگ حروف پر نہ یں تلہ چھو نہ مٹہ کھسان۔ سجدک کانہہ آیہ کریمہ ہر گاہ بے وضو پر نہ ایہ تھہ چھو نہ کانہہ خرچ۔ مگر سجدہ گڑھہ نہ بے وضو دمن۔ بلکہ گڑھہ بیہ کنہ وقتہ سمہ ساتہ وضو آسیس سجدہ دمن۔ ہر گاہ نماز اندر آیہ سجدہ پر نہ ایہ سجدہ گڑھہ تھی ساتہ امامہ سجدہ تہ مقتدین ہند تہ ادا کرن۔ سجدہ تلاوت ادا کر تک شرط چھہ شہ ۶ چیز۔ طہارت بدن آسن، طہارت لباس آسن۔ طہارت جای آسن، استقبال قبلہ آسن، ستر عورت آسن بیہ سجدہ تلاوت نیت کرن، تم گے شہ چیز تم نمازہ ہندہ خطرہ ضروری چھہ۔ اتھہ پاٹھہ کانہہ نمازہ تموشیہ چیز دورای دُرست چھہ اتھہ پاٹھہ چھو نہ سجدہ تلاوت تہ تموشیہ چیز دورای دُرست۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا  
 اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ  
 مُؤْمِنِينَ ① إِنَّمَا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ  
 قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تَلَيَّتْ عَلَيْهِمُ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ جمادس اندرئس مال دُشمس نشیہ حاصل کرنیہ لپہ تہہ ہجہ مال غنیمت و نان۔  
 بیاکہ ناؤ پھو تمیک نفل تمکوی جمع گوانفال۔ چونکہ یہ سورہ شریف منہ ہجہ جمادک تہ مال غنیمتک  
 احکام امی مناسبہ آویہ ساری سورہ شریف سورہ انفال ناؤ تھاونہ۔ یہ حکم آویہ بیان کرنہ تمہ وقتہ سمہ  
 وقتہ جنگ بدرس منز صحابہ صمیم اندر جوان مجاہدان تہ بڈین اندر اختلاف پد۔ جو انودوپ کہ مال  
 غنیمتک حقدار ہجہ آسی نوڈیو صاحبو دوپ چوہجہ آسہ تہ آس تہند مددگار، لہذا اگرہہ آسہ تہ امہ منزہ حصہ  
 ترون، یوہے اختلاف کور تموی پیش در خدمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تی ساسہ سپدیہ آیہ کریمہ  
 نازل یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ اللہ تعالیٰ پھو فرماوان پر ژہان ہجہ توہہ صحابہ صیب یارسول اللہ مال  
 غنیمتہ تقسیمک حکم قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ہجہ فرماؤ کہ مال غنیمت پھو خدایہ سُد کپازہ فتح و  
 نصرت عطا کرہ ون پھو سوی۔ بیہ تہندس پیغمبرہ سُد یہدہ واسطہ اللہ تعالیٰ احکام جاری کران پھو  
 فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ کس کھو ژو خدائس بیہ کرو باہمی تعلقاتن اصلاح۔ پانہ وان مہ تھاوو  
 بُغْضٍ وَحَسَدٍ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ حکم ماؤ خدایہ سُد تہندس پیغمبرہ سُد ہر گاہ تہہ  
 باایمان ہجہہ إِنَّمَا لِلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ باایمان گئے نہ مگر تہی سمن نشیہ لپہ  
 ذکر کرنہ آیہ خدایہ سز، تہنز عظمت زیر نظر اتہہ چہ شان تہند دل وَإِذَا تَلَيَّتْ عَلَيْهِمُ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ

رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ۝۱۶ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا  
 رَزَقْتَهُمْ يُنْفِقُونَ ۝۱۷ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ  
 دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝۱۸ كَمَا  
 أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
 لَكُرْهُونَ ۝۱۹ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ  
 إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ ۝۲۰ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى

ایماناً وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ یہ بلکہ پر نہ یوان چھہ تمہیں پیٹھ خدایہ سند آیات۔ ہر ان سے مضبوط  
 چھہ سپدان تہوند ایمان، بیہ چھہ تم پنہ کسی پروردگار سے پیٹھ اعتماد سے توکل کران الَّذِينَ يُقِيمُونَ  
 الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْتَهُمْ يُنْفِقُونَ تم بایمان گئے تھے تم قاسم سے پرپاچھہ تھاوان نماز بیہ کس مال اسی  
 تمہ عطا کور تمہہ منزہ چھہ خرچ کران خدایہ سزہ ویتہ اندر اُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا تمہے کیا گئے ہر پاٹھ  
 بایمان لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ تہندی خیطرہ چھہ تہندس پروردگار سے نشہ  
 تہد درجہ بیہ یوڈ مغفرت سے عزتک رزق کَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ بِالْحَقِّ یہ ہند مال غنیمتس  
 منز اختلاف کران بیہ نہ ہنزہ مرضی مطابق یہ تقسیم سپدان چھہ اکہ مصلحتہ موجب۔ تھہ پاٹھ توہہ کڈوہ  
 پن پروردگار پنہ گھر ہستی سے شرہ منزہ اکس خاص مصلحتس پیٹھ یعنی مال غنیمتس اندر ہنزہ مرضی  
 موافق تقسیم نہ سپانس منزہ چھہ مصلحت۔ تھہ پاٹھ تہندہ مدینہ شریفہ منزہ میدان بدرس کن کڈانس  
 اندر مصلحت آس وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكُرْهُونَ درحالیچہ اکہ جماعتہا آس بایمانوا اندرہ تہندس  
 تمہہ وقتہ کس مدینہ شریفہ اندرہ نہ نس ناپسند کران يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ بحث وقضیہ آس  
 کران تم توہہ سیت مشورہ پاٹھہ پڑہ تھہ منز تمکہ ظاہر سپد نہ پتہ۔ بے سلاح و سامان جنگس نیزان  
 قریش سیت جنگ کران تم باسلاح و سامان آس اوس تمہ ثبوت مشکل لبہ یوان كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى  
 الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ زن تم پکانوہ آس یوان مارنہ خیطرہ اچھن ڈیشمان۔ یعنی تم آس مر نک

الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهُمَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ  
تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ  
الْكَافِرِينَ ۚ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ۝  
إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ  
مِّنَ الْمَلِكَةِ مُرْدِفِينَ ۝ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ الْإِنشِرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ  
بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ

اسباب بے سرو سامانی بنی و چھان۔ وَاذْ يُعَذِّبُكُمُ اللَّهُ أَحَدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهُمَا لَكُمْ تہمہ سمر و سو وقت  
یادیلہ اللہ تعالیٰ ان بذریعہ وحی بواسطہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وعدہ فرمود کہ دُشْمَن ہنز و دُوید جماعتو  
اندرہ چھ آکھ جماعت ضرور تہمدہ خیطرہ تمن پیٹھ سپد و تہمہ غالب وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ  
تَكُونُ لَكُمْ تہمہ آسوہ ہمد کران کہ غیر مسلح جماعتھی گوہہ سانس اتھس منزین تمن سیت نہ مقابلہ تہ  
جنگ پیہ ہاکرن مگر وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ اوس یزھان کہہ  
سو پزہ راوہ ہا پوز پینہ حمہ سیت پیہ گالہ ہانول کافرن ہند لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ  
کافرن ہند مول گنہ سیت تہ پیٹھ پزیک پوز آسن تہ آیزیک آیز آسن اللہ تعالیٰ وارہ ثابت کرہ اگر چہ  
نا فرمان ای تن سونا پسندی إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ پیہ گو سوی وقت سمہ ساتھ فریاد  
آسوہ کران تہمہ پنہ نس پروردگار سن، منگان آسوہ تس فتح و نصرت کس کر تم اجابت تہمدس معھ نس  
أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِ مِّنَ الْمَلِكَةِ مُرْدِفِينَ پیہ فرماوند سیت کہ یو کرہ توہمہ مدد، آکھ ساس ملک  
سوزنہ سیت تم آکھ اس سیت آسن روز تھ یعنی کنڈ تھ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ الْإِنشِرَىٰ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ  
پیہ ملائک ہمدہ ذریعہ مدد کران کورنہ اللہ تعالیٰ بن مگر تہمدہ خوش کرنہ خیطرہ۔ پیٹھ تہمد دل اسباب فتح و  
نصرت و چھتہ خوش گوہن۔ پیہ پیٹھ تہمد دل قرار تھن وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تھقیق س منز چھنہ  
نصرت تہ یاری مگر خدا پیہ سدی طرفہ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ پز پائھ اللہ تعالیٰ چھوز بردست تہ حمہ

حَكِيمٌ ۱۰ اذِ يُغَشِّبِكُمُ النَّعَاسَ اٰمَنَةً مِّنْهُ وَيُنزِلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيَطَهَّرَكُم بِهِ وَيُدْهَبَ عَنْكُم رِجْزَ الشَّيْطٰنِ وَلِيُرْبِطَ عَلٰی قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهٖ الْاَقْدَامَ ۝ اذِ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنۡيْ مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَالَتْنِيْ فِیْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرَّعْبَ فَاَضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاَضْرِبُوْا مِنْهُمۡ كُلَّ بَنٰنٍ ۝ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ

اول اذِ يُغَشِّبِكُمُ النَّعَاسَ اٰمَنَةً مِّنْهُ یہ پاو و ژئیس سو وقت یہ وقتہ اللہ تعالیٰ ہن توہہ نہرہ ہنزمای و جوہ پنے طرفہ۔ توہہ پورہ سکون تہ قرار دنہ خیطرہ و یُنزِلُ عَلَیْکُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيَطَهَّرَكُم بِهِ یہ پاو و ژئیس تمہہ برو تھہ سمہ سائتہ او سُن توہہہ پیٹھہ آسماجھہ طرفہ رُود تروومت۔ یُتھہ تھہہ تمہہ رُودہ سیت پاک کرہ بے غُسل کرن غُسل تہ بے طہارت کرن طہارت و یُدْهَبَ عَنْکُمْ رِجْزَ الشَّيْطٰنِ یہ یُتھہ سو دُور کرہ توہہہ نغہہ شیطانہ سِنْدہ و سوچ ناپاکی و لِيُرْبِطَ عَلٰی قُلُوْبِكُمْ یہ یُتھہ تمی سیت تھہہ دل مضبوط کرہ و یُثَبِّتَ بِهٖ الْاَقْدَامَ یہ یُتھہ تمہہ رُود پنے سیت تھہہ کھوروارہ درراوہ۔ کیاہہ سیکھہ چھہ رُود پنے سیت دران۔ میڑہ چھہ رُود پنے سیت رَب ووتھان اذِ يُوحِي رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنۡيْ مَعَكُمْ یہ پاو و سو وقت ژئیس سمہ سائتہ تھہہ پروردگار حکم سوزان اوس تمن ملائکین کن سم تھہہہ مددہ خیطرہ سوزنہ آمت آس۔ اے ملائکو و سو میان باایمان بدن ہندہ مددہ خیطرہ۔ بُوْتہ چھوس توہہ سیت مددگار فَثَبَّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اے ملائکو مہ مددگار انتھہ تھاو تھہہ مضبوط باایمان ہند دل سَالَتْنِيْ فِیْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا الرَّعْبَ بوتراوہ کافر ہندین دلن اندر خوف تہ وحشت فَاَضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاَضْرِبُوْا مِنْهُمۡ كُلَّ بَنٰنٍ کس شمشیرہ ژنڈ دیوکھہ گردن پیٹھہ یہ ژئوکھہ تانہ تانہ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ سَالَتُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ یہ سزا چھو تمن اکی سببہ کہ تمہو کر مخالفت خدایہ سز یہ تھہہہ سز پیغمبرہ سز و مَنۡ يُثَابِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ یہ کس اکھاہ خدایہ سز تہ تھہہہ سز پیغمبرہ سز

شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ  
 اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۱۳﴾ ذَلِكُمْ فَذُوقُوا وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ  
 عَذَابَ النَّارِ ﴿۱۴﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ أَلْقَيْتُمُ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ ﴿۱۵﴾ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ  
 دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ  
 بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَا وَهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿۱۶﴾  
 فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ

مخالفت کرہ تس کرہ اللہ تعالیٰ سخت عذابس گر قتل۔ ذلکم فذوقوا وآن للکفرین عذاب النار  
 سمعہ عذابک مزہ ڈھو ٹہہ بہہ زاویہ تھہ کہ کافرن ہندہ خیرہ چھونار جہنمک عذاب آخر تس اندرامہ  
 ذنیاء کہ عذابہ علاوہ یایہا الذین امنوا الذین کفروا زحفا ای بالیمانویلہ ٹہہ کافرن  
 سیت مقابلہ کرنہ لکو پتھر زمیس پیٹھ وستھ پیادہ فوجی پتھہ فلا تووہم الادبار کس مہ پھر و تمن کن  
 پشت پن پان پچاونہ خیرہ و من یولہم یومئذ دبرک نیس اکھاہ امہ دودہ کافرن کن ٹھر پھر تھہ  
 ژکن ہیہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فتنہ مگرے پشت پھرن تمن کن جھکھ ٹھہ مصلحتہ خیرہ یا  
 امدادی فوجس سیت شامل سپدنہ خیرہ تلہ چھونہ کانہہ حرج۔ نتہ نیس ژانہ خیرہ تمن کن پشت پھر ہ  
 فقد بآء بغضب من اللہ کس تھین سو آو خدایہ سنز بڈ بیزاری پتھہ۔ وما وہ جھنم تھنز جای  
 جھہ نار جھنم و بئس المصیر سیٹھاہ پھہ جاری جھہ سو جھنم فلم تقتلوہم و لکن اللہ قتلہم ای  
 مسلمانو توہہ مار دکھہ نہ تم کافر جنگ بدر رس منز۔ بلکہ مار تم اللہ تعالیٰ ان پانہ وما رمیت اذ رمیت و  
 لکن اللہ رمی اے پیغمبر بر حق ٹہہ تھنز پھچھونہ میڑہ موٹھہ یلہ بظاہر ٹھی چھوہ بلکہ چھ سو پانہ اللہ

وَلَكِنَّ اللَّهَ رَحِيمٌ وَلِيُبَلِّغَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَبِيْعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۷﴾ ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كَيْدِ الْكَافِرِينَ ﴿۱۸﴾ إِنَّ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْمُ وَإِنْ تَنْتَهُوا فَنُحِزُّوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِتْنَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۹﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَاتُّمَّ تَسْعُونَ ﴿۲۰﴾ وَلَا

تعالیٰ ان۔ یہ کور اللہ تعالیٰ ان اٹھ مجھ کافر مغلوب کرے۔ وَلِيُبَلِّغَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءٌ حَسَنًا یہ مجھے اللہ تعالیٰ بالایمان پہنہ طرفہ رت انعام واحسان عطا کرے۔ یعنی کوم کر حقیقتاً تم پانہ مگر سوی کوم کرن مسلمان ہند یوا تھو یابی کریمہ سندر دست مبارکہ مجھے تم امیک ثواب تہ اجر یہہ یو ذانعام حاصل کرن اِنَ اللّٰهُ سَبِيْعٌ عَلِيْمٌ پڑ پانہ اللہ تعالیٰ چھو تمکن بالایمان ہمزہ سارے کتھہ یوزہ ون یہہ یہہ اعمال و افعال پورہ چھہ ون ذَلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنٌ كَيْدِ الْكَافِرِينَ دویم تھہ چھہ یہہ اللہ تعالیٰ اس آس کافر ہند ساری تدبیر سست تہ بیکار کرن اِن تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ جَاءَكُمْ الْفَتْمُ ای کافر ہر گاہ تہہ فیصلہ ژھانڈان چھوہ بیشک سو فیصلہ سپد ظاہر۔ مسلمان سپر فتح حاصل۔ سہر سیت معلوم سپد کہ تھہند دین چھو پوز دین۔ تمی دتچ شوبہ بیروی کرن اِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وون ہر گاہ تہہ شر کہ نٹہ پتہ روز تھہ مسلمان سپد وتہ چھو تھہندہ خیطرہ سیٹھاہ بہتر اِن تَعُودُوا نَعُدْ ہر گاہ تہہ دوبارہ یہہ شرارت کرو تلمہ چھہ اس تہہ دوبارہ اسلامس تہ مسلمان مدد کرنہ خیطرہ تہ کافر شکت و نہ خیطرہ تیار۔ توہہ مہ روزن خیال کہ آئندہ کرو اس امہ خوتہ بڈ لشکر جمع یہہ تھارزہ یقین کہ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِتْنَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ہر گز رویہ نہ توہہ کانہہ فایدہ بڈ جماعت تھہز اگر چہ آستن سو سیٹھاہ زیادہ تعدادہ کن۔ یہہ چھہ حقیقت کہ اللہ تعالیٰ چھو بالایمان سیت پرستہ وقتہ مددگار یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنَّهُ وَاتُّمَّ تَسْعُونَ ای بالایمانو فرمانبر داری





وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ  
تُحْشَرُونَ ﴿۳۷﴾ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا  
مِنْكُمْ خَاصَّةً، وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۳۸﴾  
وَأذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ  
أَنْ يَتَخَفَكُمُ النَّاسُ فَاوْكُمُ وَأَيْدِكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمُ

شخص سے تہمتیں دے کر دُور دُور پھیلے۔ اگے گواہا ایمانہ سندس دِل سے چھوٹے اطاعت کہہ کر تہمتیں کفر و مصیبتیں  
کُن توان۔ بیا کہ گواہا کافرہ سندس دِل سے چھوٹے مخالفہ شامتہ سے نحوستہ ایمان و اطاعت کُن کا نہ اتھ و تھ  
دوان۔ امی اندرہ سپد معلوم طاعت و فرمانبرداری پیٹھ مدامت سے ڈاڈا کرن چھہ سیٹھا مفید۔ مخالفہ سے  
نا فرمانی پیٹھ ڈاڈا کرن چھہ سیٹھا مضر وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ بے زانوہ تھہ کہ تھہ ساری ایو کس معبود  
برحق نشہ سو نہ۔ سؤی دیہ فرمانبرداری رت جزا نا فرمان سخت سزا۔ تھہ پائھ توہہ پیٹھ پیٹھ  
اصلاحہ خیطرہ فرمانبرداری واجب چھہ تھہ پائھ چھو واجب توہہ پیٹھ بین لوکن ہند اصلاح کرن۔ تمن  
منز فرمانبرداری ہند شوق پیدہ کرن۔ اتھہ سیت۔ ہر گاہ ممکن سپد نئس زیوہ سیت۔ ہر گاہ ممکن سپد نئس  
تعلقات تہمتہ سیت۔ ہر گاہ ممکن سپد نئس یا صرف دِل اندر نفرت کرنہ سیت۔ یہ گواہا نیم درجہ ایمانگ  
۔ ورنہ نئس مدامت کرہ یعنی گناہ و چھہ تہمتہ کرہ نہ تھہ تردید تلہ چھو تمہ گنہگ وبال سے سزائس شخص  
تہ۔ یلہ حقیقت یہ چھہ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً لہذا کھو تہ تھہ  
بلا یہ یو سے نہ خاص تمنی یا تہو نہ ایہ۔ سمو توہہ اندر ظلم و نا فرمانی کر بلکہ سپد نئس تھہ منز ساری گرفتار  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ بے زانوہ کہ اللہ تعالیٰ سہ عذاب چھو سیٹھا سخت وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ  
قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ۔ بے پاوہ تہمتیں یلہ تھہ ہجرتہ برو تھہ کم سے کمزور آہوہ متھہ شریفیس اندر  
تَخَافُونَ أَنْ يَتَخَفَكُمُ النَّاسُ تھہ آسوہ کہ تھہ مانوہ لو کہہ فَاوْكُمُ وَأَيْدِكُمْ بِنَصْرِهِ تھہ حائل اندر دژوہ  
چھہن جای خدائک مدینہ شریفیس اندر۔ بے کر نوہ تائید پیٹھ مددہ سیت وَرَزَقَكُمُ مِنَ الْعَالَمَاتِ لَعَلَّكُمْ

مَنْ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۳۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا  
 تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْثَلَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾  
 وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَوَالِكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ  
 عِنْدَ أَجْرٍ عَظِيمٍ ﴿۳۹﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَنْ تَسْقُوا اللَّهَ  
 بِجَعَلِ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكْفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ

تَشْكُرُونَ بپہ کر نوہ رت رزق عطا ہتھ تمہہ شکر گزاری کرو۔  
 وَالرَّسُولَ ای با ایمانواس چھہ توہہ مخالفتہ نہ نافرمانی نشہہ سمہ موکھ ممانعت کران کہہ توہہ پیٹھ چھہ  
 خدایہ سبتہ پیغمبر خدایہ سبت کہنہ حق مٹہ۔ تم بجائنتہ سبت واتہ توہہ نفع نہ فائدہ۔ نافرمانی سبت چھو تم  
 حقوقن اندر خلل نہ نقصان واقع سپدان۔ سمہ سبت تمہدہ سنی نقص نہ فایدس منز خلل نہ نقصان واقع  
 سپدان چھو۔ بلہ یہ کتھ توہہ فکرہ ترہ۔ لہذا مہ تراوو خلل بیہ مہ کرو خیانت خد اور سولہ سبتین حقن اندر  
 وَتَخُونُوا أَمْثَلَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ گوہتقیس اندر تمہد پنے نین قابل حفاظت چیزن اندر خلل نہ نقصان  
 واتاؤن۔ ویدہ ودانتہ۔ زانتہ کرتھ۔ اکثر اوقات چھو مالگ۔ نہ اولادن ہند محبت نخل سپدان خد او  
 رسولہ سزہ فرمانبرداری۔ لہذا ویدہ تمہہ خد اور سولہ سبتس محبت و اطاعتس ترجیح مال و اولادن ہندس  
 محبتس پیٹھ۔ یٹھ اس و چھو کہنہ اکھاہ چھو مال و اولادن ہندس محبت ترجیح دوان سانس محبتس پیٹھ  
 وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَوَالِكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَ أَجْرٍ عَظِيمٍ وارہ زانو کہہ تمہد مال نہ اولاد  
 چھہ کہہ آزمائش نہ امتحانک چیز یہ زانو کہہ اللہ تعالیٰ اس نشی چھہ بدمزور تمن لوکن ہندہ خیطرہ تمہد ہندوی  
 محبت زیادہ تھاوان چھہ بین سارنی ہندہ خو نہ یایٹھا الذین امنوا ان تاسقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ای  
 با ایمانو ہر گاہ تمہہ کھو ترو خدائس، تمہز کتر و پور اطاعت سوترہ توہہ امتیازی نشانہ عطا و یکفر عنکم  
 سبائیکم و یغفر لکم و اللہ ذو الفضل العظیم یہ کہہ دور تمہزہ بدیہ یہ کہہ مغفرت توہہ سارنی  
 گنہن۔ اللہ تعالیٰ چھو بوڈ فضلہ وول۔ پنے فضلہ سبت کہہ سوامہ علاوہ خبر کم کم چیز عطا۔ تم نہ وہم و

وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۲۹﴾ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ  
وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ ﴿۳۰﴾ وَإِذْ اتَّكَلَى عَلَيْهِمْ إِبْتِنَا قَالُوا  
قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا  
أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۳۱﴾ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا  
هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا جَارًا مِنَ السَّمَاءِ

گمناں اندر میکن چھہ وَاذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ بے باوڑ تمیں یلہ  
کافر توہمہ متعلق تدبیرتہ مشورہ کران آس دار الندوس اندر سوچان آس تہندہ خیطرہ قید کرنہ خیطرہ یا  
قتل کرنہ خیطرہ یا جلاوطن کرنہ خیطرہ مختلف تدابیر وَاذْ يَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ تم آس پنہ خیالہ تدبیر  
سُوچان اللہ تعالیٰ تہ اوس پن تدابیر کران تہندہ تدابیر باطل و بیکار کرنہ خیطرہ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينَ  
اللہ تعالیٰ چھو بہتر تہ رت مضبوط تدبیر کرہ ون۔ چنانچہ تہندہ ساری تدبیر سپد ناکام۔ نبی کریم صلی اللہ  
علیہ وسلم اتناو اللہ تعالیٰ اَن تَمْنٰی کافر ن برون تھ کن پکناوت تھ وارہ کارہ بصحت و سلامتی مدینہ متورس منز  
وَإِذْ اتَّكَلَى عَلَيْهِمْ إِبْتِنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا بے یلہ پر نہ آس یوان تمن  
کافر ن برون تھ کنہ سان آیات۔ ونان آس تم بیشک اُسہ لوزیہ کلام بے چھونہ کانہہ مُعْجَزہ۔ ہر گاہ اس ارادہ  
کروا آس تہ بیکو تھ کلام پیش کر تھ اِن هَذَا اَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ بے چھونہ کنہ تہ مگر بے دلیل  
تھہ پونشہ۔ سمہ تھہ برون تھن نشہ نقل کرنہ آمزہ چھہ وَاذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ  
عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا جَارًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ إِلَيْنَا اُمہ خوتہ چھہ قابل ذکر بے تھہ کہ تم  
آس ونان کہ خدایا ہر گاہ بے قرآن مجید پڑپاٹھ چھو چانی طرفہ تلہ تراوت تھ نہ مانہ خیطرہ اُسہ پیٹھ آس تھہ  
طرفہ کنہ رُود۔ نتہ اتناو اُسہ نشہ کڈر عذاب۔ بے آس نہ تمن خبر کہ خدایہ سنزن کالین اندر چھہ خاص  
مصلحہ آسان عذاب نہ کرہ نُس منز چھہ کھنہ وجوہ آسان تمن وجوہن تہ مؤانعن ہند بیان چھو اُمہ پتہ۔

أَوْ أَتَيْنَا بِعَذَابٍ إِلَيْهِمْ ۝ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ  
 فِيهِمْ ۝ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ۝  
 وَمَا لَهُمْ أَنْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ  
 الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ ۚ إِنَّ أَوْلِيَاءَ ۙ إِلَّا الْمُتَّقُونَ  
 وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ  
 عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مَكَاءً وَتَصَدِيَةٌ فَذُوقُوا الْعَذَابَ  
 بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللَّهُ تَعَالَى كَرِهَ نَهْرُ كَزِ تَمِنَ عَذَابَ نُهْمَ تَمِنَ مَنْزِ مَوْجُودِ آسِخَسِ  
 حَالَسِ أَنْدَرِ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ بِهِي تَهْمَ پَاهْمَ كَرِهَ بِاللَّهِ تَعَالَى تَمِنَ عَذَابَ بِهِي  
 حَالَسِ أَنْدَرِ تَمِ آسَمِنَ كُنْهَ وَتَمِ تَهْرَكَمَ رَسْمَ مَطَابِقِ مَغْفِرَاتِ مَكَانِ - طَوَافِ كِرَانِ كِرَانِ "غَفَرَ أَنْكَ"  
 پَرَانِ وَمَا لَهُمْ أَنْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ تَمِنَ كِيَاهِ خُصُوصِيَّتِ آسِ تَمِنَ كَرِهَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَذَابَ وَهُمْ يَصُدُّونَ  
 عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَالِجِهِ تَمِ آسِ بَدِغَانَهَ كِرَانِ لَوْ كُنَ تَمِ بِتَيْمَبِرِ بِرِ حَقْسِ آسِ پَتَهَ رِثَانِ مَسْجِدِ حَرَامِ  
 نَجْهَ إِنَّ نَشْمَ - وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَ ۙ حَالِجِهِ آسِ نَهَ تَمِ لَوْ كَهَ مَسْجِدِهَ مَهْدِ مَتَوَلَّى تَمِ اخْتِيَارِهَ وَآلِ - كِحِ قَابِلِيَّتَيْهِ  
 آسِ نَهَ تَمِنَ - كُنْهَ طَرِيقَهَ أَوْسِ نَهَ تَمِنَ تَمِ كَرْمُكَ حَقِ إِنَّ أَوْلِيَاءَ ۙ إِلَّا الْمُتَّقُونَ تَمَكِ اخْتِيَارِهَ وَآلِ تَمِ مَتَوَلَّى  
 آجِ قَابِلِيَّتِ جَهْنَهَ مَكْرَ بِرِ هِيَزْ كَارِ بِنْدَنِ تَمِ گَنَ بِآيْمَانِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لَكِنِ تَمِ أُنْدَرِهَ چَهْمَ  
 وَبِهِي كَيْتِ تَمِنَ نَهَ آجِ يَعْنِي پَنَبَهَ نَا قَابِلِيَّتِ خَبْرِي چَهْمَ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مَكَاءً  
 وَتَصَدِيَةٌ بِهِي آسِ نَهَ نَمَازِ تَهْمَزِ خَانَهَ كَعْبَسِ نَشْمَ مَكْرَ آسُوسِيَّتِ شَرِينِ وَآلَمِنَ - بِهِي أَتْهَوسِيَّتِ ثَرَهَ پُوبِ  
 كِرَانِ أَتْهَ نَا مَعْقُولِ حَرَقْسِ آسِ نَمَازِ دَوْنَانِ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ لَهَذَا تَهْ وَوَدُونَ عَذَابِ  
 تَمِ تَهْرَهَ بَدَلِ نَسِ نُهْمَهَ كِرَانِ آسُوهَ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدَّوْا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُجْشَرُونَ ﴿۳۷﴾ لِيَبَيِّنَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۳۸﴾ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَدْتَهُمْ يُغْفَرْ لَهُمْ مَآ قَد سَلَفَ ۗ وَإِنْ يَعُودُوا

ہر پاپہ تم کافر جہہ تم جہہ مال میں خرچ کران لوکن منز خدا یہ سزہ وہ تہ نغمہ ہتھہ رنہ خیطرہ۔ ہوگیہ تہنز بدنی عبادت یہ کیہ تہنز مالی عبادت فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ آئیندہ تہ روزن تم امہ خیطرہ مال خرچ کران۔ پتولا کہ سپدہ سوماں تہندہ خیطرہ حسرتک سبب۔ پتولا کہ سپدن مغلوب تہ ذلیل۔ یہ گوکہہ دنیاک عذاب۔ آخر تک عذاب گوکہ الگ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُجْشَرُونَ تمبو لو کو کفر کور تم ساری میں سونبراونہ قیامتک دوه جہنم من سوزنہ خیطرہ لِيَبَيِّنَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ تہہ اللہ تعالیٰ الگ کرہ ناپاک لوکن پاک لو کونشہ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ یہ دہہ بر تہ ناپاک لوکن اکہ اکس پیٹہ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ یعنی اکہ اکس سیت تہہ تہہ تہہ کھارہ تم ساری اکہہ ڈیراہ۔ تو پتہ دیکھ یکہ دہہ بر تہ جہنم منز أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ سے لو کہہ کیا گئے تاوان زدیتہ تاوان زدگی نہاتھی جھونہ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَدْتَهُمْ يُغْفَرْ لَهُمْ مَآ قَد سَلَفَ فرماوے کہ تہہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافرین میں برو ٹھم مضمون پوز تہہ کھنہ اثر سپد مت آسہ کہ ہر گاہ تم کفرہ تہ خر کہہ نشہ پتہ روز تہہ مسلمان سپدن تم لیہ برو ٹھس ساری بخشاش کرنہ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُذُكُ الْأَوَّلِينَ ہر گاہ دوبارہ یہ کفرے کرن بدستور روزن کفر سی پیٹہ۔ پس چہہ برو ٹھم کافرین ہنز روش گذرے موی۔ تمبو کیاہ کور تہ تم کیاہ بیوہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ تُهَبَّ كَر و یارسول اللہ تم کافرین سیت جہاد۔ ہر گاہ تم کفر سی

فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ ﴿۳۸﴾ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۳۹﴾ وَإِن تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿۴۰﴾  
 وَأَعْلَمُوا أَنبَا غَنِيْمَتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُصْمَهُ وَ  
 لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ  
 السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمِنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ

پیٹھ روزن یاتان یہ شرک و کفر کتنے سپہ ختم۔ وَیَكُونَ الدِّینُ كُلُّهُ لِلَّهِ پریتھ طرفہ پھیلے  
 دین خدایہ سُدوی فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ توپتہ ہر گاہ تم پتھ روزن کُفرہ نشہ  
 اللہ تعالیٰ چھو تہنزہ سارے کامہ و چھان وَإِن تَوَلَّوْا فَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَىٰ  
 وَنِعْمَ النَّصِيرُ ہر گاہ تم روگردانی کرن۔ تہہ رُو زو مضبوط۔ خدایہ سُن د نا پتھ کُفر و تہند مقابلہ۔ تہہ  
 زانو پز پاٹھہ کہ اللہ تعالیٰ چھو تہند رفیق۔ سُوی چھو رت رفیق تہ رت مددگار تہند وَأَعْلَمُوا أَنبَا  
 غَنِيْمَتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُصْمَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ  
 السَّبِيلِ یہ زانو یہ تھہ وارہ کہہ تھیق یہ کیڑہ ہاہ توبہ کافر ان نشہ مال غنیمت حاصل کروئس چھو تمیک  
 حکم۔ تھہ سارسی گڑھن پانژھ حصہ کرنہ من۔ توپتہ گڑھن تھہ پانژہ مس حصس یہ پانژھ حصہ کرنہ من۔  
 تمہ منزہ پانژہ سُم حصہ خدایس تہ تہندس بیغمبرہ سندہ خیطرہ تھاون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرن  
 نیابہ خدایہ سُن حصہ وصول توپتہ کرن تم خرچ تمہ منزہ پنے نین ذاتی اخراجاتن پیٹھ۔ یہ پنے نین اہل  
 قرابتن پیٹھ سہوا ابتداء پیٹھ تمن لُصرت و مدد کور۔ بنی ہاشم، بنی مطلبو اندرہ سکن زکوٰۃ رٹن چھہ حرام،  
 یہ تین تہ حاجت مند مسلمانن پیٹھ۔ یہ مسافرن پیٹھ۔ تمہ پتہ سم ژور حصہ مال غنیمتک باقی چھہ تم من

الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِي الْجَمْعِينَ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۱۱﴾  
 إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ وَ  
 الرِّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِاخْتَلَفْتُمْ فِي  
 الْمِيعَادِ وَلَكِن لِّيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لِيَهْلِكَ  
 مَنْ هَلَكَ عَنْ آيَاتِنَا وَيَحْيِيَ مَنْ حَيَّ عَنْ آيَاتِنَا وَإِنَّ

لشکرہ پیٹھ تقسیم کرنے۔ سوارس زہ حصہ، پتھر یکہ وئس اکھ حصہ۔ اِن كُنْتُمْ اَمْنُكُمْ بِاللّٰهِ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلٰى  
 عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقِي الْجَمْعِينَ ہر گاہ توہمہ پڑھ کر وہ خدائیس۔ بیہ کورہ تس پیٹھ یقین۔ بیہ  
 تھ پیٹھ بیہ اسمہ نازل کور پنہ ئس بندہ خاص، حضرت محمد س پیٹھ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ دوہہ۔ یعنی  
 جنگ بدر کہ دوہہ۔ سمہ دوہہ زہ جماژ با ایمان تہ کافر، اورہ یور مقابل سپدہ۔ یوم الفرقانہ اندر چھو مراد  
 جنگ بدر کہ دوہہ۔ سمہ دوہہ ہزس تہ ہزس فرق آیہ کرنہ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اللّٰهُ تَعَالٰى چھو  
 پر تھ چیز س پیٹھ یور قدر تہ وول إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ سمہ دوہہ  
 تہہ آسوہ اے با ایمانو میدان چھہ کس بنارس پیٹھ ئس مدینہ شریفس نزدیک اوس۔ کافر آس میدانہ  
 کس تھہ بنارس پیٹھ ئس مدینہ شریفہ نشہ دور اوس۔ وَالرِّكْبُ أَسْفَلَ مِنْكُمْ أَبُو سَفِيَانَةَ سُنْد قَاتِلَه  
 اوس توہہ یونمہ طرفہ سمندرہ کس بنارس قریب پکان وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ لِاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ ہر گاہ  
 تہہ فریقین پانہ وان جنگ کرنہ خیرہ کانہ وقاہ مقرر کرہ ہو۔ تھہ وئس منز گروہہ ہوہ توہمہ اختلاف تہ  
 ئس و پیش ممکن اوس کہہ پنہ کم سامان آسنہ موکھہ ملیہ ہوہ تہہ وئس پیٹھ وَلَكِن مَّكْرَ اللّٰهِ تَعَالٰى ہن  
 سونبر اووہ تہہ اورہ یور وقت مقرر کرنہ وراى لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا اللّٰهُ تَعَالٰى جاری کرہ  
 سُوْحُمُ ئِس تَمَسُ كَرْدَن اُوس یعنی عزت اسلام شکست کفر لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ آيَاتِنَا وَيَحْيِيَ مَنْ حَيَّ  
 عَنْ آيَاتِنَا بیہ تدبیر کمر اللہ تعالیٰ ان تھہ بیہ نین قدرت و چھت ہلاک گروہہ ون تہ ہلاک گروہہ ذلیل  
 و چھت۔ زندہ روزہ ئس زندہ روزہ ذلیل و چھت۔ یعنی پر تھہ اکس سپدہ معلوم قدرت خدایہ تھہ پاتھ

اللَّهُ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۲﴾ إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَنَايِكَ قَلِيلًا  
 وَلَوْ أَرَاكُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ  
 وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۳۳﴾ وَ  
 إِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ التَّقَاتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيَقَلُّكُمْ  
 فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۗ وَإِلَى اللَّهِ  
 تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿۳۴﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذِ الْقِيَامَةُ فَمَنْ

کمر تم تن یاری مسلمان۔ ساز و سامانہ و رای کمر تھ فتح عطا و ان الله لسمیع علیہ بیہ چھو بیٹک اللہ  
 تعالیٰ سوری بوزہ ون، سو زوی زانہ ون اذ یریکم اللہ فی منامک قلیلاً سو وقت بیہ چھو یاد کرس  
 قابل یلہ اللہ تعالیٰ ان ہا و وہ تو بہ کافر ن ہنز لشکر خوائس منز کم ولو اراکم کثیرا لفشلتم ہر گاہ  
 تو بہ ہا و وہ سو لشکر زیادہ تعدا دہ کن تلہ سپدہ ہو تہہ کم ہمت و لتنازعتم فی الامر بیہ کرہ ہو تہہ  
 ضرور اختلاف جہاد کرس اندر و لیکن اللہ سلم لیکن اللہ تعالیٰ ان تھا و وہ تمو دو شوی چیز و  
 نعمہ بسلامت۔ نہ کمر وہ تو بہ اختلاف نہ سپدہ تہہ کم ہمت انہ علیہ یدات الصدور ہر پاتھ سو  
 چھو پور زانہ ون و کن ہنزہ تہہ۔ و اذ یریکم وہم اذ التقیتم فی اعینکم قلیلاً و یقلکم فی اعینہم  
 بیہ پا و و تیش یلہ اللہ تعالیٰ ان ہمز ن نظرن اندر ان تم کی سمہ ساتہ تو بہ مقابلہ ہیو توہ کرن۔ تہزن  
 نظرن منز بیہ انہو تہہ کمی تہہ جانینن مقابلک جذبہ مضبوط سپدہ۔ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا بیہ  
 بیہ کور اللہ تعالیٰ ان تہہ سو پورہ کرہ تہہ خمس یس خمس بہر حال کرن اوس۔ عزت اسلام۔ شکست کفر  
 و الی اللہ ترجع الامور خدایہ سی گن چھہ سارے کامہ رجوع کران یا ایہا الذین امنوا اذا  
 لقیتم فتنۃ فاقبضوا و اذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون اکی با ایمانویلیہ تہہ جہادس  
 منز سمکھان آسو کافر ن ہندس منہ جماعتس سیت۔ تمہ ساتہ گڑھہ سمن چیزن ہند پورہ خیال تھا ون آھہ  
 گڑھہ ثابت قدم روزن، ژکن گڑھہ نہ۔ بیہ گڑھہ سیٹھایا د خد اکرن تہہ تہہ کامیاب سپدہ۔ یاد خدا سیت



فَأَثْبِتُوا وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۳۵﴾  
 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَتَازَعُوا فَعُدْتُمْ وَأَنْتُمْ صَاهِبُونَ  
 رِيحِكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿۳۶﴾ وَلَا تَكُونُوا  
 كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَأَرَاءَ النَّاسِ وَ  
 يُصَدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ ﴿۳۷﴾  
 وَإِذْ زَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لِغَالِبٍ لَكُمْ  
 الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَيْنِ

چهودل قوی سپدان و اطیعوا الله ورسوله بیه گزوه خدلیه سنزیه تهنس پیغمبره سنز فرمانبرداری  
 کرن کانه کاما گزه نه خلاف شرع سپدن و لا تتازعوا فعدتتم و انتم صاهبون بیه گزه نه پانه  
 وان هره هره ته قضیه کرن تمه سیت گزه پست تمت ته سنت - بیه دوتهه تهنس رب وداب لو کنی همزن  
 نظرن اندر و اصبروا بیه کمر و صبر ان الله مع الصبرین پزاطه الله تعالی چهود صبر کره و نین  
 سیت سیت - تمند سیت آسوی چهود نصر تک باعث و لا تکونوا کالذین خرچوا من دیارهم  
 بطرا و اراء الناس بیه مه آسوتجه تم کافر لو کن ہی یم درای اتھ جگس منز پنه نیوشهر و منز  
 تکبر و غروره سان - بیه لو کن تھیکان تھیکان و یصدون عن سبیل الله بیه درای لو که تھه رنه خیره  
 خدلیه سنزه و تهنس - و الله بما یعملون محیط الله تعالی چهود همزن سارنی کاین احاطه کره ون و  
 اذ زین لهم الشیطان اعمالهم بیه کمر و سو دوه یاد سمه دوه شیطان تم کافرن اندر و سوسجه ذریه  
 زینت ذیت و قال لغالب لکم الیوم من الناس دو بجهه از پوشنه ته به کانه ته لو کواندره و ائی  
 جار لکم لو چهودس پانه تهنس مدگار فلما ترأت الفیتین نکص علی عقبیه اده سمه سته

نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بِرِئِي مُنْكَرٌ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ  
 إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝۳۸ إِذْ يَقُولُ  
 الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرْهُؤَلَاءِ دِينِهِمْ  
 وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝۳۹ وَ  
 لَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ  
 وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝۴۰ ذَٰلِكَ

دو شوے جماثر (با ایمان نہ کافر نہ ہنر) کہہ اُس مقابلہ لہر شیطاںس آؤ بوزنہ ملائکہ ہند نازل سپدن۔ شیعہ  
 ثزل سوہوت پوئے وَقَالَ إِنِّي بِرِئِي مُنْكَرٌ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ فندو، فریبو نہ اپز یو وعدو سیت ناو واللہ  
 لوگھہ دپنہ مہ چھو نہ توہہ سیت کانہ واسطہ۔ یو چھوس وچھان تی یہ نہ توہہ بوزنہ پوان چھو رانی  
 أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ یو چھوس کھوژان خدائس۔ اللہ تعالیٰ چھو سخت عذاب کرہ ون۔  
 خطرہ چھومہ کہ چھہ جسک اندر مایہہ کوٹھس کانہ ژنڈاہ۔ عمرہ خیطرہ گڑھہہ کوٹھہ برہم إِذْ يَقُولُ  
 الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ غَرْهُؤَلَاءِ دِينِهِمْ سمہ دوہنہ منافق بیہ تم لوکہ یہندین  
 ولن اندر شج بیماری آس ونان آس مغزور چھہ کرمت سم لوکہ یعنی مسلمان دین پن۔ ہلائس منز چھہ  
 زورہ پن پان تراوان۔ تعدادہ کن کم آتھہ۔ سامانہ کن کم آتھہ چھہ یم مسلح فوجس سیت مقابلہ کرنہ  
 خیطرہ آمادہ سپدن وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان یمن  
 چھو پور توکل تہ اعتماد پنہ نس خدائس پیٹھہ۔ لہذائس اکھاہ معبود برحقس پیٹھہ توکل کرہ تمسند ول سپدہ  
 ضرور مضبوط تہ محکم۔ کیا زہند مددگار چھو اللہ تعالیٰ بیشک سوچھوز بردست حمتہ وول۔ وَلَوْ تَرَىٰ  
 إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ہر گاہ نہہہ وچھو تمہہ سائک حال  
 سمہ ساتہ تمن کافرن قبض روح کران آس ملائکہ، توہہ پیہ ہاؤزنہ عجیب واقعہ۔ تم ملک آس تمہہ  
 ساتہ نازہ ویو ڈیسو سیت کافرن ہندین تمہین تہ ٹھرن پیٹھہ چوب ودان۔ گویا لائھی چارج کران

بِمَا قَدَّمْتُمْ أَبْيَدِيكُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝  
 كَذَابٍ أَلِيٍّ فِرْعَوْنُ ۗ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ  
 فَآخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝  
 ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّىٰ  
 يُغَيِّرُوا أَمْرًا بِأَنفُسِهِمْ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝  
 فِرْعَوْنُ ۗ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ

وَذُو قُوَّةٍ أَعْدَابُ الْجَحْرِ ۖ بِمِ آسِجْه وَنَانَ وَنَه كِيَاهِ وَجْهَو تَوْبَه - ژهونار جهنمک عذاب - یہ عذاب  
 وھونہ آخرتہ کس عذابس نسبت کہنی ذلک بمآقدمات ابیدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبيد یہ  
 وھو توبہ تمن بھم عملن ہند بدلہ سمہ توبہ پنہ نیواتھو برو نہ گن سوزوہ - یہ زانو تہہ وارہ کہ اللہ تعالیٰ  
 وھنہ ہرگز بندن ظلم کرہ ون - ناحق کرہ بھم عذابس گرفتار کذآب ال فرعون والذین من قبلہم  
 سمن کافرن ہنز حالت چھہ تھہ اند کہ کفر ونا فرمانی پیٹھ او تمن سزاونہ - یڑھی بڑھ فرعونہ سدہ قوی  
 یہ تمن کافرن ہنز حالت چھہ تھہ اند کہ کفر و آیات اللہ تموتہ کیا کور کفر تہ انکار خدایہ سندس  
 آیاتن فأخذہم اللہ بذنوبہم کس رٹ تم اللہ تعالیٰ ان تہزن نافرمانین ہندہ وجہہ ان اللہ قوی  
 شدید العقاب پڑاٹھ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ طاقتہ دول سخت عذاب کرہ ون ذلک یان اللہ لم یکن  
 مغیرا نعمة انعمہا علی قوم حسی یغیروا مآب انفسہم یہ تھہ کہ اس کیا چھہ تجرمہ ورا ی سزادوان  
 چھہ امی وجہہ کہ آسہ نعرہ چھو اکھہ قانون تہ قاعدہ مقرر - سو گوزہ اللہ تعالیٰ چھونہ کنہ تھہ نعمتس بدلاوان  
 یوسہ نہ قومس تم عطا کر مرث آسہ - توتان یوتان نہ تے تمن کاین بدلاون سمہ تمن سپردتہ منہ آسہ  
 کرنہ آمرہ یعنی عبادت تہ اطاعت وان اللہ سمیع علیہ یہ تھہ چھہ ثابت کہ اللہ تعالیٰ چھو سوزوی  
 یوزہ ون ، سوزوی زانہ ون - بھہ حالت بدلاو عکس معاملس اندرتہ چھہ تہنز حالت کذآب ال فرعون  
 والذین من قبلہم توھی یڑھ قوم فرعون تہ بین کافرن ہنز حالت آس - تم تمن بروٹھ

يَذُوبُهُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ ﴿٥٢﴾  
 إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٥٣﴾  
 الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ فِي كُلِّ  
 مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ ﴿٥٤﴾ وَأَمَّا تَشَقُّقَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِمْ  
 مَنْ خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدْكُرُونَ ﴿٥٥﴾ وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ  
 خِيَانَةً فَايْتِدِ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ ﴿٥٦﴾

آس کذبوایا بیت ریبو تمبوکتر پنہ نس پروردگارہ سیدین آیات انکار تہ تم زانجھہ اپز فاملکلم  
 یذوبوہم نہس گال تم اسہ تمہنی گنہن تہ نافرمانین ہمدہ وجہہ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بیہ پھاؤ اسہ  
 فرعونہ سُنہ قوم دریاؤس اندر وَكُلُّ كَانُوا ظَالِمِينَ تم ساری آس سیٹھاہ سرکش تہ ظالم اِن  
 شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ بزپانجھہ مخلوقو اندرہ وجہہ بدتر اللہ تعالیٰ آس نشہ  
 تم لوکھ سمبوکتر کور۔ پس ان نہ تم سُنہ طریقہ ایمان الَّذِينَ عَاهَدتَّ مِنْهُمْ ثُمَّ يَنْقُضُونَ عَهْدَهُمْ  
 فِي كُلِّ مَرَّةٍ وَهُمْ لَا يَتَّقُونَ بھن سیت توبہہ صلح عمد و بیان کردہ۔ تو پتہ وجہہ تم پریتھہ لہہ  
 پھرواوان سو پٹن معاہدہ۔ بیہ وجہہ عہد شکنی کر نہس کھوژان تہ وَأَمَّا تَشَقُّقَهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِمْ مَنْ  
 خَلَفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَدْكُرُونَ نہس ہر گاہ تہہ لیو کہ تم عمد شکنی کردہ ون جھگس اندر مقابلہ کران۔ تم ن پیٹھ  
 گروہہ شیتھ حملہ کران۔ تہندہ سیت گروہن ژاروان تم تم تم ن پتہ آس مدد گاریا تم ن پتہ اوہ وان آس۔  
 بیتھ تم عبرت رنن وَأَمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً بیہ ہر گاہ تہہ کھوژوتہ اندیشہ کردنہ تو پتہ  
 عہد شکنی فَايْتِدِ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ نہس واپس سُر و تہند سو عمد تمہنی گن۔ یعنی سو عمد پھڑ اوو۔ مگر تمہ عمد  
 کہ پھڑ اونچ خبر گروہہ سیدن دوشون فریقن برابر برابر یعنی تم ن کرو خبر جنگ واقع کردہ برو تھہ کہ چونکہ  
 تہہ چھوہ سمہ سمہ قسچہ حر کش کران لہذا نہس عمد اہ توبہہ سیت کردہ آمت و چھوسو گو ختم۔ بیتھہ تم توبہہ  
 پیٹھ بُور کھارن۔ بیتھہ صاف اطلاعہ و رای تم ن سیت جنگ کران گیبہ خیانت إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْزِرُونَ ﴿۵۹﴾ وَ  
 أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ  
 تُرْهَبُونَ بِهِ وَعَدُّوا اللَّهَ وَعَدُوَّكُمْ وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ  
 لَأَتَعْلَمُونَهُمْ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ  
 اللَّهِ يُوفِّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تظْلَمُونَ ﴿۶۰﴾ وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ  
 فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۶۱﴾

الْحَائِبِينَ ہز پانچہ اللہ تعالیٰ جھونہ خیانت کرہ و نین ہند کران وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا گمانہ  
 مہ کرن کافر کہ تم کیا ژل اسہ نشہ۔ وون بیکو کہ نہ اس تم قابو کرتہ لَأَتَعْلَمُونَهُمْ لَا يُعْزِرُونَ ہز پات تم  
 بیکن نہ اسہ عنتر چیزہ سیت عاجز تہ تنگ کمر تہ۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ  
 الْخَيْلِ ای مسلماؤ تیار کمر و کافرن سیت جہاد کرنہ خیطرہ ہیہ ممکن سپدہ تہ سامانہ اندرہ، گور گندت  
 تھاوند اندرہ تُرْهَبُونَ بِهِ وَعَدُّوا اللَّهَ وَعَدُوَّكُمْ تمہ سیت کھوڑہ ناویو کہہ تہہ خدایہ ہند دشمن تہ ہن  
 دشمن تہ یعنی مکب کافر وَأَخْرَيْنَ مِنْ دُونِهِمْ ہیہ مکہ کین کافرن و رای تہ باقی دشمن لَأَتَعْلَمُونَهُمْ  
 اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ تم نہ تہہ زانیچہ بلکہ زانیچہ اللہ تعالیٰ پور وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوفِّ  
 إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تظْلَمُونَ ہیہ نیس چیزہ خرچ کمر و تہہ خدایہ سزہ وتہ اندر تہہ منز جہاد تہ شامل جھو  
 تمبک بدلہ ہیہ توبہ پور عطا کرنہ۔ توبہ نسبت ہیہ نہ کانہہ کمیہ تہہ اندر کرنہ۔ حدیث شریفن اندر جہہ  
 تیر اندازی پچھ نچ مشق کرنچ، گرز پچھ نچ، گرس پیٹھ کھسن پچھ نچ سیٹھاہ فضیلت آثر۔ اکرہ وقتہ گو  
 بندوق، توپ تہ باقی آلات جدیدہ چلاون پچھن تمبک قائم مقام۔ عام طور و رزش کرن تہ تہہ منز  
 داخل وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلَامِ فَاجْنَحْ لَهَا ہیہ ہر گاہ کافر صلحس کن مایل سپدن توبہ تہ جھو اجازت کہ  
 ہر گاہ تہہ تہ سپد مایل تہہ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ہیہ کمر و تہہ اعتماد اللہ تعالیٰ اس پیٹھ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ  
 الْعَلِيمُ ہز پانچہ سو جھو سو زوی بوزہ ون۔ سُورَى زانہ ون وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخُدُّوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ

وَأَنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُواكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي  
 آتَاكَ بِبَصِيرَةٍ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿۶۲﴾ وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ  
 مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا آتَاكَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ  
 آتَاكَ بِبَيْنِهِمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۶۳﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَ  
 مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۶۴﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ  
 عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا  
 مِائَتِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ

اللَّهُ بھ ہر گاہ تم توہمہ ڈھوکہ پڑھن دین، بس چھو بیٹک اللہ تعالیٰ توہمہ مدد کرنہ خیرہ، حفاظت کرنہ  
 خیرہ کافی۔ چنانچہ هُوَ الَّذِي آتَاكَ بِبَصِيرَةٍ وَالْمُؤْمِنِينَ سُوگو سُوی سم توہمہ غیبی مدد کور  
 ملا جو سیت۔ ظاہری مدد کور با ایمانوسیت وَأَلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ سم پروردگارن آلفت تروو با ایمان  
 ہندمن دلن اندر لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا آتَاكَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ آتَاكَ بِبَيْنِهِمْ  
 ہر گاہ تمہہ خرچ کرہ ہوتہ سوزوی مال نیس زمینس بیٹھ چھو توتہ بیکہونہ آلفت سپدہ کتر تھ تہندمن دلن  
 اندر۔ لیکن اللہ تعالیٰ فی تروو آلفت تمن منز۔ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ پزپاک سُو چھو زور آور حکمت وول  
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ای پیغمبر بس چھو توہمہ اللہ تعالیٰ بھ سم توہمہ  
 سیت چھہ با ایمان يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ای پیغمبر شوق تہ ترغیب دیو با ایمان  
 جمادک۔ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتِينَ ہر گاہ توہمہ منزوہ (۲۰) زن صبر  
 کرہ ون آسن تم پو شن کافر و اندرہ دون تن (۲۰۰)۔ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ  
 کفرؤا یا انہم قوم لایفقہون ہر گاہ توہمہ منزہ اکھ تمہہ مجاہد صبر کرہ ون آسن تم پو شن اکس  
 ساس کافر س بیاہہ تم چھہ تو ماہہ نا سبجہ اَلَنْ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ

كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٤٥﴾ أَلَنْ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ  
وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا  
مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ  
مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى  
يُثَخِّنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ  
الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٤٧﴾ لَوْلَا كُتِبَ مِنَ اللَّهِ سَبَقٌ

مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ گوڈوہیک حکم بلہ صحابہ صمیمین پیٹھ دشوار سپد، اللہ تعالیٰ ان کور سو  
حکم منوخ۔ فرمویں وون کر اللہ تعالیٰ ان توہم پیٹھ تھیف۔ تم زون کہ توہم اندر چھ سستی۔ لہذا  
چھوون یہ حکم کہ اگر توہم منز آسن اکھ ہتھ مجاہد ثابت قدم تم سپن غالب دون تہن کافرن پیٹھ۔ وَاَنْ  
يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ ستنہ پاٹھ ہر گاہ توہم منزہ آسن اکھ ساس  
مجاہد تم سپن غالب دون ساسن کافرن پیٹھ خدایہ سندہ حکمہ سیت۔ کیا زہ اللہ تعالیٰ چھو صبر کرہ و نین  
سیت سیت تہن مدد کر ان ماکان لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتَّى يُثَخِّنَ فِي الْأَرْضِ ای مسلمانو  
توہم دیو توہ مشورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قید سن زہ کہہ نہ مال ہتھ تم تراوانا نگ۔ یہ گونہ جان۔  
کیا زہ نبی کریم سندس شائس شوہ نہ کہہ تہم قیدی کیائین چھڈ نہ قتلہ وراي بلکہ گدھن تم قتل کرنہ  
ین۔ تا اینکه زمینس منز سپدہ کافرن ہنز خونریزی، شرتہ فساد دفع تُرِيدُونَ عَرَصَ الدُّنْيَا ای  
مُسلماؤ تہم چھو ژھانڈان دنیاء ک سامان تمی موکھ دژوہ رائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم قیدی  
فدیہ رتھ تراؤس پیٹھ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ اللہ تعالیٰ چھو تہم خیرہ را ضی آخر جس سامانس وَاللَّهُ  
عَزِيزٌ حَكِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو زبردست حمیتہ وول۔ سو کہہ ہا توہم کافرن پیٹھ غلبہ دتھ سیتھہ مالدار  
لَوْلَا كُتِبَ مِنَ اللَّهِ سَبَقٌ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ہر گاہ لے اللہ تعالیٰ ان در روز ازل  
لیو کھمت آسا کہہ بمو قید یو منزہ ان بعضی ایمان سمہ سیت نہ کا نہہ فساد واقع سپدہ، سمیوک احتمال اوس نتہ

لَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٧٨﴾ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ  
 حَلَالًا طَيِّبًا ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٩﴾  
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَشْرَىٰ إِنْ يَعْلَمِ اللَّهُ فِي  
 قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ وَيَغْفِرَ لَكُمْ ۖ وَاللَّهُ غَفُورٌ  
 رَحِيمٌ ﴿٨٠﴾ وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ  
 فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٨١﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا هَاجَرُوا

سیدہ ہاتھ پیٹھ یمنِ نغمہ یہ فدیہ رنہ مٹو کہہ لود عذاب نازل۔ چونکہ کانہ فسادہ واقع سپد نہ۔ تہنہ مشورہ  
 دراؤ اتفاقاً توی سہمہ مٹو کہہ تہہ سزاء نغمہ محفوظ رود وہ۔ فکلو ا مٹا غنمٹم حلالا طیباً وون کھیو تہمہ  
 منزہ یہ توبہ حاصل کور وہ تمن نغمہ فدیہ پاٹ۔ حلال طیب زانہ۔ واتقوا اللہ ان اللہ غفور  
 رحیم۔ یہ کھو تواللہ تعالیٰ اس۔ آیندہ مہ کمر و پڑھہ کام زانہ۔ بزپاٹھ اللہ تعالیٰ چھو مغفرت کرہ  
 ون۔ رحم کرہ ون۔ گنہس کمر نوہ بخشائس۔ یہ گو مغفرت۔ مال فدیہ کرنہ حلال یہ گنیہ رحمت۔  
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي أَيْدِيكُمْ مِنَ الْأَشْرَىٰ ای پیغمبر فرما وون تمن قیدین سم تہندس قبضس منز چہہ ان  
 يَعْلَمِ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أَخَذَ مِنْكُمْ ہر گاہ اللہ تعالیٰ تہندین وکن اندر نیکی تہ رثر  
 وچہہ اسلام قبول کرس اندر تلہ کرہ سو توبہ عطا بہتر مال تمہ مالہ محو تہ بس توبہ نغمہ وصول کرنہ او  
 فدیہس اندر و یغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ یہ کرہ توبہ مغفرت۔ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھا مغفرت کرہ ون،  
 رحم کرہ ون و ان یُریدوا خیانَتک ہر گاہ تہنز خواہش آسہ توبہ دھوکہ دین اسلام آنہ سیت، یا  
 رسول اللہ، سو کہنہ نوتہہ چھنہ فقد خانوا اللہ من قبل بس تھنن تمہو چھو ازمہ برو تھ تہ خدا بس  
 پنہ خیالہ دھوکہ دیتمت۔ مگر خدا بس ہی کہ نہ کانہ دھوکہ دتہ فامکن منہم بس موقعہ دیت اللہ تعالیٰ  
 ان توبہ تمن نغمہ انتقام بینک برو تھمہ لہ واللہ علیہ حکیم اللہ تعالیٰ چھو زانہ وول۔ تمس چہہ خبر  
 خیانتہ وول تہہ چھو۔ حکمتہ وول پنہ حکمتہ سیت کرہ سو یہ کانہ صورت پیدہ۔ سمہ سیت تم یہہ گرفتار



وَجَهْدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوُوا  
وَنَصَرُوا أَوْلِيَّكَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا  
وَلَمْ يُهَاجِرُوا وَمَالَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا  
وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ  
بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿۶۲﴾ وَالَّذِينَ  
كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٌ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ

سہدن۔ اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِزَيٰتِ سَمُوْكَو كُو اِيْمَانِ  
اَوْنِ بِيْهِ سَمُوْ بَجْرَتِ تَرَكْمَر، بَنُوْ دَطْنِ مَحْمَدِ شَرِيْفِ تَرُوْكَه وِيَكْمَ مَحْمَدِيَّة۔ بِيْهِ سَمُوْ جِهَادِ كُو رِمَالِ وَجَانِه سِيْتِ  
خَدَلِيْهِ سَبْرَه وَتِيْ اَنْدَرِ تَمْنِ صَحَابِه صَمِيْنِ چَهْدِه وَنَانِ مِهَاجِرِ وَالَّذِيْنَ اَوَّوْا وَنَصَرُوْا بِبِيْهِ سَمُوْ لُو كُو تَمْنِ  
مِهَاجِرِنِ پَنَه نَسِ شَهْرَسِ اَنْدَرِ جَايِ وَثَر، بِيْهِ مَدَكُوْر، تَمْنِ چَهْدِه وَنَانِ اَنْصَارِ۔ مَدِيْنَه مَتُوْرِكِ صَحَابِه صَيْبِ  
اَوَّلِيْكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ تَمِ چَهْدِه پَانَه وَاِنْ اَكْه اَسْنَدُوْ سَتِ بِيْهِ وَاِرْثِ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَنَصَرُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا  
مَالَكُمْ مِنْ وَلَايَتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوْا بِبِيْهِ سَمُوْ لُو كُو اِيْمَانِ اَتَهْ بَجْرَتِ كَرْمَه تَمْنِ چَهْوَنَه تُوْبِه  
سِيْتِ نَه دُوْسْتِيْ هِنْدِ كَانَه تَعْلَقِنِ نَه وَرَا تَنِك۔ يُوْتَانِ نَه تَمِ تِيْ بَجْرَتِ كَرْنِ۔ تَلِيْ چَهْدِه تَمِ تِيْ تَهْ كَمْسِ اَنْدَرِ  
دَاخِلِ وَإِنْ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ ہر گاہ تَمِ تُوْبِه نَشْرِه وَبِخِيْ كُنْہِ كَامِه اَنْدَرِ مَدَدِ زَهَانْدِنِ۔  
يَعْنِيْ كَافِرِنِ سِيْتِ جِهَادِ كَرْنِ اَنْدَرِ تُوْبِه پَزِه تَمْنِ تَهْ اَنْدَرِ مَدَدِ كَرْنِ اِلَّا عَلٰی قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ  
مِيْثَاقٌ مَگَرِ كُوْ هِيْكَه مَدَدِ كَرْنِ۔ يَلِيْہِ تَمْنِ مُقَابَلَه اَسْمِه كَرْنِ تَمْنِ لُو كُنِ سِيْتِ تَمْنِ تِيْ تُوْبِه پَانَه وَاِنْ كَبِيْه  
مَعَاہِدَه اَسْمِه وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيْرٌ اللّٰهُ تَعَالٰی چَهْوِ تَهْمَزَه سَارِه كَامِه وَچَهَانِ وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا  
بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ كَافِرِ تَمِ چَهْدِه تَمِ تِيْ چَهْدِه اِذَا دِيْنِ هِنْدِ دُوْسْتِ وَاِرْثِ اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي  
الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ ہر گاہ تَبِه يَتَهْ كَمْسِ پِيْٹِه عَمَلِ كَرْمَه يَعْنِيْ مُسْلِمَانِ مُسْلِمَانِ پَانَه وَاِنْ اَكْه اَسْنَدِ مَدَدِ  
مَدَدِ گَارِ نَبُوْنَه تَمِيْلَه وَتَهْ مَلِكْسِ اَنْدَرِ فِتْنَه۔ بِيْهِ دُو تَه بُوْذِ فِسَادِ۔ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَهَدُوْا فِي

وَفَسَادٌ كَبِيرٌ<sup>۴۳</sup> وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدِ وَأَفِئ  
 سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ  
 حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ<sup>۴۴</sup> وَرِزْقٌ كَرِيمٌ<sup>۴۵</sup> وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ  
 وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدِ وَأَمَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ  
 بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ<sup>۴۶</sup>

سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا بیه سہو لو کو ایمان انتھ ہجرت کمر بیه  
 خدایہ سزہ و تہ اندر جہاد کور۔ بیه سہو مہاجر ن جای دژبہ امداد کور تم ساری مہاجر تہ انصار چہہ پز پانھ  
 مسلمان کہم مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ہندی خیطہ چھو بوذ مغفرت آخر کس منز بیه باعزت روزی جنتس  
 منز وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجْهَهُدِ وَأَمَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ بیه تم لو کہ سہو ہجرت نبویہ پتہ  
 ایمان اون۔ توپتہ ہجرت کمر، بیه توہہ سیت شامیل روز تھہ کافر ن سیت جہاد کر، تم لو کہ تہ چہہ توہی  
 اندرہ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ تم رشتہ دار چہہ مہاجرین سابقین ہند تم  
 چہہ زیادہ حقدار کہ اکس غیر رشتہ دار ن نسبت، خدایہ سندہ حکمہ موجب إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ پز پانھ  
 اللہ تعالیٰ چھو پر تھہ چیزہ از انہ دن تمی چھو پر تھہ وقتہ مصلحتہ موجب احکام مقرر کر ان۔



## سُورَةُ التَّوْبَةِ

بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ①  
 فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُجْزِي اللَّهِ  
 وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ ② وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى

یہ سورہ شریف ہے۔ بسم اللہ پر نہ یوان کہیںہ نہ۔ کیاہوہ۔ بسم اللہ چھو نہ نازل سپد مت آتھ سیت۔  
 یوسہ عبارتھہ قرآن مجیدہ کس حائیس پیٹھ لیکنہ آتھ سہ سو چھ فرضی تمیک ہر ان چھو نہ  
 ضروری۔ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ یہ چھو خدا اُس نہ تھندس پیغمبرہ  
 سندہ طرفہ تمہ معاہدہ دست برداری کس توبہ مشرک سیت کورمت اوسوہ۔ یہ صلح حدیبیہ ونان  
 چھہ۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئی ۶ ہجریس اندر عمرہ کرنے خیطرہ۔ یلہ تم بمقام  
 حدیبیہ وات۔ کافرودیو تھکنہ نہ مکہ شریفس منز اٹرنہ۔ چنانچہ اتھہ مقاس پیٹھ سپد کافرن سیت صلح۔ امہ  
 معاہدہ صلح مدت اوتھانہ دہ وری۔ مکہ شریفس منز تم یہ قبیلہ روزان آس تمن متعلق سپد یہ  
 فیصلہ کہ تمہو قبیلو اندرہ کس خوش کرہ سوروزہ نبی کریمس سیت۔ کس خوش کرہ سوروزہ مکہ کین قریش  
 سیت۔ چنانچہ بنی خزاعہ رود نبی کریمس صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنی بکر رود قریش سیت۔ اُس  
 وریس تان رود یہ صلح قائم مگر دو سیمہ ورہہ ۱۷، ۱۸ ارتھہ آسہن گیمت صلحہ پیٹھ کہ بنی بکر کس  
 قریش سیت رلتھ اوس کور اتھ گیمت اکھ حملہ بنی خزاعہس پیٹھ کس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
 سیت رلتھ اوس۔ تمہو دیت امیک اطلاع نبی کریمس صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ تمہو ہنہ تیاری کرن  
 قریش سیت جنگ کرن ۱۸ ہجریس اندر کور کھ فتح مکہ۔ اللہ تعالیٰ ان کور اعلان کہ حدیبیس اندر کس  
 صلح کرنہ آمت اوس تمہ نشہ چھو خدا یہ تھند پیغمبر دست بردار سپدان۔ سو صلح پھڑ وور قریشو۔ لہذا  
 چھنہ ون گنہ جابہ کافرن ہندہ خیطرہ امن وامن صور تھہ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ کس پھیر یو  
 یہ ملکس اندر ژون ریتن خوف نہ خطرہ وراي۔ تم ژور رتھ گئے ذیقعدہ، ذی الحجہ۔ محرم نہ رجب  
 وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُجْزِي اللَّهِ یہ زانو کہ تہہ بیکیون نہ اللہ تعالیٰ عاجز کر تھہ۔ تہہ کیاہو نہ تھندہ قبضہ



إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿۳﴾ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا  
 الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ  
 وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ إِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ  
 آتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۵﴾ وَإِنْ  
 أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ  
 اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۶﴾

کنائس اندر، یمونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیت معاہدہ کورمت اوس تہجدس معاہدس آس باقی ونہ  
 نوریتھ۔ یمو آس نہ عمد شکنی کر مشکینہ تہ۔ لہذا زدویدہند معاہدہ باقی بدستور إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ  
 بزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو بد عمدی نشہ پرہیز کرہ وین دوست تھاوان فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ کس بلہ  
 گذرن تعظیمہ وال ریت فاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ کس مار یوکھ مشرک سیتہ ہینہ تہ متہ  
 وَخُذُوهُمْ گرفتار کر تھ تھاویوکھ قید وَأَحْصُرُوهُمْ پتھ ریٹوکھ تم خانہ کعبس طواف کرنہ نشہ۔  
 وَأَقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ زاگنہ زودو تین پریتھ موقس تہ زانن جلیہ پیٹھ قَان تَابُوا وَأَقَامُوا  
 الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ توپتہ ہر گاہ تم توبہ کرن گھر نشہ بیہ ہین کرنہ اسلامچہ کامہ،  
 مثلاً نماز پر بن بیہ دن زکوٰۃ، پتھ تراویولہ ہنز و تھ۔ دیوکھ پختہ اورہور إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ہز پاپٹھ  
 اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت کرہون سیٹھاہ حم کرہون وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ  
 بیہ ہر گاہ مشرکواندرہ کانہ توبہ پناہ منجہ توبہ سیت ملاقات یشہہ کرن۔ نہہ دیوکھ س پناہ تہ اجازت  
 حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ تا ایجہ توبہ نشہ تھ بوزہ سوکلام خدا۔ ممکن چھو تمیک پیہ کس پیٹھ کانہ اثر تھ  
 أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ توپتہ واتا دیون سو پناہ تہ انجہ جلیہ۔ تمس دیون سیت حفاظتہ خیطرہ ہین کانہ شخصاہ۔  
 یوتان سو پناہ کس جمائس نشہ ولتہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ بیہ گڑھہ امی خیطرہ کرن کہ تم چھہ  
 بے خبر اسلامہ کیو احکامو نشہ ممکن چھو ہر گاہ نہہ کس دیوکھ توبہ پانس نشہ ہینہ، سو یوزہ توبہ نشہ اسلامچہ تھہ

كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ  
 إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقَامُوا  
 لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ۝ كَيْفَ وَإِنْ  
 يَظْهَرُ وَأَعْلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَاذِمَّةً يُرْضُونَكُمْ  
 بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَىٰ قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَسِقُونَ ۝  
 اشْتَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِهِ ۝

سمہ سیت متاثر سیدت بنن نشہ تہ واتا وہ تمہہ دلیلہ۔ تم تہ سیدن متاثر کئیف یگون للمشرکین عہد عند  
 اللہ وعند رسولہ تمہہ پاٹھہ ہیجہ آتھہ مشرک خدائس نشہ کانہ عمدہ یا تھمدس پیغمبرس نشہ۔  
 کس عہد قابل رعایت یہ زانہ۔ کیا زہ رعایت یہ تھہ عہدس کرنہ تھہ نہ دو سم فریق پانہ پھرا وہ  
 إلا الذین عہدتم عند المسجد الحرام مگر تم لو کہ سمو معاہدہ کور توہم سیت مسجد حرامس کھ تل  
 فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ایس کالس تم سیود روزن توہم سیت تہ تہ روزو تھن سیت  
 سیود إن اللہ یحب المتقین بیشک اللہ تعالیٰ چھو دوست تھاوان بدعہدی نشہ پتھ روزہ ونین  
 کئیف وإن یظہر وأعلیٰکم لا یرقبوا فیکم إلا واذمۃ تمہہ پاٹھہ روزہ تھمد عہد قابل رعایت تھمدین  
 وکن اندر چھو کھوچر۔ چنانچہ ہر گاہ تم توہم پیٹھ غلبہ کر ٹک موقعہ لبین تم کرن نہ کانہ وایاہ تہ لحاظ نہ رشتہ  
 داری ہند نہ ٹھہ عہدک یرضونکم بأفواہہم وتآبی قلوبہم تھن پیٹھ چھونہ کانہ اعتبار تم چھہ  
 توہ راضی تھاوان تھو سیت دل چھک تھن تھن انکار کران دل چھک تھن تھن سیت واکثرہم  
 فسقون تمہو اندر چھہ زیادہ سرگش تہ شریر۔ تم چھنہ یڑھان عہد پورہ کران اشتروا بآیات اللہ  
 ثمنًا قلیلًا فصددوا عن سبیلہ حاصل کرتھو خدایہ سندین اکامن بدل دنیا بک متاع ناپائیدار۔  
 توپتہ رچھہ پتھ لوک تھمزہ وتہ نشہ۔ لوکن دیو بچھہ تھمزہ وتہ پیٹھ پچھہ یعنی اسلاس منزد داخل سپدنہ  
 انہم ساء ما كانوا یعملون ہر پات تم سمہ کامہ کران چھہ تمہہ چھہ سیٹھہ چھہ کامہ لا یرقبون فی



وَهُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَخِرُّونَ لِلْأَعْيُنِ لِأَسْوَءِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  
 وَتَحْشَوْهُمْ ۖ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَحْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۳﴾  
 قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِجُهُمْ مِنْكُمْ وَيُنْصِرْكُمْ عَلَيْهِمْ  
 وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۖ وَيَسْفِ سُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۴﴾ وَيَذْهَبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ۖ  
 وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۵﴾ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ  
 تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا

تہندس ہم قسم تو مس بنی خزاعس سیت جنگ اَتَحْشَوْهُمْ کیاہ تہہ چھوہ تمن کھوثرانی فاللہ احق ان  
 تَحْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ سُد خوف گڑھے توبہ آسن زیادہ ہر گاہ تمہ بالیمان چھوہ  
 قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِجُهُمْ تہہ کمر وجگ تمن سیت تہہ گرفتار عذاب کرہ تمن اللہ  
 تعالیٰ تہندس یوی اتھو۔ بیہ کرہ تمن اللہ تعالیٰ رسوائتہ ذلیل وَنُصِرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَسْفِ سُدُورَ قَوْمٍ  
 مُؤْمِنِينَ بیہ دیہ توبہ اللہ تعالیٰ تمن پٹھہ غلبہ، بیہ عظمہ شفا اللہ تعالیٰ بالیمان ہندس دن تہندس جگر  
 شہلاوہ وَيَذْهَبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ بیہ کرہ دور اللہ تعالیٰ تہندس دن ہندس غمس تہ غمس وَيَتُوبُ  
 اللَّهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ بیہ کرہ اللہ تعالیٰ پن توجہ تمن پیٹھہ ہندس سوڑھے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو  
 سوزوی زانہ ون۔ تس چھہ پور خبر پر پٹھہ اکتشدہ انجام گمندا انجام چھو اسلام۔ گمندا انجام چھو کمر سو  
 چھو سیٹھاہ جمتہ وول۔ تمی پننہ جمتہ سیت چھو مناسب احکام جاری کران۔ تہہ چھوہ کافر سیت مقابلہ  
 کرنے نشہ پٹھہ ہوان اَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ کیاہ توبہ چھہ گمانہ کہہ تہہ  
 کیا ایو تراونہ اتھہ حاکس پیٹھہ امتحان وراہی۔ حالانکہ ونہ سپدنہ ظاہر توبہ اندرہ گمو کور جہاد کیا زہ جہاد چھہ  
 کہوٹ۔ امی سیت چھو ہنان مخلص تہہ چھو غیر مخلص تہہ چھو وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولَهُ وَلَا  
 الْمُؤْمِنِينَ وَابْتِغَاءَ يَتَّخِذُ يَتَّخِذُ يَتَّخِذُ يَتَّخِذُ يَتَّخِذُ يَتَّخِذُ يَتَّخِذُ يَتَّخِذُ يَتَّخِذُ يَتَّخِذُ يَتَّخِذُ  
 کانہہ پو شیدہ دوستاہ نلس نشہ سر باوان آس مسلمان بیہ پر کھاونہ دوہو چیز وسیت اکھ گڑھے نہ گنہ قسمہ لیت



مَنْ دُونَ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِجَنَّةٍ وَاللَّهُ خَبِيرٌ  
 بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۶﴾ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ  
 شَاهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ  
 فِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ ﴿۱۷﴾ إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ  
 بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ  
 فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿۱۸﴾ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ

و لعل ہلہ ڈلہ کرن جہادس اندر۔ بیہ گوہنس نہ پو شیدہ تعلقات دوستی ہند آسن کافر ن سیت۔ واللہ  
 خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ خدائس چھہ تمہہ سارچی پور خبریہ تمہہ کران چھوہ۔ مگر سو چھو بیٹھان یہ تیس پاس  
 خبر چھہ تہ گوہہ نئن تہ آشکارا سدن مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ مُشْرِكِينَ چھہ تہ قائلتھی  
 کہ تم کیا کرن آباد خدایہ سزہ مجدہ شَٰهِدِينَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفْرِ سبھہ حاکس منزکہ تم آسن اقرار  
 کران کفر چن کھن تہ کائین ہند۔ بیہ آسن معبود برحقس ورا ی پو تیلن ہنز پرستش کران أُولَٰئِكَ  
 حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ سمن لوکن ہنزہ سارے رزہ عملہ عمارت مسجد وغیرہ ہمیشہ  
 چھہ ضایع شرکہ سبہ۔ تے چھہ روزہ ون ہمیشہ نارس اندر کیا زہ ذریعہ و سبب نجات چھو تمن ضائع  
 سہمت إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ آباد کرن نہ خدایہ سزن مسجد ن مگر تے  
 سمو ایمان اون معبود برحقس بیہ پتھس دوہس دلہ سیت تو پتہ کرن تائو سیت تمیک اظہار تہ گو۔  
 وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ بیہ تھا وکھہ برپا نمازیہ کمر کہ ادا زکوٰۃ۔ بیہ کھوژ نہ کانہہ  
 خدائس ورا ی فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ نپس چھہ امید تہ توقع یعنی وعدہ کہ تے لو کہ  
 آسن ہدایت کہہ و نیواندرہ۔ منزل مقصودس وائہ و نیواندرہ أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ  
 الْحَرَامِ کیاہ توہمہ کورودہ حاجین آب زمزم چاون، بیہ مسجد حرامگ آباد تھاون برابر کمن آمَنَ بِاللَّهِ  
 وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تمس شخصہ سندن عملن سیت سم ایمان اون معبود برحقس

الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ وَجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَ  
 اللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۹﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَ  
 هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ  
 أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۲۰﴾  
 يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَوَجَدَتْ لَهُمْ فِيهَا  
 نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ﴿۲۱﴾ خُلِدِينَ فِيهَا أَلَا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ آجُرٌ

بہ پچیس دوہس یعنی قیاس۔ بیہ کرن جہاد خدایہ سزہ وتہ اندر۔ خدایہ سندہ کلمہ تھزہ خیطرہ لا  
 یستون عند اللہ خدایس نعمہ چھنہ تم کو کلمہ برابر واللہ لایہدی القوم الظالمین اللہ تعالیٰ چھونہ  
 وتھ ہاوان ظالم لو کن تمن ہنھنہ یہ تھہ فخرہ تران۔ تمن چھو خیال حاجین آب زمزم چاوان، مسجد حراج  
 آبادی کرن یہ چھہ بڈیکل مگریہ چھو کنہ فخرہ تران کہ یمن نیکن چھو تل اعتباریلہ شر کہ نشہ دور آسہ،  
 قیاق پور پڑھ آسہ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ  
 أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ تم لو کہ سمو ایمان اولن بہہ ہجرت کمر خدایہ سندہ خیطرہ، بیہ کو رکھ جہاد  
 خدایہ سزہ وتہ اندر پنہ نیو مالو تہ جانوسیت، تم چھہ سیٹھا تھہ، درجہ کن، خدایس نشہ آب زمزم چاوه ونیو  
 تہ تعمیر مسجد کرہ ونیو خوتہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ تے لو کہ چھہ پورہ کامیاب سپدہ ون  
 يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَوَجَدَتْ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ خوش خبری چھو دوان تمن  
 ہن پروردگار پنہ ہجرت، بیہ پنہ ہجرت رضامندی ہنز۔ بیہ تمن جشن ہنز تمن منز تھنہہ خیطرہ پو شہ ونہ  
 نعمو چھہ خلدین فیہا آبدان ان اللہ عندہ آجر عظیم تمن جشن اندر آسن روزہ ون ہمیشہ۔ بیشک

عَظِيمٌ ﴿۳۲﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَ  
 إِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ  
 يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۳﴾ قُلْ إِن كَانَ  
 آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَ  
 أَمْوَالٌ بِاقتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ  
 مَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ  
 جِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ

اللہ تعالیٰ اسی نے ہجرت کے بعد مذکورہ منظرہ پیش کیا ہے۔ عطا کرنا یا ایسا کرنے والوں کو اور ان کے  
 و اِخْوَانُكُمْ اَوْلِيَاءَ ای با ایمانوں کو تو یہ کہ مال، پین، بائی پین دوست سے رینق، ان اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ  
 عَلَى الْإِيمَانِ ہر گاہ تم گھری ٹوٹھ تھاؤں سے پسند کرن ایمانہ خوتہ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ  
 الظَّالِمُونَ پس تھین کافر مالین سے باسن سیت تم دستانہ تعلق تھاؤں توہم اندرہ پس تے کیا چھہ  
 خدا پس نشہ نافرمان۔ قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَ أَمْوَالٌ  
 بِاقتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسْكِنٌ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ  
 وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ ای پیغمبر خہ فرماؤ کہ ای مسلمانو ہر گاہ توہم آسنوہ مال پین پیچو پین، بیہ بائی پین،  
 بیہ جورہ پین، یعنی مردس زنانہ پین، زنانہ مرد پین، بیہ قبیلہ کروں پین، بیہ زیونمت مال پین بیہ تجارت  
 پین سمہ کس نقصاں خہ کھوژان چھوہ، بیہ مرغوب کرہ جلیہ پندہ زیادہ ناٹھہ خدایہ سندہ خوتہ بیہ تہمزہ وہتہ  
 اندر جہاد کرنے خوتہ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ تلہ پیارو  
 توتان یوتان سوزہ اللہ تعالیٰ پین حکم یعنی عذاب، یعنی ہجرت نہ کرنک سزا۔ اللہ تعالیٰ چھونہ وتھہ

لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿۲۲﴾ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي  
 مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ  
 فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا  
 رَحَبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ﴿۲۳﴾ ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ  
 عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا  
 وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ ﴿۲۴﴾

ہاوان نافرمان لوکن منزل مقصود حاصل کرئس کن۔ لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ  
 وَيَوْمَ حُنَيْنٍ تھمیں اللہ تعالیٰ ان کمر توبہ مدد تے یاری وار میں جاسن خصوصاً جنگِ خلیس منز راڈ  
 اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا یلہ توبہ عجیب آو بوزنہ پندہ لشکر ہند زیادہ آسن تمہ ساتہ  
 اوس تہزہ لشکر ہند تعداد باہ ساس ۲۰۰۰ کافر ن ہنزہ لشکر ہند تعداد اوس ژور ساس۔ کس دیت نہ  
 توبہ تمہ لشکر زیادہ آسن کانہہ فائیدہ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحَبَتْ بیہ سپد توبہ پیٹھ  
 زمین کھول آتھہ تنگ سخت خوف زدہ سپد نہ موکھہ۔ کافر ن ہندہ توبہ پیٹھ بکثرت تیر لاینہ سیت تھ  
 وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ چنانچہ تہہ ژلوہ پپاسپد تہہ آتھہ انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین  
 توپتہ ترو اللہ تعالیٰ ان دلک قرار پنے نس پیغمبر س بیہ بایمان پیٹھ۔ چنانچہ ساری یلہ ژل حضرت نبی  
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم روو ثامت قدم سفید کاترس پیٹھ سوار۔ سیت آسکھ حضرت عباس، بیہ  
 ابو سفیان رکائس تھپ کمر تھ حضرت عباس اتھہ دوو کھ لوکن آلو تم ژلمت آس بیہ پور کھ پانہ باواز بلند  
 اَنَا النَّبِيُّ لَكَذِبَ اَنَا ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ تمہ آوازہ سیت کافر ن دہشت پیوتہ اہرہ بیو تھہ وَأَنْزَلَ جُنُودًا  
 لَمْ تَرَوْهَا بیہ سوز اللہ تعالیٰ ان آساکھ طرفہ لشکر اہ یوسہ نہ تہہ وچھان آسوہ یعنی ملائیک تمہ سیت  
 بیہ اثر سپد کہ مسلمان سپد بیہ جمع۔ توپتہ ہمزہ تمود دوبارہ لڑائی کرن وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا بیہ کرن  
 پتولا کہ کافر عذابس گرفتار۔ فتح کرن عطا پنے نس پیغمبر س وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِينَ یوہے چھو

ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ  
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ  
 نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَمَلِهِمْ هَذَا ۚ وَ  
 إِن خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِن شَاءَ ۗ  
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۲۸﴾ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَئِيْمُونَ بِاللَّهِ  
 وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَ  
 رَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ

کافرن ہند سزاؤنیاءس منز ثَمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ توبتہ کرے اللہ تعالیٰ توبہ  
 نصیب ہمو اندرہ میں خوش کریں۔ چنانچہ واریاہ سپد ستمو منزہ مسلمان وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ تعالیٰ  
 چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ اے  
 مسلمانو مشرک چھہ ناپاک ٹر کچہ ناپاکی سیت بہہ بچھہ اعتقاد و سیت فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ  
 عَمَلِهِمْ هَذَا کہیں مہ سپدن تم نزدیک مسجد حرامس ستمہ ورہہ پتہ وَإِن خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ  
 اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِن شَاءَ ہر گاہ چھہ تھندہ نہ ایچہ سبہ فقرس یا تجار بچس نقصاں کھوژو، چھہ روزو  
 خوش، اللہ تعالیٰ کرہ توبہ مالدر پندہ فضلہ سیت ہر گاہ سو یٹھہ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ پڑھاٹھ اللہ  
 تعالیٰ چھہ سو روی زانہ ون سیٹھاہ حکمتہ وول قَاتِلُوا الَّذِينَ لَئِيْمُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ اے  
 مسلمانو جنگ کمر و تین لوکن سیت ستم نہ پور پڑھہ کران چھہ معبود برحق بہہ چھہ نہ پور پڑھہ کران قیامتس  
 دوہس وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بہہ چھہ نہ حرام زانان تم چیز ستم خداکین تہ تھندہ  
 پیغمبرن حضرت محمدن صلی اللہ علیہ وسلم حرام کمر۔ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ بہہ ستم نہ پوزدین،

أَوْتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ  
 صَغِيرُونَ ﴿۱۹﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ  
 النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ  
 يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ  
 قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿۲۰﴾ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ  
 وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ

دین اسلام قبول سے تسلیم کران چھہ من الذین اوتوا الكتاب تمہو لو کو اندرہ تمن کتاب  
 عطا کرنہ آہ یعنی یہود و نصاریٰ ان سیت، سوی جنگ کمر و توتان حتی یعطوا الجزیة عن ید  
 وھم صغیرون یوتان نہ تم باج تارن یس پیش کرن پنہ نیواتھو ماتحت روز تھہ۔ ذلیل تہ  
 خوار سپد تھہ۔ ان ماتھہ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ بیہ  
 چھہ ونان یہو و داندرہ بعضی لو کہ زہ عزیر علیہ السلام چھو خدایہ سندیو، بیہ چھہ نصاریٰ او اندرہ اکثر ونان  
 کہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام چھو خدایہ سندیو ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ سمہ چھہ تہنزہ تھہ، تہنز و چانیو۔  
 حقیقت سیت چھونہ یمن تھن کا نہ تعلقاھ یضاهئون قول الذین کفروا من قبل  
 سمہ تہ چھہ تمنی کافرن ہنزہ تھہ ہشہ کران تم تمن برونھہ آس قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ اللہ  
 تعالیٰ گالن تمن کوئن چھہ گوشان تم پڑہ نشہ ڈلتھہ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ  
 دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ تمہو چھہ بناومت عالم تہ عابد ہن مطاع۔ حلال و حرامس  
 منز چھہ تہنز اطاعت تہھی کران یشہ خدایہ سز شوبہ کرن۔ صریح حکم نصس پیٹھ چھہ تہندن اقوالن  
 ترجیح دیوان یشہ اطاعت کرن کنیہ عبادت کرن۔ یہ شوبہ باخاص معبود برحقہ سزنی یاثر کرن۔ امہ  
 اعتبارہ چھہ تم تہ مشرک بیہ چھہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام رب زانان۔ تمن چھہ خدایہ سندیو  
 زانان۔ یہ تہ گوشرکی وَمَا أَسْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا حالانکہ تمن آیونہ حکم کرنہ خدایہ

ابن مریمؑ وما أمرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا  
 لآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۳۱﴾  
 يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى  
 اللَّهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَعِبَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿۳۲﴾ هُوَ  
 الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ  
 عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ﴿۳۳﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
 آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ

سبزن کتابین اندر۔ مگر منی معبود بر حقس عبادت کرنگ لآ إِلَهَ إِلَّا هُوَ کس درای چھونہ  
 معبودی کانہہ عبادتس لایق کانہہ سُبْحٰنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ سو چھو مژہ تہ پاک تہندہ شرکہ  
 نشہ یُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ یشھان چھہ تم کہہ ڈھیہہ کرہ ہن خدایہ سُنْدُ نوری  
 دین اسلامی پنہ نیو چھو کوسیت یعنی آسوسیت چھہ اسلامس پیٹھ اعتراض کران وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا  
 أَنْ يَشْتَعِبَ نُورَهُ خدایچھونہ پسند کران مگر فقط ہن نور پور کران۔ سونور کما س و اتان و لَوْ كَرِهَ  
 الْكَافِرُونَ اگرچہ ناخوشی اتین کافرن۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ سُو  
 معبود بر حق گو سوی تم سوزین پیغمبر بر حق بوڈ ہدایت ہتھ ہیہ دین حق ہتھ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ  
 ہتھ تھ غلبہ دیہ سارنی دین پیٹھ لَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ اگرچہ ناخوش اتین مشرکن يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
 آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ آمَوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ آی با ایمانو پڑپاٹھ  
 واریاہ عالم یہودن ہند، ہیہ عابد نصاریٰ ان ہند چھہ لوکن ہند مال کھیوان ناحق۔ یعنی ہن حکم چھہ کھٹان۔  
 عوامن ہنزہ مرضی موافق چھہ فتویٰ لیکھان تین نشہ نذرانہ وصول کران وَيَصِدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ  
 وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي  
 سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿۳۷﴾ يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا  
 فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ  
 هَذَا مَا كَنْزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُقُوا مَا كَنْزْتُمْ تَكْنِزُونَ ﴿۳۸﴾  
 إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي

آی و جہہ چھہ تم لوکن پتھ رٹان خدایہ سزہ وتہ نشہ یعنی دین اسلامہ نشہ۔ یکمازہ تہند یواہر یو فتویٰ او  
 سیت چھہ لوکھ ڈھوگن منز تھہ، گمراہی منز بوڈتھ روزان۔ پوز چھنہ قبولی کران۔ بلکہ پوز تھانڈ نگ  
 چھوکنہ خیالی گھوہان۔ غایت حرص و ہوسہ موکھ چھہ مال جمع کران تھہ متعلق یہ سخت و عید چھوکنہ  
 وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ یہ ہم لوکھ جمع کران تہ  
 سونبر او ان چھہ سون تہ روپھ تو پتہ چھہ تھہ خرچ کران خدایہ سزہ وتہ اندر فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابِ  
 الْيَوْمِ نَس و بون کڈرہ عذاب بشارت تومر محمی علیہا فی نار جہنم سمہ دوہنہ نار جہنم پتھ  
 گرم ایہ کرنہ سون تہ روپھ فتکوی بہا جباہہم نس یہ داغ کرنہ تمہ سیت و یکن تہندین  
 وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ یہ لہہ کا نین تہنزن، یہ تھرن تہ کٹشن تہندین۔ ونہہ ایچہ ہذا ما کَنْزْتُمْ  
 لِأَنفُسِكُمْ یہ چھو سونہند مال نس توہہ سونبر واتھ اوسوہ پنہہ خیطرہ۔ فَذُقُوا مَا كَنْزْتُمْ تَكْنِزُونَ نَس  
 ژہو مزہ تمیک یہ تہہ سونبر او ان آسوہ۔ چوئیکہ امہ بروئھہ آیہ حج ذکر کرنہ۔ مشر کو اوس خلط و ملط  
 کورمت ریتن ہندس حساس اندر۔ خر مس آس صفر بناوان۔ ذی القعدس آس ذی الحجہ بناوان پنہ نیو  
 مصلحتو موجب۔ تمی موکھ فر مو واللہ تعالیٰ اَن اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا  
 پزپاٹھ اللہ تعالیٰ آس نیش چھہ ریتن ہنز گر بندہ باہ رتھہ فی کتب اللہ یوم خلق السموات  
 وَالْأَرْضِ خدایہ سزہ کتابہ یعنی لوح محفوظ آندر۔ سمہ دوہنہ پتھہ آسمان تہ زمین پیدہ کورن منها



كَتَبَ اللَّهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِنْهَا  
 أَرْبَعَةً حُرْمًا ط ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ ۗ فَلَا تَظْلِمُوا  
 فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا  
 يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً ط وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿۳۷﴾  
 إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا  
 يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيُوَاطِّئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ

أَرْبَعَةً حُرْمًا تموریو اندرہ چہہ ژور ریتھ تعظیمک۔ ذی القعدہ۔ ذی الحجہ۔ محرم۔ رجب  
 ذلک الدین القیم یوہے امر مذکور چھو حساب، دین مستقیم۔ یعنی ریتن ہند باہ آسن۔ تعظیم و  
 حرمتک ریتھ ژور آسن۔ اتھ بدل یوسہ جالپچ طریق آس۔ تم آس بہوریتو علاوہ یکہنہ ریتھ ہرہ راوان  
 تہ زیادہ کران۔ بیہ آس تعظیمہ کین ریتن اندر تہ رد و بدل کران۔ یہ گنہیہ بدینہ۔ دین گوئی بہ اللہ تعالیٰ  
 ان مقرر کرور فلا تظلموا فیہن أنفسکم پس مہ آسویکن ژورن ریتن اندر پانہ وان لڑای  
 کمر تھ تمکن ژون ریتن ہنز بے حرمتی کمر تھ پأس پیٹھ ظلم کران وقاتلوا المشرکین کافۃ  
 کما یقاتلونکم کافۃ بیہ آسوسارنی مخرکن سیت جنگ کرنہ خیطرہ تیار روزان۔ تھہ پاٹھ تم توہیہ  
 سارنی مسلمان سیت جنگ کرنہ خیطرہ آمادہ چہہ وَاَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ بیہ زانوہ اللہ تعالیٰ  
 چھو پرہیز گارن سیت سیت۔ تمہ تھا و ایمان و تقویٰ پنن شعار کھو ژومہ کانسہ إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي  
 الْكُفْرِ ریتن ہند اوردہ یور کرن، تعظیمہ کین ریتن رد و بدل کرن چھونہ مگر گھر س اندر زیادتی کرن  
 يُضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا عام کافر چہہ امہ سیت گمراہ یوان کرنہ يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا  
 کافر چہہ اتھ تعظیمہ کس ریتس اکہ ورہیہ پنہ نیو اغراض نفسانیو موکھہ حلال زانان۔ تھہ پاٹھ پَس ریتس  
 نِسْنہ تعظیمک ریتھ اوس تعظیمک ریتھ زانان لِيُوَاطِّئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ تھہ برابر تھا و ان تعداد

اللَّهُ فَيَجْلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زَيْنَ لَهُمْ سُوءَ أَعْمَالِهِمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۳۱﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا قُلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿۳۲﴾ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۳﴾ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا أَخْرَجَهُ

ریتن ہند سم اللہ تعالیٰ ان محترمہ بناومت آس فیجولو ما حرم اللہ مجھ حلال بناوہ عن تمن ریتن سم اللہ تعالیٰ ان محترمہ معظم مقرر کرمت آس زین لہم سوء اعمالہم زینت آؤنہ جہزن تجھ کاین۔ ممکن جھہ تمہہ تجھہ کامہ جان تہ رتہ بوزنہ یوان واللہ لایہدی القوم الکفرین اللہ تعالیٰ جھونہ تھہ ہوان تہ توفیق دوان کافر قومس یایہا الذین امنوا مالکم اذا قيل لکم انفرؤا فی سبیل اللہ اکی بایمانو توہمہ کیاہ سپدوہ۔ توہمہ یلہ وننہ یوان جھونیر و خدایہ سزہ وتہ اندر جہاد کرنہ خیطرہ انا قلتم االی الارض ما یل سپد و جہہ زمیس عن یعنی کسل و کمال تزار و و تہہ ارضیتہم بالحویۃ الدنیامن الآخرة کیاہ توہمہ آیوہ بوزنہ جان دنیا عج زندگی آخرتہ خونہ فماتاع الحیوۃ الدنیامن الآخرة اقلیل حقیقت جھہ بیجہہ دنیا جہہ زندگی ہند مال و متاع جھونہ آخرتس نسبت مگر سیٹھا کم انا تنفرؤا یعدبکم عذابا الیما ہر گاہ تہ جہہ جہاد کرنہ نیر واللہ تعالیٰ کرہ وہ نڈر عذاب۔ ویستبدل قومًا غیرکم بیہ انہ توہمہ بدل بیس قومس جہہ خم کمر تھہ ولا تضروہ شیئا جہہ بیجہونہ خدایہ سندس ونیس عنہ قسمہ ضرورتا و تھہ واللہ علی کل شیء قدير اللہ تعالیٰ جھو پر تھہ چیزس بیٹھہ قدر تہ دول انا تنصرؤہ فقد نصرؤہ اللہ ہر گاہ تہ جہہ امس پیغمبر بر حقس مدد کمر و کانہہ پروا جھونہ۔

الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِي اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ  
لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ  
عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۳۱﴾  
إِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ  
فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۳۲﴾

بیشک اللہ تعالیٰ ان کمر تین بن یاری سے مدد دتمہ وقتہ سہمہ وقتہ زیادہ پریشانی ہند وقت اوس اذ اخرجہ  
الَّذِينَ كَفَرُوا ۗ یلہ تم کافر ونگ کمر تمہ بن شہر سے وطن تراؤس پیٹھ مجبور کمر ثانی اثْنین یلہ تم  
آس دو یو منزہ دو سہم صاحب بیاکھ صاحب اوس ابو بکر صدیق تین سیت اذْ هُمَا فِي الْغَارِ یلہ تم  
دشوے آس گو پھہ اندر سیتھ غار ثور آس و تان اذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ یلہ بنی مبر حق پنہ نس یار  
غارس ابو بکر صدیق فرماوان اوس لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا کھو ژمہ، غم مہ بر۔ بیشک اللہ تعالیٰ  
سند مدد چھو اسہ سیت فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ ۗ بس ترود اللہ تعالیٰ ان و لگ قرار سے تسلی تین پیٹھ  
وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا ۗ بیہ کور تین مدد اللہ تعالیٰ ان ملائکین ہنزہ تمہ لشکرہ سیت یوسہ نہ توہہ  
وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ ۗ بیہ ترود اللہ تعالیٰ ان کافرن ہنزہ تھ یعنی شرک و کفر کہ  
اشا ج تھ سیتھ بون سے پست تم کمرن خوار و ذلیل وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا ۗ اللہ تعالیٰ سند کھی چھو  
سیتھہ لمند وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۗ اللہ تعالیٰ چھو غالب حمتہ وول۔ اِنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ای  
مسلمانو نیر ان آرو جہادہ خیطرہ سہمہ ساتہ ٹہہ نیر نہ خیطرہ اعلان آسہ یوان کرنہ۔ سلاح و رای سے سلاح  
پور تھ سے وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ بیہ آرو جہاد کر ان خدایہ سزہ و تہ اندر  
مال و جانہ سیت۔ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۗ ای چھو چھندہ خیطرہ بہتر ہر گاہ ٹہہ زمانہ چھوہ  
لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا ۗ ہر گاہ آسہ ہا مالاہ جلد حاصل سپدہ و ن بیہ آسہ ہا سفر اہ تہ ژھوٹ

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ  
وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ  
لَوِ اسْتَطَعْنَا الْخُرْجًا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ  
وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۳۷﴾ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ  
أَذْنَتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ  
الْكَاذِبِينَ ﴿۳۸﴾ لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ  
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ

لَاتَّبَعُوكَ تلبہ نیرہ ہن منافق توبہ سیت و لکن بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ لیکن تموزون کہ سفر ج  
مَسَافَت جھہ سیٹھاہ زیتھہ تمی لگ تم ارہ سرہ کرنہ و سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا الْخُرْجًا  
مَعَكُمْ ہیہ ون تم خدایہ سُنَد قسم ہاوتھہ زہ ہر گاہ اسہ وسعت آسہا اس تہ نیرہ ہو توبی سیت۔  
يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ اہیز قسم ہاوتھہ ہن پان ہلاک کران مستحق عذاب کران وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اللہ تعالیٰ چھوزنان زہ بیشک جھہ تم ایزیر عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتَ لَهُمْ اللہ  
تعالیٰ ان کور توبہ عفو۔ توبہ کیاہز دیوتوہ تمن اجازت جگہ نشہ پتھ روز نگ۔ تہہ بیارزہ ہے حَتَّى  
يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ یوتان توبہ نہہ ہاگمووون پوز، ہیہ زانہ ہوکھ تہہ ایزیر۔  
لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ  
توبہ نہ حض مگن نہ اجازت تم کوکھ تم پتھہ کران آس معبود بر حقس ہیہ پتمس دوہس یعنی قیامتس  
دوہس تم کیا روزن تھہ مال و جاوسیت جہاد کرنہ نشہ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ بِالْمُتَّقِينَ اللہ تعالیٰ چھوپوزنان  
پرہیزگارن اِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اجازت مگن تم کوکھ

وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ بِالْمُتَّقِينَ ﴿۳۵﴾ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿۳۶﴾ وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً ۗ وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿۳۷﴾ لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ إِلَّا خَبَالًا ۚ وَلَا أَوْضَعُوا خِلْفَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ

هم نه پر شه کران چه معبود بر حقش نه پشمس دوس وارتابت قلوبهم فهم فی ریبهم یترددون  
 بیه تمن شک چھو کن اندر کس چه تم تمنی شکن اندر حیران سرگردان پھیران ولو ارادوا الخروج  
 لاعدوا له عده هر گاه تمن جمادس نیره تک اراده آسها تله کره بمن تیاری تمنه خیطره سلاح  
 سامانه سیت بیه کره بمن و ته خرچک بندوبست و لکن کره الله انبعائهم فثبطهم لیکن الله  
 تعالی ان کرنا پسند نهوند نیره نه خیطره آماده سپدن کس کمرن تم گانگله او کن وژنگه نه آته و ته و قیل  
 اقعدوا مع القاعدین ونه آو تمن بهو بهو ان سیت یعنی زنان نابالغن ته معذورن سیت  
 لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا هر گاه تم نیره بمن تو به سیت تو به منز بر او  
 بمن نه کیمنه ته خرابی ته نقصانه و رای و لا اوضعوا خلفکم بیه کره بمن سیٹھه جلدی تو به منز  
 تفرقه تراونه خیطره یبغونکم الفتنه تم چه تلاش کران تو به منز قینه ته فساد واقع  
 سپدن و فیکم ستمعون لهم تو به منز ته چه کاتیه جهزن کهن کن تھوه ون والله علیهم  
 بالظالمین الله تعالی اس چه پور معلوم مفید ته ظالم لقتلوا ابغوا الفتنه من قبل و قلوبوا

وَفِيكُمْ سَمْعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿۳۷﴾  
 لَقَدْ ابْتَغَوْا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ  
 حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿۳۸﴾  
 وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أُنذُنُ لِي وَلَا تَفْتِنِّي إِلَّا فِي  
 الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَكُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿۳۹﴾  
 إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ فَسُوءُهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ  
 يَقُولُوا أَقْدًا أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ

لَكَ الْأُمُورَ تحقیق تمویز بر او تھہ کہ کوشش فسادچہ بیہ آس ووان در تہنزن کابین حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ  
 وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ یو تان پڑوعدہ آؤ۔ غالب سپد خدایہ سُنْد حُم۔ وَهُمْ كَرِهُونَ تم آس نہ تھہ  
 پسندی کران۔ تھہ پانھہ سپدہ آیندہ تہ تہہ مہ بز وکانہہ فکر وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ اُنْذُنُ لِي  
 وَلَا تَفْتِنِّي سمومنافقو منزہ چھوسو شخص تہ سم وون مہ دیو حض اجازت مہ مہ تراو وخرابی اندرمہ مہ  
 حض کمر ورومہ چن حسین زنان ہندہ سببہ گر فار بلا آلا فی الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وارہ یوزو تم چھہ بیس  
 بلایہ منزہ پیمتی۔ سونوگیہ نافرمانی ہنز بلای کیا زہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنزہ نافرمانی تہ کفرہ خوتہ  
 چھہ تہہ کابنہ خرابی وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَكُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ پز پانھہ جہنم چھو کافرن تہ نافرمانن احاطہ کرہ  
 وَنَ إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ فَسُوءُهُمْ ہر گاہ توہمہ کابنہ رت چیزہ واتان چھو، رت حاتہ ہ پیدہ سپدان  
 چھہ تہن چھو تہ ناخوش یوان وَإِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ بیہ ہر گاہ توہمہ واتان چھو کابنہ غمماہ يَقُولُوا  
 قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وناں چھہ تم تہہ اسہ چھہ ہن گوم برو نٹھی پوختاومر۔ پان ہن  
 بچوومت ویتولواؤہم فِرْحُونَ بیہ چھہ توہمہ نٹہ نیران تہ گوہان، خوشیہ ماران تہ شادیانہ کران۔

فِرْحُونَ ﴿۵۰﴾ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ  
 مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۵۱﴾ قُلْ  
 هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا أَحَدَى الْحُسَيْنَيْنِ وَنَحْنُ  
 نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِنْدِنَا  
 أَوْ بِأَيْدِينَا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ ﴿۵۲﴾ قُلْ  
 أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ إِتْكَمُ كُنْتُمْ قَوْمًا  
 فَسِيقِينَ ﴿۵۳﴾ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا

اللہ تعالیٰ چھو فرماوان تمہیں و جو حضرتہ جو اب زئی تمہہ۔ کہہ قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا  
 تمہہ فرماؤ کہ یارسول اللہ ہرگز ولایت نہ آسہ کا نہہ چیز مگر سوی بس سائہ خیرہ مقرر کورمت آسہ اللہ  
 تعالیٰ ان ہُوَ مَوْلَانَا سوی چھو سون مالک تہ آغہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اللہ  
 تعالیٰ سی پیٹھ گروہہ بالیمان ہند اعتماد کرن۔ بس گروہن پندہ سارے کامہ سپرد کرن۔ بیا کہ تمہہ یہ کہہ  
 قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا أَحَدَى الْحُسَيْنَيْنِ تمہہ فرماؤ کہ تمہہ چھو نہ پاران سائہ خیرہ مگر  
 دویو خوبیواندرہ اکس خوبی۔ سوگیہ نصرت یا شہادت وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ  
 مِّنْ عِنْدِنَا اس چھہ پاران تمہہ خیرہ چھہ تمہہ کہ خداوند تعالیٰ و اتا وہ توہمہ پندہ طرفہ کا نہہ عذابا  
 اَوْ بِأَيْدِينَا یا سانوی اتھو دیہ توہمہ کا نہہ سزا فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ بس پیارو تمہہ اس تہ  
 چھہ توہی سیت پاران قُلْ أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا تمہہ فرماؤ کہ یارسول اللہ کہہ ای منافقو تمہہ کر تو  
 خرچ، خوشی سان یا ناخوشی سان لَنْ يُتَقَبَلَ مِنْكُمْ تمہہ خیرات و صدقات ہرگز قبول لیہ نہ کرن۔  
 إِتْكَمُ كُنْتُمْ قَوْمًا فَسِيقِينَ کیا زہ تمہہ چھو نہا فرمان لو کہ وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقَبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا

أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ  
 إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كِرْهُونَ ﴿۵۳﴾  
 فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ  
 بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۵۴﴾  
 وَيَجْلِفُونَ بِاللَّهِ إِيَّاهُمْ لَيْسَ لَهُمْ مَالُهُمْ مِنْكُمْ وَلَا لَكُمْهُمْ قَوْمٌ  
 يَفْرَقُونَ ﴿۵۵﴾ لَوْ يَخْتَفُونَ لَوَجَدُوا مَلْجَأَ أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مَدَّخَلًا  
 لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْحَدُونَ ﴿۵۶﴾ وَمِنْهُمْ مَن يَسْمُرُكَ

أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ کاہنہ چیز چھوٹے منع کران تہند خیرات و صدقات قبول کرنے نشہ۔  
 مگر یہ ہے بوڈ چیز کہ تمہو کور انکار معبود بر حقس یہ تہندس پنہبرس وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا  
 وَهُمْ كُسَالَىٰ بیہ چھنہ تم نماز پران مگر کہانہ سان وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كِرْهُونَ بیہ چھنہ  
 تم مال خرچ کران مگر ناخوشی سیت فَلَا تُعْجِبُكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ توبہ مہ این جان تہ عجایب  
 بوزنہ تہند مال یا تہند اولاد۔ یہ تہندہ خیرہ نعمت چھنہ بلکہ چھو عذاب إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا  
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اللہ تعالیٰ چھوٹے بڑھان مگر بی زہ تمن تمہ مالہ سیت تہ اولاد ان ہندہ سیت عذابس  
 گرفتار کرن دنیا چہ زندگی اندری وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ بیہ نیرن تہند زوہر سی اندر یعنی  
 تم مرن در حالت کفر وَيَجْلِفُونَ بِاللَّهِ إِيَّاهُمْ لَيْسَ لَهُمْ مَالُهُمْ مِنْكُمْ بیہ چھنہ تم قسم ہاوان خدا لیہ سہنتہ  
 پیٹھ کہ تم چھنہ توبی منزہ۔ حقیقت چھنہ کہ تم توبہ منزہ چھنہ وَلَا لَكُمْهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ مگر تم چھنہ  
 جماعتہا بڑول۔ کھوژان توبہ۔ لَوْ يَخْتَفُونَ لَوَجَدُوا مَلْجَأَ أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مَدَّخَلًا ہر گاہ تم لین کاہنہ  
 چھین جایاہ یا کاہنہ سر تابا تہ گوچاہ یا کاہنہ اثرخ جایاہ لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْحَدُونَ ضرور دورہ ہن تمن  
 جانن کن ووتہ تمان وَمِنْهُمْ مَن يَسْمُرُكَ فِي الصَّدَقَاتِ بیہ چھو تمہو منافقو اندرہ تم توبہ طعنہ



فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا  
 مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ ﴿۵۸﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ  
 وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ  
 إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿۵۹﴾ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ  
 وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي  
 الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً  
 مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۶۰﴾ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ

دوان چھ صدقائے ماس تقسیم کرئیں اندرونان چھ نعوذ باللہ امہ کس تقسیم اندر آؤند عدل کرنہ  
 فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا وَإِنْ لَمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ کس ہر گاہ تم تہنزه خواہشہ مطابق  
 کینہہ عطایہ ہا کرنہ تلہ گوشہ ہن تم خوش یلہ نہ تم تہنزه خواہشہ مطابق آؤ عطا کرنہ۔ لہذا چھہ تم بے  
 زار نہ ناخوش وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ہر گاہ تم راضی سپدہ ہن تمہہ سیت یہ  
 تم خدائیں تہ تہندہ پیغمبرن دژوو وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ بیہ ہر گاہ  
 تم ونہ ہن بس چھو اسہ تہ یہ اللہ تعالیٰ ان اسہ عطا کور ہن فضل بیہ تہندہ پیغمبرن إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ  
 اس چھہ گوڈہ پیٹھے اللہ تعالیٰ اس کُن راغب سپدہ ون۔ کس نش چھہ اس امیدوار إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ  
 لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ  
 وَابْنِ السَّبِيلِ صدقات و خیراتن ہند مال چھونہ مگر محتاجن ہندہ خیرہ بیہ مسکین ہندہ خیرہ بیہ  
 صدقاتن ہند مال وصول کرہ ونین ہندہ خیرہ۔ بیہ ہند دل اسلامس کُن مائل کرن آسن۔ بیہ غلامن  
 ہنزه گردنہ آزاد کرنہ خیرہ۔ بیہ قرضدان ہندہ خیرہ۔ بیہ خدایہ سزہ وتہ اندر جہاد کرہ وتین ہندہ  
 خیرہ بیہ مسافرن ہندہ خیرہ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ یہوی چھو فرض تہ مقرر کرنہ

النَّبِيِّ وَيَقُولُونَ هُوَ اذُنٌ قُلُّ اذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يَوْمَ مِنْ  
 بِاللهِ وَيَوْمَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ اٰمَنُوا  
 مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُوْلَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿٦١﴾  
 يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللهُ وَرَسُوْلُهُ  
 اَحَقُّ اَنْ يَرْضَوْهُ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ﴿٦٢﴾ اَلَمْ يَعْلَمُوْا  
 اَنَّهٗ مِنْ يُّحَادِدِ اللهِ وَرَسُوْلُهُ فَاِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ

آمت خدایہ سیدہ طرف۔ اللہ تعالیٰ چھو پور زان و ن حمتہ و ول و مِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ تہو  
 مناقبو اندرہ و چھہ بعضی تم تکلیف چھہ و اتنا وان نبی کریمؐ کس کھوسیت۔ وَيَقُولُونَ هُوَ اذُنٌ دبان  
 چھہ نعوذ باللہ کنہ نیڈ سارنی ہنزن کھن گن تھوان۔ لہذا چھو تمن اُپڑونتھ دھوکہ دین آسان قُلُّ تہہ  
 فرماؤ کہ کہہ اذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ تم چھہ تہندہ خیرہ بہتری سارنی گن تھوان تمن چھو فجرہ تران تہہ  
 شخص کہہ کچ تھہ چھو وان۔ مگر تم چھہ تہزہ فریب کاری پیٹھ چشم پوشی کران۔ تم ہنزن کھن ایمان  
 انہ و ن چھہ یَوْمَ مِنْ بِاللهِ بلکہ تم چھہ خدایہ پاکہ سندس کلام پاکس ایمان اتان تہ یقین کران  
 وَيَوْمَ مِنْ لِلْمُؤْمِنِينَ بیہ چھہ تم با ایمان ہنزن کھن سمہ ایماندارانہ تہ مخلصانہ آسان چھہ ایمان  
 اتان تہ یقین کران وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ اٰمَنُوا مِنْكُمْ بیہ چھہ تم مہربان تمن ہندہ خیرہ سمہو ایمان  
 اُون توبہ اندرہ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُوْلَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ بیہ تم لو کہہ ایدانہ تکلیف و اتنا و ن  
 کھوسیت پیغمبر خدایس تہندہ خیرہ چھو کڈر عذاب يَحْلِفُونَ بِاللهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ قسم چھہ  
 ہوا ان خدایہ سُنڈ توبہ بُرونتھ کنہ تہہ راضی کرنہ خیرہ وَاللهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَقُّ اَنْ يَرْضَوْهُ اللہ  
 تعالیٰ تہ تہند پیغمبر چھو زیادہ حق تھوان تم کیاین راضی کرنہ اِنْ كَانُوْا مُؤْمِنِيْنَ ہر گاہ تم پڑ  
 پاٹھہ با ایمان آسن اَلَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّهٗ مِنْ يُّحَادِدِ اللهِ وَرَسُوْلُهُ اَيَا تَمَن چھنا خیر زہ بس اکھاہ مخالفت  
 تہ مقابلہ کرہ خدایس تہ تہندس پیغمبرس سیتِ فَاِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيْهَا بیشک جہندی



وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ تَسْوًا  
اللَّهِ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفٰسِقُونَ ﴿۶۷﴾ وَعَدَّ اللَّهُ  
الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكٰفِرَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدًا  
فِيهَا هِيَ حَسْبُهُمْ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿۶۸﴾  
كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَآكْثَرَ  
أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ

بدستور بجزم کران۔ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ مناق مرد و مناق زنانه چه آه  
اکس ہی نفاس اندر۔ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ پیچھے کا مین ہند چھ لوکن  
صلاح و دان۔ کفر و مخالفت اسلام چھ لوکن تعلیم و دان۔ رز و کامیو ایمان سے متابعت نبی کریم صلی اللہ  
علیہ وسلم نے چھ پھر ان سے پیچھا رٹان وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ موبچھ پنہ چھ و پتھ ٹھوان۔ خدایہ  
سزہ و پتھ اندر چھ کینہہ سے خرچ کران تَسْوًا اللَّهُ فَنَسِيَهُمْ تم و مشر و خدا۔ فرمانبرداری نہ کرنہ  
سیت۔ پس مشر او تم سے خداین پنہ نیو لطف و مہربانی و پتھ إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفٰسِقُونَ پڑ پتھ تم  
منافق چھ سیٹھ سرگش سے نافرمان وَعَدَّ اللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْكٰفِرَ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدًا  
فِيهَا وعدہ کور اللہ تعالیٰ ان مناق مردان بہ مناق زنان بہ نندہ و انہ کافر ن نار جہنمک، پتھ منز تم  
ہمیشہ روزان ہی حَسْبُهُمْ سؤی نار جہنم چھو تم ن بس وَلَعْنَةُ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّقِيمٌ تم کر  
اللہ تعالیٰ ان دور پنہ رحمتہ نے۔ بہ چھو تم دی خیطرہ ہمیشہ روزہ و ان عذاب كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ  
کَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَآكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا ای مناق چھہ چھو تم ن لوکن، ہی سم توہم برو پتھ

بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعْتُمُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ  
 وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي  
 الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۹۹﴾ أَلَمْ يَأْتِهِمْ  
 نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ ؕ وَقَوْمِ  
 إِبْرٰهِيْمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ أَتَتْهُمُ رُسُلُهُمْ  
 بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ

گڈ کرے۔ تم آس طاقت و توانائی کن ٹھنڈہ خوتہ زیادہ بیہ آس ٹھنڈہ خوتہ زیادہ مالہ کن بیہ اولاد و کن  
 فَاَسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ لیس تل تموتمتع تہ فایده پنہ نصیبہ موجب فَاَسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ نہ  
 تہ تلوتمتع پنہ نصیبہ موجب۔ کَمَا اسْتَمْتَعْتُمُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ بیٹھ پاٹھ تموتمتع تل پنہ  
 نصیبہ موجب تم توہہ بروٹھ آس وَخُضْتُمْ كَالَّذِي خَاضُوا نہ تہ ژاودہ پیچھ کاین اندرتھے پاٹھ  
 بیٹھ پاٹ تم ژامت آس اُولَئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تے لوکھ گے تم سمن ہنزہ  
 رژہ عملہ ضائع کنیہ دنیا اس اندرتہ آخرتس اندرتہ اُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ تے پھہ بیہ تاوان زد  
 دنیا آخرتجہ راحت و آرامہ نشہ محروم اَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ  
 وَقَوْمِ إِبْرٰهِيْمَ وَأَصْحَابِ مَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَاتِ کیاہ سمن چھنا واژ مژ تھن لوکن ہندہ گلج خبر  
 سمن یکن بروٹھ آس، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم۔ بیہ شہر مدینہ کین لوکن،  
 بیہ قوم لوط سمن ہنزہ بشین تلک پیٹھ سہ اَتَتْهُمُ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ تھن نشہ تہ آئیے پیٹھ ہند  
 نہ دلیلہ ہتھ۔ مگر تمہو کرنا فرمانی تھی نا فرمانی سیت گئے برباد تہ ہلاک فَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلٰكِنْ  
 كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يُظْلِمُونَ امیہ بربادی سیت کورنہ اللہ تعالیٰ ان تھن پیٹھ کبھنہ ظلم تم آس پنہ نین پان  
 پیٹھ پائے ظلم کران، خدایہ سزنا فرمانی کرنہ سیت۔ سمن منافقن ہند تہ گڑھہ کھو ژن اتھہ عذابس  
 وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ بالیمان مرد بیہ بالیمان زنانہ تم پھہ اوڈین ہند

يُظَلِّمُونَ ﴿۴۰﴾ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ  
بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ  
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۴۱﴾  
وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَدَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبَةٌ فِي جَدَّتِ عَدْنٌ  
وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۴۲﴾

دینی رفیق سے دوست یأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ تم مجھ پر رزن کا مین ہند  
امر کران، مجھ کا میونسٹر پتھ رنان۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ بیہ مجھ تم نماز  
برپا تھا وان بیہ زکوٰۃ ادا کران وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ بیہ مجھ حکم مانان خدا بیہ سند بیہ جہنم س پیغمبرہ  
سند۔ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ سے لو کہ گئے تم میں پیٹھ ضرور اللہ تعالیٰ رحم کرہ۔ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ  
حَكِيمٌ بیشک اللہ تعالیٰ مجھو سیٹھا غالب سیٹھا حکمت وول وَعَدَّ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَدَّتِ  
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وعدہ کور اللہ تعالیٰ ان با ایمان مردن سے با ایمان زنان تمن جتن ہند سمو  
منز جو یہ پکان آسن خلدین فیہا تمنی جتن منرزوزن ہمیشہ وَمَسْكَنٌ طَيِّبَةٌ بیہ نفیس نفیس مکان  
ہند فی جَدَّتِ عَدْنٌ ہمیشہ روزہ نہ گن جتن منرز وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ بیہ رضامندی اللہ تعالیٰ  
منرز۔ سو مجھ ساروی نعمتو اندرہ بدنعت ذَلِكْ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ سے گنیہ بڈر ستگاری سے کامیابی  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ جَاهِدُوا الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَأَغْلظْ عَلَيْهِمْ ای پیغمبر برحق جہاد کرو کافرن سے منافقن  
سیت۔ بیہ کز ودرشتی سے سختی تمن پیٹھ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وَيْسُ الْمَصِيدُ تمنز جای مجھ جہنم کا تراہ مجھ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَأُولَئِهِمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿۴۲﴾ يُحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ يُبَالِغُونَ فِي إِتْيَانِهِمْ لِلْإِلَهِ إِنَّهُمْ لَمِنَ أَعْيُنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا

جاہد چھ سو تہمہ و اتنے خیرہ یحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا تم منافق چھ قسم ہاوان خدایہ سُنَدِہ سہ دون نہ تمہ قسمک بہنہ تمیوک توہمہ پیغام دوت۔ مثالیہ تہہ کہ تم آس دیان اس کرون شہید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ بیشک وہ تم کو کفر چہ تہہ چھ لفظ نسبت بذات مقدس حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا تہمہ قتلک ارادہ کزن۔ یہ تہہ گو کفری وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ اسلام ظاہر کرتہہ کوز کہ کفر وَهُمْ يُبَالِغُونَ فِي إِتْيَانِهِمْ لِلْإِلَهِ یہہہ کہ یوکہ قصد تمہہ کوی یہہہ نہ حاصل سُد کہ۔ جنگ تبوکہ نیشہ واپسی اندر کر یوکہ قصد بے خبری اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کتر تہہ تہمہ شہادتک۔ مگر تہہ منز سید ناکام۔ تمہہ ساتہ آس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حذیفہ بن یمان یہہہ عمار بن یاسر۔ لشکرہ نیشہ الگ سید تہہ یلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لہہ کوہہ پیٹھ آس ترن یرشان۔ باہ شخص مباحق اندرہ تم نقاب پوش آس، تہہنہ کانہہ تمن پر زہ ناوہہ۔ تم دورے تمن ترین صاحبن پتہ۔ چنانچہ عمار بن یاسر کور تم کوگیر۔ حذیفہ بن یمان رُود تہمہ دین ووشن ہند چانٹ دگان۔ یوتان تم ساری ثل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فر مو تو تمن بہن ۱۲ شخص ہند ناوہہ پنہ نین دون رفیقن۔ مگر فر مو و بھ وئ گزہ نہ کانہہ۔ وَمَا تَقْبَلُوا إِلَّا أَنْ أَعْنَهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ یہہہ ہوت نہ تم کوئہ چیزک انتقام مگر سہہہ کوی کہ اللہ تعالیٰ ان تہہ تہمہ پیغمبرن کیا کتر تم منافق مالدار تہہ دولت مند پنہ فضلہ سیت۔ تمہہ کوی بدلہ چھہ تم ہوران۔ خدائس تہہ رسولس سیت دعا بازی کران إِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ کس ہر گاہ تم منافق توبہ

يَعِدُّ بِهِمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ  
 فِي الْأَرْضِ مِنْ دُولِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٤٣﴾ وَمِنْهُمْ مَنُ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ  
 آتَيْنَاهُم مِّنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٤٤﴾  
 فَلَمَّا آتَاهُم مِّنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٤٥﴾  
 فَأَعَقَبَهُمُ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا  
 اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٤٦﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا

کرن، تمہو حرکتوں نے بائین، بصدقہ دل سپردن مسلمان تہ گڑھے تہندہ خیرہ بہتر۔ ہر گاہ تمہے نے  
 زوگردانی کرن بدستور روزان دعا بازی کران اللہ تعالیٰ گرہ تلہ تمہن سخت عذاب دنیاس اندر تہ  
 آخرتس اندر تہ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ دُولِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ بیہ چھوٹہ تہن تمام روی زمینس اندر کانہہ  
 دوستاہ نہ کانہہ مددگارہ۔ وَمِنْهُمْ مَنُ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَيْنَاهُم مِّنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ  
 الصَّالِحِينَ تمہو مہاتقو اندرہ چھہ تم تمہو خدا نہس سیت عہد کورمت اوس زہ ہر گاہ اللہ تعالیٰ اسہ عطا کرہ  
 پن فضل یعنی مال و دولت اس کرو ضرور خیرات و صدقات بیہ بخواس نیکو کار و اندرہ فَلَمَّا آتَاهُم  
 مِّنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ اڈہ یلہ اللہ تعالیٰ ان عطا کور تہن پن فضل یعنی مال تہ  
 منز کورکھ نخل۔ بیہ پھر کھ بچہ۔ تم آس ہمیشہ بچہ پھرہ ولی فَأَعَقَبَهُمُ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ  
 يَلْقَوْنَهُ نہس و چھہ اللہ تعالیٰ ان سزا تمک۔ ہفاق تروون تہندین دلن اندر تہہ دوہس تان سیمہ دوہہ  
 تم تہس کن گڑھن یعنی مرچس و قہس تان بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ اوی سببہ کہ تمہو کور خلاف تہہ  
 وعدس نہس تمہو خدا نہس سیت کورمت اوس۔ اگرچہ سو وعدہ اوس کورمت تمہو نبی کریمس سیت صلی اللہ  
 علیہ وسلم۔ مگر تہن سیت عہد کرن گو خدا نہس سیت عہد کرن وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ بیہ امہ سببہ کہ  
 تم آس ہمیشہ ایزوانان أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ کیاہ تہن چھتا تہج خبر کہ اللہ  
 تعالیٰ چھو زمانان تہند سر، راز۔ بیہ تہزہ کن تہہ، بیہ تہہ کہہ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ اللہ



أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ  
 الْغُيُوبِ ﴿۴۸﴾ الَّذِينَ يَلْبِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ  
 فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ  
 فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۴۹﴾  
 اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً  
 فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  
 وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿۵۰﴾ فَرِحَ الْخَلْفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ

تعالیٰ چھو سارے غیبیہ چہ تمہے زاندون۔ الَّذِينَ يَلْبِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ  
 تم منافق چھہ تہی کہ تم چھہ طعنہ دو ان تم با ایمان تم فلک صدقات دو ان چھہ وَالَّذِينَ  
 لَا يَجِدُونَ إِلَّا جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ بے تم با ایمان تم نہ زیادہ بنان  
 چھو کہہ نہ۔ تم چھہ یوان ستوی بہتہ یوت تم ممکن نہ ہر سپد کہ محنت مزور کر تہ۔ تم منافق چھہ تم  
 ٹھہ کر ان۔ اللہ تعالیٰ تہ چھو تم منافق ٹھہہ کر تک سزا دو ان وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تہندی  
 خیطرہ چھو کڈر عذاب اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ تہہ معفو مغفرت تہندہ خیطرہ یا متہ معفو مغفرت  
 تہندہ خیطرہ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً ہر گاہ تہہ تہندہ خیطرہ ستہ پھر ہتہ مغفرت معفو  
 لَهُمْ توتہ کرہ نہ اللہ تعالیٰ تم مغفرت ہرگز ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ چھو امی مو کہ  
 زہ پز پاتھ تمو کو رکفر وانکار کنس خدا بس یہ تہندس بنیمبرس وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اللہ تعالیٰ  
 چھو نہ و تہہ ہاوان تہتمن نا فرمان تہ سر کش لو کن فَرِحَ الْخَلْفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خَلَفَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ  
 يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ جہاد نشہ پتہ روزن و آل چھہ خوش کہ تم کیا ہ رود رسول کریم  
 صلی اللہ علیہ وسلم برخلاف پتہ بہت بے ناگوار گو تم جہاد کرن پنہ نیو جانو تہ مالو سیت خدا یہ سزہ

خَلَفَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرَهُوْا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ  
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ  
 حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُوْنَ ﴿۸۱﴾ فَلْيُضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا  
 جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۸۲﴾ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ  
 مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا  
 وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ

وہ اندر امیک باعث سپہ تہن زہ (۲) چیز۔ اکھ کفر بیہ آرام طلبی وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ بین لوکن  
 تہ لگ ونبہ مہ نیر ویشہہ تیز گرمی اندر جہاد کرنہ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا تہی فرماویو کہ جہنمگ نار  
 جھو زیادہ گرم تہ چہ گرمی خوتہ لَوْ كَانُوا يَفْقَهُوْنَ کویاہ جان اوس ہر گاہ تہن زانن جھہ ہا  
 فَلْيُضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا تہس استہن تم دنیاس اندر کہ کہنہ کالاہ۔ دنیاء ک مدت جھو کی۔  
 دوتن وار تہس کالس آخرتس اندر۔ تہہ جھو تہن ہمیشہ ودنوی۔ جَزَاءً لِّمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تہن جھہ  
 کاین بدل یمہ کامہ تم کران آس دنیاس اندر، کفر، نفاق مخالفت۔ یمہ تہند حال توبہ معلوم سپہ فَإِنْ  
 رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ تہس ہر گاہ اللہ تعالیٰ وانہس نیہ توبہ مدینہ شریفس کن، توبہ و اتناوہ  
 توبہ سمومنافقواندرہ کنبہ جماعتس کن فَاَسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ توبہ ممکن تم اجازت جہادس اندر  
 توبہ سیت نیرنہ خیطرہ۔ بروظھمس الزامس رفع کرنہ خیطرہ۔ سوتہ آس نہ بہ نیک نتی بلکہ آسہ تہندس  
 دس اندر یوہہ خیال زہ وقتہ وزہ کانہہ بہانہ کرتہہ روزن پتہہ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا  
 مَعِيَ عَدُوًّا تہہ فرماویو کہ تہہ جھوہ زمانہ سازی موجب کتہہ کران مگر اللہ تعالیٰ ان کتر تہندس کن دکن ہند  
 خیالات ظاہر۔ چنانچہ پورہ اعتمادہ سان جھو سؤ ونان کہ تہہ مہ نیر وکنبہ وقتہ جہادس اندر مدد کرنہ  
 خیطرہ۔ بیہ مہ کتر و تہہ لڑای میانین دشمن سیت۔ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ توبہ کورہ  
 ناگوڈہ بیٹھے گرہ بہنوی پسند۔ وکنس تہہ جھو سؤ ارادہ۔ بیہ جھوہ سوزوی زیوہ سیت دنان فَاَقْعُدُوا مَعَهُ

فَاقْعُدُوا مَعَ الْخُلَفَاءِ ۖ وَلَا تَقْصِبْ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتًا  
 أَبَدًا ۖ وَلَا تَقْتُمُوا عَلَىٰ قَبْرِهَا ۖ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَمَاتُوا  
 وَهُمْ فَسِقُونَ ۗ وَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ

الْخُلَفَاءِ ہنس بہو برو تھم پاٹھ آہن نشہ یعنی تمن نشہ تم پتھ روز نس سزاوار چھہ۔ زنانہ، شرتہ بڈہ  
 وَلَا تَقْصِبْ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتًا أَبَدًا یارسول اللہ تمونما قوا اندرہ ہر گاہ کانہ مرہ تھندس جنازس پیٹھ منہ  
 ہز آہو نماز جنازہ پران وَلَا تَقْتُمُوا عَلَىٰ قَبْرِہا بیہ منہ آہو تھنزہ قبرہ پیٹھ سوڈن کرنہ خیطرہ وودون روزان  
 إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ کیا زہ تمون کور کفر نہ انکار اللہ تعالیٰ آس بیہ تھندس پیغمبرس وَمَاتُوا وَهُمْ  
 فَسِقُونَ بیہ مود تم کفرس پیٹھ۔ ہنس کفرہ کس حاکس پیٹھ مرہ، تسنہ خیطرہ دُعاو استغفار مکن۔  
 تمندس کھنس دھنس شامل سڈن چھو نا جائیز۔ سمہ آئیہ کرسمگ شان نزول چھو کہ یلہ عبد اللہ بن  
 ابی منافق ہند سردار مود، تمند چٹو ہنس ناؤ اوس عبد اللہ بن عبد اللہ آؤ در خدمت رسول کریم صلی اللہ  
 علیہ وسلم سواوس مخلص مسلمان۔ تم کور عرض ہن قمیض مبارک دیو حض سوتراؤو تمس کھنس سیت۔  
 چنانچہ تمون دیت ہن قمیض مبارک ہنس تمہ ساتہ تمن نال اوس بیہ نیو کہ تشریف تھند گھرہ۔ تمس  
 ترو کہ ہن لعاب دہان مبارک آس منز۔ تو پتہ پور ہنس نماز جنازہ۔ بیہ کور ہنس دُعاوی مغفرت۔ تمی  
 ساتہ سڈیہ آئیہ کریمہ نازل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمو ہنس معاہدہ کور عبد اللہ بن ابی سیت تھہ اندر  
 آسہ واریاہ حکمو۔ چنانچہ امیک نتیجہ دراؤزہ واریاہ لو کہ سپد مسلمان بیہ وچمت۔ تمون دُوپ کہ بیہ پیغمبر  
 برحق چھو دشمن سیت امہ قسمگ مہر و محبتگ سلوک کران۔ دوستن تہ باایمان سیت آسن زیادے  
 لطف و مہربانی کران۔ بیہ نر و تمون بیہ کرنہ سیت شریعت اسلامیک اکھ بوڈ مسئلہ۔ سوگوئی زہ ایمان و  
 عمل صالحہ و رای دیہ نہ کانہہ اکس کانہہ چیزاہ فائیدہ نہ ٹوسل نہ ٹبرک۔ تمون فرمود گویاکہ بوامام آسن،  
 صحابہ صیب مقتدی آسن تو پتہ پور اسہ نماز جنازہ عبد اللہ بن ابی پیٹھ۔ بیہ مونگ اسہ تھندہ خیطرہ  
 مغفرت۔ بیہ آؤ تراوند میون قمیض تھندس کھنس سیت۔ بیہ آپرمہ ہنس ہن لعاب شریف ہنس تھندس  
 بدنس منز ووت۔ باوجود آل چھہ جای تھنز فی الدرک الاسفل۔ جھنمہ کس ٹکس تل۔ ام میان نماز

اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۸۵﴾  
 وَإِذْ أَنْزَلْتَ سُورَةَ أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهَدُوا مَعَ رَسُولِهِ  
 اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطُّولِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿۸۶﴾

جنازہ پر تُوں۔ دُعاء مغفرت کرہ تُوں قمیض مبارک کھنس سیت تروا تُوں۔ لعاب شریف بدنس منزواتا وہ تُوں  
 کو زس نہ کا نہہ سئو چھ۔ سئو چیز دیو تِس نہ کا نہہ فائیدہ۔ ای گڑھہ تھاون یاد تَمَن لو کن ہند سیم  
 تھر وی دعوئی چھہ دوان نبی کریمہ سندہ مَجْبُک مگر ایمان و عمل یُتھ شوبہ ہائتمہ نشہ چھہ خالی۔ یہ تم ہی تھہ  
 آی، توحید و سنت تمہ نشہ چھہ بے بہرہ تہ عاری۔ تِس شخص عُمہ روزہ کران تہنز مخالفت تِس روزہ  
 خیال کمہ کرن تم شفاعت یہ گو محض شیطانہ سُنڈ دُھوکہ۔ اتھہ بنہ تی یہ عبد اللہ بن ابیہس ہیو و تھہند  
 شفاعت کرہ تُوں دیت نہ تِس کا نہہ نفع تہ فائیدہ۔ لہذا چھہ سخت ضرورت نجات حاصل کر نہ خیرہ ایمان  
 و عملہ ہنز۔ تھہ پانچ گڑھہ زان تَمَن لو کن ہند سیم بزرگن اولیاء اللہ تُوں ایمانہ و عملہ و رای پائس نسبت  
 کران چھہ تَمَن خدیہ سندین ٹاٹھین تہ محبوب ہند تُوں سئو پینہ عُمہ چھہ صرف کرہ مژہ کتاب و سٹش  
 پیٹھ عمل کر تِس اندر۔ جاٹھ لو کہ کرن مخالفت کتاب و سنت تُمہ پتہ روز کیہ خیال اسہ کرن تم خدا تِس  
 نشہ سفارش یا شفاعت۔ ایس خیال است محال است و جنون وَلَا تَعْبُکَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ تہند مال و  
 دولت یہ گھبر مہ ہر تراون تو بہہ تیس اندر کہ تھین نافرمان تھہ پانچہ چھو اللہ تعالیٰ دُنیا س اندر سمہ  
 نعمہ عطا کران سمہ نہ حض چھہ یہندہ خیرہ نعمہ بلکہ چھہ سیم چیز ہیندہ خیرہ عذاب سامان اِنَّمَا  
 يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا اللَّهُ تَعَالَى چھو نہ یڑھان مگر تَمَن سئو چیز و سیت گرقار عذاب کرن  
 وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ یہ گڑھہ تَمَن زو تیرن کُفرہ کس حالتس اندر۔ سمہ سیت آخر تِس اندر تہ  
 سزاوار عذاب روزن وَإِذْ أَنْزَلْتَ سُورَةَ أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهَدُوا مَعَ رَسُولِهِ یلہ تُوں وقتہ قرآن  
 مجید ک کا نہہ حصہ نازل یوان چھو کر نہ تھہ منز یہ مضمون چھو آسان کہ پڑھہ کمر و کُشس معبود بر حقس  
 مخلوس دل۔ یہ نیر و جہادس تہندس سیمبرس سیت سیت اسْتَأْذَنَكَ أُولُو الطُّولِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا  
 نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ اجازت چھہ منگان تو بہہ تھو اندرہ مال دار لو کہ۔ دُبان چھہ اسہ ترا و حض چھہ۔ اس

رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ  
فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿۸۷﴾ لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ  
جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ  
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۸۸﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۸۹﴾ وَ  
جَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ  
كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ

روز و پتہ روزہ و نین سیتِ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ  
کاژاہ شرمہ ہنزکٹھہ مٹھہ کہ تم لوکھ سپدرضا مند گھرن اندر زان سیتِ روز نس پیٹھہ۔ تھندین دلن پیٹھہ  
مٹھہ مہر امڑ کر نہ۔ تمی ہتھونہ تمن فکری تران لَكِنَّ الرَّسُولَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ  
وَأَنْفُسِهِمْ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیہ ہم با ایمان تمن سیتِ چھہ تمومون حکم خدا  
تمو کور جہاد مال و جانہ سیتِ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یعنی لوکن ہندہ خیطرہ  
مٹھہ سارے خوبہ سے لوک چھہ کامیاب تہ رستگار۔ سہ خوبی تہ کامیابی کنیہ۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ  
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا اللہ تعالیٰ ان چھہ جہندہ خیطرہ تہ باغ تیار تھاومت سہمو  
منز جو یہ پگان آن۔ تمنی جشن منز روزن ہمیشہ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ یعنی کنیہ بڈ کامیابی و جاء  
الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ ہیہ آئی کہہند بہانہ باز لوکھ گامو پیٹھہ۔ تھہ تمن گھرن اندر بہند  
خیطرہ اجازت لیہ دنہ۔ جہاد س پدن نہ تم شاملِ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ہیہ پیٹھہ گھرن  
منز تم لوکھ سہمو ایمانہ کس دعویٰ اس اندر خدا نئس تہ پیغمبر س سیتِ بالکل اپڑو ممت اوس۔ تم آئی نہ  
عذر پیش کر نہ تہ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تمو اندرہ ہم آخر س تان گھرس

عَذَابٌ أَلِيمٌ ۹۱ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا  
 عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَ  
 رَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۹۲  
 وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا اتَّوَكَّلْتُمْ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتُمْ لَا  
 أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ  
 حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يَنْفِقُونَ ۹۳ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ  
 يَسْتَأْذِنُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا

پیٹھ روزن۔ تمن وانیہ آخر کس اندر دگ تہ دود تلہ دن عذاب۔ تم تمواندرہ توبہ کرن باخلاص دل  
 مسلمان سپدن تم لمن تمہ عذابہ نشہ نجات لیس علی الضعفاء ولا علی المرضی ولا علی الذین لا  
 یجدون ما ینفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ کم طاقت لو کن تہ بیمارن تہ بیہ نہ تمن لو کن  
 یمن نہ خرچہ خیطرہ کینہ موجود چھو چھونہ کانہہ گناہ یلہ تمن خیر خواہی تہ خلوص آسہ خدا بس تہ جہندس  
 پیغمبرس نسبت ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم تمن نیلو کارن پیٹھ چھنہ کانہہ  
 وتھاہ اعتراض کرک اللہ تعالیٰ چھو بوڈ مغفر تہ دول بوڈ رحمتہ دول۔ ولا علی الذین اذا ما اتوک  
 لتحمیلہم قلت لا اجد ما احملکم علیہ بیہ چھونہ تمن لو کن پیٹھ تہ کانہہ گناہ تہ الزام۔ یلہ تم توہہ  
 نش آئے توہہ کیا کمر یو جہندہ سوار ی ہند انتظام۔ توہہ فرمود کہ میہ نشہ چھونہ کانہہ چیز پیٹھ بوٹہ  
 سوار کرووہ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا الایجدوا ما ینفقون تم درای وانس توہہ  
 نشہ پیٹھ حاس اندر کہہ اچھہ تہزہ آسہ اوش ہاران کی غمہ موکھ کہ یمن سپدہ نہ مہیانہ پنہر جاہ نہ بیہ گنہ  
 جاہہ خرچہ خیطرہ کہہ نہ مال بس تم پیٹھ جہادس منز صرف کرہ یمن۔ تمن تہ چھونہ کانہہ گناہ انما السبیل  
 علی الذین یستأذنونک وھم اغنیاء بس الزام تہ گناہ چھو تمن لو کن پیٹھ تم مالدار آتھ توہہ

مَعَ الْخَوَافِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۹۳﴾  
 يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا  
 تَعْتَذِرُونَ لَنَا مِنْ نَوْسِنَا أَنْ نَبَايَأَ اللَّهَ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى  
 اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ  
 وَاللَّهِ شَهِيدٌ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۴﴾ سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ  
 لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ

جہادس نہ نیر نہ خیرہ اجازت مکان چھہ رضوایان یتکونوا مع الخوایف شرم چھہ تہندہ  
 خیرہ تم سپد راضی زانن سیت روز نس پیٹھ وطبع اللہ علی قلوبہم فہم لا یعلمون اللہ تعالیٰ ان  
 چھہ موہر کمر مژ تہندین دن پیٹھ سمہ موکھ تم زانن چھونہ تنگان ثواب کتھ منز چھوہ تنگاہ کتھ منز  
 چھوہ۔ **يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ** سم لوکھ کرن عذرت بہانہ توبہ نش، یلہ والنس  
 گدھو تم نش۔ **قُلْ لَا تَعْتَذِرُونَ لَنَا مِنْ نَوْسِنَا أَنْ نَبَايَأَ اللَّهَ مِنْ أَخْبَارِكُمْ** بیشک سمہ کمر خبر اللہ تعالیٰ ان تہندین اصلی  
 تہندس ونہ نس پڑھہ گرونہ **قَدْ بَايَأَ اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ** حالاتن ہنز کہ تہند کاہنہ عذراوس نہ پوزتہ صحیح۔ **وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ** بیہ تہ وچھہ آیندہ  
 اللہ تعالیٰ بیہ تہند پیٹھ تہنزہ کاملہ۔ سمہ سیت معلوم سپدہ توبہ اندر کوتاہ اخلاص تہ فرمانبر داری چھہ  
**تُمْ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَاللَّهِ شَهِيدٌ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ** توپتہ ایو تہہ والنس پنہ نس  
 پروردگار نس سو ری پوشیدہ تہ نون زانن چھوہ۔ نس گرہ سو توبہ خبر تم ساری چیزن ہنز سم  
 تہہ کران آسہ توپتہ دیوہ تجم وور **سَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ إِذَا انْقَلَبْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَعْرِضُوا عَنْهُمْ** وون بین  
 تم توبہ نشہ توپتہ ہاؤن تم قسم خدلیہ سند یلہ تہہ والنس ایو تم گن۔ بیٹھ تہہ درگذر کمر و تم نشہ  
**فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَجِسٌ** بس کمر وتہہ تم نشہ درگذر۔ تم تراویو کہ پنہ نس حاس پیٹھ۔ ہز پاپٹھ  
 تم چھہ مکرتہ گندہ۔ **وَمَا لَهُمْ حِمْزٌ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ** تہند انجام چھوہ سیٹھاہ خراب۔ بتولا کہ

إِنَّهُمْ رَجِسٌ ۖ وَمَا وَهُمْ بِجَزَاءٍ لِّبِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۹۵﴾  
 يَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۖ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ  
 لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿۹۶﴾ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَ  
 نِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ  
 رَسُولِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۹۷﴾ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ  
 مَا يَنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَابِرَ عَلَيْهِنَّ

چھو واٹن تمن جہنم اندر۔ یہ چھو تمن سزا تمن کا میں ہند سمہ تم کر ان آس۔ نفاق سے خلاف وغیرہ  
 یَخْلِفُونَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ تم قسم چھہ تم ہاوان تو بہہ برو نھہ کہہ بیٹھ تہہ راضی گدھو تمن نشہ۔ اول  
 گدھہ خدایہ سندن دشمن نشہ راضی سدن۔ بالفرض ہر گاہ تہہ تمن نشہ راضی سدو۔ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ  
 فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ہر گاہ تہہ تہند یواپز یو قسمو سیت متاثر سپد تھہ راضی گدھوتہ۔  
 مگر اللہ تعالیٰ سپد نہ ہرگز راضی تھیں شریعتہ نافرمان لو کن نشہ الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَ نِفَاقًا تمن  
 منافقن منز تم گامک لوکھ چھ تم چھہ زیادہ سخت کفرہ کن سے نفاقہ کن حکما زہ تم چھہ علمائ  
 سے عاقلن نشہ دور روزان وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ بیہ چھہ تم  
 اتھہ قابل کہ تم زان نہ تم احکام تم اللہ تعالیٰ ان چھہ پنہ نس پیغمبرس پیٹھ نازل کرمت وَاللَّهُ  
 عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو سوری زانہ ون، سیٹھاہ حکمتہ وول وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يَنْفِقُ  
 مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَابِرَ بیہ چھو سمو گامہ کیو منافقو اندرہ بعض لو کن کفر و نفاق و جہلہ  
 علاوہ نجل و عد او تکب صفات بدتہ۔ تمہہ چھہ زنان خدایہ سزہ و تہ اندر خرچ کر نس چیت سے تجرمانہ بیہ  
 چھہ پیاران تم تو بہہ پیٹھ پوت کھوریش کا نہہ حادثہ واقع سدنس، بیچھہ وقاہ نپس علیہم دَابِرَةٌ  
 السَّوْءِ پوت کھور بیہ تمن پانس۔ بیچھہ وقت بین تمن پانس۔ زمانگ حادثہ سپدہ واقع تمن پیٹھ وَاللَّهُ  
 سَمِيعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو سوری بوزہ ون سوری زانہ ون وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ



دَايِرَةُ السَّوْءِ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۙ (۹۸) وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ  
يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا  
عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۙ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ  
سِيدٌ خَلَهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۙ (۹۹)  
وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ  
اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ  
جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ أُولَٰئِكَ الْفَوْزُ  
الْعَظِيمُ ۙ (۱۰۰) وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ۗ وَمِمَّنْ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ بیه چہہ گامکیا اندرہ تم تم پور پڑھہ چہہ کران کنس خدانس۔ بیه تمس دوہس لعنی قیاس  
وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ ۙ بیه چہہ تم گنجز ران خدایہ سندہ و تہ اندر  
مال خرچ کرنس تسدہ قربک تہ پیغمبر خدایہ سندہ دعای خیرک اکھ رت ذریعہ ۙ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ  
لَّهُمْ ۙ وارہ یوزو واقعی چھو سو خرچ کرن تہند تہندہ خیرہ قربک ذریعہ سِيدٌ خَلَهُمُ اللَّهُ فِي  
رَحْمَتِهِ ۙ ضرور و اتاوہ تمن اللہ تعالیٰ پنہ نس رحمتس منز کیا زہ ۙ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۙ بیشک اللہ  
تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت تہ سیٹھاہ رحم کرہ ون ۙ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ  
وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۙ بیه تم بروٹھ گڑھہ ون۔ گوڈنی مشرف  
باسلام سپدہ ون مہاجر و تہ انصار و اندرہ۔ بیه تم لوکھ سمو تہنز پیروی کر تہ طریقہ۔ تمن سارنی نغہ  
چھو اللہ تعالیٰ راضی۔ تم تہ چہہ نس نشہ راضی۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا  
أَبَدًا ۙ بیه تھاؤ اللہ تعالیٰ ان تہندہ خیرہ تیار تم جنت سمو منز جو یہ پکان چھہ تمنی جشن منز روزن تم

أَهْلَ الْمَدِينَةِ تَسْمُدُوا عَلَى النِّفَاقِ تَلَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ  
 نَعْلَمُهُمْ سَعِدٌ بِهِمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يَرُدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿۱۱﴾  
 وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرًا سَيِّئًا  
 عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۲﴾ خَذُ  
 مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ  
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۱۳﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ

ہمیشہ ذلک الفوز العظیم یعنی کئی بد کامیابی و مین حوالہ من الاعراب منفقون و من اهل  
 المدینة بے ایم توبہ آید پاک گان ہند یوں لو کو اندرہ بے شہرہ کیوں کو اندرہ تہ سم منافق چھہ مردوا  
 علی النفاق ڈاکر تھہ چھہ نفاس بیٹھہ لاتعلمہم نحن نعلمہم سعید بہم مرتین تہہ  
 زانیو کہ نہ تم۔ اس زالو کہ تم جلدی و مو اس تین دنیاء س اندر سزا دو گن ثم یردون الی عذاب  
 عظیم تو پتہ بین تم سوزنہ آخر جس بڈس عذابس گن و آخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا  
 عملاً صالحاً و آخراً سئیاً بے چھہ سمن و رای بکھنہ لوک ستمو اقرار کور پنے نین گو نین۔ ستمو ملہ ناوہ رتہ عملہ  
 چھہ عملہ سیت۔ یعنی شو گو اعتراف گناہ کرن پنے بس گنہس اقرار گن عسی اللہ ان یتوب علیہم  
 ان اللہ غفور رحیم شاید اللہ تعالیٰ کرہ تہندہ توبہ قبول۔ کیا زہ اللہ تعالیٰ چھو بیشک مغفرت کرہ  
 ون سیٹھاہ رحم کرہ ون۔ ستمو صحابہ صیو اس پن پان گنڈ تھہ تھامت مسجد شریفہ کین گن سیت۔ بھند  
 توبہ قبول سپد ستمو مزار او پنے نین پان ہند گنڈ۔ تو پتہ ایٹھہ بارہ در خدمت حضرت رسول کریم صلی  
 اللہ علیہ وسلم۔ اتی سپدیہ آیہ کریمہ نازل خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم و تزکیہم بہا ربح  
 سمن توبہ کرہ و نین نغہ تہندہ مالہ اندرہ بس تم پیش کران چھہ بطور صدقہ۔ کریو کہ تم پاک پاکیزہ تمہ  
 صدقہ سیت وصل علیہم ان صلواتک سکن لہم بے کمر یو کہ دعای خیر۔ پڑ پائھ تہندہ دعای خیرہ  
 سیت چھو سمن تسلی تہ اطمینان حاصل سپدان۔ واللہ سمیع علیم اللہ تعالیٰ چھو تہندہ اعتراف

اللَّهُ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَ  
 إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿۱۴﴾ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ  
 عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ  
 وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۵﴾ وَآخِرُونَ مُرْجُونَ  
 لِمَا لِلَّهِ آتَايَعْدُ بِهِمْ وَآمَاتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۶﴾

واقرار گناه، تہمت نہ امت و ارہ بوزہ و ن پورہ زانہ و ن اَلْمُيَعْلَمُونَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ  
 وَيَاخُذُ الصَّدَقَاتِ کیا تم جھنا معلوم کہ اللہ تعالیٰ ای جھو توبہ قبول کران پنہ نین بدن ہند۔  
 بیہ جھو سوی صدقات قبول کران وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ بیہ جھنا تم معلوم کہ اللہ تعالیٰ ای  
 جھو سیٹھا توبہ قبول کرہ و ن۔ سیٹھا رحم کرہ و ن وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ  
 وَالْمُؤْمِنُونَ بیہ فرما یو کہ تہہ کہ ای لو کو کران گدہو تہہ عمل، اللہ تعالیٰ جھوپانہ و چھان تہمت عمل۔  
 بیہ بیٹہر تہمت، بیہ بایمان۔ جھہ کائین ہند نتیجہ نیرہ توبہ دنیاء سی اندر، ذلت بیہ خوار ی وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ  
 عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ای تہہ و اتا و نہ تہ ذات پاکس نفسہ سوزوی پو شیدہ تہ نون زانہ و ن  
 جھو۔ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تہس گرہ سو توبہ خیر تم سارنی کائین ہمت سمہ تہہ کران آسہو  
 وَآخِرُونَ مُرْجُونَ لِمَا لِلَّهِ آتَايَعْدُ بِهِمْ جھہ کینہہ لو کہ جھہ روز و نیو اندرہ تم پیاران جھہ خدلیہ سندس کھمس۔  
 تمین متعلق جھو اَتَايَعْدُ بِهِمْ وَآمَاتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ یا کر کیکہ عذاب، ہر گاہ توبہ کر تہ  
 اندر خلوص آسکہ نہ۔ یا کرہ تہمت توبہ قبول۔ ہر گاہ توبہ باخلاص کورمت آسکہ۔ اللہ تعالیٰ جھو پر تہہ  
 کھند حال پورہ زانہ و ن۔ تہہ خبر اخلاص و عدم اخلاص۔ سو جھو سیٹھا حمتہ و ول۔ مدینہ شریفس  
 قریب جھو اکھ محلہ تہہ جھونا و ”قبا“۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلمو یلہ مٹہ شریفہ پیٹھ  
 ہجرت کمر۔ گوڈنی ٹھہرے تم اتھ مجلس اندر۔ تمہ پتہ کینہہ کالاہ گدہو تہہ اٹو کہ تشریف مدینہ شریفہ کس  
 شہرس اندر۔ ایٹس کاس اتھ محلہ قبا س اندر قرار کو رکھ تہٹس کاس۔ تہہ جاءی تم نماز پر تہہ جایہ

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ  
 الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ  
 وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ  
 لَكَاذِبُونَ ﴿۱۴﴾ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ

بنوا امیہ محلہ کیو مخلص باایمانو اہ مسجد اہ۔ تھ مسجدہ وجہہ ونان مسجد قباء اتھ جلس منزسم مناقب بسان  
 آس تمن اوس میل جول ین من گروھن ائس شخصس سیت ئس ناو اوس ابو عامر راہب۔ سو اوس  
 اسلامگ سخت دشمن۔ تمو مناقبو کورئس سیت مشورہ کمر تھ اھ کتھاہ مقرر کہ اس تہ بناووتھ مسجدہ  
 سیت بیا کہ مسجد۔ تھ منز جمع سپد تھ آسو اسلامس خلاف مشورہ کران۔ ام ابو عامر ن وون یمن مناقب  
 کہ یو سمجھ ہر قلس وغیرہ بادشمن۔ تمن سیت فوج ولشکر حاصل کمر تھ تھاووا کے ساتہ مسلمان ہند  
 بیول گالٹھ۔ تمہ پتہ یلہ مسجدہ ہنزہ شعلہ تمو مناقبویہ مکان بنو توپتہ آئی در خدمت حضرت رسول  
 کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمن کوز کہ عرض تمہ ابو حض تشریف اتھ سانہ مسجدہ اندر۔ اللہ تعالیٰ ان  
 کمر نازل اتھ موقعس پیٹھ تم آیات کریمہ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ  
 الْمُؤْمِنِينَ بیہ وجہہ بعضی لو کہ تمو مسجد اہ بناو اسلامس ضرورتا ونہ خیطرہ۔ بیہ بیٹھ تھ منز کمر چہ یعنی  
 عداوت رسولہ چہ کتھ کرن۔ بیہ بیٹھ مسلمان منز تفرقہ تراؤن زہ جتہ کرن وَلَا رِصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ  
 اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ بیہ بیٹھ زانگج جای بند تمن ئس شخصہ سندہ خیطرہ تم برو نطھی مخالفت کمر  
 خدا ئس تہ تہندس پیغمبرس یعنی ابو عامر مذکور وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ توپتہ وجہہ تم ہوا ان  
 کہ اسہ اوس نہ اتھ اندر یعنی مسجد بناوئس اندر بہتر ورا ی عنہ چیز ک ارادہ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ  
 لَكَاذِبُونَ خدا اھو گواہ کہ بیشک وجہہ تم اپز زبیر۔ یلہ امہ مسجدہ ہنزہ حالت وجہہ لَا تَقُمْ فِيهِ  
 أَبَدًا تمہ مہ حض گروھو تھ منز نماز پرنہ ہرگز لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِي يَوْمَ أَحْسَنَ أَنْ  
 تَقُومَ فِيهِ البتہ سو مسجد بیٹھ کنن آمت وھو ونہ گوڈیجہ دوہہ پیٹھ پر ہیز گاری پیٹھ، یعنی مسجد قباسوی

مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ  
 يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ﴿۸۸﴾ أَفَمَنْ أَتَسَسَ بُنْيَانَهُ  
 عَلَى تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرًا مِّنْ أَتَسَسَ بُنْيَانَهُ  
 عَلَىٰ شَفَا حَرْفٍ هَارٍ فَانْهَارِيهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ لَا  
 يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿۸۹﴾ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْا  
 رِيبَةً فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۹۰﴾

ہتھ سزاوار سمیہ خیطرہ کہ تہہ پتر و تہہ منز نماز و تہہ رجال یحبون ان یتطہروا تہہ مسجد قباء س  
 منز چہہ تم لو کہ کن پاکی چہہ سیٹھاہ ناٹھہ واللہ یحب المظہرین اللہ تعالیٰ تہہ چھو زیادہ پاک روزہ  
 دینن ٹوٹھ تھوان آفسن اتسس بنیانہ علی تقویٰ من اللہ و رضوان خیر کیاہ سو شخص سم کن دیت  
 پنہ نس گرس یعنی مسجدہ خدا س کھو ٹکھو تہہ تہنر رضا مندی ژھا نڈان سو شخص چھا ہتر ام من اتسس  
 بنیانہ علی شفا حرف ہار فانہاریہ فی نار جہنم کنہ سو شخص سم پنہ گرج بنیاد تہہ کن دیوت  
 کھو کھرہ چہنہ کس اندس پیٹھہ۔ تہہ پھراٹ تہہ گامز اس، نس و س پئیس تیار۔ نس پیو سو و تہہ نار  
 جہنم اندر، نس تہہ منز اوس سو تہہ پیو جہنم اندر۔ کیا زہہ مکان بناونہ اندرہ اوس غرض مخالفت  
 اسلام و پیغبر اسلام۔ نس سراسر گھر اوس۔ گھر تہہ کافر ن ہنز جای چہہ نار جہنم۔ واللہ لا یہدی  
 القوم الظالمین اللہ تعالیٰ چھونہ تہہ ہوان تہنن ظالم دینہ چن کا مین کن لا یزال بنیانہم الذی  
 بنوا ریبہ فی قلوبہم ہمیشہ روزہ یہ گره نس تمو ہنو تہندین دکن اندر شکگ سبب۔ تو پتہ یلہ سو گرہ  
 منہدم کور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سو زودلکہ ون تہندین دکن اندر۔ الا ان تقطع  
 قلوبہم واللہ علیہم حکیم سو ژ لیکنہ مگر اینکہ ریزہ ریزہ گڑھہ تہندین دکن مڑ تہہ قبرن اندر اللہ  
 تعالیٰ چھو سو زوی زانہ ون، حمتہ و ول ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم بان  
 لہم اجتہہ پتر پاٹھ اللہ تعالیٰ ان ہست مثل با ایمان لشہ تہند پان تہہ تہند مال، جتس بدلہ۔ خدا نس

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ  
 بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَ  
 يُقْتَلُونَ وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ  
 وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَاسْتَبْشِرُوا  
 بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۱۱﴾  
 التَّائِبُونَ الْعِبْدُونَ الْحِمْدُونَ السَّابِحُونَ الرَّاكِعُونَ  
 السَّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ

كمنه اندر هه چهو مطلب كه تم ههه مال پن ته جان پن خدایه سده خیره صرف کران  
 سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ تم خدایه سزه و ته اند جهاد کران ههه منز کنه و قته دشمن ماران  
 ههه کنه و قته پانه شهید سپدان ههه وَعَدَا عَلَيْهِ حَقًّا اته جهاد و قائل پیته نُس و عده تمن سیت کرنه  
 آمت ههه سو ههه پوز و عده۔ امیک و عده ههه کور مت اللہ تعالیٰ ان پوز و عدهه  
 فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ توراتس منزیه، انجیلس منزیه، قرآنس منزیه وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ  
 یه تهه ههه مسلم كه خدایه سده خوته کس اکهاه ههه زیاده و فا کره ون پنه نس عهدس فاستبشروا ببیعکم  
 الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ کس گزه خوش پنه نس یتهه سودا س پیته نُس تو بهه کوره خدایس سیت۔ وَذَلِكَ  
 هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ بیته کنیه بڈ کامیابی یعنی جنت حاصل سپدن  
 التَّائِبُونَ الْعِبْدُونَ الْحِمْدُونَ السَّابِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ  
 لِحُدُودِ اللَّهِ تمن مجاہد با ایمان ہند صفت ہهه تم ہهه توبہ کره ون شر کہ نشہ، نافرمانی و نشہ، تم چهه  
 عبادت کره ون، تم ہهه حمد پہ ون، تم ہهه روزہ دار روزہ ون، تم ہهه رُوع کره ون ته سجدہ و دہ ون

وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۲﴾ مَا كَانَ  
 لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَ  
 لَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ  
 أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿۱۱۳﴾ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ  
 إِلَّا عَنِ مَوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا أَيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ  
 لِلَّهِ تَبَرَّأ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ ﴿۱۱۴﴾ وَمَا كَانَ اللَّهُ

یعنی نماز پڑھو، بیہ چھہ تم رٹن کتھن ہنز تعلیم و وہ ون تہ پیچھ کتھونشہ پتھ رٹھ ون۔ بیہ چھہ تم خدایہ  
 سندین کھمن راجھہ کرہ ون عملہ سیت و بَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ خوش خبری فرماؤ تمن با ایمان تمن  
 اندر جھاؤک جذبہ تہ تم صفت آسن مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ  
 جائیز چھونہ بنی کر تمس بیہ با ایمان کہہ تم کیا مگن مغفرت مُشْرِكِينَ ہندہ خیطرہ و لَوْ كَانُوا أَوْلَىٰ قُرْبَىٰ  
 ادہ آستھہ تم آشناوی مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ تمن وارہ بیہ کتھ نندہ پتہ کہہ  
 تم کیا چھہ نارک لوکھ، جہندہ کفرس پیٹھ ہر نلکہ سبہ ہر گاہ حضرت ابراہیمہ سندہ قصہ سیت شبہ سپدہ کہہ  
 تمو کیا زہ مونگ مغفرت پنہ نس مال سندہ خیطرہ، تمیک جواب چھو وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ  
 لِأَبِيهِ إِلَّا عَنِ مَوْعِدَةٍ وَعَدَّهَا أَيَّاهُ بیہ اوس نہ مغفرت مگن حضرت ابراہیم سندہ پنہ نس مال سندہ  
 خیطرہ مگر اکھ وعدہ پور کر نہ خیطرہ نس تموتس سیت کورمت اوس۔ تیج ذکر اللہ تعالیٰ فرماوان چھو  
 ساستغفر لک ربی اہنس اندر فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأ مِنْهُ ادہ یلہ تمن نینو کہ سو چھو  
 دُشمن خدایہ سند تم سپدس نشہ بیزار۔ استغفار مگن تروو تمو کیا زہ اتھ صورتس اندر دُعَايِ مغفرت  
 کرن چھو بیکار۔ وون رُوزیہ کتھ کہہ تمو کیا زہ اوس تمس وعدہ کورمت تمیک وجہ چھو إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ  
 حَلِيمٌ پڑپاٹھ حضرت ابراہیم اوس نرم دل، حلیم الطبع، ژالہ ون، ژاید کرہ ون۔ باوجودیہ تمن  
 ونہ مال سخت ناگوار کتھ مگر تمو ہنرہ جلس کوم۔ از بس شفقت و مہربانی کورہس وعدہ استغفار۔ سو تہ تو تھی

لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا  
يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۱۵﴾ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُم مِّنْ  
دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۱۱۶﴾ لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى  
النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي  
سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِن بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيغُ قُلُوبَ فَرِيقٍ  
مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُ بِهِمْ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۱۷﴾

تَانِ یُوْتَانِ تَمَنِ اِمْكَانِ مَغْفِرَةٍ اَمِيْدَ اَسْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ اِذْ هَدٰىهُمْ اللّٰهُ تَعَالٰى  
جھونہ ڈالان کنہے قومس تمن ہدایت کرنہ پتہ۔ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُمْ مَّا يَتَّقُونَ یُوْتَانِ تَمَنِ واره  
بیان کران جھوتم چیز سمونہ تمن بچن تہ پتہ روزن آسان جھو اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ہنز  
پاٹھ اللہ تعالیٰ جھو پرستہ چیزہ پورہ زانان اِنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يُحْيٰی وَيُمِیْتُ  
پزپاٹ اللہ تعالیٰ سنزنی چھہ پادشاہت آسمان تہ زمین ہنز۔ سوئی جھو زندہ کران تہ ماران وَمَا لَكُمْ  
مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيْرٍ بیہ جھونہ تہندہ خیطرہ خدائس وراى کانہہ دوستاہ تہ مددگارہ  
لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ اللّٰهُ  
تعالیٰ سپد موجہ رحمتہ سیت بنی کر تمس۔ تمن کوڑن عطا بتوت تہ امامت جہاد۔ بیہ سارے خوبیہ بیہ  
کران تمن مہاجرن تہ انصارن کن توجہ برحمت سمونہ ہنز پیروی کمر سختی ہندہ وقتہ کہ تمن دینن توفیق  
استقامتک مشقت و تکلیف برداشت کر نک مِّنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبَ فَرِیْقٍ مِّنْهُمْ سمہ  
پتہ کہ قریب اوس کہ اکہ جماعتک دل ڈلہ کن تمہ نشہ، تہنز پیروی کرنہ نشہ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ اِنَّهُ  
یہم رءوف رحیم توپتہ پھیور سو تمن کن ثابت قدمی عطا کرنہ سیت کیا زہ سو جھو تمن پیٹھ



وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ  
 الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن  
 لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ  
 اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿١١٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ  
 وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ﴿١١٩﴾ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ  
 حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ وَ  
 لَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ

سیٹھا مہربان تہ سیٹھاہ رحم کرہ ون وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا بیہ کور توبہ قبول اللہ تعالیٰ ان  
 تمن ترین شخص ہند ہند معاملہ ملتوی اوس تھانہ آمت۔ حَتَّىٰ إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ  
 بِمَا رَحُبَتْ یوتان تمن پیٹھ زمین وسیع تہ کھول آستھ تنگ سہد وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ أَنفُسُهُمْ بیہ آئی  
 تم پانہ سیٹھاہ تنگ تہ عاجز وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ بیہ زون تمبو کہ کانہہ چھمن جای  
 چھنہ خدایہ سندہ عذابہ نغمہ چنہ خیطرہ ٹس ورا ای ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا توبہ تہ سپد سو تمن کن متوجہ  
 رحمتہ سیت۔ یٹھ تم توبہ کرن اِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ پڑاٹ اللہ تعالیٰ چھو توبہ قبول کرہ ون  
 رحم کرہ ون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ای بایمانو کھو ترو خدا ئس بیہ روزو  
 عملہ اندر پمز زیارین سیت۔ یمن ہنزیت تہ کھہ ڈرست تہ پڑہ چھہ مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ  
 وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَن رَّسُولِ اللَّهِ شوہ ہانہ، پڑہ ہانہ مدینہ متورہ کین لوکن  
 بیہ تمن لوکن سم لہد پک گائن اندر روزان چھہ پتھ روزن تہ شمولیت نہ کرن پیغمبر خدا ئس ہمراہ  
 جہادس اندر نیر نہ نغمہ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَن نَّفْسِهِ بیہ شوہ ہانہ تمن پن پان زیادہ ناٹھ زان تہندہ  
 خوتہ۔ تم یلہ پانہ بہ نفس نفیس درای اتھ جنگ تبوگس اندر پتھ روزہ ون تہ پنہ نین پان آرام واد تہ ناوہ ون۔

ظَمًا وَلَا نَصَبٌ وَلَا غَمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطُؤُونَ  
 مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوِّنَا إِلَّا الْكَيْبَ  
 لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۳﴾  
 وَلَا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا يَقْطَعُونَ  
 وَادِيًا إِلَّا كَيْبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا  
 يَعْمَلُونَ ﴿۱۴﴾ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ  
 مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ

تم کیا ہجہ تہندہ خوتہ ذلک یانہم لایضیبہم ظمًا ولا نصاب ولا غمصۃ فی سبیل اللہ  
 ولا یطؤون موطئًا یغیظ الکفار ولا ینالون من عدوینا یہ تم سیت شمولیت کران آس ضرور  
 سمہ مؤکھ کہ اتھ اندر اوس اکھ مجت پیغمبر خدایک حق ادا کرن تمہ علاوہ سمہ سمہ مہربانیہ تہ ثواب  
 مجاہدن حاصل سزہ تم تہ سپدہ ہن تمہ مہربانیہ حاصل۔ چنانچہ تم دوت نہ کانہہ تکلیف خدایہ سزہ  
 وتہ اندر۔ تم لجنہ تریش۔ بوہجہ۔ تم یک نہ کنوتہ مگر بشان وشوکت سمہ سیت کافر ن ژکھ کھوتہ وانج  
 دز تم بے کور نہ تمبو حاصل دشمن رعہ کانہہ چیزہ الاکتب لہم بہ عمل صالح مگر سمو  
 ساروی چیز و بدل آہ تم نامہ اعمال اندر رتہ بیکہ لیکنہ ان اللہ لایضیعہ اجرہ المحسنین ہنر  
 پاٹھ اللہ تعالیٰ ہوتہ ضالچ کران نیکو کارن ہنر مزور ولا ینفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ  
 ولا یقطعون وادیًا الاکتب لہم بے کران نہ تم کانہہ خرچ لوگٹ یا بوڈ۔ بے ژھنڈن نہ کانہہ  
 میداناہ۔ مگر تمبو بدل تہ بیکہ بیکہ لیکنہ۔ لایجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون بیکہ اللہ  
 تعالیٰ تم ر ژمزور عطا کرہ تمی کاین ہنر سمہ تم کران آس۔ وما کان المؤمنون لینفروا کافۃً بے  
 ہزہ ہانہ بالیمان نیرن اکہ وٹہ سارنی ہنر فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ بیکہ پاٹھ کیاہ آہ

وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿۱۲۲﴾  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ  
الْكَفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ  
الْمُتَّقِينَ ﴿۱۲۳﴾ وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ  
إِن كُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ آيَاتُنَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا  
فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۱۲۴﴾ وَأَمَّا  
الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ


نہ عمل کرنے کہ آبادی ہندہ پرستہ حصہ منزلیہ ہن کینہہ لوکھ لیتفتھووا فی الدین یتھ تم  
شہرہ کین عالمین نشہ دینک احکام حاصل کرن و لیئذیروا قومہم اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون  
تاکہ پنے نین لوکن کن واپس گڑھتھ کرہ ہن تم نین یتھ تم نافرمانیو نشہ احتیاط کرن۔ یایہا  
الذین الامتوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ای باایمانو جہاد کمر و تمین کافرین سیت یم توہم  
نکھ تلہ چھہ و لیجدوا فیکم غلظۃ تمین تہ لمن بوزنہ کہ توہم اندر چھہ سختی تمین نشہ مہ روزو  
کھوڑتھ تہ دیتھ۔ و اعلموا ان اللہ مع المتقین بیہ زانوہ تھ کہ اللہ تعالیٰ سمد مدد چھو پیشک  
پرہیزگارن تہ متقین سیت۔ و اذا ما انزلت سورۃ فمِنْهُمْ مَن یقول ان کُمْ زادتہ ہذہ آیاتنا  
بیہ یلیہ نوو سورہ شریفہ نازل کرنہ یوان چھو کس چھہ بعضی مناقبو اندرہ تم و نان چھہ ٹھٹھہ پاٹھ۔ تلہ سا  
وستو توہم اندرہ کسند ایمان ہر یویہ سورہ نازل سپدنہ سیت۔ فاما الذین امنوا فزادتهم ایمانا  
وہم یستبشرون کس سمو لو کو برو نطھی ایمان او نمٹ چھو تمین ہرہ روو ضرور قران مجید ک  
تم سورن سیٹھاہ ایمان چنانچہ تم چھہ ترقی ایمان سیت سیٹھاہ خوش و اما الذین فی قلوبہم  
مرض و دن گئے تم لوکھ یہندین و کن اندر نفاک مرض چھو فزادتهم رجسا الی رجبہم کس

رَجِبِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿۱۲۵﴾ أَوْ لَا يَرَوْنَ  
 أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا  
 يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿۱۲۶﴾ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ  
 نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ  
 انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا  
 يَفْقَهُونَ ﴿۱۲۷﴾ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ

بہرہ رو تو تم قرآن مجید ک تم سوزن ناپاکی پیٹھ ناپاکی کیا زہ لہ برو تھ اوس تمو قرآن مجیدہ کس اہس  
 حصص انکار کورمت۔ وڈن کوزکھ پس حصص وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ بہی مود تم کفر کسی حالس  
 پیٹھ۔ قرآن مجید ک خاصیت ہتھو پیشک ایمانس اندر ترقی پیدہ کرن۔ مگر جای گزھہ تھہ قابل آسن۔  
 دل گزھہ نفاقہ نغمہ پاک آسن اَوْ لَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ آیا  
 وچھان چھنا تم زہ تمہن ضرور آزمائش یوان کرنہ پر تھہ و رہہ لہ بھر ہ یا دویہ بھر ہ، کُنہ تہ کُنہ آفس  
 تہ بلایہ منزبتلا کرنہ سیت۔ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ تو پتہ تہ چھہ تم بازیوان نہ  
 چھہ تم نصیحت رٹان وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ بہی بلہ کانہہ نو سورہ نازل کرنہ  
 یوان ہتھو تمہ ساتہ چھہ تم اکھ اکھ کن وچھنہ لگان۔ اشار و سیت چھہ اکھ اکھ اس پر ژھان اَلْ يَرَاكُمْ مِنْ  
 أَحَدٍ وچھان ماچھو تو بہ کن کانہہ مسلمانو اندرہ ثُمَّ انصَرَفُوا اُتٰی چھہ ژکن ہیوان نبی کریمہ سزہ  
 جلسہ منزہ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ اللہ تعالیٰ ان بھر تہہ دل دین حقہ نغمہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا  
 يَفْقَهُونَ کیا زہ تم چھونہ پوز فخری تران لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ای لو کو تھیق آو  
 تو بہ کن پیغمبرہ تو ہی منزہ یعنی از جلس بشر۔ تھہ تو بہ تم نغمہ فیض حاصل کرن آسان سپدہ عَزِيزٌ  
 عَلَيْهِ مَاعِنْتُمْ تم سیتھاہ ناگوار تہ دشوار ہتھو تو بہ کانہہ تکلیف وائن حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ سیتھاہ

عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ يَا مُؤْمِنِينَ رَدُّوهُ  
 رَجِيمٌ ﴿۱۳۸﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلَّ اللَّهُ لَالِئَ الْاِلهِ اِلَّا هُوَ  
 عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿۱۳۹﴾

خوایش چہ تہم تہندہ فایدہ بیج۔ یا المؤمنین ردوہ رجیم۔ با ایمان کت چہ تم سیٹھاہ مہربان تہ  
 سیٹھاہ شفیق۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلَّ اللَّهُ لَالِئَ الْاِلهِ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ  
 الْعَظِيمِ ہر گاہ یہ آستہ تہ لو کہ روگردانی کرن تہہ فرماؤ کہ کانہہ پرواہ چھونہ۔ بس چھومہ اللہ  
 تعالیٰ۔ کانہہ معبود چھونہ تہس وراہی۔ تہس پیٹھ کورمہ اعتماد۔ سوی چھوڈہ عرشک مالک۔



## سُورَةُ يُوسُفَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 الرَّفَّتِ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ ۱ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا  
 إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْذِرِ النَّاسَ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ  
 قَدَمَ صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ قَالَ الْكٰفِرُونَ إِنَّ هَذَا السَّحْرُ مُبِينٌ ۲  
 إِنَّ رَبَّكُمْ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ  
 ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مَنْ شَفِيعٌ إِلَّا مَنِ

الرَّامِكِ مَطْلَبِ زَلَمَةِ اللَّهِ تَعَالَى تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ سَمِ آيَاتِ بَرُوْتِهٖ بِيَانِ مِّنْ كَرَمِهٖ سَمِ بِهٖ  
 آيَاتِ بِرِ حَمَمَتِهٖ مَضْبُوطِ كِتَابِهٖ هَدًى لِّعَنِ قِرَآنِ مَجِيدِكِ سَمِ آيَاتِ بِرِزِ آسَمَهٗ مُوَكَّهٗ قَابِلِ قَبُولِيَتِ بِهٖ  
 يَمِينِ بِهٖ سَمِ آيَاتِ نَازِلِ سِدْقَانِ بِهٖ كَافِرِهٖ تَهْمِدِ سِ نَبُوْتِ اِنْكَارِ كِرَانِ تَمَنِّي بِهٖوَاللَّهُ تَعَالَى جَوَابِ  
 فِرَاوَانَ أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إِلَى رَجُلٍ مِّنْهُمْ كَيَاهٖ يَمِينِ مَكِّ كَيِّنِ لَوْ كُنْ جِهًا عَجَابِ بِوَزْنِهٖ يَوَانِ  
 تَهْمِدِ كِهٖ سَوُجُوْتِ تَمُوِي اِنْدِرَ اَكْسِ شَخْصِ بِهٖ لَيْسَ تَمَنِّي بِهٖوَاللَّهُ تَعَالَى جَوَابِ اِنْ أَنْذِرِ النَّاسَ سُوْجُو  
 بِهٖوَاللَّهُ تَعَالَى جَوَابِ اِنْ a  
 صِدْقٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ سَمُو اِيْمَانِ اَوَّلِ تَمَنِّي فِرَاوَوِيَّةِ خُوْشِ خَبْرِكِهٖ تَهْمِدِ خَاطِرِهٖ بِهٖوَاللَّهُ تَعَالَى جَوَابِ اِنْ اِنْ اِنْ a  
 مَرْتَبِهٖ قَالَ الْكٰفِرُونَ إِنَّ هَذَا السَّحْرُ مُبِينٌ كَافِرِيْلَهٗ حِيْرَانِ كَمَنِّي كَلَامِ پَاكِ لَوْ زَتَهٗ دَهْنِهٗ لَگِ بِرِزِ پَاظِهٖ  
 بِهٖوَاللَّهُ تَعَالَى جَوَابِ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ a  
 پَاظِهٖ بِهٖوَاللَّهُ تَعَالَى جَوَابِ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ a  
 اَعْلَى دَرَجَتِ قَادِرِ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ تُوِيْتِهٖ سَهْدِ سُوْمَسْتَوِي عَرَشِ بِهٖوَاللَّهُ تَعَالَى جَوَابِ اِنْ اِنْ a  
 شَأْسِ شُوْبِهٖ چِنَانِهٖ فِرَاوَانَ جِهٖوَاللَّهُ تَعَالَى جَوَابِ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ اِنْ a

بَعْدَ إِذْنِهِ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۳﴾ إِلَيْهِ  
 مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا إِنَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ  
 لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا  
 لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ ﴿۴﴾  
 هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ  
 لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ

حکیم مابین شفیق الامین بعد اذنیہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوہ کس بروئہ کنہ بیکہ نہ کانہ اھ  
 شفاعت کمر تھ تہدہ اجازتہ وراہ۔ کس چھو سو عظیم تہ۔ یوہے معبود برحق چھو تہند پروردگار، حقیقی  
 رب۔ کس کمر و تہزی پر تہش۔ شر کہ نہہ روز و تہہ افلا تاذکرون کیاہ۔ سمہ دلیلہ یوز تہہ تہ چھوہ  
 ناتوبہ فخرہ تران کینہہ۔ سمہ سیت تہہ نصیحت رتو ایلہ مارجعکم جمیعاً وعد اللہ حقاً تہس کن چھوہ  
 توبہ سارنی واثن۔ یہ چھو اللہ تعالیٰ سہد پوز وعده ایلہ یبدؤ الخلق ثم یعیدہا پزپاٹ سوی چھو گوہ  
 پیدہ کران مخلوقن۔ تو پتہ کرہ سوی بیہ دوبارہ تہن پیدہ قیامتگ دہہ لیجزی الذین امنوا و عملوا  
 الصلحت بالقسط تہہ بدلہ دیہ سو تہن لوکن پوزہ پوزہ سمو ایمان اون بیہ کر کیکہ رتہ عملہ، عدل و  
 انصافہ موجب۔ تہہ منزکرہ نہ کنہ قسمہ کی بلکہ کرہ زیادے عطا والذین کفروا لهم شراب من حمیم و  
 عذاب الیم بما کانوا یکفرون بیہ سمو لو کو کھر کور۔ تہدہ چنہ خیطرہ چھہ آخر کس منز کس سہ بیہ  
 تمہ علاہ عذاب کڈر۔ کیاہہ تم کیا آس کھر کران هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نوراً سو قادر  
 مطلق گو سوی سم آفتاب کورنہ نہ کرہ ون۔ زون کمرن پر یزلہ ون وقدرکہ منازل مقر کمرن سمو  
 اندرہ پر تہہ اکسدہ سیرہ خیطرہ برج تہ منزل۔ آفتابہ سیت چھہ یوان دہہ پر زاونہ تہ زونہ سیت چھہ یوان  
 رتہہ تہ وریہہ پر زاونہ لتعلموا عدد السنین والحساب تہہ تہہ زانو و رہن ہنز گریند تہ رتین تہ  
 دوہن ہند حساب ما خلق اللہ ذلک الا بالحق اللہ تعالیٰ ان کر نہ سم چیز پیدہ مگر پز پاتھ کن جمعون

يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ۝ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ  
وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ ۝  
إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَاطْمَأَنُّوا بِهَا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ ۝ أُولَٰئِكَ  
مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۝ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ يَهْدِي اللَّهُ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ

پیٹھ مشتعل يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ویرشہ ناوان چھو اللہ تعالیٰ پنہ قدر تجہ دلیلہ زان والین  
ہندہ خیرہ إِنَّ فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ پزپاٹھ  
رات کس تہ وہہ کس اختلافس اکھ اکس پتہ یس اندر، بیہ تم چیز اللہ تعالیٰ ان آسمان وزمین اندر پیدہ  
کر، تم اندر چھہ بڈ بڈ نشانہ تہ دلیلہ خدا یہ سندس آسٹس پیٹھ تم لوکن ہندہ خیرہ تم خدا یس کھوڑہ  
وون چھہ إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا پزپاٹھ تم لو کہ امید چھنہ تھاوان سانہ ملا قاتج تھہ چھہ انکار  
کران وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا بیہ تم راضی سپد دنیا چہ زندگانی میٹھی آخر تک طلب چھونہ تم  
کہنی وَاطْمَأَنُّوا بِهَا بیہ تم تنہہ دنیا سی پیٹھ مطمئن سپد۔ دل لکھہ چھہ توکن متوجہ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ  
آيَاتِنَا غَافِلُونَ بیہ تم سانیو آیا تو نشہ چھہ پیجری تم منزمر نہ پتہ بیہ زندہ گڑھن لکر چھہ أُولَٰئِكَ  
مَأْوَاهُمُ النَّارُ تمنی لوکن ہنز جای چھہ نار جہنم بہا کائو ایکسبُونَ تم چھہ کامین ہند سز اسمہ  
تم کران آس إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَهْدِي اللَّهُ رَبُّهُم بِإِيمَانِهِمْ پزپاٹھ تم لو کو ایمان  
اون بیہ کر کیکہ رتہ عملہ تم ہا وہ و تھ پن پروردگار تہندہ ایمانکہ برکتہ جنس کن تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ  
الأنهر في جنت النعيم سموجتو منز رنگارنگ جو یہ پکان آسن نعمون ہندین جتن اندر دَعْوَاهُمْ فِيهَا  
درخواست تہند آسہ جنس اندر۔ یعنی کانہہ چیزے طلب کرن آسکھہ تمہہ ساتہ پرن تم سماک اللہم،  
یکدم آسہ سو چیز پیش سپان سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ منزہ تہ پاک چھوک تہ یا اللہ وَتَجِيبُهُمْ فِيهَا سَلَامًا تہند



الْأَنْهَرُ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ⑨ دَعْوَاهُمْ فِيهَا سُبْحَانَ اللَّهِ وَ  
تَحِيَّاتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ ⑩ وَأُخِرْدَعْوَاهُمْ أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ  
الْعَالَمِينَ ⑪ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ  
لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ فَنذُرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي  
طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ⑫ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا  
لِجَنَّتِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِئًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ  
كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ

تعظیم و تکریم آسہ جنس اندر سلام، ملائک آسن تمن نعمہ یدان۔ تم آسن تمن سلام کران۔ جنتی آسن  
اکھ آس سیت ملاقات کران تم آسن تمنہ ساتہ سلام کران وَأُخِرْدَعْوَاهُمْ آخری دعا آسہ تمنہ  
أَنْ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ساری تعریف جہہ سزوار تس معبود برحق ئیس عالمین ہند رب جھو  
وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجْلُهُمْ ہر گاہ اللہ تعالیٰ لوکن پیٹھ تمنہ  
جلدی شر ژھانڈئس موافق جلدی عذاب واقع کرہ ہاتھ پاتھ تم خیر ژھانڈئس اندر بے تابی کران  
جھہ نہ اللہ تعالیٰ جھو خیر تمن جلد واتانوان۔ ہر گاہ تھہ پاتھ شرہ جلدی واتانواہ ہیکھہ۔ تیلہ آسہا تمنہ  
عذابک وعدہ ڈیٹھ کنہ پورہ سد مت فَنذُرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ ئیس  
جھہکھ آس تم لو کہ تمن نہ آسہ نعمہ واقع نہ آسہ سیت ملاقات کرن امید جھہ یلہ تراوان، جھہ تم سرکشی  
اندر اورہ یور پھیرن بالآخر کرو کہ اس تم عذابس گرفتار وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنَّتِهِ  
أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَابِئًا بیہ یلہ کانسہ انسانس کانہہ سختیہ واتان جھہ لئی جھہ ہیوان آسہ سو مگن پر تھہ  
حاکس اندر۔ شوگت تہ بہت تہ دو تھہ ون تہ۔ تمنہ ساتہ جھوس نہ معبودان باطلواندرہ کانہہ تہ ژئیس  
ہیوان فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَانَ لَمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرِّ مَسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا

مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۲﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيَوْمِنَا كَذَلِكَ يَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۳﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ﴿۱۴﴾ وَإِذْ اتَّكَلْنَا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا انْتِ بِقَرِّ أَنْ غَيْرُ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي

يَعْمَلُونَ تو پتہ یلہ اس نہ سختی چھس دور کران تہندہ ممکنہ تہ اسہ کن التجا کرنہ پتہ۔ تو پتہ چھو سو واتان پتہ نس اصلی حاس کن ہیہ چھو شرکیہ کامہ تہ تہہ کران۔ یکان چھو اسہ سیت تمہ طریقہ زن نہ اسہ کن نمہ سختی وزہ حاجشی پیومت چھو تس۔ اسہ سیت چھو بے تعلق ظاہر کران۔ تہہ پاٹھ چھو زینت ونہ آمت حدہ نشہ تجاوز کرہ ونین ہنزن تمن پتھ عملن سمہ تم کران اس وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونََ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا تہنن گاجہ تہ ہلاک کرہ اسہ مختلف عذابو سیت واریاہ جماژ توبہہ بروٹھ یلہ تمو ظلم کور یعنی کھر و شرک کوزکھ وَجَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ تمن نشہ تہ اس واتمت پیغمبر تہندہ ننبہ دلیلہ ہتہ وَمَا كَانُوا لِيَوْمِنَا آس نہ تم تمہ قسمک کہ پشہ کرہ ہن تہ ایمان نہ ہن كَذَلِكَ يَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ تہہ پاٹھ یکیاہ چھہ اس جرم کرہ ونین سزا دو ان ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلِيفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ تو پتہ کمرہ اسہ تہہ تمن پتہ دنیا س اندر تہنزہ جایہ آباد۔ تہہ اس وچھو تہہ تہہ پاٹھ کمر و کوم (لہذا ہر گاہ توبہہ تہ تی کور وہیہ بروٹھ میو کور تلہ ہنہ توبہہ تہ تی یہ تمن ہنیو وَلِذَٰئِكَ اتَّكَلْنَا عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ بیہ یلہ پرنہ چھہ یوان تمن پیٹھ سان واضح تہ روشن آیات قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا انْتِ بِقَرِّ أَنْ غَيْرُ هَذَا وَان چھہ تم لو کہ تمن نہ امید ی چھہ اسہ سیت ملاقات کرئ۔ ای پیغمبر سمہ قرآن مجیدہ بدل انویا کہ قرآن تہہ منزہ تمہ قسمک مضمون آسن سم سانس مسلکس خلاف آسن أَوْ بَدِّلْهُ یا کھر واتھ اندر نمہ قسمہ ترمیم۔ تم آیات کڈو امہ منزہ تم اسہ

أَنْ أَبَدِلَهُ مِنْ تِلْقَائِي نَفْسِي إِنْ أَتَيْتُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ  
 إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ قُلْ  
 لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرِكُم بِهِ ۖ فَقَدْ لَبِثْتُ  
 فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ ۖ فَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن  
 افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ  
 الْمُجْرِمُونَ ﴿٧﴾ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ

خلاف چہ قُلْ تمہہ فرمادو کہ مایکون لی ان ابدلہ من تلقائی نفسی مہ چھونہ اختیاری بوکیاہ  
 بدلاوہ اتھ کہینہ پنہ طرفہ کیا زہ یہ چھامہ پن کلام ان اکیبہ الامایوحی الی لئو چھوس نہ پکان مگر  
 تمی حکمہ موجب بس مہ گن سوز نہ یوان چھو لئی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم ہنز پاٹھ  
 بو چھوس کھوژان ہر گاہ بو نافرمانی کرہ پنہ بس مالکہ سز بدہ دوہہ کس عذابس سو گوروز قیامت قُلْ تمہہ  
 فرمادو کہ ہز لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرِكُم بِهِ ہر گاہ اللہ تعالیٰ یزہہ ہا بو پدہ ہانہ توہہ پیٹھ  
 قرآن مجید۔ یہ کرہ ہانہ توہہ ایچ خبر فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ یورودس توہہ منز عمرہ ہمدس  
 اکس ہڈس حصص، ژ پنجن ۳۰ ورہن سمہ بروٹھ (ہر گاہ مہ پنہ طرفہ یکہنہ پیش کرن آسہاتلہ کرہ ہا بو تھ  
 وقس اندر تہ پیش۔ مگر توہہ چھو معلوم میون سوزی حال لو کچارہ پیٹھ) فَلَا تَعْقِلُونَ کونہ چھوہ تمہہ  
 عقل کران فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ بس تمہہ اکھاہ چھو یژ ظالم بس  
 شخصہ سندہ خوتہ بس اپز نور اوہ معبود بر حقس پیٹھ یازلہ اہز تہمد آیات إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ  
 ہنز پاٹ کامیاب گرہ صن نہ نافرمان۔ خدا بس شریک ٹھراوہ ون وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا  
 لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ بیہ چھہ سیم پرستش کران معبود بر حقس ورا ی تمن چیزن ہنز سیم نہ تمن کانہہ  
 ضرر بینکن و اتاوتھ۔ نہ کانہہ فایدہ۔ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ بیہ چھہ ونان تم مشرک سیم  
 چیز کرن اسہ سفارش خدا بس زہہ (تمی چھہ اس بہنز پرستش کران) قُلْ أَتَشْتُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ

وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوَآءَ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ طُغْيَانًا  
 اتَّبَعُوا اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ  
 سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۱۸﴾ وَمَا كَانَ النَّاسُ  
 إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ  
 رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۹﴾ وَيَقُولُونَ  
 لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ فَقُلُوبُنَا سَاهِيَةٌ

فی السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ تمہہ فرمادیو کہ کیا تمہہ چھوہ خدا کیس دنان تمہہ خبرہ سمہ نہ سوزا لہ نہ  
 آسمانس اندر نہ نہ زمین اندر (یعنی یلہ تس کا نہہہ شریک آسہ ہائے چیزس اندر تلہ ونہ ہاسو پانہ تھہ  
 متعلق) سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ منزہ تہ پاک چھوسو تموسا روی چیز ونشہ تم چیز لو کہ تس  
 شریک چھہ ٹھہراوان۔ معلوم سپد شرک چھو عقلا تہ شرعاً باطل آسہ علاہ منزے ٹھہراونہ آمت۔  
 چنانچہ اللہ تعالیٰ چھو فرمادان وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا بیہ آس نہ لو کہ  
 ابتداءس اندر مگر اکی امتہاہ مؤحدن ہنز کیا زہ حضرت آدم علیہ السلام تم آس مؤحد۔ تم ن پتہ تہند  
 اولاد تم تہ آس مؤحد کسی عقیدس پیٹہ۔ پس کر تمو اندرہ بعضید اختلاف۔ تم سپد مشرک  
 وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِي مَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ہر گاہ تہ فیصلہ ازلی آسہا  
 برو تھہ سپد مت ٹھہندس پروردگار ہ سندہ طرفہ، سو گو دنیا چھو داز العمل آخرت چھو داز الجزاء۔ نتہ بیہہ ہا  
 ضرور تم ن در میان فیصلہ کرنہ تھہ منسلک منز تھہ منز تم اختلاف کران چھہ۔ یعنی تم مشرک یکن  
 دنیا سی اندر عذابس گرفتار کرنہ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةً مِنْ رَبِّهِ بیہ چھہ دنان تم  
 منکب مشرک محض عبادہ کن باوجود ظہور مجزات ٹھہراہ کہ اس پیغمبرس پیٹہ کونہ سپد نازل برو ٹھہن ہند  
 پاٹھ فرمایشی معجزاہ۔ چوبچہ معجزہ اندرہ چھو مقصود ثبوت نبوت۔ بیہ سپدہ حاصل پر تھہ مجزہ سیت۔ لہذا  
 چھنہ ضرورت فرمایشی معجزن ہندہ واقع سپدنج۔ مگر ممکن چھو تمو معجز و اندرہ سپدن واقع یکہنہ معجزہ یا

الْغَيْبِ لِلَّهِ فَإِنَّظِرُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿۲۰﴾  
 وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّسَّتْهُمْ إِذَا الْأَهْمُ تَكَرُّوْا  
 فِي آيَاتِنَا قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكَرًا إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَكْفُرُونَ ﴿۲۱﴾  
 هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَ  
 جَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَ تَهَارُجُهُمْ عَاصِفٌ  
 وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنُّوا أَنَّهُم أُحِيطَ بِهِمْ دَعَوْا

سپدن نہ۔ یہ جھوٹے نبی امور و اندرہ اکھ چیزہ۔ بو علم غیب زانہ کہینہ تہ۔ **فَعَلُوا إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ**  
**فَأَنْتَظِرُوا إِلَيَّ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ** کہیں فرماؤ لو کہ تمہ کہ شیخ خبر چھنہ مگر خدایہ سی یاثر۔ کہیں  
 پیار و تہہ یونہ جھوس توی سیت پیارہ و نیولندہ۔ اتھ جھونہ منصب رسالت سیت کاہنہ تعلق **وَإِذَا أَذَقْنَا**  
**النَّاسَ رَحْمَةً مِّنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ مَّسَّتْهُمْ** بلکہ اس مزہ چھنہ تہہ ناوان تم لو کہ کھنہ نعمتک۔ تمی سختی پتہ  
 یوسہ تمہن واثر مژ آسان چھہ **إِذَا الْأَهْمُ تَكَرُّوْا فِي آيَاتِنَا** تان چھہ ہیوان تم شرارت گرن سائین آیاتن  
 نسبت۔ یعنی تمہو آیاتونشہ چھہ اعراض کران۔ تمہن پیٹھ چھہ اعتراض کران تمہن نسبت چھہ ٹھٹھ تہ  
 استہزاء کران **قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكَرًا** تہہ فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ جھو تہندہ خوتہ تیز کار سازی اندر۔ امہ  
 شرارتک سزا دیہ سوتوبہ سیٹھاہ جلد **إِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَكْفُرُونَ** پزپاٹھ سان سوزمت لیجھن وال  
 چھہ لیگان سٹو کار سازی تہ شرارت یوسہ تہہ کران چھوہ۔ پروردگار س معلوم آسکھ علاوہ چھہ تہنہ  
 شرارتچہ کامہ سانس دفتر س اندر تہ محفوظ **هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ** سٹو گو سوی پروردگار کہیں  
 توبہ سیر کرہ ناوان جھو خشکی پیٹھ تہ دریاؤن منز تہ۔ یعنی سٹو آلا توتہ ساما نوسیت برسی و بحر ی وتھ طے  
 کران چھوہ تم ساری آلات و اسباب چھہ اللہ تعالیٰ انی عطا کرمت **حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرَيْنَ**  
**بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ** تالیجھہ بلکہ تہہ کھنہ ساتہ دریاؤس منز چھوہ آسان ناوان تہ جہازن منز سوار۔ ناوہ تہ  
 جہاز چھہ آسان موافق ہواوہ سیت پکان **وَفَرِحُوا بِهَا جَاءَ تَهَارُجُهُمْ عَاصِفٌ** ساری سوار چھہ آسان



زُخْرُفَهَا وَازَيَّنَّتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا أَنتَهَا  
 أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا إِنْ كَانَ لَمْ تَعْنِ  
 بِالْأَمْسِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾ وَاللَّهُ  
 يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٢٤﴾  
 لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ وَلَا يَرْهَقُ وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا  
 ذِلَّةٌ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٥﴾ وَالَّذِينَ كَسَبُوا

زُخْرُفَهَا تا یعجزم بیلہ زمین پورہ رتان چھو پن رونق وَازَيَّنَّتْ بے سپد زمین سرسبزی سیت مزین  
 وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَدِرُونَ عَلَيْهَا خیال کورزیدارو کہ ہنر پانچہ آسہ چھو ووان یہ زراعت امرہ زینک  
 پیداوار پنہ نس اٹھس منز انہما أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا اتی چھو واتان تھہ سون حکم رات گیت یادولہ  
 فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا إِنْ كَانَ لَمْ تَعْنِ بِالْأَمْسِ ہنس چھن تراوان اس سو کو تھہ۔ زن نہ او سموی  
 اوس کینہہ یوہ۔ تھہ پانچہ عالم بالکہ طرفہ روح یوان بدن انسانس سیت رلجہ، قوت حاصل کمر تھہ، پور  
 طاقتور تہ ہنر مند انسان بنان، آس انسانسہ تعلق دار چھہ امیدوار روزان اس نغہ فائیدہ تکلن پیٹھ۔  
 اتی چھو ناگہانی موت یوان تہ سوانسان چھو ہنک تہ معکہ مران۔ امندین متعلقن ہنر ساری خیالات چھہ  
 ووان۔ زن نہ یہ انسان پیدے سپد مت چھو آسان کَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ تھہ پانچہ  
 چھہ اس پنن آیات ویرھہ ناوتھہ بیان کران تھن لوکن ہنرہ خیطرہ سم فخر کرن۔ ہنس سپد ثابت کہ دنیا  
 چھو دارالرزوال وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلَامِ اللہ تعالیٰ چھو نادوان لوکن دارالسلامس کن۔ سلامتی  
 ہنر س گرس کن (سوگو جنت) وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ بے چھو و تھہ ہاوان تھن یرشہان  
 چھو راہ راستس کن لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ تھن لوکن ہنرہ خیطرہ چھہ رثمزور، یعنی جنت۔  
 سم رث عمل گرسن بے تھہ خوتہ زیادہ (رثمزور گو جنت، تھہ خوتہ زیادہ گو دیدار خدا) وَلَا يَرْهَقُ  
 وُجُوهَهُمْ قَتَرٌ وَلَا ذِلَّةٌ ولنہ بے نہ تھندین تھن سیاہی بے نہ رسوائی۔ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا

السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ  
 مِنْ عَاصِمٍ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا  
 أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۷﴾ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ  
 جَبَعًا تَمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ  
 فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ ﴿۲۸﴾  
 فَكْفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ  
 لَغْفِيلِينَ ﴿۲۹﴾ هُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوْا إِلَى اللَّهِ

خَلِدُونَ صحیح کیا گئے جب تک لو کہ تھے آس جن میں منز ہمیشہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا السَّيِّئَاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِمِثْلِهَا یہ سمولوگو کو تمہے کامہ کرہ یعنی کفر سے شرک۔ تمہے کامہ ہنر مزور سے جھٹھ تو ہی سے توئی ایڑہ سے بیڑھ سو بڑی آسہ۔ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ تمہے علاوہ یہ تہندین تمہیں و لہ خواری و رسوائی مَّا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ آسہ نہ تم خدائس نہ کہ نہ بجاؤن و ولہ كَأَنَّمَا أُغْشِيَتْ وُجُوهُهُمْ قِطْعًا مِنَ اللَّيْلِ مُظْلِمًا زن تہندہ تمہے آس و لہ آمت تاریک راژ ہنر و جھلو سیت اُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ صحیح کیا گئے ناریک لو کہ۔ تمنی و جھور و زن تھ نارس اندر ہمیشہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَبَعًا سُو دودہ سے جھو قابل ذکر سمہ دودہ اس ساری مخلوقات سو نہر و کہ میدان محشرس منز۔ قیامتگ دودہ کہ و لہ تَمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاءُكُمْ تو پتہ و نو اس مٹرن کن۔ ای مٹرن کو ٹھہر و تہہ یہ تہندہ شریک۔ پنہ نی جلیہ زوزو فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ تو پتہ ترا و او اس تمن منز تفرقہ سے دوریر۔ تم کرن پانہ وان اکہ اکس سیت مقابلہ وَقَالَ شُرَكَاءُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِلَّا نَا تَعْبُدُونَ ون تہندہ باطل معبود تہہ آسوہ نہ سان عبادت کران فَكْفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغْفِيلِينَ لہس جھو بس اللہ تعالیٰ گواہ آسہ کن آسہ منز سے تو بہ منز تھہ تھہ پیٹھ کہ اس آس تہنرہ عبادتہ نہ لہس بالکل



مَوْلَهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۳۰﴾ قُلْ مَنْ  
 يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّنُ يَبْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَ  
 مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يُدْبِرُ  
 الْأُمُورَ فَيَقُولُ اللَّهُ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۳۱﴾ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ  
 فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلٰلَةُ فَأَنْتَ تُصْرَفُونَ ﴿۳۲﴾ كَذَلِكَ  
 حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۳﴾

بے خبر کیا زہ اس اس بے جان ہُنَالِكَ تَبْلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا سَأَلَتْ اِی وقتہ گرہ امتحان پر تھک اٹھا  
 تھ ساری یہ تم کورمت آسہ بروئہ وَرُدُّوَاللَّی اللَّهُ مَوْلَهُمُ الْحَقِّ و اتناوندہ من تم خدایہ سندس  
 عذابس کن ایں تہند حقیقی معبود چھو وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ تم ساری باطل معبود تسم تمبو  
 ٹھہراومت آس، تمکن ہنز تم پرستش کران آس گڑھن تمن نشہ غائب تہ ختم۔ تمواندرہ بیہ نہ تمن  
 کانہہ تہ بکار قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ہر ژھو تہند یارسول اللہ تمن مشرکن تہ سولہ تہ چھو ایں  
 توہہ رزق عطا کران چھو آسمان وزینکہ طرفہ یعنی آسماکہ طرفہ بارش تراوان زمینہ منزہ غلہ کھاران  
 ایں تہند رزق بنان چھو اَمَّنُ يَبْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ بیہ دنو تہہ چھو مالک تہندہ بوزکہ تہ و چھکہ  
 قُوتک و مَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ بیہ تہہ چھو زندس کڈان مردس نشہ،  
 مردس کڈان زندس نشہ و مَنْ يُدْبِرُ الْأُمُورَ بیہ تہہ چھو سارنی کاین ہند تدبیر کران۔ فَيَقُولُونَ  
 اللَّهُ تمن سارنی تھن ون تم جواب کہ سہہ سارے کامہ کرہ ون چھو اللہ تعالیٰ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ تہہ  
 فرماؤ کہ اوہ کونہ چھو تہہ تس شریک انہ نشہ پتہ روزان فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ الْحَقُّ تسمندیم اوصاف و  
 افعال چھہ ایں بیہوی چھو معبود برحق تہند حقیقی پروردگار فَمَاذَا بَعَدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلٰلَةُ ہزہ تھہ پتہ کیاہ  
 چھو باقی روزان گمراہی ورائی فَأَنْتَ تُصْرَفُونَ ایں پوز تراوتھ کیا زہ چھو تہہ اہزس کن گڑھان  
 کَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ تھہ پاٹھ سہز ثابت تہندس

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ قُلِ اللَّهُ  
 يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ فَأَنْتِ تَوَكَّلُونَ ﴿۳۴﴾ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ  
 مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَنْ يَهْدِي  
 إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ  
 كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿۳۵﴾ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا الظَّنَّ لَا يُغْنِي  
 مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ لِّمَا يَفْعَلُونَ ﴿۳۶﴾ وَمَا كَانَ هَذَا

پروردگارہ سزازی تھے تم نے نافرمان پیچھے کہ تم اس نے زانہہ تہ ایمان قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدُو  
 الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ یہ تہ پر تھو کہ تہہ یار سؤل اللہ کہ ای مشرگو کیاہ تہند یو سمو ایزو معبودو آندرہ  
 چھا کا نہہ ئس گوڈہ مخلوقات پیدا ہیچہ کمر تھہ تو پتہ ڈوبارہ بیہ پیدا ہیچہ کمر تھہ - اتھہ پھور نہہ تمن جوابی  
 کیہنہ - قُلِ اللَّهُ يَبْدُو الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ تہہ فرما یو کہ اللہ تعالیٰ چھو گوڈہ پیدا کران، سوی کرہ بیہ  
 ساری مخلوقات پیدا - یہ چھہ تہنزی کام فَاَنْتِ تَوَكَّلُونَ ادہ کو گن چھوہ پز معبود تراو تھہ ایزین  
 معبودن گن گھہان قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ اتہ پر تھو کہ تہہ زہ ای مشرگو کیاہ تہند یو  
 ایزو معبودو آندرہ چھا کا نہہ ئس پز س گن و تھہ ہاوتھہ ہیچہ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ تہی فرما یو کہ کہ اللہ  
 تعالیٰ ای چھو پز س گن و تھہ ہاوان اَفَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ يُهْدَىٰ  
 کیاہ ئس معبود و تھہ ہاوہ پز س گن سو چھا زیادہ سزاوار پیروی کرئس کنہ ئس نہہ پانہ بے سندہ و تھہ ہاونہ  
 ورا ی و تھہ لبان چھو فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ئس کیاہ گووہ توہہ بیہ کیتھ لغو فیصلہ چھوہ کران توحید تراو تھہ  
 چھوہ شرک اختیار کران ئس نہہ ابنا عس قابل ہیچہ آتھہ سو ہیجا عبادتس قابل آتھہ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ  
 إِلَّا الظَّنَّ بیہ چھہ اکثر سمو لو کو آندرہ پیروی کران مگر فاسد خیالاتن ہنزی اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ  
 شَيْئًا پز پاتھہ فاسد خیال چھونہ کا نہہ فاسدہ دو ان پز س برو تھہ کنہ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ لِّمَا يَفْعَلُونَ پز پاتھہ  
 اللہ تعالیٰ چھو پوز زانانہ یہ تم کران چھہ - و قس پیچھہ زہہ سو تمن پائے وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ

الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي  
 بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَأَرِيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۵﴾  
 أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ  
 اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۶﴾ بَلْ كَذَّبُوا  
 بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ كَذَّابَ  
 الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿۳۷﴾

مَنْ دُونِ اللَّهِ یہ قرآن مجید چھوٹے تھوڑے کتاباں یوسہ ٹھہراونہ آئیہ پندرہ طرفہ خدائیس وراى وَلَكِنْ  
 تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ بلکہ چھوٹے نازل کرنے آمت تصدیق کرہ و ان کن کتابن سمہ امہ بروٹھ چھ  
 نازل کرنے آثرہ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ یہ چھوٹے تمنی کتابن ہند تفصیل تہ توضیح بیان کران لَأَرِيْبَ فِيهِ  
 مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ کانہ شک چھوٹے امہ کس کتاب آسانی آس اندر یوسہ چھو نازل آمت کرنے  
 عالمین ہندس پروردگارہ سندہ طرفہ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بلکہ باوجود آل چھہ سم لوکھ و نان یہ قرآن  
 مجید چھو پنے نی طرفہ ٹھہر وومت حضرت محمدن (نعوذ باللہ) قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ نہہ فرماو یوکھ  
 کہ تلہ آتو نہہ اتھ ہیو اکھ سورہ۔ نہہ تے عربی زبانہ ہند ماہر فصیح و بلیغ چھوہ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ  
 مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ یہہ دیکو ناد تمکن نہہ ہیو تہ تمن پندرہ مددہ خیطرہ معبود برحقس وراى  
 ہر گاہہ پوزونہ دن چھوہ۔ یعنی ہر گاہہ یہ قرآن مجید میون تصنیف چھو نہہ تہ آتو اتھ ہیو اکوئى سورہ  
 تصنیف کر تھہ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ بلکہ چھہ سم انکار کران اپوزانان تھہ چیزس تہ گنہ  
 تمن پورہ واقعتھس چھہ وَلَمَّا يَاْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ وندگتہ تے یہ تمن ای حقیقت كَذَّابَ الَّذِينَ مِنْ  
 قَبْلِهِمْ یہ ہندی پاھہ کور تکذیب تمو لوکو تہ سم تمن بروٹھ آس پنے نین پیغمبرن فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ  
 عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ کس وچھہ کیاہ اوس انجام تمن ظالمن ہند تھوی انجام آسہ تمن ظالمن ہند تہ وَمِنْهُمْ  
 مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ یہہ چھہ سموا ندرہ بعضی سم آیدہ پڑھہ کرن اتھ قرآن مجیدس،

وَمِنْهُمْ مَّنْ يُؤْمِنُ بِهِ وَمِنْهُمْ مَّنْ لَا يُؤْمِنُ بِهِ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ  
 بِالْمُفْسِدِينَ ﴿۴۰﴾ وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ إِنِّي عَلَىٰ وَكُومِكُمْ  
 أَنْتُمْ بَرِيضُونَ مِمَّا آعَمَلُ وَأَنَا بَرِيضٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۴۱﴾  
 وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ سَمِيعُ الصَّمِّ وَلَوْ كَانُوا  
 لَا يَعْقِلُونَ ﴿۴۲﴾ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْىَ  
 وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ ﴿۴۳﴾ إِنَّ اللَّهَ لَا يُظِلُّمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ  
 النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۴۴﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ كَانُوا يُبْذَرُونَ إِلَّا

بہیہ چھہ بعضی سم نہ پڑھ کرن اتھہ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ نہند پروردگار چھو پور زمانان مُفْسِدِينَ  
 وقت مقرر یلہہ واتہ تمہ ساتہ کرہ اللہ تعالیٰ ضرور تمہن عذابس گرفتار وَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقُلْ إِنِّي عَلَىٰ وَكُومِكُمْ  
 عَمَلِكُمْ وکن ہر گاہ تمکن دلیمان ہندہ باوجود ایم لوک توہمہ انکار کرن، نہہ فرماو یو کہ مہ چھہ مزور پنہ  
 کامہ ہنز توہمہ چھوہ مزور پنہ کامہ ہنز۔ أَنْتُمْ بَرِيضُونَ مِمَّا آعَمَلُ وَأَنَا بَرِيضٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ نہہ  
 چھوہ بری میانیہ کامہ نشہ، یو چھوس بری نہنہزہ کامہ نشہ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ نہہ مہ تھاوو  
 توقع تم کیانن ایمان اگرچہ تمہو منزہ چھہ بعضی یم کن تھاوان چھہ سمہ ساتہ نہہ قرآن مجید پران چھوہ۔  
 مگر نہند بوڑن نہ بوڑن چھوہ برابری۔ کیا زہ تم چھوہ ایمانک ارادہ لہذا چھہ نہنہز حالت زرین ہنز ہش  
 أَفَأَنْتَ سَمِيعُ الصَّمِّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ کیا توہمہ بیحوکھہ زربوزہ ناوتھہ بہیلہ نہ تمہن عقل تہ آسہ کینہہ  
 وَمِنْهُمْ مَّنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ بہیہ چھہ تمہو اندرہ بعضی سم توہمہ مُجْرَات وکمالا توسان وچھان چھہ۔ مگر طلب  
 حق نہ آسہ موکھ چھوہ نہند وچھن بے کار أَفَأَنْتَ تَهْدِي الْعُمْىَ وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصُرُونَ کیا نہہ چھوہ  
 یرشہان امین و تھہ ہاون یلہہ نہ تمہن درنیشی ہوان آسہ کینہہ۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُظِلُّمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ  
 أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ہنز پاٹھ اللہ تعالیٰ چھوہ نہ کانسہ ظلم کران قابلیت عطا نہ کمر تھہ مواخذہ تہ گرفت

سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا  
بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۳۵﴾ وَأَمَّا نُرَيِّبُكَ بَعْضَ الَّذِي  
نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفِّيكَ فَأَلَيْنَا مَرْجِعَهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا  
يَفْعَلُونَ ﴿۳۶﴾ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قَضِيَ بَيْنَهُمْ  
بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۳۷﴾ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ

کران۔ لیکن لو کہ چہ ظلم کران پان پائس عطا کر نہ آما قرابلیت ضایع کر نہ سیت و یوم یخترہم کان لہ  
یَبْتَئُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ تم پاپو سو دودہ ژتیس سمہ دوہہ اللہ تعالیٰ تم سارنی تہہ پاتھ سو نیرا وہ  
کہ تم کرن خیال زن تم رومت آسن دنیاس منزیا قبرن منز ساروی دوہہ منزہ اکس گرہ۔ یَتَعَارَفُونَ  
بَيْنَهُمْ لو کہ آسن اکس پر زہ ناوان لیکن اکہ اکس تمین نہ کانہ مدد کر تہہ۔ ساری آسن پنہ پنہ  
پریشانی گرفتار قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ تحقیق تاوان تہ نقصان آسہ تمہ  
دوہہ تم لو کن سمو اپرزون خدا بس سیت ملاقات کرن بیہ آسن نہ تم دنیاس منز ہدایت کہہ دن۔  
وَأَمَّا نُرَيِّبُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ بیہ ہر گاہ توہہ ضرور ہاودوہ آس تمو عذابا اندرہ بعضی عذاب تم ہند  
وعدہ آس تم کرن چہ اَوْ نَتَوَفِّيكَ یاہر گاہ اس سو عذاب نازل کرنہ برو تھی جہہ سمہ عالمہ  
نمودہ، توتہ کیاہ گو فَأَلَيْنَا مَرْجِعَهُمْ آخر کار چھو تم واٹن اسی نشہ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ توپتہ  
چھو اللہ تعالیٰ ای شاہد تہہ ساری پیٹہ یہ تم کران چہہ۔ سو دیہ تم پائے سزا دنیاس منز تم سزا  
ایتن دنہ یا متہ ایتن دنہ مگر آخر تس منز ایچہ ضرور پنہ نس موقس پیٹہ سزا دنہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ بیہ  
چھو پر تہہ امتہ خیرہ احکام و اتاوندہ خیرہ اکہ پیغمبرہہ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ آدہیلہ جہمہ پیغمبر تم نشہ آد  
تہ پیغام و اتوون تم قَضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ فیصلہ چھو تم منز کرنہ ایوان عدل و انصافہ موجب و ہم  
لَا يُظْلَمُونَ بیہ پیہ نہ تم لو کن ہنہ قسمہ ظلم کرنہ۔ کیا زہ اتمام حجتہ پتہ سزا دیون ظلم گونہ وَيَقُولُونَ  
مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بیہ چہہ دپان لو کہ عذابک و عید بو زت تہہ انکار کرنہ خیرہ کہ ای

كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۸﴾ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي خَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ  
 اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً  
 وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ﴿۳۹﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا  
 مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ ﴿۴۰﴾ أَلَمْ إِذْ آتَاكُمْ مَوَاقِعَ الْمَنْعِ بِهِ  
 الشَّنَّ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۴۱﴾ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا  
 ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ هَلْ تُجْرُونَ إِلَّا بَأْسَكُمْ تَكْسِبُونَ ﴿۴۲﴾

پیغمبر کرسپدہ واقع یہ وعدہ عذاب۔ ہر گاہ تمہے یوزوانان چھوہ تلہ کونہ چھو عذاب واقع سیدان قُلْ لَا أَمْلِكُ  
 لِنَفْسِي خَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ تمہے فرماؤ کہ جواب یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوحسوس نہ خود  
 پنہ پانہ خیطرہ تہ اختیار تھاوان، نہ عنہ نفعک نہ عنہ ضررک مگر تنوی اختیار یوت اللہ تعالیٰ اس منظور  
 آسہ۔ پس تمہہ پاٹھہ بیحہ یوتہمہ عذاب انتہہ یا وعدہ عذاب تھاوتہہ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ پر تمہہ اتمہ عذابہ  
 خیطرہ تہ تباہی خیطرہ چھو اللہ تعالیٰ اس نشہ اکھ وقاہ مقرر دنیا اس اندریا آخر شس اندر إِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ  
 فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ یلہ سو مقرر کرنہ آمت وقت تمہند واتہہ پس ہمکن نہ تم نہ تمہہ  
 گڑھتھہ اس سائس نہ بروٹھہ تمہہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُهُ بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا مَّاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ  
 تمہے فرماؤ کہ تلامہ وینو ہر گاہ توہمہ خدلیہ سڈ عذاب واتہہ رات کیت یادولہ تمہہ منزہ تمہہ چیز چھو سویتھہ  
 جلد چھہ ژھانڈان تا فرمان از چھوہ انکار کران تھہ۔ حال چھہ یہ اوس اقرارک تہ تصدیق وقت اتمہ إِذَا  
 مَوَاقِعَ الْمَنْعِ بِهِ کیاہ یلہ سو عذاب واقع سپدہ ادہ انوہ تمہہ تمہہ ساتہ ایمان۔ تھہ ایمان انہ نس فائیدہ چھو  
 نہ کینہہ الشَّنَّ وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ (ونہ ایہ توہمہ تمہہ ساتہ) ای مَعْرِدُوون کمر وناپڑھہ تمہہ مگر بے  
 سُود۔ حالانکہ یہ گو سوی عذاب پس تمہہ جلد ژھانڈان آسہو ٹھٹھہ پاٹھہ ثُمَّ قِيلَ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا توپتہ  
 ایہ ونہ تمہن لوکن ستمو ظلم کور یعنی مشرکن ذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ ژبوہ مزہ ہمیشگی ہندہ عذابک ہل  
 تُجْرُونَ إِلَّا بَأْسَكُمْ تَكْسِبُونَ توہمہ چھنہ سزادہ یوان، مگر تمنی کائین ہندہ تمہہ کران آسہو

وَيَسْتَبِشُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قَوْلُ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿٥٣﴾  
 وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ  
 لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَقَضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٥٤﴾  
 إِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْآرَاتِ وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا وَلَكِنَّ  
 أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٥٥﴾ هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٥٦﴾ يَا أَيُّهَا  
 النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ

وَيَسْتَبِشُونَكَ أَحَقُّ هُوَ <sup>بہ</sup> جھہ تم تو بہہ نشہ دریافت کران تہ پر ژھان لسنہ پاٹھہ تہ ٹھہ پاٹھہ کیاہ عذاب چھا پوزوی قُلْ إِي وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ <sup>جہہ</sup> فرماو یو کہ اوہمہ چھو پونہ نس پروردگارہ سُنہ قسم بہ لے پوز چھو وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ <sup>جہہ</sup> بیکیون نہ اللہ تعالیٰ عاجز کمرت کمنہ صور نس اندر۔ سو چھو قادرِ مطلق۔ نس ہیجہ نہ کانہہ اکھاہ عاجز کمر تھہ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ <sup>سُو</sup> عذاب آسہ تیوت سخت کہ ہر گاہ آسہ پر تھہ ٹھگار شخصس تیوت مال سمہ سیت سوزوی روی زمین ہر سپدہ ہے، سوتیوت مال تہ دیہ ہے پنن پان بچاونہ خیطرہ تمہہ ڈہیکہ عذابہ نشہہ وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ <sup>بیہ</sup> تھاون تم ٹھگار ندامت تہ خجالت پو شیدہ، یلہ وچھن سُو عذاب ٹیٹھ تھاونہ خیطرہ عذابہ نشہہ۔ وَقَضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ <sup>بیہ</sup> ایہ فیصلہ ٹھند عدل وانصافہ موجب کرنہ۔ تم ایہ نہ ظلم کرنہ۔ یہ وڈمت آسکھ تی لوئن الْآرَاتِ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ <sup>وارہ</sup> یوزوای لو کو، یہ آسمان تہ زمین منز چھو تہ سوزوی چھو ملک معبود برحقہ سُنہ۔ تھہ منز آی تم مجرم الْآرَاتِ وَعَدَّ اللَّهُ حَقًّا <sup>وارہ</sup> یوزہ خدایہ سُنہ وعدہ چھو حق تہ پوز۔ نس قیامت ایہ ضرور وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ <sup>لیکن</sup> اکثر لوک چھہ زانان تہ یقین کران هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ <sup>سوی</sup> چھو زندہ کران سوی چھوماران نس کیاہ مشکل چھو نس نشہہ دو بارہ پیدہ کرن۔ بہ ایو جہہ ساری نس گن واتاوندہ تو پتہ ہیہ سوسارنی حساب يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ <sup>ای</sup> لو کو تھقین آو تو بہہ گن ٹھندس پروردگارہ سُنہہ طرفہ سُو چیز نس

وَهَدَىٰ وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۵۷﴾ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ  
 فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۵۸﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ  
 اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ اللَّهُ أَدْنَىٰ  
 لَكُمْ أَمَّ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴿۵۹﴾ وَمَا ظُنُّوا الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ  
 الْكُذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ  
 أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۶۰﴾ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ

پہچھ کا میونسٹہ پتھ رنہ خپتر ہوڈو عطا تہ نصیحت چھو، نئس شخص تمہہ وعظہ سیت چھہ کامیونسٹہ پتھ روز  
 تہمدہ خپتر ہچھو بوڈ شفا۔ تمن سارئی مرض ہمدہ خپتر ہ سم وکن منز چھہ گہوسیت پیدہ سپدان وَهْدَىٰ  
 وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ یہ چھو سو بوڈ ہدایت رزہ کامہ کرنہ خپتر ہ۔ یہہ بڈ رحمت بالیمان ہمدہ خپتر ہ  
 (سوگو قرآن مجید) قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا فرماو یو کہ تہہ قرآن مجید یلہ یٹھ  
 بابرکت چیز چھو لہذا شو بہ لوکن خدایہ سدہ فضل ورحمتہ سیت خوش سپدان۔ یہہ قرآن مجید گرشہ زان  
 بڈ دولت هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ یہہ قرآن مجید چھو بدرجہا بہتر تمہہ خوتہ یہہ سم سونہران چھہ مال دنیا  
 اندرہ۔ کیا زہ دنیا ءک نفع چھو کم تہ فانی۔ قرآن مجیدک نفع تہ فاسدہ چھو سیٹھاہ تہ پو شہہ ون قُلْ أَرَأَيْتُمْ  
 مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا فرماو یو کہ تہہ تلاوتہو، خداین نئس رزق نازل  
 کور تہمدہ نفعہ خپتر ہ تہہ کمر وہ پائے بے دلیل تمہہ منزہ اڈ چیز حرام تہ اڈ چیز حلال قُلْ اللَّهُ أَدْنَىٰ لَكُمْ  
 أَمَّ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ تہہہ پر ژھتو کہ کیاہ خداین دیتہ توبہہ امیک اجازت۔ کہہ بل چھوہ خدائس پیٹھہ اپز  
 نووراوان وَمَا ظُنُّوا الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یہہ کیاہ خیال چھو تمکن لوکن سم خدائس  
 پیٹھہ اپز نووراوان چھہ قیامتک دوہہ (تم چھازانان کہ تمن پیہہ نہ تمیک پر ژھنے کینہہ تمہہ دوہہہ) إِنَّ اللَّهَ  
 لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ پز پاطھ اللہ تعالیٰ چھو لوکن پیٹھ فضل کران۔ گنہ تہ  
 نافرمانی کرتھئے چھو کہ نہ گرفتار عذاب کران۔ بلکہ چھو کہ مہلت دووان دیوہ توبہ کرن، معافی مگن۔ مگر



قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿١١﴾  
 الْإِنِّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٢﴾  
 الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿١٣﴾ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٤﴾ وَلَا يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ

اکثر لو کہ چھنہ شکر گزاری کران۔ امہ مہلتگ نفع تہ فایده تھان و ما تکتون فی شان و ما تلتوا منه من قرآن بیہ آیتو تہہ حالو اندرہ منہ حاس اندر، تمو حالو اندرہ گو تہند قرآن مجید ہن و لا تعملون من عمل بیہ تہہ ساری لو کہ چھو نہ کانہہ کاماہ کران الاکتا علیکم شہودا مگر اس چھوہ آسان توہہ نشہ حاضر۔ امہ چھہ خبر سپدان تہند ان ساری حالات ہنز اذ تفيضون فیہ یبہ ساتہ پیٹھ تہہ سہو کام گرن ہوان چھوہ و ما یعزب عن ربک من مثقال ذرۃ فی الارض و لا فی السماء کتھت چھہ روزان تہند س پروردگار س نشہ اکس ذرس برابر کانہہ چیزانہ آسان اندر تہ نہ زمین اندر و لا اصغر من ذلك و لا اکبر بیہ چھونہ لہ ذرہ خوتہ لوکتہ تمہ خوتہ بوڈ الا فی کتیب مبین مگر بس نہ درج چھو روشن تہ واضح کتابہ اندر (سوغو لوچ محفوظ) امہ قسمہ چھو خدایہ سدا حاطہ علمی موجود اتان ہندہ تھہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم و لا ہم یحزنون وارہ بو زو خدایہ سند دست تم چھہ، تم نہ چھو کانہہ خوف نہ سپدان تم تہہ قسمہ غمگین الذین امنوا و کانوا یتقون تم گئے تے تمو ایمان اون خدائس بیہ رود تے کھو تان لہم البشری فی الحیوۃ الدنیا و فی الآخِرۃ تہندی خیرہ چھہ دنیا چہ زندگی منز تہ آخر تے منز بشارت تہ خوشخبری کامیابی ہنز لا تبدیل لکلمات اللہ تغیر و تبدیل چھونہ

جَمِيعًا ۶۵ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۶۵ اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ  
وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ  
دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَاءُ اِنْ يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا  
يَخْرُصُوْنَ ۶۶ هُوَ الَّذِيْ جَعَلَ لَكُمُ الْاَيْلَ لِتَسْكُنُوْا  
فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ  
يَسْمَعُوْنَ ۶۷ قَالُوْا اتَّخَذَ اللّٰهُ وَلَدًا سُبْحٰنَهُ هُوَ الْغَنِيُّ

خدايہ سزناں تھیں یعنی وعدن۔ تمہند وعدہ چھوہتے تہ پوز وعدہ ذلک ہوا الفوز العظیم یعنی گنیہ  
بدرستگاری تہ کامیابی وَاِیْحٰزُنْکَ قَوْلَهُمْ بیہ مہ کمران توبہ غمگین تہ آزرده دشمن ہنزہ بیہودہ آتھہ  
اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيعًا ہنز پات عزت، بیہ قدرت تہ غلبہ چھو سو زوی خدائیس۔ سو کرہ توبہ پنہ  
وعدہ موجب پور حفاظت تہ راہبہ۔ دشمن ہیکن نہ توبہ پیٹھ غلبہ لبتھہ ہُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سو چھو  
سو زوی بوزون ساریچہ خبر تھادون اَلَا اِنَّ لِلّٰهِ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وارہ بوزو تم مخلوق  
آسمان تہ زمین منز چھہ۔ ملا یک جن تہ انسان تم ساری چھہ خدایہ سندی ملک تمکن آتھہ کیہنہ چھونہ  
وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شُرَكَاءُ کج سنا پیروی کران چھہ تم لوک ہم لوک اللہ  
تعالی اس ورائی بین معبودن ہنز عبادت چھہ کران۔ خدائیس چھہ خبر کج پیروی چھہ تم کران۔ تمن نشہ کیاہ  
سنا لیل چھہ لمہ اعتقادج اِنَّ يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا الظَّنَّ وَاِنْ هُمْ اِلَّا يَخْرُصُوْنَ تم چھہ پیروی کران مگر  
بے سند خیالن تہ اوہامن ہنز بیہ چھہ تم مگر اندازہ تہ قیاساہ لگاوان۔ حقیقتھاہ چھہ کج کیہنہ ہُوَ الَّذِيْ  
جَعَلَ لَكُمُ الْاَيْلَ لِتَسْكُنُوْا فِيْهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا سو پورردگار گو سوی تم رات کمر پیدہ ہتھہ  
تھہ تھہ منز آرام کمر بیہ تم دوہ کمر پیدہ ہتھہ تھہ منز وچھت کمر تھہ پن ضروریات پورہ کمر۔ اِنَّ فِيْ  
ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُوْنَ ہنز پاتھ شب وروز پیدہ کرس اندر چھہ قدرتک بدبذ نشانہ توحید چہ چہ  
چہ دلیلہ تمکن لوکن ہندہ خیطرہ تم دلایل قدرت وارہ بوزان آسن۔ مٹرک چھہ تمکن دلیلن اندر غور

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ إِنَّ عِنْدَكُمْ مِنْ  
 سُلْطٰنٍ بِهٰذَا اَتَقُوْلُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۸﴾  
 قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ يَفْتَرُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ الْكٰذِبَ لَا  
 يُفْلِحُوْنَ ﴿۳۹﴾ مَتَاعٌ فِى الدُّنْيَا ثُمَّ اِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ  
 نُنزِلُ عَلَيْهِمُ الْعَذَابَ الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوْا يَكْفُرُوْنَ ﴿۴۰﴾  
 وَاَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَا نُوحٍ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهٖ يَقَوْمِ اِنِّ كُنْتُ بَرًّا  
 مِّنْكُمْ فَاتَّقُوا اللّٰهَ فَعَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ فَاجْمَعُوا

کران تم چھ شرکہ چے کتھہ کران قالوا اتخذ الله ولداً اسباحتہ چنانچہ مشرک چھہ وان الله تعالى  
 اس چھہ اولاد۔ حالانکہ منزه تہ پاک چھہ سو اولاد و نسلہ هو العقبى سو چھو بے نیاز کانہہ کن چھہونہ محتاج  
 ساری چھہ تس کن محتاج له ما في السموات وما في الارض یہ آسمان تہ زمین اندر چھو تہ سوزوی  
 چھو تو ہندوی لان عندكم من سلطان بهذا چھہ توبہ نشہ کانہہ دلیلہ اتھہ پیٹھ اَتَقُوْلُوْنَ عَلٰی  
 اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ کیا تھہ چھہ خدائس نسبت تی وان تن تہ توبہ کانہہ خبرہ چھہ قُلْ اِنَّ الَّذِيْنَ  
 يَفْتَرُوْنَ عَلٰی اللّٰهِ الْكٰذِبَ لَا يُفْلِحُوْنَ تہہ فرماوے کہ کہہ بتھین تم لو کہ خدائس پیٹھ ایز نوروان  
 چھہ تم سپدن نہ زانہہ کامیاب متاع في الدنيا ثم ايلينا مرجعهم دنیاء س اندر چھو سکن بہنہ  
 کالاہ تمخ تہ فایدہ تھن تو پتہ چھو مسر تھہ اسی کن تمن و ان ثم نذيقهم العذاب الشديد تو پتہ  
 ژہناو کہ اس تم سخت عذاب مزہ بما كانوا يكفرون تہنہہ کفر کرنہ سببہ و اتل عليهم نبا نوح  
 بیہ ہر و تھہ یار سول اللہ تمن پیٹھ قصہ حضرت نوح اذ قال لقومه يقوم ایلہ تمودوپ پنہ تس قومس  
 ای میانہ قومہ لان كان كبر عليكم مقامي وتد كبري بايت الله ہر گاہ گو بیوہ تہ ناگوار سپدوہ توبہہ پیٹھ  
 میون توبہہ منزل و زن بیہ میون وعظ ہر ان خدایہ سند یو آیا توسیت، سپدن ناگوار توبہہ۔ یو چھوس نہ

أَمْرُكُمْ وَشُرَكَاءِكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَ  
 لَا تَنْظُرُونَ ﴿٤٦﴾ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَبْتَنِي  
 إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأَمَرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿٤٧﴾ فَكَذَّبُوا  
 فَجَعَلْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلِيفَةً وَأَعْرَقْنَا  
 الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ ﴿٤٨﴾

تمیگ پروا کران کیا زہ فعلی اللہ تو کلت مہ چھو خدایہ سی بیٹھ اعتمادتہ ڈو کہ کورمت فاجمعوا امرکم  
 وشرکاءکم میہ ضررواتاوندہ خیطرہ کتر و تہہ پوختہ ہن کوم۔ معبودان باطل (یم تہہ خدایہ سند شریک  
 چھوک زانان) تم رہو کہ پانسیت تم لا یکن امرکم علیکم غمۃ تو پتہ مہ آن سو کام یوسہ توہہ مہ  
 نسبت کرن چھہ توہہ اندرہ کانسہ بیٹھ پو شیدہ۔ یعنی نئن پاٹھ کر یویہ توہہ کرن چھو تم اقضوا الی و  
 لا تنظرون تو پتہ یہ توہہ مہ نسبت کرن چھوتہ کتر و تار کرنہ و رای یو چھوسنہ توہہ کتہ قسمہ کھو ژان۔ نہ  
 تراوہ یو تہندہ بیمہ و عظ ہرن تہ تبلیغ کرن فان تولیتم ہر گاہ تہہ توتہ زوزو یو ٹھوی پھر ان تمیگ وجہ  
 کیا چھو فمآسألتکم من اجر۔ مہ منج نہ توہہ اتھ و عظ و نصیحت کرنس بیٹھ کانہہ مزدوریاتہ عوضاہ۔  
 یو کیا زہ منگہ ہا توہہ مزدور ان اجیری الاعلی اللہ میان مزدور چھنہ کانہہ منہ خدائس و رای۔ غرض نہ  
 چھوس یو تہہ کھو ژان نہ چھسوہ کینہہ منگان و امرت ان اکون من المسلمین مہ او حکم کرنہ کہہ  
 بوروزہ فرمانبردار و اندرہ۔ لہذا چھوس یو تعمیل حکم کترت توہہ و عظ و نصیحت کران۔ ہر گاہ تہہ مانو نہ۔  
 میہ کیاہ نقصان چھوتہ اندر فکذبوہ تہہ بلغ و عظ تہہ یشہ فہمالش کرنہ پتہ تہ کور جموئس انکاری۔  
 اتھہ انکار کرنس بیٹھ سوزاسہ تمن بیٹھ عذاب طوفان۔ سمہ سیت تم ساری ہلاک سپد فنجینہ و من  
 معہ فی الفلک نھل دیت نجات اسہ حضرت نوحس، بیہ سم تمن سیت آس ناوہ منز، ز تجہ مردتہ  
 ز تجہ زانہ وجعلنہم خلیفہ بیہ کمر اسہ تم زمیس بیٹھ آباد و اعرقنا الذین کذبوا بآیاتنا باقی چھاٹو  
 اسہ تم لو کہہ سموا انکار کور سائین آیان فانظر کیف کان عاقبہ المنذرين نھس و چھوہ تہہ یار سول اللہ

ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ  
فَمَا كَانُوا لِلْيَوْمِ مُؤَابِهًا كَذَّبُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى  
قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ ﴿٤٥﴾ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى  
فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ﴿٤٦﴾  
فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا السِّحْرُ مُبِينٌ ﴿٤٧﴾  
قَالَ مُوسَى اتَّقُوا اللَّهَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسْحَرُ هَذَا وَلَا يُفْعِلُ

کیتھ سپد چھہ انجام تمن لوکن ہند تمن بيم کرنہ یوان اوس یعنی بیجری منذر توکھ نہ سز الہیمہ وارہ فجرہ  
تار تھ کچھواتھ مگریلہ نہ تمومون ادہ آکھ سزاوہ نہ یوسے حال بنہ تمن تہ تم توہہ انکار کران چھہ  
ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا إِلَى قَوْمِهِمْ توپتہ سوز اسہ حضرت نوح پتہ بے پیغمبر پتہ نین پتہ نین  
تومن کن فَجَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ ہس آی تم پیغمبر تمن نش نہ دلیلہ ہتھ فَمَا كَانُوا لِلْيَوْمِ مُؤَابِهًا كَذَّبُوا  
بِهِ مِنْ قَبْلُ ہس آس نہ تم تمہ قسمک لوکھ، تم کیا کرہ ان پڑھ تھ تھ تمو امہ برو تھ انکار کورمت  
اوس كَذَلِكَ نَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِ الْمُعْتَدِينَ تھ پانھ کیا چھہ اس مہر کران حدہ ڈلہ و نین ہندین دلن  
پیٹھ۔ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى وَهَارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا توپتہ سوز تمن پیغمبر پتہ اسہ  
حضرت موسیٰ بیہ حضرت ہارون فرعونس تہ تہمدین ہشتین کن ہن مُجْرَاتِ عَصَا تہ یضہ ہی تھ  
فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ ہس کور تمو تصدیق کرنہ نشہ ہتجر۔ بیہ آس تم لوکھ جرائمن ہند  
خوگر۔ تمہ موکھ کرنہ تموا طاعتت فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا ہس یلہ واثرہ تمن نشہ نبوت موسیٰ  
پیٹھ سانہ طرفہ صحیح دلیلہ یعنی مُجْرَاتِ قَالُوا إِنَّ هَذَا السِّحْرُ مُبِينٌ دہنہ لگ تم بیشک بیہ چھونون  
سخر تہ جود قَالَ مُوسَى اتَّقُوا اللَّهَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ حضرت موسیٰ ان دوکھہ اکی کافر و کیاہ جہہ چھوہ  
یڑھ تھہ ونان اتھ صحیح دلیلہ یلہ سو توہہ نشہ واثرَ اَسْحَرُ هَذَا وَلَا يُفْعِلُ السِّحْرُونَ کیاہ بیہ چھا جود تہ سخر۔  
حالہیمہ جادو گر چھنہ کامیاب سپدان نبوتک دعویٰ کرنس اندر قَالُوا اِحْتَنَلْنَا لِتَفْتِنَا تم لگ تورہ ونہ

السَّحَرُونَ ﴿۴۸﴾ قَالُوا أَجِئْنَا لِنَتْلِفَتَنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا  
وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۴۹﴾  
وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ ﴿۵۰﴾ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ  
قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوْمَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ ﴿۵۱﴾ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى  
مَا جِئْتُمْ بِهِ السَّحْرَ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ  
الْمُفْسِدِينَ ﴿۵۲﴾ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿۵۳﴾  
فَمَا أَمَّنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةُ مَنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ

ای موسیٰ کیاء تہ آکھہ اسیہ تمہہ کامہ نشہ پھر نہ خیرہ عتہا وجدنا علیہ آبائنا یسہ کام کران وچہہ اسیہ  
پانہ پن مال تہ بڈب۔ وَتَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ بیه چہہ تہہ یڑهان کہ توبہہ گنہہہ اسیہ بیٹھ  
سرداری تہ زھل حاصل سپدن ذنیاس آندر وَمَا نَحْنُ لَكُمُ بِمُؤْمِنِينَ اَس ہرگز توبہہ پڑھہ گزونہ  
وَقَالَ فِرْعَوْنُ ائْتُونِي بِكُلِّ سِحْرِ عَلِيمٍ بیه دون فرعون پنہ نین ہنشین تہہ دیو کہ اتھہ مہ ساری زان  
وال جاؤگر فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ اودہ یلہ آی تم جاؤگر قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوْمَا أَنْتُمْ مُلْقُونَ تم  
دوپ حضرت موسیٰ ان تراو پتھر میداَس منزیہ توبہہ تراون چھو جاہہ آندرہ فَلَمَّا أَلْقَوْا قَالَ مُوسَى مَا  
جِئْتُمْ بِهِ السَّحْرَ اَس یلہ ترود تہویہ تراون اوسکھ، حضرت موسیٰ ان دوپکھ اکی ساژد تہہہ یہ بیٹھ  
آمت چھوہ، یہ گوجود۔ تہ چھونہ جودیتھہ فرعونہ سد لوکھ جودونان چہہ۔ تم گئے مَجْرَات اِنَّ اللَّهَ  
سَيُبْطِلُهُ اللہ تعالیٰ گرہ اتھ تہندس جاوس ضرور باطل تہ بے کار اِنَّ اللَّهَ لَا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ  
پڑاٹھ اللہ تعالیٰ چھونہ شیران تہ سنبھالان مفسدن ہنزہ کامہ۔ تم مَجْران سیت مقابلہ گزن وَيُحِقُّ اللَّهُ  
الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ بیه چھو اللہ تعالیٰ پرس مضبوط تہ حکم کران حسب وعدہ پنہہ حکمہ سیت۔  
اگرچہ ناگواری گزھن کافرن تہ نافرمان فَمَا أَمَّنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةُ مَنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِّنْ فِرْعَوْنَ

وَمَا لَهُمْ أَنْ يَفْتَنَهُمُ اللَّهُ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ  
لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿۸۳﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ يُقَوْمِرَ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ  
فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ﴿۸۴﴾ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا  
رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۸۵﴾ وَنَحْنُ بِرَحْمَتِكَ مِنَ  
الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿۸۶﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ  
لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا

وَمَا لَهُمْ أَنْ يَفْتَنَهُمُ اللَّهُ ۖ اِس پر تھ کر نہ حضرت موسیٰ اس گوڑہ گوڑہ مگر پندہ قومہ کیونکر شو شخصو سم تہندہ  
رشتہ دار آس۔ سو تہ فرعونس تہ تہندین ہمیشین نشمہ کھوڑ کھوڑ۔ یتھہ سو تہن سختی کمر تھہ پائس کن  
پھرہ۔ واقعی تہند کھوڑن بے معنی اوس نہ کیا زہ۔ وَان فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ فرعون اوس نا  
زبردست بادشاہ زمین مصرس منز وَانَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ بیہ اوسنا سو سیٹھاہ زیادتی تہ ظلم کرہ ون۔  
حضرت موسیٰ ان یلیہ وچھہ سم ہجھہ فرعونس نشمہ سخت تھار سمیت وَقَالَ مُوسَىٰ يُقَوْمِرَ إِنْ كُنْتُمْ  
آمَنْتُمْ بِاللَّهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ ہر گاہ تو بہہ پر تھہ کمر وہ کئس خدائس اِس کمر و تھہ پیٹھ  
اعتماد، ہجھوے تھہ فرمانبردار فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا اِس وون تھو ا سہ کمر تس معبود بر حقس پیٹھ  
واقعی توکل تہ اعتماد (توپتہ کروکھ دعا) رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ای سائہ پروردگارہ ا سہ  
مہ بناؤ تھتہ مشق سکن ظالم لوکن ہنز وَنَحْنُ بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ بیہ وہ نجات ا سہ محض پندہ  
رحمتہ سیت سکن کافرین نشمہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ الْقَوْمِ كُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا بیہ سوز  
ا سہ وحی حضرت موسیٰ بیہ تہندس برادر حضرت ہارونس کن کہ تھہ تھو وود ستور پندہ قومہ خیرہ رہائیشی  
انتظام مصرس اندر یو تھہ فرعونین ہند یو گرو منزہ نیر تھہ ژلو۔ اِس گرو تھنز حفاظت وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ  
قِبْلَةً بیہ آسومہماز ہندہ وقتہ تے ہن گرہ ہلاوان مسجد۔ نماز آسو گرہ نی منزہ اِن وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ  
یہ ہجھو سیٹھا ضروری کہ نماز تھو دو برپا۔ یتھہ نمازہ ہندہ برکتہ اللہ تعالیٰ جلد مصیبت دور کرہ وہ

الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۸۷﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ  
 آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَكَ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
 رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ  
 عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتَّىٰ يَرُوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿۸۸﴾  
 قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمْ فَأَسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعِنَّ سَبِيلَ  
 الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۸۹﴾ وَجُوزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَاتَّبَعَهُمْ

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ای موسیٰ بشارت دیو بالا ایمان نجات کا میابی ہنز وَقَالَ مُوسَىٰ یہ کمر مناجات  
 حضرت موسیٰ ان رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَكَ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ای سانہ  
 پروردگارہ بیشک تری دیو تھے فرعونس یہ تہند من ہلکارن دنیاہس اندر بوڈشان وشوکت یہ واریاہ مال و  
 دولت رَبَّنَا لِيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيلِكَ ای سانہ ہروددگارہ یہ کر تھکھ تھہ تم ڈان لوکن چلنہ وتہ نشہ۔ کس یلہ  
 نہ ہدایت تہندہ نصیبہ چھو، یوسہ حمت اتھ منز آس سوسہز حاصل۔ وڈن کیا زہ من تم تہ تہند مال باقی  
 تھاونہ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَىٰ أَمْوَالِهِمْ ای سانہ ہروددگارہ پھش پھر تہندین مان تہ جائیدادن و اشدد علی  
 قُلُوبِهِمْ سخت کمر کہ دل تہند فَلَا يُؤْمِنُوْا حَتَّىٰ يَرُوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ تھنہ تم ایمان آنن توتان  
 یوتان نہ کڈر عذاب پنہ نیو اچھو و تھن۔ حضرت موسیٰ آس یہ دعا کران تہ حضرت ہارون آس  
 آمین آمین کران قَالَ قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمْ فَأَسْتَقِيمَا اللہ تعالیٰ ان فرموو کہ اکی موسیٰ، ای ہارون  
 تھیق قبول آو کر نہ دعائہند (آمین کرن تہ گودعاءس منز شامل سپن) کس روز دتھہ پنہ نس فرض  
 مصیبت پیٹہ استقامت کمر تھہ وَلَا تَتَّبِعِنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ تھنہ پیروی کمر و تھہ کن لوکن  
 ہنز تم بے علم چھہ۔ ممکن نہ معلوم چھو سانہ وعدہ کہ یوز آسک۔ یلہ فرعونہ سندہ ہلاک وقت قریب  
 دوت اسہ کور حکم حضرت موسیٰ آس کہ بنی اسرائیل کڈ یو کہ مصرہ منزہ نیر۔ چنانچہ درای تم بنی  
 اسرائیل پتھ مصرہ منزہ وتہ آکھ بروٹھ دریای قلمز۔ حضرت موسیٰ سندہ دعاءہ سیت بنی اتھ



فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغِيًّا وَعَدُوًّا حَتَّىٰ إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ  
 اٰمَنْتُ اِنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْ اٰمَنْتُ بِهٖ بَنُوۡا۟ اِسْرٰٓءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ ﴿۹۱﴾ اَلَّذِيْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ  
 الْمُفْسِدِيْنَ ﴿۹۲﴾ فَاَلْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلَقَكَ  
 اٰيَةً وَّاِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنِ اٰيٰتِنَا الْغٰفِلُوْنَ ﴿۹۳﴾ وَاَقْدُ  
 بُوۡا۟ اَنَا بَنِيۡ اِسْرٰٓءِيْلَ مُبۡوَا۟ اٰصۡدِقٍ وَّرَزَقْنٰهُم مِّنَ الطَّيِّبٰتِ ۚ

دریاوسی باہ کوچہ و جوزو نا بنی اسرائیل الغرق یہی یلہ پور تا ر اسہ بنی اسرائیل دریای قلزمس  
 قَاتِبَهُم فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغِيًّا وَعَدُوًّا نَس دور یونمن پتہ فرعون بن لشکر ہیتھ ظلمہ کن بہ حدہ نعمہ  
 تجاوز کرنے کن۔ خیال اوس کہ دریاء نعمہ پور تتر تھہ کر کہہ یوساری بنی اسرائیل قتل۔ لیکن تم گئے ا پور  
 ترے برو نطھی ہتھہ دریاوس اندر غرق حَتَّىٰ اِذَا اَدْرَكَهُ الْغَرَقُ تا لیجہ یلہ فرعون پھٹن ہیوشن قَالَ  
 اٰمَنْتُ اِنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِيْ اٰمَنْتُ بِهٖ بَنُوۡا۟ اِسْرٰٓءِيْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ تمہہ ساتہ لگب دہنہ ایمان  
 اون مہ۔ کانہہ معبوداہ جھونہ تس ذات پاکس ورا ی نَس ایمان اون بنی اسرائیلو۔ بہی جھوس بو تہ  
 فرمانبر دار و آندرہ اَلَّذِيْنَ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِيْنَ اللہ تعالیٰ ان فرموس ملائکن  
 ہندہ ذریعہ اکی فرعون و نکس جھو کہ فرمانبر داری ہند اقرار کران۔ سمہ ساتہ نہ اقرار کر نَس کنہی فائیدہ  
 جھوی۔ کیا زہ عالم آخر تک معاینہ کرنے پتہ جھونہ اقرار کر نَس کانہہ اعتبار۔ تحقیق اکہہ برو نٹھ کا زاہ  
 تا فرمانی تہ سر کشی کمر تھہ۔ بہی اوسکھ تباہی کرہ وینواندرہ فَاَلْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُوْنَ لِمَنْ خَلَقَكَ  
 اٰيَةً نَس جھن از اس چون بدن بچاوان نیست و نا بود گوہہ نعمہ۔ ہتھہ ثیہ پتہ پتہ والین ہندہ خیطرہ  
 عمر تک اکھ نشانہ روزن۔ چان بد حالی تہ تباہی و جھتھہ روزن احکام الہین ہندہ مخالفتہ نعمہ ہتھہ وَاِنَّ كَثِيْرًا  
 مِّنَ النَّاسِ عَنِ اٰيٰتِنَا الْغٰفِلُوْنَ بیشک لو کو اندرہ جھہ واریاہ سانو قدر تہ کیونشا نو نعمہ بے خیر۔ مخالفت  
 احکام کرنے نعمہ جھنہ کھو ژان تہ پتھہ روزان وَاَقْدُ بُوۡا۟ اَنَا بَنِيۡ اِسْرٰٓءِيْلَ مُبۡوَا۟ اٰصۡدِقٍ پز پٹھہ فرعونہ

فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۹۳﴾ فَإِنْ كُنْتَ فِي شکٍ  
مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَسْئَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ الْكِتَابَ مِنْ  
قَبْلِكَ لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ﴿۹۴﴾  
وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ  
الْخَاسِرِينَ ﴿۹۵﴾ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَا

سندہ ہلاک کرنے پہنچے بسا اوسہ بنی اسرائیل رثہ جلیہ۔ تم سید مصر کب مالک وُرِدَتْ فَنَهَمُوا مِنَ الظَّالِمَاتِ یہ  
کوراسہ تمہیں عطار زق، رت رت چیز اتھ مصرس اندر۔ اتھ کُن نظر کمر تھ پڑہ ہاتھن سان اطاعت تہ  
فرمانبرداری کرن۔ مگر تمہو کور تھ بدل۔ تمہو کور دینس اندر اختلاف۔ افسوس کہ یہ اختلاف تروونہ  
تمہو نادانی تہ جہلہ کن فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ہنس کورنہ تمہو اختلاف مگر احکامن ہند علم داتنہ پہنچے  
إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ پڑ پڑ تھند پروردگار کرہ فیصلہ  
تمہن اختلاف کرہ وینمن منز قیامتہ دوہ۔ تمہن سارنی چیزن ہند تمہن منز تم اختلاف کران آس فَإِنْ  
كُنْتَ فِي شكٍ مِّمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ یا رسول اللہ ہر گاہ بالفرض توہہ عنہ قسمہ ترود تہ شک آسہ قرآن  
مجیدس منز لیس آسہ کُن نازل کور۔ یہ شبہ رفع کرنے خیطہ ہجھواکھ سہل طریقہ فَسْئَلِ الَّذِينَ يُقْرَأُونَ  
الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ تھہ کمر و دریافت تمہن لو کُن نشہ ہم لو کھ بڑو تھمہ کتابہ پران چھہ۔ تم و ن توہہ  
بے شک قرآن مجید چھو خدلیہ سندہ طرفہ نازل سدان لَقَدْ جَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ تھتھن شک و شبہہ  
ورای آسہ توہہ کُن پڑ کتاب تھندس پروردگارہ سندہ طرفہ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ ہنس مہ حض آسہ  
تھہ شک تہ ترود کرونیو اندرہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ فَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ یہ  
مہ آسہ ہر گز تھہ تمہو لو کواندرہ تمہو لہزانتھ انکار کور خدلیہ سندس آیتن۔ ہنس سید و تھہ تہ نقصان تلہ  
وینو اندرہ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتْ عَلَيْهِمْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ پڑ پڑ تھن لو کُن ہندہ خیطہ یہ

يُؤْمِنُونَ ﴿٩٦﴾ وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آيَةٍ حَتَّىٰ يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٩٧﴾  
 فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيَةً أَمِنَتْ فَنَفَعَهَا إِيْمَانُهَا إِلَّا قَوْمَ يُونُسَ لَبَا  
 امْنُوَا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخُزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ  
 إِلَىٰ حِينٍ ﴿٩٨﴾ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا  
 أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴿٩٩﴾ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ  
 أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا

ازلی حکم چانس بہرورد گارہ سندہ طرفہ ثابت سپد مت جھوتم زانہہ ایمان ان نہ و لو جآء تھم کُل ایتہ  
 حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ہر گجے تم نیش ساری آیات تہ و ائن توتہ اُن نہ تم ایمان یوتان نہ و چھن  
 کڈر عذاب۔ مگر تمہہ وقتہ ایمان اُن جھو بے کار تہ بے اعتبار فَلَوْلَا كَانَتْ قَرِيَةً اَمِنَتْ فَنَفَعَهَا اِيْمَانُهَا اِلَّا  
 قَوْمَ يُونُسَ ہنس آس نہ مکنہ شرک لوکھ سمو عذاب و جھت ایمان اُون۔ توتہ دیتھ تم ایمان فاسیدہ  
 حضرت یونسہ سندہ قومہ ورا کی۔ تم پیٹھ یلہ عذاب ہیون نازل سپن اتی اون تمو ایمان لَبَا امْنُوَا  
 كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخُزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ اِلَى حِينٍ یلہ تمو ایمان اُون اتی کل اسہ تمین خواری  
 ہمد عذاب دنیا چہ زندگی اندر۔ بیہ تاناؤ تم زندگی ہمد متع مر جھس و قس تان و لو شآء رَبُّكَ لَأَمَنَّ مِنَ  
 فِي الْأَرْضِ كُلَّهُمْ جَمِيعًا بیہ ہر گاہ تمہد پروردگار یٹھہ ہاتلہ انہ بن ایمان تم ساری لوکھ تم زمینس پیٹھ  
 جھہ یجہ و۔ مگر تم یوٹھہ نہ تہ بعض جتن کُن نظر سمر تھ أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ  
 کیاہ تہہ کریو کہ لوکھ مجبور ایمان انہ نس پیٹھ تا اینکه ساری بن با ایمان وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُوْمِنَ إِلَّا  
 بِإِذْنِ اللَّهِ حالیکہ نمکنی جھونہ کانہہ شخصس ایمان اُن خدایہ سندہ حکمہ ورا آئی تہندہہ یٹھہ ورا آئی۔  
 وَيَجْعَلُ الرَّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ بیہ جھو اللہ تعالیٰ ٹر چہ نافرمانی اندر تراوان بے عقلن، سم نہ  
 عقلہ کوم ہیوان جھہ۔ قُلْ اَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فرماو و تہہ یار رسول اللہ لوکن، ای لوگو  
 و جھو کہ کیا جھو آسمان تہ زمین اندر اللہ تعالیٰ ان پیدہ کورمت می سیت سپدہ ہاتوہہ معلوم خدایہ سندہ

يَعْقِلُونَ ﴿۱۰۰﴾ قُلْ اَنْظُرُوا مَا ذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا تُعْبِرُ  
 الْاٰيَاتِ وَالنُّذُرِ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۰۱﴾ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ اِلَّا  
 مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ قُلْ فَانْتَظِرُوا اِنِّيْ مَعَكُمْ  
 مِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ ﴿۱۰۲﴾ ثُمَّ نَبِّئْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا كَذٰلِكَ  
 حَقًّا عَلَيْنَا نَجْمُ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۰۳﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ  
 شَكٍّ مِنْ دِيْنِيْ فَلَا اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ  
 وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِيْ يَتَوَقَّعُكُمْ ۗ وَاْمُرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنْ


آسک بیہ سُکوی آسک وَمَا تُعْبِرُ الْاٰيَاتِ وَالنُّذُرِ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بیہ کیاہ فاسیدہ دن آیات بیہ بیم  
 گرن وال یعنی پیغمبر، تمہن لوکن تمہن ازیلی بے ایمان آسَن فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ اِلَّا مِثْلَ اَيَّامِ الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ  
 قَبْلِهِمْ نَس چھنہ ہم لوکہ انتظار کران مگر تھنہنی مشکل دوہن ہند ہم ڈرے تمہن برونہ قُلْ فَانْتَظِرُوا  
 اِنِّيْ مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِيْنَ تہہ فرماویو کہ کمر و انتظار تہہ بوتہ چھوس توہی سیت انتظار کرہ و نیو اندرہ تہہ  
 تُنَبِّئْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوا توپتہ آس اس نجات دوان پنہ نین پیغمبرن بیہ تمہن لوکن سموا ایمان اون  
 كَذٰلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نَجْمُ الْمُؤْمِنِيْنَ تہہ پاٹھ چھو مگر اسہ پیٹھ نجات دمن سارنی بالیمان۔ نَس ہر گاہ یکن  
 کافر ن پیٹھ کاہنہ عذابہ نازل سپدہ بالیمان لیکن تمہہ عذابہ نفعہ نجات۔ خواہ دنیاس اندر خواہ آخرتس  
 اندر قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اِنْ كُنْتُمْ فِيْ شَكٍّ مِنْ دِيْنِيْ فرماویو کہ تہہ یار رسول اللہ، ای لوکو ہر گاہ توہہ  
 شک چھو میانس دینس متعلق نَس وارہ صاف صاف چھسوتہ یو فرماوان فَلَا اَعْبُدُ الَّذِيْنَ تَعْبُدُوْنَ مِنْ  
 دُوْنِ اللّٰهِ نَس بوچھوسنہ عبادت کران تمہن معبودان باطلن ہنہن تمہن تہہ عبادت کران چھوہ معبود  
 برحقس وراکی وَلٰكِنْ اَعْبُدُ اللّٰهَ الَّذِيْ يَتَوَقَّعُكُمْ بلکہ چھوس یو عبادت کران نَس خدایہ سنز نَس توہہ  
 قبض رُوح کران چھو وَاْمُرْتُ اَنْ اَكُوْنَ مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ بیہ آومہ حکم کرنہ خدایہ سندہ طرفہ بالیمانو

الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۴﴾ وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ  
 مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۵﴾ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَ  
 لَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۶﴾  
 وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ  
 بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ  
 الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۱۷﴾ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ  
 رَبِّكُمْ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا

آندره آسک وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا بیه آومہ کرم متوجه روز تک دین توحید س کن  
 ساری باقی دین تراوتھ۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بیه آم وندہ یتھنہ ہرگز نہ آسکھ مشرک آندره وَلَا  
 تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ بیه یتھنہ خدائس وراى بیه کانہ منگان آسکھ۔ یونس نہ  
 تهنز عبادت کمرت کانہ نفع ہیکى وائتہ تاوتھ۔ عبادت نہ کمرتھ کانہ ضرر ہیکى وائتاوتھ فَإِنْ فَعَلْتَ  
 فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ نھس ہر گاہ ژہ یرھہ کام کر کہ یعنی معبود بر حقس وراى بیه کانہ عبادت  
 کر کہ نھس جھو کہ ژہ تلہ ظالمو آندره۔ ستمو خدایہ سُد حق ضالع کور وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا  
 كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ بیه آومہ وندہ کبر ہر گاہ اللہ تعالیٰ کانہ سختیاہ وائتاوی ژہ۔ نھس جھو نہ کانہ سو سختی  
 دُور کرہ ون نھس وراى وَلَنْ يُرِدَكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ بیه ہر گاہ سو یرھہ کانہ خیراہ چانہ خیرہ نھس بیه کبر نہ  
 پتھ رتھہ کانہ اکھا تهنس فضلس يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ بلکہ جھوسو فضل پئن وائتاوان پنے  
 نیوبند واندہ نھس یرھان جھوسہ تس وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ بیه جھوسو سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ رحم  
 کرہ ون قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فرماو و تھہ لو کن ای لوگو تھنق آوتوہہ کن دین  
 حق پنے نھس پرورد گاہ سبہ طرف۔ فَمَنِ اهْتَدَى فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا

يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴿١٠٨﴾ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ  
إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴿١٠٩﴾

نہیں سیرہ و تیرے پیٹھے ایسے سوایہ پتیرہ فاسیدہ خیطرہ بیہ نِس شخص تمہہ نغمہ ڈلہ ، سو ڈلہ پتیرہ پانچم ضررہ خیطرہ  
وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ مہ چھنہ تہنہز کام پُشر نہ آمر۔ یو کروہ توہمہ ہدایت قبول کرنس پیٹھ مجبور  
وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ بیہ کتر و تہہ بیروی  
تتھ یہ توہمہ گن وحی سوزنہ یوان جھو۔ بیہ کتر و کافرن ہندس کترس تہ تکلیف پیٹھ تہہ صبر۔ یوتان اللہ  
تعالیٰ پُن فیصلہ تہ حکم جای کرہ۔ سوی جھورت حکم تہ فیصلہ کرہ ون۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 الرَّكْبُ أَحْكَمْتُ ابْنَهُ ثُمَّ فَضَلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ ① أَلَا  
 تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ② وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا  
 رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُغْفِرْ لَكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَ  
 يُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ  
 عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ ③ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ④

الرَّكْبُ أَحْكَمْتُ ابْنَهُ ثُمَّ فَضَلْتُ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَيْرٍ امیک معنی چھو معلوم خدایہ سئیہ قرآن مجید  
 چھو کتاباہ۔ مسک آیات تہ احکام چھہ مضبوط تہ محکم کرنہ آمت دلیلو سیت۔ توپتہ چھہ تم احکام ویشہناونہ  
 آمت حمتہ والس تہ بانبر خدایہ سیدہ طرفہ۔ سمیک مقصد چھوای زہ اَلَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ تمھو حکمو  
 منزہ چھو گوڈنھوی حکمہ کہ عبادت تہ پرستش مہ کتر وکانسہ ہنز کنس خدائس وراکی۔ اِنِّی لَكُمْ مِنْهُ  
 نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ بوچھوس تہندہ خیطرہ تہندی طرفہ بیم کرہ ون تہندہ عذابگ۔ خوشخبرونہ ون تہندین  
 انعامس ہند وَأَنْ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ بیہ معنوی پنہ نین گنہن ہندہ خیطرہ مغفرت پنہ نس  
 پروردگارس۔ توپتہ کتر ورجوع تس کن یُغْفِرْ لَكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى تھہ فایدہ تھناونہ توہہ  
 رت فائدہ اکس مقرر کرنہ آتس و قس تان یعنی مرئس و قس تان وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ بیہ  
 کرہ عطا پریتھ زیادہ عمل کرہ ون زیادہ مزدور وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ اگر تھہ  
 ایمان آنہ نشہ تھہ پھر وتلہ چھوس بو کھوژان تہندہ تھہ بڈہ ڈہکس عذابس (سوگو قیامتگ دوہ) إِلَى اللَّهِ  
 مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللہ تعالیٰ سی کن چھو تہہ پوس و ائن سو چھو پریتھ چیزس پیٹھ قدر تہ

الْأَنْهَامِ يَتَّبِعُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ الْأَجِينَ يَسْتَعْشُونَ  
 ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝  
 وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَ  
 يَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝  
 هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ  
 عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِنْ قُلْتِ

دَوْل الْأَنْهَامِ يَتَّبِعُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ وارہ یوزو تم کافر ن ہند حرکات۔ تم جہہ سینہ  
 نور او تمہ اکھ اکس سیت تمہہ کران۔ یتھہ پو شیدہ تھاؤن تمہہ کتھہ خدائس نشہ الْأَجِينَ يَسْتَعْشُونَ ثِيَابَهُمْ  
 يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وارہ یوزو۔ تمہہ ساتہ تم کلمہ پیٹھہ ژادر تراؤ تمہہ جہہ پانہ وان تمہہ کران۔ اللہ  
 تعالیٰ چھو تہ سو زوی زانان۔ یہ تم پو شیدہ کران چہہ۔ یان پاٹھہ کران چہہہ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ہز  
 پاٹھہ سو چھو پورہ زانان دلن ہنزہ اندر مہہ تمہہ۔ وون گوژ ہنا زان ہینز زان زیون ہنزہ تمہہ۔ وَمَا مِنْ  
 دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ  
 روئے زمیں منز چھنہ کانہہ تہ پکون جاندارہ مگر اللہ تعالیٰ اسی چہہ تمنسز زوی مط، سو چھو تمسجد جائے  
 قرار تہ جائے پناہ زانان تمس تمیک پور علم آسجہ علاوہ چھو، تہ سو زوی لیجھت روشن کتابہ اندر یعنی لوح  
 محفوظ اس اندر وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ سو پروردگار گو سوی تم آسمان  
 تہ زمین پیدہ کمر شین دوہن برابر و قس اندر وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ یہ اوس عرش ٹھنڈا آبس پیٹھہ۔  
 عرش تہ آب اوس امہ برو نٹھی پیدہ آمت کرنہ یہ سو زوی کوزن پیدہ۔ اتھہ منز کمرن ٹھنڈی ساری  
 ضروریات پیدہ۔ یتھہ ٹھنڈی یہ وہجھت توحیدس پیٹھہ استدلال کمرہ ہو ہنزہ نمو کھیتھہ ہنزہ شکر گذاری کرہ  
 ہو عبادت تہ رز عمل کمرہ ہو۔ توہمہ اندرہ بعضیو کوریہ۔ بعضیو کورا تھہ بدل ناسپاسی تہ شرک لِيَبْلُوكُمْ  
 أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا یتھہ توہمہ آزمائش کرہ۔ توہمہ اندر ہمہ آسہ رت عمل کرنہ کن وَلَئِنْ قُلْتِ



إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ  
 هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ  
 مَعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ ۗ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا  
 عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۗ وَلَئِنْ أَدْقْنَا  
 الْإِنْسَانَ مِتَّارِحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَكُفِّرُ ۙ ۝ وَلَئِنْ أَدْقْنَا  
 الْإِنْسَانَ نَعْمَاءً بَعْدَ ضَرَاءٍ مَسْتَه لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ

مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ بے ہر گاہ تمہے و نان چھوہے لو کن ای لو کو تمہے ایو مر نہ پتہ بے زندہ کرنہ قیامتک  
 دودہ لَیَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ تمہو اندرہ تم کافر چھہ تم ون ضرور قرآن مجیدس  
 متعلق کہ چھونہ بے قرآن مجیدتھ منز قیامتہ مر نہ پتہ بے زندہ گزنج خبر چھہ، مگر نون سحر اہ۔ کیا زہ چھہ  
 و نان قرآن مجید چھو نون سحر تہ جود۔ یکن اوس خیال کہ بھہ پائٹھ جود باطل چھو گو ابتداءس اندر چھو  
 آسان مؤثر۔ بھہ پائٹھ چھو ثعوذ باللہ قرآن مجید تہ باطل۔ اگر چہ ایتہ چھو ابتداءس اندر مؤثر سپدان  
 وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَعْدُودَةٍ لَيَقُولَنَّ مَا يَحْبِسُهُ بے ہر گاہ اس پتہ نموتمن نشہ سو  
 عذاب سمیک تمن وعدہ یوان چھو کرنہ گزرنہ آمتین کیوں دوتن تام۔ تم چھہ بطور استہزاء و نان کہہ  
 سنا چیز چھو تھہ عذائس پتہ رنان واقع سپدنہ نشہ یعنی ہر گاہ عذاب کا نہہ چیز اہ آہاتلہ آسہ ہانازل آمت  
 کرنہ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وارہ یوزوسمہ دودہ سو عذاب پنہ نس موقس پیٹھ تمن  
 نازل سپدہ چھونہ سو عذاب کہ پتہ کیا ایہ رنہ تمن نشہ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ولنہ بے تمن  
 سو عذاب پنہ نس موقس پیٹھ بھہ تم ٹھہ کران آس وَلَئِنْ أَدْقْنَا الْإِنْسَانَ مِتَّارِحْمَةً بے ہر گاہ  
 آس انسانس پنہ مر بانی ہند تہ نمک مزہ چھہ ہاوان۔ ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ توپتہ چھس سو نعمت اٹھہ ہوان  
 إِنَّهُ لَيَكُفِّرُ ۙ ضرور چھو سو نامید تہ نا شکر گزار سپدان وَلَئِنْ أَدْقْنَا نَعْمَاءً بَعْدَ ضَرَاءٍ  
 مَسْتَه بے ہر گاہ آس انسانس سختی پتہ یوسہ تمن واثر مشر آس نمون ہند مزہ چھہ ہاوان لَيَقُولَنَّ

السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۝ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ۖ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝  
فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ  
صَدْرُكَ ۖ أَن يَقُولُوا الْوَلَا يُنزلُ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ  
مَلَكٌ ۖ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ ۖ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝  
أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ ۖ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوْرٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ

ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي ضرور چھو تمہ سائے و نان خنی گئیہ مہ نشہ دور۔ وَن آسہ نہ خنی کینہہ لائے  
لَفَرِحٌ فَخُورٌ پڑیاٹ سو چھو سبتر کران۔ لوکن پیٹھ فخر بہان کرنہ۔ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ مگر نہ تم لو کہ تمو ہمیشہ پریتھہ حالس پیٹھ صبر  
کور نعمون ہندہ زوالکھ وقتہ کوزکھ صبر۔ عطا ی نعمتہ وقتہ دوپچھ شکر۔ بیہ کرکھ رزہ عملہ تے گے تم  
یہندہ خیطرہ یوڈ مغفرت تہ بڈمزور چھہ۔ فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ  
صَدْرُكَ پس شاید چھو ہنہ تراون یرٹھان کانہ حصہ تموا احکامو منزہ تم توہہ کن نازل کرنہ یوان  
چھہ۔ بیہ چھو ہنہ تمہ مکھ ہن دل تنگ کرہ و ن۔ کیاہ یہ چھا ممکن کہ ہنہ کیاہ تراود تبلیغ کرن۔ یہ کتھ  
چھہ ظاہر کہ ہنہ بیکنو تہ ہرگز کرت پس کیاہ فائیدہ چھو دل تنگ سپد تک۔ کیاہ تھند دل مبارک چھا  
سپدان تنگ دشمن ہندہ بیہ و نہ سیت۔ أَن يَقُولُوا الْوَلَا يُنزلُ عَلَيْهِ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ تم  
دشمن کیاہ چھہ و نان۔ ہر گاہ تم پیغبر آسہن تلہ کونہ چھو و النہ یوان تمن پیٹھ خزانہ۔ یا کونہ چھو و سان  
تمن سیت ملک تصدیق کرنہ خیطرہ۔ تمو کتھو سیت مہ ہز سپد و ہنہ دل تنگ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ  
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ہنہ چھو نہ مگر نیم کرہ و ن لوکن اللہ تعالیٰ ای چھو پریتھہ چیزس پیٹھ اختیارہ  
وول۔ توہہ تمیک اختیار چھونہ۔ لہذا کیاہ چھو امہ سبہ نمگین اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ کیاہ تم دشمن  
چھاوانان کہ یہ قرآن مجید چھو تموی یعنی حضرت محمدن صلی اللہ علیہ وسلم پنے دل طرفہ ٹھہر وومت قُلْ



بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ كُتِبَ مُوسَىٰ  
 إِمَامًا وَرَحْمَةً أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِّن  
 الْأَحْزَابِ فَالْتَأْمُرْ مَوْعِدًا فَلَاتِك فِي مَرِيئَةٍ مِّنْهُ إِنَّهُ الْحَقُّ  
 مِّن رَّبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۱۶﴾ وَمَن أَظْلَمُ  
 مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أُولَٰئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَىٰ رَبِّهِمْ

وَبَطِّلْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ بیه گزشتہ سوروی خراب تہ تباہ، یہ تم کران آس رثو عملو آندرہ۔ کیا زہ  
 نیت تہنز آس خراب اَمَّنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ کیاہ مکر قرآن کریا  
 برابری تس شخصس سیت بس قرآن مجیدس پیٹھ قائم روزت آسہ بس قرآن مجید تہندس پروردگارہ  
 سندہ طرفہ دو تہمت چھو۔ بیه چھو تہتہ قرآن مجیدس سیت امہ کس حق تہ پوز آسئس پیٹھ گواہ تہ۔ سو گو  
 سمیک فصیح و بلیغ آسن تمہہ درجہ کہہ لو کہ چھہ تمکھ مقابلہ کرنہ نشہ عاجز۔ یہ گئیہ دلیل عقلی وَمِن قَبْلِهِ  
 کُتِبَ مُوسَىٰ إِمَامًا وَرَحْمَةً بیه چھہ امہ برو تھہ اکھ کتاباہ یوسہ حضرت موسیٰ اس پیٹھ نازل سپز مژ چھہ اچرہ  
 گواہی ہندہ خیطرہ موجود۔ یوسہ کتاب احکام بیان کریکھ اعتبارہ امام چھہ۔ تمہ احکامن پیٹھ بس اجر و  
 ثواب حاصل سپدہ تمہہ اعتبارہ چھہ رحمت۔ یہ گنیہ دلیل نقلی۔ میوی دوشوی دلیلو سیت سپد ثابت  
 قرآن مجیدک پوز تہ صحیح آسن اُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ یم لو کہ تمہ ہنز ذکر کرنہ آیہ چھہ اتھ قرآن  
 مجیدس پڑھ کران وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ بتیم لو کہ قرآن مجیدس انکار چھہ کران بیو فر قو یعنی  
 کافر و آندرہ فَالْتَأْمُرْ مَوْعِدًا بس نار جنم چھو تہندہ واتج جای۔ بس تھہ پاٹھ ہیچہ قرآن مجیدس پڑھ کرہ  
 ون برابر آتھہ۔ فَلَاتِك فِي مَرِيئَةٍ مِّنْهُ بس مہ آس تہ ای مخاطب امہ کس شکس اندر واقع سپدہ ون  
 إِنَّهُ الْحَقُّ مِّن رَّبِّكَ بیشک یہ چھہ پڑ کتاب یوسہ چانس پروردگارہ سند طرفہ واژ مژ چھہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ  
 النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ مگر باوجود آل چھہ واریاہ لو کہ یم نہ اتھ پڑھ کران چھہ وَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ  
 عَلَى اللَّهِ كَذِبًا بیه کہہ اکھ چھو پڑ ظالم تس شخصہ سندہ خوتہ تم لہز نور و کئس خدائس پیٹھ، توحیدس،

وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَي رَبِّهِمْ ۗ أَلَا  
لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۝<sup>۱۸</sup> الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ  
اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۝<sup>۱۹</sup>  
أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُمْ  
مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءٍ يُضَعَّفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا  
يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ ۝<sup>۲۰</sup> أُولَٰئِكَ الَّذِينَ

قرن مجیدس، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انکار کرنے سے اُولَٰئِكَ یَعْرَضُونَ عَلَی رَبِّهِمْ تھے  
کیا ہن پنے نس پروردگارس بروٹھ کن انہ مفتری آسجہ حیثیتہ **وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ**  
**كَذَبُوا عَلَی رَبِّهِمْ** تمی ساتہ کیا ون گواہ یعنی تم ملا یک تم لو کن ہندین اعمالن پیٹھ گواہ چھہ تے  
لو کہ کیا گئے سموا پز نوروو، اپزہ کتھ لاجھہ پنے نس پروردگارس پیٹھ **أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ**  
ساری بوزو وارہ کہ تھنی ظالمن پیٹھ چھہ خدایہ سنز زیادہ لعنت **الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ**  
**وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا** تم پانہ کافر تہ ظالم آتھ تین لو کن آس خدایہ سنزہ وتہ لغبہ پتھ رٹان۔ بیہ آس  
تلاش کران تھ وتہ منز گوٹھ ظاہر سپدن کانہہ ہجرہ **وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ** بیہ آس تم  
آخر تے تہ انکار کران **أُولَٰئِكَ لَمْ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ** تم لو ک تمکن نہ تگ آتھ اورہ یوز  
ژلتھ تمام روی زمینس اندر۔ سمہ ساتہ تمکن گرفتاری ہند وقت وتہ **وَمَا كَانَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ**  
**مِن أَوْلِيَاءٍ** بیہ آسہ نہ تمکن خدایس ورا ی کانہہ دوستاہ یس موکلاوتھ ہیجہ ہیجہ **يُضَعَّفُ لَهُمُ**  
**الْعَذَابُ** تمکن بیہ کرنے تین ہندہ خوتہ دو گن عذاب۔ اکھ پنے گمراہی ہند بیہ تین لو کن گمراہ کرہ نک۔  
**مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ** آسہ تم سخت نفرتہ کن ہزن تھن کن تھاوان تہ  
بوزت ہیکان۔ بیہ آسہ تمکن سخت عنادہ کہ سبہ سبوز تھ یوان درنیٹھ **أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا**  
**أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ** تے لو کہ کیا گئے تم سموا نقصان کورپنہ تین پانن بیہ راوہ تمکن

خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۲۱﴾ لَأَجْرَمَ  
 أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسِرُونَ ﴿۲۲﴾ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
 الصَّالِحَاتِ وَآخَبْتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ  
 فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۲۳﴾ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْأَصْمَىٰ وَالْبَصِيرِ  
 وَالسَّيِّعِ هَلْ يَسْتَوِينَ مِثْلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۲۴﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا  
 نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۲۵﴾ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا  
 اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْيَوْمِ ﴿۲۶﴾ فَقَالَ الْمَلَأَ الَّذِينَ

تمہ سارے گتھے، سمجھ ٹھہر او ان آس یہ تم ساری معبودان باطل تمن پر ستش کران آس۔ و تمین  
 آکھنہ کانہہ تہ بکار لاجرم أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسِرُونَ لازمی چھہ یہ تھہ کہہ ساروی اندرہ چھہ تہ  
 یقیناً سیٹھاہ تاوان رد إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآخَبْتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ بیشک سمو کو کو ایمان  
 اُون یہہ کریتھہ رثہ عملہ، یہہ کو زکھ رجوع عاجزی سان، دلہ کن پنہ نس ہر دور دگار سن کن اُولَٰئِكَ  
 أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تہ چھہ جنک لوکھہہ تہ روزن تمن جشن اندر ہمیشہ مَثَلُ  
 الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرِ وَالسَّيِّعِ مثال دو شون جماعتن بالیمان تہ کافر ن ہنز چھہ۔ آکھ  
 شخصہہ چھو اون تہ زور تہ (یہ گنیہ کافرہ سنز مثال) بیاکھ شخصہہ چھو و چھو و ن تہ بوز و ن تہ (یہ گنیہ بالیمانہ  
 سنز مثال) هَلْ يَسْتَوِينَ مِثْلًا کیاہ سم دو شوے چھا برابر ی مثالہ اندر أَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیاہ جہہ چھوہ  
 تمن دون جمائن اندر یہہ فرق زانان وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ یہہ سوزا سہ بیشک حضرت نوح پنہ  
 نس قومس کن إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ای قوم بیشک یو چھوس تھندہہ خیطرہ بیم کرہ و ن ن پاٹھ۔ یو ہے  
 پیغام واتناوہ و ن کہ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ کہہ مہ کرو کانہہ ہنز عبادت معبود بر حقس ورا کی إِنِّي  
 أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمِ الْيَوْمِ یو چھوس کھوژان تھندہہ خیطرہ (ہر گاہ توہمہ تس ورا ی کانہہ ہنز پر ستش

كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرِكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرِي  
 اتِّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِادِي الرَّأْيِ وَمَا نَرِي  
 لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَذِبِينَ ﴿٢٥﴾ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ  
 إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ  
 فَعَمَّيْتُ عَلَيْكُمْ أَنْلِزُ مَكُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كِرْهُونَ ﴿٢٦﴾  
 وَيَقَوْمِ لَا سَأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَإِنِ اجْرَىٰ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ وَمَا أَنَا

کرده) کذره دو بکس عذابس سوگو قیامتگ دوہ۔ فَقَالَ الْبَلَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ پس دُوب جواب  
 تمن پنے قومہ کیو کافرن ہند یوزھو مَآ نَرِكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا اَسہ چھو کھنہ ژہ بوزنہ یوان مگر اسی ہیہ  
 انسانہ۔ سانہ خونہ چھا ژہ اندر کانہہ فضیلتاہ و مَا نَرِي اتِّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادُوا بِہ چھنہ  
 اَس و چھان چان پیر و کار مگر تھے تم ہونمہ در جب لوکھ چھ۔ بِادِي الرَّأْيِ سَمو تامل کرنہ و راکی جلد  
 جلد چان پیروی قبول کر و مَا نَرِي لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بیہ چھنہ لبان اَس توہمہ تہ ٹھنڈین پیر و کارن  
 کانہہ فضیلتاہ پانس پیٹھہ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَذِبِينَ بلکہ چھہ اَس توہمہ زانان اپزیر۔ قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ  
 كُنْتُ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَآتَانِي رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِهِ حضرت نوحن دو پچھ ای میانہ قومہ مہ و نتو تہہ  
 ہر گاہ بو آسہ پنے نس پروردگارہ سزہ نہہ دلیلہ پیٹھہ قائم سیمہ سمیت میان تبوت آسہ ثابت سپدان بیہ  
 آسہ تم مہ پن بڈرحمت تہ مہربانی عطا کر مثر فَعَمَّيْتُ عَلَيْكُمْ سُونوت تہ تہج و دلیل بیہ نہ توہمہ بوزنہ  
 تھہ کیاہ علاج چھو، اَس چھہ مجبور اَنْلِزُ مَكُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كِرْهُونَ کیاہ اَس بیکوہہ توہمہ سُو رحمت و  
 مہربانی دعویٰ و دلیل زورہ پُشر اوتھہ در حالتیکہ تہہ آسوتھہ ناپسند کران وَيَقَوْمِ لَا سَأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَ  
 ای میانہ قومہ بیہ سوچو توہمہ ذرا کہ اگر ہونو تک غلط دعویٰ کرہ ہاتھہ منز آسہامہ کانہہ مطلبہ۔ تہ گو  
 بیٹھوی ہیہکہ تمکہ ذریعہ کرہ ہا بومال و دولت جمع بیہ کتھ چھہ توہمہ معلوم کتھہ بو چھوس نہ مکان توہمہ بیٹھ  
 تبلیغ کرنس پیٹھہ، صحیح و تھہ ہا نلس پیٹھہ، کانہہ مالہ، کتھہ قسمہ مُزوریہہ کیاہہ إِنْ اجْرَىٰ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهِ

بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُمْ مُلْقُوا إِلَيْهِمْ وَلَكِنِّيَأَرَاكُمْ قَوْمًا  
تَجْهَلُونَ ﴿۳۱﴾ وَيَقَوْمٍ مِّنْ يَبْنُؤُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتَهُمْ أَفَلَا  
تَذَكَّرُونَ ﴿۳۲﴾ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ  
الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ  
لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ إِنِّي إِذَا  
لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۳۳﴾ قَالُوا يَبْنُؤُنِي قَدْ جَادَلْتَنَا فَاكْثَرْتَ جِدَالَنَا

میان مزدور چھنے کا نہ یہ مگر خدا ہی و مَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا یہ یہ سمجھ نہ ہو با ایمان پانس نشیہ  
الگ تراو تھ نہ صورتس منز۔ لَأَنَّهُمْ مُلْقُوا إِلَيْهِمْ ہر پاٹھ تم چھہ ملاقات گرہون پنہ نس پروردگار س  
سیت با عزت صورتس اندر۔ لہذا چھہ مقربان در بار الہی۔ بوتھہ پاٹھ یہ سمجھ تم پانس نشیہ الگ کر تھ  
وَلَكِنِّيَأَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ مگر بو چھسوہ ہشہ و چھان جماتھ نادانی ہنزہ تھہ کران وَيَقَوْمٍ مِّنْ  
يَبْنُؤُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ طَرَدْتَهُمْ ای میانہ قومہ اگر بالفرض والتقدیر یو تم بو نمہہ در جب لو کہ تمو میانس  
نبوتس پڑھ کر پانس نشیہ دور کر کہ تھہ صورتس اندر گوہ اکھاہ چھاوہ مہہ تہ مدکرہ مہہ خدا یہ سندہ گرفتہ نشیہ  
أَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیا زہ چھوہ نہ ہشہ غور کران وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ یہ چھوس نہ بوتوہہ  
وانان زہ مہہ نشیہ چھہ خدا یہ سند ساری خزانہ موجود وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ یہ چھوس نہ بو دعوی کران غیب  
زانہ نک وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ یہ چھوس نہ بوونان بو چھوس ملک وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْيُنُكُمْ  
لَنْ يُؤْتِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا یہ چھوس نہ بو تم کو کن ہندہ چھہ تم نہہہ چہ نظرہ و چھان چھوہ تم کیا کرہ  
نہ اللہ تعالیٰ بن خیر عطا۔ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنْفُسِهِمْ اللہ تعالیٰ سی چھہ خبر ہندین دکن ہنزہ راقی إِذَا  
لَمِنَ الظَّالِمِينَ ہر گاہ بو تڑھہ تھہ کرہ تلہہ چھوس بو ظالمو آندہہ کیا زہ بے دلیل بس کا نہہ کتھہ کرہ  
سُوچھو ظالم۔ یلہ تم ساری تھن اندر لاجواب گئے قَالُوا يَبْنُؤُنِي قَدْ جَادَلْتَنَا فَاكْثَرْتَ جِدَالَنَا قَاتِنَا بِمَا  
تَعَدْنَا دہنہ لگ تم ای نوح ژہ کوڑ تھہ آسہ سیت بحث۔ سُوی کوڑ تھہ واریاہ بحث۔ و س تراو و بحث۔



فَاتَّبَعْنَا بِمَا تَعُدُّنَا إِنَّ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۳۷﴾ قَالَ اِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ  
 بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَاءَ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿۳۸﴾ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نَصِيَّ اِنْ  
 اَرَدْتُ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُغْوِيَكُمْ هُوَ رُوْسُكُمْ  
 وَاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ﴿۳۹﴾ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ قُلْ اِنْ افْتَرَيْتُهُ  
 فَعَلَىٰ اِجْرَامِي وَاَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تَجْرِمُوْنَ ﴿۴۰﴾ وَاُوْحِيَ اِلَىٰ نُوحٍ  
 اَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ  
 بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ ﴿۴۱﴾ وَاَصْنَعِ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَوْحِيْنَا

دون ان تہ سو عذاب ہمیک خوف تہ آسہ روان چھو کہ ان کنت من الصديقين ہر گاہ تہ پوزوان  
 چھو کہ۔ قَالَ اِنَّمَا يَأْتِيَكُمْ بِهِ اللّٰهُ اِنْ شَاءَ وَمَا اَنْتُمْ بِمُعْجِزِيْنَ حضرت نوحن دو چھ سو عذاب ہمیک نہ  
 آنتھ کانہ تہ خدا پس وراي۔ ہر گاہ سو تھہ تیلہ بیکیون نہ تہہ سو عاجز آنتھ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نَصِيَّ اِنْ  
 اَرَدْتُ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْ كَانَ اللّٰهُ يُرِيْدُ اَنْ يُغْوِيَكُمْ بیہ دیہ نہ توہہ کانہہ نفع میان نصیحت ہر گاہ بو  
 توہہ نصیحت کرہ نگ ارادہ تہ کرہ۔ ہر گاہ اللہ تعالیٰ سندا ارادہ تہہ گمراہ کر گھوی آسہ هُوَ رُوْسُكُمْ وَاِلَيْهِ  
 تُرْجَعُوْنَ سو چھو تھندا مالک تس گن ایو تہہ واتانہ اَمْ يَقُوْلُوْنَ افْتَرٰهُ سم مکک لوک تہ چھ ونا  
 حضرت محمدن ٹھہرو پنے طرفہ تہ قرآن مجید قُلْ تہہ فرماویا کہ یارسول اللہ اِنْ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَىٰ  
 اِجْرَامِي وَاَنَا بَرِيٌّ مِّمَّا تَجْرِمُوْنَ ہر گاہ بالفرض یہ مے ٹھرو و مت آسہ تو تہ چھو سو جرم مے پیٹھ۔  
 تہہ چھوہ تمہہ جرمہ نشیہ بری۔ بو تہ چھوس تمو جرمونشیہ بری سم تہہ کران چھوہ وَاُوْحِيَ اِلَىٰ نُوحٍ اَنَّهُ  
 لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ اِلَّا مَنْ قَدْ اٰمَنَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ بیہ آدو حی سوزنہ حضرت  
 نوحس گن کہ پڑھہ کرن نہ توہہ ہر گز پنے قومہ آندرہ مگر تھی لو کہ سمو و نکلام پڑھہ کر پس مہ کھیو تہہ غم  
 تمن چیزن ہند سم چیز تکلیف، ٹھہہ مسخرہ گی سم کران آس توہہ نسبت۔ چوہیہ سون ارادہ چھو وون

وَلَا تَخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ ﴿۲۷﴾  
وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قُوهِ سَخِرُوا مِنْهُ  
قَالَ إِنَّ تَسْخَرُوا مِنِّي فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ ﴿۲۸﴾ فَسَوْفَ  
تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ  
مُقِيمٌ ﴿۲۹﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُورُ قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِنْ  
كُلِّ زَوْجٍ مِّنَ اثْنَيْنِ وَأَهْلِكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ

تم غرق کرن تہ پھاٹون آہس اندر۔ وون چھو طوفان ینہ وول لہذا تمہ طوفانہ نشہ پچہ خیترہ  
وَأَصْنَعُ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيُنَا بِنا ووجہ ناوسانہ نگرانی اندر بیہ سانیو تجوزو مطابق تمی ناوہ ہندہ  
ذریعہ لبو نجات۔ تہ تہ باقی بالایمان تہ وَلَا تَخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ یہ بو زو  
وارہ کہ مہ سیت گورہ نہ کا نہ تھ کرن تم لوکن ہندہ حقہ سمو ظلم کور گھرہ تہ شرکہ سیت۔ کیا زہ تم  
چھو ضرورتہ طوفانس اندر غرق گوہن تہ پھن۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ امہ پتہ ہیوت حضرت نوحن ناوہ  
ہند سامانہ جمع کرن۔ تو پتہ ہنہ کہ سو ناو گران وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأَ مِنْ قُوهِ سَخِرُوا مِنْهُ سمہ سمہ سمانہ  
پکان آس رسین ہنز کا نہہ جماتھہ تہ ہندہ قومہ منزہ امہ جلیہ کن تھہ جلیہ یہ ناو تم گران آس تم آس  
اتھہ ہندس ناو گرانس پیٹھ تھہہ کران۔ دپان آسکھ پیغمبر آسکھ بنے وہ دون تہہ چھان قَالَ إِنَّ تَسْخَرُوا  
مِنِّي فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ تم آسکھ دپان ہر گاہ تہہ امہ تھہہ کران چھوہ موقعہ ولتہ آس تہہ کرووہ  
توہہ تھہہ تھہہ پاٹھہ تہہ تھہہ کران چھوہ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ  
عَذَابٌ مُّقِيمٌ بروٹھہ کن زانو تہہ پانے کس ایہ سو عذاب ہس تس خوار کرہ دنیا س اندر بیہ کس پیٹھ  
سپدہ ہمیشہ روزہ ون عذاب نازل حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا تا اینکہ سمہ سمانہ جاری سپدسون حکم عذابس  
متعلق وَفَارَ التَّنُورُ آب در او ذرہ ونہ تنورہ منزہ یہ اوس نشانہ تہ علامت طوفانچہ شروع شروع سپد نک  
قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا اسہ فرمو حضرت نوحس کھاریو کہ اتھہ ناوہ منزہ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ مِّنَ اثْنَيْنِ

وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿۳۰﴾ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ  
 اللّٰهِ مَجْرِبَهَا وَمُرسِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۳۱﴾ وَهِيَ تَجْرِي  
 بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ تَفْتَضِلُ وَنَادَى نُوْحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي  
 مَعْرَلٍ يُبْنَى ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ ﴿۳۲﴾ قَالَ سَارُوْا  
 إِلَى جَبَلٍ يَّعِصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ ط قَالَ لَعَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ

ساروی جاندار و اندرہ زیز ۲۲ زیز ۲۲ نرہ مادہ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ بے کھارو پشن عیالہ  
 مگر نہ سولیس پیٹھ غرق سپد تک کھم جاری سپد مت چھو۔ تم گئے اکھ تہنر گروا جن بے کھعان نچو تہند۔  
 وَمَنْ آمَنَ بے کھاریو کھ اتھ ناوہ تم ساری سمو ایمان اودمت چھو وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ مگر پڑھ  
 آس نہ کر مشرین مگر کموی لو کو (تم آس شہ زین۔ ونہ چھو امنت کل آس ناوہ منز شیتھ زین۔ ژتجہ مرد،  
 ژتجہ زنانہ وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بے ڈیکھ حضرت نوح و لو کھسو بیتھ ناوہ پروامہ بروکنہ طوفا تک بِسْمِ  
 اللّٰهِ مَجْرِبَهَا وَمُرسِهَا خدلیہ سندی ناوہ سیت چھو امہ ناوہ ہند چکن بے امیک ٹھہرن۔ إِنَّ رَبِّي  
 لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ پڑپاٹھ میون پروردگار چھو ضرور سیدھاہ مغفرت کرہ ون۔ سو چھو پنہ رحمتہ سیت گناہ تہ  
 خشہ ون، بے راچھہ کرہ ون۔ غرق سپد نہ نشہ نجات دودہ ون۔ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ  
 بے آس سو ناویکان تم بیتھ تموی موجودہ ملرو منز تم کوئن برابر آس وَنَادَى نُوْحٌ ابْنَهُ وَكَانَ  
 فِي مَعْرَلٍ آکو دیت حضرت نوح چن پچوس پنس (کھعانس) سو اوس ناوہ نشہ نیر الگ اس جلیہ پیٹھ کافر  
 آسنہ موکھہ اوس نہ ناوہ پیٹھ سوار امنت کرنہ يُبْنَى ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ اکی سانہ ٹاٹھہ  
 گو برہ۔ دولہ سوار سپد امہ سیت ناوہ منز۔ مہ روز کافرن سیت ایمان آن تہ ناوہ منز کھس قَالَ سَارُوْا  
 إِلَى جَبَلٍ يَّعِصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ سو لوگ دپنہ بوکھسہ ٹنہ کوہس پیٹھ، سوئی رچھہ مہ سمہ آہ نشہ کیا زہ  
 آب اوس نہ ونہ زیادہ ٹھد یومت قَالَ حضرت نوح و لوئس لَعَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ الْاَمْنُ نَحْوُ  
 بیچہ نہ کا نہہ چیز چھتھہ خدلیہ سیدہ غذا بے نشہ مگر روزہ محفوظ سوئی شخص بس پیٹھ سوئی پروردگار رحم کرہ

اللّٰهُ الْاَمْنُ رَحْمَةٌ وَحَالَ بَيْنَهَا التُّوَجُّ فَكَانَ مِنَ الْمَغْرُقِيْنَ ﴿۳۳﴾  
 وَقِيلَ يَا رِضْ اِبْلَعِيْ مَاءَكَ وَيَسْمَاءُ اَقْلِعِيْ وَغِيْضُ الْمَاءِ  
 وَقَصِيْ الْاَمْرُ وَاُسْتَوَتْ عَلٰى الْجُوْدِيِّ وَقِيلَ بَعْدَ اللُّقَوْمِ  
 الظُّلَمِيْنَ ﴿۳۴﴾ وَنَادٰى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ  
 اَهْلِيْ وَاِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحَكِيْمِيْنَ ﴿۳۵﴾  
 قَالَ يُنُوْحُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُصَالِحٍ فَلَا

ایمانہ برکتہ۔ وَحَالَ بَيْنَهَا التُّوَجُّ فَكَانَ مِنَ الْمَغْرُقِيْنَ سم آس کتھ با تھی کران کہ تمّن منز آو  
 آبگ ملراہ اکہ۔ کس سہ سونکعان پھوہ و نیو آندرہ۔ چنانچہ کافرن سیت پھوٹ وَقِيلَ حکم آو کر نہ  
 زمین تہ آسانس يَا رِضْ اِبْلَعِيْ مَاءَكَ ای زینہ بیگل بن آب وَيَسْمَاءُ اَقْلِعِيْ ای آسانہ بند  
 کر بن رُودتہ بارش وَغِيْضُ الْمَاءِ اتی ہیوئن آب وئن تہ کم کڑھن وَقَصِيْ الْاَمْرُ کوم سپز پورہ۔ قصہ  
 سہ ختم یعنی نافرمان ہنز تباہی وَاُسْتَوَتْ عَلٰى الْجُوْدِيِّ بیہ ن ناوکوہ جو دیس سیت۔ وَقِيلَ بَعْدَ  
 لِلْقَوْمِ الظُّلَمِيْنَ بیہ آوونہ کافر ہجھ خدایہ سہہ رحمتہ نشہ دور وَنَادٰى نُوحٌ رَبَّهُ بیہ مونگ  
 حضرت نُوح بن پروردگار س پنہ نس کنعانہ سہہ غرق سہنہ بروئھ فَقَالَ رَبِّ کس مونگس ای  
 میانہ ہر وردگارہ اِنَّ ابْنِيْ مِنْ اَهْلِيْ پز پاتھ میون پُجوتہ چھو میانہ اہل و عیالہ منزہ۔ ژہ چھتم وعدہ  
 کورمت عیالہ بچلاک۔ سم با ایمان آسن۔ اگرچہ کنعان نجاس مستحق چھونہ مؤمن نہ آسنہ مؤکھہ وَاِنَّ  
 وَعْدَكَ الْحَقُّ چون وعدہ چھو پوزتہ حق وَاَنْتَ اَحْكَمُ الْحَكِيْمِيْنَ بیہ چھوک ژہ ساروی آندرہ  
 بوڈ حاکم کاسل اختیارہ وول۔ ہر گاہ ژہ یزھھ تس کر کہ ایمان عطا۔ تاکہ سوتہ کبہ نجات طوفانہ نشہ  
 قَالَ يُنُوْحُ اِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ اللّٰهُ تَعَالٰى اَن فَرْمُوْس اکی نُوح میانس علم از لیس اندر چھونہ  
 کنعان ہر گز چاہہ اہل و عیالہ منزہ سم با ایمان آتھ مستحق نجات سہن اِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُصَالِحٍ بلکہ چھوسو  
 آخر تس تان تباہ کار حالت کُفْر س پیٹھ روزہ ون فَلَا تَسْئَلُنْ مَا لَيْسَ لَكَ بِہِ عِلْمٌ کس مہ کرو

تَسْأَلُن مَالِيَس لَكَ بِهِ عِلْمٌ اِنِّي اَعْطُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنْ  
 الْجُهَلِيْنَ ﴿۴۶﴾ قَالَ رَبِّ اِنِّي اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَسْأَلَكَ مَالِيَس لِيْ  
 بِهِ عِلْمٌ وَّالَا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْ اَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ﴿۴۷﴾  
 قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلٰى اُمِّم  
 مِمَّنْ مَعَكَ وَاْمُرْ سَبِيْعَهُمْ ثُمَّ يَسْأَلُكُم مَّتَاعًا ذٰبٍ اِلَيْكُمْ ﴿۴۸﴾  
 تِلْكَ مِنْ اَنْبِآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا اِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ  
 وَاَقَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا فَاصْبِرْ اِنَّ الْعٰقِبَةَ لِلْمُتَّقِيْنَ ﴿۴۹﴾

در خواست مہ نشہ تمہ چیز ک تج نہ ثیہ کینہہ خہر چھہ اِنِّي اَعْطُكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنْ الْجُهَلِيْنَ بو  
 چھو سے ثیہ نصحت کران، ذہمہ آس نہ زانہ ویو اندرہ متھ دعا کرہ نادانی بو ت قَالَ رَبِّ اِنِّي اَعُوْذُ بِكَ  
 اَنْ اَسْأَلَكَ مَالِيَس لِيْ بِهِ عِلْمٌ حضرت نوح ن دُوپ میانہ ہرورد گارہ بیشک بو چھو سے پناہ منگان  
 نتیجہ چیز ممکنہ نشہ تج نہ مہ کینہہ خہر چھہ واقعی کر مہ متھ چیز ممکنہ سیت بد غلطی۔ اتھ غلطی کریم  
 بخشائیش وَاَلَا تَغْفِرْ لِيْ وَتَرْحَمْنِيْ اَكُنْ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ہر گاہ نے ذہ مغفرت تہ بخشائیش تہ رحم کر کہ  
 مہ تلہ سپدہ بو نقصان تلہ ونیو اندرہ۔ بلہ اُدہ آب۔ ہنہ ہنہ بون دو تھہ قِيْلَ يٰنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلٰمٍ مِّنَّا  
 وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ حکم او کر نہ اکی نوح و سو اُمہ ناوہ منزہ زمینس پیٹھ سانہ طرفہ سلامتی سان تہ برکتو  
 سان سمہ نازل سپدن توہر پیٹھ وَعَلٰى اُمِّم مِمَّنْ مَعَكَ بیہ تمن جماعتن پیٹھ یم ذہ سیت چھہ۔ تم  
 گئے بالیمان وَاْمُرْ سَبِيْعَهُمْ ثُمَّ يَسْأَلُكُم مَّتَاعًا ذٰبٍ اِلَيْكُمْ بیہ تہ آسن آئندہ کینہہ جما ژسمہ نافرمانی تہ  
 کفر و شرک کرن۔ سم تلناوہ کہ ذنیاء س اندر کینہہ کالاہ تمنج۔ توپتہ وائتہ تمن سون کڈر عذاب آخر تس  
 اندر تِلْكَ مِنْ اَنْبِآءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَا اِلَيْكَ یہ قصہ چھو غیبہ چو خبر اندر وہ بیہ اُس دجیمہ ذریعہ توہر نش  
 واتناوان چھہ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا اَنْتَ وَاَقَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا توہر تہ چھدس قومس (یا رسول اللہ) اوسنہ

وَالِى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ  
 إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ إِنَّ أَنْتُمْ لَلْآمِفْتَرُونَ ﴿۵﴾ يَقَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ  
 أَجْرًا إِنْ أَجْرَى إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۵﴾  
 وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُكُمْ وَارْتَبُكُمْ ثُمَّ تَوَبُّوْا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ  
 عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا

یہ قصہ سابقہ بیان کرنے بروح معلومی۔ امی سیت سپد معلوم تہہ چھوہ نبی برحق۔ مگر تم لوک جہہ تہمز نبوت ثلاث سپدنہ  
 پتہ تہ تہمز مخالفت کران فاصیدر لہذا کرد تہہ صبر (یہ قصہ بوزت) لَنْ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ - یقین زانومہ رت  
 انجام جھو خدا بس کھوڑوہ زمین ہمدہ خیطرہ۔ تہہ پاتھ تہہ قصہ اندرہ معلوم سپد کہ کافر ن ہند انجام جھو خراب، مسلمان  
 ہند انجام جھو رت تہہ پاتھ سپدہ تہندین مخالفن ہند حال۔ چند روز روزہ تہمدہ مخالفک زور شور۔ بتولا کہ سپدہ غلبہ ہنس  
 تہ پزیدین۔ تہند دشمنہ سپدن بالآخر تباہ و برباد **وَالِى عَادِ أَخَاهُمْ هُودًا** بیہ سوزاسہ قوم عادس کن تہمزى  
 برادری منزہ آکھ صاحب ہود علیہ السلام پیغمبر **قَالَ تَمبُووون** پنہ نس قومس **يَقَوْمِ** ای میانہ قومہ  
**اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ** تہہ کرو پرستش فقط معبود برحقہ سنزی یاثر۔ نس وراى جھو تہند  
 کانہ معبوداہ بس عبادتس لایق آسہان **إِنَّ أَنْتُمْ لَلْآمِفْتَرُونَ** تہہ چھوہ نہ بت پرستی سیت۔ خدا بس وراى  
 بیہ کانہ قابل پرستش زانہ سیت۔ مگر لہز تہہراوہ ون لمہ کس باطل آسس پیٹھ تہہ دلیل۔ **يَقَوْمِ لَا**  
**أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا** ای میانہ قومہ بوچھوس نہ توہہ منگان اتھ تہلیغس پیٹھ کانہہ مزدوریاہ **إِنْ أَجْرَى**  
**إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَرَنِي** میان مزدور چھ نس مٹہ سم بوعدم محضہ نغہ پیدہ گورس **أَفَلَا تَعْقِلُونَ** کیاہ توہہ  
 چھوہ تابیہ گتہ فکرہ تران۔ **وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُكُمْ وَارْتَبُكُمْ ثُمَّ تَوَبُّوْا إِلَيْهِ** ای میانہ قومہ تہہ منگو پنہ نس  
 پروردگارس گہونغہ، کفر و شر کہ نغہ بخشایش، مغفرت یعنی تہہ انوا ایمان۔ توپتہ کرد ایمان اتھ نس کن رجوع  
 عبادتہ سیت بیہ تہمز فرمانبرداری کرنے سیت ایمان و عمل صالحہ برکتہ۔ **يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا**  
 تراوہ سو توہہ پیٹھ، تہندس زمینس زراعتس پیٹھ گدل رود۔ **وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ** بیہ ہرہ



تَوَلَّوْا فَمَا أَبْلَغْتُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا  
غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوْنَهُ شَيْئًا إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ۝۵۷  
لَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَ  
نَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ ۝۵۸ وَتِلْكَ آيَاتُ الَّذِي  
وَعَصَا رُسُلَهُ وَاتَّبَعُوا أَمْرًا كَلِمًا جَبَّارَةً عِنْدَ رَبِّهِمْ وَأَتَّبَعُوا نِ  
هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ ۝۵۹

اُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ پس ہر گاہ تہہ میانہ ایسے تہلیغہ سے تبلیغ بیان کرنے پتہ سے بٹھ پھر و۔ اعراض کرو مہ  
چھونہ تھ اندر کا نہ نقصان کیازہ مہ واتنوو توہمہ سو پیغام پس ہتھہ بوسوزنہ آمت اوس۔ امہ میانہ  
پیغام نہ مانہ نج شامت پھر ہ توہمہ پانسی توہمہ کرہ اللہ تعالیٰ تہاہ سے برباد وِسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ توہمہ  
بذل لہ میون پروردگار پس قوم اس تمہی گرہ ہتھہ زمینس اندر آباد وَلَا تَضُرُّوْنَهُ شَيْئًا تہہ چھوہ  
نہ تس کہنہ نقصان واتناوان بلکہ چھوہ پنہ نین پانن نقصان واتناوان إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ پزپاٹھ  
میون پروردگار چھوہ پر ہتھہ چیزس راہتھہ کرہ ون۔ پر ہتھہ اکند حال چھوہ تس معلوم وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا  
بَجَّيْنَا هُودًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا اودہ یلہ سون حکم تھمہ عذابہ خیطرہ جاری سپد (تم گال  
اسہ ساری) نجات دیت اسہ حضرت ہودس بیہ تمہن کوکن سموا ایمان اوس اونمت تس سیت پنہ رحمتہ  
سیتِ وَبَجَّيْنَاهُمْ مِّنْ عَذَابِ غَلِيظٍ نجات دیت اسہ تمہن مشکل عذابہ نشہ وَتِلْكَ آيَاتُ الَّذِي  
رَبِّهِمْ وَعَصَا رُسُلَهُ بیہ اوس قوم عادیموانکار کور پنہ نس خدایہ سندین آیاتن بیہ کمر کہ تھندین پیغمبرن  
ہنز نافرمانی وَاتَّبَعُوا أَمْرًا كَلِمًا جَبَّارَةً عِنْدَ رَبِّهِمْ بیہ کر کہ پیروی سرکش سے ضدی مخالفن ہندین کھن ہنز  
تمک نتیجہ دراکھ وَأَتَّبَعُوا نِ هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تمہن آہ پتے تھاونہ لعنت تھہ ذبیاعس  
اندربہ آیتھہ پتے لعنت قیامتک دہہ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ وارہ لوزو قوم عادن کور انکار پنہ نس



الْأَبْعَدَ الْعَادِ قَوْمِ هُودٍ ۖ وَإِلَىٰ شُودِ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يُقَوْمُ  
 اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ  
 وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۗ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ  
 مُّجِيبٌ ۗ ۖ قَالَ الْوَيْلُ لِمَنِ كُنْتُ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا أَتَنْهَانُنِي  
 أَنْ عَبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ ۗ مُرِيبٌ ۗ ۖ  
 قَالَ يُقَوْمُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّنْ رَبِّي وَآتَنِي مِنْهُ

مردودگار س الْأَبْعَدَ الْعَادِ قَوْمِ هُودٍ واره بوزو قوم عاد آودور گرنه خدایه سنده رحمته نبیہ۔  
 وَإِلَىٰ شُودِ أَخَاهُمْ صَالِحًا بیه سوز اسه قوم شمودس کن تهنه نوبی صالح علیه السلام قَالَ يُقَوْمُ اعْبُدُوا  
 اللَّهُ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ صالح علیه السلام دو پچه ای میانه قومه عبادت ته پر ستش کمر و معبود بر هتھ سنز  
 کانه معبوداه و هتھونه توبه تس و رای هُوَ أَنشَأَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا تمسز چھه بڈ  
 مهربانی توبه پیٹھ تم کمر ده تبه پیده زمینه کس مازس میوه نبیہ۔ بیه کمر نوه آتھ ز مینس پیٹھ آبادر نگارنگ  
 نعو کر توه عطا۔ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ نَس معو مغفرت تس پنه نین گھنن هبهه خیطره شر کو کفره  
 خیطره توبه کمر و رجوع تس کن ایمان اتھ ته پڑھه کمر ته توبه کمر ور ته عمله إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ  
 بیشک میون پروردگار و هتھونکھه بندن پنه نین۔ اجابت کره ون۔ بندن بندس مگنس قَالَ الْوَيْلُ لِمَنِ كُنْتُ  
 كُنْتُ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا دپنه لگ تم ای صالح لپھنن اسه آس سمه برو نٹھه ژه متعلق خبر کپاه امیدتھه  
 ساری کور ته ژیه اوله بدل أَتَنْهَانُنِي أَنْ عَبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا کپاه ژه و هتھونکھه اسه منع کر ان تمن  
 معبودن پر ستش کر نس تمن پر ستش کر ان آی سان مال بڈ بب۔ وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ  
 مُرِيبٌ ۗ اسه و هتھو ضرور شک ته شبه تمیک بته کن ژه اسه نادروان و هتھونکھه کس شک پریشان کره ون و هتھو  
 قَالَ يُقَوْمُ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّنْ رَبِّي صالح علیه السلام دو پچه ای میانه قومه مبه و نتو تبه  
 هر گاه بو پنه نس مردودگار ه سنز ه نده دلپه پیٹھ قائم اسه وَآتَنِي مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ

رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللَّهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُ وَيُنِي غَيْرُ  
 تَحْسِيرٍ ﴿۶۳﴾ وَيَقُومُ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ فَذُرُّوهَا تَأْكُلُ فِي  
 أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ ﴿۶۴﴾  
 فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدُ غَيْرِ  
 مَكْدُوبٍ ﴿۶۵﴾ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ  
 بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿۶۶﴾

عَصَيْتُهُ بے آسہ تم مہ بن رحمت تہ عطا کر مژ۔ یعنی نبوت۔ تہ آتھ ہر گاہ بوہمز نا فرمانی کرہ تبلیغ نہ  
 کرنہ سیت اوہ تمہ بیکہ مہ مدد کر تھ خدا بس نشہ فَمَا تَزِيدُ وَيُنِي غَيْرُ تَحْسِيرٍ تمہ چھوہ نہ میانہ خیطرہ  
 نقصانہ ورا کی کانہہ چیز ہرہ راوان تہ زیادہ کران وَيَقُومُ هَذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةٌ ای میانہ قومہ تمہ بس  
 مُجْرَہ ژھاندان چھوہ، سُو چھو یکبار۔ بے ہتھ خدایہ سنزورنن تمہدہ خیطرہ میانہ صد اقس پیٹھ اکھ بوڈ  
 نشانہ تہ دلیلہا۔ اَسْمَد تہ چھہ توبہ پیٹھ کینہہ حق فَذُرُّوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمْسُوهَا بِسُوءٍ بس  
 تراویون سُو۔ کھیوان روزہ خدایہ سدس زمینس اندر گاسہ وغیرہ اس مہ لاگو اتھہ تکلیفہ کہ قصدہ ہر گاہ  
 توبہ کینہہ تکلیف واتوودہ تس فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ تلہ رتہ توبہ بوڈ عذاب سیتی فَعَقَرُوهَا  
 ہس باوجود اک ایڑہ فہمائش کمر تھ مدرسو و تین تمہو فَقَالَ ہس دو پچھ صالح علیہ السلامن تَمَتَّعُوا فِي  
 دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ تلو متع زندگی ہند گرن پنہ نین منز روز تھہ۔ ترین دو ہن۔ تمہ پتہ چھو توبہ تہا  
 گوہن ذَلِكْ وَعْدُ غَيْرِ مَكْدُوبٍ بے چھو وعدہ بس نہ اپز آسہ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا تریہ دوہ گڑھنہ  
 پتہ بلہ سون حتم عذابس متعلق جاری سپد تَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ  
 نجات ڈیت آسہ صالح علیہ السلامس بے تمہن لوکن تمہو ایمان اون تس سیت پنہ رحمتہ سیت تمہ عذابہ  
 نیشہ بے تمہہ ڈپہ رسوائی نیشہ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ پز پٹ چوٹوی پروردگار چھو قوتہ وول غلبہ  
 وَاخُذِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جِثْمِينَ تم ظالم رٹ سخت کریجہ یوسہ جبریل

وَآخِذِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثَمِينَ ﴿۶۷﴾  
 كَانَ لَمْ يَغْنَوْا فِيهَا الْآرَانَ تَشُودُ أَكْفَرُوا رَابَهُمْ ط الْآبُعْدَا  
 لِشُودُ ﴿۶۸﴾ وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَى قَالُوا سَلْمًا  
 قَالَ سَلْمٌ فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ ﴿۶۹﴾ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ  
 لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا  
 أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ ﴿۷۰﴾ وَامْرَأَتُهُ قَابِلَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا

ایسے سنز کر کچھ آس۔ پس مجھ کن دستھ پیتھ گئے تم روزت۔ تیت صاف سپد شو شهر کان لَمْ یَغْنَوْا  
 فِیْهَا زَن نہ تم تھ شرس منز بسمتی آس زانہہ الْآرَانَ تَشُودُ أَكْفَرُوا رَابَهُمْ ط الْآبُعْدَا لِشُودُ وارہ  
 بوڑو قوم شمودن کور انکار پنہ نس پروردگار وارہ بوزہ خدلیہ سدہ رحمتہ لشمہ سپد سیٹھاہ دور قوم شمود۔  
 بُوزت رُو عبرت ای بوزن والیو خدلیہ سزہ نافرمانی ہند نتیجہ کیاہ چھو آسان وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا  
 إِبْرَاهِيمَ بِالْبَشْرَى قَالُوا سَلْمًا قَالَ سَلْمٌ بیہ آی پز پانھ سان سوزنہ آمت ملایک انسان صورتس اندر  
 ابراہیم علیہ السلام نیشہ فرزند اسماعیل علیہ السلامہ سنز خوشخبر بیتھ۔ تمبو کمر ابراہیم علیہ السلام  
 سلام۔ تموتہ کمر کہ تورہ سلام۔ تمن گو خیال پتوہ آئے فَمَا لَبِثَ أَنْ جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ توپتہ  
 ثیرتہ تار کرنہ ورا ای آی تمن لشمہ وٹھہ سُد بڑمت ماز بیتھ فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكَرَهُمْ  
 وَوَجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً دوپرتہ غیر زان تمبو ٹھند اتھ نہ وٹھانی تھہ کن (تم نہ مازانی مازس کن) نَكَرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً  
 لگ تمن زانہہ بیہ لگ ولہ سی اندر ٹھند خطرہ محسوس کرنہ۔ خبر کمرہ غرضہ چھہ تم آمت۔ کیا زہ تمہ  
 وقتہ یس شخص کانبہ ہندہ تکلیف کہ قصدہ یوان اوس سُو اوس نہ تھندہ گرہ کینہہ کھوان چوان۔ تمبو ملائکو  
 ثیون یہند کھوٹن قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ دُپس اس ہز چھہ ملک اس چھہ آمت  
 سوزنہ قوم لوطس کن تمن سزای کفر و نافرمانی دنہ خیطرہ وَامْرَأَتُهُ قَابِلَةٌ تھنز آشین حضرت سارہ آس  
 وودنہ پڑھین ہنز پڑھہ لازمی کرنہ خیطرہ۔ تمبو یلہ پڑھین ہندہ نہ کھینک حال وچھہ بیہ قوم لوطکھ گنج خبر

يَا سَحْقَ وَمِنْ وَّرَاءِ اسْحَقَ يَعْقُوبَ ۚ ﴿٤١﴾ قَالَتْ يُوَيْلَتِي ءَايِدُ  
 وَاَنَا عَجُوزٌ ۖ وَهَذَا بَعْلِي شَيْخَانٌ هَذَا الشَّيْءُ عَجِيبٌ ۚ ﴿٤٢﴾  
 قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ  
 الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ۚ ﴿٤٣﴾ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ  
 وَجَاءَتْهُ الْبَشْرَىٰ مُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ ۗ ﴿٤٤﴾ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ  
 لَحَلِيمٌ أَوَّاهٌ مُنِيبٌ ۚ ﴿٤٥﴾ يَا إِبْرَاهِيمُ اَعْرَضُ عَنْ هَذَا إِنَّهُ قَدْ

لوز سوکویہ خوش فضحکت خوش گڑھے لُجِ اَسْمِه فَبَشْرُنْهَا يَاسْحَقُ وَمِنْ وَّرَاءِ اسْحَقَ يَعْقُوبَ لَيْسَ  
 وَنِ اَسْمِه لَس بَشَارَتِ تَهْمِي مَلِكُنْ هَمْدِه ذَرِيْعَه فَرَزَنْدَه سَنَز - لَيْسَ اَلْحَقُّ نَاوْ اَوْ تَهَاوَنَه - بِيَه اِسْحَا قَسِ پَتَه  
 تَسَدِسْ فَرَزَنْدَه سَنَز بَشَارَتِ لَيْسَ يَعْقُوبَ نَاوْ اَوْ تَهَاوَنَه قَالَتْ يُوَيْلَتِي ءَايِدُ وَاَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِي  
 شَيْخَانٌ سَعُوْجٌ وَنِيَه كِيَاَه كَدْر يَوْم - بُوِي هَجْسٌ وَاوْنِ بَدْسَمُو - وَاوْنِ پَر سَا بُوِي تَه بَجْرَس مَنَز - بِيَه هَجُوِيَه  
 مِيوْنِ خَاوَنْدَتَه بَدْسَه - اِنَّ هَذَا الشَّيْءُ عَجِيبٌ وَاَقْبَى اَسْمِه دُوْنِ بَدْنِ نَشْرَه اَوْلَادِ پِيْدَه سَپْدَنْ هَجُو عَيْبِ  
 كَتَهَا قَالُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ رَحِمْتُ اللَّهُ وَبَرَكَتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ تَمُو مَلِكُو دُوْپِ كِيَاَه تَه  
 هَجُوَه خَدَلِيَه سَدِسْ كَمَسِ نَسْبَتِ تَعْقِبِ كِرَانِ خَاوْدَانِ بُوْتَسِ مَنَز رُوْزِ تَه - بِيَه چَهَا تَهَنْدَه قَدْرَتَه نَشْرَه  
 دُوْر كِيَنَه - خُصُوْصَا هَجُه تَهْمَنْدَسِ خَاوْدَانَسِ پِيْئِه خَدَلِيَه سَنَز رَحْمَتِ تَه بَرَكْتِ نَاوَل - اِي اِبْرَاهِيْمَه سَنْدِ يُو اِهْلِ  
 يَحُو اِنَّهُ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ پَنَز پَا تَه اللهُ تَعَالَى وَهَجُو حَمْدِ دِيْنَه اَمْتِ، سِيْطَهَا بُوْر كِ - لَهَذَا بَجَايَه تَعْبِ كَرُو تَهْمَنْزِ  
 تَعْرِيفِ تَه حَمْدِ شَا بِيَا نِ فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ اَوْدَه يَلِيَه حَضْرَتِ اِبْرَاهِيْمَسِ نَشْرَه خَوْفِ دُوْر  
 سَپْدِ تَمَنْ هَمْدَه وَنَه سِيْتِ وَجَاءَتْهُ الْبَشْرَىٰ مِيَه لُوْز تَمُو خُو شَجْرِ فَرَزَنْدَه سَنَز مُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ  
 تَمِ لَكِ بَحْثِ كَرْنَه اَسْمِه سِيْتِ قَوْمِ لُوْطَسِ مَحْتَلَق - تَمَنْ سَپْدِ قَوْمِ لُوْطِ كِ هَلَاكِ سَپْدَنْ نَاوَا رِ اِنَّ اِبْرَاهِيْمَ  
 لَحَلِيْمٌ اَوَّاهٌ مُنِيْبٌ پَنَز پَا تَه اِبْرَاهِيْمِ عَلِيَه السَّلَامِ هَجُو حَلِيْمٌ الطَّعِ، نَزَمِ دِلِ، رَجُوْعِ كَرُوْنِ خَدَا لَيْسَ كُنْ  
 يَا اِبْرَاهِيْمُ اَعْرَضُ عَنْ هَذَا اَسْمِه فَرَمُوْتَسِ اِي اِبْرَاهِيْمِ اَمَه خِيَاَلَه نَشْرَه پِيْرُو اِنَّهُ قَدْ جَاءَ اَمْرُ رَبِّكَ

جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ لَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ ﴿۶۱﴾ وَلَمَّا  
 جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئِىً بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالَ هَذَا  
 يَوْمٌ عَصِيبٌ ﴿۶۲﴾ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ  
 كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ  
 لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تَخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ  
 رَشِيدٌ ﴿۶۳﴾ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَالَنَا فِي بَنَاتِكِ مِنْ حَقِّ

پنہ پانچ تہندس ہر در گارہ سُد حکم ووت قریب وَإِنَّهُمْ لَاتِيهِمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ بیشک تمن پیٹھ  
 چھوواتہ دن سُو عذاب یس نہ دُور کرنہ ایہ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئِىً بِهِمْ توپتہ یلہ سان فرستادہ  
 ملایک وات حضرت لو طس نغیہ نہایت خوبصورت لو کئین ہنزہ شگلہ۔ آزرده سپد تم تہندہ ینہ سیت کیا زہ  
 تم آس حسین نوجوان ہندس صورتس اندر تس لو طس گو خیال یم ماچھ انسان پنہ قونج خراب  
 ذہنیت نامعقول حرکت خیال کر تھ سپد مغموم منھجر وَضَاقَ بِهِمْ ذُرْعًا تمی سبب سپد دل تنگ تہندہ  
 ینہ سیت وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ تم لگ ونہ از چھوختی ہند دودہ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ تمہ پتہ آی  
 تہندہ تو مک بد معاش لو کہ یکن خوبصورت لو کئین ہند لو ز تھ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ دُور ان دُور ان تمن نغیہ  
 وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ تم آسن برو تھ پیٹھے پیچھ کامہ کرن قَالَ يَقُولُ لوط علیہ  
 السلامن دو پیچھ اکی قوم هَؤُلَاءِ بَنَاتِي سِئِىً چھوہ سمہ میانہ کورہ (یعنی میانہ اُمچہ کورہ) یمہ تہند ین گھرن  
 اندر چھہ هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ سمہ چھوہ بیپاک تہندہ خیطرہ تمن مہمان لو کئین ہندہ خوتہ فَاتَّقُوا اللَّهَ  
 ہس گھو ژو خدا ہس وَلَا تَخْزُونِ فِي ضَيْفِي مہ مہ مندہ چھا و پڑھین منز أَلَيْسَ مِنْكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ  
 افسوس تہ تعجب چھو کیاہ توہمہ منزہ چھنا اکھ زون تہ گائل تہ سمجھدار یس یہ کتھ فجرہ ترہ ہاس ین تہ  
 فجرہ تارہ ہا قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَالَنَا فِي بَنَاتِكِ مِنْ حَقِّ تمود و پکھ توہمہ چھہ خبری اہہ چھنہ ٹہنزن  
 تمن قومی کور ین ہنز کئی ضرورت کیا زہ اہہ چھو نہ زنان گن ر غبھی وَأَنَّكَ لَتَعْلَمُنَّ مَا تَفِيدُنَّ یہ چھو



فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا جَعَلْنَا عَلَىٰهَا سَافِلَهَا وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا  
 حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ ذَمَّنُودٍ ﴿۸۷﴾ مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ وَ  
 مَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ ﴿۸۸﴾ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا  
 قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَلَا  
 تَنْقُصُوا الْكَيْلَ وَالْيِزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي  
 أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ ﴿۸۹﴾ وَيَقَوْمِ أَوفُوا  
 بِالْكَيلَ وَالْيِزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ

عَلَيْهَا سَافِلَهَا پس یلہ سون حکم جاری سُد تہندس عذابس متعلق آسہ کورتھہ شہرس تلک پیٹھ  
 تمیک ہیرم طرف کور بون گن۔ بو نیوم طرف کور ہور گن وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِّنْ سِجِّيلٍ  
 ذَمَّنُودٍ \* مُسَوِّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ بیہ کور آسہ تمین پیٹھ کنہ زود سمہ کنہ کھنگر آسہ پوئس پتھ۔ تم کنہ آسہ  
 چانس خدائیس نغیر علامت تہ نغمانہ تھاونہ آسہرہ وَمَا هِيَ مِنَ الظَّالِمِينَ بِبَعِيدٍ تم شہر چھنہ تمین ظالمین  
 مکہ کین کافرین ہند یوشہر ونشہ کینہہ دور وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا بیہ سوزاسہ شہر مدین کین لوکن  
 گن بوی تہند شعیب علیہ السلام قَالَ يَاقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ تمود ویکھ ای  
 میانہ قومہ بندگی کرو گئس خدائیس توہہ پچھونہ تس وراکی کانہہ معبود وَلَا تَنْقُصُوا الْكَيْلَ وَالْيِزَانَ  
 بیہ مہ چھہنہ راوومین بانہ بیہ تر کر۔ میان آسو پور، تولان آسو پور إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ مہ چھوہ تہہ  
 بوزنہ یوان ترس حائس منز مالکہ اعتبارہ لہذا تس چیز پچھو توہہ آمادہ کران لوکن چھون دس پیٹھ وَإِنِّي  
 أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُّحِيطٍ مہ پچھو تہندہ حقہ خطرہ باسان تمہ دہکہ عذابگ پس دوہ بے شمار  
 عذابن احاطہ کر تھہ یاسنہ دوہ اولینن تہ آخرین احاطہ کر تھہ آسہ وَيَقَوْمِ أَوفُوا بِالْكَيلَ وَالْيِزَانَ  
 بِالْقِسْطِ ای میانہ قومہ بیہ آسو میان پور تولان تہ پور عدل وانصاف سان وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ





عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴿۸۸﴾  
 وَيَقَوْمٍ لَا يَجْرُمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمٌ لَوْطٍ مِنْكُمْ بَعِيدٍ ﴿۸۹﴾ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ﴿۹۰﴾ قَالَوا ائْتِنَا بِآيَاتِنَا لَنْ نَرْضَكَ بِبَنَاتِنَا وَأَنْتَ كَاذِبٌ كَرِيمٌ ﴿۹۱﴾

مَا أَنْهَكُمْ عَنْهُ بوجھوسنہ یژھان سو کوم پانہ کرن سمہ نشہ توبہ منع کران چھوسہ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ بوجھوسنہ یژھان مگر اصلاح کرن تہ سنہالان۔ یوت بوجھیکہ تہ تیوت وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ بیہ چھوسنہ میانین کائین ہند اسہل تہ آسان سپدن مگر خدایہ سندی یاری تہ مددہ سیت عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ تس پیٹھ کورمہ توکل تہ اعتماد تس کن چھوس پوریتھہ وقتہ رجوع کران۔ وَيَقَوْمٍ لَا يَجْرُمَنَّكُمْ شِقَاقِي ای میلانہ قومہ میون عدوت تہ مخالفت تہ زینہ راون توبہ أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ کہ توبہ کیاہ بنہ سوی باش یوسہ قوم نوحس یا قوم ہودس یا قوم صالحس بنہ یہ سم زمانہ کن دور چھہ وَمَا قَوْمٌ لَوْطٍ مِنْكُمْ بَعِيدٍ قوم لوٹک حال چھونہ توبہ نشہ دور کینہہ تہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ وون منگو مغفرت کفر وشر کہ خیطرہ پنہ نس ہرورد گارس توپتہ کرد تس کن رجوع طاعت و عبادتہ سیت إِنْ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ بیشک میون پروردگار چھو سیٹھاہ رحم کرہ وون مغفرت منگہ وین پیٹھ دوست تھوہ وون توبہ کرہ ویننن قَالَوا ائْتِنَا بِآيَاتِنَا ای شعیب اسہ چھنہ چانہ اکثر تھہ فکری تران تمو کھو اندرہ سمہ ژہ ونان چھو کہ کیا زہ اس چھنہ تمہ تھ توجہ تہ فجرہ سان بوزان وَإِنَّا لَنَرُّكَ فِتْنًا صَاعِقًا بیہ

بِعَزِيْزٍ ۹۱) قَالَ يُقَوْمِ ارْهَطِيْ اَعْرُ عَلَيْكُمْ مِّنْ اَللّٰهِ وَ  
 اتَّخَذْتُمُوْهُ وِرَآءَكُمْ ظَهْرِيًّا اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ ۹۲)  
 وَيَقَوْمِ اَعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنِّىْۤ اَعْمَلٌۭ سُوْفَ تَعْمَلُوْنَ لَا  
 مَنۢ يَّاتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَاذْتَقِبُوْا اِنِّىْ  
 مَعَكُمْ رَقِيْبٌ ۹۳) وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ  
 اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا الصِّبْغَةَ

جھوٹکے ذہ اسے بوزنہ یوان اسے اندر سیٹھا پست کمزور وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ ہر گاہ لے چاہے  
 خاندانک سے قبیلک پاس آسے تم سان تم مذہب چھہ اس کرہ ہوت ژہ گنہ گنہ (یعنی سنگسار) وَاَنْتَ  
 عَلَيْنَا بِعَزِيْزٍ بیہ جھوٹکے نہ ژہ اسے نشہ گنہ قسمہ قابل عزت سے قَالَ يُقَوْمِ ارْهَطِيْ اَعْرُ عَلَيْكُمْ مِّنْ  
 اللہ شعیب علیہ السلامن دو کچھ ای میانہ قومہ افسوس کیاہ میون قبیلہ چھا توہمہ نش خدایہ سندہ خوتہ  
 زیادے قابل عزت۔ مہ پچھہ پنہ نس پانس نسبت کر مرخدا نس گن وَاَتَّخَذْتُمُوْهُ وِرَآءَكُمْ ظَهْرِيًّا کیاہ  
 اللہ تعالیٰ جھوٹونہ توہمہ تر وومت تھر پتھ گنی تمسند جھنا توہمہ کا نہہ خیالاہ لجاہہ اِنَّ رَبِّيْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ  
 مُحِيْطٌ ہوش کر و میون پروردگار جھو یقینا جھنزن سارنی تھن احاطہ کر تھہ وَيَقَوْمِ اَعْمَلُوْا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ  
 اِنِّىْۤ اَعْمَلٌۭ ای میانہ قومہ جہہ سے روز و پنے جاہیہ کوم کران۔ بوتہ جھوس پنے جاہیہ کوم کران  
 سُوْفَ تَعْمَلُوْنَ مَنۢ يَّاتِيْهِ عَذَابٌ يُّخْزِيْهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ برو تھہ پہن زانو جہہ کہہ کہہ شخص آسہ سو  
 بس خوار سے ذلیل کرہ ون عذاب ولتہ۔ بیہ کہہ شخص آسہ لہزونہ ون وَاذْتَقِبُوْا اِنِّىْۤ مَعَكُمْ رَقِيْبٌ پیارو  
 جہہ بوتہ جھوس توہی سیت پیاران وَلَمَّا جَاءَ اَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَّالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا اودہ  
 یلہ سون حکم تہندس عذابس متعلق جاری سپد نجات دیوت حضرت شعیبس بیہ تمنی سیت ایمان انہ  
 ونین پنے رحمتہ سیت وَاَخَذَتِ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا الصِّبْغَةَ ظالم سے نافرمان رٹ جبریل اینہ سزہ گنی  
 کر یکہ فَاصْبِرْ اِنِّىْۤ اَعْمَلٌۭ بِمَا تَعْمَلُوْنَ پس پے تم پنے نین گرن اندر تھہ کن وستھہ توہ پتہ مود کا ن

فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جُثَمِينَ ﴿۹۳﴾ كَانَ لَمْ يَعْنُوا فِيهَا إِلَّا  
 بَعْدَ الْمَدِينِ كَمَا بَعَدَتْ نَهْرُودٌ ﴿۹۵﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ  
 بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿۹۶﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ  
 فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ ﴿۹۷﴾  
 يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ وَبِئْسَ الْوِرْدُ  
 الْمُرْوَدُ ﴿۹۸﴾ وَأَتَّبَعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ بِئْسَ  
 الرَّقْدُ الْمُرْفُودُ ﴿۹۹﴾ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرٰنِ نَقَّصْنَاهُ عَلَيْكَ مِنْهَا

گم یغناؤا فیہا زن نہ تم سمن جانن اندر بسانی زانہہ آس الّا بَعْدَ الْمَدِينِ کَمَا بَعَدَتْ نَهْرُودٌ وارہ  
 یوزوتہ عبرت رٹوشہر مدینک لوکھ تہ گئے خدایہ سزہ رحمتہ نشہ دور تھے پانچ پانچ پانچ قوم شوڈ گئے۔  
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ \* اِلٰی فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بیہ سوز اسہ پز پانچ  
 حضرت موسیٰ پن آیات تہ روشن دلیلہ ہتھ فرعونس تہ تہندہ قومہ کین زٹھین کن ٹس نہ مون فرعونس  
 تہ تسمندہ قومہ کیوز ٹھیو فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ ٹس پک تم تہ فرعونہ سزای رلیہ موجب موسیٰ علیہ  
 السلامہ سندہ حقہ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ حالانکہ آس نہ فرعونہ سزای صحیح کینہہ تہ يَقْدُمُ  
 قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ بروٹھ بروٹھ آسہ پکان فرعون پنہ ٹس قومس قیامتک دوہ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ٹس  
 والیکھ نار جہنمس اندر وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمُرْوَدُ سیٹھاہ بچھ وچ جایاہ بچھ نار جہنم۔ وَأَتَّبَعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً  
 وَيَوْمَ الْقِيٰمَةِ دُنِیٰس منز تہ روز تین لعنت پتہ بیہ روزیکھ پتہ قیامتک دوہ تہ۔ یہ سپد غرق آہس تہ  
 بین نار جہنمس اندر بِئْسَ الرَّقْدُ الْمُرْفُودُ بچھ انعاماہ جھو ٹس انعام تین آوونہ یعنی لعنت فی  
 الدارین ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرٰنِ نَقَّصْنَاهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَالِهِمْ وَحَصِيدٌ تمہہ بچھ بعضی خبرہ تباہ کیمتین شہرن  
 ہنزہ سہہ آس توہ ونان بچھ۔ تموشہر واندردہ بچھ کینہہ شہر ونہ تہ موجود۔ بعضی بچھ مولہ موجبہ ختم کیمت

قَائِمٌ وَحَصِيدٌ ۱۰۰ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَمَا  
 آخَذَتْ عَنْهُمْ إِلَهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ  
 شَيْءٍ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ۱۰۱ وَكَذَلِكَ  
 آخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنُ وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ  
 شَدِيدٌ ۱۰۲ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ط  
 ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ۱۰۳ وَمَا  
 نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ ۱۰۴ يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلُمُ نَفْسٌ إِلَّا

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ۱۰۰ امہ کور نہ تمین کا نہ ظلم بلکہ کور تمہو پان پانس ظلم سان نافرمانی  
 کرنے سیت فَمَا آخَذَتْ عَنْهُمْ إِلَهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۱۰۱ کس ہیوک نہ کا نہ  
 فائدہ و اتا تو تھ تمین تہند یو تمہو معبودو تمین تم پرستش کران آس معبود برحقس وراہ۔ لَمَّا جَاءَ أَمْرُ  
 رَبِّكَ يَلِيهِ چانس ہروردگارہ سُنْدُ کھم جاری سُنْد تہندہ عذابہ خیلرہ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ ۱۰۱ بیہ ہیوک نہ  
 تمہو تمین کینہہ تہ ہرہ او تھ تہ زیادہ کر تھ تاوانہ تہ نقصانہ وراہی وَكَذَلِكَ آخَذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرْآنُ  
 وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۱۰۲ بیچہ پاٹھ کیا چھو آسان چانس پروردگارہ سُنْد رٹن تہ گرفتار کرن۔ یلہ سُو مَنہ شہرہ کین  
 لوکن تہندہ ظلمہ تہ کفرہ سببہ رٹان چھو۔ إِنَّ أَخَذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ ۱۰۲ پزپاٹھ تہند رٹن چھو سیٹھاہ  
 کڈرتہ سخت آسان إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۱۰۲ پزپاٹھ تھ منز چھ عبرت تمین  
 لوکن ہندہ خیلرہ ہم کھو ژان چھہ آخرتہ کس عذابس ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ ۱۰۳ سُو آخر تک دوہ گو  
 سُو سُمہ دوہہ سو نبر نہ بین ساری لوکھ۔ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ ۱۰۳ سُو دوہ گو سُو سُمہ دوہہ ساری  
 مخلوقات سن حاضر کرنہ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَعْدُودٍ ۱۰۴ چھہ تھ منز تاخیر کران مگر اکہ گزرنہ  
 آمتہ مدتہ خیلرہ (یعنی تمہہ انگ چھو وقت مقرر کرنہ آمت سُو یوتان نہ وائہ تو تان قیامت ایہ نہ

يَاذِينَهُ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ﴿۱۵﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَمِنَ  
النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ﴿۱۶﴾ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ  
السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا  
يُرِيدُ ﴿۱۷﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَمِنَ الْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ  
السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوذٍ ﴿۱۸﴾  
فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا  
يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّا لَنَوْفُوهُمْ نُصَيْبُهُمْ مِنْ

يَوْمَيَاتٍ لِاتَّكَلُمُ نَفْسٌ إِلَّا بِآذَانِهِ سَمِعَ دُونَهُ سَوْ قِيَامَتِ لِيهِ تِيهِ هُوَ لَنَا كَ آسَهُ حَالَتِ كَمَ كَانَهُ  
اَكْهَاهُ بِيَكَمَ نَهَ كَمَهُ كَرْتَهُ خَلْدِيَهُ سَنَدَهُ كَمَ وَرَأَى فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ لَوْ كُنَ آسَنَ زَهَ قَتَمَ أَوْ آسَنَ اَهْلِ  
شَقَاوَتِ كَافِرَتَهُ نَافِرْمَانَ - أَوْ آسَنَ سَعَادَتِ مَنَدِ بَا اِيْمَانِ - فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَمِنَ النَّارِ لَيْسَ تَمَ  
لَوْ كَهَ شَقِيٌّ آسَنَ تَمَ وَأَنَّ نَارَ سَ اَنْدَرِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ تَمَ آسَنَ تَهَهُ جَهَنَّمِ سَ اَنْدَرِ كَرِيكِهِ دَوَانَ  
گُوذَهَ گُوذَهَ تَهَزَهَ كَرِيكِهِ - پَتَهَ يَلِيهِ تَهَكَانَ آسَنَ اَدَهَ آسَنَ دَوَانَ لَوْتَهَ لَوْتَهَ - خَلْدِيْنَ فِيهَا مَا دَامَتِ  
السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ هَمِيْشَهَ رُوْزَنَ تَهَهُ نَارِ جَهَنَّمِ سَ اَنْدَرِ لُوْ تَانِ آسَانَ تَهَ زَمِيْنَ قَاتَمَ جَهَهُ اِلَّا مَا شَاءَ  
رَبُّكَ مَگَرِيَهَ چُونِ پَرُوْرِدْ گَارِيْزَهَهُ اِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ بِيْزَا پَاتِ چُونِ پَرُوْدْ گَارِ هَجْهَوْتِيْ كَرَنِ يَه  
يَرْهَانَ هَجْهَوَ وَأَمَّا الَّذِينَ سَعِدُوا فَمِنَ الْجَنَّةِ خَلِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ بِيَهَ تَمَ سَعَادَتِ مَنَدِ  
لَوْ كَهَ آسَنَ تَمَ وَاتَنَ جَنَّتِسَ مَنَزَتَمَنِ تَمَتِ رُوْزَنَ هَجْهَوَ هَمِيْشَهَ - يُوْتَانِ آسَانَ تَهَ زَمِيْنَ قَائِمَ جَهَهُ اِلَّا مَا شَاءَ  
رَبُّكَ مَگَرِيَهَ چُونِ پَرُوْرِدْ گَارِيْزَهَهُ عَطَاءٌ غَيْرَ مَجْدُوذٍ بِيَهَ هَجْهَهُ شَخْشَاهَ تَهَ مَهْرَبَانِيَاهُ لُوْ سَهَ نَهَ زَهِيْنَهَ وَنَ تَهَ  
خَتَمَ گَرَهَ وَنَ آسَهَ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ لَيْسَ مَهَ آسَ زَهَ عَنَهَ قَسَمَهَ شَخْسَ اَنْدَرِ تَمَنِ بَاطِلِ  
مَعْبُوْدَانَ مَتَعَلَقِ يَمِيْنَ هَنْزَمِيْمَ مَگَرَاهُ لَوْ كَ پَرَسْتَشِ كَرَانَ جَهَهُ - مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ مِنْ



أُولِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿۱۱۳﴾ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُكُوعًا  
 مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرِي  
 لِلذَّكِرِينَ ﴿۱۱۴﴾ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۱۵﴾ فَلَوْلَا  
 كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ أُولُوا بَقِيَّةَ يَتَهُونَ عَنِ  
 الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْ أَجْبِنًا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ  
 الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَوْا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿۱۱۶﴾ وَمَا

رُحِمَ تَوْبَهُ نَارِ جَهَنَّمَ وَمَا لَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أُولِيَاءَ بِمِثْلِ آسِئَةٍ تَوْبَهُ خَدَائِعُ وَإِي كَاهِنَهُ رَفَاتُ  
 كَرِهَاتِهِ دَوَاتِهِ تَوْبَهُ تَوْبَةُ الْيَهُودِ تَوْبَهُ مَدْرَكُنَهُ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَرُكُوعًا مِّنَ  
 اللَّيْلِ بِمِثْلِ تَهَاوُورِ بِنَامَازِ تَهْمِ يَارَسُولِ اللَّهِ دَوْبَهُ كَيْنِ دُونَ طَرَفِي أَنْدَرِ - لَيْعِنِي صَبْحِ بِيَشِ تَدِ وَكِرِ - بِمِثْلِ رَاثِهِ هِنْدِسِ  
 اِكْسِ حِصْنِ أَنْدَرِ - سُوْغُوْشَامِ تَدِ حَقْنِ - سَمْعِ غِيْبِ پَانْزَهْ نَمَازَهْ پُورَهْ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَ السَّيِّئَاتِ بِمِثْلِ  
 نَيْكِ كَامِهْ بِهَجْهِ گَالَانِ بَدَمَانِ تَدِ بِهَجْهِ كَامِيْنِ ذَلِكَ ذِكْرِي لِلذَّكِرِيْنَ بِمِثْلِ تَهْمِ كَهْ نَيْكِيُوْسِيْتِ بِهَجْهِ تَنَاَهْ مَعَاْفِ  
 سِدَانِ بِهَجْهِ بَدِ نَيْحِيْتِ، نَيْحِيْتِ رُحِمِ وَنِيْنِ، مَانِهْ وَنِيْنِ هِنْدِهْ خِيْطَرَهْ وَأَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ  
 الْمُحْسِنِيْنَ مُكْرِنِ هِنْدِهْ طَرَفِ نَيْسِ مَعَاْمَلِهْ بِيَشِ يُوَانِ بِهَجْهِ تَهْمِ بِهَجْهِ كِرِ وَصَبِرِ - لُوْكَنِ هِنْدِسِ تَكْلِيْفِ بِهَجْهِ  
 يَانَمَازِهْ هِنْدِسِ قَاتَمِ تَهَاوُسِ بِهَجْهِ - نَيْسِ اللَّهِ تَعَالَى بِهَجْهِ تَهْمِ هِرْگَزْضَاغِ كِرَانِ نَيْكُوْكَارِزِ هِنْدِزْمُورِ فَلَوْلَا  
 كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِن قَبْلِكُمْ لَيْسَ كُونَهُ آسِ تَمَعَهُ لُوْكَوْأَنْدَرَهْ تَمِ تَوْبَهُ بَرُوْنَهْ آسِ أُولُوا بَقِيَّةَ سَابِ  
 شَعُوْرِ جَمَاعَتَهَا يَتَهُونَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ تَمِ مَعِ آسِ هِنِ كِرَانِ زَمِيْنِ مَنَزْشَرِكِ وَكُفْرِهِ سِيْتِ  
 فَسَادِ تَدِ تَبَايِ كَرْنِهْ نَشِيْهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْ أَجْبِنًا مِنْهُمْ مَكْرِ تَمِ كَيْنِهْ لُوْكَ آسِنِ تَمِ آسِهْ نَمُوْ عَذَابِ كَرْنِهْ  
 آيُوْ أَنْدَرَهْ بِجَاوَمِ آسِ - تَمُوْ تَهْمِ پَانْزَهْ پَانِهْ كَفْرِ وَبِرْ كَهْ نَشِيْهِ تَوْبَهُ كُورِ تَهْمِ پَانْزَهْ آسِ مِيْنِ تَدِ كَفْرِ وَبِرْ كَهْ نَشِيْهِ  
 مَعِ كِرَانِ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أَتَوْا فِيهِ ظَالِمِ تَدِ نَاْفِرْمَانِ لُوْكَ رُوْدِ عِيْشِ وَآرَامِ كَسِ حَالِسِ پَنِيْ -  
 وَكَانُوا مُجْرِمِينَ بِمِثْلِ آسِ تَمِ كَهْ گَارِ نَاْفِرْمَانِ جَرَايَمِ هِنْدِ خُوْگَرِ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ


كَانَ رَبُّكَ لِيُهِلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصِلِحُونَ ﴿۱۱۵﴾  
 وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ  
 مُخْتَلِفِينَ ﴿۱۱۶﴾ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ  
 رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۱۱۷﴾ وَكُلًّا  
 نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُنَبِّئُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ  
 فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۸﴾ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا

الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصِلِحُونَ یہ چھوٹے تہند پروردگار سو کیا گالہ عنہ شہرہ کین لو کن ظلم کرت یلہ تمہ شہرک لو کہ اسن اصلاح کرہون۔ بین لو کن تبلیغ دعوت دہون و لو شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً ہر گئے یرہہ ہاتھند پروردگار سو کرہ ہاضرور ساری لو کن گئی (جماعت بعض جتنن گن نظر کر تھ۔ بھہ نہ تم تہ بلکہ بناوین واریاہ جماڑ سمو اختلاف کور وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ یہ روزن تم ہمیشہ اختلاف کرہون إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ مگر کرن نہ اختلاف دین حقس اندر تم کن پیٹھ چھند پروردگار فضل تہ رحم کرہ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ امی خیطرہ چھن کرمت پیدہ۔ یعنی اختلاف کرن وال اختلاف خیطرہ۔ رحمتہ وال رحمتہ خیطرہ۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ یہ چھو پورس پدمت چانس پروردگارہ سندیہ لحم لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ کہ ضرور کرن بو پد نار جنم، جوعتہ انسانوسیت امہ و نہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ یہ چھہ اس تم ساری قصہ، حضرات انبیاءن ہند یو قصواندرہ توبہ بیان کران مَا نُنَبِّئُ بِهِ فُؤَادَكَ تمہ قصہ سموسیت اس چھند دل مضبوط کران چھہ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقِّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ یہ واژ توبہ نشہ اتھ منز پرتھہ۔ یہ چھواتھ منز بوڈو وعظ بد نصیحت تہ یاد دہانی با ایمان ہندہ خیطرہ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا نَعْلَمُونَ یہ و بو تم لو کن تم نہ باوجود قطعی دلیلہ تمن نشہ و اسنہ ایمان اتان چھہ۔ ای لو کو کران گو ہو تہہ کوم پندہ جایہ۔ اس تہ چھہ کوم کران پندہ جایہ وَأَنْتُمْظُرُوا إِنَّا مُنظِرُونَ یہ پیار و تہہ پندہ نین اعمالن ہندس



يَوْمِنُونَ اَعْمَلُوا عَلٰى مَكَانَتِكُمْ اِنَّا عَمِلُونَ ﴿۱۳۱﴾ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اِنَّا  
 مُنْتَظِرُونَ ﴿۱۳۲﴾ وَاللّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ  
 كُلُّهُ فَاَعْبُدُوْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۱۳۳﴾

تینجس اَس تہ چھہ پیران پنہ نین اعمالن ہندس تینجس عنقریب ننبہ پوز کیاہ چھو تہ اہز کیاہ چھو وَاللّٰهِ غَيْبُ  
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاِلَيْهِ يُرْجَعُ الْاَمْرُ كُلُّهُ فَاَعْبُدُوْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ بیہ چھو خدا یہ سی معلوم تہ سوروی یہ  
 آسمانن تہ زمین اندر پھوشیدہ چھو۔ تس گن ین و اتا ونہ ساری معاملات پس کرو تہنزی یا اثر عبادت تہ  
 بندگی۔ بیہ کرو تس پیٹھ توکل تہ اعتماد وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بیہ چھو نہ چون پروردگار بے خبر  
 تمہو کا میونشہ تہ ممہ تہہ کران چھوہ۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 الرَّحْمَتِ تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْبَيِّنِ ① إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا  
 لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ② نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا  
 أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ ③ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ  
 الْغَافِلِينَ ④ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ  
 عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ⑤  
 قَالَ يَبْنَىٰ لَكَ تَقْصُصُ رُءْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُوا لَكَ

الرّ اےک معنی چھو خدیہ سی معلوم تِلْكَ آيَةُ الْكِتَابِ الْبَيِّنِ بے چھہ تم آیات اسہ واضح تہ صاف کتابہ ہندہ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا پڑ پانھ اسہ کرنازل سو کتاب قرآن مجید عربی پانھ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ چھہ تہہ گوڈہ ای مکہ کیو لو کو فجرہ خرہ۔ تہہدہ واسطہ ترہ فجرہ بین لو کن تہ۔ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ اس گرو بیان توہہ یار رسول اللہ قصو اندرہ بہتر قصاہ۔ سمہ ذریعہ اسہ سو توہہ گن یہ قرآن مجید یعنی بذریعہ وحی وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ آسوہ تہہ سانہ بیان کرنہ برو تھ امہ نشہ بالکل بے خبر کیا زہ نہ او سوہ پور مت کی نہ او سوہ کانہ نشہ بو مت کی نہ۔ نہ اوس لو کن نشہ سمہ طریقہ صحتہ سان یہ قصہ مشہورہ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ سُو وقت چھو قابل ذکر یلہ حضرت یوسف بائس پنہ بس وون بابہ صیامہ حض وچھہ خواب إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ مہ حض وچھہ خوائس اندر کاہ تارک بے آفتاب تہ زون۔ تم ساری دتھم مہ سجدہ ووان قَالَ يَبْنَىٰ تمو فر مووس جواب ای

كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ وَكَذَلِكَ  
يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَيُمِثُّ نِعْمَتَهُ  
عَلَيْكَ وَعَلَى الْإِلِيعَقُوبَ كَمَا أَنْتَ عَلَىٰ آبَائِكَ مِنْ قَبْلُ  
إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ  
وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلْسَائِلِينَ ۝ إِذْ قَالَ الْيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ

میانه گو بره لَا تَقْصُصْ رُؤْيَاكَ عَلَىٰ إِخْوَتِكَ ۝ یہ خواب با وزنه با بن نشہ۔ تم آس کا (۱۱) بای حضرت  
یوسف و رای۔ (۱۰) واہ آس اکس ماجہ آتھ۔ زہ ۲ آس حضرت یوسف تہ بنیامین یس ماجہ آتھ  
فَیُکَلِّمُکَ وَالکَ کَیْدًا ۝ تمین پیہ نہ پیہ خوش کینہہ تہ۔ کس کرن تم چاہنہ تکلیف تہ اذواتاوندہ خیطرہ  
خاص تدبیر شیطانہ سندہ وسوسہ سیت۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ۝ ہنر پات شیطان چھو  
انسانہ سندن دُشمن ۝ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۝ یہ خواب تریہ  
و چھتھہ تہ ایہ نعل۔ پیہ کری تڑہ پن پروردگار منتخب ہو تہ خیطرہ ہرگزیدہ پنہ نیو مر بانو سیت۔ پیہ پنچھہ  
ناوی تڑہ خوانن ہندہ تعبیر ک علم ۝ وَيُمِثُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ الْإِلِيعَقُوبَ ۝ پیہ کرہ سو پورہ بن نعمت تریہ پیٹھ۔  
پیہ حضرت یعقوبہ سندس خاندانس پیٹھ۔ کَمَا أَنْتَ عَلَىٰ آبَائِكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ ۝ پیٹھ  
پاٹھ تم پورہ کر پن نعمت چانس بڈیس تہ بڈہ بڈیس پیٹھ۔ یعنی حضرت ابراہیمس تہ حضرت اسحاقس پیٹھ  
إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝ ہنر پاتھ چون پروردگار چھو سیٹھا علمہ وول تہ حمتہ وول۔ پریٹھ اکس چھو  
مناسب فیض عطا کران لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٍ لِّلْسَائِلِينَ ۝ تھین حضرت یوسف پیہ تھندین  
با بن ہندس قصس منز چھہ بڈہ نشانہ خدایہ سندہ قدر تک۔ پیہ تھندہ ہو تک۔ یارسول اللہ تمن لو کن  
ہندہ خیطرہ ہم توہہ ہمہ قصک پر تڑھان چھہ۔ کیا زہ حضرت یوسف آتھ ہیکسی اندر سلطنت تہ  
تھود مرتبہ عطا سدن چھہ خدایہ سنزی کوم۔ امہ سیت سپدہ مسلمان بڈ عبرت حاصل۔ پیہ قوت  
ایمان إِذْ قَالَ الْيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَىٰ آبَائِنَا مِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ ۝ یہ کتھہ چھہ قابل ذکر یلہ تمو

إِلَىٰ آيِنَامِنَّا وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ آبَانَ لَعَفِي ضَلِيلٍ مُّبِينٍ ۝۸  
 اِقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهَ أَبِيكُمْ وَ  
 تَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ ۝۹ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا  
 يُوسُفَ وَالْقُوَّةَ فِي غَيْبَتِ الْجَبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ  
 إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ۝۱۰ قَالُوا يَا آبَا نَا مَا لَكَ لآتَامِنَا عَلَىٰ يُوسُفَ  
 وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ ۝۱۱ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَع وَيَلْعَبُ وَإِنَّا

دوره با یواسمہ دوہمہ پانہ وان دُوب۔ ابلتہ یوسف تہ تہمد حقیقی بوی بنیامین چھو زیادہ ٹوٹھ سانس بابہ  
 صینس سانہ خونہ حالانکہ اس چھہ واریاہہ بائی۔ اکھ جماعت تم چھہ زہہ بائی۔ حالانکہ تم زہہ چھہ کم سن تہ  
 لوکت۔ کم سنی مؤکھ سن نہ تہمدہ آتھہ تمہہ کامہ سوخذ مت یوسہ سان کن ایہ۔ آس چھہ اکھ بدجماعت۔  
 سون گوڑھہ تم زیادہ محبت آسن اِن آبا نالعی ضلیل مبین بیشک سون بابہ صیب چھونہ غلطی  
 پیٹھ اِقْتُلُوا یوسف اَوْ اطْرَحُوہ اَرْضًا یَخْلُ لکم وَجْہَ اَبیکم صلاح چھو یوسف ماریون یا تراویون  
 دُور کُنہہ جایہ۔ ادہ روزہ بابہ صینس رخ توہی کن موکل۔ تہمد توجہ سپدہ پورتوہی کن وَتَکُونُوا مِن بَعْدِہ  
 قَوْمًا صَالِحِينَ تہی پتہ سپدہ تہمز کوم دُورست قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا یوسفَ تمونزہ دو تھہ اکھ  
 ونن وولاہ۔ تم دو چھہ یوسف مہ ماریون۔ قتل تہ مازن چھونہ مناسب۔ وَالْقُوَّةَ فِي غَيْبَتِ الْجَبِّ  
 یَلْتَقِطُہ بَعْضُ السَّيَّارَةِ اِن کُنْتُمْ فَعِلِينَ بلکہ تراویون سونہ کیرچہ پو شیدہ جایہ منز۔ یٹھ تمس  
 کانہہ قافلہ تمہہ منزہ کھارت پانس سیت بیہ کُنہہ شہرس منزواتاوہ۔ ہر گاہ توہمہ یہ کوم کرن چھوہ  
 میانہ مشورہ تلہ کتر ویتھہ پاٹھ۔ ساری سپد آتھہ کتھہ پیٹھ مُسْتَق۔ چنانچہ اکھ وُلہ گئے حضرت یعقوبس  
 نِشہ قَالُوا يَا آبا نَا مَا لَكَ لآتَامِنَا عَلَىٰ یوسفَ دہنہ لگ ای سانہ بابہ صیبہ آسہ پیٹھ کونہ ہز چھوہ تہہ  
 اعتبار کران حضرت یوسف سدس حقس منز۔ تم کونہ حض چھو کہ اسہ سیت پھیرنہ تہ سیر کرنہ  
 سوزان۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَصِحُونَ حالانکہ اس چھہ تمسد بد خیر خواہ أَرْسِلْہ مَعَنَا غَدًا یَرْتَعُ وَيَلْعَبُ

لَهُ لِحْفُظُونَ ﴿۱۲﴾ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ  
 أَنْ يَأْكُلَهُ الدِّيبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُونَ ﴿۱۳﴾ قَالُوا لَئِنْ  
 أَكَلَهُ الدِّيبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا إِذًا لَآخِسُونَ ﴿۱۴﴾  
 فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَاجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابِ الْجُبِّ  
 وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۵﴾  
 وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ ﴿۱۶﴾ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَمْ  
 نَكُنْ بِكَ بِرَبِّكَ نَذِيرًا مِمَّا تَفْعَلُ

سوسوزیون پگاہ آسہ سیت چنگل اندر کھیہ میوہ۔ بیہ پھیرہ تھوہرہ اورہ یور۔ ذرا کڈہہ واشاہ۔ تہہ مہ بڑ وکا نہہ  
 اندیشہ وَاَنَّا لَهُ لِحْفُظُونَ اس ساری چھہ تیس راچھہ تہ حفاظت کرہ ون قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ  
 تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَنْ يَأْكُلَهُ الدِّيبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُونَ حضرت یعقوبن دیکھ مہ چھو تہندیہ  
 پانس سیت نیون پریشان کران (کیا زہ آمسز دوری چھس نہ یوزرہ وان) بیہ چھوم خطرہ گرہہان اس  
 ماکیہ رامہ ہون (اتھ شہرس منز آس سیٹھاہ رامہ ہون) تہہ آسوپنہ کامہ سیت مشغول اسن روزہ  
 وہ نہ خیالی۔ افسندہ حالہ نغہ روزو بے خبر قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الدِّيبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّا  
 إِذًا لَآخِسُونَ تمو دوپ اس ایٹبڈ جماعت سیت آستھ ہر گاہ اس رامہ ہون کھیہ تلہ چھہ اس بڈہ تاوان  
 زد تلہ چھونہ آسہ اعتباراہ کینہہ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ تیس یلہ بیہ حضرت یوسف تموپانس سیت نیو  
 وَاجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابِ الْجُبِّ بیہ کور تموساروی اتفاق سابقہ فیصلہ موجب کہ بیہ تراویون  
 کیر چہ پوشیدہ جاہی منز (چنانچہ اکھ کیوراہ اوس آسہ طرفہ۔ تھہ منز تروکھ) وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ  
 بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اسہ سوزوجی حضرت یوسفن (غم مہ برکینہہ۔ اکھ وقتاہ واتہ) تہہ  
 پاوکھ تمکن بیہ سوزوی کر ثوت تیس تم آسنہ تہہ پرزہ ناوانی وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ توپتہ  
 آئی تم بابہ صیس پنہ نس رشہ کلچن ودان ودان قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَمْ نَكُنْ بِكَ بِرَبِّكَ نَذِيرًا مِمَّا تَفْعَلُ  
 مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الدِّيبُ دینہ لگ اے سانہ بابہ صیہ چھوہ نا یوزان اس لجیای پانہ وان دورہ اندرمان مان

نَسْتَيْقُ وَتَرَكْنَا يَوْسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَآكَلَهُ الذِّبُّ وَمَا  
 أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ<sup>۱۷</sup> وَجَاءَ وَعَلَى قَيْصِهِ  
 يَدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبِرْ  
 جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ<sup>۱۸</sup> وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ  
 فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ قَالَ يَبُشْرَى هَذَا غُلْمٌ  
 وَأَسْرُوهُ بِضَاعَتَهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ<sup>۱۹</sup> وَشَرَّوهُ

کرنہ یوسف تھا دیو اسہ سامانس رشہ راہجہ اتی آؤرامہ ہون تھی کھیو سو وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا  
 صَادِقِينَ مگر جہہ جتہ کمر و اسہ پڑھہ ہر گاہ اس پوزتہ ونان آسو وَجَاءَ وَعَلَى قَيْصِهِ يَدَمٍ كَذِبٍ بیہ  
 اچھہ تمن بروئٹھ کن تہنز کرتن اُپر تھہ متھتھہ قَالَ حضرت یعقوبن دو پکھہ بیہ تھہ چھنہ یوسہ جہہ ونان  
 چھوہ۔ ہر گاہ بیہ رامہ ہون سنز کوم آسہاتلہ آسہنی اتھہ کر تہنہ رامہ ہون سندین ژو پین ہند زخم۔  
 حقیقت بیہ چھنہ بیہ جہہ بیان کران چھوہ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا بلکہ چھوہ جہہ نفس پنہ نین  
 بیہ کوستان مشکل کوم کرنہ خیطرہ تنبلاومتِ فَصَبِرْ جَمِيلٌ وون چھو میانہ خیطرہ صبر کرنوی جان  
 وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ بیہ چھوس بو اللہ تعالیٰ سی یاری منگان تھہ دردناک واقفس پیٹھہ نیس  
 جہہ ونان چھوہ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ بیہار پیو و اتھہ اکھ قافلہ اکھ تھہ کیر س نکھ تل بیٹھہ منز حضرت یوسف  
 اوس فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَى دَلْوَهُ پس سوز تمو پین آب سازن وول تم تر و بچہ پین کیر س منز  
 تورہ کھوت بحس اندر نندہ ہون محبوباہ حضرت یوسف قَالَ يَبُشْرَى هَذَا غُلْمٌ تمس یان تس کن نظر  
 پیہ سولوگ کر یکھ تلکھ نہنہ ہالو کو خوشخبر بوزیتوہ۔ بیہ چھو اکھ خوبصورت فرزندہہ وَأَسْرُوهُ بِضَاعَتَهُ  
 تو پتہ ٹھو کھ کھنٹھ مال تجارت بناو تھہ۔ خیال کوڑ کھ کہہ بیہ ہیتھ گزہ ہو مبصر س منز کانہہ بڈس امیر س  
 کنون ہتہ۔ خوب نفع تہ فائدہ سپدہ حاصل وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ ای اوس تہ سوزوی پوز

بِشَمَنِ بَعْضٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ ﴿۲۰﴾  
 وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ  
 عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ  
 فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ

زاناں یہ تم کران آس۔ وورہ باہی آس گنہ گنہ وقتہ اتھہ گیرس کھتھل یوان کھین چین واتاوان تم آس نہ  
 یڑھان حضرت یوسف گڑھہ کیرس منز ہلاک سپڈن۔ بلکہ گڑھہ کانہہ شخصہ تمس کیرہ منزہ کڈتھہ بیہ گنہ  
 شہرس واتاوان۔ بیہ گڑھہ نہ گنہہ طریقہ حضرت یوسف اطلاق سپڈن۔ غرض تمہہ دوہہ تہ آئی تم کیرس  
 کھتھل۔ تہہ وجھہ نہ حضرت یوسف کینہہ تہ۔ توپتہ آئی تم اتھہ قافلہ شخصہ۔ تمن دوپچھہ بیہ چھوسون  
 ژولمت غلام اس چھن نہ یڑھان بیہ پانس نشہ رٹن **وَشَرَوْكَ بِشَمَنِ بَعْضٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ** توپتہ گن  
 تمو وورہ باہو حضرت یوسف کم مونس کیشرن درہمن لہہ قافلہ کین کیشرن شخص یا کن اہل قافلہ **وَكَانُوا فِيهِ مِنَ**  
**الزَّاهِدِينَ** تم ہینہ وال آس تہدس موی ہمیس اندر بے میل تہ بے رغبت لاگان (توپتہ نیو تمو بیہ  
 حضرت یوسف پانس سیت تہ واتو وکھ مصر۔ مصرس منز آو یکن نیلام کرنہ۔ آخری بول سپز عزیز  
 مصرس پیٹھ ختم۔ بالاخر ہیوت تمی حضرت یوسف مل **وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ**  
**أَكْرِمِي مَثْوَاهُ** توپتہ وون مصرک تم شخص یم حضرت یوسف چولا کہ ممول ہیوت (یعنی عزیز  
 مصرن) زانہ پنہ نیس زلیخانا و اوس سمس لوکت سز جای تھا و زہ سیٹھاہ ہلند یعنی اہس کر زہ سیٹھاہ قدرتہ  
 تعظیم **عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا** شاید یہ ماواتا وہ اسہ فایدہ۔ تھہ پاٹھ رو چھمت لوگٹ بکار یوان چھو  
**أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا** بلکہ رچھون اس بیہ گوبرہ گرنز (کیا زہ اسہ چھونہ پانس اولاد کینہہ) **وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا**  
**لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ** امی طریقہ ڈیت اسہ حضرت یوسف تھو و مقام مصرہ کس سرز مینس اندر۔ تھہ  
 سو مصرس اندر تھدس مقاس پیٹھ روز تھہ امور <sup>سلطنت</sup> مہارت حاصل ہیچہ کتر تھہ۔ **وَلِنُعَلِّمَهُ مِنْ**  
**تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ** بیہ تھہ اس سو پچھنا وون کھن ہند معنی تہ مطلب (تمی منزہ گو خواہن ہند تعبیر۔

عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۷۱﴾ وَلَمَّا بَلَغَ  
 أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۷۲﴾  
 وَرَأَوْدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ  
 وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ  
 إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۷۳﴾ وَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ  
 رَأَىٰ بَرَّهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ

غرض اوس تمن نجات دینہ آندرہ دولت ظاہری و باطنی سیت نوازش کرم و اللہ غلبے علی امرہ  
 وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ چھو غالب پنہ نس یشھتس امرس پیٹھ۔ یہ سو یشھان  
 چھوتی چھو بنان مگر واریاہ لوکھ چھنہ زمان و لَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ حُكْمًا وَعِلْمًا توپتہ یلہ حضرت  
 یوسف ووت تو بھس کما کس یعنی کامل جوانی عطا کورسہ تس گانہ جارتہ علم و کَذَٰلِكَ نَجْزِي  
 الْمُحْسِنِينَ نتھے پاٹھ چھہ اس رتھہ کامہ کرہ و نین رت جزا و دان و رَأَوْدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ  
 نَفْسِهِ بیہ ج پتہ حضرت یوسف سو زمانہ سمسیدس گرس منز سو اوس ٹھنہ حسن و جمال و بھت  
 چھہ کامہ خیطرہ۔ اکہ دوہہ لوئین موقعہ رٹن تم خلوت و غَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ ٹھن ہند دروازہ کمرن بند  
 وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ توپتہ ج پتہ جلد بہن ولہ۔ میون تمنا کر پورہ تمود و ٹھن بیہ کس چھکھ و نان۔ دوہن  
 رتھہ چھسی و نان بو کمر تھس تارہ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ حضرت یوسف دو ٹھن پناہ بخدا یشھہ تھسی مہ کمر ائتہ  
 رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ پنز پاٹھ ام چان خاندازن عزیز مصرن رو چھس بو، پولس یور رتھہ جلیہ تھو و نس  
 بو کیاہ بو کرا تھہ احسانس بدل تمسند عزت و انعداریہ گو سراسر ظلم إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ پنز پاٹھ  
 ٹھن ظالمین تہ حق فراموش ہندہ خیطرہ چھنہ کانہہ کامیابی۔ اکثر چھہ امہ قسک لوکھ زیادہ دنیا سی منز  
 ذلیل تہ رسواسپدان آخر تک و بال گو آتھی و لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنَّ رَأَىٰ بَرَّهَانَ رَبِّهِ  
 پنز پاٹھ زلیخایہ کر یو قصد تمن لٹھہ پیچھ کامہ ہند۔ تموتہ ہر گاہ نے تم و چھہ بن پنہ نس ہرود گارہ سزمن



إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿۲۳﴾ وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۲۴﴾ قَالَ هِيَ رَأودَتْنِي عَنْ نَفْسِي وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿۲۵﴾

دلیل مگر تمہند ارادہ غز۔ محس در جس ووت نہ۔ بلکہ تمہند ارادہ اوس روزہ دارہ سند آب سرد و پھت آہس  
 کن رغبت سپدن ہیو۔ تمہ رغبتہ سیت ہنہ روزہ پھٹان۔ بلکہ چھور رغبت سپد تھ پئن پان پتھ رُن تہ صبر  
 کران باعش اجرو ثواب بنان کذلک لِنَصْرَفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ تھ پانہ ڈیت اسہ تمن توفیق  
 عصمتک تھ دور کرو اس تمن نشہ بدی تہ پیچھ کوم اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ بے شک سو حضرت  
 یوسف چھو سانو بر گزیدہ بندواندرہ، پیغمبر واندرہ تمن عصمت و پاکي لازم چھہ۔ امہ زلیخا یہ کوریہ پئن  
 خیال پیش۔ حضرت یوسف تُل پئن پان بچاونہ خیطرہ سو دور پیچھ پتہ وَأَسْتَبَقَا الْبَابَ وَقَدَّتْ  
 قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ دو شوے دورے یہ دروازس کن حضرت یوسف تُلنہ خیطرہ، زلیخا تمن رہنہ  
 خیطرہ۔ تمہ لای تمن تھپ سو آہ ہنزہہ کرہینہ تھز کن کرتن آہہ تھیتھ تَوَالْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَا الْبَابِ  
 دو شون سمکھ خاوند زلیخا یہ ہند دروازس تل زلیخا ویر یہ قَالَتْ مَا جَزَاءُ مَنْ أَرَادَ بِأَهْلِكَ سُوءًا إِلَّا أَنْ  
 يُسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَلِيمٌ زلیخا یہ ڈوپ کاہنہ سزا چھونہ تس شخصس چانین باذن سیت تھہ کامہ  
 ہند ارادہ گرہ مگر ای زہ سو یہ جیلخانس منز بند کرنہ یا ایس سخت دردناک عذاب کرنہ قَالَ هِيَ  
 رَأودَتْنِي عَنْ نَفْسِي حضرت یوسفن ڈوپ یہ چھہ مہ کن اشارہ کران حالانچہ یہ چھہ پتہ لجرہ مہ۔  
 مہ نشہ پئن مطلب کڈنہ خیطرہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ أَهْلِهَا اتھ موقعس پیچھ دژ گواہی تمسندوی رشتہ  
 دار و منزہ اک شیر خوار بچن حضرت یوسف سندس بری تہ پاک آس پیچھ إِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ  
 قَبْلِ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ تمو دوپ ہر گاہ حضرت یوسف سز کرتن برو تھمہ طرفہ تھینو

وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ  
 الصّٰدِقِيْنَ ﴿۷۸﴾ فَلَمَّا رَأٰ قَمِيصَهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ  
 كِبِدِكُنْ إِنَّ كِبِدَكُنْ عَظِيمٌ ﴿۷۹﴾ يُوْسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هٰذَا  
 وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكُ ۖ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ ﴿۸۰﴾ وَقَالَ  
 نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتْحَهَا عَنْ  
 نَفْسِهَا قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا ۗ إِنَّا لَنَرٰهَا فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۸۱﴾  
 فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا

آسہ، تلبہ، چھہ زینجا پوزوان۔ حضرت یوسف چھو تھہ بدل وانان وَاِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ  
 فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ہر گاہ تہنہ کرتن تہنہ کنن ژ ھیمہ آسہ تلبہ چھہ زینجا پوزوان حضرت  
 یوسف چھو پوز زبور فَلَمَّا رَأٰ قَمِيصَهُ قُدًّا مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كِبِدِكُنْ عَظِيمٌ ۖ  
 تہنہ خاوندن وچھہ تہنہ کرتن تہنہ کنن ژ ھیمہ وین زینجا یہ کن یہ چھہ تہنہ شیطنت تہ چالاکی۔ پوز پاٹھ  
 تہنہ مکرو فریب تہ شیطنت چھہ سیمہا ہنڈ یُوْسُفُ أَعْرَضَ عَنْ هٰذَا اے یوسف امہ نشہ پھیرو، یہ  
 تھہ ژٹو ۖ وَاسْتَغْفِرُ لِذَنْبِكُ ۖ إِنَّكَ كُنْتَ مِنَ الْخٰطِئِيْنَ ای زینجا ژہ منگ معافی پنہ نہ  
 قصورہ خیطرہ۔ بیشک ژی وچھہ خطاکار تہ مجرم۔ تو پتہ سپدیہ معاملہ مشہور شہرس اندر چنانچہ وَقَالَ  
 نِسْوَةٌ فِي الْمَدِيْنَةِ امْرَأَتُ الْعَزِيْزِ تُرَاوِدُ فَتْحَهَا عَنْ نَفْسِهَا مصرس اندر لجرہ واریاہ زانہ وینہ عزیز  
 مصرہ سزہہ آسہ چھو دل لوگت پنہ نس غلامس پتھہ۔ سنو چھہ لجرہ پتہ تس غلامس پنن ناجاز مطلب کڈنہ  
 خیطرہ قَدْ شَغَفَهَا حُبًّا تہنہ دل چھو پھمت تہنہہ محبتہ سیت ۗ إِنَّا لَنَرٰهَا فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ اس  
 چھن سوزانان ڈھمہ۔ کیاہ گوس وارہ کارہ رُون آتھہ نو کرس پتھہ پھس۔ یہ کاژارہ سوائی تہ نجالت چھہ۔  
 فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ ہس یلہ زینجا یہ بو زانن ہنہ یہ بدگوئی تہ ملامت کرن۔ تہہ

وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ فَلَمَّا  
رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا  
إِن هَذَا إِلَّا الْمَلِكُ كَرِيمٌ ﴿۳۱﴾ قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ وَ  
لَقَدْ رَأَوْدَتْهُ عَنِ نَفْسِهِ فَأَسْتَعْصِمَ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرُ  
لَيَسْجَنَنَّ وَلَيَكُونًا مِّنَ الصَّغِيرِينَ ﴿۳۲﴾ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ

سوزن نادر دوتیکہ ای زمانو توہمہ ہتھ میانہ گرہ دعوت وَاَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُنْكَأً سجاوتھ تھادون تہندہ  
خیطرہ مندہ، تکیہ وار توپتہ یلہ تمہ زنانہ آہہ تمہن برونٹھ گنہہ آہی تھاونہ کھینہ چینک چیز بیہ واریاہ میوہ تمہ  
منزہ واریاہ میوہ شرکہ پھوسیت ژٹنس قابل آس۔ وَأَتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّينًا لہذاؤن پریتھ  
اکس تموزانو اندرہ اکھ اکھ شرکہ ہچاہ میوہ ژٹنہ خیطرہ (یلہ تمہ زنانہ مشغول سپرہ میوہ کھینس سیت  
وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ زلیخایہ ڈوپ حضرت یوسف ہم بیہ گنہہ محبت منز آسہن تہہ نیر وناپیر تمہن  
زنانن برونٹھ گن۔ چنانچہ درای تمہ قَلَمًا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ لہس یلہ تموزانو حضرت یوسف وچھہ سینٹھاہ  
بوڈگنز روڈکھ حُسن وجمال اندر۔ سوو وچھتھہ ویر بیہ ہوش روڈکھ نہ کینہہ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ توپتہ  
سپرہ بے اختیار میوہ بدل ژٹکھ آتھ پن وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ بیہ دوچھہ منزہ تہ پاک چھو اللہ تعالیٰ ماہنکا  
بَشَرًا بیہ حضرت یوسف چھونہ بشر (بشرن اندر چھونہ تھہ حُسن وجمال آسہ وچھموی) إِن هَذَا  
الْمَلِكُ كَرِيمٌ بیہ چھونہ مگر عزتہ وول ملاکہ۔ انسان اندر کتہہ چھو تھہ حُسن وجمال آسان البتہ ملکہی چھہ  
آسان تھہ نندہ بان قَالَتْ فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ زلیخایہ دوچھہ یوہے کیا گو سو صاحب سمندہ محبتہ  
چہ پامہ وژدہ توہمہ مہ کہہ زلیخایہ چھو غلامس پتھہ دل لوگت۔ آوہ وون بوزنہ بوما تھس بل متیمو۔ خیر لہس  
بیہ ونہ تہ تہ مہ چھونہ کانہہ ہزن پامن ہندہ ووا۔ بو تھس نن پاتھ ووان و لَقَدْ رَأَوْدَتْهُ عَنِ نَفْسِهِ پز  
پاتھ مہ کمر لہس آتہ گتھہ۔ تہندہ دل پائس گن پھر نہ خیطرہ کہہ سوکرہ نامیان خواہش پورہ فَأَسْتَعْصِمَ مگر تمہ  
کمر کوشش معصوم تہ پاک روزگ۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمَرُ ونہ تہ تھس بووان لہس ہر گاہ نہ سو میان

إِلَى مَّآيِدٍ عُونِي إِلَىٰ إِلِيهِ وَإِلَّا تَصْرِفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ  
 إِلَيْهِنَّ وَآكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ﴿۳۳﴾ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ  
 كَيْدَهُنَّ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۳۴﴾ ثُمَّ بَدَأَ الصُّورَ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا  
 الْآيَاتِ لَيْسَجُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۳۵﴾ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنٌ قَالَ

خواہش پورہ کرہ لَيْسَجُنَّ وَلِيَكُونَا مِنَ الصَّغِيرِينَ تلو لہ سو ضرور قید تھاوند۔ بیہ سپدہ سو بے قدر تہ  
 بے اعتبار۔ یمہ زنانہ اتھ جلسہ منز آسہ تمو دوپ زلیخا یہ کہ اس مانراون یہ۔ آسہ دکھنا اس سیت تھ  
 بات کرنک اجازت۔ تمہ دو پکھ ادہ کیا۔ کنیزہ ہا ہے کمرہ ہو۔ چنانچہ تمہ در لہ لہ اس سیت اس بت  
 فریفتہ سہزموہ قَالَ رَبِّ السِّجْنِ أَحَبُّ إِلَيَّ وَمَا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ حضرت یوسفن یلہ وچھہ زنانن ہند یہ  
 حال کہ کو پاٹھ کنیزہ سہہ اگادہ سمن کیاہ بنہ۔ چنانچہ تمو کو روعا۔ مویکھہ خدا بس ای میانہ پروردگارہ قید  
 خانے چھومہ زیادہ ہند تمہ پکھ کامہ خوتہ تھہ گن مہ سہہ زنانہ نادووان چھہ وَإِلَّا تَصْرِفُ عَنِّي كَيْدَهُنَّ  
 أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَآكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ ای میانہ خدا یہ ژہ تے دور کرکھ تہ پھیر کہ مہ نشہ تھند مکرو فریب  
 خبر چھا بوماسپدہ ماہل سمن زنانن گن۔ بیہ بند بوناد انواندرہ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ  
 پس کور اللہ تعالیٰ ان اجابت تھندس مگننس سمن زنانن ہند مکرو فریب پھرن سمن نشہ  
 إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ پڑپاٹ سو چھو دعا بوزہ ون سیٹھاہ زانن وول۔ ثُمَّ بَدَأَ الصُّورَ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوْا  
 الْآيَاتِ لَيْسَجُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ تمہ پتہ آو بوزنہ سمن قرین مصلحت کینہہ کالاہ حضرت یوسف  
 قید تھاون۔ باوجود اینکہ تمو آس واریاہ نشانہ تہ علامات تھندہ براء تک تہ پاکی ہند وچھمت۔ مگر عوامن  
 اندر تمیک چرچہ منقطع کرنہ خطیرہ ہیہ ووپر شہرک اکھ بے کس انسان غلامی ہندس حالس اندر سمن ٹہہ  
 کرہ ہاسمایت چنانچہ تھاوک تم بے جرم کینہہ کالاہ جیل خانس اندر وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيْنٌ بیہ وات  
 سمن نشہ قید خانس منز نوجوان جورا پادشاہ سند یو خد متگا رواندرہ۔ اکھ اوس ساتی۔ بیاکھ اوس ژوچہ  
 ٹھران۔ سمن دون متعلق اوس یہ جرم سمن پیٹھ اوس شبہ کہ سمن آس پاد شہس زہر د تھ مارن یشھان

أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرِنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نُرِيدُكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۱﴾ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقُنِيهِ إِلَّا نَبَأَ تَكْمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمَا مَعَ لَمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ﴿۳۲﴾ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ

تموی دو یوزو و دوون پن خواب حضرت یوسف قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرِنِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبِئْنَا بِتَأْوِيلِهِ إِنَّا نُرِيدُكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ وَ قَالَ الْأُخْرَى إِنِّي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْرًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ بے زن دوپ مہ حض وچھ زن بولکس پیٹھ ژوچہ تلمان تموی ژوچو منزہ جانوار کھیوان نیکو کارواندرہ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقُنِيهِ إِلَّا نَبَأَ تَكْمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا حضرت یوسف دوچھ توہمہ نشہ کھن واتنہ بروٹھ کرہ بو بیان توہمہ تمہ خوانج تعبیر ذَلِكُمَا مَعَ لَمَنِي رَبِّي خواہگ تعبیر بیان کرن چھو تموی علو اندرہ سم علوم بوہن پروردگار زن چھہ ناس (گوڈہ بوزومیون عقیدہ کیاہ چھو) إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ پز پٹھ مہ چھو تروومت تمن لوکن ہند دین تہ مذہب سم نہ پڑھ کران چھہ معبود برحقس۔ بیہ چھہ تم آخرتس تہ انکار کران وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ بوچھس پتہ پتہ پکان متابعت تہ پیروی کران پنہ نین مالین بڈ بن ہندس دینس۔ تم گے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ جد بزرگوار میون۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بڈ بابہ صیب میون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بابہ صیب میون۔ سمہ مذہبگ رکن اعظم چھو مَا كَانَ لَنَا أَنْ نُنْشِرَكَ بِاللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ہرگز پڑہ نہ آسہ اس کیا بناون خدایہ سند شریک کاہنہ

لَنَأَنَّ شُرَكَاءَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ذَلِكَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا  
وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۳۸﴾ يُصَاحِبِي  
السَّجْنِ ءَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۳۹﴾  
مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَ  
أَبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنْ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ  
أَمْرًا أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ  
النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۴۰﴾ يُصَاحِبِي السَّجْنِ أَمَّا أَحَدُكُمْ

چیز اه چہ چیز اندر ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون سہ  
قسمک صحیح اعتقاد اسن چھو خدیہ سزبڈ مہربانی تہ بوڈ فضل اسمہ پیٹھ تہ بیہ سارنی لوکن پیٹھ۔ لیکن واریاہ  
لوکھ چھہ اتھ نفس قدر کران۔ اسمہ حاصل کرچ کوشش کران یصاحبی السجنی ءارباب  
متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار ای میانو قید خانہ کیو دو یور فیکو تھی ونو کیاہ واریاہ معبود اسن  
الک الگ چھارت بکنہ کنوی معبود اسن۔ نس قوتہ ول چھو۔ امیک جواب چھو ظاہر کہ کنوی معبود  
چھورت ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم و اباؤکم تہ چھو نہ عبادت کران  
خدائس ورای مگر کنہون ناون ہنزم توبہ بیہ تہند یو مال یو بڈ بٹو تھومت چھہ کنہون پو تیلن مقرر کمر تھ  
ما انزل اللہ بہا من سلطان اللہ تعالیٰ ان چھہ سوز مژ تہندہ معبود اسنہ خیطرہ کانہہ دلایاہ۔ نہ عقلی  
نہ نقلی۔ ان الحکمہ الا للہ سہ کلمہ ہندہ حکم دنگ اختیار چھونہ کانہہ خدائس ورای امر الا تعبدوا  
الا آیاہ تم چھو حکم کورمت ای زہ کانہہ ہنزم عبادت مہ کمر و مگر تہزی یاژ۔ اتھ حکم پیٹھ گڑھہ عمل  
کران ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون یو ہے چھو یعنی اللہ تعالیٰ ای مخصوص  
کوژن توحید و عبادتہ سیت راہ راست تہ سیز و تھ۔ مگر واریاہ لوکھ چھہ زنانہ۔ یہ کتھ چھہ اختیار

فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا وَأَمَّا الْآخَرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ  
 مِنْ رَأْسِهِ ط فَضَى الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ ۝۳۱ وَقَالَ  
 لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا اذْكُرْنِي عِنْدَ رَبِّكَ فَأَنَسَهُ  
 الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ ۝۳۲  
 وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ  
 سَبْعٌ عِجَافٌ ۖ وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخْرَىٰ يُسَبِّتُ بِآيَاتِهَا

کران یصاحبی السجین اما احدکما فیسقی ربہ خمرًا ای میانو قید خانہ کیور نیتو توہمہ اندرہ  
 ئیس اکھ شخص پادشہس شراب اوس چاوان۔ سو سپدہ جزومہ نشہ بری۔ تو پتہ سپدہ پنہ کامہ پیٹھہ بیہ  
 بحال۔ تو پتہ ہیہ سو بیہ پنہ ئیس مالکس شراب چاون کام کرن و اما الآخر فیصلب فتاکل الطیر من  
 رأسہ وون ئیس بیاکھ زون چھو ئیس پادشہہ سُد باورچی تہ ژوچہ ٹھرہ وون اوس تمس پیٹھہ سپدہ جزم  
 ثابت۔ تو پتہ ہیہ سو پھہہہ ونہ۔ تو پتہ کھن جانور تمسدہ کلک کوڈ فُضَى الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِينَ  
 یہ فیصلہ چھو آنت کرنہ خدلیہ سدہ طرفہ۔ سمیک تہہ پر ژھان چھوہ۔ اتھ سپدہ نہ ادلہ بدل وَقَالَ  
 لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا تو پتہ وون حضرت یوسفن سمو دو یو اندرہ تس شخص ئیس نجات لہن  
 اوس تہدہ گمانہ اذکرنی عند ربک میون تذکرہ کور تھ ژہ پنہ ئیس آغس تہ مالکس نشہ یلہ ژہ تس  
 نشہ واتک کہ قید خانس منز چھو اکھ شخصاہ بے قصور فَأَنَسَهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ ۝۳۱ ئیس مشروو تس  
 شیطان آغس نشہ حضرت یوسفن حال بیان کرن فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ تمہ موکھ رود  
 حضرت یوسف قید خانسی اندر کیمنون ورنن وَقَالَ الْمَلِكُ مصرک پادشہن دوپ مہ وچھہ خواب۔  
 ساری ارکین سلطنت کرن جمع إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ مہ وچھہ  
 خوابس اندرست (ک) گاوہ وچھہ وچھہ۔ تمنی کھیوان ست (ک) گاوہ ہو چھمڑہ تہ لاغر وَسَبْعَ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ  
 وَأُخْرَىٰ يُسَبِّتُ بِآيَاتِهَا (ک) ہیل غلک سبز تازہ ہیہ (ک) ہیل ہو کھمت۔ تے وولنہ یوان سر سبز ستن

الْمَلَا أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ﴿۳۳﴾  
 قَالُوا أَضْغَاتُ أَحْلَامٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ ﴿۳۴﴾  
 وَقَالَ الَّذِي نَجَّاهُمَا وَادَّكَّرَ بَعْدَ آيَاتِهِ إِنَّا أَنبَيْتُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ  
 فَأَرْسَلُونِ ﴿۳۵﴾ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ  
 سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ  
 يَبْرِسٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۳۶﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ

ہمیں تو پتہ تم سے ہو کت گڑھان یَا أَيُّهَا الْمَلَا أَفْتُونِي فِي رُؤْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّؤْيَا تَعْبُرُونَ ای  
 درباریو بیان کمر و تعبیر میانہ خواہگ چھوے نہہ خوانن ہند تعبیر زانان قَالُوا أَضْغَاتُ أَحْلَامٍ  
 وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالِمِينَ تمودوئس تم چھہ پریشان خیالات۔ اس چھنہ امہ قسمہ کین خوانن  
 ہند تعبیر کینہہ زانان۔ کیا زہ اسہ چھہ ملکی انتظام کرنج مہارت۔ تعبیر خواب بیان کرنج مہارت چھنہ  
 اسہ وَقَالَ الَّذِي نَجَّاهُمَا تُوپتہ دوپ تم شخص نس قید خانہ منزہ موکلیومت اوس، مقدس منزبری  
 سپد مت اوس پادشہس نشہ بیہ وومت اوس تمودویدو زینو اندرہ یم قید خانس اندر حضرت یوسف سیت  
 آس وَاذْكَرْ بَعْدَ آيَاتِهِ تَس بپہ زیتس واریاہہ کال حضرت یوسف سنزوصیت یوسہ تموقید خانہ منزہ  
 نیریحہ وقتہ کر مرآ اسہ۔ تم دوپ إِنَّا أَنبَيْتُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسَلُونِ بودونہ توہہ تعبیر مہ دیو نہہ  
 اجازت قید خانس تان گڑھنگ۔ تمودیت ہس اجازت تہ سُو آو حضرت یوسف نشہ۔ عرض کوزن  
 يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ ای حضرت یوسف نہہ ہز چھوہ سیضہہ پوزتہ صحیح تعبیر کردون أَفْتِنَا فِي سَبْعِ  
 بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْرِسٍ اسہ کمر تو بیان سمہ خواہگ  
 تعبیر کہ ستن و پھن گاوان چھہ (سب) ہو چھوہہ گاوہ کھیوان۔ بیہ چھہ ست ہیل سبز تہ ست ہیل  
 ہو کھمت۔ تم ست ہیل تہ چھہ ستن ستن ہیلن و لہہ سیت ہو کھر اووان۔ ای چھو اکھ شخصہہ خواہس  
 منزو چھان۔ نہہ فرماو یو امیک تعبیر لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ پتہ بو واپس گڑھہ ہاتن



سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا  
 مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿۳۷﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا  
 قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿۳۸﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ  
 عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ ﴿۳۹﴾ وَقَالَ الْمَلِكُ انْتَوَيْتُمْ  
 إِلَيَّ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَسْأَلْهُ مَا بَالُ  
 النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ ﴿۴۰﴾

لوکن کن سمو بوسومت چھوس۔ سخن بو تھیجھ آمت چھوس یجھ تمن امیک تعبیر معلوم سپدہ۔ تمی  
 ذریعہ سپدہ تمن تہمز حقیقت کمال معلوم قَالَ تَرْزُقُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَابًّا حضرت یوسف دوپس تہہ  
 وودوارہ پاچھ غلہ سخن ورہن پونس پتھ فَمَا حَصَدْتُمْ فَذَرُوهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ پس  
 یہ کنزہ ہائہہ لونوتہ سوزوی تھاووتہہ ہلینی منز جمع کمر تھ۔ مگر نہ کم کنزہ ہاہ پس توہہ کھیس پوشہ تھ یاتی  
 مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ تو پتہ سن یہ (ک) وری سیٹھاہ سختی ہندتہ قحطک يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ  
 إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ تم (ک) وری کھن تھ غلہ پس توہہ جمع کمر تھ تھوومت آسودہ ذخیرہ کر تھ یمن  
 سختی ہندین ستن ورہن ہندہ خیطرہ مگر نہ سوجھہ پس تہہ مخصوص تھاووبیالہ خیطرہ۔ ستوگاوتہ ستوہیلو  
 اندرہ چھو اشارہ یعنی سخن ورہن کن۔ تھ یاتی مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ

تمہ پتہ پیہ آکھ وریاہ۔ تھ منزایہ لوکن پیٹھ رود تراونہ کافی۔ تھ ورہس منز چیرن لوکھ میون ہند رس  
 یجھ شراب تیار کرن۔ یہ تعبیر بلہ بوزاد شہن سُوگو خوش چنانچہ وَقَالَ الْمَلِكُ انْتَوَيْتُمْ إِلَيَّ پادشہن کور حکم  
 یہ تعبیر بیان کرہون شخص دیون مہ انتھ۔ بو چھن یہ کہہ صاحب چھو فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ  
 إِلَى رَبِّكَ پس بلہ تمن نشہ پادشہہ سُنَد قاصد آو پیغام یجھ تھوودو پس تھہ گڑھہ واپس پتہ نس مالگس نش۔  
 فَسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ الَّتِي قَطَعْنَ أَيْدِيَهُنَّ نس پر تھہ گوڈہ کیاہ تس چھا معلوم تمن زمانن ہند حال  
 سمو بوو چھت پن آتھ تچای۔ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ پز پاچھ میانس خدایس چھو تہند مکر تہ

قَالَ مَا خَطْبُكَ إِذْ رَأَوْتَنِي يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ  
 لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ لَنْ حَصْحَصَ  
 الْحَقُّ أَنَا رَأَوْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۵۱﴾ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ  
 أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ ﴿۵۲﴾  
 وَمَا أَبْرَأِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا

فریب پورہ معلوم۔ تمہن زنانن ان نادوتھ تمہن پر ژھن میون حال۔ بو چھوسہ بے قصور کنہ مہ چھو  
 کانہ قصورہ چنانچہ قَالَ مَا خَطْبُكَ إِذْ رَأَوْتَنِي يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ پادشہن اُنہ ناوہ تمہ سارے زنانہ  
 نادوتھ۔ توپتہ پُر ژھکھ کیاہ کیفیت چھہ تمہنیلہ تمہ تہلاوان آسوں حضرت یوسف پتہ پانہ خیطرہ کیاہ  
 توہرہ وچھوہ تمہہ ساتہ حضرت یوسف توہرہ گُن مایل سپان قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ ساروی  
 زنانو ڈوپ خدا چھو مٹزہ تہ پاک۔ اسہ وچھہ نہ حضرت یوسف منز کانہ خرابیاہ کانہ عیباہ۔ سو چھو  
 بالکل پاک قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ لَنْ حَصْحَصَ الْحَقُّ عزیز مصرہ سزہ زنانہ (زیلیخا) یوسہ تمہہ ساتہ  
 حاضر آس تہ وون۔ پتہ تھہ سز وون سارنی پیٹھ روشن اَنَّا رَأَوْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ واقعی بوی آس تمہن  
 اُنہ گتھ کران ہن خواہش تہ مطلب تمہن نیشہ پورہ کرنہ خیطرہ ہبہ تہند دل پانس گُن پھر نہ خیطرہ کوشش  
 کران وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ تمہ چھہ بے شک پوزونہ دینواندرہ۔ تمہو فر موگوونی ہی راودتنی عن  
 نفسی تی چھو پوز۔ بوی آس کوشش کران تم پانس گُن مایل کر گ۔ مگر بوسپس تھہ منز ناکام۔ یہ  
 ساری کاروائی تھہ یلہ قاصدن حضرت یوسف نیشہ بیان کمر تمو ڈوپ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ  
 بِالْغَيْبِ تفتیش کر نوومہ امی موکھ تھہ عزیز مصرس وارہ معلوم سپد کہہ مہ آسہ ہر گز تہ خیانت کر مٹ  
 تسزہ عدم موجودگی منز تسدس عزتس و آبرواس پیٹھ دست درازی کمر مٹ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ  
 الْخَائِنِينَ یہ تھہ ساری زانن کہ اللہ تعالیٰ چھونہ سیزر کران خیانت کرہ و نین ہندس گنہ تدیرس۔  
 وَمَا أَبْرَأِي نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ بو چھوسن نہ پُن پان بری زنانن کیا زہ پرتھہ اکس

مَا رَجَعَرَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ<sup>۵۳</sup> وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي  
 بِهِ أَسْتَخْلِصَهُ لِنَفْسِي فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا  
 مَكِينٌ أَمِينٌ<sup>۵۴</sup> قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ  
 عَلِيمٌ<sup>۵۵</sup> وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوهُ مِنْهَا حَيْثُ  
 يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ<sup>۵۶</sup>  
 وَلَا جُرْ الْأُخْرَةَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ<sup>۵۷</sup> وَجَاءَ

چھو نفس پیچھ کا میں ہند امر کران الا ما رجع ربی مگر نہیں میوں پروردگار رحم کرہ ان ربی غفور  
 رحیم پڑ پانچھ میوں پروردگار چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ ون، سیٹھاہ رحم کرہ ون وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي  
 بِهِ أَسْتَخْلِصَهُ لِنَفْسِي بیہ کور حکم پادشہن ایون جلد حضرت یوسف مہ نش۔ یوناون سو پین مشیر  
 خاص فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ اودہ یلہ حضرت یوسف آو پاد شہس سیت  
 کر کیہ واریاہ کتھہ۔ کتھواند رے سپڑس معلوم تھند فضل و کمال۔ دمن تمن بیشک تہہ چھوہ از اسہ نشہ  
 سیٹھاہ تھزہ جایہ۔ معزز، معتبر تہ امانت دار خولہ کہ تعبیر ک آؤ تھن اندر ذکر۔ پادشہن دو پکھ۔ ایہ بڈہ  
 قحطک انتظام کرن چھہ بڈ کوم بیہ کس گزوسپرد قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ حضرت یوسفن  
 فر موس مہ بناوڑہ حاکم سہہ ملکہ کین خزائن ہند (یعنی مشیر مال، وزیر خزانہ) اِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ پتر  
 پاٹھ بو چھوس ماس پور حفاظت کرہ ون۔ مالگ پورہ حساب و کتاب زانہ ون۔ چنانچہ بجای اینکہ تمن  
 کیا دیہ ہا کا نہہ خاص عہدہ تہ مصباہ، پین ساری اختیارات کرن سپرد تمنی۔ تحقیق اندر آس پادشاہ  
 تے۔ بادشاہ رُود پانہ برای نام۔ سم سپد مشہور عزیز مصرہ کہ لقبہ سیت وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي  
 الْأَرْضِ بیہ دیت اسہ پور قبضہ تہ اختیار حضرت یوسفن اتھ سر زمین مصرس اندر يَتَّبِعُوهُ مِنْهَا حَيْثُ  
 يَشَاءُ ڈیرہ اوس دوان، عیش و آرام اوس کران تیتس خوش کرہ، ہس تمہہ زمینہ اندرہ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا  
 مَنْ نَشَاءُ اس چھہ واتناوان پین رحمت نئس یضو تہ نئس۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ اس چھہ ضایع

اِحْوَةَ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُوْنَ ﴿۵۸﴾  
لَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ قَالَ اِنتُوْنِيْ بِاِخِيْ لَكُمْ مِّنْ اٰبِيْكُمْ اَلَا  
تَرُوْنَ اَنِيْ اُوْفِي الْكَيْلَ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِيْنَ ﴿۵۹﴾ فَاِنْ لَّمْ تَاْتُوْنِيْ  
بِهٖ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِيْ وَلَا تَقْرُبُوْنِ ﴿۶۰﴾ قَالُوْا سُبْحٰنَ الَّذِيْ دَعَا

کران نیکو کارن هنرمزور واکبر الاحرة خیر الذین امنوا وکانوا یقنون بیه چه آخرت مزورته آخر  
سیٹھا بہتر تمن لوکن ہمدہ خیرہ سمو ایمان اون بیه آس کھوژان خدائیس۔ بعضی تفسیرن اندر چھو کہ  
تمنی دوہن اندر گومنز تھ بروٹھیوم عزیز مصر۔ زلیخا ہمد نکاح سپد حضرت یوسف سیٹ۔ الغرض  
حضرت یوسف سپد باختیار پادشاہ۔ سمو وہ نووز مینس اندر سیٹھا غلہ توپتہ تھو کہ سو جمع کمر تھ  
مھوٹ۔ قحطک (سٹ) ڈرہ یلہ شروع سپد سمو ہیوت سو غلہ لوکن اندر تقسیم کرن۔ ڈورہ ڈورہ پیٹھ ہین  
لو کہ غلہ حاصل کرنہ خیرہ ہین۔ کنعانس منزرتہ سپد قحط وچآء اِحْوَةَ يُوْسُفَ فَدَخَلُوْا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ  
وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُوْنَ توپتہ آی حضرت یوسف سدبای تہ کنعانہ پیٹھ۔ توپتہ ژای تہندس دربارس اندر۔  
تمو پرزہ ناوتم۔ مگر سمو پرزہ نوونہ کینہہ حضرت یوسف کیا زہ واریاہ کال اوس منزہ گوتم۔ بیه اوس نہ  
تہندس وہم وگمانس منزکہ تم کیا آسن اتھ تھندس مھبس پیٹھ واتمت۔ تم کیا آسن بادشاہ بیتمت۔ سمو  
پر ژھکھ ٹہہ کیا زہ آوہ ہتھ شرس منز۔ دوپہک غلہ خیرہ۔ سمو دوپہک غالباً آسو ٹہہ جاسوس۔ سمو  
دوپ پناہ بخدا اس بھہ کنعانہ اہم تھہہ خاندانک افراد۔ سون بابہ صیب چھو حضرت یعقوب خدایہ  
سند پیغمبر۔ سمو پر ژھکھ ٹہہ کمرہ بای چھوہ۔ سمو دوپ اس اس باہ بای۔ اکھ یوی چھو لاپتہ۔ سو اوس  
زیادہ ٹوٹھ بابہ صییس سانس۔ تمند سکھ بوی روٹ بابہ صیین پینہ تسلی خیرہ پانس نشہ۔ باقی وہ (۱۰)  
بای آی اس توہہ نشہ غلہ معنیہ۔ سمو کور حکم تم تھو یو کہ شاہی مہمان خانس اندر۔ تمن کمر و جان پاٹھ  
خاطر و تواضع و لَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَّازِهِمْ توپتہ یلہ تیار کورن تہند سامان غلہ وغیرہ قَالَ اِنتُوْنِيْ بِاِخِيْ  
لَكُمْ مِّنْ اٰبِيْكُمْ دوپکھ یلہ تہہ بیه پیو یو مال بوی ہن انزان مہ نشہ بوچھ تہندون چھا واقعی پوز۔ اَلَا



فَاللَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿۶۴﴾ وَلَمَّا فَتَحُوا  
 مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۖ قَالُوا يَا بَانَ مَا  
 نَبَغِي هَذِهِ ۖ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۖ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا  
 وَنَزِدُكَ كَيْلًا بَعِيرٌ ۖ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ ﴿۶۵﴾ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ  
 مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِي بِهِ إِلَّا أَنْ  
 يُحَاطَ بِكُمْ ۖ فَلَمَّا اتُّوهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿۶۶﴾

پیٹھ۔ لہذا اگر بنیامین نیون پانس سیت خدائیس حوالہ فاللہ خیر حفظاً وھو ارحم الرحیمین کس اللہ  
 تعالیٰ ای چھوڑت را چھہ کرہون۔ بیہ چھوسوی یژر کم کرہون ساروی اندرہ۔ میانہ محبتہ تہ شفقتہ سیت  
 کیاہ اندہ۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ اُمہ گفتگو پتہ یلہ تمو سامانہ پُن  
 مورو تہہ منز وچھکھ غلگ قیمت نُس سمودیمت اوس ستہ تمن واپس کرنہ اُمت قَالُوا يَا بَانَ مَا  
 نَبَغِي دینہ لگ تم ای سانہ بابہ صبیہ اُمہ خوتہ کیاہ ژھانڈواس ہذہ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا کیا اُسہ  
 چھو کہ غلگ قیمت تہ واپس دیمت۔ اُمہ قسملگ چھو پادشاہ مصر فیاض تہ محسن۔ لہذا چھونہ مناسب  
 تہمدرس حکم بدل کرن۔ دیون اُمہ سیت بُوی سون بنیامین وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزِدُكَ كَيْلًا  
 بَعِيرٌ ۖ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ تہمدرہ سیت انواس کافی غلہ عیالہ خیطرہ۔ بیہ گرو باس را چھہ۔ بیہ انواس علاوہ  
 اُکس ووتس لد تہ غلہ تہمدر حصہ۔ موجودہ غلہ چھوسانہ خیطرہ کمی یہ پوشہ نہ زیادہ کاکس قَالَ لَنْ  
 أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِّنَ اللَّهِ لَتَأْتُنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ حضرت یعقوب بن دُوپکھ  
 خیر تھتھس صورتس اندر چھونہ چارہ کینہ سو توبہ سیت ولس اندر۔ مگر بوکتہ دمن یہ توبہ سیت یوتان نہ  
 ٹہہ خدایہ سُنڈ قسم باوتھ مہ سیت عہد کمر وکہ ٹہہ کیاواتہ تاویون سو ضرور واپس مہ نشہ مگرے ٹہہ ساری  
 ولنہ بیوکتہ بلا یہ سیت تلہ چھہ مجبوری۔ چنانچہ ساروی کوراتھ پیٹھ قسم فَلَمَّا اتُّوهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ  
 مَا نَقُولُ وَكِيلٌ اداہ یلہ تمو حضرت یعقوبس عہد و قرار دیت تمو دُوپ اللہ تعالیٰ ای چھوسانس ونہ نس

وَقَالَ يَبْنَیْ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَّادْخُلُوا مِنْ  
 أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ  
 إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ  
 الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿۶۷﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ مَا  
 كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسِ  
 يَعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ

پیٹھ گواہ تہ شاہد امہ پتہ دیو یٹھ بنیامین تیکن بائیں سیت۔ رخصتمہ وقتہ دو پیٹھہ وقال یبئی لاتد خلوا  
 من باب واحد ای میانو فرزند و پیٹھہ مصرس منز اثر و تہہ ساری اکی دروازہ کن خبر چھاتمہ سیت  
 مالگوہ چشم زخم و ادخلوا من ابواب متفرقة مصرس منز اثر زہ الگ الگ دروازو کن ترہ ترہ شور  
 شور زن۔ مصرس آس تمہہ وقتہ شور دروازہ و ما اغنی عنکم من اللہ من شیء بو پیٹھ نہ دور  
 کمر تھ توہمہ نیشہ تمہہ تجویزہ سیت خدایہ سدہ تقدیرہ نیشہ کانہہ چیزہہ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ  
 حکم چھونہ مگر خدایہ سندوی حکم عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ تِس پیٹھ چھوس بو اعتماد تہ ڈوکھ کران  
 وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ تِس پیٹھ گواہہ توکل کرہ و نین ہند توکل کران بیہ نہ کانسہ پیٹھ۔ تِس  
 تِس پیٹھ توکل کرہ تِس چھوسو تِس وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ پس یلہ ژای تم مصرس  
 منز پیا رکن تجویز او سٹھ کورمت بابہ صمین پنن مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ امہ تجویزہ  
 سیت بیٹھ ہانہ تمن پچاوتھ خدایہ سدہ حکمہ نیشہ کانہہ چیزہہ إِلَّا حَاجَةٌ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا  
 مگر امہ تجویزہ اندرہ اوس مقصد حضرت یعقوبس پنن اکھ ارمانا پورہ کران۔ تِس تمہہ وقتہ تمہو ظاہر کور  
 وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ بیشک سو چھوزان وول تمن چیزن تم امہ سو چھوسو وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ  
 لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لوکھ چھنہ کینہہ زانان تم چیز وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ توپتہ یلہ ژای تم  
 حضرت یوسفس نیشہ اوی ایہہ آخا تم روٹ یوی پنن (بنیامین) پانس نیشہ قَالَ إِنِّي أَنَا خُذُوكَ

النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۷۸﴾ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ  
 أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۷۹﴾  
 فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ جَعَلَ السَّقَايَةَ فِي رُحْلِ  
 أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ۹ أَيَّتَهَا الْعِزُّ إِنَّكُمْ لَسْرِقُونَ ﴿۸۰﴾ قَالُوا  
 وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ ﴿۸۱﴾ قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ  
 الْمَلِكِ وَلَيْسَ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ ﴿۸۲﴾  
 قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا

فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ دو پنس بوی چھوس چون بوی (یوسف) ژہ مہ بر غم تمیک کینہہ یہ ہای  
 آسہ نسبت کران آس فَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَّازِهِمْ تو پتہ یلہ تیار کرنون ٹہند سامانہ جَعَلَ  
 السَّقَايَةَ فِي رُحْلِ أَخِيهِ حضرت یوسفن تھادہ نوو پتہ آب چینک بانہ ہای سندس سامانس منز۔  
 تو پتہ یلہ تم روانہ سیدت شہرہ نمبر واتِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتَهَا الْعِزُّ إِنَّكُمْ لَسْرِقُونَ تمہ پتہ دیت  
 آلو اک آلودہ ون ای قافلہ والیو تہہ چھوہ پزپاٹ ژور قَالُوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ تم لگ  
 ونہ تم ن پھیر تھ تہہ کیاہ چھوہ رومت قَالُوا حضرت یوسفہ سند یو ملازمو دو پتہ نَفَقْدُ  
 صَوَاعِ الْمَلِكِ آسہ چھہ رومت بادشاہ سندہ چینک بانہ سمہ سیت سو توہہ غلہ دو ان اوس من من  
 وَلَيْسَ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ اُس سو بانہ توہہ اندرہ اتھ دیہ تہ پیش کرہ کس دمواکھ ووتہ  
 بارغلک انعام۔ بو آلودہ ون چھوس تمہ خیطرہ ذمہ دار قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي  
 الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا لِنُفْسِدَ فِيهَا قَسَمَ خُذَاتِهِم چھوہ وارہ زانان کہ اس چھنہ آمت تباہی کرنہ  
 خیطرہ یورہیہ چھنہ سان کوم ژور کرن قَالُوا فَمَا جِزَاؤُكَ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِينَ تموملازمو دیکھ ہر گاہ ٹہند



كُنَّا سَرِقِينَ ﴿۴۳﴾ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَذِبِينَ ﴿۴۴﴾ قَالُوا  
 جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي  
 الظَّالِمِينَ ﴿۴۵﴾ فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ  
 اسْتَخْرَجَهُمَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ مَا  
 كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ تَرْفَعُ  
 دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِ ﴿۴۶﴾ قَالُوا إِنْ

وَن اڀرڊر او تله ڪيا ه ڇو ته منڊ سزا قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ تمودو ه ڇو ته ميگ  
 سزا ه ڇو ته نس شخصه سنڊه سامانه منزه سو چيز نيره۔ سوئ شخص ه ڇو ته ميگ سزا يعني سو گرهه گرفتار ڪرڻ نه  
 غلام بناون كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ تهه پاڻ ه ڇو ته آس ظالمين يعني ٿورڻ سزا اوان چنه دينه  
 موجب۔ توپه ان ه ڇو ته تم وائس حضرت يوسف نسه فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وِعَاءِ أَخِيهِ توپه ڪرناو  
 تم تلاشي ٿيڻ بائن هندين خور جنڊن پنه نس باي سنڊس خور جنڊس تلاشي ڪر نه برو نه ه ڇو ته  
 اسْتَخْرَجَهُمَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ پتولا ڪه ڪڏه نوون سو چيز پنه نس باي سنڊه خور جنڊه منزه۔ پيه ڪور تمو  
 اڪه بهانه بنيامينه سنڊه پانس نسه رنه خيتره تمن سبت مشوره ڪر تهه كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ تهه پاڻ ه  
 ڇو ته ناواسه تدبير حضرت يوسف بذريعه الهام مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ نه اوس نه  
 ممڪن سو ڪيارهه ها بائس پنه نس پانس نسه بادشاهه مصره سنڊه قانونه موجب ڪيازه تمسنڊس قانونس  
 منزه اوس نه ٿور گرفتار ڪرڻ بلڪه اوس ٿورس ڪينبه تنبيهه ڪر تهه يله تراون إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ مگر  
 خدائيه سنڊي يرهنه سبت تمئي يو ٿهه نه پيه او بعل۔ تم ترو والهام حضرت يوسف سنڊس ولس اندر  
 يعقوبن شريعته موجب ٿورس سزا اديون۔ تي ونه نوون تمنن بائن هنزه زيوه تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَن نَّشَاءُ  
 تهه راوان ه ڇو ته اس درجه علمس اندر تس شخصه سنڊه سنڊس اس يرهنه۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِ  
 پر تهه علمه ولس پڙهڪن ه ڇو ته منڊه خوته زياده عالم۔ الله تعالى ه ڇو ته سارني مافوق۔ تمسنڊ علم ه ڇو ته سارني

يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُو لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَهَا يَوْسُفُ فِي  
 نَفْسِهِ وَلَمْ يُبَيِّدِهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ  
 بِمَا تَصِفُونَ ﴿۴۷﴾ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا  
 كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۴۸﴾

احاطہ کثرت علم مخلوق چھو ناقص۔ علم خالق چھو کامل۔ لہذا چھو مخلوق محتاج پنہ نس علم و تدبیر س  
 اندر خالقه سندس الہام والقاء س کن۔ حضرت یوسف دو چھ تو ہے دیوہ اس چھ پیغمبر زادہ یہ کیاہ  
 کو روہ۔ ای پڑہ ہا تو بہ کرن۔ تم گے سیٹھاہ شرمندہ۔ بنیامین آؤ تدبیرہ سیت تھاوندہ حضرت یوسف نشہ  
 قَالُوا إِنَّ يَسْرِقُ فَقَدْ سَرَقَ أَخُو لَهُ مِنْ قَبْلُ تمودوپ اگر بنیامین ژور کر تجب چھونہ کینہہ کیا زہ  
 امسد سکھ با ی یوسف تہ چھ بروئھ ژور کر مر۔ سو قصہ چھوتھہ پاٹھ کہ حضرت یوسف یلہ والدہ پنہ  
 سمہ عالمہ گبہ تمہ ہمز پرورش کرن تہزہ پو پھ یلہ حضرت یوسف بوڈ بہن گو ہو شیار ہوسد حضرت  
 یعقوبن دوپ وون رٹن بو پانس نشہ۔ یہ گو تہزہ پو پھ ناگوار۔ تمو کوراکھ حیلہ دو چھ مہ روو کر بند۔  
 سیٹھاہ ژھونڈ کھ مہ آونہ اٹھ۔ پتولا کہ وھٹھہ اکھ دوہہ حضرت یوسف کرس گنڈتھ۔ دو چھ یہ اوس  
 حضرت یوسف ژورہ نیومت۔ لہذا ژورہ ہندمال نیس نشہ نیرہ سو چھوتھہ ماس بدل رنہ یوان۔ بورٹن  
 حضرت یوسف پانس نشہ۔ یہ اوس اکھ حیلہ اکھ تہنڈہ پانس نشہ رنہ خیطہ تہزہ پو پھ پائے کورمت۔  
 اٹھ کن کور اشارہ سموورہ بابو فَأَسْرَهَا يَوْسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبَيِّدِهَا لَهُمْ کس تھاویہ تھہ پوشیدہ  
 حضرت یوسف پانس نشہ۔ ظاہر کورن نہ تمن نشہ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَانًا وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ  
 پان پانس سیت دو من جہہ چھوہ زیادہ بدتر ژور کر نس اندر نوی کھیوون بابہ صیس ژورہ کتھہ یکمنہ  
 پونس۔ ژور چھو مال غائب کران۔ تو بہہ کورون انسان غائب۔ یہ کتھہ چھہ ظاہر کہ انسان ژورہ تھاون  
 انکو اکرن چھو زیادہ بدتر مال ژورہ بندہ خوتہ۔ اللہ تعالیٰ ای چھو بہتر زانان تہ یہ جہہ مہ نسبت ونان چھوہ۔  
 ژورہ ہمز ہانژہ لاگان چھوہ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ دہنہ

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ الْإِمْنَ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ  
 إِنَّا إِذًا الظَّالِمُونَ ﴿۹﴾ فَلَمَّا اسْتَيْسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا  
 قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ  
 مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ  
 أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي وَهُوَ

لگ ای عزیز مصر پڑپاٹھ تسم بنیا مینس وھو بڈھ عمر رسیدہ بابہ صیب تس وھو یہ سیٹھاہ ٹوٹھ تس گڈرہ  
 سیٹھاہ مشکل امس بدل رمعون اسہ منزہ اکھاہ سوی بناو تون پئن غلام انا اتراک من العینین اس  
 چھت ژہ زانان بڈھ احسان کرہ ون۔ یہ تہ بے ژہ اکھ اخساناہ اسہ پیٹھ کرہ بھھ اس سپدہ ہو سیٹھاہ مشکور  
 قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَأْخُذَ الْإِمْنَ وَجَدْنَا مَتَاعَنَا عِنْدَهُ حضرت یوسف دو پچھ خدائس وھوس بو  
 پناہ منگان سمہ تھہ نشہ کہ اس کیار ٹون تس شخصس ورا ی ہہ کانہ تسم نشہ سون چیز دراؤ۔ ہر گاہ اس  
 یژھ تھہ گرو انا اذ الظالمون تلہ چھہ اس سخت بے انصاف فلما استیسوا منہ خلصوا نجيا  
 ہس یلہ یم حضرت یوسف نشہ نامید سپد بنیامینہ سندس ہئیس اندر الگ سپد تھہ ہو پچھ پانہ وان مشورہ کرن۔  
 اکثرن ہنر ای سپر کہ واپس بڑہ گوھن قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُمْ  
 مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ ہڈ ہی با ی دو پچھ ٹہہ وھوہ نازانان کہ بابہ صمین پئن وھوہ ٹہہ خدایہ سند قسم ہا ناومت  
 تہ عہد کر ناومت بنیامینہ سندہ حقہ وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُفَ بیہ چھوہ نازانان سمہ بروٹھ  
 کثیر زیادتی کمر وہ توہہ حضرت یوسف سندس حقس اندر۔ تمن سیت اس بر تاو کورو، توہہ تمہ سیت کیتاہ  
 حقوق سپد ضایع بابہ صمین۔ سو بروٹھم شر مندگی کیاہ کم چھہ وون گھو یہ بیاکھ شر مندگی بیتھ بابہ  
 صمیس نشہ فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ حَتَّىٰ يَأْذَنَ لِي أَبِي کس نیرہ نہ یوسفہ شہرہ اندرہ ہرگز نمہ جایہ  
 یوتان نہ اجازت بیہ مہ بابہ صیب پئن۔ نتہ گمہ ہتھہ بیہہ یوسف بروٹھ کن ہتھہ۔ أَوْ يَحْكُمَ اللَّهُ لِي  
 وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ یا کرہ اللہ تعالیٰ میانہ حقہ کانہہ فیصلہ۔ سو وھو بہتر فیصلہ تہ حکم کرہ ون۔ سو گوگنہ



الْحَزْنَ فَهُوَ كَظِيمٌ ﴿۸۳﴾ قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتَوَاتٌ ذٰكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى  
تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ ﴿۸۵﴾ قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْا  
بَنِيَّ وَحُزْنِيَّ اِلَى اللّٰهِ وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۸۶﴾  
يٰۤاِبْنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُوْسُفَ وَاَخِيْهِ وَلَا تَايَسُوْا  
مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يَآئِسُ مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ  
الْكٰفِرُوْنَ ﴿۸۷﴾ فَلَمَّادَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا

الْحَزْنَ فَهُوَ كَظِيمٌ امہ پتہ پھر کھ بھجھ تمہن نشہ میں طرفس کن تو پتہ لگ ونبہ ہائے کوتاہ غم ہجھوم  
حضرت یوسف سند غم سببہ ودان ودان گمہ آہجھہ سفید۔ یہ غم آس اندر اندری شو پر او ان۔ سمہ سببہ  
دس اوسکھ ہول قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتَوَاتٌ ذٰكُرُ يُوْسُفَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ تَكُوْنَ مِنَ الْهٰلِكِيْنَ تم اولاد  
لکھہ نہنہ قسم خدا جہہ جھوہ ہمیشہ، پر ہتھ وقتہ حضرت یوسف سند یاد کر ان یوتان جہہ سپد یوہ کنزورت لاغر  
یاسپد و امی وجہہ ہلاک۔ یوت غم کھینہ اندرہ کیاہ فائیدہ جھوہ قَالَ اِنَّمَا اَشْكُوْا بَنِيَّ وَحُزْنِيَّ اِلَى اللّٰهِ  
تمبو دو پکھ توہہ کیاہ جھوہ میانس و دس تہ روس سیت۔ یو جھوس نہ پتہ رنج و غم گراؤ کر ان کا نہ تہ  
خدا یس وراے توہہ جھسوہ نہ کھنہ تہ وناں وَاَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ خدایہ سند معاملہ یوت  
بوزانہ بیوت زانو نہ جہہ۔ جھند لطف و کرم جھو بے شمار یکتی اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُوْسُفَ وَاَخِيْهِ  
وَلَا تَايَسُوْا مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ ای میانو فرزند و اظہار غم گڑھہ کرن خدایہ سی نشہ۔ مسبب الاسباب جھو  
سوی یوت۔ لیکن ظاہری تدبیر کرس جھو نہ کا نہہ حرج۔ جہہ گڑھو نا کھہ بھہرہ بیہ مصرس کن تہ کمر و  
تلاش حضرت یوسف سند بیہ کر تو کوشش بنیائینہ سزہ رہائی ہنز۔ نا امید متہ سپد تو خدایہ سندہ رحمتہ نشہ۔  
اِنَّهٗ لَا يَآئِسُ مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ بے شک تہمدہ رحمتہ نشہ سپدہ نہ کا نہہ تہ  
نا امید کافر وورای۔ تو پتہ درای تم و ات بیہ مصرس منز عزیز مصرس سمکھہ خیطہہ فَلَمَّادَخَلُوْا عَلَيْهِ  
قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَاَهْلَنَا الضَّرَّ وَجِئْنَا بِهٖ ضَاعَةً مُّزْجٰةً تو پتہ یلہ تس نشہ ژاے۔ دو پکس

وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا بِبِضَاعٍ مُّزُجَّةٍ قَاوِفِ لَنَا الْكَيْلَ  
وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿۸۸﴾ قَالَ  
هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿۸۹﴾  
قَالُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي زَكَرِيَّا  
قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَشْتَقِ وَيَصْبِرْ فَأَنَّ اللَّهَ  
لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۹۰﴾ قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ اشْرَكُوا

ای عزیز مصر در آگہ سببہ دوت آسہ تہ سانس عیالس سخت تکلیف۔ وکن چھہ اس آمت رڈی سامانہ مؤیہ ہناتہ۔ کیا زہ وون رُودنہ آسہ نش کہنی مال قَاوِفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا وون دتہ آسہ ژہ پور غلہ (نہس آسہ پوشہ ہا) خیر اتاہ کرتہ آسہ پیٹھ۔ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ پز پاتھ اللہ تعالیٰ چھو خیرات کرہ و نین اجر و ثواب عطا کران حضرت یوسفن ہیو کنہ بہنزہ مسکت آمیز تھہ یوز تھہ تاب کمر تھہ کم تم کیاہ تھوہ ہن و نہ ہن حال پوشیدہ قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَا فَعَلْتُمْ بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ حضرت یوسفن پز ژھکھ توبہ چھو یاد توبہ کیاہ کور وہ یوسفن تہ تہمدس بایس بنیا مینس نسبت پلہ ناتھہ نادان آسہ۔ تم گے حیران یہ عزیز مصر کیاہ چھو آسہ پز ژھان۔ اوتان اوس حضرت یوسفن تھس پیٹھ نقاب تراو تھہ مین سیت تھہ کران۔ تموتل نقاب تھود کن پیہ تھہ پیٹھ نظر تہ پزہ ناوکہ۔ مگر یقین حاصل کرنہ خطرہ لگس پز ژھنہ قَالُوا إِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ تم لگس پز ژھنہ ژنی محض چھو کہ حضرت یوسفن قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي دوپکھ یوی چھوس یوسفن۔ بیہ پیہ بنیا مین چھو میون یوی کن تھہ ژھانڈنہ درامت چھوہ۔ اس دوشوے چھہ جمع سہمت کسی جایہ قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا پز پاتھہ بدمت تھو اللہ تعالیٰ ان آسہ دوشون پیٹھ۔ گوڈہ دشن آسہ توفیق صبر و تقویٰ اک۔ تمکھہ برکتہ کوزن سون تکلیف بدل را تھس سیت۔ سان جدالی کمرن بدل اکھ اکس سیت ملاقات کرئس سیت۔ تنگدستی کرن بدل و تھس سیت إِنَّهُ مَنْ يَشْتَقِ وَيَصْبِرْ فَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ

اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخُطِيئِينَ ﴿۹۱﴾ قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ  
 الْيَوْمَ يُغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿۹۲﴾ اذْهَبُوا  
 بِقِمِيصِي هَذَا فَالْقُوهُ عَلَىٰ وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا  
 وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۹۳﴾ وَلَمَّا فَصَلَتِ  
 الْعِيْرُ قَالَ أَبُوهُمُ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ  
 تَفْتَدُونِ ﴿۹۴﴾ قَالُوا تاللهِ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ ﴿۹۵﴾

البتہ جس کھوڑہ اللہ تعالیٰ اس پر کبھی تکیفین پیٹھ صبر۔ جس اللہ تعالیٰ چھوڑنے نیلو کارن ہنرمز و درضایع کران۔ تم  
 ساری واقعات پی سین تیش تم سپد شرمندہ قَالُوا تاللهِ لَقَدْ اَشْرَاكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخُطِيئِينَ  
 تم ساری لگ و نہ خدایہ سزوری ہنر پاپ اللہ تعالیٰ ان ذیت توہم فضیلت اسہ پیٹھ۔ پزپاپ سان کن  
 آو اثر۔ یہ کہنہ ہاہ اسہ کورتھ اندر چھہ اس خطا کار۔ خدایہ سدہ خیطرہ کمر و تھہ ساری اسہ بخشائش  
 قَالَ لَا تَثْرِبَ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ حضرت یوسف دو چھ میاں طرف چھنہ کانہہ ملامت تہ گراؤ۔ کانہہ  
 الزام توہم پیٹھ از۔ دل میون سپد صاف توہم پیٹھ بے فکر روزو یغفرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ  
 اللہ تعالیٰ تہ کرن توہم بخشائش تہ مغفرت۔ سو چھو یژر حم کہو ان اذْهَبُوا بِقِمِيصِي هَذَا فَالْقُوهُ عَلَىٰ  
 وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا گوہو وون دیو بشارت بابہ صمیس۔ سیت نیو یہ میان کزرتن۔ یہ تہ تراو  
 تہدس تھس پیٹھ۔ سہ سیت سپدن تہزہ اچھہ روشن۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ تم ان  
 یورمہ نشہ تشریف۔ یہ بیو تہہ سو روی اہل و عیال ہتھ مہ نشہ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيْرُ یلہ مصرہ نشہ  
 یہند قافلہ سپروانہ قَالَ أَبُوهُمُ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَنْ تَفْتَدُونِ یہند بابہ صمین دوپ  
 بیشک از چھوس بو یوسفہ سندی خوش محسوس کران تہہ نے نہ۔ جزہ سببہ بے عقل زانو قَالُوا تاللهِ إِنَّكَ  
 لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ تمودو پھس واقعی چھوہ تہہ تھہ پرائس غلط خیالس اندر بتلا۔ توہم چھوہ خیال

فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْفَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا ۖ  
 قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنَِّّي أَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿۹۷﴾  
 قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ ﴿۹۸﴾  
 قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۹۹﴾  
 فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَبُويَهُ وَقَالَ ادْخُلُوا  
 مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ﴿۱۰۰﴾ وَرَفَعَ أَبُويَهُ عَلَى الْعَرْشِ

کہ یوسف چھوڑ دے۔ یہ گروتس سیت ملاقات۔ امی خیالکہ غلبہ سیت چھو سپدان توہمہ محسوس ٹھہند  
 خوشبو۔ تمو کر ژھویہ۔ فَلَمَّا أَنْ جَاءَ الْبَشِيرُ أَلْفَهُ عَلَى وَجْهِهِ فَارْتَدَّ بَصِيرًا حضرت یوسف سہندہ  
 صحیح و سلامت آج خوشخبراندون یلیہ آؤکرتن ہتھ توپتہ تراؤتم سہو حضرت یعقوبہ سندس تھس پیٹھ یکدم  
 سہزہ تہمزہ اچھ روشن۔ یہ کورتم بیان سوزوی حال حضرت یوسف سہند قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنَِّّي أَعْلَمُ مِنَ  
 اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ حضرت یعقوبن فرموکہ مہ و نیوودہ ناتوہہ کہ خدایہ سنزن تھن یوت بوواقف  
 چھوس تہوت زانونہ تہہ قَالُوا يَا أَبَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا إِنَّا كُنَّا خَاطِئِينَ تموساروی دوپھ ای  
 سانہ بابہ صبیہ سانہ خیطرہ مگو ہز گنہن مغفرت۔ بے شک اس آس خطاکار، سانہ وجہ ووت توہمہ  
 سیٹھاہ تکلیف قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ تم دوپھ عنقریب مگھ بو تہمدہ  
 خیطرہ مغفرت خدائس۔ تہجد کہ وقتہ کیاہز تہمہ وقتہ چھودعا قبول۔ بے شک سہو چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ  
 ون سیٹھاہ رحم کرہ ون۔ توپتہ کرکہ تیاری درای۔ ساری سپد روانہ شہر مصر س گن۔ حضرت یوسف  
 دراؤٹھہ بابہ صمیس استقبالہ خیطرہ۔ مصرس نزدیک اُس جایہ اوس حضرت یوسفن اکھ عالیشان مکانہ  
 بنوومت۔ گوڈہ نیک ملاقات سپد تھن تھہ مکانس اندر فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَوَىٰ إِلَيْهِ أَبُويَهُ  
 پس یلیہ ژای تم اتھ مکانس اندر حضرت یوسفن نشہ تمو وژپانس کھتل جائے حضرت یعقوبس یہ  
 والدس یا خالس تظلمہ کن وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ حضرت یوسفن دوپھ وون اثر و شہر



وَحَرُّوَالَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا بَيْتَ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ  
 قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي  
 مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ  
 الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ  
 إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ١٠٠ رَبِّ قَدْ اتَّبَعْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ

مصرس منز۔ خدا سے یوڑھ تیرے روزوڑھہ خاطر جمع سان۔ جدائی ہندہ قحطک نم کوس اللہ تعالیٰ ان۔ تو  
 پتہ یلمہ مصرس منز ژای تیرہ واتا و تم حضرت یوسفن شاہی مملاتن اندر و رَفَعَ اَبُو يُوْسُفٍ عَلَى الْعَرْشِ بِرَبِّهِ  
 بہناون تم دوشوے پانس سیت شاہی قحس پیٹھ۔ تمہ ساتہ سپز تمن عجیب کیفیہ۔ حضرت یوسفن  
 عظمت سپز تھندین دن پیٹھ وَحَرُّوَالَهُ سُجَّدًا تمبو ساروی دیت تمن سجدہ وَقَالَ يَا بَيْتَ  
 حضرت یوسفن دوپ ای میانہ باہ صیہ ہَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ ای کیا حض اوس میانہ  
 خوابک تعبیر۔ اُس بروٹھ مہ وہمت اوس قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا پنز پاٹھ میان پروردگارن کور میون  
 خواب حق تہ پوز وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ پنز پاٹھ رنگہ رنگہ گورمہ نسبت میان  
 پروردگارن احسان۔ اکھ کوڈس بو قید خانہ نشہ باعزت، جزمہ نشہ بالکل بری تو پتہ واتو نوس سلطنت جس  
 مرتس و جَاءَ بِكُمْ مِنَ الْبَدْوِ تہہ ساری واتا و تہہ یوت مہ نشہ نمبرہ پیٹھ مِنْ بَعْدِ أَنْ نَزَغَ  
 الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي یہ سوری سپد شیطانہ سندہ سبہ۔ مہ منز تہ میانین بائن منز اختلاف  
 تہ فساد تراونہ پتہ۔ تم تراویو و اسہ منز سو اختلاف۔ تمند خیال اوس ساری عمرہ مایکونہ اس اکھ اس  
 سیت۔ اِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ پنز پاٹھ میون پروردگار چھوڑت تدبیرہ  
 کرہ ون۔ تمہ خیلرہ یہ سویرھان چھو۔ بے شک سو چھو سیٹھہ زانہ ون سیٹھہ حکمتہ وول۔ امہ پتہ روزو تم  
 ساری اتھ مصرسی اندر خوش و خوشحال۔ یوتاتن حضرت یعقوبس سمہ عالمہ گڑھنگ وقت ووت۔ تموکر  
 وصیت ای زہ بوگڑھہ ملک شامس اندر واتا و تہہ دن کرن پنہ نین بز رنگن سیت۔ تمہ پتہ سپد حضرت

وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
 أَنْتَ وَرَبِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقْنِي  
 بِالصَّالِحِينَ ﴿١٠١﴾ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ  
 وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿١٠٢﴾  
 وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ

یوسف سے آخر تک اشتیاق۔ تم کو رُوحاً رَبِّ قَدْ اتَّيَّبْتَنِي مِنَ الْمَلِكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ  
 الْأَحَادِيثِ ای میانہ ہر دو گارہ ہمز پانچ ڑہ کر تھمہ عطا پر تھہ رنگہ نمو۔ ظاہری تہ تہ باطنی تہ۔  
 ظاہری گنیمہ سلطنت، پادشہت، باطنی گنیمہ کہ یو چھو و تھس خوانن ہند تعبیر فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
 ای آسمان تہ زمین ہندہ پیدہ کروہہ اَنْتَ وَرَبِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ڑی تھو کہ میون کار ساز دنیا س  
 منز تہ آخر کس منز۔ تھہ پانچ میانہ سارے کامہ ڑہ دنیا س منز انجام د ڑ تھہ تھہ پانچ و اتنا میانہ آخر تھہ  
 کامہ تہ انجام تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ سمہ عالمہ نہ مہ فرمان برداری ہند س حاکم  
 منز۔ بیہ و اتنا مہ نیو کارن سیتِ ذَلِكَ بِه قصہ چھو مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ غیبہ چو خبر و  
 اندرہ کس اسہ وحیہ پانچ سوز توہہ کس یار رسول اللہ۔ کیا زہ توہہ نشہ اوس نہ وحیہ و رای بیہ کینہہ ذریعہ سمہ  
 سیتِ توہہ بہ قصہ معلوم سپدہ ہا وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ بیہ آہونہ تھہ  
 حضرت یوسف سندین بائین نشہ تمہ ساتہ یلہ تمو چن ارادہ ہختہ کور حضرت یوسف چھس منز تراونہ  
 خیطر ہیہ آس تم تمہ خیطرہ تدبیر کران کہ بابہ صیس و نو تھہ پانچ تہ تم کڈو کہ تھہ پانچ۔ بیہ تھہ چھہ  
 یقینی کہ تھہ یو زونہ بہ قصہ کانہہ نشہ لہذا چھہ یہ صاف دلیل تھہ ہند س نبوتس پیٹھ تھہ ہند س صاحب دے  
 آسٹن پیٹھ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ باوجود آل کرن نہ پڑھہ توہہ واریاہ لو کہ اگر چہ  
 توہہ آسٹن سیٹھہ خوانش کج۔ تھہ ہندہ ایمان نہ ائنہ سیتِ چھونہ توہہ کانہہ نقصان وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ  
 مِنْ أَجْرٍ کیا زہ تھہ چھوہ نہ منگان تمن نشہ امہ قرآن مجیدہ خیطرہ کانہہ مزوریہ اِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ

مِنْ أَجْرَانٍ هُوَ الَّذِي كَرَّمَهُ لِلْعَالَمِينَ ۚ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ۝  
 وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ ۝ أَفَأَمْنُوا أَنْ  
 تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً

لِلْعَالَمِينَ چھو نہ یہ قرآن مجید نُسُخہ تمکن پیٹھ ہر ان چھوہ مگر بد نصیحت عالمین ہندہ خیرہ۔ نُسُخہ  
 اتھ مانہ تمس چھو پائس نقصان وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا  
 مُعْرِضُونَ چھو پاٹھ تم لو کہ مگر نبوت چھو تھے پاٹھ چھو تم مگر توحیدتہ۔ کیا زہ کا تیاہ آیات تہ نشانہ  
 خدایہ سندس گن آسئس پیٹھ تم آسمان تہ زمین منز چھو تم کو کن لو کہ پکان چھو۔ تم آیات و چھان چھو  
 تم چھو تمہو آیا تو نفعہ بے توحیدی کران وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ بیہ چھو اکثر لو کہ  
 تم خدائس پر شہ تہ کران چھو باوجود آل چھو تم مشرک، بشر کچہ کامہ کران۔ یعنی زیوہ سیت چھو ساری  
 ونان کہ اللہ تعالیٰ ای چھو مالک تہ رزاق۔ مگر باوجود آل چھو نس شریک ٹھہراوان۔ چنانچہ کفار مکہ  
 آس ونان سون رُب چھو اللہ تعالیٰ تو پتہ آس پو تلین سجدہ کران ملا تیکن خدایہ سنزہ کورہ ونان۔ یہود  
 چھو خدائس مانان مگر تھ سیت چھو ونان حضرت عزیز چھو خدایہ سندیٹو۔ تھے پاٹھ چھو بعض لو کہ عالمین  
 تہ راہن خدایہ سنزن کائین اندر اختیارہ وال زانان۔ واریاہ لو کہ چھو قبر پرستی پیر پرستی، تعزیہ پرستی  
 سیت توحیدہ کس چشمہ مصفیٰ اس مکرر تہ گدل کران۔ کیتیاہ چھو توحیدک دعویٰ کثرت ہوا پرستی  
 سیت، پٹن سود دعویٰ باطل کران، بدعتن، پائے ٹھہراو متین چیزن ہنز پیروی کران۔ سچ دلیل نہ  
 کتاب و سنتس اندر گنہ جایہ موجود چھو۔ لہذا توحیدہ ورا ای خدائس ایمان اُن تہ پر شہ گرن چھو بے کار۔  
 تھ ایمان اُن تہ نہ اُن چھو برابرئ۔ لو کن ہنز یژہ حالت آتھ أَفَأَمْنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ  
 عَذَابِ اللَّهِ چھو تم سو کھس تہ اطمئناس اندر بہتھ سمہ لغہ کہ تم کیابیہ خدایہ سندہ عذاب تھہ بلا یاہ  
 واتھ یوسہ تم پر تھ طرفہ ولتہ بیہ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ تہ تھہ واتھ قیامت ہچہ

وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۰۷﴾ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ تَفَعَلِي  
 بِصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۰۸﴾  
 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ  
 أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ  
 مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَكِنْ الْأَخْرَجْنَا خَيْرًا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۰۹﴾

تہ معہ تم زمین نہ یہ کپار آئی۔ غرض شرک و کفر چھو متقاضی عذاب اس۔ سو دنیا سے اندر ایتن یا آخر اس اندر۔ تھ گن نظر کمر تھ اوس لوکن لازم عذاب اس کھو ژن۔ کفر و شرک کہ نشہ پتھ روزن۔ عذاب دنیوی تہ عذاب اخروی نشہ پن پان بچاون قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ تَفَعَلِي بِصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي فرمایو کہ تمہ یار رسول اللہ توحید پوز اس نے چھ میان ڈتھ۔ نادھوس بودوان لوکن معبود برحقس گن کامل واقفیت حاصل آتھ۔ اکھ بودیہ سمو میان پیروی کمر۔ یعنی مہ نشہ چھ توحید و رسالتس پیٹھ دلیل۔ سمو لوکو مہ پڑھ کمر تموتہ کمر پڑھ دلیل نو ز تھ بے دلیل تھ گن چھوس نہ بوکانہ دعوت دوان۔ لہذا چھو حاصل ہے کتھ کہ اللہ تعالیٰ چھو کئی۔ بو چھوس تہ گن لوکن نادوان وَسُبْحَانَ اللَّهِ مُنْزَہ تہ پاک چھو اللہ تعالیٰ شریک آسنہ نشہ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ بیہ چھوس نہ بو ہرگز خدا اس شرک آنہ دنیو آندرہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا بیہ سوزنہ آسہ توہم بروٹھ پیغمبر۔ مگر تم ساری آس مرد، انسان، ملک آس نہ نُوحِي إِلَيْهِمْ وحی آس آس سوزان تم گن مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ تہ آس شہرن ہمد روزن وال۔ گامن ہمد نہ۔ سمو نہ تم ایمان اون تہ پڑھ کمر تم کمر آسہ عذابس گرفتار۔ تی ہمد گن مکہ کین کافرن تہ۔ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کیاہ سم لو کہ چھنا پھیر مت ز مینس منز گنہ طرفس پس دچھہ بن تم کیاہ انجام چھو سہد مت تم مکر بن ہمد سمو تمکن بروٹھ خدیہ سندین پیغمبر انکار کورمت چھو۔ یاد تھا وویٹھ دنیا سے منز روز تھ تمہ کمر ونا فرمائی اختیار کروہ سو دنیا چھو فانی وَلَكِنْ الْأَخْرَجْنَا خَيْرًا لِلَّذِينَ اتَّقَوْا أَفَلَا تَعْقِلُونَ البتہ

حَتَّىٰ إِذِ اسْتَيْسَرَ الرُّسُلُ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ  
 نَصْرُنَا فَنَبَّحْنَاهُمْ مِمَّنْ نَشَاءُ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۰﴾  
 لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۗ مَا كَانَ  
 حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ  
 تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۱﴾

آخر تک گره چھو بہتر تمن لو کن ہندہ خیطرہ ہم خدائس کھوژن۔ فر کہ زبہ روزن پتھ کیاہ ونبہ چھوہ نا  
 توہہ فخرہ تران کہ فانی ناپائیدار چیز اختیار کرن چھا جان کہہ سو چیزئس باقی تہ پائیدار آہ۔ ہر گاہ توہہ  
 تاخیر عذابہ سیت تہبہ تہ شک پیدا سپدان چھو عذابہ کس واتس اندر۔ یہ چھوہ جنہر سخت غلطی کیاہزہ  
 بروظنمین کافرنتہ آیہ زتھہ زتھہ مہلہ ونبہ۔ حَتَّىٰ إِذِ اسْتَيْسَرَ الرُّسُلُ تا اینکه یلہ نامید سپد پیغمبر  
 تہمدہ ایمان انہ نشہ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا بیہ کورمانہ تمو کہ بیشک تمن سیتئس وعدہ آہو کرنہ سو  
 آونہ ونبہ پورہ کرنہ۔ خبر چھا آس ماگے قومس نشہ اپز زبہر جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنَبَّحْنَاهُمْ مِمَّنْ نَشَاءُ تم آس یہ  
 خیال کرانی۔ اتی دو چھ سون مدد تہ یاری۔ ئس آونجات ونبہ تمن یہند آہہ یوژہ۔ یعنی با ایمان تہ  
 مؤحدن۔ کافر آی امہ عذابہ سیت ہلاک کرنہ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ کیاہزہ پتھ چھوہ  
 یوان رفتہ سون عذاب نافرمان نشہ۔ بلکہ چھو عذاب تمن پیٹھ ضرور واقع۔ پدان۔ اگرچہ ژیر گڑھن تھ  
 اندر۔ لہذا مہ روزن اتھ خیالس اندر کھار مہ لَقَدْ كَانَ فِي قَصصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ پز پاپھ  
 چھ حضرت یوسف تہ تہمدین بائن ہندس قصص منربذ عبرت عقلہ والین ہندہ خیطرہ مَا كَانَ حَدِيثًا  
 يُفْتَرَىٰ آس نہیہ کتھاپائے ٹھہرونہ امر ۗ وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ  
 بلکہ چھوہ تصدیق تھ مضمونس ئس امہ بروٹھ کتابن منز بیان کرنہ آمت چھو۔ بیہ چھو تفصیل تہ  
 وضاحت پرتھ چیزج۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ بیہ چھو بوڈ ہدایت تہ بڈر رحمت تمن  
 لو کن ہندہ خیطرہ ہمو ایمان اون۔

## سُورَةُ الرَّعْدِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الْتَفَتْنَاكَ أَيُّ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ  
 وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ① اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ  
 عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ  
 كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ② يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ  
 بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ ③ وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا

التفہا سم گئے حروف مقطعات یمن ہند معنی زانہ پانہ خدا تِلْكَ الْآيَةُ الْكُتُبِ سم چھہ قرآن مجید آیات۔ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ بیہ توبہ کن نازل آؤ کر نہ تہندس پروردگارہ سندہ طرفہ تہ چھو بالکل ہز۔ تہ اوس منگان کہ سارنی لوکن ہنز گھہ تھہ پڑھ گرن۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ مگر واریاہ لوکہ چھہ پڑھ کران سم شیطان و تھہ راوہ راؤ۔ اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا خدا گوسوی قدر تہ دول سم آسمان بلند کر تھہ و رای۔ وچھان چھو کہ تہہ تم آسمان تھہ پاٹھ۔ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ تو پتہ سپد مستوی عرش پیٹھ۔ تھہ پاٹھ تھہ پاٹھ تھہ شائس شوبہ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى بیہ کران آفتاب تہ زون مسخر تہ رام پر تھہ اکھاہ چھو سمو دو یو آندرہ پکان پنہ نس پنہ نس مدارس پیٹھ مقررہ و قس اندر۔ چنانچہ آفتاب اکس و رہس پن مدارس طے کران۔ زون چھہ اکس رتیس طے کران یڈپڑر الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ سؤی چھو تمن سارنی کا مین ہند تدبیر کران۔ سمہ عالس آندر واقع سپدان چھہ۔ سؤی چھو تفصیل تکوینی تہ تشریحی دلیلہ صاف صاف بیان کران لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوقِنُونَ تھہ تہہ قیامتک دوہ پنہ نس پڑوردگار سمیت ملاقاتک تہ نس نشہ حاضر سپد نگ یقین کر و وَهُوَ الَّذِي

رَوَّاسِيَّ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رِجَافًا مُتَمِيزًا  
يُغْشَى الْبَيْلَ النَّهَارَ طَائِفًا فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۳۰﴾ وَ  
فِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَبَعَاتٌ وَجُدَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ وَزُرْعٌ وَنَخِيلٌ  
صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُقِضَلُ بَعْضُهَا  
عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۳۱﴾ وَ  
إِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذْ كُنَّا تَرَابًا إِنَّا لَنَعْلَمُ خَلْقَ

نَدَا الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَّاسِيَّ وَأَنْهَارًا ۖ یہ گو خدا سومی تم زمین و ہر دو آہس پیٹھ۔ یہ کمرن تھہ منز پیدہ  
کوہ ناوہ مند لنگر ہی تھہ سو آہس پیٹھ قرار کرہ۔ یہ پھرہ ون تھہ زمینس اندر جو یہ تہ دریاو ۖ وَمِنْ كُلِّ  
الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رِجَافًا مُتَمِيزًا ۖ یہ کمرن پر تھہ میوک اتھہ منز زین قسم جورہ جورہ، مدرتہ ژوک۔  
یوٹھ تہ میوٹھ۔ اکہ کمرہ رنگہ بیاکہ یہ رنگہ۔ اکہ ژھوٹ بیاکہ زبوٹھ۔ اکہ رود بیاکہ ڈلوم ۖ يُغْشَى الْبَيْلَ  
النَّهَارَ سُمَى ۖ پھور اژ ہزہ تاریکی سیت ڈبگ گاش ولان تہ پوشیدہ تھاوان ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَعْقِلُونَ ۖ بے شک اتھہ منز چھہ واریاہ دلیلہ۔ خدایہ سندہ وحدانیتہ چہ۔ فجرہ کرہ ونین ہندہ خیطرہ۔  
تھہ پاٹھ چھہ یہ دلیلہ خدایہ سندہ وحدانیتہ چہ ۖ وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُتَبَعَاتٌ ۖ یہ چھہ زمینس منز زینک  
واریاہ لکمرہ، قطعہ، کچھہ کچھہ۔ تم باوجود کھتلہ آسجہ یون یون تاثیر تھاوان چھہ۔ ۖ وَجُدَّتْ مِنْ أَعْنَابٍ  
یہ چھہ دچھہ باغ ۖ وَزُرْعٌ ۖ یہ چھہ مختلف کھہ۔ یعنی زرعی زمین ۖ وَنَخِيلٌ ۖ یہ چھہ خزر کل ۖ صِنَوَانٌ  
وَغَيْرُ صِنَوَانٍ ۖ دو شاخل یہ اک شاخل ۖ يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ ۖ یعنی چھوٹک یوان دنہ اکی آبہ سیت  
وَنُقِضَلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ ۖ باوجود اک چھہ فضیلت دوان اس اڈین اڈین پیٹھ میون اندر  
(یعنی زمین کئی، آب کئی، مگر میوہ تہ پھل یون یون ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۖ پڑپاٹھ  
اتھہ اندر چھہ جہ جہ دلیلہ خدایہ سندس کن آسجہ پیٹھ عاقل تہ سمجھدار لوکن ہندہ خیطرہ ۖ وَإِنْ تَعْجَبْ  
فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ إِذْ كُنَّا تَرَابًا إِنَّا لَنَعْلَمُ خَلْقَ جَدِيدًا ۖ یہ ہر گاہ تمہہ کئے تھہ پیٹھ تعجب کر وتلہ چھہ

جَدِيدُهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ الْأَغْلَىٰ فِي  
 أَعْنَاقِهِمْ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۵﴾  
 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ  
 قَبْلِهِمُ الْمَثَلُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ  
 ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿۶﴾ وَيَقُولُ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ

تجس لایق کافرن ہنزیہ تھے کہ کیاہ سالیہ آسہ میزہ گامز آسہ تو پتہ سموہ آس دوبارہ بیہ پیدہ کرنہ قیامتگ  
 دوہ۔ تجس لایق چھہ یہ تھے امی کہ تمہن احمقن چھونہ تران فخرہ کہ تم ذات پاکن ساری مخلوق کمر پیدہ  
 کرن گوڈنی۔ تمہن نش کیاہ عجائب چھو دوبارہ تم پیدہ کرن اُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ تم لو کہ چھہ  
 تھے سمو انکار کور پتہ نس پروردگار س کیا زہ سمو کور پروردگارہ سندس دوبارہ پیدہ کرنس پیٹھ قدرتہ دول  
 آسسن انکار اُولَٰئِكَ الْأَغْلَىٰ فِي أَعْنَاقِهِمْ یعنی لو کن ہنزن گردن منز آسہ نال جہنمگ طوق  
 وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ تم لو کہ چھہ نارس منزواتن وال۔ تھے منز چھہ  
 روزن ہمیشہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ بیہ چھہ تم کافر توبہ نشہ بانبر کران عذابہ کس  
 واتہ نس اندر۔ عافیتک معیاد ختم ہونہ۔ بروٹھی چھہ تم مصیبتک تہ عذابگ مطالبہ کران وَقَدْ خَلَتْ  
 مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلُ حالہجہ تمہن بروٹھ چھہ کافرن تہ نافرمان پیٹھ عذابگ واقعات گذرہ سمہ۔  
 یمن پیٹھ عذاب نازل کرن کوسہ بدتھ چھہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ مگر تھہ  
 چھہ یزی کہ تہمہدس پروردگارہ سندشان حلم و عفو چھونہ پریتھہ لو کٹس ہڈس گنہس گرفتار کرن یژھان۔  
 سو چھو لو کن ہند ظلم و ستم و چھان تو پتہ چھو و گذر کران وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ بیہ چھہ یہ تھے  
 تہ کہ تہمہد پروردگارہ چھو سخت عذاب کرہ ون یقیما۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس منز چھہ دو شوے صفت مگر پریتھہ  
 صفحہ ظہورہ خیطرہ چھہ شرط تہ اسباب وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ بیہ



وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ۝۸۰ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ  
 الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِقَدَرٍ ۝۸۱ عِلْمُ الْغَيْبِ  
 وَالشَّهَادَةُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ ۝۸۲ سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ  
 وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ ۝۸۳  
 لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ

چھہ دنان تم کافر کیا زہ چھونہ امس پیغمبرس پیٹھ کانہہ خاص معجزہ (سُ اسِ ثہانڈان چھہ) نازل  
 سپدان اُسندس پروردگارہ سندہ طرفہ اِنَّمَا اَنْتَ مُنذِرٌ وَّلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ نُبہ نہ حض چھوہ نہ مگر سیم  
 گروہ دن۔ بیہ چھوہ نُبہ و تھ ہاودہ دن۔ تھ پانچ پر تھ قومہ خطیرہ اکھ اکھ و تھ ہاودہ ناہ از تال گذر یومت  
 چھو۔ توبہ چھونہ امیک اختیار کہ نُبہ کیا ہاودہ نمن سو معجزہ سُ تم طلب کرن **اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ**  
**أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ** اللہ تعالیٰ چھو زانان تہ سو روی یہ تلان چھہ پینہ یڈ منز پر تہ  
 زنانہ۔ گور چھانہ پٹو۔ پور چھانہ اوڈی۔ بیہ چھو زانان بچہ دلہ ہند ژھوٹن تہ زٹھن۔ ژٹن تہ مہر نہ یں۔  
 یعنی کم سپدان تہ زیادہ سپدان **وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَ اللَّهِ بِقَدَرٍ** پر تھ چیزہ چھو تس نشہ خاص اندازہ موجب  
 مقرر کرنہ آمت **عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ** سو چھو پر تھ پو شیدہ چیز تہ نون چیز زنانہ  
 دن۔ سوی چھو بوڈ تہ تھو **سَوَاءٌ مِنْكُمْ مَنْ أَسَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ**  
**وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ** برابر چھو خدلیہ سندس علمس نشہ توبہ اندر سو شخص سُ لوتہ تھہ کرہ بیہ سو شخص سُ  
 بڈہ تھہ کرہ۔ بیہ سو شخص سُ راتر ہنزہ انہ بگہ منز کھٹت روزہ بیہ سو شخص سُ دو بلہ نین پانچ کامہ کران  
 آسہ۔ اورہ یور پھیران آسہ۔ تھ پانچ سو پر تھ اکس زانان چھو تھ پانچ چھو پر تھ اکسز حفاظت تہ کران  
**لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ** پر تھ انسانہ سزہ حفاظتہ خطیرہ  
 چھہ تم تھاموت تہ مقرر کرمت کیہنہ ملک تم اکھ اکس پتہ کامہ پیٹھ یوان چھہ تہ گڑھان چھہ تے چھہ  
 روزان امس انسانس بروٹھ کن تہ، تھر کن تہ۔ راچھہ تہ حفاظت چھہ امس انسانس کران وار یہو بلا یونشہ

مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوهُمَا  
 بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ  
 مِنْ دُونِهِ مِنْ وَاِل ۱۱ ۱۱ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا  
 وَيُنَشِّئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ ۱۲ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ  
 مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ

خدايہ سندہ حممہ سیت۔ امہ سیت گدھہ نہ زان کہ یلہ ملا یک چہہ پر سہہ اکس حفاظت تہ را چہہ کران لہذا  
 یہ خوش کرہ تہ تہ کمر و۔ کفر و مصیبت تہ نافرمانی کمر و۔ کیاہ پروا چھو۔ ملا یک چہہ را چہہ۔ یہ خیال کران  
 چھو محض لغو۔ کیاہہ اللہ تعالیٰ اگر چہ سو چھو نہ ابتداء کا نہہ عنانس گرفتار کران چنانچہ فرماوان چھو  
 إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوهُمَا بِأَنْفُسِهِمْ ہنز پاٹھ اللہ تعالیٰ چھو نہ بدلاوان کنہ قومہ  
 کس رتس حالس صلا حیتس یوتان نہ تم پائے بدلاوان چہہ رتس حالس تہ صلا حیتس نافرمانیو سیت یلہ تم  
 پنہ نس صلا حیتس منز خلل تراوان چہہ۔ اللہ تعالیٰ چھو تہدہ خیطرہ عذاب تہ مصیبت تجویز فرماوان  
 وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ ہیہ یلہ اللہ تعالیٰ ہشان چھو کنہ قومہ خیطرہ عذاب تہ مصیبت ادہ چھو  
 نہ تہہ عذابس تہ مصیبتس کانہہ چیز ادہ دفع تہ دور ہیکان کرتھ سو چھو ضرور واقع سپدان وَمَا لَهُمْ مِنْ  
 دُونِهِ مِنْ وَاِل ہیہ چھو نہ تہن کو کن تمہہ وقتہ کانہہ اکھاہ مددگار ہیکان سپد تہہ نس ورا ی حتی کہہ تم  
 ملا یک تہ چہہ ہیکان حفاظت تہ مدد کمر تہ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَشِّئُ  
 السَّحَابَ الثِّقَالَ سو پروردگار گوسوی نیس توہہ بارشہ ہندہ وقتہ ہاوان چھو وز ملہ نیہ نیہ گرہ و نہہ نیہ اندر  
 تمہہ پھر پینک خوف تہ آسان چھو تہ تمہہ منزہ بارش تہ رُود پچ امید تہ آسان چہہ۔ ہیہ چھو سو ی پیدہ  
 کران تہہ ابرس نیس رُودہ سیت گو بیومت چھو آسان۔ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ  
 خِيفَتِهِ ہیہ چہہ گکرایہ تسبیح پران تہدس حمدس سیت ملو تہہ تسنز پاکی بیان کران تہدہ  
 تعریف کران ہیہ چہہ ملا یک تہ تسبیح تہ حمد پران تس پروردگارہ سندہ خوفہ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ

يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴿۱۳﴾  
 لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ  
 لَهُمْ شَيْئًا إِلَّا كِبَاسٌ مَاءٍ لِيَبْلُغَ قَاهُ وَمَاهُو  
 بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ ﴿۱۴﴾ وَبِاللّٰهِ يَسْجُدُ  
 مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظَلَمَهُمُ بِالْغَدُوِّ  
 وَالْاَصٰلِ ﴿۱۵﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ قُلِ اللّٰهُ قُلْ

فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ بيه چھو سؤی تر تہ تراوان۔ سؤی تر تھ چھو اتاوان تہس پیٹھ یُسند سؤ  
 یژھان چھو وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ تم کافر تہ مکر چھہ بحث ہیوان کر دن  
 توہہ سیت یار سؤل اللہ تہس خدایہ سندس حقس اندر نیس عظیم الشان چھو۔ بیه چھو سخت رٹن وول۔ تہس  
 پزہ کھوژن۔ مگریم چھنہ تہس عنہ قسمہ کھوژان تہس چھہ شریک ٹھہراوان۔ بیه چھو سؤ بدن ہندس  
 منگنہس اجابت تہ کران کہ دَعْوَةُ الْحَقِّ تہس شوبہ ہنر پائٹ ناد تہ آلودین حاجتہ وقتہ کیا زہ اجابت  
 کرنج قدرت چھہ تہس یاژ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ تم لو کہ تہس درای بین باطل معبودن آلو  
 دوان چھہ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ شَيْئًا تم چھنہ تہندس منگنہس عنہ قسمہ اجابت کران کنجہ چیزہ سیت۔  
 إِلَّا كِبَاسٌ مَاءٍ لِيَبْلُغَ قَاهُ وَمَاهُو بِبَالِغِهِ مگر تہہ پائٹ پائٹ چھہ کاہنہ شخصہ دورہ آہس  
 گن اتھ زہ دہراوتھ خیال کرہ سؤ آب گڑھیم پانے آس منزواتن۔ حالانکہ سؤ آب بیہ نہ پانے  
 اسندہ دورہ اتھ زہ مڑہراونہ سیت آسندس آس منزواتھ۔ یے چھہ مثال تم لوکن ہنر تم معبود  
 برحقس درای بین معبودن مکان چھہ۔ منگن تہ آلودین شوبہ تہس پریٹھہ قسمہ نفع و ضرر ک مالک  
 چھو۔ تہس پانہ عاجز تہ محتاج آہہ۔ تہس آلودنہس منز کیاہ فاسدہ چھو۔ وَمَا دُعَاءُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي  
 ضَلٰلٍ کافرن ہند منگن چھونہ مگر بے اثر تہ بے فاسدہ۔ وَبِاللّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ  
 طَوْعًا وَكَرْهًا وَظَلَمَهُمُ بِالْغَدُوِّ وَالْاَصٰلِ بیه چھہ معبود برحقہ سی تم ساری نماں تہ سجدہ کران تم

اَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِانْفُسِهِمْ نَفْعًا  
 وَلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمَى وَالْبَصِيرُ ؕ اَمْ هَلْ  
 تَسْتَوِي الظُّلُمَاتُ وَالنُّورُ ؕ اَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا  
 كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ  
 وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۱۶﴾ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ

آسمان سے زمین اندر چھہ۔ بعض مخلوق خوشی سیت۔ بعض مجبور سپت۔ یہ چھو تہند سایہ تہ تس نمان  
 صبحس تہ شامس قُلْ مِنْ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ تہہ پر تھہو یک آسمان سے زمین ہند رب تہہ چھو  
 تہہ جواب وند نس اندر تیر کرن قُلِ اللّٰهُ تہہ فرماؤ کہ یوزے اللہ تعالیٰ ای چھو تہن ہند رب سے  
 مالک۔ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ فرماؤ کہ کیا ہسمہ توحید چہ دلیلہ یوزت بناؤ کہ تہہ تس  
 ورا ای ہن دوست تہ مددگار تم معبود لَا يَمْلِكُونَ لِانْفُسِهِمْ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا تہہ تہن نہ اختیار تہ  
 طاقت چھو پنہ نین پان ہندہ خیرہ تہہ نفعک تہہ تہہ ضررک بین نفع یا ضرر و اتاؤ چہ تہہ تہہ قُلْ هَلْ  
 يَسْتَوِي الْاَعْمٰى وَالْبَصِيْرُ پر تھہو کہ گاشدار تہہ اون چہا برابر ی اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ  
 وَالنُّوْرُ یہہ چھاکہ تہہ گاش برابر ی۔ یعنی موجدس تہہ مثر کس منز چھہ تیز فرق ایڑ گاشدارس تہہ انس  
 منز چھہ۔ تہہ پان چھہ توحیدس تہہ شرکس منز تیز فرق ایڑ چھہ تہہ گاشس منز چھہ۔ اَمْ جَعَلُوا لِلّٰهِ  
 شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ تہہ تھہر او خدا نس تم شریک سمو خدا یہ سندی  
 پان چھہ مخلوق پیدہ کرمت چھہ۔ تو پتہ آہہ نہ تہن کا نہہ فرق بوزنہ خدا یہ سندی مخلوق اتن منز تہہ تہندین  
 مخلوق اتن منز قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ تہہ فرماؤ کہ اللہ تعالیٰ ای چھو  
 پر تہہ چیزک پیدہ کر ہون۔ مخلوقات چھہ ساری تہندی یات یہہ چھو سونوی پنہہ ذاتہ کن تہہ صفا تہون۔  
 سارنی مخلوقاتن پیٹہ چھو غالب، ایچ مثال اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً اللہ تعالیٰ ان تروو آسمانہ طرفہ  
 زوداہ فَسَالَتْ اَوْ دِيَةً بِقَدَرِهَا یوزے زود پوک نالو منز پنہہ پنہہ اندازہ موجب۔ یعنی بڈہ نالہ منز

أَوْ دِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمِلِ السَّبِيلَ زَبَدًا زَابِيًا وَمِمَّا  
 يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ  
 مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ هُ فَاَمَّا  
 الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً ۗ وَامَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ  
 فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ ۝  
 لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ

زیادہ لوگ نہ نالہ منزک فاحتمل السبیل زبدا زابیا پس تل ام رود وون پانس پیٹھ پوس پتھ سیت  
 ژھوٹھ تہ لوشہ آس۔ بیا کہ مثال ومما یوقدون علیہ فی النار ابتغاء حلیة اومتاع زبدا  
 ومثله بیه چھو تھان تمو چیز واندرہ تم چیز تم نارس پیٹھ گالان چھہ (سون، رُو پھ تہ ترام ہیو) گہنہ  
 زیور یا سامان بناونہ خیطرہ پوساہ تھہ آہ کس پتھس ہیو۔ کذلک یضرب اللہ الحق والباطل اللہ  
 تعالیٰ چھو پتھ پتھ پزج تہ لہزج مثال بیان فرماوان یعنی ایمانج تہ کھرچ توحیدج تہ شرح کج مثال فرماوان  
 فاما الزبد فیدھب جفاء تو پتہ ٹیس پوس چھو آسان سیلابک یا سونک تہ رو پک سو چھو پائے  
 ہو کھت گڑھان تو پتہ چھو سوتراوتھ یوان شیرنہ واما ما ینفع الناس فیمکث فی الارض  
 مگر ٹیس چیز لو کن کیت مفید چھو آسان آب یا سون تہ رو پھ سو چھو روزان موجود تہ باقی دنیا س اندر۔  
 پتھ پتھ چھو اہز گلان۔ پوزہ چھو ظاہر تہ نون نیران۔ اگرچہ اپزوباوشن کینہہ کالاہ ہزس مگر پتولا کہ چھو  
 پوزوی پزان کذلک یضرب اللہ الامثال پتھ پتھ چھو اللہ تعالیٰ لو کن کتھ فخرہ تارنہ خیطرہ مثالہ  
 بیان کران للذین استجابوا لربهم الحسنى سمولو کو خدا یہ سند احکام مان توحید و طاعت اختیار کرنہ  
 سیت تہندہ خیطرہ چھہ رژمزور۔ سوز رژمزور گنیہ جنت تہ چتچہ نعمہ والذین لم یستجیبوا لہ بیه سمولو کو نہ  
 خدایہ سند احکام مان کفر و مصیبتس پیٹھ قائم روزنہ سیت۔ تہندہ خیطرہ چھو جہنمک عذاب۔ لو ان  
 لهم تانی الارض جميعا ومثله معه لا فتدوا به ہر گاہ تم ن نشہ تہ سوزوی مال آسہ بیه ساری زمینس

لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَئِكَ لَهُمْ  
 سُوءُ الْحِسَابِ ۚ وَمَا أُولَئِكَ بِهِمْ جَهَنَّمُ وَيَبْسُ إِلَيْهَا ۚ أَفَمَنْ يَعْلَمُ  
 أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ ۚ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئَا  
 الْأَلْبَابِ ۚ ۱۹ الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْعَيْثَ ۚ  
 وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَ  
 يَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۚ ۲۱ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ  
 وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَدْرُسُونَ

منز چھو بیہ تھہ سیت بیہ ثبوت مال ضرور دین بدلہ تمہ عذابہ نشہ موکنہ خیرہ اولئک لھم سُوءُ  
 الحِسَابِ یعنی لوکن ہمدہ خیرہ چھو بچھ حساب وَمَا أُولَئِكَ بِهِمْ جَهَنَّمُ وَيَبْسُ إِلَيْهَا بیہ چھ تہنزی جای  
 نارِ جہنم۔ کاتراہ بچھ جایا چھہ سُوءُ أَعْمَىٰ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ آیاسو شخص  
 نِس زانان چھو بیہ کینہہا توہہ پیٹھ نازل آو کر نہ تہندس پروردگارہ سندہ طرفہ تہ سوروی چھو حق تہ  
 پوز۔ سُوء چھاتس شخصس ہونس اُون آسہ ہرگز بیہ چھہ مثال با ایمانس تہ کافرہ سنز إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَئَا الْأَلْبَابِ  
 نصیحت چھہ رمان مگر عقلہ والی الَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ الْعَيْثَ عقلہ وال گئے تے سم  
 پور چھہ کران خدایہ سندس عمدس بیہ چھہ پھروان تھہ عمدس نافرمانیہ سیت وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا  
 أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ بیہ گئے عقلہ وال تے لو کہ سم ملہ ناوان چھہ تمن حکمن تمن ہمدہ ملہ ناو نل حکم  
 کور اللہ تعالیٰ اِن یعنی صلہ رحم وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ بیہ سم کھوژان چھہ پنہ نس  
 خدائس بیہ چھہ سخت عذابگ اندیشہ کران وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ بیہ سمو صبر کور  
 فرمانبرداری پیٹھ بلائسن تہ مصیبتن پیٹھ۔ بیہ گنہو نشہ پتھ روزنس پیٹھ پنہ نس پروردگارہ سند رضا حاصل  
 کرنہ خیرہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ بیہ تھو کہ نماز برپا۔ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً بیہ کور کھ خرچ تمہ مالہ

بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَئِكَ لَهُمْ عُقَبِي الدَّارِ ﴿۲۲﴾ جَنَّتْ عَدْنٌ  
يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةُ  
يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ ﴿۲۳﴾ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ  
عُقَبِي الدَّارِ ﴿۲۴﴾ وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ  
وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ  
لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿۲۵﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

منزہ ہنس اسے عطا کر رکھ، پوشیدہ پائٹھ سے ن پائٹھ ویدر سون بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ بیہ ہجہ دور کران نیکو  
سیت بدیہ کا گئے تین نسبت بدی کرہ تم ہجہ تس نسبت نیکی کران أُولَئِكَ لَهُمْ عُقَبِي الدَّارِ تمنی لو کن  
ہمدہ خیرہ ہجوزت انجام آخر تیس گرس اندر سوزت انجام گو جَنَّتْ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا عَمَّ  
جنت ہجہ منز تمن واتن ہجوزت روژن ہجوزت وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ بیہ تہمدین مالین  
بُدین بیہ تہمدین جوزن۔ یعنی مردن زنانہ۔ زنان خانہ۔ بیہ تہمدین ثمرین مرین۔ یمن جنس واتن  
صلاحیت سے قابلیت آسہ۔ یعنی سم با ایمان آسن۔ تم سے واتن جنس تہمدہ برکتہ تہمدہ در جس منز تہمدہ منز  
تم آسن وَالْمَلَائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ بیہ آسن ملایک ازان تمن نشہ پر تہمدہ دروازہ کن۔ ونان  
آسٹھ سَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقَبِي الدَّارِ ای جنتیو سلام بوزیوہ۔ بیہ بدمزور بنیایہ توہیہ صبر کہ  
برکتہ۔ تہمدہ کیا روودین حقس پیٹھ مضبوط۔ ہنس کیاہ رت ہجوزت ہجوزت مقام ہنس توہیہ حاصل سپد وَالَّذِينَ  
يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَوَنَ گئے تم لو کہ تم پھروا وان ہجہ خدایہ سند عہد تمہم مضبوط سے  
محکم کرنہ پتہ۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ بیہ ہجہ ژان تم چیز تمن ہمدہ ملہ ناو تک اللہ تعالیٰ ان  
حکم کورمت اوس یعنی آشنائی وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ بیہ چھہ دنیا عس منز فساد تلان کفرہ سے نافرمانی سیت  
أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ تمے لو کہ کیا گئے ہمدہ خیرہ لعنت ہجہ۔ سو گئیہ خدایہ سزہ ہر حمتہ نشہ دوری ولہم  
سوء الدار بیہ ہجوزت تہمدی خیرہ ہجہ گرہ سو گونا جہنم۔ کافرن ہنز ظاہری دولت و ثروت وجہت

وَفِرْحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ﴿۴۷﴾  
 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ  
 يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أُنَابَ ﴿۴۸﴾ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ  
 قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿۴۹﴾ الَّذِينَ آمَنُوا  
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا فِي كِتَابِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي

گروهی نه به دھوکہ لگن کہ تم لو کہ ما آن مورد رحمت کیا زہ رزق کیفیت چھہ اٹلہ یسٹرزق لمن  
 یشاء ویقللہ اللہ تعالیٰ ای چھو رزق ہرہ راوان کس یزھان چھو تہ کس بیہ چھو سوی رزق منر تنگی  
 کران کس یزھان چھو تہ کس۔ بیہ چھو نہ رحمت وغضبک معیار و فرحوا بالحیوة الدنیا کافر چھہ خوش  
 سپدان دنیاچہ زندگی سیت۔ بیہ نہوند خوش سپدان چھو فضول کیا زہ وما الحیوة الدنیا فی الآخرة الامتاع  
 حالانچہ آخرتچہ زندگی مقابلہ چھنہ دنیاچہ زندگی مگر حقیر اکھ چیز اہ۔ اسمہ سیت تمتع یوان چھو ٹلنہ کم کہہ نہ  
 کالا ویقول الذین کفروا لولا انزل علیہ آیة من ربہ بیہ چھہ ونان کافر ٹھندس نبوتس پیٹھ اعتراض کرنہ  
 خیطرہ کہ کیا زہ آونہ نازل کرنہ حضرت محمدس پیٹھ ٹیٹھ معجزہ پنے کس پروردگارہ سندہ طرفہ۔ بیٹھ  
 بروٹھمن پیغمبران پیٹھ نازل سپدان اوس۔ حضرت موسیٰ سند عصاہیو۔ حضرت صالح سز و وثن ہش  
 قل ان اللہ یضل من یشاء ویھدی الیہ من اناب تہہ فرمادیو کہ کہ پتر پاٹھ اللہ تعالیٰ چھو و تھ راوہ  
 راوان کس یزھان چھو تہ کس۔ بیہ چھو سوی و تھ ہاوان پائس کن کس کس ایہ، متوجہ سپدہ کس کن۔ بیہ  
 کس ہزہ وتہ ہند طالب آسہ۔ الذین امنوا و تطمین قلوبہم بذكر اللہ سمولوکو ایمان اون۔ بیہ چھہ تھندول  
 قرار رنان خدایہ سندہ یادہ سیت ارا بذكر اللہ تطمین القلوب وارہ یوزو کہ یاد خدا کر تک خاصیت چھو کہ  
 تمہ سیت چھو با ایمان ہندین وکن قرار تہ سکون حاصل سپدان الذین امنوا و عملوا الصالحات  
 طوبی لھم و حسن ما ب سمو لو کو ایمان اون بیہ کر کیکہ رزہ عملہ تھندہ خیطرہ چھو دنیاچہ س اندر رت  
 حال۔ بیہ آخر کس اندر رت انجام۔ باعزت و اجسی کذالک ارسلناک فی آیتہ قد خلقت من قبلہا امم بیہ



أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ ﴿۱۳﴾ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ الْمَوْتَى بَلْ بَلَّغْنَاكَ اللَّهُ الْأَمْرَ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَأْتِسَّ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ

پتھہ پاتھہ آسہ توہمہ بروئھہ پیغمبر سوز بروئھہمن اُمتن کُن یٹھہ پاتھہ سوزوہ آسہ توہمہ تہ یار سول اللہ اکیس اُمتن کُن پیغمبر۔ سیمہ اُمتہ بروئھہ واریاہ امر کڈر سموہ ہجھہ لَتَتْلُوَ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ یٹھہ تہمہ پترو تہن پیٹھہ سو کتاب یوسہ آسہ توہمہ کُن بطریق وحی نازل کتر۔ تہن پڑہ ہا تھہ تجر نعمو پیٹھہ شکر دہن۔ اتھہ نفس قدر زانن وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ مگر تم ہجھہ ناسپاسی تہ کتر ان نعمت کر ان رحمۃ ولس خدا کس قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابٌ تہمہ فرماؤ یو کہ سوی رحمۃ وول خدا ہجھو میون پروردگار۔ کانہہ معبودا ہجھونہ تس ورا ی۔ تس پیٹھہ کیاہ کورمہ اعتماد تہ توکل۔ بیہ ہجھوس تس کُن یو رجوع کر ان۔ تس نشہ ہجھومہ وائن وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِهِ الْمَوْتَى بیہ ہر گاہ کانہہ قرآنہ یعنی کتابہ آسہ ہاسمہ سیت کوہ کلمہ جلیہ پیٹھہ بیس جلیہ کُن پکانانہ یکن یا سیمہ سیت دور درازو تھہ طے کرنہ بیہ ہایا بیمہ سیت مردہ تھہ یکن کر ناونہ یعنی مردہ سپد ہن زندہ تمہ سیت کیاہ ہنہ ہا۔ تم کافر انہن نہ توتہ ایمان کیا زہ تم چیز ہجھنہ مؤثر حقیقی بَلْ بَلَّغْنَاكَ اللَّهُ الْأَمْرَ جَمِيعًا بلکہ ہجھو سوری اختیار ککس خدا کس اتھہ۔ سوی کس ہدایت کرہ تس بہ ہدایت أَفَلَمْ يَأْتِسَّ الَّذِينَ آمَنُوا کیا مایوس تہ نا امید سپدنا با ایمان تہن مَجْزَاهُ تھانڈہ وینن لوکن ہندہ ایمان انہ نشہ اَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا کیا زہ اللہ تعالیٰ اگر بیوہ ہاسو کرہ ہاسارنی لوکن ہدایت مگر تم یو تھنہ تہ بعض جھنن ہندہ ووجہ۔ لہذا بہ تس ہدایت کسندہ حقہ سو پڑھہ۔ مَجْزَاهُ وچھنن یا متہ وچھنن۔ کسندہ حقہ سو ہدایت یڑھنہ تس بہنہ نہ کینہہ تہ۔ مَجْزَاهُ وچھنن یا متہ وچھنن۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً ہمیشہ روزہ کافرن تہ مَنکرن کفرہ تہ

بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدَ اللَّهِ إِنَّ  
 اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ ﴿۳۱﴾ وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلْتَ  
 لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَخِذُوا بِمَحْكَمٍ ۖ لَّيْسَ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّكَ  
 إِلَّا بِلَا إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ ۚ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ﴿۳۲﴾ أَمِنَ هُوَ قَائِمٌ  
 عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۖ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُومًا سَمُّوهُمْ  
 أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ ۖ أَمْ بِيْظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ ۖ بَلْ زِينٌ  
 لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۗ مَكْرَهُمْ وَوَعْدُ وَعَيْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿۳۳﴾

نا فرمائی سببہ کا نہہ نہہ کا نہہ مصیبتہاہ نہہ بلا یاہ واتان اَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّن دَارِهِمْ یاواتیجہ بلای گرن نزدیک  
 حَتَّىٰ یَأْتِيَ وَعْدَ اللَّهِ یوتان واتہ اللہ تعالیٰ سُنْد وَعَدہ یعنی آخر تک عذاب نِس مرنہ پتہ شروع سپدہ اِنَّ  
 اللَّهَ لَا یُخْلِفُ الْمِيعَادَ پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھونہ پنہ نِس وَعَدَس بَدَل کران۔ لہذا چھو تین پیٹھ عذاب  
 واقع سہن یقینی۔ سمن لوکن ہند انکار یا استہزاء تہ ٹھٹھہ یہ چھونہ تو ہی سیت مخصوص بلکہ  
 وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَمَلْتَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَخِذُوا بِمَحْكَمٍ پزپاٹھ ٹھٹھہ آئی کرنہ کا تہن  
 پیغمبرن سم توبہ بروٹھ آس نِس تراومہ یکہ کینہہ کالاہ تم ٹھٹھہ گرہ ون کا فر۔ تمہ پتہ رٹ مہ تم نہ  
 کرم گر فنار عذاب فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ نِس چھو توبہ معلومی میون سزاکیتھ اوس تین نسبت۔ نیو  
 ٹھوی سزاکیا دمہ بو تین ٹھٹھہ کرہ ونین لوکن تہ سم توبہ ٹھٹھہ نہ استہزاء کران چھہ اَمِنَ هُوَ قَائِمٌ  
 عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ آیسو پروردگار نِس قاسم روز تھ پرتھ شخصہ سزہ کامہ وچھان تہ ڈرژان  
 چھوسو تراویا تین توبہ ٹھٹھہ کرہ ونین سزاونہ ورا ی وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلُومًا سَمُّوهُمْ بیہ ٹھہراو مشر کو  
 خدا نِس شریک۔ تہہ فرماویو کہ یارسول اللہ تلاتین ہند ناو ونیو۔ اَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ کہ تہہ  
 چھوہ خدا نِس تیج خبر کران یہ نہ نِس معلوم چھو تمام دُنیاہ س اندر اَمْ بِيْظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ کہ تہہ محض ظاہری  
 نظر ہندہ اعتبارہ چھہ تین شریک ونان۔ حقیقت چھندہ تین لفظن ہنز کہی بَلْ زِينٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرَهُمْ  
 بلکہ چھہ سمن کافر ن پنہ مغالطہ تھ جان یوان بوزنہ سمو کتھو سیت تم شرکس بتلا سپد مت چھہ

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ وَمَا  
لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ۝۳۴ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ۝  
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلُّهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى  
الَّذِينَ اتَّقَوْا ۝ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ۝۳۵ وَالَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ  
الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ  
بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ

وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ بِهِ آی تم پھر رنہ تہ مخروم کرنہ سبزہ و تہ نغمہ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ  
نہس خداوتھ راورہ تسبہ حقہ جھونہ کانہہ اکھاہ و تھ ہاہون لہم عذاب فی الحیوۃ الدنیا تہنہہ خیطرہ  
جھو بوڈ عذاب دنیاچہ زندگانی اندر تہ سوگو قتل و ضرب و لعذاب الیخیرۃ اشقی تہنہہ خیطرہ نہس  
آخر تک عذاب جھوسو جھوزیادے مشکل تہ دشوار وَمَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ بہ جھونہ تہنہہ خیطرہ  
خدا لہ سبہ تمہ عذابہ نغمہ کانہہ بچاؤن و لولہ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ حال تہ کیفیت جھہ  
تمن جتن ہنز یمن ہند وعدہ کرنہ آؤپر ہیز گارن یم شرک و کفرہ نغمہ پتھ روزن تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  
تمہ کیو گلیو تہ لریو منز آسن جو بہ پکان اکلہا دایمہ و ظلہا کھینہ چیز تمن جتن ہند جھہ پو شہ و ن۔ بہ سایہ  
تمن جتن ہند جھو ہمیشہ روزون تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا بہ انجام جھو تمن تمن لوکن ہند تم  
شرکہ نغمہ پتھ روزن وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ کافرن تہ مشرک ہند انجام جھونار جھنم وَالَّذِينَ  
اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ تم لوک تمن کتاب آہ عطا کرنہ یعنی تورات تہ انجیل تم  
چھ خوش سپدان تمہ کتابہ سبت یوسہ توہم پیٹھ نازل آہ کرنہ یعنی قرآن مجید وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ  
يُنْكِرُ بَعْضَهُ بہ چھ سمو جماعتو اندرہ تم انکار جھہ کران قرآن مجیدہ کس کس حصص یتھ منز تہنہہ  
کتابہ خلاف احکام چھ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ تہہ فرماؤ کہ مہ آؤنہ ہم کرنہ  
تو حیدس متعلق مگر تمہ کوئی مہ عبادت کرہ بوکنس خدا لہ سنز۔ بہ انہ نہ بوئس شرک کئہ قسمہ إِلَيْهِ

أَدْعُوا وَاللَّيْه مَابِ ۳۷ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا وَلَئِنْ  
 اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ لَمَأَلِكَ مِنَ اللَّهِ  
 مِنْ وَرَائِي وَلَا وَاقِ ۳۸ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَ  
 جَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ  
 بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ۳۹ يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ  
 وَيُثَبِّتُ ۴۰ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ۴۱ وَإِنْ مَا نُرِيدُكَ بَعْضَ


أَدْعُوا وَاللَّيْه مَابِ ناد چھوس یو دو ان سارنی لو کن تس کن بیہ چھو تس کن سارنی رجوع کرن  
 وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا بیہ کور اسہ نازل بیہ قرآن مجید حکمہا عربی پاٹھ۔ چھ پاٹھ بین پیغمبرن  
 خاص خاص زیوہ اندر خاص خاص احکام نازل کمر۔ وَلَئِنْ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ  
 مَأَلِكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَرَائِي وَلَا وَاقِ بیہ ہر گاہ تہہ بفرض محال ممکن ہنزن خواہش، نفسانی خیالاتن  
 یعنی احکام منسوختہ یا احکام محرفن ہنزی پیروی تہ اتباع کمر۔ توہہ نش صحیح علم واتنہ پتہ۔ تلہ چھونہ توہہ  
 خدائس نشہ کانہ حمایت کرہ وناہ۔ بیہ تہندہ عذابہ نشہ کانہ بچاوہ وناہ۔ یہ یلہ گو نبی کریم صلی اللہ علیہ  
 وسلمت سیت معاملہ بائین ہنزی چھنہ کھی۔ اہل کتابو اندرہ بعضیو کور اعتراض کہ نبی کریم کیازہ چھہ  
 واریاہ زنانہ۔ تمیگ جواب چھو اللہ تعالیٰ فرماوان وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمْ  
 أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً بیہ سوز اسہ پیغمبر توہہ بروٹھ، بیہ کمر اسہ عطا کن ٹر باڑ۔ تہہ تہ چھوہ تہندی پاٹھ  
 پیغمبر۔ توہہ اہل وعیال آسن کیازہ چھہ ہم سو کتھاہ زنانان۔ یہ چھنہ تڑوہہ کتھاہ یوسہ رسالتس تہ نبوتس  
 خلاف چھہ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ بیہ اوس نہ کانہ پیغمبر اہئس خدایہ سندہ  
 حکمہ ورائی کانہتہ آیہ یا معجزاہ پیش ہیکہ ہاکر تھ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ پر تھ وقتہ خیطرہ چھہ مناسب احکام  
 تہ مناسب واقعات مقرر کرنہ آمت تموی منزہ گے معجزہ تہ آیات يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ  
 وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ تموی احکامو منزہ چھو نہواوان اللہ تعالیٰ تم حکم ہم سو یژھان چھو۔ باقی چھو تھواوان تم

الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَوَفِّيكَ وَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا  
 الْحِسَابُ ﴿۴۰﴾ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا  
 وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَمْ يُعَقِّبْ لِحُكْمِهِ ۖ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۴۱﴾  
 وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَبَلَّغَهُ اللَّهُ الْمَكْرَ جَمِيعًا يَعْلَمُ

حکم ہم سُو پڑھان چھو۔ تَس نِشہ چھو اصل کتاب لوح محفوظ تہ منز سوزی چھو تفصیل لیکھنہ آمت وَاِنَّا  
 مَا نُرِيكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ اَوْ تَوَفِّيكَ کافر چھ انکار نبوت کرن۔ تو پتہ چھہ دپان بیمہ  
 عذابک و عید کرنہ یوان چھو سُو عذاب کونہ چھو نازل سپدان۔ سمہ عذابک اس تمن وعدہ کران چھہ  
 تمہ منزہ ہر گاہ کھ حصہ اس توہمہ ہادوہ یعنی توہی تھی کرو کھ اس تم تھہ عذابس گرفتاریا تہندہ سمہ عالمہ  
 گرہ سکھ پتہ سپدہ نمن پیٹھ سُو عذاب واقع خواہ دُنیا س منز سپدہ سُو عذاب واقع یا آخرتس منز پر تھہ  
 صورتس منز چھونہ توہمہ تمیک خیال لازم کرن۔ کیا زہہ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ پس توہمہ چھونہ منہ مگر  
 پیغام و اتناون وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ اسہ چھو منہ پر ژھہ گار کرن حساب ہیون تہ عذاب کرن۔ تہہ مہ سکرو  
 اچ کا نہہ فجر۔ سمن کافر ن ہند تہ چھو تجب کہ تم کیا زہہ سنا چھہ تمہ عذابہ کس واقع سپدس انکار کران۔  
 کیاہ تم چھنا و چھان کہ مقدمات عذاب ہین تہندہ خیطرہ ظاہر سپدان اَوْ لَمْ يَرَوْا آیا تم چھنا و چھان  
 اَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ کہ اس چھہ اسلامچہ روز بروز فتح سیت تہندین ملکن اندر نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا کھ  
 کھ حصہ زمینگ تہندہ قبضہ اندرہ کڈ تھہ مسلمان ہندس قبضس اندر و اتناوان۔ سمہ سیت ظاہر چھو  
 سپدان اسلامس سپدہ روز بروز فتح تہ نصرت خدایہ سندہ لحمہ۔ تہنز عملداری چھہ روز بروز کم گڑھان پتہ  
 چھو تہندہ خیطرہ کہ قسمگ عذاب نُس بڈہ عذابک مقدمہ چھو وَاللَّهُ يَحْكُمُ اللَّهُ تَعَالَى نُس حکم صادر  
 کران چھو سُو چھو صادر کران لَمْ يُعَقِّبْ لِحُكْمِهِ کانہہ اکھاہ چھونہ تہندس لحمس پتہ رٹ و ن۔  
 عذاب دُنوی آسن یا عذاب اخروی۔ تہند یو معبودان باطلو اندرہ تمن تم شریک خدایچھہ ٹھہراوان  
 ہیچہ نہ کانہہ اکھاہ تھہ عذابس پتہ رٹہہ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ بیہ چھو سُو جلد حساب ہیوہ و ن۔ حسابہ

مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ ۖ وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عُقِبِيَ الدَّارِ ﴿۴۲﴾  
 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا  
 بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ۖ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ ﴿۴۳﴾

پئے آسہ تین عذاب وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ پز پانٹھ سم کافر سمین برونٹھ آس تموتہ چھہ کم کم  
 تدبیر برو نظمین پیغمبرن ہندس مخالفس منز کرمت۔ چھہ پانٹھ ازک کافر چھہ ٹہندس مخالفس منز کم کم  
 تدبیر کران کس ٹہہ مدہ بر و تمیک کانہ پروا قِيلَ الْكُفْرُ جَمِيعًا اللہ تعالیٰ سی نشہ چھہ ساری تدبیر کیا زہ  
 يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ کس چھو معلوم کس شخص کیا چھو کران وَسَيَعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عُقِبِيَ  
 الدَّارِ عنقریب زانن کافر زت انجام کھندہ خیطرہ چھو مسلمان ہندہ خیطرہ کنہ کافر ن ہندہ خیطرہ  
 وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا بیہ چھہ دنان کافر کہ ٹہہ چھو نہ پیغمبر قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا  
 بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ ٹہہ فرمادو کہ ٹہندہ انکار کرنہ سیت کیا چھو۔ بیہ چھو بے اعتبار کس چھو اللہ تعالیٰ گواہ  
 مہ منز تہ توہہ منز میانس پیغمبر آس پیٹھ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ بیہ چھو گواہ میانس پیغمبر آس  
 پیٹھ سو شخص کس نشہ تورات وانجیلک علم چھو۔ مثل عبد اللہ بن سلام وغیرہ۔





أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلَّ اللَّهُ  
 مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۴﴾ وَلَقَدْ  
 أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ  
 وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِنَا إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿۵﴾  
 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِذْ كُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ  
 أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ

تمسوی جواب چھو اللہ تعالیٰ فرماوان وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ بے سوز نہ اسے  
 کا نہہ پیغمبر اہ مگر تمی زیوہ کلام تہ بیان کرہ و ن یوسہ ہندہ قوچ زیو آس بیٹھ سووارہ تمن بیان کرہ خدایہ  
 سند احکام فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ منہ کر تھ تہ کس اللہ تعالیٰ یرشان چھو تہس چھو ٹمراہ  
 کران۔ سو چھو نہ تم احکام مانان کس یرشان چھو تہس چھو تہ ہوان راہ راستس کن۔ سو چھو تم احکام  
 قبول کران تہ مانان وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سوی چھو غالب تہ حکمتہ و ول وَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا بے  
 سوز اسے موسیٰ علیہ السلام پن آیات ہتھ۔ اَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ حکم کوزس اسے کہ  
 کڈن پنن قوم ٹرہ چو گو منزہ ایمانہ کس نورس کن وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِنَا اللَّهُ بے پاوکھ ژیتس نعمون تہ  
 مہربائین ہندوہ بے تکلیف تہ مصیبتن ہندوہ اِن فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ پز پناٹھ تھ ژیتس  
 پاوکھ منز چھہ بڈ نشانہ پر ہتھ صبر کرہ و نہ تہ شکر کرہ و ن سندہ خیطرہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِذْ كُرُوا  
 نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ بے پاو و ژیتس یلہ موسیٰ علیہ السلام ن ڈوپ پنہ کس  
 قومس ای قوم یاد کتر و خدایہ سز نعمت یوسہ توہہ عطا کر تہ یلہ نانا جات دیت تہ نوہ فرعونہ سندہ قومہ نغیرہ  
 یسومونکم سوء العذاب تم توہہ واتاوان آس کڈر عذاب وَيَذِّكُّونَ أَبْنَاءَهُمْ مَارَان آس  
 تھندین بچوین وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ بے آس زندہ تھوان تھنن کورین سمہ بڈ تھ زاننہ پن و فی  
 ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ آتھ منز آس تھندہ خیطرہ بڈ آزمائش تھندس پروردگارہ سندہ طرفہ وَإِذْ



وَيَذَّبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ  
 مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۖ ﴿٦﴾ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ  
 لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۗ ﴿٧﴾ وَقَالَ  
 مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا أَنْتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَأَن  
 اللَّهُ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ ۙ ﴿٨﴾ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ  
 قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثمودَ ۗ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ أَتَىٰ  
 يَعْلَهُمُ إِلَّا اللَّهُ جَاءَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا

تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ یہ کمر و یاد کی بنی اسرا ئیلو یلہ عام اعلان کور تہید  
 پروردگار ان اگر تہہ شکر گزار ی کمر و تلہ ہر رواوہ بو نعمت و لکن کفر تہہ ان عذاب ل شددید ہر گاہ  
 کفر ان نعمت کمر و تلہ چھو میون عذاب سیٹھاہ سخت۔ سو سخت عذاب گو نعمت اتھہ بن۔ وَقَالَ مُوسَىٰ  
 إِنَّ تَكْفُرًا أَنْتُمْ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا یہ فر مو موسیٰ علیہ السلام پنہ نس قومس، ہر گاہ تہہ  
 کفر کمر و یافر ان نعمت کمر و تہہ تہہ تم ساری زمینس منز چھہ جتوتہ انسانو آندرہ کانہہ پرواہ تھونہ تمیک  
 فَإِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَمِيدٌ کیا زہ اللہ تعالیٰ چھو بالکل بے نیاز تمام مخلوقن نشہ۔ سو چھو سزوار ہر حمد و ثنا  
 حمد پشس کانہہ یامتہ د پشس اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ای کافر و کیاہ توبہہ چھنا و اثر مثر خبر  
 تمکن لوکن ہنز تم توبہہ برو تھہ آس قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثمودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ مثلاً نوح  
 علیہ السلام سندہ قوچ، یا قوم عاد، ہود علیہ السلام سندہ قوچ یا قوم ثمود، صالح علیہ السلام سندہ قوچ  
 خبر۔ یہ تمکن لوکن ہنز تم تمکن پتہ آی لَا يَعْلَهُمُ إِلَّا اللَّهُ تم آس بے شمار۔ حیت زہ تہندہ گریند  
 زانہ نہ بہ تفصیل کانہہ تہہ خدا نس و رای جَاءَهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ تمکن نشہ وات پیغمبر تہنزہ نہ  
 دلیلہ ہتھ، خدا یہ سزہ کتابہ ہتھ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي آفْوَاهِهِمْ کس و اتا و تموا تھہ پن تہندین آس

أَيْدِيهِمْ فِي آفْوَاهِهِمْ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ  
 وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ ④ قَالَتْ رُسُلُهُمْ  
 إِنِّي إِلَهُ شَكِّ فَأَطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدُ عُوْكُمْ  
 لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ⑤  
 قَالُوا إِنَّا أَنْتُمْ الْإِنشَرُ مِثْلُنَا تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا  
 عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا فَآتُونَا بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ ⑩  
 قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن سَخُنُ الْإِنشَرُ مِثْلَكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ

اندر یعنی تم کره ناو که ژھوپ۔ وندہ ڈیت، بکھ نہ کینہہ۔ وَقَالُوا إِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ دینہ لگ  
 اس چھہ انکار کران تھہ ساری یہ بہتہ تہہ سوزنہ آمت چھوہ یعنی توحید و ایمان وَإِنَّا لَفِي شَكِّ مِمَّا  
 تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ بیہ چھوہ اسہ شک تمہہ دینک سچہ کُن اسہ تہہ نادووان چھوہ کس شک ترد و پیدہ  
 کرہ ون چھوہ قَالَتْ رُسُلُهُمْ إِنِّي إِلَهُ شَكِّ تہند یو پیغمبر دووان تمن کیاہ معبود برحقس منزتہ چھا شکی  
 تہہ نہ نہ ہرگز کیا زہ تہندہ توحید چہ دلیلہ ہتھہ ظاہر تہہ فَاَطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کس کس پیدہ کرہ  
 ون چھوہ آسان تہ زمین ہند یَدُ عُوْكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ سوی چھوہ توبہ نادووان ایمان کُن  
 تہ اسلام کُن سچہ توبہ برو تھہمن گنہن مغفرت کرہ وَيُؤَخِّرَكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى بیہ سچہ مہلت  
 دیہ توبہ عمرہ ہندس اکس مقرر کرنہ آتس و قس تان قَالُوا إِنَّا أَنْتُمْ الْإِنشَرُ مِثْلُنَا تم لگ دینہ تہہ  
 چھوہ نہ مگر آس ہوانسان۔ توبہ اندر کیاہ زیادتی چھہ سیمہ سبت اس تہندون مانو تُرِيدُونَ أَن تَصُدُّونَا  
 عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا بظہر چھوہ تہہ یڑھان اسہ پتھہ رُن تمن معبودان ہنزہ عبادتہ نشہ یمن ہنزہ  
 عبادت سان مال بڈ بب کران آس۔ ہر گاہ فی الحقیقت تہہ پوز و نان چھوہ فَآتُونَا بِسُلْطَنٍ مُّبِينٍ  
 تلہ انو اسہ نشہ کانہہ ن دلیلاہ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِن سَخُنُ الْإِنشَرُ مِثْلَكُمْ تمو پنہ نیو پیغمبر دووان بکھ

عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ  
 إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱۱﴾ وَمَا لَنَا إِلَّا  
 نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا ۗ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا  
 أَذِيتُنَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿۱۲﴾ وَقَالَ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا الرُّسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوْدَنَّ فِي مِلَّتِنَا  
 فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ ﴿۱۳﴾ وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ  
 مِنَ بَعْدِهِمْ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعَبَدَ ﴿۱۴﴾ وَاسْتَفْتَحُوا

بے شک اس چھنہ مگر تو ہی ہو انسان وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لیکن اللہ تعالیٰ چھو  
 پن فضل سے مہربانی کران پنہ نیو بندو آندرہ نس پیٹھ یڑھان چھو وَمَا كَانَ لَنَا أَنْ نَأْتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ إِلَّا  
 بِإِذْنِ اللَّهِ سانس اختیار س منز چھنہ یہ تھہ کہ اُس کیاہ اُو توہہ نشہ پائے کانہہ دیلاہ ان خدایہ سدہ  
 حکمہ وراے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ باایمان ہڑہ خدایہ سی پیٹھ توکل کرن وَمَا لَنَا إِلَّا  
 نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا اُسہ کبہہ چیز ہیکہ پتھ رتھہ خدائس پیٹھ توکل کرنہ نشہ۔ حالانکہ  
 اسہ باوہ تمہی سارے رڑہ ورتہ۔ تمن منز دنیاو آخر تک نفع چھو۔ ہر گاہ توہہ سون وٹن ناپسندیتھ اُسہ توہ  
 تکلیفی دیو کانہہ غم چھونہ وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا أَذِيتُنَا اُس گرو ضرور صبر تھندین سارنی تکلیفن پیٹھ  
 وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ توکل کرن والین ہڑہ خدایہ سی پیٹھ توکل کرن وَقَالَ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا الرُّسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوْدَنَّ فِي مِلَّتِنَا بیہ دُوپ کافر و پنہ نین پیغمبرن اُس  
 کدوہ تہہ ضرور پنہ نیو شہر و منزہ نتہ پھیر و واپس سانس دیش گن۔ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ  
 الظَّالِمِينَ \* وَلَنُسَكِّنَنَّكُمْ مِنَ بَعْدِهِمْ پس سوز اللہ تعالیٰ ان وحی تمن پیغمبرن گن کہہ پروانہ سز و  
 کینہہ یو چھوس قسم باو تھ فرماوان کہ بوگا لکھ سم ظالم۔ تھندہ گالنے پتہ بساودوہ تھی تھندین شہرن اندر

وَحَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ ۝۱۵ مِّنْ وَّرَآئِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ  
صَدِيْدٍ ۝۱۶ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ  
مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ط وَمِنْ وَّرَآئِهِ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ۝۱۷ مَثَلُ الَّذِيْنَ  
كَفَرُوْا اِبْرٰهِيْمَ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اِسْتَدَّتْ بِه الرِّيحُ فِى يَوْمٍ عَاصِفٍ  
لَّا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ ۙ ذٰلِكَ هُوَ الصَّلٰى الْبَعِيْدُ ۝۱۸  
اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ اِنْ يَّشَآءُ يَهْبِكُمْ

ذٰلِكَ لِيَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعَبَدَ ۝۱۵ مِّنْ وَّرَآئِهِ جَهَنَّمُ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ ۝۱۶ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ ط وَمِنْ وَّرَآئِهِ عَذَابٌ غَلِيْظٌ ۝۱۷ مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِبْرٰهِيْمَ اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اِسْتَدَّتْ بِه الرِّيحُ فِى يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ ۙ ذٰلِكَ هُوَ الصَّلٰى الْبَعِيْدُ ۝۱۸ اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ اِنْ يَّشَآءُ يَهْبِكُمْ

جواب دہی خیطرہ وودنہ روزئس۔ بیہ کھوڑہ میانہ عذابکس وعیدس **وَأَسْتَفْتُوا وَحَابَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيْدٍ** توپتہ مچ فتح پیغمبر و۔ اللہ تعالیٰ ان کمر ترمین فتح عطا۔ توپتہ گو تہند پر ہتھ کاہنہ سرکش دشمن نا امید تہ خوار **مِنْ وَّرَآئِهِ جَهَنَّمُ** تئس جہار عیدہ سندرہ خیطرہ چھوڑنیوی عذابہ علاوہ بروٹھ نار جہنم ہتھ منز تم واتن۔ **وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيْدٍ** بیہ بیہ چاونہ سوتتہ جہنم منز سو آب ہتھ سیت جہنم ہند پیل تہ پاک آسہ **يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِيغُهُ** دامہ دامہ آسہ سو چوان سخت یوٹھ آسہ موکھ۔ سو آسہ نہ تہہ ٹیکتھی ہیکان۔ پھکہ لدتہ بد مزہ آسہ موکھ **وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ** بیہ آسہ تئس موج سختی محسوس سپدان بدنہ منزہ پر ہتھ جاہیہ۔ والہ گڈو منزہ تان **وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ** مگر مران آسہ نہ **وَمِنْ وَّرَآئِهِ عَذَابٌ غَلِيْظٌ** خمہ پتہ تہ آسہ امہ خوتہ سخت عذاب **مَثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِبْرٰهِيْمَ** مثال ترم لوکن ہنز سمو انکار کور تہ مفر کور پنے ئس پروردگار س **اَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اِسْتَدَّتْ بِه الرِّيحُ فِى يَوْمٍ عَاصِفٍ** تہنزہ رڑہ عملہ پھہ تہہ سورہ ڈیرس ہشہ ہتھ واوہ ہکراوہ سخت واوکہ دوہہ۔ **لَّا يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلٰى شَيْءٍ** تم بیہ کہ نی نہ ترم محلن ہند کاہنہ فاسیدہ حاصل کمر تہہ **ذٰلِكَ هُوَ الصَّلٰى الْبَعِيْدُ** بیہ گنیہ دور و دراز گمراہی یوسہ رشڈو ہدایہ نشہ سیٹھاہ دور چھہ۔ **اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ** تہہ چھو کھنا وچھان ای وچھہ ونہ کہ پز پاٹ اللہ تعالیٰ ان کمر آسمان تہ تہ زمین تہ پیدہ۔ ہنز پاٹھ

وَيَاتِ بِمَخْلِقٍ جَدِيدٍ<sup>(۱۹)</sup> وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ<sup>(۲۰)</sup>  
 وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعْفُؤُ اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا  
 كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ  
 شَيْءٍ ط قَالَ أَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنِكُمْ سُوءَ آءٍ عَلَيْنَا آجْرِنَا أَمْ  
 صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ<sup>(۲۱)</sup> وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِمَ أَقْبَضَهُ الْأَمْرُ  
 إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ

یہ سیت تہند قادر مطلق آسن ثابت سپدان چھو اِن تَشَاءُ اِنْدَہُنْکُمْ وَيَاتِ بِمَخْلِقٍ جَدِيدٍ ہر گاہ سو  
 یزہیم توہمہ سارنی گرہ فنا۔ تو پتہ کرہ پیدہ توہمہ بدل بین مخلوقن وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ یہ تمہ  
 چھنہ نس نشہ کینہہ دشوار وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا بیہ نیرن قیامتک دوہ قبر منزہ ساری مخلوق خدا نس  
 بروئھ کنہہ جمع سپدنہ خیطرہ۔ فَقَالَ الضُّعْفُؤُ اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا تا تابع لو کہ زورا  
 وارن تہ زٹھن اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا بیشک آس آس ناؤ نیاس اندر توہمہ تابع فَهَلْ أَنْتُمْ مُّغْنُونَ عَنَّا  
 مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ نس بیو کہ تہہ از خدایہ سدہ عذابہ نشہ کانہہ حصاہ آسہ نشہ دور کتر تھہ قَالَ  
 لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهْدَيْنِكُمْ تم زٹھہ ڈپنکھ ہر گہے آسہ رٹو تھہ ہاو مثر آسہا اللہ تعالیٰ ان ضرور ہاوہ ہووہ اس  
 توہمہ تہ سوی و تھہ سُوءَ آءٍ عَلَيْنَا آجْرِنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ برابر چھو وون آسہ جزع و فزع  
 کرو آس یا صبر کرو آس بہر حال چھنہ آسہ مؤ کلخ کانہہ صورتھہ اسمہ عذابہ نشہ وَقَالَ الشَّيْطَانُ بیہ  
 ویکھہ شیطان لِمَ أَقْبَضَهُ الْأَمْرُ تمہہ وقتہ اسمہ حکم خدا جاری سپدہ جتین ہندہ خیطرہ جتس منز و اتیک  
 جتھن ہندہ خیطرہ جتھنس منز و اتیک۔ تو پتہ لگن ساری جتھنی الییس ملامت کرنہ۔ سو ڈپکھہ اِنَّ اللَّهَ  
 وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ پتر پاتھہ اللہ تعالیٰ ان فرما یو وہ توہمہ وعدہ۔ سوی پوز  
 وعدہ بیہ کرمہ تہ تہہ سیت وعدہ مگر سو در او ایز وعدہ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ بیہ آسہ نہ مہ  
 نشہ توہمہ پیٹھ کانہہ دلیلہہ تہ تجھہہہ یا طاقہہ تہ غلبہہ اسمہ سیت یو تہہ مجبور کر ہووہ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ

لِي عَلَيْكُمْ مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُمْ فَاَسْتَجَبْتُمْ لِيْ فَلاَ تَلُوْمُوْنِيْ وَلَوْ وَا اَنْفُسَكُمْ مَا اَنَا بِبَصِيْرٍ حَكْمًا وَمَا اَنْتُمْ بِبَصِيْرِيْ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمْ مِّنْ قَبْلُ اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۲۲﴾ وَاَدْخَلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا بِاِذْنِ رَبِّهِمْ وَهُمْ فِيْهَا سٰلِمٌ ﴿۲۳﴾ اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ ﴿۲۴﴾

فَاَسْتَجَبْتُمْ لِيْ صرف سُدّ یعنی کہ مہر دیت تو بہ کفرس کن ناد۔ تو بہ کمر وہ تھ سو چنہ ورا ی اجابت تسلیم فَاَلَا تَلُوْمُوْنِيْ وَلَوْ وَا اَنْفُسَكُمْ کس نہ کمر و تہہ مہر تج ملامت بلکہ کمر و ملامت پنہ نین پانن مآ اَنَا بِبَصِيْرٍ حَكْمًا وَمَا اَنْتُمْ بِبَصِيْرِيْ وون بی کو وہ نہ بو تہہ عذابہ بشرہ موکلا و تھ کیا زہ تو بہ کمر وہ میانس و نہس پیٹھ عمل خدایہ سند فرمان مونوہ نہ۔ نہ بی کو تہہ مہر عذابہ بشرہ موکلا و تھ۔ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمْ مِّنْ قَبْلُ یو جھوس انکار کران تہ اظہار بیزاری کران تہندس مہر شریک خدایانہ نس پیٹھ از کہ برو تھ دنیا س اندر اِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ بیٹھ تھہ اندر چھو نہ کاہہ شک کہ مثر کن ہندی خیطرہ چھو کڈر عذاب وَاَدْخَلَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ بیہ بین و اتاؤ نہ تم لو کہ سمو ایمان اون بیہ کر کیر رتہ عملہ تمن جتنن اندر سمو منز جو بیہ پکان آسن خلدین فیہا یادین رَبِّهِمْ ہمیشہ روزن تمن جتنن اندر خلدیہ سدہ ححمہ سیت بیٹھتھہم فِیْہَا سٰلِمٌ دعا تہند آسہ جتنن اندر بلقظ سلام۔ دنیا س منز چھہ سلام سلامتی ہند دعا جتنن اندر آسہ سلام سلامتی ہند مہار کباد۔ تمن جتنن بیہ تھہ پاٹھ سلام کرنہ۔ السلام علیکم اَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ اَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ کیاہ تو بہ چھنا معلوم کہ اللہ

تُوْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ يَا ذُن رِبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ  
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۲۵﴾ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ  
 خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ ﴿۲۶﴾  
 يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
 وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ﴿۲۷﴾  
 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ

تعالیٰ ان رکوعہ رثہ موجع مثال کمر بیان کلمہ طبع یعنی کلمہ توحید پر۔ فرمود ان کہ سو چھو افس رتس نہ پاکیزہ کلس ہیو۔ تمہ اندرہ چھو مراد خضر کل۔ میوک مول چھو محکم ز مینس منز۔ سبک شاخ چھہ آسان اندر تُوْتِي أَكْلَهَا كُلَّ حِينٍ يَا ذُن رِبِّهَا لیس پن میوہ چھو دو ان پر بیتھ فصلس اندر خدایہ سندہ حکمہ سیت۔ بیتھ پاٹھ چھو کلمہ توحید لالہ الا اللہ امیک مول یعنی اعتقاد لیس با ایمانہ سندس دلس اندر مضبوط نہ محکم چھو۔ امہ کلک شاخ گئے رثہ عملہ سمہ اتھ ایمانس پیٹھ مرتب چھہ سپان۔ سمہ قبولیتھ در گاہہ اندر آسان کن واتان چھہ۔ تو پتہ چھو تھ پیٹھ رضای الہیک دایمی میوہ لگان و یَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ بیہ چھو اللہ تعالیٰ امہ قسجہ مثالہ بیان کران لوکن ہندہ خیرہ بیتھ تم معانی مقصودہ وارہ بوزن وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ بیتھ نہ گندہ کلچ مثال چھہ۔ بیتھ کلچ مثال۔ یعنی شر سمہ کلچ مثال چھہ تمہ بیتھ کلچ مثال بیتھ نہ ز مینس منز مول لچھہ آسہ۔ سو آسہ زمینہ منزہ پیٹھ بیٹھی مولہ نیران۔ سو کھہ نہ قرار آسہ نہ تھہ کلس عنہ جابہ۔ سو گویدہ وانکن يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ مضبوط چھہ اللہ تعالیٰ کران با ایمان تمہ مضبوط کلمہ سیت (یعنی کلمہ توحیدہ سیت) دنیا چہ زندگی منزتہ آخرتہ زندگی منزتہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ گمراہ چھو کران ظالمین یعنی کافرین تمہ مٹوس نہ گندہ کلمہ سیت وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ بیہ چھو سوتی کران یہ یرھان چھو أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ

دَارَ الْبُورِ ۲۸ جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا وَيُسُّ الْقَرَارَ ۲۹ وَجَعَلُوا لِلَّهِ  
 اِنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ ۳۰ قُلْ تَسْعُوا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ  
 اِلَى النَّارِ ۳۱ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ  
 وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَعَلٰنِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ  
 يَّآتِيَ يَوْمٌ لَا بَئِعُ فِيْهِ وَلَا خِلَافٌ ۳۲ اِنَّهُ الَّذِيْ خَلَقَ  
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ  
 مِنَ الشَّجَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ

لَقَدْ اَوَّلٰكُمُا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبُورِ آیا توبه و جهنم تا کن لو کن کن یعنی مک کین کافر کن ستمو نعمتو شکر  
 گذاری بدل هر ان نعمت کوریه و اتوو که قوم بنن هلاکت کس گرس منز - کیازه تمن ته کر که گفرج تعلیم  
 جَهَنَّمَ يَصَلُّونَهَا وَيُسُّ الْقَرَارَ سو گو جهنم یتھ منز تم و ائن - کاژاه یتھ جای جهه سو قرار ج  
 وَجَعَلُوا لِلَّهِ اِنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ بیه ٹھہراو ستمو معبود بر حقش شریک - یتھ لو کن ڈاکن تنزه  
 وَتَرٰ نَسْرَهُ قُلْ تَسْعُوا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ ٹہہ فرماو کہ یارسول اللہ تلو متع دنیاء س اندر کینہہ  
 کالاه گرس پیٹھ روزنه سیت - پزپاٹ بہر حال جھو توبہ یتولا کہ وائن ناری کن قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا  
 يُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ٹہہ فرماو میانین بالیمان بندن کہ تم کرن خدایہ سزین نعمون شکر گذاری - یتھ پاٹھ  
 کہ تم تھاو ان برپانماز باندی سان وَيُنْفِقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَعَلٰنِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّآتِيَ يَوْمٌ  
 لَا بَئِعُ فِيْهِ وَلَا خِلَافٌ بیه کرن خرچ تمہ مالہ منزہ بس اسی تمن عطا کور پو شیدہ پاٹھ ته ن پاٹھ ته سو دوہ  
 بینہ بروٹھ ستمہ دوہہ نہ خریدو فروخت آسہ نہ دوستی ہند سلسلہ آسہ اَنَّهُ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ  
 وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَاَخْرَجَ بِهٖ مِنَ الشَّجَرٰتِ رِزْقًا لَّكُمْ معبود بر حق گو سوی ستم  
 آسمان ته زمین پیدہ کر - بیه ستم آسہ کہ طرفہ ترورود بس کنڈن تمی سیت میوہ ته پھل - سوی کوزن ٹہند



يَا مِرَّةٌ وَسَخَّرْ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۚ وَسَخَّرْ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ  
 دَائِبِينَ ۚ وَسَخَّرْ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ وَاتَّكُم مِّن كُلِّ مَا  
 سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ  
 لَقَلْبُورٌ كَفَّارٌ ۙ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا  
 الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۗ ۝۳۵  
 رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ ۗ فَمَنْ

رزق وَسَخَّرْ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ يَا مِرَّةٌ وَسَخَّرْ لَكُمُ الْأَنْهَارَ یہ تھو این تہندس اختیارس  
 اندرناوہ تہ جہاز۔ مٹھ تہمہ تہندی حکمہ سیت دریاون اندر اورہ یور رکن۔ یہ کرن تہندس اختیارس اندر  
 کولہ جو یہ تہ دریاؤ وَسَخَّرْ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبِينَ یہ کرن تہندہ نفعہ خیطرہ مسخر آفتاب تہ  
 زون سم ہمیشہ پکان چھہ پنہ کامہ سیت وَسَخَّرْ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ یہ کرن مسخر تہندہ نفعہ خیطرہ  
 رات تہ دوہ وَاتَّكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ یہ دیت نوہ توہمہ تمہ منزہ یہ توہمہ موگوکس پنہہ پڑھہ موجب  
 وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا یہ ہر گاہ تہہ شمار تہ گرنیدہ ہو کرن خدایہ سز ن نعمون تہہ ہی کو نہ  
 تمہ شمار کتر تہہ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَقَلْبُورٌ كَفَّارٌ پنہ پاٹھ انسان چھو سخت بے انصاف ناشکر گزار وَإِذْ  
 قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا یہ پاوور تیس یلہ ابراہیم علیہ السلام حضرت  
 اسماعیل تہ حضرت ہاجرہ خدایہ سہہ حکمہ میدان مکس منزانتہ تہ تراو۔ ٹھی وقتہ مٹھو کھ دغا۔ ای میانہ  
 پروردگارہ یہ شہر (یعنی متحد شریف) کرتن آمنہ اول شہراہ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ یہ  
 تھو تہ دورمہ تہ میانین خاص اولادان تہ پوتلین ہنز عبادت کرنہ لغہ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا  
 مِّنَ النَّاسِ پروردگار پنہ پاٹھ ڈال سمو پوتلیو واریاہ لوکھ۔ یعنی سم بنیای تہنزہ گرائی ہند سب  
 فَمَنْ تَعْبَتِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ كَافِرٌ تَّجِيمٌ ووان سم سمو اندرہ  
 میان متابعت تہ پیروی کتر سوہ چھو میون یہ سم میان نافرمانی کتر، ڈہ کرن ہدایت کتر تھ مغفرت۔ کیا زہ

تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳۶﴾ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زُرْعَةٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ ﴿۳۷﴾ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴿۳۸﴾ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

بے شک تُوہ جھوک سیٹھاہ مغفرت کرہون سیٹھارحم کرہون رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زُرْعَةٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ پروردگاراپہن پانٹھ مہ بسوون پن فرزند اسماعیل علیہ السلام تہندہ واسطہ تمسند اولادیتھ میداںس منزئس نہ زراعتہ وول جھوچانس تعظیمہ والس گھرس خانہ کعبس محفلئس برونٹھ پیٹھ یتس موجوداوس یتھ لوکھ ہمیشہ تعظیم وادب کران روزن۔ پنن فرزند بسوومہ آٹھ محفل رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ پروردگاربتھ تم نماز برپاتھاون نمازہ ہند خاص اہتمام کرن۔ ویکن جھویہ میداں خشک، بالکل بے آب وگیاہ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ لیس کرژہ بعضی لوکن ہمدول مائیل تمن کن۔ یتھ تمن سیت آبادسڈن۔ چونکہ یتھ جھونہ زراعت وغیرہ کینہہ تہ لہذا وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ کھیاوکھ تم میوہ پنہ قدرتہ سیت یتھ چان شکرگذاری کران رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِنُ پروردگارلیہ سون دُعا جھو محض محتاجی تہ عبوونئس پیٹھ مہنی ورنہ ژہ جھوکھ زانان تہ سوروی یہ اس پوٹھیدہ تھوان جھہ بیہ تہ سوروی یہ اس ظاہر کران جھہ۔ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ یتھ جھونہ پوٹھیدہ اللہ تعالیٰ اس نٹھہ کاہنہ چیزاہ زمینس اندرتہ آساںس اندر الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ

وَهَبْ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ  
 الدُّعَاءِ ﴿۳۸﴾ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي  
 رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ﴿۳۹﴾ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ  
 وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿۴۱﴾ وَلَا تَحْسَبَنَّ  
 اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۗ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ  
 لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ﴿۴۲﴾ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي  
 رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفِئْتُهُمْ هَوَاءَ ﴿۴۳﴾

لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ حمد یونین کس معبود بر حقس سم مه عطا کر بدتھ زه فرزند۔ اکھ  
 اسمعیل یلہ بونمتہ وراوس۔ بیاکھ فرزند اسحاق یلہ بواکھ بت تہ باوہر اوس (۱۱۲) إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ  
 پز پاپٹ میون پروردگار چھو سیٹھاہ بوزہ ون مگنس۔ یعنی دعا قبول کرہ ون۔ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ  
 الصَّلَاةِ پروردگار امہ گرتہ نماز گزار و مِنْ ذُرِّيَّتِي بپہ کر مچھ میانو فرزند و اندرہ تہ بعضی نماز گزار  
 رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ پروردگار اپہ کرتہ میان سم دعا قبول رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ  
 وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ پروردگار امغفرت کر میانس ماس ماجہ بپہ سارنی با ایمان  
 سمہ دہہ حساب قاسم سپدہ یعنی قیامتگ دہہ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ بپہ مہ  
 کر ژہ گمانہ اکی مخاطب اللہ تعالیٰ ماچھو بے خبر تمہو کامیوشہ سمہ کلمہ کافر تہ مشرک کر ان چھہ اِنَّمَا  
 يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ سوچھونہ تمن مہلت ووان مگر تھہ دوہس تان سمہ دہہ  
 درہ لگن تمن لوکن ہنزہ اچھہ تمہ دُک خوفناک تہ خطرناک عذاب و مہمت مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي  
 رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفِئْتُهُمْ هَوَاءَ دوران آسن تم حسابہ کس مو قفس کن کلمہ  
 پن تھو در تھہ۔ اچھہ آسکھہ وٹنے یوان تم آسکھہ درہ لجموہ ہیورگن۔ بپہ آسکھہ دل خالی عقلہ نشہ۔ بالکل

وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ لَّسُبِّ دَعْوَتِكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ أُولَٰئِكَ تَكُونُوا آقِسْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَمْ مِنْ زَوَالٍ ۖ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِينِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ ۖ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرَهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرَهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ ۖ فَلَا تَحْسَبَنَّ لِلَّهِ فُجُوفًا

بدحواس آسن گامت وَأَنْذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ بیه کھوژہ ناویو کھ نجه لوکھ یارسول اللہ تته دوہس سمہ دوہہ سم پٹیہ عذاب ولتر فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخْرِنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ عذاب وچھتھ ون سم ظالم پروردگار اہملت وتہ آسہ کم کالس تان نَجِبُ دَعْوَتِكَ وَتَتَّبِعِ الرَّسُولَ تته مدتس اندر کرہ ہو آس تہ سوزوی یہ ژہ فرماوہکھ۔ بیه کرہ ہو متابعت تہ پیروی چانین پیغمبرن ہنز۔ ومنہ ایک اسہ دژایہ نا توہہ ذنیاعس اندر پور اہملت أُولَٰئِكَ تَكُونُوا آقِسْتُمْ مِنْ قَبْلِ مَا لَمْ مِنْ زَوَالٍ کیاہ نجه آسوہ ناقسم ہاوان ازکہ برونھ ذنیاعس اندر کہ تودہ چھونہ ذنیاندہ نیر نوئی زانہہ وَسَكَنْتُمْ فِي مَسَاكِينِ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ بیه آسوہ نا نجه ہسان تھن لوکن ہندین شھرن اندر سمو ظلم کورپان پانس سان نا فرمانی کمر تھه وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ بیه نیندوہ نا توہہ آسہ کیاہ معاملہ کور تھن سمیت۔ اتھه نا فرمانی پٹیہ کئیہ سزادیت اسہ تھن لوکن وَضَرَبْنَا لَكُمُ الْأَمْثَالَ بیه کرہ نا سہ بیان تودہ تھزہ مثالہ تہ تھدہ قصہ وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرَهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرَهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ پز پاٹھ سمو کریای پن ساری تدبیر بیشک تمہ قسمک سمو سمیت کوہ تہ پنہ جایہ ڈلہ ہن مگر تم ساری تدبیر سپد بیکار فَلَا تَحْسَبَنَّ لِلَّهِ فُجُوفًا وَعِدَّ رَسُولُهُ ای مخاطبہ ژہ منہ گر ہرگز یہ گمان کہ اللہ تعالیٰ کیاہ چھو بدل کرہ ون پنہ نس وعدس نس تم پنہ نین پیغمبرن سمیت کور إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ پز پاٹھ اللہ تعالیٰ چھو غالب انتقام ہینہ وول۔ نس ہیچہ نہ پتھ رتھه انتقام تہ بدلہ ہینہ نشہ کاہنہ۔

وَعْدِهِ رَسُولَهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ ﴿۳۶﴾ يَوْمَ تَبَدَّلُ الْأَرْضُ  
 غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ﴿۳۷﴾ وَتَرَى  
 النُّجُومَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿۳۸﴾ سَرَّابِلُهُمْ مِّنْ  
 قَطْرٍ أِنَّ وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ ﴿۳۹﴾ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا  
 كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۴۰﴾ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا  
 بِهِ وَيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿۴۱﴾

غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ سمہ دوہہ بدلاوہ پیہہ یہ زمین میں زمین سے سمیت بیہ یہ آسمان میں آسمان  
 سمیت وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ساری لو کہ نیرن پنہ نیو جایو اندرہ کئس قہرہ والس خدا کس بروئھ  
 کنہ جواب دنہ خیترہ وَتَرَى النُّجُومَ يَوْمَئِذٍ مُّقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ بیہ وچھو کہ توہہ نافرمان ہا لکن  
 تہ تھہ کرین منزاکہ اکس سمیت بند کرنہ آمت۔ سَرَّابِلُهُمْ مِّنْ قَطْرٍ کز تہنہ تہنہ آسن تار کولچہ  
 وَتَغْشَىٰ وُجُوهُهُمُ النَّارُ ولہ تہندین تھین نار۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ بیٹھ اللہ تعالیٰ  
 بدلہ دیہہ پریتھہ اکس جرمس تمہہ سارہ گوی یہ تم کورمت آسہ دنیاء س اندر إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ  
 پنز پاٹھ اللہ تعالیٰ چھو جلد حساب ہیوہ ون۔ هَذَا بَلَاغٌ لِلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوا بِهِ وَيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ  
 وَاحِدٌ وَلِيَذَّكَّرُوا أُولُو الْأَلْبَابِ یہ قرآن مجیدیہ سورہ شریفہ چھو کافی نصیحتہ خیترہ بیہ بیٹھہ تمہہ  
 سمیت بیم کرنہ بیہ۔ بیہ بیٹھہ تم زان اللہ تعالیٰ چھو معبود برحقہ گوی۔ بیہ بیٹھہ امہ سمیت نصیحت زلن عقلہ وال۔

## سُورَةُ الْحَجَرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 الرِّقَّةَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ ①  
 رَبِّمَا يُؤَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ②  
 ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهُمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ  
 يَعْلَمُونَ ③ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا كِتَابٌ  
 مَعْلُومٌ ④ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ⑤

الر - اسم چھ حروف مقطعات سے منہ ہندہ معنی چھ خدایہ سی خبر تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ  
 مُبِينٍ اسم چھ آیات سے کتابہ ہندہ - بے روشن قرآن مجید ک۔ رَبِّمَا يُؤَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا  
 لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ یتھ قیامتک دوہ سپدہ ، کافر آسن واریاہ قسمہ کین عذابن منزبتلا۔ تھی وقتہ  
 کرن پھیر پھیر تمنا، کونہ آس آس سے مسلمان۔ سمہ سمہ سمہ سمہ سمہ سمہ سمہ سمہ سمہ سمہ سمہ  
 سمہ  
 ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهُمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ تر او یو کہ تم پنہ نس حاس پیٹھ کھین وارہ پاٹھ۔ بے نکل تمنع مال دنیاک۔ غافل سے اور چھ  
 کران تمن زبٹھ آرزو سے بڑھ مٹوبہ۔ نس بروٹھ پہن زانن تم پائے۔ مڑ تھی سپدہ تمن حقیقت حال  
 معلوم وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ بے کمر نہ اسہ ہلاک کئے شہر ک لو کہ۔ مگر  
 تہندہ خیطرہ اوس ہلاکتک وقت لیکنہ آمت، مقرر کرنہ آمت۔ تھی سببہ چھنہ یکن سے نافرمانی پیٹھ فوراً  
 سزایوان دنہ۔ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجْلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ کانہہ امتاہ گڑھنہ بروٹھ پنہ نس مقرر  
 کرنہ آقس و قس نہ گڑھہ پٹھ۔ پٹھ پاٹھ سمہ سمہ سمہ سمہ سمہ سمہ سمہ سمہ سمہ سمہ سمہ سمہ سمہ سمہ

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ﴿۶﴾ لَوْ  
 مَا تَأْتِينَا بِالْمَلِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۷﴾ مَا نُنزِلُ  
 الْمَلِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذًا مُنظَرِينَ ﴿۸﴾ إِنْ أَنْحَنُ  
 نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ﴿۹﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ  
 قَبْلِكَ فِي شِعْرِ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۰﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا  
 كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۱۱﴾ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ﴿۱۲﴾  
 لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةَ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۳﴾ وَلَوْ فَتَحْنَا

شُرور وَاوایا ایھا الذی نزل علیہ الذکر انک لمجنون ۶ بے لگ نہینہ منک کافر توہہ یار سول  
 اللہ، اے شخص کس پیٹھ نازل آو کر نہ قرآن، بے شک چھٹھ ژہ موت نہ دیوانہ۔ ژہ چھٹھ نبوتک غلط  
 دعویٰ کران لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلِكَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۷ ورنہ ہر گاہ ٹہہ آتھ دعویٰ اس اندر  
 پر زبر چھوہ۔ تلمہ کونہ چھو کھ اسمہ بروٹھ کن ملائک انان اسم اسمہ نغمہ ٹھند تصدیق کرہ ہن۔ اللہ تعالیٰ چھو  
 فرماوان مَا نُنزِلُ الْمَلِكَةَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۸ اس چھٹھنہ ملائک سوزان مگر فیصلہ ہیٹھہ وَمَا كَانُوا إِذًا  
 مُنظَرِينَ ۹ تھہ صورتس اندر پیہ نہ تمن تمہہ وقتہ مہلت دنہ۔ تمہہ ساتہ چھو تمن ایمان انن یا عند انس  
 گرفتار سپدن إِنْ أَنْحَنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَفِظُونَ ۱۰ بیشک اسی کمر نازل یہ قرآن مجید۔ کج دلیل  
 چھو تمیک مجرہ آسن۔ بیہ چھہ اسی تھہ راجھہ گرہ ون۔ تھہ اندر ہیچ نہ کاہنہ نہ کی کمر تھہ نہ زیادتی کمر تھہ  
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعْرِ الْأَوَّلِينَ ۱۰ پتر پاٹھ سوزہ اسمہ توہہ بروٹھہ تہ یار سول اللہ پیٹھبر  
 بروٹھنن جماتن کن وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۱۱ اوس نہ دیوان تمن نغمہ کاہنہ  
 پیٹھبر مگر تم آس آس استہزاء تہ ٹھٹھہ کران كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۱۲ تھہ پاٹھ چھہ آس  
 انبیاءن ٹھٹھہ کران خیال۔ نافرمان ہندین دلن اندر پیدہ کران لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةَ

عَلَيْهِمْ بِأَبَائِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ﴿۱۲﴾ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ  
 أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ﴿۱۵﴾ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ  
 بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ ﴿۱۶﴾ وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ  
 رَجِيمٍ ﴿۱۷﴾ إِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ ﴿۱۸﴾  
 وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رِوَايَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا  
 مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ ﴿۱۹﴾ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ

الْأُولَئِكَ تَمِ سَبِيه كَرْن نَه تَم پَرَه اَتَه قَر اَن مَجِيْد س يَه نُو كَتَه اَه هَنَه يَه هَتُور س ي رُو دُمَت بَرُو تَهْمِيْنَ  
 لُو كَن هُنَد - لَه زَا مَه سَ دُو تَه اَز دَه تَه غَمَكِيْنَ - تَه مِدَه عَنَا دُج كَيْفِيَت هَتَه زَه مَلَا كِيْنَ هُنَد اَسْمَا كِه طَرَفَه نَا زِل  
 سَ دُن يَه وُسْن تَه اَو تَو اَن هِي - هِر گَاه تَمِي لُو كَه اَسْمَا س يَطِيَه كَه اَرُو كَه تَه پَا تَه كَه - وَ لَوْ قَتَحْنَا عَلَيَّهْمُ بِاَبَائِنَ  
 السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ هِر گَاه اَس مُور اُو د تَه مِدَه خِي طَرَه اَسْمَا كِه دَر وَا زَه تُو پِيَه بِيْن كَه سَن تَم دُو بَلَه  
 (يَمِه وَ قْتَه نَه نَمْدَرَه هُنَد مَوْ قَع اَسِه) تَه مِدَه دَر وَا زَه كَن اَسْمَا س كُن لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ أَبْصَارُنَا تَو تَه يَكْهَنَه  
 پَر هَد دِه نَه لَكُن سَا نَه اِ چَه هَنَه مَ گَر بِنْد كَر نَه اَمْرَه - اَس هَه نَه اَسْمَا س كَه سَا نَه بَلْ كَه هَه اَسِه نَظَر بِنْد ي كَر نَه  
 اَمْر بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ بَلْ كَه هَتُور اَسِه پِي تَه حَر تَه جُو د كَر نَه اَمْت - اَسِه اَمِه عِلَا وَه تَه كِي نَه بَه يَا وْنَه  
 يَه تَه اَسِه اِي يَعْنِي حَر تَه جُو د وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ پَنَز پَا تَه يَه كَمَر اَسِه  
 اَسْمَا ن اَنْدَر بُرُج پِي دَه - يَه كَمَر اَسِه تَم اَسْمَا ن مُزِيْنَ وَ چَه سَن وَ اِلِيْنَ هِنَدَه خِي طَرَه وَ حَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ  
 شَيْطَانٍ رَجِيمٍ يَه كَمَر اَسِه تَه رَا چَه پَر تَه كُ د تَه زَه نَه اَقْس شَيْطَا نَس نَشِه اِلَّا مَنْ اسْتَرَقَ  
 السَّمْعَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ مُبِينٌ مَ گَر يَم شَيْطَا ن ثُو رَه پَا تَه كُن دُو يَت ، كَا نَه خَبْرَا هُو زَن تَمِس هَتُور پِيَه  
 دُو رَا ن رُو شَن تَا ز كَا ه رِي نَه تَرَا وَا ن سَمِه سِي ت سُو شَيْطَا ن هَتُور هَلَا ك سَ دَا ن يَا بَد حُو اَس سَ دَا ن - اِي طَرِي قَه  
 هَه اَس شَيْطَا نَس نَشِه اَسْمَا س حَفَا ظَت كَرَا ن وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رِوَايَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا  
 مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ بِيَه وِه رُو اَسِه زَمِيْنَ هَتَه تَه مَنَز لَكُن اِنْسَا ن تَه حِي وَا نَا ت ، تَه مَنَز تَرَا وَا سِه گُو بَرَه



لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقِينَ ﴿۲۰﴾ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا  
 نُنزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ ﴿۲۱﴾ وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ فَاَنْزَلْنَا  
 مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَزِيرِينَ ﴿۲۲﴾ وَ  
 إِنَّا لَنَحْنُ مُعْتَبِرٌ وَنُيُبِتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ﴿۲۳﴾ وَلَقَدْ عَلِمْنَا  
 الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ﴿۲۴﴾ وَإِنَّ  
 رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿۲۵﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا

تہ ثقہ خیطرہ لنگریختے پڑ پڑ کوه۔ بیہ کھوراسہ تمہ زمینہ منزہ پرستھ چیزاہ میٹھ تہ وزن کمر تھہ وجعلناکم  
 فیہا معاش بیہ کمر پیدہ اسہ اتھہ زمینس منز تھہ خیطرہ زندہ روز نک سامان۔ کھینک چیز تہ چینک  
 چیز، لباس تہ پوشاک وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرِزْقِينَ بیہ کمر اسہ تھہ فایدہ خیطرہ تم مخلوق پیدہ سکن  
 روزی دودہ وان تھہ چھوہ نہ بلکہ چھہ اسی تمن رزق عطا کران۔ تھہ چھوہ تمن نشہ فائدہ تھان ولان من  
 شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ وَأَنْزَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ بیہ چھوہ نہ کابہ چیزاہ از قسم رزق مگر تمک خزانہ  
 ہمد خزانہ چھہ اسی نشہ۔ اسی چھہ تراوان تہ نازل کران مگر اکہ مقدارہ موجب وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ لَوَاقِحَ  
 بیہ چھہ اسی سوزان داویم ہر چھہ کران ابرس آبہ سیتِ فَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ توپتہ  
 چھہ اسی تراوان آسمانک طرفہ رود۔ توپتہ چھہ اس توہہ سیراب کران وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَزِيرِينَ تُوہہ بیہ  
 ہونہ تیوت آب اسی جلیہ جمع کمر تھہ۔ وَإِنَّا لَنَحْنُ مُعْتَبِرٌ وَنُيُبِتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ بیہ چھہ اسی زندہ  
 کران تہ ماران۔ بیہ چھہ اسی ساری مارت پتھ کن باقی روزہ ونِ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ  
 وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ پتھ پاتھ اسہ چھہ خبری توہہ آندرہ برو تھہ گوشہ ونین ہنز۔ بیہ چھہ پتھ  
 پاتھ اسہ خبری توہہ آندرہ پتھ روزہ ونین ہنز وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ پتھ پاتھ  
 تھہ پروردگاری سونہرہ تمن سارنی اولینن تہ آخرینن۔ پتھ پاتھ سوی چھو سیٹھاہ جمتہ وول، سیٹھاہ  
 زان وول۔ اسی چھہ خبر گس مخلوقہ سد کم کم اجزاء تھہ تھہ جلیہ چھہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ

الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ﴿۲۶﴾ وَالْجَانَّ  
 خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُورِ ﴿۲۷﴾ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ  
 لِلْمَلِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ﴿۲۸﴾  
 فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿۲۹﴾  
 فَسَجَدَ الْمَلِكَةُ كُلُّهُمْ أجمعون ﴿۳۰﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ ط ابى أَنْ يَكُونَ مَعَ  
 السَّاجِدِينَ ﴿۳۱﴾ قَالَ يَا بَلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿۳۲﴾ قَالَ  
 لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ ﴿۳۳﴾

صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ بیه کمر اسه پیده پتڑ پاٹھ انسان خشک گامره زبہ۔ بیتھ تر نو تر نو  
 گوہان اوس بیتھ وار تہس کالس آہس منز روزنہ سبب مشک و دشمت اوس وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ  
 قَبْلُ مِنْ نَارِ السُّمُورِ بیه کمر جن پیدہ امہ بروٹھ، نارہ چہ رہیہ بیتھ سمیت زوہ اوس۔ وَإِذْ قَالَ  
 رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ سو وقت یہ ہتھو قابل ذکر یلہ تہند  
 پروردگارن فرمود ملائکین ای ملائکو بو کرن پیدہ اکھ مخلوقہ اکھ سمند پوست نوئے جزوہ رای آسہ تغیر  
 گمہوہ زبہ بوسہ خشک گڑھت دزان آسہ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو  
 پتہ یلہ بوسو مکمل کرن بیه برہ بو تہندس بدئس منز بہن روح تمہ سائہ گڑھہ تہند فوراً اُس کن ٹمن سجدہ کس  
 حالتس اندر روزن میاہہ روجہ تعظیمہ خیطرہ فَسَجَدَ الْمَلِكَةُ كُلُّهُمْ أجمعون تو پتہ یلہ سو وقت دوت  
 ساروی ملائکو دیت سجدہ اکہ وٹہ إِلَّا إِبْلِيسَ مگر دیت نہ سجدہ البیسن ابى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ  
 تم کور انکار سجدہ دنہ والین سیت شامل سپد نہ نشہ قَالَ خدائسن فرموس يَا بَلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ  
 مَعَ السَّاجِدِينَ ای ابلیس ژہ کیاہ سپدوی ژہ سپد کھ نہ شامل سجدہ دنہ والین سمیت قَالَ البیسن دوپ  
 لَمْ أَكُنْ لِأَسْجُدَ لِبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمِإٍ مَسْنُونٍ بو گوس نہ سو شخص بو کیا دمہ سجدہ کس

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ ۝۳۹ وَإِنَّ عَلَيْكَ  
 اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۝۴۰ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ  
 يُبْعَثُونَ ۝۴۱ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۝۴۲ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ  
 الْمَعْلُومِ ۝۴۳ قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي  
 الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۝۴۴ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ  
 الْمُخْلِصِينَ ۝۴۵ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۝۴۶ إِنَّ  
 عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ

بشرس نِسِ ثَرِه پیدہ کور تھن تغیر گمبہ رَبِّ۔ یوسہ خشک گجھت دزان آس قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ  
 رَجِيمٌ خداین فر مووس تلہ نیر ژہ جتہ منزہ کیا زہ پز پانٹھ چھٹھہ ژہ مر دود۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ  
 اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ پز پانٹھ بیہ چھ ژہ پیٹھ لعنت قیامتہ کس دوہس تام یعنی ہمیشہ قَالَ رَبِّ  
 فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اہلسن دُوپ پروردگار اہر گاہ یو حضرت آدم سندی وجہہ مر دود  
 کور تھس تلہ دہمہ مہلت تھہ دوہس تان سمہ دوہہ ساری انسان دوبارہ بیہ زندہ کر تھہ قبر و آندرہ کڈنہ  
 ین۔ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ اللہ تعالیٰ آن فر مووس بیشک چھو کہ ژہ مہلت دنہ آتیو آندرہ  
 إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ تھہ مقرر کر نہ آتس دوہس تان قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ  
 لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ اہلسن دُوپ خدایا سمہ وجہہ کن ژہ کور تھس بو گراہ  
 مہ چھو قسم بو کر کہ گراہ بنی آدم۔ معاصی تہ گنہن دمہ تمین زینت دنیا س اندر۔ چھہ کامہ آن بوزنہ  
 یوان تمن جان بیہ کر کہ بو ساری گراہ سیزہ و تہ نشہ ڈالکھ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ مگر چلیم  
 نہ کینہہ چانین مخلص بندن پیٹھ ہم ژہ میانہ اثرہ نشہ محفوظ تھو تھہہ قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ  
 اللہ تعالیٰ آن فر مووس نِسِ مہوی اخلاصی کیا چھہ مہ تان و اتق سیز و تھہ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ

مِنَ الْغُيُوبِ ﴿۳۲﴾ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۳۳﴾  
 لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ ﴿۳۴﴾  
 إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿۳۵﴾ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ  
 أَمِينٍ ﴿۳۶﴾ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا عَلَى  
 سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ ﴿۳۷﴾ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا  
 بِمُخْرَجِينَ ﴿۳۸﴾ نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۳۹﴾ وَإِنَّ

عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغُيُوبِ ہنز پانچہ میانین ہندن پیٹھ چھوی نہ ژہ کاہنہ طاقت گمراہ  
 کرنک، مگر تے سم چان پیروی کرن، چانہ تھہ مان، ڈلیتو آندہ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ  
 بیشک نار جہنم چھو تھن سارنی ہندہ وعدج جای۔ یعنی ژہ تہ چانین پیرون ہندہ خپترہ چھو جہنم تیار کرنہ  
 آمت لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ تہہ جہنمست ہتھہ ست (۷) دروازہ۔  
 پر تہہ دروازہ خپترہ چھو تمونافرمان لو کو آندہ اکھ اکھ حصہ مقرر کرنہ آمت إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي  
 جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ہنز پانچہ متقی تہ پر ہیزگار، سم شر کہ نشہ، نافرمانیو نشہ ہتھہ رودمت آسن، تم آسن  
 باغن اندر، تھن منز کم چشمہ، ناگہ راد آسن پکان، تھن بیہ ونہ ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ اٰمِنِيْنَ ای  
 بالیمانو اثر و تھن جہن اندر بسلامتی، امن و امانہ سان وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ إِخْوَانًا  
 عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ بیہ آسہ آسہ کو ڈمت بر و نطھی تھندیدو لو اندرہ سوزوی کینہ تہ حسد۔ تمہ  
 سببہ آسن تم بای بای سیدہ سیود تھن پیٹھ بہتھ۔ اکھ اگی سُد درجہ و ہتھہ آسکھ نہ رشک تہ حسد سپدان  
 لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ و اتان آسہ نہ تھن جہن منز کا نہ تکیفایہ بیہ یکن نہ  
 تم کڈنہ زانہہ تمون جنتو آندہ نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ \* وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ  
 فرما و وجہہ یارسول اللہ میانین ہندن بیشک بو چھوس سیٹھاہ مغفرت کرہ و ن سیٹھاہ رحم کرہ و ن۔ بیہ  
 چھو میون عذاب تہ سیٹھاہ کڈر عذاب وَبَدَّلْنَاهُمْ عَنْ صَفِيِّ إِلَهُهِمْ بیہ کڑ و حص میانین ہندن خبر۔

عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ ﴿۵۱﴾ وَبَدَّوهُمْ عَنْ صَيْفِ إِبْرَاهِيمَ ﴿۵۱﴾  
 إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلِّمْ عَلَيْنَا قَالُوا إِنَّمَا أَنْتُمْ مُجْرِمُونَ ﴿۵۲﴾  
 قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمٍ عَلَيْكَ ﴿۵۲﴾ قَالَ أَبَشْرْتُمُونِي  
 عَلَى أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبْرُ فِيمَ تَبَشِّرُونَ ﴿۵۳﴾ قَالُوا ابْشُرْنَا  
 بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَنِطِينَ ﴿۵۴﴾ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ  
 رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ ﴿۵۴﴾ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا  
 الْمُرْسَلُونَ ﴿۵۵﴾ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿۵۵﴾ إِلَّا آلَ

حضرت ابراہیمہ سندین پڑھیں ہنز۔ پائے ترکیح فخرہ تھہ پاٹھ جھہ اللہ تعالیٰ سد دوشوے صفت۔  
 رحمک صفت تہ غصبک صفت ظاہر سپان ہنس ہنس موقس پیٹھ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلِّمْ عَلَيْنَا یلہ  
 تم پڑھہ ژای تم نیش توپتہ کر کہ سلام قَالَ إِنَّمَا أَنْتُمْ مُجْرِمُونَ حضرت ابراہیمن دوپچھ اَس جھہ  
 توہہ کھوژان قَالُوا لَا تَوْجَلْ إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلْمٍ عَلَيْكَ تمودو پیچھ کھوژومہ بلکہ گوہو خوش کیاڑہ  
 اَس جھہ توہہ خوشبر واتاوان اَس عالم فرزندہ سز قَالَ أَبَشْرْتُمُونِي عَلَىٰ أَنْ مَسَّنِيَ الْكِبْرُ فِيمَ  
 تَبَشِّرُونَ حضرت ابراہیمن فرمود کہ کیاہ تہہ جھوہ مہ فرزندہ سز خوشبر ونان۔ حالانکہ بوہجھوس  
 وون بڈ یومت۔ ہس تھہ پاٹھ جھوم خوشبر ووان قَالُوا ابْشُرْنَا بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَنِطِينَ تمودو  
 دوپچھ اَس حض جھہ ہنز پاٹ توہہ خوشبر ونان۔ پس مہ سپد یوتہہ نامید قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمَةِ  
 رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ حضرت ابراہیمن فرمود کہ خدایہ سندہ رحمتہ نشہ تہہ سپدہ نامید گراہو ورا ی  
 قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ توپتہ فرمود، کھ توہہ کیاہ کوم جھہ بیہ، ای خوشبر ہمت سوزنہ  
 آتید ملکو قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ تمودو پیچھ بیشک اس جھہ سوزنہ آمت اَس نافرمان  
 جرائم پیشہ قومس ن جہندہ ہلاک کرنہ خیطرہ۔ تم سزاونہ خیطرہ إِلَّا آلَ لَوْطٍ إِنَّا أَنْجَيْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ

لُوَطِطًا إِنَّا لَنَنْجُوهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۶۹﴾ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَرْنَا لَهَا لَيْسَ  
 الْغَيْرِينَ ﴿۷۰﴾ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ﴿۷۱﴾ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ  
 مُنْكَرُونَ ﴿۷۲﴾ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَسْتَبِرُونَ ﴿۷۳﴾ وَ  
 اتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۷۴﴾ فَأَسْرِبْ إِلَيْكَ بِقِطْعٍ مِّنَ  
 اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا  
 حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ﴿۷۵﴾ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَانَ دَابِرَهُمْ وَأَنزَلْنَا

مگر نہ حضرت لوط سدس خاندانس پز پاطھ تین سارنی ہندہ خیطرہ جھہ اس نجات دودہ ون إلا امراۃ  
 قَدَرْنَا لَهَا لَيْسَ الْغَيْرِينَ مگر نہ حضرت لوط سنز زمانہ تمسدہ خیطرہ جھہ اس مقرر کورمت کہ سہ جھہ  
 کافرن سیت روزتھ عذابس گرفتار سپدن واجین۔ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ تمہ پتہ یلہ  
 وات تم سوزنہ آمت ملک لوط سدس خاندانس نغہ انسان شکلہ اندر قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ تمو  
 دوپہک جہہ جھہ بيشک بوزنہ یوان غیر زان جماعتھہہ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَسْتَبِرُونَ تمو  
 دوپہک نہ اس دوپہر جھہہ بلکہ جھہ اس آمت توہہ نش سو چیز ہتھ ہتھ منزیم لو کہ شک نہ تردد کران  
 اس یعنی ہند خیطرہ عذاب وَ اتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ بیہ جھہ آمت اس توہیہ نشہ پختہ تھہ  
 ہتھ بیہ جھہ اس یقینا پوزنہ ون فَأَسْرِبْ إِلَيْكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَ اتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ  
 أَحَدٌ وَ امْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ ہس کڈیون پٹن عیال سمہ شہرہ اندرہ رازہ سدس ہتھ حصص اندر۔  
 جہہ نہ نیر یو کہ سیت پتہ پتہ۔ توہہ اندرہ ہتھہ پوت نظر کاہہہ دیہ۔ بیہ گھوہ تو ٹوہی ہتت توہہ حکم کرنہ  
 او یعنی شہر شامس ن وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَانَ دَابِرَهُمْ وَأَنزَلْنَا مَقْطُوعٌ مُّصْحِفِينَ بیہ سوزاسہ حضرت  
 لوطس نش بیہ حکم کہ پز پاطھ سمن لوکن ہند مول جھہوزنہ آمت یتھوی تم صحص دو تھن وَ جَاءَ أَهْلُ  
 الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ توپتہ ای امہ شہرک لو کہ حضرت لوطس نشہ یمن خوبصورت مہمان ہند  
 بوزتھ خوشیہ نہ شاوہ کران کہ شکار بیوہ قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءَ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُون حضرت لوط سپد

مَقْطُوعٌ مُّصْبِحِينَ ﴿۶۶﴾ وَجَاءَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۶۷﴾  
 قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفِي فَلَا تَفْضَحُونِ ﴿۶۸﴾ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا  
 تُخْرُؤْنَ ﴿۶۹﴾ قَالُوا أَوَلَمْ نُنْهَكَ عَنِ الْعَلَمِينَ ﴿۷۰﴾ قَالَ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي  
 إِنْ كُنْتُمْ فَعِلِينَ ﴿۷۱﴾ لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۷۲﴾  
 فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِقِينَ ﴿۷۳﴾ فَجَعَلْنَا عَلَيْهِمْ سَافِلَهَاوٍ  
 أَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ سِجِّيلٍ ﴿۷۴﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
 لِلْمُتَوَسِّمِينَ ﴿۷۵﴾ وَإِنَّهَا لِسَبِيلٍ مُّقِيمٍ ﴿۷۶﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً

غمگین تمودوہیک تم ہاجہ میان مہمان بس مہ مندر چھاوومہ واتقوا اللہ ولا تخزؤون بیہ کھوژو  
 خدا بس بیہ مہ مندر چھاوومہ قالوا اولم ننہک عن العلمین تمودوہیک اس چھنا توہیہ منع کران کہ  
 ہتہ مہ آسبو کہ عالمک لو کہ گرہ انان تہ مہمان بناوان قال ہولاء بناتی ان کنتم فعلین حضرت  
 لوطن فرمود کہ پڑپاٹ یہ ٹہنزہ زنانہ ہتہ میانین کورین برابر، ٹہنزہ خواہش پورہ کر نہ خیطرہ ہتہ تمہ  
 کافی۔ حلال چیز تراوتہ کیا زہ چھوہ حرام چیزس پتہ لاران لعمرك انہم لفي سكرتہم يعمہون تہندہ  
 جانک قسم یار رسول اللہ قوم لوط اوس پنہ مستی منزگیران۔ تمن اوس نہ بوزئے یوان کینہہ سون دوگن  
 حضرت لوط سدہ فرماو تک آس نہ کانہہ پروا کران فأخذتہم الصیحة مشرقین پس رٹ تم  
 صمبس آفتاب کھسن وزہ جبریل اینہ سزہ کریکہ فجعلنا علیہا سافلہا و امطرناعلیہم حجارۃ من  
 سجیل تہ پتہ کوراسہ تہندس شہرس تلگ پیٹہ۔ بیہ تروداسہ تمن پیٹہ سگ باران، میڑہ بھل یم  
 نارس منزینہ آس آمت۔ تے آس کنہ ہتہ گامت تے تر ویکہ پیٹہ رُودک پاٹھ ان فی ذلک لآیت  
 للمتوسمین پڑپاٹھ اتھ قصس منزچہ واریاہ نشانہ تہ دلیلہ واروہ چھن والین ہندہ خیطرہ وانہا  
 لسبیل مقیم پڑپاٹھ تہند شہر چھہ من و تہ پیٹہ۔ بس نیار پکان چھو تس چھہ تم تباہ و برباد گامت شہر

لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿۷۰﴾ وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ ﴿۷۱﴾ فَانْتَقِمْنَا مِنْهُمْ وَانْتَهَمْنَا بِأَمَامِ مُبِينٍ ﴿۷۲﴾ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحَجْرِ الْمُرْسَلِينَ ﴿۷۳﴾ وَاتَّيَّهُمُ اتِّتِنَا فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿۷۴﴾ وَكَانُوا يُنَجِّتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ ﴿۷۵﴾ فَآخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ ﴿۷۶﴾ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۷۷﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا

بوزنه یوان اِنْ فِي ذَلِكَ لآيَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ پز پاپھ اتھ منز چھو بوڈ نشانہ با ایمان ہندہ خیطرہ  
 وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ بیہ آس پز پاپھ کلین تہ ڈھین تل روزہ دن، قوم شعیب سیٹھاہ ظالم تہ  
 فانتقمنا منهم وانتہمنا بامام مبین پس ہیوت اسہ انتقام تمن دوشون قومس۔ ہز پاپھ  
 تم دوشوے قوم آس بسان نہ و تہ پیٹھ۔ صاف سزیمہ پیٹھ۔ پچار مکہ شریفہ پیٹھ شام شریف لوکھ  
 گوہان آس۔ ولقد کذب أصحاب الحجر المرسلین ہز پاپھ بیہ کور انکار حجرہ والیوتہ پیغمبرن۔ سوگو  
 قوم نمود سمن کن حضرت صالح پیغمبر سوزنہ امت آس۔ اکس پیغمبرس انکار کرن گوسارنی پیغمبرن  
 انکار کرن۔ تم آس بسان شہر حجرس منزئیس مدینہ منورس تہ شام شریفس در میان واقع اوس  
 واتتہم اتتینا فکانوا عنہا معرضین بیہ واتتولسہ تمن نشہ تہ پن نشانہ تہ دلیلہ مگر تمو پھیر تمہ دلیلہ  
 وچھتہ تہ بھہ کاہنہ التفات کوز کہ تہ تم آیات کن وکانوا ینجیون من الجبال بیوتاً امینین  
 تم آس کوہن منز گور تھ گرہ بناوان تمنی گرن منز آس امن وامانہ سان بسان فآخذتہم الصیحة  
 مصبحین پس رٹ تم تہ کریمہ صبحہ وقتہ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ پس دیت نہ  
 کاہنہ فایدہ تمن تمو مضبوط تہ محکم گرو۔ تم تم بناوان تہ تیار کران آس وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ  
 وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ بیہ کرنہ اسہ آسمان تہ زمین بیہ تہ تمن دون منز چھو پیدہ مصلحتہ  
 بغیر بلکہ بھہ تہندس پیدہ کرنس اندر سیٹھاہ مصلحتہ بیہ گہ بد مصلحت کہ آسمان زمین وچھتہ کرن عقلہ



بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ فَاصْفِرِ الصَّفْحَةَ  
 الْجَمِيلَ ۝۸۵ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ۝۸۶ وَقَدْ أَسْتَبْرَأَ  
 سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ۝۸۷ لَا تَمُدَّنَّ  
 عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ  
 عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ۝۸۸ وَقُلْ إِنِّي أَنَا


وال استدلال اللہ تعالیٰ سے وجود سے عطف سے پیٹھ۔ یہ تھ لازم چھو کہ تہ خدایہ سنز شوبہ اطاعت  
 کرن۔ اُس شخص اطاعت کرہ تہ، تہ ایہ اجر و انعام عطا کرنہ۔ اُس نہ اطاعت کرہ تہ تہ تہ خیرہ  
 چھو عذاب سو عذاب پیہ نہ ذنیاس اندر کرنہ۔ سولایہ قیامتگ دودہ کرنہ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ سو  
 قیامت چھ ضرور اودہ و تہ منزایہ نافرمان سزا دند۔ فَاصْفِرِ الصَّفْحَةَ الْجَمِيلَ لہذا مہ کھیو تہہ کا نہہ  
 غم۔ بلکہ کرو نہایت خوبی سان تہندین شرارتن عفو، در گذر إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيمُ ہر پانچ  
 تہند پروردگار چھو بوڈ پیدہ کرہ و ن۔ سو چھو سو روی زانہ و ن سارنی ہند حال چھو س معلوم۔ تہندہ  
 صبر ک تہ تہندین شرارتن ہند تہ۔ لہذا ہیہ سوتمن نشہ پورہ پورہ بدلہ تہہ مہ و چھو تہندس معاملس کن  
 کہ سو چھو سپدان توبہ موجب غم تہہ و چھو سائیس معاملس کن کہ اُس کمرہ قسمہ چھہ توبہ سیت لطف و  
 مہربانی ہند معاملہ کران۔ چنانچہ وَقَدْ أَسْتَبْرَأَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ ہر پانچ  
 کر عطا توبہ سنت آیہ کریمہ بیہ قرآن عظیم ہم سنت آیہ پھیر پھیر چھہ یوان پر نہ پر تہ نمازہ اندر بیہ سورہ فاتحہ چھو  
 جامع بدین بدین مضمون۔ تہہ وجہہ چھو تہہ قیل کہ اتھ بیہ و نہ قرآن عظیم تہہ بوجہ عظمت أم القرآن لقب  
 چھو۔ لہذا تھا و وجہہ نظریہ نعمت عطا کرہ و ن س کن تہ اتھ نفس کن، تہ سپدہ توبہ فرحت و سرور ک باعث۔  
 لو کن ہندس عنادس تہ مخالفس کن مہ کرو تہہ التفات۔ لَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا  
 مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ مہ حض زبٹھ راو و نظر ہن تہہ مال  
 ذنیاس کن سہ سیت تمتع ملہ نا و اُس سہ مو کافر و اندرہ بعضی لو کہ۔ بیہ مہ کھیو ہند غم۔ بیہ تراو و بون بازوی

التَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿۸۹﴾ كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقْتَسِبِينَ ﴿۹۰﴾  
 الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿۹۱﴾ فَوَرَبِّكَ لَنَسُدَّنَّهُمْ  
 أَجْمَعِينَ ﴿۹۲﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۳﴾ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ  
 وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿۹۴﴾ إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ ﴿۹۵﴾ الَّذِينَ  
 يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ سَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۹۶﴾ وَلَقَدْ نَعَلُمْ

مبارک پن بایمان ہندہ خیطرہ۔ یعنی تمن آسوپیش یوان بتواضع نہ نرمی وَقُلْ إِنِّي أَنَا التَّذِيرُ الْمُبِينُ  
 بیہ آسوفرمادان ہزپاٹھ بہ چھوس دن پاٹھ خدلیہ سندہ عذابک نیم کردون توہہ سارنی کَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى  
 الْمُقْتَسِبِينَ \* الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ اسہ کورنازل توہہ پیٹھ یہ قرآن مجید۔ ہتھ پاٹھ اسہ  
 یہودونصاری ان پیٹھ کتاب نازل کرتمو تمن کتابن پارہ پارہ کور۔ یہ خوش اوسکھ کران تہ آس تھوان۔  
 یہ نہ خوش اوسکھ کران تہ آس کڈان۔ فَوَرَبِّكَ لَنَسُدَّنَّهُمْ أَجْمَعِينَ \* عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ کس  
 چھو قسم ہندس پروردگارہ سند ضرور پرڑھو آس تمن قیامتگ دوہ تمہ سارگوی یہ تم کران آس توپتہ  
 ومو پرہتھ آس سزا۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ کس ن پاٹھ واتاودتھہ تم احکام  
 تمن ہند توہہ ہم چھو یوان کرنہ رومی مبارک پھر و مٹر کن نغہ۔ تمن ہندمہ کرد کانہہ پروای  
 إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ آس کروہ توہہ کفایت ٹھہ کران والین ہند شردف کرنہ خیطرہ الَّذِينَ  
 يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ سَوْفَ يَعْلَمُونَ ہم معبود برحقس سیت برابر چھہ تھوان بین باطل  
 معبودن۔ پس عنقریب زانن ہم امیک نتیجہ۔ وَلَقَدْ نَعَلُمْ أَنَّا كَفَيْنَاكَ صَدْرًا بِمَا يَقُولُونَ نتیجہ  
 آس چھہ زانان کہ ہزپاٹھ ہند دل چھو تنگ سپدان تمو کتھوسیت سمہ ہم دشمن ونان چھہ تمیک علاج

أَنْتَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿۹۸﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ  
مِنَ السَّاجِدِينَ ﴿۹۹﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿۱۰۰﴾

چھو فسبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ نِس مہ برو تمیک جہہ کا نہہ پروا۔ جہہ کرو خدایہ سُد یاد۔  
پاکی کرو تہند صفت بیان۔ بیہ آسو تمس سجدہ دنہ والیو اندرہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ بیہ کرو  
پنہ نِس پرورد گارہ سنزی عبادت یوتان والترہ توہہ نِس یقینی تہہ یعنی موت مر نہ کس و قس تان کرو خدایہ  
سنز عبادت۔



## سُورَةُ النَّحْلِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 اَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۱  
 يُنزِلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَآءُ  
 مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ ۲ خَلَقَ  
 السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ ۳ خَلَقَ  
 الْإِنسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ۴ وَالْأَنْعَامَ

اَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ خدایہ سُنْدِ حَمِ آو یعنی شرک و کفر کہ سزا دنگ مُوقِعہ و وُت نزدیک۔  
 اے کافر و تہمہ مہ کرو تہہ آندر جلدی۔ سو سپدہ واقع پنہ نَس و قَس پیٹھ۔ نَس چیز اوہ و ن چھو سوزن  
 آو۔ لہذا ای کافر و تہمہ مہ ژہا ہڈواتہ منز جلدی سُبْحٰنَهُ وَتَعٰلٰى عَمَّا يُشْرِكُونَ منزہ تہ پاک، بالاد  
 برتر چھو اللہ تعالیٰ تمو ساروی شریکو نشیہ سم تَس مُشْرک ٹھہراوان چھہ تہندس کُنہ کھمس میکن نہ تم  
 شریک بدل کر تھہ۔ يُنزِلُ الْمَلٰٓئِكَةَ بِالرُّوْحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ أَنْ أَنْذِرُوا أَنَّهُ لَا  
 إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ سوزن چھو سو پُروردگار ملائکن و حی ہتھہ، پنہ کھم سیت نَس پیٹھ یژہان چھو سو پنہ  
 نیو بند و آندرہ یعنی انبیاء و آندرہ ای زہ تہمہ کرو و بیم لوکن بیہ بوزہ ناویو کہ کہ کانہہ معبوداہ چھو نہ مہ و رای  
 نَس کھو ژومی یوت۔ پرستش مہ کرو مہ و رای کانہہ ہنز خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعٰلٰى عَمَّا  
 يُشْرِكُونَ تمی کر پیدہ آسمان تہ زمین پڑپاٹھ سیٹھاہ بالا و برتر چھو سو تمو ساروی چیز و نشیہ سم تَس شریک  
 ٹھہراوان چھہ لو کہ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ تمی کر پیدہ انسان حضرت  
 آدمس پدہ منی ہندس آبہ قطر س اکس نَس چھو یو ہے انسان زن پاٹھ مقابلہ کران یعنی بعضی انسان

خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٥﴾  
 وَلَكُمْ فِيهَا جِبَالٌ حِجِينَ تَرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾  
 وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ  
 الْأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٧﴾ وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ  
 وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٨﴾  
 وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ

چھ امہ قسمک غرض چھو کہ سانہ طرفہ چھہ اناس سیمہ سیمہ نمو، تمسدہ طرفہ چھہ اتھ مقابلہ  
 ناشکری نہ ناسی والانعام خلقها لكم فيها دفء و منافع و منها تاکلون بیہ کرتی پیدہ  
 چارپا، وونٹھ، گنن تہ تیر تہندہ خیطرہ ای انسانو تمنی منز تھاون تہندہ وشیر کر نک سامان وندک۔ بیر،  
 تھہ گرم لباس ژادرہ تہ کملہ بناوان چھوہ، بیہ چھہ تمن منز واریاہ فاند۔ دودھ تہ سواری۔ بیہ چھوہ تموی  
 منزہ بعضین ہند ما کھیوان **وَلَكُمْ فِيهَا جِبَالٌ حِجِينَ تَرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ** بیہ چھو تہندہ خیطرہ  
 تمن منز زینت تہ عزت۔ سیمہ ساتہ تہہ شامکہ وقتہ تم گاسہ کھیٹھ واپس اتان چھو کہ بیہ سیمہ ساتہ صبحس  
 گرواندہہ گاسہ کھینہ خیطرہ کڈان چھو کہ **وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ**  
**الْأَنْفُسِ** بیہ چھہ تم ٹٹان تہند بور۔ توپتہ و اتاوان تمن شہرن تمن تہہ ہیکہ ہونہ تم بارواتاوتھ مگر پنہ  
 نین پانن زون سیٹھاہ مشقت و اتاوتھ **إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَوُوفٌ رَّحِيمٌ** بیشک پروردگار تہند چھو سیٹھاہ  
 مہربان تہ رحم کرہون۔ تہندہ آرامہ خیطرہ کم کم چیز کرن پیدہ **وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا**  
**وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ** بیہ کرتی پیدہ گر کاتر تہ گھر، تھہ سوار سپد۔ بیہ چھو تمن منز تہندہ  
 خیطرہ عزت تہ شان۔ بیہ کرہ سو پیدہ قیاس تان کھسنہ خیطرہ تمہ تمہ سوارہ۔ سیمہ نہ توہہ معلومی چھہ۔  
 سیمہ سواریہ گیہ دنیا کیں مطمئن تان واتتہ خیطرہ۔ یہ گو بدنی تہ جسی سفر طے کر نک سامان۔ امہ پتہ  
 فرماؤ اللہ تعالیٰ ان روحانی تہ معنوی سیرج ذکر **وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ** تہو بروظھو و دلیلو سیت

أَجْمَعِينَ ۙ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ  
شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجْرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۙ يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ  
الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ  
الشَّجَرِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۙ وَسَخَّرَ  
لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ وَالنُّجُومَ  
مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ۙ

یوسہ سیز و تھ ثابت پھ سپدان سو گویہ سو و تھ یوسہ اللہ تعالیٰ اس نش و اچ و تھ آسہ۔ و منما جاکو و تو  
اند رہ پھ بعض و تھ پھ و تھ۔ اڈو لو کھ پھ سیزہ و تھ پیٹھ پھ خدانس نشہ واتان۔ اڈو پھ پو و تو پکان تو پتہ  
پھ تھ تم کن تہ واتان تم پھ د پھ تھ تھ کھو فر بال تہ پھنن ذلہ کرشہان و لوشآ لہذا کم اجمعیون بیہ  
ہر گاہ اللہ تعالیٰ یڑھہ باسو ہاوہ ہا تو ہہ سارنی سیز و تھ مگر سو پھو تمسی سیز و تھ ہاوان اُس تمیک طالب  
آسہ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجْرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ سو پروردگار گو  
سوی تم تھندہ فاندہ خپرہ آسما پھ طرفہ رود تروو تہ منزہ پھو تہہ تریش چوان۔ بیہ پھو تہی سیت  
گاسہ تہ کل کھسان تھ منز پھو کھ تہہ چار پائون گاسہ کھینہ خپرہ تراوان يُنبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ  
وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الشَّجَرِ کھاران پھو اللہ تعالیٰ تہی رودہ سیت تھندہ  
خپرہ زراعت بیہ درخت زیتون بیہ خضر کل بیہ پھ کل۔ بیہ ساری میوہ جات تم دنیاس اندر پیدہ  
سپدان پھ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ پز پا پھ اتھ منز پھ پھ پھ لیلہ توحید پھ فکرہ والین  
ہندہ خپرہ وَسَخَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ بیہ کر اللہ تعالیٰ اَن تھندہ آرام و آسائشہ  
خپرہ ہدوہ تہ رات، آفتاب تہ زون سخر قدرت وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ پھہ باقی ستارہ تہ  
تھندی حمہ مسخر قدرت تم چیز تہ تم تھندہ فاندہ خپرہ پیدہ کمرن تمام روی زمینس اندر تم چیز بیہ پھہ  
تھہ پا پھ کہ تم ہند اقسام پھہ بیون بیون إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ پز پا پھ عقلہ والین ہندہ

وَمَا ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ﴿۱۳﴾ وَهُوَ الَّذِي  
سَخَّرَ الْبَحْرَ لَنَا كُلُّوَامِنَهُ لِحِمَاطِرِنَا وَتَسْتَخْرِجُوا  
مِنَهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ  
فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۴﴾  
وَالْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا

خیطرہ چھہ یمن چیزن اندر خدایہ سدہ توحید چہ مجہ جبر دلیلہ وَمَا ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا  
أَلْوَانُهُ تھے پانچ کرن مسخر تم چیزتہ سم تہندہ فائدہ خیطرہ پیدہ کرن تمام روی زمینس اندر تم چیز چھہ  
تھے پانچ کہ تمن ہند رنگ ہتھہ بیون بیون إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ ہر پانچ اتھ  
منزتہ چھہ مجہ جبرہ دلیلہ خدایہ سدہ توحید چہ نصیحت رنہ وین ہندہ خیطرہ - وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ  
الْبَحْرَ لَنَا كُلُّوَامِنَهُ لِحِمَاطِرِنَا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنَهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا بیہ گوسو پروردگار سوی یم  
دریادہ سمندر کر مسخر قدرت تھے تہہ کھیو تمہہ منزہ کڈ تھہ گاڈن ہند تازہ تازہ ماز بیہ تھے کڈو تہہ تمہہ  
سمندرہ منزہ گہنگ تہ زینتک چیز لعل وجواہر تہ نمختہ - لیس تہہ ساری مرد تہ زنانہ لاگان چھوہ زینتہ خیطرہ  
وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ بیہ چھو دریاون ہند فائدہ یہ تہ کہ ڈہ پھٹک وچھان اے مخاطب ناوہ  
لوکھہ تہ جہ تہ ، بلکہ بڈ بڈ جہاز اتھ سمندر س منز اس ٹان پکان وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ  
تَشْكُرُونَ بیہ کرن دریا مسخر قدرت تھے تہہ تمن سمندر تہ دریاون اندر مال تجارت تھے سفر  
کر تھہ خدایہ سدر زق تلاش کر و - بیہ تھے سم ساری فائدہ زہر نظر آتھہ کرو تہنز شکر گذاری وَالْقَى فِي  
الْأَرْضِ رَوَاسِيَ بیہ تھاواللہ تعالیٰ ان زمینس پیٹھہ بڈ کوہہ أَن تَمِيدَ بِكُمْ تھے نہ سوزمین توہہ پانس  
پیٹھہ تکتھہ و تل جہ گرہ ، اورہ یورڈلہ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ بیہ کرین جاری اتھہ زمینس  
منز کولہ تہ جو بیہ - بیہ گن اتھہ زمینس منزوتہ تہ سڑکہ تھے تہہ تمو و تو پچھہ مقصد س واتان آسو

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۵﴾ وَعَلِمْتَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۱۶﴾ أَفَمَنْ  
يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۱۷﴾ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ  
لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۸﴾ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسْرُونَ وَ  
مَا تَعْلَنُونَ ﴿۱۹﴾ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ  
شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ ﴿۲۰﴾ أَمْ أَلِيتُمْ عَلَىٰ غَيْرِ أَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُونَ لَا

وَعَلِمْتَ بِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان تمہے و تہ پر زہ ناو نہ خیطرہ واریاہ نشانہ قائم مسافرن  
ہندہ پچنہ خیطرہ ہمو نشانوسیت و تہ لبندہ یوان پچھہ۔ یہ پچھہ ستاروسیت تہ لوکھ و تہ لبان۔ تم سیت چیز  
کہر پیدہ اللہ تعالیٰ ان آفمن یخْلُقُ کمن لا یخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وون وبتو تھی لیس ذات پاک تم تم چیز  
پیدہ کرہ وون پچھو سولکھا برابر تھاون تم سیت یم نہ کنہ چیزس سیکن پیدہ کر تھ۔ کونہ چھوہ تکی تھہ ژیتس  
پاوت تس ایمان اتان تہ پڑھ کران۔ تمسی پنن معبود زاتھ عبادت تہ بندگی کران۔ یڑے یاڑہ پچھہ  
تس معبود برحقہ سز نعرہ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ہر گہے تہہ شمار ہیو کر نہ خدایہ سزہ نعرہ  
ہر گز ہیو نہ شمار کر تھ۔ ادہ پچھہ کتھے تم نعرہ ہنز شکر گذاری کر تھ۔ مٹرک پچھہ نعرہ ہند شکر  
دپان نعرہ ہنز قدر زانان۔ یہ جرم اوس تیوت بوڈئیس نہ کنہ صورتس منز معاف ہیو ہسپد تھ۔ اتھ  
جرم سپٹہ اصرار کر نہ سیت گڑھ تم ساروی نعرہ و نشہ محروم سپدن مگر إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ پڑاٹھ  
اللہ تعالیٰ پچھو سیٹھاہ مغفرت کرہ وون مہربان ہر گاہ کا نہہ شخص شر کہ نشہ توبہ کرہ تس پچھو اللہ تعالیٰ  
مغفرت کران۔ ہر گاہ تے توبہ کرہ توبہ پچھو اللہ تعالیٰ تس مرنس تام نعرہ عطا کران وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
مَا تُسْرُونَ وَمَا تَعْلَنُونَ اللہ تعالیٰ پچھو زانان تہ سوزوی یہ تہہ پوشیدہ پاٹھ پچھوہ کران وَالَّذِينَ  
يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ یہ تم لوکھ عبادت پچھہ کران خدایس ورا ی  
بین باطل معبودن ہنز تم نہ کا نہہ چیزہ پیدہ ہیکان پچھہ کر تھ بلکہ پچھہ تم پانہ آسان بناو نہ آمت، تیار کر  
نہ آمت، گرنہ آمت، گنو، پچو یا یہ کنہ چیزک۔ قاعدہ کلیہ پچھو کہ خالق تہ غیر خالق ہر گز مساوی تہ برابر



آيَانَ يُبْعَثُونَ ﴿٢١﴾ إِلَهُكُمْ إِلَهًُ وَاحِدٌ ۚ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  
 بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٢﴾ لَاحِرَمَ أَنَّ  
 اللَّهُ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ ﴿٢٣﴾  
 وَإِذْ أَقْبَلُ لَهُمْ مَادًّا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا اسَاطِيرُ  
 الْأَوَّلِينَ ﴿٢٤﴾ لِيَحْبِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
 وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ أَلِيسَاءَ مَا

چھنہ امواتِ غیرِ اَحیاءِ تمہ علاوہ چھہ معبودانِ باطلِ مردہ بے جان چیز وَمَا يَشْعُرُونَ آيَانَ  
 يُبْعَثُونَ یہ چھنہ تمہن خبرے کہ کہہ وقتہ من لو کہ دوبارہ یہ زندہ کرنے معبود برحق گو سوی کس خالق تہ  
 چھو زندہ تہ چھو عالم الغیب تہ چھو سوی چھو إِلَهُكُمْ إِلَهًُ وَاحِدٌ تہند معبود برحق۔ معبود برحقہ کس  
 ہیو یہ کہنہ چھونہ ذاتِ اندر نہ صفتن اندر فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكَرَةٌ وَهُمْ  
 مُسْتَكْبِرُونَ کس تم لو کہ ایثر وضاحت کر تھ تہ پڑھ چھنہ کران آخر کس، معلوم سہند تہند دل چھو  
 توحیدس انکار کران۔ یہ سہند معلوم کہ تم چھہ قیاسِ ایمان اندہ نشہ عکبر کران لَاحِرَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ  
 مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ضروری تھ چھہ یہ کہہ پڑپاٹھ اللہ تعالیٰ چھو زمانان تہ سوزوی یہ تم پو شیدہ کران  
 چھہ۔ یہ یہ تم ان پاٹھ کران چھہ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ پڑپاٹھ اللہ تعالیٰ چھونہ پسند کران تکبر کہہ  
 ونین تم توحیدہ نشہ تہ تصدیق رسالتہ نشہ چھہ عکبر کران۔ یلہ تہند عکبر کرن معلوم سہند، سستی سہند یہ تہ  
 معلوم کہ تم چھہ خدا کس ناپسند۔ لہذا دیہ سوتہن ضرور سزا وَإِذْ أَقْبَلُ لَهُمْ مَادًّا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ  
 قَالُوا اسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ یہ یلہ وننہ یوان چھو تم کہ کیاہ کرنازل تہند پروردگارن، دپان چھہ تم یہ  
 کتہ چھو خدا یہ سہدہ طرفہ سوزنہ آمت۔ یہ چھہ محض بے سند تھہ سیمہ برو تھنن نشہ نقل کرنے یوان چھہ  
 لِيَحْبِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ نتیجہ یہ وننہ ٹک آسہ کہ یمن لو کون آسہ ٹلن پنہ نین  
 گنہن ہند بور قیامتگ دوہ پور پور وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ یہ تم لو کون ہندین

يَزْمُرُونَ ﴿٦٥﴾ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى  
اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ  
فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٦٦﴾  
ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ  
كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ  
الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿٦٧﴾ الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمْ الْمَلَكَةُ  
ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَمَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ بَلَى إِنَّ

گنہگار ہند بوز، ہم گمراہ کران آس علمہ وراى الالسا ما يزمرون واره چھوہ بوزان سیٹھاہ پتھ پتھو سو  
بوزیس سم تئن قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ پزپاٹھ فند  
تہ تدبیر کرد خدا پس خلاف تمہولو کو تم تمکن بروٹھ آس پس دوت خدایہ سُنْد عذاب تہنزن لرین  
ہندین کنن تَل فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ تُوپتہ پیووستھ تہن لہ ہند پتھ پتھ کن وَأَتَاهُمْ  
الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ بیہ دوت تہن عذاب تھتھ تھتھ تہن فکری ترہ بیہ حالت گیہ تہندہ  
عذاب دُنیاہ س اندر ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزِيهِمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ تُو  
پتہ کر گیہ خوار و ذلیل اللہ تعالیٰ قیامتگ دوہ بیہ دیکھ کتہ چھوہ تم معبودان باطل بیہندہ خیطرہ لڑایہ آسو  
کران قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ ورن تمہ سائہ زانن وال تہ عالم پز  
پاٹ خوارى تہ پتھ عذاب چھوہ از کافرن تہ نافرمان پیٹھ الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمْ الْمَلَكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ  
تمکن زو کو ذملا کیو پتھ حاکس اندر کہ تم آس پان پانس ظلم کرہ ورن فَأَلْقَوْا السَّلَمَ پس پیش کرن تم تمہ  
سائہ صلچ تھتھ بیہ دپن مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ اس آس نہ کانہہ پتھ کو ماہ کران ملایک ونہ کتھ بلّٰلَ إِنَّ اللَّهَ  
عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یہ کتھ چھنہ یوسہ تہہ ونان چھوہ پزپاٹھ اللہ تعالیٰ چھوہ پوزانان تہ سوروی بیہ تہہ

اللَّهُ عَلَيْهِم بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۲۸﴾ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فليُكْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿۲۹﴾ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ ﴿۳۰﴾ جَدَّتْ عَدْنٌ يَدُخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ ﴿۳۱﴾ الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمْ

کران آسودہ۔ سو دیہ پانے تچ مزدور توہہ ونہ بیٹھہ فادخلوا ابواب جہنم خالدين فيها اتر و جہنمہ کیو دروازو کن جہنم آندر ہمیشہ چھوہ ات روزن فليُكْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ بس کاڑاہ پچھ جایی چھہ یہ متکبران ہندہ خیطرہ۔ یہ گو عذاب آخرت۔ حاصل چھوہ یمن آیاتن ہند کہ ای لو کو تہہ بوزوہ برو تھمین کافرن ہندہ عذابک حال۔ بیٹھہ پاٹھ بس اکھاہ دین حقس مقابلہ کرہ، مکر و فریب کرہ۔ بیٹھہ پاٹھ تہہ کران چھوہ۔ یہ چھو تہہ لو کھ گمراہ کران۔ لہذا آسہ یہوی انجام تہندتہ وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا خَيْرًا یہ چھو ونہ یوان تمن لو کن تم شر کہ نشہ گھرہ نشہ پتھ رُود توہہ پیٹھ کیاہ کورنازل تہند پروردگارن تمبو ووب اللہ تعالیٰ ان کورنازل سُو قران مجید تہہ منز خیری خیر چھو لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ تمن لو کن ہندہ خیطرہ سمور ژکامہ کرہ چھہ بیٹھہ دُنیا س اندر ژمزور وکد اار الْآخِرَةِ خَيْرٌ یہ چھو تہندہ خیطرہ آخر تک گمراہ زیادے رت باعث فرحت و سرور وَلَنِعْمَ دَارُ الْمُتَّقِينَ یہ چھو متقین تہ پرہیز گارن ہند گمراہ جَدَّتْ عَدْنٌ يَدُخُلُونَهَا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ متقین ہند گمراہ گئے ہمیشہ روز تک جنت یمن منز تم واتن تموی منز آسن پکان جو یہ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ تہندہ خیطرہ چھو تمن جنتن اندر تہہ سو زوری یہ تم برھان آسن كَذَلِكَ يَجْزِي اللَّهُ الْمُتَّقِينَ بیٹھہ پاٹھ کیا دیہ اللہ تعالیٰ ر ژمزور سارنی پرہیز گارن الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمْ الْمَلَائِكَةُ طَيِّبِينَ تم گئے تہ ہند روح ملائک کڈن بیٹھہ حاس اندر کہہ تم آسن پاک تہ پاکیزہ شرک و آلائشون نشہ یا آسن در کمال فرحت و سرور

الْمَلِئِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا  
 كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۲﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمُ الْمَلِئِكَةُ أَوْ  
 يَأْتِي أَمْرٌ رَيْبِكَ كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمْ  
 اللَّهُ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۳۳﴾ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ  
 مَا عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۴﴾  
 وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ  
 مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا أَحْرَامُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ

يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ملائک وندیکھ سلام بویں توہم پیٹھ اترد جنتس  
 کیا زہ تجہ آسوہ رث عمل کران هل ينظرون الا ان تاتيهم الملائكة تم کافر ہجہہ انتظار کران مگر  
 ملائکین ہندس یس او یاتی امر ربک یا ہجہہ انتظار کران خدایہ سندس خمس یس تہندہ گالہ وندہ عذابہ  
 خیطرہ آسہ کذالک فعل الذین من قبلہم بیٹھ پاٹھ کور انکار تہ تکذیب شرک تہ کھر تمولو کو تم  
 تمن برونھ آس وما ظلمہم اللہ ولکن کانوا انفسہم یظلمون اللہ تعالیٰ ان کر نہ تمن لو کن عنہ  
 قسمہ ظلم۔ مگر تم آس پان پانس ظلم کران فأصابہم سیئات ما عملوا وحا ق بہم ما کانوا بہ  
 یستہزؤن پس واثر تمن بدی پنہ نین عملن ہنز بیہ آدولہ تمن سوی عذاب بیٹھ تم ٹھہہ آس  
 کران وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ نَحْنُ وَلَا آبَاؤُنَا بیہ ہجہہ  
 ونان یم منک مشرک ہر گاہ خدایہہ ہا آس کرہ ہونہ تس ورا ی بیہ کانہ ہنز عبادت نہ آس تہ نہ سان مال  
 بدبب ولا حرامنا من دونه من شئی بیہ کرہ ہونہ آس حرام تہ تہندہ حکم ورا ی کانہہ چیزا ہ۔ بیہ یوڈھ  
 کی تہندی یڑھنہ موجب ہجہہ آس کران کافر ان ہنزہ ہسمہ تھہ وندہ سیت مہ حض گڑھو تہہ آزدہ۔ بیہ

كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهَلْ عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا  
 الْبَلْغُ الْمُبِينُ ﴿۳۵﴾ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ  
 اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ  
 وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا  
 كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِبِينَ ﴿۳۶﴾ إِنَّ تَحْرِيصَ عَلَى هَذَا مُمْ  
 فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴿۳۷﴾ وَ  
 اقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مِنْ نَبْئِوتٍ

پہنہ نوکتھاہ کا نہہ کذالک فعل الذین من قبلہم یتھہ پاٹھ پھوہ ہودہ بحث کورمت تمولو کو تہ سم  
 سم برونٹھ آس فهل علی الرسل الا البلغہ المبین کس پھوہ پیغمبرن منہ مگر ن پاٹھ احکام  
 خداوندی و اتان و لقد بعثنا فی کل امة رسولا ان اعبدوا اللہ و اجتنبوا الطاغوت پناٹھ بیہ  
 سوز اسہ پر تھ اتس کن پیغمبر لوکن یہ پیغام و اتانہ خیرہ کہ عبادت کرو معبود برحقہ سنز تہ پتھ روزو  
 شیطانہ سندہ تجویزہ معبودان باطلن ہنز پرستش کرنہ نشہ فمنہم من ہدی اللہ ومنہم من حقت  
 علیہ الضلالہ کس اسہ تموا متواندرہ بعضے سم سیز و تھ ہا اللہ تعالیٰ ان۔ تمو کور حق قبول بیہ آس  
 بعضی سم پیٹھ گرا ہی ثابت روز۔ سو تم ن نشہ دورگیہ نہ فسیروا فی الارض فانظروا کيف کان عاقبہ  
 المکذبین پس پھیر توه تہہ ای لو کوز مینس منز تو پتہ و چھو کیاہ بیو و پتولا کہ تم ن لوکن سمو پیغمبرن  
 انکار کرو ان تحریص علی ہذا موم فان اللہ لا یهدی من یضل و ما لہم من ناصرون ہرگاہ توبہ خواہش  
 پتھ تہندہ ہدایت تہہ سبت ابدہ نہ کینہہ کیا زہ اللہ تعالیٰ چھونہ و تھ ہوا ن تم ن سو و تھ راورہ بیہ پھنہ  
 تہندہ خیرہ ہمدگاریم تم ن عذابہ نشہ بچاوتھ ہیکن و اقسما بال اللہ جہد ايمانہم لا یبعث اللہ من  
 نبوت بیہ ہا و تمو سخت زور دار قسم یتھ پیٹھ کہ اللہ تعالیٰ کرہ نہ کا نہ مرت دوبارہ بیہ پیدہ۔ تہہ فرما یو کہ

بَلَىٰ وَعَدَّٰ عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۸﴾  
 يُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
 أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ﴿۳۹﴾ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ  
 لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۴۰﴾ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا  
 ظَلَمُوا النَّبِيِّينَ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَجْرٌ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ  
 كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۴۱﴾ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۴۲﴾

بَلَىٰ وَعَدَّٰ عَلَيْهِ حَقًّا البتہ ضرور کرہ اللہ تعالیٰ ساری مرتبہ پیدہ۔ کیا زہ تم چھو امیک وعدہ  
 کورمت پوزو وعدہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرِ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لو کہ چھنہ باوجود دلیل قائم آسجہ یقین  
 کران۔ یہ دوبارہ زندہ کران چھو سہمہ خیطرہ کہ یُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ اللہ تعالیٰ کرہ  
 ضرور مر نہ پتہ یہ پیدہ سارنی تھہ سونتر اوہ تہن سو تھہ تھہ منز تم اختلاف آس کران وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ یہ زانن کافر کہ بیشک تم آس لہز زہر إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ  
 نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ لمہ نغہ کیاہ عجائب چھہ یہ پیدہ کران، یلہ آس کتہ چیز کہ پیدہ کر تک ارادہ کران چھہ  
 اس چھہ ونان سپد۔ الی چھہ سہ چیز سپدان تہ وجود س اندریوان وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا  
 ظَلَمُوا النَّبِيِّينَ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ یہ سمولو کو محض خدایہ سندہ خیطرہ ہین وطن مکتہ شریف تردوشہر  
 حبش گن گئے، یلہ تہن ظلم کر نہ آو، آس دم ضرور تہن رث جانی دنیاہس اندر، آس رتس شہر س منز  
 یعنی مدینہ منورس منزیتہ تم امن و راجح زندگی بسر کران وَالْآخِرَةُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ  
 یوسہ مزور آخرتس منز تہن عطایہ کر نہ سو چھہ امہ خوتہ ہڈ۔ ای کاش تہن کافر ن تے ایچ خبر آسہاسہ  
 حاصل کر نہ خیطرہ سپد ہن مسلمان الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ سمومہا جز و صبر کور وطن  
 ترانس پیٹھہ یہ تم پنہ نس پروردگارس پیٹھہ توکل کران چھہ وطن تراوچہ وقتہ کور کھنہ یہ خیال کہ کھیمو  
 چیمو تھہ پاٹھہ، درای پنہ نس پروردگارس پیٹھہ بھروسہ کر تھہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحي

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ  
 الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ  
 الذِّكْرَ لَتَبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۳۴﴾  
 أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ  
 أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۳۵﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ  
 فِي تَقَدُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ ﴿۳۶﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ  
 رَبَّهُمْ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۳۷﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ

إِلَيْهِمْ اسہ سوزنہ توہمہ بروئھہ یار سول اللہ مگر بشر تہ انسانی پیغمبرہ کیا زہ بشرتیس تہ رسالتس اندر چھنہ  
 کانہہ منافات تمن کن اس پن احکام سوزان اس فسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون پس پر زھتو  
 علمہ والین تہ زان والین ہر گاہ توہمہ پاس معلوم چھنہ بالبیّنات والزُّبر اسہ سوز تم پیغمبر نہ دلیلہ تہ  
 معجزات ہتھہ بیہ کتابہ ہتھہ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لَتَبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ بیہ سوز  
 اسہ توہمہ کن بیہ قران مجید ہتھہ تہہ وارہ نراوتھہ بیان کرو لوکن بیہ تمن کن سوزنہ او بیہ ہتھہ تم تھہ اندر  
 فکر کرن أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا  
 يَشْعُرُونَ کیاہ تم لو کہ سمو پچھہ حیلہ تہ تدبیر کرنی کریمہ سندس مخالفس اندر تم چھابے فخر تہہ  
 گتھہ نشہ کہ تمن کیا نیہ اللہ تعالیٰ زمینس تل والٹ یا سمہ تھہ نشہ کہ عذاب کیا بیہ واتھہ تپاری پیار نہ تمن  
 فخرہ ترہہ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَدُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ یا کیا رٹہ تمن اللہ تعالیٰ پھیران تھوران پس  
 چھنہ تم عاجز کرو ان أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ یا کیا رٹہ تمن کھوڑہ ناوتھہ یا ہنہ ہنہ تمن کم کران تہ ختم  
 کران خدا ایس چھہ پر تھہ چیزس بیٹھہ قدرت تس گڑھہ پر تھہ ساتہ کھوڑن فَإِنَّ رَبَّهُمْ لَرُءُوفٌ رَحِيمٌ پز  
 پاٹ تھنہ رُب چھہ سیٹھاہ مہربان سیٹھاہ رحم کرو ان سو چھنہ جلد رٹان سہ چھہ مہلت دوان أَوَلَمْ يَرَوْا

يَتَفَيَّؤُا ظِلَّةً عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ سَجْدًا لِلَّهِ وَهُمْ  
 دُخْرُونَ ﴿٢٨﴾ وَبِاللَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ  
 دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يُسْتَكْبِرُونَ ﴿٢٩﴾ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ  
 وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٣٥﴾ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا الْهَيْئِ اثْنَيْنِ  
 إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِذَا يَأْتَى فَاذْهَبُونَ ﴿٤١﴾ وَكَهْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَ  
 الْأَرْضِ وَكَهْ الدِّينُ وَإِصْبَا أَفْغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ ﴿٥٢﴾ وَمَا بَكُمْ

إلى ما خلق الله من شئ كياه تم پهناو چهان تمن سایه دار چیزن کن تم الله تعالی ان پیده کرمت  
 بهه کل بی، کوه وغیره بی یَتَفَيَّؤُا ظِلَّةً عَنِ الْيَمِينِ وَالشَّمَالِ سَجْدًا لِلَّهِ وَهُمْ دُخْرُونَ نماز  
 پیمیران بهه تمن چیزن همد سایه دجهن ته کهور فر۔ خدا ایس سجده کران ته عاجزی همد اظهار کران تابع  
 بهه خدایه سندس خمس وَبِاللَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ بهه جهه خدایه سی نماز  
 ته سجده دوان تم ساری چیز تم آسمان اندر ته زمین اندر بهه جاندار و اندره وَالْمَلَائِكَةُ بهه جهه  
 ملائک ته تس سجده دوان وَهُمْ لَا يُسْتَكْبِرُونَ تم بهه باوجود علوشان تس عبادت کر نه نشه کنه قسمه  
 تکبر کران يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ تم بهه کهو ژان په نس بهروردگار نس تمن  
 پیژ کن ته بالا دست جهه۔ بهه جهه تم تم قلیل کران تمن ساری لکمن تم تمن کر نه یوان جهه وَقَالَ اللَّهُ  
 لَا تَتَّخِذُوا الْهَيْئِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهُ وَاحِدٌ فَإِذَا يَأْتَى فَاذْهَبُونَ بهه فر مو الله تعالی ان پیغیرن همد واسطه  
 ای لو کومه تهاو یو که زه یا واریا ه خدا۔ خدا جهه مگر کنی، اکوی۔ نس کهو ژو جهه می یوت۔ کیا زه یله الو بیت  
 خاص می جهه لهد اتمک لوازم تم جهه کمال قدرت وغیره تم بهه مے خاص انتقامک خوف گده می نش  
 تهاون۔ شرک جهه مکان انتقامس۔ لهد آغدهنه خدا ایس شریک تهر اوان وَكَهْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
 وَكَهْ الدِّينُ وَإِصْبَا بهه جهه هند می ته سوزی به آسمان ته زمین منزه جهه۔ بهه شوبه تمیزی فرمانبرداری  
 کرن همیشه أَفْغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ سه معبود بر حق آتته جهه جهه نهه تس درای بین کهو ژان۔ تمن کهو ژو تته



مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ ﴿۵۳﴾  
 ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿۵۴﴾  
 لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ فَتَمْتَعُوا بِهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۵۵﴾ وَيَجْعَلُونَ  
 لَهَا آلِيَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَسُلْطَنٌ عَلَيْكُمْ  
 تَفْتَرُونَ ﴿۵۶﴾ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ﴿۵۷﴾  
 وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ﴿۵۸﴾

چھوہ تہنہ پرستش کران۔ یتھ پاٹھ نہ کہوژنس قابل چھو کاہنہ نس ورا ای یتھ پاٹھ چھنہ امید تھاوئس  
 قابل تہ کاہنہ نس ورا ای وَمَالِكُمْ مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ چنانچہ توہہ نشہ یوسہ نعمتھا و اتان چھہ سہ چھوہ  
 مغبود برحقہ سندی طرفہ و اتان ہیہ نہ کانسہ ہمدہ طرفہ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْعَرُونَ توپتہ یلہ  
 توہہ کاہنہ سختیاہ و اتان چھہ تمہہ ساتہ چھوہ نس گن عاجزی کران کریکہ نادلاگان۔ دُعا کر نس اندر، فریاد  
 کر نس اندر۔ تمہہ ساتہ چھوہ نہ ہیہ کانسہ تہہ مکانان ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ  
 توپتہ یلہ سہ سہ سختی دُور کران چھہ توہہ نشہ اتی چھہ توہی منزہ اکھ جماعتھاہ، تھے چھہ زیادہ پنہ نس  
 پروردگارس بدستور سابق شرک اتان لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَهُمْ فَتَمْتَعُوا بِهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ یتھ تم کفران  
 نعمت کران تمن نعمون ہنز سیمہ نعمو اسی تمن عطا کرہ کس تلوتع کینہہ کالاہ۔ عنقریب زانو امیک مزہ  
 وَيَجْعَلُونَ لَهَا آلِيَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ ہیہ چھہ مقرر کران تم مشرک تمن مغبودان باطلان  
 ہمدہ خیطرہ تمن ہنز نہ تمن خبرے چھہ زہ تمن اٹھہ چھنہ کاہنہ خیر و شریاف و نفع و ضرر اکھ حصہ تمہہ مالک  
 یس اسی تمن عطا کو رمت چھہ تَاللَّهِ لَسُلْطَنٌ عَلَيْكُمْ تَفْتَرُونَ قسم ہیہ پنہ ذات پاکگ ضرور ہیہ  
 پر ڈھنہ توہہ تمیک ہیہ تہہ پائے ٹھہراوان آسوہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ ہیہ چھہ  
 ٹھہراوان مغبود برحقس کوہہ حالانچہ منزہ تہہ پاک چھہ سہ کوہہ آسنہ نشہ پنہہ خیطرہ چھہ ڈھانڈان تہہ ہیہ  
 پانس پندہ چھہ یعنی گبر تہہ چھہ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ہیہ یلہ سہ



أَلَسِنْتَهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَىٰ لَأَجْرِمَنَّ لَهُمُ النَّارُ  
 أَنَّهُمْ مُّفْرَطُونَ ﴿۶۲﴾ تَاللّٰهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ  
 فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ  
 أَلِيمٌ ﴿۶۳﴾ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا تِبْيٰنَ لِمَا الَّذِي  
 اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۶۴﴾  
 وَاللّٰهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي  
 ذٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَّسْمَعُونَ ﴿۶۵﴾ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُّسْقِيكُمُ

نغیر نیک لاجرم انّ لهم الحسنى لاجرم انّ لهم النار انهم مفرطون ثابت ہے کہ یقیناً جو تہندہ خیرہ نارتھ منزین  
 تم ساری بروئے تراوند تالہ لقد ارسلنا الی امم من قبلک خدایہ سند قسم پزپاٹ اسہ سوز تیغیر  
 توہم بروئہ وارینکن امن کن فزین لهم الشیطن اعمالهم کس زینت دمت شیطان تہنزن تہج  
 کامین۔ تمن آیہ بوزنہ پتہ تہجہ کامہ جان فہو ولیہم الیوم ولہم عذاب الیم شیطان چہ تہندہ دوست  
 ازتہ بیہ چہ تہندی خیرہ دگ تلہ ون عذاب آخرتس اندر وما انزلنا علیک الکتب الا لتبین لهم  
 الذی اختلفوا فیہ وهدی ورحمۃ لقوم یؤمنون بیہ کرنہ اسہ نازل توہم پیٹہ یہ کتاب مگر  
 یٹہ تہہ لوکن وارہ بیان کرو پتہ تمہ کتہ تمن منزتم اختلاف کران چہہ بیہ بوڈ ہدایت تہ بڈر حمت  
 بایمان ہندہ خیرہ واللہ انزل من السماء ماء فاحیایہ الارض بعد موتہا بیہ ترو اللہ تعالیٰ ان اسمحہ  
 طرفہ رود تمی سیت کوزن زندہ مومت زمین۔ کس زمین رووندہ پتہ سیت خشک اوس گو مت ان فی  
 ذلک لایۃ لقوم یسمعون پزپاٹ اتہ منز چہ بوڈ نشانہ بوزہ ونین ہندہ خیرہ سم قرآن مجید بوژن  
 تہند مردہ دل سدن زندہ وان لکم فی الانعام لعبرة نسقیکم متافی بطونہ من آیین قرنت ودم لبنا  
 خالصا سائنا للشریین بیشک تہندہ خیرہ چہو چاروا این اندرتہ سیتماہ غور کرنگ مقام تہندین شیکمن

مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ قَرْتٍ وَدَمٍ لَبِنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّرِبِينَ ﴿١٣﴾  
 وَمِنْ شَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا  
 حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى  
 النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ﴿١٥﴾  
 ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا يَخْرُجُ مِنْ  
 بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ

منزلہں فضلہ سے رتھ چھہ تمبوے دو یو چیز و منزہ ہجہ نیر ان دوداہ صاف، ہتہ وسہ ون آسانی سان چنہ  
 والین۔ سئی دود چھہ آس توبہ چاوان۔ وجھو سان قدرت اتھ دودس نہ ہجہ آسان خوچ آلایش نہ فضلہ  
 آلایش یا منیک وَمِنْ شَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا یہ گزہہ خضرن تہ  
 دچھہ اندر غور کرن۔ تیار چھوہ کر ان تہہ تھہ نیک چیز یہ کھیک چیز۔ خشک خضر یہ کھیش یہ شربت تہ  
 برکہ۔ اتھ منز تہ چھہ جید دلیلہ خدلیہ سدہ توحید چہ۔ یہ چھہ ثابت سپدان سارے نعمہ عطا کرہ ون چھہ  
 سئی إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ پڑپاٹ اتھ منز چھہ بوڈ نشانہ خدلیہ سدہ قدر تک عقلہ والین ہند  
 خیطرہ وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنْ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ یہ تھہ تہ چھہ قابل  
 غور کہہ الہام ترود چھہ پروردگارن ماچھہ ٹکرہ ای زہ ژہ بناوٹن گرہ کوہن منز، کلین منز یہ لوکن ہندین  
 گرن منز چنانچہ تمکن جاین منز چھہ سہ گرہ بناوان ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلَالًا توپتہ  
 کھیہ ژہ پریتھہ قسم میوہ آندہ۔ بس یہی چگن واپس ژہ پنہ بس آلس گن پنہ بس پروردگارہ سنزن وتن اندر  
 سمہ سہل تہ آسان چھہ چانہ خیطرہ۔ دورودراز جایو پیٹھ مین ہند رس ژہ تھہ چھہ یوان سوپنہ نس آلس  
 گن توپتہ چھہ ماچھہ تراونچ کوم کران يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ نیر ان چھہ  
 سہ ماچھہ ٹکرین ہند یو شیکو منزہ اکھ چینک چیزہ میوہ تہ مودر یعنی ماچھہ سمک رنگ مختلف چھہ آسان  
 تھہ منز چھہ شفاء لوکن ہندہ خیطرہ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ پڑپاٹ اتھ منز چھہ بوڈ نشانہ خدلیہ

لَايَةً لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُونَ ﴿٦٩﴾ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴿٧٠﴾ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْسِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعَمَلِهِ

سندہ قدر تک فجر سے تامل کر وہ مین ہندہ خیرہ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمْرِ بیہ کر وہ تہہ اللہ تعالیٰ نے پیدا۔ تو تان اسوہ نہ تہہ کہنی۔ از عدم انوہ بوجود کینہہ کالاہ گڑھت نیوہ سنی توہہ ہمہ عالمہ بیہ چھ توہہ اندر کانہہ شخصہہ چھ عمرہ تان واتاوانہ یوان۔ تہہ عمرہ منز نہ چھہ جسمانی قوت موجود روزان نہ عقلہ ہند قوت۔ یڑھ عمرہ نشہہ چھہ پناہ موعمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ”وأعوذ بك من أن أرد إلى أردل العمر“ لَكِي لَا يَعْلَمَ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئًا تمیک اثر چھہ یہ سپدان کہ اکہ چیز ج خبر گھنہ پتہ چھہ یہ شخص تمہہ چیزہ نشہہ بیخ سپدان یاد و نثر چھنہ۔ بحرس اندر کینہہ روزان إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ پزپاٹ اللہ تعالیٰ ای چھہ سوڑی زانہ ون، ساری پیٹھ قدرتہ وول وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ بیہ دیت فضیلت اللہ تعالیٰ ان توہہ اندرہ بعضی لوکن بعضین پیٹھ رزقس اندر۔ اکہ کوڑن مالدار تمس تھاوون نوکر تہہ غلام تابع۔ تسمدہ واسطہ چھہ تم تہندین غلامن تہہ رزق واتاوان۔ کانہہ بیوون غلام تمس چھہ آغہ سندہ واسطہ رزق واتاوان۔ بیہ کوڑن کانہہ شخصہہ تمس نہ چھہ تیوہ دولت زہ غلام آسہ ہنس۔ نہ چھہ سہ پانہ کانہہ ہند غلام فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَأْسِي رِزْقِهِمْ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ لہذا تمکن لوکن رزقس اندر خاص فضیلت دنہ آہہ تمکن نشہہ چھہ مال تہہ دولت تہہ، غلام تہہ تمہیکن نہ سہ پئن مال تمکن غلامن دتھ۔ کیا زہ تلہ سپدہ آغہ تہہ غلام برابر۔ کیا زہ غلام چھنہ کئہ چیزک مالکھی بنان۔ لہذا چھنہ غلامی تہہ مساوات تمکنی زانہہ۔ تھہ پاٹھ چھہ یم معبودان باطل ساری خدایہ سندہ مملوک۔ تمیک کافر چھہ پانہ اعتراف کران۔ لہذا مملوک آتھہ تھہ پاٹھہ تمکن تم خدائیس ہی آتھہ۔ یا تھہ پاٹھہ تمکن تم خدایہ سندس کئہ چیزس منز شریک آتھہ۔ یلہ نہ تہند غلام تہندس مال و دولتس شریک تمکن سپدت۔ اللہ تعالیٰ سند غلام تہہ مملوک تھہ پاٹہہ تمکن تہندس الوہیتس اندر تس شریک

اللَّهُ يَجْعَدُونَ ﴿۴۱﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
 جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ  
 الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿۴۲﴾  
 وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿۴۳﴾ فَلَا تَضْرِبُوا  
 لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۴۴﴾ ضَرْبَ

بنت۔ کیا تم مضامین بوزت چھاتم لو کہ خدا جس شریک ٹھہراوان ستمہ سیت عقلاً یہ کھ چھ ثابت  
 سپدان کہ تم چھ خدایہ سزنا نعمون انکار کران کیا زہ نس نعمو عطا کرہ ون آسہ سہ گزہہ زانن معبودتہ  
 کئی۔ تس شریک ٹھہراونہ سیت چھ لازم کہ تس چھنہ تم نعمت عطا کرہ ون زانان۔ لہذا چھہ ستم مشرک  
 شرک انہ سیت تہندس نفس انکار کران اَفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْعَدُونَ کیاہ ستم چھا خدایہ سزنا نعمون انکار  
 کران وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا بیہ کر اللہ تعالیٰ ان پیدہ تہندی جسہ منزہ یعنی انسانو منزہ تہند جوہ  
 یعنی آشین تہ زندہ تہنزہ وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنِينَ وَحَفَدَةً بیہ کر اللہ تعالیٰ ان پیدہ تہندہ خیطرہ تہنزہ  
 زناونو غیر گہر تہ اولاد بیہ اولادن ہند اولاد وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ بیہ کوزن عطا توہہ رزق پاک تہ  
 رتو چیز و آندرہ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ یہ کرت تہ چھاتم معبودان باطن ایمان  
 اتان تہہ پیٹہ نہ کاہنہ دلیل چھہ تہ خدایہ سزنا نعمون چھہ انکار کران تس شریک ٹھہراونہ سیت وَيَعْبُدُونَ  
 مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ بیہ چھہ تم  
 عبادت تہ پرستش کران خدایس و رای تمنی چیزن ہنزیم نہ مالک تہ اختیارہ وال چھہ تہندہ خیطرہ کئہ  
 قسمہ رزق نہ آسماچہ طرفہ بارش تراوت نہ زینچہ طرفہ کاہنہ چیز کھارت، نہ ممکن تم تہندہ خیطرہ  
 کینہہ کرتھہ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ جس مہ آسوتہہ بیان کران خدایہ سزنا ہمثالہ پنی خیالہ موجب کہ  
 اللہ تعالیٰ چھہ بوڈا دشاہ۔ تس ہیچہ نہ پرستھہ اکھاہ پن حاجت پیش کرتھہ، عام لو کن شوبہ تہندین نامین

اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ  
 مِثْرًا فَاَحْسَنًا فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ  
 يَسْتَوْنَ ط الْحَمْدُ لِلَّهِ ط بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵﴾ وَضَرَبَ  
 اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ  
 كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لآيَاتٍ بَٰخِرٍ هَلْ يَسْتَوِي  
 هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۶﴾

غیر بین حاجت پیش کرن تم کرن پیش خدا پس غیر اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بیشک پر مثال  
 بیان کرن زانہ اللہ تعالیٰ ای جہہ زانہ نہ ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا چنانچہ اللہ تعالیٰ چھ مثالہ بیان کران عِبْدًا  
 مَمْلُوكًا اَکھ غلامہ چھو اَکس شخصہ سُنْد لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ کس نہ کُنہ چیزس پیٹھ کانہہ قدرت یاکنہہ  
 اختیارہ چھ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِثْرًا فَاَحْسَنًا فَهُوَ يَنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا بیاکھ چھ سُنْد شخص کس  
 آسہ پتہ طرفہ رُت رِزْق عطا کور۔ سُنْد چھ تمہ رِزْق منزہ خرچ کران۔ پُوشیدہ پاٹھ تہ زن پاٹھ تہ هَلْ  
 يَسْتَوْنَ تہی و نتو تم زہ چھا بر ابری۔ تم معبودان باطل بو ز تو کھ بے طاقت تہ بے اختیار غلام ہی۔ اللہ  
 تعالیٰ زانتون مختار کُل۔ پر چھ چیزس پیٹھ قدرت تہ طاقت تھاون وول اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ساری تعریف تہ  
 صیفت چھ تہ معبود بر حق کس زانہ کن تہ صفتو کن کامل چھ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بلکہ چھ تہ سمو  
 آندرہ اکثرن معلومی کھ شرسکہ شامتہ کیاہ تہ تم وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ  
 عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ بیاکھ مثال چھ اللہ تعالیٰ فرماوان۔ زن جوراہ چھ۔ اَکھ چھ تمو آندرہ  
 ماجہ زانت کولوی کانہہ کوم نہ بیگان کر تھ۔ بیہ چھ سُنْد بور تہ وبال گردن پتہ کس آغس پیٹھ بنیومت  
 أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لآيَاتٍ بَٰخِرٍ یوت سوزان چھ تہ کانہہ رث کا ماہ کرت چھ تہ یوان۔ هَلْ يَسْتَوِي  
 هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تہی و نتو کیاہ تہ شخص چھا بر ابر کس شخص صیت  
 کس فصاحت و بلاغتہ سان کلام آسہ کران کس لو کن رثن کا میں ہند اصرار آسہ کران بیہ آسہ سُنْد پانہ تہ

وَاللَّهُ غَيْبُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا  
 كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۷۷﴾  
 وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونٍ مِّنْ بُطُونٍ لَّا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَ  
 جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۷۸﴾  
 أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يَسْكُنْنَ  
 إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۷۹﴾

سبزہ و تہ پیٹھ قاسم روز تھ و اللہ غیب السموات والارض یہ جھ خدایہ سی آسان تہ زمین ہنزن  
 پوشیدہ کھن ہند علم و ما امر الساعۃ الا کلمح البصر او هو اقرب یہ جھ سہ قدر تس اندر نیوت  
 کامل کہ پوشیدہ تھو اندرہ گیہ اکھ تھ قیامت۔ تمیک معاملہ آسہ نیوت جلد کہ سمہ ساتہ تمیک وقت  
 و اتہ اگس الجھہ بیٹھ منز سیدہ قیامت برپا بلکہ تمہ خوتہ تہ نزدیک تہ جلد إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  
 بیشک اللہ تعالیٰ جھہ پر تھ چیز س پیٹھ قدر تہ و ول وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِّنْ بُطُونٍ مِّنْ بُطُونٍ لَّا تَعْلَمُونَ  
 شَيْئًا یہ جھ قدر تہ چود لیلو اندرہ تہ نعمتہ کیو قسمو اندرہ یہ امر کہ کڈوہ توبہ اللہ تعالیٰ ان پنے نین ماجن ہند  
 یو شکمو اندرہ تھہ حالس اندر کہ تمہ ساتہ آسیونہ تمہہ زانان کہنی۔ وَ جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ  
 وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تو پتہ کر نوہ تم بوزنہ خیطرہ کن، و چھنہ خیطرہ اچھہ، زاننہ خیطرہ دل عطا۔  
 تھہ تمہہ تھنزن تمن نعمون پیٹھ شکر دپو أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يَسْكُنْنَ إِلَّا  
 اللہ کیاہ تم لو کہ چھنا و چھان جانورن ہند حال۔ تھہ پاٹھ جھہ خدایہ سندس کھمس تابع آسانس تہ  
 زمینس منز باگ ہو اوس پیٹھ و ڈان۔ کانہہ تہ بھنہ تمن تھپ کرت آسان اللہ تعالیٰ اس و رای اِنَّ  
 فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ پڑیاٹ اتھہ منز چھہ واریاہ دلیلہ خدایہ سندہ قدر تھہ با  
 ایمان ہندہ خیطرہ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَعْنَامِ بُيُوتًا  
 تَسْتَخِفُّونَهَا بِیہ کر اللہ تعالیٰ ان تمہدہ خیطرہ تمہدین گھرن اندر تمہدہ روزی جا یلہ نہ تمہہ در حالت



وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ  
الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ  
وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَانًا وَمَتَاعًا  
إِلَىٰ حِينٍ ﴿۸۱﴾ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِمَّا خَلَقَ ظِلَالًا وَجَعَلَ لَكُمْ  
مِنَ الْجِبَالِ الْكُنَانًا وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ  
وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمُ بَأْسَكُمْ كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ  
لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ﴿۸۲﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاءُ

سفر آسویہ کرن تہندہ خیطرہ چاروا این ہندین مسلمان ہند گھر۔ یعنی خیمہ۔ تم تہہ لوت زانتھ پانس سیت  
سفرن اندر تلان چھوہ یوم ظعنکم و یوم اقامتکم سیمہ دوہہ تہہ سفرس نیران چھوہ یہ سیمہ دوہہ تہہ  
جالیہ ٹھہران چھوہ اقامت کران چھوہ و من اصوابہا و اوارہا و اشعارہا اثاناً و متاعاً الی  
حین یہ کرن تہندہ خیطرہ کٹھ موند، اونٹ موند، ژھاول موند، پوشاک تہ فرش و فروش یہ گرج گروہ  
اکس مقرر کرنہ آتس و قس تان یوتان تم چیز بھلان چھہ واللہ جعل لکم مما خلق ظلالاً یہ کر اللہ  
تعالیٰ ان تہندہ خیطرہ پنہ نین پیدہ کرتین چیزن ہند سایہ پیدہ۔ سمن تل روزت تہہ آفتابہ گرمی نشہ  
بچان چھوہ مثلاً گلین ہند سایہ، لرین ہند سایہ و جعل لکم من الجبال الکنانا یہ کرہ اللہ تعالیٰ ان  
تہندہ خیطرہ کوہن اندر گوچھہ تہ غارہ سمن تل روزت شینہ تہ رۓ نشہ بچان چھوہ و جعل لکم سرابیل  
تقیکم الحرّ یہ کرہ اللہ تعالیٰ ان تہندہ خیطرہ پھرن تہ گرتنہ ییمہ توہہ بچاوان چھہ سردی نشہ تہ گرمی  
نشہ و سرابیل یہ کرین یہ گرتنہ یعنی زرہ تقیکم باسکم سیمہ توہہ بچاوان چھہ جنگس اندر شمشیرن  
تہ نیزن تہ تیرن ہند یوز خون نشہ کذلک یتم نعتہ علیکم لعلکم تسلمون تہہ پانچ چھوہ اللہ تعالیٰ  
توہہ پیٹھ نعرہ پنہ پورہ کران تہہ تہہ تمند ہم مانو فان تولوا فانما علیک البلاء البین پس

الْمُبِينُ ﴿۸۶﴾ يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ  
 الْكٰفِرُونَ ﴿۸۷﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا ثُمَّ لَا  
 يُؤْذَنُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿۸۸﴾ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ  
 ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۸۹﴾ وَ  
 إِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ  
 شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ ؕ قَالِقُوا

ہر گاہ تم لو کہ اُمّہ پتہ تہ تھ پھرن، پس توبہ چھونہ منہ مگر تبلیغ کرن ان پاٹ تہ صاف پاٹھ یعرفون  
 نِعْمَتَ اللَّهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكٰفِرُونَ تم لو کہ چھہ پرزہ ناوان خدایہ سز نعمت تو پتہ چھہ  
 زانتھ کر تھ تھ نفیس انکار کران۔ پس بر تاو متمس سیت کرن گھسہ یعنی عبادت تہ اطاعت سو چھو تس  
 ورا ی بین سیت کران سمو آندرہ چھہ واریاہ کافر ویوم نبعث من کل اُمّہ شہیداً بیہ پاو ورتیس  
 سمہ دوہہ آس تلون پر تھ اُمّہ خیطرہ آکھ گواہ، سو گو تمہہ امتک پیغبر قیامتک دوہہ سُکُلاً یؤذَنُ  
 لِلَّذِينَ كَفَرُوا تو پتہ بیہ نہ کافرن اجازت دنہ تھہ کرنگ عذرو معذرت پیش کرنگ قیامتک دوہہ  
 وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ نہ بیہ تمن نشہ عذر طلب کرنہ نہ بیہ تمن وننہ کہ اللہ تعالیٰ کریون راضی،، توبہ  
 کرد، یا کانہہ رث عمل کرد کیازہ تمہہ سٹھ آسن کامرہ، آخرت چھو در الجراسو چھونہ داز العمل وَإِذَا رَأَى  
 الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفِّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ توبہ پتہ یلہ و پھن عالم تمہہ دوہہ عذاب،  
 پس نہ لیہ تمن تھہ عذابس منز کی کرنہ، نہ لیجھ مہلت دنہ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ بیہ  
 یلہ مٹر کن نظر پیہ تمن شریکن پیٹھ تمن تم ٹھہراوان آس خدایہ سد شریک قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ  
 شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ نہنہ لگن پروردگار اتے کیاہ چھہ تم شریک تمن آس  
 پرستش تہ عبادت کران آس تہ ورا ی قَالِقُوا إِلَيْهِمُ الْقَوْلُ إِنَّكُمْ لَكٰذِبُونَ پس کرن تم  
 معبودان باطل تمن کافرن سیت تھہ۔ دیکھ تھہ چھوہ بڈا ہزیر۔ آس کر آسوہ توبہ ونان کہ توبہ کر تو

إِلَيْهِمُ الْقَوْلُ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۸۶﴾ وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ  
يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۸۷﴾  
الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زُذُّنَهُمْ عَذَابًا  
فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ﴿۸۸﴾ وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ  
أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا  
عَلَى هَؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَ  
هُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿۸۹﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ

اسم پر ستنش یا توہ معنی اسم بن حاجت۔ تہہ آسوہ پتہ نفسہ چہ خواہشہ تہ شیطانہ سہہ وندہ موجب تم چیز  
کران وَالْقَوْلُ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ بیہ تراوان تمہہ دوہہ  
کافر خدائس برو تھکن، اطاعت و صلح معاملہ۔ بیہ مشکھ تم ساری چیز تم ذنیاس منز پانے  
ٹھہراوان آس الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زُذُّنَهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا  
يُفْسِدُونَ تم لوکھ اکھ کفر کران آس۔ بیہ آس پتہ رنان بین لوکن خدایہ سزہ وتہ نشہ یعنی اسلام  
قبول کرنہ نشہ تممن ہرہ راووا اس عذائس پیٹھ عذاب۔ کیا زہ تم آس تباہی تہ بر بادی عالمس منز  
پھیلاوان لوکن اسلامہ نشہ پتہ رنہ سیت وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ بیہ  
پاوسودوہہ ژیتس سمہ دوہہ اس تلون پر پتھ اتس منز تموی منزہ اکھ گواہ یعنی ری پتھ اتک پیٹھہر وَجِئْنَا  
بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ بیہ انوہہ تہہ تہ یار سول اللہ گواہ تمن لوکن ہندہ خپرہ یعنی پتہ ائمہ خپرہ پتھ  
تہہ فرماویو کہ کومون تہند، کمو کور انکار وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً  
وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ بیہ کرنازل اسم توہہ پیٹھ یار سول اللہ بیہ بد کتاب پتھ منز سار کوی بیان پتھوہ بیہ  
بوڈ ہدایت۔ بڈ رحمت تہ بڈ بشارت ایمان مسلمان ہندہ خپرہ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَهْيَ عَنِ  
 الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۹۰﴾ وَ  
 أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ  
 بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ  
 يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿۹۱﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا  
 مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ

وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ پزیاٹ اللہ تعالیٰ چھو حکم کران عدل بہ انصاف کر نگہ بیہ نیکی کر نگہ بیہ آشناون  
 امداد کر نگہ۔ وَيَهْيَ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ بیہ چھو اللہ تعالیٰ منع کران بیچھ کا میونشیہ بیہ  
 خلاف شرع کا میونشیہ بیہ سرکشی بہ بغاوتہ نشیہ یعنی لوکن ظلم و ستم کرنہ نشیہ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ  
 اللہ تعالیٰ چھو وعظ پران، نصیحت کران ہتھ جنہ سو نصیحت قبول کرو وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ  
 بیہ کر و وفا خدایہ سندس عہدس یمہ عمدہ کہ پورہ کر نگہ شریعت حکم کران چھو۔ بیہ یمہ پانہ وان عہد  
 آسو کران وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا بیہ مہ آسو قسم پھڑاوان سہ مضبوط کرنہ پتہ۔ تھ  
 منز آسوہ خدایہ سند ناوتہ در میانس منز اونمت سیمہ سیت قسم مضبوط چھو سپدان وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ  
 عَلَيْكُمْ كَفِيلًا اللہ تعالیٰ آسون تھوومت گواہ بہ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ پزیاٹ اللہ تعالیٰ چھو  
 زانان بہ سوزی بہ تہہ کران چھوہ۔ تہس نشیہ تہندہ کانہہ چیز پوشیدہ چھونہ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِي  
 نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا بیہ مہ آسو تہہ اے لو کو قسم پھڑاوانہ سیت مکہ شریفچہ تہس دیوانہ  
 زنانہ ہی بنان یوسہ زمان آس پٹن کو تھمت، مضبوط کرنہ پتہ، ٹکرہ ٹکرہ تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا  
 بَيْنَكُمْ ہتھ پٹ چھوہ تہہ بناوان قسم پٹن پانوان فساد کرنہ خیطرہ اکھ بہانہ تہ ذریعہ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ  
 أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ہتھ سپدہ اکھ جماعت بارہ تعدادس تہ قوس اندر بیہ جماعتہ خوتہ۔ تہہ کرو تہہ ساتہ رعایت  
 زور آور جماعتک۔ قسمک کرو نہ تہہ کانہہ خیال اِنَّمَا يَبُوءُكُمُ اللَّهُ بِهِ امہ سیت چھونہ مگر چھو امتحان

تَكُونُ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَىٰ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ ۖ وَلِيُبَيِّنَ  
لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿۹۷﴾ وَلَوْ شَاءَ  
اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ۗ وَلَٰكِن يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ  
وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۗ وَلَكُسِّعْنَا عَمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۸﴾  
وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَالًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمُ بَعْدَ  
ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا الشُّوْءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ  
لَكُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۹۹﴾ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا

کران توہمہ اللہ تعالیٰ کہ قسم کر تھہ تہ معاہدہ کر تھہ کرودہ تہہ قسمک رعایت کنہ ظاہری حالاتن ہند  
یا زبردست جماعتک۔ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ بیہ تھہ توہمہ اللہ تعالیٰ  
نہ راوہ قیامتگ دوہ تہ سوزی تھہ منز تہہ اختلاف کران آسوہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً  
بیہ ہر گاہ اللہ تعالیٰ یڑھہ ہا توہمہ سارنی کرہ ہائنی جماعت اختلافہ ورا ی مگر تمسز حجتہ تہ یڑھان  
وَلَٰكِن يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ مگر سو پھو گراہ کران نیس یڑھان پھو تس۔ بیہ پھہ  
ہدایت کران نیس یڑھان پھہ تس وَلَكُسِّعْنَا عَمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ بیہ لیہ توہمہ ضرور پر زھنہ تمہہ سارہ  
کوی یہ تہہ کران آسوہ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَالًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمُ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا  
الشُّوْءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ۔ بیہ پھہ فرماوان اللہ تعالیٰ تاکیدہ خیطرہ کہہ مہ بناو لو کہ قسم پن  
ذریعہ پانہ وان فسادک تہ فنک۔ تمہ سیت ڈلن تہند کھور تم ہندہ ڈرہ تہ مضبوطی پتہ۔ بیہ تہو تمیک  
پچھ مزہ و نیاعس اندر عذابس گرافار سپدنہ سیت کیا زہ توہمہ کیاہ کورودہ آیندہ بینہ والین ہندہ خیطرہ خدا لیہ  
سزود تھہ ہند وَلَكُمُ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ بیہ پھہ آخر تس اندر تہندی خیطرہ ہا عذاب وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ  
اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ بیہ مہ آسو حاصل کران خدا لیہ سند قسم ہاوتھہ دنیا ہک کم مال إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ هُوَ خَيْرٌ

إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۹۵﴾ مَا عِنْدَكُمْ  
 يَنْفَعُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا  
 أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۶﴾ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا  
 مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً  
 وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۷﴾ فَإِذَا  
 قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿۹۸﴾  
 إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ

لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ پزپاٹ یوسہ ثواب تہ مزور خدا کس نشہ پچھہ سوچھہ بہتر تہندہ خیطرہ ہر گاہ توہمہ  
 زان سچہ بچہ ما عیندکم ینفعد و ما عیند اللہ باقی یہ توہمہ نش پچھہ مال دنیا اندرہ تہ سوزی پچھہ موکلہ  
 ون تہ خم ہوشہ ون۔ یہ اللہ تعالیٰ اس نشہ پچھہ باقی تہ پوشہ ون۔ سہ موکلہ نہ زانہ۔ و لنجزیئن الذین  
 صبروا اجرہم باحسن ما کانوا یعملون بیہ دموا س صبر تہ استقامت کرہ و نین مزور تہنزن  
 رثن کا مین تہ عملن ہند بدلہ من عمل صالحا من ذکر اوانثی و ہومؤمن فلنحیینہ حیوۃ  
 طیبۃ سم دنیا س اندر رث عمل کرن مردویا زانو اندرہ بالیمان آستہ پس کروا س تہن عطار تہ زند گیاہ  
 دنیا س اندر و لنجزیینہم اجرہم باحسن ما کانوا یعملون بیہ دموا کھ اس پنن مزور تہن رثن  
 کا مین بدلہ سمہ تم کران اس فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم کس بلہ تہ  
 ای پیغمبر برحق قرآن مجید پڑن ہیوان آس پوس گشہ پناہ مگن اللہ تعالیٰ اس مردود شیطانس نشہ۔  
 إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ پزپاٹ کس شیطانس پچھہ کانہہ  
 طاقت بالیمان پیٹھہ بیہ سم پنن کس پروردگار س پیٹھہ اعتماد تہ تکیہ کرہ ون آن ائسا سلطنہ علی الذین  
 يتولونہ والذین ہوم بہ مشرکون شیطانہ سندا زور پچھہ چلان مگر تمنی پیٹھہ سم تہس سیت یارانہ

يَتَوَكَّلُونَ ﴿٩٩﴾ إِنَّمَا سُلْطَنُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ  
هُم بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿١٠٠﴾ وَإِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ  
اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ  
لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٠١﴾ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ  
لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴿١٠٢﴾  
وَلَقَدْ نَعَلْنَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا عَلَّمَهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي  
يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجِبِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٠٣﴾

لاگن۔ بیہ تمن پیئہ سم کنس خدائس شریک ٹھہراوان وَاِذَا بَدَلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ  
بِمَا يَنْزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بیہ یلہ آس لہ آیہ کریمہ چہ جلیہ بیاکھ آیہ  
کریمہ نازل کران چہہ اللہ تعالیٰ ای چہہ بہتر زنان تمن احکامن ہنزہ مصلحو یم سہ نازل کران چہہ۔ تمہ  
ساتہ چہہ کافر ونان توہہ یارسول اللہ تہہ چہوہ نہ مگر پیئہ طرفہ سہہ تہہ ٹھہراوان۔ فی الحقیقت چہہ  
واریاہ تمہو آندرہ بے خبر قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ تہہ فرماویکھ یارسول اللہ، دول  
یہ قرآن مجید جبریل امین کس پاک رُوح چہہ تہندس پروردگارہ سندہ طرفہ پزیاٹ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ  
الْمُتَوَكِّلِينَ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ تہہ بالیمان ہندول مضبوط کرہ بیہ چہہ یہ قرآن مجید لاؤ ہدایت  
تہہ بدبشارت مسلمانن ہندہ خیطرہ وَلَقَدْ نَعَلْنَا أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا عَلَّمَهُ بَشَرٌ بیہ چہہ اسہ معلوم کہ سم  
دُشمن چہہ ونان امس پیغمبرس چہہہ پنچھہ ناوان مگر کانہہ زانن دول انساناہ۔ خیال او سگھہ کیژن بہودی یا  
نصرانی غلامن ہند۔ اللہ تعالیٰ چہہ تہندس اتہہ باطل خیاس رد کران۔ فرماوان چہہ لِسَانُ الَّذِي  
يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجِبِي وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ اے بے وقوفو کس غلامس نشہہ تہہ سم چہہ تہہ

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيَهُمُ اللَّهُ وَلَا مُمْسِكُ  
 عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿۱۰۴﴾ إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  
 بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ ﴿۱۰۵﴾ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ  
 بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلٰكِنْ  
 مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ  
 عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۰۶﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا  
 عَلَى الْآخِرَةِ وَإِنَّ اللَّهَ لَيَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿۱۰۷﴾

پرچ نسبت کران چھوہ تمسنز زیو چھ عجمی۔ مگر نئس کلام سم توہمہ یوزہ ناوان چھوہ یہ چھہ زیواہ عربی،  
 صاف تہ واضح۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَهْدِيَهُمُ اللَّهُ وَلَا مُمْسِكُ عَذَابٍ أَلِيمٍ پڑپاٹ سم  
 لوکھ نہ پڑھ کران چھہ خدایہ سنڈین آیاتن تمین ہاودہ نہ نجماچ و تھہ اللہ تعالیٰ۔ تھندی خیطرہ چھوہ کڈر  
 عذاب إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكُذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكٰذِبُونَ ایڑ چھہ  
 نورواوان مگر تھے لوکھ یم نہ خدایہ سنڈین آیاتن پڑھ کران چھہ تھے گے ایڑ زہر۔ مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ  
 بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرَهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ نئس اکھاہ خدائس انکار کرہ اقرار کر تھہ مگر نہ سہ شخص  
 نئس کفرہ خیطرہ زور تہ جبر کر نہ لیہ۔ زیوہ سیتہ سہ کلمہ کفر ونہ در حالتیہ دل آسئس ڈنجر ایمانہ سبت۔ وَلٰكِنْ  
 مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ مگر نئس دل موزراوت کفر تہ انکار کرہ تھین لوکن  
 پیٹھ چھہ خدایہ سڈ غضب تہ بیزار ی۔ وَاللَّهُمَّ عَذَابٌ عَظِيمٌ یہ چھہ تھندی خیطرہ یوڈ عذاب ذَلِكَ  
 بِأَنَّهُمْ اسْتَحَبُّوا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ یہ چھہک امی موکھ کہ تموکیاہ کر پسنڈ دنیاء چ زندگی  
 آخرتس پیٹھ۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَيَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ یہ امی موکھ کہ اللہ تعالیٰ چھنہ و تھہ ہاوان کافرین



أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ  
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْغٰفِلُونَ ﴿۱۰۸﴾ لَاجِرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ  
 الْخٰسِرُونَ ﴿۱۰۹﴾ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنَّا بَعْدَ  
 مَا فِتْنَانَا ثُمَّ جَاهِدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنَّا بَعْدَهَا  
 لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۱۰﴾ يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن  
 نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۱۱۱﴾  
 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً

تہ مَحْرَن اُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَسَمِعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الْغٰفِلُونَ سے کیا گئے  
 تم لو کہ تمہیں مہر کر اللہ تعالیٰ ان تہندین دِلن بیٹھہ بہ تہندین کنن بیٹھہ۔ یہ تہزنن اچھن بیٹھہ یہ کیا گئے  
 سے لو کہ غافل لَاجِرَمَ أَنَّهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْخٰسِرُونَ پزپاٹ سے لو کہ آسن آخرتس اندر  
 تاوان زد ثَمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنَّا بَعْدَ مَا فِتْنَانَا ثُمَّ جَاهِدُوا وَصَبَرُوا توپتہ چھ  
 پزپاٹ چون پروردگار تمہیں لوکن ہندہ خیطرہ سموکھر چہ سختی تلت گربار تراوتھ، ہجرت کر۔ توپتہ  
 کوزک جہاد۔ یہ کوزک صبر إِنَّ رَبَّكَ مِنَّا بَعْدَهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ پزپاٹ تہند پروردگارہ چھ تمہ پتہ  
 تہندہ خیطرہ سیٹھاہ مغفرت کرہ ون، سیٹھاہ رحم کرہ ون يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَن  
 نَفْسِهَا وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ سہ دودہ پاووتیس سمہ دودہ پریت شخصاہ ایہ،  
 گفتگو آسہ کران پنہ نی پانہ کہ طرفہ۔ یہ لیہ پورونہ جزاتہ سزا پریتھہ کانسہ۔ تھہ بدل یہ تم کرمت آسہ  
 تمواندرہ ایہ نہ کانسہ ظلم کرنہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا  
 رَغَدًا مِّنْ جُلِّ مَكَانٍ یہہ کر بیان اللہ تعالیٰ اَن مثال اکہ شہرہ کین لوکن ہنز تم آس امن والاس



اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۱۵﴾  
 وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا  
 حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ  
 الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ ﴿۱۱۶﴾  
 مَتَاعٌ قَلِيلٌ ۖ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۱۷﴾ وَعَلَى الَّذِينَ  
 هَادُوا حَرَمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِهِ ۖ وَمَا  
 ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۱۱۸﴾

تعظیمہ خیطرہ یا قرب ژھانڈنہ خیطرہ مارنہ ایہ فَمِنْ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  
 رَحِيمٌ ہنس ہنس اکھاہ فاتحہ وجہہ بالکل بیقرار تہ مجبور سپدہ سمو چیز و اندرہ کانہہ چیز کھینس پیٹھ سمو  
 چیز وورای ہینس نہ کانہہ چیز بشر طیحہ لذت تہ مزہ حاصل کرہ و ن آسہ نہ۔ ضرورتہ نحو تہ زیادہ کیوہ و ن  
 آسہ۔ ہنس چھہ اللہ تعالیٰ مغفرت کرہ و ن، رحم کرہ و ن وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ  
 الْكَذِبَ هَذَا حَلَلٌ وَهَذَا حَرَامٌ بیہ مہ آسو و نمان تہن چیز ن یمن تہنزہ زویہ آس پانے اپز  
 تعریف کران کہ یہ گو حلال تہ یہ گو حرام لِّتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ خدائس پیٹھ اپز نوراونہ خیطرہ  
 إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ پز پاٹ سم اللہ تعالیٰ اس پیٹھ اپز نوراونہ تم  
 سپد ن زانہہ کامیاب مَتَاعٌ قَلِيلٌ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بیہ چھہ فائدہ تہنک کم چیزہ۔ یعنی فائدہ  
 مویہ ہنہ۔ پو لاکہ چھہ تہندہ خیطرہ کڈر عذاب وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا مَا قَصَصْنَا عَلَيْكَ  
 مِنْ قَبْلِهِ بیہ کوراسہ یہودین پیٹھ حرام تم چیز سم آسہ بیان کرتوہم سمہ بروٹھہ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ  
 وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ آسہ کورنہ یمن پیٹھ کانہہ ظلم بلکہ آس تم پان پانس ظلم

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّعْرَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ  
 بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۱۹﴾  
 إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ  
 الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۲۰﴾ شَاكِرًا لِلْإِنْعَامِ إِجْتَبَاهُ وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ  
 مُسْتَقِيمٍ ﴿۱۲۱﴾ وَاتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ  
 الصَّالِحِينَ ﴿۱۲۲﴾ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا


کران ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّعْرَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا  
 لَغَفُورٌ رَحِيمٌ توپتہ چھہ حقیقت یہی کہ بیشک تہند پروردگار چھہ تمن لوکن ہندہ خیطرہ یومو بیچہ کامہ  
 کرہ نادانی سببہ توپتہ کورکھ تمہ پتہ توبہ خدائس کن رجوع بیہ سنبھا لک پن پان۔ اصلاح کورکھ پتہ نس  
 پانس۔ پزپاٹ تہند پروردگار چھہ تمہ پتہ تہ سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ  
 أُمَّةً قَانِتًا لِلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ پزپاٹھ حضرت ابراہیم تمن توبہ تہ چھہ مانان  
 اوس کنی زن، بدس اتس برابر کیا زہ سوڑی عالم اوس شرک و کرس بتلا۔ یورہ کنہ اوس سہ کنی صاحب  
 خدائس کنی زانان۔ سارنے اوس توحیدس کن دعوت دوان، خدایہ سند فرمانبردار بندہ۔ نس ساروی نشیرہ  
 الگ سبت نس کن مایل سپدہ ون اوس۔ بیہ اوس نہ سہ خدائس شریک ٹھہراوہ ونیو آندرہ شاکر  
 لِإِنْعَامِهِ سہ اوس شکر گزار تہمن نعمون پیٹھ اجتباہ و ہدایہ الی صراطِ مُسْتَقِيمٍ سہ ثور اللہ تعالیٰ ان،  
 برگزیدہ کورن بیہ مانس دتھ راہ اتس کن وَاتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّا فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ  
 الصَّالِحِينَ بیہ کوراسہ عطاس دنیاس اندرتہ رت حال۔ حجہ حجہ مہربانیہ۔ نبوت، اجتباہ، خلعت،  
 ہدایت بیہ چھہ آخرتس اندر سہ اعلیٰ درجہ کیونیکو کارو آندرہ ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ  
 حَنِيفًا توپتہ سوزاسہ توبہ کن وحی یارسول اللہ کہ پیروی کرو تہہ حضرت ابراہیمہ سندس ملتس نس کنسی  
 خدائس کن مایل تہ پیہرہ ون اوس وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بیہ اوس نہ سہ مُشْر کو آندرہ إِنَّمَا جَلَّ

وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۱۳۳﴾ إِنَّمَا جُعِلَ السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ  
 اختلفوا فيه وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا  
 كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۳۴﴾ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ  
 وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ  
 رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴿۱۳۵﴾  
 وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ

السَّبْتُ عَلَى الَّذِينَ اختلفوا فيه بطور اہد تعظیم آوند مقرر کردند۔ مگر تمنی پیٹھ سمو تھ منز اختلاف  
 کور وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بیہ کرہ فیصلہ چون رب قیامتہ  
 دودہ تمن در میان تھہ چیزس منزیتھہ منز تم اختلاف چھہ کران۔ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ  
 وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ناودو ہتھہ لوکن خدایہ سزہ وتہ کن۔ علمہ چو کتھو سیت بیہ تہ نصیحتہ سیت  
 وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ بحث کرولوکن سیت۔ تمہہ طرقتہ بیت منز نہ شدت تہ خشونت آسہ۔  
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ پزپاٹ چون پروردگار چھہ یژانان تمن  
 سم تھزہ وتہ نصیحتہ ڈل۔ بیہ چھہ سوی یژانان کھہ کملوب ہدایت تہ کم چھہ راہ راستس پیٹھ پکان۔ اگر گھار  
 جدال علمی نشہ ڈلت جدال عملیس کن رُح گزن توپتہ واتہ ناؤن اتھہ سیت یازبہ سیت تکلیف۔ تھہ  
 صورتس منز چھہ توہمہ بیہ تھندین تابعن بدلہ ہیون جایز۔ امیک چھہ توہمہ رخصت بیہ چھہ صبر کزن تہ  
 توہمہ جایز۔ مگر تہ چھہ عزیمت وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ دون ہر گاہ تھہ رخصت  
 پیٹھ عمل کرو یعنی تمن ہیو بدلہ تہ انتقام سہ گدھہ ستوی ہیون یوت توہمہ تکلیف آسہ واتانہ آمت  
 وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ہر گاہ عزیمتس پیٹھ عمل کرت تھہ صبری کرو۔ تلہ چھہ صبر کرہ  
 نوی بہتر صبر کرہ دین ہندہ خیطرہ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ بیہ کرو تھہ صبری کیازہ تھندشان چھہ

صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴿۱۳۶﴾ وَأَصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ  
 وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿۱۳۷﴾  
 إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ﴿۱۳۸﴾

بلند نہ ارفع۔ جہد صبر کران پچھنہ مگر خدایہ سندی توفیقہ تہ مددہ سیت تہ تھا وواطمینان کہ توبہ سپدہ نہ  
 صبر کرئس اندر گنہ قسمہ دشواری پیدہ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ بیہ مہ  
 برو تہدہ مخالف تک غم بیہ تم تدبیر تم تہدیس مخالف نفس منز کران چہہ تموسیت مہ سپد و متجدد لہ سیت  
 سپدہ نہ توبہ کا نہہ نقصان کیا زہ توبہ چہوہ تقویٰ تہ احسانہ سیت موصوف إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا  
 وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ پڑپاٹ اللہ تعالیٰ چہہ پربہر گارن تہ متقین سیت سیت بیہ تمن تم نیو کار  
 آس۔





# سُبْحَانَ الَّذِي الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ① وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ

سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا منزہ تہ پاک چھو سو ذات پاک پر ہتھ نقضہ نشہ، ضعفہ نشہ، عاجزی نشہ۔ تم یکہ نو پین بندہ خاص رات کیت۔ رات منزہ ہنہ اگس مسجد حرامہ پیٹھ۔ یعنی خانہ کعبہ چہ مسجدہ پیٹھ، مسجد اقصا س یعنی بیت المقدس تانِ الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ ہتھ مسجد اقصا س اند اند اسہ دین و دنیا چہ بر کث تھا وہ موزہ ہتھ لُزِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا یکہ نوتہ سیر کرہ نو سو بندہ خاص ہتھ ہا و اُس تمں پینہ قدر تک بخانہ۔ چنانچہ اکس کم و قس اندر مکہ شریفہ پیٹھ شام شریفس تان و اتہ ناؤن یہ گو اکھ بخانہ۔ بیت المقدس ہاؤن۔ ہتھ حضرات انبیائے سیت ملاقات کرہ ناؤن یہ گو بیاکھ بخانہ۔ ہتھ پیٹھ سیر آسمانی کرہ ناوت آسمان ہمد عجائبات ہاؤن۔ ہم گئے بے بخانہ عالم ہندس اصطلاحس اندر چھہ ونان مکہ شریفہ پیٹھ بیت المقدس تان سیرس، اسرائ۔ بیت المقدسہ پیٹھ سدرة التہمی اس تان سیرس چھہ ونان معراج۔ ہنہ وقتہ چھو دو شون سیرن معراج ونہ یوان، ہنہ وقتہ چھو دو شون اسرا ونہ یوان۔ معراج شریفک حدیث شریف چھو تقریباً ترہن صحابہ صیین ہندہ روایت۔ جمہور سلف و خلف ہندا عقائد چھو مکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمو کور معراج بروح و تجسد، در حالت بیداری۔ اللہ تعالیٰ ان کور بیان واقعہ معراج کمال اہتمامہ سان۔ مخالفوتہ کور اتھ انکار نہایت زور و شورہ سان۔ یسے زہ چیز چھہ بوزہ ناواں کہہ یہ اوس نہ نندرہ مز روحانی طور یا بطریق کشف۔ کیا زہسہ آس نہ کاہنہ عجایب کتھاہ یوسہ کمال اہتمامہ سان بیان ایہ ہا کر نہ۔ نندرہ منز چھہ کم کم لوک کم کم چیز و چھان۔ بیہ کرہ ہن نہ کفار مکہ خوابہ کس واقعت یوت انکار إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ۖ آلَاتِ تَحِيَّةٍ وَأَمِّنٌ دُونِي ۚ وَكَيًّا ۙ<sup>٢</sup>  
 ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلِنَا مَعَ نُوحٍ ۗ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا ۙ<sup>٣</sup>  
 وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ  
 مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا ۙ<sup>٤</sup> فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا  
 عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ

پڑیا اللہ تعالیٰ چھو سو روی بوزہ ون۔ سو روی وچھ ون وَاٰتَيْنَا مُوسٰی الْكِتٰبَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي  
 اِسْرٰٓءِیْلَ یہیہ کر عطا امہ حضرت موسیٰ اس کتاب یعنی تورات بنی اسرائیلن ہمدہ خیطرہ بوڈ سبب  
 ہدایت۔ ہتھ اندر باقی احکامن سیت توحید ک عظیم الشان حکم تہ اوس اَلَا تَحِيَّةٌ وَاَمِّنٌ دُوْنِي وَكَيًّا اى  
 زہ ہتھنہ مہ وراى بناؤن تہہ کاہنہ اکاھہ پئن کار ساز لیس توبہ پنہ کاہہ ہتھ اویو ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلِنَا مَعَ  
 نُوحٍ اى بنی اسرائیلو تہہ گوہ تمنی لوکن ہند اولاد ہم امہ ناوہ منزہ کھاہر حضرت نوحس سیت بدس  
 طوفانس اندر۔ توبہ ہزہ ہاسیٹھا شکر دہن اتھ نفیس پیٹھ یم یہ نعمت عطا کرہ سُوگڑھہ زان کئی۔ تس  
 گڑھہ نہ شریک ٹھہراون اِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا پڑیاٹ حضرت نوح تہ اوس سیٹھاہ شکر گڈار بندہ  
 وَقَضَيْنَا اِلٰی بَنِي اِسْرٰٓءِیْلَ فِی الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِی الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيْرًا یہیہ کراسہ بیان  
 بطریق پیشین گوئی بنی اسرائیلن توراتس اندر کہہ تہہ کرو ضرور ملک شامس منز دوہہ پھیرہ گنہن  
 ہمدہ کثر تہ سیت خرابی تہ تباہی۔ اکہ پھیرہ کرو شریعت موسویج مخالفت، یہیہ پھیرہ کر وہ شریعت  
 عیسویج ن مخالفت۔ یہیہ کرو تہہ لوکن پیٹھ سیٹھاہ زبردستی ظلم تہ سرکشی۔ حقوق اللہ تہہ کرو ضائع حقوق  
 العباد تہہ دوشون لٹن اندر گڑھو تہہ سخت عذابس مبتلا۔ توبہ ایہہ سزا ونہ اِذَا جَاءَ وَعْدُ اُولَاهُمَا بَعَثْنَا  
 عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا توبہ پتہ بلہہ والہہ سمودویو اندرہ گوڈنہ سزائے ک موقعہ اَسْ كَرُوْا توبہ سزا ونہ خیطرہ،  
 توبہ پیٹھ مسلط پنہ نین بدن ہنزاکہ جماعتھاہ اُولٰٓئِیْ شَدِيْدٍ ہم سخت قوتہ وال اَسْ فَجَاسُوْا  
 خِلَالَ الدِّيَارِ تہہ اژن تھندین شہرن تہ گھرن منز توبہہ گرفتار کرنہ خیطرہ مارنہ خیطرہ وَكَانَ وَعْدًا



وَكَانَ وَعْدًا مَّفْعُولًا ۝ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ  
 وَأَمَدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ۝  
 إِنَّ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنُكُمْ لِأَنفُسِكُمْ ۝ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ۝  
 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ أَوْجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا  
 الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۝ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ۝  
 عَلَىٰ رُسُلِكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُم ۝ وَإِنْ عَدْتُمْ عَدُنَا ۝ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ

مَفْعُولًا یہ محو وعدہ نِس ضرور پورہ کرنے ایہ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ تو پتہ یلہ توبہ توبہ کروہ،  
 نادم تہ پشیمان سپدوہ اون اسہ واپس تہندہ خپترہ ہبہ تہند غالب سپدن تمن پیٹھ اکہ ہبتہ (۱۰۰) و ہر  
 وَأَمَدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ ہبہ کور اسہ توبہ مدد پنچو یوسبت ہبہ مال و دولت سبت وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ  
 نَفِيرًا ہبہ کوروہ اسہ توبہ زیادہ لشکرہ تہ فوجہ اعتبار إِنَّ أَحْسَنَكُمْ أَحْسَنُكُمْ لِأَنفُسِكُمْ ہبہ دوپ اسہ  
 توبہ کہ ہر گاہ توبہ رتہ کامہ کروہ تہ محو رت توبہ پنہ نین پان ہبتہ خپترہ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا ہبہ ہر گاہ  
 پیٹھ کامہ کروہ تمیک نقصان محوہ پنہ نین پانن فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ ادہ یلہ وائہ دو سمہ لہ فساد کریمہ  
 سزائک موقعہ ہبہ سوزو کہ آس لو کہ پن سم توبہ قتل و غارت کرن لِيَسُوءَ أَوْجُوهَكُمْ سم توبہ تہ  
 دگان دگان تہندین تہن ہند حلہ تہ شکہ بد لاوان وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ ہبہ  
 تہ تم اژن مسجد اقصی اس اندر بے حرمتی کرنہ خپترہ تہ مسجد مہدم کرنہ خپترہ تہ تہ پاتھ برو تہمہ کہ  
 ثلاث آس تہ منز قِلْيَتِيرًا وَمَا عَلَوْا تَتْبِيرًا ہبہ تہ تم تہ تہ جاہ و اتن تہ جاہ کرن تباہ و برباد۔  
 چنانچہ بنی اسرائیلوہ حضرت یحییٰ شہید کور، اللہ تعالیٰ اُن سوز تمن پیٹھ بخت نصر سم تمن قتل و  
 غارت تہ لوٹ مار کرنہ سبت طوفان تل۔ ہبہ اوس تہ تہ کتابہ منزائہ لیکنہ آمت کہ ہر گاہ تمہ پتہ یلہ دور  
 شریعت محمدیہ آسہ تہہ مخالفتہ تہ نافرمانی نشہ پتہ روزت شریعت محمدیک اتباع کرو۔ عَلَىٰ رُسُلِكُمْ أَنْ  
 يَرْحَمَكُم عجایب تہ دور تہنہ ہبہ تہہ کہ اللہ تعالیٰ تہند پروردگار کیاہ کرہ توبہ پیٹھ رحم ہر گاہ تہہ توبہ کرو،

لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا ۗ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَ  
يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا ۙ  
وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۙ  
وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا ۝  
وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ  
النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ

پشیمان سپرد وَاِنَّ عُدْتُمْ عَدْنَا مگر هرگاه تہمہ بیہ قہنہ و فساد تہ تا فرمانی کر و بدستور بیہ کر و وہ آس تہمہ عذابس  
گرفار و نیاس اندر و جَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا آخرتس اندر چھو اسہ جنہم کور مطوی کافر ن ہند  
قید خانہ اِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ پڑپاٹ یہ قرآن مجید چھو ہاوان سوی و تھ یوسہ سیز  
و تھ چھ یعنی اسلام و يُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ اِنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا بیہ چھو بشارت دووان  
با ایمان تم رتہ عملہ چھہ کران زہ تہمدہ خظیرہ چھہ مزوریہ سیٹھاہ بڈ وَاَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ  
اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا بیہ چھو بیہ قرآن مجید خبر دووان کہ تم لوکھ پڑھ چھنہ کران آخرتس تہمدہ خظیرہ  
چھو اسہ تیار کورمت دود تہ دگ تلہ ون عذاب و يَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ قرآن مجید چھو  
لوکن رتین چیزن گن و تھ ہاوان۔ بچھ چیز و نشہ پھہ رٹان۔ مگر انسان چھو تھہہ و زہ پانس یا پنہ نس  
عیالس و وہوان۔ تھہ پاٹ۔ تھہ پاٹ۔ دعای خیر چھو کران و كَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا بیہ انسان اوس ڈاڈ جلدی  
کرہ ون سوچنہ کچھہ و رای کوم کران و جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ  
مُبْصِرَةً بیہ کر اسہ دوہ تہ رات پنہ قدر تلک زہ نشانہ۔ نس تھو و اسہ راژ ہند نشانہ تاریکی سیت بیہ کور  
دُہک نشانہ نر اوہ ون۔ تم چیز راژ ہمزہ تاریکی سیت پو شیدہ چھہ آسان تمن چھو دُہک نورانتر اوان  
لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابِ تھہ تہہ ژھاہند و پنہ نس پد و ردگارہ سُنَد فضل یعنی  
رزق و ہکس گاش اندر۔ یعنی ضروریات زندگی حاصل کرنہ خظیرہ کر و کار و بار۔ بیہ چھہ زانو تہہ شب و

وَالْحِسَابِ وَكُلِّ شَيْءٍ فَضَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً ۱۲) وَكُلِّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ  
 طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا ۱۳)  
 أَقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۱۴) مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا  
 يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ  
 وِزْرَ أُخْرَىٰ ۖ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۱۵) وَإِذَا أَرَدْنَا  
 أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا

روزہ کہ انہ گنہگار سے آفتابہ سے زونہ ہندہ کھسنہ سے لوسنہ سے تہ اور ہن سے ریتن ہنز گریند۔ بیہ دو ہن سے  
 و قن ہند حساب و کُلِّ شَيْءٍ فَضَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً پر ہتھ چیزاہ کوراسہ بیان قرآن مجید س اندر بوضاحت۔ تمو  
 چیز و آندرہ گوڈ ہک سے راتک سُن گھسن و کُلِّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ اسہ کر پر ہتھ کوم کرو نس  
 انسانہ سنز کوم، ادہ نیک کوم آستن یا پتھ کوم آستن، مومن آستن یا کافر، عمل تہنز جان آستن یا پتھ  
 نال تہنز ہ گردنہ منز یعنی پر ہتھ اکند لقدیر پتھو پر ہتھ اکس سے تہ تھاونہ آمت و نُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا  
 يَلْقَاهُ مَنشُورًا قیامتک دوہ کڈو اَس تہند نامہ اعمال تہند ہ و پتھہ خیطر ہ پتھہ سوارہ مڈراو تھہ و پتھہ سُو۔  
 پر ہتھ اکس و اتہ پتھ نامہ اعمال خود بخود۔ بعضین د پتھس اتھس منز، بعضین کھو فرس اتھس منز اِقْرَأْ  
 كِتَابَكَ پر ہتھ اکس بیہ ونہ پتھ نامہ اعمال پائے کفٰی بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا کافی پتھوک تہ از  
 پتھہ پانہ خیطر ہ پانس حساب ہیوہ ون مَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ بس اکھا سیزہ و تہ پوک سو پوک نہ  
 سیزہ و تہ مگر پتھہ پانہ فاندہ خیطر ہ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا بیہ بس سیزہ و تہ نشہ ڈول سو ڈول نہ مگر  
 پتھہ پانہ ضررہ خیطر ہ تھیک ضررہ پتھو تس پان پانس وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ بیہ تکلہ نہ کا نہ شخصہ  
 بیس شخصہ سندین گنہن ہند بور وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا بیہ چھنہ اَس کانہ عذاب کران  
 یوتان نہ اَس پان احکام ہتھہ کا نہ پیغمبر چھن سوزان وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا بیہ یلہ  
 یزھان چھہ اَس گنہ شہرک یا گنہ گامک لوک ہلاک کران تم کفر و مصیبتہ کہہ و پتھہ قابل ہلاک چھہ

الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ۱۷) وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ  
 بَعْدِ نُوحٍ ۝ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ۱۸)  
 مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا  
 لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلُهُ مِنْ أَمْوَالِهِ مَوَاسِدًا حُورًا ۱۹) وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا  
 سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ۲۰) كَلَّا لَمَّا هُوَ رَا

آسان۔ حکم چھ کران اس پیغمبرن ہندہ ذریعہ تمہہ شہرہ کین مالدارن تہ زہین ایمانگ تہ  
 فرمانبرداری ہند ففسقوا فیہا فحق علیہا القول فدمرنا تدمیرا تم زٹھیلہ عدول حکمی تہ نافرمانی  
 چھہ کرن سانین احکامن ہنز، بیہ چھہ فتنہ وفسادنگان تھہ شہرس اندر آتی چھہ تمن پیٹھہ حجت پورہ  
 سپدان تم چھہ عذابکس کھمس سزاوار بنان۔ آدہ چھک اس تم نافرمان گالان تہندس شہرس تاراج  
 کران وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ بیہ کرہ آسہ حضرت نوحس پتہ کاژاہ امزہ ہلاک تہنزہ  
 نافرمانی سببہ قوم عاد و قوم ثمود وغیرہ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا کافی چھو تہند  
 پروردگار پنہ نین بندن ہندہنگاہ پور زمان تہ پورو چھان تہ تمی چھو نیس بیتھہ سزا شو بہ نس چھو تھتی سزا  
 دوآن مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ نیس اکھاہ پنہ نین نیک عملن ہنز مزور، فقط  
 دنیاءک نفع ژھانڈہ، جلد و موآس نس تمہہ آندرہ ایڑہن آسہ خوش کرہ تہ نیس آسہ خوش کرہ دنیاءس  
 اندر ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ توپتہ چھہ آس تیار کران تہندہ خیرہ جنم یصلہا مامد مومامد حورا تھہ  
 جہنمس منزواتاوندہ ایہ سوبڈلت و خواری۔ دکہ دی دی۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
 فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا بیہ تم پنہ نین نیک عملن ہنز مزور ژھانڈہ آخر تک ثواب حاصل کرہ خیرہ  
 سو کوشش یوسہ شو بہ۔ یعنی سو عمل آسہ شریعتہ کین قواعدن مطابق بیہ آس سوس شخص با ایمان،  
 مشرک آسہ نہ۔ تمی قسمک لو کہ یم چھہ تہند سعی تہ کوشش چھہ قابل تعریف یوسہ رتھہ کھسہ۔ اللہ  
 تعالیٰ قبول کرہ، سوی عمل بیتھہ ترہ شرط آسں اکھ آسہ نیت رتہ۔ دویم آسہ مطابق قواعد شرع۔ تریم

وَهُؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝۱۰ أَنْظُرْ كَيْفَ  
 فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلِالْآخِرَةِ الْكِبْرُ دَرَجَاتٍ ۖ وَالْكِبْرُ تَفْضِيلًا ۝۱۱  
 لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَلْحُومًا ۖ لَئِن لَّمْ يَؤْتِ رِيبَكَ  
 إِلَّا تَعْبُدُ ۖ وَالْآيَاتُ يَا وَالدِّينِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ عَنْدَكَ الْكِبْرَ  
 أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَاتَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا  
 كَرِيمًا ۝۱۲ وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا

آسہ اعتقاد صحیح کلائیڈ ہولاء و ہولاء من عطاء ربک پر ہتھ اگس سمو دو یو آندرہ یعنی دنیا تھانڈہ ونس تہ  
 آخرت تھانڈہ ونس گرو آس امداد پتہ مہربانی سیت و ماکان عطاء ربک محظوراً ہتھہ تہندس پروردگارہ  
 سز مہربانی دنیا س اندر کانسہ ہندہ خیطرہ بند آمز کرنہ تہ پتہ آمز رنہ اَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى  
 بَعْضٍ ای پیئمبر بر حق و چھو ہتہ آسہ کتھہ پاٹھ ہتھہ زیادتی عطا کر مٹاؤین لوکن اؤین پیٹھ۔ حتی کہ اکثر  
 کافر چھہ اکثر با ایمان ہندہ خوتہ مالدار و لآخِرَةُ الْكِبْرُ دَرَجَاتٍ وَالْكِبْرُ تَفْضِيلًا پزپاٹ آخرت چھو سیٹھاہ بوڈ  
 در جاتن ہندہ اعتبارہ۔ بیہ چھو سیٹھاہ بوڈ فضیلتہ اعتبارہ۔ تمیک گتھہ اہتمام کرن۔ ہتھ تم شرط چھہ تم  
 گزھن پورہ کرن لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَلْحُومًا وَلَا ای مخاطب مہ ٹھہراؤن خدا ایس معبود  
 بر حقس سیت بیاکہ کانہہ معبوداہ۔ ورنہ روزک ژہ مذمت کرنہ آمت نیکیس وے بس وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا  
 تَعْبُدُوا إِلَّا يَاهُ ۖ بیہ چھو حکم کورمت چان پروردگارن کہ ای لوکو عبادت مہ کر و معبود بر حقس ورای  
 کانسہ ہنز و بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا بیہ کردہتہ پنہ نس ماس ماجہ نسبت احسان، رُت سلوک۔ إِنَّمَا يُبَلِّغُنَّ  
 عَنْدَكَ الْكِبْرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَيْهِمَا فَلَاتَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا ہرگاہ واتن چانس و قس اندر۔ بجز سمو آندرہ  
 اکھ یادوشوے پس مہ آس تمن کنہ کتھہ پیٹھ تنگ ہتھہ آف و نان۔ بیہ مہ آس تمن زورہ تھہ یا حشم کرن  
 وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا تمن سیت آس کتھہ کران رتہ طریقہ نرمی سان وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ  
 الرَّحْمَةِ بیہ کر پست تہندہ خیطرہ افساری ہندہ ہر، نیاز مندی سیت، ہتھہ پاٹھ جانورہ سُنْدُ بچہ چھو آپہ رحمتہ

كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ﴿٢٣﴾ رَبِّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَادِقِينَ  
 فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا ﴿٢٤﴾ وَإِذْ الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ  
 وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا يَبْدُرُ تُبْدِيرًا ﴿٢٥﴾ إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ  
 الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا ﴿٢٦﴾ وَإِنَّمَا تَرَضُّ عَنْهُمْ إِبْتِغَاءَ  
 رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿٢٧﴾ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ

وقتہ ماس ماجہ بروٹھ سٹنہ پر موروات روزان وقل رب ارحمہما کما ربیننی صغیرا بیہ آس تہندہ حقہ دعا  
 کران۔ ای میانہ حقیقی پروردگارہ رحم کریمین دوشون پیٹھ پتھ پاٹھ ہم دوشوے مہ پیٹھ رحم کھیت  
 میان ظاہری پرورش کران آس یلہ بولوٹ اوس ربکم اعلم بما فی نفوسکم ان تکونوا صلیحین تہند  
 پروردگار چھو زیادہ زانہ دن تمن تمہن سمہ تہندین دن منز چھ۔ ہر گاہ تہہ حقیقتس اندر ولہ کن سعادت  
 مند آسو۔ یعنی دلس منز ماس ماجہ ہنز شفقت تہ محبت آستھ بعضی سٹنہ وقتہ تہندہ طرفہ تمن نسبت  
 تیزی لبنہ یوان آسہ تو پتہ آسو تہہ تمہ نغیرہ توبہ کر تھہ تم پانس نغیرہ راضی کران فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ  
 غَفُورًا پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو توبہ کرن والین مغفرت کرہ دن وَإِذْ الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ  
 السَّبِيلِ وَلَا يَبْدُرُ تُبْدِيرًا آشناون آس دوان تہند حق بیہ مسکینس محتاجس تہ مسافرس بیہ مہ آس کران  
 مال خرچ کرنس اندر اسراف تہ فضول خرچی۔ سو خدلیہ سئد دیشمت مال خرچ کرن تہنزن نافرمانین  
 اندر، یا مباح چیزن اندر توت زیادہ خرچ کرن سمہ سیت بروٹھ پیکہ نہ شخص ضروری حقوق ادا کر تھہ  
 إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ پزپاٹھ اسراف تہ فضول خرچی کرہ دن چھہ شیطان ہند پای  
 وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا شیطان چھو گوڈ پیٹھ پنے نس پروردگارس ناشکری کرہ دن تمس شیطانس  
 دثاہیہ اللہ تعالیٰ ان دولت عقل، تم کروسضائع اللہ تعالیٰ سزہ نافرمانی اندر۔ مہرزین کرن عطا دولت  
 مال تم تہ چھہ سوضائع کران تہنزن نافرمانین اندر وَإِنَّمَا تَرَضُّ عَنْهُمْ إِبْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ  
 لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا بیہ ہر گاہ سٹنہ وقتہ نجبوری تہ یکن مسکین غریبن تہ محتاجن جوائی آسہ کرن  
 بیہ تہ آسکھ پنے نس رب سز رحمت تھانڈان تل کر ہز تہ امن سیت نرم کلا ماہ۔

مَغْلُورَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ لَمُومًا مَّحْسُورًا ﴿۱۵﴾  
 إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ  
 خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿۱۶﴾ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ  
 وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا ﴿۱۷﴾ وَلَا تَقْرَبُوا الرِّزْنَ إِنَّهُ كَانَ  
 فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿۱۸﴾ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا  
 بِالْحَقِّ وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلْيَبْسُفِرْ

تو تھ کلام گوہ کزان۔ مہر سیت نہ تہمز دل آزادی سپدہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُورَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا  
 كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ لَمُومًا مَّحْسُورًا بیہ مہ آس تھاوان اتھ زہ پنن گردنہ منز بند یعنی کانسہ دہگ نہ کینہہ۔ نہ مہ  
 آس اتھ بالکل یلہ تراوان یعنی پانس سخت ضرورت آتھہ بین دوان پس روز کہ ژہ ملامت کرنہ آمت  
 ہیو کسی جابہ بندیا نوئے بدن تھاوات إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ پزپاٹ چون پروردگار چھو  
 رزقس اندر وسعت کران پس یژھان چھو بیہ چھو سوئی رزقس اندر تنگی کران پس یژھان چھو  
 اِنِّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا پزپاٹ سو چھو پنن بندن ہند حال پورہ زانہ ون تہندین حالاتن پور  
 دچھہ ون وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ بیہ مہ آسہو کہ ماران پنن اولاد ناداری ہندہ خوفہ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ  
 وَإِيَّاكُمْ آس دمو تمن رزق بیہ توہہ تہ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيرًا پزپاٹ تم مارن چھو بوڈگناہ۔  
 وَلَا تَقْرَبُوا الرِّزْنَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا بیہ مہ ابو لکھ تہ بیچھ کامہ زناعس۔ بیشک یہ بیچھ کوم چھہ  
 بدبے حیاتی بیہ چھہ خراب و تھہ۔ امہ سیت چھو عداوت توان بیہ فتنہ و فساد قایم سپدان۔ بیہ چھو نسب  
 ضائع سپدان وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ بیہ مہ آسیون ماران سو شخص سمند مارن اللہ تعالیٰ ان  
 حرام کور سوگوو ایمان لایا بالحق مگر مارنہ بیہ مہ مجرمس منز حکم شرع وَمَن قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا  
 لَوْلِيَّهِ سُلْطَانًا فَلْيَبْسُفِرْ فِي الْقَتْلِ بیہ پس شخصاہ ناحق مارنہ لہ بیشک اسہ دیئت تہندس و لیس اختیار، قصاص  
 پنک سوولی حقیقی آستن یا کھمی کھمی ولی گوپادشاہ۔ مگر تمن ولین ہنز گوہہ نہ بدلہ ہمیس منز زیادتی

فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا ﴿۳۶﴾ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿۳۷﴾ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ زُنُوجَ الْقِسْطِ مِنَ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿۳۸﴾ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴿۳۹﴾ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ

کرن۔ جُر مس بدل غیر جُر میا کس بدل واریاہ مارن اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُورًا بیشک سوہو مدد کرنہ آمت۔  
تس سیت چھ لوکن ہنز ہمدردی وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ بیہ مہ بکو  
نکھ یتیمہ سندس ماس مگر تمہہ طریقہ کس رت آسہ شرعاً عرفانہ یعنی سیمہ سیت اصل موجود روزت  
تمہہ نفہ پیٹھے یتیمہ سند اخراجات پورہ سپن۔ یوتان سو یتیم پنہ نس طاقس ولتہ یعنی بالغ تہ سمجھدار  
سپدہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ بیہ کروفا تھہ عمدس کس توہہ خدا کس سیت کورمت چھوہ۔ بیہ تمن  
عہدن سم تہہ پانوان کران چھوہ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا بیشک پریتھہ کُنہ عہدک ایکی پرژھنہ  
قیامتک دوہ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كَلَّمْتُمْ زُنُوجَ الْقِسْطِ مِنَ الْمُسْتَقِيمِ بیہ بلہ مینہ وینن چیزن تہہ میان آسوتلہ  
آسوپور میان۔ بیہ آسوتلہ ون چیز پختہ سکرہ تہ پورہ پرمانہ سیت تولان ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا بیہ چھو  
درذات خودتہ سیتھہ رت بیہ چھو امیک انجام تہ سیتھہ بہتر تہ سیتھہ رت امہ ست چھو اعتبار بڑان  
وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ بیہ مہ آس پتہ لگان تھہ چیزس یا تھہ کتھ تنگنہ ژہ خبری چھہ۔ بے تحقیق مہ  
آس کُنہ چیزس پیٹھ عمدر آمد کران۔ یوتان نہ کانہہ چیز تھہقہ سان زانان آسکھ توتان مہ وون زونم۔  
یوتان نہ وارہ وچھان آسکھ توتان مہ آس ونان وچھم یوتان نہ وارہ بوزان آسکھ توتان مہ آس ونان  
بوزم ہر و مومہ آس اپڑ گواہی تہ شہادت دوان کیا زہ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ  
مَسْئُولًا پڑپاک کتہ نہ اچھہ تہ ول یکن سارنی نشیہ لیہ پرژھہ گار کرنہ قیامتک دوہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ



طُولًا ﴿٢٥﴾ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا ﴿٢٦﴾ ذَلِكَ مِمَّا  
 أَوْحَىٰ إِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ۗ وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ  
 فَتُلْفَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا ﴿٢٧﴾ أَفَأَصْفُكُمْ رَبُّكُمُ بِالْبَنِينَ وَ  
 اتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ إِنَاثًا إِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا ﴿٢٨﴾  
 وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا ﴿٢٩﴾ قُلْ

مَوْحًا بِمِ مَہ پچھ زمیںس بیٹھہ کان تکر او تھ تکبرہ سان زور زورہ لتہ دو ان اِنَّكَ لَنْ تَخۡوِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبۡتُلۡہَ  
 الْبِحَالَ طُولًا پز پاپاٹ ژہ ہمیکھنہ گود کر تھ پنہ نیو لتو سیت اتھہ زمیںس بیہ ہمیکھنہ پان زیشتر او تھ پچہ  
 سیت کو ہن تان تھرہ گن واتھہ کُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنۡدَ رَبِّكَ مَكْرُوۡہًا سیمہ سارے پچھ کامہ تمکن  
 ہنز ذکر کرنہ آیہ سیمہ چٹھہ چانس پروردگار س ناپسند ذٰلِكَ مِمَّا اَوْحٰی اِلَیۡكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ ای محمد سیمہ  
 تھہ سیمہ بین آیہ کرنہ سیمہ چٹھہ تمہو حکمتہ چو تھو آندرہ سیمہ تھہند پروردگارن وحیہ پاٹ توہہ گن سوزہ ولا  
 تَجْعَلْ مَعَ اللّٰہِ الْہَا الْاٰخَرَ فَتُلْفٰی فِی جَہَنَّمَ مَلُوۡمًا مَّدْحُوۡرًا ای مخاطب بیہ مہ ٹھہراون خدا بیسی معبود برحقس  
 سیت کاہنہ معبودہ۔ ہر گاہ ژہ معبود برحقس سیت بیا کہ معبود تجویز کر کہ تلمہ کلمہ ژہ تراونہ جہنمس اندر  
 مجرم نہ ملزم ہنت دکہ دنہ آمت۔ وون یلہ ژہ بوزک کہ شرک کوتاہہ پچھہ چھوتہ بو زتہ رود کہ نہ ژہ  
 تمہو کھو نشہ پچھہ سیمہ توحیدس بر خلاف آسن۔ ہتھہ پاٹ بعض جاہل چھہ اللہ تعالیٰ اس کو رہ ٹھہراون۔  
 دپان چھہ ملائک چھہ (نعوذ باللہ) خدایہ ستزہ کو رہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان اَفَاَصْفُکُمۡ رَبُّکُمۡ بِالْبَنِیۡنِ وَ  
 اتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِکَةِ اِنَاثًا کیاہ تھہند پروردگارن کردہ توہنچو یوسیت خاص پانس رچن کو رہ ملائکو آندرہ  
 کورے کورہ اِنَّکُمۡ لَتَقُولُوۡنَ قَوْلًا عَظِیۡمًا بیشک تہہ چھوہ ونان سیٹھاہ سخت کتھاہ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِی  
 ہَذَا الْقُرْآنِ لِیَذَّکَّرُوۡا وَمَا یَزِیۡدُہُمۡ اِلَّا نُفُوۡرًا بیہ چھو افسوس سیمہ تھہ ہند کہ بیشک اسمہ کرہ ہتھہ قرآن  
 مجیدس منز پچیر پچیر بیان اثبات توحید ابطال شرکک مضامین ہتھہ لوکن وارہ فکرہ ترہ لیکن باوجود آل  
 چھہ تمکن توحید بچ نفرت ہران یوت زیادہ بوزان چھہ تیوت چھہ گرنہ یوان نہ پڑہ تھہ نشہ دور ژلان

لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذِ الْأَبْتَعُوا إِلَىٰ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿۲۲﴾  
 سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ﴿۲۳﴾ تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ  
 وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا  
 تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا ﴿۲۴﴾ وَإِذْ أَقْرَأْتَ الْقُرْآنَ  
 جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جَابًا مَّسْتُورًا ﴿۲۵﴾

مُلِّ تَبَهُ فَرَمَاوِدُ كَه يَارَسُوْلَ اللّٰهِ شَرَكُهُ كَسْ بَاطِلٌ آسَنَسْ مُتَعَلِّقٌ لَّوْكَانَ مَعَهُ اَلْاِهَةُ كَمَا يَقُوْلُوْنَ اِذَا الْاَبْتَعُوْا اِلَىٰ  
 ذِي الْعَرْشِ سَبِيْلًا هَرَكُهُ مَعْبُوْدٌ بِرَحْمَتِ سَيِّتِ آسَنَسْ مَعْبُوْدَانِ بَاطِلِيَّةٍ يَتَّبِعُهُ پَاثٌ مُّشْرِكٌ وَنَانَ بِجَهْمٍ تَلِيهِ اَسْمَا  
 تَمَوُّوْ مَخَالَفَانَهُ طَرِيقِ سَبِيْطِ عَرْشِيهِ وَالسَّ خَدَائِسُ نَشِيْهِ وَتَوَاجُّوْ كَاهِنُهُ وَتَهَا هُ كُدُّ مَثَرَتِ سَيِّتِ مُتَقَابِلُهُ كَرَنُهُ خَيْطَرُهُ -  
 تَسْ نَشِيْهِ عَرْشِ مُجِيْدٍ تَحْتِ شَاهِي اَتَهْ هِيْهِ خَيْطَرُهُ - يَتَّبِعُهُ پَاثٌ دُنْيَاكُ پَادِشَاهُ بِجَهْمِ اَكْهُ اَكْسُ نَشِيْهِ تَحْتِ وَتَوَاجُّوْ تَجُّ  
 كُوَشَشِ كِرَانَ - تَهْ صَوْرَتِ اَنْدَرِ اَسْمَانِ نَظَامِ عَامِ تَبَاهُ وَبُرُ بَادِ سِيْدَمَتِ - حَالَا نَجْمِ تَهْمِ جَهْوُهُ وَوَجْهَانِ كَجْمِ نَظَامِ عَالَمِ  
 بِجَهْوِ بَدِ سَتُوْرٍ قَائِمِ الْاَنَ كَمَا كَانِ - نَسْ سُدُّ مَعْلُوْمِ كَه سَبَبِ فَسَادِ يَعْنِي وَاَرِيْهِنِ مَعْبُوْدُوْنَ هُنْدِ اَسْنِ بِجَهْوِ بِالْكُلِّ غَلَطِ  
 تِ بَاطِلِ - نَسْ سُدُّ ثَابِتِ كَه سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يَقُوْلُوْنَ عُلُوًّا كَبِيْرًا سَمُّ لَوْ كَه سَمِّهِ كَتَهْ وَنَانَ بِجَهْمِ تَمَوُّوْ سَارُوِي  
 كَتَهْوِ نَشِيْهِ بِجَهْوِ اللّٰهِ تَعَالَىٰ مُنْزَهُ تَبَاكُ بِهِيْ سَيِّطَاهُ تَهْوُوْدُهُ بَلُنْدِ يَتَّبِعُهُ بَلُنْدِي تَهْ تَهْمَزُ رَسْنَهُ نَهَاتِيْهِ كَجْمِ بِجَهْوِ  
 السَّمٰوٰتِ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ تَسْ مَعْبُوْدٌ بِرَحْمَتِ جَهْمِ بِپَاكِي يَادِ كِرَانَ سَتِ اَسْمَانَ تِ زَمِيْنِ بِهِيْ تَمِ  
 مَخْلُوْقَاتِ تَمِّ تَمْنِ مَنَزَجِيْهِ وَاِنْ مِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ بِهِيْ جَهْمُهُ كَاهِنُهُ جِيْزِيْئُهُ تَمَسْمِنُ پَاكِي بِيَانِ كِرَانَ تِ  
 تَهْمَزِ تَعْرِيفِ كِرَانَ بِجَهْوِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيْحَهُمْ مَكْرَا لِيْ كَا فَرُوْ تَوْبَهُ بِجَهْوِهِ نَهْ بُوْزُنِ تَكَانَ تَهْمَزِ تَسْبِيْحِ  
 پَرَنِ اِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا بِشِكِّ سُوْمِ مَعْبُوْدِ بِرَحْمَتِ بِجَهْوِ سَيِّطَاهُ حَلِيْمِ تِ سَيِّطَاهُ مَغْفِرَتِ كَرَهُوْنَ تَمْنِ تَمِّ  
 شَرِكٌ وَكُفْرُهُ نَشِيْهِ تَوْبَهُ كَرْتِ تَمِّ نَشِيْهِ پَهْرُ رُوْزَنِ - حَلِيْمِ اَسْمَهُ مَوْكُهُ بِجَهْوِهِ نَهْ اللّٰهُ تَعَالَىٰ يَمِيْنِ مُشْرِكُنِ جَلْدِ  
 كَرَفَارِ عَذَابِ كِرَانَ وَاِذَا اَقْرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ جَابًا مَّسْتُورًا بِهِيْ سَمِّهِ  
 وَقْتُهُ تِ تَهْلِيْغُهُ كَسْ سَلْسَلِ اَنْدَرِ قُرْآنِ مُجِيْدِ پَرَانَ بِجَهْوِهِ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَسْ جَهْمُهُ تَمِّهِ وَقْتُهُ تَوْبَهُ مَنَزَهُ تَمْنِ لَوْ كُنْ

وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوْهُ وَفِي اَذَانِهِمْ وَقْرًا وَاِذَا  
 ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدًا وَلَوَّاعًا عَلٰى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا ﴿۳۶﴾ نَحْنُ  
 اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖ اِذِ يَسْتَمِعُوْنَ اِلَيْكَ وَاِذْ هُمْ نَجْوٰى اِذْ  
 يَقُوْلُ الظَّالِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ﴿۳۷﴾ اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا  
 لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيعُوْنَ سَبِيْلًا ﴿۳۸﴾ وَقَالُوْا اِذَا كُنَّا

منزل میں نہ آخر تک پڑھ چھہ ٹھورے پر دہ تراوان پوشیدہ سو پڑہ گو بہوی کہ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمُ اَكِنَّةً اَنْ  
 يَفْقَهُوْهُ وَفِي اَذَانِهِمْ وَقْرًا تراوان چھہ آس تہمدین دلن پیٹھ پڑہ سمہ سیت نہ تمن تمہ قرانک مقصد  
 کینہہ فکرہ تران چھو۔ بیہ چھک کنن تراوان زرتہ گو بیر۔ تھوپ چھک کنن لگان۔ فکری چھنھہ تران آس  
 کیاہ چھہ بوزان وَاِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدًا وَلَوَّاعًا عَلٰى اَدْبَارِهِمْ نُفُوْرًا بیہ یلہ ہنہ یار سول اللہ پنہ  
 نسبی پروردگارہ سندین صفاتن نہ کمالاتن ہند ذکر کران چھہ قرآن مجیدس اندر تمن کافران چھو نہ فخرہ  
 تران کینہہ تہ۔ تم چھہ نفرت کر تھہ نہ فخر بھرت وائس ژلان نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُوْنَ بِهٖ اِذِ يَسْتَمِعُوْنَ  
 اِلَيْكَ وَاِذْ هُمْ نَجْوٰى اِذْ يَقُوْلُ الظَّالِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا اس چھہ پور زنان کہ تم کیا زہ چھہ  
 کن دارت تہمد کلام بوزان۔ سمہ ساتہ تم بوزان چھہ ہند غرض چھو آسان تھہ اندر اعتراض نہ طعن  
 کران۔ بیہ چھو معلوم اسہ سمہ ساتہ تم قرآن مجید بوزت پانہ وان کتھہ کران چھہ۔ سمہ ساتہ تم ظالم  
 با ایمان ونان چھہ تہہ چھو نہ پیروی کران مگر تس شخصہ سنزئیس جاؤیک اثر چھو سپد مت۔ سو جاؤیک  
 اثر گو جنون اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيعُوْنَ سَبِيْلًا ای پیغمبر برحق وچھو کتمہ چھہ تھہ  
 چھہ تم دشمن توہہ نسبت ونان۔ کہ کہہ قسمک القاب چھہ توہہ نسبت تجویز کران۔ امی سبہ گے نام  
 گمراہ۔ پس لبن نہ تم پزرس کن و تھے زاہ۔ کیا زہ۔ سمو چیز وسیت چھو ہدایتک استعدادے ضائع سپدان۔  
 سمو کمر قرآن مجیدس سیت ٹھٹھہ نہ استہزاء۔ پیغمبرس سیت نہ ٹھٹھہ نہ استہزاء۔ امی خوتہ بدگمراہی  
 کو سہ گنیہ وَقَالُوْا اِذَا كُنَّا عَظَمًا مَّا وُرِقْنَا وَاَنَا لَلسُّعُوْتُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا تم کافر چھہ ونان کیاہ یلہ آس



بَيْنَهُمُ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا ﴿۵۳﴾ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ  
 إِنَّ يَشَأْ يُرْحَمَكُمُ أَوْ أَنْ يَشَأْ يُعَذِّبَكُمُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا ﴿۵۴﴾  
 وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِهِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ  
 النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَاتَّبَعْنَا أَدَاؤَ ذُرِّيَّتِهِ قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ

اعتبارہ۔ یہ منزنہ تیزی سے اشتعال انگیزی آسہ کیا زہ۔ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ بَيْنَهُمُ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ  
 عَدُوًّا مُّبِينًا بیشک شیطان چھو سخت سے تیز جواب و نہ نایوت لوکن منزنہ فتنہ سے فساد تراوان کیا زہ شیطان  
 چھو گوڈہ پیٹھے انسانہ سُنْدُون سے مولى دُشمن۔ لہذا چھو نہ سختی سے تیزی کرئس اندر کا نہہ فائدہ کیا زہ  
 ہدایت و گمراہی چھہ خدائس اتھہ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنَّ يَشَأْ يُرْحَمَكُمُ أَوْ أَنْ يَشَأْ يُعَذِّبَكُمُ توہہ سارنی ہند حال  
 زلنہ پور تھند پروردگار کہ گس شخص تھہ قابل چھو۔ ہر گہ سُوِیْشہہ توہہ اندرہ کانہہ پیٹھہ رحم کرن۔ رحم  
 کر لیس یعنی ہدایت کر لیس۔ راہ راستس پیٹھہ انیس۔ بیہ ہر گاہ سُوِیْشہہ توہہ اندرہ کانہہ عذاب کرن گس  
 کرہ عذاب یعنی گس دینہ ہدایتگ توفیق سمہہ سببہ سوسز اواری عذاب سپدہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا بیہ  
 نہ حض سوزنہ اسہ تھہ لوکن ہندہ ہدایتگ ذمہ دار بناوت لہذا ایلہ نہ تھہ باوجود نبوت و رسالت ذمہ دار  
 بناوت سوزنہ آمت چھوہ۔ عام لوکن تھندین اُمتین کیا ذمہ داری چھہ امہ تھہ ہنز کہ تم چھہ زورہ اتھہ  
 منز ہر سے قضیہ لاگان وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِهِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تھند پروردگار چھو پور زانان تم سارنی  
 سم آسمان اندر سے زمین اندر چھہ یعنی ملائکن سے انسان سے جن۔ تمس چھہ خبر تم ساروی اندرہ تھہ چھو  
 نبی بناوس قابل تھہ چھو نہ پس ہر گاہ تم تھہ نبی پیغمبر بناوہ اتھہ منز کیاہ تعجب چھو۔ توپتہ ہر گاہ توہہ تم  
 فضیلت دیت تھہ منز کیاہ تعجب چھو۔ کیا زہ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ وَاتَّبَعْنَا أَدَاؤَ ذُرِّيَّتِهِ  
 تھقیق اسہ دیت فضیلت بعضی پیغمبرن، بعضی پیغمبرن پیٹھہ۔ بیہ ہر گاہ اسہ توہہ قرآن مجید عطا کور توہہ  
 کیاہ تعجب چھو کیا زہ اسہ کورنا عطا داود علیہ السلام زبور۔ زبورک تخصیص آوامی کرنہ کہ زبورس منز  
 چھہ خصوصیتہ سان بیان آمت کرنہ نعت و صفات آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیہ چھہ تھہ منز خبر دنہ  
 آمز کہ حضرت پیغمبر آخر الزمان آسن صاحب ملک و سلطنت قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ رَعَيْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا

مِنْ دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضَّرْعِ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا ﴿۵۶﴾ أُولَٰئِكَ  
 الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ  
 رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا ﴿۵۷﴾ وَإِنْ  
 مِنْ قَرِيبَةٍ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا  
 شَدِيدًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿۵۸﴾ وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ

یَعْلَمُونَ كَشْفَ الضَّرْعِ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا تمہ فرماؤ کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن مشرکین کہ اے  
 مشرکوں! تمہاری تو آلو تمی معبودانِ باطلن سمن ہندہ معبود آسک توبہ گمان تہ خیال چھو کران یمن  
 سختین تہ پریشانین ہندہ وقتہ دیتو آلو تمنی معبودن۔ معبود برحقس ورا ی تمہہ وچھتو تم ہیکوہ توبہ کینہہ  
 چارہ کمر تھہ۔ تم نہ ہیکوہ تکلیف دور کمر تھہ کمنہ قسمہ نہ ہیکوہ تھہ اولہ بدل کمر تھہ۔ تمن چھونہ تمیک  
 اختیار۔ ادہ تم ملائک آستن یا جن آستن یا انسان آستن اُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ تم لوک یمن یم مشرک  
 نفع حاصل کرنہ خیطرہ یا کانہہ ضرر دور کرنہ خیطرہ منگان چھہ یَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ  
 رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ تم چھہ پانہ پنہ بس پروردگارس نشہ قرب تہ نزدیکی ہند تہ تس نشہ واتنگ  
 ذریعہ تلاش کران۔ پریتھہ اکھاہ چھو کوشش کران کہہ بوی تہ بوی گوڑھس زیادہ خود زیادہ تس ذات  
 پاکس قریب سپدن۔ بیہ چھہ تم تمسدس رحمتس امیدوار روزان۔ بیہ چھہ تم تھندس عذابس کھوژان  
 إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا بیشک تھندس پروردگارہ ہند عذاب چھو کھوژس قابل۔ امہ اندرہ چھو  
 مطلب یلہ تم پانہ خدایہ سز عبادت کرہ ون چھہ بین ہند حاجت تھہ پانہ ہیکن تم کڈت۔ یلہ تم پانہ  
 تسدس عذابس کھوژان چھہ بین نشہ تھہ پانہ ہیکن تھند عذاب تہ تکلیف دور کمر تھہ وَإِنْ مِنْ قَرِيبَةٍ إِلَّا  
 نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا بیہ چھہ کافر ن ہنز  
 کانہہ بستیاہ یمن آس قیامتہ کہہ دوہہ بروٹھہ ہلاک وتاہ کرہ ون چھہ یا تمن اس قیامتگ دوہ جہنمہ کس  
 عذابس گرفتار کرہ ون چھہ۔ تہ سوڑی چھو لوح محفوظس لیکھنہ آمت۔ بس ہرگاہ کانہہ کافرہ دنیا کہ

بِالآيَاتِ الْآنُ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ وَالْبِئْسَ ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً  
 فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا ۵۹ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ  
 أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِي آرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ

عذابہ نغمہ و جہہ تہ مگر آخر مجھ عذابہ نغمہ ہیجہ نہ سؤمنہ صورتس اندر بچت و مانتعنان ترموسل  
 بِالآيَاتِ الْآنُ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ بیہ رٹ نہ آس ہتھ نغمہ چیزن اس کیا سوز ہو تم مجزہ یمن ہنز لو کہ  
 خواہش کرہ ہن۔ مگر برو ظہمین لوکن ہندہ تمہہ قسمہ کین فرمایشی مجزن ہندا انکار کرن۔ کیا زہ تمہ لوکن  
 ہندہ تہ یمن لوکن ہندہ طبیعت ہتھہ نغمہ قسمک۔ نمونہ پاٹھ بو زو تہہ اتھ متعلق اکھ قصہ نہ۔ وَالتَّيْمَةَ  
 ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا چنانچہ قوم ثمود چہ خواہشہ مطابق کریو اسہ تمہ عطا بطور مجزہ  
 حضرت صالح پیغمبرہ سندہ ذریعہ وونٹہ ہند مجزہ یوسہ عجیب طریقہ پیدہ آہہ کرنہ۔ یوسہ مجزہ آسجہ  
 سببہ در ذات خود بصیرت حاصل کر نک اکھ ذریعہ اوس۔ مگر تمہو لو کو کتر نہ تمہہ سیت کاہنہ بصیرت  
 حاصل۔ بلکہ کوز کہ تہ اونٹنہ نسبت بو ظلم۔ سو گوسو اونٹن مار تمہو بیدردی سیت تھوی معاملہ کرن  
 اذ کہ و تکب کافر تہ۔ وَمَا نُرْسِلُ بِالآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا بیہ جھنہ آس ہن امہ قسمک نشانہ تہ مجزہ سوزان یم  
 فرمایشی آسن مگر پندہ عذابہ نغمہ کھوژ نادہ خیطرہ۔ یعنی اگر ایمان انونہ تلہ کرووہ اس فوراً تباہ و برباد۔ ای  
 ہتھو آسان فرمایشی مجزن ہند مقصود۔ وون ہر گاہ تم مجزات ظاہر سپد ہن تو پتہ انہ ہن نہ تم ایمان۔ اس  
 کر ہو کہ تم پندہ وعدہ موجب ہلاک۔ ہتھہ پاٹھ قوم ثمود وغیرہ کور۔ ونہ آسہمانہ ہندہ ہلاک سپد تک وقت  
 مقرر وونٹہ۔ آس یہ کیوہاہ توبہ و نان چھہ کہ تم انن نہ مجزہ و چھت تہ ایمان یہ چھہ آس اتھ کن نظر  
 کتر تھ و نان کہ اسہ ہتھو معلوم گوڈہ پیٹھے۔ چنانچہ اسہ ہتھو توبہ تہ امیک اطلاع برو نٹھی کور مت وَإِذْ قُلْنَا  
 لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ چنانچہ تہہ پاوژ تیس یلہ اسہ توبہ فرمو کہ پیشک تہند پروردگار چھو پندہ علمہ  
 سیت سارنی لوکن ہندین موجودہ حالاتن تہ ہتھہ اوہ وونین حالاتن احاطہ کتر تھ۔ تک ہند ایمان نہ اٹنہ تہ  
 چھو تموے حالا تو اندرہ۔ لہذا مہ ہر و تہہ کاہنہ پروا۔ تہہ روز و ہن کوم کران یعنی تبلیغ کوم وَمَا جَعَلْنَا  
 الرُّءْيَا الَّتِي آرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ بیہ کورنہ اسہ سو خواب یس اسہ توبہ ہو و مکہ معظمس اندر دین اسلامکہ  
 ترقی متعلق۔ یا سو دیدار خصوصی یس اسہ ہو و توبہ در شب معراج۔ مگر لوکن ہندہ آزمایشہ خیطرہ۔ ہتھ

وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُوحًا قَالُوا لِمَ نَدْعُكَ الْاَطْعِيَانَا كَبِيرًا ۝۶۰  
 وَاذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبٰلٰسَ ۗ قَالَ  
 ؕ اَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا ۙ قَالَ اَنْ اَرٰءَيْتَ هٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ  
 عَلٰى لَيْنٍ اٰخَرْتَنِيْ اِلَى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ اِلَّا

داره نہ کہ کم کرن پڑھے نہ کم کرن انکار۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ یہ کثر نہ اسہ تمہہ کلج ذکر نہیں کل رحمتہ نشہ دور آمت چھو تھاو نہ یعنی درخت زقوم۔ نُس جہنم منز آسہ۔ ہمیک پھل جہنمی کھیاو نہ آس یوان تمہہ کلج ذکر نہ آسہ قرآن مجیدس اندر لوکن ہندہ امتحانہ نہ آزمائشہ خیطرہ۔ چنانچہ تمکن دوشون چیزن کور کافر وانکار۔ معراجس کوزکہ سیمہ موکھ انکار کہ یہ آکھ عجایب بوزنہ کہ آکسی شمس منزوت زیٹھہ زیوٹھہ سفر کرن۔ بالخصوص آسمان ہند سیر کرن۔ یہ اوس نہ تہمز فکرہ منز یوان۔ یتھہ پاٹھ کوزکہ شجرہ زقومس تہ انکار۔ دوپچھ تہ تھہ پاٹھہ نہ کہ نارس منز کیا آسہ کل۔ نارچ ماہیت پھہ الگ کلج ماہیت پھہ الگ نارہ سیت چھو کل دزان۔ بہر حال یتھہ پاٹھہ سمو کافر و تمکن دون چیزن انکار کور۔ یتھہ پاٹھہ کہ ہن تم فرمائیشی مجزون تہ انکار وَنُوحًا قَالُوا لِمَ نَدْعُكَ الْاَطْعِيَانَا كَبِيرًا یہ پھہ آس تمکن آخر حکمہ عذابہ سیت ڈر پاوان۔ مگر تمکن چھنہ تمہہ سیت کینہہ تہ ہران مگر بڈ سرکشی تہ شرارت وَاذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبٰلٰسَ یہ چھو سو وقت تہ قابل ذکر علیہ آسہ حکم کور ملائکن تمکن سیت تمہہ وقتہ الیس تہ شامل اوس کہ سجدہ تعظیم دیو آدم علیہ السلام۔ پس دیت ساروی ملائکو تعمیل حکم کمر تھہ سجدہ مگر دیت نہ ابلیس قَالَ ؕ اَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتَ طِيْنًا سولوگ دپنہ کیاہ بہ دما سجدہ تس نُس ژبیہ رپہ پیدہ کور تھن۔ اتھہ عدول حکمی پیٹھہ سڈ سومرودد قَالَ نَعْمَ وَتَمَّ وَتَمَّ لَوْ كُنَّ سُوْنَهٗ اَرٰءَيْتَ هٰذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلٰى لَيْنٍ اٰخَرْتَنِيْ اِلَى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لَاحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ اِلَّا قَلِيْلًا مہ ونسویہ شخص نُس توہہ مہ پیٹھہ فضیلت دیت وہ آس منز کوسہ خوبی پھہ۔ خیر ہر گاہ تھہ مہ مہلت دیو میانہ درخواستہ موجب قیامتہ کس دوہس تان زندہ روزنج تلبہ وچھو بوکیاہ بنز اوہ آسندین لو تین پو تین نسبت تم ساری



قَلِيلًا ﴿۱۲﴾ قَالَ اذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ  
 جَزَاءً مَوْفُورًا ﴿۱۳﴾ وَاسْتَفْزِرُ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ  
 وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ  
 وَالْأَوْلَادِ وَعَدُوهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا ﴿۱۴﴾ إِنَّ عِبَادِي  
 لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا ﴿۱۵﴾ رَبُّكُمْ الَّذِي  
 يُرْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهٗ كَانَ بِكُمْ

ورجلاؤک سے گمراہ کرکھ ہو کینیون کم لوکن ورائی چانیو مخلص بند واندردہ قَالَ اذْهَبْ اللہ تعالیٰ اَن  
 فرموس گڑھہ گڑھہ۔ یہ تگی سے کر۔ اسہ مکننا فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ نَس اکھاہ تمو آندردہ چان بیروی سے  
 متابعت کرہ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُكُمْ جَزَاءً مَوْفُورًا پس بیشک نار جہنم ہُو چانہ خیطر ہبہ تمن ہبہہ خیطر ہ پورہ  
 پورسزا وَاسْتَفْزِرُ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ ہبہ ڈالتھ تہمد قدم سبڑہ و تہ نشہ۔ ہبہ کھو ژناو تھک سے  
 بانبر او تھک تم پنہ نیو آوازوسیت وَأَجْلِبُ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ہبہ انتھک تمن گمراہ کرنہ خیطر ہ پنہ  
 پور لشکر۔ پیادہ لشکر سے سوار لشکر سے وَشَارِكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ ہبہ سپد سے شامل شریک تہمدین  
 مالن اندر سے اولادن اندر یعنی تم دو شوے چیز کیا کرن تم حاصل ناجائز طریقوسیت وَعَدُوهُمْ ہبہ  
 تھاوتہ تمن ژہ ہبڑ ہبڑ وعدہ کرنہ سیت۔ تمہ سیت اندی نہ کینہہ سے وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا بیشک  
 شیطان چھو لوکن سیت ہبڑ وعدہ کران إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ کیاڑہ بیشک میان بندہ تم  
 چھہ تمن پیٹھہ چھوی نہ ژہ کئہ قسمگ غلبہ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا تمس شیطانس تھ پیٹھہ ہبہ غلبہ ہتھ۔ تہمد  
 پروردگار چھو تہمد کافی کار ساز رَبُّكُمْ الَّذِي يُرْجِي لَكُمْ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَّبِعُوا مِنْ فَضْلِهِ تہمد پروردگار  
 چھو تھوی نعمت عطا کرہ و ان کہ سو چھو توبہ فایدہ و اتاوانہ خیطر ہ دریاون اندر ناوہ سے جہاز پکہ ناوان۔ تھ  
 تہمد تہمدہ روز گنگ تلاش کمر و ائہ کان بکم رَجِيمًا بیشک سو چھو تہمدس حالس پیٹھہ سیٹھاہ مہربان۔ وَإِذَا  
 مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ حَمَلَ مِنْ تَدْعُونَ إِلَّا آيَاتَهُ ہبہ ہیلہ توبہہ دریاوس اندر یا سمندر س اندر کانہہ تکلیفہ

رَحِيمًا ﴿٦٦﴾ وَإِذْ أَمَسَّكُمْ الصُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ  
 إِلَّا آيَاهُ فَلَمَّا نَجَّكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ  
 كَفُورًا ﴿٦٧﴾ أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْشِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ  
 عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُ وَالَكُمْ وَكَيْلًا ﴿٦٨﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ أَنْ  
 يُعِيدَ كُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ  
 الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُم بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُ وَالَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴿٦٩﴾

واتان چھو تمہے ساتھ چھو توہمہ مشان تم ساری معبودان باطل تمن نہہ عبادت کران آسوہ معبود  
 برحقس وراہی۔ تمہے ساتھ چھوہ تش معبود برحقس نجات منگان فلما نجتکم الی البر اعرضتم پس یلہ  
 سو تہندس منگس اجابت کمر تھ توہمہ پھٹنہ نشہ نجات دتھ بٹھس کن و اتاوان چھواتی چھوس بیہ تھ  
 پھر ان تہ نافرمانی کران وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا یہ انسان اوس ڈاڈہ ہمیشہ کفر ان نعمت کرہ  
 وئے۔ پنہ نس معمم حقیقی سندا انعام تہ پن ناگر عاجزی تہ زارہ پارہ مشراوان۔ دون یوسہ نہہ روگردانی  
 کران چھوہ یہ تھہ بناءس چھوہ کران أَفَأَمِنْتُمْ أَنْ يَخْشِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ کیاہ توہمہ لیبوہ امن وامان  
 سمہ تھہ نشہ کہ سو کیاہ والہ توہمہ بٹھس پیٹھ واتھہ زمینس تل تھہ پاٹھ قارون وولن اویرسل علیکم  
 حاصبًا یا سوزہ توہمہ پیٹھ واواہ سمہ منزہ توہمہ پیٹھ کنہ رود پیہ تھہ پاٹھ قوم عاوس پیٹھ کنہ رود سپر دو دتھ  
 لَا تَجِدُ وَالَكُمْ وَكَيْلًا توپہ لیون نہ تھہ پنہ خیطہ کاہنہ مددگارہ تہ کارسازہ اَمْرٌ أَمِنْتُمْ أَنْ يُعِيدَ كُمْ  
 فِيهِ تَارَةً أُخْرَى کنہ تھہ چھوہ پنہہ جایہ خاطر جمع سمہ تھہ نشہ کہ اللہ تعالیٰ کیاواتا وہ توہمہ دوبارہ بیہ اتھ  
 سمندر س منزئ ضروری کامہ سوکھ فیرسل علیکم قاصفًا مِّن الرِّيحِ فیرقکم بما کفرتم پس سوزہ  
 توہمہ پیٹھ چھلہ کرون سخت واولس تھندس جہازس چھلہ تہ کوچہ کمر تھہ توہمہ سان پھاوہ تھندہ کفرہ سببہ  
 ثُمَّ لَا تَجِدُ وَالَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا توپہ لیون نہ تھہ کاہنہ اکھاہ اسہ بازخواست تہ پرژھہ گار تہ جواب طلب  
 کرہ ون وَلَقَدْ كُذِّبْنَا بِئِيْ اَدَمَ وَحَصَلْنَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بیہ دیت پزپاٹ لسہ حضرت آدم علیہ السلامہ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ  
 الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝۴۰ يَوْمَ  
 نَدْعُو كُلَّ آنَاسٍ بِإِذَا مِهِمْ ۚ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ يَمِينًا فَأُولَٰئِكَ  
 يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا ۝۴۱ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ  
 أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا ۝۴۲ وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ

سندین اولادن یعنی انسان بعض خاص صفت عطا کرنے سمیت بجز تھے صفات تم نہ باقی حیواناتن عطا آئی  
 کرنے۔ تم گے حُسن صورت سیودقدو قامت۔ عقل۔ ایجادِ صنایع۔ یہ کمر آسہ تم سوار خشکی اندر  
 مختلف جانورن ہندین پُشٹن پیٹھ۔ گرین نہ اونٹن نہ کاترن نہ کھرن ہندین پُشٹن پیٹھ۔ دریاون نہ  
 سمندرن اندر ناؤن نہ جہازن پیٹھ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ یہ کوراسہ تمن عطارِ رزق نفیس نفیس صاف و  
 پاک چیز و آندرہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا یہ دیت آسہ تمن فضیلت پنہ نیو مخلو تو آندرہ  
 وار یہن مخلوقن پیٹھ رُت فضیلتاہ۔ اتھ کن نظر کمر تھ پڑہ ہاتمن سمین سائین نمودن ہنز قدر کرن منع  
 حقیقی عُمی زانہ سمیت۔ بہ تسز عبادت نہ فرمانبر داری کرنے سمیت۔ امہ نافرمانی نہ کھر و شرکک محاسبہ ایہ  
 ہنہ تمن قیامتک دوہ یَوْمَ نَدْعُو كُلَّ آنَاسٍ بِإِذَا مِهِمْ سو دوہ گو سو وی سمہ دوہنہ اس نادو مو سارنی لو کن  
 پُشٹن نامہ اعمال سمیت ہیتھ۔ محشرہ کس میدانس منز جمع سپدنہ خیلرہ۔ بعضی مفسر و فر موو و با ماہیم  
 پنہ نیو سردارو نہ زٹھو سمیت ایک نادونہ فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ يَمِينًا فَأُولَٰئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا  
 کس سمین لو کن نامہ اعمال دنہ آیدہ چھنس اتھس کیتھ تو پتہ پڑن تم پن نامہ اعمال۔ و چھنس تم کہ تمین  
 ایہ نہ کُتہ قسمہ ظلم کرنے۔ خضر آچہ ہمدہ منز مہ کھشہ چہ جاہہ ہندہ پنہ داوہ برابرہ۔ یعنی تمین ایہ ایما نگ  
 نہ رزٹن عملن ہند ثواب پورہ پورہ عطا کرنے۔ تمین ایہ عذابہ نشہ نجات دنہ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ  
 فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا یہ کس شخص دُنیا س اندر ذات کمر تھ نجات و تھ و چھنہ نشہ اون نہ اعلمی  
 آسہ نیو مت۔ سو آسہ آخرتس منز نہ نجات کس گرس منز و اتھہ نشہ اعلمی نہ اون نہ ناینا۔ یہ آسہ دُنیا خوتہ

عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لَتَقْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ ۖ وَإِذَا اتَّخَذُوكَ  
 خَلِيلًا ۖ وَلَوْلَا أَنْ نَبَتِّنَا لَقَدْ كُنتَ تَرَكُنَ الْيَهُودَ شِئًا قَلِيلًا ۖ ﴿٤٣﴾  
 إِذَا الْأَذْقَمَكَ ۖ ضَعَفَ الْحَيَاةَ وَضَعَفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ  
 عَلَيْنَا نَصِيرًا ۖ ﴿٤٤﴾ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفْرِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ  
 مِنْهَا وَإِذْ الْأَيْلِبَتُونَ خِلْفَكَ الْأَقْبِلِيَّا ۖ سُنَّةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا

سیٹھاہ روومت تہ دور ہیومت منزل مقصود حاصل کرنہ نیشہ کیا زہہ دنیاہ س اندر اوس گمراہی تہ ضلالتس  
 تدارک کرن ممکن توبہ استغفارہ سمیت۔ آخرتس اندر چھوٹھ گمراہی تدارک کرن ناممکن تہ دشوار۔ تمن  
 لوکن لیہ نامہ اعمال دنہ کھو فرس اٹھس کیتھہ ۖ اَن كَادُوا لَيَسْتَفْرِزُونَكَ عَنِ الَّذِي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ لَتَقْتَرِي عَلَيْنَا غَيْرَهُ  
 وَاِذَا اتَّخَذُوكَ خَلِيْلًا ۖ سببہ آس کافر سیٹھاہ نزدیک بیتھہ کوشش کران کہ تم ڈالسن توبہہ تمہو احکامو نیشہ تم  
 اَسہ توبہہ پیٹھہ بذریعہ وحی نازل کمرمت آس۔ یعنی تہہ کرہ ہووہ تہزہ خواہشہ مطابق عام مسلمانن پانس  
 نیشہ دور۔ یاد یہ ہو تمین اُس ورس اسلام انہ نس مہلت۔ سببہ دوشوے کتھہ آسہ خلاف شرع۔ مگر تہزہ  
 کوشش آس کہ کتھہ پاتھہ کمر و نا تہہ یہ کتھہ منظور۔ اسہ پیٹھہ لاگو ناسانہ حکمہ وراہی بیا کھ کھماہ۔ تلہ تلہ تھاوہن  
 تم توبہہ پن جانی دوست ۖ وَلَوْلَا اَنْ نَبَتِّنَا لَقَدْ كُنْتَ تَرَكُنَ الْيَهُودَ شِئًا قَلِيْلًا ہر گاہ نے اُس تہہ مضبوط تہ  
 محکم ثابت قدم تھاوہ ہووہ پنہ نس کھمس بیتھہ تہ اوس احتمال کہ تہہ ماسپدہ ہو تمین گن مائیل موہیہ ہنا۔ تھہ  
 صورتس اندر ۖ اِذَا الْاَذْقَمَكَ ضَعَفَ الْحَيَاةَ وَضَعَفَ الْمَمَاتِ ہر گاہ تہہ اہیہ ہالینہ یعنی تہہ کیاسپدہ ہو تہزہن  
 کتھن گن مائیل تلہ تہ ہناوہ وہ اس تہہ دوگن عذابک مزہ دُنیاچہ زندگانی اندرتہ۔ آخرتچہ زندگانی اندرتہ،  
 مرنہ پتہ تہ۔ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيْرًا توپتہ لہہ ہون نہ تہہ پنہہ خیطہ اسہ مقابل کاہنہ مددگارہ۔  
 مگر چوچہ اسہ بناوہہ تہہ مہصوم تہ ثابت قدم تمہہ سببہ آونہ لبنہ تہدہ طرفہ کتھہ قسمہ تمین گن مائیل  
 پدن۔ خداین کمر وہ توبہہ پن راہتہ تہ حفاظت۔ تہہ لبو دُنیاو آخرتچہ دوگن عذابہ نیشہ نجات وان  
 كَادُوا لَيَسْتَفْرِزُونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذْ الْأَيْلِبَتُونَ خِلْفَكَ الْأَقْبِلِيَّا ۖ سببہ کریو قصد تمہو کافر و

قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴿۷۶﴾ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ  
 الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ  
 مَشْهُودًا ﴿۷۷﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ

توہمہ تکلیف و اتنا و تھ کرہ کن تم مجبور توہمہ متہ شریفہ منزہ نیر نس پیٹھ۔ ہر گاہ تہ لبنہ ایہ ہاتلمہ روز ہن نہ  
 تم کافر توہمہ پتھ تھ شہرس منز مگر کمہ سی کالس۔ چنانچہ تی آو بعل۔ یلہ خدایہ سدہ کحمہ موجب توہمہ  
 ہجرت کمر وہ، متہ معظمہ منزہ در اوہ، مدینہ منورس کن نیوہہ تشریف۔ ڈو ڈوری گڑھتھ آئی کافر ہند پڈ  
 پڈ ڈانگر دشمنان اسلام ابو جہل، عقبہ، شیبہ، ولید پلید جنگ بدرس منز قتل کرنہ تہ مارنہ۔ تمہ پتہ کمی  
 کینہہ کالاہ گڑھتھ سپد فتح متہ۔ ساری جزیرہ عربس پیٹھ سہز اسلامی حکومت قائم۔ ٹھند یو دشمنو منزہ  
 رُودنہ اکھ تہ باقی۔ سُنَّةٌ مِّنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا تَهْتِكُ بِهَا تَمَنِ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَقَّهُ سَوْنَ قَاعَدَه تہ  
 طریق رُود، تم پیغمبر اسہ توہمہ بروٹھ سوزمت آس تمن تہ یلہ دشمنو تکلیف و اتناو، تو پتہ کڈ کہ تم پیغمبر  
 پنہ نیو شہر و آندرہ، اسہ گال تھند تم دشمن۔ تمن ڈیت نہ اسہ سو کہ تمن شہرن اندر رُوزت۔ تھتھ پاتھ  
 گالو کہ آس تھند دشمن تہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا تھہ حض لبونہ  
 سانس مقررہ طریقس تغیر و تبدیل سپدان۔ وون یو زونہ سو نسخہ سمہ سیٹ تھند ساری غم دور سپدان  
 أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ ای پیغمبر برحق تھہ آسو پر تھہ دوہہ نماز قائم تھاوان،  
 دوہلہ آفتاب ڈلنہ پتہ راز ہنزہ تاریک تہ لہ گٹھ سپد نس تان، اتھ منز آیہ ژور نمازہ۔ پیشن۔ وگر، شام  
 تہ ختنن وَقُرْآنَ الْفَجْرِ بیہ آسو صبح نماز پران اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا بیشک صبح نماز چھہ ملاکن  
 ہندہ حاضر سپدنگ وقت۔ چنانچہ حدیث شریفس منز چھو آمت کہ دگر نمازہ تہ صبح نمازہ چھہ حاضر  
 سپدان ڈہک تہ راتیک ملائیک۔ تم انسان ہندہ حفاظت و کتابتہ خیطرہ و سان چھہ۔ تمن چھہ تمینی دون  
 و قن پیٹھ بدل سپدان۔ راتیک ملائیک چھہ صحن کھسان ڈہک ملائیک چھہ و سان۔ دگر س چھہ ڈہک  
 ملائیک کھسان تہ راتیک و سان۔ صبح نمازہ تہ دگر نمازہ پیٹھ چھہ دو شوے کھسہ ون تہ وسہ ون جمع  
 سپدان۔ خدایس نشہ گواہی و وان کہ۔ اس کھت چان ہندہ آس نماز پران آس و تھہ تم آس نماز پران  
 وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ بیہ راز ہندس آگس حصس منز و تھو تھہ یار رسول اللہ، پتر و تھہ اندر نماز

رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا<sup>(۹)</sup> وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّ اجْعَلْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا<sup>(۱۰)</sup>  
 وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبٰطِلُ اِنَّ الْبٰطِلَ كَانَ زَهُوْقًا<sup>(۱۱)</sup>  
 وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاۗءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَّلَا يَزِيْدُ

تہجد۔ یہ نماز چھ پانچن نماز علاوہ زیادہ خاص تہجدہ خیرہ عَسَىٰ اَنْ يَّبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا امید چھ یعنی وعدہ ہجوکہ تہجد پروردگار۔ دیر جای توہمہ مقام محمودس اندر یعنی واتاودہ توہمہ تہہ مقاس بس سینٹھا قابل تعریف چھو سو گو مقام شفاعت عمری۔ تہہ مقاس واتہہ کرن تہند تعریف اولین و آخرین۔ بیہ پانہ حضرت رب العلمین۔ تہند تہود شان وچہت تہود مقام وچہت کرن لوک تہند تعریف تہندہ محمد ﷺ و محمود آسک سپدہ ظہور وَقُلْ رَبِّ ادْخُلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّ اَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّ اجْعَلْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا بیہ آسو تہمہ بیہ دعا پران کہ ای میانہ پروردگارہ مکہ شریفہ منزہ نیر نہ پتہ واتاومہ تہمہ جلیہ تہہ جلیہ ژہ یژک رتہ طریقہ بخیر و خوبی۔ مکہ شریفہ منزہ نیر نہ پتہ آسو رتوی رت۔ مدینہ شریفہ منز اثرن پتہ رتوی رت۔ بیہ کر میہ پتہ طرفہ نین یاری۔ مہ کر عطا تمن کافرن پیٹھ سو غلبہ تہہ اندر چون مدد تہ نصرت داعی سیت سیت آسو۔ بس نہ زائل سپدہ ون تہ عارضی آسو بلکہ آسو پوشہ ون تہ پائیدار۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبٰطِلُ اِنَّ الْبٰطِلَ كَانَ زَهُوْقًا بیہ آسو پران کہ وون سپد پوزہ دین ظاہر۔ اپزدین سپد باطل۔ بیشک اپز چھو آخر گلہ ونوی تہ خم گروہ ونوی۔ یعنی مضمون کن گروہہ تہمز کل تھاون نمگین آزد خاطر گروہہ روزن۔ چنانچہ ہجرتہ پتہ سپد فتح مکہ۔ ساری وعدہ سپد پورہ۔ چنانچہ فتح مکس اندر یلہ حضرت نبی کریم خانہ کعبس منز ژاے۔ خانہ کعبس منز آس کافرو تھومت لہد یک تریہ تہہ تہ شیطہ (۳۶۰) پوتل۔ تمن آس دست مبارکس منز اکھ لورہ ہنا۔ تمی سیت آس پر تہہ پوتلس کن اشارہ کران۔ زبان مبارک سیت آس یوے آس کریمہ پران ( وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَرَهَقَ الْبٰطِلُ اِنَّ الْبٰطِلَ كَانَ زَهُوْقًا ) بیہ بیاکھ آسے کریمہ ( جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيْ الْبٰطِلُ وَمَا يُعِيْدُ ) پران۔ تم پوتل آس تھکن وکراوندہ یوان تہ پھر وس پوان وَنُنزِّلُ مِنَ الْقُرْاٰنِ مَا هُوَ شِفَاۗءٌ وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ بیہ چھہ آس بیہ

الظَّالِمِينَ الْاِخْسَارًا ﴿۸۶﴾ وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلٰى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَا  
بِجَانِبِهِ ۗ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يُؤْسَا ﴿۸۷﴾ قُلْ كُلُّ يَّعْمَلُ عَلٰى  
شَاكِلَتِهِ ۗ فَرَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ اَهْدٰى سَبِيْلًا ﴿۸۸﴾ وَيَسْأَلُوْنَكَ

قرآن مجید نازل کر ان نُس بوڈ شفا چھو۔ بڈ رحمت چھہ بالیمان ہمدہ خیطرہ یعنی تھہ پاٹ پڑکہ ینہ سبیت  
اپز گول تہ زائل سپد تھہ پائٹھ چھہ اس قرآن مجید وارہ وارہ نازل کران۔ نُس روحانی مرضن تہ بیمارین  
ہمدہ خیطرہ بوڈ علاج چھہ سمہ سبیت دلوا ندرہ ہذا اعتقاد تہ لہز عقاید تہ پیچھہ اخلاق بیہ شکوک و شبہات دُور  
سپد تھہ روحانی صحت چھو حاصل سپدان۔ بلجہ چھو بسا اوقات امکہ برکتہ جسمانی مرضن تہ بیمارین تہ شفا  
بنان۔ بالیمان ہمدہ خیطرہ چھو رحمت و شفا امی موکہ تم کیا چھہ تھہ قرآن مجید س ایمان اتان۔ امہ  
موجب عمل کران۔ سمہ سبہ اللہ تعالیٰ چھو پن بڈ رحمت تمن کن متوجہ کران۔ پیچھہ عقاید تہ پیچھہ عملو  
نہہ چھو تمن شفا بخشان وَلَا يَزِيْدُ الظَّالِمِيْنَ الْاِخْسَارًا مگر ظالمن تہ نا انصافن سمہ امہ قرآن مجیدہ  
موجب عمل کرن ہر نہ کینہہ تہ تاوانہ تہ نقصانہ ورا۔ کیاہہ تم چھہ امہ کیو ہدایتو تہ ارشاد اتو موجب  
عمل کران۔ سمہ موکہ تمن پیٹھ چھہ خدایہ سز بیزاری زیادہ سپدان۔ تم چھہ مستحق عذاب و سزا سپدان۔  
یلہ ون بیہ کیفیت چھہ لہذا تمن متعلق قبول اسلاج امید تھاون یا تہمدہ مخالفنگ غم کھيون چھو بیکاروبے  
فاسدہ وَاِذَا اَنْعَمْنَا عَلٰى الْاِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ وَاِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يُؤْسَا بیہ یلہ اَس کانہہ  
انسانس یعنی کافر س کانہہ نعمتھہ عطا کران چھہ تس پڑہ ہاشکر گذاری کرن۔ تھہ بدل چھو سانو احکامو  
نہہ تھہ پچھران۔ بیہ پہلو تہی کمر تھہ پس طرفس کن پچھران یعنی اللہ تعالیٰ چھوس پنہ فضلہ سبیت نعمت  
مال و دولت عطا کران۔ مگر سو چھونہ احسان مانان۔ امہ نعمتنگ شکر ادا کران یوت اہس عیش و آرام چھو  
حاصل سپدان، تیوت چھو سو منعم حقیقیس نہہ غافل سپد تھہ تمند یو احکامو نہہ اعراض کران۔ بیہ یلہ  
تس کانہہ تکلیفہ و اتان چھو تمہہ ساتھ چھو نا امید سپدان دوشون حالتن منز چھو خدائس نہہ بے تعلق  
سپدان۔ مگر بالیمان چھہ دوشون حالتن اندر خدایہ سی کن رجوع کران۔ نعمتہ وقتہ شکر دپان۔ تکلیفہ  
وقتہ صبر کران۔ تکلیف دُور گرہنہ خیطرہ تس کن التجا کران۔ قُلْ كُلُّ يَّعْمَلُ عَلٰى شَاكِلَتِهِ نہہ فرما یو کہ  
یا رسول اللہ کہ بالیمان تہ کافر نیک تہ بد پریمتھہ اکھہ چھو کوم کران پنہ پنہ طریقہ موجب تھہ تمسنز

عَنِ الرَّوْحِ قُلِ الرَّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝ وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ النَّبِيَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَآتِيْكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكَيْلًا ۝ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا ۝ قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ

عقل صحیح یا جہل فبیج منگان آسہ۔ عقل صحیح چھو منگان اعمال خیرن جہل فبیج چھو منگان پیچھ عملن فریکو اعلو بہن ہوا ہندی سبیللا پس چھ ٹھنڈی پروردگار س پور خبر گس چھوراہ راستس تہ سیزہ وتہ پیٹھ۔ تس چھ خبر گس چھو غلط وتہ پیٹھ۔ سوی دیہ پر چھ اگس پنتہ پنتہ عملہ ہنزمزور و یستلونک عَنِ الرَّوْحِ بیہ ہز چھہ پر ٹھان تم کافر توبہ بطریق امتحان ر وحک سوال۔ روح حقیقت کیاہ چھ۔ قُلِ الرَّوْحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ٹھہ فرما دیو کہ کہ روح چھو میانس پروردگارہ سند حکم بس بیہ نہ کہینہہ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا بیہ آونہ توبہ علم عطا کرنہ مگر سیٹھاہ کم۔ ٹھنڈہ استعدادہ موجب۔ بیہ تمن چیزن ہند علم تم ضروریات چھہ۔ چونکہ روح علم ضروریاتواندرہ چھنہ۔ بیہ ترہ نہ توبہ فکری کم فہمی موکہ تمہہ موکہ آوتھانہ پوشیدہ روح علم وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ النَّبِيَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ بیہ ہر گاہ آس یٹھو واپس نحو اس قرآن مجید بس اسہ نازل کور توبہ پیٹھ بطریق وحی ٹھہ لَا تَأْتِيْكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكَيْلًا تو پتہ لیون نہ ٹھہ پنتہ مددہ خیطرہ آسہ سیت مقابلہ کرنہ خیطرہ کاہنہ مددگارہ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ مگر بیہ چھہ ٹھنڈس پروردگارہ سنزرحت تہ مہربانی تم کور نہ تہ إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا کیاہہ بیشک خدایہ سند فضل چھو توبہ پیٹھ سیٹھاہ بوڈ۔ لہذا اگر ٹھہ ٹھنڈ خدایہ سترہ بیہ نعمت تہ مہربانی یاد پاوت خوش روزن کانہہ ہندہ مخالفک گڑھہ نہ کاہنہ غم برن قُلْ لَّيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا بیہ قرآن مجید چھو تھوی مجزہ کہ ٹھہ فرما دیو کہ کہ ہر گاہ ساری انسان تہ جن سمن تہ جمع سپدن تہ کوشش کرن کہ پیش کیا کرن اتھ قرآن مجید س ہیو کلامانہ



لِبَعْضِ ظَهِيرًا<sup>۸۸</sup> وَقَدَّصَرْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ  
 كُلِّ مَثَلٍ فَايُّ أَكْثَرِ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا<sup>۸۹</sup> وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ  
 حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَدْبُوعًا<sup>۹۰</sup> أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ  
 نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتَقْعِرَ الْأَنْهَارُ خَلْفَهَا تَقْعِيرًا<sup>۹۱</sup> أَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ  
 كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا لِسْفًا أَوْ تَأْتِي بِلِلِّهِ وَالْمَلَكَةِ قَبِيلًا<sup>۹۲</sup>  
 أَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ ذُرْحٍ أَوْ تَرْتُّبِي فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ  
 لِرُؤْيَاكَ حَتَّى تُنْزِلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيْ هَلْ

ہرگز ممکن نہ پیش کرتے اے ساری اڈاؤں پر مددگار تہ بن وَقَدَّصَرْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ  
 كُلِّ مَثَلٍ پز پائتہ یہ کرہ اسہ ہتھ قرآن مجید س اندر لوکن فخرہ تارنہ خیطرہ پر ہتھ قسمک عمدہ مضامین  
 مختلف طریقو بیان قَالِي أَكْثَرِ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا باوجود آل کورنہ اکثر لو کو کہنہ تہ انکارہ ورا ی تہ ناشکری  
 ورا ی وَقَالُوا لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَدْبُوعًا بیہ لگ تم لو کہ توہہ دینہ اس گرو نہ پڑھ توہہ  
 توتان یوتان نہ تہہ سانہ خیطرہ ہتھ مہہ معظمہ کس زمینس اندر چشمہ ناگہ راد جاری کر و اوتکون لَكَ  
 جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتَقْعِرَ الْأَنْهَارُ خَلْفَهَا تَقْعِيرًا یایوتان نہ توہہ خاص خضر کلین تہ دچھہ کلین ہند  
 باغہ آسہ ہتھ باغس منز کمر و تہہ واریاہ کولہ جاری اَوْ تُسْقِطَ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمَتْ عَلَيْنَا لِسْفًا یایوتان نہ تہہ  
 آسہ پٹھ آسمان جھلہ جھلہ تراوہ سمیک تہہ ونان آسہ اَوْ تَأْتِي بِلِلِّهِ وَالْمَلَكَةِ قَبِيلًا یایوتان نہ تہہ  
 پانہ خدایہ ملائک اسہ برو تھہ کتہ دو تھہ ذنہ تھاویو کہ ہتھ اس وارہ کارہ تم وچھو کہ اَوْ يَكُونَ لَكَ بَيْتٌ  
 مِّنْ ذُرْحٍ یایوتان توہہ آسہ گراہ مکانہ سونہ سُنْد اَوْ تَرْتُّبِي فِي السَّمَاءِ وَلَنْ نُؤْمِنَ لِرُؤْيَاكَ حَتَّى تُنْزِلَ  
 عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرُؤُهُ یایوتان نہ تہہ کھسرو آسمانس پیٹھ۔ اسہ ڈیشمان، اسہ برو تھہ کتہ توتہ کرودہ نہ اس پڑھ

كُنْتُ إِلَّا بَشْرًا رَسُولًا ﴿۱۳﴾ وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمْ  
 الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشْرًا رَسُولًا ﴿۱۴﴾ قُلْ لَوْ كَانَ فِي  
 الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَشْهَدُونَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ  
 مَلَكًا رَسُولًا ﴿۱۵﴾ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ  
 بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا ﴿۱۶﴾ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَنْ

تہم جس آسمان کھنسن یو تان نہ تورہ والو سائہ خیطرہ اکہ کتاباہ تھہ منز تصدیق آسہ تہم جس آسمان پیٹھ  
 واتس۔ یوسہ کتاب آس تہ پترتھ بیگو۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشْرًا رَسُولًا تہہ فرما یو کہ یارسول  
 اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمن سارنی بیہودہ تھن ہند جواب کہ منزہ تہ پاک چھو میون پروردگار تہہ چیزس  
 اندر عاجز آسنہ نہ۔ بوکیاہ زونوس توہہ بو چھوس نہ مگر بشر انسان پیغمبر بس میں حقیقت چھہ ایشی۔ مہ  
 قدرتس تہ تہزہ فرمایہ پور کرنس اندر کانہہ دخلہ چھونہ۔ یہ سوزی چھو قدر تہ والس خدا بس اتھہ۔  
 وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشْرًا رَسُولًا تہہ وقتہ تم لو کن نہہ  
 ہدایت یعنی رسالتہ صحیح دلیلہ واثرہ مثلاً قرآن مجیدک بوڈ معجزہ تھہ لازم اوس تم ہند گو تھہ فوراً  
 ایمان ان تہ پڑھ کرن مگر تم سپدنہ کانہہ چیز ایمان نہ نس مانع مگر تم آہہ بوزنہ بشریتس تہ رسالتس  
 اندر فرق۔ دہنہ لگ کیاہ اللہ تعالیٰ ان سوزہ اکہ بشرہ پیغمبر قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَشْهَدُونَ مُطْمَئِنِّينَ  
 لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا تہہ فرما یو کہ یارسول اللہ ہر گاہ آسہن زمینس پیٹھ ملائیک روزان  
 لسان بسان اوہہ پور پیچیر ان تل سوزہ و آس تم کن تہ آسمانہ طرفہ ملکہی پیغمبر بناوت قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ  
 شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ تہہ فرما یو کہ بس چھومہ منز تہ توہہ منز گواہ اللہ تعالیٰ۔ سوی چھو بہتر زمانان کہ  
 بو چھوس پیغمبر تہند۔ اگر تہہ مانو نہ میون پیغمبر برحق آسن متہ مانئو۔ اکہ دوہہ اکہ تلو پانے تمیک پیچھ  
 نتیجہ ایتہ کان عبادہ خبیرا بصیرا کیازہ اللہ تعالیٰ چھو پنہن بدن ہند ساری حالات پورہ زمانان تہ  
 پورہ چھان تہ وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ توپتہ چھہ واقعی کتھاہ ای زہ یس اللہ تھہ ہا وہ سوی چھو سیزہ

يُضِلُّ فَلَئِنْ تَعَدَّ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحَشَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
 عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيًّا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ  
 زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ﴿۹۵﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ هُمُ يَا نَهْمُ كَفَرُوا يَا بَيْتَنَا وَقَالُوا  
 ءَاذَانُكُمَا عِظَامًا وَرَفَاتًا ءَاذَانُكُمَا لَبْعَوَاتُونَ خَلَقْنَا جَدِيدًا ﴿۹۶﴾  
 أُولَٰئِكَ يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَادِرٌ عَلَىٰ  
 أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَارِيبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ

وَتَرَىٰ فِيهَا عِزًّا وَمَنْ يَضِلُّ فَلَنْ يُعَدَّ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ ۚ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۚ  
 ذالہ۔ پس لیون نہ تھے تہند کا نہہ مدگار خدایس وراى وَنَحَشَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمِيًّا وَبُكْمًا  
 وَصُمًّا ۚ بیہ یکہ ناوکہ آس تم قیامتک دوہ ہتھ کھکھر آن۔ زرتہ کل مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ  
 سَعِيرًا ۚ ہنز جای چھہ نار جنم۔ یلہ یلہ سونا سوتن آسہ ہیوان۔ آس آسون سو تیز کران ذلک  
 جَزَاءُهُمْ ۚ یوہے نار جنم آسہ تہند سزا يَا نَهْمُ كَفَرُوا يَا بَيْتَنَا امی موکہ کہ تمہو کیا کور انکار ساین آیاتن  
 وَقَالُوا ءَاذَانُكُمَا عِظَامًا وَرَفَاتًا ءَاذَانُكُمَا لَبْعَوَاتُونَ خَلَقْنَا جَدِيدًا ۚ بیہ آس تم وان کہ یلہ اس مرو باقی  
 روزہ نہ کینہتہ دور سمہ واذ جو وراى۔ کیاہ آس اموہ ہتھ حال ہکتھ اذ جن آسہ سور گو مت، بیہ دوبارہ پیدہ  
 کرنہ قبر واندہ کڈت ایما آسہ نوزندگی عطا کرنہ أُولَٰئِكَ يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَادِرٌ عَلَىٰ  
 أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ ۚ کیاہ تمن لوکن چھندار نیٹھ آمت کہ بیشک اللہ تعالیٰ گوسوی پروردگار تمہو مخلوق واندہ  
 بڈزہ مخلوق آسمان تہ زمین پیدہ کرمت چھہ۔ سو چھو پور قدرتہ وول تمن ہی لوکتہ مخلوق انسان پیدہ  
 کرنس پیٹھ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَارِيبَ فِيهِ ۚ مگر تم پروردگارن تہندہ دوبارہ پیدہ کرنہ خیلرہ اکھ وقتاہ مقرر  
 کرمت۔ سو وقت واتس پیٹھ دوبارہ پیدہ کرنس اندر چھونہ کانہہ شکاہ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفْرًا ۚ یہ بوزت  
 تہ مرنہ ظالم لو کو کینہتہ تہ انکارہ وراى قُلْ لَوْ أَنَّكُمْ تَعْلَمُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَسْتَكْبَرْتُمْ خَشْيَةَ  
 الْإِنْفَاقِ ۚ فرما یو کہ تہہ یار رسول اللہ ہر گاہ تہہ مالک نہبو۔ توہہ اتھ آسہن منیس پروردگارہ سندین

إِلَّا كُفُورًا ۙ قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا  
 لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ۙ  
 وَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَسَأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ  
 فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا ۙ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَمَا  
 أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَهُكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَافِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ  
 يُفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا ۙ فَأَرَادَ أَنْ يَنْتَفِرَ مِنْهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ

رحمن ہند خزانہ۔ تہہ کمر ہو کہ تم خزانہ بند خراج کر نہ خودہ۔ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا یہ انسان چھو  
 اوسمت ہمیشہ دل تنگ تہ کنجوس۔ وَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ تحقیق یہ کر اسہ موسیٰ علیہ السلا مس  
 نو معجزہ تین تہ واضح عطا۔ تین ہنز ذکر ہو مہ سپارہ اندر شینہ مس رکوعس اندر چھہ۔ فَسَأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ  
 تہہ پر ژھتو آڑ کہ وقتہ کین بنی اسرائیل تین آیاتن متعلق۔ یعنی پتھ پاٹ تہہ معجزات تہہ دلیلہ عطا کرہ  
 پتھ پاٹھ چھہ اسہ عطا کرہ مژہ موسیٰ علیہ السلا مس تہہ۔ تہہ پر ژھتو آڑ کہ وقتہ کین عالم بنی اسرائیل  
 چنانچہ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَمُوسَىٰ مَسْحُورًا بلکہ موسیٰ کلیم اللہ بنی اسرائیل تبلیغ کر نہہ آی  
 فرعونس تہہ مگر کہ دوبارہ یہہ تبلیغ۔ فرعون لوگ تین دہنہ ہنز پاٹ مہ چھو بوز نہہ یوان تہہہ پیٹھ چھو کمتان  
 جود کورمت سمہ سببہ تہہزہ عقلہ پیٹھ چھو اثر پیومت۔ سمہ سببہ تہہ سمہ قسچہ تھہ چھوہ کران۔ قَالَ  
 حضرت موسیٰ ان فرعونس ای فرعون لَقَدْ عَلِمْتَمَا أَنْزَلَ هَؤُلَاءِ إِلَهُكَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَافِرٍ تحقیق تہہ  
 چھو کھہ دلہ کن زانان کہہ سم آیات چھنہ کانہہ ہندہ طرفہ مگر تہس پروردگارہ سندہ طرفہ تہس آسمان تہہ  
 زمین ہندرب چھو۔ مگر زیوہ سیت چھو کونہ ظاہر کران وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يُفِرْعَوْنُ مَثْبُورًا بو تہہ چھت  
 تہہ زانان ای فرعون عنقریب تباہ تہہ برباد سپدہ ون۔ چانہ تباہی تہہ گنلب دودہ چھہ واتمت۔ اوتان اوس  
 موسیٰ کلیم اللہ فرعونس فرماوان کہ بنی اسرائیل مگر کہ آزاد تم تراؤ کہ مہ سیت اس نیر و مصرہ اندرہ۔  
 اس گہو ہو ملک شامس کن۔ مگر سو اوس نہ مانان۔ دون تالیہ تمس نچہ حضرت موسیٰ ما کرہ بنی اسرائیل

وَمَنْ مَعَهُ جَمِيعًا ۱۰۳ وَقُلْنَا مَنْ بَعْدَهُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا  
 الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جُنَّاكُمْ لَمِيفًا ۱۰۴ وَيَا حَقِّ أَنْزَلْنَاهُ  
 وَيَا حَقِّ نَزَلْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۱۰۵ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ  
 لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْتٍ وَنَزَلْنَاهُ تَنْزِيلًا ۱۰۶ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ

اندر قوت و طاقت حاصل۔ اسمیت کرن تم مقابلہ۔ فَأَذَانٌ يُسْتَفْزَهُمُ مِنَ الْأَرْضِ تھن کن نظر کمر تھ  
 کور تم ارادہ تم بنی اسرائیل کڈھ بوسمہ شہرہ اندرہ بودمنہ تمن تھ شہر س اندر روزہ لے فَأَقْرَبْنَاهُ وَ  
 مَنْ مَعَهُ جَمِيعًا مگر اسمہ برو تھ کہ سو کیا سپدہ ہاپنہ نس ارادس اندر کامیاب۔ اسمہ پھاٹو سو بحر قلزمس  
 اندر۔ بیہ تم تس سمیت آس ساری اکہ وٹہ وَقُلْنَا مَنْ بَعْدَهُ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ بیہ  
 فر موو اسمہ بنی اسرائیلن فر عومہ سدہ غرق سپدہ پتہ۔ ای بنی اسرائیلو بسو تھہ بیہ زمینس اندر سمہ منزہ  
 فر عوم توبہ کڈن یرشھان اوس تھند دشمن گول اسمہ۔ توبہ دُیت اسمہ تھزہ غلامی نشہ نجات۔ تھہ چھوہ  
 وو ان سمہ زینک مالک۔ خوش کردہ مصرس اندر روز تو یاشامس اندر۔ بیہ خوش کردہ تھہ بستو۔ مگر بیہ  
 مالکیت تھہ توبہ دُنیاچہ زندگی تانی فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جُنَّاكُمْ لَمِيفًا تو پتہ بلہ آخر تک وعدہ ولتہ  
 یعنی قیامت برپا سپدہ۔ تھہ ساری کردہ جمع اکہ وٹہ۔ دوست تہ دشمن تہ۔ سعید تہ شقی تہ۔ تو پتہ بوزناوو  
 وہ آس تھہ ساری آخری فیصلہ نس دایمکی اسمہ۔ تھہ پاٹ اسمہ حضرت موسیٰ اس معجزہ عطا کمر تھہ پاٹھ  
 کمر اسمہ توبہ تہ معجزات عطا سمو معجزو اندرہ بوڈ معجزہ چھو قرآن مجید وَيَا حَقِّ أَنْزَلْنَاهُ وَيَا حَقِّ نَزَلْ بیہ  
 کور اسمہ بیہ قرآن مجید توبہ پیٹھ نازل پنز پاٹ۔ بیہ ووت تہ سو قرآن مجید توبہ نش پتر پاٹھ۔ منزہ  
 سپدس نہ مکئہ قسمہ کانسہ ہند تصرف نس تغیر و تبدیل کرہ ہنس۔ مکئہ زیادتی یا کمی ورا ی۔ گوڈہ پیٹھ اندتان  
 چھو سو قرآن مجید پوزوی پوز وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا بیہ تھہ پاٹھ اسمہ سوز موسیٰ علیہ السلام  
 لوکن گن۔ ہدایت اوس نہ تھندس اختیارس اندر۔ تھہ پاٹھ سوزوہ اسمہ تھہ تہ صرف لوکن ایمانس پیٹھ  
 ثوابچ بشارت تہ خوشخبری بوزناونہ خیطرہ۔ کفرس تہ نافرمانی پیٹھ عذابگ نیم کرنہ خیطرہ۔ وون ہر گاہ  
 کاہنہ شخصہ ایمان لہ نہ، پڑھ کرہ نہ متہ کمر تن تھند گڑھنہ آزدہ تہ نمگنن سپدن وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ

لَا تُوْمِنُوْا اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ  
يَخْرُوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ۙ وَيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ  
وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ۙ وَيَخْرُوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَسْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ  
خُشُوْعًا ۙ قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيًّا مَا تَدْعُوْا فَلِلّٰهِ اسْمَاءُ

عَلِ النَّاسِ عَلَىٰ مَكْتَبٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنْزِيْلًا ۙ  
بہ جھو قرآن مجید س اندر سو پوز آسکیو صفتو علاوہ اللہ تعالیٰ ان پنہ  
فضل ورحمتہ سیت تم صفت تھاومت سمو سیت تمکہ ذریعہ ہدایت بن زیادہ آسان سپدہ۔ سو گو اسمہ  
کور یہ نازل امہ کین آیتن اندر تھا واسہ ژہین تہ فصل۔ بٹھ تہہ لوکن پیٹھ پران آبرو وارہ وارہ۔ بٹھ تم  
وارہ بوزان آسن بہ آسکھ فخرہ تران۔ کیا زہ مسلسل زیوٹھ تقریر جھو بعضی ذہنو منزہ نیران۔  
سو یاد تھاون چھو مشکل گدھان۔ بہ کور اسمہ یہ قرآن مجید نازل کم کم وارہ وارہ ترہ بن (۲۳) ذرین  
اندر۔ یوہے کور اسمہ نازل واقعاتو موجب۔ بٹھ امہ کین معاین ہند وارہ انکشاف سپدہ۔ تم صفت  
آس منگان اتھ قرآن مجید گدھہ لوکن ہنز پڑھ کرن تہ ایمان ان۔ امہ موجب عمل کرن۔ ہر گاہ  
وون باوجود آل تم ایمان ان نہ پڑھ کرن نہ تہہ مہ حض سپدو آزرده تہ غمگین تمہ سیت قُلِ الْمُنٰوِبَةُ  
اَوْ لَا تُوْمِنُوْا تہہ فرما یو کہ صاف صاف تہہ ایمان انتویامتہ انتومہ جھونہ کا نہہ پروا۔ توہہ لو کو ہر گاہ  
ایمان اونو نہ بدل لو کہ ان ایمان اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوْا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ چنانچہ یمن لوکن امہ قرآن مجید  
کہ نازل سپدہ بروٹھ دینگ علم عطا کرنہ امت جھو یعنی اہل کتابن ہند منصف علماء اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ  
يَخْرُوْنَ لِلْاَذْقَانِ سُجَّدًا ۙ یلہ یہ قرآن مجید ترن بروٹھ کنہ پر نہ یوان جھو تمہ ساتہ چھہ تم تبت متاثر  
سپدان تم چھہ بٹھ کن وسٹھ پیٹھ سجده دووان ہو جھو کن وَيَقُوْلُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا ۙ بہ چھہ تم پران منزہ تہ  
پاک جھو سون پروردگار وعدہ خلائی نشہ اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا ۙ بیشک جھو سانس پروردگارہ ہند  
وعدہ ضرور پورہ آسان۔ نیس وعدہ تم کورمت اوس بروٹھمین کتابن اندر کہ بوکرہ فلان کتاب فلان  
پینمبرس پیٹھ نازل۔ سو وعدہ کور تم پورہ۔ قرآن مجید کرن نازل حضرت محمد عربیس پیٹھ۔ وَيَخْرُوْنَ  
لِلْاَذْقَانِ يَسْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا ۙ ہو گینو کن چھہ سجدس منز پیٹھ ودان۔ بہ جھو تم قرآن مجید

الْحُسْنَىٰ وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۝ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وِليٌّ مِنَ الدُّنْيَا ۝ وَكَبْرُهُ تَكْبِيرًا ۝

بوزنہ سبت زیادہ عاجزی سے خشوع پیدہ سپدان۔ اللہ تعالیٰ سند یونام پا کوند رہ اوس اللہ زیادہ معروف و مشہور۔ لفظ رحمان سبت آس کھر کہ کھیوان سے ڈران۔ چنانچہ یلہ تم بنی کریمہ سدہ زبان مبارکہ بوزان آس لفظ رحمان تم آس دپان کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا زہ چھو آسہ خدا ئس ورا ی بین مگنس منع کران۔ پانہ کیا زہ چھہ خدا ئس ورا ی منگان اتی سپدیہ آیہ کریمہ نازل قُلِ ادْعُوا اللّٰهَ اَوْ ادْعُوا الرَّحْمٰنَ اَيُّمَا مَا دَعَوْتُمْ اِلَيْهِ سُبْحٰنَہ فرماؤ کہ یار رسول اللہ ای لو کو تہرہ مگو اللہ تعالیٰ آس یا اللہ کتر تہہ سے یار حمن کتر تہہ تسمہ نام پاک ہتہہ تسمہ نام پاک ہتہہ سبت تس مگو سو گو تس مگن۔ کیا زہ تس چھہ رت رت نام پاک۔ تم دوشوے نام پاک چھہ اللہ سے رحمان سے تموی رت یونام پا کوند رہ۔ اتہ منز چھونہ شرک کہ نہہ تعلق۔ ناہ وول سئوی۔ ناہ تھس واریاہ۔ یلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازہ اندر بڈہ بڈہ قرآن آس پران۔ مٹرک آس قرآن مجید س جبریل امینس بیہ خدایہ سندس سے سانس نسبت گستاخی کران بیہ بیچہ لفظ استعمال کران۔ اللہ تعالیٰ ان فرموی وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تَخَافُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا بیہ مہ حض آس یار رسول اللہ نمازہ منز بڈہ بڈہ قرآن مجید پران۔ ئس بوزنہ سبت مٹر کن بیچہ تہہ وور ٹگ موقعہ آسہ یوان۔ تسمہ سبت نماز گڈازن دل مشوش سے پریشان آسہ سپدان۔ نہ مہ آسہ بالکل لوت لوت پران ئس نہ نماز گڈازن سے بوزن ٹگان آسہ۔ اختیار آسہ کران یکن دون حالتن منز در میانی صورت۔ یعنی نہ زیادہ بڈہ نہ زیادہ لوتہ۔ تسمہ سبت فاندہ سے آسہ واتان۔ مضر سے نشہ سے آسہ بجان وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وِليٌّ مِنَ الدُّنْيَا وَكَبْرُهُ تَكْبِيرًا بیہ آسہ علی الاعلان بیان کران کہ ساری تعریف اللہ تعالیٰ معبود برحقس یس نہ اولاد چھہ نہ نچو سے نہ کورہ۔ نہ چھو تس ملکس سے سلطنس اندر کاہنہ سے اکھاہ شریک سے نہ چھہ تس کمزوری سببہ کانہہ مدد گارہ سنز ضرورت۔ بیہ کتر و ہز بیان تسمہ تھر سے بجز۔ بوڈ زانیون سئوی یوت۔ حدیث شریفس منز چھو آمت کہ یلہ تہمیدس خاندانس یعنی بنی عبدالمطلبس اندر کانہہ لو کئس زیویوان آس، تہہ اوس ہیوان کر نہ تس آس بیچھناوان یوسے آیہ کریمہ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَرَوَاهُ ابْنُ السِّنِيِّ فِي عَمَلِ الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ۔

## سُورَةُ الْكَهْفِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ  
 لَهُ عِوَجًا ۝١ قِيمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا لِمَنْ لَدُنْهُ وَيُبَشِّرَ  
 الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا ۝٢  
 مَا كَثُرَ فِيهِ أَبَدًا ۝٣ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا ساری حمدتہ تعریف ہے۔  
 ثابثتہ سزوارتس معبود برحقس یم نازل کورپنہ نس خاص بندس حضرت محمدس پیٹھ یہ کتاب یعنی  
 اعلیٰ تہ اجمل قرآن مجید۔ یہ تھوون نہ اتھ کتابہ اندرکئہ قسمہ ہجرہ۔ ہج کتھہ اتھ منزہجہ۔ عبارت  
 نہایت فصیح وبلغ طرزبان نہایت مؤثر۔ تعلیم نہایت اعلیٰ متوسطہ معتدل۔ یوسہ پریتھ زمانس اندر  
 پریتھ کانسہ ہندس طبیعتس موافق و مطابق ہے۔ افراط و تفریط نشہ پاک و صاف قِيمًا یوسہ کتاب  
 بالکل سیزتہ مکمل ہے۔ یتھ منز بندن ہنزہ سارے مصلحو بیان کرنہ آمرہ ہے۔ گمہ گمہ چیزہ سیت  
 سپدہ تھند معاش و معاد درست لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا لِمَنْ لَدُنْهُ یتھ سبوتاب عموما کافرن کھوڑہ ناوہ  
 تمہ سخت عذابہ نشہ یوسہ اللہ تعالیٰ سدہ طرفہ آخرتس منز کافرن واہ وون چھو وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ  
 الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا \* مَا كَثُرَ فِيهِ أَبَدًا یہ یتھ یہ قرآن مجید خوشخبری  
 تہ بشارت دیہ تمن بایمان تم رثہ عملہ آس کران۔ یتھ خوشخبری کہ تھندہ خیطرہ چھہ رثمزور یعنی  
 جنت تہ جتھ شعمو۔ تمنی جنن اندر چھو روزن تمن ہمیشہ۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا  
 یہ کرہ یہ قرآن مجید یم تہ کھوڑہ ناوہ تمن لوکن تم دنان چھہ تہ تم لاگان چھہ اللہ تعالیٰ آس اولاد۔ یہ  
 مضمون آوالگ ونبہ بیہ امی موکھ۔ عرس اندر آس ساری مشرک تہ یہود تہ نصاریٰ تہ اتھ بلا یہ منز بتلا۔  
 مشرک آس ملائکن خدلیہ سزہ کورہ دنان۔ یہود آس دنان حضرت عزیر چھو خدلیہ سند پٹو۔ نصاریٰ



وَلَدَا ۝۶ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً  
تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا ۝ فَلَعَلَّكَ  
بِأَخِي نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ  
أَسْفًا ۝۷ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَىٰ الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ  
أَحْسَنُ عَمَلًا ۝۸ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا ۝۹

آس و نان حضرت عیسیٰ چھو خدایہ سُندُچُو۔ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ اتھ پیٹھ آس نہ  
تمن نش کا نہہ دلیلاہ نہ تہندین مالین بڈ مین نشہ کڈت کلمہ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ سیٹھہ بڈ کتھاہ  
چھہ یہ یوسہ نیران آس تہند یو چانیو منزہ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا تم لوک چھہہ ونان یہ تھہ مگر  
بالکل اپز تہ بہتان۔ فَلَعَلَّكَ بِأَخِي نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسْفًا تہہ  
چھوہ تہندس ایمان نہ انہ نس پیٹھ یوت غم کیوان۔ شاید تہہ ماوانتہ ناوہ پنہ نس ذات مبارکس تکلیف  
تمن پتھ۔ تم کونہ چھہ پتھ کلام پاکس قرآن مجیدس پڑھ کران۔ یہہ چھوہ تہہ تہندس کُفرس پیٹھ اصرار  
کرنہ کہ سببہ یوت نمکنین کہ معلوم چھو سپدان تہہ ماکر و مارہ پن ذات مبارک تمہی پتھ افسوسہ کن۔  
ہر گاہ نئے تم قرآن مجیدس پڑھ کرن مئے کُرتن۔ تہہ مہ حض کھو یوت غم تہند۔ یہہ دنیا چھو عالم ابتلاء و  
آزمایش۔ پتھ منز چھہ اڈ لوک کافر اڈ مسلمان إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَىٰ الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ  
أَحْسَنُ عَمَلًا بیشک آسہ کورتہ سُوروی یہہ پتھ زینس پیٹھ چھو امہ زینت زینت تہ رونق۔ پتھ آس  
لوکن آزمایش کرو کہ تہہ اکھاہ چھو تمو منزہ رث عمل کرہ ون۔ تہہ اکھاہ چھو امہ زینتہ کس رونق و زینتس  
کُن ماکل سپدت عملہ نشہ غافل سپدہ ون۔ آخرت مشراوہ ون۔ اتھہ دنیا س پاکدار یاہ کینہہ چھہہ۔ یہہ  
چھو فانی سپدہ ون غرض یہہ چھو عالم ابتلاء پتھ منز چھو کا نہہ کافر کا نہہ بالیمان۔ اتھہ پیٹھ غم کیوان  
چھو بے کار۔ تہہ کُرو پن کوم۔ تہہ مہ سبُو اتھہ کتھہ کہ کافر ن کیاہ بنہ۔ سبُو چھہ سان کام۔ چنانچہ اکھ  
دوہانہہ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا اس چھہ تمن سارنی چیز ن تم اتھہ زینس پیٹھ چھہ

# أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ الْإِتْنَاءِ عَجَبًا ۙ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةَ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا

فناکرہوں۔ اٹھ سارسی زمیںس گئی صاف میدان بناوہوں۔ سمہ دہنہ ساری فناپدت دوبارہ بیہ زندہ  
 کرنہ یکن۔ تو پتہ ایہ پریتھ اگس جزاوسزاونہ۔ تم گتھ وودمت آسہ سوئتھ لونہ۔ قریشوا ندرہ کینزہ وکافر و  
 پڈرٹھ بہودن ہندہ پتھناونہ سیت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کہف ہند قصہ۔ تیتھ  
 متعلق چھو اللہ تعالیٰ امہ پتہ فرماوان **أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ  
 الْإِتْنَاءِ عَجَبًا** کیاہ توہہ چھوہ خیال کہ گوچھہ وال یکن ہندناو آسہ ترامہ پس پیٹھ لیکنہ اُمّت (تھی کن آس  
 تھی ونان اصحاب رقیم تہ۔ رقیم بمعنا مر قوم) ٹھند قصہ کیاہ چھو سانیو قدرتہ کیونشاؤ اندرہ زیادہ  
 عجایب۔ تیتھ پاٹھ بہودونان چھہ۔ حالانکہ سانہ قدر تک باقی نشانہ تم چھاکینبہ کم تہ معمولی۔ تااینکہ تیتھ  
 معمولی قص متعلق چھہ تم دریافت کران۔ آسمان وزمین۔ آفتاب تہ زون۔ دُک تہ راتک یکن تہ  
 گروٹن۔ سمونشاو سیت گروٹھ تہنز عبرت رٹن۔ حضرت رب العالمین خالق موجوداتہ سہ حقوق یعنی  
 توحید و طاعت گروٹھ بجائن۔ تسدین پیغمبرن گروٹھ پڑھہ کران۔ خصوصاً پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد  
 صلی اللہ علیہ وسلم تین گروٹھ پڑھہ کرن۔ بہر حال بوزواصحاب کہف ہند قصہ۔ شہر رومس اندراوس اکھ  
 بادشاہت پرست۔ سواوس زورہ زبردستی لوکن بت پرست بناوان۔ امس پاد شہس اوس ناود قیانوس۔  
 تیتھ پاٹھ بعضی لوکھ ونان چھہ۔ اچھہ و قس اندر پوکینزہ نوجوانن ہندین دلن اندر تم حکومتہ کین لوکن  
 سیت تعلق تھاوان آس یہ خیال پیدہ کہ آس کیا زہ کرون اگس مخلوقہ سہہ خلیق کائنات ناراض۔  
 ٹھند دل اوس خدایہ سہہ خوف و خشتیہ سیت، تقوایہ یقینہ سیت ہر۔ بیہ اوس دُیتمت اللہ تعالیٰ ان تمن  
 صبر و استقلالک توکل۔ تبتلک توفیق۔ بیہ کمر اللہ تعالیٰ ان تھند دل مضبوط۔ تمو دوپ علی الاعلان  
 سون رُب چھو آسمانن زمین ہند پروردگار۔ تس وراوی انونہ آس ایمان بیہ کانسہ معبودس۔ پاد شہس آو  
 تہنزہ نوجوانی پیٹھہ رحم۔ یاسد تہ پن کینہہ مشاغل یا مصلحتہ مانع تم کرن نہ شہید۔ تمن دژن غور کرنہ  
 خیطرہ مہلت۔ تمو کورپانہ وان مشورہ۔ ٹوپتہ سپد متفق امہ شہرہ آندرہ نیرنس پیٹھہ۔ کتھ محفوظ جالیہ منز  
 کھت روزنس پیٹھہ۔ تی چھو فرماوان اللہ تعالیٰ **إِذْ أَوَى الْفِتْيَةَ إِلَى الْكَهْفِ** سو وقت تہ چھو قابل  
 ذکر یہ نوجوانن ہنز جماعت آہ۔ اگس بیدین ظالم پاد شہس نعتہ ثرت اگس گوچھہ گن پناہنہ خیطرہ۔ اللہ

اِتَّامِنُ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۝۱۰  
 فَضَرْبَنَا عَلَىٰ اِذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ۝۱۱  
 ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِئْتُوا أَمَدًا ۝۱۲  
 نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ  
 وَزِدْنَاهُمْ هُدًى ۝۱۳ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا  
 رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ الْهَالِقِينَ

تعالیٰ اس موصیٰحہ دعا فقَالَ الْوَارِثَاتُ اِتَّامِنُ لَدُنْكَ رَحْمَةً ای سامنے پروردگارہ اسے کر عطا پنے  
 طرفہ رحمتک سامان وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا بے کر سامنے خیرہ تیار سمہ سیت اس سے کلمہ  
 اندر روز و کامیاب۔ یعنی اس گروہ ہونہ مٹر کن تہ بے دین ہندس زالس اندر پھنس۔ اس گروہ ہونہ ہندہ شرہ  
 نغمہ محفوظ روزن فَضَرْبَنَا عَلَىٰ اِذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا کس ثبیر ہن ثبیر ہن و ثراسہ  
 تہندین کن پیٹھ ہندریا ونہ خیرہ یعنی ہندریا وکھ اتھ گو پھہ اندر وار سہن ورسن۔ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ  
 أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ لِمَا لَبِئْتُوا أَمَدًا تو پتہ واریاہ کال گروہت تل اسہ تم۔ ہند رہ نغمہ کمر بیدار۔ نغمہ  
 ظاہرہ پاب معلوم کمر و کہ تمہ منزہ کوسہ جماعت چھ تہندس گو پھہ منز روز کس مدتس زیادہ یاد تھا و ون  
 ۔ کیا زہ تمہ آندرہ اس اکھ جماعت دپان اس رودیتھ گو پھہ منز اکھ یا اودودہ۔ بیا کھ جماعت اس  
 دپان تہندس خدایسی چھو معلوم تو بہہ کوتاہ کال گووہ نغمہ گو پھہ منز روزان نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ  
 نَبَأَهُم بِالْحَقِّ اس کر وہہ بیان تو بہہ تہند قصہ ہنز پائھ اِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدًى تم  
 اس نوجوان ہنز اکھ جماعتھا۔ تمہو ایمان اوس اونمت پڑھ آسکھ کمر مٹر پنے نس پروردگار س۔ بے اس  
 اسہ تم ہدایتس منز زیادتی کمر مٹر وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ بے اس اسہ تہند دل صبرہ سیت ثابت  
 قدمی سیت مضبوط کمر مت اِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ یلہ تم ووتھ۔ تو پتہ  
 دو پھہ علی الاعلان رب سون چھو سوی بس آسمان تہ زمین ہند رب چھو لَنْ نَدْعُو مِنْ دُونِهِ الْهَالِقِينَ

قُلْنَا إِذْ أَشْطَطَا ۝۱۴ هُوَ لَكُمْ قَوْمًا تَتَّخِذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْ  
لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ بَيْنَ يَدَيْهِمْ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى  
عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝۱۵ وَإِذْ أَعْرَضْتُمْ عَنْهُمْ وَمَا يعبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ  
فَأَوَّالَى الْكُهْفِ يُشْرِكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُمْ  
مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا ۝۱۶ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزُورُ عَن

قُلْنَا إِذْ أَشْطَطَا یہ ہنہ نہ ہر گز اس کیا کروئس وراى بیه کانسہ معبودہ سز پرستش تہ عبادت۔  
اگر اس تڑھ ہش کوم گروتھ صورتس منزگرواؤس سنو ح رکھاہ یوسہ پڑہ نش دور چھ ہوا لکم قومنا  
اَتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً یہ ئیس سون قوم ہتھو تمو چھ معبود برحق تراوتھ بدل معبود مقرر  
کمرمت۔ یہ قوم تہ تھند پادشاہ آس بت پرست لَوْ لَا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ سُلْطَنٌ بَيْنَ يَدَيْهِمْ سم کونہ چھ اتھ  
بت پرستی پیٹھ پیش کران کانہہ دلایا۔ تھ پاتھ موحد چھ خدایہ سدس وحدانتیس تہ لاشریک آس  
پیٹھ دلیل پیش کران فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ودن یلیہ توحید ثابت روشن دلیلو  
سیت چھو ئیس تھہ اکھاہ چھو یزہ ظالم تس شخصہ سندہ خو تہ ئیس اپز نو رواہ کئس خدایس پیٹھ شریک  
ٹھہر اونہ سیت۔ توپتہ لگ پانہ وان ونہ وَإِذْ أَعْرَضْتُمْ عَنْهُمْ وَمَا يعبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ یلیہ تھہ تمن لوکن  
نشدہ الگ چھوہ اعتقادہ کن۔ بیه چھوہ تھندین معبودان باطن نشہ تہ الگ ئیس پڑہ آسہ روزن جایہ اندرتہ  
تمن نشہ الگ تہ دور بیه تھندین معبودان باطن نشہ فَأَوَّالَى الْكُهْفِ پس ایو فلان گو چھہ منز  
روزو کھشت لوکن نشہ۔ محفوظ روزت گرو فراغتہ سان معبود برحقہ سز عبادت يُشْرِكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ  
رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرْفَقًا سو پروردگار کرہ نازل توہہ پیٹھ پن ہڈر حمت۔ بیه کرہ تیار  
تھندہ خیطرہ تھزہ کامہ ہنزہ کامیالی خیطرہ لود سامان۔ سمہ خیطرہ سمو دعا کورمت اوس۔ امر پتہ چھو  
اللہ تعالیٰ فرماوان تمہہ گو چھہ ہنزہ جایہ متعلق سو گو چھہ تھہ موقعس پیٹھ چھہ محفوظ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا  
طَلَعَتْ تَزُورُ عَن كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ بیه وچھہ تھہ ای مخاطب آفتاب یلیہ کھسان چھو تا پیٹھ

كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا عَرَبَتْ تَقَرُّضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ  
 وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ  
 الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا ۱۷  
 تَحْسِبُهُمْ آيِقًا طَائِفًا لَهُمْ رُجُودٌ ۱۸ وَنُقِلَبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَ  
 ذَاتَ الشِّمَالِ ۱۹ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعَتْ  
 عَلَيْهِمْ لَوَلَّيَتْ مِنْهُمْ فِرَارًا ۲۰ وَكَلْبُهَا ۲۱ مِنْهُمْ رُعْبًا ۲۲

چھو بیوان تہزہ گوچہ نشہ دلہہ دچھنہ طرفہ وَاِذَا عَرَبَتْ تَقَرُّضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ یہ یہاں آفتاب  
 لوسان چھو تہمہ ساتہ تہ چھو تراوان تہن کھو فرس طرفس کن تہمہ ساتہ تہ چھو نہ گوچہ ہندس گلہس پیٹہ  
 تاچہ بیوان تہن نہ تہن تا پک تکلیف ولتہ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ تہ اصحاب کہف چھہ گوچہ ہنزہ  
 اہس کشادہ جالیہ اندر۔ تہن تہن پورہ ہوا چھو واتان ذَاکَ مِنْ آيَاتِ اللّٰہِ یہ چھو خدیہ سند یوقدرتہ  
 کیونشا نو اندرہ بوڈ نشانہ کہ یمن اصحاب کہف ہندہ تعدادہ کن کم آسکہ نہ مخالفن ہندہ زیادہ آسکہ باوجود  
 لوب تہم ہدایت راہ راستہس کن۔ اللہ تعالیٰ تہہ پاٹھ چھو پنہ نین برگزیدہ ہندن ظاہری اسبابن خلاف  
 ہمت واستقلال عطا کران۔ یس معلوم چھو یہ مَنْ يَهْدِ اللّٰہُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ یس سو و تہہ ہاوہ سو چھو لبان  
 و تہہ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا یہ یس سو گراہ کردہ و تہہ راورہ تسدہ خیطہ لبہ ہن  
 نہ ژہ کانہ مددگارہ یس تس و تہہ ہاوہ ہا وَتَحْسِبُهُمْ آيِقًا طَائِفًا لَهُمْ رُجُودٌ ای مخاطب ہر گاہ تہن پیٹہ  
 نظر پیٹی ژہ کہ کہ خیال کہ تہم چھہ ہشیار۔ کیا زہ تہزہ اچھہ چھہ موراو تہہ درحالیچہ تہم چھہ شوچھہ۔  
 وَنُقِلَبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَ ذَاتَ الشِّمَالِ یہ چھہ اس تہن کرہ پھرن دوان دچھنہ طرفہ یہ کھوفرہ  
 طرفہ۔ تہنہ تہن بدنس پیٹہ زینگ اثر سپدہ۔ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ یہ چھو تہند  
 ہون یس تہن پتہ پتہ تہن سیت درامت اوس بڑہ زہ پنہ موراو تہہ گوچہ ہندس گلہس پیٹہ۔ یہ کور  
 اللہ تعالیٰ ان تہندہ حفاظتک اہ سبب۔ لَوِ اطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيَتْ مِنْهُمْ فِرَارًا ۲۰ وَكَلْبُهَا ۲۱ مِنْهُمْ رُعْبًا

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ط قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ  
 كَمْ لَبِئْتُمْ ط قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ  
 أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ط فابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ  
 إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ  
 مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ①۹  
 إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ

ای مخاطب ہر گاہ ثرہ نظر دکھ تم ن کن ہوت پھیرک ثرہ واپس ژلان ژلان۔ بیہ کیہ چون دل برنہ تم  
 و جہت خوفہ سیت۔ وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ تھہ پاٹھہ آسہ تم ن نندراپا، زیٹھ نندر۔  
 پنہ قدرتہ سیت تھہ پاٹھہ کمر آسہ تم بیدار۔ و زہ نا و آسہ تم زچھہ نندرہ نثہہ تھہ تم پانہ وان اکھ اکس  
 ہر ژھن گو پھہ منز کیتس کالس رود تم قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ چناچہ تموا ندرہ اک شخصن وون  
 باقین کہ آسہ کوت کال گو تھہ گو پھہ اندر روزان۔ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ تمودوپ اکس  
 دوہس یا ڈس دوہس آسورودمت۔ تو پتہ پچھہ نظر پنہ نین نم ن تزلن کن تم و چھہ سٹھاہ ز تھہمت۔  
 حیران گئے قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ دہنہ لگ تھندس خدا کیسی چھو معلوم صحیح تھہ کیتس کالس  
 چھوہ تھہ گو پھہ منز رودمت۔ یہ اختلاف تراو۔ وون کمر و کھینہ چیک کا نہہ انتظام فابْعَثُوا أَحَدَكُمْ  
 بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا کس سوزیون اکھ شخصہ تھہ شہرس  
 کن یہ روپے تھہ۔ سو و چھن کس شخص نثہہ آسہ پاک و پاکیزہ رت حلال غذا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَ  
 لْيَتَلَطَّفْ سو شخص کن شہرہ منزہ کینہہ کھینہ چیزہ یہ ساری کوم کمرن سورتہ تدیرہ سان ولا  
 يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا بیہ تھنہ سو شخص کا نہہ کس تھند نیب دیہ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ  
 يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلْكَتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا بیشک سمہ شہرک لوکھ تم چھہ  
 ہر گاہ تم تھند پتہ لگھہ تم مارن توہہ کنو سیت۔ نہ پھہرہ نوہ توہہ جبر اپنے نس دیس کن۔ تھہ صور تس

فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا ۝۱۸ وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا  
عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا  
رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا

منزہ بیكونہ تمہہ زانہہ کامیاب سپد تھہ وکذالک اعترنا علیہم نتیجہ پانچ کمر آسہ پندرہ قدرت وحمیت  
سیت مطلع تہندس حاسل پیٹھ تمہہ زمانیک لوکھ۔ کیا زہ تمونزہ یلہ سواکھ شخص امہ شہرہ کس بازرس  
منزوت کھینہ چیز منول پندرہ خیلرہ۔ وانہ والس دکاندازس دیت تم طعامک قیمت۔ سو آس دقیاوسی  
روپے۔ دقیاوس پادشہہ سندہ وقتہ پیٹھ اوس واریاہ کال گو مت۔ واریاہ پادشاہ آس اتھہ و قس تان  
بدلیمت۔ سو دکاندار گو حیران پرلہ وقتہ روپے وچہت۔ تم ہڈ ژھس ژبہ کتہ پتہ انہویہ روپے۔ ژبہ  
آسی گھر س منز خزانہ درامت۔ سو گو حیران یہ کیاہ چھومہ ونان۔ تم دونہس مہ ہتھ اوترہ مال سندہ گرہ  
پانس سیت خرچہ خیلرہ ٹمومہ۔ یہ روپے۔ ژہ کیاہ چھٹھ مہ ونان۔ بہند یہ گفتگو یوز بیولو کو۔ یکدم کھیہ  
ساری بازرس ایچ خبر۔ واتان واتان واثیرہ خبر پولیس تھانس تان۔ تمو کوریہ شخص گرفتار۔ ہڈ ژہ  
ہس مالس کیاہ چھوی ناو۔ تمس زانہانہ امہ وقتہ کیولو کو اندرہ کانہہ تہ۔ توپتہ یلہ تموسو سخت تنگ کور۔  
تم دوپٹھ مہ نیو دقیاوس پادشہس ہتھہ تمس چھہ میانہ حاج خبر۔ تمس آس تقریباً ترہ ہتھہ وری گامت  
موتس۔ لو کو تہس ٹھٹھ کرن۔ واتان واتان ووت یہ قصہ امہ وقتہ کس پادشہس ہتھہ۔ تس ہتھہ تہ وون ام  
شخص یوہے قصہ۔ پادشہن کمر جمع پن ساری اہل کار تہ تمہہ شہر ک رئیس لوکھ تم ساری ہتھہ آوسو اتھہ  
گو پتھہ ہتھہ۔ بیتہ اسند باقی رفیق آس۔ پادشہن کدہ ناوسو ترامہ پت شای خزانہ منزہ ہتھہ پیٹھ تم سارنی  
ہند ناو آس مع ولدیت کھنہ آمت۔ سو ترامہ پت ان پانس سیت لیلعلمو ان وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ نتیجہ  
لوکھ زان کہ ہڈ پاٹ خدلیہ سند وعدہ چھو حق تہ پوز۔ ہس تم مرنہ پتہ بہ زندہ سپد نس متعلق کورمت  
چھو وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا۔ یہ نتیجہ لوکھ زان کہ قیامتہ کس پتس منز چھونہ کانہہ شہکا اڈ  
یَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ یہ نتیجہ تہ ہتھہ قابل ذکر یلہ تمہہ وٹک لوکھ تہندس معاملس منز آس پانہ  
وان قضیہ تہ تنازعہ کران۔ بعضی آس ونان امہ گو پتھ ہند گول گز و بند نتیجہ بدن تمن اصحاب کہفن ہند  
محفوظ روزن۔ تہندس یادگار س منز بناو اتھہ گو پتھہ سیت اکھ مسجدہ ہتھہ منز لوکھ خدلیہ سز عبادت





الْأَمْرَاءَ ظَاهِرًا مَّا وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۚ  
 وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا ۚ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ  
 اللَّهُ ۚ وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَلَيَّ أَنْ يَهْدِيَنِي  
 رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا ارشَدًا ۚ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ  
 ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسْعًا ۚ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا

مہ چھو معلوم تم کہو نفر آس۔ تم آس سٹھ نفر۔ او ٹھم او سٹھ ہوں کیا زہ اتھ قوس فرمودنہ اللہ تعالیٰ ان  
 رجبا با غیب فلا تشار فیہم الامراء ظاہرًا پس مہ ہز کمر و بحث سخن اصحاب کہفن متعلق مگر  
 سرسری پاٹھ۔ زیادہ مہ سبکو اتھ اندر وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا بیہ مہ حض پر ژھو یمن  
 اصحاب کہفن ہند کانسہ آگس لو کو آندرہ۔ یہ ہندہ تعدادک تحقیق کر نس اندر تہ چھونہ کاہنہ فائیدہ۔ نہ  
 کاہنہ اہم مطلبہ۔ ایشہن اتھ متعلق خداین بیان فرمود تیرہ ہن چھہ کافی۔ مٹر کو ہر ژھ حضرت نبی  
 کر سمس صلی اللہ علیہ وسلم بہودن مہدہ تحریر سیٹ اصحاب کہفن ہند قصہ۔ تمو فر موو، بچہ پگاہ ونودہ  
 امیک جواب انشاء اللہ فر موو کہ نہ اتھ سیٹ کینہہ تہ۔ خیال کو رکھ کہ جبریل امین ایہ تس پر ژھو تمہ  
 پتہ ونو یمن لو کن جواب جبریل امین اوس نہ یوان پانے پنہ خواہشہ۔ سو اوس یوان خدایہ سندی حکمہ۔  
 امہ پتہ آونہ جبریل امین پنہ ہن دو ہن تان کینہہ۔ نبی کریم سپد سیٹھہ نمگین تہ پریشان۔ پنہ مہ ڈہہ  
 او جبریل امین یہ آسہ کریمہ ہتھ۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَايٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَٰلِكَ غَدًا \* إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ بیہ مہ  
 حض آبو کٹہ چیزہ خیطرہ ونان بہ گرہ یہ کو م پگاہ۔ مگر آسو تھہ سیٹ ونان ان شاء اللہ۔ یو ژھے خداین  
 وَادْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ بیہ یلہ توہہ اتفاقا ان شاء اللہ ہرن مشرت آسہ گڑھان تو پتہ آسہ کٹہ ساتہ ٹہہ  
 یاد یوان کی ساتہ گڑھہ تہند ان شاء اللہ ہرن وَقُلْ عَلَيَّ أَنْ يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا ارشَدًا  
 بیہ ونو کہ مہ چھہ امید کہہ میون پروردگار ہا و مہ تھہ اصحاب کہفن ہندہ قصہ خوتہ کٹہ نزدیک امرس کن  
 بس نبوتچ دلیل بنہ خیطرہ زیادہ مفید آسہ ویٹن اوس بیا کہ مسئلہ کہہ ہم اصحاب کہف کتیس کالس رو و اتھ

لِئْتَوَاهُ لَعْنَةُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ مَا  
 لَهُمْ مِمَّنْ دُونِهِ مِنَ الَّذِينَ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ﴿۳۶﴾  
 وَأَنْتَ مَا أَوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ رَبِّكَ لِامْبِدَالِ الْكَلِمَاتِ ۚ

غاس اندر۔ تجھ متعلق چھو اللہ تعالیٰ فرماوان وَلِئْتَوَاهُ كَهْفُهُمْ تِلْكَ مِائَةٌ سِنِينَ وَأَزْدًا مُّتَسَعًّا  
 بیہ تجھ پانچ اصحاب کہن ہندس تعدادس بیٹھ لوکن اختلاف اوس تھے پانچ اوس لوکن اختلاف تہزہ  
 گوچھ اندر نندرہ ہندس مدتس اندر اُس چھہ بیان کران امر واقعی سُو گواہی کہ رُو د اصحاب کہف اتھ  
 گوچھ اندر شو بخت ترین تہن وَرَبَّنَّ۔ بیہ ہرہ راوہس نووری سُو گوترن ورہن تہ نون وَرَبَّنَّ قُلِ اللَّهُ  
 أَعْلَمُ بِمَا لِيَتَوَاتَرُ فَرَمَاوُكْہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ چھہ زیادہ اچ خبر اللہ تعالیٰ  
 اس گروہنا پور خبر آسن لَعْنَةُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کیا زہ تہس چھو آسمان وزمین ہندین سارنی  
 پوشیدہ حالاتن ہند علم أَبْصِرْ بِهِ وَأَسْمِعْ کوتاہ زیادہ وچھون چھو سُو۔ کوتاہ زیادہ بوزہون چھو سُو۔  
 سبحان اللہ۔ کانہہ کتھاہ چھاتس نَشْءِ کھکت تہ پوشیدہ۔ ہر گاہ کانہہ شخصاہ تسدس علم محیطس سیت معارضہ  
 گرہ سُو چھو مستحق سزا وعداب۔ سزاونکہ وقتہ بیہ نہ کانہہ اکھاہ تمن کئہ قسمہ مدد کتر تھ مَا لَهُمْ مِنْ  
 دُونِهِ مِنَ الَّذِينَ کانہہ اکھاہ چھونہ تمولو کو منزہ آسمان وزینہ کیو مخلو تو منزہ تہس اکئس معبود برحقس  
 ورائی اختیارہ وول نہ کانہہ مالک۔ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا بیہ چھونہ سُو معبود برحق سیت رٹان،  
 شریک تھوان کانہہ اُس نہ عالم علویو مخلو تو آندرہ نہ عالم سفلی کیو مخلو تو آندرہ۔ یعنی نہ کانہہ ملک  
 مقرر بس۔ نہ کانہہ نبی مُرسلس پنہ بس کُھمس اندر شریک رٹان۔ لہذا تھس جلیل القدر عالیشان  
 پادشہس گوژھ سخت کھوٹن۔ تہہہ مخالفتہ تہ نافرمانی نغہ گوژھہ سیٹھاہ پتھ روزن وَأَنْتَ مَا أَوْحَىٰ  
 إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ رَبِّكَ تہنز کوم چھہ صرف پیہ کہ تہہ پتر یونہ بس پروردگارہ سنز سُو کتاب  
 یوسہ نازل آہی کرنہ توہہ سُن بطریق وحی۔ فخرمہ آسو کران بڈین بڈین لوکن ہندس مخالفت کرنس  
 سُن۔ تہزہ مخالفتہ سیت ماسپدہ دینچہ ترقی کر سُن اندر کانہہ رُکاوٹ۔ دینچہ ترقی تہند چھو آسہ توہہ سیت  
 وعدہ کورمت۔ لہذا روزوتہہ مُطْمَئِنِّ لِمُبَدَّلِ الْكَلِمَاتِ کانہہ اکھاہ چھونہ اولہ بدل کرہون تہندین کھمن  
 وعدن۔ وون ہر گاہ تہہ کافر ن ہنز دل جوئی کتر وسمہ سیت احکام الہی متروک سپدنگ امکان سپدہ تلہ

وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۚ ﴿۲۷﴾ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ  
يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ  
وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ  
وَكَانَ أَمْرَهُ فُرُطًا ۚ ﴿۲۸﴾ وَقِيلَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ  
فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ

چھو تہمدہ خیرہ معاملہ سیٹھاہ مشکل۔ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا تھہ صورتس اندر لبونہ نہہ کا نہہ چھین جایاہ پناچ جایاہ تس وراہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہند کافرنا ہنزہ لجوی احکام الہین مقابلہ کرن چھو شرعی دلیلو سیت محال۔ یہ آویان کرنہ صرف اسمہ موکھ امیک اثر چھو امی قسمگ وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ تھہ پاٹ حکم آو کرنہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ کافرنا سیت مہ تھاوو تعلق تھہ پاٹ آکھ حکم کرنہ مسلمان فقیرنا گن زیادہ التفات و توجہ کرنگ۔ یہہ تھاوو ہنزورہ ہن ذات مبارک تمنی لوکن سیت یم صبح و شام یعنی ہمیشہ پنہ نس پروردگارہ سنز عبادت چھہ کران۔ یم ژھانڈان تھندوی رضا چھہ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا تھہ چھوہ دنیاجہ زندگی ہند زینت ژھانڈان۔ توہہ پزہ نہ نہ کرن وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرَهُ فُرُطًا تھہ مہ حض ماہو تمن لوکن ہنزہ تھہ۔ فقیر با ایمان الگ کرنس متعلق۔ یمن ہند دل اسمہ بطور سزا چھہ غافل کمر مت پتہ ذکرہ ہنہ پتہ یادہ نشہ اسمہ سبہ تمبودین حق قبول کورنہ۔ یہہ تم پنہ نین نفسہ چن خواہش ہنزہ پیروی کران چھہ۔ یہہ تمن ہند حال اتباع ہوا کرنس اندر حدہ خونہ زیادہ سپدمت چھو۔ یعنی نفسہ چہ خواہشہ ہنزہ پیروی کرنس اندر چھہ تم حدہ دولت۔ تھہزنی تھن شو بیاکن تھاون۔ بلکہ شو بن تم پانس نشہ دفع کرن وَقِيلَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ یہہ فرماو کہ تھہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن کافرنا صاف پاٹھہ یہہ دین حق چھو تھہندس

وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا  
 أَحَاطَ بِهَمُّ سُرَادِقِهَا وَإِنْ يَسْتَعِيبُوا يَغَاثُوا بِمَاءٍ  
 كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿١٩﴾  
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ  
 أَحْسَنَ عَمَلًا ﴿٢٠﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ

پروردگار ه سبده طرفه نيس مه توبه نش واته نوو۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ دُونَ  
 نيس الكاه يرهه سوكرن پره۔ سوَأَنْ ايمان۔ نيس الكاه يرهه سو زوزن كُفْر سى بيٹھ۔ اُسہ چھونہ تھ اندرنہ  
 كانه نفعنه كانه نقصان۔ بلکہ ايمان انه نك نفع چھو توبه پانس۔ ايمان نه انه نك، كُفْر سى بيٹھ روز نك  
 نقصان نه ضررتہ چھو توبه پانس۔ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهَمُّ سُرَادِقِهَا بِيشك اُسہ  
 چھو ظالمين يعنى بے ايمانن پره نه كره دنين هنده خيتره سونا جهنم تيار تھوومت يمه چه لبه نه ديوار آرن  
 تمن كافرين پريته طرفه احاطه كرت كانه وهما اُسہ نه تمن زله نس۔ وَإِنْ يَسْتَعِيبُوا يَغَاثُوا  
 بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بيه هر گاه تم تريشه دوسه موكه فريادوزارى كرن۔ تهنز فريادسى سپده  
 تمه آبه سبت نيس سياه هكلم هيو اُسہ۔ گرم آبه تيو ت نيس دورى زاله تهنه تھ۔ حديث شريفس منز چھو  
 آمت كه بهتھيگ سوزوى واله پيئھ هرت تمحه به سبت۔ بِئْسَ الشَّرَابُ كوتاهه بيچھ نه ناكاره آسه يه  
 چنده جيز (پناه بخدا) تهنه خيتره وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا بيه كا زا ه بيچھ جاي چھ جهنم تهنه روزنه خيتره (الهي  
 نجات) يه گو ايمان نه انه دنين هنده ضرر ك حال۔ اُسہ پته چھو الله تعالى فرماون با ايمان هنده نفع نه  
 فائدهك حال إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا پنز پاھه سمو  
 لو كو ايمان اون بيه كره رزه عمله۔ پنز پاھه اس كرونه تمن لوكن هنز مزور ضايح سم جان كوم نه ر ژ عمل  
 كرن أُولَئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ تمنى لوكن هنده خيتره هجهه هميشه  
 روزيك باغ سمو منزه كوله نه جويه آن پكان۔ يُحْكُونَ فِيهَا مِنْ آسَاورِمْ ذَهَبٍ تمنى جشن

تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ  
يَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَاسْتَبْرَقٍ مُتَّكِنِينَ  
فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا<sup>(۳۱)</sup> وَأُضْرِبُ  
لَهُمْ مَثَلًا لِرَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ  
وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا<sup>(۳۲)</sup> كَلَّمَا الْجَنَّتَيْنِ  
أَتَتْهُمَا أَكْلَاهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا<sup>(۳۳)</sup>  
وَكَانَ لَهُ شِجْرٌ فَقَالَ لِمَ صَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا

اندر آسہ تین لوکن زیور گنڈنہ یوان سونہ سندس کر ڈیلےسون ثیابا خضر اقرن سندس و استبرق بیہ  
لاگن تم پوشاک سبز جامن ہند۔ نس زاولہ پایک تہ و شہہ پایک آسہ نہ نہ کہرون مُتکین فیہا  
علی الارایک تین جتن اندر آس تکیہ و تھ پلنگ پیٹہ بہتہ۔ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا کیاہ  
رُت ثوابہ و جھویہ بیہ کیاہ ر ژمزوریہ جھہ بیہ۔ بیہ کاژاہ آرام و آسایشہ ہنز جای جھہ بیہ جنت و اُضْرِبُ  
لَهُمْ مَثَلًا لِرَجُلَيْنِ بیہ فرماویو کہ تمہہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاجہ بے ثباتی تہ بے اعتباری تہ  
آخر تجہ باقی پانداری پیٹہ مثال دون شخص ہنز جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ  
وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا آس شخص آس دتمت آسہ زہ باغ دچھہ کلین ہند۔ سمن لہ لہ آس خضر کل۔  
منزہ اوُس زراعت تہ و ونہ اُمت کَلَّمَا الْجَنَّتَيْنِ اِتَتْهُمَا أَكْلَاهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا دو شوے باغ  
آس دووان میوہ پٹن۔ ٹنہ کج کمنی آس نہ کران بین باغن ہند پاٹھ۔ وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا بیہ آسہ  
آسہ بین دو شونی باغن منز جاری گر مرثہ کولہ وَكَانَ لَهُ شِجْرٌ بیہ آس تس شخص بیہ آسہ و رای تہ  
میوہ جات آمدنی ہند ذراعت۔ بیہ آس اولاد خر گبر فَقَالَ لِمَ صَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ پس دون اُم  
شخص پنہ نس رفیس تھہ کران کران اَنَا أَكْرَمُنْكَ مَالًا وَاعْرُفْنَا بوجھوس چانہ خوتہ زیادہ مال و

أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا ﴿۳۲﴾ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ  
ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا ﴿۳۳﴾  
وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُجِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ  
خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا ﴿۳۴﴾ قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ

دولت رکن۔ یہ چھوس چاہے خود زیادہ عزت و ول اولاد نہ خریو گبر و کن نو کرو چا کرو کن۔ تہ چھوک پنے  
نس طریقس حق زانتھ خدائس نغمہ پسندیدہ آسک دعوی کران۔ میںس طریقس چھوک باطل زانتھ  
خدائس نشہ ناپسند زانان مگر نتیجہ چھواتھ برعکس سپدان۔ کیا زہ دشمنس چھونہ کانہہ تہ فائدہ تہ نفع واتا وان  
دوستس چھونہ کانہہ تہ نقصان واتہ ناوان۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ تو پتہ ژاویہ  
شخص پنے نس اتھ باغس اندر سوریق سیت بیتھ۔ درحالیجہ سو اوس بزم یعنی گھر پانس پیٹھ قانیم  
تھاوتھ یعنی خر کس منز اوس بُتلا۔ کبر و غرور ک اوس نشہ دماغس منز میں لو کن اوس حقیر زانان  
قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا دہنہ لوگ مہ چھونہ باسان یہ باغ کیا گڑھہ بُر باد زانہہ میانہ  
زندگانی اندر۔ امہ اندرہ اوس نس غرض توحیدس پیٹھ اعتراض کرن ائس رفیقس دو پنن ژے چھکھ  
خالق عالم سُنڈ قائل یہ چھکھ ونان کسہ سوزوی چھوتئس اتھ۔ مگر مہ چھونہ گمان کہ طبعی اسبابن کیا ہیجہ  
کانہہ مُعطل تہ بے کار کمر تھ۔ مہ چھونہ بوزنہ یوان بیتھ میںس باغس بیتھ کارخانس سمجہ آبادی ہند  
ساری سامانہ موجود چھہ کل تہ کلین ہند آب تہ موجود کوم کار کرن وال تہ ساری موجود خرچ  
اخراجات کرنہ خیطرہ مال و دولت موجود مالکہ حفاظتہ خیطرہ سامانہ موجود۔ وئے یہ بر باد گزھہ تہ بیتھ  
پاٹھ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً یہ چھونہ مہ خیال کہ قیامت کیا سپدہ قانیم۔ اگر بفرض محال قیامت  
آیہ تہ وَلَئِنْ رُجِدْتُ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا یہ ہر گاہ بو واتا نہ امہ پنے نس پروردگار س  
نغمہ بولہ بیتہ سمہ خود تہ بہتر جای۔ ام شخص کمر ژورد دعوی۔ اکھ ای زہ گھر چھونہ قابل مذمت۔ دو تُم  
کوژن انکار توحید۔ تر تُم کوژن انکار قیامت۔ ژور تُم کوژن پنن پان خدائس نشہ باعزت تہ محترم  
ثابت قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ سمہ تھ بوژ تھ وون امئس پنن رفیقئس دیندار غریب اوس وَهُوَ يُحَاوِرُهُ

اَکْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ  
سَوَّكَ رَجُلًا ﴿۳۸﴾ لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا ﴿۳۹﴾  
وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتِكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَأَقْوَمُ إِلَّا بِاللَّهِ  
إِنْ تَرَىٰ أَنَا قُلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا ﴿۴۰﴾ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن  
يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ  
فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا ﴿۴۱﴾ أَوْ يُصْبِحَ مَاءً وَّهَاءُ غُورًا فَلَنْ تَسْتَطِيعَ

اَکْفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا کیاہ ثبہ کور تھہ توحیدس تہ  
قیاس انکار کرنہ سیت انکار تس پروردگار س تم ثہ پیدہ کور کھ گوڈہ مزہ نشہ تو پتہ کور کھ ثہ پیدہ نطفس  
مئی ہمدس آس۔ تو پتہ کور تک ثہ تیار پورہ انسان۔ مرنہ پتہ بیہ زندہ سپدس انکار کرن گو خدیہ سندس  
قدر تس انکار کرن۔ تہمدس قدر تس انکار کرن گو وارہ تس انکار کرن۔ لَکِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ  
بِرَبِّي أَحَدًا لَکِنَّا سَمِیْک اصل چھو لکن انا یعنی بونس چھوس بو چھوس اعتقاد تھاوان اقرار کران ہمہ سوی  
چھو میون پروردگار۔ بو چھوس نہ پنہ نس پروردگار س کانہہ اکھاہ شریک زانان وَّلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ  
جَنَّتِكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَأَقْوَمُ إِلَّا بِاللَّهِ ثبہ کونہ پریوتھ پنہ نس باغس اندر اژنہ وزہ۔ بہا اللہ تعالیٰ  
یژھہ تی بنہ۔ کانسہ چھونہ کئی چیز س پیٹھ طاقت تہ قوت تہمدہ مددہ ورای۔ اللہ تعالیٰ ایتس کالس باغ  
روژن یژھہ تیتس کالس روزہ۔ اگر سو یژھہ سو سپدہ ویران تہ بر باد۔ تمندس یژھنس مقابلہ چھہ ساری  
اسباب بیکار۔ تہمدہ مددہ ورای ہیچہ نہ کانہہ سبہاہ کوم کمر تھہ اِن تَرَىٰ أَنَا قُلَّ مِنْكَ مَالًا وَّوَلَدًا ہر گاہہ  
مہہ وچھان چھٹھ مالہ کن اولادو کن کمی کانہہ غم چھونہ فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ مہہ  
چھو بوزنہ یوان کہہ سو وقت چھو نزدیک یلہ میون پروردگار مہہ عطا کرہ سو باغ کس بہتر آسہ چاہہ بانہہ  
خوتہ وَّيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا بیہ سوزہ چانس باغس پیٹھ غیبی آفتاہ۔  
آساکہ طرفہ سمہ سیت بیہ چون باغ سپدہ صاف میدانہ ہیو۔ سمہ پیٹھ کھور آسن نیرت ژلان او

لَهُ طَلَبًا ۴۱) وَأُحِيطَ بِشَرِّهِ ۴۲) فَاصْبِرْ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَىٰ مَا  
 أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ لِيَلَيْتَنِي  
 لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۴۳) وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ  
 مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۴۴) هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ  
 لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا ۴۵) وَأَضْرَبَ لَهُمْ  
 مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ

یُصِیْبُ مَاؤَهَا غُورًا فَلَئِنْ سَتَّطِعَ لَهُ طَلَبًا ۴۱) یہ گڑھہ تین باغن ہند آب زمیںس منز شرتھہ پس یہ کھکھ  
 نہ ژہ کھنہ صورتس اندر زمینہ کڈت سو آب وَأُحِيطَ بِشَرِّهِ ۴۲) چنانچہ امہ گفتگو پتے آیہ ولنہ امس شخصہ  
 سندین میوہ باغن آسمانی ناگمانی بلاے۔ آنا فانا منز گو یہ باغ تباہ و برباد فَاصْبِرْ يُقَلِّبُ كَفَيْهِ عَلَىٰ مَا  
 أَنْفَقَ فِيهَا سُونافرمان مغرور شخص لوگ افسوس کران کران گل پین موربہ۔ تھہ ماس نہ لاکس  
 پیٹھ ورنہ یوسہ اتھ باغس پیٹھ خرچ کتر مرآسن۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا مگر اتھ باغس اوس  
 امہ ساتہ وجہ و او اُمت۔ سُواوس ڈو کھیوسان پھر پیومت۔ دجھہ باغن چھہ ڈکھہ آسان وَيَقُولُ لِيَلَيْتَنِي  
 لَمْ أَشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا ۴۳) یہ لوگ سُو شخص ورنہ ای کاش مہ نے آسہا پنہ نس پروردگارس کاہنہ نہ  
 شریک ٹھہر وومت۔ تمہس تور فکربہ یہ بلای آیہ کو ٹھس کھرہ سبہ۔ یہ ندامت آس تس نقصان گڑھنہ  
 مٹو کہ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا ۴۴) یہ آس نہ تمہس کاہنہ جماعتہاہ  
 سم تمہس مدد کرہ ہن خدا نس وراے۔ نہ ہیوک تم پانہ اسہ نعرہ امیک بدلہ ہتھہ هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ  
 الْحَقِّ ۴۵) ہتھہ کیاسد ثابت کہ سو روی اختیار چھو ہزس خدا نس اتھہ۔ ہتھس موقفس پیٹھ مدد کرن تہ چھہ  
 تہزی کوم هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا تہندوی ثواب اجر چھو سیٹھاہ رت۔ تہندوی نتیجہ چھو دنیاءس  
 منز سیٹھاہ رت وَأَضْرَبَ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ ۴۵) یہ کتر وٹھہ  
 بیان یار رسول اللہ کوکن دنیاچہ زندگی ہنز مثال۔ سنو مثال گنیہ یے کہ امہ کور آسکھہ طرفہ باران رُود



فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ  
الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ﴿۳۵﴾ الْمَالُ وَ  
الْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ  
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿۳۶﴾ وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَ  
تَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ﴿۳۷﴾  
وَعَرَضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ

نازل۔ تمہے آج کہ ذریعہ کھوت زینہ منزہ گھاسہ سر سبز فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ  
هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ کینہہ کالاہ گڑھتھ سپر سوسر سبز گھاسہ خشک نس واون اورہ یور پھسکر وو۔ یوہے  
چھو حال دشبگ۔ از چھو تر و تازہ بوز نہ یوان۔ کینہہ کالاہ گڑھتھ چھونہ تمیک نام و نشان تہ باقی روزان  
وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا اللہ تعالیٰ چھو پر ہتھ چیزس پیٹھ پورہ قدر تہ وول الْمَالُ وَ الْبَنُونَ  
زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مال تہ اولاد چھہ دُنیاء چہ زندگی ہند اکھ زینتہ تہ نیتاہ ناپائیدار تہ بے اعتبار  
وَالْبَاقِيَةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا رتہ عملہ چھہ پائیدار ہمیشہ پوشہ وینہ  
چانس پروردگار س نشہ ثوابچہ اعتبارہ۔ بیہ چھہ تے بہتر امید واری بہدہ اعتبارہ۔ حدیث شریفس منز چھو  
آمت فرمود حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ  
اکبر ولا حول ولا قوہ الا باللہ بیہ کلمات ہرن چھہ باقیات الصالحات وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَ  
تَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً بیہ گڑھہ سووہہ یاد کرن سہمہ دوہہ آس کوہ تہ بال پکناو کھہ۔ پنے نیو جاونہ تلوکہ تہ  
ڈالوکہ توپتہ کروکھ ریزہ ریزہ۔ سمسٹر گروالس کوہن تہ لرین جاین۔ مکاناتن تہ باغن۔ وچھن ژہ زمین  
ای وچھہ وینہ نوئی اکھ اندہ پیٹھ بیس اندس تان ہموار تہ برابر۔ نہ آسن کوہ تہ بال کھہ۔ نہ آسن لہہ تہ جلیہ  
کھنہ وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا بیہ کڈوکھ آس ساری لوکھ قبر واندہ توپتہ سمبر اوکھ اس  
محشرہ کس میدانس اندر۔ تمواندرہ چھڈونہ کانہہ اکھاہ وَعَرَضُوا عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا بیہ من ساری

اَوَّلَ مَرَّةٍ نَبَلُ زَعَمْتُمْ اَلَنْ تَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا ۴۸ وَوَضَعَ  
 الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَ  
 يَقُولُونَ يَوْمَلْتَنَا مَا لِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً  
 وَلَا كَبِيرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَ  
 لَا يُظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ۴۹ وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا  
 لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبٰلٰسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ

لو کہ حاضر کرنے نہیں دے پروردگار س بروٹھن صنف منزم قیاس انکار کران آس۔ تمن ایہ وینہ لَقَدْ  
 جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْتُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ بیٹک تہہ واتوہ اسہ تہہ حالس اندر تہہ منزاسہ تہہ گوڈنی پیدہ  
 کمرمت آسوہ یعنی نئی تہ چھنی توبہہ وچھوہ گوڈنچ پیدایش مگر پڑھ کثروہ نہ دوبارہ بیہ پیدہ سپنس بل  
 زَعَمْتُمْ اَلَنْ تَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا بلکہ اوس توبہہ خیال کہ اس کرہ وی نہ تہندہ خیطرہ پین وعدہ پورہ  
 کرنگ کاہنہ وقاہ مقرر وَوَضَعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ بیہ سن تمہ  
 دوہہ لوکن ہنزان عملن ہند دفتر تمن بروٹھن تراونہ۔ کانہہ دن دچھنس آتھس کیتھ۔ کانہہ دن کھو فرس  
 آتھس کیتھ۔ پس وچھو کہ تہہ کافر کھوژان تہ نشان تمہ سیت بیہ تہہ منز لیکھت آسہ وَيَقُولُونَ يَوْمَلْتَنَا  
 مَا لِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً اِلَّا اَحْصَاهَا بیہ ونن ہای افسوس کیاہ گوسانہ حقہ۔  
 تم سان نامہ اعمالن چھونہ ترودمت کاہنہ لوٹ گناہ نہ کانہہ بوڈ گناہ ٹس نہ لیوکھمت تہ درج چھن  
 کورمت۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا بیہ لمن تم پنتہ سارے عملہ تمہ تمو کر مرہ آسن عمرہ دنیاعس  
 منزپانس بروٹھ کنبہ وَلَا يُظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا تہند پروردگار کرہ نہ ظلم کانہہ سیت۔ نہ کورمت گناہ  
 کیا آسہا کانہہ شخص لیکھنہ آمت۔ یاثر مژنیکی کیا آسہا کانہہ شخص لیکھنہ روز مژر وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ  
 اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْا اِلَّا اِبٰلٰسَ بیہ چھو قابل ذکر سو وقت یلہ آسہ حکم کور ملاکن کہ سجدہ دیدہ  
 آدم علیہ السلامس بروٹھ کنبہ۔ پس دیت تمو سار یو سجدہ البلیس وراہی۔ البلیس آس تیوہ عبادت کمر مژ

أَمْرِيهِ أَفْتَتَّخِذُ وَنَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ  
لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ۝ مَا أَشْهَدُ تَهُمْ خَلَقَ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ  
الْمُضِلِّينَ عَضُدًا ۝ وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ  
زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ

سُوْتِہ اوس ووثمت ملائکن ہندس در جس۔ تمی آوتمنس تہ ملائکن سیت سجد ک حکم کرنہ مگر تم ڈیت نہ  
سجدہ کان من الین ففسق عن امر ربہ سو اوس جنوا ندرہ نس در او سو نپیر پنہ نس پروردگارہ سندہ  
حکمہ نشہ عدول حکمی کرن۔ یعنی سجدہ دشمن نہ۔ سو نیلہ وون نہتھ شریر چھو آفتتخذونہ و ذریتہ  
أولیا من دونی و ہم لکم عدو ای بنی آدمو، ای انسانو توبہ چھو نہ سو ابلیس تہ تہنز ذریت بو معبود  
برحق تراوتھ جن دوست زانان۔ حالانکہ سو چھو تہند سخت دشمن۔ کاژا چھہ شرمہ ہنز کتھ کہ سو تہند  
دشمن تہندس بابہ صیب حضرت آدم علیہ السلامہ سند دشمن سو چھون تہہ زانان دوست ہن بو تہند  
مہربان دوست آتھ میان چھوہ کران نافرمانی۔ حیف صد حیف تہنزہ عقلہ پیٹھ۔ بئس للظالمین بدلًا  
یہ ابلیس تہ تہنز ذریت دوست بناون چھو ظالم ہندہ خیطرہ سیٹھاہ پیٹھ بدل۔ دوست گرہوس زانن تہ  
رئن بو۔ تھ بدل چھوہ دوست رنان شیطانس۔ نس تہند دشمن قوی چھو۔ مَا أَشْهَدُ تَهُمْ  
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ مہ چھنہ تم شیا طین سیت رٹمت آسمان وزمین پیدہ  
کرنکہ وقتہ۔ بیہ چھم نہ سیت رٹمت تمہ ساتہ سمہ ساتہ تم مہ پیدہ کرن۔ تمن کیاہ پر تھہ ہا بو کہ کتھہ پاٹھ  
کرہ بو آسمان تہ زمین پیدہ۔ یا کتھہ پاٹھ کرودہ بو تہہ پیدہ۔ یا پر تھہ کتھ کہ یہ کورہ مہ جائے کتھہ جاہ  
ما چھوس ہیور بون گو مت وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَضُدًا بو اوس نہ تمہ قسمگ ناقص  
قدرتس اندر بو کیاہ رٹہ ہک گمراہ کرہ ون میان بدن جن مددگار یا بو کیاہ ہمہ ہا تمن نشہ کا نہہ مشورہ  
وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ سُدودہ تہ چھو یاد کرہ نس

مَوْبِقًا ۵۲ وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَ  
 لَمْ يَحِجُّوا عَنْهَا مَصْرِفًا ۵۳ وَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ  
 لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرِ شَيْءٍ جَدَلًا ۵۴  
 وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا  
 رَبَّهُمْ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأُولَىٰ أَوْ يَأْتِيَهُمُ  
 الْعَذَابُ قُبُلًا ۵۵ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ

لائق سیمہ دوہہ اللہ تعالیٰ فرماوہ مُخْرَکَن تِلا آلودیو پتہ مدہ خیطرہ تمَن مَعْبُودَانِ بَاطِلُنِ سَمِ مِیَانِ  
 شَرِیکِ آسُوکَہ زَانَانِ۔ تو پتہ دکھ آلو۔ تورہ ونہ تکھ نہ تم کانبہ جواب سیمہ سیت تم مایوس سیدن  
 وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا بیہ گرو آسِ تمَن منز ٹھوراه اکھ نارہ خند قاہ ٹس سخت مُہلک آسہ  
 وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا بیہ دجھن نافرمان نار جہنم یقین کرن کہ تم جھہ واتہ ون  
 اتھ نارس منز و لَمْ یَحِجُّوا عَنْهَا مَصْرِفًا بیہ لیکن نہ تمہہ نیشہ کانبہ وتھہ۔ وَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا  
 الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ پز پاش بیہ کوراسہ بیتھ قرآن مجیدس منز بیان لوکن ہندہ ہدایتہ  
 خیطرہ پرتھ تمہہ قسک مضامین وار بیہو طریقو وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرِ شَيْءٍ جَدَلًا مگر باوجود آل چھو  
 انسان ساروی خوتہ ہر تہ قضیہ تہ تنازعہ کرہ ون وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ  
 وَيَسْتَغْفِرُوا رَبَّهُمْ بیہ رث نہ لوکھ کنہ جزن پتہ ایمان انہ نیشہ۔ بیہ پنہ نَسِ پروردگارس مغفرت مکنہ  
 نیشہ۔ تمَن نیشہ ہدایت واتھہ إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأُولَىٰ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا مگر تمی  
 چیزن کہ تمَن پیٹھ تہ کیاہ کڈرہ سُوی حال ٹس برو نٹھمن نافرمان پیٹھ کڈرہ یومت اوس یاولتہ تمَن عذاب  
 نٹھمن برو نٹھمن وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ بیہ جھکنہ آس سوزان حضرت انبیاء و  
 مرسلین مگر با ایمان فرما نبر دارن بشارت ونہ خیطرہ۔ بیہ کافر نافرمان عذابگ نیم کرنہ خیطرہ۔ تمکہ  
 ثبوتہ خیطرہ جھہ آسِ تمَن کافی دلیلہ عطا کران۔ تمود لیلو خوتہ زیادہ جھہ تمَن نیشہ تم فرمایشی معجزہ

وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا  
 بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا الَّتِي وَمَا أَنْذَرُوا هُزُوعًا ۝ وَمَنْ  
 أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ  
 يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي  
 آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا  
 إِذًا أَبَدًا ۝ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا

ژهانان۔ یہ چھو لغو تہ بیکار و مجادل الذین کفروا بالباطل لیُدْحِضُوا به الحق یہ چھہ کافر ایزہ  
 تھہ پیش کمر کمر ہر تہ قضیہ لاگان۔ چھہ پنہ خیالہ ہر س مغلوب کرن۔ تہ ہنہ نہ۔ پوزہ چھو ہمیشہ غالب۔ سو  
 سپدہ نہ مغلوب زانہہ تہ واتخذوا الَّتِي وَمَا أَنْذَرُوا هُزُوعًا به چھہ تموسان آیات بہ سمہ عذابک بیم  
 آوتمن کرنہ روئمت تہ زومت اکھ ٹھٹھاہ تہ مسخر گیا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا  
 بہ سمہ اکھاہ چھو زیادہ عالم تس شخصہ سدہ خوتہ بس خدایہ سند یو آیا توسیت نصحت کرنہ آیہ۔ تو پتہ پھیر  
 تم تمو آیا تو نشہ چھہ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ به مشراون تم گناہ تم تم پنہ نیوا آھو بروٹھ کن سوزمت  
 چھہ۔ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا ہر پاپ اسہ چھہ تراومت  
 تہندین دلن پیٹھ پردہ۔ چھہ نہ تمن خدایہ سند آیات فخرہ ترن۔ بہ چھوک تراومت کنن ووگہ تہ زرتھی  
 سبہ چھو تہند حال کہہ وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ہر گاہ تہہ تمن دعوت ویو  
 ہدایتس کن تم لبن نہ ہدایت زانہہ تہ۔ لہذا کیا زہ چھوہ تہہ بران امیک غم۔ تمن چھو تاخیر عذابہ سیت  
 خیال گوھان کہ شاید تمن آسہ عذاب کہینہ۔ مگر تاخیر عذابک وجہ چھو کہہ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ  
 تہند پروردگار چھو سیٹھہ مغفرت کرہ ون رحمتہ وول۔ بس چھو سو تمن مہلت ودان سمہ کتھہ موکھ کہ  
 شاید تمونزہ ماسپدہ کاہنہ مسلمان۔ تس کرہ اللہ تعالیٰ مغفرت تہ گنہن گذران لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا  
 کَسَبُوا الْعَجَلُ لَهُمُ الْعَذَابُ ہر گاہ سو تمن تہنز و پیچھہ عملو سببہ گرفتار کرن یشہہ ہاتلہ کرہ ہاتمن پیٹھ

كَسَبُوا الْعَجَلَ لَهُمُ الْعَذَابُ بَلْ لَهُمْ مَوْعِدًا لَنْ يَجِدُوا  
 مِنْ دُونِهِ مَوْيلًا ۝۱۸ وَتِلْكَ الْقُرْأَىٰ أَهْلَكْتُمْ لَمَّا ظَلَمْتُمْ وَأَجْعَلْنَا  
 لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا ۝۱۹ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ

جلد عذاب نازل بَلْ لَهُمْ مَوْعِدًا لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْيلًا مگر تم چھو تہندہ عذابہ خیرہ اکھ وقاہ  
 مقرر کورمٹ سمہ نغہ نہ تم ہرگز کا نہہ چھین جایاہ لکن۔ یوہے قاعدہ آواستعمال کرنہ بروٹھمن کافر ن تہ  
 نافرمان سیت تہ چنانچہ وَتِلْكَ الْقُرْأَىٰ أَهْلَكْتُمْ لَمَّا ظَلَمْتُمْ وَأَجْعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا سمہ بستی تمن  
 ہند قصہ معروف و مشہور چھہ۔ یعنی قوم عادتہ نمود و غیرہ یلہ تمو ظلم کور نافرمانی کتر آسہ اوس تہندہ  
 ہلاک کرنہ خیرہ وقاہ مقرر کورمٹ سو وقت دوٹھ گئے ہلاک۔ تھ پٹھ چھو اسہ تمن از کین کافر ن تہ  
 ٹھندین دشمن ہندہ خیرہ وقت مقرر کورمٹ۔ سو وقت یلہ و اتیکھ تم تہ گڑھن ہلاک تہ بر باد۔ بروٹھ  
 آو بیان کرنہ کہ کافر ن ہند فقیر مسلمان سیت شریک تعلیم عار زان چھو سیٹھاہ چھہ اللہ تعالیٰ چھو  
 فرماوان موسیٰ علیہ السلام قصہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام باوجود جلالت قدر تمو کرنہ کانہ عار خضر  
 علیہ السلامس تم تمن نغہ یون مرتبس تہ در جس منز آس تمن نغہ علم حاصل کرنس اندر۔ تمیک وجہ  
 سڈای کہ اکہ دوہہ پور حضرت موسیٰ علیہ السلام و عظ بنی اسرائیل ہندس جماعتس منز۔ تھہ مجلسہ  
 اندر پڑ تھہ اک شخص تمن کہہ از کہ وقتہ کین لوکن اندر سہہ حض شخص چھو ساروی خوتہ بوڈ عالم۔ تمو  
 فرمودہ کھہ بوچھوس ساروی خوتہ بوڈ عالم۔ اگرچہ یہ اوس بالکل صحیح لیکن اللہ تعالیٰ ان یڑھ یمن کلام  
 کرنس اندر احتیاط کرنہ تعلیم کرن اللہ تعالیٰ ان فرمودہ تمن آی موسیٰ یہ کھہ پٹھہ دونوہ توہہ۔ حالانکہ  
 مجمع البحرین یہ نس زہ دریانہ وان رلان چھہ مھصل چھوسون اکہ بندہ۔ نُس بعض چیزن اندر ٹھندہ خوتہ  
 زیادہ عالم چھو۔ تمن سڈ تہندہ ملاقاتک شوق تھہ متعلق چھو اللہ تعالیٰ فرماوان وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ  
 سو وقت پاوڈو تھس یلہ موسیٰ علیہ السلام دوپ پنہ نس خادِمس یوشع ابن نونس (تم آس ابتداءس  
 اندر حضرت موسیٰ سند خادِم پتہ سڈ پیغمبر) یلہ تمن حضرت خضرس سیت ملاقات کرنہ گڑھن  
 اوس اللہ تعالیٰ اس پڑ تھہ تمو خدایا تمن نغہ و تھ کیاہ صورت چھہ ارشاد سڈ کہ اکہ بُرت گاڈہ ہاتلو  
 سیت تہہ تو پتہ نیر و سفرس۔ تھہ جایہ سکو گاڈ زندہ گڑھت لوکرہ منزہ راوہ تھہ جایہ لیون تہہ سو

أَبْلَغَ مَجْمَعِ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضَى حُقْبًا ﴿٤٠﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ  
 بَيْنَهُمَا نِسْيَا حَوَّتُهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ﴿٤١﴾ فَلَمَّا  
 جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ إِنِّي نَادَيْتُكَ يَا لَقْدُ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا ﴿٤٢﴾  
 قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحَوْتَ وَمَا  
 أَنَسِيْنِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانَ أَنْ أَدْرُكَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي

صاحب لا ابرو حتی ابلغ مجمع البحرين او امضی حقبًا یوروز نہ توتان پتہ یوتان نہ بولاتہ مجمع  
 البحرین۔ ادہ پے تن مہ وارمین ورمین سفر کرن فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ  
 سبیلہ فی البحر سربا نس یلہ پکان پکان وات تم مجمع البحرین یتہ نس زہ دریانہ وان رلان تہ میلان  
 آس تو تنس واتتہ رود تم اکس کنہ پلس سبت ڈوکہ دتھ تھکھ دہ۔ تھہ حاس اندر پیہ تم نندر سنو گاڈ  
 سپز ٹوکرہ اندر بحکم خدا بیہ زندہ تو پتہ ڈژہ سو دریاس اندر۔ یوشع علیہ السلام یلہ بیدار سپدانہ  
 وچھکھ نہ ٹوکرہ اندر گاڈاہ کینہہ تہ۔ ارادہ کورکھ یلہ حضرت موسیٰ تہ بیدار سپدن تمی ساتہ کرہ بو تم  
 نشہ بیہ واقعہ بیان۔ مگر یمن روزنہ مطلق یہ تھہ ذہنہ اندری۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان تم ن دوشون گنیہ  
 گاڈہ متعلق تھہ باتھہ کرن مشرت۔ نس ہنو تمہ گاڈہ پن و تھہ دریاس منزگیہ اکھ سرونگاہ تہ گوچاہ نس  
 گاڈہ ہندہ پچنہ سبت فلما جاوزا تم زہ صاحب حضرت موسیٰ علیہ السلام بیہ حضرت یوشع علیہ  
 السلام یلہ امہ جلیہ نشہ برو تھنن پک بوچھہ لکھہ۔ قال لفتاہ ایتناغدا آنا لقد لقینا من سفرنا هذا  
 نصبا موسیٰ علیہ السلام فر موخاد مس پنہ نس کمر و پیش کون حون کھینہ خیرہ۔ اسہ تل تکلیف تھہ  
 سفرس اندر۔ سمہ برو تھہ دہن منز لن پچنہ سبت و اثر ونہ اسہ کانہہ تکلیفہہ قال آریت اذ اوینا الی  
 الصخرۃ و نپس اس یلہ تھہ بحر کنہ تل و اثر اے یتہ نس تھک کڈنہ روزاے قانی نسیت الحوت و ما  
 انسنیہ الا الشیطان ان ادرکہ بیشک مہ گو مشرت گاڈہ ہند قصہ تو بہہ نشہ بیان کرن۔ تہ مشروونہ مہ مگر  
 شیطان۔ مہ آونہ ذہنہ اندری سو معاملہ پیش کرن واتخذ سبیلہ فی البحر عجبًا تمہ گاڈہ یوسہ

الْبَحْرُ عَجَبًا ﴿۷۳﴾ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ ﴿۷۴﴾ فَارْتَدَّ عَلَىٰ آثَارِهِمَا  
 قَصَصًا ﴿۷۵﴾ فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا  
 وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا ﴿۷۶﴾ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَيْتَكَ عَلَىٰ  
 أَنْ تُعَلِّمَ مِن مَّاءٍ عَلِيمٍ رُّشْدًا ﴿۷۷﴾ قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ  
 مَعِيَ صَبْرًا ﴿۷۸﴾ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴿۷۹﴾  
 قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿۸۰﴾

اسے بڑھ آس تھا و مرثو کرہ اندر کا جس کھینے خیرہ سو گویہ زندہ تو پتہ نچن دو ٹھہرہ بہ ہنوں و تھہ دریاوس  
 کن عجیب طریقہ۔ دریاؤک آب رُود معلق تھہ گنہ گویہا ہش زبٹھہ قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغُ موسیٰ علیہ  
 السلام فر موئی اوس تہ یہ آس ژھانڈان آس۔ ژہ کونہ و نیو تھہ تھہ جلیہ یہ قصہ فَارْتَدَّ عَلَىٰ  
 آثَارِهِمَا قَصَصًا پس پھیر تم اتی پیٹھہ واپس پنہ نیو کھورن ہندیونشانو موجب۔ واتان و اتان وات  
 تم بہ تھہ گنہ ٹھہتل۔ تھہ سیت ڈوک و تھہ تم نندر پیمو آس فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً  
 مِّنْ عِنْدِنَا پس لوب تمو سانیو بند و آندرہ اکھ بندہ یعنی ملاقات کورکھ حضرت خضر سیت پس  
 اسہ عطا کر مرث آس پنن بڈ رحمت نبوت یا ولایت وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا بہ اوس اسہ سو خضر علیہ  
 السلام پکھو و مت پنہ طرفہ اکھ خاص علمہ۔ موسیٰ علیہ السلام اوس زانان علم اسرار الہیہ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ  
 هَلْ أَتَيْتَكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ مِن مَّاءٍ عَلِيمٍ رُّشْدًا موسیٰ علیہ السلام ڈوپ تم کیا حض بو پکا توہہ سیت  
 سیت تھہ شرطس پیٹھہ کہ تھہ کیا پکھنا و دومہ تمہ علمہ منزہ کینہہ پس مفید علم تھہ پکھناونہ آمت چھوہ قَالَ  
 إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا خضر علیہ السلام دو پکھ تھہ نہ حض ہیکونہ مہ سیت روزس پیٹھہ  
 صبر کر تھہ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا بہ تھہ پاٹھہ ہیکو تھہ تھہ کھ پیٹھہ صبر کر تھہ تھہ  
 توہہ احاطہ کورمت آسوہ پنہ علمہ سیت۔ یعنی یوسہ تھہ نہ توہہ معلوم اسہ قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ  
 صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا موسیٰ علیہ السلام دو پکھ بو ژھے خد اسن تھہ لبومہ صبر و ضبط کرہ ون۔ بہ



قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ۝۱۰ فَاَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا ۝  
 قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ۝۱۱  
 قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنُ تُسْطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝۱۲ قَالَ لَا  
 تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ۝۱۳  
 فَاَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا الْيَاقِظَانَا غُلَمًا مَقْتَلَيْنِ ۝۱۴ قَالَ أَقْتَلْتِ

کرہ نہ ہو توہم نے کامیہ اندر نافرمانی قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا خضر علیہ السلام دو بچھ ہر گاہ تمہ سے سب سے روز و تیلہ بیٹھنے سے پر ڈھونڈنے چیز سے متعلق یہ کیا زہ نہ یہ کونہ۔ یو تان نہ ہو پانے توہم بیان کرہ تھ متعلق کا نہہ کتھاہ فَاَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا تو پتہ پنک تم دو شوے صاحب برو ٹھکن۔ بٹھہ اوس تین دریا و اس تار وین۔ تمہ موکھ کھست آس تارہ ناوہ پیٹھ ناوہ والیو پرزہ نوو خضر علیہ السلام تمو ڈتھک پور تار مفت اجر تہ و رای۔ خضر علیہ السلام کور اتھ ناوہ نمس سوران تہ گڈ۔ سونو کر ن عیب دار۔ قَالَ أَخْرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا موسیٰ علیہ السلام دو بچھ کیا حض اکھ ڈیت سمونو ناوہ والیو اسہ تار پور تان مفت اجر تہ و رای بیہ کور وکھ توہم اتھ ناوہ سوران۔ سم لکھ بچارہ بچھن ناوہ سوران سپد نہ موکھ آس لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا توہم کڑوہ یہ عجیب کاماہ۔ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنُ تُسْطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا خضر علیہ السلام دو بچھ مہ وینو وہ ناتوہم تمہ نہ حض ہی کو نہ مہ سب سے روز نس پیٹھ صبر کر تھ قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا موسیٰ علیہ السلام دو بچھ مہ حض گو ٹشت۔ اتھ پیٹھ مہ کڑوہ و مہ باز خواست۔ بیہ مہ کڑوہ اتھ معاملس پیٹھ مہ پیٹھ زیادہ تنگی فَاَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا الْيَاقِظَانَا غُلَمًا مَقْتَلَيْنِ قَالَ أَقْتَلْتِ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا ثُلُوكًا پس پک تم تا اینکه سمکھ تین لوگٹا اکھ۔ خضر علیہ السلام روٹ سو لوگٹ تو پتہ چور کس ہوٹ تہ موزن۔ حضرت موسیٰ ان دو بچھ کیا حض

نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا ﴿۴۲﴾  
 قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿۴۵﴾  
 قَالَ إِنْ سَأَلْتِكُ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّبْنِي قَدْ بَلَغْتَ  
 مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ﴿۴۶﴾ فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَىٰ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا  
 أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ  
 يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَمَخَّدْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿۴۷﴾ قَالَ  
 هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ

توہمہ موروثہ کہ مہموم تہ بے گناہ شخصہ تھے کانہہ مجرم کرنہ وراہی۔ کانہہ ہند خون کرنہ وراہی۔ یہ تہ  
 کروہ توہمہ کہ عجیب کوماہ تہ بے جا حرکتہاہ **قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا**  
 حضرت خضر علیہ السلامن دوپکھ مہ و نیوہ نا توہمہ تہہ بیگونہ مہ سیت پکہ نس پیٹھ صبر کمر تھہ۔ **قَالَ إِنْ  
 سَأَلْتِكُ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَحِّبْنِي** حضرت موسیٰ ان دوپکھ ادہ حض وون ہر گاہ بو توہمہ بیہ  
 پر ژھوہ کنہ چیز ک تمہہ پتہ مہ رتو تہہ مہ پانس سیت **قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا** واقعی تہہ پھوپانس  
 سیت رتہ نس منز میون بیہ ونن کافی عذر **فَأَنْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَىٰ أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ  
 يُضَيِّفُوهُمَا** پس پنک تم بردنٹھ گن بیہ۔ تاہیکہ وات تم اس گاس منز۔ یتہ کین لوکن مخ تمو ضیافت  
 مہمان نوازی مگر تمو لو کو کر تین مہمان نوازی کرنہ نشہ انکار پس رود تم رات راتس فائے۔ صکس یلہ  
 درائے تم امہ گامہ منزہ **فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ** پس وہجھ تمو اتھ گاس منز  
 دوساہ اکھ دیوارہ اکھ ہول گومت۔ تیار اوس تینس۔ خضر علیہ السلامن لوگ تھہ دیوارس اتھہ۔ سہ دیوار  
 کورکھ سیود روحانی طاقتہ سیت **قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَمَخَّدْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا** موسیٰ ان دوپکھ کیا حض اکھ کمر نہ  
 سموسان مہمان نوازی۔ بیہ کورکھ توہمہ مٹتے ہول گومت دیوار سیود۔ ہر گاہ تہہ انج اجرت تہ مزدور

صَبْرًا ۸۸) أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ  
فَآرَدْتُ أَنْ أَعِدَّهَا وَكَانَ وَرَاءَ هُمْ لَكَ يَا خذُ كُلَّ سَفِينَةٍ  
غَضَبًا ۸۹) وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ فَكَانَ أَبُوهُمُ الْمُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا  
طُغْيَانًا وَكُفْرًا ۹۰) فَآرَدْنَا أَنْ نُبَدِّلَهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً  
وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۹۱) وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي

وصول کمر ہوئے اوس بہتر قَالَ هَذَا قِرَآءَتِي وَيَتِيمٌ خضر علیہ السلام دو کچھ بس وون ہتھ ہتھ  
تھہ پیٹھ مہ منزہ توہہ منز جدالی ہند فیصلہ۔ سَأَلْتِكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا وون کرہ بو توہہ  
خبر تم کتھن ہندہ تحقیق تمک پیٹھ توہہ صبر نہ تاب ہو کوہ نہ کمر تھہ۔ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ  
يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَآرَدْتُ أَنْ أَعِدَّهَا وون یوسہ ناو آس سو آس کینون غریبن مسکین ہنز تم ہتھ  
دریاوس منز ہن مزور محنت کمر تھہ گذارہ کران آس۔ مہ کورارادہ تم فائدہ واتاوندہ خیطرہ تہنز  
ناوعیب دار کران۔ وَكَانَ وَرَاءَ هُمْ لَكَ يَا خذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَضَبًا کیاہہ تم لپارکن اوس اکھ ظالم  
پادشہا اکھ بس پر ہتھ ارہ ناوہ (بے عیب) اوس جبر اقبضہ کران۔ یاہانزن (ملاحن) بیگارہ ناوان۔ مہ  
کر تہنز ناوعیب دار۔ ہتھ تم تہندہ ظلمہ نشہ نجات لبس وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ فَكَانَ أَبُوهُمُ الْمُؤْمِنِينَ وون بس  
لوگت اوس تہندہ مول موج آس با ایمان۔ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا بس کھوڑ اس سہ گڑھہ  
نہ تم پیٹھ کران سختی نہ سر کشی گھرہ سیت تم گڑھہ نہ سہ سبب بن ایمانگ سلب کرنگ فَآرَدْنَا أَنْ  
نُبَدِّلَهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا بس یڑھہ اسہ یہے کتھہ کہ تہندہ پروردگار دیہ تمک بس  
لوگتس بدل تہندہ خویہ بہتر نہ رت فرزند پاکیزگی اندر یہیہ زیادہ نزدیک شفقت و بخش اندر۔ دپان چھ  
امہ پتہ کمر اللہ تعالیٰ ان تمک دون باذن کور عطا۔ بس کورہ کج آو کر نہ اکس پیغبرس سیت۔ توپتہ بس  
فرزند زاو تمک سوتہ اوس پیغبرے۔ بس باعث ہدایت بنیو و بدس اکس قومس وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ  
لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وون بس دیوار اوس سہ اوس شہرہ کین دون تیمک ہند وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ

الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ۝۷۱ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۝۷۲ إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا ۝۷۳ فَاتَّبَعِ سَبِيلَ ۝۷۴ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَرْجُبُ فِي عَيْنٍ

لَهُمَا اتھ دیوارس تل اوس خزانہ یمن دون لوکٹین ہند **وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا** بیہ اوس یمن دون لوکٹین ہند مول موج صالح تہ نیک۔ تمن ہندہ نیک آسکھ سببہ تھا واللہ تعالیٰ ان یمن دون لوکٹین نابالغن ہند مال محفوظ۔ ہر گاہ دیوار دستھ پیہ ہاتھ تھندس ماس سپدہ ہالوث۔ سوگوشہ ہاضیح **فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ** کس یوژہہ چان پروردگارن تم گڑھن واتن چنہ نس بلغ سپدس توپتہ کڈن تم پائے پن خزانہ۔ یہ آس چانس پروردگارہ سز کمال رحمت تھندہ حقہ۔ **وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي** بیہ کمر نہ مہ تم چیز پائے بلکہ کرم خدایہ سندی حکمہ۔ **ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا** بیہ کیاہ چھہ اصل حقیقت تمن تھن ہنز تمن پیٹھ توہہ تاب تہ صبر بیکوہ نہ کرنت **وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ** بیہ چھہ لوکھ پرژھان توہہ یار رسول اللہ ذوالقرنینہ سُد حال **قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا** نہہہ فرما یو کہہ بُو کرہ بیان توہہ عنقریب تھند حال۔ سہ ذوالقرنین اوس اکھ پادشاہا جلیل القدر **إِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ** پز پائٹ اسہ کر عطا تمن تمام روی زینج سلطنت بادشہت **وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا** بیہ کراسہ تمن پریتھ کھنہ قسمگ سامان عطا۔ سمہ سیت تم چنہ نین شاہی ارادن تہ عزامن پورہ ہیکان آس کمر تھہ **فَاتَّبَعِ سَبِيلًا** کس رود تم تمن سامان تہ ذرا یمن پتہ سمو سیت تم واتھہ بیحہ ہن آفتاب غروب سپد نچہ جایہ **حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَرْجُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ** تالیکنہ یلہ وات تم آفتاب لو نچہ جایہ وچھن سہ آفتاب لوسان اکس کر ہنہ رہہ ہندس ناگس اندر



بِمَالِدِيهِ خُبْرًا<sup>۹۱</sup> ثُمَّ اتَّبَعَهُ سَبِيًّا<sup>۹۲</sup> حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ  
وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لِيَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا<sup>۹۳</sup> قَالُوا يَا  
الْقَرْنَيْنِ إِنَّا يَا جُوجَ وَمَا جُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ  
نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا<sup>۹۴</sup> قَالَ مَا  
مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ  
رَدْمًا<sup>۹۵</sup> أَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ

زندگی بسر کران۔ لباسہ تہ پوشاکہ وراى گنڈلک اتھہ جایہ تہ کور سلطان سکدرن سؤى معاملہ نئس  
مغرئس منز کریون وَقَدْ أَحَطْنَا بِمَالِدِيهِ خُبْرًا پنز پاٹھ اسہ اوس احاطہ کورمت تھہ ساری یہ نئس  
حاصل سپدمت اوس اتھہ سفرس اندر پنتہ علمہ سیت ثُمَّ اتَّبَعَهُ سَبِيًّا توپتہ ہیوت سلطان سکدرن سنز تہ  
سامانہ کران سفر کر نئک شمالی علاقئس کن حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِمَا قَوْمًا لِيَكَادُونَ  
يَفْقَهُونَ قَوْلًا واتان واتان ووت سؤدون کوہنہ دَرَن منز باگ۔ تمن کوہنہ دَرَن اپاران و چھٹھہ اکھ قوم  
سم نہ نئٹہ کچ کتھاہ بوزان آس۔ نہ آسہ ہنزہ تھہ فجرہ تران قَالُوا يَا الْقَرْنَيْنِ تمودوپ آخر کانسہ  
ترجمانہ سندہ ذریعہ ای ذوالقرنین إِنَّا يَا جُوجَ وَمَا جُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ پزپاٹہ تہ چھہ یاجوج  
ماجوجن ہنزہ اکھ جماعتھہ سمو سیٹھاہ تباہی چھہ کمر مژتہ تھہ علاقئس اندر فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ  
نَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا نئس تھہ ناجازت چھاس گر و تھہ خپترہ کہینہہ رقم چندہ کمرت جمع تھہ شرطس  
پٹھہ کہ تھہ کیاہ کمر و بنا آسہ منز تہ تمن منز اکھ مضبوط قلائیہ قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ سلطان سکدرن  
دو پٹھہ نئس مال و دولت مہ پن پروردگارن عطا کورمت چھو۔ سو چھو سیٹھاہ بہتر۔ مہ چھنہ ضرورت  
تھہنہہ چندہ کمر تھہ رقم جمع کر نئج فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا ہر گاہ تھہ مہ سیت  
تعاون کران یشھان چھوہ تیلہ کمر و تھہ مہ مد پنتہ طاقت و محنتہ سیت۔ تاہنکہ بوکرہ توبہہ منز تہ تمن منز  
اکھ بوڈ قلائیہ محکم تہ مضبوط قاسیم أَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ تھہہ واتا و مہ نئس شترک بڈ بڈ کمرہ تمیک قیمت

انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا قَالَ اتُّونِي أَفِرُّغْ عَلَيْهِ قَطْرًا ۖ ﴿۹۶﴾  
 فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۚ ﴿۹۷﴾ قَالَ  
 هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۖ وَكَانَ  
 وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۗ ﴿۹۸﴾ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجًا فِي بَعْضٍ  
 وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ۗ ﴿۹۹﴾ وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِّلْكَافِرِينَ

ترورہ توہمہ سرکاری خزانہ منزہ۔ اتی ان تموشستر و لکرہ تمہ پتہ تھا وہ کہ تم آکھ اس پیٹھ لاکھ۔ تھہ پاٹھ دیوارس منزمنہ سیرہ ہتھہ تھاوندیوان۔ منزہ برہ ہگ ژنہ تہ زین۔ بیہ گنجھ اتھ لہر آئد ذمن بستہ۔  
 حَتَّىٰ إِذَا سَادَىٰ بَيْنَ الصَّدَّائِنِ تَالَيْلَةَ يَلِيهِ تَمَمَ شِشْتَر كَهْنَجَهْ بَرَابَر سِزَه كَوَه تَالِن سِيْت دُوشَوِي طَرَفُو۔ قَالَ  
 انْفُخُوا حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا ۖ دُوہِکھ وِیو اتھہ ژکھ تُوپتہ دِیوس ذمن بستوسیت پُھو کہ۔ ادہ یلہ یہ شِشْتَر  
 سُوْرِي سَنگَل ہِیو ووزلیو قَالَ اتُّونِي أَفِرُّغْ عَلَيْهِ قَطْرًا ۖ دُوہِکھ وون اِنُو تَرَام سُو تَرَا وِو اتھ پیٹھ کار تھہ۔  
 چنانچہ تہ تہ آو کرنہ۔ تُوپتہ سِڈ دیوار اہ کہ تہ قلابا اہ قائم سیٹھہا تھودتہ بلند فَمَا اسْتَطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ  
 وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۚ بیہ پشول آسجہ سبہ سِڈ یہ تھوی کہ یاجوج ماجوجو ہوک نہ اتھ پیٹھ  
 کھنتھ۔ بیہ ہوکھ نہ تھہ گودتہ سور اُخ تھر تھہ عُنہ جلیہ۔ اتھ ہتھہ ونان سِد سکندری قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ  
 مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ ۖ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۗ سلطان سکندرن دُوپک یہ دیوار تہ یہ  
 قلاے بنلاے تہ باتمام و اُن ہتھہ محض میانس پروردگارہ سز بڈ مہربانی۔ مگر یلہ اللہ تعالیٰ سُد وعدہ  
 قیامت و اتھ دیوارس گرہ سمسٹر میانس پروردگارہ سُد وعدہ جھو حق تہ پوز وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ  
 يَمُوجًا فِي بَعْضٍ ۗ تمہ دوہنہ گرو اس ہنز حالت امہ سچ کہ تم آس اڈاؤین منز اِثْران۔ تھہ پاٹھ آبک  
 مُوج ہتھہ آکھ اس منز اِثْران۔ نیرن امہ جلیہ منزہ نیر نوجو نوجو۔ امہ پتہ آسہ قیامت۔ چنانچہ کینہہ کالاہ  
 گڑھت پیہ پُو غس منز گوڈنیک پُھو کہ دِنہ۔ تمہ سیت سِڈہ سُوْرُو عالم فنا۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ تُوپتہ لہر  
 دُو تم پُھو کہ دِنہ پُو غس اندر سمہ سیت ساری بیہ زندہ سِڈن فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا ۗ پس کرو کہ آس ساری

عَرَضًا ۱۰۰ وَالَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غَطَاٍ عَنْ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا ۱۰۱ أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ ۱۰۲ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ۱۰۳ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۱۰۴ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۱۰۵ أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِبَابِيتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا

جمع کہ کہ محشرہ کس میدانس اندر وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرَضًا تمی دودہ انون اس نار جہنم کافرن برونھ گن دارہ کارہ وَالَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غَطَاٍ عَنْ ذِكْرِي یمن کافرن ہنزہ اچھ آسہ پردن تہ ٹھریں تل پو شیدہ میانہ یادہ لغہ۔ یعنی درنیٹھ اوسکھ نہ بیوان مین آیات قدرت سمہ سیت بوہمہ بھھ ژٹس۔ میون کرہ ہن یاد وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا بیہ آس نہ تم قرآن مجیدک آیات بوزنک تہ طاقت تھاوان أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ کیاہ گمان چھا کافرن کہ میانین ہندن کیا بناؤن تہ رٹن پرستش کرت مہ مقابلہ پن مددگار۔ تہ نہ نہ ہرگز إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا کیاہ اسہ چھو یعنی کافرن ہندہ خیطرہ نار جہنم تیار تھوومت گوڈنی پیش کرنک اکھ چیزہ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا فرما بوکھ ٹہہ یارسول اللہ ﷺ اس کردوہ توبہہ بیان کہ کم لوکھ آسن سیٹھاہ نقصان و تاونس اندر عملکون۔ یعنی کمن ہنزہ عملہ گروھن ضالع تہ بے کار الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا تمس چھہ پنہہ جایہ گمان کہ تم چھہ یہ رٹکاہہ کران اُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِبَابِيتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ مگر حقیقت چھہ یہے کہ تم گے تمے سمو انکار کور پنہ نس پروردگارہ سندین آیاتن بیہ تسندس دیدارس تہ تس برونہ گن حاضر سپد نس فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا لہذا اتلونہ اس تہندہ خیطرہ قیامتک دودہ ترکرے تہنزہ عملہ تولنہ خیطرہ




نَقِیْمٌ لَهُمْ یَوْمَ الْقِیْمَةِ وَرِزْقًا ۝۱۵ ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا  
وَاتَّخَذُوا الَّتِیْ وَرُسِلَیْ هُرُزًا ۝۱۶ اِنَّ الدِّیْنَ اَمْنًا وَعَمِلُوا  
الصَّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝۱۷ خَلِیْدِیْنَ فِیْهَا  
لَا یَبْعُوْنَ عَنْهَا حَوْلًا ۝۱۸ قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمٰتِ رَبِّیْ  
لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّیْ وَلَوْ جِئْنَا بِسَبْءٍ مَّدَدًا ۝۱۹

ذَٰلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا الَّتِیْ وَرُسِلَیْ هُرُزًا ۝۱۵ یہ ہے کیا چہو سزا تہند نارِ جہنم کیازہ تم  
آس اھ انکار کران بے آس میانین آیاتن تہ میانین پیغبرن استہزاء تہ ٹھٹھہ کران اِنَّ الدِّیْنَ اَمْنًا  
وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّتُ الْفِرْدَوْسِ نُزُلًا ۝۱۶ ہز پڑاٹ یمو لو کو ایمان اون تہ رتہ عملہ  
کر کیک تہندہ خیطرہ چھہ فردوسک باغ پیش کشاہ یعنی گوڈنچی ضیافتاہ یوسہ تمن پیش لیہ کرنہ خَلِیْدِیْنَ فِیْهَا  
لَا یَبْعُوْنَ عَنْهَا حَوْلًا ۝۱۷ تمنی باغن منز آسہ روزن تمن ہمیشہ۔ خواہشی کرن نہ تم تموباغو منزہ نیرنچ۔ نہ  
کڈ کیک تموباغواندرہ کاہنہ باوجود آس کرو کہ اس عطا تم تم چیز تم تمہ خوتہ بہتر تہ رت آسن قُلْ  
لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَكَلِمٰتِ رَبِّیْ لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ اَنْ تَنْفَدَ كَلِمٰتُ رَبِّیْ وَلَوْ جِئْنَا بِسَبْءٍ مَّدَدًا ۝۱۸ فرماو تہ تہ یا  
رسول اللہ لو کن ہر گاہ میانس پروردگارہ سزہ تھہ یعنی تم کلمات و عبارات تہندین کمالات و صفاتن  
پیٹھہ دلالت کران چھہ لیکنہ خیطرہ سمندر آسن میلہ بدل، تم ساری موکلن تہ خم گڑھن۔ میانس  
پروردگارہ سند کلمات خم گڑھنہ بروٹھ۔ بے ہر گاہ اس تمن سمندر ن ہی بے سمندر تہ مدد تہ خیطرہ  
ملناو وک تمن سیت۔ تم تہ موکلن۔ لیکان لیکان مگر کمالات و صفات آہیہ سدان نہ خم کیازہ تم چھہ  
غیر متنای۔ لہذا چھہ الوہیت تہ ربوبیت مخصوص تمنس یات قُلْ تہہ فرماو لیکہ یارسول اللہ تہ تھہ تہ کہ  
اے کافر و تہہ نُس انکارہ سیت مہ پیش یوان چھوہ کیاہ یو چھوسہ توہہ بروٹھ کن کاہنہ تڑھہ کتھاہ پیش  
کران یوسہ ناممکن تہ دشوار چھہ اِنَّمَا اَنْبِئْتُكُمْ بِوَحٰی اِلٰی اَئِمَّةِ الْهُدٰی الْوَاحِدِ یو چھوس نہ مگر توہی  
ہیوا کھ بشرہ۔ توہہ تہ مہ منز چھہ فرق ہیے کہ وحی الہی چھومہ پیٹھہ نازل سدان کہ تہند چھونہ آس  
معبوس ورائی کاہنہ تہ۔ نہ چھو وحی واٹن کاہنہ عجیب کتھاہ۔ نہ چھو توحید باری تعالیٰ کاہنہ وحشت

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أُمَّةٍ الْهُكْمُ إِلَهُ وَاحِدٍ فَمَنْ كَانَ  
 يَرْجُوا الْقَاءَ رَبِّهِ فَلْيُحْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝۱۰

ناک امر اہ۔ و سن ہے تمہہ مہ انکار کران ہجھوہ تہ کیا زہ۔ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا الْقَاءَ رَبِّهِ فَلْيُحْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا  
 وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا وون نس اکھاہ امیدوار آسہ پنہ نس پروردگارہ سندہ دیدارک، تس سیت  
 ملاقات کرہ نگ تمہند محبوب تہ مقرب ہنہ نگ ادہ سوکترن میانس پیغمبر برحق آسئس پڑھ کتر تھ میانہ  
 شریعتہ موجب رثہ عملہ۔ بیہ مہ تھاون سو پنہ نس پروردگارہ سندس عبادتس منزکانسہ انس شریک۔  
 یعنی توحید و رسالتک تھاون کامیل اعتقاد۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 كَهَيْعِص ① ذَكَرْ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ ذَكَرِيَّا ② إِذْ نَادَى رَبَّهُ  
 نِدَاءً خَفِيًّا ③ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ  
 شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا ④ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ  
 وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ⑤ يٰرَبُّنِي

كَهَيْعِص اسم چھ حروف مقطعات۔ تمن ہند معنی چھو خدا ایسی معلوم ذَكَرْ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ ذَكَرِيَّا یہ چھو تہندس پروردگارہ سندہ تمہہ رحمتک ذکر یوسہ رحمت تم پنہ نس بندس حضرت زکریاءس عطا کر۔ إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا یلہ تمو کھنٹھہ راژ ہمزہ آنہ گلہ منز پنہ نس پروردگارس آلو دیت، پست آوازہ سمیت، ہنٹھہ بیہ کانہہ بوزہ، کیا زہ بجرس اندر اولاد ژھاندن زون تمو مند چھہ قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا دہن میانہ پروردگارہ، میانہ اؤجہ، استخوان گنیہ کمزور بجرہ سببہ۔ بیہ چھتھوم کلہ سوزوی۔ ہتھس حاس منز اولاد ژھاندن اوسہ نہ شایان۔ مگر چانس قدرت کاملس نشہ چھونہ کینہہ دور۔ بیہ چھس بو ہمیشہ چانہ قدر تک تہ رحمتک ظہور و چھٹک خوگر تہ عادی سپدنت۔ چنانچہ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا بیہ چھوسنہ بو از تان ژہ منکس اندر زانہ تہ ناکام تہ خالی رودنت۔ از کہ پتھ گن تہ چھس امیدوار چانس اجا تیس۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي بو چھوس کھو ژان پنہ نین رشتہ دارن، تم ما کرن نہ میانہ مر نہ پتہ، میانہ مرضی موافق دینچ تہ شریعت خدمت۔ بہوی وجہ چھو کہ بو چھوس ہتھ بجرس اندر اولاد ژھاندن وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا بیہ آس آشین میان ہانٹھ گودہ پیٹھ۔ لہذا چھنہ مہ اولاد نہ نچ ظاہری کانہہ صورتہا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا یٰرَبُّنِي وَبِرَّكَ مِنْ اِلٰی یَعْقُوبَ وون کر تہ ژہ پنہ خاص لطف و مہربانی سمیت اسباب عادی ن ہندہ وساطتہ

وَبَرِّثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ۝۶ يٰۤاِنَّا نُبَشِّرُكَ  
 بِغُلَامٍ اِسْمُهُ يَحْيٰى لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا ۝۷ قَالَ رَبِّ اِنِّى  
 يَكُوْنُ لِيْ عِلْمٌ وَّكَانَتْ اِمْرَاَتِيْ عَاقِرًا وَّوَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ  
 عِتِيًّا ۝۸ قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلٰى هَيِّئٍ وَّوَقَدْ خَلَقْتِكَ  
 مِنْ قَبْلُ وَّلَمْ تَكُ شَيْئًا ۝۹ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِيْ اٰيَةً ط قَالَ

ورای مہ تھیٹھ فرزندہ عطائس اکھ میانین خاص علمن ہند وارث بنہ ہایہ خاندان یعقوب علیہ السلام  
 سندین موروثی علومن ہند وارث بنہ ہا واجعلہ رب رضیًا میانہ پروردگارہ بیہ کرتن سؤ فرزند با عمل  
 آسنہ منوکھ مقبول تہ محبوب پئن۔ چنانچہ بواسطہ ملائک سپد تمّن ارشاد یٰۤاِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اِسْمُهُ  
 یَحْيٰى اے زکریا بیشک اَس چھی ژہ خبر دو ان اَس فرزندہ سز بسند ناو چھو سخی لَمْ نَجْعَلْ لَهُ مِنْ  
 قَبْلُ سَمِيًّا اَس چھونہ کورمت پیدہ اَس بروٹھ اَسند ہنام۔ ازتاں چھونہ اَس ناؤک کانہہ انسان پیدہ  
 آمت کرنہ قَالَ رَبِّ اِنِّى يَكُوْنُ لِيْ عِلْمٌ حضرت زکریا علیہ السلامن وون پروردگار اَس کتھہ پاٹھ بنہ پئو  
 وَّكَانَتْ اِمْرَاَتِيْ عَاقِرًا میان آشین ہتھہ ہانھہ وَّوَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا بو چھوس پانہ دو تمست بجرہ  
 کس نہایتس۔ مہ چھونہ معلوم سپدان ژے اَسہ فرزند عطا کر کہ تہ کتھہ پاٹھ۔ اس سپدوہ دوشوے باژ  
 جو ان کہنہ مہ اَسہ نوو بکال کرن کہنہ موجودہ حسابے اندر کر کہ ژہ اَسہ فرزند عطا قَالَ كَذٰلِكَ اللہ تعالیٰ  
 ان فرموس موجود حسابے اندر قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلٰى هَيِّئٍ وَّوَقَدْ خَلَقْتِكَ مِنْ قَبْلُ وَّلَمْ تَكُ شَيْئًا چون  
 پروردگار چھو فرماوان یہ چھو مہ نشہ آسان۔ ان کماہ چھہ حقیقتہ اَسہ خوتہ بجر کامہ تہ ہتھہ مہ گر مژہ۔ مثلاً  
 ژہ چھو کہ پیدہ کورمت از کہ بروٹھ۔ ژہ اوسکھنہ کہنی۔ تھہ پاٹھ چھہ اسباب عادیہ تہ کینہہ چیز۔ یلہ بو پئنہ  
 قدر تہ سیت نیستس چھس ہست کران، ناؤدس چھس یود کران۔ معدوس چھوس موجود کران۔  
 اَس موجودس نشہ بیا کہ موجود پیدہ کرن یہ کیاہ مشکل چھوی ژہ مینس قدر تس نشہ بوزنہ یوان قَالَ  
 رَبِّ اجْعَلْ لِيْ اٰيَةً حضرت زکریا ان دوپ پروردگار اوعده سیت سپد م اطمینان۔ وون کر کھنہ میانہ

اَيْتُكَ الْاَيْتُكُمُ النَّاسُ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ⑩ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ  
 مِنَ الْبَحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ⑪  
 لِيَمِيزَ الْاَيْتُكُمُ بِقُوَّةٍ ⑫ وَأَتَيْنَهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ⑬ وَحَنَانًا  
 مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً ⑭ وَكَانَ تَقِيًّا ⑮ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ  
 جَبَّارًا عَصِيًّا ⑯ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ  
 يُبْعَثُ حَيًّا ⑰ وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا

مزید اطمینانہ خاطرہ کا بہہ علامتہا مقرر۔ سیمہ سیت مہ بحرہ ہافخرہ ژہ کوزتھ مہ عطا فرزند قال ایتک  
 الْاَيْتُكُمُ النَّاسُ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا اللہ تعالیٰ ان فرموس چون علامت نہ نشانہ چھو ژہ تھکھہ  
 تندرست آتھ۔ ترین شمن نہ ترین ڈوہن لوکن سیت تھہ کر تھہ فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْبَحْرَابِ  
 ہس دراؤتھہ منزہ پنہ نس قومس نشہ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تھہ بچن نہ کتر تھہ کینہہ  
 ہس ہوون تمن اشارہ کہ تھہ کمر و خدا یہ سزیا کی بیان صبحس نہ شامس۔ چنانچہ کینہہ کالاہ گوہہ حضرت  
 محیی سید پیدہ۔ تو پتہ یلمہ سوووت سن شعورس اللہ تعالیٰ فرماوان اسہ فرموس لِيَمِيزَ الْاَيْتُكُمُ بِقُوَّةٍ  
 ای محیی کتاب یعنی تورا اس کرزورہ تھپ۔ یعنی تھہ پیٹھ کرزورہ عمل تمہ ساتہ نہ اوس  
 تورا تھی تب شریعت۔ انجیل اوسنہ ونہ نازل سڈمت وَأَتَيْنَهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا بیہ کتر اسہ حضرت محیی  
 اس نبوت عطا لو کپارس منز وَحَنَانًا مِنْ لَدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا بیہ کتر اسہ عطا اس پنہ طرفہ  
 رقت قلب بیہ اخلاقن ہنزیاکیزگی بیہ اوس سو سیٹھاہ پر ہیزگار وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا  
 بیہ اوس سو فرمانبردار، خدمتگار ملس ماجہ ہند۔ بیہ اوس نہ سو مخلوقن نسبت سرکش نہ خالقن نسبت  
 نافرمان۔ پروردگارس نشہ آس تمہ سیت مکرم نہ محترم کہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان تہندہ حثہ وَسَلَامٌ  
 عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا سلام بوین تمن پیٹھ سیمہ دوہہ تم زاکے بیہ سیمہ دوہہ  
 تم سیمہ عالمہ گوسن بیہ سیمہ دوہہ تم مر نہ پتہ بیہ تلمنہ یلن زندہ سڈت وَأَذْكُرُ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ بیہ

مَكَانًا شَرِيفًا ۱۶ فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا  
إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا ۱۷ قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ  
بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا ۱۸ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ  
لِيُؤْتِيَكِ بِأَلْفِ عَلَيْهِاتٍ ۱۹ قَالَتْ إِنِّي أَنَا عَذُوبٌ مُعَذِّبٌ  
يَسْسِنُنِي بِشْرٍ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۲۰ قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكِ

پاوڑتیس قرآن مجید کس کس حصص اندر قصہ حضرت مریم  
یلہ الگ روز سو پنے نین گرہ کین لوکن نشہ الگ کس مکانس اندر نئس بیت المقدسکہ مشرقہ طرفہ  
اوس۔ ماہواری عذرہ نشہ پاکی ہند سران کرنہ خیطرہ **فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا** تروون آویزان  
تمن۔ پارکن ٹھور تہ پردہ تہ تہ ٹھرس تل روز تہ سو سران کرہ **فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا** امہ پتہ یلہ  
سران کمر تہ موکلے یہ، پلو لاگن اتی سوزا سہ تس نشہ پن روح یعنی جبریل امین علیہ السلام **فَتَمَثَّلَ لَهَا**  
**بَشَرًا سَوِيًّا** یوسے زودا سس بروٹھ کنہ انسان بنت در کمال حسن و جمال **قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ**  
**مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا** حضرت مرتس یلہ نظر پیہ تس پیٹھ۔ دپنہ لچ پناہ چھس بو مگان حضرت  
رحماتس ژہ نشہ چھٹھ ژہ شریف تہ خدایس کھوژہ ون یمہ جایہ نش سپد دور فوراً۔ تمن گنہیہ راسے یہ ماچھو  
کانہہ انسانی **قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ** جبریل امین دوئس بانبرمہ، بو چھوس نہ انسان بلکہ چھس  
بو چانس پروردگارہ سئدہ طرفہ سوزنہ آمت اکھ ماکہ اکھ **لَا هَبَّ لَكَ عِلْمًا ذِكْرًا** تہہ بوژہ عطا کرے  
خدایہ سئدہ طرفہ اکھ فرزنداہ اکھ نئس پاک و پاکیزہ تہ سئدہ بون آسہ۔ بو دے آس منزیا نالس منز پھوکھ  
تمہ اثرہ سیت تہ خدایہ سئدہ حمتہ سیت روزی ژہ شمس منز حمل تو پتہ زیوی ژہ فرزندہ **قَالَتْ أَنِّي**  
**يَكُونُ لِي عِلْمٌ وَلَمْ يَسْسِنُنِي بِشْرٍ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا** حضرت مرتس دوئس مہ تہہ پاٹھ بہ فرزند  
حالاکہ مہ چھونہ باقاعدہ کچ کمر تہ اتھ تہ لوگت کانہہ انسان و چھتان بہ چھنہ بوہد کار تہ آسموژانہہ  
**قَالَ كَذَلِكَ** جبریل دوئس تہہ پاٹھ کانہہ بشرہ سئدہ تہپ کرنہ و رای سپدہ ژہ نشہ فرزند پیدہ بو چھوسے

هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ ۖ وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ  
 أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝۲۱ فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۝۲۲  
 فَاجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثُّ  
 قَبْلِ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا ۝۲۳ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا  
 أَلَا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۝۲۴ وَهَزِي

نہ یہ پانہ دنان قَالَ رَبُّكِ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ بلکہ چون پروردگار چھو فرماوان ماس وراي ژہ فرزند  
 عطا کرن چھومہ نشہ سہل تہ آسان۔ بیه چھو چون پروردگار فرماوان کہ اس چھن بیه فرزند بلا اسباب  
 عادیہ پیدہ کران وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا تہہ کرون سو اس پندہ قدر تک اکھ نشانہ لو کن  
 ہندہ خیطہ، بیه لو کن ہندہ خیطہ پندہ رحمتک ذریعہا دنیاس اندر وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا اس فرزندہ  
 سند بے پدر پیدہ سپدن چھو اکھ طے کرنہ آمت امرہ، نِس ضرور عملہ اندر بپہ بیه چھہ کتہاہ فیصلہ کرنہ  
 آمرہ فَحَمَلَتْهُ پس تل حضرت مریم فرزندہ سند بار خود بخود، وچھان وچھان فَانْتَبَدَتْ بِهِ  
 مَكَانًا قَصِيًّا نِس گدیہ سو گھرہ نشہ دور سو حمل پتہ الگ اکھ کو ہس تہ جھٹلس منز فَاجَاءَهَا  
 الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ یلہ وضع حملک دود شروع سپدس تم داوواتا وسو اکھ خضر کلہ کس  
 گوؤس تل اکھ تھزر س پیٹہ، تہہ سیت ڈوکھہ و تہہ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِثُّ قَبْلِ هَذَا وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا  
 دپنن لآے کاش بو کونہ مٹوے نِس امہ برو نٹھی، تا اینکه گمہ آسہانا بود، ژیتہ سی آسہ ہانہ کانسہ ناوی بیه  
 ہم نہ کانہ فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا نِس دس آلو جبریل امین امہ تھزرہ بون کن اَلَا تَحْزَنِي قَدْ  
 جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا غمگین تہ آزرده مہ سپد۔ پز پات چان پروردگار کن کور ژہ بون کن  
 اکھ ناگہ راداہ اکھ جاری سمیگ آب اوس دواتمن سارنی عوارض ہند ہم پر پیکہ وقتہ زمانن لاحق چھہ  
 سپدان بیه سپز سو خوش نمہ ناگہ راؤک آب وچھت۔ طبعیتس منز سپدس فرحت و سرور پیدہ۔  
 وَهَزِي إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَدِيًّا بیه دہ ژہ دن پانس کن خضرہ کلہ

إِيَّكَ بِجَذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا ۖ ﴿٢٥﴾  
 فَكُلِيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا ۖ فَامَّا تَرِيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا ۗ  
 فَقَوْلِيْ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۖ ﴿٢٦﴾  
 فَاتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۗ قَالُوا أَيْرِمِّمْ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۖ ﴿٢٧﴾  
 يَا خُتُّ هُرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوِيًّا ۖ وَمَا كَانَتْ أُمَّكَ بَغِيًّا ۖ ﴿٢٨﴾  
 فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۖ ﴿٢٩﴾

کس گوڈس یہ تراوی ثیہ پیٹھ پوپ پوپ تازہ خضر فکلی و اشربی و قری عینا سم خضر کھہ ژہ، امہ ناگک آب چہ ژہ، امس نندہ بانس فرزندس کن و و جھت شہلا و پندہ آچھہ۔ یہ تلن یہ فرزند کو چھہ کیتھ تو پتہ گڑھہ پنہ نس قومس نشہہ فاماترین من البشر احدًا ہر گاہ و تہ پکان کانہہ انسانا و جھہ من، سوہیہ ژہ پر ژھن گارن فقو لی ائی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم الیوم انسیا ژہ ڈپ نس اشارہ پاٹھ، مہ ہجو خدیہ رحمانہ سندہ خیطہ روزہ داری ہند نذر تھوومت بوہیہ نہ کانہہ انسانس سیت ازتھہ کمر تھہ فانت بہ قومہا تحمیلہ چنانچہ واثریہ فرزند ہتھ پنہ نس قومس نشہہ، سو او نس کھونہ کیتھہ قالوا یرمیم لقد جئت شیئا فریا لو کو دو پھس ای مریم ژہ آیکھ اکھ عجیب کتھاہ ہتھہ، چاہہ ماس و رای یا خت ہرون ما کان ابوک امرًا سوہ و ما کان ائک بغیا ای ہشیرہ ہارون ژہ شریف زادہ چھہ نہ اوس مول چون بیچھہ شخصہ نہ آس موع چان بد کاریہ کیاہ کوڑتھہ ژہہ فآشارت الیہ تو پتہ ہوو کھ حضرت مر سکن اشارہ سیت امس فرزندس کن زہ امسی پر ژھو قالوا کیف نکلیم من کان فی المہد صبیًا تمو دو پھس اس تھہ پاٹھ گرو کتھ کھونہ منزہ کس لو کئس سیت۔ سم چھہ ونہ سمے کتھہ کران ام فرزندن ہمیوہ کتھہ کرن۔ قال ائی عبد اللہ اثنی الکتاب وجعلنی نبیا دوہن اے لو کو بیشک بوہجوس خدیہ سند خاص بندہ تم کرمہ عطا پن کتاب بیہ کور نس بو پیغبر وجعلنی مبرکا این ما کئت بیہ کور نس بو برکتہ و ول کیا زہ میانہ سیت و اتہ لو کن دینی نفع۔ یتہ نس بو روزہ، یوت یوت



قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ قَمَّ الْأَثْنِي الْكُتْبَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۖ وَجَعَلَنِي  
 مُبْرَكًا أَيْنَ مَا كُنْتُ وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ  
 حَيًّا ۖ وَبَرَّ أَبَوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۖ وَالسَّلَامُ  
 عَلَى يَوْمٍ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا ۖ ذَلِكَ  
 عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ۖ مَا كَانَ  
 لِلَّهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وُلْدٍ لِسُبْحَنَهُ ۖ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ

ہوواتہ تیرہ کرہ ہوا شاعت دین۔ وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا یہ کورمہ خدائےن تاکید  
 حکم نماز پر تک سے زکوٰۃ دنگ یوت کال بو زندہ چھوس دنیاس اندر وَبَرَّ أَبَوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي  
 جَبَّارًا شَقِيًّا یہ کورنس بوجاہہ ہند فرمانبردار، یہ کورنس نہ بو زبردست نہ بد بخت کہ خالقہ سند  
 حقوق کرہ ہاترک یا والدہ ماجدہ سند یو حقو قولشہ کرہ ہاسر کشی وَالسَّلَامُ عَلَى يَوْمٍ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ  
 وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا خدایہ سندہ طرفہ چھہ مہ پیٹھ سلام، سمہ دوہہ بوزاس بیہ سمہ دوہہ بو مرہ بیہ سمہ  
 دوہہ بودوبارہ زندہ سپدت تھو دیمہ ثلثہ ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ یوہے کیا گو حضرت عیسیٰ حضرت  
 مریمہ سند فرزند تمکن ہند احوال سے اقوال دننہ آئے سمہ سمیت تھند مقبول بندہ اُس ثابت سپدان چھو۔  
 نہ چھہ نصاریٰ ان ہنز تھہ صحیح کہ بندگی منزہ کڈ تھ الوہیتس منزواتناون۔ نہ چھہ یہودن ہنز تھہ صحیح کہ  
 مقبول بندہ آسنہ نشہ کڈ تھ تمکن پیٹھ بے شمار ہانزہ لاگنہ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ ییہ چھہ ہنز  
 تھہ ییہ منز لو کہ شک کران چھہ۔ نصاریٰ چھہ ونان یہ عیسیٰ چھو خدایہ سند چھو، حالانکہ مَا كَانَ لِلَّهِ أَنْ  
 يَتَّخِذَ مِنْ وُلْدٍ خدایہ سند شان چھونہ کہ سو کیا بناوہ کانسہ ہن پچو سُبْحَنَهُ سو چھو اولاد آسنہ نشہ  
 منزہ سے پاک۔ تم سند شان چھو کہ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ سُویلہ ارادہ چھو کران کمنہ  
 چیزہ کہ پیدہ کر تک سو چھونہ تھہ چیزس ونان کینہہ سے مگر لفظ کُن یعنی پیدہ سید، اتی چھو سو چیز پیدہ  
 سپدان، از عدم بوجود دیوان۔ حضرت عیسیٰ سے کورن سے پاتھ حکم کُن پیدہ۔ چھس باکمال خدائیس پچو

لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۲۵﴾ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوا هَذَا  
 صِرَاطَ مُسْتَقِيمٍ ﴿۲۶﴾ فَأَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ قَوْلًا  
 لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۲۷﴾ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ  
 يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنَ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿۲۸﴾  
 وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ  
 لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۲۹﴾ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا

آس چھو عیب تہ نقصان۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوا یہ چھو بیشک میوں تہ تہند پروردگار  
 اللہ تعالیٰ۔ پس کمر و تہنزی عبادت ہذا صِرَاطَ مُسْتَقِيمٍ یہ چھو سبیز و تھ توحیدس پیٹھہ یٹھ  
 دلیل آسھہ باوجود فَأَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ پس توحیدس انکار کمر تھ کمر الگ الگ و تھ  
 اختیار مختلف جماتو ترمواندرہ قَوْلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدٍ يَوْمٍ عَظِيمٍ جس افسوس تہن لوکن سمو  
 انکار کور۔ تہن لکھہ بڑھہ دوہہ ضرور حاضر سپن پیہ ملک الجبارس برو تھہ کن یعنی قیامتگ دوہہ أَسْمِعْ بِهِمْ  
 وَأَبْصِرْ کوتاہ آس تہم پور بوزہ ون تہ پور وچھہ ون تہمہ دوہہ يَوْمَ يَأْتُونَنَا لَكِنَ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ  
 فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ مگر ازچھہ تہم عالم دنیاس اندر تہہ گرا ہی اندر وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ  
 قُضِيَ الْأَمْرُ پیہ کمر و تہن بیم حسرت و افسوس تہہ ڈہک بیمہ دوہہ پٹم فیصلہ پیہ ونہ جہنم تہہ دوزخین  
 برو تھہ کتہہ پیہ مونس گھس کرنہ۔ دوشوے بین بوزناونہ حکم خلور۔ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ  
 و تیکنس دنیاس اندر چھہ تہم لوکھ غفلتس اندر بوڈمت تہم چھہہ پڑھہ کران آخر چھو تہن اکہ دوہہ مران  
 إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ پزپاٹھہ اسی چھہہ پتولا کہ ساری زینک وارث۔  
 پیہ تہن سارنی لوکن ہند تہم تھہہ زیمنس پیٹھہ چھہہ۔ پیہ چھو سارنی پتولا کہ آس کن واٹن تہہ رجوع کرن۔  
 تو پتہ کھین تہم سزا شرک تہہ کفرک وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ پیہ کمر و لوکن نشہ ذکر قرآن مجیدس  
 اندر جس قصہ حضرت ابراہیمہ سُنَد چھو پیٹھہ تہن توحید و رسالتگ قصہ پور متکشف سپدہ إِنَّهُ كَانَ

يُرْجَعُونَ ﴿۳۱﴾ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمَ ۗ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيقًا  
 نَبِيًّا ﴿۳۲﴾ اِذْ قَالَ لِاٰبِيهِ يٰاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَاَلْيَبْصِرُ وَاَلْيَغْنٰى  
 عَنْكَ شَيْئًا ﴿۳۳﴾ يٰاَبَتِ اِنِّىۤ اِنۡىۤ قَدْ جِآءَنِىۤ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ  
 يٰاَتِكَ فَاتَّبِعْنِىۤ اِهۡدِكْ صِرٰطًا سَوِيًّا ﴿۳۴﴾ يٰاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ  
 اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ﴿۳۵﴾ يٰاَبَتِ اِنِّىۤ اَخَافُ اَنْ  
 يَّمْسَكَ عَذٰبِىۤ مِنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ﴿۳۶﴾ قَالَ اَرَاغِبُ

صِدِّيقًا نَبِيًّا بیشک آس تم پر تھہ کتھہ منز پوزونہ وٓن۔ بیہ آس پیغمبر اِذْ قَالَ لِاٰبِيهِ يٰاَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ  
 مَا لَا يَسْمَعُ وَاَلْيَبْصِرُ وَاَلْيَغْنٰى عَنْكَ شَيْئًا یلہ تمو فر مووالس پنہ نس، نُس مشرک اوس اے میانہ  
 بابہ ژہ کیا زہ چھکھ پر ستش کران تمن پوتلین ہنز تم نہ کینہہ بوزان چھہ بیہ تم نہ کینہہ وچھان چھہ بیہ  
 سمنے کتھہ کامہ بکار پوان چھہ، کینہہ کمر تھہ ہیکان چھہ۔ مُراد چھو امہ منزہ پوتل۔ حالانکہ ہر گاہ تم پوتل  
 وچھہ بن تہ بوزہ بن تہ کتھہ کامہ تہ لگ بن توتہ آس نہ تم قابل پر ستش کیا زہ واجب الوجود آس نہ۔ وٓن  
 چھہ کتھہ حاس اندر یٰاَبَتِ اِنۡىۤ قَدْ جِآءَنِىۤ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يٰاَتِكَ فَاتَّبِعْنِىۤ اِهۡدِكْ صِرٰطًا سَوِيًّا  
 ای میانہ بابہ میہ نشہ چھو وٓسمت خدایہ سندہ طرفہ اکھ علماہ۔ نُس نہ ژہ نشہ وٓت تھہ منزہ غلطی ہند کتھہ  
 قسمہ احتمالے چھو۔ ژہ چھہ نہ صح خبری۔ لہذا پچھتہ ژہ میانہ وٓتہ۔ میان متابعت کرتہ۔ بوادہ ہے  
 سیز و تھہ یعنی توحید و تھہ یٰاَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلرَّحْمٰنِ عَصِيًّا ای میانہ بابہ متہ  
 کرتہ شیطانہ سنز پر ستش یعنی شیطانہ سندہ وٓنہ موجب پوتلین ہنز پر ستش۔ پز پاتھہ یہ شیطان چھو  
 اوٓسمت گوڈہ پٹھے خدایہ سند نافرمان لہذا شو بیا مسز پیروی کرن یٰاَبَتِ اِنۡىۤ اَخَافُ اَنْ يَّمْسَكَ عَذٰبِىۤ  
 مِنَ الرَّحْمٰنِ فَتَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا ای میانہ بابہ مہ چھہ ٹھہ ژہ گوڑھوی نہ حضرت رحمانہ سندہ  
 طرفہ کانہہ عذابہ وٓلند بن بس گڑھکتہ ژہ شیطانہ سند رفیق بن عذابس اندر قَالَ اَرَاغِبُ اَنْتَ عَنِ  
 الرَّحْمٰنِ يٰاِبْرٰهِيْمُ تم مال دونس تورہ ای ابراہیم ژہ چھکھ میانین معبودن نشہ تھہ پھر ان کین گم

أَنْتَ عَنِ الْهَتَىٰ يَا بَرِّهِمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَه لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي بَلِيًّا ۝  
 قَالَ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ۝  
 وَاعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا  
 أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا ۝  
 دُونَ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا ۝  
 وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝

تَنْتَه لَأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي بَلِيًّا ہر گاہے ژہ امہ نشہ پتھ روز کھ کنہ لای لای گز تھہ بوسگسار۔ چھنے پان  
 پچاون تلہ روزمہ نشہ کینہہ کالاہ دور قَالَ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا حضرت  
 ابراہیم دوئس میاہ طرفہ چھے سلام۔ توتہ معھہ بوجاہہ خیطرہ پنہ نس ہد وردگار س مغفرت۔ بیشک سو  
 چھومہ پیٹھ سیٹھاہ مہربان وَاعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَأَدْعُوا رَبِّي عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي  
 شَقِيًّا بوروزہ الگ اکھ توہمہ نشہ بیہ تمن تہمہ عبادت کران چھوہ معبود برحقس وراہ۔ توپتہ کرہ بو  
 اطمینانہ سان الگ روزت پنہ نس پروردگارہ سز عبادت۔ بیہ چھہ امید کہ بوروزہ نہ پنہ نس  
 پروردگار س عبادت کمرت محروم تہ نامر ادچتھ پاتھ بت پرست پنہ نین باطل معبودن پرستش کمر تھہ  
 محروم تہ نامر ادچھہ روزان۔ یہ تھہ باتھ کمر تھہ سپد تمن نشہ علیحدہ ملک شامس کن کمر کہ ہجرت قلتا  
 اعْتَزِلْهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ادہ یلہ حضرت ابراہیم تمن نشہ بیہ تھمدین معبودان باطلن  
 نشہ، بہنر تم معبود برحق تراو تھہ پرستش کران آس جد اسپدت تمہ شہرہ نشہ ہجرت کمر وَهَبْنَا لَهُ  
 إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا عطا کوراسہ حضرت ابراہیمس دوئم فرزند اسحاق بیہ فرزندہ مند  
 فرزند یعقوب علیہ السلام۔ بیہ کمر اسہ تم دو شوے صاحب پیغمبر۔ تم رفاقتہ خیطرہ بت پرست برادری  
 خوتہ بہتر آس۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا بیہ کمر اسہ تمن واریاہ قسمک کمالات عطا کمرت پنہ  
 رحمتک اکھ حصہ عطا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا بیہ کوراسہ آیندہ نسلن اندر تھمد ناونیک تہ

وَأَذْكُرُنِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۝۵۱  
 وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۝۵۲ وَ  
 وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۝۵۳ وَأَذْكُرُنِي الْكِتَابِ  
 إسماعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ۝۵۴ وَ  
 كَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝۵۵  
 وَأَذْكُرُنِي الْكِتَابِ إدرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ۝۵۶ وَرَفَعْنَاهُ

بند۔ ساری آسن تعلیمہ سان تہمد ذکر خیر کران۔ اسحق علیہ السلامس بروئھ اوس اسہ تمین گوڈنیک  
 فرزند اسماعیل علیہ السلام عطا کورمت۔ تمین اندر تہ آس تے صفات۔ تہمد ذکر بیہ بروئھ پنھن  
 وَأَذْكُرُنِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ بیہ کمر و ذکر قرآن مجیدس منز حضرت موسیٰ سند قصہ۔ یعنی سوکتر ولوکن  
 نیشہ بیان إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا تم تہ آس پز پانھ خاص کرنہ آمت بندہ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا بیہ آس  
 تم رسول تہ تہ نبی تہ تمین آس سم دوشوے شان وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ  
 نَجِيًّا بیہ دیت اسہ تمین نادوہ طورہ کہ دھنہ طرفہ کن۔ بیہ گرہ اسہ تمین سیت سیزہ تھہ پانس نکھ  
 ائھ۔ وَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا بیہ کور اسہ تمین پنتہ مہربانی سیت تہمد برادر ہارون  
 علیہ السلام پیغمبر بناوتھ عطا تہمدہ درخواست کرنہ موجب تہمدہ مددہ خیطرہ وَأَذْكُرُنِي الْكِتَابِ  
 إسماعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا بیہ کمر ولوکن نیشہ ذکر قرآن مجیدس اندر  
 اسماعیل علیہ السلامہ سند حال۔ بیشک تم آس وعدہ پز گرہ ون۔ بیہ آس تم رسول تہ نبی۔ تمین تہ آس  
 دوشوے شان وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا بیہ آس تم پنے نس عیالس  
 حکم کران نماز پر نگ بیہ زکوٰۃ ونگ۔ بیہ آس تم پنے نس پروردگارہ سند مقبول بندہ وَأَذْكُرُنِي  
 الْكِتَابِ إدرِيسَ بیہ کمر و ذکر قرآن مجیدس اندر حضرت ادریسہ سند حال لوکن نیشہ بیان۔ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا  
 نَبِيًّا بیشک آس تم سیٹھہ پزیر پیغمبر وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا بیہ واتا واسہ تم کلماتن اندر تھدس

مَكَانًا عَلِيًّا ۝ اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ  
 مِنْ ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ وَاٰدَمَ وَمِنْ حٰمِلَتَا مَع نُوحٍ وَّوَمِنْ ذُرِّيَّةِ اِبْرٰهِيْمَ  
 وَاِسْرَءٰٓءِيْلَ وَاٰدَمَ وَمِنْ هٰدِيْنَا وَاٰجْتَبَيْنَا اِذَا تَلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ  
 الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّوَبٰكِيًّا ۝ فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ  
 اَضَاعُو الصَّلٰوةَ وَاَتَّبَعُو الشَّهْوٰتِ فَاَسُوۤفَ يَلْقَوْنَ عَذٰبًا ۝  
 اِلَّا مَن تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا فَاُوَلِّكْ يَدٌ خُلُوْنَ

مر تیس ٹھہرہ جاہیہ اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيِّنَ سے پیغمبر گئے تم سے اللہ تعالیٰ ان سے انعام کور عطا پیغمبر و آندره من ذُرِّيَّةِ اٰدَمَ تم ساری پیغمبرہ چھہ حضرت آدمہ سندہ ذریۃ آندره وَاِسْرَءٰٓءِيْلَ بیہ تمواندرہ تم اسہ کھارناوہ اندر حضرت نوح سےیت۔ وَاِسْرَءٰٓءِيْلَ بیہ حضرت ابراہیمہ سندہ ذریۃ آندره وَاِسْرَءٰٓءِيْلَ بیہ حضرت یعقوب سندہ ذریۃ آندره وَاِسْرَءٰٓءِيْلَ بیہ تمواندرہ تم اسہ و تھ ہا، بیہ تم اسہ مقبول تہ برگزیدہ کمر، باوجود اسہ مقبولیتہ آس تم بندگی اندر تھ منہیک کہ اِذَا تَلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُ الرَّحْمٰنِ خَرُّوْا سُجَّدًا وَّوَبٰكِيًّا یلہ تم پیٹھ حضرت رحمانہ سندہ آیات پر نہ آس یوان تان آس تم کمال عاجزی و انکساری سجدہ ووان۔ ووان ودان زمینس پیٹھ کلہ تراوان۔ یان پان بز تھ ووان فَخَلَفَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُو الصَّلٰوةَ توپتہ آس تم پیٹہ تھبہ بعضی خلف سمو نماز برباد تہ ضائع کر۔ خواہ اعتقاداً انکار کرنہ سےیت خواہ عملاً سوادا کرنس اندر کوتاہی کرنہ سےیت یا تمہہ کین ضروری حقوقن تہ آدابن اندر کوتاہی کرنہ سےیت۔ وَاَتَّبَعُو الشَّهْوٰتِ بیہ کر کہ ناجائز نفسہ چن خواہش ہنز پیروی فَاَسُوۤفَ يَلْقَوْنَ عَذٰبًا پس وچھن تم عنقریب آخرتس منزج خرابی، خواہ ابدی خواہ غیر ابدی اِلَّا مَن تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ صٰلِحًا فَاُوَلِّكْ يَدٌ خُلُوْنَ الجَنَّةَ وَلَا يَظْلَمُوْنَ شَيْئًا مگر سمو کفر و معصیۃ نشہ توبہ کر تھ ایمان اون تہ رزہ عملہ کر کیہ، پس تم لو کہ واتن جنتس اندر گنہ تسج خرابی وچھنہ ورا۔ بیہ بیچھنہ ظلم کرنہ گنہ قسمہ۔ جَدَّتْ

الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۖ جَنَّتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ  
الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ۖ لَا يُسْمَعُونَ  
فِيهَا الْغَوَا الْأَسْلَمَاءُ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا ۖ  
تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۖ  
وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا  
وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۖ رَبُّ السَّمَوَاتِ

عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا تمن جنن منزوانن سمن منز  
همیشه روزن آسکھ۔ سمن جنن ہند حضرت رحمان پنہ نین سیت وعدہ کورمت چھو غابانہ۔ پز پانھ  
تہند وعدہ چھو پورہ کرنہ آمت یعنی تمہ کس پورہ سپد نس اندر چھونہ شکھی کاہنہ لایسعون فیہا لغوا  
تمن جنن منز بوزن نہ تم کاہنہ بیہودہ کتھاہہ الاسلاما مگر پریتھ طرفہ آسن سلائے سلامہ۔ پانہ وان  
تہ سلائے ملاکن ہندہ طرفہ تہ سلائے وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَشِيًّا تہندہ خیطرہ چھو تمن جنن  
اندر کھن تہند، صحن تہ شامس تہ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا سمن جنت  
سمن ہند ذکر کرنہ آکر واس عطا ور شپانھ پنہ نیوبند واندرہ تمن تم شانت تہ پر ہیزگار آسن وَمَا نَنْزِلُ  
إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ جبریل امینہ سدس پنس منز سپد کینہہ کالاہہ تاخیر تہ کافروہیت طعنہ دن، نبی کریم صلی  
اللہ علیہ وسلم ہند دل مبارک سپد آزدہ۔ تمہ پتہ یلہ جبریل امین آؤتمو پر ژہس تاخیر رک سبب اللہ  
تعالیٰ ان فرمو جبریل امینس ژہ ون امیک جواب کہ وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ آسن نہ حض چھنہ  
ز مینس پیٹھ وسان مگر تہندس پروردگارہ سدس لحمہ لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلك تہ  
سوڑی بیہ آسہ بروٹھ کتہ چھو آیندہ، بیہ بیہ آسہ پتہ کتہ چھو گزشتہ وفس اندر، بیہ بیہ اتھ در میان چھو  
موجودہ وفس اندر، سارگوئی چھو خدا نس پور علم وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا بیہ چھونہ پروردگار تہند کاہنہ چیز  
مخراوہ ون رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا سوئی چھو مالک آسمان تہ زمین ہند بیہ بیہ

وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ  
 لَهُ سَمِيًّا ۝۶۵ وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَاتَ لَسَوْفَ أَخْرَجُ حَيًّا ۝۶۶  
 أَوْلَايِدْ ذِكْرُ الْإِنْسَانِ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۝۶۷  
 فَوَرَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيْطَانَ ثُمَّ لَنَحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ  
 جِثِيًّا ۝۶۸ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ  
 عِتِيًّا ۝۶۹ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا ۝۷۰ وَإِنْ

سمن منزاگ چھو فاعبده واصلبر لعیبادتہ پس کمر و تہزی عبادت تہ پر ستش۔ تہز عبادت کرنس  
 اندریم تکلیف واتوہ تمین پیٹھ کمر و صبر هل تعلم له سمیئا کیاڑہ چھو ہنہ ہرز انان تسند کانہ ہم  
 صفتہا۔ سو چھو سوئی تس ہیو چھونہ کانہ تہ۔ تس یاڑ عبادت کرن ہتھ لازم و یقول الانسان اذا  
 مات لسوف اخرج حیا بیہ چھو یہ انسان یسنہ قیامت چڑھ ہتھ، ونان کیاہ یلہ بو مرہ تو پتہ سہما بو قبرہ  
 منزہ بیہ زندہ کمر تھ نبر کڈنہ اولاید ذکر الانسان انا خلقنہ من قبل ولم یک شیئا کیاہ یہ انسان چھنا  
 پاوان تہمیں کہ اسہ کوریہ پیدہ برو تھ حالہکہ یہ اوسنہ کبھی عدم محضہ منزہ یلہ اسہ توگ سو وجودس اندر  
 اُن مرنہ پتہ بیہ دوبارہ زندہ کرن کیاہ عجیب چھو فوریک لنحشرنہم والشیطن ثم لنحضرنہم حول  
 جہنم جیتیئا تہمیدس پروردگارہ سند قسم اس کرو کہ تم قیامتگ دوہ بیہ پیدہ، تو پتہ سو نبر او کہ تم  
 ساری انسان بیہ ساری شیطان تو پتہ انوکہ اس تم ساری تھاو کہ حاضر جہنمس لند لند ہیبتہ سیت اسن تم  
 کوٹھین پیٹھ روز تھ، روز تھ گمت ثم لنزغنن من کل شیعة ایہم اشد علی الرحمن عتیئا تو پتہ  
 کڈو کہ الگ پریتھ جماعتہ منزہ تم تم اشخاص سم تمواندرہ اسن حضرت رحمانہ سند زیادہ نافرمان تہ  
 سرکش ہتھ تم گوڈنی بین نارس منزدارتھ ونہ اسہ ہتھ ضرورت تمن متعلق تحقیقات کرچ ثم  
 لنحن اعلم بالذین هم اولی بها صلیئا کیاڑہ اسہ چھو پور علم تمن لوکن ہند سم جہنمس واتس زیادہ  
 سزاوار ہتھ وان منکم الا وادھا کان علی ربک حمائم قضا کیاڑہ اسہ چھونہ کانہ اکھاہ توہہ اندرہ یسنہ



مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا ﴿٤١﴾ ثُمَّ نُنَجِّي  
الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثْيًا ﴿٤٢﴾ وَإِذْ اتُّتِلَى عَلَيْهِمْ  
الْإِنجِيلُ بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ  
خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٤٣﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ  
أَحْسَنُ آثَانًا وَرِعْمِيًّا ﴿٤٤﴾ قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَبْذُذْهُ  
الرَّحْمَنُ مَدَاءً حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا

پہرہ امہ جہنمہ کن۔ یہ چھو تھندس پروردگارہ سندہ وعدہ موجب اھ لازم موكد، اھ معلماہ نُس ضرور  
پورہ سپدہ۔ ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا تو پتہ دمواس نجات تمن لو کن تم پتہ رود کفر ہ نشہ خر کہ  
نُشہ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثْيًا باقی تراود کہ اس تھہ جھنم اندر ظالم یعنی کافر ہمیشہ روزنہ خیطرہ  
ثُریدل کمر تھہ وَإِذْ اتُّتِلَى عَلَيْهِمْ الْإِنجِيلُ بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا  
وَإَحْسَنُ نَدِيًّا بیہ یلہ پر نہ یوان چھہ تمن مُکرن برو تھہ کنہ سائہ نہہ دلیلہ نہ واضح آیات دنان چھہ  
کافر نہ مُکربالیمان نہ پڑھہ والین اسہ نہ تو بہ منز کوسہ جماعت چھہ بہتر جایہ کن بیہ کوسہ جماعت چھہ رث  
مجلسہ کن۔ یہ تھہ چھہ ظاہر کہ خانہ گی نہ مجلسی سازو سامان وغیرہ چیزن اندر چھہ اس تھہ تھندہ خوتہ۔  
دو تم تھہ چھہ یہ کہ محبوبی چھو کھیاد نہ چاونہ یوان امہ منزہ چھو ثابت سپدان کہ اسی چھہ محبوب خدا نُس  
نُشہ نہ تہہ چھو ہ مردود۔ اللہ تعالیٰ چھو بہندس ونس رذکران۔ فرماوان چھو وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ  
قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ آثَانًا وَرِعْمِيًّا اسہ چھہ کاژاہ جماژ ہلاک نہ تباہ گرموہ سمہ تمن برو تھہ آسہ۔ تمہہ نہ  
آسہ سازو سامانہ کن نہ ظاہری صورتہ کن اہندہ خوتہ نہ رثہ۔ دو تم جواب گو قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ  
فَلْيَبْذُذْهُ الرَّحْمَنُ مَدَاءً فرماو یو کہ تہہ تم لو کہ گمراہی منز چھہ یعنی تہہ ای کافر ونس تراوان چھو تمن  
یلہ حضرت رحمان پورہ پاٹھ یعنی مُہلت چھو کہ دوان تھہ تمن ناو بر نہ بیہ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ  
تا یلہ یلہ و تھن تم نہ سو روی تمیک تمن وعدہ یوان چھو تھاونہ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّعَاتَةَ اودہ سو

السَّاعَةَ فَيَسْئَلُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَعُفُ جُنْدًا ﴿۴۵﴾  
 وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ  
 خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ﴿۴۶﴾ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ  
 بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا ۗ أَطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ اتَّخَذَ  
 عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿۴۷﴾ كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ  
 الْعَذَابِ مَدًّا ﴿۴۸﴾ وَتَرْتَبُهُمْ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ﴿۴۹﴾ وَاتَّخَذُوا

دنیا کے عذاب آسہ یا قیامت آسہ فَيَسْئَلُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَعُفُ جُنْدًا جس سے صحیح تمہیں  
 زائن کو وہ چھو خراب سے پیچھے جاوے کن بیہ کلمہ چھو بالکل کمزور لشکر کہ نہ مددگاروں کی وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ  
 اهْتَدَوْا هُدًى بیہ چھو ہر راوان اللہ تعالیٰ سیزہ وقتہ پیٹھ پکھ و نین ہدایت جس سر مایہ نجات چھو  
 وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا بیہ چھو تمہہ رزہ کاملہ تمہہ روزہ نہ چھو بہتر  
 تمہہ نرس ہر روز دگار رس نشہ ثوابہ کن بیہ چھو تھے بہتر انجامہ کن أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ  
 لَأُوتِيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا کیا ہ توہمہ و چھوہ تہ شخصہ سند حال سم سانین آیاتن انکار کور۔ ونان چھو سو ٹھٹھہ  
 پاٹھ مہ بیہ آخرتس منزرتہ مال نہ اولاد عطا کرنہ۔ غرض اسمنز حالتتہ چھو قابل تجب أَطَّلَعَ الْغَيْبَ  
 أَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا کیا ہ سنایہ چھا غیبس پیٹھ مطلع سپد مت کنہ ام چھو حضرت رحمانس  
 نشہ کا نہہ عہدہ حاصل کور مت اتھ کتھہ پیٹھ کلا ہر گز نہ بیہ چھو محض غلط ونان سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ  
 اس چھو لیکتھ تھا وان اسمنز ہ تھہ تمہن تمہن پیٹھ نہ جس سزاونہ۔ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا اس  
 و موسیٰ شاہ ز پتھر اسندس عذابس اندر وَتَرْتَبُهُمْ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا بیہ چھو اسی وارثتہ مالک  
 تمہہ سار کی سمیگ یہ ونان چھو یعنی مال نہ اولاد۔ سو وائتہ آسہ نشہ کبوی زون۔ نہ آسبس مالی سبت نہ  
 آسبس اولادی سبتِ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهًا لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا بیہ چھو سمومشر کو خدا جس وراوی  
 معبود مقرر کر مت یٹھہ تمہن بن تمہن حالی تہ مددگار کلا تہ ہر گز نہ نہ سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ

مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةٌ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۗ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ  
 بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۗ (۸۱) أَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيْطِينَ  
 عَلَى الْكٰفِرِينَ تَؤُؤُهُمْ أَزًّا ۗ فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۗ إِنَّمَا نَعْدُ لَهُمْ عَذَابًا ۗ (۸۲)  
 يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا ۗ (۸۳) وَنَسُوقُ الْمَجْرِمِينَ  
 إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ۗ (۸۴) لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ  
 الرَّحْمٰنِ عَهْدًا ۗ (۸۵) وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا ۗ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا

وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا بلکہ کرن تم ضرور انکار تمہزہ پرستشہ بیہ آسن تم تہہہ مخالف تہ دشمن۔ تہہہ  
 چہوہ کافر ن ہنزہ گراہی پیٹھ غمگین سپان۔ اَلَمْ تَرَ أَنَا أَرْسَلْنَا الشَّيْطِينَ عَلَى الْكٰفِرِينَ تَؤُؤُهُمْ أَزًّا کیاہ  
 توہہ چہنا معلوم کہ آسہ چہہ ہنر وومت شیطان کافر ن پیٹھ تم تہن کفر وگمراہی تہ نافرمانن پیٹھ آمادہ  
 کران چہہ، تکان چہہ، ٹس پائے دشمن بد خواہہ سہہ وونہ موجب پچہ تہند شوہیا غم کھیون ۗ فَلَا تَعْجَلْ  
 عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعْدُ لَهُمْ عَذَابًا پس مہ کرو تہہہ درخواست تہہہہ مجلدی عذابس گرفتار سپدہ خیرہ، اس چہہہ  
 ہنزہ ہتھہ تم تہن پیٹھ تہن عذاب پیہہ کرنہ پانہ گزراوان۔ سو عذاب پیہہ کرنہ تہن تہہہ دہہہ یَوْمَ  
 نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا سمہہ دہہہ اس منتہی تہ پرہیزگار مہمان ہند پاٹھ جمع کرو کہ عزتہ  
 سان، حضرت رحمانہ سہہس مہمان خانس اندر جماؤ و جماؤ و نَسُوقُ الْمَجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا بیہ  
 سمہہ دہہہ پکناو کہ کمال خواری اس نافرمان چہہہٹس ٹن تریشہ تریشہ کران۔ لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا  
 مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا اختیار آسہ نہ کانہہ کس شفاعت تہ سفارش کرنک مگر تہس سم  
 حضرت رحمانس نش کانہہ عہدہہ تہ اجازت حاصل آسہ کورمت وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمٰنُ وَلَدًا بیہ چہہہ  
 سم کافر ونان حضرت رحمانس چہہہ اولاد۔ نصاریٰ چہہہ ونان عیسیٰ علیہ السلامس، یہود چہہہ ونان عزیز  
 علیہ السلامس، مشرکین عرب چہہہ ونان ملائک، سم چہہہ خدایہ سہہہ پٹو تہ کورہ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِذَا

إِنَّ كَذَّابَاتِ السَّمَوَاتِ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشُقُ الْأَرْضَ وَتَخْرِجُ الْجِبَالَ هَذَا  
 هَذَا ۹۰ أَنْ دَعَوَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۹۱ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۹۲  
 إِنَّ كُلَّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنُ عَبْدًا ۹۳ لَقَدْ  
 أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۹۴ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ۹۵  
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ  
 وُدًّا ۹۶ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ

پہر پاہر تہہ آوہ کتھاہہ بیتھہ سیتھاہہ مشکل تکاذ السّموات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هذا  
 یہ چتھہ تہتھہ مشکل کتھاہہ کہ قریب چھو آسان ماگڑھن امہ کتھہ سیت چھلہ، بیہ ماچھڑہ زمین، بیہ ماچین  
 دستھہ کوہ سورگڑھتھہ ان دعوا للرحمن ولدا اتھہ تھہ پیٹھہ کہ کو ٹھہراو حضرت رحمان اولاد وما  
 ینبغی للرحمن ان یخذ ولدا ہرگز چھونہ سزاوار حضرت رحمان تس کیا آسن اولاد ان کل من فی  
 السّموات والأرض إلا آتی الرحمن عبدا کیاڑہ چھونہ کاہنہ آسان تہ زمین اندر ئس نہ حضرت  
 رحمان برو ٹھکن غلام بنتھہ حاضر سہان چھو لقد احصاهم وعددهم عددا بیشک تم چھو ساری  
 بدن چنہ قدر تہ سیت احاطہ کورمت، بیہ چھن ساری گنڑہ تھہ تھاومت یہ گودنیاس اندر وکلھم  
 آتیہ یوم القیامہ فردا بیہ واتن قیامت دہہ تم ساری تس برو ٹھکن لہ لہ۔ کھوی زن کاہنہ تہ سیت  
 آسینہ۔ ان الذین امنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا پہر پاہر سمو ایمان اولن بیہ  
 کر کیکہ رتھہ عملہ، ضرور کرہ اللہ تعالیٰ ضروری نعمتو علاوہ دنیاس اندر تھنہ محبت پیدہ لو کن ہندین وکن  
 اندر۔ تھہ فرماو تھن بشارت ارج فانما یسرنہ بلسانک لتبشیرہ المتقین وتنذیرہ قومالدا اسہ  
 کورنہ سہل تہ آسان یہ قرآن مجید تہزہ زیوہ یعنی عربی پاٹ مگر کوری مؤکھ بیتھہ تھہ بشارت فرماو  
 شانین تہ پرہیز گارن بیہ بیتھہ تھہ بیم کرو، کھوڑہ ناویون امہ (قرآن مجید) سیت ہزل قوم وکم

بِهِ قَوْمًا لَّدَا ﴿۱۶﴾ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ يُحِصُّ  
 مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْوًا ﴿۱۷﴾

أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ هَلْ يُحِصُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْوًا <sup>۱۶</sup> بیه کاژاہ جماژنا فرمان ہنزہ  
 کرہ آسہ ہلاک تہ تباہ از کین نا فرمان برو نٹھ۔ ٹہہ چھونہ لبان تمو اندرہ کاژشاہ یا چھوہ بوزان تہندہ کو تہ  
 لو تہ پچ آوازہ ٹہند نام ونشان تھوونہ آسہ ٹنہ۔ تہتھ پاٹھ سم ٹہنز مخالفت گرن سکن تہ بندہ تہنزی باش۔  
 خوش روزو۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 طه ۱ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ۖ إِلَّا تَذَكُّرَةً لِّمَن  
 يَخْشَى ۗ ۲ تَنْزِيلًا مِّنْ خَلْقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى ۗ ۳  
 الرَّحْمَنِ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۗ ۴ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي  
 الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ۖ ۵ وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ  
 فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ۗ ۶ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ

طه اسم چھ حروف مقطعات و آندرہ اسم ہند معنی زائد پانہ خدا مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى اسہ کورنہ نازل توہہ پیٹھ یہ قرآن مجید بٹھ جہہ پانس تکلیف تہ محنت و اتناوو اِلَّا تَذَكُّرَةً لِّمَن يَخْشَى بلکہ کور نازل تس شخصہ سندہ نصیحتہ خیرہ تس کھوژان اسہ تَنْزِيلًا مِّنْ خَلْقِ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَى یہ قرآن مجید چھو نازل کرنہ آمت تس خدیہ سندہ طرفہ سم زمین تہ تھد آسمان پیدہ کمرمت چھہ الرَّحْمَنِ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى سمند اکھ ناو چھو رحمن۔ تس عرش پیٹھ قائم چھو۔ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى ٹھندی چھو تہ سو روی یہ آسمان تہ زمین منز چھو۔ یہ تہ سو روی یہ سمکون منز باگ چھو۔ یہ یہ زمین تل چھو وَإِنْ تَجَهَّرَ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى تھندہ علی کیفیت چھہ یہ کہ ہر گاہ ژہ اے مخاطب بدہ کتھ کر کہ کج چھنہ کھی، سو چھو لوت لوت تھہ تہ بوزان۔ یہ لوتہ خوتہ لوت کتھہ تہ بوزان، یوسہ ونہ دلہ سی منز اسہ۔ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى سو چھو سو معبود برحق، کاہنہ معبوداہ چھونہ تس ورائی، تس چھہ رت نام پاک سم تھندین صفاتن تہ کمالاتن پیٹھ دلالت چھہ کران۔ تی ذات مجمع الصفاتن کور نازل یہ قرآن مجید

الْحُسْنَىٰ ۝ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ۝ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ  
 لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ  
 أَجْدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۝ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَمْوَسَىٰ ۝ إِنِّي أَنَا  
 رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۝ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۝  
 وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ۝ إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا  
 أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ۝ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ بے چھا تو بہہ ای محمد واثر مزموسیٰ علیہ السلام سندہ فصیح خبر۔ سو قصہ چھو  
 بوزنس لایق۔ تھہ منز چھہ توحیدس متعلق علوم، سمن ہند تبلیغ مزون نفع دوہون چھوئیس ہتھہ پاٹھ واقع  
 سڈمت چھو۔ اذ رانا افاقال لاهلہ امکشوا انی آنست نارا لعلی آتیکم منہا بقبس او اجد علی النار  
 ہدیٰ یلہ تمو وچھہ دورہ اکھ نارہ یلہ تم شہر مدیس نشہ واپس یوان آس وتہ لکھہ راتھ بے لکھہ  
 سردی ئس دوچھہ عیالس پنہ ئس جہہ ٹھہر ویتہ تھی۔ مہ اولبنہ نارہ ئس نور اوس مگر شکل آس  
 نارچ۔ بوگٹھہ تھہ جابہ دیوہ بوتورہ انہ تمہہ نارہ منزہ تہندہ خیطرہ تنیکلہ ہتھہ سردی ہند  
 علاج سپدہ یالہ بونارچہ جابہ پیٹھ کاہنہ وتہ ہاوکھاہ فلما آتہا نوادی یوموسیٰ اودہ یلہ سو تھہ نارس نکھ  
 ووت، آواز گیس خدیہ سندہ طرفہ ای موسیٰ انی آنا ربک نارچھنہ یارچھو۔ بیشک بوچھوس پروردگار  
 چون فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی پس کڈو کھور واندہ نعلین پنن کیا زہ تہہ چھہ پاک  
 میدانس اندر تھہ ناوچھو طوی۔ نعلین تہنز چھنہ پاک سوچھہ مستعمل۔ کھور بانہ اگر پاک آسہ تمہہ سان  
 نماز پرن چھہ جائیز مگر ہر گاہ مستعمل تہ ناپاک آسہ تیلہ چھنہ تمہہ سان نماز جائیز۔ وانا اخترتک  
 فاستمع لہما یوحی مہ کمر موہ تہہ باقی لو کو اندرہ پیغبر ی خیطرہ منتخب۔ ئس بوز ووارہ تم احکام سم  
 توہر گن سوزنہ یں اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلوٰۃ لذرکری بیشک ئوی چھوس معبود  
 برحق۔ کاہنہ معبوداہ چھونہ مہ ورا ی۔ ئس کمر و میانی یا اثر ستش۔ بے تھاوو نماز بر پامیانہ یادہ خیطرہ۔

أَكَادُ أُخْفِيهَا التَّجْزِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ⑮ فَلَا يَصِدُّكَ عَنْهَا  
 مِنْ لَابِئٍ مِنْ بِهَا وَاتَّبَعَهُ هَوَاهُ فَتَرْدِي ⑯ وَمَاتِكَ بِمِثْلِكَ يُوسَى ⑰  
 قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّوْا عَلَيْهَا وَاهْتَسِبْهَا عَلَى عَنِّي وَلِي فِيهَا  
 مَارِبٌ أُخْرَى ⑱ قَالَ أَتَقَهَا يُوسَى ⑲ فَالْقَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ  
 تَسْعَى ⑳ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى ㉑  
 وَاضْمُرْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ آيَةٌ

دو تم تھ پھتھ یہ کہ اِنَّ السَّاعَةَ الْآيَةُ اَكَادُ اُخْفِيهَا ہنر پانھ قیامت پھتھ ضرور یوہ ون۔ بوچھوس  
 سو مخلوقن نشہ کھت تھاون یڑھان۔ سو قیامت پیہ سمہ موکھ لِتَجْزِي كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى پھتھ  
 پریتھ اکھاہ بدلہ حاصل ہیجہ کمر تھ تمہہ سار گوی سمہہ خیطرہ سو اورہ یور سعی و تلاش کران چھو  
 فَلَا يَصِدُّكَ عَنْهَا مِنْ لَابِئٍ مِنْ بِهَا وَاتَّبَعَهُ هَوَاهُ فَتَرْدِي پس مہ رنئے ڈہ پھتھ تمہہ قیامتہ فکرہ نشہ سو  
 شخص تیس نہ پچ پڑھی پھتھ۔ ہیہ چھو سو نفیجہ خواہیہ ہنز پیروی کران، ہر گاہ ڈہ تم ڈو لکھ آدہ گڑھکھ ڈہ  
 تباہ وَمَاتِكَ بِمِثْلِكَ يُوسَى ای موسیٰ یہ کیاہ چھو توہہ و چھس اٹھس کیتھہ قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّوْا  
 عَلَيْهَا وَاهْتَسِبْهَا عَلَى عَنِّي وَلِي فِيهَا مَارِبٌ أُخْرَى تمبو ڈوپ خدایاہیہ پھتھہ پن لورہ ہن۔ ہیہ پھس  
 بوکئہ ڈکھراوان۔ ہیہ پھس بوکئہ امی سیت پنہ نین تیرن ہندہ خیطرہ پن چھانان۔ ہیہ پھتھہ مہ اتھ منز  
 واریاہ مطلب قَالَ أَتَقَهَا يُوسَى اللہ تعالیٰ ان فرموس ای موسیٰ یہ لور تران اتھ منزہ زمینس  
 پیٹھ فَالْقَهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ہس تران اتھ منزہ سو لور۔ اتی بیو تھتھ ہجھہ مگھ سرفاہ دورہ  
 دور کران۔ موسیٰ علیہ السلام کھوژ قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى اللہ تعالیٰ ان  
 فرموس کمر یوس تھتھہ، کھوژومہ۔ تھپ کر وہوئی نمون اس یہ ہیہ گڈ نکس حالتس کن۔ یعنی یہ سپدہ  
 ہیہ لور۔ اکھ قدر تک نشانہ گویہ۔ امہ پتہ کر وہو عطا قدر تک بیاکھ نشانہ۔ وَاضْمُرْ يَدَكَ إِلَى جَنَاحِكَ  
 تَخْرُجَ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سَوْءٍ آيَةٌ ہیہ تھاو پین دچھس اتھ پنہ نس کھو فرس کڑھس منز سویرہ



أُخْرَى ۲۳ لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى ۲۴ إِذْ هَبَّ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ  
 طَغَى ۲۵ قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۲۶ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۲۷ وَاحْلُلْ  
 عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي ۲۸ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۲۹ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ  
 أَهْلِي ۳۰ هَارُونَ أَخِي ۳۱ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ۳۲ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي ۳۳  
 كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ۳۴ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ۳۵ إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا  
 بَصِيرًا ۳۶ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى ۳۷ وَلَقَدْ مَنَّا

تورہ سینہا سفید روشن۔ پچھ نہ گره وان کثرت عیبہ درای۔ یہ چھو دو تم مجزہ۔ تم دوشوے مجزہ سانہ  
 قدر تک تہ تہندہ نبوتک تم کمر اسہ توہمہ عطا۔ لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى مجتہ اس توہمہ ہاودہ پنہ  
 قدر تہ کیو بڈیوشاؤ اندرہ بعضہ نشانہ اذہب الی فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى تمہ بیتھ گزہ ہو تہمہ فرعونس نشہ، پتہز  
 پاٹھ تم چتھ سر کشی کمر مش۔ تم چھو د عوائے خدائی دتتمت۔ موسیٰ علیہ السلامس سپد معلوم کہ یوسمہ  
 سوزنہ پیغمبر فرعونس فہمائش کرنہ خیطرہ۔ تم کور دُعَاکہ پروردگار ائمہ تہدہ مضبک مُشکلات کر تہمہ  
 سہمک تہ آسان قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي \* وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي تمودوپ ای میانہ پروردگارہ میون حوصلہ  
 کر سینہاہ وسیع بیہ کر میان کوم۔ تبلیغ کزن آسان میانہ خیطرہ وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي \* يَفْقَهُوا  
 قَوْلِي بیہ مثر او پچھہرک گند میانہ زیوہ نشہ یٹھ لوکھ میان تھ وارہ بوزن وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ  
 أَهْلِي \* هَارُونَ أَخِي \* اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي بیہ کرتہ میانہ خیطرہ میون مددگار میانی خاندانہ منزہ  
 کانزہاہ۔ ہارون، اُس میون بوی چھو۔ تہندی سیتہ درراوتہ میان تھر تہ میون قوت وَأَشْرِكْهُ فِي  
 أَمْرِي بیہ کزن سو میون شریک میانہ تبلیغہ چہ کامہ اندر یعنی سوتہ بناون پیغمبر۔ تمس تہ کر حکم تبلیغ  
 کر نگ کئی نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا یٹھ اُس دوشوے چون تسبیح آسو تبلیغہ وقتہ زیادہ کران وَنَذْكُرَكَ  
 كَثِيرًا بیہ آسو چون یاد زیادہ کران إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا بیتک تہ چھوک سون حال وارہ وچھ  
 وَن قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى اللہ تعالیٰ ان فر موس ای موسیٰ تہمہ اودہ عطا کرنہ بیہ تہمہ

عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ۞ اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَى اُمِّكَ مَا يُوحَى ۞  
 اِنْ اَقْدَفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاَقْدِفِيهِ فِي الْيَوْمِ فَلْيُلْقِهِ الْيَوْمُ  
 بِالسَّاحِلِ يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ ۞ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً  
 مِّنِّي ۞ وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِي ۞ اِذْ تَمْشِيْ اُخْتَاكَ فَتَقُوْلُ هَلْ  
 اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَنْ يَّكْفُلُهُ ۞ فَرَجَعْنَاكَ اِلَى اُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا  
 وَلَا تَحْزَنَ ۞ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ

مکان چھوہ۔ رب اشرح لی پیٹھ۔ تم گئے تم چیز تمکن ہند توہمہ در خواست کروہہ وَاَقْدَفْنَا عَلَيْكَ  
 مَرَّةً أُخْرَى پز پاپا اسہ چھو توہمہ پیٹھ بیہ کتہہ تا احسان کورمت تہمہہ در خواستہ ورا ای اِذْ اَوْحَيْنَا  
 اِلَى اُمِّكَ مَا يُوحَى یلہ اسہ الہام تر و تہمزہ ماجہ والدس تہمہہ زینکہ وقتہ سنوکتھہ یوسہ الہامہ پاٹھی  
 واتاوندہ یوان چھہ اِنْ اَقْدَفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاَقْدِفِيهِ فِي الْيَوْمِ بیہ تھہ کہ موسیٰ پچاون جلاؤو  
 ہندیوا تھوئشہ۔ بیہ تھاون صندوقس منز توپتہ تراون سو صندوق دریاوس منز فَلْيُلْقِهِ الْيَوْمُ بِالسَّاحِلِ  
 يَأْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ توپتہ واتہ ناوہ دریاہ صندوقس پٹھس سیت۔ پتولاگس رتہ امس اکھ  
 میون دشمن۔ بیہ تھوند دشمن وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي بیہ ترودمہ توہمہ پیٹھ پین محبت۔ یعنی کس  
 توہمہ کن وچھان اوس تس اوس تہمہ محبت گوتھان وَلِتُصْنَعَ عَلٰى عَيْنِي بیہ بیٹھ تہہ رچھنہ ابو میانہ خاص  
 نگرانی تل بیہ گوتمی وقتہ اِذْ تَمْشِيْ اُخْتَاكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَنْ يَّكْفُلُهُ یلہ پکان پکان واثرہہ،  
 ہمشیرہ تہمزہ تہمہہ حال دریافت کران کران فرعونہ سُد گھرہ تموا آسہ انمزہ واریاہ دودہ ماجہ توہمہ دودہ نہ  
 خیطرہ۔ تہمہ آسہ نہ کانہہ ہمزب رٹان۔ پس لچھہ سو تہمزہ ہمشیرہ ونہہ بوہاواوہہ توہمہ تس زمانہ ہند پتہ  
 یوسہ امس وارہ پاٹھ رچھہ۔ تمودوکس کثیرہ ہاہ کرتہ جلد بہن۔ تمہہ ان والدہ تہمزہ فَرَجَعْنَاكَ اِلَى اُمِّكَ كَيْ  
 تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ توپتہ واتاوہہ اس تہہ پتہ ماجہ نشہ یوتھہ تہمزہ اچھہ شہلن۔ بیہ سپدہ نہ سو  
 تہمزہ جدائی سببہ غمگین۔ بوڈواتھہ کروہہ اس توہمہ بیاکھ احسان وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ

فَتَوَّأَاهُ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ۖ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ  
 يٰمُوسَىٰ ۙ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي ۚ إِذْ هَبَّ آنتَ وَأَخُوكَ بِآيَتِي  
 وَلَا تَنبِيَا فِي ذِكْرِي ۚ إِذْ هَبَّآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ۚ فَقُولَا لَهُ  
 قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ۚ قَالَ رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ  
 يُفْرَطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَىٰ ۚ قَالَ لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمِعُ  
 وَأَرَىٰ ۚ فَآتِيَهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بِنِي

وَقَتْلِكَ فُتُوْنَا بیه مورون توبہ غلطی سببہ قبضیو اندرہ آکھ شخصہ، پس دیت اسہ توبہ نجات غمہ  
 بشرہ۔ خوف عقابہ بشرہ دیت اسہ توبہ نجات استغفارک توفیق دنہ سیت۔ بس استغفار اسہ قبول کور۔  
 خوف انتقامہ بشرہ دیت اسہ توبہ نجات، مصرہ بشرہ و اتاودہ اسہ توبہ شہر مدینس منز۔ بیہ گرہ اسہ توبہ شہر  
 مدینہ واتس تان واریاہ آزمائشہ بموسیت انسان پختہ کار چھو بنان فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تو  
 پتہ رُودوہ تہہ شہر مدینہ کین لوکن بشرہ واریہن وریہن ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ یٰمُوسَىٰ توپتہ واتوہ تہہ  
 خاص و قس پیٹھ بس تہدہ خیطرہ تقدیرہ موجب موزون و مناسب اوس میانہ ہمکلامی خیطرہ بیہ مصرس  
 منزای موسیٰ۔ وَأَصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي تہہ بناوہ مہ خاص پنہ کامہ خیطرہ یعنی نبوت و رسالتہ خیطرہ  
 إِذْ هَبَّ آنتَ وَأَخُوكَ بِآيَتِي وَلَا تَنبِيَا فِي ذِكْرِي لہذا آگہ ہو تہہ بیہ تہند برادر ہارون علیہ السلام میان  
 آیات ہتہ یعنی میان معجزات عصا تہد بیضا ہتہ۔ تہنہ سستی کمر و میانس بارس اندر إِذْ هَبَّآ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ  
 إِنَّهُ طَغَىٰ گدھو فرعونس بشرہ کیازہ تم کمر سر کشی فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ پس  
 کمر و تس سیت تہہ نرم نرم، شاید سوما رطہ نصیحت یا ماکھو تہہ خدلیہ سدس عذابس قَالَ رَبَّنَا إِنَّا  
 نَخَافُ أَنْ يُفْرَطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْغَىٰ تمودوشوی دُوب ای سانہ پروردگارہ اس چھہ کھوژان سو  
 گدھنہ بروٹھی اسہ پیٹھ گنہ بدسلوکی سیت پیش سن یا گدھنہ نہ اسہ بروٹھ کتہ تہ سر کشی کزن۔ قَالَ  
 لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمِعُ وَأَرَىٰ اللہ تعالیٰ ان فرمودہ کھوژومہ تہہ۔ امیک مہ کمر و کانہہ پروا۔

إِسْرَائِيلَ وَلَا تَعَذِّبُهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ  
 عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى ﴿٤٩﴾ إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ  
 كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿٥٠﴾ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمْ يَا مُوسَى ﴿٥١﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى  
 كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴿٥٢﴾ قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ﴿٥٣﴾  
 قَالَ عَلِمْنَا عِنْدَ رَبِّنَا أَنَّ فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ﴿٥٤﴾

تو چھوس پانہ توہمہ سیت سو زوی بوزان سو زوی و چھان۔ میان یاری تہ مدہ چھو توہمہ سیت فکر مہ کزو  
 بو کرہ ہنہز۔ حفاظت سو کرن بو مرعوب قَائِلِيَهُ فَقَوْلًا آتَانَا رَسُولًا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ  
 لہذا آکھو تس نشہ بے خوف و خطر۔ تو پتہ و نیوس پنز پاٹ اس چھہ چانس پروردگارہ سندہ طرفہ زہ پیغمبر  
 لہذا کر تہ سان اطاعت۔ توحید مان۔ ہیہ روز ظلمہ نشہ پتہ۔ تراو کھ اسہ سیت بنی اسرائیل۔ تم مہ بناو کھ  
 تہ ہن غلام۔ تم کز کھ آزاد۔ تمن دہ آزادانہ زندگی بسر کرنہ وَلَا تَعَذِّبُهُمْ تمن پیٹھ مہ کر ظلم۔ اس نئس  
 پیغمبری ہند دعوے کران چھہ، ہیہ دعوے چھہ کران اس یجیہ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكَ وَالسَّلَامُ عَلَى  
 مِنْ اتَّبِعَ الْهُدَى پنز پاٹھ اس چھہ آمت تہ نشہ چانس پروردگارہ سندہ طرفہ مجزہ ہتہ۔ سلامتی چھہ  
 تس شخصہ سندہ خیطرہ نئس بیروی کرہ سیزہ وتہ ہنزز إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَنْ كَذَّبَ  
 وَتَوَلَّى اسہ پیٹھ چھو پنز پاٹھ وحی نازل آمت کرنہ کہ بیشک خدایہ سند عذاب ہیہ تس کرنہ نئس پنزس  
 زانہ اہز ہیہ کرہ روگردانی یعنی پزہ نشہ بھرہ ہتہ۔ ہیہ سو زوی مضمون و نئس۔ چنانچہ تم دوشوے آئے  
 فرعونس نشہ ہیہ سو زوی مضمون کو رکھ تس بیان۔ قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمْ يَا مُوسَى فرعونن دوپچھ تورہ  
 سوگس چھو تہند پروردگارے موسیٰ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى حضرت موسیٰ  
 آن دو نئس سون پروردگار چھو سوئی نئم پر ہتھ چیزس و تہن ہن صورت تہ شکل۔ تو پتہ سم تم مو اندرہ  
 جاندار چیز چھہ تمن ہاون و تھ پنے نین نین منافعن گن قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى فرعونن دوپچھ  
 بروظنمہ وقتہ کین لوکن ہند کیاہ حال سڈ سمو بروظنمین پیغمبرن تکذیب کر، تمن پیٹھ کوہ عذاب سڈ

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَاسَّلَكُ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَ  
 أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ۝۶۷  
 كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ ۝۶۸ مِنْهَا  
 خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ۝۶۹ وَلَقَدْ آرَيْنَا

نازل قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ حضرت موسیٰ ان دوپس کہ میون دعویٰ چھونہ کہ سُو عذاب  
 کیاہ سپدہ تمَن دنیاء سی اندر ضرور بلکہ چھو سُو عذاب دُنیا س منز تہ تمَن ہندہ حتہ۔ ہر گاہ سُو بیٹھہ  
 آخرتس منز چھو یقیناً۔ چنانچہ تہمدین بد اعمالن ہند علم چھو میانس پروردگار س نیشہ اعمالن ہند س  
 دفترس منز موجود۔ اگرچہ تس چھنہ ضرورت دفترس محفوظ تھاوچ کیاہ میون پروردگار چھو تہتہ زان  
 وول کہ لَا یَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسِي نہ چھو سُو غلطی کران ہنہ چیزس منز نہ چھو تس مٹتہ گوشان۔ پس  
 چھو تس تہمدین سارنی عملن ہند صحیح صحیح علم مگر عذابہ خیطرہ چھون وقاہ مقرر کورمت۔ یلہ سُو وقت  
 ولتہ، سُو عذاب بیہ تمَن پیٹھ جاری کرنہ۔ یوتان سپد موسیٰ علیہ السلامن تقریر ختم۔ امہ پتہ چھو اللہ  
 تعالیٰ پنن شان پانہ فرماوان الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَاسَّلَكُ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَ أَنْزَلَ مِنَ  
 السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى سُو پروردگار گو سُو نیم زمین کمر تہمدہ خیطرہ و شہرناہ  
 تہ پیٹھ چھوہ تہہ آرام کران۔ بیہ کج اتھ زمینس منز تہمدہ پچنہ خیطرہ و تہ۔ بیہ تروون آسماحہ طرفہ  
 رود۔ پس کھار اسہ تمی رُودہ سمیت زمینہ منزہ مختلف نباتات۔ گان ہند اقسام كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ  
 فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّهْيِ توپتہ آوتوہہ اجازت و نہ کہ کھو تہہ اکھ پانہ بیہ کھاو پوکھ پنن چارواہ تہ  
 مؤیشی۔ پز پات تمَن سارنی چیزن منز چھہ کم کم نشانہ خداہ سپدہ قدر تک عقلہ والین ہندہ خیطرہ۔ تہ  
 پاٹ نباتات اسہ کھار زمینہ منزہ تہہ پاٹھ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى  
 امی زمینہ نیشہ کمر وہ اسہ توہہ پیدہ۔ ابتداء س اندر آو حضرت آدم پیدہ کرنہ میڑہ۔ لہذا چھو سارنی  
 انسان ہند مادہ بعید میڑہ۔ بیہ و اتاووہ تہہ اکھ میڑہ اندر رنہ پتہ۔ امی میڑہ منزہ کڈوہ بیہ دوبارہ قیامتگ  
 دوہ وَلَقَدْ آرَيْنَا آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى پز پات بیہ ہاوس اسہ فرعونس پنن ساری نشانہ تہ معجزہ

الَّتِي تَنَاكَلَهَا فَكُذِّبَ وَأَبَى ﴿٥٧﴾ قَالَ أَجِئْتَنَا لِنُخْرِجَنَّكَ مِنْ أَرْضِنَا  
بِسِحْرِكَ يَا مُوسَى ﴿٥٨﴾ فَلَمَّا تَبَيَّنَكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ فَأَجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ  
مَوْعِدًا الْإِخْلَافَةَ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سَوِيًّا ﴿٥٩﴾ قَالَ مَوْعِدُكُمْ  
يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ﴿٦٠﴾ فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ  
كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى ﴿٦١﴾ قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَيَّ اللَّهُ كَذِبًا  
فَيُسْحِتْكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى ﴿٦٢﴾ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ

تہ کمر تھ تہ زون تم اہڑی بیہ کوزن انکاری قال اجئتنا لخرجنا من ارضنا بسحرک موسی دہنہ  
لگ ای موسی کیا تہہ چھوہ آسہ نش آمت بیہ دعوی تہہ بیٹھ ای بہانہ سیت آسہ پتہ ملکہ منزہ کڈو۔ پتہ  
بحرہ تہ جادہ سیت ای موسی فلما تبینک بسحر مثله فاجعل بیننا و بینک موعدا الاخلافہ نحن ولا  
انت مکانا سویی آس تہ انو چانس جادس ہیو بحر تہ جو دمقابلہ خیترہ۔ پس کر آسہ تہ پانس منز مقرر آکھ  
وقاہ۔ نہ گرو آس تہہ خلاف تہ نہ کمر و تہہ تہہ خلاف۔ آس صاف تہ ہموار میدانس منز سمو آس  
دوشوے مقابلہ خیترہ۔ قال موعدکم یوم الزینتہ وان یحشر الناس ضحی حضرت موسی علیہ  
السلامن دوپھ و عدہ ٹہنڈ چھو تمہ دوہنہ بیٹھ منز توہہ میلہ آسان چھو۔ تم آس فرعونہ سُنڈ سالگرہ  
مناونہ خیترہ میلہ لاگان۔ (معلوم سپڈ سالگرہ مناون چھو فرعونہ سُنڈ ایجاد۔ مترجم) مگر شرط چھو لوکن  
بند گڑھہ اڈہ کاجس جمع سدن فتولی فرعون فجمع کیدہ ثم ائی توپتہ گویہ بوزت فرعون، دربارہ  
منزہ دراو۔ کس پٹن کرن جمع مکزک سوڑی سامانہ۔ توپتہ آو مقرر کر قس دوہس پیٹھ، بیہ آن ساری  
پانس سیت قال لهم موسی ویلکم لا تفتروا علی اللہ کذبا فیسحیتکم بعذاب وقد خاب من افتری سمہ  
دوہہ ادہ تم ساری جادو گریستے، حضرت موسی ان کورکھ تقریر۔ تہہ منز فر موونکھ ای جادو گرو تہندہ  
خیترہ چھو افسوس تہہ مہ نوو اوو خدا ایس پیٹھ اپز۔ ہر گاہ تہ تہہ آسہ نشہ بیٹھ روز و تیلہ گالہ وہ سو توہہ  
پتہ عذابہ سیت۔ پز پات تم اپز نوو روو خدا ایس پیٹھ سو گو یقینا نام فتنازعوا امرہم بینہم واسرؤا

بَيْنَهُمْ وَأَسْرُوا النَّجْوَى ﴿٢٢﴾ قَالُوا إِنَّ هَذِينَ لَسِحْرَانِ يُرِيدَانِ أَنْ  
 يُخْرِجَاكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِمَا وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثَلَى ﴿٢٣﴾  
 فَأَجْبِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّوَاصِفًا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنْ اسْتَعْلَى ﴿٢٤﴾  
 قَالُوا أَيُّوسَىٰ إِمَّا أَنْ تُلْقَىٰ وَإِمَّا أَنْ نَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَلْقَىٰ ﴿٢٥﴾  
 قَالَ بَلْ الْقُوَا فَإِذَا جِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ مِنْ سُحْرِهِمْ  
 أَنهَاسَعَىٰ ﴿٢٦﴾ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةَ مُوسَىٰ ﴿٢٧﴾ قُلْنَا لَاتَخَفْ  
 إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ﴿٢٨﴾ وَالْقَىٰ مَا فِي يَدَيْكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا

النجوى حتمہ پتہ ہیوت تموجادوگر وپانہ وان اختلاف کرن بیه ہیز کہ لوتہ لوتہ کن تھہ کرنہ قالوا ان  
 هذين لسحران يريدان ان يخرجكما من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى دپنہ لگ اکہ وئہ  
 ساری جادوگر تم دو شوے بارن موسیٰ و ہارون علیہ السلام چھہ بیشک جادوگر۔ تم چھہ یڑھان توہیہ  
 سارنی کڈنہ پنہ نیو شہر و اندرہ۔ بیہ ژلن ہتھ توہیہ نشہ تھہد عمدہ مذہب تو پتہ کرن سو ختم فأجبعوا  
 کیدکم ثم اتواصفا پس سونبر او وپن ساری حیلہ تو پتہ ابو صف دی وی مقابلہ کرنہ خیطرہ  
 وقد افلح اليوم من استعلى ہنڑ پاٹھ از زبون تھی لیس غالب سپد۔ قالوا ایوسى اما ان تلقى واما ان  
 نکون اول من القى جادوگر و دوپ ای موسیٰ تھہ تراوہ کنہ آسی تراوہ گوڈہ قال بل القوا تموجادو  
 دوہیک نہایت بے پروائی سان۔ نہ گوڈہ تراوہ تھی۔ فإذا جبالهم وعصیهم یخیل الیہم من سحرهم  
 انھاسعی تو پتہ ترودو تموجن جود۔ اتی او حضرت موسیٰ سدس خیالس اندر تھہدہ جادو زورہ سیت  
 کہ تھنہ زورہ تہ لورہ چھہ سرفن ہند پاٹھ دورہ دور کران۔ فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ تو پتہ لگ  
 حضرت موسیٰ پانس منز خوف محسوس کرنہ قُلْنَا لَاتَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ اسہ دو لیس ای موسیٰ  
 کھوژمہ غالب روز کہ تھی وَالْقَىٰ مَا فِي يَدَيْكَ تَلْقَفُ مَا صَنَعُوا بیہ تراوہ تہ بیہ ژہ پنہ نس دچھنس

صَنَعُوا كَيْدَ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِكُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى ﴿٦٩﴾ فَأَلْقَى السَّحْرَةَ  
 سُجَّدًا قَالُوا أَمَّا رَبٌّ هُرُونَ وَمُوسَى ﴿٧٠﴾ قَالَ أَمْنْتُمْ لَهُ قَبْلَ  
 أَنْ أَدْنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَا قِطْعَنَ  
 أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا وَصَلَيْتُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ  
 وَكَلَّمْتُمْ إِيْنَا أَشَدَّ عَذَابًا وَأَبْقَى ﴿٧١﴾ قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا  
 جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرْنَا فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ

اٹھس کیتھ چھوی یعنی عصا، کُنوی میوند کڈہ سو عصا آتھ ساری یہ تمہو تیار کورمت چھو۔ اِنَّمَا صَنَعُوا  
 کید سحر و لا یفلک الساحر حیث ائی تمہو چھونہ تیار کورمت مگر جادوگرہ سُنڈ مکر تہ فریب۔ جادوگر چھو  
 نہ کامیاب سہان کنہ جابہ۔ چنانچہ حضرت موسیٰ اُن یلہ لور پین پشہر تراؤتھ لورہ بنیو اژدہا سم آتھ  
 ساری جادوگرن ہندس جادس ستیاناس کور، تہ یلہ جادوگر وچھہ فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سُجَّدًا تم جادوگر  
 آئے وکراونہ سجدس منز قَالُوا أَمَّا رَبٌّ هُرُونَ وَمُوسَى تمہو دوپ آسہ کمر پشہہ حضرت ہارون تہ  
 حضرت موسیٰ سندس ہروردگارس قَالَ أَمْنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنَ لَكُمْ فرعون دوچھہ کیاہ توہہ کمر وہ  
 پشہہ تھہ میانہ اجازتہ وراى إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ معلوم چھو سہدان یہ چھو تھند زیتھ  
 سم تھہ تہ بحر تہ جود پچھناومت چھوہ۔ وَاِنْ وَجَّهْتُمْ بِوُجُوهِكُمْ يَأْتِيَكُمُ السَّحَابُ مِنْ  
 خِلَافٍ وَلَا وَصَلَيْتُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ کس ژٹہ بو توہہ آتھ تھند تہ کھور تھند دچھن کھور۔ یہ  
 دمووہ بو تھہ پھہہ خضر کلین پیٹھ پٹھہ ساری لوکھ وچھن تھند حال وَكَلَّمْتُمْ إِيْنَا أَشَدَّ عَذَابًا وَأَبْقَى یہ  
 ترہ توہہ فکہرہ زہ آسہ منزہ تھہ چھو زیادہ سخت تہ پوشہ وَاِنْ عَذَابُكُمْ مِنْهُ لَآخِزٌ بِمَا كُنْتُمْ  
 پُورودگار۔ قَالُوا لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرْنَا جادوگر وچھن ای فرعون گڑھہ  
 گڑھہ۔ اُس ہرگز ژہ ناوتھ نہ، ژہ اختیار کروت نہ نینود لیلو خونہ سمہ آسہ نشہ واژہ۔ یہ کس پروردگارہ  
 سدہ خونہ سم آسہ پیدہ کمر قَاضٍ مَا أَنْتَ قَاضٍ اِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا کس ژہ یہ کزن چھوی



إِنَّمَا تَقْضَىٰ هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ إِنَّا كَاتِبُونَ بِئْنَآ لِيَغْفِرَ لَنَا  
 خَطِيئَتَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۙ  
 إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَ  
 لَا يَحْيَىٰ ۙ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ  
 لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ۗ جَدَّتْ عَدْنٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا  
 الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۗ وَذَٰلِكَ جَزَاؤُ مَن تَزَكَّىٰ ۙ

یہ کر۔ اُس کھوڑہ دن چھنہ۔ بوڑ بوڑ ایم گوڑہ چلاؤ کہ حکم بتھ سانہ دُنیاچہ زندگی پیٹھ۔ یعنی اَسہ مار کہ  
 تمیک چھونہ اَسہ کا نہہ پروا ۱۱ اِنَّا كَاتِبُونَ بِئْنَآ لِيَغْفِرَ لَنَا خَطِيئَتَنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهِ خَيْرٌ  
 وَأَبْقَىٰ اَس چھہ علی الاعلان ونان پز پناٹ اَسہ کتر پڑھ پنہ نس پروردگار س دیوہ سوا سہ مغفرت تہ  
 بخعائش کر گنہن سائین بیہ سانس جو دکر نس بتھ پیٹھ ڈی اَس مجبور کمرت معبود برحق چھو باعتبار ذات  
 و صفات سیٹھاہ رُت، باعتبار ثواب و عقاب تہ چھو پوشہ ون۔ باقی روزہ ون۔ ژہ چھوی نہ خیریت  
 نصیب نہ بقا۔ اَسہ کیاہ کھسہ چون انعام فخرہ یا چون عذاب۔ اللہ تعالیٰ سُد قانون چھو اِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ  
 مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ پز پناٹ اُس شخص وائہ پنہ نس مالکس بروٹھ  
 گن گنہگار تہ نافرمان یعنی کافر حالتس اندر نس تہندی خیطرہ چھو سزائے نار جہنم۔ بتھ منز وائتھ نہ مژہ نہ  
 اَسہ زندہ۔ کیاہ زندہ روزن گنیدو آراماہ تلہ ہا ۱۱ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ  
 الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ البتہ تم و اتن پنہ نس مالکس نفسہ نس ایمان انہ ون بیہ آس نس واقعی رژہ عملہ کرہ  
 مژہ۔ تمنی لوکن ہندہ خیطرہ چھہ تھند درجہ ۱۱ جَدَّتْ عَدْنٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ  
 فِيهَا وَذَٰلِكَ جَزَاؤُ مَن تَزَكَّىٰ تم تھند درجہ گئے ہمیشہ روز نک باغ سمو منز جو بیہ تہ کولہ پکان آسن۔  
 تمنی جتن منز آسن روزہ ون تم ہمیشہ۔ یے چھہ مزور تمن لوکن ہنز سم شر کہ تہ گفرہ نغمہ پاک آسن۔  
 اٹھ قانونس ماتحت تزو اَسہ گفر، اختیار کور اَسہ ایمان ۱۱ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعَبَادِي

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرَبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ۝۴۴  
فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۝۴۵  
وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَىٰ ۝۴۹ يَبْنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ  
أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ  
وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ ۝۸۰ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا  
رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي ۝ وَمَنْ

فَاضْرَبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخْفُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَى ۝۴۴  
اس گن کہ نیر و نجرہ میان بندہ یعنی بنی اسرائیل ہی تھے۔ رات گیت و اتنا یو کہ دور کئی جاہیہ تھے تم فرعونہ سندہ  
ظلمہ نشہ نجات لہن۔ تو پتے و تہ منز تو بہہ دریاء قلزم ایہ تھے لایو پینہ لورہ سمیت ژنڈ۔ تمہہ منزہ کڈو تھ  
خشک۔ جہہ مہ کھو ژو فرعونہ سندس پتہ لاریت رٹہ نس۔ نہ مہ کھو ژو دریاوس منز پھہ نس جہہ و اتنا دووہ  
اُپورا من و امانہ سان فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ۝۴۵  
فرعون پن لشکر ہی تھے۔ تو پتہ ووت سوتہ اتھ دریاوس منز۔ سوتہ پوک امی دریاوہ منز۔ جس دل تم  
دریاوہ منزہ تم چیزن تم تم ول یعنی آب آکھ پر ہی تھ طرفہ تمی کمر غرق وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا  
هَدَىٰ ۝۴۹ بے ڈول و تہ فرعون پن قوم۔ سبیز و تھ ہاو جھنہ ساری چھاؤن کولہ یَبْنِي إِسْرَائِيلَ  
قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ ای بنی  
اسرائیلو و جھو اسہ ویت تو بہہ نجات تھندس بڈس دشمن نشہ بیہ تھو واسہ وعدہ تو بہہ یعنی تھندس  
پیغمبرس موسیٰ کلیم اللہس کوہ طورہ کس د چھنس پاس پیٹھ بیگ۔ تہ توراہت عطا کر نگ۔ بیہ کوراسہ  
نازل تو بہہ پیٹھ واوی تھس منزس وسلوی۔ كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ

يَحْلِلُ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدُ هَوَىٰ ﴿۸۱﴾ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن  
 تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴿۸۲﴾ وَمَا أَعْجَلَكَ  
 عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوسَىٰ ﴿۸۳﴾ قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَىٰ أَشْرِي وَ  
 عَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿۸۴﴾ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا  
 قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ ﴿۸۵﴾ فَرَجَعَ  
 مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ يَقَوْمِ الْمُبْعِدُكُمْ

عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدُ هَوَىٰ اسے دون ٹہہ کھیورت چیز۔ تمو  
 چیز و اندرہ تم اسے توہمہ عطا کر۔ ٹھہ نہ تھہ منز حدہ ڈلو۔ پچھمہ خیطر ہ تھا و ذخیرہ کتر تھ۔ تھہ پیٹھ سپدہ  
 میان بیزاری۔ بس پیٹھ میان بیزاری سپدہ بس پتر پاٹھ سو پو خوار ی ہندین سر نین چمن اندر  
 وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ پتر پاٹھ یو جہوس سیٹھہ مغفرت  
 گرہ ون تین سم توبہ کرن ایمان اُن بیہ رتھہ عملہ کرن تو پتر روزن قائم تھہ سیزہ وتہ پیٹھ۔ یلہ اللہ  
 تعالیٰ اُن منظور کور موسیٰ علیہ السلا مس تورایت عطا کرن۔ فر مو و کھ کوه طورس پیٹھ ایو۔ سیت انوکھ  
 پنہ قومہ منزہ بعضی اشخاص۔ مگر موسیٰ علیہ السلا مں کتر جلدی قومس بروٹھی وات کوه طورس پیٹھ۔  
 اللہ تعالیٰ ان فر موس و مَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوسَىٰ ای موسیٰ تھہ کم چیزن اوکھ پنہ بس  
 قومس بروٹھ مہ بس۔ تم کیا زہ تراوتھکھ پتھ۔ قَالَ هُمْ أَوْلَاءُ عَلَىٰ أَشْرِي عرض کورن کیا تم  
 جھہ پکان مہ پتے وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ مہ کتر جلدی تھہ نشہ حاضر سپدہ خیطر ہ ٹھہ تھہ راضی  
 گڑھہ تم میانہ ہر و در گارہ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ اللہ تعالیٰ ان فر موس  
 اے موسیٰ تھہ پتہ کور اسے چون قوم بس آزمائشہ اندر بتلا وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ تم ڈال سامرین  
 فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا بس پھیور پوت حضرت موسیٰ پنہ بس قومس کن  
 تھہ ہوت افسوس کران قَالَ يَقَوْمِ الْمُبْعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا قومس دو مین ای قوم توہہ سیت

رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَسَنًا ۖ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَدْتُمْ أَنْ  
يَجْعَلَ عَلَيْكُمُ غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ﴿۸۷﴾  
قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَمَلْنَا آوَارًا مِّن زِينَةِ  
الْقَوْمِ فَقَدْ فَتَنَّا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿۸۸﴾ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَجَلًا  
جَسَدًا آلَهُ خَوَارٍ فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ مُوسَىٰ ۗ فَانْسَى ﴿۸۹﴾ أَفَلَا

اوس ناپروردگارن تہند وعدہ کورمت رُت وعداہ کہ توبہ کرووہ عطا اکہ بتاباہ تہہ منز تہندہ خیطرہ  
احکام آسن۔ توبہ اوس لازم تمیک انتظار کرن اَقَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ کیاہ تہہ وعدس گیاوہ توبہ زیادہ  
ثریر تا اینکه توبہ سپز ناامیدی تمہ نشہ نہ توبہ کثروہ ایجاد اکہ عبارتہ پائے۔ اَمَرَدْتُمْ أَنْ يَجْعَلَ عَلَيْكُمْ  
غَضَبٌ مِّن رَّبِّكُمْ کنہ توبہ کا نچھوہ ناامید سپدنہ وراي پانس پیٹھ پنہ نس خدایہ سنز بیزاری  
فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي تہہ سُن نظر کتر تہہ کورہ میانس وعدس بدل کہ آس گرونہ کنس خدایس وراے بیہ  
کانہ ہنز پرستش قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا تمودوپ اے موسیٰ اسمہ کورنہ تہندس وعدس  
بدل پنہ اختیارہ وَلَكِنَّا حَمَلْنَا آوَارًا مِّن زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدْ فَتَنَّا لیکن قصہ سپد تہہ پاٹھ کہ آس آس  
تکناونہ آمت قوم قبطک گہنہ نہ زیور سوی تراویو اسمہ سامری سندہ وننہ موجب نارس منز گانہ خیطرہ۔  
سُو زیور اوس نہ ونہ تموپنہ نس تصرفس منز اوُمت کیازہ سُو مال اوس تمن بنیومت قبطی کافر نیشہ۔  
تہندہ رضامندی وراي۔ تمن اوس نہ ونہ تمیک حکم بیان آمت کرنہ شریعت موصوی موجب۔ تمی  
دوہنگہ سامرین کہ بیہ مال تھا دو تان جمع کتر تہہ تہہ پاٹھ روزہ بیہ محفوظ۔ پتہ یلمہ حکم بیان بیہ کرنہ اتھ  
متعلق تمہ ساتہ گرو تقسیم۔ سامر اوس اکہ گامہ سلگ شامس اندر تہجوی اوس بیہ شخص۔ تمی آس ونان  
سامری۔ بیہ شخص اوس منافق فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ تہہ پاٹھ تروو سامرین تہہ پنہ حصک زیور  
نارس منز گانہ خیطرہ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عَجَلًا جَسَدًا آلَهُ خَوَارٍ پس کوڈ تمی لوکن ہندہ خیطرہ تہہ ساری  
سنونس بناو تہہ اکہ ووژہاہ، ووژہ سُد جسمہ۔ تہہ آس آواز تہہ ووژہ سنزی ہش۔ یعنی سوسونہ سُد ووژہ

يَرُونَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ۖ وَلَا يَبْلُغُ لَهُمْ صَرََا وَلَا نَفْعًا ۙ  
 وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يَقَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ  
 رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۙ قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ  
 عَلَيْكَ عٰكِفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ۙ قَالَ يُهْرُونَ مَا  
 مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ۙ أَذَلَّتْ بِعَيْنٍ أَفْصَيْتَ أَمْرِي ۙ

اوس ٹانگ دوان وژھ سہ پائھ۔ فقاؤا تھہ نسبت لگ ونہ تم احق لوکھ اکھ انکس ہذا الھم و  
 اللہ موسیٰ قذیٰ یوہے چھو تھہند معبودیہ حضرت موسیٰ سند معبود۔ اسنزی کتر و عبادت۔ تس  
 (یعنی حضرت موسیٰ اس) زودنہ ژیتس سو گو گو کوہ طورس پیٹھ معبودس سیت ملاقات کرنہ اقلایرون  
 الایرجع الیہم قولاً ولایبلیک لھم صرّاً ولانفعاً سم احق لوکھ چھناو چھنا کہ وژھ چھونہ تم  
 کاہنہ جواباہ بیگان پھیر تھہ وژھ۔ بیہ چھونہ سو مالک کنہ ضر رس تھہندس نہ کنہ نفیس ولقد قال لھم  
 ہرون من قبل یقوم انما فتنتم بہ بیہ اوس ہنر پائھ تم وونمت حضرت موسیٰ سندہ واپسینہ  
 بروٹھ ہارون علیہ السلام کہ ای میانہ قومہ تھہ آوہ آزمادہ نہ تمس وژھ سندہ سیت۔ تھہ پھسے وہ  
 گراہی اندر وان ربکم الرحمن فاتبعونی واطیعوا امری بیشک تھہند پروردگار چھو حضرت رحمن، بیہ  
 وژھ چھونہ لھذا کتر و تھہ میان پیروی بیہ مانو میون حکم۔ قالوا لکن تبرح علیہ عاکفین حتیٰ یرجع  
 الینا موسیٰ تمودو پھس جواب اس روزو برابر اس وژھ سز پرستش کر ان یوتان واپس ایہ اسہ  
 نثرہ حضرت موسیٰ۔ توپتہ آو واپس حضرت موسیٰ۔ تو مس کن خطاب کرنہ پتہ فرمودو تمو ہارون علیہ  
 السلام بیٹھرس قال یھرون ما منعک اذ رایتھم ضلوا\* الا لتبعین افصیت امری حضرت  
 موسیٰ ان ووپ ای ہارون تھہ کم چیزن رٹوہ پتھ مہ نثرہ واتنہ نثرہ توبہ وچھہ وکھ تم گراہ سپدان یعنی توبہ  
 پزہ ہاتھ اتھی تراون نہ مہ نثرہ وائٹن۔ تمکن سپدہ ہاتھہ سیت معلوم اسہ کتر بیہ ناجاز حرکت۔ مہ اوس  
 توبہ وونمت کہ (ولا تتبعہ سبیل المفسدین) تھہنہ تھہ پیروی کتر و مفسدان ہنزہ و تہ ہنز لھذا کیا زہ کورہ

قَالَ يَبْنُوهُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِيَّايَ خَشِيتُ أَنْ  
تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَمْ تَرُقُّبُ قَوْلِي<sup>۹۴</sup> قَالَ  
فَمَا خَطْبُكَ يَا مِرْيُ<sup>۹۵</sup> قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ  
فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ  
لِي نَفْسِي<sup>۹۶</sup> قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا  
مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تَخْلَفَنَّهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي

توہمہ میانس اتھ <sup>۹۴</sup>میں بدل۔ قَالَ يَبْنُوهُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ہارون علیہ السلام نے دوپٹھ  
باہی صابانہ ہمز کثر تھپ ریش سے مستس میانس۔ اموی رشتہ منہ لٹھومہ۔ ذراتراو <sup>۹۵</sup>خشم وارہ یوزتھہ ائی  
خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَمْ تَرُقُّبُ قَوْلِي بُکھوٹس ٹہی مادپو ژہ کور تھہ  
تفرقہ بتہ جدائی بنی اسرائیل کن منز۔ ژہ کور تھہ نہ کانہ خیال میانہ کتھہ ہند۔ میان تھہ تھاو تھہ نہ ژیتس۔  
توپتہ سپد حضرت موسیٰ متوجہ سامرئیس کن قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا مِرْيُ دوپٹس اے سامری چون  
معاملہ کیاہ چھو۔ ژہ ٹہہ وکانہ گوی، ژہہ حرکت کیاژہ کرتھہ ژہ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ  
دوہن مہ آؤ بوزنہ تی یہ نہ لوکن بوزنہ آؤ۔ یعنی جبریل امین یلہ حضرت موسیٰ اس نشہ آؤ سو اوس تہمہ  
ساتہ گرس کیتھ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ ٹہس تج مہ اکھ میژہ موٹھاہ سوزنہ آتس شخصہ سندہ  
سواری ہند یوکھوز وتلہ۔ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي سنوی تراوم سنونہ وژ ہس منز۔ ہوی  
خیالہ دو تھہ مہ تہمہ ساتہ دلہ پیٹھہ قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ حضرت  
موسیٰ ان دو ٹہس گڑھہ چانہ چھہ وچھو امیک سزا دنیا س اندر یو ہے کہ ایتس کالس ژہ زندہ چچھہ ژہ آسکھ  
ونان لوکن دُور رُوزومہ بیٹھنہ اتھہ لاگو وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تَخْلَفَنَّهُ بیہ پتھہ امہ علاوہ چانہ خیطرہ  
عذابک وعداہ ٹہس نہ ڈلتھہ ہیجہ۔ بیٹھنہ ژہ سیت بدل بیہ کرنہ وَانظُرْ إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ  
عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْبِفَنَّاهُ فِي الْيَوْمِ نَسْفًا بیہ وچھہ ژہ پنہ ٹہس باطل معبودس کن، ٹہس ڈاڈ کتر تھہ اوسکھ

ظَلَّتْ عَلَيْهِ عَاكِفًا النَّحْرِقَتَّةُ ثُمَّ لَنْسِفَتَهُ فِي الْيَوْمِ نَسْفًا ﴿۹۷﴾  
 إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿۹۸﴾ كَذَلِكَ  
 نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا  
 ذِكْرًا ﴿۹۹﴾ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ﴿۱۰۰﴾ خَلِيدِينَ  
 فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ﴿۱۰۱﴾ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ  
 الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ﴿۱۰۲﴾ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا

ژہ پرستش کران۔ وچھہ سوزالون اَس۔ توپتہ کروس سُو۔ سُو سُو چھو کو دریاؤس منز پورہ پاٹھ۔  
 آلس سیت گڑھہ سُو سوراہہ **إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا** ای لو کو تہند معبود  
 چھونہ نہ کہنہ تَس ذات پاکس ورا ای، تَس ورا ای نہ کہنہ معبوداہ چھو، سُو چھو پریتھ چیزس احاطہ کتر تھہ  
 پنہ علمہ سیت۔ **كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ** تھہ پاٹ اسہ توپہ موسیٰ علیہ السلام سُنَد  
 قصہ بیان کور تھہ پاٹ چھہ اَس بیان کران توپہ برو تھہ حالات واقعات۔ **وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا**  
 بیشک بیہ کور اسہ توپہ عطایار سول اللہ پنہ طرفہ اکھ نصیحت ناماہ، قرآن مجید تَس پانہ اکھ نوڈ مجرہ آسنہ  
 سببہ تہندہ نبوق ہڈ دلیل چھہ۔ سُو نصیحت نامہ چھو تھہ **مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا**  
 تَس اکھاہ تھہ پھرہ تمہہ نہہ، تمہہ کین اعمالن تعمیل کرنہ نہہ تَس بیشک سُو تھہ قیامتگ دوہ گو تہن ہند بوڈ  
 بور یمن گنہن ہندہ شامتہ ہڈس عذابس گرفتار سپدن **خَلِيدِينَ فِيهِ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا** تھہ  
 عذابس منز روزن ہمیشہ۔ بیہ آسہ سیٹھاہ بچھہ قیامتگ دوہ تہند بور **يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ**  
**نَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا** سمہ دوہنہ پھو کہ بیہ دنہ پُو غس منز بیہ سونہر اوو کہ اَس تمہہ دوہنہ نافرمان  
 اچھہ کاثرہ کتر تھہ گاشہ رُثہ **يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ** لو تہ لو تہ کرن پانہ وان تھہ **إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا عَشْرًا**  
 دہن توپہ رو دیونہ قبرن منز یاد نیاعس منز مگر دوہ دہنہ مرہ **مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا**  
 کرنہ سیت کیاہ سنا ندہ۔ اَس چھہ پور زانان تم کیاہ چھہ ونان پانہ وان **إِذْ يَقُولُ امْلَأْهُمُ طَرِيقًا إِنْ لَبِثْتُمْ**

عَشْرًا ﴿۱۳۷﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ  
لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ﴿۱۳۸﴾ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا  
فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ﴿۱۳۹﴾ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ﴿۱۴۰﴾ يَوْمَئِذٍ  
يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ  
فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿۱۴۱﴾ يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ  
لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿۱۴۲﴾ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

الْأَيُّومًا سَمِعَهُ سَائِدَةً تَمُودَ أُنْدَرَهُ زِيَادَهُ كَاظِلٌ وَنَانَ آسَ تَمِينَ تَهْمَهُ نَارُ وِدُونَهُ دُنْيَاءُ سِ انْدَرُ مَكْرَاكُهُ دَوَاهِيَةٌ كَسِ  
مُدَّتْ سُنُّ نَظَرِ كَمْرٍ تَهْمُ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا بِيَهُ جَهْمُهُ بِرِثْهَانَ تَوَهْمُهُ يَارَسُولَ اللّٰهِ  
بَعْضِي لَوْ كَهْ قِيَامَتِكَ حَالُ نُوزِتِ تَمَمَهُ دَوَهْمَهُ كِيَاهُ بَنَمُ كَمَنْ كَوَهْمُنْ - كَيْسُ فَرْمَاوِي كَهْ تَهْمُهُ يَارَسُولَ اللّٰهِ مَيُونُ  
پَرُورِدْ كَارِ كَرِهِ تَمَنْ رِيْزَه رِيْزَه، سَوْرُ تَوَهْمَتِهِ جَهْمُ كَرِ اُو كِيَهْ هُوَ هَسُ مَنْزِلُ پُورِهِ پَاثُ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا \* لَا تَرَىٰ  
فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا تَوَهْمَتِهِ كَرِهِ اَتَهْمُ زَمِيْسُ مَمُوَارِ مِيْدَانَاهُ يَتَهْمُ مَنْزِلُهُ زَه لَبِيْ بِي كَاهِنُهُ جَرَاهُ نَه كَاهِنُهُ  
تَهْمُ رَاهُ، نَه كَاهِنُهُ كَهْمَهُ وَسَاهُ يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا  
كِرْنُ اَلُو دَوَهْمُ وِنِ سِدَسِ اَلُوْسِ پِيْرُوِي اَوْرَهُ پُورْ كَهْمُهُ وِرَايْ - لِيْعْنِي پُوْغَسُ مَنْزِلِيْهُ پُجُو كَهْ وِنِ پِيْهُ سَبُو اَوَاْزِ  
وَإِيْتِ سَارِنِي قَبْرِ مَنْزِلْ - اَتِي هِنِ نِيْرِنِ لَوْ كَهْ قَبْرُ وِنِ مَنْزِلِهِ - تَهْمُ اَوَاْزِهِ بَرُوْتَهْمُ كَهْمُهُ بِيْجَهْمُهُ نَه كَاهِنُهُ تَهْمُهُ قِسْمُ كُجْرَاهُ  
لَا كَهْمُهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا بِيَهُ اَسْمُ تَمَمَهُ دَوَهْمَهُ سَارِي كَرِي كَهْمُهُ خُدَايْ  
رَحْمَانِهِ سَبِيْهِ خَوْفِهِ سَبِيْهِ - كَيْسُ اَسْمُ كَهْمُهُ تَهْمُ بُوْزَانِ تَيْتِيْنِ لَوْ كَنِ اِنْدَرُ مَكْرُ لُوْتِ لُوْتِ كُنِ پَهْرُ اَرِيْ يَابْرَفِ  
كَهْوَرِنِ هَبْدِهِ پُجُو كُ صَدَا يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا تَمَمَهُ دَوَهْمُهُ دِيْهِ نَه  
كَاهِنُهُ فَاَنْدَهُ كَانَسَهُ اَكْسُ كَانَسَهُ هَنْزِ شَفَاعَتِهِ تَهْمُ سَفَارَشِ مَكْرُ تَشِ دِيْهِ فَاَنْدَهُ لِيْسَبْدِهِ حَقَّهُ حَضْرَتِ رَحْمَانِ  
شَفَاعَتِكَ اِجَاْزَتِ دِيْهِ - بِيَهُ اَسْمُ حَضْرَتِ رَحْمَانِ رَاَضِي تَهْمُدِسُ وِنِ كَسُ، كَلَامِسُ تَشِ شَخْصَهُ سَبْدِهِ حَقَّهُ - اَمَمِهِ  
اَنْدَرِهِ جَهْمُ مَرُو اَبَا اِيْمَانَ تَهْمُهُ شَفَاعَتِكَ اِجَاْزَتِ پِيْهِ نَه شَفَاعَتِ كَرِهِ وِنِيْنِ - تَمِينَ مَتَلَقِ شَفَاعَتِ كِرْنِ اَسْمِهِ



وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا<sup>(۱۰)</sup> وَعَدْتَ الْوُجُوهَ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ  
 خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا<sup>(۱۱)</sup> وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
 فَلَا يَخِفُّ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا<sup>(۱۲)</sup> وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَ  
 صَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحَدِّثُ لَهُمْ ذِكْرًا<sup>(۱۳)</sup>  
 فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
 يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا<sup>(۱۴)</sup> وَلَقَدْ عَهِدْنَا

پسند الله تعالى اس۔ کافرن سے مٹ کر شفاعت کرنگ ایہ نہ اجاز تھی دنہ کانسہ **يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ** و  
**مَا خَلْفَهُمْ** سو پروردگار رحمان و جہوزانان سے سو روی یہ تمہن بروٹھہ کنہ آسہ ہیہ تمہو پتھ کن کورمت آسہ  
**وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا** لوکہ نیکن نہ احاطہ کر تھہ خدایہ سندس علس **وَعَدْتَ الْوُجُوهَ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ وَقَدْ**  
**خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا** ہیہ آسن ساری بٹھہ ٹمٹ تمہہ دوہہ ٹس خدایس کن، ٹس زندہ و جھو، زندہ تھادہ و ن  
 و جھو۔ ہیہ آسہ ذلیل سے ناکام تمہہ دوہہ سوئی ٹس شرنگ بورنتلت آسہ **وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ**  
**مُؤْمِنٌ فَلَا يَخِفُّ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا** ہیہ ہم رتھہ عملہ گر مٹھہ آسن درحالیہہ سو آسہ باایمان۔ ٹس کھو تھہ  
 نہ سونہ گنہن، ہنزہ زیادتی نہ نیکن ہنزہ کی **وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ**  
**يَتَّقُونَ أَوْ يُحَدِّثُ لَهُمْ ذِكْرًا** بٹھہ پاٹھہ ہم مضامین آی صاف صاف بیان کرنہ۔ بٹھہ پاٹھہ کور آسہ  
 نازل سوری قرآن مجید عربی زبوا اندر ہیہ کمر بیان آسہ تھہ منز پھیر پھیر و عمید۔ بٹھہ لوکہ کفر و شر کہ نشہ  
 نافرمانیہ نشہ پتھہ روزن۔ یاگرہ ہیہ قرآن مجید تہندین دلن اندر پیدہ کاہنہ شعورہ۔ تمہہ سبہ کنہ نہ کنہ وقتہ  
 سپدن تم اسلامس کن مایل۔ **فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ** بس و جھو بوڈتھہ خود اللہ تعالیٰ ٹس حقیقی پادشاہ  
 و جھو ہم ہیہ قرآن مجید نازل کور بٹھہ منز سیٹھہ نفع و جھو **وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ**  
**وَحْيُهُ** ہیہ بٹھہ پاٹھہ قرآن مجیدہ موجب عمل کرن، تمہہ چہ نصیحتہ مانہ سارنی مگلسن پیٹھہ فرض و جھو بٹھہ  
 پاٹھہ چھہ بعضی آداب قرآن مجیدہ کس نازل کر ٹس متعلق، تمہن ہندہ ادا کرنگ توہہ سیت تعلق و جھو

إِلَىٰ أَدَمَ مِنْ قَبْلِ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ﴿۱۱۵﴾ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ  
 اسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ ﴿۱۱۶﴾ فَقُلْنَا يَا أَدَمُ إِنَّ هَذَا  
 عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ ﴿۱۱۷﴾ إِنَّ  
 لَكَ الْآلَتَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ ﴿۱۱۸﴾ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَىٰ ﴿۱۱۹﴾

یا رسول اللہ۔ تمو آندره گواکہ تہمہ آسو جلدی کران قرآن مجید سیت سیت پرنس اندر تمہہ وحیک  
 نزول ختم سپندہ بروئہ۔ اتھ منز چھو توہمہ پانس تکلیف۔ کیا زہ جبریل امینہ سندن ہرن، تہمہ بوزن، توپتہ  
 سو پانہ من، اگر توہمہ اندیشہ چھو کہ یہ ماروزہ نہ مہ یاد سو کام تراو تہمہ آسہ پیٹھ۔ تہمہ آسو تمہہ خیطرہ یہ دعا  
 پران وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا تہمہ آسو دعا کران ای میانہ پروردگارہ مہ ہرہ راو علم۔ تہہ منز آی تم  
 ساری مطلب وَلَقَدْ عٰهَدْنَا اِلٰى اَدَمَ مِنْ قَبْلِ سَمِہ بروئہ واریاہ کال زیادہ درو آسہ آدم علیہ السلام  
 اکھ حکماہ سہمہ حکمک بیان بروئہ مہن پیہ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا تہن زود نہ یاد۔ تہن گنیہ غفلت نہ  
 بے احتیاطی۔ آسہ لوب نہ امہ حممہ کس اہتماس اندر تہن منز پختگی نہ ثابت قدمی۔ اگر امہ اجمالگ  
 تفصیل توہمہ بوزن غرض چھو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ اَبٰی تہیلہ پاوو ژ تہس سو  
 وقت یلہ آسہ لحم کور ملاکن سجده دیو آدم علیہ السلام۔ پس ڈیت تمو سجده مگر ڈیت نہ ایلین، تم کور  
 انکار فَقُلْنَا يَا اَدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى اے آدم  
 ہنز پاٹھ یہ ایلین چھو چون نہ چانہ زمانہ ہند دشمن۔ کیا زہ تہمہدی وجہ سپدیہ مردود۔ تہتھہ وون یہ توہمہ  
 دوشون سہمہ جنتہ منز ہکدہ۔ یعنی تہتھہ اسندہ وونہ موجب تہہہ کا ماہ کمر و سہمہ سببہ جنتہ منز ہویو کڈنہ۔ ادہ  
 تلو تہمہ دوشوے مشقت نہ تکلیف معاش حاصل کرنس اندر۔ یہہ جنس اندر چھو توہہ آرام کہہ لَانْ لَكَ  
 الْآلَتَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى تہہ منز چھنہ کاہنہ ہو چھاہ سہمہ سبب تکلیف و اتہا توہمہ۔ سو دور کرنہ  
 خیطرہ کا نہہ سامانہ آسانہ مہیا۔ نہ چھوہ تہمہ نئے وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَصْحَى بیہ نہ چھوہہ تریشہ ہمت،  
 نہ چھوہہ ترس نہ تاہس منز روزہ وون کیا زہ جنس منز آسہ نہ تاہے۔ بیہ آسن جنس منز مکانات پر تہہ

فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا دَمْرُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةٍ  
 الْخُلْدِ وَمَلِكٍ لِآبَيْلَى ﴿۱۲۰﴾ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَّتْ لَهَا سَوَاتِنُهُمَا  
 وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَعَصَى أَدْمُرُ رَبَّهُ  
 فَعَوَى ﴿۱۲۱﴾ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ﴿۱۲۲﴾ قَالَ اهْبِطَا  
 مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَإِنِّي بَأْتِيكُمْ مِّنِّي هَدًى  
 فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى ﴿۱۲۳﴾ وَمَنْ أَعْرَضَ

قسمک موجود۔ اگر جنت منزہ نیر دنیاءس منزجہ سوز نہ ایوتہ آسہہ پریتھہ معاملس منز مشکے تہ  
 مصیبتہ۔ یمہ تھہ زہر نظر تھاوتھ روزہ ہشیری سان فَوَسَّوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا دَمْرُ هَلْ أَدُلُّكَ  
 عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمَلِكٍ لِآبَيْلَى پس ٹروووسوسہ شیطانن ٹمن منز۔ دو ٹپس ای آدم یوماہاؤے تہیہ  
 سوکل سمیک پھل کھینہ سیت ہمیشہ جھہ زندہ روزان بیہ جھہ بنان سوپادشہمت یوسہ نہ پرانان جھہ زانہہ  
 تھہ نہ ضعف وستی یوان جھہ فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَّتْ لَهَا سَوَاتِنُهُمَا پس کھیووتمووشوے باژوتمہ  
 کلک پھل۔ اتی نیووٹمن دو شون بدنگ سو حصہ تھہ ستر جھویوان کرنہ یعنی جنگ لباس آکھ پائے  
 بدنہ پیٹھ مورادنہ وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ اتی تھہ جلتہ کین کلین ہند پینہ وتھر بدنس  
 پیٹھ لاگن تموے سیت ہیولکھ بدنس ستر کرن وَعَصَى أَدْمُرُ رَبَّهُ فَعَوَى بیہ کور آدم علیہ السلامن  
 خدایہ سندس کھمس اندر قصور۔ پس کمر تم غلطی۔ ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى تو پتہ یلہ تمبو  
 معذرت پیش کمر اللہ تعالیٰ ان کمر تم بر گزیدہ تہ زیادہ مقبول۔ بیہ کورس توبہ قبول۔ بیہ ہاوس تھہ  
 پینہ رضامندی ہنز۔ بیہ تھوون راہ راستس پیٹھ قائم۔ مگر تمہ کلک پھل کھینہ کہ وجہہ قَالَ اهْبِطَا  
 مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اللہ تعالیٰ ان فرموو کہ وسووشوے جلتہ منزہ زمینس پیٹھ تھہ  
 حاس اندر کہ تہہ روزوتہ تہند فرزند آسن اڈاڈین ہند دشمنن فَإِنِّي بَأْتِيكُمْ مِّنِّي هَدًى پس یلہ ولتہ  
 توہہ نشہ میون ہدایت تہ احکام پیغمبرن تہ کتابن ہندہ ذریعہ فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى

عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ  
 أَعْمَى ﴿۱۳۷﴾ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا ﴿۱۳۸﴾  
 قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴿۱۳۹﴾  
 وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ  
 الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى ﴿۱۴۰﴾ أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ  
 الْقُرُونِ يَيشُونَ فِي مَسْكِينِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّوَى ﴿۱۴۱﴾

پس اُس بی پروی کرہ میانس ہدائیس سُو وَتَرِ نَشْرٌ ذَلِہ نہ، گمراہ سپدہ نہ دُنیا س اندر۔ نہ آسہ سُو شقی  
 آخرتس اندر وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى یہ پُرس  
 میانیہ تمہہ نصیحتہ نہ حکمہ نَشْرٌ بَہ پھرہ پُرس آسہ تہمدہ خیطرہ قیامتہ بروئٹہ دُنیا س نہ قبرہ منز تنگی ہنز  
 زندگی۔ یہ تلون اَس سُو قیامتک دوہ قبرہ منزہ اون نہ اَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ  
 بَصِيرًا دَیپ سُو تجہ کن پروردگار ابو کیا زہ تَلْکَس زہ اون۔ بوی اوس دُنیا س اندر گاشدار قال کَذَلِكَ  
 أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى اللہ تعالیٰ فرماویس یتھہ پاٹھہ کیاہ واژاے زہ نَشْرٌ انبیاء و  
 علماء عن ہندہ واسطہ سان آیات نہ احکام۔ زہ مشراوتھہ تم۔ تمن ہند کوز تھہ نہ کاہنہ خیال۔ تھہ پاٹھہ کیاہ  
 یکہ زہ نہ از مشراونہ۔ چون یہ نہ کاہنہ خیال کرنہ وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَ  
 لَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى یتھہ پاٹھہ یہ سزا عملہ مناسب آودنہ یتھہ پاٹھہ دِمْوَأَس سزا پر یتھہ زیادتی  
 کرہ ونس پُرس نہ پڑھہ نہ یقین گرہ پنہ نس پروردگارہ سندین آیاتن۔ آخر تک عذاب چھو سیٹھاہ سخت نہ  
 سیٹھاہ پوشہ ون۔ تھہ چھونہ نہایتھہ کثیر۔ آخر تک عذابہ نَشْرٌ بَہ چنگ گڑھہ سیٹھاہ کوشش کرن اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ  
 كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُونِ يَيشُونَ فِي مَسْكِينِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّوَى سم بَہ پھرہ اون نہ  
 اعراض گرہ ون، سم اعراض کرنس پیٹھہ ڈاؤنتر تھہ چھہ۔ کیاہ تمن ہاوناد تھہ سمہ تھہ کہ آسہ کاژاہ جماژ  
 چھہ تمن بروئٹھہ ہلاک گر مشرہ یتھہ اعراض کرنہ مَوَکھ۔ و یخینس نہ چھہ سم پکان نہ اورہ یور کران تہنز

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاجِلٌ مُّسَمًّى ﴿۱۳۹﴾  
 فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ  
 وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ الْأَمَائِ الْبَيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ  
 لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ ﴿۱۴۰﴾ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا


دلریو جلاؤ کن شہر شامس کن گوہنہ بیچہ وقتہ کیازہ تہزہ سمہ لہہ جایہ آسہ مکہ کین لوکن وتہ منز یوان پتر  
 پاٹھ اتھ امر مذکورس اندرتہ چٹھ اہل فہم تہ عقلہ والین ہندہ خیطرہ کافی دلیلہ خدایس نش اعراضہ کس  
 مذموم تہ ناپسند آسکس پیٹھ موجود وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَّاجِلٌ مُّسَمًّى بیہ ہر گاہ  
 تے تہندس پروردگارہ سیدہ طرفہ آکھ کتھاہ بیان کرنہ آسہا آمرث۔ سہو گنیہ بیہ کتھ کہ بعض مصطلحن ہندہ  
 موکھ بیہ نافرمان مہلت ونہ۔ بیہ تے پریتھ کامہ ہند وقت مقرر کرنہ آسہا آمت تکن نافرمان بیہ ہالازی  
 طور ضرور عذاب کرنہ دنیا سی اندر۔ مگر سو وقت چھو مقرر کرنہ آمت۔ سو گو قیامتگ دوہ۔ دو دن یلہ  
 عذابک وائن یقینی چھو لہذا فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا  
 وَمِنْ الْأَمَائِ الْبَيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ کس کر و تہہ دشمن ہزن نگر آمیز کتھن پیٹھ  
 صبر۔ بیہ یوسہ توہہ خدایہ سیدہ خیطرہ تہن پیٹھ تھ کھسان چٹھ تہن پیٹھ عذابس اندر درگی سپد نہ موکھ  
 اضطراب پیدہ سپدان چھو۔ سو اضطراب تروو۔ تہہ سپد و متوجہ پنہ نس یادس کن۔ پنہ نس پروردگارہ  
 سہد حمد و ثنا آہو دیان۔ تسبیح و تقدیس آہو کران۔ تھہ منز نماز تہ شامل سپز آفتاب کھسنہ برو تھ۔ سہو گنیہ  
 صبح نماز۔ بیہ آفتاب لوسنہ برو تھ تھہ منز بیہ پشن نماز تہ وگر نماز بیہ راٹ ہندیو وقتو منزہ تہ آہو تسبیح  
 پران۔ تھہ منز سپز شامل شام نماز تہ مختن نماز۔ بیہ دوہہ کس گوڈس تہ آندس منز تہ آہو تسبیح پران  
 تا یلکہ اتھ پیٹھ کس ثواب توہہ حاصل سپدہ تمہ سیت آہو تہہ خوش سپدان۔ غرض کتھ کہہ کر و پنہ  
 نس معبود برحقس کن پور توجہ۔ دشمن ہنز فکر مہ کر و۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا  
 وَتَمُومٌ بیہ مہ حض ز تھہ راو و تہہ ہن نظر تھہ ماس کن سمہ مالہ سیت فاندہ تئنا و آسہ کافر و آندرہ مختلف

مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْسِهِمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ  
 خَيْرٌ وَأَبْقَى ۝۳۱ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا  
 نَسَأُكَ رِزْقًا لَنْحُنَّ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ۝۳۲ وَقَالُوا  
 لَوْلَا يَأْتِينَا بَايَةٌ مِنْ رَبِّهِ أَوْ لَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مِمَّنِ الصُّحُفِ  
 الْأُولَى ۝۳۳ وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا  
 رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ

قسمک لو کہ مثلاً۔ یہود و نصاریٰ بہ مشرکین زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا نِس مال چھو دنیا چہ زندگی ہنز  
 ناپایدار پھلیاہ لِنَفْسِهِمْ فِيهِ بھتھ اسی سیت گرو تین آزمائش وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى تو بہ  
 بہ دینت چھو تین پروردگار تہ چھو سیٹھا بہتر تہ پوشہ وَن وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا  
 لَا نَسَأُكَ رِزْقًا بہ کمر و تہہ حکم پنہ نین گرہ کین لو کن پنہ نِس اہس نماز پر نگ۔ پانہ تہ کمر و نمازہ  
 پیٹھ استقامت۔ سمہ کامہ چھہ زیادہ تو چھس قابل۔ اَس چھہ توبہ دپان یا توبہ و رای تین لو کن دپان  
 تو تھ معاش تہ رزق کماون نِس مانع سپدہ ضروری طاعات نہ عبادت نِ نَحْنُ نَرْزُقُكَ رِزْق تہ معاش  
 کرووہ اَس توبہ بہ توبہ و رای تین عطا۔ یعنی مقصود اصلی چھو نہ رزق کماون تہ معاش کماون بلکہ چھو  
 مقصود اصلی دین تہ طاعت باری تعالیٰ کرن۔ مال زینہ نگ تہ رزق کماونگ چھو اجازت تھہ حدس  
 تان۔ سمہ سیت ضروری طاعتس تہ عبادتس فتور لیہ نہ۔ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى رُت انجام چھو پر ہیز  
 گارن ہند وَقَالُوا لَوْلَا يَأْتِينَا بَايَةٌ مِنْ رَبِّهِ بہ چھہ و نان اعراض گرہ و ن لو کہ بہ پیٹمبر کیاہ چھو نہ  
 اَسہ نِس اناں کا نہ نشاہ پنہ نبوتگ پنہ نِس ہر و ردگار س نشہ اَوْ لَمْ تَأْتِهِمْ بَيِّنَةٌ مِمَّنِ الصُّحُفِ الْأُولَى  
 کیاہ تین نشہ ووت ناپیان تین مضمون ہند ہم برو تھمین کتابن منز آس قرآن مجیدس متعلق۔ وَلَوْ أَنَّا  
 أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ

أَنْ تَذِلَّ وَتَخْزَى ۝ قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبِّصُوا  
فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى ۝

تَذِلَّ وَتَخْزَى بیہر گاہ آس تم گالہوک کئی عذابہ سیت قرآن مجید نازل کرنے بروٹھے ضرور ونہ ہن تم ای سانہ پروردگارہ ژہ کونہ سوزوتھن اسمہ کن کاہنہ پیغمبرہ تا اینکه آس کرہ ہو پیروی چائین حکمن ذلیل و رسوا گھنہ بروٹھے ونہ نچ تھاؤ کہ نہ اسمہ گنجائشی اگر تم ونن سو عذاب کر سپدہ واقع قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبِّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَبُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى تہہ فرماؤ کہ یارسول اللہ آس ساری چھہ پیاران، کینہہ کالاہ، پیاروتہہ تہ، توہہ حکمہ پانے زانن سیزہ ویتہ ہند لوک کم چھہ۔ بیہ کم چھہ منزل مقصودس واتہ ون



## سُورَةُ الْاَنْبِيَاءِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ  
 مُّعْرِضُونَ ۝<sup>۱</sup> مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٍ اِلَّا اسْتَمَعُوْهُ  
 وَهُمْ يَلْعَبُوْنَ ۝<sup>۲</sup> لَاهِيَةً قُلُوْبُهُمْ وَاَسْرُو النَّجْوٰى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا  
 هَلْ هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اَفَتَاتُوْنَ السَّحْرَ وَاَنْتُمْ تَبْصُرُوْنَ ۝<sup>۳</sup>  
 قُلْ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ۝<sup>۴</sup>

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ نزدیک سپد بین مٹے لوکن ہندہ  
 حساب وقت۔ کیا زہ قیامت چھ روز بروز نزدیک یوان مگر تم چھ دن بے خبری تہ غفلتس اندر پتہ  
 اعراض کران تہ چھ پھران تہنر۔ غفلت چھ یوت واثر ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الاستمعوا  
 وَهُمْ يَلْعَبُونَ کہ یوسہ نصیحتاہ تازہ تمن نشہ پنہ نس پروردگار ہندہ طرفہ واتان چھ تہ چھ تم تہ پاتہ  
 بوزان کہ زن ہندہ ہنا چھ لاہیۃ قلوبہم غافل چھ ہند دل تمہ نصیحتہ نشہ تہ کن چھنہ کاہنہ توجہ  
 کران وَاَسْرُو النَّجْوٰى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا هَلْ هٰذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ لوتہ لوتہ چھ تم ظالم تہ کافر لوکہ کن تہ  
 کران پانہ وان۔ دپان چھ یہ (حضرت) محمد چھو محض توی ہیواکہ انساناہ یہ نہ کہینہ۔ وذن یہ تہ تم  
 بیان کران چھ، تمہ چھ بحر تہ جود۔ تمہ اندرہ کمزور نہ تہہ مجرہ آسک خیال۔ مجرہ آسک خیال کمر ت  
 کمزور نہ تہہ تہندہ پیغمبر آسک خیال اَفَتَاتُوْنَ السَّحْرَ وَاَنْتُمْ تَبْصُرُوْنَ ادہ کیا زہ چھوہ اچھن ڈیشمان تویہ  
 سوسحر یوزنہ خیطرہ تمن نشہ یوان، یمن پان زورہ گرفتار کرنہ خیطرہ قُلْ رَبِّيْ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ  
 وَهُوَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ فر موو کہ پیغمبر برحقن، تہہ کمر تو ژورہ ژورہ کن تہہ۔ میون پروردگار چھو زانان



بَلْ قَالُوا أَضْغَاتٌ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا  
بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأُولُونَ ۝۵ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ أَهْلَكْنَاهَا  
أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ۝۶ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ  
فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝۷ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ  
جَسَدًا إِلَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ۝۸ تَمَّ صَدَقْتُمْ

پریتھ تھے۔ ادہ سمو آسمان منز آستن یازمین منز، ادہ سو ظاہر آستن یا پو شیدہ۔ بیہ چھو سو روی وارہ  
یوزہ ون۔ سو روی پورزانہ ون۔ تہنز کتھہ پھنہ نس نش کھٹھ سوویہ توہہ پورسزل تمو کافر وون نہ  
قرآن مجید س سحری یوت بَلْ قَالُوا أَضْغَاتٌ أَحْلَامٍ بلکہ لگ تم و نہ کہ بیہ قرآن مجید چھو پریشان  
خیالات بَلْ افْتَرَاهُ بلکہ چھو یہ قرآن مجید تموپانے پنہ دلہ ٹھہر وومت بَلْ هُوَ شَاعِرٌ بلکہ چھو یہ پیغمبر  
شاعر۔ ہر گاہ سو واقعی پیغمبر چھو فلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأُولُونَ تیلہ آن سو اسہ نشہ تم مجزہ سم  
مجزہ بیتھ برو ٹھم پیغمبر چھہ سوزنہ آمت۔ بیہ آس حیرانی یمن کافرن پائس کہ اکس رایہ پیٹھ آس نہ  
روزان۔ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ سمو برو ٹھہ شہرک روزان وال سم اسہ ہلاک  
کمر نہ گال باوجود فرمائش مجزات آسجہ اون نہ تمو ایمان، کیا تم لو کہ انہ معجزات ظاہر سپد تھ ایمان۔  
تتھس حالس پیٹھ چھو ایمان نہ انہ مو کہ ضرور عذاب نازل سپدان۔ لہذا چھہ آس تم معجزات ظاہر  
کران تمن ہنز فرمائش سم کران چھہ۔ قرآن مجید چھو ساروے مجر و کھنبت یوڈ مجزہ۔ سووی چھو کافی  
وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بیہ سوزنہ اسہ توہہ  
برو ٹھہ کاہنہ پیغمبر اہ مگر سوز مردانسانو نہ بشر وی اندرہ۔ تمنی کن آس آس وحی سوزان۔ پس پر ٹھہ توہہ  
اہل کتابن، یہود و نصاریٰ ان تمن تہہ پنن دوست چھہ و نان ہر گاہ نے توہہ پائس خیر چھہ۔ وَمَا  
جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا إِلَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ بیہ بناونہ اسہ تمن پیغمبرن ہند بدن تھہ یم نہ خوراک نہ غذا  
کھووان آسمن ملاکن ہند پاٹھ۔ بیہ چھہ تم کافر مظہر تہند س سمہ عالمہ گدھنس، تھہ پیٹھ چھہ تم خوشیہ

الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَهُمْ وَمَنْ نَسَّأُوا وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ۙ لَقَدْ  
 أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۙ وَكَمْ قَصَصْنَا  
 مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۙ  
 فَلَمَّا أَحْسَبُوا أَنَّ آدَاءَهُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ۙ لَا تَرْكُضُوا وَ  
 ارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ ۙ

تہ شاہہ کران۔ یہ سہمہ عالمہ گڑھن چھنہ بوتس منانی تہ خلاف۔ کیاہہ۔ وما كانوا ظالمين تم بروٹھم  
 حضرات انبیاء رُودنہ ہمیشہ دنیاء سی اندر۔ پس ہر گاہ تہند وفات سپدہ تمہہ سیت کیاہہ نقص لایہ لازم  
 تہندس بوتس تہ صدقہ انہم الوعد فأنجینہم ومن نسأوا وأهلکنا المسرفین توپتہ کور اسہ وعدہ پن  
 تمہن مکران سیت پوز۔ یعنی نافرمان پیٹھ عذاب نازل کرنس متعلق۔ تم سپد عذابس گرفتار پس دیت  
 نجات اسہ تمہن باایمان، بیہہ تمہن ہند اسہ یوڑھہ بیہہ کٹر اسہ ہلاک نافرمانی منز حدہ ڈلہ ون، لہذا گڑھہ  
 کھوڑن تمہن کافر ہند۔ ای مکر ہر گاہ توہہ پیٹھہ دنیاءس منز یا آخرتس منز عذاب کرنہ لایہ کاہنہ  
 تعجب چھنہ کیاہہ لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ پز پات نازل کٹر اسہ توہہ کن سنو  
 کتاب ہتھہ منز توہہ کڑھانی نصیحت چھہ۔ کیاہہ توتہ چھنہ توہہ فخرہ تران وَكَمْ قَصَصْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ  
 ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ بیہہ چھہ اسہ کاہن شہرن ہند لو کہ تم ظالم یعنی کافر آس ہلاک  
 تہ تباہ کرمت توپتہ کور پیدہ تمہن پتہ بیا کہ قومہ تمہن شہرن اندر آباد کٹر فَلَمَّا أَحْسَبُوا أَنَّ آدَاءَهُمْ  
 مِنْهَا يَرْكُضُونَ ادہ یلہ تمہوڑیون سانہ عذابہ نازل سپد ٹک۔ اتی ہیزو کہ ٹکن، اسہ دوچھہ لَا تَرْكُضُوا وَ  
 ارْجِعُوا إِلَى مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْأَلُونَ تلوہمہ، واپس ایوتھہ سازو سامانس کن ہتھہ منز  
 روزت عیش آہوہ کران۔ بیہہ ایو پنہ نین گرن کن واپس دیو توہہ پڑھنہ لایہ کہ مال و دولتک تہ توتک  
 نٹھہ کوت گو۔ امہ اندرہ چھوڑا د تمہن ژینہ ون ون کہ نہ رُودوہ توہہ سامانہ چھنہ نہ روزوہ تمہہ لہہ جلیہ  
 چھنہ۔ نہ رُودوہ کاہنہ ہمدروئہ ساری گے ختم قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ یلہ عذابس گرفتار ہن سپدن تم

قَالُوا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خَالِدِينَ فِيهَا ۖ أَتَسْمَعُونَ ۚ ﴿۱۳﴾ فَمَا زِلْتَ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ  
 جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خُمِيدِينَ ﴿۱۴﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ  
 وَمَا بَيْنَهُمَا الْعِيبِينَ ﴿۱۵﴾ لَوِ ارْتَدْنَا أَنْ تَتَّخِذَ لَهُمْ آلَاتٍ خَذَنُوهُ  
 مِنْ لَدُنَّا ۗ إِنَّ كُتَابَ الْفَاعِلِينَ ﴿۱۶﴾ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ  
 فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۖ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿۱۷﴾

دینہ لگ افسوس واقعی آس آس ظالم۔ فَمَا زِلْتَ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خُمِيدِينَ یہ  
 روزہ تمن ہنزہ کے کریکے تو تان، یوت تان اسہ تم کتراو تھ تھاو، شہلاو تھ تھاو وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ  
 وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعِيبِينَ سانس کن آسس پیٹھ چھہ سان مصنوعات تہ مخلوقات دلالت کران  
 کیا زہ اسہ کمر نہ آسان تہ زمین بیہ یہ سمکن دون منز چھو پیدہ گند ان گند ان جھموتہ مصلحتو ورا ی۔ اسہ کمر نہ  
 تم پٹھ پاٹھ پیدہ کہ اس کیا آسہو عبث تہ بے معنی اکھ کا ماہ کران۔ بلکہ چھہ یہ پیدہ کر نس اندر جہ جہ  
 جھموتہ۔ بڈ جھمت گنیہ بیہ کہ تم چھہ دلالت کران مجود برحقہ سندس وحدانیتس پیٹھ۔ لَوِ ارْتَدْنَا أَنْ  
 تَتَّخِذَ لَهُمْ آلَاتٍ خَذَنُوهُ مِنْ لَدُنَّا ۗ إِنَّ كُتَابَ الْفَاعِلِينَ پیدہ کر نس اندرے کنبی مصلحت آسہانہ بلکہ آسہا  
 اکھ مشغلہ بناون اسہ مر اویٹھ منز نہ کاہنہ رت فائدہ آسہا تیلہ بناوہ ہو آس پنہ نس کنبہ چیزس پن مشغلہ۔  
 مثلاً پنہ نین کمالہ کین صفاتن ہندس مشاہدس بناوہ ہو آس مشغلہ۔ کیا زہ مشغلس گڑھہ شافلہ سندس  
 ذاتس سیت مناسبتہا آرن۔ حضرت واجب الوجودس کیاہ مناسبت چھہ مصنوعات حادثن سیت۔  
 صفات قدیمہ باوجودیمہ تم چھہ لازم تمن تہ چھہ مناسبت تم کیا ہیکن مشغلہ بنت۔ وون چھہ کتھہ  
 مصنوعات حادثن ہنز تم کیاہ ہیکن بنت مشغلہ باری تعالیٰ۔ لہذا سپڈ ثابت کہ آسان وزمین اسہ بے ہودہ  
 تہ عبث پیدہ کمر نہ۔ بلکہ کمر پیدہ اثبات حق تہ ابطال باطلہ خیرہ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ  
 فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ بلکہ چھوسون ارادہ یہ تمام کائنات پیدہ کرنہ اندر حق و باطلک مقابلہ کران۔  
 چنانچہ آس چھن پنر کتھ پٹھ مصنوعات دلالت چھہ کران اپزس پیٹھ برتر تھ دو ان تہ غالب کران۔

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ  
عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ ﴿۱۹﴾ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ  
لَا يَفْتُرُونَ ﴿۲۰﴾ أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُبَشِّرُونَ ﴿۲۱﴾  
لَوْ كَانَ فِيهَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ

نہیں چھو سُو پوز تھے اہرس کاڑ کڈان اتی چھو سُو اپز گلان، خم تھو شان و لکھ الویل مٹا تصفون تھندہ  
خاطرہ چھو ویل تہ افسوس بیہ سیٹھاہ خرابی۔ ای مکہ کیو کا فرود، تمو کھو سببہ سمہ تہہ ونان چھوہ معبود  
برحق نسبت۔ معبود برحقہ سُنڈ شان چھو سیٹھاہ تھود وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حالانکہ تم  
آسمان تہ زمین اندر چھہ تم چھہ تھندی مملوک۔ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَ  
لَا يَسْتَحْسِرُونَ تمو آندره تم تم نزدیک چھہ یعنی مقرر بان الہی تم چھہہ مخبر تہ عار کران تھندہ عبادتہ  
نُشہ، نہ چھہ تم عبادت کران کران تھکان زانہہ يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ بلکہ چھہ راس  
تہ دوہس تسبیح پران آسان، تراوان چھہہ سو کام أَمْ اتَّخَذُوا آلِهَةً مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُبَشِّرُونَ توحید چہ  
ایزہ دلیلہ بوزت تہ چھہ تم زمینہ کین معبودان باطلن معبود ٹھہر او ان۔ یم تم مر نہ پتہ بیہ زندہ کرن۔  
آسمان ہند مقرب بندہ چھہ خدای قدوسہ سز عبادت کران۔ زمین بیہ زمینہ نُشہ نیمت مخلوق تم سیٹھاہ  
سبغی، ہنمہ درجک مخلوق چھہ، تم اندر چھہ تھہ کانہہ ہستی یم خدائس مقابل معبود ہیکن بنبت۔ یلہ خدای  
ذوالجلال تھندین پر ستش کرہ ونین سز اوت تہ عذاب کمر تھ مارہ تم معبودان باطل ہیکنہ سنا تم تم  
عذابہ نُشہ مولاوت یا مر نہ پتہ بیہ زندہ کمر تھ۔ وون نُس نہ عذابہ نُشہ مولاوت ہیکنہ یا مر تھ زندہ  
کمر تھ ہیکنہ ٹیٹہ عاجز ہیکنیا معبود آنتھ۔ لَوْ كَانَ فِيهَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا ہر گاہ آسمن آسان  
وز مینس منز معبود برحق و رای بنی معبود تلہ آسمن تم دو شوے تہ تہ تہ بُر باد گامت۔ کیازہ عادتاً  
آسہا تم دو شون ہندین ارادون تہ کا مین اندر اختلاف۔ اکھ دپہ ہارود تراوہ۔ بیاکھ دپہ ہابہ تراوہ نہ۔ دون  
منز سپدہ ہامزاحت۔ کس سپدہ ہافساد۔ ون چونکہ فساد چھہہہ امی آندره سپد معلوم۔ زہ چھہہہ کنوی معبود

الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۲۳﴾ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ  
 يُسْأَلُونَ ﴿۲۴﴾ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُلُوبًا  
 بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِي وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي  
 بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۲۵﴾  
 وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ  
 لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿۲۶﴾ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا

برحق چھو فسبحن اللہ رب العرش عَمَّا يَصِفُونَ پس معبود برحق عرش مالک چھو منزہ تہ  
 پاک تم ساروی کتھونشہ سمہ کتھ مشرک تس نسبت ونان چھہ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ  
 سو چھو تھوی عظمتہ وول کہ تس لیہ نہ پر ژھنہ کتھہ کامہ ہند۔ یہ کیا زہ تہ یہ کونہ۔ لوکن بیہ پر ژھنہ یہ کیا زہ  
 کورہ، یہ کونہ کورہ یلہ نہ تس عظمتس منز کا نہہ شریک چھو، معبود آسس منز کتھہ کنہ ہیجہ تس شریک  
 آتھہ أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ کیاہ معبود برحق تراوت چھا تموہے معبود ٹھہراومت قُلُ  
 هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ نہہہ فرما یو کہ یار رسول اللہ اے لو کو چھوے اتھہ شرکس پیٹھہ کا نہہہ دلیلہہ سنو  
 کھرو پیش هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعِي وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي یہ گئیہ کتاب تمن لوکن ہنزیم مہ سیت چھہ یعنی  
 قرآن مجید۔ یہ گئیہ تمن لوکن ہنز کتاب سم مہ بروٹھہ آس یعنی تورات وانجیل وزبور۔ یمن سارنی  
 کتابن منز باو تو امیک ثبوتاہ کتھہ جلیہ یعنی شرک بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ  
 بلکہ چھہ تمی منز اکثر تھے سم نہ امر ٹھک یقینی چھہ کران۔ تمہہ موکہ چھہ تم پوز قبول کرنہ نشہہ اعراض  
 کران تہ ٹھہ پھر ان۔ یہ توحیدک مسئلہ چھنہ نووکا نہہہ مسئلہ سمہ سیت تمن وحشت پیدہ سپدان چھو۔  
 بلکہ چھو یہ بروٹھہ شریعت چنانچہ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا  
 أَنَا فَاعْبُدُونِ یہ سوزنہ اسہ توبہہ بروٹھہ کا نہہہ پیغمبرہ مگر تس گن سوزاسہ یوہے وحی کہ کا نہہہ  
 معبوداہ چھنہ مہ وراہی۔ پس کھرو میانیاثر عبادت تہ پرستش وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا

سُبْحٰنَهُۥٓ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُوْنَ ۝۲۶ لَا يَسْبِقُوْنَہٗ بِالْقَوْلِ وَّهُمْ  
 بِأَمْرِہٖ یَعْمَلُوْنَ ۝۲۷ یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَيْدِیْہُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ  
 وَلَا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضٰی وَہُمْ مِّنْ خَشِیَّتِہٖ مُّشْفِقُونَ ۝۲۸  
 وَمَنْ یَّقُلْ مِنْہُمْ اِنِّیْ اِلٰہٌ مِّنْ دُوْنِہٖ فَذٰلِکَ نَجِزِیْہِ جَهَنَّمَ  
 کَذٰلِکَ نَجِزِی الظّٰلِمِیْنَ ۝۲۹ اَوَلَمْ یَرَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَنَّ  
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ کَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰہُمَا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَآءِ

مشرگو آندره چھہ ونان بعضی کہ حضرت رحمان چھہ اولاد ملائیک بعضہ چھہ ونان زہ ملائک چھس  
 کورہ۔ توباہ۔ توباہ، سوچھو اولاد تہ کورہ آسنہ نشہ منزہ تہ پاک، تم ملائک چھہ تسمند اولاد بَلْ عِبَادٌ  
 مُّکْرَمُونَ بلکہ چھہ تم خدایہ سند معزز بندہ تہندہ عبدیچ تہ محکومچ کیفیت چھہ یہ کہ لَا یَسْبِقُوْنَہٗ بِالْقَوْلِ  
 وَہُمْ بِأَمْرِہٖ یَعْمَلُونَ تم چھہ نس بروئھہ کنہ کتھہ ہیگان کتر تھہ۔ بلکہ چھہ آسان پنہہ جلیہ روز تھہ  
 کھس انتظار کران۔ بیہ چھہ تم تہندس کھس تقیل کران۔ تم چھہ تہندس کھس بدل کران کیا زہ  
 یَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَيْدِیْہُمْ وَمَا خَلْفَهُمْ اللہ تعالیٰ چھو تہند بروئھہ پنتم سو روی حال زنان۔ تمن بندہ  
 ادیچ کیفیت چھہ یہ کہ وَلَا یَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضٰی وَہُمْ مِّنْ خَشِیَّتِہٖ مُّشْفِقُونَ بیہ چھہ تم شفاعت  
 تہ سفارش کران کانسہ مگر تس بندہ حھہ اللہ تعالیٰ راضی آسہ شفاعت کرنس۔ تم چھہ تہندہ خوفہ سببہ  
 تہ اندر آسان وَمَنْ یَّقُلْ مِنْہُمْ اِنِّیْ اِلٰہٌ مِّنْ دُوْنِہٖ فَذٰلِکَ نَجِزِیْہِ جَهَنَّمَ بیہ نس اکھہ تمو ملکو آندہ  
 دعوائے کرہ پنہہ معبود آسک معبود برحقس وراہی نس دموتس اس سزانا تہندم کَذٰلِکَ نَجِزِی  
 الظّٰلِمِیْنَ تھہ پاھ چھہ اس ظالم سزادوان اَوَلَمْ یَرَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ  
 کَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰہُمَا کیا تم کافر نامعلوم یہ کتھہ کہ پنر پاھ آسانہ تہ زمین اوس اکھ اس سیت  
 ملیتھہ بند۔ نہ اوس آسانہ رُود پیوان نہ اوس زمینہ منزہ کینہہ پیدہ سپدان۔ نس مژرا و اسی تم دوشوے۔

كُلُّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۰﴾ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ  
 تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۳۱﴾  
 وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۖ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرَضُونَ ﴿۳۲﴾  
 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ  
 فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿۳۳﴾ وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَرَ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ  
 أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخُلْدُونَ ﴿۳۴﴾ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ

اگہ اِس نشتہ گمر جدا۔ پتھ پاتھ کہ آسمانہ طرفہ ترود زود زمینہ منزہ کھور گاسہ۔ امہ بارشہ سیت چھنہ زمینہ  
 منزہ گاسے یوت کھسان بلکہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ بلکہ بنو اسہ امہ بارشہ سیت پر پتھ چیزہ  
 جاندارتہ زندہ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ کیاہ توتہ کرن ناتم پڑھ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ بیہ گمر اسہ پتھ  
 قدرتہ سیت زمینس پیٹھ کوہ پیدہ أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ پتھ نہ زمین لکھ بیتھ اورہ یورولہ۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا  
 فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ بیہ کرہ اسہ اتھ زمینس منز شادہ وتہ پتھ لوکھ واتمان آسن پنہ نین  
 مطلبین تہ مقصدن وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا بیہ کور اسہ آسمان محفوظ پشاه اگہ اِس وار سبس  
 کالس موجود روزہ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرَضُونَ مگر سم لوکھ چھہ امہ کیو قدرتی نغاشو نشتہ پتھ بھر ان  
 وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ بیہ چھو سو خدا پتھ قدرتہ  
 دول کہ رات تہ دوہ کور زون پیدہ، پر پتھ اکھاہ تمود ویو اندرہ چھو پنہ اِس مدارس منز پتھ پاتھ پکان زن  
 ژھانٹ ولیان چھہ۔ سم لوکھ چھہ ٹھندس وفاتس پیٹھ خوشی تہ مسرت ظاہر کران۔ یہ وفات چھنہ  
 نبوتس منافی کینہہ تہ کیا زہ وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَرَ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخُلْدُونَ اسہ  
 کورنہ توہہ بروٹھ کانہہ بشرہ سندہ خیطرہ (خواہ سونی آستن یا غیر نبی) دُنیا س اندر ہمیشہ زندہ روزن  
 مقرر۔ پتھ پاتھ توہہ بروٹھ پیغمبر سوزنہ آے تو پتہ گے تم۔ سمہ عالمہ پتھ پاتھ سوزنہ ٹہہ تہ، ٹہہ تہ چھوہ  
 سمہ عالمہ گدھن۔ کیاہ ہر گاہ ٹہہ سمہ عالمہ گدھو، تمین چھاروزن ہمیشہ زندے۔ تمین تہ چھو مرن، سمہ

الْمَوْتِ وَنَبَلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿۳۵﴾  
 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا  
 الَّذِي يَذْكُرُ إِلَهُكُمْ؟ وَهُمْ يَذُكِّرُونَ الرَّحْمَنَ هُمْ كَفَرُوا وَ ﴿۳۶﴾  
 خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَجٍ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿۳۷﴾  
 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۸﴾ لَوْ يَعْلَمُ

دنیا آندره نیرن۔ تم تھ پیٹھ چھہ تھندس سہمہ عالمہ گوہنل پیٹھ خوشی ظاہر کران **كُلُّ نَفْسٍ**  
**ذَائِقَةُ الْمَوْتِ** موت چھو ٹیٹھ چیزہ کہ پریتھ جاندارہ چھو اہمہ نتہ اہمہ دوہہہ مؤتگ مزہ تہن وول  
**وَنَبَلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ** بیہ یوسہ اسہ توبہہ چندروزہ زندگی دژمژ چھہ سہو چھہ  
 محض توبہہ خیرہ تہ شرہ سیت آزماش کرنہ خیرہ۔ دنیا آندره نیرت چھو توبہہ اسی نشہہ وائن۔ اسہ نشہہ  
 واتھہ پیہہ پریتھ اکس مناسب سزاتہ جزاونہ یمن کافرن ہنز حالت چھہ یہ کہ **وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ كَفَرُوا**  
**إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا** یلبہ تم کافر توبہہ چھان چھہ تمہہ ساتہ چھہ توبہہ سیت ٹھٹھہ تہ استہزاء  
 کران۔ پانہ وان چھہ ونان کہ **أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ إِلَهُكُمْ وَهُمْ يَذُكِّرُونَ الرَّحْمَنَ هُمْ كَفَرُوا** کیا یوہے  
 شخص چھائس تھندین معبودن نسبت چھو پیٹھ ونان۔ حالانکہ تم چھہ حضرت رحمانہ سداہینہ نشہہ انکار  
 تہ ٹھر کران۔ حقیقتس اندر آس اعتراض ٹھہ کیے۔ تم پڑہہ پاپلس اتھ پیٹھ ملامت کرن۔ امہ خوتہ  
 تعجب چھو کہ سہمہ ساتہ تم یوزان چھہ کہ ٹھر ک سز۔ اچھو نزول عذاب، تم چھہ انکارہ کن تھہ عذابس  
 جلد تھانڈان **خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَلَجٍ** انسان چھو پیدہ کرنہ آمت بانیرہ۔ زن اسنرہ آڈرنہ منز چھہ  
 تراونہ آمز جلدی تہ بانیر۔ امی موکہ چھہ تم لوکہ جلدی عذاب منگان۔ تھہ منز تریگڑھنس چھہ زانان  
 عذاب واقع نہ سپدنچ دلیل **سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ** ای کافر و بانیرہ ممہ جلدی ہاودوہ یو توبہہ  
 عذابس گرفتار کرنک نشانہ تہ علامت۔ ٹہہ مہ کمر و جلدی کیا ذوق تہ بروٹھ سو عذاب ایہ نہ۔ وقس پیٹھ  
 پنہ نشہہ ڈلہ نہ **وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ** بیہ چھہ ونان تم لوکہ کہ کرسپدہ یہ وعدہ



الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا  
 عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۳۹﴾ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً  
 فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۴۰﴾  
 وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا  
 مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۴۱﴾ قُلْ مَنْ يَبْكُلُكُمْ بِاللَّيْلِ  
 وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿۴۲﴾

پورہ چھوے تہہ پزیر۔ لَوَيْعَلُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكْفُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ  
 ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ اے کاش تم کافر نہ ہوتے تو تمہاری نگاہیں نہ ہوتی اور تمہاری  
 طرف نہ لگتی تو پتہ ہی کہ تم سونا پانس بروٹھکن دور کمر تھ نہ پینہ پشتہ کن تہ تھنر کن دور کمر تھ۔  
 نہ یہ تم کا ہنہ مدد کرنے۔ اگر تم تہ معلوم آسہا۔ تیلہ کرہ ہن نہ تم عذاب نار بچ فرمائش۔ لہذا چھہ یہ  
 تھ ضروری کہ تہزہ فرمائشہ موافق کیا ایہ نازک عذاب تم کنہ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا  
 يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ بلکہ وائہ تم بروٹھکن سو عذاب ہجہ تہ معہ۔ سوی کر کیکہ  
 حیران۔ دم پھٹ گڑھن۔ پس ہیکن نہ تھ نارس پانس نشہ دور کمر تھ نہ ایک مہلت دنہ وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ  
 بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ بیشک بیہ چھہ ٹھٹھ آمت  
 کرنے تم پیغمبرن سیت تم توہہ بروٹھ آس یار رسول اللہ۔ پس آوولنہ تم ٹھٹھ کرہ وین سوی عذاب  
 تھ تم ٹھٹھ کران آس قُلْ مَنْ يَبْكُلُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ تہہ فرما یو کھ یار رسول اللہ کہ  
 دنیا اس منزئس توہہ محفوظ چھوہ عذابہ نشہ پتہ چھہ مہربانی حضرت رحمانہ سنزی ہر گاہے تہہ مانو تہز  
 مہربانی تہ احسان تلہ وینو تہہ کہہ چھوہ اچھہ کران راتس تہ دوہس حضرت رحمانہ سندہ عذابہ نشہ۔ یہ  
 چھہ تہزری رحمت تہ مہربانی کہ سو چھوہ توہہ نافرمانی سببہ عذابس گرفتار کران۔ ورنہ توہہ کہہ ہیچہ تمہ  
 عذابہ نشہ بچاوت۔ یہ مہربانی تہ احسان اوس مذگان کہ یہ محسن تہ مہربانی کرہ وین گڑھہ محوی زان۔ تس

أَمْ لَهُمُ إِلَهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ  
 أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ ﴿۳۳﴾ بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَ  
 آبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي  
 الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿۳۴﴾ قُلْ إِنَّمَا  
 أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصَّمْعُ إِذَا مَا يُنذَرُونَ ﴿۳۵﴾

گوئند نہ کاہنہ شریک تھاؤن۔ مگر تم چھنہ توتہ توحیدک اقرار کران بَلْ هُوَ عَنِ ذِكْرِهِمْ  
 مُعْرَضُونَ بلکہ چھہ تم بدستور پنہ نس حقیقی پروردگارہ سندہ یادہ نشہ نہ توحیدہ نشہ بھہ پھر ان  
 روگردانی کران أَمْ لَهُمُ إِلَهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنَّا يُصْحَبُونَ  
 کیاہ تمں چھا آسہ ورا ی تھہ معبود تم تمں بچاوتھہ تمں سائہ عذابہ نشہ۔ تم کیاہ تمں بچاوتھہ تمں  
 چھونہ طاقت پُن پان بچاونک۔ تمں کیاہ تمں بچاوتھہ۔ نہ ہیجہ مقابلہ کہ وقتہ کاہنہ اسہ منزہ تمں سیتہ  
 روز تھہ۔ تمں کافران مند گھرس پیٹھہ اصرار کرن۔ یہ چھہ۔ سمہ وجہہ کہ سائین دلین منز کیاہ چھو کاہنہ  
 نقص بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَ آبَاءَهُمْ حَتَّى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ بلکہ چھو اصلی وجہہ کہ اسہ کور تمں  
 لوکن یہہ تھندین مالین بڈمن دنیاء ک سامان عیش مہیا۔ یوتان تھزہ عمرہ بڈے یہ۔ تم آے پشنت در  
 پشنت دنیاء س منز عیش و آرام کران۔ تمی آیکھ غفلت ولنہ۔ غرض نقص چھو تھنی منز۔ سو گو غفلتک  
 نقص نہ خلل۔ اسہ کرے یہ بیان تم چیز سموسیت تمں غفلت زلہ ہا۔ أَفَلَا يَرَوْنَ أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ  
 نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ کیاہ تم چھناو چھان کہ آس چھہ تھندس زمینس بذریعہ فتوحات  
 اسلامیہ پر تھہ طرفہ کمی کران۔ یمن ہندہ تصر فہ نشہ کھڈت مسلمانن ہندس تصر فس منز اتان۔ کیاہ تمے  
 ہیکنہ سانس پیغمبرس پیٹھہ غالب سپد تھہ۔ تم چیز وجہت تے توتہ تم جہالتس نہ عنادس پیٹھہ اصرار  
 کرتھہ عذاب فرمائش روزن کران قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ تھہ فرماو یو کہ یو چھو سنہ مگر بیم کران توبہ  
 وجیکہ ذریعہ۔ عذاب واقع کرن چھونہ مینس اختیارس اندر۔ اگرچہ پیٹھہ پاٹھہ بیم کرن اوس کافی مگر ولا

وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُوَيْلَنَا  
 إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۳۶﴾ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ  
 فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ  
 خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ ﴿۳۷﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا  
 مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۳۸﴾  
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ  
 مُشْفِقُونَ ﴿۳۹﴾ وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبْرَكٌ أَنْزَلْنَاهُ وَأَنْتُمْ لَهُ

يَسْمَعُ الصَّخْمُ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يَنْدَرُونَ تم زمرہ ساتہ پڑس کن نادو تھ عذابہ سیت کھوژانہ یوان چھہ  
 تم ہجھنہ سو آکو بوزانی وَلَئِنْ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ توپتہ  
 سمہ ساتہ تم ن جھمدس پروردگارہ سندہ عذابجہ ہواؤک اکھ دکاہ لجمہ تمہہ ساتہ دہن ہاے فسوس واقعی  
 آس آس ظالم تہ خطاکار وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ بیہ گرو آس قیامتجہ دوہنہ قائم عدلج  
 ترکر۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا پس ایہ نہ کانہہ نسبت ظلم کرنہ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ  
 خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ بیہ ہرگاہ آسہ نشہ اکس آس پھلس برابر آسہ کانہہ ہنز عمل،  
 سوتہ آو آس تولنہ خیطرہ بیہ چھہ اس کافی حساب ہینہ خیطرہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ  
 وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ پڑپاٹھ بیہ کر آسہ حضرت موسیٰ آس تہ حضرت ہارونس عطایاباہ، یوسہ  
 پڑس تہ پڑس منز فرق کرہ ون آس۔ بیہ وتھ ہاونہ خیطرہ اکھ گاشاہ بیہ اکھ نصیحت ناماہ پرہیزگارن  
 ہمدہ خیطرہ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ سم پرہیزگار پنہ نس  
 پروردگار س غائبانہ کھوژان چھہ، بیہ سم قیامتہ نشہ تہ کھوژان چھہ، تھہ پاٹھ تم یعنی موسیٰ تہ ہارون  
 علیہ السلام آسہ کتاب عطاہر وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبْرَكٌ أَنْزَلْنَاهُ وَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ بیہ قرآن مجید تہ

مُنْكَرُونَ ۵۰ ۞ وَلَقَدْ اتَيْنَا ابْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَ  
 كِتَابِهِ عَلِيمِينَ ۵۱ ۞ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ  
 الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاقِفُونَ ۵۲ ۞ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا  
 عِبَادِينَ ۵۳ ۞ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلِيلٍ  
 مُبِينٍ ۵۴ ۞ قَالُوا آجَعْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّعِينِينَ ۵۵ ۞  
 قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي

چھو بارکت اھ نصیحت ناما، نس اسم نازل کور کیاہ تہہ چھوہ اتھ انکار کران وَلَقَدْ اتَيْنَا اِبْرَاهِيمَ  
 رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَ كِتَابِهِ عَلِيمِينَ پز پٹا ہیہ کر اسمہ ابراہیم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام  
 بروٹھ پن دوت تہ معاملہ نہی عطا (یوسہ تہندس شناس شوہ ہا۔ اسمہ آس بروٹھ خبر تہندین کمالات  
 علمین ہنز اذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاقِفُونَ قابل ذکر چھو تہند یہ واقعہ  
 یلہ تمودوپ پنہ نس ماس تہ پنہ نس قومس یلہ تم مصروف وچھہ تمودوپ تلین ہندس عبادتس  
 اندروو تھک سمہ گمہ شکہ چھوہ توہہ تھاومرہ تمکن پرستش کرنہ خیطرہ تہہ پرستھ وقتہ تمکن بروٹھ کنہ بہت  
 چھوہ آسان قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عِبَادِينَ تمودوپک جواب کہ اسمہ وچھہ مال تہ بڈبب یعنی  
 پرستش کران۔ تم لو کہ آس عاقل لہذا زون اسمہ تم چیز چھہ پرستھہ قابل۔ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ  
 وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلِيلٍ مُبِينٍ ابراہیم علیہ السلام دوچھہ تہہ تہ یہ تہند مال بڈبب چھوہ پز پاٹھ تم  
 پوتل لایق عبادت زانہ نس اندر نہ گمراہی منز بتلا۔ تم آس پانہ گمراہ، تہہ تہ رُودوہ تھہ گمراہی بیٹھہ۔ یہ  
 بوز تمودو اکھ کتھاہ۔ تم گئے یہ یوزت حیران۔ تمودوپ قَالُوا آجَعْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّعِينِينَ  
 تم لگ دینہ کیاہ تہہ چھوہ پنہ جایہ یہ کتھ پز زانہ اسمہ نشہ پیش کران۔ کنہ تہہ چھوہ تھہ مخول کران  
 قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ ابراہیم علیہ السلام فرمود کہ مخول  
 چھوہ بلکہ چھہ پز کتھ نہ صرف مے نشہ یوت بلکہ واقفس منز تہ چھہ یے پز کتھ کہ رب تہند چھوہ سوسی

فَطْرَهُنَّ ۖ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۵۶﴾  
 تَاللَّهِ لَا كَيْدَ بِنَّا أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ ﴿۵۷﴾  
 فَجَعَلَهُمْ جُدًّا ۖ إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ﴿۵۸﴾  
 قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِالْهَيْتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۵۹﴾ قَالُوا  
 سَبِعْنَا فِتْنَىٰ يَدُوكُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ﴿۶۰﴾ قَالُوا  
 فَأَتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ﴿۶۱﴾ قَالُوا

ذات پاک نئس سارنی آسمان تہ زمین ہند رب چھو۔ تم تم آسمان زمین گوڈہ پیدہ کر برو تم نقشہ تہ نمونہ آسنہ وراہی۔ پیدہ تہ تم آسمان تہ زمین منز چھو تہ سو زوی کور تمکی پیدہ تہ منز تم تہند پو تل تہ چھہ شامل۔ یعنی تم تہ چھہ تمی پیدہ کمر مت۔ وَأَنَا عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ بوجھس پانہ اچ گواہی ودان۔ اتھ پیٹھ چھہ مہ نشہ دلیلہ تہ۔ یو چھوس نہ تہند پاٹھ اچھہ وٹھہ تقلید کرن و تاللہہ لاکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین قسم خدا یو کرہ تہند یں پو تلین ضرور کینہہ تدبیرہ تہ بند و بستہ تہ توبہ معلوم سپدہ تہند عاجز اس تہندہ تم نشہ واپس گھسنہ پتہ فجعلہم جدًّا الا کبیرا لہم لعلہم الیہ یرجعون چنانچہ تہندہ گھسنہ پتہ کر ابراہیم علیہ السلام تم پو تلین تہرہ سیت ریزہ ریزہ۔ مگر نہ اکس بڈس پو تلین۔ اس کو رکھ نہ کینہہ تہ تہ تہ تم تم کن واپس یں دریافت کرنہ خیطرہ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَٰذَا بِالْهَيْتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ حمہ پتہ یلہ تم واپس آئے و چھٹھ پو تلین ہندیہ حال۔ دپنہ لگ یہ بے ادبی تہ بے حرمتی ہنز کام تم سنا چھہ کمر مرسانین معبودن نسبت بیشک چھوسو ظالم قَالُوا سَبِعْنَا فِتْنَىٰ يَدُوكُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ بعضی لگ دپنہ اسہ بوزاکھ جواناہ اوس تم پو تلین ہند تذکرہ کران۔ اس چھوناہ ابراہیم قَالُوا فَأَتُوا بِهِ عَلَىٰ أَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ دچھہ نئس انیون سو سارنی لو کن تھی۔ تہ تم کن تھی اقرار کرہ تم تہ روزن تھ پیٹھ گواہ توبہ تہ انہ نو وکھ ابراہیم علیہ السلام قَالُوا أَنْتَ فَعَلْتَ هَٰذَا بِالْهَيْتِنَا يَا إِبْرَاهِيمُ دو پئس اے ابراہیم تہ کہو تھ یہ حال



قُلْنَا يَا كُوفِي بَرِّدًا وَسَلْمًا عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ ۙ وَاَمْرًا دُوًّا  
 بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمْ الْاٰخِسِرِيْنَ ۙ وَنَجَّيْنٰهُ وَاَوْطَا  
 اِلَى الْاَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ ۙ وَهَبْنَا لَهٗ  
 اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ نٰفِلَةً ۙ وَكَلَّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ ۙ  
 وَجَعَلْنٰهُمْ اٰبَتًا يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ  
 الْخَيْرٰتِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتٰءَ الزَّكٰوةَ وَكَانُوْا النّٰعِبِيْنَ ۙ

کینہہ کران۔ تو پتہ کوزکھ نار تیار وار۔ ہمس کاکس زمن سونہر تھ۔ تمہ پتہ یمہ ابراہیم علیہ السلام تھ نار س  
 منز تراون ہیو مچھ قُلْنَا يَا كُوفِي بَرِّدًا وَسَلْمًا عَلٰی اِبْرٰهِيْمَ اللہ تعالیٰ فرماوان حکم کوراسہ نارس،  
 ناروسر سدپہ، بیہ سلامتی ہند ذریعہ ابراہیمس پیٹھ وَاَمْرًا دُوًّا بِهٖ كَيْدًا فَجَعَلْنٰهُمْ الْاٰخِسِرِيْنَ بیہ کریو  
 تموارادہ پنہ تدبیرہ سیتہ ابراہیمس نقصان واتا ونک۔ کس کمر اسہ تھے سخت نقصان تلہ ون۔  
 وَنَجَّيْنٰهُ وَاَوْطَا اِلَى الْاَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيْهَا لِلْعٰلَمِيْنَ بیہ دنت اسہ نجات ابراہیم علیہ السلام  
 بیہ لوط علیہ السلام، کس تھند باپہ تھراوس دشمن نشہ۔ واتا واسہ تم دوشوے تھ زمینس منزیتھ منز  
 اسہ برکت چھ تھامز لوکن ہندہ خیطرہ یعنی ملک شامس اندر وَهَبْنَا لَهٗ اِسْحٰقَ وَيَعْقُوْبَ  
 نٰفِلَةً بیہ کوراسہ ابراہیم علیہ السلام عطا فرزند اسحق علیہ السلام تھندس منگنس پیٹھ۔ بیہ یعقوب علیہ  
 السلام علاوہ وَكَلَّا جَعَلْنَا صٰلِحِيْنَ بیہ کمر اسہ تم ساری، مول پچو پچو سندیو، پیغیر یعنی ترشوے کمر  
 اسہ پیغیر وَجَعَلْنٰهُمْ اٰبَتًا يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا بیہ کمر اسہ تم امام تہ پیشوا لوکن ہند تم تمن و تھ ہاوان چھ  
 سانہ حکمہ موجب وَاَوْحَيْنَا اِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرٰتِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتٰءَ الزَّكٰوةَ وَكَانُوْا النّٰعِبِيْنَ بیہ  
 سوز اسہ تمن گن وحی رتھ کامہ کرنک بیہ نماز پرنک۔ بیہ زکوٰۃ ونک۔ بیہ آس تم سانی یا تہ عبادت  
 کران۔ یژھ شوہہ تہ تھہ وَاَوْطَا اَتَيْنَهٗ حَمْلًا وَاَعْلَمٰٓا وَنَجَّيْنٰهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ  
 الْحَبْلِيَّتْ بیہ کوراسہ عطا لوط علیہ السلام نبوتک اختیارات بیہ علم بیہ دس نجات تمہ شہرہ نشہ سمہ

وَلَوْ طَآئِبَةٌ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجِيَّةً مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي  
 كَانَتْ تَعْمَلُ الْخَبِيثَ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَسَقِيْنَ ﴿۴۳﴾  
 وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۖ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِيْنَ ﴿۴۴﴾ وَنُوحًا  
 إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ  
 الْعَظِيمِ ﴿۴۵﴾ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا  
 إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِيْنَ ﴿۴۶﴾ وَدَاوُدَ  
 وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمْنَ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَمُّ

شہر کو کہ ناپاک تہ پچھ کوم کران آس إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَمَيْقِيْنَ بے شک آس تم کو کہ پچھ  
 قوم سخت بدکار وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِيْنَ بیہ کوراسہ سولو ط علیہ السلام داخل پنہ  
 نین تمن بدن اندر تمن پیٹھ رحمت تھہ نازل سپدان۔ کیا زہ تم آس بے شک بڑہ درجہ کیونیک مردو  
 آندرہ وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ بیہ کریوڈ کر نوح علیہ  
 السلامہ سُنَدِ قِصَّةِ يَلِيهِ اِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ بروئٹھ تمو اللہ تعالیٰ آس مونگ ای بار خدا یا یمن کافر ن نَشْرَہ  
 بیچھ ناژہ میون بدلہ۔ کس کھر اجابت آسہ جھندس مگنکس۔ بیہ ڈیت آسہ نجات تمن بیہ جھندس لوکن تہ  
 تابعن بڑہ غمہ نَشْرَہ۔ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بیہ کوراسہ مدد تمن، تمن لوکن  
 پیٹھ۔ سمو انکار کور تہ ایزان سان آیات إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِيْنَ بے شک تم  
 آس سیٹھ پچھ لو کہ کس پھاٹو آسہ تم ساری یجہ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمْنَ فِي الْحَرْثِ إِذْ  
 نَفَسَتْ فِيهِ غَمُّ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِيْنَ بیہ کھر ویاد داؤد علیہ السلام تہ سلیمان علیہ  
 السلامہ سُنَدِ قِصَّةِ يَلِيهِ تَمِ فَمِلْهَ کران آسہ کھہ زراعتک۔ تھہ منزلہ اوس بیہ دجھہ کُلِ آس۔ تھہ زراعتس  
 رات گیت اہم قومگ جب (تیر) آس پیمت۔ سمہ سیت تھہ زراعتس نقصان دو تمت اوس۔ حضرت



الْقَوْمِ وَكَتَابُ الْحِكْمِهِمْ شَهِدِينَ ﴿٤٨﴾ فَفَقَّهْتُمُهَا سُلَيْمِينَ ۚ  
 وَكُلًّا اتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ  
 يُسَبِّحُنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿٤٩﴾ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ  
 لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ  
 شَاكِرُونَ ﴿٥٠﴾ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ  
 إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِحُلْمِ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ﴿٥١﴾

داؤد کور فیصلہ زراعتہ والس گودھن سم تیرین دنہ امہ نقصانہ بدل۔ اَس آس تہند فیصلہ وچھان  
 فَفَقَّهْتُمُهَا سُلَيْمِينَ کس تور فخرہ اسہ تمیک فیصلہ حضرت سلیمان تمودوپ سم تیر روزن زراعتہ  
 والس رُحہ۔ یہ کھیہ تمکن دودھ۔ بیہ تلہ بہنز مون (بیر) تیرہ وول گرہ زرخ تہ زراعت خدمت یوتان  
 زراعت پختہ سپدہ تہ پیہ۔ توپتہ بیہ زراعتہ والس زراعت والس دنہ تیرہ والس تیرہ والس دنہ وَكُلًّا  
 اتینا حکمًا وعلماً تمک دوشون صاحبن اوس اسہ قوت فیصلہ بیہ علم عطا کورمت وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ  
 الْجِبَالَ يُسَبِّحُنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ بیہ کمر اسہ مسخر تہ تابع داؤد علیہ السلام کوہ۔ تم کوہ آسن  
 تمی سیت تسبیح پران۔ بیہ وڈون جانور تم تہ کمر تمکن مسخر تہ تابع۔ تم تہ آس تمی سیت تسبیح پران۔  
 کانسہ ہند گودھ نہ بیہ عجائب زانن۔ بیہ سوڑی کرہ ون آس آسی وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ  
 لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ بیہ کچھناہ اسہ داؤد بیخبر تہندہ جنگی لباس وونہ نک  
 گسب یعنی زرہ۔ بیہ توبہ بجاوہ سولباس اکھ آسندہ تکلیفہ رُحہ۔ کیا چھوہ توبہ امہ تسبیح شکر گزاری کرہ ون  
 وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِحُلْمِ شَيْءٍ عَلِيمِينَ بیہ  
 کمر اسہ سلیمان علیہ السلام مسخر تیزواو۔ سوی اوس پکان تہندہ حکمہ ملک شامس کن۔ بیہ ملکس اندر  
 اسہ خبر بر کث تھا و مژہ چھہ۔ بیہ چھہ آس پرستہ چیزاہ پور زانہ ون وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغْوُصُونَ لَهُ  
 وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ بیہ تھاو اسہ تابع سلیمان علیہ السلام بعضی جن

وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغْوُصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا  
 دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ ﴿۸۷﴾ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ  
 رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿۸۸﴾  
 فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرِّهِ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَ  
 مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ ﴿۸۹﴾  
 وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ ﴿۹۰﴾  
 وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿۹۱﴾

تم سمندر منزه ہندہ خیرہ ڈنگ تہ غوطہ دتھ تختہ، لعل تہ جواہر کھاران آس۔ بیہ آس تم جن امہ  
 وراہی تہ بیہ کامہ کران۔ آس آس تم جن راہجہ کمر تھ تہ سنبھالتھہ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي  
 مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ بیہ کمر و تذکرہ ایوب علیہ السلامہ سند قصہ یلہ آس سخت  
 مرضس بتلا سہدت تم نادویت پنہ نس پروردگارس ای زہ بوچھوس سخت تکلیفس بتلا۔ زہ چھوک  
 ساروی رحم کرہ و نیواندرہ زیادہ رحم کرہ و ن میانس حالس پیٹہ تہ کرتہ رحم فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا  
 مَا بِهِ مِنْ ضُرِّهِ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَ مِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ نس کمر اسہ  
 اجابت تھندس مگنس کوس اسہ تم سوتکلیف تہ سختی یوسہ تم آس۔ بیہ کمر اسہ تم عطاشر باثر بیہ  
 ایت برونتھ آس تم سیت بیہ حیت پنہ رحمتہ سیت، بیہ اکھ و عظ تہ نصیحتاہ بندگی کرہ و نین ہندہ خیرہ  
 وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ بیہ یوزو حضرت اسماعیلہ سند حضرت ادریسہ  
 سند، بیہ حضرت ذوالکفلہ سند۔ تم ترشوی چھہ صبرہ والیواندرہ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِّنَ  
 الصَّالِحِينَ بیہ و اتنا و اسہ پنہ نس رحمتس منز۔ بیشک تم چھہ نیوکا زواندرہ وَذَالْقُنُودِ إِذْ ذُكِّرَ

وَذَا النُّونِ إِذْ ذُهِبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ  
فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ ۗ  
إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿۱۰۱﴾ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ  
مِنَ الْغَمِّ ۗ وَكَذَلِكَ نُبَيِّنُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۰۲﴾ وَزَكَرِيَّا  
إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ

مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ  
مِنَ الظَّالِمِينَ۔ بیہ کر یوں تذکرہ گاڑوہا جس پیغمبر یونس علیہ السلامہ سُنَدِ قِصَہ۔ یلیہ تم پتہ قومہ نشہ درای  
تہن نشہ خفہ سپد تھ۔ یلیہ نہ تموا ایمان قبول کور۔ تو پتہ یلیہ تہندہ قومہ نشہ عذاب دُور سپد تھ تہ آے نہ  
تم واپس بلکہ تھو کہ پُئ سفر جاری سانہ اجازتہ وراے۔ تمو کور پتہ اجتہادہ سیت یہ خیال کہ بیٹھ میانس  
بلا اجازت سفر کرس پیٹھ سپدہ نہ مہ پیٹھ کاہنہ باز خواست۔ انبیاءن پیٹھ چھو لازم و چھس پیازن۔ وجہ  
موجبے پر بیٹھ کاہا گر۔ تم سہزاتھ ترک مناسب کرس پیٹھ خدلیہ سندہ طرفہ آزمائش۔ بیٹھ آوہ  
دریاواہ اکھ۔ بیہ آہ ناواہ اکھ۔ تم سپد تھ ناوہ منز سوار۔ ”یہ ناوسہز طوفانس گر فقا پتہ تراوہ ہانزد چیرہ  
کہ کس سناچھ بغیر اجازتہ سفرس درامت، چیرن منز در او حضرت یونس علیہ الصلاۃ والسلامن ہند ناو  
دوبارہ تہ آہ چیرہ تراونہ متہ تہ در او تہندی ناو“ کس آہی تراونہ تم دریاوس منز۔ اتی تچ ناو۔ خدلیہ سندہ  
حکمہ سیت آہ اکھ گاڑاہ۔ تمئی کھے تم یعنی یونس علیہ السلام۔ کس مونگ تموتار یکی تہ گٹن اندر کہ تہ  
ورای چھونہ کاہنہ معبوداہ۔ تہ چھوک ساروی عینو نشہ منزہ تہ پاک۔ یو چھوس گہنگا رُو اندرہ۔ میانہ  
طرفہ آہ غلطی۔ میون قصور کر معاف۔ مہ موکلاو سمہ سختی منزہ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ  
الْغَمِّ کس کمر آہ تہندس مگنکس اجابت۔ بیہ دیت نجات آہ تہن غمہ نشہ وَكَذَلِكَ نُبَيِّنُ  
الْمُؤْمِنِينَ۔ بیٹھ پاٹ آہ یونس علیہ السلامس نجات دیت۔ بیٹھ پاٹھ دِمو اس نجات با ایمان یلیہ تم  
تہ یہ دعا پرن۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ بیہ

الْوٰرِثِیْنَ ۹۰ ۱۷ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ یَحْیٰی وَاصْلَحْنَا  
لَهُ زَوْجَهُ ۱۸ اِنَّهُمْ كَانُوْا یُسْرِعُوْنَ فِی الْخَیْرِ ۱۹ وَ  
یَدْعُوْنَآرْعَبًا وَرَهَبًا ۲۰ وَكَانُوْا الْنَّٰخِشِیْنَ ۲۱ ۹۰  
وَالتِّیْ اَحْصَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِیْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَ  
جَعَلْنٰهَا وَابْنَهَا اٰیَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ ۹۱ اِنَّ هٰذِهِ اُمَّتُكُمْ  
اُمَّةٌ وَّاحِدَةٌ ۲۲ وَآنَا رَکْمٌ فَاعْبُدُوْنَ ۹۲ وَتَقَطَّعُوْا اَمْرَهُمْ

کمر و یاد زکریا علیہ السلامہ سُنَدِ قِصَص۔ یلہ تمومونگ پنہ نس پروردگار س، ای میانہ پروردگارہ متہ تراوتہ  
مہ لاوارث تہ بے اولاد۔ ثری چھوک حقیقی تہ بہتر وارث۔ سو اولاد تھا وہ ہامیان کام تومس اندر باقی۔  
تمن آسہا جان احکام و اتنا وان فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ یَحْیٰی وَاصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۱۸ نس کمر اسہ  
تہمدس مگنس اجابت تو پتہ کور اسہ تمن عطا فرزند، تجلی علیہ السلام بیہ کمر درست اسہ تہمز آٹن۔  
تمن یوسہ ہانٹھ آج شکایت آس سو کمر اسہ دور تمن۔ سو سہ اولاد نہ نس قابل اِنَّهُمْ كَانُوْا یُسْرِعُوْنَ  
فِی الْخَیْرِ ۱۹ وَالتِّیْ اَحْصَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِیْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَ جَعَلْنٰهَا وَابْنَهَا اٰیَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ ۹۱  
منز کرنہ آیہ آس جلدی کران خیرہ چن کاین اندر بیہ آس سان عبادت کران توقع سان تہ خوفہ  
سان وَكَانُوْا الْنَّٰخِشِیْنَ ۲۱ بیہ آس تم اسہ بروٹھ کنہ عاجزی کروہ ون اَلَّتِیْ اَحْصَتْ فَرْجَهَا  
فَنَفَخْنَا فِیْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنٰهَا وَابْنَهَا اٰیَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ ۹۱ بیہ کریو تذکرہ نس دید صابہ ہند سمہ راچھ  
کرنہ نس مہمتس مردن نشہ نس و اتنواسہ پن روح بواسطہ جبریل امین علیہ السلام تمن نشہ، سمہ  
سیت خاوندس و رای تہمدس کس اندر چر رود یعنی حضرت عیسیٰ تمی چھ ونان تمن روح اللہ۔ بیہ کمر  
اسہ سو دید صاب بیہ تسد فرزند پنہ قدر تک اکھ بوڈ نشانہ اکھ سارنی عالمین ہندہ خیطرہ یعنی تہمدہ کاح  
ورای حاملہ سڈن بیہ فرزندہ پیدہ سڈن بے پدر۔ امی اندرہ گھبہ زانن کہ اللہ تعالیٰ چھو پریتھ چیزس  
پیٹھ قدرتہ وول اِنَّ هٰذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةٌ وَّاحِدَةٌ ۲۲ وَآنَا رَکْمٌ فَاعْبُدُوْنَ ۹۲ اے لو کو سمہ بروٹھ نس

بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَهٍ إِلَهٌ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴿۹۳﴾ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ  
 وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴿۹۴﴾ وَ  
 حَرْمٌ عَلَىٰ قَرِيَّةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿۹۵﴾ حَتَّىٰ إِذَا  
 فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِمَّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿۹۶﴾  
 وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَاذْهَبِي شَاخِصَةً أَبْصَارُ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا وَيُولِيْنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ

مضمون بیان آور کر نہ تمہے اندر ہر پد معلوم کہ انبیاء کرامن ہند طریق چھو توحید۔ بیشک یو ہے چھو تہند  
 طریق چھو مستقیم روزن چھو توہہ پیٹھ واجب۔ ہوی چھو کئی طریق چھو منزہ کانسہ پیغمبرس  
 اختلاف چھو سیمہ طریق حاصل چھو کہ یو چھوس تہند حقیقی پروردگار، بس ہزہ توہہ میانی یا ثعبادت  
 کرن، لوکن اوس لازم اتھ طریقس پیٹھ محکم روزن وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلُّ إِلَهٍ إِلَهٌ  
 مگر لو کوور دینہ کس معاملس اندر اختلاف۔ دینس کمر کہ مکرہ مکرہ۔ تمیک سزا کھن تم پانے۔ کیا زہ  
 پر چھو اکس چھو واتن اس نشہ۔ یوت واتھ تلہ پر چھو اکھاہ پنہہ عملہ ہند نتیجہ فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ  
 الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ پس بس اکھاہ رثاکام گرہ با ایمان آتھ  
 بس ضائع تہ چھب گڑھہ نہ تہنز کوشش۔ اس چھہ تہنزہ عملہ لیجھت تھاون وال وَحَرْمٌ عَلَىٰ قَرِيَّةٍ  
 أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ نامکن چھو تم شہرن ہندین لوکن ہند سیم اسہ نافرمانی سبہ گال دنیاس  
 کن بیہ وانس سن حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِمَّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ یوتان یاجوج  
 ماجوج یکہ تراوہ بن سیم و نکیس سد سکندر بس منز بند چھہ تو پتہ دورن تم کو ہو تہ بالو پیٹھ وَاقْتَرَبَ  
 الْوَعْدُ الْحَقُّ تو پتہ سپدہ پورہ پوزوعدہ یعنی قیامت سپدہ تمہ پتہ قائم فاذا هبى شاخِصَةً أَبْصَارُ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا تو پتہ لگن درہ کافرن ہنزہ اہچہ۔ تم اس ای دنان یُولِيْنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ  
 كُنَّا ظَالِمِينَ قیامتک ہولناک حالات و چھت دین ہای افسوس پز پات اس اس قیامتہ نشہ غفلتس منز

كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۹۷﴾ اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ  
 حَصَبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ ﴿۹۸﴾ لَوْ كَانَ هَؤُلَاءِ  
 الِهَةَ مَا وَرَدُوا هَا وَكُلٌّ فِيهَا خَلْدُونَ ﴿۹۹﴾ لَهُمْ فِيهَا  
 زَفِيرٌ ۙ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿۱۰۰﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ سَبَقَتْ  
 لَهُمْ مِنَ الْحُسْنٰى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿۱۰۱﴾ لَا يَسْمَعُونَ  
 حَسِيْسًا ۙ وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُونَ ﴿۱۰۲﴾

بوڈومت۔ غفلت گئے یہ ہر گاہ اُس کا نہ خرد دار آسہو نہ کمر مت بلکہ اُس اُس ظلم کرہ دن اِنَّكُمْ وَ  
 مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وَرَدُونَ و نندہ تیکھ پز پیاٹ تہہ اے  
 مشر کو بیہ تم ہنز پر ستش کران آسہو تہہ خدا نئس و رای چھوہ از نار جہنمک زین۔ تہہ منز چھوہ توہہ  
 سارنی ضرور اٹن۔ معبود و اندرہ تم بعضے ملائیکہ یا پیغمبر چھہ تم چھہ بیہ آئہہ کریمہ سیت امہ نغمہ مستغلی  
 آمت تھاونہ تمیک ذکریہ عقرب لوگان هؤلأء الہة ما وردوا و کل فیہا خلدون تم بیہ  
 وندہ ہر گاہ آسہن تم پوتل معبود تیلہ کیا زہ و اتہ من تم نار جہنم منز۔ نندہ روزن تہ کم کینہہ کالاہ چھونہ  
 توہہ، توہہ سارنی چھو روزن ہمیشہ اٹھ جہنم اندر لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ تم  
 کافران آسہ جہنم منز کریکہ نادہ شور و غل سمہ سبہ تم اکھ آسز تھی آسن نہ بوزان اِنَّ الَّذِيْنَ  
 سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْحُسْنٰى اُولٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ پز پیاٹ بہندہ خیلہ ہر و نطھی از لہ مقر چھہ آمش  
 کرنہ نیکی تہ رذر، سمیک ظہور آسہ سپدمت تہند یو اعمال و افعال سیت تم چھہ امہ جہنم نشہ دور تھاونہ  
 آمت لَا يَسْمَعُونَ حَسِيْسًا ۙ وَهُمْ فِيْ مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خٰلِدُونَ تم بوزن نہ تمیک تھہ تہ بیہ  
 آسن تم پنہ نین مرغوب چیزن اندر ہمیشہ روزہ ون۔ لَا يَخْرُجُوْنَ مِنْهَا فَالِقُ الْاَكْبَرُ وَتَلَقَّوْا مِنْهَا الْمَلِيْكَةَ  
 غمگین کرہ نہ تم بڈ پریشانی یعنی پو غس دو تم پھو کہ دنہ سبہ سم ہیبت ناک واقعات سپدن قبرہ منزہ نیرہ  
 وئے۔ بیہ من تم استقبالس ملائک تم و نہ کھ ہذا یوم مکہ الادی کنتم تودون۔ یہوی کیا گو تہند

لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ  
 الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۱۰۳﴾ يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ  
 لِلْكُتُبِ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعِيدُهُ وَعَدَّا عَلَيْنَا آتَانَا كَمَا  
 فَعَلِينَ ﴿۱۰۴﴾ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ  
 الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿۱۰۵﴾ إِنَّ فِي هَذَا الْبَلَاغِ  
 لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿۱۰۶﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿۱۰۷﴾

سُوْدُوهُ سَمِيكَ تُوهُبُهُ وَعَدُهُ تَهَاوَنُهُ أَوْسُ يُوَانُ - تَمَنُّ سِيْدُهُ بِهِ بُوَزْنُهُ سِيْتِ، مَسْرَتُ وَشَادِمَانِي زِيَادُهُ يَوْمَ نَطْوِي  
 السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ سُوْدُوهُ بِهِ جَهْوُ قَابِلِ ذِكْرِ سَمِيهِ دُوهُبُهُ آسْمَانُ وَتُوَانُ سِيْتُهُ پَاثُهُ سِيْتُهُ پَاثُهُ لِيَكْهَنَهُ  
 آسَمَتُهُ مَضْمُونُكَ كَاغْذُ جَهْوُ وَنَفْسُ يُوَانُ تَمَمُّ بِهِ سَبِيْنُ تَمَّ سِيْتُهُ پَاثُهُ وَنَفْسُهُ تَهَاوَنُهُ دُو تَمَسُّ پِهْوُ كَسُ تَانِ يَابِيْنَ  
 مَعْدُوْمُ مَحْضُ كَرَنُهُ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نَعِيدُهُ سِيْتُهُ پَاثُهُ سَمِيهِ گُوُوْجِيْهِ لِيْهِ پِيْدُهُ كَرَنُكَ وَقْتُهُ پَرِيْتُهُ جِيْزِيْجُ  
 پِيْدَائَشُ كَمَرُ سِيْتُهُ پَاثُهُ كَرُوَانَسُهُ دُو بَارَسُهُ پِيْدُهُ - وَعَدَّا عَلَيْنَا آتَانَا كَمَا فَعَلِينَ بِهِ جَهْوُ وَعَدَاهُ أَكَّهُ سَمِيهِ پِيْتُهُ مَعِيْ  
 بِيْ شَكُّ أَسِيْ جَهْمُ سُوْدُوهُ پُوْرُهُ كَرُوْنُ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا  
 عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ بِهِ لِيُوْكَهَ سَمِيهِ سَارْفِيْ آسْمَانِيْ كَتَانِيْ اَنْدِرُ لُوْحُ مَحْفُوْطُ مَنْزِلِيْ كْهَنُهُ پِيْتُهُ كِهْ پِيْزُ پَاثُهُ جَنْجُهُ  
 زِيْتِيْكَ وَارِثَتُهُ مَالِكُ آسْنُ نِيْكَوْكَارِ بِنْدُهُ إِنَّ فِي هَذَا الْبَلَاغِ لِقَوْمٍ عَابِدِينَ پِيْزُ پَاثُهُ سِيْتُهُ قَرَأْنُ  
 مَجِيْدِسُ مَنْزِيَاتُهُ سُوْرُهُ شَرِيْفُسُ مَنْزِلِيْ جَهْوُكَانِيْ مَضْمُونُ هِدَايَتِيْسُ مُتَعَلِقُ عِبَادَتُ كَرُوْنِيْنُ لُوْكَنُ هِنْدُهُ خِيْطَرُهُ  
 وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ بِهِ نَهْ حَضُّ سُوْزُوْدُهُ سَمِيهِ جُهْمُ مَكْرُ سُوْزُوْدُهُ سِيْتُهُ نَفْعُ دُوْدُوْنُ مَضْمُونُ  
 پِيْتُهُ عَالَمِيْنُ پِيْتُهُ مِهْرَبَانِيْ كَرَنُهُ خِيْطَرُهُ - سَمُوْ مِهْرَبَانِيْ گِيْئِيْهِ سِيْتُهُ كِهْ لُوْكَهَ كَرْنُ اَمْسُ پِيْغَمْبَرُ بَرُ كْهَسُ نَشِيْهُ تَمَّ مَضْمُونُ  
 قَبُوْلُ كَمَرُ تَهْمُ هِدَايَتِيْكَ شَمْرُهُ تَهْ پَهْلُ حَاصِلُ - لِيْسُ نَهْ تَمَّ مَضَامِيْنُ قَبُوْلُ كَرُهُ، سِيْتُهُ جَهْوُ تَمَسُّ پِيْنُ قَصُوْرُ - تَمَنُّ  
 مَضَامِيْنُ پِيْتُهُ جَهْوُنُهُ تَمَمُّ سِيْتُهُ كَانَهُ اَثَرُ پِيْوَانُ - قُلْ اِنَّمَا يُوَلِّيُ اِلَى اَنْتُمْ اَلْهٰكُمُ اِلٰهٌ وَاٰحٰدٌ فَهَلْ اَنْتُمْ  
 مُسْتَلِيْمُونَ جُهْمُ فَرَمَانِيْ كِهْ بِطُوْرُ خِلَاصِهِ بِهِ يِهْ كْهَمُ كِهْ مَهْ اَنْ جَهْوُنُهُ كَانَهُ وَحِيْ سُوْزُوْدُهُ يُوَانُ مَكْرَامِيْ زَهْ پِيْزُ پَاثُهُ

قُلْ إِنَّمَا يُؤْمِي إِلَىٰ آتَمَ الْهَكْمِ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ  
 مُسْلِمُونَ ﴿۱۰۸﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ اذْنَبْتُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي  
 أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ ﴿۱۰۹﴾ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ  
 الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿۱۱۰﴾ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّه فِتْنَةٌ لَكُمْ  
 وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۱۱۱﴾ قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا  
 الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ﴿۱۱۲﴾

تہند معبود چھو کنوی۔ جس کیاہ چھوہ تہہ یہ کتھ مانہ وان ایچ حقیقت ثابت سپنہ پتہ **فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ**  
**اَذْنَبْتُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ** توپتہ ہر گاہ تم تھ پھر ان تہ مانہ تلہ فرماؤ کہ مہ کمر موہ توہہ عذاب خیر برابر  
 برابر **وَإِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ** مہ چھونہ معلوم سو عذاب کروہ توہہ پیٹھ جلدی کنہ  
 بیڑہ کال۔ سمیک توہہ وعدہ کرنہ یوان چھو **إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ** ہنر پات  
 تہند پروردگار چھو زانان تہنر سو کتھ یوہ تہہ بڑہ چھوہ کران بیہ چھو زانان تہ سو روی یہ تہہ پو شیدہ تہ  
 کتھ چھوہ تھوان **وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّه فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ** بیہ چھونہ معلوم شاید عذابس منز  
 تاخیر سپن ما آسہ تہندہ آزمائشہ خیطرہ یائئہ وقس تان توہہ تمنع تہ نفع تلہ نانہ خیطرہ **قُلْ رَبِّ احْكُم**  
**بِالْحَقِّ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ** پیغمبرن کور دُعا اے میانہ پروردگارہ تری  
 کر میانس قومس منز حق وانصافک حکماہ تہ فیصلاہ۔ بیہ فرمود پیغمبر برحق سون پروردگار چھو سیٹھاہ  
 رحمتہ ول۔ تمس نشہ چھہ اس مدد منگان تمن کتھن پیٹھ۔ سمہ کتھ تہہ تس نسبت ونان چھوہ۔



## سُورَةُ الْحَجِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ①  
يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ  
وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَى  
وَمَا هُمْ بِسُكَرَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ② وَمِنَ  
النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ای لو کو کھو ژوپنه نس پر وردگار س، تهنندس  
عذانس، نس انو ایمان، تهنز کمر و اطاعت، کیا زه پز پناھ قیامتک بنیل نس ینه وول جهو، سو جهو چیزه  
سیٹھاہ بوڈ ته مشکل۔ یہ زلزله ته بنیل جهو قیامتہ کیو واقعاتو آندره اکھ واقعاہ۔ یہ ینہ یٹھ مشکل جهو ساری  
واقعات کیتیاہ مشکل آسن۔ تمو ساروی مشکو نشہ بخیر گذرنہ خیطرہ کمر و کاہنہ ساماناہ نہہ حاصل۔ سو  
سامانہ جهو تقوی، خدا نس کھوژن۔ تمہہ نیچ شدت ته سختی آسہ یشہ کہ یومر ترونها تذهل کل  
مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا سمہہ دوہہ وچھون نہہ سہ بنیل ته زلزله سو  
آسہ تھوی خوفناک کہ پریتھہ دودہ ماجہ مشہہ ہیبتہ ته دہشتہ سمیت پن دودچوہ وڈن شر۔ یہ سپدہ پریتھہ حملہ  
واجبہ زانہ وقتہ بروٹھی وضع حمل و تری الناس سکری و ماہم بسکری و لکن عذاب اللہ شدید  
یہہ دچھہ، کچھ ژہ لو کہ مست ته بے ہوش مگر حقیقتس منز تم مست آسن نہ کہ نہ نشہ چیتھہ بلکہ آسہ خدا یہہ سند  
عذاب سیٹھاہ سخت سمکہ خوفہ سمیت لو کہ آسن بے ہوش ته بدحواس سپد مت و من الناس من  
یجادل فی اللہ بغیر علم و یاتبع کل شیطین مرید یہہ چھہ لو کو آندره تم شخص سم بحث چھہ

شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ۝ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ  
 وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ  
 فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ثَرَابٍ ثُمَّ مِّن  
 نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عِلْقَةٍ ثُمَّ مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ  
 مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ  
 آجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ  
 وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْدَلِ الْعُمُرِ

لاگان خدایہ سزنا تھن اندر علمہ وراى۔ بیہ چھہ پریتھہ سرکش شیطانہ سز پیروی کران۔ کُتِبَ عَلَيْهِ  
 أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ کس شیطانس متعلق خداین لیوکھت چھو کس  
 اکھاہ کس سیت دوستی لاگہ تمس کرہ سُو شیطان یقیناً گراہ بیہ ہاویس و تھہ جھنمہ کس عذابس کن۔  
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ثَرَابٍ ثُمَّ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّن عِلْقَةٍ ثُمَّ  
 مِّن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى  
 ای لو کوہر گاہ توہہ شک چھو مر نہ پتہ بیہ زندہ سپد کس اندر، جُہہ و چھو پتہ کس ابتداءس کن، اسہ کمر وہ جُہہ  
 پیدہ میڑہ (کیا زہ غذا نشہ چھو نطفہ بنان عناصر و نشہ بیٹھہ اکھ جُزء میڑہ چھہ۔) تو پتہ آبہ قطرس، تو پتہ  
 خونہ دتہ، تو پتہ مازپارس بیٹھہ پور شکل دنہ آمڑہ چھہ آسان یا جھنہ آسان پور شکل دنہ آمڑہ، بیٹھہ کس  
 سز اوہین قدر تہہ جھن کس قرار کرہ ناوان شیکمن اندر تیتس کاس تیتس کاس بیہ اس بیٹھہ۔ کس مقرر  
 مدتس تان ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّن يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُرَدُّ إِلَىٰ  
 أَرْدَلِ الْعُمُرِ لکیلا یعمکم من بعد علیہ شیئا تو پتہ چھہ کس توہہ نیر کڈان ماجہ ہنزہ ہڈ ہنزہ پچاہ۔  
 تو پتہ چھہ کس توہہ تربیت کران بیٹھہ جُہہ و اتوجوانی ہندس کس۔ بیہ چھہ توہہ اندر بعضی جوانی و اتنہ برو نطھی

لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمِ شَيْءٍ وَتَرَى الْأَرْضَ  
 هَامِدَةً فَاذًا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ  
 وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝ ذَلِكُمْ بَيِّنَاتٌ لِلَّهِ  
 هُوَ الْحَقُّ وَأَنْتَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝  
 وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَإِنَّ اللَّهَ يُبْعَثُ مَنْ  
 فِي الْقُبُورِ ۝ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

مران۔ بیہ چھ توبہ اندر بعضی تم و اتونکہ دیون چھ پیچھ زندگی اندر یعنی بجز اس۔ تھ منر گھند قوت حافظہ تہ  
 یادداشت چھو کمزور سپدان سو چھو کہ چیز ج خبر گھت تمہ نشہ بے خبر سپدان تہ چھس مشد گھان۔ امی اندر سپد  
 معلوم اللہ تعالیٰ چھو مر نہ پتہ بیہ زندہ کرنس پیٹھ قدر تہ دول۔ بیا کہ دلیل چھہ اتھ پیٹھ وَتَرَى الْأَرْضَ  
 هَامِدَةً فَاذًا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ بیہ چھن  
 و چھان ثہ ای مخاطب بیہ زمین ہو کھت تہ خشک گو مت آسان۔ تو پتہ یلہ اس تھ پیٹھ رود تراوان چھہ اتی  
 چھو سو تروتازہ سپدان بیہ چھو پھولان بیہ چھو کھاران پر تھ قسمک خوبورت کل ذَلِكُمْ بَيِّنَاتٌ لِلَّهِ  
 هُوَ الْحَقُّ وَأَنْتَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بیہ آویان کرنہ امی سبہ کہ اللہ تعالیٰ ای  
 چھو موجود برحق، وجود س منر کامل۔ بیہ گو گھند کمال ذاتی۔ بیہ چھو سو ی مردن زندہ کران۔ بیہ گو گھند  
 کمال فعلی۔ بیہ چھو سو ی پر تھ چیز س پیٹھ قدر تہ دول۔ بیہ گو گھند کمال وصفی وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ  
 لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يُبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ بیہ چھہ قیامت ضرور پوہ و ن، کانہہ شمشہا چھو نہ  
 تھ منر بیہ کرہ زندہ اللہ تعالیٰ تم سارنی تم قبرن منر چھہ یعنی عالم برزخس منر۔ یم ثور و عناصرو  
 منر مئہ عنصرس منر آسن تم خاکس منر آسن تم تہ تم نارس منر آسن تم تہ، یم آسنس منر  
 آسن تم تہ، یم ہو اوس منر آسن تم تہ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا  
 كِتَابٍ مُبِينٍ بیہ چھہ لو کو اندرہ بعضی لوک تم ہر تہ قضیہ لاگان چھہ خدلیہ سندس معالس اندر، تھندس

وَأَهْدَىٰ وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ۝٨ ثَانِي عَطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ  
 سَبِيلِ اللَّهِ ۗ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَنَذِيْقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
 عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝٩ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ ۖ وَإِنَّ اللَّهَ لَيَسَّ  
 بِظُلَامٍ لِّلْعَبِيدِ ۝١٠ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ ۚ  
 فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَىٰ  
 وَجْهِهِ فَيَخْسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۗ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝١١

ذائس، صفائن يا فاعل اندر کتبہ علمی و اقیقہ و راے۔ یہ کتبہ روشن کتابہ و راى ثانی عطفہ لیضلل عن سبیل اللہ کن تکراوتھ، یعنی منجبرانہ طریق منزل کو کن خدایہ سنزہ و تہ نشہ ڈالنے خیرہ۔ لہ فی الدنیا خیزی و نذیقہ یوم القیامۃ عذاب الحریق تہندی خیرہ ہجھ ہڈ سوائی دنیاء س اندریہ ہا و اوس ائس قیامتگ دوزہ و نہ نارکہ عذابک پور مزہ ۛ ذلک بما قدامت یدک وان اللہ لیس بظلام للعبيد و نہ پیش یہ عذاب چھوی تین کائین ہند بدلہ سمہ پنہ نیوا تھوگر مرثہ چھت۔ یہ امی سببہ کہ اللہ تعالیٰ چھونہ ہرگز ظلم کرہ و ن پنہ نین بدن لہذا کیاہ او ی ژہ سزاد نہ جرمہ و راى و من الناس من یعبد اللہ علی حرف یہ چھہ لو کو اندرہ بعضی تم لو کہ سم بندگی چھہ کران خدایہ سنز اندس پیٹھ روز تھ یعنی ترددتہ شمش کس حالس پیٹھ فان اصابہ خیر اطمان بہ نئس ہر گاہ و ائس کا نہہ خیراہ تلہ چھو قرار کران تہت تھی۔ وان اصابتہ فتنۃ انقلب علی وجہہ خسر الدنیا و الآخرة یہ ہر گاہ و ائس کا نہہ آزمايشاہ یعنی کا نہہ تکلیفہ اتی چھو پھیران تہ تھہ کران و ائس کرس گن سمہ سیت گڑھاہ چھو ائس دنیاء ک تہ آخر تک نقصان ذلک هو الخسران المبين اتھ چھہ و نان لون نقصان۔ دنیاء ک نقصان گو قئس اندر بتلا سپدن۔ آخر تک نقصان گو اسلامہ نشہ چھہ اتھ پھلان خدایہ سنز عبادت تراوتھ یدعو امن دون اللہ مال ایضراً و مالاً یفنعہ عبادت چھوہ کران خدائس و راى تمنی چیزن ہنزیم نہ تئس عبادت نہ کرس پیٹھ نہ کا نہہ ضرر نیکن و اتاوتھ یہ نہ عبادت کرس پیٹھ



وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِيَ مَن يُرِيدُ ﴿۱۶﴾  
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغِينَ وَالنَّصَارَى  
 وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
 إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۱۷﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن  
 فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَ  
 الْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالذَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ

سُند یہ تدبیر کرون سہمہ نشہ سوا بالکل عاجز چھو بیسیا مسزہ ناگوار ی ہند چیز یعنی وحی بند کثرت۔ ہر گز یہیچہ نہ کثرت و کذالک انزلناہ ایتا بینت ہتھ پاتھ کوراسہ نازل قرآن مجید ہتھ منڑ صاف صاف تہ واضح دلیلہ ہتھ مگر باوجود آل وَاَنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ بیہ چھو اللہ تعالیٰ کی وتھ ہاوان کس یسند ارادہ کران چھو۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِغِينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا پنڑ پاتہ بایمان بیہ یہودیہ صاحبین بیہ نصاریٰ بیہ آتش پرست بیہ مشرک إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ پنڑ پاتہ اللہ تعالیٰ کرہ تمّن سارنی منڑ فیصلہ قیامتگ دوہ۔ مسلمان بایمان واتا وہ جنس منڑ۔ کافر ن واتا وہ جہنم منڑ۔ پنڑ پاتہ اللہ تعالیٰ چھو پر ہتھ چیزاہ، پر ہتھ کانسہ ہنڑ پر ہتھ کا ماہ پانہ وچھہ ون۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالذَّوَابُّ وَكَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ آیا چھان چھہ کناژہ اے وچھہ ونہ بیشک اللہ تعالیٰ اس چھہ سجدہ ووان تم ساری مخلوقات تم آسمان منڑ چھہ بیہ تم ساری مخلوقات تم زمین منڑ چھہ بیہ آفتاب بیہ زون بیہ ستارہ۔ بیہ کوہ تہ کل بیہ ساری چارپا بیہ لو کو آندرہ واریاہ۔ باوجود اینکہ ساری مخلوقات چھہ تابع تہ فرمانبردار اللہ تعالیٰ اس مگر انسان تمّن خاص عقل آئے بیہ عطا کر نہ تمو منڑہ چھہ ساری فرمانبردار بلکہ چھہ واریاہ فرمانبردار۔ مگر واریاہ چھہ تمو اندر تم تمّن پیٹھ نا فرمانی سببہ عذابس متحقّ آن چھو آمت قرار دنہ یعنی تم متحقّ عذاب چھہ

عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ  
يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۝ (۱۸) هَذَا خَصَمِنِ اِخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ  
فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ نَارٍ يُصَبُّ مِنْ  
فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۝ (۱۹) يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ  
وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ ۝ (۲۱) كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا

سپدیت و مَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ پزکتھ چھہ بیہ کہ سمن اللہ تعالیٰ  
خوار و ذلیل کرہ تہ ہدایتگ توفیق دیدہ نہ، تمن چھونہ کاہنہ تہ عزت و وہ اون۔ بیشک اللہ تعالیٰ چھوٹی کران  
یہ بڑھان چھو۔ سو چھو اختیارہ و ول هَذَا خَصَمِنِ اِخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ تم زہ چھہ اکھ اکسد مدعی۔  
ہر چھک پنہ نس خدایہ سندہ خیطرہ بروٹھمن آیہ کر تمس منز یعنی (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا)  
سمن فر قن ہنز ذکر چھہ تمن سارنی چھہ حق و باطلس پیٹھ آسکھ حیثیتہ زہ فریق۔ اکھ گوبا ایمان۔ تم پنہ  
نس پروردگارہ سندین سارنی احکامن چھہ تسلیم کران۔ دو تم فریق گو ساری کافر، یہود، نصاریٰ،  
مجوس، مشرکین، صابین وغیرہ۔ تم نہ پنہ نس پروردگارہ سندین احکامن تسلیم کران چھہ، تہنز  
اطاعت قبول کران چھہ۔ تم دو شوے فریق چھہ دعویٰ اس اندر، بخش اندر، مناظر اس اندر اکھ اکسد  
مد مقابل روزان جہاد و قالہ کس موقع پیٹھ۔ چنانچہ جنگ بدرس منز اسہ طرفہ حضرت علی مرتضیٰ،  
حضرت حمزہ، حضرت عبیدہ بن الحارث رضی اللہ عنہم بیہ طرفہ کافر و آندرہ ترہ زن۔ عقبہ شیبہ، ولید  
امہ پنہ چھو اللہ تعالیٰ فرمادان تمن دوشون جماعتن ہند انجام فالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِنْ  
نَارٍ وَّوْنِ تَمِ كَافِرِ چھہ تہندہ خیطرہ چھو آمت کپنہ نازک پلو تہ جامہ۔ یعنی تمن آسہ ناری نار پریتھ  
طرفہ۔ پھیر نک پاٹھ پریتھ طرفہ و لہ آمت يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ تمن بیہ کلہ  
پیٹھ تراونہ سچ رسر۔ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ سمہ سیت پھسرہ و سن تمن آندرہ غیرہ۔  
ڈونب تہ اندر تہ دز چھہ بیہ دزیکہ سوزی ہوست وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ بیہ آس تہندہ لاینہ خیطرہ

مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اَعِيدُ وَافِيهَا وَذُقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿۲۲﴾  
 اِنَّ اللّٰهَ يَدْخُلُ الْاَلْدِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنَّٰتٍ  
 تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ يُحٰلَوْنَ فِيْهَا مِنْ  
 اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُوْلُوْا وَّلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ ﴿۲۳﴾  
 وَهَدُوْا اِلَى الطّٰيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَّهَدُوْا اِلَى صِرَاطِ  
 الْحَمِيْدِ ﴿۲۴﴾ اِنَّ الْاَلْدِيْنَ كَفَرُوْا وَّابْصَدُوْنَ عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ

نارس اندر گرم کرنے آمت شتر وڈیس تہ گرزہ کلمہ آراد وَاَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ اَعِيدُ وَافِيهَا  
 یلہ یلہ تم ارادہ آسن کران جہنم منرہ نیر تک بیہ آسن و اتانہ یوان تہ منر تموی ڈیسوتہ گر زوسیت  
 ونہ آسکھ یوان و ذوقوا عذاب الحریق ترہ ہمیشہ خیرہ مزہ و ذبحہ عذابک۔ اِنَّ اللّٰهَ يَدْخُلُ  
 الْاَلْدِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ جَنَّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ پزیاٹ اللہ تعالی و اتانہ تمن لوکن  
 سمو ایمان لون تہ رزہ عملہ کرکھ جنتہ تمن باغن منر سمو منر کولہ تہ جو یہ آسن پکان یُحٰلَوْنَ فِيْهَا  
 مِنْ اَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَّلُوْلُوْا وَّلِبَاسُهُمْ فِيْهَا حَرِيْرٌ زور یہ گنڈنہ تمن جنتس منر سونہ سند کر بیہ  
 نختہ مالہ بیہ آسہ ٹہند لباس جنتس منر پوٹ۔ دنیاس منر چھو سنون رو پھ تہ پوٹ مسلمان مردان پیٹھ  
 حرام۔ کیا زہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموؤ (أحل الذهب والحریر للإناث من أمتی وحرم  
 علی ذکورھا) یعنی سنون تہ پوٹ آو حلال کرنے میانہ اُچن زناتن پیٹھ مگر حرام آئی کرنے تم چیز میانہ  
 اُمتہ کین مردان پیٹھ لہذا ئس مرد سنون، رو پھ تہ پوٹ استعمال کرہ دنیاس اندر سو آسہ آخر ئس  
 اندر محروم جنتہ کیو زوروشہ وَّهَدُوْا اِلَى الطّٰيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهَدُوْا اِلَى صِرَاطِ الْحَمِيْدِ  
 یہ سو روی انعام و اکرام آسہ تمن سمہ سببہ کہ دنیاس منر کیا آسہ و تھ ہاونہ تمن با ایمان پاک کلامس  
 گن، سو گو کلمہ طیبہ۔ بیہ آسکھ و تھ ہاونہ قابل تعریف و تہ گن سنو و تھ گنیہ دین اسلام، صراط مستقیم۔  
 تمہ کی برکتہ آکھ جنت تہ جنتہ نعمو جنتک زور عطا کرنے اِنَّ الْاَلْدِيْنَ كَفَرُوْا وَّابْصَدُوْنَ عَنِ سَبِيْلِ اللّٰهِ



وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ يُظْلَمُ تُذْقُهُ مِنْ عَذَابِ الْيَوْمِ<sup>(۲۵)</sup> وَادْبُوْنَا لِابْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ<sup>(۲۶)</sup> وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ<sup>(۲۷)</sup> لِيَشْهَدُوا

وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ پز پات سمولو کو مقرر تہ انکار کو رہیہ  
 ہجہ تم پتہ رٹان لوکن خدلیہ سزہ و تہ نشہ یعنی اسلامہ نشہ۔ بیہ ہجہ پتہ رٹان لوکن تمہ محترم مسجدہ نشہ  
 یوسہ اسمہ مقرر ہجہ کمر مژسارنی لوکن ہندہ خیطرہ عبادتج جای ستہ منز برابر ہجہ تینگ روزن وول تہ تمہ نیہر  
 بیوشمہر و پیٹہ ینہ وول وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ يُظْلَمُ تُذْقُهُ مِنْ عَذَابِ الْيَوْمِ اکہ تم لوکن ہجہ  
 رٹن دسکن اسلامہ نشہ بیہ مسجد حرام، ہجہ منز کعبہ شریف ہجہ تہجہ زیارتہ نشہ، بیہ تم لوکہ اتھ مسجد  
 خراس اندروین اسلامس خلاف کانہہ کاماہ گرن یاٹھر و شُر تک ارادہ کرن سوتہ نہ ناوون آس دگ تہ  
 دودنلہ ونہ عذابک عزہ وادْبُوْنَا لِابْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا لوکن نشہ کمر و ذکریلہ  
 تیار کمر اسمہ ابراہیم علیہ السلامہ سندہ خیطرہ گرج جایہ، تہ عبادتس منزہ تھایون شریک مہ سیت کانہہ چیز  
 وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ پاک تھایون میون گرہ عبادت کرہ ونین  
 ہندہ خیطرہ، خانہ کعبہ تیار کرہ ہجہ جائے سیت فرموہس یہ مکانہ کریون تیار میانہ عبادتہ خیطرہ نماز پرہ  
 ونین ہندہ خیطرہ تم نمازہ اندر قیام رکوع تہ سجدہ کرہ ون آسن وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ  
 رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ بیہ وون اسمہ ابراہیم علیہ السلامس کہ اعلان کمر و  
 لوکن اندر اسمہ گرج زیارت کرہ نک۔ اسمہ اعلانہ سیت ین لوکہ توہہ کن اسمہ گرہ چہ زیارتہ خیطرہ لاران  
 تہ گاران، پتھر تہ سوارین پیٹہ تم سوارین پیٹہ سمہ دور و دراز سفر کرنہ سیت لاغر تہ سست آسن سزہ

مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَةٍ  
 عَلَىٰ مَآرِزَ قَوْمٍ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا  
 وَأَطِعُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ ۝ (۲۸) ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ  
 وَلِيُوفُوا نَدْوَاهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۝ (۲۹)  
 ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ  
 وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُشْبِهُ الْإِذَا مَاتَ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا

مذہب۔ بین تمہہ سواریہ دور یو و تو پیٹھ کو بہہ ڈرو منز لیشہڈا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ  
 مَّعْلُومَةٍ عَلَىٰ مَآرِزَ قَوْمٍ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ یتھہ واتن تہ حاضر سپدن پنہ نین دینی تہ دنیوی  
 فائدن حاصل کرنہ خیطرہ (دینی فائدہ چھو مقصود بالذات دنیوی فائدہ چھو تابع غیر مقصود) بیہ یتھہ  
 خدایہ سُنْدِیاد کرن تمَن دوئمن منز تم معلوم تہ مقرر چھہ (تم گئے ڈہم، بہم (۱۰) کر (۱۱) تہ بہیوم (۱۲) قربان کرنہ  
 خیطرہ تمَن جانورن تم اللہ تعالیٰ فی عطا کرمت چھہ مخصوص چاروالیو آندرہ یعنی گاؤ، وونٹ، ژھاؤل تہ  
 کٹھ۔ تمنی ذبح کرچھہ وقتہ بین خدایہ سُنْدِیاد یعنی پَرَن ذبح کران بسم اللہ اللہ اکبر فَكُلُوا مِنْهَا  
 وَأَطِعُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ نِس کھیوپانہ تمَن قربانی ہندین جانورن ہندہ مازہ آندرہ۔ بیہ کھیایو کھ مصیبت  
 زدہ تہ محتاج بلکہ مالدار اشخاص تہ ہے کھیایو کھ، کانہہ حرج چھونہ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا  
 نَدْوَاهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ توپہ تہ گڑھہہہ لوکن ہند دور کرن پَن مل تہ کشافت یعنی  
 احرام مذہب راون مَس کاسن یا کر مَن بیہ کاسن نم بیہ ہیون اصلاح بیہ گڑھن گرن پورہ پنن واجبات بیہ کون  
 طواف خانہ کعبس نِس مامون و محفوظ چھو، طواف زیارت۔ یہ طواف چھو فرض۔ ذَلِكَ اَکْہ گئیہ یہ  
 تھہ امہ علاوہ چھو خدایہ سندن احکامن ہنز قدر کرن وَمَنْ يُعِظْمْ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ  
 نِس اکھاہ خدایہ سندن محترم احکامن ہند تعظیم بجالہ تہ چھو تسدہ خیطرہ سیٹھا بہتر پنہ نِس  
 پَر و رگاس نشہ۔ تمہہ سبت نیش ثواب، بیہ لہہ عذابہ نشہ نجات وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُشْبِهُ

الرَّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ۝۳۰  
 حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۖ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا  
 خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَىٰ بِهِ الرِّيحُ فِي  
 مَكَانٍ سَجِيقٍ ۝۳۱ ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ  
 تَقْوَى الْقُلُوبِ ۝۳۲ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ

عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ بیہ آیہ تہندہ خیطرہ حلال  
 کرنہ چار پالیہ تم خدایہ سنداو بیتھ ذن بیہ کرنہ مگر نہ تم جانور تک بند کھم تو بہ بیٹھ پر نہ یوان چھو۔ تم  
 گے تے جانور یمن ہنز ذکر سورہ الفاعس منز کرنہ آیہ (سُو گو خود مرده، خون، خزیر۔  
 بیہ نُس جانور خدائس و رای بیہ کانہ ہندہ ناوہ سندا قرب ژھانڈنہ خیطرہ ذن بیہ کرنہ) نُس روزو پتھ  
 پو تلین ہنز پر سٹس کر چہ ناپاکی نشہ۔ بیہ روزو پتھ اپر تھ ونہ نشہ، اپر گواہی دنہ نشہ۔ حُنَفَاءَ لِلَّهِ غَيْرَ  
 مُشْرِكِينَ بِهِ در حالیکہ مائل آسو تہہ معبود بر ہنس کن۔ کس کانہ اکھ شریک تھہرونہ و رای وَمَنْ  
 يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخَطَفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَىٰ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَجِيقٍ کیا زہ نُس  
 اکھاہ کُنس معبودس شریک تھہرونہ تمسز۔ مثال پتھ زَن سُو آسمانہ پو پتھر دستھ تو پتہ تل مُردار خور  
 جانور و گہہ گہہ یادیت تیز و اذن بنرت کئہ دور جایہ یتہ سُو ہلاک گو بہر حال سُو گو پتھ پاٹھ نُس شخص  
 شُرک تھہرونہ چھو خدائس سُو چھو یا کانہ ہندہ اتھ مارہ گڑھان یا چھو خود بخود مران پر تھہ حائس منز  
 چھو کس جہنم اندرو اتن ذَٰلِكَ یہ تھہ یتہ گنیہ ختم۔ وون بو زوتہہ اکھ خاص تھہ قربانی ہندس جانورس  
 متعلق۔ وَمَنْ يُعَظِّمِ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ بیہ نُس تعظیم کرہ خدایہ سندا ین دینہ کین  
 یادگارن یتہ نشان یعنی جہ کین کھمن بیہ قربانہ کین جانورن ہند۔ نُس بیتک یمن چیزن ہنز عظمت چھہ  
 حاصل سپدان دلہ سیت خدائس کھوژنہ سیت لکم فیہا منافعہ الی اجل مسمی تہندہ خیطرہ چھو جائز  
 فاندہ تلن تمن قربانہ کین جانورن نشہ اکس معین و قس تان یوتان نہ شرعی قواعدو موجب تم ہدی

مَجْلَهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۚ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا  
لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ  
فَالْهَكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ ۗ  
الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ

سین بناوٹے تو تان چھو تمین پیٹھ سوار سپدن، ٹھنڈ دودھ کھینوں، تمین پیٹھ یور سازن جانیز یلیہ تم ھدی بناونہ آئے ادہ گڑھہ سمو ساروی چیز وٹھ پتھ روزن مگرے سخت ضرورت پیہ ٹھو مَجْلَهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ تو پیہ چھو تہندہ حلال سپدنچ جاے یعنی ذبح کرنچ جای خانہ کعبس نزدیک۔ پیٹھ یہ بیان آو کرنہ کہ حرمسی اندر گڑھہ قربان یکن کرنہ امہ اندرہ گڑھہ نہ یہ خیال کرن کہ امہ منرہ ما چھو مقصد حرمگ تعظیم کرن تہ چھونہ ہر گز بلکہ چھو اصل مقصود پروردگارہ سُودوی تعظیم، تمسندوی قرب حاصل کرن۔ مذبح جانور یا تھہ جلیہ ذبح کرنہ پیہ سو چھو اکھ ذریعہ، مقام تہ جلیہ ہند تخصیص چھو بعض جتن ہندہ وجہ۔ تم تخصیصات ہر گاہ مقصود آہن تلہ بدلہ بن نہ تم عنہ شریعتس اندر مگر تم ہند بدن چھو ظاہر۔ تقرب الی اللہ بس اصل مقصود چھو سو چھو پریتھ شریعتس منر محفوظ رودمت۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ چھو فرماون **وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ** بروٹھم اہل شریعت تم گڈر سمت چھہ تموا اندرہ چھو آسہ پریتھ آہن قربان کرن مقرر کورمت۔ سمہ غرضہ کہ تم آسن قربانہ کس کس مخصوص جانورس پیٹھ اللہ تعالیٰ سُن نام پاک ہیوان سم سو جانور عطا کورمت چھو **فَالْهَكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا** امہ اندرہ سپد ثابت کہ ٹھنڈ خدا چھو کئی کس کس تہنزی اطاعت تہ فرمانبرداری، تسندی بیوت بو، موحدہ خالص روزو۔ کاہنہ جای وغیرہ مہ زانیون بالذات <sup>تعظیم</sup> سزاوار۔ پنہ عملہ اندر مہ آسہ اکس درس برابر تہ شرکس شائس پنہ دوان **وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ** تہہ دیو بشارت تہ خوشخبری تہ یارسول اللہ ﷺ خدایہ سندس کھمس گردن دارہ وینن **الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا آصَابَهُمُ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ**

مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۲۵﴾  
 وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۖ  
 فَاذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۚ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا  
 فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا  
 لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۲۶﴾ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومَهَا وَلَا  
 دِمَآؤَهَا وَلَكِنَّ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ ۚ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا

يُنْفِقُونَ تم لہ توحیدہ خالصہ برکتہ چھہ تھی کہ علیہ تم بروٹھ گنہ خدایہ سد صفات بیہ تہند احکام بیہ  
 تمسندین وعدن تہ وعیدن ہند ذکر کرنہ یوان چھو تم چھہ کھوژان، وکن چھہ ٹھہ ووتھان بیہ تم صبر کران چھہ  
 مضہمتن پیٹھ بیہ تم ڈلو کران چھہ نمازہ پیٹھ بیہ تم خرچ کران چھہ تمہ مالہ آندرہ ٹس اسی تم عطا کور، مطلب  
 چھو کہ توحید خالص چھو پیٹھ بابرکت چیز اسمہ سیت کمالات نفسانی، بدنی تہ مالی حاصل سپدن چھہ وَالْبُدْنَ  
 جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ای مسلمانو بیہ کمر اسمہ ٹھندہ خیرہ قربانگ ساری  
 جانور وونٹھ گین، کٹھ، ژھاول جس اندر خدایہ سدہ دینہ کیو یادگار و آندرہ تم جانورن اندر چھہ ٹھندہ  
 خیرہ دینگ تعظیم بجائک علاوہ بیہ بیہ فائدہ تہ۔ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهَا صَوَافٍ ٹس آسو تم  
 ووتھندہ کھش کریمہ وقتہ خدایہ سدناو ہوان۔ بروٹھم کھو فر کھور ہیور ٹن گنڈتھ ترین زنگن پیٹھ استادہ  
 کران۔ فَاذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ اودہ یلہ سو جانور ٹھہ کرہ  
 چھہ و س پیوان اسمہ تو پتہ بیہ شیر نہ سنبالہ ٹس کھو ٹھہ ٹھندہ مازہ آندرہ بیہ کھیادون نہ سمجھ و ن تہ، غیر  
 سایل تہ تہ سائل تہ۔ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پیٹھ پاٹ کمر اسمہ رام تہ مٹھر توہہ تم  
 جانور ٹھہ ٹھہ شکر دپو کن ینال اللہ لُحُومَهَا وَلَا دِمَآؤَهَا وَلَكِنَّ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ خدائس نشہ نہ  
 چھو واتان تم قربانہ کین جانورن ہند مازہ نہ چھو واتان ٹھندہ رتھہ بلکہ چھو واتان ٹس زبہ ٹھندہ تقویٰ تہ پرہیز  
 گاری کذالک سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتَشْكُرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ پیٹھ پاٹ کمر اللہ تعالیٰ ان توہہ مٹھر تہ رام

لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۷﴾  
 إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ  
 خَوَّانٍ كَفُورٍ ﴿۳۸﴾ اذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ  
 عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴿۳۹﴾ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ  
 إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ  
 بِبَعْضٍ لَهَادِمَتِ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ

سم جانور بیٹھتے تھے۔ بوڈز ایون اللہ تعالیٰ بیٹھ پیٹھ کہ وتھ ہاونوہ توہہ ہزس دیس کن۔ جہ کین صحیح حکمن کن بیہ دیست نوہ توہہ توفیق قربان کر نک **وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ** بیہ فرماووتہہ یارسول اللہ بشارت تہ خوشخبری اخلاصہ والین نیکو کارن **إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا** پزپاٹ اللہ تعالیٰ کرہ باایمان نشہ تہندین دشمن ہند غلبہ عنقریب دور۔ تم ہیکن نہ آئندہ کمنہ چیزس اندر مزاحمت کمرتھ **إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ** پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھونہ کانہہ خیانت کردوس دعا بازس تہ ناشکرگڈارس پسند کران **اذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ** اجازت آودنہ مقابلہ کر نک تمہن لوکن یمن سیت کافرن ہندہ طرفہ لڑای آس یوان کرنہ کیاہہ تمہن پیٹھ آوسیتھاہ ظلم کرنہ۔ مسلمان ہندہ کم یا زیادہ آسنگ چھونہ کانہہ سوال کیاہہ، بے شک اللہ تعالیٰ چھو تمہن پریتھ حاس اندر مدد کرئس تہ غلبہ ئس پیٹھ سیتھاہ قدر تہ وول۔ **الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ** یم مسلمان ناحق کڈنہ آئے پنہ نیوشہرہ آندرہ تہند جرم اوسنہ کینہہ سمہ تھہ وراے کہ تم آس ونان سون پروردگار چھو اللہ تعالیٰ۔ یعنی یہ سوڑوی غیظ و غضب چھو توحیدس پیٹھ۔ **وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَادِمَتِ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذَكَّرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا** بیہ ہر گاہ نہ اللہ تعالیٰ لوکن ہند زور اڈین ہندہ سیت اڈین کم کران آسہاینے اہل حقن لے اہل باطلن پیٹھ وقتا فوقتا غلبہ دو ان آسہا، تلہ آسہن امت پنہ پنہ وقتہ لورنہ تہ مہندم کرنہ نصاریٰ ان ہند خلوت خانہ تہ عبادت خانہ،

فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ  
عَزِيزٌ ۝۳۰ الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ آتَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا  
الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ  
الْأُمُورِ ۝۳۱ وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ  
وَتَمُودٌ ۝۳۲ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ۝۳۳ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ  
مُوسَىٰ فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۝۳۴

یہودوں ہند عبادت خانہ بیہ مسلمانن ہنزہ تمہ مسجد سمن منز بکثرت خدایہ سند ناہینہ یوان چھو وَلَيَنْصُرَنَّ  
اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ بیہ چھو ضرور اللہ تعالیٰ یاری تہ مدد تمین لوکن کران سم تمس مدد  
گرن یعنی تہندس دینس۔ ہنز پات اللہ تعالیٰ چھوپانہ سیٹھاہ طاقتہ دول سارنی پیٹھہ غالب۔ سو چھونہ کانہہ  
ہندس مددس کن محتاج الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ آتَمُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا  
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ سم گے تہ مسلمان سمن بشارت دنہ آہیہ، ہر گاہ اس  
دنیاس منز حکومت دمو تہندس اتھس منز اسہ چھہ خبری تم تھاؤن پانہ تہ نماز ہر پابہ کرن زکوٰۃ ادالہ  
بیہ کرن یمن تہ رٹن کاین ہند امر تہ پیٹھہ کامیوزشہ منع سارنی کاین ہند انجام چھو خدایہ سندسئی  
اختیار س اندر وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَتَمُودٌ ہر گاہ سم ہر تہ قضیہ لاگہ ون  
لو کہ توہمہ اپر زمان تہ پڑھ گرن نہ۔ بیہ نوکٹھاہ چھنہ، امہ سیت مہ سپد ونہہ آژردہ۔ سمن بروٹھہ تہ چھہ  
قوم نوحن، قوم عادن تہ قوم ثمودن بن پیغمبر اپر زمانت وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكَذَّبَ  
مُوسَىٰ بیہ قوم ابراہیمن بیہ قوم لوطن بیہ شہر مدین کیو لوکو، بیہ چھو اپر زمانہ امت موسیٰ علیہ السلام۔  
فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ تم سارنی کافر ن تہ مکنر دتھمہ کینہہ کالاہ مہلت۔  
توپتہ رٹم تم تہ کرم عذابس گرفتار۔ بس وچھو تھہہ سو میون عذاب کیتھہ اوس تہندہ خیطرہ۔ فَكَيْفَ كَانَ مِنْ  
قَوْمِ أَهْلِكَ مَا وَهَىٰ ظَلَمَةٌ لِّمِىَ عَاوِيَةَ عَلَىٰ عُرْوَيْهَا بس کاتھن شہرن ہند لو کہ گال اسہ تہنزہ نا فرمانی سبہہ۔

فَكَأَيِّنُ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا  
 وَيَبْنِي مَعْطَلَةً وَقَصْرٍ مَشِيدٍ ۝۳۵ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ  
 لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا  
 تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ ۝۳۶  
 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا  
 عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ۝۳۷ وَكَأَيِّنُ مِنْ قَرْيَةٍ

تہمز حالت چھ کہ تہمز لرین جاین ہند پش چھہ ذبہ بیٹھت یعنی تمہ چھہ ویران تہ مہدم سبز نمہ۔ تم  
 لو کہ تم تم لرین منز بان آس گے ہلاک تھہ سیت **وَبْنِي مَعْطَلَةً وَقَصْرٍ مَشِيدٍ** بیہ کا تہہ کریر تم  
 بیکار چھہ ہمیت امہ بروٹھ آس تم آباد۔ بیہ کاژاہ محکم تہ مضبوط گھہ کرنہ آمڑہ کرہ، تمہی لرین چھو  
 لرہ پار گومت **أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا** کیا ہم  
 مگر چھنا پھیر مت ملکس اندر تاہنیکہ تمہ آسمن تہند حالات و چھمت پس آسہنک دل تھہ سہمت مہمو  
 سیت زان بگہ بگہ یا آسہنک گن تھہ سہمت مہمو سیت بوزن بگہ بگہ۔ **فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ  
 تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ** حقیقت چھہ بیہ کہ نہ چھنہ آسان گمڑہ کلہ چہ اچھہ بلکہ چھہ ان آسان  
 تم دل ہم سینس منز چھہ آسان۔ لہذا چھہ تم تہ دل اعلیٰ سہمت۔ **وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ** وڈن  
 چھہ تم کافر نبوتس منز شہہ تہ شک تراونہ خیطرہ توہہ نشہ جلدی ژھانڈن عذاب واقع کر نس اندر وکن  
**يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ** اللہ تعالیٰ کرہ نہ ہرگز پنہ نس وعداس خلاف۔ نس وقاہ تم تمہ عذابہ خیطرہ مقرر  
 کورمت چھو تھہ و قس بیٹھ وائہ ضرور سو عذاب **وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ** پتر پاٹھ  
 تہندس پد ورد گارس نشہ چھو اکھ دوہاساس ورتس برابر تہندہ تمہ شمارہ موجب نس تہہ کران چھوہ  
**وَكَأَيِّنُ مِنْ قَرْيَةٍ أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْنَا إِلَيْهَا الْأَبْصِيرَ** بیہ کا تہن شہرن ہند لو کہ تمہ  
 وژمہ مہمت ظالم تہ نافرمان آسہہ باجوو، یعنی تم آس ٹھٹھہ زانان عذابگ واقع پڈن تمی آس



أَمَلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذَتْهَا وَإِلَى الْبَصِيرِ ﴿۳۸﴾ قُلْ  
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۳۹﴾ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَرْزُقُوا كَرِيمًا ﴿۴۰﴾ وَالَّذِينَ سَعَوْا  
فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿۴۱﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا  
مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ  
فِي أَمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ اللَّهُ

جلدی تمحکہ و تو عک مطالبہ کران۔ تم یلہ توتہ باز آئے نہ تو پتہ کرمہ تم عذائس گرفتار۔ یہ چھو سارنی  
پتولا کہ سے لشہ واٹن تمہ سائہ دمہ یو تمن شرک و کفر ک پورسزا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ  
نہہ فرما یو کہ یار رسول اللہ اے لوگو یو چھو سنہ مگر تمہدہ خیطرہ اکھ ن پائٹہ بیم کرہ ون۔ مہ تان چھو سنہ  
عذاب واقع کران فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَرْزُقُوا كَرِيمًا پس سمولو کو میانہ کھو ژناوند  
تہ بیم کرنہ سیت عبرت رنٹھ ایمان اون تہ رژہ عملہ گرہ، تمہدہ خیطرہ چھو بوڈ مغفرت بیہ عزیمک  
رزق یعنی جنت تہ جتتہ نعمتہ۔ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ بیہ تم لو کہ  
کوشش چھہ کران سانین آیاتن اپر زانتھ اسہ عاجز کرین۔ تمے گے نارہ وال یعنی نار جہنم س واتہ ون۔ ای  
پیغمبر تم لو کہ چھہ شیطانہ سندہ انغوا سیت توہہ سیت مُقَابَلہ تہ مُجَادَلہ کران۔ یہ چھنہ نو کتھہ وَمَا أَرْسَلْنَا  
مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أَمْنِيَّتِهِ اسہ سوزنہ توہہ بروٹھ کاہنہ رسولہ  
تہ کاہنہ نیماہ تمس نہ یہ قصہ پیش آو کہ یان تمہ اللہ تعالیٰ سند یو احکامو اندرہ حکماہ بیان ہیوت کران تان  
ہیوت شیطان کافر ن ہندین دن اندر شہہ تہ اعتراض تراون فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكُمُ  
اللَّهُ إِلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حَكِيمٌ پس چھو اللہ تعالیٰ مہناوان تہ نیست و نابود کران تم شہمات تہ وسوسہ تم  
شیطان تراوان چھو قطعہ جو ابو تہ روشن دلیلو سیت۔ توپتہ چھو اللہ تعالیٰ مضبوط کران پنہ نین آیاتن  
ہند مضامین۔ یہ چھو اللہ تعالیٰ تم اعتراضاتن متعلق پور علمہ ول۔ یہ چھو تم اعتراضاتن ہند جواب



الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي حَيَاتِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝۵۷ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قَاتَلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝۵۸ لِيَدْخُلَنَّهُمْ مَدُ خَلَايِرُ صَوْنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ

یومِ عقیقہ ہفتہ روز کا روز نامہ ہیشہ قرآن مجیدہ کہ حقہ شکہ سی اندر یوتان واتھ پیر ہیکہ تہ منگہ تمن قیامتک دوہ یاوتیکہ دنیا سی منزمنہ سخت مشکل تہ بے برکت دہک عذاب یتھ منز تمن قتل وغارت سپدہ الْمَلِكُ یَوْمَئِذٍ اللّٰهُ یَحْكُمُ بَیْنَهُمْ پادشہت آسہ تمہہ دوہہ یعنی قیامتک دوہ اللہ تعالیٰ سنزی یاثر۔ سوسی کرہ تمن کافر ن منز عملی فیصلہ فَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فِیْ حَیٰتِہِمْ التَّعْمِیْرُ سوسی فیصلہ گو یوہیکہ سموگو کو ایمان آنتھ رتھہ عملہ کرہ مرہ آسن تمن واتاواہ اللہ تعالیٰ نعمون ہندین جتنن اندر وَالَّذِیْنَ کَفَرُوْا وَکَذَّبُوْا بِآیٰتِنَا فَاُولٰٓئِکَ لَہُمْ عَذَابٌ مُّہِیْنٌ بیہ سموگرتہ انکار کو رہیہ زانجھہ اہر سان آیات، پس تمن لوکن ہندہ خیطرہ چھو ذلیل تہ خوار کرہ ون عذاب وَالَّذِیْنَ ہَاجَرُوْا فِیْ سَبِیْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قَاتَلُوْا اَوْ مَاتُوْا لَیَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا بیہ سموگو کو خلیہ سنزوتہ یعنی تہندہ دینہ خیطرہ ہین وطن تراوت ہجرت کمر توپتہ آئے مارنہ یا موپائے تمن دینہ اللہ تعالیٰ ضروراکھ رت رزقاوہ جنٹک رزق تہ کم کم میوہ بیہ دیدار خدا وَإِنَّ اللّٰہَ لَہُوْ خَیْرُ الرَّزْقِیْنَ ہنز پاٹ اللہ تعالیٰ ای چھو ساروی عطا کرہ ونیو اندرہ رت عطا کرہ ون۔ سوکرہ تمن عطارزق جنتس سیت رت جاسے تہ رت گرہ تہ لَیَدْخُلَنَّهُمْ مَدُ خَلَا یِرْضَوْنَهُ سوسی واتاواہ تمن ضرور تہ ہی رتھہ جایہ اندر یوسہ تمن سیٹھاہ ہند سپدہ وَإِنَّ اللّٰہَ لَہُوْ خَیْرُ حَلِیْمٌ بیٹک اللہ تعالیٰ چھو پرستھ کتھہ ہنز مصلحت زانہ ون سیٹھاہ ژید کرہ ون۔ پنہ نین دشمن چھونہ سیتی رٹان تہ سزادوان بلکہ چھتھ مہلت دوان ذلک وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِہٖ ثُمَّ نَبَغِیْ عَلَیْہِ

حَلِيمٌ ﴿۵۹﴾ ذَلِكُمْ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ  
 ثُمَّ بَغَىٰ عَلَيْهِ لَيَنْصُرْتُهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ ﴿۶۰﴾  
 ذَلِكُمْ بِأَنَّ اللَّهَ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ  
 فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿۶۱﴾ ذَلِكُمْ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ  
 الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ  
 اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿۶۲﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ  
 مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً إِنَّ

لَيَنْصُرْتُهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ دُونِ بُرُؤِ أُمَّةٍ بِتَهْمَةٍ كَتَبَتْ لَهَا سَمٌ دُشْمَنٌ نَشَأَ بَدَلَهُ هَيُوتٌ تَتَّخِذُ  
 تَمَسَّ تَكْلِيفًا وَاتَّانَوْنَهُ أَمْتُ اؤوس، توپتے ہیں تیس بیٹھ زیادتی کرنے آئیے اللہ تعالیٰ کرہ تیس غرور مدد سے  
 یاری۔ پتھر پاتھ اللہ تعالیٰ چھو یقیناً سیٹھاہ عفو کرہ وں سیٹھاہ مغفرت کرہ وں ذَلِكُمْ بِأَنَّ اللَّهَ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ  
 فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ یعنی بالیماں غلبہ دین تم یاری سے مدد  
 کریں چھو اؤے زہ اللہ تعالیٰ چھو کمال قدر سے وول۔ چنانچہ سو چھو راثر ہندین اجزاء ان و اتناوان دوہس  
 منز۔ دوہہ کین اجزاء ان و اتناوان راثر منز یعنی کمی سے زیادتی کران۔ یہ چھو امہ نصرنگ سبب کہ اللہ  
 تعالیٰ چھو سارنی ہند احوال سے اقوال بوزہ وں سے وچھہ وں ذَلِكُمْ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ  
 مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ یہ چھو امہ نصرنگ سبب کہ اللہ تعالیٰ ای چھو  
 بیشک خداے برحق۔ پندرہ ہستی منز کامل۔ سو چھو واجب الوجود، یہ سمن معبودن تم لو کہ عبادت کران  
 چھہ، تم چھہ لہز سے باطل۔ یہ چھو پتھر پاتھ اللہ تعالیٰ ای سیٹھاہ ٹھو سے سیٹھاہ بوزہ دعالیشان۔ امہ علاوہ چھہ  
 اللہ تعالیٰ سہ کمالات یہ چھہ تہزہ بے شمار نعمتہ سہو کمالا تو سے نعمتو سبب سو چھو توحیدس سے شکرس  
 سزاوار اَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً زہ چھہ کھناو چھان اللہ

اللَّهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿۱۳﴾ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا  
 فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۱۴﴾  
 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي  
 فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۗ وَيُمَسِّكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ  
 إِلَّا بِإِذْنِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۱۵﴾ وَهُوَ الَّذِي  
 أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ۗ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ ﴿۱۶﴾

تعالیٰ سز قدرت کتھہ پاٹ چھو سو آسماں طرفہ رود تراوان۔ سمہ سیت زمین چھہ سپدان سر سبز ان  
 اللہ لَطِيفٌ خَبِيرٌ پز پاٹ اللہ تعالیٰ چھو بدن پیٹھ سیٹھاہ مہربان کس چھہ بدن ہنزن کھن ہنزن  
 پور خبیر۔ تھندین ضرورت ہند کافی علم تین مطابق چھو سو تھند حاجت پور کران۔ کہ ما فی السموات  
 وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ تھندوی چھو سو سوروی یہ آسان منر  
 چھو، یہ سو سوروی یہ زمین منر چھو۔ یہ چھو نہ اللہ تعالیٰ کانسہ کن محتاج سو چھو تقریض نہ حمدن سزاوار  
 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ اے مخاطب ژہ چھہ ناخبر کہ پز پاٹ اللہ تعالیٰ ان چھہ لاگمت  
 کامہ تم ساری چیز سم زمین منر چھہ تھندہ خیطرہ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ یہ چھہ ناوہ  
 سمہ تھندی کھمہ دریوس منر پکان چھہ وَيُمَسِّكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ یہ چھو  
 سو آسماں تھپ کمر تھہ تھندہ تھندہ کھمہ وراے سوز مینس پیٹھ دستھہ یہہ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَّءُوفٌ  
 رَحِيمٌ پز پاٹ اللہ تعالیٰ چھو لو کن پیٹھ سیٹھاہ شفقتہ دول تہ مہربان وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ  
 يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ یہہ گو سو سووی قادر مطلق سم تھہ پیدہ کمر وہ۔ تو پتہ ماروہ سووی تو پتہ  
 کر وہ یہہ دوبارہ زندہ سووی۔ سم دلین تہ نعران کن نظر کمر تھہ گو ژہ لو کن ہند سو کووی زان۔ تھنرے  
 گڑھہ شکر گذاری کرن۔ بیشک انسان چھو سیٹھاہ کھران نعمت کرہ و ن لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ  
 نَاسِكُوهُ فَلَا يُبَاغِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَأُدْعَىٰ إِلَىٰ رَبِّكَ ایزہ امو گدر سموہ چھہ پر تھہ امتہ خیطرہ چھو اسہ

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُبَايِعُكَ فِي  
 الْأَمْرِ وَأُدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴿٦٤﴾  
 وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٥﴾ اللَّهُ  
 يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٦﴾ أَلَمْ  
 تَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ  
 إِنَّ ذَلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿٦٧﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا  
 لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَالِيسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ

ذبح کر تک اھ طریقہ مقرر کورمت۔ تھہ طریقس بیٹھ آس تم ذبح کر ان پئس اوس لازم اعتراض کرہ  
 وین کہ تم کرہ ہن نہ کاہنہ اعتراض تہ اختلاف ذبحہ کس معاملس اندر۔ تہہ روزو بدستور لوکن پینہ  
 نس خداپس کن نادووان اِنَّاكَ لَعَلَّيْ هُدًى مُسْتَقِيمٍ ہنز پاٹھ تہہ جھوہ یقینا سیزہ و تہہ بیٹھ و اِنَّا جَادَلُوكَ  
 فَقُلِ اللَّهُ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ بیہ ہر گاہ اتھ بیٹھ تہ سم لوکھ توبہ سیت ہر تہ قضیہ لاکن تہہ  
 فرماؤ کہ پتیم تھہ۔ اللہ تعالیٰ جھو زیادہ زانان تھہ ساریس، یہ تہہ کران جھوہ۔ سوی انزراوہ تہہ نیای۔  
 اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ اللہ تعالیٰ کرہ پانہ توبہ منز عملی فیصلہ قیامتگ  
 دوہ تھہ ساریس منز تھہ اختلاف کران آسہہ اَلَمْ تَعْلَمَ اَنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ ای  
 مخاطب کیاہ تہ جھوی نامعلوم کہ اللہ تعالیٰ جھو زانان تہہ سو روی یہ آسان تہہ زمین منز جھو باوجود آل  
 اِنَّا ذَلِكَ فِي كِتَابٍ اِنَّا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ہنز پاٹھ یہ سو روی جھو لیکھت تہ محفوظ نامہ اعمال منز۔  
 لہذا سپد ثابت کہ ہنز پاٹ یہ فیصلہ کرن جھو اللہ تعالیٰ اس نغہہ سیٹھاہ آسان وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
 مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَالِيسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ بیہ جھہ مشرک لوکھ عبادت کران خداپس وراے تین  
 چیزن ہنز سمن عبادت کرنہ خیطرہ نہ کاہنہ دیلاہ اللہ تعالیٰ ان پینہ نین کتابن منز نازل کمر مشرک تھہ، نہ

مِنْ تَصِيْرٍ ۙ وَإِذْ أَنْتَلَىٰ عَلَيْهِمُ الْإِتْنَابَيْنِ تَعْرِفُ فِي  
 وَجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ بِكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ  
 يَتْلُونَ عَلَيْهِمُ الْإِتْنَابَ قُلْ أَفَأَنْتُمْ بِشِرِّ مِمَّنْ ذَلِكُمْ  
 النَّارُ وَعَدَّهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَابْسُ الْمَصِيْرُ ۙ  
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ  
 تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ

پتھر تمّن کافرن نش تہج کاہنہ عقلی دلیلاہ۔ بلکہ چھہ تم محض بے دلیل خدا بس شرک انان۔ قیامتک دوہ  
 یلہ تمّن شرکس پیٹھ سزا دنہ ایہ وَمَا لِلظَّالِمِيْنَ مِنْ تَصِيْرٍ تمّن ظالمین ہندہ خیطرہ آسہ نہ کاہنہ  
 مددگارہ۔ وَإِذْ أَنْتَلَىٰ عَلَيْهِمُ الْإِتْنَابَيْنِ تَعْرِفُ فِي وَجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنْكَرُ بیہ یلہ پر نہ یوان  
 چھہ تمّن پیٹھ سان آیات، سم صاف تہ روشن چھہ۔ ڈچھان چھوہ تہہ کافرن ہندین تمّن بیچھ آثار۔  
 تھس چھکھ گینہ گڑھان، نس چھکھ تھو دھسان، تھیک رنگ چھکھ بدلان، تمو آثار وسیت چھ  
 معلوم سپدان۔ بِكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمُ الْإِتْنَابَ قریب چھو تم ماتروان چھہ تمّن پیٹھ  
 سم سان آیات تمّن پیٹھ بدلان چھہ یعنی تمّن پیٹھ ما کرن حملہ۔ تہیوت چھو تمّن کافرن خون گرم گڑھان  
 قُلْ أَفَأَنْتُمْ بِشِرِّ مِمَّنْ ذَلِكُمْ النَّارُ تہہ فرمایو کہ یارسول اللہ یوما کرووہ توبہ خبر تمہہ چیز چیس امہ  
 قرآن مجیدہ خونہ ناگوار چھو ہندہ خیطرہ، سوگو نار جنم وَعَدَّهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَابْسُ الْمَصِيْرُ  
 تمیک وعدہ چھو اللہ تعالیٰ ان کورمت کافرن۔ کاژاہ تھہ وایچ جائے چھہ سو جنم يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ  
 مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ اے لو کو اکھ عجیب مثالاہ چھہ بیان کرنہ آمر سو یوز تو تہہ وارہ گن دار تھہ راق  
 الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ پزپاٹ یمن معبودان باطلن  
 تہہ پر ستش کران چھوہ، تمّن نشہ حاجت روائی ژھانڈان چھوہ خدا بس، معبود برحقس وراے۔ تم  
 یمن نہ پیدہ کر تھہ اکھ چھہ تہ۔ اڈے تمہہ خیطرہ ساری معبوداکہ وٹہ سمن تہ ایچ کیاہ چھہ کھس وراے

اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسُدُّهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ  
 مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿۴۳﴾ مَا قَدَرُوا اللَّهَ  
 حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۴۴﴾ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ  
 الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيرٌ ﴿۴۵﴾  
 يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ  
 الْأُمُورُ ﴿۴۶﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا

يَسُدُّهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا ہر گاہ بچھ ہیئت تزلزل کا نہ چیز اہم نشیہ لایَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ سُو چیز نہیں نہ تیس نشیہ  
 تم موکلاوتھ تہ واپس ہتھ۔ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ڈھانڈہ و ن تہ کمزورے، پس نشیہ  
 ڈھانڈان سوتہ کمزور۔ یعنی بچھ تہ کمزور تہندہ خوتہ زیادہ کمزور پوٹل۔ تہندہ خوتہ کمزور پس تیس پوٹلس  
 پر سترش کرہ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ سمولو کو کور نہ خدایہ سُنْد تعظیم ہتھ تیس شوبہ ہا۔ کیا زہ  
 تموتھا و تیس عبادتس اندر بے چیز شریک حالانکہ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ بیشک اللہ تعالیٰ چھو  
 سیٹھا توتہ وول، سارنی پیٹھ غالب، تمسند توتہ وول تہ غالب آسنہ موکھ چھو عبادت تہندہ حق۔ یہ  
 اوسنہ حق کمزور چیزک پس نہ چھو پورہ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ اللہ تعالیٰ  
 اس چھو اختیار کہ رسالتہ خیطرہ پس سُو منتخب کرہ تہ ژارہ ملا بھو آندرہ یا لکو آندرہ ملا بھو آندرہ چھہ  
 ژاران پن احکام حضرت انبیاءن نشیہ واتنہ خیطرہ کو کو آندرہ چھو ژاران حضرت انبیاءن تھہ تہندہ  
 ذریعہ پن احکام واتا وہ لو کن نشیہ إِنَّ اللَّهَ سَبِيعٌ بَصِيرٌ پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو سو روی بوزہ و ن سو روی  
 و چھہ و ن يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ سُو چھو لو کن ہند ساری حالات بروٹھم تہ تہ ہم تہ پور  
 زانان وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ بیہ چھو اللہ تعالیٰ سی پیٹھ سارنی کاین ہند و اړومدار يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
 ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَاقْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اے با ایمانو اصول  
 اسلام قبول کر تھہ فروتھہ فروعات اسلامن ہنز تہ پانبدی، خصوصاً نماز۔ نمازہ منز آسور کو ع کران سجدہ



وَأَعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۰﴾  
 وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا  
 جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ  
 إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا  
 لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى  
 النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا  
 بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴿۱۱﴾

دوان، بیہ آسرو پنہ نس بدوردگارہ سنز عبادت کران، بیہ آسور ژہ کامہ کران بیٹھ تہہ کامیاب سپدہ تمن  
 کالین منز مہ آسوستی کران وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ بیہ آسوخدا بیہ سنزن کالین اندر کوشش  
 کران بیٹھہ کوشش کران شوبہ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ تہی کر وہ تہہ بیہ  
 اُمتو آندرہ ممتاز، تہہ کر وہ برگزیدہ، بیہ سحر نہ تم تہدہہ خیطرہ دینس منز کانہہ سختیہ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ  
 تہہ روز و پنہ نس مالس ابراہیم علیہ السلامہ سدس ملتس بیٹھہ قائم تہ مضبوط هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ تہی  
 خدائین ہتھوہ توہہ ناوتھوومت مسلمان مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا برو نظھین کتابن اندر تہہ بیٹھہ قرآن مجیدس اندر  
 تہ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ تہہ آسن حضرت رسول کریم صلی  
 اللہ علیہ وسلم قیامتگ دوہ تہدہ گواہ، تہہ آسرو گواہ بین لوکن ہد یعنی برو نظھین امتن بیٹھہ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ  
 وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ اتھہ خصوصیتس کن نظر تھو تھہ کرو نمازہ ہنز پابندی کیا زہ سوچھہ افضل  
 عبادت بدنیہ، بیہ کمر واداز کواہ۔ کیا زہ سوچھہ افضل عبادت مالیہ۔ بیہ کرو باقی احکامن بیٹھہ عمل زورہ تھپ  
 کر تھہ معبود برحقس۔ امہ عزتہ کہ شترانہ خیطرہ۔ هُوَ مَوْلَاكُمْ سؤی ہتھو تہند آتہ، مددگار تہہ کار ساز  
 فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ نس کیاہ رُت کار سازتہ کیاہ رُت مددگار ہتھو سؤ تہدہہ خیطرہ

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۝۱ الَّذِیْنَ هُمْ فِیْ صَلٰتِهِمْ  
 خٰشِعُونَ ۝۲ وَالَّذِیْنَ هُمْ عَنِ اللّٰغُوْ مُعْرِضُونَ ۝۳ وَالَّذِیْنَ  
 هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُونَ ۝۴ وَالَّذِیْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حٰفِظُونَ ۝۵ اِلَّا  
 عَلٰی اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غٰیْرُ مُلَوِّمِیْنَ ۝۶ فَمِنَ  
 اٰتِنٰی وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُونَ ۝۷ وَالَّذِیْنَ هُمْ

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ پڑھا کا میاب سپد آخرتس اندر تم با ایمان یمن اعتقاد صحیح آتھتہ تم  
 صفت تہ آسن الَّذِیْنَ هُمْ فِیْ صَلٰتِهِمْ خٰشِعُونَ تھے با ایمان تم پہنہ نین نمازان اندر، فرض  
 تہ نفلن اندر دل حاضر تھوان چھہ، خشوع و خضوع سان نماز ہر ان چھہ وَالَّذِیْنَ هُمْ عَنِ اللّٰغُو  
 مُعْرِضُونَ بیہ تم بے ہودہ کتھوتہ کامیونشہ بیس طرفس کن بٹھہ پذران تہ دور روزان چھہ وَالَّذِیْنَ  
 هُمْ لِلزَّكٰوةِ فٰعِلُونَ بیہ تم اعمالن، اخلاقن تہ اموالن پاک کران چھہ وَالَّذِیْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ  
 حٰفِظُونَ بیہ تم سترہ چن جاین حرامہ نشہ راچھہ کران اِلَّا عَلٰی اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَیْمَانُهُمْ  
 مگرے پہنہ نین حلال منکوہہ زنانن یا تم کینزن یا تم بہندہ تم چانہ مالک آسن تم نشہ حفاظت کرہ ون  
 آسن فَاِنَّهُمْ غٰیْرُ مُلَوِّمِیْنَ ہس بیشک تم سیت ہمستری کرس چھونہ کا نہ الزام بشر طیکہ تمہہ زمانہ تہ  
 کینزہ آسن حیضہ تہ نفاسہ نشہ خالی بیہ آسن نہ فرض روزہ داری یا تجہ کس احرامس اندر مشغول بیہ لہ نہ  
 مخصوص جاییہ و رای ہیا کہ جای استعمال کرنہ فَمِنَ اٰتِنٰی وَرَآءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُونَ ہس ہس  
 اکھا امہ وراے بیہ کا نہہ جائے پن شہوت پورہ کرنہ خیطرہ تھانڈہ، ہس چھہ تم حدہ نشہ ڈلہ ون

لِأَمْنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ<sup>۹</sup> وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ<sup>۱۰</sup>  
 أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ<sup>۱۱</sup> الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا  
 خَالِدُونَ<sup>۱۲</sup> وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ<sup>۱۳</sup>  
 ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ<sup>۱۴</sup> ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً  
 فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْبًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ  
 لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ<sup>۱۵</sup>

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ      بیہ تم پہنہ نین اما تن سے عہد ن ہند رعایت کرہ ون آسن  
 وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ      بیہ ہم پہنہ نین نماز ن راہجہ کرہ ون آسن یعنی وقیح پابندی کرہ  
 وَنِ آسن۔ اُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ \* الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ      تمن باایمان  
 منز تم شہ صفت آسن تھے جہہ وارث سپہ ون، تم جنت الفردوسک وارث بن تھے روزن تھہ منز  
 ہمیشہ      وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ      بیہ کوراسہ ہیز پاٹ انسان میوہ ہندس خلاص  
 یعنی غذاءس پیدہ (گوڈھ چھہ آسان میوہ توپتہ چھو تھہ غذاءس سوادہ بنان بیتھ انسان بنان چھو      ثُمَّ  
 جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَكِينٍ      توپتہ بنوواسہ سوتھہ لُطْفَس لیس اکس مُعین مدتس تان اکس محفوظ مقاس  
 یعنی رحمس منز روزان چھو      ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً      توپتہ بنوواسہ تھہ لُطْفَس موٹ خون فَخَلَقْنَا  
 الْعَلَقَةَ مُضْغَةً      توپتہ بنوواسہ تھہ موٹس خونس ماز چھولاہ      فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْبًا      لیس بناوہ اسہ تھہ ماز  
 پھلس منز اوجہ      فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا      توپتہ دول اسہ تمن اوجن سوماز      ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ      توپتہ  
 تھہ منز رُوح وائتہ ناوتھہ بنوواسہ بیاکھہ مخلوقاہ لیس بروٹھیو حالاً تونشہ بدلے اوس      فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ  
 الْخَالِقِينَ لیس کیتھہ بوڈشان چھو اللہ تعالیٰ سُدس سارنی کارگیرن کھست چھو      ثُمَّ رَأَيْتُمْ بَعْدَ ذَلِكَ  
 لَكُمْ      توپتہ چھو ہبہ امہ پتہ ضرور مردن      ثُمَّ رَأَيْتُمْ الْقِيَامَةَ بَعَثُونَ      توپتہ ایوہبہ لوکھ ضرور

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴿۱۵﴾ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَبْعُونَ ﴿۱۶﴾  
 وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقٍ ۖ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴿۱۷﴾  
 وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهٖ لَقَدِيرُونَ ﴿۱۸﴾ فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَدَّتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ ۚ وَ  
 أَعْنَابٍ ۖ لَّكُمْ فِيهَا فَاوَاكِهِ كَثِيرَةٌ ۖ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿۱۹﴾ وَشَجَرَةً  
 تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ ۖ وَصَبْغٍ لِلْأَكْلِيِّنَ ﴿۲۰﴾

قیامتگ دوہ قبر و منزہ تہمت زندہ کرنہ **وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقٍ** بیشک بیہ کر پیدہ آسہ توہمہ پیٹھ  
 کن ستھ آسمان، تہمت منزہ ملائکہ ہندہ اورہ یورپہنہ خیطرہ و تہ مجھہ **وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ** بیہ چھنہ  
 آس پنہ نیو مخلوقو ہندیو مصلحتونشہ بے خبر **وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْأَرْضِ** بیہ  
 کورنازل آسہ تہمتہہ بقاء کہ مکمل کرنہ خیطرہ آسمانکہ طرفہ روداہ کہ اندازہ موجب، توپتہ ٹھہر دوسو  
 زمینس منزہ **وَإِنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهٖ لَقَدِيرُونَ** بیہ چھہ اسی تمہہ آہ کس واپس نش پیٹھ پور قدرتہ و ال  
**فَأَنْشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَدَّتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ ۚ وَ أَعْنَابٍ ۖ لَّكُمْ فِيهَا فَاوَاكِهِ كَثِيرَةٌ ۖ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ** توپتہ بناو  
 آسہ تہمتہہ خیطرہ امہہ رودہ سیت خضر گلین تہ ڈچھہ اندرواریاہ میوہ ہم تہمتہ تازہ تازہ کھیوان چھوہہ تموی  
 منزہ چھوہہ آؤ میوہ ہو کہ ناوان۔ سو چھوہہ تہمتہ غذا بدلہ کھیوان **وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ**  
**بِالذَّهْنِ وَصَبْغٍ لِلْأَكْلِيِّنَ** بیہ کور آسہ امی آہ سیت بیاکھ گلاہ پیدہ نیس نیران چھو کوہ طورہ منزہ  
 (یعنی درخت زیتون) سو چھوہہ زینہ منزہ کھسان تیل ہیتھ۔ بیہ کھینہ و الین ہندہ خیطرہ سین ہیتھ۔ یعنی تمہہ  
 پھلہ منزہ چھوہہ دوشوے مطلب نیران۔ ژانگس تہ چھوہہ تمیک تیل دزان مالش کر نس تہ چھوہہ سوگان، بیہ  
 چھوہہ بدلہ ڈوچہ سیت تہ کھینہ یوان۔ ژوٹ پوان تھہ منزہ کڑو تھہ کھینہ **وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً**  
 بیہ چھہ تہمتہہ خیطرہ چارواہین اندر، یعنی ڈوٹن، گہن تہ تیرن اندر غور کر نک موقع **نُنْقِيكُمْ مِنْهَا**  
**بُظُونَهَا** آس چھہ دوان توہمہ چنہ خیطرہ سو چیز نیس تہمتہہ پو شیمو آندرہ چھوہہ نیران یعنی دودھ **وَلَكُمْ فِيهَا**

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً لْتُسْقِيَكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا  
 مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٢١﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿٢٢﴾  
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ  
 مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿٢٣﴾ فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ  
 قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ  
 اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً فَأَسْبَعْنَا بِهَذَا فِي آيَاتِنَا الْأُولَىٰ ﴿٢٤﴾ إِنَّهُ هُوَ

مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ بیہ چھہ ہندہ خیطرہ تمہن چارپاؑن اندر واریاہ فاندہ۔ تہمز مؑون، بیہر تہ  
 وال چھوہ تہہ استعمال کران، بیہ چھوہ ہندہ ماز کیوان۔ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ بیہ چھوہ اکھ  
 تمہن چارپاؑن بیٹھ بیہ ناؤن تہ جہازن بیٹھ سوار یوان کرنہ توہہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ  
 فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ پڑپاٹ، بیہ سؑز اسہ نوح علیہ السلام پنہ  
 نِس قَوْمِسْ كُنْ بِمَنْجَبِرٍ۔ نِس فرمودہ تمہو پنہ نِس قَوْمِسْ، ای میانہ قومہ عبادت کرو معبود برحقہ سنزی پاڑ۔  
 نِس ورا ی چھونہ معبود برحق آسئس لابق تہ سزاور کنہی۔ کیاہ تہہ چھوہ نانس ورا ی بیاکھ معبود بناؤ نِس  
 اندر کھو ثانی فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ نوح علیہ السلام سنز  
 بیہ تہہ بوز تہہ دؑپ ہندہ قومہ منزہ زٹھو کافر و عام لو کن کن کہ بیہ شخص چھونہ مگر توہی ہواکھ انسانہ،  
 بیہ پیغمبر یا بزرگ شخصہ چھونہ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ بیہ چھوہ یشہان توہہ بیٹھ فضیلت حاصل  
 کران، ہندہ زٹھہ بنِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً ہر گاہ اللہ تعالیٰ یشہہ ہا پیغمبر سوزن تلہ سوزہ ہاسؑو  
 کانسہ ملکس فَأَسْبَعْنَا بِهَذَا فِي آيَاتِنَا الْأُولَىٰ اسہ چھنہ سمہ تہہ بوز مرے بروٹھن مالین بڈ بن  
 نشہ إِنَّهُ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ مِثْلُكُمْ جِنَّةٌ بیہ چھونہ مگر خوشبت لد انسانہ اکھ۔ تمی چھوہ دنیا کیکن لو کن خلاف تہہ  
 کران فَتَرَكُوا يَوْمَئِذٍ عَلَىٰ آلِهِمْ مَا لَهُمْ لَمَنْ سَأَلَ النَّاسَ فِيهِمْ فَذَكَرُوا آلَهُمْ نَكِيحًا وَإِخْوَانًا مِثْلَ نَجَارِثِهِمْ لَمَّا هَارَوْا  
 ا کہ دوہہ مرہ بیہ۔ قصہ گڑھ ختم قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُنْتُ بِنْتًا لِّرَبِّكَ بِرَبِّكَ حَقًّا لَمَّا كُنْتُ فِي الْغَيْبِ  
 لَمَّا كُنْتُ فِي الْغَيْبِ لَمَّا كُنْتُ فِي الْغَيْبِ لَمَّا كُنْتُ فِي الْغَيْبِ لَمَّا كُنْتُ فِي الْغَيْبِ لَمَّا كُنْتُ فِي الْغَيْبِ

الْأَرْجُلِ بِهِ جَنَّةٌ فَنَرَىٰ صَوَابَهُ حَتَّىٰ جِبِينٍ ۚ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي  
 بِمَا كَذَّبُونِ ۚ ۲۴ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا  
 وَوَحَيْنَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ  
 زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ  
 مِنْهُمْ ۚ وَلَا تُخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ ۚ ۲۵  
 فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ  
 الَّذِي نَجَّيْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۚ ۲۶ وَقُلْ رَبِّ انزِلْ لِي مَائِدًا

مہ کریاری، کیا زہ سموزوس بواپن یور۔ تمن نشہ ہہ زہ امیک بدلہ۔ اسہ کور تہند دعا قبول فأوحینا الیہ  
 ان اصنع الفلک باعیننا ووحینا کس سوزاسہ تمن کن وحی زہ تہہ بناوواکھ ناوہ اسہ برو تہہ کنہ بہہ  
 سانیو ہدایتو موجب۔ وون بہہ اکھ طوفاناہ، تہہ تہ با ایمان رُو زوتھی ناوہ ہندہ ذریعہ محفوظ فأذا جاء امرنا  
 وفار التَّنُّور کس یلہ سون حکم عذابک جاری سپدہ تنورہ منزہ ہہ آب نیرن فاسلک فیہا من کل  
 زوجین اثین واهلک کس والیو کھ ناوہ منز پریتھ قسمہ کیو جانور و منزہ تم انسانس کار آمد چھ  
 آسان، اکھ اکھ زتہ اکھ اکھ مادہ یعنی زیز جانور، بہہ پن عیال الا من سبق علیہ القول منهم  
 مگر نہ عیالہ منزہ تم تمن ہندہ حقہ غرق سپد تک حکم برو نشی چھو کرنہ آمت یعنی تم کافر آسن ولا  
 مخاطبونی فی الذین ظلموا انہم معرضون یہ کتھ بو زودوارہ کہہ مہ انز نہ رو بہ تمن شخص ہندہ حقہ  
 کا نہہ تھہ سمو ظلم کور یعنی کھر و شر کس پیٹھ رُو کیا زہ تمن چھو ضرور چھن فأذا استویت انت و من  
 معک علی الفلک کس یلہ وارہ بہو تہہ بہہ تم توہمہ سیت چھہ اتھ ناوہ منز فقل الحمد لله الذی نجینا  
 من القوم الظالمین کس دپوہ تمہہ ساتہ حمد یوسن کس معبود برحقس تم اسہ نجات دیتہ ظالم لو کن  
 ہنز و کامیونشہ بہہ تہندہ عذابہ نشہ وَقُلْ رَبِّ انزِلْ لِي مَائِدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ بہہ پر زہ سمہ ساتہ بہہ

وَأَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۝۲۹ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِنْ كُنَّا لَبَتِلِينَ ۝۳۰  
 ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ۝۳۱ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا  
 مِنْهُمْ أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۝۳۲ وَقَالَ  
 الْمَلَائِكَةُ لِقَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا الْآخِرَةَ وَأَتْرَفْنَاهُمْ  
 فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ  
 وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ۝۳۳ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا

سیلاب تہ تیپ نمٹن تہ و سُن ہیہ، ای میانہ پروردگارہ مہ وال تہ برکتہ سان کُنہ با برکت جالیہ پیٹھ۔ تھی  
 چھو کہ تموساروی آندرہ بہتر تم پنہ نین مہمان کُنہ جالیہ عزتہ سان ٹھہراوان چھہ۔ اِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَاتٍ  
 وَاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ نیز پاٹ یتھ واقس منز چھہ سائہ قدر تک بڈ بڈ نشانہ عقلہ والین ہندہ خیطرہ۔ بیشک  
 اَسِ اس لوکن سمونشانوسیت آزمائش کرہون۔ ثُمَّ اَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ توپتہ کورپیدہ اسہ  
 تمکن پتہ بیا کہ قومہ، تم گے قوم عادیاشمود فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ جس سوزاسہ تمکن منز تہ پیغمبرہ  
 تموی منزہ یعنی ہود علیہ السلام یا صالح علیہ السلام اَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ تم  
 پیغمبرن فرمود تمکن یوہے پیغام کہ عبادت تہ بندگی کرو معبود برحقہ سنزی۔ تَس ورا ای چھونہ توہہ کہنی  
 معبود۔ کیاہ تہہ چھوہ تاس ٹریک اُنہ کھو ژانی وَقَالَ الْمَلَائِكَةُ لِقَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا الْآخِرَةَ  
 اِس پیغمبرہ سنزیہ تھہ لوز تھہ دوپ تہندہ قومہ کیوز ٹھیو، سمو انکار کور خدا اِس، بیہ اس لہز زانان  
 آخر تہ کس ملقاتس خدایس بروٹھ کن واتس وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بیہ تمکن اسہ اوس آرام و  
 آسائس و ژمژد نیاجہ زندگی اندرتے لگ پانہ وان دینہ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یہ پیغمبر یعنی حضرت ہود  
 چھونہ مگر توہی ہو اکہ انسانہ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ کھیوان چھوہ تھی قسمہ غذایہ تہہ  
 کھیوان چھوہ بیہ چھوہ چوان تھی منزہ بیہ تہہ چوان چھوہ۔ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذَا  
 لَتَخْبِرُونَ ہر گاہ توہہ پیروی کروہ پائس ہوس انسانس آسز تہہ چھوہ تہہ نقصان زد و آندرہ بے





مَا سَبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿۲۳﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا  
رُسُلَنَا تَتْرًا كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولَهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ  
بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبَعَدَ الْقَوْمِ لِأَيُّ مُؤْمِنُونَ ﴿۲۴﴾ ثُمَّ  
أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿۲۵﴾  
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿۲۶﴾ فَقَالُوا  
أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِبَادُونَ ﴿۲۷﴾ فَلَذَّبُوهُمَا

نا فرمان **ثُمَّ أَسْتَأْخِرْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ فُرُوقًا لِّلْآخِرِينَ** تمہ پتہ یعنی قوم عا دو شمو دکہ ہلاک گزھنہ پتہ کرہ  
اسہ واریاہ امثر تہ قوم پیدہ **مَا سَبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ** برو نٹھہ بیجک نہ گزھت کا نہہ تو ماہ  
تہ کا نہہ امتاہ پنہ بس ہلاکتہ کس مقررہ وقس نہ بیجک پتہ گزھت تمہ نشہ۔ تھے پاٹھ چھو پر پتھ کتہ امتہ  
ہلاک گزھنہ خیطرہ وقماہ مقرر کر نہ آمت۔ الغرض تمہ امثر آہ گوڈہ پیدہ کر نہ **ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا**  
توپتہ سوز اسہ تم ن نشہ بن پیغمبر پوئس پتھ ہدایت و ارشادہ خیطرہ **كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَّسُولَهَا كَذَّبُوهُ** مگر  
تہنز حالت سہزیہ کہ یلہ یلہ کتہ قومس نشہ تہند حاصل پیغمبر و اتان اوس خدایہ سند احکام ہتھ تم آس بس  
ا پز انان تہ انکار کران۔ **فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ** بس گال اسہ تم اکھ اکس پتہ تو پتہ  
تھاوہ پتھن تہنزہ کتھہ یاژہ تہ قصے یات **فَبَعَدَ الْقَوْمِ لِأَيُّ مُؤْمِنُونَ** لعنت بوسن تم ن کو کس سم نہ کئس  
خد اس پڑھ گرن تہ ایمان اُن **ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ \* إِلَىٰ فِرْعَوْنَ**  
**وَمَلَئِهِ** توپتہ سوز اسہ موسیٰ علیہ السلام بیہ تہند برادر ہارون علیہ السلام بن آیات تہ سند ہتھ  
فرعونس تہ تہند بن ارکان سلطنتن کن **فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ** بس کور تمو تصدق و اطاعت کر نہ  
نشہ تکبر بیہ آسنہ تم مغرور تہ متکبری یات بلکہ آسبھہ بنی اسرائیل مغلوب تہ غلام بناؤمت۔ **فَقَالُوا**  
**أَنُؤْمِنُ لِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِبَادُونَ** بس لگ تم پانہ وان دپنہ کیاہ اس گردہ پڑھ پائسی ہوین  
دون انسان بیہ تم ہند قوم سان غلام تہ خد متگار چھہ **فَلَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ** بس یلہ تموتہ

فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ﴿۸﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۹﴾ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ ﴿۱۰﴾ يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّو مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۱۱﴾ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً

سمن دون پیغمبرن انکار کور، تم تہ زانجھ اپز زیر، پس سپد تم تہ گمہ و نیوتہ ہلاک سپدہ و نیو آندرہ و لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ تہندہ ہلاک گدھنہ پتہ و ژا سہ یہ کتاب یعنی تورات موسیٰ علیہ السلامس یجھہ تم لوکھ تم باقی رو دہدایت لہن و جَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ بیہ کر اسہ پنے نس کمال قدرتس بیہ پنے نس وحدائیس بیٹھہ دلالت کرنہ خیطرہ بیہ بنی اسرا یلین ہندہ ہدایتہ خیطرہ مریم علیہا السلامہ سند فرزند عیسیٰ علیہ السلام بیہ تہمز والدہ ماجدہ بڈ دیکل عیسیٰ علیہ السلام سمہ اعتبارہ کہ تم کر اسہ بے پدر پیدہ۔ مریم علیہا السلام سمہ اعتبارہ کہ سُوکتر اسہ خاوندس یایہ کانسہ انسانس نزدیک سپد نہ و رای حاملہ تہ پچر دار۔ بیہ چٹھو یمن دوشن ہندہ خیطرہ ہوڈ نشانہ۔ چونکہ عیسیٰ علیہ السلامس متعلق اوس سون ارادہ پیغمبر بنان۔ مگر اتھ شہر شامس اندر اوس اکھ ظالم پادشائس ناواوس ہیر دوس۔ نس اوس نجومیو وو نمٹت کہ عیسیٰ علیہ السلامس سپد سرداری عطا۔ سُو پادشاہ اوس لو کچارہ بیٹھہ تہند دشمن سپد نمٹت۔ سُو اوس تمسن قتل کرنہ خیطرہ آمادہ سپد نمٹت تمہہ موکھ دیت اسہ تمسن تہ تہندس والدہ ماجدس پناہ اکس تھزہ جایہ بیٹھہ۔ یوسہ جای میوہ بکشرت آسنہ موکھ بسنس تہ قرار کر نس لایق آس۔ بیہ تمہہ منزہ دریاو جاری آسنہ موکھ، سر سبز و شاداب جایہ آس۔ یوتان تم (عیسیٰ علیہ السلام) امن و امانس اندر جوان سپد۔ تو پتہ آو تمسن نبوت عطا کرنہ۔ تمسن ظالم پادشہ سہدہ مرنہ پتہ آہ مریم علیہا السلام مصرہ بیٹھہ بیہ وانس شہر شامس گن۔ ماء معین چھہ ونان رود نیلہ ہندس آس۔ **يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّو مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ** اسہ بیٹھہ پاٹ برو نٹھی نعمہ استعمال کر نگ تو بہہ اجازت دیت بیہ عبادت کر نگ حکم کور، بیٹھہ پاٹ فرمود اسہ سارنی پیغمبرن،

وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿۵۲﴾ فَتَقَطُّوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا  
 كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿۵۳﴾ فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ  
 حِينٍ ﴿۵۴﴾ اِيْحَسِبُونَ أَنَّنَا نُنذِرُهُمْ بِهِ مِنْ قَالٍ وَبَيْنٍ ﴿۵۵﴾ نَسَارِعُ  
 لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۵۶﴾ إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشِيَةِ

تہندہ ذریعہ تہنزن اُمتن ای پیغمبر و کھو ہتہ تہند اُمتی رت رت چیز۔ خدایہ سزہ نعمو۔ تمیک پھل تہ  
 رت شرہ عطا وَاِنَّ هٰذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَّاحِدَةً وَاَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنَ۔ سمہ طریقک اسمہ بیان کوریہ پھہ تہنزن  
 طریق پتہ پتہ توہہ روزن چھو واجب تہ ضروری۔ سوچھہ اکے طریق۔ حاصل تہ خلاصہ تمہہ طریقک  
 چھو کہ یو چھوس تہند پروردگار، تہند مالک حقیقی، بیہ منعم حقیقی۔ لہذا کھو تو مئے یوت، میانین حکمن  
 ہنزمہ کمر و مخالفت تمک پیغمبرن ہنزن اُمتن شوہہ ہاتھہ کسی طریقس پیٹھ مضبوط روزن مگر تمہو کورنہ  
 تہ فَتَقَطُّوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ بلکہ کور تمہو پنہ نس دینس منز الگ الگ  
 و تہ کڈت اختلاف پیدہ۔ چنانچہ تمک منزیمہ جما از تہ موجود چھہ، پر پتہ جماعتس نشہ نس نس دیناہ چھو  
 سو چھو تہ پتہ خوش تہ راضی۔ باطل آسمہ باوجود چھو تہ زانان پوز۔ فَذَرَهُمْ فِي غَمَرَتِهِمْ حَتَّىٰ  
 حِينٍ نس تراویو کہ تہہ یار رسول اللہ پنہ نس جہالتہ کس حاکس پیٹھہ۔ کاہنہ غم مہ برؤ، تہند س اکس  
 خاص و قس تان۔ یعنی تہندہ مرنہ کس و قس تان۔ یلہ سو وقت و اتہ تمہہ ساسہ سپدہ تمک ساری حقیقت  
 معلوم۔ و سن نس یمن پیٹھہ جلد عذاب نازل چھونہ سپدان، کیاہ امہ سیت چھا لوک یہ خیال کران کہ اس  
 یوسہ تمک مال و اولاد تہ بیہ دولت عطا کران چھہ، اس ماچھہ تمک جلد جلد تہ و ل و ل فائدہ و اتاوان، اسہ  
 ماچھہ تہنزن منہ کامن۔ یہ کتھ چھنہ ہرگز تمک لوکن چھونہ امیک وجہی معلوم۔ امیک وجہ چھو استدر اج  
 یعنی تہنزن ناگو براون۔ یلہ ناگو بچھہ، یہ کدم پھٹن تم۔ غرض امیک انجام چھو سیٹھاہ کزوتھہ اِيْحَسِبُونَ  
 أَنَّنَا نُنذِرُهُمْ بِهِ مِنْ قَالٍ وَبَيْنٍ کیاہ تمک چھا گمان کہ اس نس تمک دیار تہ گبر دوان چھہ نَسَارِعُ لَهُمْ  
 فِي الْخَيْرَاتِ بیہ چھہ اس تمک جلد جلد خیر و اتاوان نہ سوچھنہ حقیقت بَلْ لَا يَشْعُرُونَ بلکہ چھونہ

رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿۵۷﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿۵۸﴾  
 وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿۵۹﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا  
 وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿۶۰﴾ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ  
 فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿۶۱﴾ وَلَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا  
 وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۶۲﴾ بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي  
 غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَمَلُونَ ﴿۶۳﴾

تمن فجری تران امہ منز کیاہ ہجو سون مطلب کہ یہ تہ ہتھ سانہ طرفہ اکھ آزمائشاہ **إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ** پزپاک ہتھ منز چھونہ کانہہ شک کہ یم پنہ نس پروردگار س سہ ہبتہ تہ خوفہ سبہ نمان چھہ **وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ** یم پنہ نس پروردگارہ سندین آیاتن پڑھہ چھہ کران **وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ** بیہ تم اتھ ایمانس منز پنہ نس پروردگار س شریک چھنہ ٹھہراوان **وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ** بیہ تم خدلیہ سزہ وتہ کینہہ دوان چھہ، یوت پلان ہجو کہ ثبوت مگر تھہ منز تہ چھک دل تہہ منز آسان۔ **أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ** بیشک ہجو تمن وائن پنہ نس پروردگار س نشہ۔ خبر چھاسو کریاہ سون مال خرچ کرن قبول کنہ نہ **أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ** تہ کیاہ گے تم لو کہ تم نیکن منز جلدی کران چھہ **وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ** بیہ تم نیکن کن بروٹھ واتہ دن چھہ **وَلَا تَكْلِفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا** بیہ چھنہ اس کانہہ اکس تکلیف دوان تہ عبادتگ یور کھاران۔ مگر توی بن یژی بن تس بتر تہ طاقت آسہ **وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنْطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ** کیا زہ اسہ نشہ ہجو اکھ دفتر، کتاباہ، یعنی نامہ اعمال محفوظ نس پوز پوز سوروی باوہ۔ بیہ بیہ نہ لو کن عنہ قسمہ ظلم کرنہ۔ خیرہ کس اکس اکس زرس پیٹھ لیہ تمن ثواب عطا کرنہ۔ یہ اوس حال با ایمان ہند مگر کافران ہند حال ہجو نہ تھہ **بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَمَلُونَ** بلکہ اتھ برعکس چھہ تہند دل سمہ دینہ نشہ جہالتس تہ شکس منز قسمت۔ بیہ چھہ تمن امہ جہالتہ ورا تہ بیہ بچھہ عملہ سمہ عملہ تم بدستور چھہ

حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذْ هُمْ يُجْرُونَ ﴿۶۴﴾ لَا تَجْرُوا  
 الْيَوْمَ مِنَ الْمَوْتِ وَلَا تَتَصَرُّونَ ﴿۶۵﴾ قَدْ كَانَتِ الْآيَةُ الَّتِي تُشْلَىٰ عَلَيْكُمْ فُكْنُكُمْ  
 عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَتَكَبَّرُونَ ﴿۶۶﴾ مُسْتَكْبِرِينَ فِيهِ سِيرَاتِهِمْ يُجْرُونَ ﴿۶۷﴾  
 أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ ﴿۶۸﴾  
 أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿۶۹﴾ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ  
 بَلْ جَاءَهُمُ بِالْحَقِّ وَآكُرَهُمُ لِلْحَقِّ كُوهُونَ ﴿۷۰﴾ وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ

کران۔ حَتَّىٰ إِذَا أَخَذْنَا مُتْرَفِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذْ هُمْ يُجْرُونَ تا اینکه یله تمو آندره خوشحال لوکه عذابس  
 گرفتار کروکه آس تمن نشه نوکر چا کر چهه غریب غر بقاءه عام لوکن هنز چههه کنه۔ غرض یله یمن  
 سارنی پیچه عذاب نازل سپه تان هین تم کریکه ناکرون۔ آس دپوکه لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ مِنَ الْمَوْتِ وَلَا  
 تَتَصَرُّونَ مه تلواز کریکه ناد۔ تمو کریکوسیت بنیونه کینهه۔ توهمه پیه نه هرگز سانه طرفه مدد کر نه۔ کیازه  
 هبه گوه نائے قَدْ كَانَتِ الْآيَةُ الَّتِي تُشْلَىٰ عَلَيْكُمْ فُكْنُكُمْ \* مُسْتَكْبِرِينَ فِيهِ سِيرَاتِهِمْ يُجْرُونَ پز  
 پاٹ دنیاس منز آس میان آیات توهمه پیچه پر نه یوان حضرت انبیاءن هنده ذریعه۔ هبه آسوه پوت  
 پوتوی ثلان۔ بکمال حکمر آسوه رات کیت اتھ قرآن مجیدس خلاف بکواس کر تھه یه بوزنه نشه دور  
 روزان۔ کانه اوس ونان تھه شعر کانه اوس ونان تھه سحر۔ أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ  
 آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ کیاه تمو کور نایه تھه قرآن مجیدس منز غور نه فخر۔ تے فجر گره هین پائے سجھه بکھه بوزن  
 امیگ مجزه و پچھت انه هین ایمان کنه یعنی نشه ووت نوواکه چیزه اوس نه تهنه سین مالین بد بین نشه دو تهنه  
 اوس۔ امی چههه اتھ انکار کران أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ کنه تم زانی نه پیغمبرس پنه نس  
 تمن پچھنه خبری تهنه امانت و دیانت، راست گوئی هنز تمی چههه نس انکار کران أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ کنه  
 تم چههه ونان اوس پیغمبرس چھو جنون۔ تمو کھو آندره چههه کنه کنه تھه۔ تم ساری آس متفقه طور تهنه  
 صدق و امانتک نه دیانتک قائل به اوس تمن اتفاق که تمن برابر چھونه صاحب عقل کانه نه بَلْ جَاءَهُمُ

لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ  
 عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿٤١﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَقَرْجَبُ رَبِّكَ خَيْرٌ  
 وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿٤٢﴾ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٤٣﴾  
 وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُونَ ﴿٤٤﴾  
 وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلْجُوفَىٰ طُغْيَانِهِمْ  
 يَعْمَهُونَ ﴿٤٥﴾ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ

بِالْحَقِّ وَكَانُوا لِلْحَقِّ كَافِرُونَ بلکه چھو اصلی وجہ کہ یہ پیغمبر آؤ تم نیش پر تھہ بیتھ، مگر تمہو اندرہ وجھہ  
 اکثر لو کن پز پزچ نفرت۔ تمی چھہ قبول تہ تسلیم کران **وَلَوْ اتَّبَعُوا الْحَقَّ لَكُنُوا لِلْأَرْضِ**  
**وَمَنْ فِيهِنَّ** بیہ ہر گاہ پوز تابع روزہ تہمنن خواہش تلمہ گوہن آسمان وز مین تباہ و بر باد بیہ تم ساری تم  
 تمن منر روزان چھہ۔ کیا زہ ہر گاہ تہ لب نہ بیہ ہلمہ پوز کیا روزہ ہا تابع تہمنن خواہش تیلہ سپدہ ہا سو روی عالم  
 پر کفو و شر کہ سیت عاملس منز پھیلہ ہا گراہی۔ تمیک نتیجہ نیرہ ہا اللہ تعالیٰ سُنَد غضب ایہ ہا بجوش، آسمان  
 وز مین بیہ تم تمن منر روزان چھہ گوہہ ہن ہلاک تہ بر باد **بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ** بلکہ آئی آس تمن نیش  
 نصیحت تہ نفع تھہ بیتھ **فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ** مگر تم چھہ پندہ فاند چہ کتھ نشہ تہ بیتھ پھر ان تہ روگردانی  
 کران **أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَقَرْجَبُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ** حکمذیہ کین برو تھمین وجھن علاوہ چھو بیہ  
 بیاکھ وجھہ کہ تمن چھو بیہ تہ اندیشہ کہ جہہ ما چھوہ تمن نیش دین حق و اتناو نہ خیطرہ کینہ معاوضہ  
 ژھانڈان۔ توہہ کیاہ آس حج ضرورت توہہ ئس معاوضہ خدایہ سندہ طرفہ حاصل سپدہ ون چھو۔ سوی  
 چھو سیٹھاہ بہتر روزی دنہ وول **وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ** پز پاٹ تہہ چھوہ تمن راہ  
 راستس، سیزہ و تہ کن نادووان **وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَيِّبُونَ** پز پاٹ تمن نہ  
 آخر چہ پڑھہ چھہ تم چھہ سیزہ و تہ نشہ بیتھ ژلان **وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلْجُوفَىٰ طُغْيَانِهِمْ**  
**يَعْمَهُونَ** بیہ ہر گاہ آس تمن بیٹھ رہم کر تھہ، تمن ئس تکلیف چھو سو دور تہ گرو، توہہ روزن تم

وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿۶۶﴾ حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذْ هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿۶۷﴾ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿۶۸﴾ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۶۹﴾ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۷۰﴾ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿۷۱﴾ قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا

بدستور پنہ سرکشی تہ مگر ای اندر اورہ یور کران و لَقَدْ أَخَذْنَا لَهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَعَاذُوا رَبَّهُمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ پزپاٹ اُس اگر تم گرفتار کرو کہ عذابس پس کرنہ تمو پنے بس خدا بس کن عاجزی، نہ کوڑ کہ زارہ پارہ بس حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذْ هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ تا اینکه یلہ اسہ تمن کن مژورو سخت عذابک دروازہ اتی سپد تم تہ اندر حیران وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ سو معبود برحق گو سوی تم توہمہ کن آپہہ تہ دل پیدہ کمر۔ تہہ تہہ آرام تہ کر وہیہ دینس کن تہ خیال تھا و مگر سیٹھاہ کم چھوہ تہہ تمن نعمون پیٹھ شکر گذاری کرہ ون۔ کیا زہ اصل شکر گذاری گئے یہ تس مُعَمَّ حقیقی سُنَد پسندیدہ دین اختیار کرن۔ بیہ پڑھ گرن کہ تس چھہ قدرت مرنہ پتہ بیہ زندہ کر بس بیٹھ۔ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ بیہ گو سو پروردگار سو ی تم تہہ زمینس منز چھکر وہ۔ بیہ ابو تہہ ساری قیامتک دوہ تس نشہ سو نبر نہ تہ جمع کرنہ تمی دوہہ کیا و چھو تہہ امہ گھران نعمت کرنک عرہ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ بیہ گو سو پُروردگار سو ی بس سارنی زندہ کران چھو بیہ بس ماران چھو۔ بیہ چھو بس، یعنی تہندسی اختیار س منزراتک تہ دُہک مَن گزھن، ژھوئ مَن تہ زیتھن۔ کیاہ توہہ چھنا ایژ ہن تہ فخرہ تران۔ سمہہ دلیلہ چھہ توحیدس تہ قیامتس پیٹھ دلالت کران مگر توتہ چھہ تم مانان بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ بلکہ چھہ ونان تہ تہہ سمہہ تہہ برو تہمید کافر و ونہ قَالُوا إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا لَنَا لَتُبْعُونَ

وَعِظَامًا إِنَّا لَبَعُوثُونَ ﴿۸۲﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا  
 مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۸۳﴾ قُلْ لَيْسَ الْأَرْضُ  
 وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۴﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا  
 تَذَكَّرُونَ ﴿۸۵﴾ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ  
 الْعَظِيمِ ﴿۸۶﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۸۷﴾ قُلْ مَنْ  
 بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ

تمو دوپ کیاہ اَس یلہ مر و تو پتہ سپد و اَس میو تہ اڈجہ کیاہ تمہ پتہ سموہ اَس بیہ زندہ کر تھ قبر و منزہ تلنہ  
 لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ نیز پاٹ وعدہ او کرنہ اَسہ  
 سیت امیک بیہ سائین ما لین بڈ بین سیت سمہ برو تھ تہ بیہ چھونہ کینہ تہ مگر برو تھین لوکن ہنزہ اپزہ تہ  
 بے گند تھ تہ قصہ تم نقل چھہ یوان کرنہ قُلْ فرما دیو کہ تہہ یار سؤل اللہ لَیْسَ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ  
 كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ہر گاہ تہہ کینہ زانان چھوہ تلہ ویتو زمین بیہ سم مخلوق اتھ منز چھہ تم کہند چھہ۔  
 سَيَقُولُونَ لِلَّهِ تم وزن ضروری ہے جواب کہ بیہ سو زوی چھو خدایہ سُد قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ تہہ  
 فرما دیو کہ ادہ کونہ چھوہ غور تہ تامل کران، کس قدر تہ و اَس بیہ توگ پیدہ کرن تَس نشہ کیاہ عجائب چھو  
 تہہ سرت بیہ پیدہ کرن قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ تہہ پر تڑھوک  
 ستن آسمان تہ عرش عظیمک مالک تہہ چھو۔ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ جواب دن تم کہ سمہ سارہ کوئی مالک  
 چھو اللہ تعالیٰ قُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ تہہ فرما دیو کہ ادہ کونہ چھوہ تَس کھو ژان ادہ تھہ پاٹ چھوہ تہہ  
 تھندس قدر تَس، تھندین آیتان، آخر تَس برو تھ گن واتس انکار کران قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ  
 كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ تہہ پر تڑھوک کس اُتھہ چھو پر تھہ چیزک  
 اختیار سؤل کس برھوہان چھو تَس چھو پناہ دووان۔ تَس مُقَابِلہ بیسمہ نہ تَس نشہ کاہنہ اکھاہ کا نہہ اَکس پناہ و ت  
 ہر گاہ توہہ کینہہ معلوم چھو سَيَقُولُونَ لِلَّهِ جواب دین تم کہ تم ساری صفت چھہ خدایسی یوت



كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۸﴾ سَيَقُولُونَ بِاللَّهِ قُلٌّ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿۸۹﴾  
 بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۹۰﴾ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ  
 وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذِ انْزَلَ مِنْ إِلَهِ إِلَهًا خَلَقَ  
 وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿۹۱﴾ عَلَيْهِمُ  
 الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فِتْنَةٌ عَمَّا يَشْرِكُونَ ﴿۹۲﴾ قُلْ رَبِّ إِمَّا  
 تُرِيدُنِي مَا يُوعَدُونَ ﴿۹۳﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ

قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ہتھ فرمادیو کہ اُدہ کتہ پچھو توہمہ پیٹھہ جود آمت کر نہ۔ ہتھ چھوہ مجبوط الحواس  
 سپد مت۔ توہمہ پچھو نہ فخرہ تران کینہہ۔ سمہ سارے کتھ چھوہ مانان مگر اصل کتھ چھوہ نہ مانان۔ سوگو  
 توحیدتہ مرنہ پتہ بیہ زندہ سپدان بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ بلکہ واتا واسہ تہن نشہ پرتھہ۔  
 مگر اپزیر چھہ تم پانہ کن پچھو کھنہ پوزیران تہ برداشت سپدان مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ  
 إِلَهِ إِذِ انْزَلَ مِنْ إِلَهِ إِلَهًا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ اللَّهِ تَعَالَى ان پچھو نہ کاہنہ شخص پچو بنوومت۔  
 بیہ پچھو نہ تس سیت بیا کہ معبوداہ۔ ہر گاہ تہ آسہاتیلہ نیہ ہا پرتھہ معبوداہ تھہ بیہ تم پیدہ کرمت آسہا۔ بیہ  
 آسہن تم اکھ اکس پیٹھہ حملہ کر تھہ اکھ آکسند مخلوقات زبردستی سیت نوان۔ مخلوقات آسہن تباہ و برباد  
 سپد مت۔ چوہمہ نظام عالم پچھو بدستور قائم امہ اندرہ سپد ثابت کہ سو پچھو منزہ تہ پاک شریک آسہن نشہ  
 سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ بلکہ پچھو سو منزہ تہ پاک تموساروی پچھو نشہ سمہ تس کن لوک لاگان چھہ علیم  
 الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فِتْنَةٌ عَمَّا يَشْرِكُونَ سو پچھو زانہ ون سوزوی پوشیدہ تہ نون۔ تس نشہ پچھو نہ  
 پوشیدے کینہہ تس پچھو سو سیٹھاہ بلند تہ تھود تمہ شہر کہ نشہ تس کن لوک لاگان چھہ۔ قُلْ رَبِّ إِمَّا  
 تُرِيدُنِي مَا يُوعَدُونَ ہتھہ مچو خدا تس ای میانہ ہر وردگارہ ژہ مہ ہا و کہ سو عذاب سمیک سمین وعدہ  
 تھاونہ پوان پچھو یعنی میانہ زندگی منز کر کہہ تمکن پیٹھہ عذاب نازل رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ  
 الظَّالِمِينَ اکی میانہ ہر وردگارہ پچھنہ مہ تھاو کہ تمہ وقتہ ظالمین سیت شامل وَاِنَّا عَلَىٰ اَنْ نُؤْتِيكَ مَا

الظَّالِمِينَ ﴿۹۲﴾ وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِيرُونَ ﴿۹۵﴾  
 إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿۹۶﴾  
 وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿۹۷﴾ وَأَعُوذُ بِكَ  
 رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿۹۸﴾ حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ  
 ارْجِعُونِ ﴿۹۹﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ

نَعِدُهُمْ لَقَدِيرُونَ یہ چھہ اس پیشک توہمہ سو عذاب ہاؤس پیٹھ قدرتہ وال سمہ عذابک اس تمن وعده  
 تھاوان چھہ۔ یوتان نہ تمن پیٹھ سو عذاب نازل سپدہ توتان تھاووتہہ تمن سیت اتھہ پاٹھ معاملہ کہ  
 إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ تہزہ ہدی ہند مدافعہ آسو تہہ کران۔ تہہ ورتا وہ سیت نئس سیٹھاہ رت  
 تہ نرم آسہ پنہہ ذلتہ خیطرہ مہ آسو تمن بدلہ ہیوان بلکہ آسو معاملہ آسہ سپر ذکران۔ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا  
 يَصِفُونَ اسہ پٹھو پور معلوم تم کیاہ چھہ ونان توہہ نسبت۔ اگر ممقتضائے بشریت توہہ کتھ بوزنہ  
 سیت تھک آسہ کسان تہند گڑھہ تمہہ ساتھ ہر نیاہ دعا۔ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ \*  
 وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ ای میانہ پروردگارہ یو پٹھوس پناہ منگان شیطان ہند یوسو سو نشہہ یہ  
 چھوہ سے پناہ منگان میانہ پروردگار تہندہ میہ پٹھہ نہ نشہہ تمہہ واتاوان تہون کامہ کن یوسہ مصلحتس خلاف  
 آسہ۔ یہ روزن نہ پنہہ کفر و انکارہ نشہہ پٹھہ۔ یہ دعا پر نہ سیت آسہ توہہ سو تھک دور سپدان حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ  
 أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ پٹھہ روڈ کافر تمن بہ نہ کینہہ یوتان نہ تمن اندرہ کانہہ مرنگ وقت  
 ولتہ، آخر تک معاینہ یہ شروع سپدان تمہہ ساتھ نئس اچھہ موراو نہ جہلس تہ کفرس پیٹھ سپدہ ناوم تہ  
 پشیمان۔ مرت و نہ سو کافر، پروردگار امہ سوزتہ یہہ دنیاس گن وانئس لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ  
 پٹھہ بورثہ عملہ گرہ دنیاس اندر نئس مہ پٹھہ گن ترود۔ ملاکن ہندہ ذریعہ پئس اتھہ در خواستس رد کر نہ۔  
 دپنہ پئس کلا تہ پنہہ نہ ہرگز۔ یعنی دنیاس گن وانئس گڑھن پٹھو نامنکِن اِنَّمَا كَلِمَةٌ هُوَ قَالَهَا بِشَكِّ  
 يہ پٹھہ سو کتھ یوسہ آس و نئی چھہ۔ اتھ و نہ نس پٹھو نہ امیہ نش اعتباری کینہہ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِم مَّنْ يَرْجِعُ إِلَى

قَابِلَهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۱۰۰ ۱۰۱  
 فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ ۱۰۱  
 فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۱۰۲ ۱۰۳  
 مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ  
 خَالِدُونَ ۱۰۳ ۱۰۴ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ۱۰۴  
 أَلَمْ تَكُنْ أَلَيْسَ تَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ فَلَنتُمْ بِهَا كَذِبُونَ ۱۰۵ ۱۰۶

یَوْمِ يُبْعَثُونَ تم ن پتہ چھو اکھ پرداہ تہ ٹھوراکھ اکھ تھہ دوہس تان سیمہ دوہسہ بیہ تم دوبارہ زندہ کرنے میں۔ ورنہ  
 کیا وہ چھہ تمہو۔ مرنہ سیت بانبرے تم پوت۔ بٹھہ چھو تم ن عالم برزخ یوان۔ توت واتھہ روزن تم پردس  
 منز دنیا کین لوکن نشیہ۔ آخرت تہ واتہ نہ تم ن بروئھہ کن البتہ آخرت کھ عذاب ک کم پہن نموناہ ولتہ تم ن  
 بروئھہ کن سیک مزہ ٹلان روزن قیاس تان ۱۰۱ ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰  
 یَتَسَاءَلُونَ پتہ یلہ قیامت سپدہ پھو کھ بیہ دنہ پوغس منز تمہ ساتہ سپدن تم تھس خوفس تہ پیتس گر فاکرہ  
 سو زوی مشکھہ تم ن منز تم اکھ اکس رشتہ دار آسن، تم رشتہ روزن نہ ٹھنہ تہ یعنی کانہہ کرہ نہ کانہہ ہنز  
 ہمدردی۔ زن تم و پرو پر آسن۔ نہ آسہ کانہہ کانہہ پر ٹھان۔ غرض تمہہ دوہسہ نہ ایہ رشتہ داری بکار نہ  
 دوستی بس تمہہ دوہسہ ایہ بکار فقط ایمان سیمہ خیطرہ قائم بیہ کرنے اکھ تر کرہ، تھہ منز ایمان و عمل بیہ تولنہ  
 فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سمسدہ ایمانک تہ نیکن ہند تر کرہ پوٹر گوب لکھ تے چھہ  
 کامیاب تہ رستگار ۱۰۲ ۱۰۳ ۱۰۴ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰  
 ہندہ ایمان و عملہ ہند تر کرہ پوٹر لوت آسہ جس تے گئے تم سموپان پانس نقصان تہ تاوان واتوہ۔ تم  
 آسن جھٹس منز ہمیشہ تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ زالہ نار جہنم تھندین تھن ہیر یوم وٹھ  
 وایکھ کلس تان۔ بونیوم وٹھ وایکھ ٹونس تان تے آسن تھہ نار جھنمس منز سخت بد شکل۔ تم ن بیہ  
 ورنہ ۱۰۵ ۱۰۶ ۱۰۷ ۱۰۸ ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۱ ۱۱۲ ۱۱۳ ۱۱۴ ۱۱۵ ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۰

رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿۱۰۶﴾ رَبَّنَا  
 أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿۱۰۷﴾ قَالَ اخْسُوفِيهَا  
 وَلَا تَكَلِّمُونَ ﴿۱۰۸﴾ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ  
 رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿۱۰۹﴾  
 فَاتَّخَذَ نَسُوهُمْ سَخِرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ  
 تَضْحَكُونَ ﴿۱۱۰﴾ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ


توپتہ آسوہ تہہ تمن اہوزانتھ انکار کران۔ یہ چھو تمکوی نزا قالوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ تم دہن ای سانہ پروردگارہ آس چھہ اقرار کران پنہ بس بجز مس۔ آس آس ولت شقاوتن۔ بیہ آس آس واقعی وتہ نشہ ڈلت۔ آس چھہ درخواست کران۔ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ای سانہ پروردگار آسہ کڈتہ امہ جہنمہ اندرہ توپتہ سوزتہ بیہ دوبارہ دُنیاس گن۔ تو پتے آس دوبارہ نافرمانی کر وتیلہ چھہ آس واقعی ظالم۔ تمہہ وقتہ گزھہ آسہ پور سزادین قَالَ اخْسُوفِيهَا وَلَا تَكَلِّمُونَ اللہ تعالیٰ فرماویکھ۔ دفع گوجھواتھ جہنمس منز دزومہ سیت مہ کروکتھ۔ آس گزونہ جہنمہ درخواست منظور۔ توبہ چھہ یاد اید۔ إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ تہہ گونہ نامے کہ میانیو بند و اندرہ آس اکھ جماعتھہ تم بچار عرض کران آس اے سانہ پروردگارہ آسہ اُون ایمان کس کر آسہ مغفرت بیہ کر آسہ پیٹھ رحم۔ ثی چھو کھ ساروی اندرہ سیٹھہ رحم کرہ و ن فَاتَّخَذَ نَسُوهُمْ سَخِرِيًّا بس کور وہ توبہ اتھ کتھہ یوسہ قابل قدر آس ٹھہ۔ تم زانو کھ توبہ ٹھٹھس لایق تمنی پیٹھ لگوہ تہہ لسنہ گرنہ تھہ سیت رُودوہ تہہ مشغول حَتَّىٰ أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي یوتان تموکتھو توبہ میون یادتہ مشرودوہہ وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ بیہ آسوہ تہہ تم وچھت اسان تمو کور تھہ جہنم کھٹھض پیٹھ صبر۔ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُمْ هُمُ الْفَاكِرُونَ بجز پات مہہ کر عطا تمن از تمہہ صبر بجز مزور۔ بیشک تمے سپد کامیاب قُلْ كَلِمَاتٌ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ اللہ تعالیٰ

الْفَآئِزُونَ ﴿۱۱۱﴾ قُلْ كَمْ لَبِثْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدَ سِنِينَ ﴿۱۱۲﴾  
 قَالُوا الْبَيْتَانِ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسَلِ الْعَادِيْنَ ﴿۱۱۳﴾  
 قُلْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۱۴﴾  
 أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿۱۱۵﴾  
 فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ  
 الْكَرِيمِ ﴿۱۱۶﴾ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ

پر تھے یا پر تھنا وہ تمہن کافر تھے کیتس کالس رُوودہ زمینس اندر دُر ہو موجب قَالُوا الْبَيْتَانِ يَوْمًا  
 أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ تم دین آس رُوودہ آس یا ڈس دو آس اسہ چھو نہ پورہ یاد۔ فَسَلِ الْعَادِيْنَ اسہ  
 چھہ کیہہ خبر تہہ پر تھو عمر ن ہند حساب تھو ہون ملا کن قُلْ إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَوْ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ  
 تَعْلَمُونَ اللہ تعالیٰ فرماویک تہہ رُوودہ مگر کم سی کالس۔ ہر گاہ تہہ تی زانہو دُنیا س اندر کہ دُنیا س منز با  
 چھو کمسی کالس روز ن اسہ۔ تھہ بدل آسہ تہہ زانان یحوی چھو سو روری بیہ نہ کیہہ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا  
 خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ کیاہ توہہ اوسہ گمانہ کہہ اس کیاہ کرووہ تہہ پیدہ بے معنی ہند ناہ۔  
 بیہ کیاہ ایونہ تہہ اسہ گن ڈاگس انہ۔ فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ جس سیٹھاہ بالائہ بر تر چھو اللہ تعالیٰ۔  
 سُوی چھو بادشاہ پڑاٹ۔ تم کورنہ بے معنی تہ بے ہودہ کاہہ چیز پیدہ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ  
 الْكَرِيمِ کاہہ محبوباہ چھو نہ جس ورا ی سو چھو مالک عرش عظیمک وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا  
 آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ بیہ جس اکھاہ ہمہ دلیلہ آتھہ خدا جس سیت بیہ  
 کاہہ محبوب سز عبادت گرہ تھہ پیٹہ نہ کاہہ دلیلہ چھہ تمسند حساب چھو نہ مگر تہندس پدورد گار س نشہ  
 إِنَّهُ لَا يُفِيكُمُ الْكَافِرُونَ بیشک کامیاب ہدن نہ کافر بلکہ روز ن تم ابد الابد عند جس اندر گرفتار وَقُلْ

لَهُ بِهِ ۙ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُقْلِعُ الْكُفْرُونَ ﴿۱۱۷﴾  
 وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿۱۱۸﴾

رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ای پیغمبر تہہ آسودہ کارن تہ منگان ای میلہ پروردگارہ مغفرت  
 گرمہ۔ بیہ گرمہ پیٹھ رحم، معاش اندرتہ، توفیق طاعتس اندرتہ، نجات آخرتس اندرتہ۔ عطاے جنتس اندرتہ۔  
 تھی چٹھوک ساروی رحم کرہ نیواندرہ زیادہ رحم کرہ ون



سُورَةُ النُّورِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ  
 تَذَكَّرُونَ ① الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا  
 مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ  
 تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشِهْدُ عَدَاِبَهُمَا طَآئِفَةٌ  
 مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ② الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَسُورَةُ

سُورَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ یہ چھو اھ سورہ اھ۔ ہمک الفاظ  
 اسی نازل کر۔ یہ کراسی نازل تمک معانی یعنی احکام یہ کراسی تھ اندروا صحیح صاف صاف آیات نازل  
 بیٹھ ہتھ تم آیات زانو تہ مانو الزانیاۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مائۃ جلدۃ زنا کرہون زانہ  
 زنا کرہون مرد، پرہتھ اہس تموا اندرہ لیلو اھ ہت ڈرہ ہر گاہ تم نیتھرہ واری آسن وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا  
 رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ توہر گروہ نہ تم دوان پیٹھ خدایہ سندس معاملس اندرا اھ ڈرہ تہ رحم ہن۔ سمہ سبت تم  
 تراوہو کھ یاسزء اس منز کی کتر ہو کہ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ چھوے ہتھ پڑھ کر ان اللہ  
 تعالیٰ اس تہ پتھس دوہس یعنی قیاس۔ کیا زہ دوشون پیٹھ ایمان تہ پڑھ آسن چھو منگان۔ اللہ  
 تعالیٰ سندس کھمس گروہ تقیل سپدن وَلَيْشِهْدُ عَدَاِبَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ یہ سپدن حاضر  
 تہبوس اتھ سزء اس جماعتھا اھ بالیمان ہنز۔ یہ سز اوچھو تہن دون مجر من تم آزاد، عاقل تہ بالغ یہ  
 انہاری آسن تم غلام آسن تہن پنواہ ڈرہ۔ تم نہ عاقل یا بالغ آسن تم چھنہ مٹقی۔ تم نکاھ وال  
 آسن۔ تہند سز اوچھو رجم، سنگساری۔ یعنی تیرہ کنبہ لاینہ۔ موسبت تم مزن۔ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً

الزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحَهَا الْأَزَانِ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى  
 الْمُؤْمِنِينَ<sup>۳</sup> وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا  
 بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ  
 شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ<sup>۴</sup> إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا  
 مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ<sup>۵</sup> وَالَّذِينَ  
 يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ  
 فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ<sup>۶</sup>

اَوْ مُشْرِكَةٌ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحَهَا الْأَزَانِ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ زانی زناہ کرہ و ن  
 چھو نہ نکاح کران مگر زناکار زنا نہ سیت یا مشرک زنا نہ سیت۔۔۔ سمہ زناکار زنا نہ چھہ نیتھر کران مگر زناکار  
 مردس سیت یا مشرک مردس سیت۔ یہ چھو حرام آمت کرنہ با ایمان پیٹہ۔ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ  
 الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا بِیہ سم  
 لو کہ بدکاری ہنز ہانزہ لاگن پاک دامن زنان توپتہ کرن نہ تم پیش ژور گواہ پنہ بس دعوی اس پیٹہ بس للیو  
 ہتھن لوکن شیتھ ڈرہ تھہ چھہ وان حدقذف بیہ مہ کروئکہ معالس اندر تہنز شہادت آیندہ زہنہ تہ قبول بیہ تہ  
 چھو تہندہ حقہ اکہ حداہ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تکی کیاہ گئی فاسق۔ تمن آسہ آخر تس منزتہ سز فاسق  
 تہ نافرمان آسنہ مو کہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ مگر تم  
 لو کہ توبہ کرن امہ تہمت لاگنہ پتہ خدائس بردنھ کنہ بیہ سنبھالن ہن حالت، تھہ صورتس اندر چھو اللہ  
 تعالی بیشک سیٹیاہ مغفرت کرہ و ن وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ  
 بیہ سم لو کہ ہانزہ لاگن پنہ نین منکوہہ زنان بدکاری ہنز توپتہ آسکھ تھہ پیٹہ ژور گواہ کینہہ تہ فَشَهَادَةُ  
 أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ بس چھہ تمواندرہ پریتھہ اک بسز گواہی پیہ کہ سوڈہ ژورہ



وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِنَّ إِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۝  
 وَيَدْرُوْنَ أَنَّ الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهَدٰتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ  
 لِيَنْ الْكٰذِبِيْنَ ۝ وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ

پھر خدا کی سُنْدُ قِسْمِ ہاوت کہ بیشک سو چھو پہنہ نس دعویٰ اس اندر پر زیور وَالْخَامِسَةَ اَنَّ لَعْنَتَ اللّٰهِ  
 عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ یہ وہ بیخیز مہ لہ کہ بیشک چھہ تس پیٹھ خدایہ سز لعت ہر گاہ سو اہز  
 ونہ ونیو اندرہ چھو ویدرُوْا عَنهَا الْعَذَابَ اَنْ تَشْهَدَ اَرْبَعَ شَهَدٰتٍ بِاللّٰهِ اِنَّهُ لِيَنْ الْكٰذِبِيْنَ یہ سپہ نس  
 زنانہ نشہ کس ہانژہ آس آمز لاگنہ عذاب یعنی سزاء جس، یا حد زناء دُوریلہ سو ژورہ پھرہ قسم ہاوت  
 گواہی دیہ کہ یہ مرد چھو یقیناً اہز ونان وَالْخَامِسَةَ اَنَّ غَضَبَ اللّٰهِ عَلَيْهِ اِنْ كَانَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ یہ ونہ  
 سو زنانہ بیخیز مہ لہ کہ بیشک چھو غضب خدا تس پیٹھ ہر گاہ یہ مرد پوز ونان چھو۔ امہ طریقہ ونہ ناوس  
 چھہ ونان لعان یہ لعان چھو سپد ان تہہ صور تس اندر کہ خاوند لاگہ تہمت پنہ زنانہ زناء ہج۔ جس متعلق  
 ونیس یہ چھو ی نہ میون۔ پنہ منکوہہ زنانہ تہمت زناء لاگنہ سیت یں خاوندس نشہ ژور گواہ منگہ۔ ہر گاہ  
 تم ژور گواہ پیش کر تیلہ بیہ زنانہ پیٹھ حد زنا جاری کرنہ۔ اگر ژور گواہ بیخہ تم پیش کر تہ تیلہ بیہ ونہ  
 تس ژہ کر تم الفاظ بیان۔ ہر گاہ تم تم الفاظ بیان کرنہ تیلہ بیہ سو قید کرنہ تس بیہ ونہ کہ یا کر ژہ پنہ نس  
 اپز یور آس اقرار نہ ون تم الفاظ۔ ہر گاہ تم پنہ نس اپز یور آس اقرار کور تیلہ بیہ تس حد قذف  
 ونہ۔ ہر گاہ تم یم الفاظ ون تیلہ یں زنانہ نشہ تہ دویمہ قسمک الفاظ ونہ ناونہ۔ ہر گاہ سو تم الفاظ ونہ نشہ  
 انکار کرہ تیلہ بیہ سو قید کرنہ تس پیٹھ بیہ جبر کرنہ کہ یا کر ژہ مردس تصدیق یا ون تم الفاظ ہر گاہ تمہ  
 مردس تصدیق گور تس بیہ تیلہ حد زنا ونہ۔ ہر گاہ سو تم الفاظ ونہ نس پیٹھ راضی سہز تیلہ یں تم الفاظ  
 تسدہ چاہہ ونہ ناونہ۔ تیلہ مردن تہ ون تم الفاظ تم تس ون آس، زنانہ تہ ون تم الفاظ یم تس ون  
 آس تمک دون منز پد لعان واقع، تہمت نکاح ژہیون۔ اہس مردس چھونہ جائز اہس زنانہ سیت صحت  
 کرن یا تھپ کرن۔ تم ساری چیز سپد اہس پیٹھ حرام تو پتہ ہر گاہ اہس زنانہ طلاق دیہ تہ گو جان۔ ورنہ  
 کرہ قاض تمک دون منز تفریق یعنی جدائی ہند حکم۔ امہ جدائی ہند حکم چھو طلاق بائیں۔ اہس مردس  
 چھونہ اہس زنانہ سیت زانہ نکاح کران جائیز مگرے ونہ مرد کہ مہ وون اہز تیلہ لیہ اہس مردس حد

# مِنَ الصُّدِّيقِينَ ۹) وَكَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۱۰) إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا

تذرف دنہ۔ تمہ پتہ چھو تمہن دون پانہ وان نکاح کرن جائیز۔ وَكَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ بیہ ہر گاہ نہ توہمہ پیٹھ خدایہ سُنَد فضل تہ رحمت آسہا، سُوَنز اوہ ہا حقیقت حال۔ تم کر پنتہ فضل ورحمتہ سیت توہمہ پردہ پوشی۔ پمز پاٹ اللہ تعالیٰ چھو سیتھا توہہ قبول کرہ ون، سیتھا حمتہ وول

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ پمز پاٹ تم لو کہ نیو لوی اُپز پتھ آئی، یعنی ہانٹھ لاجھہ پاکہ سندس پاک وجودس، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ تم لو کہ تہ چھہ توہی اُندرہ اکھ لوکت جماعتھاہ تمہ ہند تعداد کل ژور اوس تمو اُندرہ اوس اکھ مولیٰ شریہ۔ باقی آس تمس دی تابع۔

امہ قصک خلاصہ چھوئی زہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یلہ جنگ بنی مصطلقہ نسیہ وائس آئے ئس جنگ شہ (۶) ہجر ئس منز سُدمت چھو، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تہ آس اتھ سفرس منز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیت۔ تمہ آسہ الگ اگس اوئس پیٹھ سوار۔ اُئس دوئس پیٹھ اوس عماری یعنی ہودج یوان تھاوند۔ تھ عماری آس پردہ یوان تروانہ توپتہ آس تشریف تھاوان تھ منز حضرت ام المؤمنین۔ امہ پتہ آس دوئس وال یوان تہ بیہ عماری ٹلان توپتہ دوئس پیٹھ تھاوت گمان۔

اکھ دوہہ اوس قافلہ اگس مقاس پیٹھ ٹھہرت۔ قافلہ کہ روانگی بروئٹھ پھن پیہ حضرت ام المؤمنین قضای حاجت ضرورت۔ تم درلیہ عماری منزہ ہناہ دور پھن قضای حاجت کرنہ خیطرہ اتفاق سُدنتہ کہ اہنزہ ہٹہ چہ مالہ ژھیون ہن تہ سہ آہہ چھکر اوند۔ سموہیت تمبک دانہ سونبر اولن۔ اتھ سیت لوگ تمہن وقت توپتہ یلہ تم واپس آئے قافلہ اوس درامت۔ امہ جلیہ نسیہ خبر کوت ووتمت۔ دوئس وال آس آمت تمو آس۔ بہنز عماری ٹچو سمہ خیالہ کہ ام المؤمنین آسن اتھ منز کیا زہ تہند بن اوس تمہن دوہن کمی بیہ اوس تہند جسم تہ لوئے۔ بدن اوس نحیف۔ دوئس والین اوس نہ تہند گوہیر زیادہ کینہہ لگان۔ چنانچہ تمو تل تہند ہودج بیہ خیال کرت کہ یم آسن اتھ منز توپتہ تھو کہ اہندس دوئس پیٹھ بند کرتھ۔ حضرت ام المؤمنین یلہ چھہ قافلہ درامت، تم ژور اتس اتھ جلیہ تمو دوپ یلہ تم گنہ جلیہ واتھ مہ لئن نہ خود بخود واتن مہ ژھانڈان ژھانڈان وائس پتھ جلیہ لہذا پزہ پتھ جلیہ قرار کرن۔ کینہہ کالا گڑھت کھرو سمہ بندر توپتہ شوگ تم آتھ۔ حضرت صفوان بن معطل صحابہ صابو اُندرہ اکھ صاحبہ، تم آس

تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ  
 مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ لَوْلَا  
 إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا

قافلِس پتہ پتہ پکان۔ کیا زہ قافلِس ما آسہ کا نہہ چیزاہ اوس پیومت تم آس سو چیز تھلان۔ تم یلہ اتھ جاہ  
 وات تیتس ام المؤمنین شوگت آس تمن آو بوزنہ اکھ انساناہ شوگت، نزدیکہ یلہ وات اہندس تھس  
 پیٹھ پٹھ نظر سمو پر زہ ناو تو پتہ پور تمو بڈہ اناللہ وانا الیہ راجعون۔ یہ پرنہ سیت گیہ تم ہٹیار۔ وٹھکھ  
 صفوان بن معطل۔ سر مبارکس پیٹھ ترودھ رذای مبارک۔ یہ صفوان بن معطل زانہا تمن پر دک حکم  
 نازل سپنہ بروٹھ۔ چنانچہ تم کو پیش پن وٹھ۔ عرض کور، بھ تہ سپد و حض اتھ پیٹھ سوار۔ امہ پتہ  
 اون تمو پن وٹھ سو بہ نوو کہ ام المؤمنینس بروٹھ کنہ تمہ سپزہ تھ پیٹھ سوار پردہ کر تھ۔ وونہ سنز  
 رزٹ صفوان بن معطلن اتھس منز، تو پتہ ہیوٹھ بروٹھ بروٹھ کن یوتان قافلِس نشہ وات۔ عبد اللہ  
 بن ابی بس منافق خبیث، دشمن جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوس تمن لج یہ کتھاہ اکھ اتھس  
 منز۔ تم ہیوت وای تباہی وورن۔ بعضی سیدین سادن مسلمانن پیٹھ تہ سپد تمسدہ وورنگ اثر۔ تمو تہ  
 ہیوت امیک تذکرہ کردن مثلاً حضرت مسطح تہ حضرت حسان مرد و آندرہ، حضرت حمہ زانو آندرہ  
 حضرت ام المؤمنین رضی اللہ عنہا یہ ساری مسلمان صحابہ صابن، یہ خود بذات جناب رسول کریم  
 صلی اللہ علیہ وسلم سپد امیک سخت صدمہ۔ اکس ریتس تان زودیہ قصہ تھ پات، اکہ ریتہ پتہ سپد تم  
 آیات کریمہ ام المؤمنین سدس براءتس اندر نازل۔ اے مسلمانو لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ  
 تھنہ یہ اہز واقعہ تھہ زانو پتہ خیطرہ پٹھ تہ ناکارہ بلکہ چھویہ تھنہ خیطرہ رت تہ بہتر باعتبار انجام تھنہ  
 خیطرہ پٹھو تھ اندر کانہہ ضرر البتہ امیک چرچہ کرہ و نین چھو ضرور امیک ضرر لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا  
 اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ اکس چھوتوت گناہ یوت تم اتھ اپزس منز حصہ نیومت چھو۔ زیوہ سیت۔ یہ قصہ  
 مشہور کرن والین زیادے گناہ۔ بوزن والین دلہ سیت بدگمانی کرن والین پنے پنے مقدارہ موجب پر تھ  
 اکس امیک گناہ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ یہ تم شخصن اتھ منز بوڈ حصہ ہیوت تھنہ  
 خیطرہ چھو بوڈ عذاب سو گو منافقن ہند زبٹھ عبد اللہ بن ابی۔ تم یہ اپز خبر پھیلاوتس اندر سخت کوشش  
 کر تھنہ خیطرہ چھو سزاء نار جہنم لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا

هَذَا فَكُمُيِّنٌ ﴿۱۲﴾ لَوْلَا جَاءَ وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شَهَدَاءٍ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا  
 بِالشَّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿۱۳﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ  
 عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَسَسْتُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ  
 عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۴﴾ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنْتِكُمْ وَتَقُولُونَ يَا فَوَهِكُم مَّا  
 لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿۱۵﴾ وَ  
 لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ

هَذَا فَكُمُيِّنٌ توہمہ یلہ یہ خبر بوزاریہ با ایمان مردوۃ با ایمان زنا کو نہ نیو وہ پانہ وان پنہ کھہ رت گمان بیہ  
 کو نہ دیو و تمویہ چھو صریح تہ نون الہز لَوْلَا جَاءَ وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شَهَدَاءٍ بیہ کو نہ آی تم ہائزہ لاگہ وین  
 ژور گواہ ہتھ لیس اثبات زناء خیطرہ شرط چھو فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ لیس یلہ  
 نہ تم ژور گواہ ہتھ آی۔ لہذا جہہ کئی شریعتہ کہ قاعدہ موجب خدا لیس نسیہ اپزیر و لَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ  
 وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَسَسْتُمْ فِيهِ مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ بیہ ہر گاہ تے خدا بیہ سندن فضل تہ رحمت  
 توہمہ پیٹھ دنیاءس تہ آخر کس منز آسہا، ای حسان، ای مسطح ای حسنہ۔ توہمہ رتہ ہا ضرور اتھ کامہ منز  
 اثر نہ خیطرہ اتھ منز شمولیت کرنہ خیطرہ بوڈ عذاب إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِالسِّنْتِكُمْ وَتَقُولُونَ يَا فَوَهِكُم مَّا  
 لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ یلہ تہہ اگہ اکس و نان آسوہ پنہ نیوزیو وسیت، تی اوس تہند یو چا نیونیوان تیج  
 نہ توہمہ خبری آس وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا بیہ آسوہ تہہ زانان سہلی کتھاہ لو کوئی معاملہ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ  
 حالاکہ سو چھو خدا لیس نسیہ سیٹھاہ بوڈ چیز بیٹنہ گناہ کبیرہ۔ کیا زہ پاک زاننہ تہمت لاگن بیہ چھو گناہ کبیرہ۔  
 و ن لان لگن تہمت نبی کریمہ سزہ مخرم گرو اجنبیہ کوتاہ گناہ چھو۔ تمہ علاوہ سڈیہ سبب اذیت نبی کریم  
 صلی اللہ علیہ وسلم لہذا بیہ واریاہ چیز سڈ گناہن ہند باعث و لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ  
 بِهَذَا سببہ ساتہ توہمہ بیہ یوزوہ گوڈنی کمی ساتہ کو نہ و نیو وہ توہمہ کہ آسہ پزہ نہ یٹھ کھہ کرن سُبْحَانَكَ هَذَا  
 يُهْتَانٌ عَظِيمٌ خداوند اثرہ چھوک منزہ تہ پاک۔ یہ واقعہ چھو بالکل الہز تہ سیٹھاہ بوڈ بہتان يَعِظُكُمُ اللَّهُ

هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿۱۶﴾ يَعِظُكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۷﴾ وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۸﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۱۹﴾ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ﴿۲۰﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ط وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ

اَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ اَبَدًا اللہ تعالیٰ چھو توہم نصیحت کران بیٹھنہ دوبارہ یرھ کھھ آسوکران اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ چھوے تہہ باایمان وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ بیہ چھو اللہ تعالیٰ یرھہ ناوتھ توہم احکام بیان کران۔ بیہ چھو اللہ تعالیٰ سوڑوی بوزہ ون سینٹھہ حکمتہ وول۔ اِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ نیز پاٹ سم کوکھ تم واضح آیات نازل سپدنہ پتہ تہ خواہش چھہ تھاوان کہ بیچھ کھھ گڑھ پھیلنہ تہ شائع سپدنہ مسلمانان اندر تہندہ خیطرہ چھو دُنْيَا س اندر تہ آخرتس آندر دودہ دگ تلہ ون عذاب وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بیہ چھو اللہ تعالیٰ سوڑوی زانہ ون، تہہ چھو نہ زانان وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ بیہ نے خدایہ سُنَد فضل تہ رحمت توہم پیٹھ آہہا وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ بیہ نے اللہ تعالیٰ مہربان تہ رحمتہ وول آسہما تہہ چہ ہونہ تہندہ عذابہ لغہرِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ط وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ای باایمانومہ چکو شیطانہ سزہ و تہ قدم بقدم تس پتہ پتہ۔ کیا زہ کس شیطانہ سزہ و تہ پتہ پتہ تس پتہ پتہ قدم بقدم فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ شیطان چھو پزپاٹ پر تھہ کانسہ بیچھہ کامین تہ بے حیائی ہند امر کران سمہ سیت شخص تباہ و برباد گڑھان چھو وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا بیہ ہر گاہ نے خدایہ سُنَد

وَرَحْمَتُهُ مَا زَكِيَ مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ  
 وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۱﴾ وَلَا يَأْتِلُ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن  
 يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
 وَلِيَعْفُوا وَيَصْفَحُوا الْأَشْحَابُونَ أَن يُغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ  
 رَّحِيمٌ ﴿۲۲﴾ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغُفْلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا  
 فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۲۳﴾ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ

فضل سے رحمت تو ہمہ بیٹھ آسہ ہا تو ہمہ اندرہ سپدہ ہانہ کا نہہ اکھاہ زا نہہ تہ پاک تہ صاف گنہوشہ و لکن اللہ  
 یزکی من یشاء واللہ سمیع علیہ لیکن اللہ تعالیٰ چھو تو بک توفیق دت پاک و صاف کر ان نس یشہ تہ  
 نس۔ اللہ تعالیٰ چھو سو روی یوزہ ون سو روی زانہ ون وَلَا یأتل اولو الفضل منکم والسعة ان یؤتوا  
 اولی القربى والمسکین والمہجرین فی سبیل اللہ بیہ مہ ہا ون قسم تو ہمہ اندرہ دینی فضیلتہ وال تہ  
 دنیوی وسعتہ وال، تم کیا آسن نہ مال پنن دو ان آشنا ون تہ مسکین بیہ مہاجر ن سمو خدلیہ سنزہ وتہ اندر  
 ہجرت کر مثر آسہ امہ اندرہ چھو مر اد حضرت ابو بکر صدیق نس ترغیب دین کہ تم نس امداد پنہ نس آشنا  
 حضرت مسطح نس دو ان چھہ سو تھا ون جاری۔ امہ قصورہ موکھہ مہ کرن سو بند۔ نس کرن قصور معاف  
 ولیعفو ویصفحوا تہند گزہہ معاف کرن در گذر کرن تہند قصور الاشحابون ان یغفر اللہ لکم واللہ  
 غفور رحیم کیا تہہ چھوہ ناپسند کر ان کہ اللہ تعالیٰ کیا کرہ تہند ین گنہن مغفرت۔ تیلہ آسوتہ تہ ین  
 ہند قصور معاف کر ان۔ اللہ تعالیٰ چھو سیشاہ مغفرت کرہ ون سیشاہ رحم کرہ ون إِنَّ الَّذِینَ یَرْمُونَ  
 الْمُحْصَنَاتِ الْغُفْلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ پڑپاٹ تم لوک بدکاری ہنز ہانزہ لاگن پاک تہ  
 بے خبر با ایمان زنان تم ین لعنت کر نہ دنیا س تہ آخر نس اندر وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ بیہ چھو  
 تہندی خیطرہ یوڈ عذاب یوم تہند علیہم السنتم و انیہم و اجلہم ماکانوا یعلمون تہہ بدس عذاب نس  
 گزہن گرفتار تمہہ دوہہ سمہ دوہہ گواہی ون تم خلاف زیوہ تہنزہ بیہ اتھہ تہند بیہ کھور تہند تم سارنی

السُّنَّةُ وَأَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۳﴾ يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمُ  
 اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿۲۴﴾ الْخَبِيثَاتُ  
 لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ  
 لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿۲۵﴾  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا  
 وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۲۶﴾ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا  
 فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا

کا مین ہنزی تم لو کہ کر ان آس یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق وبعلمون ان اللہ هو الحق المبین تمی  
 دوہہ ہیر تمین اللہ تعالیٰ واجبی بدلہ۔ بیہ زان تم تمی دوہہ کہ بیشک اللہ تعالیٰ چھو پوز فیصلہ کرہ و ن پوز  
 پزراوہ و ن پرستہ تھہ ہنز حقیقت نزاوہ و ن الخبیثات الخبیثین والخبیثون للخبیثات والخبیثین  
 والطیبون للطیبات ناپاک زنانہ چھہ ناپاک مردن ہندہ خیطرہ، ناپاک مرد چھہ ناپاک زنان ہندہ خیطرہ  
 پاک زنانہ چھہ پاک مردن ہندہ خیطرہ پاک مرد چھہ پاک زنان ہندہ خیطرہ اولیک مبررون  
 مئیقولون تم پاک مردتہ پاک زنانہ چھہ بالکل بری تموتھوتہ ہنز و نشہ سیمہ تھہ لوک و ن ان کم  
 مغفرۃ و رزق کریم تہندہ خیطرہ چھو یوذ مغفرت بیہ عزتک رزق۔ یا ایہا الذین امنوا لاتدخولوا بیوتنا  
 غیر بیوتکم حتی تستأذنوا و تسلیموا علی اہلہا اکی با ایمانومہ آسوا ازان منکر گرس منز پنہ نیوگر دورای  
 یوتان نہ گوڈہ اجازت آسویوان بیہ یوتان نہ سلام آسویوان گروالین پیٹہ ذلکم خیرکم لعلکم  
 تذکرون بیہ چھو تہندہ حقہ سیٹھاہ رت تھہ تہہ ژیتس تھاووہ و ان لکم تجدوا فیہا احدًا فلا تدخلوها ہر گاہ  
 ئے تہہ گرن اندر کاہنہ شخصاہ لیون توتہ مہ آسوتہہ تمین گرن منز ازان حتی یؤذن لکم یوتان نہ  
 توبہ اجازت آسہ یوان دنہ وان قیل لکم ارجعوا فارجعوا ہواذلی لکم بیہ ہر گاہ توبہ دنہ آسہ یوان

فَارْجِعُوا إِلَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۲۸﴾ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ  
 أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ  
 وَمَا تَكْتُمُونَ ﴿۲۹﴾ قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا  
 فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿۳۰﴾ وَقُلْ  
 لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ  
 زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا

و نکس چھونہ موقعہ ملا قائم واپس گدھو تیلہ گڑھے واپس گدھن تی چھو تہندہ خیرہ زیادہ صفائی ہند  
 باعث وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو تہ سو روی زنانہ یہ تہہ کران چھوہ۔ اگر خلاف حکم کاہنہ  
 کاہہ کرو تہہ پیٹھ کھیو سزا لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ توہہ چھونہ  
 کاہنہ گناہ ہر گاہ چہ اُڑو تہن گرن اندر تہن منز نہ لو کہ عیال ہتہ بسان آسن تہن منز آسہ تہند کاہنہ  
 سامانہ۔ سو گو مسجد، مدرسہ، سرای، ہوٹل ہیو اتھین مکان اندر بلا اجازت اٹنس چھونہ کاہنہ خرچ  
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ اللہ تعالیٰ چھو زنانہ سو روی یہ تہہ نر او ان چھوہ ہیہ نہ کھٹتہ تھاوان  
 چھوہ پرستہ حاکس منز گڑھے کھوژن خداپس قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ  
 ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ فرماو تہہ یارسول اللہ با ایمان مردن تم وٹن آچھہ پنہ، ووہر زنان گن نظر دنہ نشہ ہیہ  
 کرن راچھہ سترہ چن جاہن پنہ نین ووہر زنان غیر منکوحن سیت یا لو کٹن سیت بدکاری کرنہ نشہ۔ تی  
 چھو زیادہ مفید تہندہ خیرہ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ پزپاٹ اللہ تعالیٰ اس چھہ خبر تمہہ ساریجی یہ تم  
 کران چھہ۔ سو دیوہ یڑھن یکھ کاین پیٹھ سزا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ  
 ہیہ فرماو با ایمان زنانہ کہ تمہہ تہ وٹن آچھہ پنہ ووہر مردن گن نظر دنہ نشہ ہیہ گرن راچھہ پنہ نین سترہ  
 چن جاہن بدکاری نشہ۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ہیہ مہ نر او ان تمہہ پنہ زینتہ چہ جاہہ مگرے گئے  
 جاہہ سمو آندرہ نیر گن آسن، چھوری آسہ تمہہ جاہہ نر او نہ سو گو تھہ آتھہ زہ ۲ تہ کھورہ ۱ وَلْيَضْرِبْنَ



يُؤْتِي زَيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ  
 أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ  
 بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَمْلُوكَاتٍ إِمَائِهِنَّ أَوِ السَّبْعِينَ غَيْرِ  
 أُولِي الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَهُمْ يَطْهَرُونَ وَعَلَى  
 عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ  
 زَيْنَتِهِنَّ وَتَوْبُوْا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۳۱﴾

مُخْبَرُهُنَّ عَلَى جُبُوْبِهِنَّ بیه کر ن تمہ کلہ تہ سینہ پو شیدہ تھاؤج سیٹھاہ کوشش۔ تھہ سلسلس منز پھو لازم  
 تمن کہ پوژتہ سر ژاور تراون تمہ پنہ نمن نالن تہ گریمان پیٹھ یمہ سیت ہئس تہ سینس آسہ ستر سپدان  
 وَلَا يُؤْتِيْنَ زَيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ بیه مہ نراون گنچہ جلیہ پنہ مگر پنہ نین خاندان نشہ اَوَابَاتِهِنَّ یا پنہ  
 نین مالین نشہ اَوَابَا بُعُولَتِهِنَّ یا خاندان ہندین مالین نشہ یعنی بہرن نشہ اَوَابَاتِهِنَّ یا پنہ نین  
 پٹوین نشہ اَوَابَاتُ بُعُولَتِهِنَّ یا خاندان ہندین پٹوین یعنی وورہ پٹوین نشہ اَوَابَاتِهِنَّ یا پنہ نین باین نشہ  
 اَوْبَنِيْ اِخْوَانِهِنَّ یا بابہ تھرن نشہ اَوْبَنِيْ اَخَوَاتِهِنَّ یا بہن تھرن نشہ اَوْنِسَائِهِنَّ یا پنہ نین  
 زنانہ یعنی سہہ مسلمان زنانہ یوان گڑھان آسن بشر طیکہ بد چلن آسن نہ۔ کافر تہ غیر مسلم زنانہ گیہ  
 دو پڑ مردس برابر۔ تمن نشہ تہ گڑھہ ستر کر ن تھہ پاٹ وور مردس نشہ ستر کر نہ یوان پھو اَوَامَا مَمْلُوكَاتٍ  
 اِمَائِهِنَّ یا پنہ نین کینرن نشہ اَوِ السَّبْعِيْنَ غَيْرِ اُولِيْ اَلْاَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ تمن خدمت گزارن نشہ تمن  
 نہ حاجت آسہ زنانہ ہند، مرد دو آندرہ، تمن آسن نہ حواس بجاتی آسکھ نہ زنانہ گن رغبت تہ توجہ  
 اَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَهُمْ يَطْهَرُونَ وَعَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ یا تمن لو کٹن نشہ سم نہ وندہ واقف آسن سپد مت زنانہ  
 ہندین پو شیدہ معاملاتن پیٹھ، یعنی نابالغ لوکٹ یمن سارنی نشہ پھو جائز تھہ تہ اتھہ کھور نراون  
 خاوندس نش گڑھہ نہ بدنگ کاہنہ حصہ پو شیدہ تھاؤن اگرچہ خاص جای وچھن پھہ خلاف ادب وکلا  
 يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنَ زَيْنَتِهِنَّ بیه گڑھہ زنانہ ہند پر دک بھت خیال تھاؤن کہ پکان

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۗ إِنَّ  
 يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿۳۶﴾  
 وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْجِبَهُمُ اللَّهُ مِنْ  
 فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ  
 إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا  
 تُكْرَهُوَافَتَيْتُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ

پکان گڑھن نہ کھور زورہ تراون بٹھ تمہ ز یوریچ آوازو پر مردن ہندین کن گڑھہ ئس ز یور تمہ پو شیدہ  
 تھاوان چھ یعنی پانزیب وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا يَا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ بیہ کرو توبہ جتہ ساری اللہ  
 تعالیٰ اس گن ای با ایمانو تو ہے کینہہ کوتاہی آسہ گموا حکامن اندر بٹھ جتہ کامیاب سپد وور نہ مہصیت چھ  
 مانع کامیابی سپدان وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ بیہ کرو نیٹھر تین تم توبہ اندرہ نیٹھرہ ورا ی تہ بے نکاح آس۔  
 ادہ تم مرد آستن یازنانہ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ بیہ تم نکاح کرئس قابل آسن تہند یو غلامو  
 اندرہ بیہ کیز و اندرہ۔ بیہ گڑھہ یاد تھاون کہ پنہ ئس عزیز یا پنہ ئس عزیزہ سندس خاوندہ سند فقیر آسن  
 گڑھہ نہ مانع سپدن تمن ہندہ نکاحہ نشہ کیا زہہ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْجِبُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ہر گہے تم فقیر تہ  
 محتاج آسن اللہ تعالیٰ کرہ تمن پنہ فضلہ سیت مالدار نکاح کر نہ پتہ یلہ تمن اندر روزی کماوچ قابلیت  
 آسہ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو وسعتہ وول۔ سوئس یڑھہ ئس کرہ رزئس اندر وسعت۔ سو چھو  
 سو زوی زانہون ساری ہند حال چھو ئس معلوم وَلَيْسَتَّعْفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْجِبَهُمُ اللَّهُ  
 مِنْ فَضْلِهِ بیہ روزن پاکدامن تم لو کہ تم نہ نیٹھر ہیگان چھہ تنگدستی ہندہ سببہ یو تان اللہ تعالیٰ مالدار  
 کرہ تمن پنہ فضلہ سبتِ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا بیہ  
 تم خواہشند آسن مالس بدل آزاد سپد نک، تہند یو غلامو یا کیز و اندرہ تم بنا لو کہ مکاتب ہر گاہ توبہ تمن  
 منزعمہ خوبی و بہتری ہند آثار و علامت لبندین وَأَتَوْهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ بیہ آسو تمن امداد

الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ فَأَنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳۳﴾ وَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴿۳۴﴾ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ

کران، خدایه سنده تممه مال منزه کینهه دوان نیس مال توبه تمی عطا کورمت هُهو ولا تُکْرَهُوا قَاتِلَتُمْ عَلَى الْبَغَاءِ  
 إِنَّ آدَانَ تَخْضَعُونَ لِتَبَتُّغُوا عَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بیه مه کریوکه مجبور پنه کنیزه بدکاری پیٹھ ہر گاہ تمہہ یزھن  
 تمہہ نشہ پکن تہ پاک و پاکیزہ روزن کیاہ تہہ ہجوہ یہ پیٹھ کام کرہ ناوت ژھانڈان دنیاہ چہ ناپائیدار زندگی  
 ہند سامانہ وَمَنْ يُكْرِهْهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِمْ غَفُورٌ رَحِيمٌ بیه نیس تمن یہ پیٹھ کوم کرہ نس  
 پیٹھ مجبور کرہ، اللہ تعالیٰ کرہ تمن مجبور کر نہ پتہ مغفرت تہ رحم۔ مجبور کرہ و نس کرہ سخت عذابس گرفتار  
 وَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبِينَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ پز پات بیه  
 کمر اسہ نازل تہندہ ہدایتہ خیطرہ ہتھہ سورہ شریفس منز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندہ ذریعہ توبہ  
 کن ای مسلمانون آیات تہ احکام، بیه کینهہ مثالہ، مختصر حالات تمن لوکن ہند سم توبہ ہر ونٹھ گذر سمیت  
 چھہ۔ بیه بدلیصحت کھوژہ ونین تہ پر ہیز گارن ہندہ خیطرہ اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ اللہ تعالیٰ ای  
 ہُهو نور ہدایت عطا کرہ ون تمن سم آسمان منز روزہ ون چھہ بیه یم زمینس منز روزون چھہ۔ یعنی  
 آسمان وزمینس منز یمن ہدایت سپد تمن ساری کور ہدایت اللہ تعالیٰ نی۔ آسمان وزمینس منز ہُهو مراد  
 سو روی عالم۔ بس سم مخلوقات آسمان وزمینہ نشہ نبر چہ مثلاً حاملان عرش وغیرہ تم ساری سپد اتھ منز  
 شامل۔ مِثْلُ نُورِهِ كَمِشْكُوتٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ تہندہ نور ہدایت عجیب حالت چھہ تڑھی کہ تہہ زانوٹھہ طاقتہ  
 ہناہ تھہ پیٹھ ہُهو اکھ ژونگاہ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ سُوی ژونگ چُهو اتھہ طاقتس پیٹھ اکس شیشوسی  
 قند نیس منز الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ یہ شیشو قندیل ہُهو ٹیتھہ صاف زان سوتارہ چُهو زوتان

مُبْرَكَةٌ زَيْتُونَةٌ لِأَشْرَقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يُكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ  
 لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نَوْراً عَلَى نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ  
 يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۲۷﴾ فِي بَيِّنَاتٍ آذَنَ  
 اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ﴿۲۸﴾

يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لِأَشْرَقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ جھوزونگ جھوزالندیوان لہ مفیدتہ بابرکت  
 کلہ کہ تیلہ سیت سو کل گودرخت زیتون بس نہ مشرقس کن جھوزہ مغربس کن بلکہ جھوزتھہ جلیہ بیتہ  
 نس تھہ پٹھہ دوی دوہس تاپ جھوزاتان۔ تھہ درخت زیتونک تیل جھوز آسان زیادہ لطیف تہ صاف  
 یُكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ تمیک تیل جھوزواتان تہ نہ نہ کران اگرچہ تھہ متہ ایتن نارہ  
 سیت تھہ دنہ۔ ادہ یلہ تھہ نارہ سیت تھہ تہ ایہ دنہ تیلہ سپدہ تمیک گاش دوگن سو سپدہ نُورٌ عَلَى نُورٍ  
 اکس نورس پٹھہ بیاکھ نور۔ اکھ اوس یہ تیل بذات خود روشن بہ یلہ نارہ سیت آس تھہ دنہ انج روشنی  
 گنیہ تیز مثال گنیہ ختم۔ تھہ پٹھہ یلہ اللہ تعالیٰ جھوز بایمانہ سندس دس اندر ہدایتک نورواتاوان تھہ  
 دوہہ خوتہ دوہہ قبول حقہ خیطرہ دل موزرنہ یوان۔ پرتھہ وقتہ جھوز احکام الہی بجاننہ خیطرہ تیاروزان۔  
 نور علم حاصل سپدنہ پتہ جھوز اوس نور عمل تہ حاصل سپدان۔ تھہ زہ نوریلہ جمع سپداتھہ پٹھہ آو صادق نور  
 علی نور یَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَنْ يَشَاءُ اللہ تعالیٰ جھوز پتہ نس نور ہدایتس کن و تھہ ہاوان بس بیژشان جھوز  
 نس۔ یہ جھہ بڈمنت ہدایت لبہ و نین پٹھہ اللہ تعالیٰ سندہ طرفہ۔ تھندی توفیقہ سیت جیو تمن ہدایت  
 وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ جتھہ پٹھہ ہدایتیہ مثال اللہ تعالیٰ ان بیان فرماتھہ پٹھہ جھوز اللہ تعالیٰ لوکن  
 ہندہ ہدایتہ خیطرہ مثالہ بیان کران تھہ لوکن پورہ فکر ترہ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ جھوز پرتھہ چیزہ  
 پورزانہ ون۔ فِي بَيِّنَاتٍ آذَنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ تمن اللہ تعالیٰ ہدایتک نور عطا کران جتھہ تم  
 چھہ جہز عبادت کران۔ تمن گرن اندر تمن گرن ہند بلند کرنک اندر جھندہ نام پٹھہ یاد کرنک اللہ تعالیٰ  
 ان فر موومت جھوز، تم گرہ گئے مسجدہ۔ تمن گرن ہند پزہ سیٹھہ تعظیم واحترام کرن۔ توت گڑھہ نہ اثرن

رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَ  
 آيَتَاءِ الزَّكَاةِ يَتَخَفُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿۳۷﴾  
 لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ  
 مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۸﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ

بے غسلن تہ حیضہ واجہ نین زمان ہند۔ توت گڑھ نہ واتاؤن کا نہ ناپاک چیز۔ تہ گڑھ نہ لائن تہ  
 قسمگ شور تہ کریکہ ناد۔ تہ گڑھن نہ کرنہ ذہوی تھہ **يَسْبِغُ لَهُ فِيهَا الْغَدُ وَالْأَصْل** بپاکی چھہ پانژن  
 وقن یاد کران تمن گرن اندر نماز پر نہ سیت، صمسن تہ شامس صمسن گہ صم نماز آصالس اندر آی باقی  
 ژور وقت۔ پیش، دگر، شام تہ مخن کیا زہ اصل تہ آصال چھہ ونان دو پہرہ کہ آفتاب ڈلنہ پتہ ساری  
 رانس تان **رِجَالٌ لَا تُلْهِهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَآيَتَاءِ الزَّكَاةِ** تہ مرد تمن نہ آور  
 چھو کران خدا یہ سندہ یادہ نشہ، نماز قائم تھاونہ نشہ، زکوٰۃ ادا کرنہ نشہ، کا نہ کاروبارہ نہ کا نہہ تجار تاہ۔  
 امہ آندرہ چھو معلوم سپدان کہ مردان ہنز گڑھہ مسجدن اندر نماز پر ن۔ زنانن ہنز گڑھہ نماز پر ن گرنی  
 اندر۔ حدیث شریفس اندر چھو آمت زنانن ہنزہ گری نماز پر نس واریاہ فضیلت تہندہ خیطرہ چھہ گرے  
 مسجدہ **يَتَخَفُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ** تم لوک چھہ کھوژان تہمہ ڈہہ کس رٹ نس تہ  
 گند نس سیمہ دوہہ تلک پیٹھ سپدہ بعضی لوکن ہندین دلن تہ اچھن دہشت و خوف سیت۔ **لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ**  
**أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ** انجام تمن لوکن ہند آسہ کہ اللہ تعالیٰ دیہ تمن رت بدلہ تہزن  
 رژن عملن ہند۔ سیمہ عملہ تمو کر مژہ آسن۔ بیہ ہرہ راوکیہ مژو پینہ فضلہ سیت **وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ**  
**بِعَيْرِ حِسَابٍ** اللہ تعالیٰ چھو عطا کران نیس یژھان چھو کس حسابہ روستوی۔ یوتان آو بیان کرنہ  
 ہدایتک تہ اہل ہدایتن ہند حال۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان اہل ضلالتن ہند حال تہ مثال۔ اہل ضلالت  
 یعنی کافر ن چھہ زہ قسم اکھ گے تم تمن قیامتچہ پڑھ چھہ۔ تمن چھو جزاء و سزاء ک تہ خیال یہ مثال چھہ  
 تہزی **وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَانُ مَاءً** بیہ تم کافر چھہ تہزن عملن ہنز

بِقِيَعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّانُّ مَاءً حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَ  
 وَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَةً وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۳۹﴾  
 كَظَلَمْتِ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ  
 سَحَابٌ طُلُمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ  
 يَرَهَا وَمَنْ لَّمْ يُجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ﴿۴۰﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ  
 اللَّهُ يَسْخَرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَّتْ كُلُّ قَدِّ

مثال چھ تمہہ سیکھ ہنز مثال یوسہ اگس میدانس منز آسہ بس تاپہ سمیت زوتان چھو آسان، تریشہ ہوت چھو دورہ وچھت تھہ سیکھ آب خیال کران توپتہ چھو تھہ گن دوران حقیٰ إذا جاءہ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا تا اینکه یلہ سوتھہ خیالی آس پیٹھ واتان چھو، سو چھونہ آس لبان کنہی آس چھو جسمانی و روحانی صدمہ واتان تہہ چھو ات تھی تریشہ تریشہ کران مران وَ وَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ بلکہ چھو یہ لبان خدایہ سندس کھمس تھہ جلیہ یعنی مر بس کھمس۔ فَوْقَهُ حِسَابَةً وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ بس چھو اللہ تعالیٰ اسنڈہ عمرہ ہند حساب پورہ کران یعنی یہ چھو ختم سپدان اللہ تعالیٰ چھو جلد حساب موکلاوہون اَوْ كَظَلَمْتِ فِي بَحْرٍ لُّجِّيٍّ يَغْشَاهُ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ سَحَابٌ طُلُمْتُ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ دوسمہ قسمہ کین کافر ان ہنز مثال چھہ تمن انہ گن ہنز سمہ سنن سمندر ان منز آس۔ یکن پیٹھ ولنہ پیہ اکھ موج تھہ پیٹھ آسہ بیاکھ موج تمہہ پیٹھکن آسہ ابرتہ۔ امی آسں جمع گمہ واریاہ انہ گمہ اکھ اگس پیٹھ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ يَرَهَا ہر گاہ اتھہ حاکس منز شخص تمن انہ گن منز سمندرہ کس ژ کس تل ہن اتھہ نیر کڈہ سؤی بیہ و چھن سؤ بیکنہ تھہ پنہ نس اگس تہہ وچھت تہہ آسہ انہ گمہ وَمَنْ لَّمْ يُجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ بیہ سمس نہ اللہ تعالیٰ ہن نور ہدایت عطا کرہ آس بیکنہ نہ بنت کینہہ تہ نور تہ روشنی أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْخَرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرِ صَفَّتْ کیاہ ژہ وچھت نا، ژہ سپدی نامعلوم ای انسانہ کہ بیشک اللہ تعالیٰ آس چھہ پیاکی یاد کران تم ساری مخلوق تم آسانن تہ زمین منز چھہ بیہ وڈہون جانور تم پنہ چھہ مہراوتھہ

عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿۳۱﴾ وَيَلَهُ مَلِكُ  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالِىَّ اللَّهُ الْمَصِيرُ ﴿۳۲﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ سَحَابًا ثُمَّ  
 يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنزِلُ  
 مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَ  
 يَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ يَكَادُ سَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ﴿۳۳﴾

چھہ ڈوان تہ پھیران۔ یہ چھہ وجود صائس پیٹھ عجائب دیلاہ۔ کیا زہ تمن جانورن ہندین جسمن ہندہ  
 ثقلہ کہ باوجود چھہ تم ہواؤس پیٹھ معلق روزت اورہ یور پھیران کُلُّ قَدِّ عِلْمِ صَلَاتِهِ وَتَسْبِيحِهِ پر چھہ  
 اکس تمو جانور و آندرہ چھہ ہن نماز تہ دُعا۔ ہن ہن تسبیح تہ وظیفہ، الہام خدائی سیت معلوم۔ باوجود آں  
 چھہ کینہہ لوک خدایہ سندس توحیدس انکار کران وَاللَّهُ عَلَيْهِمْ بِمَا يَفْعَلُونَ اللہ تعالیٰ چھو پورہ زانان تم  
 ساری چیز تم تم کران چھہ۔ سو دیہ تمن تھہ انکار واعتراضس پیٹھ پورسزا وَيَلَهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ  
 وَالْأَرْضِ وَالِىَّ اللَّهُ الْمَصِيرُ اللہ تعالیٰ سزى چھہ پادشہت تہ حکومت آسمان تہ زمین منز۔ از تہ یہ  
 برو تھہ تہ سارنی چھو پتولا کہ واٹن تس نشہ۔ سو دیہ سارنی پنہ نین کائین ہنز مزورِ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ  
 سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ کیاہ ژہ چھہ ناخبر کہ بیشک اللہ تعالیٰ چھو پکہ  
 ناوان ابرس توپتہ چھو ملناوان تھہ اکھ اکس سیت۔ وارہنن ژر ٹین چھو کئی کران توپتہ چھو تھہ اکھ  
 اکس پیٹھ تھوان۔ اتی چھو کہ ڈو چھان رُودنیران تمہ آندرہ وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ یہ  
 چھو اللہ تعالیٰ والان ابرہ منزہ تمہہ کیو تمو بڈیو حصو منزہ یم کوہ ہی چھہ ڈوٹھہ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ  
 وَيَصْرِفُهُ عَنِ مَنْ يَشَاءُ توپتہ چھو سو ڈوٹھہ تراوان کانسہ ہندس رُوس پیٹھ یازر اٹس پیٹھ یا باغس پیٹھ  
 کس سو یشہان چھو۔ کانسہ چھو پچر اوان تمہہ ڈوٹھہ نشہ۔ کس شخصہ سُنْدُؤ، زراعت تہ باغ چھو محفوظ  
 روزان۔ اتہ ہند سو یشہان چھو یکاڈ سَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ تمہہ ابرہ منزہ چھہ نیران ترہی ڈو زماہ  
 کہ قریب چھو سپدان تمن وز ملکن ہند گاش مانیہ اچھن ہندس گاش۔ کیاہ قدر تہ دولاہ چھو آہہ منزہ چھو

يَقْلِبُ اللَّهُ الْبَيْلَ وَالنَّهَارَاتِ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿۳۳﴾  
 وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ فَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِنْهُمْ  
 مَّن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ وَمِنْهُمْ مَّن يَمْشِي عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا  
 يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۴﴾ لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَ  
 اللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿۳۵﴾ وَيَقُولُونَ آمَنَّا  
 بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ  
 ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۶﴾ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

ناره و زمه کدان۔ يَقْلِبُ اللَّهُ الْبَيْلَ وَالنَّهَارَاتِ ای چھو پھر ان سے بدلوان دوہس سے راتس لان فی  
 ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ بیشک اتھر راتے کس یس گزھس اندر چھ عبرت سے قدر سے چہ بچہ دلیلہ عقلہ  
 والین ہندہ خیرہ واللہ خلق کل دابۃ من ماء بیہ چھو اللہ تعالیٰ ان پیدہ کورمت پر تھ حرکت کرہ وناہ  
 آہ نشہ فینہم من یشی علی بطنہ تمواندرہ چھ بعضی تم پکان چھ پنے یدسیت و منہم من یشی  
 علی رجلین بیہ چھ تمواندرہ بعضی تم پکان چھ دوہ کوروسیت و منہم من یشی علی اربع بیہ چھ  
 تمواندرہ بعضی تم پکان چھ ژور کوروسیت یخلق اللہ ما یشاء اللہ تعالیٰ چھو پیدہ کران یہ یرھان چھو  
 ان اللہ علی کل شیء قدير پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو پر تھ چیزہ پیدہ کرس پیٹھ قدر سے دول لَقَدْ أَنْزَلْنَا  
 آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ پزپاٹ اسہ کر نازل تم آیات تم سوروی  
 نر اوہ و ان چھ مگر اللہ تعالیٰ یعنی یرھان چھو تمنی چھو و تھ ہوان راہ راستس کن وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ  
 وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا بیہ چھ ونا منانن لو کہ اسہ کر پڑھ خدا یس بیہ پیغمبر خدا یس۔ بیہ مون اسہ تھند حکم  
 ولہ سیت ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مِّن بَعْدِ ذَلِكَ مگر تو پتہ چھ تمواندرہ اکھ جماعتھا تھ پھر ان  
 روگردانی کران خدا ورسولہ سدس خمس وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ چھنہ تم لو کہ بالیمان وَإِذَا دُعُوا إِلَىٰ



لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِقُوا مِنْهُمْ مِعْرَضُونَ ﴿۳۸﴾ وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿۳۹﴾ أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْيِفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ أَيْلًا أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۴۰﴾ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۴۱﴾ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۴۲﴾ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلُوبًا

اللَّهُ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِقُوا مِنْهُمْ مِعْرَضُونَ یہ بیلہ تمین ناد چھو یوان دنہ خدائس تہ تہندس پیغمبرس کن بیٹھ تم فیصلہ کرن تمین منز۔ اتی چھ اکھ جماعتھاہ تمو آندرہ تھ پھر ان تہندہ حکمہ نشہ وان یکن لہم الحق یأتوا الیہ مذعنین توپتہ ہر گاہ فیصلہ تہندہ حقہ آسہا تیلہ یمن نبی کریم صلی اللہ علی و سلم نشہ کارنومراوت ائی قلوبہم مرض امارت ابوا یمن ماچھ وکن منز کا نہہ بیماریاہ۔ کنہ سم چھہ شھہ کران امر یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ کنہ کھوژان چھہ کہ خدا تہ تہند پیغمبر ما کرہ بے انصافی۔ تم کیا زہ کرہ ہن بے انصافی بل اولیک ہم الظالمون بلکہ چھہ تے متافقے، سخت ظالم تہ بے انصاف إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا باایمان ہند قول چھونہ سمہ ساتہ تمین خدائس تہ تہندس پیغمبرس کن تمین منز فیصلہ کرنہ خلیپہ ناد چھو یوان دنہ مگر ای زہ تم چھہ وان بخوشی بوزاسہ حکم تہوند مون اسہ فیصلہ تہند اولیک ہم الْمُفْلِحُونَ تے چھہ کامیاب تہ رستگار سپدہ ون۔ اسہ نشہ چھو قاعدہ کلیہ کہ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ یہ ئس حکم مانہ خدایہ سندیہ تہندس پیغمبر سندیہ کھوژہ خدائس یہی چھہ تہندہ مخالفت نشہ، ئس تے لوک چھہ مطلبس تہ مرادس واتہ ون وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ یہ

تَقْسِمُوا طَاعَةَ مَعْرُوفَةً ۖ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۵۳﴾  
 قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ  
 مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ۚ وَإِنْ تُطِيعُوا تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى  
 الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۵۴﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَ  
 عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ  
 مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَلَيُبَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ

بہتہ منافق زور دار قسم ہاوت خدلیہ سند، دانان کہ ہر گاہ تہہ اسہ حکم کرو گرہ بارہ منزہ نیر ٹک، ضرور  
 گزواس تہہ خمس تعمیل گرہ بار تراو تہہ نیر و قُلْ لَا تَقْسِمُوا تہہ فرما یو کہ ای منافقو قسم مہ ہاود  
 طاعۃ مَعْرُوفَةً اسہ چہہ تہزہ فرمانبرداری ہنز حقیقت معلومی إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ  
 پز پات اللہ تعالیٰ چھو پور زنانہ سوروی یہ تہہ کران چھوہ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا  
 فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ تہہ فرما یو کہ یار رسول اللہ تھو سیت وسہ نہ ٹکھ کینہہ تہہ۔  
 فرمانبرداری کرو خدلیہ سز یہہ کرو فرمانبرداری پیغمبر خدلیہ سز۔ پس ہر گاہ تم مو منافقو رو گردانی کر، پس  
 چھونہ پیغمبرس تمیک کا نہہ ضرر، کیا زہ تم چھو منہ تبلیغ کزن سمیک ہار تم چٹھ کھار نہ آمت چھو۔  
 تو بہہ چھو منہ تعمیل احکام تہ طاعت کزن سمیک ہار تو بہہ چٹھ کھار نہ آمت چھو وَإِنْ تُطِيعُوا تَهْتَدُوا  
 ون اگر چہہ پس پیغمبر برحقہ سز فرمانبرداری کرو۔ تیلہ لہو تہہ ہدایت وت۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغَةُ  
 الْمُبِينُ یہہ چھونہ پیغمبرس چٹھ منہ مگر خدلیہ سند حکم صاف صاف تہ تراوت لوکن واتہ ناون وَعَدَّ اللَّهُ  
 الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ای ساروی  
 اُتیبو، تو بہہ آندرہ سم ایمان اُن تہ رثہ کامہ گرن، ہدایت پور پیروی گرن، تم چھو اللہ تعالیٰ وعدہ فرماوان  
 کہ امہ اتباعکہ برکتہ کرہ سو تم ز مینس اندر حکومت تہ سلطنت عطا۔ تہہ پاٹھ تم برونٹھ اہل ہدایت  
 لوکن عطا کر مش آسن وَلَيُبَكِّنَ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ یہہ حکومت و سلطنت دنہ آندرہ چھو مقصود

مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يُعْبُدُونَ وَنَبِيٍّ لَّا يُشْرِكُونَ بِشَيْءٍ وَمَنْ  
 كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۵۵﴾ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ  
 آتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۵۶﴾ لَا تَحْسَبَنَّ  
 الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا أُولَٰئِكَ النَّارُ وَلَيْسَ  
 الْمَصِيرُ ﴿۵۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِّنْ

کہ نُس دین اللہ تعالیٰ ان تہندہ خیرہ ہند کورتھ دیہ قوت تہندہ آخر صحیحہ نفعہ خیرہ تہندہ پیٹھ کاہل  
 رحم کرنہ بیہ۔ وَلَيَبْذُرُهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا بیہ بدلاوہ ضرور تہندہ خوف تہ بدامنی امن وامنس  
 سیت۔ یُعْبُدُونَ وَنَبِيٍّ لَّا يُشْرِكُونَ بِشَيْءٍ بشر طیکہ ایمانہ سان کرن میان عبادت شریک ٹھہر او نم نہ  
 کاہنہ چیزاہ کثرہ چیزس اندر۔ یعنی نہ کرن شرک جلی نہ کرن شرک خفی یعنی ریاء وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ  
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وون نُس اکھاہ سمو وعدوتہ احسانا تو پتہ تہ ٹھہر ان نعمت گرہ تے لوک جھہ فاسق  
 تہ نافرمان۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ای مسلمانو تہندہ بیہ معلوم سپد  
 ایمان و عمل صالحک کیاہ نتیجہ جھو، لہذا لہزہ تہندہ پابندی سان نماز پرن، ماج زکوٰۃ ادا کرن بیہ باقی احکامن  
 اندر تہ حکم مانن پیغمبر برحقہ سُنڈ تہندہ پیٹھ کاہل رحم بیہ کرنہ لَّا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي  
 الْأَرْضِ وَمَا أُولَٰئِكَ النَّارُ وَلَيْسَ الْمَصِيرُ ای مخاطب تہہ مہ گر خیال کہہ کافر کیاہیکن اسہ عاجز کریتھ تہ  
 ہارہ ناوت ز مینس منزگنہ طرفس کن ثلث تہ سانہ قہرہ نشہہ کیاہیکن تم بچت، بلکہ ہارن تے۔ بیہ سپدان  
 تم مغلوب تہ مقہور آخر تہس اندر چھہ تہمز جای نار جنم۔ سوچھہ سیٹھاہ تھجہ جای یوت تم واتن۔  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ای  
 باایمانو تہندہ نشہہ بیہ خیرہ آسن اجازت ہیوان تہندہ نوکر تہ غلام بیہ سم نہ بالغ آسن ونہ سپدمت تہندہ یو  
 لوکیواندرہ ترین وقتن مِّنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ

قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ  
 وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَ  
 لَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ طُفُوفُونَ عَلَيْكُمْ بِعِضُكُمْ عَلَى  
 بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵۸﴾  
 وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا  
 اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ  
 آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵۹﴾ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي

الْعِشَاءِ اَكْ صُحْ نمازہ بروٹھ، بیہ دُپہرس یلہ گرمہ سببہ پلو آسوکدان بیہ فتنن نمازہ پتہ ثَلَاثُ  
 عَوْرَاتٍ لَكُمْ تم چھ ترہ وقت تہندہ پردہ کرنک وقت تمن وقتن چھوہ تہہ آرام واستراحت کران۔ تمن  
 وقتن چھوہ تہہ بے تکلفی ہندس حالتس منز روزان لہذا آدھن بنن غلام تہ نابالغ لوکت وارہ بوزہ نان کہ اطلاع  
 دنہ وراۓ تہ اجازت ہینہ وراۓ گڑھن تہند آسہ نشہ اذن۔ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ تم  
 تریو وقتوپتہ چھونہ نہ توہہ کانہہ حرن نہ چھو تمن کانہہ حرن بلا اجازت توہہ نشہ پیش اندر طُفُوفُونَ  
 عَلَيْكُمْ بِعِضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ تم چھہ گرہ گرہ توہہ نش اوہ ون گڑھہ ون۔ توہہ اندرہ تہ چھہ اڈاؤین  
 نشہ اوہ ون گڑھہ ون كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ تہہ پاتھ چھو اللہ تعالیٰ ویشہ  
 ناوتھہ توہہ بیان کران احکام۔ کیازہ اللہ تعالیٰ چھو بدن ہنزہ سارے کامہ زانہ ون، سیٹھاہ حکمتہ وول  
 وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ بیہ یلہ  
 تہند لوکت بالغ آسن سپدان کس آسن تم تہ زمانن نشہ اذنہ خیطرہ اجازت حاصل کران تہہ پات تمن ہند  
 زٹھ بالغ مرد اجازت ہیوان چھہ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ تہہ پات چھو اللہ

لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ  
 شَيْأَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ  
 خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٥١ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى  
 حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ  
 وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ  
 بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ  
 أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ

تعالی و بڑھ ناوت ہن آیت بیان کران توہم ای مسلمانو! اللہ تعالیٰ چھو سو زوی زانہ ون سیٹھاہ حمہ  
 دل۔ وَالْعَوَامِدِ مِنَ النِّسَاءِ الْبَقِيَّةِ لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ شَيْأَهُنَّ  
 غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ بے بچہ زنہ یکن نہ یتھرج نہ پر سچ بر انتھاہ کینہہ آسہ۔ تم چھونہ کا نہہ حرج ہر گاہ  
 تمہ ستر ک پلو مثلاً برقعہ وغیرہ تلت پکان آسن مگر شرط چھو کہ نر اوہ ونہ آسن نہ تمہ ہن کا نہہ گہنہ وَأَنْ  
 يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بے ہر گاہ تمہ نشہ نہ ہتھی روزن، تی چھو تہندہ خپڑہ زیادہ  
 بہتر۔ اللہ تعالیٰ چھو سو زوی بوزہ ون، سو زوی زانہ ون لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ  
 حَرْجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرْجٌ چھونہ انس کا نہہ حرج بے نہ لگس کا نہہ حرج، بے نہ ہیلاس کا نہہ حرج کہ  
 تم کیاہ کھن غذا گاشدارن سیت، ارین انسان سیت، تدرستن سیت وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا  
 مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ بے چھونہ توہم پانس تہ کا نہہ حرج ہر گاہ تہہ کھیو ہننیو گرو منزیانہ نن  
 مال ہندن گرن منز أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ  
 أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ صَدِيقِكُمْ

أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَلْتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتُمْ  
 مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ  
 تَأْكُلُوا جَمِيعًا وَأَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا  
 فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ  
 طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿٦١﴾  
 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا  
 مَعَهُ عَلَى أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّى يَسْتَأْذِنُوهُ إِنَّ

یا پنه نین ما جن ہند یو گرو منز، یا پنه نین باین ہند یو گرو منز، یا پنه نین ہنن ہند یو گرو منز، یا پنه نین  
 پترن ہند یو گرو منز، یا پنه نین پو پھن ہند یو گرو منز، یا پنه نین ما سن ہند یو گرو منز۔ یا پنه نین ما سن  
 ہند یو گرو منز یا تمو گرو منز، تم ن ہنزن کو نزن ہند تہہ مالک آسو یا یازن دو ستن ہند یو گھر و منزہ  
 لیس علیکم جناح ان تا کلو اجمیعاً و اشتاتاً کانہ حرج چھونہ توبہ ہر گاہ طعام کھیوان  
 آسویکہ وٹہ یا الگ الگ فاذا دخلتم بیوتاً فسلّموا علی انفسکم تحیة من عند اللہ  
 مبرکة طیبہ لیس یلہ تہہ ای مسلمانو نئے گرس اندر اثر تک ارادہ آسو کران، تمہ وقتہ آسو سلام  
 کران پنہ نین لو کن پیٹھ۔ ساری مسلمان چھ اکوی نفس اکوی ذات ہیوسوی سلام یوسہ اللہ تعالیٰ سندہ  
 طرفہ با برکت نہ رث سلام چھ۔ سو گو السلام علیکم کذلک یبین اللہ لکم الایات لعلکم تعقلون  
 تیٹھ پاٹھ چھو اللہ تعالیٰ گھلاو تھ نہ ویزھہ ناو تھ ہن ہدایات بیان کران، تیٹھ توبہ فکرہ ترہ نہ تہہ کرد  
 عمل إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ بِالْإِيمَانِ كَمَثَلِ صِدْقٍ أُعْتِدَ لِمَنْ  
 یبہ تہندس پیغمبرس۔ واذا كانوا معاً على امرٍ جامع لم يذهبوا حتى يستأذِنوه به یلہ تم  
 بالیمان پیغمبر برحق سیٹ تہہ تڑھہ کامہ خیرہ سمیت آسن تیٹھ کامہ اندر تہند جمع آسن ضروری آسہ، تم

الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  
فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ  
وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۶۲﴾ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ  
الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُ عَاءٍ بَعْضُكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ  
يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ

با ایمان لوک چھنہ تمہہ مجلسہ منزہ نیران توتان یوتان نہ پیغمبر برحقس اجازت چھہ ہیوان۔ اِنَّ  
الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ اُولَئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ پزپاٹ تم لوک توہہ اجازت چھہ ہیوان  
یا رسول اللہ تمہہ کیاہ چھہ ایمان انان خدائس تہ تہندس پیغمبر برحقس حقیقتہ پاٹ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ  
لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنَ لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ اللَّهُ ائس یلہ تم اجازت منگان آسن توہہ یا  
رسول اللہ پنہ تمہہ ضروری کامہ خیطرہ ائس آسو تہہ اجازت دو ان تمو اندرہ ائس یرشہان آسو تہ ائس۔ ہیہ  
آسو اللہ تعالیٰ آس تہندہ خیطرہ مغفرت مگن کیا زہ دنیاء چ کام زان تمو مقدم دچہ کامہ بیٹھہ اچ تلانی  
سپدہ تم تہندہ استغفارہ سیت۔ اِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ ون،  
سیٹھاہ رحم کرہ ون لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُ عَاءٍ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ای مسلمانومہ آسو رسول  
کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندا دئس یلہ تم توہہ تمہہ اسلامی ضرورتہ خیطرہ جمع سپدن فرماون، معمولی  
نادئس زانان۔ تہہ پاٹ تہہ اہ ائس پانہ وان نادو یوان چھوہ یکن تہ نہ سن زانہو برابر ی بلکہ چھو تہندس  
نادس اجابت کرن واجب۔ یا گو معنی کہ مہ آسو خیال کران تہند دُعائے خیر کرن توہہ منز معمولی کتھاہ۔  
تہہ پاٹ تہہ اہ ائس دُعائے خیر کرن چھوہ بلکہ چھو تہندس دُعائے خیر کر ائس اندر سیٹھاہ خیر و  
برکت۔ تہند دُعائے جلد قبول سپدان۔ یا گو معنی کہ مہ آسو تہہ تم ائو دو ان تہہ پاٹ تہہ پاٹ تہہ  
پانہ وان اہ ائس ائو دو ان چھوہ ناوتہہ۔ بلکہ آسو تم ائو دو ان بچدہ رسالت، یا بچدہ نبوت۔ ونان  
آسو یا رسول اللہ تہہ یا نبی اللہ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا اللہ تعالیٰ چھو زانان تم

أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۶۳﴾ الْآنَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ يَوْمَ تَوَجَّعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۶۴﴾

لو کن ہنزہ خر کریم تو ہمہ اندرہ ژورہ ژورہ ٹہنزہ مجلسہ منزہ نیرنج بلا اجازت کوشش کران چھہ۔ تمن وید اللہ تعالیٰ سزا۔ یلہ یہ تھہ توہہ معلوم سپز کہ اللہ تعالیٰ اس چھو معلوم فلیحذر الذین یخالفون عن امرک ان تصیبہم فتنۃ اویصیبہم عذاب الیم ہس لھو ژن تم لوک تم مخالفت چھہ کران رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندہ حج، سمہ تھہ نیشہ کہ تمن واسرہ کاہنہ بذ آفاہ و نیاء س اندریا و اتیکھ دودودہ ون عذابہ آخرتس اندر الْآنَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وارہ یوزوتہ یاد تھا و پڑپاٹ اللہ تعالیٰ سزوی چھو تہ سزوی یہ آسمان تہ زمین اندر چھو تھس چھو تھہ ساری پیٹھ پورہ اختیار۔ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ یقیناً چھو تھس معلوم ہند سوحال تھہ حاس پیٹھ تھہ چھوہ وَيَوْمَ تَوَجَّعُونَ إِلَيْهِ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا بیہ سمہ دہنہ تم تھس کن و اتانہ نین سو تھہ تہ سزوی یہ تم کران آس وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو پریت چیزا ہ پور زانان۔





سُورَةُ الْفُرْقَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۱  
 الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ  
 لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا ۲  
 وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ  
 وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا  
 یہ قرآن مجید نیس پڑس تہ آپڑس منز فرق کرہ ون چھو پنہ نس بندہ خاص پیٹھ یعنی حضرت محمد  
 پیٹھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیٹھ سو بندہ خاص سپدہ، عالین، جن تہ انسان ہند خیرہ، کھوڑہ ناوہ ون خدلیہ  
 سندہ عذابہ لغیہ۔ بیہ نیم کرہ ون تمن تم نہ ایمان اُن تہ پڑھ کرن کُنس خدائس لِذَٰلِیْ لَهُ مُلْکُ  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ نِس ذات پاکہ سنز پادشہت تہ سلطنت چھہ آسمان تہ زمین اندر وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا  
 وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ بیہ چھو نہ تم قرار دہمت کا نہہ اکھاہ پُن اولاد بیہ چھو نہ تس کا نہہ اکھاہ  
 شریک حکوتس تہ سلطنتس منز وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا بیہ تم پریت چیزہ پیدہ کور۔ توپتہ  
 کورن پریت چیزک الگ الگ اندازہ۔ اکہ چیزک خاصیت کورن اکہ بیہ چیزک بیاکھ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ  
 آلِهَةً پیٹھ صاحب کمال خدا آتھ ترود مثر کو تسد توحید۔ توپتہ بناو کھ تس ورا ی بے چیز پُن معبود  
 تم نہ کُنہ صُور تس اندر معبود آس قابل چھہ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ  
 لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا تم نہ کا نہہ چیز پیدہ ہیکن کرت کیا زہ تم چھہ پانہ پیدہ کرنہ آمت۔ بیہ چھو نہ

وَلَا حَيَوةَ وَلَا نَشُورًا ﴿۳﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا  
 إِفْكٌ لِفِتْرَةِهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا  
 ظُلْمًا وَزُورًا ﴿۴﴾ وَقَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ  
 تُمَلَّى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿۵﴾ قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ  
 فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۶﴾ وَقَالُوا

تمن اختیار پنہ نین پانن ہندہ خیطرہ مخنہ ضرر کہ تہ نقصانجہ دور کرنگ تہ کاہنہ نفعانہ تہ فاندہ حاصل  
 کرنگ وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيٰوةً وَلَا نَشُورًا بیہ چھونہ تمن اختیار کانسہ ہندہ مارنگ یعنی کانسہ  
 جاندارس کیا بیجہ ہن زوکڈت، نہ کانسہ ہندہ زندہ تھاونگ یعنی کانسہ بیجانس کیا بیجہ ہن جاندار بناوت  
 نہ قیامت دوہ نہ مرنہ پتہ بیہ زندہ کرنگ۔ امہ سارہ گوی اختیار چھو اللہ تعالیٰ اس معبود آسنگ لوازم  
 چھہ تے چیز۔ بس منز تم چیز چھہ، سوی شوہ معبود، بس منز نہ تم چیز چھہ سو چھونہ ہرگز معبود آسنگ  
 قابل وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ لِفِتْرَةِهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ بیہ دون کافر و تہ  
 مشرگو قرآن مجیدس متعلق کہ بیہ چھو بالکل اہز۔ بس تم، یعنی ام پیغمبرن پانے ٹھہر وومت چھو۔ بیہ لو کو  
 اہس پیغمبرس بیہ اہز ٹھہر و بس اندر مدد کورمت۔ یعنی تمواہل کتابو تم مسلمان سپدمت آس، یا تم اہل  
 کتاب یم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمن نغہ یوان گڑھان آس فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا بس تحقیق  
 یرشہ کتھ و ننے سیت کورتمو کافرو بوڈ ظلم بیہ ووجھہ سیٹھاہ بوڈ اہز وَقَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا  
 اتھ سیت چھہ یم کافر بیہ کتھ تہ و نان کہ بیہ قرآن مجید چھو بے سند کتھ۔ مہ برو ٹھہرن لو کن نغہ نقل چھہ  
 یوان کرنہ۔ یمہ لیکھنا و مژہ چھہ امی پیغمبرن عمدہ عبارتس اندر اتھ وارہ سوچتھ کتھ صحابہ صائبن ہندہ  
 اتھ فَهِيَ تُمَلَّى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا بس چھہ تے کتھ لیکھنا و نہ یوان تمن نغہ جس تہ شامس قُلْ أَنْزَلَهُ  
 الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تہہ فرماؤ یو کہ یار سؤل اللہ کہ بیہ قرآن مجید کورنازل تم  
 پروردگارن بس زمانان چھو ساری پوشیدہ کتھ۔ ادہ تمہ کتھ آسمانن منز آستن یا زمینن منز آستن۔ تمی

مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَشْرِبُ فِي الْأَسْوَاقِ  
 لَوْلَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِ مَالَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَدِيرًا ۝ أَوْ يُلْقَى  
 إِلَيْهِ كَنْزًا وَتَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ  
 إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۝ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ  
 الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝ تَبَارَكَ الَّذِي  
 إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَدَّتْ تَجْرِي

سببه چھو یہ قرآن مجید فصاحت و بلاغ نس منز ممتاز۔ اتھ ہو کلام پیش کرنس اندر ھجھ جن تہ انسان عاجز۔ انھہ کلامس نسبت ھنہ ہہ ھمہ ھجھ ھہ ونہ موکھ شوہ ہہ ھتھو ہہ ھتھ سزا دین مگر لائہ کان عفورًا ۝ رحیمًا بیشک سو ھو ھو سیٹھار ھم کر ھون سیٹھار مغفرت کر ھون۔ سو ھو ھنہ ھر ھن سیتی سزا دو ان۔ مگر یہ ھم و مغفرت چھو ھنہ خاص و نفس تان۔ سو وقت گذر ھہ ھن امہ قسمی ھہ کرن وال غذا ھس گرفتار کرنہ وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَشْرِبُ فِي الْأَسْوَاقِ ۝ بیہ ھجھ ھم کافر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم متعلق یہ ونان ھہ ھمس بینبرس کیاہ سپد، یہ ھو سانی پاٹھ غذا تہ کھیوان بیہ ھو معاٹھ انتظام کرن خیطرہ بازو منز پھیران لَوْلَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِ مَالَكُ فَيَكُونَ مَعَهُ نَدِيرًا ھمس سیت کونہ آوسوزنہ کاہنہ ملکاہ۔ سو تہ آہہ ہا ھمس سیت روزت لوکن خدایہ سندہ غذا ہہ نشہ کھوڑہ ناوان تہ ھیم کران اَوِیْلُقَى إِلَيْهِ كَنْزًا ۝ نتہ کونہ آوترانہ ھن کاہنہ خزانہ ھمہ پیٹھ ھم خرچ آسھن کران۔ فھر معاٹھ روزہ ہانہ ضرورتھی اَوْتَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا ۝ نتہ کونہ چھو ھن سیت کاہنہ میوہ باغاہ ھی منزہ آسھن ھم کھیوان وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا ۝ بیہ ھجھ ونان ھم ظالم کافر بالیمان، ھہ چھو ھنہ پتہ پتہ پکان مگر ھہ سی اھس شخصس ھس پیٹھ ھر تہ جو دکر نہ آمت چھو ھیمہ سیت ھنز عقل بحال ھجھ روز مثر أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ ۝ وچھو ھہ پاٹھ ھم کافر توہہ پیٹھ عجیب عجیب مثالہ بیان کران فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝ ھن ھہ پاس ھہ رومر ھس ھنہ ھیکان ھم

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ۝۱۰ بَلْ كَذَّبُوا  
 بِالسَّاعَةِ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۝۱۱  
 إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّطًا وَزَفِيرًا ۝۱۲  
 وَإِذَا أَلْقَا مِنَهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَا هُنَا لِكَ  
 ثُبُورًا ۝۱۳ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا  
 كَثِيرًا ۝۱۴ قُلْ أَدْرِكُ خَيْرًا مِنْ جَهَنَّمَ الْخُلْدِ الَّتِي وَعَدَ

و تھ لہ تھے۔ تبارک الذیٰ ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنت تجوی من تحتھا  
 الانہار عام بھہ برکت نس پروردگارہ سز سیٹھاہ تھوہ جھوہند شان۔ پس ہر گاہ سویشہ ہالہ باغ کیاہ  
 ہجھ تھی بیشمارمہ خوتہ رت رت باغ گرہ ہاتوہہ عطا سمو سز جو یہ پکان آسہن و یجعل لک قصورا  
 بیہ کرہ ہاسو جھندہ خیطہ تمن باغن منز کم کہ جلیہ تہ مکان تیار مگر بعض جھن کن نظر کرت یوزہ نہ تہ  
 اللہ تعالیٰ ان۔ بچ آسہ ضرورت۔ تہ کیا زہ آس جھنہ مجبور سمہ کتھہ ہند کہ تیج فرمائش کافر کن تہ کیا  
 گز و آس پورہ بک کذبوا بالساعة اصل کتھہ جھہ بیہ کہ تم کافر جھہ قیاس الہی زانان۔ تی جھہ تم  
 بے فکری سبہ امہ کچھ کتھہ کران۔ یہ یوتھ یوان جھو کہ تہ جھہ ووران و اعتمدنا لمن کذب بالساعة  
 سعیرا اسہ تہ جھو تیار تھوومت قیامتہ کین مکن ہندہ خیطہ ہ زہ و ن نار۔ کیا زہ قیاس انکار کرنہ  
 سیت جھو لازم یوان خدا نس تہ پیغمبر خدا نس انکار کرن۔ سو جھو اصلی سبب جھنمس اندرو استک اذا  
 رااتھم من مکان بعید سمعوا لھا تغیطا و زفیرا یلہ سونا و جھہ تمن مکن دوری یوزن تم تمیک  
 خشمہ ہوت گریزن بیہ تیج نا نگہ و اذا القوا منها مکانا ضیقا مقترنین تو پتہ یلہ تروانہ ین تم تمہ  
 منزہ کئی تنگ جلیہ منزاکہ اس سیت گنڈ پھر تھ یا تھہ کھور گردنہ سیت گنڈت دعواہنا لک ثبورا  
 ژھانڈن پنہ خیطہ ہلاکت تہ موت پانس کران لیلہ تہ افسوس لا تدعوا الیوم ثبورا واحدا و ادعوا  
 ثبورا کثیرا و نہ یکھہ ای کافر و ای بھرہ مہ ژھانڈو جھہ انہنہ خیطہ ہ موت بلکہ ژھانڈو وار بیہ بھرہ

الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءٌ وَاصِبًا ۝۱۵ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ  
 خَالِدِينَ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدٌ مَسْئُولًا ۝۱۶ وَيَوْمَ يَجْزِيهِمْ  
 وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَضَلَلْتُمْ  
 عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۝۱۷ قَالُوا سُبْحَانَكَ  
 مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَ  
 لَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا

قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخَالِدِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ جهنہ فرماؤ لو کہ یا رسول اللہ ای کافر ویہ  
 افسوسناک حالت چہار ژ کینہ سو ہمیشہ روز تک جنت چھو بہتر سمیک وعدہ آو کر نہ، پرہیز گارن،  
 خدائس کھو ژہ ونین۔ کانت لہم جزاء و مصیبا سو جنت آسہ جہنہہ خیطرہ ر ژن عملن ہنزمزور۔ بیہ  
 آسہ تمن پتولا کہ اتھ جنتس منزواتن لہم فیہا ما یشاءون خلدین جہنہہ خیطرہ آسہ تھہ جنتس منزتہ  
 سو روی بیہ تم پڑھن، ہمیشہ روزہ ون آسن تھہ جنتس منز کان علی ربک وعدا استؤلا تمن پرہیز  
 گارن ہندا تھہ جنتس منزواتن چھو اکھ وعدا ہس بطور فضل و عنایت مہ چھو جہنہدس پرورد گارس پیٹھ۔  
 بیہ چھویہ وعدا قابل در خواست ویوم یجسزہم و ما یعبدون و من دون اللہ بیہ پاو تمن ژتیس  
 سمہ دوہہ اللہ تعالیٰ تمن سارنی کافرن بیہ جہنہدین معبودان باطن تمن ہنزمزور ستنس تم معبود بر حقس  
 و رای کران آس جمع کرہ پائس برو نھہ کنہہ فیقول ءانتہم اضللتہم عبادی ہولاء امہم  
 ضلوا السبیل تو پتہ پر ژھہ تمن معبودان باطن کیاہ تو ہی ڈالو کہ تم میان ہندہ سینزہ و تہ نغہ۔ کنہہ تم  
 ڈل پائے راہ راستہ نغہہ قالوا سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء تم  
 دہن پرورد گارا تھہ چھو کہ منزہہ تہ پاک۔ سون کیاہ طاقت اوس آس کیاہ کرہ ہون ژہ و رای بیہ کاہنہ  
 کار سا زاہ مقرر۔ ادہ تم آس آسہ ہو بیہ کاہنہ یلہ آس یقین چھہ زانان کہ معبود چھو کہ ژکی یوت بیہ نہ  
 کاہنہ۔ آس تھہ پاٹ ہیچہ ہو لو کن شرک امر کر ت یا تھہ پیٹھ رضامندی ظاہر کر ت و لکن متعتہم

بُورًا ۱۵) فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا سَتِطِيعُونَ صَرْفًا  
 وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمُ مِّنْكُمْ نُدِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا ۱۶)  
 وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ  
 الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ  
 لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۱۷) وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۱۸) ع

وَابَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ لیکن تم سپد پائے گمراہ۔ سمو کور شکر ان نعمتہ بدل کھر ان نعمت۔  
 حقیقت ہتھ پیہ کہ ژہ تملنا و تھتھ تم بیہ تھند مال بڈب مال دُنیا ک تمتح یوتان تم نفسہ چن خواہش تہ  
 لذتن اندر بوڈت گئے۔ تیوت کہ چون یادی مشر و وکھ و کائو قوما بُورًا تم سپد پائے بربادت ہلاک  
 فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ ای کافر و پز پات سمن معبودان باطن ہنز جہہ پر ستش کران آسوہ، تمو  
 وژہ قرار ہنز ہ سارے تھہ اپزہ۔ تمو تہ کور نہ توہہہ کاہنہ مدد۔ توہہہ پیٹھ چھو کھسان پورہ پاٹ مجرم فَمَا  
 سَتِطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا نُس ہیکو نہ جہہ پانس نشہ عذاب دُور کمر تھہ نہ ہیکوہ توہہہ کاہنہ شخصہ مدد  
 کمر تھہ وَمَنْ يَظْلِمُ مِّنْكُمْ نُدِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا بیہ نُس توہہہ اندر نافرمان یعنی مشرک آسہ  
 سُوژہہ ناوون آس بوڈ عذاب وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لِيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَ  
 يَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ بیہ تم پیغمبر اسہ سوز توہہہ برو تھہ یار رسول اللہ تم ساری آس عذابتہ کھیوان بیہ  
 آس باز رومنز معاش تلاش کرنہ خیطرہ پکان تہ پھیران۔ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ای  
 پیغمبر کریم، ای پیغمبر کریمہ سند یو تاہو تھتھہ جہہ کافر ن ہنز و تھو سیت غمگین آسوسپدان۔ کیا زہ آسہ  
 چھوہ جہہ ساری کمر مت اٹھ آکندہ خیطرہ آزمائش۔ حضرات انبیاء کمر آسہ لوکن ہندہ خیطرہ آزمائش  
 کہ کم لوکھ کرن تھندس بشر آس سُن نظر کرت تم انکار تہ کم لوکھ کرن تھندین نبوتہ کین کمالاتن  
 سُن نظر کرت تم ہوتہ تہ تصدیق أَتَصْبِرُونَ جہہ تہ کمر و صبر یعنی تھند گڑھہ ضرور صبر کرن وَكَانَ  
 رَبُّكَ بَصِيرًا تھہ ہتھہ یقینی کہ تھند پروردگار چھو سارنی ہند حال و چھان۔ مقررہ و قس پیٹھ دیہ سو

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَلَا نُزِّلَ عَلَيْنَا  
 الْمَلِيكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا  
 كَبِيرًا ۝۲۱ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلِيكَةَ لَا بُشْرَىٰ لَوْمِيذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَ  
 يَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا ۝۲۲ وَقَدْ مَنَّآلِي مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ  
 فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا ۝۲۳ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا  
 وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۝۲۴ وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلِيكَةُ

تم ضرور سزا۔ لہذا کیا زہ ہجوہ نہہ غم کیوان۔ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا أَلَا نُزِّلَ عَلَيْنَا الْمَلِيكَةُ أَوْ نَرَى رَبَّنَا بیہ ہجوہ وان تم لو کہ تم نہ کا نہہ اندیشہ ہجوہ بر و نھ نہ پیش سپد نگ، تھہ مکر آسنہ موکھہ کہ اسہ پیٹھہ کونہ ہجوہ ملائک سوزنہ یوان تھہ نہہ تصدیقہ خیلرہ یا کونہ تھہن آس تہ پن پروردگار و چھان، سؤی کرہ ہانہ تھہن س پیغمبر آس تہ تصدیق لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا تم لو کن ہجوہ یقیناً پتہ جلیہ پن پان سیٹھہ ہڈ بوزنہ یوان۔ خصوصاً کوز کہ خدا ائس و تھنک، آس سیت کلامہ کر نگ تجویز پیش۔ امہ سیت درای تم لو کہ انسانیکہ حدہ نشہ سیٹھہ نمبر۔ بیہ کمر سمو ہڈ سر کشی یَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلِيكَةَ لَا بُشْرَىٰ لَوْمِيذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وون سمہ دوہہ تم و تھن ملائک نہیب صورتن اندر مرتبہ وقتہ یا قیامتگ دوہہ سمہ دوہہ آس نہ کا نہہ خوشی ہنز کتھہ نصیب تم نافرمانن، ملائک یلہ و چھن عذابک سامانہ ہتھ، سیٹھہ گابرن تمہ ساتہ وَ يَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا تھہ حالتس منز و ن تمہ ساتہ پناہ بخدا، پناہ بخدا، اسہ گوڑہ مضبوط ٹھورہ تم نغمہ حاصل سپدن (سمہ ملائک نہیکن و تھتھہ تے ہیکن سنا خدا ائس و تھت) وَقَدْ مَنَّآلِي مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُورًا بیہ سپد و آس متوجہ تم کافرن ہنز ن رٹن کائین گن سمہ تم و نیاس منز کر مرہ آسن۔ نس کر و کہ تمہ عملہ چھکنہ آمر گرو ہشہ۔ کا نہہ ثوابہ آسنہ تم ہند۔ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا جنتی یمن تم کافر ٹھہہ آس کران، آسن تمہ دوہہ سیٹھہ رت قیامگاہہ کن تہ، آرامگاہہ کن تہ

تَنْزِيلًا ۲۵) الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ ۖ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى  
 الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا ۲۶) وَيَوْمَ يَعِضُّ الظّٰلِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ  
 يٰلَيْتَنِيْ اَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ۲۷) يُوِيْلَتِيْ لَيْتَنِيْ لَمْ  
 اَتَّخِذْ فُلًا نًّا خَلِيْلًا ۲۸) لَقَدْ اَضَلَّنِيْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِيْ ۚ  
 وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسٰنِ خَدُوْلًا ۲۹) وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ  
 اِنِّىْ قَوْمِيْ اَتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ۳۰) وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ

یعنی جنت آسہ تہندہ قیام کرچج جای، آرام کرچج جای۔ تمہہ کس رت آسہ پھونہ ونوی کینہہ۔ ویومہ  
 تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزُلُ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا بیہ سمہ دوہہ آسمان کہ بدہ ابرہ سیت پھہ، بیہ بن والنہ  
 سارنی آسمان ہند ملائک پتس پتہ زمینس پیٹہ بکثرت تھی وقتہ کرہ اللہ تعالیٰ حساب و کتابہ خیطرہ بن  
 تجلی۔ الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ تمہہ دوہہ آسہ سوروی ملک حقیقتہ پاٹھ حضرت رحمانہ سزوی۔  
 یعنی حساب و کتاب تہ جزاء و سزاءس منز آسہ نہ کانسہ ہند دخل۔ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا  
 بیہ آسہ سو دودہ کافر نہ ہندہ حقہ سیٹھاہ کڈرتہ کریوٹھہ وَيَوْمَ يَعِضُّ الظّٰلِمُ عَلٰى يَدَيْهِ بیہ ہیہ تھی دوہہ ظالم  
 تہ نافرمان اتھن پنہ نین ثب یَقُوْلُ يٰلَيْتَنِيْ اَتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا دیہ تھی دوہہ ظالم، ای  
 کاش کیاہ رت گزہہہ ہامیانہ حقہ ہر گاہہ رٹوہہ آسہار سول خدا جس سیت روزت دیتج و تھہ يُوِيْلَتِيْ لَيْتَنِيْ  
 لَمْ اَتَّخِذْ فُلًا نًّا خَلِيْلًا افسوس، کاشکے مہ آسہ ہانہ فلان بدیارس سیت دوستی لاجمہہ لَقَدْ اَضَلَّنِيْ  
 عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَاءَنِيْ پتہ پتہ تھی کم خٹن ڈوکس یو قرآن مجیدہ کین احکامس پیٹھ عمل کرنہ نشہ،  
 تم احکام مہ نشہ واتھہ۔ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسٰنِ خَدُوْلًا شیطان چھو انسانس عین موقس پیٹھ مدد  
 کرنہ نشہ پتہ ثلان وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنِّىْ قَوْمِيْ اَتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا بیہ فرماون تمہہ دوہہ  
 پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم، ای میانہ پروردگارہ، پتہ پتہ میان سم قومس زون بیہ قرآن مجید جس  
 واجب العمل اوس، بیہوہہ کلامہ یا رود تم امہ نشہ دور، امہ موجب کرکھ نہ کانسہ عملہ، بیہ کوزکھ بالکل



نَبِيِّ عَدُوٍّ وَمِنَ الْمُجْرِمِينَ ۖ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا ﴿۳۱﴾  
 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوَلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً  
 وَاحِدَةً ۗ كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ﴿۳۲﴾  
 وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿۳۳﴾ الَّذِينَ  
 يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ  
 سَبِيلًا ﴿۳۴﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ

نظر انداز، تمہ کو رکھ نہ کاہنہ التفاتہ، عمل کرو چھ تھی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيِّ عَدُوٍّ وَمِنَ الْمُجْرِمِينَ  
 ہتھ پاٹ ایم لو کہ جھہ ٹھنڈ ڈٹمن ہتھ پاٹھ کمر اسہ نافرمانو اندرہ پرستھ پیغمبر سبڈ ڈٹمن، یہ نوکٹھاہ جھنہ  
 کینہہ۔ تمو پیغمبر ہتھہ پاٹ صبر کور ہتھہ پاٹھ کمر وٹھہ تہ صبر وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا بس چھو توہہ  
 پٹن پروردگار ہدایت کرہ ون۔ کافر وچھہ ہمیشہ پیغمبرن ہنز مخالفت کمر مر، لہذا آگڑوہ نہ امیک کاہنہ غم  
 کھیون۔ اللہ تعالیٰ سمسہ حقہ ہدایت یرشہ تس کرہ ہدایت، ئس ہدایتہ نعہ محروم روزہ توپتہ مہہ سو توہہ  
 ایذا تہ تکلیف وادہ تاون۔ دوشون حان اندر چھو اللہ تعالیٰ ٹھنڈ رُت، توہہ کافی وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
 لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً ۗ بیہ جھہ دپان کافر یہ قرآن مجید کونہ آو نازل کرنہ  
 حضرت محمد ﷺ پیٹھ یکہ ونہ، اکی پھرہ کَذَلِكَ اسہ کور نازل یہ مہنہ مہنہ، آہستہ، آہستہ۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ  
 فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا ہتھہ درر او اوس امہ سمیت ٹھنڈ دل۔ امی موکھ کور قرآن مجید اسہ نازل وارہ  
 وارہ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا بیہ جھنہ سم ڈٹمن توہہ نعہ کاہنہ کٹھاہ یا مثالاہ  
 توہہ پیٹھ یا قرآن مجیدس پیٹھ طعنہ زنی خیطرہ پیش کران۔ مگر اوس جھہ ٹھنڈہ بدل تمن کٹھن ہنڈ پوز  
 جواب بیہ تمہ خونہ رت معنی بیان کمرت توہہ نعہ واتناوان۔ یہ گو قولی جواب۔ دون ئس عملی جواب ایہ  
 دنہ تمن سوگو الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرُّ مَكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا سم گئے تھے  
 لوک ایم کلمہ وکر من کمرت ہتھہ کھھرہ مان پکانانہ تہ سونبراونہ جھنمئس ئ۔ تم آسن جاہی کن سیٹھاہ بدتر

وَزِيْرًا ۳۵ فَقُلْنَا اذْهَبْ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا فَذَمِّنْهُمْ  
 تَدْمِيْرًا ۳۶ وَقَوْمٌ نُّوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوْا الرَّسُلَ اَعْرَقْنٰهُمْ وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ  
 اِيَةً ۳۷ وَاَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا ۳۸ وَعَادًا وَّشَمُوْدًا وَّ  
 اَصْحٰبَ الرَّسِّ وَقُرُوْبًا بِيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا ۳۹ وَكُلًّا ضَرَبْنٰ لَهُ  
 الْاَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيْرًا ۴۰ وَلَقَدْ اَتَوْا عَلٰى الْقَرْيَةِ الَّتِي  
 اَمْطَرْنَا عَلَيْهَا السَّوْءَ اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرْوْنَهَا بَلْ كَانُوْا لَا

و تہ کن سیٹھا ؤلمت و لَقَدْ اَتَيْنَا مُوسٰى الْكَلِمَ وَ جَعَلْنَا مَعَهُ اَخَاهُ هَارُونَ وَ زِيْرًا تھتھق بئہ کمر آئہ عطا موسٰى  
 علیہ السلام کتاب یعنی تورات۔ بیہ کمر آئہ سہو کتاب عطا کرنہ برو تھہ لوی تھہد ہارون علیہ السلام تسند  
 وزیر تہ مددگار فَقُلْنَا اذْهَبْ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا تمہ پتے کور حکم آئہ تمن دو شون کہ گھو جو تھہ  
 دو شوے تبلیغ و ہدایت کرنہ خیطرہ تمن لو کن ریشہ سموا پر زان سان توحیدک آیات تو پتہ گئے تم  
 دو شوے صاحب، کورکھ فرعونس تہ تھہدس قومس تبلیغ مگر تمومون نہ کینہہ تہ۔ قَدْ ذَمِّنْهُمْ تَدْمِيْرًا  
 ادہ گال تم آسہ مولہ مونجہ۔ چنانچہ تھہد غرق سپدن چھو مشهور و معروف وَقَوْمٌ نُّوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوْا الرَّسُلَ  
 اَعْرَقْنٰهُمْ وَ جَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اِيَةً بیہ یلہ حضرت نوحہ سد قومن انکار کر بیغمبرن آئہ پھاٹو تم آئس اندر بیہ  
 بناو آئہ تم لو کن ہندہ خیطرہ اھ نشانہ بیہ گوئیئاس اندر وَاَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا بیہ چھو آئہ  
 تیار تھوومت آخر آئس اندر تمن ظالمن تہ نافرمان ہندہ خیطرہ کڈر عذاب وَعَادًا وَّشَمُوْدًا وَّ اَصْحٰبَ  
 الرَّسِّ وَقُرُوْبًا بِيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا بیہ کور آئہ ہلاک قوم عاد، بیہ قوم شمود بیہ کیر وال (رس پتھہ ونان عربی  
 پاٹ کیرس) بیہ تمن منز باگ سمہ واریاہ نافرمان اُمنو آسہ وَكُلًّا ضَرَبْنٰ لَهُ الْاَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا  
 تَتْبِيْرًا بیہ کمر بیان آئہ تمن سارنی ہندہ ہدایت خیطرہ عجیب عجیب تہ موثر مضامین۔ مگر یلہ نہ تمو کینہہ  
 تہ مون ادہ گال آئہ تم ساری وَلَقَدْ اَتَوْا عَلٰى الْقَرْيَةِ الَّتِي اَمْطَرْنَا عَلَيْهَا السَّوْءَ پڑپاٹ بیہ پک تہ گذرے  
 سم مُثْرَكِيْنَ عرب شامہ کس سفرس منز تمہ شہرہ کن تھہ منز قوم لوط بسان آس۔ تھہ شہرس اوس ناؤ

يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿۳۱﴾ وَإِذَا رَأَوْكَ إِذَا تَتَّخَذُ وَنَكَ الْأَهْزُورَ أَهَذَا  
الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿۳۲﴾ إِنَّ كَادَ لِيُضِلَّنَا عَنْ الْهَيْتِنَا لَوْلَا  
أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ  
مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿۳۳﴾ أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ  
تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا ﴿۳۴﴾ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ

”سدوم“ تمن آونا فرمانی بندہ سببہ آسمانچہ طرفہ کنہہ زود کرنے یعنی کنہہ آکھ تر اوندہ زودک پاٹھ آفکھ  
يَكُونُوا يَرَوْنَهَا كَيَاهِ تَم مَكْبَ كَافِرٍ چھنا و چھان تم شہر تائیکہ عبرت رنہ نمن بَلْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ  
نُشُورًا عبرت نہ رنٹک وجہہ مھونہ یہ کچھ تم کياہ چھنہ تم شہر و چھان بلکہ چھنہ تمن مر نہ پتہ زندہ گونج  
کا نہ امیداہ تہ پڑھاہ۔ کیا زہ تم چھہ آخر تِس انکار کران۔ تم کافر چھہ ایت شریکہ وَاِذَا رَأَوْكَ إِذَا  
تَتَّخَذُ وَنَكَ الْأَهْزُورَ ایلہ تم توبہہ و چھان چھہ یار رسول اللہ ﷺ تمن چھنہ کا نہہ کا ماہ تمہہ ساتہ توبہہ نسبت  
ٹھٹھہ کرنہ و رائے و نان چھہ تم اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا کياہ یوہے شخص سوزہ اللہ تعالیٰ ان  
پیغمبر، یہ مھونہ پیغمبری لایق۔ مگر کلام تہ کھہہ اکتسزہ چھہ سیٹھاہ مؤثر ان کَادَ لِيُضِلَّنَا عَنْ الْهَيْتِنَا لَوْلَا  
لَا اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا تمہہ جادو بیانی سیت اوس قریب کہ یہ ڈالہ ہا سہہ پنہ نیو معبود و نشہ۔ ہر گاہ لے اَس  
تمن معبودان ہنزہہ پر نشہہ پیٹھہ ثابت قدم روزہ ہو۔ پانس چھہ تم پانے زانان ہدایتس پیٹھہ۔ پیغمبرس چھہ  
زانان ڈولت۔ اللہ تعالیٰ مھو فرماوان کچھہ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا  
برونٹھہ مکن زانن تم مر نہ پتہ ایلہہ وارہ پاٹ و چھن عذاب کہ کبہہ اکھاہ اوس و تہ نشہہ ڈولت اَرَأَيْتَ مَنْ  
اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ ای پیغمبر چھہ و چھو ہز تِس شخصہ سزہ حالت تم پن خدای مھو بنو دم ت پتہ نفع خواہش  
اَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا کياہ چھہ نلوہہ پانس پیٹھہ ذمہ داری کہ متھنن ہوا پر ستن کياہ عمر وہ چھہ  
ہدایت۔ یوسہ کھہ خواہشہ مطابق آسکھہ سو کرن قبول، یوسہ نہ خواہش موافق آسکھہ تھہ کرن رد۔ از  
و چھہ اکھ کنیاہ جان مکن تہ تھہ کر کھہ پر ستن پگاہ و چھہہ بیا کھہ کنیہہ تمہہ خوتہ جان مکن تھہ ہر کھہ

أَوْ يَعْقُلُونَ ۚ إِنَّ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ۝<sup>(۳۲)</sup>  
 أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ  
 جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ۝<sup>(۳۳)</sup> ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ۝<sup>(۳۴)</sup>  
 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ  
 النَّهَارَ نُشُورًا ۝<sup>(۳۵)</sup> وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ  
 رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۝<sup>(۳۶)</sup> لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً

پرستش گرن اَمْ تَحْسَبُ اَنْ اَكْثَرَهُمْ يَسْعَوْنَ اَوْ يَعْقِلُونَ ۚ بندہ تو بہہ چھو کہیہہ گمانہ زہ تموا ندرہ کیاہ  
 بہہ زیادہ بوزان ٹہند کلام شریف یا کیا چھو کہ سو فخرہ تران کینہہ۔ سو گمانے مہ کمر و ٹہہ۔ اِنْ هُمْ اِلَّا  
 كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلًا تم چھنہ مگر چار پاء ہی بلکہ چھہ تے چار پاء ن ہندہ خونہ بیو ڈلمت و نہ  
 نَشِه اَلَمْ تَرَ اِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۚ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا کیاہ ژہ وہجھت نا ای و چھونہ پنہ نس  
 پروردگارہ سندس قدر تس کن کہ تھہ پاٹھ چھوز پٹھر او ان سایہ، یلہ آفتاب چھو کھسان، تمہ ساتہ چھو  
 تمن سارنی چیزن ہند سایہ زیوٹھ آسان تم چیز و و تھندہ آسن۔ ہر گاہ سو ژہہ ہاتھہ سائس تھاوہ ہا کنسی  
 جابہ ٹھہراوت تھم جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا تو پتہ کورایہ آفتاب امہ سائک ظاہری علامت۔ آفتابہ  
 سیتی چھو بوزنہ یوان امہ سائک زٹھن نہ ژھون۔ آفتاب نے آسہایہ پیہ ہانہ بوزنے تھم قَبَضْنَاهُ اِلَيْنَا  
 قَبْضًا يَسِيْرًا تو پتہ چھن اَس سو سایہ پانس کن رٹان ہنہ ہنہ۔ بالآخر چھو سو سایہ معدوم سپدان  
 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا بیہ گو سو پد و دگار سوئی تم رات  
 کمر ٹھہندہ خیطرہ پردک چیز، بیہ نیم نندر کمر راحت و آرامگ چیز۔ بیہ دوہ کور زندہ سپدنگ تہ اورہ  
 یور کرہ نک وقت وَهُوَ الَّذِي اَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ بیہ گو سو پروردگار سوئی۔ نس  
 واور تراوان چھو خوشخبر ہیتھ پنہ رحمتہ بروٹھ یعنی زود تراونہ بروٹھ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا بیہ  
 تراوایہ آسمانکہ طرفہ آب نس پاک و صاف کرہ دن چیزہ چھو لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا بیہ اَس زندہ

مَيْتًا وَنُفْيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْآسِي كَثِيرًا ۝۴۹ وَقَدْ  
صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُرُوا ۝۵۰ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ۝۵۱  
وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ تَذِيرًا ۝۵۲ فَلَا تَطِعِ الْكُفْرَيْنَ وَ  
جَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا ۝۵۳ وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا  
عَذْبٌ فُورًا وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا  
مَّحْجُورًا ۝۵۴ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا

کرون تمہ آہ سیت موت زمین و نُفْيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنْآسِي كَثِيرًا بیہ چاودک سو آب پنہ نیو مخلوق اندرہ واریاہ چارپاء بیہ واریاہ انسان وَقَدْ صَرَّفْنَا بَيْنَهُمْ لِيَذَّكُرُوا پنہ پاٹ اسہ کور تقسیم سو آب تمن لوکن منز بقدر مصلحت بیٹھ تم غور تہ فکر کرن کہ تم چیز چھہ کانسہ قدرتہ وال سندس اختیارس اندرئس سزاوار عبادت چھو۔ تمسزہ نعمو ژیتس پاوت کرن شکر گذاری فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا مگر اکثر لو کو کور نہ کینھ تہ کفران نعمتہ ورائی وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ تَذِيرًا بیہ ہر گاہ آس یوٹھ ہو آس سوزہ ہون پر بیٹھ شہرس اندر اکھ اکھ پیغمبرہ مگر اسہ سوزہ نہ کانسہ پیغمبرہ کیا زہ تہہ سو زوہ اسہ یار رسول اللہ سارئی عالمس کن صاحب قیاس تان۔ بیٹھ تو بہہ پورہ امیک ثواب حاصل سپدہ امہ نعمتک شکرانہ چھو کہ فَلَا تَطِعِ الْكُفْرَيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا تہند گدھن نہ مانہہ کافر نہ ہنزہ تہہ۔ تہنز خواہش چھہ کہ تبلیغ اسلام گدھہ نہ سپد لوی یا گوژھ کم کم سپدن مگر تہنز ہ گدھن نہ مانہہ تمن کافر نہ ہنزہ تہہ بلکہ گدھہ تمن سیت امی قرآن مجیدہ سیت زبردست مقابلہ کرن وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ بیہ گو سو پروردگار سوئی تم ملہ ناؤ مختلف زہ دریا هَذَا عَذْبٌ فُورًا وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ اکھ دریاؤک آب چھو سیٹھہ میوٹھ تہ تسکین بخش۔ بیگ آب چھو نون سیٹھہ ژوش تہ ٹیوٹھ باوجود اختلاف ظاہری چھو بہہ آب پنہ بس حاکس پیٹھ بیہ آب پنہ بس حاکس پیٹھ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا تمن دو دن دریاؤن منز کور اللہ تعالیٰ ان اکھ ٹھورہ بس نہ تمن اکھ اس سیت رلہ

وَصَهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿۵۴﴾ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ﴿۵۵﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿۵۶﴾ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مِنْ شَاءِ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿۵۷﴾

دوان چھو، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا، بیہ گو سو پروردگار سُوی۔ ہم آبِ نطفَس کور انسان پیدہ۔ فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصَهْرًا، تو پتہ کورن سُو انسان خاندانہ وول۔ چنانچہ مول بُدْب و غیرہ کوشرعی خاندان، مَوج، نان و غیرہ گو عرفی خاندان۔ ہم تعلقدار چھس پیدہ سپدہ و نوئی پیدہ سپدان پتہ نیلہ اہس نیتھر کرنہ یوان چھو تمہہ سیت چھس بے رشتہ دار، ہش، ہیو ہر، ہنہر و غیرہ پیدہ سپدان یہ چھہ پروردگارہ مندہ قدر تچ دلیل تہ کہ لطفہ کیاہ چیز اوس۔ و سَن کیاہ سپد۔ لیت رشتہ تہ تعلقات سپدس پیدہ۔ بیہ چھہ یہ نعمت تہ۔ مہو تعلقا تو سیت چھو اہس انسانس معاونت تہ مدد حاصل سپدان وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ای مخاطب چون پروردگار چھو سینضاہ قدر تہ وول چھس کمالہ و اہس خدایہ سنزی شو بہ با عبادت تہ بندگی کرن مگر افسوس وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ سببے انسان چھہ پرستش کران معبود چھس و رای تمنی چیزن ہنز ہم نہ تمن کا نہہ نفع ہیکن و اتناوت کا نہہ ضرر وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا واقعی چھو یہ نافرمان انسان پنہ نس پروردگار س گن ٹھر پھر ان تہ مخالفت کران۔ سُو تراوت چھو بین ہنز پرستش کران۔ مگر تہند گزھہ نہ اتھہ پیٹھہ یار سُول اللہ غمگین سپدن کیا زہہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا اَسہ نہ حض سوزونہ تو بہہ مگر خوشخبری بوزناونہ خیطرہ با ایمان، بیم کرنہ خیطرہ کافرن تہ نافرمان تہندہ ایمان نہ انہ سیت تہ پڑھ نہ کرنہ سیت چھو نہ تو بہہ کا نہہ نقصان لہذا کیا زہہ سپد یو تہہ غمگین قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مِنْ شَاءِ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا تہہ فرما یو کہ ای کو کو، بو چھوس نہ منگان تو بہہ اتھہ خوشخبری تہ بیم کرنس پیٹھہ کا نہہ مژوریاہ مگر یو چھوس خواہش کران کہ تو بہہ منزہ ہیہ ناکا نہہ شخصاہہ پنہ نس خدائس گن و تھہ، تہند قرب تھاندنہ خیطرہ ہیہ ہاپچن،

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ  
 يَذُنُوبَ عِبَادِهِ خَيْرًا ۗ وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا  
 بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَسَأَلْ  
 بِهِ خَيْرًا ۗ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا  
 الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ۖ تَبَارَكَ الَّذِي  
 جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۗ  
 وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَن أَرَادَ أَنْ يَذَّكُرْ

سنوی آس بس میان مزدور و تَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ یہ کمر و تہمہ اعتمادتہ ذکہ تہہ تلخچہ کلمہ  
 اندر تس زندس پیٹھ نُس نہ زانہ مرہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ يَذُنُوبَ عِبَادِهِ خَيْرًا یہ کمر و یاد تہمہ  
 پاک۔ یہ دیوس حمد۔ سو تھوپنہ نین بدن ہندین گنہن ہند پور واقف تہ خبر دار ۗ الَّذِي خَلَقَ  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ تم پروردگارن آسمانہ تہ زمین بیہ یہ تمن منز تھوپیدہ  
 کور شیلن وہن ہندس مندس اندر ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ تم پتہ سپد مستوی عرش پیٹھ تہہ پاٹھ  
 تہہ پاٹھ تہمہ س شانس سزاوار تھو الرَّحْمَنُ فَسَأَلْ بِهِ خَيْرًا سو تھو سیٹھار حم کرہ ون۔ نُس پر تھ  
 تہ شان تہمہ کانسہ زانہ ونس سو باوی تہ تہمہ زرحمت کا تہہ تھہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا  
 وَمَا الرَّحْمَنُ بیہ بلہ ونہ یوان تھو تمن کافر ن دیو سجدہ آس رحمتہ والس خدا نُس۔ بیان تھہ تم  
 رحمان کیاہ گو أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا کیاہ آس دموا سجدہ نُس، نُس تہہ دیو سجدہ دنن۔ تمن  
 تھوپہ ونن زیادہ دور کران۔ یہ بوزنہ سیت چھ تمن زیادہ تھر کھسان تھر وعنادس اندر۔ تَبَارَكَ الَّذِي  
 جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا سیٹھار ہابرکت تہ عالیشان تھو سو ذات پاک  
 نیم آسمان منزہ باہ بروج پیدہ کمر۔ بیہ کرن آسمان اندر آفتاب ژونگ۔ کیاہ تہہ منز تھو نور تہہ، گرمی تہہ

أَوْ أَرَادَ سُكُورًا ﴿۶۲﴾ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ  
هُونًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَمًا ﴿۶۳﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ  
لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿۶۴﴾ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا  
عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿۶۵﴾ إِنَّهَا سَاءَتْ  
مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ﴿۶۶﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ  
يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿۶۷﴾ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ

بہ کرنا زون نہ نہ کرہ ون۔ تھے منزوری یوت گرمی وراى وھو الذی جعل الکیل والتمہا رخلفۃ  
لین اداد ان یذکر اواراد سُکُورًا بہ گو سو پروردگار سوی تم رات نہ دوہ کوراکھ اکس پتہ اوہ ون نہ  
گرہہ ون تمس شخصہ سندہ فخرہ ترنہ خیطرہ نیس شخص فخرہ ترن یڑھہ یا یڑھہ امس قدرتہ وایس مُعتم  
ھقیقیس یمن نعمون پیٹھ شکر دین۔ امہ قسمک لوکھ گے عباد الرحمن۔ امہ پتہ چھہ تھند صفت بیان  
یوان کرنہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هُونًا حضرت رحمانہ سند خاص بندہ گے تھے تم  
پکان چھہ زمینہ پیٹھ نرمی سان وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَمًا بہ یلہ تمن سیت جاہل نہ نادان لوک  
گفتگو کرنہ لگان چھہ تم بھک پنہ طرفہ سلام کران۔ تھنزن ناشایان کھن ہند چھنہ تم کاہنہ جواب  
دوان وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا بہ تم رات گذاران چھہ پنہ نس ہروردگار س کن سجدہ  
دوان نہ دوھندہ روزان یعنی نمازہ پران، باوجود آل چھہ پروردگار س کھوژان وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا  
اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ بہ تم کھوژنہ موکھ دُعا چھہ کران ای سانہ پروردگارہ دور کر اسہ نشہ  
چھہ تمک عذاب إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا پنز پاٹ تمیک عذاب چھو تباہی تلہ ون، لاریت گرہہ ون  
إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا پنز پاٹ سو جھنم چھو سیٹھاہ پچھہ جای۔ روزنہ خیطرہ بہ بسنہ خیطرہ  
وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا بہ تم لوک تم یلہ خرچ کران  
چھہ مال پن تھے منز نہ چھہ زیادتی کران نہ چھہ کی کران بلکہ چھو تھند خرچ کران آسان تمن دون حالتن



مَعَ اللَّهِ الْهَاهُنَا وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا  
 بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا ﴿۱۸﴾  
 يُضَعْفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا ﴿۱۹﴾ الْإِمْنُ  
 تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ  
 حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ﴿۲۰﴾ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا  
 فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا ﴿۲۱﴾ وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ

منزباگ برابر برابر افراط و تفریط و راکی وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ بِهیم عبادت تہ پرستش  
 چھنہ کران خدائس سیت بہیہ کانسہ معبودہ سنز وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ بہیہ سم  
 ناحق کانسہ شخصس ماران تہ قتل چھنہ کران سمسند مارن خدائس حرام کورمت چھو مگرے کانسہ شخصس  
 تھہ مستحق آسہ سو چھہ بادشاہ وقتہ سنز کوم، عام لوکن ہنز گڑھہ نہ سو پنہ بس اٹھس منزرن۔ وَلَا  
 يَزْنُونَ بہیہ سم زنا چھنہ کران وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا لُس اٹھہ سمہ کلمہ کرہ یعنی شرک  
 بخدا نہ، بہیہ قتل ناحق کرہ بہیہ زنا کرہ، پتھہ پاٹ مکک مشرک کران آس سوتلہ تمیک سزا يُضَعْفُ لَهُ  
 الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا دو گنادنہ بہیہ تسدہ خیطرہ عذاب قیامتگ دوہ، بہیہ روزہ سوتھہ  
 عذابس اندر ہمیشہ خوار تہ ذلیل۔ الْإِمْنُ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا مگر سم شرک و معاصی نشہ توبہ  
 گرن، ایمان اسن، توپتہ گرن رثہ عملہ فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ بس تمن لوکن بدلاوہ اللہ  
 تعالی گناہ جہدہ نکین سیت وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ تعالی چھو مغفرت کرہ ون۔ تمہہ موکھہ مہناون  
 جہدہ گناہ۔ سیٹھہ رحم کرہ ون تمہہ موکھہ لچھن تمن گنہو بدل نیکی۔ بہیہ اوس اوتان تمن لوکن ہندہ خیطرہ سم  
 گھرہ نشہ توبہ کرن۔ امہ پنہ چھو اللہ تعالی فرماوان سم با ایمان گنہو نشہ توبہ کرن جہدہ حال وَمَنْ تَابَ  
 وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا بہیہ بس با ایمان گنہو نشہ توبہ کرہ، خدائس کن رجوع کمرت  
 رثہ عملہ گرہ یعنی آئندہ روزہ گنہو نشہ چھہ، سوتہ روزہ عذابہ نشہ محفوظ۔ کیا زہ سوتھہ شخصس چھو پھیران،



خَلِيدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا أَوْ مَقَامًا ﴿٦٦﴾ قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ  
رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴿٦٧﴾

خیطرہ سے بسنے خیطرہ قُلْ مَا يَعْبُؤُا بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ تمہہ فرما دو عام سارنی لوکن گن یار سؤل اللہ  
میون پروردگارہ کرہ نہ کنہہ قسمہ کاہنہ پرواہر گاہ تمہہ تسنن عبادت کرونہ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بتھیق توہمہ کور وہ  
احکام البین تم اہر زانت انکار فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا وون وجھو بروٹھہ کن، سوا انکار تمہندیہ توہمہ  
زنگن وکنہ یعنی تمیک سزاییہ توہمہ ضرور دنہ۔



## سُورَةُ الشُّعَرَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 طَسَّمَ ① تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْبَيِّنِ ② لَعَلَّكَ بَآخِعٌ  
 نَفْسِكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ③ إِنَّ نَسْأَنزَلُ عَلَيْهِمْ  
 مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَافُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ④  
 وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحَدِّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ  
 مُعْرِضِينَ ⑤ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءٌ مَّا كَانُوا بِهِ

طَسَّمَ تم چھہ حروف مٹھلتا تم ہند معنی زلہ پانہ خدا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْبَيِّنِ تم مضامین تم توہم پیٹھ نازل سپدان چھہ، تم چھہ آیات تمہ کتابہ ہند یوسہ سوڑوی نراوہ وان چھہ، پوز کیاہ چھو اپز کیاہ چھو۔ تم لوک تم پڑھ چھہ کران، متہ کترن۔ تہہ کیازہ چھوہ یوت غمگین سپدان لَعَلَّكَ بَآخِعٌ نَفْسِكَ إِلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ شائد تہہ ماتراویون ہر تھ پئن پان سمہ غمہ سیت کہہ کونہ چھہ ایمان اتان چھہ قرآن مجیدس۔ تہہ مہ ہر کھویو امیک غم اِن نَسْأَنزَلُ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَظَلَّتْ أَعْنَافُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ہر گاہ اَس یزھو تم کرو کہ جبراً مسلمان چھہ پاٹ کہہ اَس سوڑو تم پیٹھ آسماچہ طرفہ اکھ نشانہ سمہ سیت تم اختیارے سلب سپدہ۔ تہزہ گردنہ نم نم ہون گن۔ چارہ لکھک نہ کینہہ تہ ایمان اندہ وراہی۔ مگر اَس گردنہ تہ۔ کیازہ تہ کرنہ سیت چھو نہ آزمائش تہ امتحان باقی روزان مگر تم ہنز حالت چھہ کہہ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُحَدِّثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ چھہ واتان تم نشہ حضرت رحمانہ سدہ طرفہ کاہنہ نصیحتاہ و عطاہ، نووت تازہ مگر تم چھہ تمہ نشہ تھ پھر ان فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنْبَاءٌ مَّا كَانُوا بِهِ یستہزؤن چنانچہ یوت پیٹھ واژ نوبت کہہ سموول قرآن مجید چھو اپز لیس اعراضک ہیر سم درجہ چھو۔ اتھ گن نظر کرت ووتھ یہ

يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمَا أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ  
 ذَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾  
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٩﴾ وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنْ  
 أَنْتَ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا وَمَا نَحْنُ  
 بِمُعَذَّبِينَ ﴿١١﴾ وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿١٢﴾ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي  
 فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ﴿١٣﴾ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذُنُوبٍ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿١٤﴾

پھو پڑ۔ امہ علاوہ کمر کہ اتھ قرآن مجیدس ٹھٹھ۔ ووان ولتہ تمن نشہ خبر تمہہ <sup>حقیق</sup> تھہ سم ٹھٹھہ  
 کران آس یلہ غدائس گر فٹاگر دھن اولم یروالی الارض کم انبتنا فیہا من کل ذوج کریمو کیاہ  
 سموو چھنایت زمینس کن کہ کاتیاہ رتین رتین کلین ہند قسم کھا راسہ امہ زمینہ منزہ <sup>ان</sup> فی ذلک لایۃ  
 بیشک چھہ اتھ منزسانہ قدر تک نشانہ <sup>وماکان اکثرہم مؤمنین</sup> مگر سمو اندرہ چھہ اکثر سم نہ پڑھی  
 کران چھہ <sup>وان ربک لہو العزیز الرحیم</sup> پڑ پاٹ ٹھند پروردگار چھو سیٹھاہ غالب سیٹھاہ رحمتہ وول  
 واذ نادى ربک موسیٰ سم کن لوکن فرماو تمہہ ویکک قصہ تھہ تم عبرت رٹن۔ یئلہ آلو دیت ٹھند  
 پروردگار کن موسیٰ کلیم اللہس <sup>ان انت القوم الظالمین</sup> کہ تبلیغ کرنہ گڑھونا فرمان قومس <sup>قوم فرعون</sup>  
 یعنی فرعونہ سندس قومس <sup>الذین کفروا</sup> کیاہ کھوژان چھنا تم سانس قہرس تہ غضبس۔ کیاہ چھہ روزن  
 ناتم سانہ نافرمانی نشہ <sup>قال رب انی اخاف ان یکذبون</sup> حضرت موسیٰ ان دوپ خدایا بو چھوس گڑھنہ  
 خیطرہ تیار مگر بیم جھم زہ تم مازان مہ اپز یور <sup>ویضیق صدري</sup> سمہ سیت سپدہ تنگ دل میون ولا  
 یطلق لسانی مہ پھورہ نہ زیوہ کہنی <sup>فارسل الی ہارون</sup> پس سوز کھناژہ وحی میانس برادر ہارونس۔  
 سوتہ کرہ من پیغمبر تو پتہ پچہ ہاسوتہ مہ سیت۔ ہر گاہ تم ایز یور زانہ من سو کرہ ہامہ تصدیق <sup>ولہم علیٰ</sup>  
 ذنوب فآخاف ان یقتلون <sup>بیہ چھومہ</sup> بیاکھ عرض کہ مہ پیٹھ چھو ٹھند اکھ جرماہ۔ مہ چھو خطرہ گڑھان  
 تمہہ موکھ مازن تم مہ <sup>قال کلک</sup> اللہ تعالیٰ ان فر مووس تہ بنہ نہ ہرگز۔ ژہ نیکی نہ اتھ لاگت کاہنہ۔

قَالَ كَلَّا، فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ﴿۱۵﴾ فَاتِيَا فِرْعَوْنَ  
 فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶﴾ أَنْ أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۱۴﴾  
 قَالَ أَلَمْ تُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿۱۸﴾  
 وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿۱۹﴾ قَالَ فَعَلْتُمَا  
 إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿۲۰﴾ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْ فَوَهَبَ لِي  
 رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۱﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ

اسے کمر عطا ہارون علیہ السلام پیغمبری فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ پس گدھو توہیہ دوشوے  
 میان آیات یتھہ آس تہ ہجھہ نصرت و امداد کرنہ خیطرہ توہیہ۔ سیت بوزان تھند گفتگو فَايَاتِيَا فِرْعَوْنَ  
 فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ تہس و اتو تہجہ دوشوے فرعونس نشہ۔ توپتہ ڈیوس اس دوشوے  
 ہجھہ ژہ گن پیغمبر پروردگار عالیہ سیدہ طرفہ دعوت توحیدس سیت یہ حکم یتھہ آمت کہ اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا  
 بَنِي إِسْرَائِيلَ آزاد کرکھ ژہ بنی اسرائیل ظلمہ نشہ بیہ دہ ژہ تمن اصلی وطن شامس گن اسہ سیت  
 گدھنہ۔ تم دوشوے گئے فرعونس نشہ۔ تہس و اتو تھک یہ پیغام۔ فرعون بوزہ یہ سارے تھہ توپتہ  
 ووتھ موسیٰ علیہ السلامس گن اوڈہ ہو۔ تہجہ چھوہ حض آمت۔ قَالَ أَلَمْ تُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا  
 مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ فرعونس دو تہس ژہ ماچھک سوی تہس اسہ زیوہ ونہ پانہ پیٹھ پرورش کمر مرچھہ۔ بیہ  
 رُوڈکھ ژہ اسہ نش پنہ عمرہ ہندین واریمین ڈرہن وَفَعَلْتَ فَعَلْتِكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ بیہ  
 کوزت ژہ سو بجرم تہس ژہ کوزتھ (یعنی اکھ قبطی، سانہ قومک اکھ شخص مور تھن) بیہ چھکھ ژہ توپتہ تہ  
 تھر ان نعمت کرہ و نیو آندرہ سان احسانات چھی نہ یادے۔ بیہ چھو کھ از آمت مہ پن تابع بناونہ خیطرہ  
 قَالَ فَعَلْتُمَا إِذَا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ موسیٰ علیہ السلامس دو تہس واقعی مہ کمر سو حرکت، مہ گدیہ سو  
 غلطی۔ عمد اکورنہ مہ سو شخص قتل بلکہ کریومہ تہس تہزہ غلطی پیٹھ تہنہہ مگر سو مود تھی سیت۔ قصد  
 مورنہ مہ سو فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ توپتہ یلہ توہیہ

۲۲) **أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ** ۲۳) **قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ** ۲۴)  
**قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ** ۲۵)  
**قَالَ لَيْسَ حَوْلَهُ إِلَّا السَّمْعُونَ** ۲۶) **قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ**  
**الْأَوَّلِينَ** ۲۷) **قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ** ۲۸)  
**قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ**

کھوٹس بوٹو کس توہمہ نشہ۔ جس کمر مہ عطا بن پروردگار ن عقل، علم تہ دانشمندی ہیہ کورٹس بوٹو پیغمبر و  
 آندرہ **وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَّدتَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ** کیا ہیہ چھا کا نہہ نعمتھاہ سمیک ژہ مہ پیٹھ احسان  
 چھو کہ تھاوان کہ میون قوم بنی اسرائیل بنو تھن ژہ پٹن غلام۔ تم تھاو تھکھ ژہ بدس ذلتس تہ طلّس  
 آندر۔ تھندین لوکتین اوسکھ ماران۔ تمی موکھ ترودس بو صندوقس منز دریاؤس آندر۔ ژہ برو تھکن یلہ  
 بو پوکس ژہ کھور تھس بو تہ پتہ کمر تھم پرورش۔ امہ پرورشہ ہند اصلی وجہ چھو چون ظلم۔ امہ پرورشہ  
 ہند کیاہ چھو کہ ژہ مہ پیٹھ احسان تھاوان۔ بلکہ پڑہ ہی ژہ پنہ نین ناشائستہ حرکاتن تہ کچھ کائین پیٹھ نام  
 تہ پشیمان سپدن۔ چھہ خبر کاتیاہ لوکت مار تھکھ ژہ کوتاہ خون ناحق کوز تھ ژہ **قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ**  
**الْعَالَمِينَ** کتھ ڈالتھ وون فرعون سورب العالمین تھہ گوی۔ سمندہ طرفہ تھہ سوزنہ آمت چھوہ **قَالَ**  
**رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ** موسیٰ علیہ السلام و دہس سوگو آسمان تہ زمین ہیہ  
 تمہہ سارگوی پروردگار ہیہ تمن منز باگ چھو۔ ہر گاہ توہمہ یقین کزن چھوہ تیلہ چھوہ کافی پتہ رب العالمینہ  
**سُئِدَ قَالَ لَيْسَ حَوْلَهُ إِلَّا السَّمْعُونَ** فرعون لوگ و منہ تمن لوکن تم تس لہد پک آس بہت چھوہ نا بو زان  
 ہیہ شخص کیاہ چھو میانہ سوالک جواب و نان۔ میون سوال چھو کیاہ تال، جواب چھو کیاہ تال۔ **قَالَ**  
**رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ** موسیٰ علیہ السلام و دہس سو چھو تھند تہ ہیہ تھندین مالین ہڈین ہند  
 پروردگار۔ **قَالَ إِنَّ رَسُولَكُمْ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ** فرعون لوگ دہنہ پنہ نین حاشیہ نشین کن  
 طعنہ ووان کہ ہیہ تھند پیغمبر کس توہمہ کن سوزنہ آمت چھوہ چھو پنز پاٹ موت تہ دیوانہ **قَالَ رَبُّ**

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذَتِ الْهَاطِئِرِيُّ لَاجْعَلْتِكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ ①  
 قَالَ أَوْ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ ② قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ  
 الصّٰدِقِينَ ③ فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ ④ وَنَزَعْنَا مِنْهَا  
 فَإِذَا هِيَ بَيْضٌ لِلنَّظِيرِينَ ⑤ قَالَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنَّ هٰذَا سِحْرٌ  
 عَلِيمٌ ⑥ يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ⑦  
 قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حٰشِرِينَ ⑧ يَا تَوَكَّلْ بِالْحَلِ

المشرق والمغرب وما بينهما إن كنت تعلمون موسى عليه السلام دوہس سو چھو مشرق و مغرب یہ  
 تمہ سارکوی یہ تھہ در میان چھو پروردگار۔ ہر گاہ توہم عقل چھہ۔ تمی عقلہ سیت ماہو یہ تھہ قَالَ لَئِن  
 اتَّخَذَتِ الْهَاطِئِرِيُّ لَاجْعَلْتِكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ فرعون و توہہ موسیٰ علیہ السلام کن ہر گاہ تہمہ و رای  
 بیا کہ معبوداہ ٹھہراوہ کن تیلہ سوزت بوڑہ قید خاس اندر۔ تمسند قید خانہ اوس سیٹھاہ مشکل۔ زمینس  
 منز اوس اکہ سرون چھہ۔ تھہ منز آس دوان بڑ تھہ قیدس۔ تہہ اوس سو مڑ تھہ کھارنہ یوان قَالَ  
 أَوْ لَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ موسیٰ علیہ السلام دوہس کیاہ بوئے تہ پنے نس نبوتس پیٹھ من دلیل پیش گرہ  
 توہہ تھو کھہ تہمہ قید خاس منز قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِينَ فرعون و چھہ ہر گاہ تہمہ  
 پوزونہ و نیواندرہ چھوہ کمر و تیلہ دلیل پیش فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ آتی تراو کہ پن لورہ کن  
 چھہ۔ یکدم سپد تھہ وارہ کارہ بوڑاژدہا۔ وَنَزَعْنَا مِنْهَا فَإِذَا هِيَ بَيْضٌ لِلنَّظِيرِينَ بیہ کوڑو کہ نالہ منز پن  
 اتھہ۔ آتی آوسو بوزنہ سارنی و چھہ و نین نیہ نیہ کرہ ون۔ لوک تھارے تہ تزل قَالَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنَّ هٰذَا  
 لَسِحْرٌ عَلِيمٌ فرعون لوگ و ننے پنے نین حاشیہ نشین، اہل دربارن، بیشک بیہ چھو ضرور سیٹھاہ ماہر ساحر  
 يُرِيدُ أَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ اُمسند ارادہ چھو کہ تہمہ کڈوہ بیہ پنے وطنہ منزہ نس کیاہ  
 چھو تہمہ مشورہ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حٰشِرِينَ تمودوہس مہلت و تہ آس یعنی موسیٰ  
 علیہ السلام بیہ امسندس باہس۔ بہندس مارنس یا قید کرنس اندر مہ کر تہ جلدی۔ تہ سوزن پنے نین



سَحَّارٍ عَلَيْهِمْ ۞ فَجَمِعَ السَّحَرَةُ لِبِيقَاتٍ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ۞ وَقِيلَ  
 لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ۞ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ  
 كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ۞ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّا  
 لِنَأْتِيكَ بِآيَاتٍ لِّتُنَافِئَ الْغَالِبِينَ ۞ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَلِئِيمِ  
 الْمُتَّقِرِينَ ۞ قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوْمَا أَلَأَنْتُمْ مُلْقُونَ ۞  
 فَالْقَوَا أَجَابَ لَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ  
 الْغَالِبُونَ ۞ فَالْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ۞

مملکت کین مختلف شهرن گن اک جماعتها سم ساحرن ته جادوگرن سونبرن ته جمع گرن یا تُو اُو بَحْل  
 سَحَّارٍ عَلَيْهِمْ تم و اتانون ژه نسه ساری مملکت ساحر ته جادوگر فَجَمِعَ السَّحَرَةُ لِبِيقَاتٍ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ تو  
 پته آی سونبرنه ساری جادوگر تمه دوهه کس و قس پیته ئس مقرر کر نه اوس آنته۔ سوگو کاجک وقت۔  
 ۱۰ محرم روز عاشورائس تحن یوم الزیته، عید بند دوهه اوس وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ بیه آوونه  
 مبصره کین لوکن فرعونه سنده طرفه کیاه نهبه ته سپد یوه جمع اتھ جمعس سیت لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ  
 كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ بیته آس فیصله کمرت جادوگرن هنز پیروی گرو۔ هر گاه آس غالب سپد فَلَمَّا جَاءَ  
 السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ اده یله ساحر آی تم لگ ونه فرعونس۔ اِنَّا لِنَأْتِيكَ بِآيَاتٍ لِّتُنَافِئَ الْغَالِبِينَ  
 کیاه اسه میلیا ضرور مزور ته انعام هر گاه آس غالب سپدو قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَلِئِيمِ الْمُتَّقِرِينَ فرعون  
 دوکبه آه مزور، بیه سپد و نهه میانیمقر بو آندره قَالَ لَهُمْ مُوسَى الْقَوْمَا أَلَأَنْتُمْ مُلْقُونَ حضرت موسی  
 آن دوپ تمن ساحرن تراو و کیاه و نهه تر اون فالقوا أجا لهه و عصی هه و قالوا بعزته فرعون انا  
 لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ توپته تراوه تموپننه رزه ته پننه لوره۔ سمه جاده که اثره سیت سرف ہی معلوم سپدان  
 آس۔ بیه لگ دپنه فرعونه سنده اقبالک و نهه قسم که آس چهر زورس منز۔ فتح آسه سانی فالق می موسی

فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سِجْدِينَ ﴿۳۷﴾ قَالُوا مَتَابِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۸﴾ رَبِّ مُوسَى  
 وَهَارُونَ ﴿۳۹﴾ قَالَ أَمْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنِ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي  
 عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۖ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ  
 مِنْ خِلَافٍ وَلَا وَصِيلَ لَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۴۰﴾ قَالُوا الْأَضْيِرُّنَا إِنَّا إِلَى  
 رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ﴿۴۱﴾ إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا إِنَّ كُنَّا أَوَّلَ  
 الْمُؤْمِنِينَ ﴿۴۲﴾ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِلَيْكُمْ مُنْبَعُونَ ﴿۴۳﴾

عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ توپتہ تروو موسیٰ علیہ السلامن پٹن عصا حکم خدا۔ اتی ہیوت تم  
 تراوان تراوانی نیجھہ لاؤن تہ سو زوی یہ تموتیار کورمت اوس فَأَلْقَى السَّحْرَةَ سِجْدِينَ یہ وہجھتہ پئے  
 جادوگر و سٹھ سجدہ کس حاکس اندر قَالُوا مَتَابِ رَبِّ الْعَالَمِينَ دینہ لنگب اسہ کمر پڑھ رب العالمینس۔  
 فرعون دو پگ یہ ہٹھو توہمہ میوئی ونان تمودو کھس رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ حضرت موسیٰ تہ حضرت  
 ہارونہ سندس پروردگارس قَالَ أَمْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ أَدْنِ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ  
 فرعون دو پگھ توہمہ ہٹھوہ پڑھ کمر حضرت موسیٰ اس میانہ حکم دنہ بروٹھس۔ پز پاٹ یہ ہٹھو ٹھند  
 بوڈسار۔ سم ٹھہ تہ پچھہ نامت ہٹھوہ کمر۔ وون سپدہ توہمہ معلوم توہمہ کیاہ بنوہ لَأَقْطَعَنَّ أَيْدِيَكُمْ  
 وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَا وَصِيلَ لَكُمْ أَجْمَعِينَ بوڈ ٹھند اتھہ تہ کھور پھرت یعنی دھٹھن اتھہ تہ  
 کھور کھسور۔ یہ دموہ وہ ٹھہ ساری پھہہ قَالُوا الْأَضْيِرُّنَا تموسا و دو کھس اسہ ہٹھونہ تھ اندر کاہنہ  
 نقصان تہ ضرر إِنَّا إِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ اس چھہ بیشک پنہ نس پروردگارس نشہ وائون إِنَّا نَطْمَعُ أَنْ  
 يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطِيئَاتِنَا إِنَّ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ اس چھہ یقینا امید تھاوان کہ اسہ کرہ مغفرت پروردگارسون،  
 سائین سارنی گنہن۔ کیا زہ اس چھہ گوڈکی پڑھ کرہ ون اس معبود بر کھس۔ فرعونہ سدہ جماعتہ منزہ  
 وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِلَيْكُمْ مُنْبَعُونَ توپتہ سوز اسہ حکم موسیٰ علیہ السلامس کہ نیرورات  
 گیت میان بندہ ہٹھ یعنی بنی اسرائیل۔ پز پاٹ توہمہ یہہ پتر دورنہ فَأَرْسَلْنَا فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ

فَارْسَلْ فِرْعَوْنَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ ﴿۵۳﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ  
 قَلِيلُونَ ﴿۵۴﴾ وَإِنَّهُمْ لِنَالِغَائِظُونَ ﴿۵۵﴾ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَازِرُونَ ﴿۵۶﴾  
 فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَدَّتِ وَعَيُونٍ ﴿۵۷﴾ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ﴿۵۸﴾ كَذَلِكَ  
 وَأُورَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۵۹﴾ فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ ﴿۶۰﴾ فَلَمَّا تَرَاءَ  
 الْجَمْعُ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّ الْمَدْرُكُونَ ﴿۶۱﴾ قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ  
 رَبِّي سَيَهْدِينِ ﴿۶۲﴾ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ

حاشِرِينَ توپتہ سوز فرعون شہر نہ گام نہ کن اکہ جماعتھا لو کہ سویر نہ خیطرہ تے تھے فوجس منز بھرتی  
 کرنہ خیطرہ۔ زبان اوسکھہ اِن هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ \* وَإِنَّهُمْ لِنَالِغَائِظُونَ یہ موسی علیہ السلامہ سنز  
 جماعت پچھہ سانین لو کن نسبت سیٹھاہ کم جماعتھاہ تھے پچھہ آسہ تنگ کران اِن تھ کہھاران۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ  
 حَازِرُونَ بیہ پچھہ آس ساری سلاح سامانہ پیرت اکہ فوجاہ اللہ تعالیٰ فرماوان فَأَخْرَجْنَاهُمْ کس کھڑا سہ  
 تم یعنی فرعون تہ تہنزہ لشکر مِّنْ جَدَّتِ وَعَيُونٍ گمو گمو باغوتہ ناگہ رادو منزہ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ  
 بیہ گمو گمو خزا تو منزہ بیہ نفیس نفیس لریو جالو اندرہ کَذَلِكَ اکہ گویہ وَأُورَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ بیہ بناؤ  
 تمن لرین جاین تہ باغن ہند مالک بنی اسرائیل فَاتَّبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ چنانچہ فرعون تہ تمسنز جماعت  
 تہ لشکر دورے بیہ تمن پتہ توپتہ وات تمن نشہ آفتاب کھسحہ وقتہ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعُ توپتہ بلہ  
 دوشون جماژن اکہ اکس پیٹھہ نظر بیہ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَى إِنَّ الْمَدْرُكُونَ نہ پتہ لگ موسی علیہ السلام سہ  
 لو کہ آس آی تھندس آتھس اندروون کیاہہ نہ قَالَ كَلَّا موسی علیہ السلامن دوپھ تہ بنہ نہ ہر گز کھنہ  
 صورتس اندر۔ آسہ ہیکن نہ تم ہر گز رٹھہ اِن مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ پنز پاٹ مہ سیت پچھو میون پروردگار  
 سواہو مہ امہ دریادہ اندرہ نیر بچو تھہ فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ کس سوز آسہ حکم  
 موسی علیہ السلامس کہ تھہ لایوہ لورہ سیت دریادہ کس آس تھنڈ۔ اتی لای تموتھنڈ دریادوس فَانْفَلَقَ فَكَانَ  
 كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ اتی سپد دریادوس باہ حصہ۔ پریتھہ حصاہ اوس یوڈ بوڈ کوباہیو۔ وَأَرْزَلْنَا

فَانْفَقَتْ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ ۗ (۴۳) وَأَرْزَلْنَاهُمْ الْآخِرِينَ ۗ (۴۴)  
 وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ أَجْمَعِينَ ۗ (۴۵) ثُمَّ آغْرَقْنَا الْآخِرِينَ ۗ (۴۶)  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً ۗ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۗ (۴۷) وَإِنَّ رَبَّكَ  
 لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۗ (۴۸) وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ۗ (۴۹) إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ  
 وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۗ (۵۰) قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُّ لَهَا عِلْفِينَ ۗ (۵۱)  
 قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ۗ (۵۲) أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يُضُرُّونَ ۗ (۵۳)  
 قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۗ (۵۴) قَالَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا

الْآخِرِينَ توپتے وائے ناواسہ بچھ تو مٹھی بیاکھ جماعت یعنی فرعون تہ تہز لشکر وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ  
 أَجْمَعِينَ بیہ ڈیت اسہ نجات موسیٰ علیہ السلام تہ بیہ تم تمن سیت آس تمن ساری کما آغْرَقْنَا  
 الْآخِرِينَ توپتے پھاٹواسہ دو تم جماعت یعنی فرعون تہ تہز لشکر إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً پز پاپ اتھ منز  
 ہجو خدا یہ سندہ قدر تک بوڈ نشانہ تھہ پاپ گو غرق فرعون تہ تہز جماعت وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ  
 آسنہ تمو منزہ زیادہ با ایمان وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُو الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بیشک تھند پروردگاری ہجو سیٹھاہ رحمتہ  
 وول، سیٹھاہ غالب گرفتار چھونہ کران مگر پن دلیل تہ بخت پورہ کتر تھ وَأَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ بیہ  
 بوزہ ناووکھ حض تم کافر حضرت ابراہیمہ سند قصہ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ یلہ تمو دوپ پنہ  
 نس ماس بیہ پنہ نس قوس بیہ کتھ چھوہ تھہ پرستش کران قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُّ لَهَا عِلْفِينَ تمو  
 دوپس آس چھہ عبادت کران پوتلین ہنز توپتے چھہ تمنی برو تھہ کنہ عبادتس منز دوہ گذاران قَالَ هَلْ  
 يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ابراہیم علیہ السلام دو چھہ کیاہ تم چھا تھند بوزان ییلہ تھہ تمن کینہہ مذگان  
 چھوہ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يُضُرُّونَ کیاہ بیہ چھا تم توہہ پرستش کر نس پیٹھ کاہنہ نفاعا وائے ناوان یا پرستش نہ  
 کر نس پیٹھ کاہنہ ضرراہ وائے ناوان۔ تمو دوپک یہ کتھہ چھنہ کہ یم کیاہ چھہ کینہ بوزان۔ یا نفع تہ ضرر

كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿۵۵﴾ أَنْتُمْ وَأَبَاؤُكُمْ الْأَقْدَمُونَ ﴿۵۶﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ  
 لِّيَ إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿۵۷﴾ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿۵۸﴾ وَ  
 الَّذِي هُوَ يَطْعَمَنِي وَيَسْقِينِ ﴿۵۹﴾ وَإِذَا امْرَأَتْهُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿۶۰﴾  
 وَالَّذِي يُبَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿۶۱﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي  
 خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿۶۲﴾ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ﴿۶۳﴾  
 وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿۶۴﴾ وَاجْعَلْنِي مِنْ

واتناوان۔ قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون بلکہ وہ چھہ اسہ پن مال بدبب تھے باطھ تمن پر ستن  
 کران قال افریتکم تا کنتم تعبدون \* انتم و اباؤکم الاقدمون ابراہیم علیہ السلامن دو کچھ تہہ و چھوہ  
 تمن ہنز حالت بغور تمن تہہ پر ستن کران چھوہ بیہ تمن ہنز پر ستن تہند مال بدبب کران آس۔ تم  
 ماچھہ کنہ نفع و ضررک اختیاریہ وال فانهم عدو لى الارباب العالمین بیشک ہم معبودان باطل ہچھہ  
 میانہ حقہ باعث ضرر تہ نقصان۔ تہندہ حقہ تہ چھہ تم باعث ضرر تہ نقصان۔ غرض تہنز عبادت ہس  
 کرہ تسندہ حقہ چھہ تم باعث ضرر مگر نہ عالمین ہند پروردگار۔ سو چھو پنہ نین عبادت کرہ و نین ہند  
 دوست۔ تہنز عبادت کران چھہ باعث نفع تہ فاسیدہ۔ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ہم یو پیدہ کورس  
 بیہ ہم ساری پیدہ کورسوی چھوہ میانین مصلحتن کن و تھ ہاوان وَالَّذِي هُوَ يَطْعَمَنِي وَيَسْقِينِ بیہ ہس  
 مہ کھیوان تہ چاوان چھوہ وَإِذَا امْرَأَتْهُ فَهُوَ يَشْفِينِ بیہ یلہ یو بیمار بیوان چھوس سوی چھم بلراوان تہ  
 شفا ووان وَالَّذِي يُبَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ بیہ ہس مہ ہمہ دوہہ مارہ توپتہ کریم دوبارہ بیہ زندہ قیامتگ دوہ  
 وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ بیہ چھہ تمسنز مہ سیٹھاہ امید کہ سوکرہ مہ مغفرت  
 میانین گو نہن قیامتہ کہ دوہہ۔ ہم صفات و کمال خدایہ سند بیان کران کران سپد ابراہیم علیہ السلامس  
 حضورک مقامہ حاصل توپتہ ہیو کچھ مناجات کران رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّالِحِينَ ای میانہ  
 پروردگارہ عطا کر مہ کمال علم بیہ کمال عمل۔ بیہ ملنا و مہ قر بہ کن تہندین مقامس اندر۔ نیوکار بدنن

وَرَثَةَ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿۸۵﴾ وَأَعْفِرُ لَابِئِئِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۸۷﴾  
 وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿۸۶﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿۸۸﴾ إِلَّا  
 مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿۸۹﴾ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿۹۰﴾  
 وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَوِينَ ﴿۹۱﴾ وَقِيلَ لَهُمْ أَيُّكُمْ تَعْبُدُونَ ﴿۹۲﴾  
 مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ﴿۹۳﴾ فَلْيَكْبُرُوا فِيهَا  
 هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿۹۴﴾ وَجُنُودَ إبْلِيسَ اجْمَعُونَ ﴿۹۵﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا

سیت، عالیشان انبیاءان سیت و اجعل لی لسان صدق فی الاخرین یہ تھا میوں ذکر خیر پتہ اوہ  
 وین اندر سٹھ تم میان متابعت کرن، میانی و تہ یکن۔ مہ بہ تمہ سیت زیادہ ثواب و اجعلنی من ورثة  
 جنة النعيم یہ کرمہ نعمت کین جنن ہندیوار تو اندرہ و اعفیر لابیئِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ یہ  
 کر مغفرت میانس ماس ایما تک توفیق دت کیاز سو چھو بیشک گر ہو اندرہ و لا تخزنی یوم یبعثون  
 یہ مہ مندہ چھادمہ قیامتیکہ دوہہ سہمہ دوہہ ساری یلن یہ زندہ کمرت قبر و منزہ ٹلنہ۔ تمہہ دوہے مول میوں  
 کافرن سیت دو تھہ، جہنم سوزنہ یہ سہو چھہ میانہ خیطرہ سخت بے عربتی یوم لا یفعم مال و لا بنون  
 سہمہ دوہہ نہ کاہنہ نفع تہ فاسیدہ دیہ نہ مال تہ نہ خر گبر إلا من آتی اللہ بقلب سلیمہ مگر فاندہ بہ تس  
 ٹس بیتھ یہ اللہ تعالیٰ اس بروٹھ کن اور دلاہ، ٹس دل، شر کہ نشہ، کھرہ نشہ، نفاقہ نشہ تہ خلاف شرع  
 بچھہ عقاید و نشہ پاک آسہ و ازلفت الجنة للمتقین یہ سہمہ دوہہ بچھہ یہ انہ جنت پر ہیز گارن نشہ  
 و برزت الجحیم للغویں یہ سہمہ دوہہ نیر کڈنہ یہ جہنم کمر ہن تہ کافرن ہندہ خیطرہ وقیل لهم ایما  
 کتھم تعبدون \* من دون اللہ یہ ایہ و نہ تم نکتہ چھوہ تم معبودان باطل سمن ہنز تہہ پرستش کران  
 آسہوہ خدا ٹس و رای هل یصرونکم او ینتصرون کیاہ تم ہیچہ توہہ از کینہہ مدد کمر تھہ یا توہہ سیت  
 روتت یا پائس ہیچنہ کاہنہ فاندہ او اتاوا تھہ، پٹن پان ہیچنہ بچاوت قلبیکوا فیہا ہم و الغاؤون توپتہ یلن  
 بچھہ کن تراونہ تم معبودان باطل تہ تم گمراہ لوکھ تہ سم تہنز پرستش کران آس نار جہنم اندر و جنود

يَخْتَصِمُونَ ﴿۹۷﴾ تَاللَّهِ إِنَّ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۹۸﴾ اذْ نُسُوْكُمْ رَبِّ  
 الْعَالَمِينَ ﴿۹۹﴾ وَمَا ضَلْنَا اِلَّا الْمَجْرُمُونَ ﴿۱۰۰﴾ فَمَا النَّامِنُ شُفْعِينَ ﴿۱۰۱﴾  
 وَلَا صِدْقِي حَمِيمٍ ﴿۱۰۲﴾ فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنُ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۰۳﴾  
 اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَايَةً وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۰۴﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ  
 لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۰۵﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوْحٍ اِلْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۰۶﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ  
 اٰخُوهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۱۰۷﴾ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اٰمِيْنٌ ﴿۱۰۸﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَ

ابليس اجعون بیہ بیہ تراوند جہنمس اندر البیہ سز ساری لشکر قالوا وھم فیہا یختصمون دین تم  
 کافر یلہ تم نار جہنمس اندر پنہ نین معبودان باطلن سیت آس گفتگو تہ ہرہ ہر کران تالللہ ان کنا لفی  
 ضللی شیین قسم خدا پر پاٹ آس آس نہ گرا ہی بیٹھ اذ نسووکم رب العالمین یلہ اسمہ عبادتس منز  
 پروردگار عالمیس سیت تو بہر برابر تھاوان آس وما ضلنا الا المجرمون آس کمر نہ گمراہ مگر سمو بڈیو  
 جرمو سم اصلہ پاٹ گمراہی ہند بائی آس فما لنا من شفیعین \* ولا صدیقی حمیمو وون ہونہ سانہ خیطرہ  
 کانہہ شفاعت کرہ وناہ لیس اسمہ موکلاوہ ہا۔ بیہ نہ چھو اسمہ کانہہ وئی دوستاہ لیس سون غم کھیہ ہاشریک غم  
 سپدہ ہا۔ فلوان لنا کرۃ فنکون من المؤمنین وون ہے اسمہ بیہ دنیا س کن وانہل سوزہ ہن آس بندہ ہو  
 بایمانواندرہ یوتان گوختم ابراہیم علیہ السلامہ سند تقریر۔ اسمہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان ان فی ذلک  
 لایۃ ہنز پاٹ یتھ قصص منزہ چھو یوڈ نشانہ خدایہ سندہ قدر تک بیہ بڈ عبرت حق ژھاٹدہ و نین ہندہ  
 خیطرہ وما کان اکثرہم مؤمنین بیہ آس نہ تمومکہ کیو کافر واندردہ زیادہ لوک بایمان وان ربک  
 لہو العزیز الرحیمو بیہ چھو یقینا ٹھند پروردگار سیٹھاہ زبردست تہ غالب۔ تمن بیہہ ہاسوگر فتار عذاب  
 کمر تھ۔ سیٹھاہ رحمتہ وول تہ چھو۔ تمی ہتھک مہلت ووان۔ کذبت قوم نوح المرسلین ساری پیغمبر  
 ایزرانت کور انکار نوح علیہ السلامہ سند قوم من تہ (اکس پیغمبر س انکار کزن گو ساری پیغمبر ن انکار کزن)  
 اذ قال لھم اھوھم نوح الاتتقون یلہ تمن وون ہای بن نوح علیہ السلامن، کیاہ تجہ چھوہ نا کھو ژان

اَطِيعُونَ ﴿۱۰۸﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ  
 الْعَالَمِينَ ﴿۱۰۹﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۱۱۰﴾ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ  
 الْأَرْذَلُونَ ﴿۱۱۱﴾ قَالَ وَمَا عَلِمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۱۲﴾ إِنْ حِسَابُهُمْ  
 إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿۱۱۳﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۴﴾ إِنْ أَنَا  
 إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿۱۱۵﴾ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَبُوحْ لَتَكُونَنَّ  
 مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿۱۱۶﴾ قَالَ رَبِّ إِنْ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿۱۱۷﴾

خدا جس اتنی کہ رسولِ امینؐ بیشک ہو، تجھوس توہمہ کن امانتدار پیغمبر۔ خدایہ سند پیغام تجھوس ہو توہمہ  
 و اتنا وان پورہ پورہ کی زیادتی و رای۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا۔ کھس کھوڑ تو خدا جس بیہ مانو میون حکم تہہ  
 منز تہند فائیدہ تجھو وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ۔ بو تجھوس نہ توہمہ منگان تبلیغہ خیطرہ کا نہہ مژ وریاہ لَنْ  
 أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ میان مژ ورجھہ کانسہ منہ رب العالمیس و رای فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا  
 بیہ تجھسوہ و مان کھوڑو خدا جس بیہ مانو میان تہہ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ۔ تمولو کو دو کھس کیاہ  
 اَس کرو یہ ژہ پڑہ۔ حالانکہ چان پیر و چھہ کمینہ لو کھ۔ شریضن تجھو عار گڑھان تمن سیت موافقت  
 کرنس اندر قَالَ وَمَا عَلِمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ حضرت نوحن دو کھہ مہ کیاہ چھہ خبر تمن ہنز کام نہ  
 کاروبار کیاہ تجھو۔ دینس اندر چھہ شریف نہ کمین برابر إِنْ حِسَابُهُمْ إِلَّا عَلَى رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ۔ تمن نشہ  
 حساب ہیون چھہ میانس پروردگارہ سز گوم۔ کیاہ رت گڑھہ باہر گاہ توہمہ زانن حجہ ہا وَمَا أَنَا  
 بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہر گز پانس نشہ دور کمرت با ایمان تہہ ایمان اتنو یامتہ انتو إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ  
 مُبِينٌ۔ بو تجھوس صاف صاف نمن پاٹھہ نیم کرہ ون میون فرض منصبی تجھو پورہ سپدان۔ تہہ و چھو پانہ  
 پن نفع و نقصان قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَبُوحْ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ۔ تمودو کھس ای نوح ہر گاہ ژہ  
 پتھہ روز کھنہ سمو کھوننہ تیلہ پتھہ ژہ ضرور سنگسار کرنہ۔ تو پتہ یلہ واریاہ کال گو تمن تہہ پات اصرار  
 کران کھر و انکار س بیٹھہ قَالَ رَبِّ إِنْ قَوْمِي كَذَّبُونِ۔ حضرت نوحن کور دُعا ای میانہ پروردگارہ



فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۸﴾  
 فَانجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ ﴿۱۱۹﴾ ثُمَّ اغْرَمْنَا بَعْدُ  
 الْبَاقِينَ ﴿۱۲۰﴾ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۲۱﴾ وَ  
 إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۲۲﴾ كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۲۳﴾ إِذْ  
 قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۲۴﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۲۵﴾  
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۱۲۶﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ

میون قوم چھونہ میون کینہہ تہ مانان فَاافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا لہس کرژہ مہ منزرتہ تمن منز کاہنہ فیصلاہ۔ یعنی تم کرکہ عذابس گر فثار وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ تمہ عذابہ نشیر وہمہ نجات بہ تمن لوکن تم مہ سیت چھہ بایمانو اندرہ فَاانجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ لہس کوراسہ تہندس دُعاس اجابت۔ نجات دیت اسہ نوح علیہ السلامس بہ تمن تم سیت آس تھہ ناوہ اندر لہسہ لوکو، حیوانوتہ جانوروسیت بہرت آس ثُمَّ اغْرَمْنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ تو پتہ پھاٹواسہ باقی ساری اِنِّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ بیشک تھہ واقفس منزرتہ چھہ بند عبرت باوجود آل آس نہ تمہو مکہ کیو کافر و اندرہ زیادہ بایمان و اِنِّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بیشک چھو تو ہندوی پروردگار سیٹھاہ غالب سوہیچہ ہا تمن گر فثار کثرت تہ سزاوت مگر سو چھو سیٹھاہ رحم کرہ و ن۔ تمی چھو سو تمن مہلت دو ان کَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ قوم عادن تہ کور انکار۔ سارنی پیئمبرن۔ تم اپزیر زانتہ۔ اِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ یلہ تمن فرمو بای ہن ہود علیہ السلامن، کیاہ تہہ چھوہ نا کھو ژان خدا لہس اِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ پز پات بو چھوس توہہ گن پیئمبراہ امانت دار فَااتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا لہس کھو ژو تہہ خدا لہس بہ کمر و میان فرمانبرداری وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ بو چھو سونہ منگان توہہ امہ خیطرہ کاہنہ مزوریہ یا کاہنہ عوضاہ اِنِّ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ میان مزور چھنہ کانسہ منہ رب العالمینس وری۔ اَتَّبِعُوا بِحُلِّ رَبِّكَ لِيَعْلَمُونَ کیاہ توہہ چھوہ پرتھہ تھرہ جاہیہ پیٹھہ اکھ عمارتاتہ تہ

الْاَعْلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۲۸﴾ اَتَّبِعُونَ بِكُلِّ رِيٍّ آيَةً تَعْبَثُونَ ﴿۱۲۸﴾ وَ  
 تَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿۱۲۹﴾ وَاِذَا ابْطِثْتُمْ بَطِثْتُمْ  
 جَبَّارِيْنَ ﴿۱۳۰﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ﴿۱۳۱﴾ وَاتَّقُوا الَّذِيْ اَمَدَّكُمْ بِمَا  
 تَعْمَلُوْنَ ﴿۱۳۲﴾ اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَبَيْنٍ ﴿۱۳۳﴾ وَجَدْتِ وَاَعْيُوْنَ ﴿۱۳۴﴾ اِنِّيْ  
 اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۳۵﴾ قَالُوْا سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَوَعَطْتَ  
 اَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَعِيْطِيْنَ ﴿۱۳۶﴾ اِنَّ هٰذَا اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۱۳۷﴾ وَمَا

یادگار ہ بناوان یہ چھوہ اکھ یہ ہودہ کاماہ کران سمیک نہ کاہنہ فاندہ چھو۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ یہ چھوہ بچہ بچہ کرہ لدان حالانکہ امہ خوتہ کم جاین ہیچہ ہاتوہہ آرام حاصل سپدت، دن توہہ ہیچہ دنیاء سی اندر ہمیشہ چھوروزن وَاِذَا ابْطِثْتُمْ بَطِثْتُمْ جَبَّارِيْنَ یہ بیلہ توہہ کانہہ پیٹھ اتھہ تراوان چھوہ تیلہ چھون سورٹان ظالمانہ تہ جابرانہ، چونکہ شرک تہ ہیچہ اخلاق چھہ خدائس ناپسند۔ سمو چیزوسیت سپد یوٹھہ عذابس گرفتار فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ پس کھوڑو خدائس یہ ماؤمیون، کیاڑہ بوچھوس ٹھند بیٹبر۔ وَاتَّقُوا الَّذِيْ اَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْمَلُوْنَ یہ کھوڑوٹس خدائس سم توہہ مدد کورہ تمو چیزوسیت سم ٹھہ زمان چھوہ اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَبَيْنٍ \* وَجَدْتِ وَاَعْيُوْنَ مدد کورہ چارپاء وسیت، اولادوسیت یہ باغو تہ ناگہ رادوسیت۔ نعمزہ عطا کرہ دن ئس آسہ ہنز گڑھہ فرمانبرداری کرن ٹھندین حکمن گڑھہ نہ مخالفت کرن اِنِّيْ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ مہ چھو خوف تہ اندیشہ ٹھندہ حقہ کہ ہرگاہ ٹھہ پتھ روزونہ نافرمانیوشہ اللہ تعالیٰ کرہ تلمہ گرفتار بڈہ دُخَس عذابس سوگو قیامتک دودہ قَالُوْا سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَوَعَطْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَعِيْطِيْنَ تمولو کو دوپ ہس جواب آسہ نشہ چھو دوشوے کتھہ برابر۔ ڈہ وعظ پرتہ یامتہ پرتہ۔ اَس روزونہ پنہ نیو کامیونٹہ پتھ اِنَّ هٰذَا اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ یہ وعظ و نصیحت کتر تھ کھوڑہ ناؤن۔ یہ چھونہ مگر برو ٹھین لوکن ہند عادت۔ پریٹھ و قس منز آئی لوکھ نیوٹک دعوائے دتھ تے کتھہ دنان۔ ڈہ چھوک آسہ عذابس کھوڑہ ناوان وَمَا نَحْنُ بِبَعْدِ بَيْنٍ آسہ لیہ نہ ہرگز عذاب

فَنَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿۱۳۸﴾ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكَنَّهُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَ  
 مَا كَانَ أَكْثَرَهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۱۳۹﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۴۰﴾  
 كَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۴۱﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ الْأَتَقُونَ ﴿۱۴۲﴾  
 إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۴۳﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا عَمْرُوهُنَّ ﴿۱۴۴﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ  
 مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۴۵﴾ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هُمْ بِمَنَآ  
 أَمِينٌ ﴿۱۴۶﴾ فِي جَدَّتِ وَعْيُونٌ ﴿۱۴۷﴾ وَزُرُوعٌ وَنَخْلٌ طَلَعُهَا هَضِيمٌ ﴿۱۴۸﴾  
 وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ﴿۱۴۹﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا عَمْرُوهُنَّ ﴿۱۵۰﴾

کر نہ کینبہ تہ۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكَنَّهُمْ کس زون تموسو یعنی ہود علیہ السلام اپز پور۔ اده گال اسمہ تم لو کہ  
 عذاب صرصرہ سیت۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لآيَةً وَ مَا كَانَ أَكْثَرَهُمْ مُّؤْمِنِينَ بیشک آتھ معاہلس منزجھ  
 بدعبرت کہ احکام الہین منزجھاٹنگ انجام کیاہ چھو آسان۔ باوجود آن آس نہ مکہ کیو کافر و آندرہ زیادہ  
 ایمان نہ وں وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بیہ چھو پزپاٹ ٹھندوی پروردگار سیٹھاہ غالب سوہیجہ ہاتمن  
 عذابس گرفتار کتر تھ۔ مگر سو چھو سیٹھاہ رحم کرہ وں۔ نمی چھو کھ مہلت ووان کَذَّبَتْ ثَمُودُ الْمُرْسَلِينَ  
 قوم ثمودن تہ زان پیغبر اپذیر۔ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ صَالِحٌ الْأَتَقُونَ یلیہ تمن وون ہای بن صالح علیہ  
 السلامن کونہ چھوہ کھوژان خدائس۔ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ہز پزپاٹ بوہ چھوس ٹھند اما ندر پیغبر  
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا عَمْرُوهُنَّ کس کھوژو خدائس بیہ مانو میون وعظ و نصیحت۔ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ  
 بوہ چھوس نہ توہہ منگان وعظ و نصیحت کر کس پیٹھ کاہہ مزوریاہ تہ عوضاہ۔ لَنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ  
 میان مزور تہ عوض چھوہ نہ کاہہ پیٹھ مگر رب العالمینس وراے۔ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هُمْ بِمَنَآ أَمِينٌ کیاہ تہہ ایوہ  
 تراونہ دنیاء کین چیزن اندر بے فکر۔ فِي جَدَّتِ وَعْيُونٌ یعنی باغن تہ ناگہ رادان منز۔ وَزُرُوعٌ وَنَخْلٌ  
 طَلَعُهَا هَضِيمٌ بیہ زراعتس تہ خضر باغن منز کمن ہند میوہ چھو لطیف۔ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا

وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿۱۵۱﴾ الَّذِينَ يَفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ  
لَا يُصْلِحُونَ ﴿۱۵۲﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿۱۵۳﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ  
مِثْلُنَا فَأْتِ بآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۵۴﴾ قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ  
لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ﴿۱۵۵﴾ وَلَا تَسْوَأُوا بِسُوءِ فَيَأْخُذْكُمْ  
عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۵۶﴾ فَعَقَرُوْهَا فَاصْبِرُوا لِمِ مِثْنٍ ﴿۱۵۷﴾ فَأَخَذَهُمُ

فُرْيَيْنَ بِيَهُ جِوَهَرٌ كَهْنٌ كَوْهِنٌ مَنْزِلُهُمْ غَرَهُ بِنَاوَانِ، خَوْشٍ پَاهُ، تَهِيكَانِ تَهِيكَانِ - تَوَهْمٌ جِوَهَرٌ خَبْرٌ يُوَهِّبُ  
حَالِ رُوزِهِ هَمِيْشَه فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاطِيعُونَ نَبَسٌ كَهْوٌ وَرُخْدَانَسٌ بِيَهُ مَانُو مِيُونِ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ  
بِيَهُ مَهْ يُوْزُومَن لُو كُنْ هَنْزَه كَهْمَه سَمِ نَافَرْمَانِي اَنْدَر حِدَه ؤَلْمَتِ جِهَه الَّذِيْنَ يَفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ  
سَمِ زَمِيْنَسِ پِيْطِه تَبَاهِي جِهَه كِرَانِ، مَعْنَه قِسْمَه اِصْلَاحِ جِهَه كِرَانِ قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ تَمُو كَافِرُو  
دُو نَبَسِ اَسْمَه جِوَهَرِ تَرَانِ فِكْرَه زَه جِوَهَرِي جُو دَ كَرْنَه اَمْت - سَمْمَه سِيْتِ عَقْلَه اَنْدَر فُتُوْر جِوَهَرِي اَمْت - بِيْغَمْبَرِي هِنْدِ  
دَعْوَاهُ جِوَهَرِ كِه كِرَانِ مَا اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا زَه جِوَهَرِ كِه نَه مَكْرَ اَسِي هِيُو اَكِه اِنْسَانَه - اِنْسَانِ چِهَ تَبِيْغَمْبَرِ اَسَانِ  
فَاْتِ يَا يَتُو اِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِيْنَ اِدَه هَاوَه اَسْمَه كَا نَهَبِه اِنْسَانَه جِوَهَرِ كِه زَه پُوْزُوْنَه وَنِيُو اَنْدَرَه قَالَ هَذِيْه  
نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبٌ يَوْمٍ مَعْلُومٍ صَاحِبِ عَلَيْهِ السَّلَامِنِ دُو چِهَه يَه وَوَتْنِ يُوَسَه تَهْمَزَه خَوَاشِيَه مَطَابِقِ  
مِيَانِه دُعَا سَمِيْتِ خَدَامِنِ اَسْمَه پَلَه مَنْزَه پِيْدَه كَمَر - يَه جِوَهَرِ مِيَانَسِ بِيْغَمْبَرِ اَسْمَسِ پِيْطِه بُوْؤ نَشَانَه تَه دَلِيْل -  
اَسْمَدِيْنِ حَقُوْقِنِ هِنْدِ كَمَرِ زَه خِيَال - اَسْمَدِه خِيَطِرَه جِهَه اَكِه دُو بَه تَرِيْشِ چِيْخِ وَار - بِيَه گِيَه تَهْمَدِيْنِ جَانُوْرِنِ  
هِنْدِه تَرِيْشِ چِيْخِ وَار - بِيَه دُو بَه وَلَا تَسْوَأُوا بِسُوءِ فَيَأْخُذْكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ بِيَه گُوَهْمَه تَهْمَدِيْنِه قِسْمِگِ  
تَكْلِيْفِ وَاتَاوَنَه خِيَطِرَه نَسِ اَتَهْمَه تَه لَآگِن - هَر گَاهَه تَه كُوْرُوَه تُو بَه تَبِيْلَه رَؤُوَه تُو بَه اَكِه پَدَه دَبْگِ عَذَاب - تَمُوْنَه  
كُوْر تَهْمَدِه رَسَالَتِگِ تَصْدِيْقِنَه كُوْر كِه اَمَسِ دُو نَبَسِه هِنْدِ كَا نَهَبِه رِعَايَتِ فَعَقَرُوْهَا بَلَكِه مَار تَمُو سُو وُوْتْنِ نَكِه  
نَارِ زَهْمَه - تُو پِيْتَه سِيْدِ تَمْنِ اَثَارِ عَذَابِ ظَاهِرِ فَاصْبِرُوا لِمِ مِثْنٍ تَمِ وَچِهَتِ سِيْدِ تَمِ نَادَمِ تَه پَشِيْمَان -  
فَاَخَذَهُمُ الْعَذَابُ تَمْمَه پَتَه رِثِ تَمِ عَذَابِنِ تَمِيْگِ تَمْنِ وَعَدَه تَهَاوَنَه اَوْسِ اَمْت - اِنْ فِيْ ذٰلِكَ اٰيٰةٌ

الْعَذَابُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۵۸﴾  
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۵۹﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۶۰﴾  
 إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿۱۶۱﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿۱۶۲﴾  
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿۱۶۳﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ  
 إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶۴﴾ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶۵﴾ وَ  
 تَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لَكُمْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ﴿۱۶۶﴾  
 قَالُوا لَنْ نَمُوتَ أَبَدًا وَآلَاءُ الْغَايِبِ يُكْفَرُونَ ﴿۱۶۷﴾ قَالُوا لَنْ  
 نَمُوتَ أَبَدًا وَآلَاءُ الْغَايِبِ يُكْفَرُونَ ﴿۱۶۸﴾ قَالُوا لَنْ نَمُوتَ أَبَدًا وَآلَاءُ  
 الْغَايِبِ يُكْفَرُونَ ﴿۱۶۹﴾ قَالُوا لَنْ نَمُوتَ أَبَدًا وَآلَاءُ الْغَايِبِ يُكْفَرُونَ ﴿۱۷۰﴾

پنزپاٹ بیٹھ دا قعس منزرتہ چھہ بڈ عبرت و ماکان اکثرہم مؤمنین باوجود آل اُون نہ ایمان مکہ کیو  
 اکثر لوگو و ان ربک لہو العزیز الرحیم پنزپاٹ ٹھند پروردگار چھو سیٹھاہ غالب۔ سووی یشہہ ہا  
 تمن سارنی کرہ ہا عذابس گرفتار۔ سو چھو سیٹھاہ رحمتہ و ول تمہ سبہہ و زن تمن مہلت کذبت قوم  
 لوط المرسلین قوم لوطنہ زان پیغمبر ایزیر۔ اذ قال لہم اخوہم لوط الاتقون یلہ تمن دوپ  
 ہنن ہا لوط علیہ السلامن کیاہ ٹہہ چھوہ ناخداہس کھوژان اذ قال لہم رسول امین بیشک بو چھو س ٹھند  
 امانتدار پیغمبر۔ فاتقوا اللہ و اطیعوا ہس کھوژو ٹہہ خدائس بیہ کمر و ٹہہ میان اطاعت نہ  
 فرمانبرداری۔ میانو ہدایا تو موجب ہجو و ما اسئلکم علیہ من اجر بو چھو سونہ منگان توہہ امہ و عظ و  
 نصیحتہ خیطرہ کاہنہ مزور ان اجری الا علی رب العالمین میان مزور چھنہ منہ کاہنہ رب العالمین  
 و رای۔ اتاتون الذکران من العالمین کیاہ ٹہہ چھوہ ساری دنیا منزہ مردن کھہ یت ہنن شہوت پورہ  
 کران و تذرؤن ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بیہ چھو کھہ ٹہہ پنہہ زنانہ سمہ ٹھند پروردگارن ٹھندہ خیطرہ  
 پیدہ گرہ مژہ چھہ نظر انداز کران بل انتم قوم عدون ٹہہ چھوہ واقعی حد انسانیتہ نشہ ڈلہ دن تو ماہ قالوا

لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ ﴿۱۳۸﴾ رَبِّ نَجِّنِي وَاهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ ﴿۱۳۹﴾ فَجَبَّيْنَاهُ وَ  
 اَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ﴿۱۴۰﴾ اِلَّا جُوزًا فِي الْغَيْرِينَ ﴿۱۴۱﴾ ثُمَّ دَرَرْنَا الْاٰخِرِينَ ﴿۱۴۲﴾  
 وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِينَ ﴿۱۴۳﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَايَةً  
 وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۱۴۴﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهٗوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۴۵﴾  
 كَذَّبَ اصْحٰبُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۱۴۶﴾ اِذْ قَالْ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا  
 تَتَّقُوْنَ ﴿۱۴۷﴾ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اٰمِيْنٌ ﴿۱۴۸﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنَ ﴿۱۴۹﴾

لِيْن لَمْ تَنْتَهَ يَلُوْطُ التَّكُوْنُ مِنَ الْمُفْرَجِيْنَ بِهٖ لِحْسٍ دِيْنِهٖ تَمَّ لَوْ كَهٗ اَلْ لُوْطُ هَرَّ گَاهٖ نَهٗ پَهْتَهٗ رُوْز كِهٖ اَسِهٖ  
 نَصِيْحَتِ كَرْنَهٗ نَشَهٗ تِيْلَهٗ كِيَهٗ ژَهٗ ضَرُوْرَهٗ سَمِهٖ شَهْرَهٗ مَنَزَهٗ نِيْر كُذْنَهٗ قَالْ لُوْطُ عَلِيَهٗ السَّلَامِنْ دُوْجَهٗ يُوْجَهٗ سُوْسَ نَهٗ  
 تَهْمَزَهٗ هَامِدَهٗ هَمَكِ سَبِيْهٖ تُوْبَهٗ نَصِيْحَتِ كَرْنَهٗ نَشَهٗ پَهْتَهٗ رُوْز وَنَ كِيَا زَهٗ اِنِّيْ لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِيْنَ يُوْجَهٗ سُوْسَ ضَرُوْر  
 تَهْمَزَهٗ هَامِدَهٗ پَهْتَهٗ كَامِهٖ هَمْدَ سَخْتِ دُشْمَنْ- مَهٗ چَهْوِ خَطْرَهٗ خَبْر تَهْتَهٗ بِلَا يَهٗ گُوْهٗ تَهْتَهٗ گَر فَتَار- رَبِّ نَجِّنِيْ وَاهْلِيْ وَمِمَّا  
 يَعْمَلُوْنَ اِي مِيَا نِهٖ پُرُوْر دِ گَارَهٗ مَهٗ تَهٗ مِيَا نِيْنَ خَاصِ مُتَعَلِّقِيْنَ وَهٗ نَجَاتِ تَهْمَهٗ پَهْتَهٗ كَامِهٖ هَمْدَهٗ سَزَا عَ نَشَهٗ يُوْسَهٗ  
 يَم كَرَنْ- فَجَبَّيْنَاهُ وَ اَهْلَهُ اَجْمَعِيْنَ \* اِلَّا جُوزًا فِي الْغَيْرِيْنَ يَسْ دِيْتِ اَسَهٗ نَجَاتِ لُوْطِ يَنْبَغِيْرَسَ بِهٖ تَهْمَدِيْنَ  
 خَاصِ مُتَعَلِّقِيْنَ سَارِيْ اَكْسَ جِهٖ زَانَهٗ وَرَا اِي يُوْسَهٗ اَتَ رُوْز وَرُوْز وَ اَلِيْنَ مَنَز- يَعْنِيْ لُوْطُ عَلِيَهٗ السَّلَامَهٗ سَنَزَ اَشِيْنَ  
 ثُمَّ دَرَرْنَا الْاٰخِرِيْنَ تُوْپِيْتَهٗ گَالِ اَسَهٗ بَاتِيْ سَارِيْ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا بِهٖ تَرَا وَهٗ اَسَهٗ تَمِنْ پِيْئَهٗ كَهٗ رُوْدُكِ  
 پَاهْتَهٗ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذِرِيْنَ يَسْ كُوْتَا هٗ پَهْتَهٗ اَوْسَ تَمِنْ لُوْكِنْ هَمْدَ رُوْدُ تَمِنْ گُوْذَهٗ خَلِيَهٗ سَهْدَهٗ عَذَا بَكِ نِيْم  
 كَرْنَهٗ آيُوْد- اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَايَةً پَهْرَ پَاٲِ اَتَهْدَ وَاقْعَسَ مَنَزِيْتَهٗ پَهْتَهٗ بَدُ عِبْرَتِ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ  
 بَاوْجُوْدِ اَلِ اُوْلَنْ نَهٗ اِيْمَانِ مَكِهٖ كِيَا اَكْثَرُ كَا فِرُوْ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهٗوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيْمُ بِهٖ چَهْوِ پَهْرَ پَاٲِ تَهْمَدِيْ  
 پُرُوْر دِ گَارِ سِيْطَا هٗ زُوْر اُوْر- سُوْ يِهِيْجَهٗ بَا تَمِنْ سَارِيْ گَر فَتَارِ عَذَا بَ كَثْرَت- سُوْ چَهْوِ سِيْطَا هٗ رَحْمَتَهٗ دُوْلِ تَهْمَهٗ  
 مَوَكُهٗ وَثَرُ كَهٗ مَهْلَت- كَذَّبَ اصْحٰبُ لَيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ اِپْزَا نِ اَيْكِهٗ وَ اَلِيُوْتَهٗ يَنْبَغِيْرَسَ اِذْ قَالْ لَهُمْ  
 شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ يِلَهٗ تَمِنْ دُوْپِ شَعِيْبِ عَلِيَهٗ السَّلَامِنْ تَهْمَهٗ چَهْوَهٗ نَاخِدِ اَيْسَ كَهْوِ اَنْ اِنِّيْ لَكُمْ

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۸۰﴾  
 أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿۱۸۱﴾ وَزُونُوا بِالْقِطَاسِ  
 الْمُسْتَقِيمِ ﴿۱۸۲﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ  
 مُفْسِدِينَ ﴿۱۸۳﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْحَبْلَةَ الْأُولَىٰ ﴿۱۸۴﴾  
 قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿۱۸۵﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَ  
 إِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿۱۸۶﴾ فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ  
 إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿۱۸۷﴾ قَالَ رَبِّيَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۸۸﴾ فَكَذَّبُوهُ

رَسُولٌ آمِينَ ﴿۱۸۰﴾ پزیرا پات بو جهوس نهند اما نذار پیغمبر فاتقوا الله واطیعون ایس کھو ژو خدا ایس بیه ما نو  
 میون وعظ و نصیحت و مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ. بو جهسوه نه منگان تو بهم آتھ بیٹھ کا نه مزور یا نه بد لاه  
 إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ میان مزور جهنه کا نه مطر رب العالمین و رای اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا  
 تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ بو جهسوه تو بهم و نان نهه آسو پور بینان۔ هرگز مه آسو لو کن جهون مینته  
 نقصان و اتاوان و زُونُوا بِالْقِطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ بیه آسو رت پاھسن تر کره سیت تولاان۔ ڈنجہ  
 مه آسو ماودوان۔ هرمانه مه آسو جهسن تھوان و لَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ بیه مه آسو لو کن هندی چیزان  
 منزکی کران و لَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بیه مه آسو تولاان ملکس منزقنه ته فساد و اتقوا الذي  
 خَلَقَكُمْ وَالْحَبْلَةَ الْأُولَىٰ بیه آسو کھو ژان ایس خدا ایس سم نهه ته پیده کرده بیه تم ساری لو که تم  
 تو بهم بروئھ آس قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ تمولو کو دو بهس ای شعیب ژه بیٹھ جهو بو وجود کر نه  
 اُمت۔ سمه سیت چانه عقله جهو قور اُمت تمی جهو که کران نبوتک دعواے۔ ژیه کیاه خصوصیت پتھ  
 سانه خوته و مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا و إِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ژه جهو که اسی بهو که انسانه آس جهت  
 ژه زانان ضرور اپزونه و نیواندره فَاسْقِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ایس تراوه ناوته

فَاخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظَّلَاةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۱۸۹﴾  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۹۰﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ  
 لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۱۹۱﴾ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۹۲﴾ نَزَلَ بِهِ  
 الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿۱۹۳﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ  
 عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ﴿۱۹۴﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿۱۹۵﴾ أَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ آيَةٌ أَنْ  
 يَعْلَمَهُ عَلَمُوا ابْنِي إِسْرَائِيلَ ﴿۱۹۶﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿۱۹۷﴾

اسم پیٹھ آسمانج اکھ پھلاہ چھو کھے ژہ پوزوند و نیو آندرہ۔ اسم سپدہ معلوم کہ واقعی چھو کھ ژہ پیٹھ۔ قَالَ  
 رَبِّي عَلَّمَهُ بِمَا تَعْلَمُونَ حضرت شمعین دو پھکھ میانس پروردگار س چھہ پور خبر تهنزن سارنی کامین هنز  
 فَلَذَٰلِكَ فَخَذَ اللَّهُ مِنْهُمُ الْعَهْدَ يَوْمَ الظَّلَاةِ کس یلہ تمو حضرت شعیب علیہ السلام تہ زون اپزورادہ رث تم  
 سانبانہ کہ ڈوبک عذابن۔ ابرس اکس تل آئی وکنہ تمی منزہ پیو تمن پیٹھ نازک رُود تمی سیتہ دد تم  
 ساری إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ یہ اوس اسم بڈہ ڈوبک عذاباہ تمن پیٹھ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ ہنز پاٹ  
 اتھ منز پھہ عبرت وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ باوجود آل کرنہ مکہ کیوا اکثر لو کو پڑھ وَإِنَّ رَبَّكَ  
 لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ بیشک چھو تھند پروردگار سیٹھاہ غالب۔ سوئی یشہہ ہاتمن محہ کین لوکن تہ گاہا۔ سو  
 چھو سیٹھاہ رحمتہ وول۔ تمی ڈر نکھ مہلت وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ بیہ چھو بیشک یہ قرآن مجید  
 پروردگار عالیئہ سندہ طرفہ نازل کرنہ آمت تَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ یوہے ہتھہ دو تھہ امانتدار ملکھاہ  
 اکھ سانہ حممہ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ تو پتہ ترودن تھندس وکس پیٹھ ہتھہ توہہ سپد یوہہ بیم  
 کرہ و نیو آندرہ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ یوہے قرآن مجید چھو صاف عربی زبویہ فصیح و بلیغ وَإِنَّهُ لَفِي  
 زُبُرِ الْأَوَّلِينَ بیشک بیہ چھو آمت امہ قرآن مجیدک تذکرہ کرنہ بو ٹھمن کتانن اندر اَوَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ آيَةٌ أَنْ  
 يَعْلَمَهُ عَلَمُوا ابْنِي إِسْرَائِيلَ کیاہ تھندہ خیطرہ پھٹناہ کتھہ یو ڈو ٹھانہ تہ بڈو دلیل کہ زانان چھہ اتھہ قرآن  
 مجیدس یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیلن ہند عالم وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ \* فَقَرَأَهُ



فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۹۹﴾ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ  
 الْمُجْرِمِينَ ﴿۲۰۰﴾ لِيُؤْمِنُوا بِهِ حَتَّىٰ يَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿۲۰۱﴾ فَيَأْتِيَهُمْ  
 بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۲۰۲﴾ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ ﴿۲۰۳﴾  
 أَقْبِعْنَا عَينَا سَتَعَجِلُونَ ﴿۲۰۴﴾ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿۲۰۵﴾ ثُمَّ  
 جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿۲۰۶﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ ﴿۲۰۷﴾  
 وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قُرْبَىٰ إِلَّا هَا مُنْذِرُونَ ﴿۲۰۸﴾ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا

عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ بیه ہر گاہ نازل کرہ ہوں اُس یہ قرآن مجید کانسہ عجمی شخصس بیٹھ سؤی یلہ  
 تمَن بیٹھ ہر ان آسہائس تہ انہ ہن نہ سم لوکھ ایمان عنادہ موکھ۔ کَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ  
 الْمُجْرِمِينَ سٹھ پاتِ جھو آسہ انکار یکہ نوومت نافرمان ہندین وکن اندر لِيُؤْمِنُوا بِهِ حَتَّىٰ  
 يَرُوا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ تم کرن نہ پڑھ تھہ قرآن مجیدس یوتان نہ ڈیشن کڈر عذاب مرتکہ وقتہ یا عالم  
 برزخس منزیا آخرتس اندر فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ سؤی عذاب یککھ واتھہ بھگتہ مگہ۔ تمَن  
 ترہ نہ فحری یہ عذاب کتہ آوتہ کپار آؤ۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ تمہ ساتہ دین کیاہ آسہ یہ  
 ناہملتھاہ دنہ۔ مگر تمہ ساتہ نہ آسہ وقت مہلتگ نہ قول ایمانگ أَقْبِعْنَا عَينَا سَتَعَجِلُونَ کیاہ سم  
 چھاسانس عذائس جلد ژھانڈان سمیک مطلب جھو انکار کرن اَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ \* ثُمَّ  
 جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ژری ونسہ ای بوزونہ ہر گاہ آس تمَن مہلت دت فاندہ ٹلناؤو کھ وار تمَن ور ہن تہ  
 توپتہ ولتہ تمَن سؤ عذاب سمیک تمَن وعدہ تھاونہ اوس یوان مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَمْتَعُونَ کیاہ نفع دیہ تمَن  
 کھیون دُرین ہند فاندہ ٹلناون۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قُرْبَىٰ إِلَّا هَا مُنْذِرُونَ بیه کمر نہ آسہ مگتہ شہرک لوک  
 ہلاک۔ مگر گوڈہ آئے تمَن رنشرہ بیم کرنہ خیطرہ پیغمبر۔ یلہ نہ تمومون آدہ آو تمَن عذاب سوزنہ ذِكْرَىٰ  
 وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ تمَن لوکن ژتیس پاونہ خیطرہ۔ آس آس نہ کانسہ نسبت ظلم کرہ وان وَمَا تَزُولُ بِوِ  
 الشَّيْطَانِ \* وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ بیه سپدنہ یہ قرآن مجید ہتھ نازل شیطان ہم کابن رنشرہ یوان

ظَلِيمِينَ ﴿٢٠٩﴾ وَمَاتَزَلَّتْ بِهِ الشَّيْطَانُ ﴿٢١٠﴾ وَمَا يَنْبَغِي لَهُمْ وَمَا  
يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعُزُولُونَ ﴿٢١٢﴾ فَلَا تَدْعُ مَعَ  
اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ ﴿٢١٣﴾ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ  
الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾  
فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بِرَبِّي مُّهْتَمِعُونَ ﴿٢١٦﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ  
الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ الَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقَلُّبِكَ فِي السُّجُودِ ﴿٢١٩﴾


چھ نہ ہرہ تمن کہ یہ کتاب ہتھ کیا میں کیا زہ یہ کتاب چھ ہیرہ پیٹھ بون تان ہدایت۔ شیطان چھ ہیرہ  
پیٹھ بون تان ضلالت و گمراہی۔ اتھ چھونہ تمن سیت واٹھ کا نہ۔ نہ نہیں تم یرھ کتاب ہتھ دستھ  
إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعُزُولُونَ کیا زہ تم چھ یہ قرآن مجید بوزنہ نشہ دور آمت تھاونہ۔ تمن چھو امہ نشہ  
ٹھور آمت کرنہ۔ لہذا چھو یہ قرآن مجید خدایہ سندی طرفہ توہمہ پیٹھ نازل آمت کرنہ یار سؤل اللہ  
فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ پس مہ حض کمر و عبادت تہمہ معبود بر حقس  
سیت ہیرہ کانہ معبودہ سبز۔ تمہ سیت ایوہ توہمہ تہ عذاب کرنہ حالانکہ توہمہ اندر چھونہ نعوذ باللہ، نہ  
شرکگ احتمال نہ عذابگ۔ مگر ہر گاہ بفرض محال توہمہ نسبت یہ حکم آو کرنہ بنن ہنز چھنہ کھہ کانہ  
وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ای مٹو کھ کمر و تہمہ بیم گوڈہ کھہ آشناؤن پنہ نین وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ  
لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ہیرہ نمر او و تہمہ شفقت و مہربانی ہنز چھہ تمن لوکن ہندہ خیرہ سمو تہنز  
مُتَابِعَتِ كَمَرٍ بِالْإِيمَانِ أُنْدَرَهُ أَدَه تَمِ أَشْنَا آسْتَن يَامَتَه آسْتَن فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بِرَبِّي مُّهْتَمِعُونَ ہر گاہ تم  
لو کہ تمن توہمہ بیم کوروہ تہنز نا فرمانی کرن اده تم تہند آشناؤ آسْتَن يَامَتَه آسْتَن تہمہ فرماو کھہ یو چھوس  
تہنزہ کامہ نشہ سیٹھہ ہیزار۔ مہ چھونہ توہمہ سیت کانہ لین دین تہ تعلق وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ  
ہیرہ کمر و تہمہ اعتماد تہ ڈکھ کس پروردگار س پیٹھ کس سیٹھہ غالب تہ سیٹھہار حمتہ وول چھو۔ تہندہ تکلیف  
واتواؤ ک مہ کمر و کانہ اندیشہ الَّذِي يَرِيكَ حِينَ تَقُومُ کس پروردگار توہمہ وچھان چھو نمازہ ک

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۲۲۰﴾ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَدْعُلُ الشَّيْطِينُ ﴿۲۲۱﴾  
تَدْعُلُ عَلَىٰ كُلِّ آقَاكٍ أُنِيمٍ ﴿۲۲۲﴾ يَلْقَوْنَ السَّمْعَ وَآكُثْرَهُمْ كَذِبُونَ ﴿۲۲۳﴾  
وَالشُّعْرَاءُ يُتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿۲۲۴﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ  
يَهَيِّمُونَ ﴿۲۲۵﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿۲۲۶﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

دو تھکھ وقتہ وَقَلْبِكَ فِي السُّجُودِ بِسْمِ سَمِعَ سَاتَ تَمَّہ نماز پر وہ زمین سمیت کھسان وسان چھوہ۔ رگوع و  
بجود کران چھوہ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بیشک پزیراٹ اللہ تعالیٰ چھو سو روی بوزہ ون، سو روی زانہ ون  
هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَدْعُلُ الشَّيْطِينُ ای لو کو کیاہ بو کروہ تو بہ خبر شیطان کس پیٹھ چھو وسان تَدْعُلُ عَلَىٰ  
كُلِّ آقَاكٍ أُنِيمٍ وارہ بوزو تم چھہ وسان تمنی پیٹھ سم گوڈہ پیٹھہ اپزیرتہ بدکار آسن يَلْقَوْنَ السَّمْعَ  
وَآكُثْرَهُمْ كَذِبُونَ سم شیطان ہمدہ خبرہ وسمکھ وقتہ کن دار تھ چھہ تمہ کھتہ تہ خبرہ بوزان۔ تو پتہ  
لو کن تمہ خبرہ وسمکھ وقتہ پنہ طرفہ واریاہ اپزملہ ناوت تمہ کھتہ ونان۔ نبی کریمہ سُنَدَاتِ بَابِر كَاتِ وَتَهْو  
تمہ نشہ میسر انتہ پاک۔ امہ سیت سپد تمن نشہ کہانتگ خبہ دور۔ پتھ رود شاعر تیک خبہ تھہ متعلق چھو اللہ  
تعالیٰ فرماوان وَالشُّعْرَاءُ يُتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ بیت وزن والین ہمزہ وتہ چھہ پکان تہ سم وتہ ذلت  
آسن۔ یعنی بیت تہ خیالی مضامین ون، باتہ پاٹھ یا عبار کس اندر یعنی نظم یا نثر و ون چھو تمن لو کن ہند کار۔  
سم تھتھہ و رای خیالی مضامین ونان آسن۔ تمن مضمون نہ واقعس سیت کاہنہ تعلق آسہ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ  
فِي كُلِّ وَادٍ يَهَيِّمُونَ ژہ تھکھنا و چھان اے مخاطب تم شاعر چھہ خیالی مضامین ہندس پر پتھہ میدانس  
منز حیران۔ کھونت کھیوان مضمون تلاش کرنہ خیطرہ۔ یلہ تمن کاہنہ مضموناہ بنان چھو، چونکہ سو چھو  
آسان اکثر خلاف واقع وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ تمی سبہ چھہ تم ونان تی یہ نہ تم کران چھہ۔  
مضامین قرآنیہ پتھہ ہتھہ بانس متعلق آسن تم ساری چھہ محقق۔ خیالی ہرگز چھنہ تم۔ لہذا نبی کریم صلی  
اللہ علیہ وسلم شاعر ون۔ یہ گو محض جنون تہ دیوانہ گی۔ اللہ تعالیٰ ان دژنہ سانس نبی کریم صلی اللہ  
علیہ وسلم منظوم کلام کر کس پیٹھہ قدر تھی۔ چونکہ تمن آیات کریمین منز آہ شاعران ہنز مذمت

وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا  
ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴿۲۶﴾

کرنہ تھے منز آئی ساری شاعر۔ چونکہ بعضی شاعر نے ہند کلام ہجو عین حکمت میں پور محقق۔ تمہہ موکھہ  
کمر اللہ تعالیٰ ان تم مستغنی فرمویں اِلَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر نہ تم شاعر سمو خدائیس پڑھ  
کمر تھہ رثہ عملہ گرہ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا میں کڑکھ یاد معبود برحہ سُنَد بکثرت وَأَنْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا  
ظَلَمُوا میں ہیوت تمہو بدلہ کافر ان رثہ پنہ نیو شعر وسیت تمن پیٹھ ظلم سپدنہ پتہ۔ کیا زہ کافر و اوس  
تمن رنگارنگ ظلم و اتناومت لہذا ہیوتک تمہو تمیگ بدلہ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ  
برونٹھ مکن زانن ظالم سمو خدا یہ سُنَد تہ پیغمبر خدا یہ سُنَد حق یا حقوق العباد ظلم کثرت ضایع کمر کہ تھہ  
انقلابہ چہ جایہ بین تم و اتناونہ، مرنہ پتہ۔ سو جای گئیہ نار جہنم۔



## سُورَةُ النَّاسِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 طَسَفَتْ تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ ۱ هُدًى وَبُشْرَى  
 لِلْمُؤْمِنِينَ ۲ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَ  
 هُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ ۳ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ  
 زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ۴ أُولَئِكَ الَّذِينَ  
 لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسِرُونَ ۵

طس سم چھہ حروف مقطعات یمن ہند معنی زانہ پانہ خدا تِلْكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُبِينٍ سم آیات  
 توہہ پیٹھ نازل کرنہ آی۔ سم چھہ آیات کریمہ قرآن مجید کہ تہ واضح کتابہ ہند ہُدًى وَبُشْرَى  
 لِلْمُؤْمِنِينَ سم آیات چھہ بوڈ ہدایت تہ بذبشارت باایمان ہندہ خیطرہ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ  
 وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ تمن لوکن ہندہ خیطرہ سم نماز چھہ برپا تھاوان یوسہ بدنی عباد توآندرہ ہند عبادت  
 چھہ، بیہ سم زکوٰۃ چھہ ادا کران یوسہ مالی عباد توآندرہ ہند عبادت چھہ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ بیہ  
 چھہ تم آخر تک پور یقین تھاوان نس ترپو اصولوآندرہ اکہ اہم اصول چھو۔ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  
 بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ بیشک سم لوکہ پڑھہ چھہ کران آخرتس تہزن چھہ  
 کائین دُیت اَسہ زینت تمی چھہ تم گراہی منز بوڈمت، حیران سپد مت۔ نہ چھہ تہند عقائد دُرست نہ  
 اعمال۔ تمی چھہ تم قرآن مجیدس تہ مانان تہ پڑھہ کران۔ لہذا تہہ پاٹھ قرآن مجید چھو باایمان بشارت  
 دوان تہہ پاٹھ چھو کافران وعید بوزہ ناوان أُولَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ سم لوکہ گئے تم  
 یہندہ خیطرہ چھہ عذاب چھو دُنیا س اندر مریمہ وقتہ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْآخَسِرُونَ بیہ آسن گئے

وَإِنَّكَ لَتَلْقَىٰ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿۶﴾ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ  
 لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَائِئِيكُمْ مِنْهَا بَخْبَرٍ أَوْ أَنبَأْتُكُمْ بِشَهَابٍ قَبَسٍ  
 لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿۷﴾ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ  
 مِنْ حَوْلِهَا وَسَبَّحَ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿۸﴾ يُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ

آخر کس اندر سے زیادہ تاوان زد۔ کیا زہ تم و اتن نار جہنمیں اندر سمہ منزہ نہ زانہہ تہ موک لہ۔ وَإِنَّكَ  
 لَتَلْقَى الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ مگر بیشک تو بہ نشہ چھو بہ قرآن مجیدس سیٹھاہ حمہ والس خدایہ  
 سندہ طرفہ واتاوندہ یوان۔ امہ نعمتہ کس سرورس اندر مہ سپد ونہہ ہرگز نمگین۔ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي  
 آنَسْتُ نَارًا تریس پاوونمہ وقتک قصہ یلہ موسیٰ علیہ السلامن دوپ پنہ نس عیاس یلہ تم شہر مدینہ  
 پیٹھہ والس یوان آس تو پیہ وات کوہ طورس قریب اکس جلیہ سردی ہندہ وقتہ یلہ تمین مصریح وتھ اتھہ  
 آس نہ یوان۔ ڈوپنگ واقعی مہ وچھ کوہ طورہ طرفہ نازاہ اکھ زوتان سَائِئِيكُمْ مِنْهَا بَخْبَرٍ أَوْ أَنبَأْتُكُمْ بِشَهَابٍ  
 قَبَسٍ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ نہہ ٹھہرو۔ بوگڑھہ توٹس۔ یو یمووہ وتہ ہنز کا نہہ خبرا ہیتھ۔ نتہ سمووہ  
 یونارہ رہا ہیتھ کنہ زن چہ پیٹھ۔ ہتھ نہہ تھو تہ و شیر کمر و فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ کس یلہ تم اتھ نارس بھہ  
 تلہ وات، تم گنیہ خدایہ سندہ طرفہ آواز أَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ مِنْ حَوْلِهَا ییہ آوازکہ تم ہتھ نارس  
 منز چھہ ملا نیو اندرہ تمین پیٹھہ تہ آسن برکت، تم اتھ نارس آندہ پک چھہ یعنی موسیٰ علیہ السلام تمین  
 پیٹھہ تہ یون برکت یہ چھو دغا بطور تحیت و سلام ہتھہ پاٹھہ اندہ وول، یا کس نشہ یوان چھہ، سو چھو سلام  
 کران۔ چونکہ موسیٰ علیہ السلامس اوس نہ معلوم کہ یہ نور چھو انوار الہی۔ تمہہ موکھہ ہیوک نہ تمو  
 تعظیم بجانت۔ اللہ تعالیٰ سندہ طرفہ سپدہ ہندہ آنہ خیطرہ سلام دوعا ارشاد وَسَبَّحَ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ  
 منزہ تہ پاک چھو معبود برحق، عالمین ہند رب، حدود و نشہ، مقدارہ نشہ، رنگون نشہ۔ یہ نور کس  
 نہہ و چھان چھوہ، یہ چھو سمو قیود و سیت مقید لہذا چھو نہ یہ ذات باری تعالیٰ۔ يُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ  
 الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ای موسیٰ بو چھوس معبود برحق۔ کس کلام کران چھو بے کیف، سیٹھاہ عزتہ وول

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۙ وَالَّذِي عَصَاكَ فَلَئِمَّا رَاهَا تَهْتَرُ كَانَهَا جَانٌ  
 وَفِي مَدْيَنَ اَوَّلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى لَا تَخَفْ اِنِّي لَا اِيخَافُ لَدَيْ  
 الْمُرْسَلُونَ ۙ اَلَا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَاِنِّي  
 غَفُورٌ رَحِيمٌ ۙ وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضًا مِّنْ  
 غَيْرِ سُوءٍ فَاِنِّي تَسْعُ اَيُّهَا اِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ اِنَّهُمْ كَانُوْا  
 قَوْمًا فٰسِقِيْنَ ۙ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا

سیٹھاہ رحمتہ وول وَاَلَّذِي عَصَاكَ اے موسیٰ ژہ ترا وحض پنن لورہ ہن پتھر۔ سمویان سوتراؤ پتھر تھہ  
 بنیو اژدھا فَلَئِمَّا رَاهَا تَهْتَرُ كَانَهَا جَانٌ اُتٰی یلہ تھہ لورہ ہن وچھہ تمو، سو وچھک حرکت کران سرفہ  
 سندیپاٹ۔ وَفِي مَدْيَنَ اَوَّلَمْ يُعَقِّبْ حضرت موسیٰ ژول تھر پھرت۔ پوت نظر تہہ ڈرکھ نہ۔ اللہ تعالیٰ  
 ان فرموس یَمُوسَى لَا تَخَفْ اے موسیٰ کھوژمہ آسہ کمری ژہ عطا پیغمبری اِنِّي لَا اِيخَافُ لَدَيْ  
 الْمُرْسَلُونَ خلعت پیغمبر عطا سپدت جھنہ مہ بروٹھ کنہ پیغمبر اتھن چیزن، یم تہندہ نبوت ورسالتہ  
 دلیلہ آسن، کھوژان۔ یعنی کھوژان لَحْمٌ نَہ اَلَا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلْ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَاِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ  
 مگرے کانسہ ہندہ دستہ کینہہ قصور تہ لغزش لبندہ آمز آسہ کس پیہ یاد سنو لغزش توپتہ کھوژہ، تھہ چھونہ  
 کانہہ مضائقہ۔ لیکن تھہ متعلق تہہ چھوئیہ قاعدہ کہ اگر کانسہ ہندہ طرف کانہہ قصور لبندہ ایہ توپتہ بدلادہ  
 سو تھہ کنہ نیکی تہ ژہ کامہ سیت یعنی گناہ کمرت کرہ توبہ بوچھوس تہند توبہ قبول کران تہندین گنہن  
 مُعَافِ کران۔ کیا زہ یوچھوس سیٹھاہ مغفرت کرہ ون، سیٹھاہ رحم کرہ ون۔ اے موسیٰ اتھہ عصاء کس  
 مُجْرَسِ سیت چھوسہ یو بیاکھ مُجْرَسِ تہ ژہ عطا کران سوگو کہ وَاَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضًا مِّنْ  
 غَيْرِ سُوءٍ ژہ تراوتھہ پنن پنہ کس ناسک منز، سونیری تورہ سفید پنہ نہ کرہ ون کنہ قصورہ تہ بیماری  
 وراے اِنِّي تَسْعُ اَيُّهَا اِلَى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ سم دوشوے مُجْرَسِ تہ جھہ تھو نو و مجر و آندرہ سم بیتھ نہہ سوزنہ  
 یوان چھوہ فرعونس تہ تہندس تومس کن۔ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ کیا زہ تم جھہ حدہ ڈلہ و نیو لو کو

سِحْرٍ مُّبِينٍ<sup>۱۳</sup> وَجَحْدُ وَايِبَاهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا  
فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ<sup>۱۴</sup> وَقَدْ اتَيْنَا دَاوُدَ وَ  
سُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ  
الْمُؤْمِنِينَ<sup>۱۵</sup> وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا  
مَنْ مَّنطقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ<sup>۱۶</sup>  
وَخَشَرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ<sup>۱۷</sup>

آندره فلما جاءتهم أيتها المصبرة آده يله وات تمن نشه سان آيات ته مجرات سمه سميت تمن أجهه  
مورنه آيه قالوا هذا سحر مبين دپنه لگ به چهنونون سراه ته جوداه وَجَحْدُ وَايِبَاهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا  
أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا بيه كور تمو سمن سائين آيات انكار- حالهه يقين آس كران تهه پان كه آيات  
جهه واقعي خداه سندي طرفه- مگر ظلمه كن ته تكبره كن آينه اقرار كران فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الْمُفْسِدِينَ پس و چهنونبه كياه آيه بجهه انجام مفسدن هند- دنياء س اندر سزاء غرق، آخر تس اندر  
سزای حرق وَقَدْ اتَيْنَا دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا بهز پان بيه كور آسه عطا د اود عليه السلام ته سليمان عليه  
السلام شريعت ته پادشاهي هند بو د علم وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ تمو  
دوشوي دوپ شكو و شانه حمد بوين تس معبود بر حقس تم اسم فضيلت دويت پنه نيوبند و آندره وار مكن بيجه  
وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنْ مَّنطقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ جانشين سپد سليمان  
عليه السلام داود عليه السلام تهه پانه انتقاله پته- بيه دوپ سليمان عليه السلام، اي لو كو آس آي بجهه ناونه  
كتهه جانورن هنزه بيه امه وراي بين پادشهن بيتر سپد- بيه آو آسه عطا كونه تمو ساروي چيز د آندره تمن  
هنزه آسه ضرورت آس، مثلا فوج، لشكر، مال و دولت، آلات حرب و غيره إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ  
بهز پان بو به گو الله تعالى سدنون فضل وَخَشَرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ  
بيه بو سه لشكراه جمع آيه كونه سليمان عليه السلام سهه خيطره تهه لشكراه منز آس جن، انسان ته جانور تم



حَتَّىٰ إِذْ اتَّوَعَلَىٰ وَإِذِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا  
 مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِبَنَّكُمْ سُلَيْمٌ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۱۸﴾  
 فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ  
 نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا  
 تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكِ الصَّالِحِينَ ﴿۱۹﴾ وَتَفَقَّدَ  
 الطَّيْرُ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدَىٰ هُدًى مِّنَ الْغَائِبِينَ ﴿۲۰﴾

نہ بیہ کانسہ پادشہس مُخَر کر نہ آمتِ آس۔ تھے آس قاعدہ موجب وارہ وارہ ٹھہر او ٹھہر اویو ان پکانو نہ  
 بٹھ تم تہ واتن برو ٹھہرین سیتِ حَتَّىٰ إِذْ اتَّوَعَلَىٰ وَإِذِ النَّمْلِ حتی کہ یلہ واژس نو لشکر ر یہ میدا س اندر  
 قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ آمِر ر یہ دُوب ہاریو، جلد اژوپنہ نین آ لین منز لَا يَحْطِبَنَّكُمْ  
 سُلَيْمٌ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ بٹھنہ سلیمان علیہ السلام تہ تمہز لشکر بجزی اندر تو بہ ما نڈہ لہ نہ مونجہ  
 گرہ۔ یہ یوز سلیمان علیہ السلام۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا تمو ٹملا وڈ ٹھہ بیہ اُدسکھ امس ر یہ ہنزہ یہ  
 کتھ ونہ سیت۔ بیہ کورکھ تجب امس ر یہ ہند یوت لوکت جسم آتھہ امہ قسچہ بخیری تہ گانہ جازک۔  
 چنانچہ پن فوج روٹھ پتھ یوتان سارے ر یہ ژاپہ آ لین منز۔ وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ  
 الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ سلیمان علیہ السلام سہ احساس امہ نعمتک کہ یو یوزہ نووس اللہ  
 تعالیٰ ان ر یہ ہند کلام۔ یہ نعمت تہ امہ ورا ی بیہ نعمو ژیتس پتھہ مونگھ ڈعا کہ ای میانہ پروردگارہ توفیق  
 دہمہ بوکیا دپہ چا نین نعمون ہند شکر ہمیشہ۔ سیمہ نعمو ژہمہ عطا کر پتھہ بیہ میانس مالس ماجہ وَأَنْ أَعْمَلَ  
 صَالِحًا تَرْضَاهُ بیہ دم توفیق ہمیشہ ر ژہ عملہ کر ٹگ سمن پیٹھ ژہ راضی سپد کھ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي  
 عِبَادِكِ الصَّالِحِينَ بیہ واتاومہ پتھہ رحمتہ سیت پتھہ نین نیکو کار بندن منز یعنی حضرات انبیاءن منز  
 وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ بیہ کورکھہ دوہہ معاینہ سلیمان علیہ السلام جانورن پتھہ تمہ ساتہ اوس تہ ٹت غیر  
 حاضر۔ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدَىٰ دوپٹھ مہ گس چیز سپد مانع کہ بوٹھن نہ تہ ٹت ڈیھان حاضر کتھہ

لَأَعَذِّبَنَّكَ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْلَا أَذْبَحْتَهُ أَوْلِيَّائِي نِي سُلْطٰنِ  
 مُبِينٍ ﴿۲۱﴾ فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَ  
 جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴿۲۲﴾ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ  
 وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿۲۳﴾ وَجَدْتَهَا وَقَوْمَهَا  
 يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ  
 فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿۲۴﴾ إِلَّا يَسْجُدُونَ لِلَّهِ  
 الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ

تہ ام کان من الغائبین کہہ واقعی چھو سو غیر حاضر لَأَعَذِّبَنَّكَ عَذَابًا شَدِيدًا بُو کرہ تَس امہ غیر  
 حاضری خیطرہ سخت عذاب (تیرہ کڈس لہمت) أَوْلَا أَذْبَحْتَهُ نہ کرس کھش أَوْلِيَّائِي نِي سُلْطٰنِ مُبِينٍ  
 تے پیش کرہ مہ لشمہ پنہہ غیر حاضری ہند معقول عذراہ تیلہ کروس درگذر فَمَكَتْ غَيْرَ بَعِيدٍ لَس رُود  
 تم اتھ حاکم منزکمہ سئی کاکس کہ آوستہ ثمت۔ پڑرٹھ ہس ژہ کیاڑہ اوسکھ غیر حاضر بلا اجازت فَقَالَ  
 أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ دوہن بو آس سوئی تمھ معلوم کمر تمھ یوسہ نہ توہمہ معلوم سپر مڑچھہ۔  
 وَجِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ بو آس شہر سبا پٹھہ اکھ تھقی خبرہ بیتھہ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ  
 سمیک تفصیل چھو پٹھہ پاٹھہ کہ مہ وچھہ زاناہ اکھ تمہ شہرہ کین لوکن حکومت کران۔ وَأُوتِيَتْ مِنْ  
 كُلِّ شَيْءٍ تَس چھو حکومتہ کیولواز مؤاندرہ سوڑوی کینہہ عطا کرنہ آمت وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ بیہ چھوس  
 تمناہ اکھ سیٹاہ بدہ بوڑوی لعل وجواہر وسیت جبر تمھ وَجَدْتَهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
 بیہ وچھہ مہ سو زاناہ بیہ تھند قوم آفتابس سجدہ دوان تہ پرستش کران خدا لَس ورا ی وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ  
 أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ بیہ چھو زینت دُہمت شیطان تہزن کفرہ چن  
 کائین تمین چھہ پنہہ پیچھہ کامہ رڑہ بوزنہ یوان۔ تم چھہ پتھہ رُمت شیطان سیزہ و تہ لشمہ چھنہ تم ہڑہ و تہ



حَتَّى تَشْهَدُونِ ۳۲ قَالَ الْوَاخِنُ أَوْلُوا قَوَّةً وَأَوْلُوا بَابِ شَيْدٍ  
 وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانظُرْنِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ۳۳ قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ  
 إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَاجَ أَهْلِهَا آذِلَّةً ۳۴ وَ  
 كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ ۳۵ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنْظُرَ بَعْ  
 يَرِجِعُ الْمُرْسَلُونَ ۳۶ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا

مُعز زلو کو تہہ دیو مشورہ مہ بیتھ میانس معاملس اندر۔ میون کیاہ گزہہ سلیمان علیہ السلامس سیت بیتھ  
 معاملس اندر کرن ماکنٹ قاطعہ امر احنی تَشْهَدُونِ بو تھس نہ زانہہ تہ کنہ معاملگ فیصلہ  
 کران یوتان نہ تہہ تہ مشورس شامل آسو۔ قَالَ الْوَاخِنُ أَوْلُوا قَوَّةً وَأَوْلُوا بَابِ شَيْدٍ تمودوہس آس  
 چھہ پنہ طرفہ پریتھ وقتہ حاضر۔ ہر گاہ مقابلہ تہ جنگ کرنک تجویز آسہ تمہہ خیطرہ تہ چھہ آس تیار۔  
 آس چھہ طاقتہ وال بہہ سخت قوتہ وال مقابلس اندر وَالْأَمْرُ إِلَيْكَ فَانظُرْنِي مَاذَا تَأْمُرِينَ مگر اختیار  
 چھوڑی اتھہ۔ ژئی وچھہ کیاہ گزہہ جان۔ بس حکم ژہ کرکھہ آسہ آس چھہ تھہ حکمس کرنہ خیطرہ تیار  
 قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعْرَاجَ أَهْلِهَا آذِلَّةً تمہہ بلقیسہ دو چھہ، یہ چھو  
 پوز، مگریتھ منزہہ چھونہ کا نہہ شیکھہ کہ پادشاہیلہ کنہ شہرس منز فاتحانہ اثران چھہ تم چھہ تھہ شہرس تباہ  
 کران بہہ چھہ تہہ کین معز زلو کن ذلیل کران، ذلیل لوکن بارس اتان۔ اسے تمن سیت مقابلہ کور۔  
 ممکن چھو تہ گزہہ سن آسہ پیٹھ غالب۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ تم لوک تہ کرن تی۔ لہذا بہہ مصلحت یہہ کہ  
 تان تھاؤد آس جنگ کرن ملوئی۔ ویکھس چھو مہ بوزنہ یوان۔ کہہ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنْظُرَ بَعْ  
 يَرِجِعُ الْمُرْسَلُونَ میان رای چھہ واتان کہ بوسوزہ تمن نشہہ کینہہ تحفہ۔ تو پتہ وچھہ بو تمیک جواب  
 کیاہ بیتھ بین تم شخص تمن اتھہ آس سو ہدیہ سوژو فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ تو پتہ یلہ  
 قاصدووت تم تحفہ بیتھ سلیمان علیہ السلامس نشہ۔ سلیمان علیہ السلامن دوہس کیاہ تہہ چھوہ پنہ مالہ  
 سیت مہ مدد کرن یژھان فَمَا اتَّخَذَ اللَّهُ خَيْرًا مِمَّا اتَّخَذْتُمْ مہ چھہ تج ضرورت کینہہ تہ کیا زہ مہ یہ کینہہ چاہ

اثنى الله خير مما انتم بَلْ اَنْتُمْ بِهَيْدِيَّتُمْ تَفْرَحُونَ ﴿۳۶﴾ اِرْجِعْ  
 اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا  
 اَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿۳۷﴾ قَالَ يَا اَيُّهَا الْمَلِكُ اِيَّا تِنِي بِعَرْشِهَا  
 قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِي مُسْلِمِيْنَ ﴿۳۸﴾ قَالَ عَفْرَيْتُ مِنْ اِجْنِ اَنَا اِيَّتِكَ  
 يَهْ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ مِنْ مَّقَامِكَ وَاِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيْ اٰمِيْنٌ ﴿۳۹﴾

اللہ تعالیٰ ان عطا کورمت چھو سیٹھا بہتر تمہ خوتہ یہ توہمہ ڈیٹمت چھوہ۔ توہمہ چھوہہ ڈیٹمت  
 حکومت و دوشی یوت، مہ چھون عطا کورمت نبوت و سلطنت۔ توہمہ نشہ چھوہہ ڈیٹمت نشہ چھوہہ ڈیٹمت۔  
 بَلْ اَنْتُمْ بِهَيْدِيَّتُمْ تَفْرَحُونَ ہلکہ چھوہہ توہمی پنہہ تحفہ سیت خوش (ویران چھوہہ کنہ) آسہ نشہ چھوہہ  
 سمن چیزن اعتبار کینہہ اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ ای قاصد واپس گزہہ تمنی نشہ سمسوز کہ تم ساری تحفہ دکہ  
 پھیرت فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا ہر گاہ تم آسہ نشہ فرمانبر داری سان حاضر سپدن تہ گوجان  
 ورنہ و اتو اس تمن نشہ سہو لشکر ہتہ سمن سیت مقابلہ کر نگ تمن طاقتی آسہ۔ وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا اَذِلَّةً  
 وَهُمْ صَاغِرُونَ ہیر کدو کہ تم تمہ شہرہ منزہ ذلیل کثرت تہ خوار گزہت، تم قاصدن یلہ تم تحفہ واپس  
 واتہ ناویہ ہاون سو روی حال ہلفیس نشہ۔ سو سہز سلیمان علیہ السلام سند یو کمالا تو سیت کافی متاثر، ہیر  
 سپدس یقین تہندہ پیغمبر آسک چنانچہ ارادہ کزن سلیمان علیہ السلام نشہ حاضر سپدن، سلیمان علیہ  
 السلام سڈ معلوم وحیہ سیت یایہ کنہ ذریعہ کہ سو سہز روانہ تمن نشہ حاضر سپدنہ خیرہ قَالَ  
 يَا اَيُّهَا الْمَلِكُ اِيَّا تِنِي بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِي مُسْلِمِيْنَ سلیمان علیہ السلام فر موپنہ نین معزز  
 لو کن اہل دربارن، توہمہ آندرہ کہہ اکھاہ دیہ مہ نشہ واتہ ناوت تسند تحت، تمسندہ فرمانبر دار سپدت مہ  
 نشہ واتہ بروٹھے۔ قَالَ عَفْرَيْتُ مِنْ اِجْنِ اک قوی ہیکل جنن اک ڈوپ اَنَا اِيَّتِكَ يَهْ قَبْلَ اَنْ تَقُوْمَ  
 مِنْ مَّقَامِكَ بودن سو تخت توہمہ نشہ انت، تہندہ دربارہ نشہ ووتھنہ بروٹھے وَاِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيْ اٰمِيْنٌ  
 مہ چھو تمہہ تلتگ کافی طاقت۔ بو واتہ ناون سو توہمہ نشہ امانت داری سان۔ سلیمان علیہ السلام دوپس۔

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ  
 أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ فَلَمَّا رآه مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ  
 هَذَا مِن فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي ؕ أَشْكُرَ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ  
 شَكَرْنَا نَمُنِّشْكُرْ لِنَفْسِهِ ؕ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبيُّ غَنِيٌّ  
 كَرِيمٌ ﴿۲۰﴾ قَالَ نِكْرُوا لَهُ مَا عَرُشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ  
 مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿۲۱﴾ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا

امہ خود جلد پہن گوزہ سو واٹن قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اکھ شخصہ اوس تمس نشہ آسانی  
 کتابن ہند علم اوس۔ سو گو آصف بن برخیا۔ تمودوپ امس جنس بس چون طاقت چھا بتوی آنا آتیک  
 بہ قبل ان یرتد الیک طرفک بوواتاون سو تخت ذہ نشہ اس اچھہ ٹیٹھ اندر۔ بعضیو فر مووالذی  
 عنده علم من الكتاب۔ امہ آندرہ وھو مراد پانہ سلیمان علیہ السلام۔ تموی واتنوسو تخت اس اچھہ ٹیٹھ  
 اندر پینہ روحانی طاقت سیت۔ فلما رآه مستقرا عندہ قال هذا من فضل ربی چناچہ یلہ تمودو چھ  
 سو تخت پانس بروٹھ کنہ، شکر دپان دوٹھ یہ جہو میانس پروردگارہ سنبوڈ فضل تہ مرانی لیبلونی  
 ؕ اشکر امار کفر یتھ سومہ امتحان تہ آزمائش کرہ کہ آیا بوکر اتمسز شکر گداری کنہ نعوذ باللہ بو کرہ کفر ان  
 نعمت ومن شکر فائما یشکر لِنَفْسِهِ یہ کتھ چھ ظاہر کہ بس شکر گداری کرہ۔ بس چھونہ تمیک  
 فائدہ مگر پانس۔ اللہ تعالیٰ اس چھونہ تمیک کا نہہ نفع ومن کفر یتھ پانس کفر ان نعمت کرہ۔ بس  
 تہ چھو تمیک نقصان پانس۔ اللہ تعالیٰ اس چھونہ تمیک کا نہہ نقصان فان مرانی غنی کریم کیا زہ  
 میون پروردگار چھوے نیاز لو کن ہندہ شکر گداری نشہ۔ سو چھو کریم ناشکری عطا کرہ وین تہ چھو عطا  
 کران سو۔ قال نکرُوا له ما عرشها نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ تمہ پتہ کور  
 سلیمان علیہ السلامن تجویز کہ اتھ تختس تمسیدس بدلاو صورت۔ اس کرو تمسزہ عقلہ امتحان۔ اس  
 وچھو تمس بیاد تھ پین تخت پر زہ ناؤس کن۔ کنہ سوٹھہ تمولو کو آندرہ یمن نہ کا نہہ اتھ و تھہ چھہ یوان

عَرُشِكَ ط قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَ  
 كُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿۴۲﴾ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
 إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ ﴿۴۳﴾ قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ  
 فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقِهَا ط قَالَ إِنَّهُ

بے عقلی سبب۔ فلما جاءت قيل اهلكت اعروشك تو پتہ یلہ سو بلیس آیہ۔ ونہ آس بتھوی  
 چھا چون تخت قالت كانه هو دوہن زن تہ سوی چھو وأوتینا العلم من قبلها و کنا مسلمین  
 بیہ دوہن اسہ اوس بیہ معجزہ وہ چھنہ برو نٹھی ٹھنہہ پیئبر آسک تصدیق سپد مت بیہ آس مطع و فرمانبردار  
 سپد مت۔ یلہ اسہ قاصدہ سندہ ذریعہ ٹھنہہ کمالات معلوم سپد مت آس۔ تمہ معجزہ آس نہ چند ان  
 ضرورت روز مرہ بیہ معجزہ وہ چھنہ برو نٹھہ تمند تصدیق کرن چھو دلالت کران تمسد کمال عقل و گاٹ  
 جارس پیٹھ۔ تمی موكھہ کور اللہ تعالیٰ ان پتہ تسدس گاٹ جارس تاسیدہ فرمانہ سیت کہ و صدها  
 ما كانت تعبد من دون الله تمہ آسہا ایمان اونمت۔ مگر سو آس پتہ رٹھہ ایمان انہ نشہ تمو  
 چیز و تمکن چیزن ہندہ پرستش کر ٹگ خدا یس و رای عادت اوس سپد مت۔ سو عادت کیا زہ اوس  
 سپد مت انھا كانت من قوم کفرین کیا زہ سو آس کافر قومہ منزہ۔ تمہ پتہ یوٹھہ سلیمان علیہ  
 السلام کہ اس بلیسہ ہا و اوس معجزہ تہ شان نبوت ہاونہ پتہ پنہ سلطنتک شان تہ۔ تالیجہ ٹھنہہ سو  
 زانہہ دنیا کہ اعتبارہ ہن پان زانہ بوڈ۔ چنانچہ تمو بنو ااکہ عظیم الشان شیشہ گراہ۔ تھہ پر تھہ طرفہ لاگنہ  
 آمت آس شیشہ شیشہ۔ تمہ کس صحنس منز اوس اکھ تلاواہ آمت ہاونہ تھہ منز اوس آب صاف۔ بیہ  
 گاڑہ تراونہ آمزہ۔ پیٹھ اوس تھہ تلاوس فرش دنہ آمت صاف و شفاف شیشہ ہند۔ ظاہرہ پاٹ آس نہ  
 تم شیشہ بوڑے یوان۔ سو تلاو اوس آنگنس منز۔ تمہ پیٹھہ شیشہ مجلس منز انہ خیطرہ ضرور چن اوس  
 بیوان قیل لھا ادخلی الصرح فلما رآته اس بلیسہ آوونہ اٹھہ تمہ آچھنہ منزہ تھہ کمرس اندر۔  
 یوہے کمرہ مار کر کڑہ پسند نہنہ قیام گاہہ خیطرہ۔ پس یلہ تمہ سو آنگن و چھہ اندر اڑت حسیبتہ لجة

صَرَخَ مُمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيرَہٗ قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ وَ  
 اَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمٰنَ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ﴿۳۴﴾ وَاَلْقٰہُ اَسْلٰنًا اِلٰی  
 نَمُوْدَ اَخٰہُمْ صٰلِحًا اِنْ اَعْبَدُ وَاللّٰہَ فَاِذَا ہُمْ فَرِیْقٰنٍ  
 یَّخْتَصِمُوْنَ ﴿۳۵﴾ قَالَ یَقُوْمُ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّیِّئَةِ قَبْلَ  
 الْحَسَنَةِ ۗ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ لِلّٰہِ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿۳۶﴾

آجئے کس تلاوس گوس خیالیہ ماہجود ریاد آتھ آگئس منز وکشفنت عن ساقیہا تمی موکھہ کھار تمہ  
 ایزار نمر گروزو نشہ تھود۔ گروزہ تھاوین ئے ہتھہ پاٹھ آہس منزوسنہ خیطرہ کاہنہ تھاوان ہجوہو قال  
 سلیمان علیہ السلامن دوہس یلہ تم نظر پیہ اتھ پیٹھ اِنَّہ صَرَخَ مُمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِیْرِہٗ اِی بلیقئس یہ ہجوہو  
 سوزوی محل۔ آگئ ہتھہ ہجوہو فرش کر نہ آمت شیشوسیت۔ تمہ ساتہ سپد معلوم ہلیقئسہ کہ یتہ ہجھہ ذینوی  
 عجائب چیزتہ تمہ قسمک تم نہ مہ از تام و ہتھمتی ہجھہ۔ چنانچہ تہندس دلس اندر سپز پر ہتھہ طریقہ  
 سلیمان علیہ السلامہ سز پوروقعت نہ عظمت پیہہ قَالَتْ رَبِّ اِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ تمہ ساتہ دوپ تمہ  
 پروردگار مہ کور ظلم پان پانس گھرہ نہ ہر کہ سیت از تام و اَسْلَمْتُ مَعَ سُلَیْمٰنَ لِلّٰہِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ  
 از ہتھس یو مسلمان سپدان۔ ایمان اتان سلیمان علیہ السلامس سیت یعنی تہدہہ طریقہ موجب ہتھس پڑھ  
 کران تس معبود بر حقس ئس عالمین ہند رب ہجوہوئے گئیہ بلیقئس۔ چنانچہ سلیمان علیہ  
 السلامن کور توپتہ تم سیت نکاح وَاَلْقٰہُ اَسْلٰنًا اِلٰی نَمُوْدَ اَخٰہُمْ صٰلِحًا اِنْ اَعْبَدُ وَاللّٰہَ ہز پٹا ہ  
 سوز اسہ قوم ثمودس گن یوی تہند صالح علیہ السلام یوسے پیغام ہتھہ کہ ہرک تراوت کمر و ہجہ عبادت  
 معبود برحقہ سز۔ تم پڑہ ہاساری انہ ہن تم ایمان فَاِذَا ہُمْ فَرِیْقٰنٍ یَّخْتَصِمُوْنَ ئس سپزہ تم زہ  
 جماثر بالایمان نہ کافر تھے آس پانہ وان ہرہ ہر نہ قضیہ کران۔ تہند قضیہ یلہ ووت صالح علیہ السلامس  
 نخبہ تمودیت فیصلہ بالایمان ہندہ حقہ۔ کافر لگ ونبہ تمہ عذابگ نیم تہہ اسہ کران ہجوہو سوعذاب  
 انوجلدہ قَالَ یَقُوْمُ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّیِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ تمودوپیک ایلو کو تہہ کیازہ ہجوہو توبہ



قَالُوا الظَّيْرُنَايِكَ وَبَيْنَ مَعَكَ قَالَ ظَيْرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ بَلْ  
 أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ ﴿۳۷﴾ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ  
 فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصِلِحُونَ ﴿۳۸﴾ قَالُوا اتَّقُوا اللَّهَ يَا اللَّهُ لِنَبِيِّتِهِ وَ  
 أَهْلِهِ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لَوْلِيَّهِ مَا شَاءَ هَذَا مَا مَهْلِكُ أَهْلِهِ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ﴿۳۹﴾

کرنہ تہ ایمان آنہ بروٹھ لیس رت چیز اہ چھو، عذاب ڈھانڈان۔ لیس بیچھ چیز اہ چھو۔ توہہ پڑہ ہاکہ  
 عذابک وعید بوزت ایمان اُن تہ پڑھہ گرن۔ تھہ برعکس چھوہ تہہ عذابہ گوی در خواست کران۔ یہ  
 گو سیٹھاہ بے پروالائگ۔ لَوْلَا سَتَعْفُرُونَ اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اتھہ بدل کونہ چھوہ تہہ اللہ تعالیٰ  
 اَسْ كُفْرِهِ نَشَأَ مَغْفِرَتٍ مِّنْكَان ديو توہہہ پیٹھہ رحم ایہ کرنہ۔ عذابہ نَشَأَ لِيہ ہو چھوٹا تھاونہ قَالُوا الظَّيْرُنَايِكَ  
 وَبَيْنَ مَعَكَ تمودوپ ہس اَس چھت ڈہہہ ہم ڈہہ سیت چھہ پھیل زانان کیازہہ پتہ پیٹھہ توہہہ یہ  
 نوونڈہب کوڈوہ، تہنزیہ نوجماعت پیدہ سہز سیتہ پیٹھہ سہز قومس منزبے اتھاتی۔ نا اتھاتی ہنزہہ سمہ خرابیہ  
 چھہ تمہہ سہزہ سارے ظاہر۔ لہذا چھوہ توہی تمکن خرابین ہندہ ذمہ دار قَالَ صَاحِبُ السَّلَامِ  
 فرمودہ ظَيْرُكُمْ عِنْدَ اللَّهِ تہندہ نحوستگ سبب چھو اللہ تعالیٰ اَس معلوم۔ تہنہہ کفر چہ تہ شرکچہ کامہ  
 چھہ اللہ تعالیٰ اَس معلوم۔ سمہ تخلیہ چھہ یعنی کاین ہندہ شامتہ توہہہ واتان۔ چنانچہ سنوی نا اتھاتی چھہ  
 بیچھہ تہ مذموم یوسہ ہزس تہ حقس خلاف کرنہ سیت سپدہ۔ لہذا سپدہ نہ امیک الزام با ایمان پیٹھہ بلکہ چھو  
 امیک الزام کافرن۔ ونہ کوت واتوہ تہہہ۔ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ بلکہ چھوہ تہہہ تم لوک تم امہ کفرہ  
 سببہ عذابس گرفتارین کرنہ وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةَ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصِلِحُونَ بیچھہ پات  
 اَس اتھہ شہرس اندر کافرن ہنز کثرت۔ لیکن تہندہ سرغنہ اَس اتھہ شہرس اندر نوجماٹہ سمہ ملکس  
 منزبتاہی کران آسہ۔ کئیہ قسمہ سنبھالان آسہ نہ۔ بلکہ اَس فسادی فساد کران۔ چنانچہ اکہ پھر کوزکھ  
 یہ فساد کرنک ارادہ قَالُوا اتَّقُوا اللَّهَ يَا اللَّهُ ونہہ لگ پانہ وان تہہہ ساری کمر وقسم خدایہ سُنَد تھہہ پیٹھہ  
 کہ لِنَبِيِّتِهِ وَ أَهْلِهِ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لَوْلِيَّهِ مَا شَاءَ هَذَا مَا مَهْلِكُ أَهْلِهِ اَس گزھورات کیت توپتہ گزھوہ حملہ صَاحِبُ

وَمَكْرُومًا مَّكَرًا وَمَكْرًا مَّكَرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۵۰﴾ فَاَنْظُرْ كَيْفَ  
 كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۗ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِينَ ﴿۵۱﴾ فَنَتْلُكَ  
 بِيَوْمِهِمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿۵۲﴾  
 وَاجْبِنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿۵۳﴾ وَلَوْ طَا اِذْ قَالَ  
 لِقَوْمِهِ اَتَاْتُوْنَ الْفَآحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿۵۴﴾ اِنِّيْٓ اَنْتَكُمْ

صمیس پیٹھ۔ تھ اندر مارون سو بہ تھند اہل و عیال بہ تھنز ساری جماعت۔ تمہ پتہ ہر گاہ تحقیق آج نوبت  
 آہ آس و نو، تمسیدس و لیس تہ تھندین وارث، آس آس نہ شامل آس تہ امسدہ عیالہ کس مارنس اندر  
 وَاِنَّا الصّٰدِقُوْنَ سیت و نو آس چھہ واقعی پوزوندون۔ اتھ پیٹھ آسہ نہ اسہ اختلاف موقفک کاہنہ گواہا۔  
 معاملہ دہہ ہتہ تھ۔ تو پتہ درای تم کہ خبہ یہ کوم کرنہ خیطرہ و مکر و امکر او مکرنا مکر او ہم لا ی شعرون  
 تم آس پنہ جاہ امہ قسمک تدبیر کران۔ آس تہ آس پنہ جاہ تھندہ گالنگ تدبیر کران۔ تمن روزنہ تج  
 خبری۔ سو گواہی کہ تم بلہ یہ کوم کرنہ خیطرہ پگان آس کہ کوہہ پیٹھ گواکھ بوڈ پلاہ ڈلہ یوہے پیو سیود  
 یعنی پیٹھ۔ تھ تل گمہ ہتھہ مود ساری۔ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ نئس و چھہ ژہ ای و چھونہ کہ  
 تھندین تدبیر ہند انجام کیاہ سپد۔ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِينَ سو گواہی زہ اسہ گال تم بہ تھند قوم  
 سو زوی امہ علاوہ آسانی عذابہ سیت فَتَلِكْ بِيَوْمِهِمْ خَاوِيَةً کیا چھہ گرہ تھند دہہ بیٹھتہ، ویران گمت  
 بِمَا ظَلَمُوْا تھندہ ظلمہ یعنی کفر تہ شرک کر چھہ سبہ۔ چنانچہ منک لوکھ چھہ شام گڑھنی و تہ اندر تمہہ  
 جاہہ و چھان اِن فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ہنز پاپ اتھ منز چھہ ہذ حیرت زانہ و نین لوکن ہندہ  
 خیطرہ وَاجْبِنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ بہہ ڈیت اسہ نجات تمن لوکن سمو ایمان اون بہہ آس  
 خدا نئس کھوژان۔ پتہ روزان شرک و کفر نہ تھ۔ تمہ قتلہ نہ تھ تہ سمیگ تمو مشورہ کریو۔ بہہ امہ قہری  
 عذابہ نہ تہ۔ وَلَوْ طَا بہہ سو زاسہ لو ط علیہ السلام پنہ نئس قومس گن۔ اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَاْتُوْنَ  
 الْفَآحِشَةَ وَاَنْتُمْ تُبْصِرُونَ بلہ تمو دوپ پنہ نئس قومس کہ کیاہ تھہ چھوہ یہ بیچہ کام کران۔ حالہ

كَتَاتُونَ الرِّجَالِ شَهْوَةً مِّنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ  
 تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجُو آلَ  
 لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَنْجَيْنَاهُ وَ  
 أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٥٧﴾ وَأَمْطَرْنَا  
 عَلَيْهِمْ مَّطَرًا فِسَاءً مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿٥٨﴾ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ  
 عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ اللَّهُ خَيْرٌ مَّا يَشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾

تہہ چھوہ وچھان یہ کرہہ بیچہ کام چھہ۔ ایتکم کتاتون الرجال شهوة من دون النساء کیاہ تہہ  
 چھوہ مردان لشعہ یوان بن شہوت تہ خواہش پورہ کرنہ خیطرہ زنانہ تراوت ستمہ تھی خیطرہ چھہ پیدہ کرنہ  
 آخڑہ بل انتم قوم تجھلون بلکہ چھوہ تہہ قومہ جاہل۔ خبری چھوہ نہ امیک نتیجہ کیاہ پیرہ  
 فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا پس اوس نہ تمن لوکن ہند جواب کیہہ تہ مگر ای زہ دوپ تموپانہ  
 وَاٰلِهِمْ اَخْرَجُو آلَ لُوطٍ مِّنْ قَرْيَتِكُمْ اِنھم اناس یتطہرون کڈیون لوط علیہ السلامہ سنداہل و عیال  
 لوط علیہ السلام بیتہ پنہ شہرہ منزہ کیاہ تم چھہ پانس شانت زنانہ۔ یلہ اوت پیٹھ کام واثراسہ کورتھہ  
 قومس پیٹھ عذاب نازل فَاَنْجَيْنَاهُ وَ اَهْلَهُ اِلَّا امْرَاَتَهُ قَدَّرْنَا مِنَ الْغَابِرِينَ پس دیت اسہ نجات  
 لوط علیہ السلامس بیہ تمسندس عیالس تنہزہ آس زنانہ ورا ی یوسہ اسہ ازے مقرر کر مرث آس ات  
 روزت عذابس گر فاسدہ و نیواندرہ وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا توپتہ تروداسہ تمن پیٹھ عجیب قسمگ  
 زوداہ بیتھ منزکنہ اسہ فساء مطر المنذرين پس اوس سیٹھاہ بیچہ تمن بیم کرنہ آمتین ہند سورود قُلِ  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ دیو حمد تہہ خداس نافرمان ہندس ہلاک کرہ ہنس پیٹھ۔  
 بیہ یون سلامتی ہمیشہ خدایہ سندین تمن ہندن پیٹھ تم تم ژار تہ برگزیدہ کرن ۗ اللَّهُ خَيْرٌ  
 مَّا يَشْرِكُونَ کیا خدا معبود برحق۔ تمسند احسانات بیان کرنہ آئی چھاہتر، کنہ تم معبودان باطل۔  
 تمن تم خدایہ سد شریک چھہ ٹھہراوان۔ امیک تفصیل چھوہ پیٹھ پاٹھہ کہ ای لوکو تہہ کر تو خدایہ سندین

اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ  
 السَّمَاءِ مَاءً فَاَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ  
 لَكُمْ اَنْ تَنْبِتُوْا شَجَرَهَا ؕ اِنَّ مَعَ اللّٰهِ لَعِلْمًا لِّمَنْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُ لَوْ  
 اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلْمًا اَنْهَارًا وَّجَعَلَ  
 لَهَا رَوَاسِيًا وَّجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا ؕ اِنَّ مَعَ اللّٰهِ  
 لَعِلْمًا لِّمَنْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۶۱ اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَّرَّ اِذَا دَعَاهُ

کمالاً ان اندر غور۔ تو پتہ و نوتہ۔ تم پو پتل چھا بہتر اَمَّنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضَ کہ نہ سُوذات پاک چھو بہتر، سم آسمان تہ زمین پیدہ کمر وَاَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً یہ سم آسمانہ طرفہ ٹھہرہ خیرہ رود تروو فَاَنْبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ تہ رودہ سیت کھار اسہ سر سبز باغن ہند کل۔ سم تروتازہ تہ پُرووق ہجہ ماکان لَكُمْ اَنْ تَنْبِتُوْا شَجَرَهَا اوسنہ توہہ ممکن کہ ٹہہ کیاہ کھاہو کہ تمن باغن ہند کل پانے۔ یہ بُوڑت و نوتہ عِلْمًا مَعَ اللّٰهِ کیاہ اللہ تعالیٰ اس سیت شوبیا عبادتس اندر یہ کاہنہ معبوداہ شریک (ہرگز نہ) مگر یم مشرک چھنہ توتہ مانان بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدُ لَوْ ہلکہ چھو توتہ بین مخلوقن خدائیس سیت برابر تھاوان۔ معبود برحقہ سند یہ کمالات بُوڑت و نوتہ کہ کیاہ سم معبودان باطل چھا عبادتس سزاوار اَمَّنْ جَعَلَ الْاَرْضَ قَرَارًا وَّجَعَلَ خِلْمًا اَنْهَارًا وَّجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيًا وَّجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا کہ نہ سُوذات پاک چھو بہتر، سم زمین کور مخلوقن ہندہ روزج تہ قرار کرہ فغ جای۔ یہ سم تمہہ زمینہ منزہ کولہ تہ دریاو پکناوت۔ یہ سم امہہ زمینہ ٹھہر نہ خیرہ اتھ پیٹھ سکوہ کمر پیدہ لنگر ہی۔ یہ یم ڈون دریاون منز کور ٹھور تمہہ قسمگ کہ کمرہ دریاوک آب چھونہ میلان یہہ دریاوہ کس آلس سیت۔ یہ بُوڑت و نوتہ۔ عِلْمًا مَعَ اللّٰهِ کیاہ اللہ تعالیٰ اس سیت یہ بیاہہ بیاکھ معبود شریک آبتھ، مگر مشرک چھنہ توتہ یہ کتھ مانان بَلْ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ہلکہ چھنہ تمہو لو کو آندرہ وارہین خبر ہی کہنہ۔ خیر، تس ذات پاکہ سند یہہ کمالات بُوڑت و نوتہ کہ سم معبودان باطل چھا بہتر اَمَّنْ يُجِيبُ

وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ وَاللَّهُ مَعَ الَّذِينَ  
 قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿۶۲﴾ ۚ آمَنُ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْ  
 بَحْرِ ۗ وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحَ بُشْرًا ابْنَ يَدِي رَحْمَتِهِ ۗ  
 وَاللَّهُ مَعَ الَّذِينَ تَعْلَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۶۳﴾ ۚ آمَنُ يَبْدَأُ  
 الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۗ  
 وَاللَّهُ مَعَ الَّذِينَ قُلُّ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۶۴﴾

المُضْطَّرُّ إِذَا دَاعَاكَ وَيَكْشِفُ السُّوءَ ۚ كنه سُؤذَاتِ پاك چھو بہتر نئس بیقرار تہ لاچارہ سندس معھ نس  
 اجابت چھو کران۔ یلہ سُوئس منگان چھو۔ بیہ نئس مضیت تہ سختی چھو دُور کران ۚ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ  
 الْأَرْضِ ۚ بیہ نئس توہمہ چھو کران ز مینس اندر صاحب تصرف تہ جانشین ۚ وَاللَّهُ مَعَ الَّذِينَ ۚ بیہ بُوزت و ننتو  
 نئہ اللہ تعالیٰ اس شریک عبادت آسئس لایق چھابہ کابنہ معبود (ہرگز نہ) قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ  
 مگر سیٹھاہ کم چھو توہمہ امیگ خیال تہ سمہ تھہ یاد تھاوان۔ وون بُوزت و ننتو بے کمالات توپتہ و ننتو تم  
 معبودان باطل چھابہ عبادتس سزوار ۚ آمَنُ يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ كنه سُؤذَاتِ پاك چھو  
 سزوار نئس توہمہ و تھہ چھو ہاوان خشکی تہ تری ہنزن کئن اندر ۚ وَمَنْ يُرْسِلِ الرِّيحَ بُشْرًا ابْنَ يَدِي  
 رَحْمَتِهِ ۚ بیہ نئس سوزان چھو و اوس پنہر رحمتہ یعنی باران رحمتہ برو نٹھ خوشخبری ہتھہ۔ بیہ بُوزت و ننتو  
 وَاللَّهُ مَعَ الَّذِينَ ۚ باوجود آں بیجیائس سیت کابنہ معبوداہ، شریک بنت عبادتس اندر۔ ہرگز نہ۔ تَعْلَى  
 اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ بلکہ چھو اللہ تعالیٰ تہدہ شریکہ نٹھہ سیٹھاہ بالا تہ تھود۔ تئس معبود برحقہ سند بے  
 کمالات بُوزت و ننتو کہ تم معبودان باطل چھہ بہتر۔ آمَنُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ۚ كنه سُؤذَاتِ  
 پاك چھو بہتر تم ساری مخلوقات گوڈہ پیدہ کمر توپتہ کر کیکہ سؤی دُوبارہ بیہ پیدہ ۚ وَمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ  
 السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ بیہ نئس توہمہ رزق چھو عطا کران آسماکھ طرفہ زود تراوتھ تہ زینکھ طرفہ غلہ تہ کل  
 کھارت۔ بیہ بُوزت و ننتو ۚ وَاللَّهُ مَعَ الَّذِينَ ۚ کیاہ معبود برحقس شریک عبادت آسئس لایق چھابہ کابنہ

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ  
 وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ﴿٦٥﴾ بَلِ ادْرَاكِ عَلَيْهِمْ فِي  
 الْآخِرَةِ ۚ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا ۚ بَلْ هُمْ فِيهَا عَمَوْنَ ﴿٦٦﴾  
 وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۖ إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاءُ وَنَنَايَتَا  
 لَمُخْرَجُونَ ﴿٦٧﴾ لَقَدْ وُعِدْنَا هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن

معبودا۔ ہر گاہ تم یہ بوزت و ن کہ تہند معبودتہ چھہ مستحق عبادت قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ  
 صَادِقِينَ تہہ فرما یو کہ۔ یار رسول اللہ انو تہ پیش کمر و سہو دلیل چھوے تہہ پوزنہ دن۔ سم کو کہ  
 قیامتک وقت مُعین پاٹ نہ ونہ سبہ قیاس انکار کران چھہ تمن و زو تہہ جواب کہ تہند یہ و ن چھو غلط  
 کیا زہ یہ قیامتک مسئلہ چھو غیبہ چو کھو آندرہ۔ تہ سم مخلوقات آسمان وز مینس منز چھہ، تمو منزہ چھو نہ  
 کا نہ تہ غیبہ چہ کھہ زمان خدائس و رای۔ ہر گاہ مہ نشہ تہ تو بہ نشہ قیامتہ کبر و قو عک علم پو شیدہ رود یہ کیا ہ  
 کھہ چھہ۔ تمام عالمس منز سم مخلوق چھہ تمن نشہ چھہ امہ و رای تہ یہہ کا زاہ کھہ پو شیدہ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ  
 فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ توہ فرما یو کہ یار رسول اللہ آسمان تہ زمین منز سم چھہ تمو آندرہ زانہ نہ کا نہ  
 اکا ہ الْغَيْبِ إِلَّا اللَّهُ غیب خدائس و رای وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ یہہ چھہ لو کن کینہہ تہ  
 خبر کہ کرین تم یہہ زندہ کرنہ تہ قبر و منزہ تانہ بَلِ ادْرَاكِ عَلَيْهِمْ فِي الْآخِرَةِ بلکہ سپد ختم تہند  
 علم آخرتس متعلق تو پتہ وات نہ تم نہ تجس پیٹہ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا چنانچہ تم چھہ ونہ تمکہ حقہ  
 شحہ سی منز بَلْ هُمْ فِيهَا عَمَوْنَ بلکہ چھہ تم تمکہ حقہ ان تہ نابینا۔ کیا زہ ہتھہ پاٹھ انس چھہ و تھہ  
 ورنیٹھی یوان تمسند مقصدس و اتن چھو دشوار، ہتھہ پاٹھ واتن نہ تم تہ مقصدس وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
 ۚ إِذَا كُنَّا تُرَابًا وَآبَاءُ وَنَنَايَتَا لَمُخْرَجُونَ یہہ دُوب تجبہ کن تمو لو کو تمو انکار کو قیاس کیا ہ اس تہ  
 یہہ سان مال بڈب، یلہ اس میزہ ہ سیت میزہ آسوگت، تو پتہ میزہ اس قبر و منزہ یہہ کڈنہ لَقَدْ وُعِدْنَا  
 هَذَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا مِن قَبْلُ پز پات اسہ سیت یہہ سائین مالین بڈبن سیت چھہ ہتھہ وعدہ برو تھہ

قَبْلَ إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۶۸﴾ قُلْ سِيرُوا  
 فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ ﴿۶۹﴾  
 وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ ﴿۷۰﴾  
 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۷۱﴾ قُلْ  
 عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۷۲﴾  
 وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا

تہ کرنے آمت، کیا زہ ساری انبیاء آئی یوہے وعدہ کران مگر نہ سپد از تام سو وعدہ پورہ، نہ وون کانہہ کہ  
 کر آسہ سو قیامت۔ امہ آندرہ چھو معلوم سپدان کہ إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سمہ پھہ بے  
 سزہ تھہ سمہ برو نھین نشہ نقل کرنے یوان چھہ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ  
 عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ یلہ قیامتہ کس امکاس پیٹھ عقلی دلیلہ تہ تمہہ کس وقوعس پیٹھ نقلی دلیلہ وار بہن  
 جائن تھہ آوہ بوزانونہ توہہ پڑہ نہ انکار کرن۔ ورنہ بہہ توہہ سوی حال بس تین مکران بنیو مت چھو۔ ہر گاہ  
 تمہن تھہ آندر شک چھو تھہ فرما یو کہ یارسول اللہ ای مکر و، تھہ پھیر تو مکر قوم ہندین ملکن اندر تو پتہ  
 و چھو تمہن مکران نافرمان ہند انجام کیاہ چھو سپد مت، تم تھہ پاٹ چھہ عذابو سیت گالہ آمت ہر گاہ  
 باوجود سموموثر نصیحتو تہ و عظو تم توتہ تہندس مخالفس پیٹھ کمر گنڈ تھی روزن وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ  
 وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ تھہ مہ حض یو تھہند غم یارسول اللہ یہیمہ شرارتچہ کامہ تم کران  
 چھہ تموسیت مہ سپدان تھہند دل مبارک تنگ۔ بین انبیاء ان سیت تہ چھو یوہے معاملہ سپد مت  
 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بیہ چھہ تم مکر مسلمان وان، کہہ چھو سو عذاب  
 سمیک وعدہ تھاونہ یوان چھو، ہر گاہ تھہ پزیر چھوہ۔ قُلْ عَسَى أَنْ يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي  
 تَسْتَعْجِلُونَ تھہ فرما یو کہ یارسول اللہ، دیوہ جلدی واتہ توہہ نش تمہہ عذابک اکھ حصہ سمہ جلد واتنک  
 تھہ مطالبہ کران چھوہ ونیک تان بس تھہ منز تاخیر سپد تمیک وجہ چھو کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى

يَشْكُرُونَ ﴿٤٢﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٤٣﴾ وَمِمَّا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الْأَلْفِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٤٤﴾ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقْضَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿٤٥﴾ وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿٤٦﴾ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيٰ بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٤٧﴾

الثانی وَلَٰكِنَّا أَكْثَرُهُمْ لَا يَشْكُرُونَ پنزپاٹ تہند پروردگار چھو لوکن ہندہ چھ فضلہ ذول۔ مگر اکثر لوک چھنہ شکر گذاری کران۔ عذابہ کس تاخیرس تہ مہلتس چھنہ غنیمت زانان۔ اتھ مہلتہ کس وقس شوبہ ہاتمن حق ژھانڈن، حق قبول کرن، تہ سپدہ باباعث تہندہ نجات ابدیک۔ تھہ بدل چھہ انکار کران تہ عذابک معاملہ ٹھٹھہ زانت تھہ منز جلدی ژھانڈان۔ لہذا مہ زان تم کہ یمن تھن پیٹھ کیا پیہ نہ تم ستر ہی دنہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ پنزپاٹ تہند پروردگار چھو پور زانان تہ سو روی پیہ تم لوک پنہ نین سین تہ دلن منز کھٹت تھاوان چھہ، پیہ تہ سو روی پیہ نسر وان چھہ۔ اللہ تعالیٰ اس کج خبر پور آسکہ علاوہ چھو ظاہری طورہ تہ باضا بطہ دفترن اندر درج یوان کرنہ۔ تہنزن کا مین ہنزی چھہ کینہہ خصوصیت وَمِمَّا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ الْأَلْفِي كِتَابٍ مُّبِينٍ بلکہ چھونہ کانہہ پوشیدہ چیزہ آسمان تہ زمین منز، کس نہ درج چھونہ کتابہ اندر یعنی لوح محفوظ اندر إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقْضَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ پنزپاٹ پیہ قرآن مجید چھو فیصلہ بیان کران بنی اسرائیلن پیٹھ وار یمن تم ن چیزن منز تم ن اندر تم اختلاف کران چھہ وَإِنَّهُ لَهْدَىٰ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ بیشک قرآن مجید چھو با ایمان ہندہ خیطرہ خاص ہدایت پیہ خاص رحمت۔ ہدایت باعتبار طاعات و اعمال۔ رحمت باعتبار ثمرات و نتائج إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِيٰ بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ یلہ نہ تموون عقلی تہ شرعی



فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ ﴿۷۹﴾  
 إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا  
 وَكُوا مُدْبِرِينَ ﴿۸۰﴾ وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَنْ صَلَاتِهِمْ  
 إِنَّ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ يَا أَيَّتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۸۱﴾ وَ  
 إِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ  
 تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ ﴿۸۲﴾ وَ

فیصلہ، بیشک و دین کرہ تہندہ پروردگار عملی فیصلہ تمین اختلاف کرہ و نین منز پنہ حمہ سیت قیامتک  
 دؤہ۔ تمی دؤہہ سپدہ تمین معلوم پوز کیاہ اوس تہ اپز کیاہ اوس۔ سو پروردگار چھو غالب تہ زبردست۔  
 سو زوی زانہ ون۔ تس نش چھونہ پوشیدہ کنہی فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین بس  
 کمر و تہہ توکل تس معبود بر حقس پیٹہ۔ بیشک تہہ چھوہ نس پز س پیٹہ۔ پز زیارین چھو اللہ تعالیٰ مدد تہ  
 یاری کران **إِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَكُوا مُدْبِرِينَ** بیشک تہہ بیکو کہ  
 نہ بوزہ ناوتہ مردہ، بیہ بیکو کہ نہ بوزہ ناوتہ بن آوزندہ خصوصاً یلہ تم توبہ کن تھر کمرت ثلان آسن  
**وَمَا أَنْتَ بِهَادِي الْعُمَىٰ عَنْ صَلَاتِهِمْ** بیہ بیکو نہ تہہ انین تہ نابیناء ان کمرانی نشہ بجاوت، و تھہ  
 ہاوتہ **إِنَّ تَسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ يَا أَيَّتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ** تہہ بیکو کہ نہ بوزہ ناوتہ مگر تھے سم  
 ساین آیاتن پڑھ تہ یقین کران آسن۔ تھے لوک چھہ سان حکم مانہ ون **وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ**  
**عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ** بیہ یلہ وعدہ قیامت لوکن پیٹہ پورسپدہ ون آسہ۔ یعنی  
 قیامتک وقت یلہ نزدیک سپدہ اس کڈون تہندہ خیطرہ عجیب جانور اہ کہ زمینہ منزہ **تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ**  
**كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ** سوی جانور کرہ لوکن سیت تھہ۔ دیکھہ کافر لوک چھہ ساین آیاتن یقین  
 کران خصوصاً تمین آیاتن سم قیامس متعلق چھہ۔ و دین واثر قیامت نزدیک۔ چنانچہ اھ علامت اوس  
 تمیک میون ظاہر سپدن۔ چنانچہ تھہ کرن ساری تصدیق۔ پیغمبر آسبھہ فرماوان، تمین آس تکذیب



فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ  
 إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ ۗ وَكُلُّ أَتَوْهُ ذَخِيرِينَ ﴿۸۷﴾ وَتَرَى الْجِبَالَ  
 تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۗ صُنِعَ اللَّهُ  
 الَّذِي آتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ إِنَّهُ خَيْرُ بِمَا تَفْعَلُونَ ﴿۸۸﴾


چھو تشبیہ مرنہ پتہ بہہ زندہ سپد نس سیت بیشک بالیمان ہمدہ خیطرہ چھہ اتھ منزجہ جہہ دلیلہ ویکومر  
 يُنْفَعُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ یہہ پاووکون  
 ژیتس تمہ ڈہک ہیبت سمہ دوہنہ پھووک دنہ بہہ پوغس منز توپتہ گابرن تہ بانبرن۔ یس تہ ہوش۔ روزہ  
 نہ تمین سارنی تم آسمان تہ زمین اندر چھہ۔ ملائکو تہ انسانو اندرہ مگر نہ تم سمن ہند اللہ تعالیٰ یژہہ۔ تم  
 روزن پنہہ ڈنجہ ہسین تہ حواسن اندر۔ حدیث شریفس منز چھو، تم گئے جبریل امین میکائیل، اسرافیل  
 تہ عزرائیل بہہ حاملان عرش وکلُّ أَتَوْهُ ذَخِيرِينَ توپتہ ین ساری خدائس برو تھکن عاجزہ ذہ لیل  
 سپد ت۔ دنیاس منز چھو دستور کہ کھوژنہ وزہ چھو شخص ژلان مگر تمہہ دوہنہ بیجہ نہ کاہنہ اکھاہ کثرہ جلیہ  
 ژلت۔ چنانچہ تم زندہ آسن تم مرن، تم موت آسن تم سپدن بیہوش یعنی جہند روح۔ یہہ حال سپدہ  
 جاندارن۔ بے جان چیزن ہند حال چھو فرماوان اللہ تعالیٰ امہ پتہ وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً ۗ  
 وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ یہہ چھو کہ وچھان ژہ ای وہچھہ ونہ گمان چھوک کران کہ تم کوہ چھہ آکسی  
 جلیہ بند۔ تھے پاٹھہ تہ آٹھہ حالشی پیٹھہ ماروزن ہمیشہ مگر حقیقتس منز آسن تمہہ دوہنہ تم کوہ ابرک پاٹھہ آورہ  
 یورپکان۔ سترک پاٹھہ آسن دونہ امتِ صُنِعَ اللَّهُ الَّذِي آتَقَنَ كُلَّ شَيْءٍ اتھہ پیٹھہ گڑھہ نہ کاہنہ  
 تجب کرن۔ کیا زہہ یہہ چھہ خدایہ سنز کام ستم یم ساری چیز مضبوط تہ محکم کمر۔ ابتداءس منز آسن نہ کثہ  
 چیزس منز مضبوطی۔ سو چیزیلہ تم قدر تہ وال پیدہ کورادہ کورس مضبوطی عطا۔ یم پرودگارن سو چیز  
 پیدہ کور توپتہ وژس مضبوطی سو بیجہ نس زعمہ سو مضبوطی زائل کمر تہ بلکہ سو چیزیلہ یکدم ختم کمر تھہ  
 إِنَّهُ خَيْرُ بِمَا تَفْعَلُونَ یہہ چھہ یقینی تھہ کہ اللہ تعالیٰ اس چھہ تہنزن سارنی کایمن ہنز پور خبر۔

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِمَّا وَهُمْ مِنْ فِرْعَ يَوْمَ يَدِينُ  
 اِمْنُونَ ﴿۸۹﴾ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكَيْتٌ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ هَلْ  
 يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۹۰﴾ اِنَّمَا اُرْسِلْتُ اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ  
 الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَ هَاوَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَاُورْسِلْتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ  
 الْمُسْلِمِينَ ﴿۹۱﴾ وَاَنْ اَتْلُو الْقُرْآنَ فَمِنْ اِهْتَدَى فَاِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِمَّا وَهُمْ مِنْ فِرْعَ يَوْمَ يَدِينُ اِمْنُونَ اِس الكھاہیہ نِس نشہ نیکی یعنی ایمان  
 ہیتھ تسدہ خیطرہ چھو تمہ خوتہ رت بدلہ۔ یعنی ایمان انہ نِس پیٹھ سمہ مزورہ ہند سو مستحق اوس تمہ  
 مزورہ خوتہ بہتر مزورہ بدلہ لہ نِس عطا کرنہ بیہ آس تم تمہ دوہمہ خوفہ تہ پریشانی نشہ اہس اندر  
 وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكَيْتٌ وَجُوهُهُمْ فِي النَّارِ بیہ تم لوک خدا اِس نشہ بدی ہیتھ یعنی کفر تہ شرک ہیتھ  
 یں ہتھ کن تراونہ نارس اندر۔ ونہ اکیہ هَلْ يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ توہمہ چھونہ بدلہ یوان دنہ مگر  
 تمہی کا میں ہند سمہ تہہ کران آہوہ ذنیاس اندر۔ بے وجہ چھونہ کانہہ عذاب یوان کرنہ اِنَّمَا اُرْسِلْتُ  
 اَنْ اَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَ هَاوَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ تہہ فرما یو کہ حض یارسول اللہمہ آونہ کانہہ  
 حکماہ کرنہ سمہ حکمہ ورا ی کہ یو کرہ عبادت سمہ شہرہ کس مالکہ سنز سم اتھ شہرس عزت دیت۔  
 گوڑھس نابوتہنزی یاژ عبادت کرن۔ تمس خدلیہ سُد چھو پریتھہ چیزاہ۔ وَاُورْسِلْتُ اَنْ اَكُونَ مِنَ  
 الْمُسْلِمِينَ بیہ آومہ حکم کرنہ کہ یو آسہ فرمانبردار واندہہ وَاَنْ اَتْلُو الْقُرْآنَ بیہ آومہ بیہ تہ حکم کرنہ  
 کہ بو بوزہ ناووہ تہہ لوک قرآن مجید یعنی بو کروہ توہمہ تبلیغ احکام اِس نبوتس لازم چھو فَمِنْ اِهْتَدَى  
 فَاِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ صَلَّى فَقُلْ اِنَّمَا اَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ اِس نِس قرآن مجید یوزت میانہ تبلیغہ سبت  
 وتہ پیٹھ بیہ سو پیہ پنہ نی پانہ کہ فایدہ خیطرہ۔ یعنی تِس چھو تمیک فائدہ پائس۔ بیہ نِس وتہ نشہ ذلہ تِس  
 چھو تمیک ضرر پائس۔ تہہ فرما یو کہ یو چھوس نہ مگر نیم کرہ و نیواندرہ۔ اکھ نیم کرہ و ناہ، یعنی حکم بوزہ  
 ناوہ و نیو پیغبر و اندرہ وَقُلْ الْحَمْدُ لِلّٰهِ سَيُرِيكُمْ اٰيٰتِهٖ فَصَبْرٌ قَوْلَهَا بیہ دپو ساری تعریف شو بن خدا اِس

وَمَنْ ضَلَّ فَكُلُّ إِنْسَانٍ لِنَاسٍ أَلْفٍ مِّنَ الْمُنذِرِينَ ﴿٩٦﴾ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ  
سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

یوت۔ مہ یہ کنیرہاہ مٹہ اوس تہ وول مہ بکھہ۔ اللہ تعالیٰ ہاوہ توہہ پن نشانہ پانے یعنی قیامتک واقعات  
پس ترہ توہہ پانے فخرہ قصہ کیاہ چھو وَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بیہ چھونہ ہرگز ٹھہند پروردگار بے  
خبر تھو کا میونشہ یمہ ٹھہ کران چھوہ۔ لہذا دیہ سو با ایمان پنہ نین عملن ہند رت جزاء۔ کافرن تہ مکرن  
دیہ بکچھ کالمین ہند پور سزاء۔



## سُورَةُ الْقَصَصِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 طسّم ① تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ② نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ  
 مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ③ إِنَّ فِرْعَوْنَ  
 عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضِعُّ طَائِفَةً  
 مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ  
 الْمُسْفِينِ ④ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا

طسّم اسم چھہ حروف مُطْعَمَات۔ تمّن ہند معنی زانہ پانہ خدا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ اسم مضامین  
 اسم توبہ پیٹھ بطریق وحی چھہ سُورَہ یوان، اسم چھہ اسم کتابہ ہند آیات۔ سمک معانی بالکل واضح تہ  
 صاف چھہ نَتْلُو عَلَيْكَ مِنْ نَبَأِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ بِالْحَقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ سمو آیا تو منزہ ہتھہ مو قعس  
 پیٹھ اُس مُوسى علیہ السلام تہ فرعونہ سہدہ قصہ آندرہ اکھ حصہ توبہ پیٹھ ہران چھہ۔ پزپاٹ تمّن لوکن ہند  
 نفعہ خیطرہ اسم پڑھ کرہ ون چھہ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ بیشک فرعون اوس کو نب لودمت مصرہ  
 کس سر زمینس منز وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا بیہ آسن تہ کین لوکن مُخْتَلَف قسم کمر مت۔ قبط آسن باعزت  
 تھاومت۔ سبطی یعنی بنی اسرائیل آسن بے عزت کمر مت۔ سمیک تفصیل پیہ بیان کرنہ بروٹھ  
 یَسْتَضِعُّ طَائِفَةً مِنْهُمْ کمزور تہ ہست اوس زانان تموا ندر اُس، جماعتس یعنی بنی اسرائیل ہتھہ  
 پاٹ کہ یُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِ نِسَاءَهُمْ کھش اوس کرہ ناوان تہدین پنچوین اسم نو ی زیوان اُس  
 مارہوا تلم ہندہ اتھہ۔ زندہ اوس تھاوان تہزن زانان، یعنی کورین ہتھہ تمّن اتھہ خدمت کرہ ناوان۔ بیہ  
 اوسکھ نہ کورین ہند خوف تہ خطرہ تہ کہئی۔ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الْمُسْفِيْنَ بیشک اوس سوتباہی کرہ ونیو  
 آندرہ وَنُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتَضَعُّوا سون ارادہ اوس دینی و دنیوی احسان کرن تمّن لوکن پیٹھ اسْتَضَعُّوا

فِي الْأَرْضِ وَنَجَعَلَهُمْ أَتَمَّةً ۖ وَنَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ ۗ<sup>۱</sup>  
 وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا  
 مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ ۖ<sup>۲</sup> وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ  
 أَرْضِعِيهِ ۖ فَإِذَا اخْفِتِ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا  
 تَحْزَنِي ۗ إِنَّا رَأَدُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۗ<sup>۳</sup>  
 فَالْتَقِطْهُ الْفِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا ۗ إِنَّ

فِي الْأَرْضِ وَنَجَعَلَهُمْ أَتَمَّةً ۖ وَنَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ  
 سر زمین مصرس منزبیه بناوکه اس تم دینک پیشوا۔ بیه کروکه تمی دنیا س اندر سلطنتک وارث  
 وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ بیه دموا اس موقعه من اتھ ملکس اندر حکومت کرنک وَنُرِي فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ  
 وَجُنُودَهُمَا مِنْهُم مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ بیه باو اس فرعوس ته با اس بیه تمیزه لشکره بنی اسرا یملن بندہ اتھ  
 سؤ چیز بجه تم کھوژان اس۔ تفصیل امیک چھویہ کہ یلیہ موسیٰ علیہ السلام اتھ خطرناک زمانس منز  
 پیدہ سپد وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ اسہ ترود الہام موسیٰ علیہ السلام سندس والدس کہ ژہ  
 چاون بیه فرزندود۔ ایتس کالس ژہ بیه فرزند پو شیدہ بیکہ ہن تھاوت فَادَا اخْفِتِ عَلَيْهِ فَالْقِيهِ فِي الْيَمِّ  
 ادہ یلیہ ژہ کھوژ کہ تمسدہ جھہ ٹنہ تکلیف تلمہ تراون ژہ سؤ دریای نیلس اندر صندوقس منز تھاوت  
 وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي بیه ٹھنہ ژہ کھوژ کہ تمسدس پھٹس یا کانہہ نم برکھ تمیزہ جدائی ہند إِنَّا رَأَدُّوهُ  
 إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ بے شک اس و اتناون سؤ فرزند و اہلس ژہ نشہ۔ بیه کرون اس  
 سؤ پنہ نس و قس پیٹھ پیٹمبر و اندر۔ تو پتہ روز سسو تمن دود ووان ادہ یلیہ اندیشہ سپد کہ کہ راز سپدہ فاش  
 تو پتہ تھاو کہ اکس صندوقس منز۔ اتی ترود کہ دریای نیلس منز خدلیہ سند ناو ہتھ۔ امہ دریای نیلگ اکھ  
 شاخ اوس فرعونہ سند یوشاہی علا قو منز پکان۔ بیه صندوق دوت تپاری فرعونہ سندین علا قن اندر  
 فَالْتَقِطْهُ الْفِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا تو پتہ روٹ بیه صندوق فرعونہ سند یولو کو۔ گھر

فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِبِينَ ﴿۸﴾ وَقَالَتِ  
 امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّتُ عَيْنِي لِي وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ ۖ  
 عَسَىٰ أَنْ يَنْفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۹﴾  
 وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أَمِّ مُوسَىٰ فِرْعَاوِينَ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ  
 لَوْلَا أَنَّ رَبَّنَا عَلَّمَهَا لَتَكُونُ مِنَ الْمُنْمَنِينَ ﴿۱۰﴾  
 وَقَالَتِ لَأُخْتِهِ قُصِّيهُ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَهُمْ

والیوں بی آسیہ، بن سہو اور ہاموئی علیہ السلامس پوچھ کہ تو نے موجب ہتھ سپرہ سوتن لوکن ہندہ خیرہ دشمن یہ  
 نمک تہ پریشانی ہند باعث ان فرعون و ہامن و جنودہما کانوا خاطبین پز پات فرعون تہ ہامن  
 یہ تہنز لشکر اس پتہ حقہ سخت غلطی کرہ ون۔ پن دشمن رتھیکھ پتہ کوجھ کیتھ و قالت امرأت  
 فرعون قرت عین لی و لک تو پتہ وون فرعونہ سزہ آخیر، آسین، فرعونس یہ فرزند چھو میانین تہ  
 چائین اتھن ہند گاش۔ یہ وچھنہ سیت آسہ سون دل پھو لان لاقتلوه یہ متہ مار تون عسی ان  
 ینفعننا اونتخذہ و لدا وھم لا یشعرون دیوہ یہ اُسہ بدتھ فایدے و اتناوہ۔ بلکہ بنا وون اس یہ پن  
 پتو۔ کیا زہ اس چھہ لا ولد۔ تمکن آس نہ اوہ ونہ چاچ خبری کینہہ کہ یہ چھو سوی فرزند سہمہ سبہ اتھہ  
 فرعونہ سزہ سلطنت ختم سپرہ و اصبح فواد امم موسی فرعا۔ پار سپرہ موسی علیہ السلامہ سزہ والدہ  
 سندر دل سخت بیقرار۔ ان کادت لتبدی بہ لولا ان ربنا علما قلبہا لتکون من المنمنین  
 قریب اوس کہ سہو کہہ ہا ظاہر سارنی نشہ یہ سو روی حال، اس نے تمسند دل گنڈت تھاوت مضبوط کرہ  
 ہو تھ سہو امہ پتہ کینہہ کالا گاہ گوہت اطمینان تہ یقین کرہ و نیو اندرہ ہنہ۔ و قالت لاختہ قصیہ  
 بصرت بہ عن جنب وھم لا یشعرون تمہ پتہ دوپ موسی علیہ السلامہ سزہ والدن تہنز ہ پتہ  
 حضرت گلٹو مس ووتھ ژہ کر تمسند حال دریافت۔ تو پتہ درلیہ سہو۔ واتان و اتان و اثر فرعونہ سندر گھر ہ۔  
 تہ روز سہو چھان اس و وپرازی پات کہ تمکن لوگ نہ تہمی زہ یہ تھہ اس چہ سزینہ۔ و حرمانا علیہ



لَا يَشْعُرُونَ ۝۱۱ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ فَقَالَتْ  
 هَلْ أَذُكُم عَلَىٰ أَهْلِ بَيْتِكُمْ لِيَكْفُلُوهُ لَكُمْ وَهَمَلَهُ  
 نُصْحُونَ ۝۱۲ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ  
 وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝۱۳  
 وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ اتَّيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ  
 نَجَّيْنَا الْمُحْسِنِينَ ۝۱۴ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ

الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ اُمِّه اُوس بياکه تدبير کورمُت۔ اُمِّه اُمِّه رجموه برو نطھی پتھ موسیٰ علیہ السلام  
 نَشْرہ دود وده و نه زنانه۔ تموروث نہ کانسہ زنانه ہند دود۔ یہ حال و بہت زون تمسزہ ہم شیران موقعہ  
 غنیمت فقالت هل اذکم علی اهل بیت یکفلونہ لکم و هم له نصحون کیاہ بود و نوہ توہم  
 اکہ گرک پتہ۔ تم اہس فرزندس ذمہ داری سان رچھن۔ تم آسن اُمنسد سیٹھاہ خیر خواہ۔ دُوب ہس  
 جلد پھن گرتہ کینہ ہاہ۔ سو و ژہہ تہ اُن بہنہ والدہ ماجدہ۔ تمو نٹھوی پستان پتن تہندس آس منز ترو۔  
 تان ہیوت تمود دوجون۔ تمہ دُوب بو نمن یہ گره۔ تمس رچھن۔ تمو کورس تسلیم۔ فَرَدَدْنَاهُ إِلَىٰ أُمِّهِ  
 کي تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ اہس سوزاسہ و اہس موسیٰ علیہ السلام پنہ نس والدس نَشْرہ نٹھ شہلن تہنرہ  
 اچھہ بیہ سدن نہ تم فراقہ کس غمَس اندر بُتلا وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ  
 بیہ نٹھ سوزانہ کہ اللہ تعالیٰ سُد وعدہ و تھو حق تہ پوز آسان۔ لیکن افسوس کہ واریاہ لوک یعنی کافر چھنہ  
 یہ تھہ زانان۔ اتھ تھہ یقین کران وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ اتَّيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا توپتہ یلہ موسیٰ علیہ  
 السلام ووت پنہ طاقت و قوتچہ و انسہ بیہ سُد پورہ جوان۔ قوت جسمانی تہ قوت عقلی تہندس پد مکمل، عطا  
 کوراسہ تم ن گاثہ جار تہ علم۔ فہم سلیم۔ عقل مستقیم، نبوتہ برو نٹھ وَكَذَلِكَ نَجَّيْنَا الْمُحْسِنِينَ اُس  
 چھہ نیلو کارن تہ پات رت بدلہ عطا کران۔ اُمِّہ اندرہ سُد معلوم کہ فرعونہ سُد مشرب اوس نہ تمو کینہ  
 وقتہ اختیار کورمُت بلکہ اُس تمہہ نَشْرہ مُنْطَر۔ امی زمانگ اکھ واقعاہ سُد کہ موسیٰ علیہ السلام آس اکہ دہہ

أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا  
 مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَعَاثَ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ  
 عَدُوِّهِ فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ ۖ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ  
 إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ ۙ (۱۵) قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي  
 فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۙ (۱۶) قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ  
 فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ ۙ (۱۷) فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا

شہرہ نیر۔ تو پتہ یلہ واپس آئے وَدْخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينٍ غَفْلَةٍ مِنْ أَهْلِهَا تو پتہ ژاے اتھ شہر س  
 منز تمہ وقت یلہ اتک لوکھ آس بے خبرات کیت شو بختہ یا توہر س تیلولہ کران فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ  
 يَقْتَتِلَانِ تو پتہ وجہہ تموا اتھ شہر س اندر زن جورا ہر ہر کران هَذَا مِنْ شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ  
 اکھ اوس سیمو منزہ تہندہ جماعتک یعنی نبی اسرا نیلوا آندہ بیاکھ اوس تہند یو دشمنوا آندہ یعنی فرعونہ سند یو  
 متعلقو آندہ فَاسْتَعَاثَ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ کس مونگ مدد تم شخص کس تہنزہ  
 برادری ہند اوس کس شخص پیٹھ کس تہند یو دشمنوا آندہ اوس۔ گوڈہ کرے کس تموز بانی ہما کس۔ یلہ  
 نہ تم کینہہ مون فَوَكَرَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ کس لائے کس موسی علیہ السلام اکھ مکھال تہ اتفاقا سپد  
 سو ختم۔ یعنی سو مود تمی اکھ مکھالہ سیت۔ اگرچہ مارنکھ قصدہ لائے نہ تموسو مشیت بلکہ اوس غرض  
 کس تمبہہ کران زہ سیتی سپد تمک امیک احساس۔ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ دو بکھ یہ کینہہ شیطانہ سز کوم۔  
 یہ کورنہ مہ جان إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ بیشک سو چھو گمراہ کرہ ون ن دشمن انسانہ سند۔ کتھ پاٹھ چھو  
 سو انسانس غلطی منز تراوان۔ چنانچہ خدا کس کس کورکھ رجوع قَالَ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي  
 فَغَفَرَ لَهُ دو بکھ ای میلہ پروردگارہ مہ کورم پان پانس کس مہ مغفرت پس کس مغفرت إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ  
 پز پان اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ  
 ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ یہ دو بکھ میانہ پروردگارہ چونکہ ژہ کرت ہن نعمت مہ عطا ہذا سپد نہ بوہرگز کانہہ

يَتَرَقَّبُ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ قَالَ  
 لَهُ مُوسَى إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ ﴿١٨﴾ فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ  
 بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا قَالَ يَبُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي  
 كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّارًا  
 فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمَصْلِحِينَ ﴿١٩﴾ وَجَاءَ

مُجْرِمٌ سُدِّدُ دُكَّارٍ - امہ واقف سڈ شہر س منز چرچہ - مگر یہ آس نہ کانہہ خبر کہ یہ قتل کم ہجو کورمت -  
 صرف آس خبر اسرا ایلیس - سمنز حمایت موسیٰ علیہ السلام کر - راتس اوس موسیٰ علیہ السلام  
 اندیشہ سی اندر فاصبح فی المدینة خالفاً یترقب بگاہ صمخس ووتھ موسیٰ علیہ السلام اتھ شہر س اندر  
 خوف ووحشتہ کس حالس اندر تہ پیاران اوس خبر چھاوون کیاہ بنہ فَاذَ الَّذِي اسْتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ  
 يَسْتَصْرِخُهُ اتي آکھ بیہ سورائک شخص بس مدد منگان اوسکھ کر یکہ نادکر ان مددہ خیطرہ قَالَ لَهُ مُوسَى  
 إِنَّكَ لَغَوِيٌّ مُبِينٌ موسیٰ علیہ السلام فرمود تمس تہ ہجو کہ پز پات بالکل ویتہ نشہ ڈولمت - دوہے  
 ہجو کہ تہ لوکن سیت لڑایہ کران - موسیٰ علیہ السلام سڈ قرائیو سیت معلوم کہ سٹھ از کس قضیس  
 منز تہ چھہ صاف فرعون سندی طرفہ زیادتی فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لَهُمَا امہ  
 پتہ یلہ ارادہ کور تموتس شخصہ سدہ رنک بس سمن دوشون ہند دشمن اوس یعنی قبلی - اس اسرا ایلیس  
 گوگمان کہ زبانی کور حضرت موسیٰ ان مہ پیٹھ اظہار ناراضگی - وون مائل تمو عملی سزاوہ خیطرہ مہ پیٹھ  
 دست مبارک قَالَ يَبُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ سولوگ ویتہ ای موسیٰ  
 کیاہ تہہ چھوہ یژھان مہ تہ مارن ہتھ پاٹھ یوہ توہہ آکھ انسان مورہ ون ان ترید الا ان تکون جبارا فی  
 الأرض وما ترید ان تکون من المصلحين معلوم ہجو سپدان تہہ چھوہ نہ یژھان مگر زبردست  
 بن - لوکن اندر اہرہ بہہ ناون - تہہ چھوہ نہ ہرگز یژھان اصلاح کرہ وینو اندرہ آسن - یہ لفظ یلہ یوزام  
 قبطین - پیار کن اوس تمس راتہ کس قبلی سدہ قتلگ شور ووتھمت - قاتلس اوس ژھاند و لوگمت - سو

رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ  
يَأْتِرُونَ بِكَ لَيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ ﴿۲۰﴾  
فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۲۱﴾  
وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ  
السَّبِيلِ ﴿۲۲﴾ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ  
النَّاسِ يَسْقُونَ هُوَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ

گوئید بیتھ فرعونس خبر دینہ خیطرہ۔ تم کتر جمع مشورہ خیطرہ پن دربار۔ دربارس منزہ پطے کہ موسیٰ علیہ السلام گوهہ قتل ین کرنہ۔ وَّجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ امہ مجلسہ آندرہ ووتھ اکھ شخصہا ئیس موسیٰ علیہ السلامہ سند یو مجبو آندرہ اوس شہر کہ بیہ اندہ پیٹھ بیتہ مشورہ سپدان اوس اوسو نزدیک کوچو منز دوران دوران موسیٰ علیہ السلامس نشہ۔ قَالَ يُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتِرُونَ بِكَ لَيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ تمی شخصن دوپ ای موسیٰ پز پات فرعونہ سند دربار چھو مشورہ کران ٹھنہ مارنہ خیطرہ لہذا نیر وٹھہ سمہ شہرہ منزہ جلد کھن۔ پز پات یو چھوس ٹھنہ خیطرہ رت یشہہ وینو آندرہ فَخَرَجَ مِنْهَا خَائِفًا يَتَرَقَّبُ بیہ یوزت در او موسیٰ علیہ السلام امہ شہرہ آندرہ کھوژان کھوژان، اندیشہ کران زہ پتہ ما آسیم کاہنہ سپاہ لاران قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ نیر بچہ وقتہ کوزکہ دعای میانہ پروردگارہ نجات وہمہ مکن ظالم لوکن نشہ گنہہ انچہ جایہ واتاوت وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَىٰ رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ توپتہ یلہ تم شہر مدینس کن متوجہ سپد خبر آسکھ نہ بوکت چھوس پکان دوچھ دیوہہ پن پروردگار انچہ جایہ گن سیز و تھہ ہاوہ۔ چنانچہ تی سپد وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ تَمَّہ پتہ یلہ آٹھہ دوہ وات شہر مدینہ کس اگس کر برس پیٹھ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ بیتہ وچھکھ پھلین ہنز اکھ جماعتھہ چارواین تریش چاوان۔ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ بیہ وچھکھ تم لوکن ورا ای الگ اکس طرفس گن زوزت زنانہ جوراہ پنہ نین چارواین تریش چنہ نشہ پچھ



فَلَمَّا جَاءَهُ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ لَا تَنْخَفُفُ فَتَجَوَّتْ مِنَ  
 الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۲۵﴾ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَاجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ  
 مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿۲۶﴾ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ  
 إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِجٍ فَإِنْ أَتَمَمْتَ  
 عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سِتْرًا فَإِنْ

موجب اس سیت۔ و تہ پکان فر موومو کی علیہ السلامن اس دید صابہ زہ بکھ مہ پتہ پتہ۔ بویکھ زہ بروئھ  
 بروئھ۔ بویچھوس پیغمبر زادہ۔ ابراہیم علیہ السلامہ سند یو اولادو آندرہ۔ اس چھنہ دوپہر زمانہ کن بلا  
 ضرورت قصداً نظر دین پسند کران۔ چنانچہ پتھ پاتھ وات تم یہندس بابہ صائس نشہ۔ فَلَمَّا جَاءَهُ  
 وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قَالَ لَا تَنْخَفُفُ فَتَجَوَّتْ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اُدھیلہ موسیٰ علیہ السلام آوتہندس بابہ  
 صییس، شعیب علیہ السلامس نشہ توپتہ کورکھ تم نشہ پنن سورئ قصہ بیان تمود تہمک تسلی۔ دویہمک  
 وون مہ بز وکانہ غم۔ تہ لبونجات ظالم لوکن نشہ۔ یوت بیکن نہ تم واتھ۔ کیا زہ یہ شہر چھنہ فرعونہ  
 سزہ عملداری منز شاصل۔ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا بَتِ اسْتَاجِرُهُ سمودویو زناؤ آندرہ وون اکہ زانہ شعیب  
 علیہ السلامس ای میانہ بابہ صابہ توہہ پتھ ملازم رٹھ فی ضرورت۔ اس بڑے یہ و ن سون چاروا این  
 سیت تریش چاوناونہ خیطرہ ٹیرن چھونہ و ن مناسب۔ یہ رٹھ پزہ تہہ ملازم۔ اِنَّا خَيْرٌ مِّنْ  
 اسْتَاجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ۔ پنز پاٹ سم زہ ملازم رٹھ بکھ تموا آندرہ چھو بہتر ٹیس طاقتور تہ امانتدار  
 آسہ۔ سم دوشوے صفت چھہ تمکن اندر موجود۔ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ  
 تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبِجٍ شعیب علیہ السلامن دوپ حضرت موسیٰ اس بویچھوس یزشھان بوکرہ توہہ نکاح سمو  
 پنہ نیو دیوہ صاجزادیو آندرہ اس صاجزادہ سیت یوسہ تہہ پسند کریون۔ تھہ شرطس پیٹھ کہ آٹھن  
 ورمکن روزومہ نشہ ملازم۔ فَإِنْ أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ توپتہ ہرگا تہہ پورہ دین ورمکن روزوسنو چھہ  
 تہنز مہربانی۔ میانہ طرفہ جبر تہ زور چھونہ۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ تہہ شھان توہہ پیٹھ

شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۲۸﴾ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ أَيَّمَا الْأَجْلِينَ  
 قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿۲۹﴾  
 فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ  
 الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ  
 مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿۳۰﴾  
 فَلَمَّا آتَتْهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ  
 الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُّمُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۱﴾

پیغمبر معاملة خداوند را در مورد شوری به مشقت تراوان سجدتی آن را شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ نَهْ لِبُيُومِهِ ان شاء الله  
 رتیلو کو منزله، رت معاملة کرده و نیواندره قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ تمود و پیکه به سپد تو به به به منزله  
 معااهده مگر آیَمَا الْأَجْلِينَ قَضَيْتُ فَلَا عُدْوَانَ عَلَيَّ مِه چھو اختیار تمود و یومد تو آندره نَسْ مَدَّت بُو پوره  
 کره۔ مِه پیغمبر به نه کر نه کانه زیادتی به جبر وَاللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ اللہ تعالیٰ چھو سانه به  
 معااهده گواه کافی فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ تمم به یلمه موسیٰ علیها السلام ملایمتک  
 مَدَّت پوره کور در اولت شعیب علیه السلام اجازت بهتھ پن عمیال بهتھ مصر س گن یا شامس گن گوشه  
 خیطره آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا وَتَه پکان لجهه آکھ تیر به آکھ نه لعه بهتھ سبه و تھه اتھ۔ اتی  
 و چھه کوه طور به طرفه ناره قَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ جَذْوَةٍ مِنَ  
 النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ باژن پنہ نین فر مو که تھه تھه و پته تھی۔ مِه و چھه ناره۔ بو گوشه تھه  
 نارس نشه۔ دیوه بو بیموه و تھه هنز کانه خبره بهتھ یا ناره تیو نگاه بهتھ تھه تھه پن و شانو و تھه ناره سیت  
 فَلَمَّا آتَتْهَا نُودِيَ مِنْ شَاطِئِ الْوَادِ الْأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَنْ يُّمُوسَىٰ إِنِّي أَنَا اللَّهُ  
 رَبُّ الْعَالَمِينَ تو پته یلمه موسیٰ علیها السلام اتھ نارس کھه تل وات لعه مید لعه و چھه طرفه بابرکت جایه

وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ يَمُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ﴿۳۱﴾ أَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ذَا ضَمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ فَذَكَرَ بُرْهَانٍ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿۳۲﴾ قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يُقَتِّلُونِي ﴿۳۳﴾

پیچہ کہ کلہ منزہ گوکہ آلو زہ ای موسیٰ بیشک بوی چھوس معبود برحق۔ عاملین ہند رت۔ وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ بیا کہ آلو گو کہ کہ لورہ ہن پن تراود پتھر فَلَئِمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ لورہ پتھر تراوتھ یلہ وہھکھ سو لور زاولس سرفہ سد پاتھ ضر ضر کران۔ تہ وہت تھارے تہ کھوڑ۔ تھر پھرت ہیو کھکھ ژلن۔ عیالسن ہیو کھکھ گڑھن۔ پوت نظر تہ دژ کہ نہ۔ اللہ تعالیٰ ان فرموسس یَمُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ ای موسیٰ برونھ پچھ کھوڑمہ بیشک تہہ چھوہ امنس منز روزہ ونیو اندرہ۔ توہہ ولتہ نہ کاہنہ تکلیف۔ یہ پھنہ کاہنہ کھوڑن کھتہ۔ بلکہ چھویہ تہند مجرہ۔ بیا کہ مجرہ چھو تہند أَسْلَكَ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ذَا ضَمَمَ إِلَيْكَ ناس پنہ نس منز۔ تو پتہ کڈو سو اتھہ نیرہ سفید نہ نہ کرہ ون۔ کھنہ بیاری وراکی۔ وَضَمَمَ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ اگر تہہ عصاءس اژدہا بنہ سیت خوف پیدہ سپدہ سو دور کرنہ خیطرہ ملنا وویہ پن اتھہ پنہ نس کتر ہس سیت سو سپدہ بیہ تھوی بیٹھہ اوس اصلی حالتس اندر تمہ سیت تہہ توہہ خوف تہ کھوڑن فَذَكَرَ بُرْهَانٍ مِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ تہ زہ چیز لورہ سفید اتھہ یعنی بد بیضاء پھہ زہ مجرہ لیلہ تہندس پروردگارہ سدہ طرفہ فرعونس تہ تہندسک وزیرن تہ امیرن نشتہ گھنہ خیطرہ سمیک توہہ کھم کرنہ یوان چھو اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ بیشک تم چھہ جماعتہ سخت نافرمان قَالَ رَبِّ إِنِّي قَتَلْتُ مِنْهُمْ نَفْسًا فَأَخَافُ أَنْ يُقَتِّلُونِي موسیٰ علیہ السلامن دُوب، ای میانہ پروردگارہ بو چھوس گھنہ



وَآخِي هَارُونَ هُوَ أَفْضَمُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا  
يُصَدِّقُنِي إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَذِّبُونِ ﴿٣٢﴾ قَالَ سَنُنْشِدُ  
عَضْدَكَ بِآخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُونَ  
إِلَيْكُمَا بِآيٰتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُونَ ﴿٣٥﴾  
فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُوسَىٰ بِآيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوا مَا هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ  
مُّفْتَرٍ وَمَا سَعَيْنَا بِهٰذَا فِيْٓ أٰبَائِنَا الْاَوَّلِينَ ﴿٣٦﴾ وَقَالَ  
مُوسَىٰ رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِبَنِّ جَاءٍ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ

خطرہ چانس کھس تقیل کرنے خیرہ تیار۔ مگر تھے خبری کہ مہ چھو مورمت ٹہند اکھ شخصہ لہذا چھو  
مہ خطرہ گڑھان کہ تم مازن تہندہ ہڈل مہ۔ تبلیغ کر تک ایہ نہ موقے وَآخِي هَارُونَ هُوَ أَفْضَمُ مِنِّي  
لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي مہ چھو گڑھان پھمیر زیوہ منز۔ میون یوی ہارون چھو میانہ خوتہ  
فصح زیوہ کن۔ سوئے سوزن مہ سیت مددگار۔ سوکرہ ہامیانس تقریرس تائیدتہ تصدیق مفصل پاٹ وند  
ہاسو تمین میان تھہ۔ اِنِّيْ اَخَافُ اَنْ يُكْذِبُوْنَ کیازہ یو چھوس کھوژان تم گڑھہ نہ مہ اپن یوزان  
قَالَ سَنُنْشِدُ عَضْدَكَ بِآخِيكَ وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطٰنًا فَلَا يَصِلُونَ اِلَيْكُمَا اللہ تعالیٰ اَن  
فر مووس کہ واقعی ضرور گرو آس مضبوط ٹہنز۔ نتر ٹہندس بای سندہ سیت بہہ دمووہ توبہہ دوشون اکھ  
خاص شوکتھہ نہ ہیتھہ۔ بہہ سو طاقٹھہ سمہ سیت نہ توبہہ تم کانہہ تکلیف ہیکن وائتہ ناوت۔ بِآيٰتِنَا  
اَنْتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغٰلِبُونَ کس گڑھو سان آیات تہ مَجْرٰت ہتھ تہہ دوشوے بہہ سم ٹہنز پیروی  
کرن۔ رُوْزُوْمُرور تمین پیٹھہ غالب۔ فَلَمَّا جَاءَهُمْ مُّوسٰى بِآيٰتِنَا بَيِّنٰتٍ قَالُوا مَا هٰذَا اِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرٰى  
وَمَا سَعَيْنَا بِهٰذَا فِيْٓ اٰبَائِنَا الْاَوَّلِينَ توبہتہ بلکہ آو تمین نشہ موسیٰ علیہ السلام سان واضح تہ ن آیات ہتھہ،  
تم لگ وند بہ چھونہ مگر جوداہ، خدائس پیٹھہ خواخواہ ٹھہراونہ آمت۔ آسہ چھنہ سمہ کٹھہ یوزہ مؤے پنہ

لَهُ عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ ﴿۳۷﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ  
يَا أَيُّهَا الْمَلَأَ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي  
يَهَامُنُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى  
إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لأظنُّهُ مِنَ الْكٰذِبِينَ ﴿۳۸﴾ وَاسْتَكْبَرَ  
هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلٰهِنَا  
لَا يُرْجَعُونَ ﴿۳۹﴾ فَآخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ

نیں بروٹھیں مالین بڈین نشہ۔ وَقَالَ مُوسَى رَبِّيْ اَعْلَمُ بِمَنْ جَاءَ بِالْهُدٰى مِنْ عِنْدِهٖ وَمَنْ تَكُوْنُ لَهُ  
عَاقِبَةُ الدَّارِ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ موسیٰ علیہ السلام فرمود کہ امیگ جواب۔ میانس پر وردگار س  
چھو پور معلوم کہ کہہ آوٹس نشہ بؤڈ ہدایت ہتھ۔ بیہ ہتھ اللہ تعالیٰ سی پور خبر گس شخص سیدہ انجام بخیر  
ذنیاس اندر، بیشک ظالم، تم نہ ہدایتس تہ صحیح دینس پیٹھ آسن تم سپدن نہ ہرگز کامیاب نہ ذنیاس  
اندر، نہ آخرتس اندر۔ فرعونس سپد اندیشہ، تم بوزہ موسیٰ علیہ السلامہ سزہ دلیلہ کہ خبر چھامیان  
لو کہ ماسپدن مائل موسیٰ علیہ السلامس گن تم تہ کرنا ودر بارک لو کہ جمع وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلٰٓئِ  
عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرِي تمن لو کن ہیوٹن وٹن ای امیر و تہ وزہرو بوچھوس نہ زانان پانس وراى  
تھندہ خیطرہ کاہنہ معبودہہ فَأَوْقِدْ لِي يَهَامُنُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَى إِلَهِ  
مُوسَى اے ہامان ژہ نار سیرہ کوندہ تو پتہ بنا میانہ خیطرہ پوختہ سیرین ہنزاکھ تھنز عمارتھہہ تمی پیٹھہ  
دمہ بؤ نظر حضرت موسیٰ سدس خدائس گن وَإِنِّي لأظنُّهُ مِنَ الْكٰذِبِينَ بؤ چھٹس زانان سو اپز و تہ  
دنیو اندرہ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُم إِلٰهِنَا لَا يُرْجَعُونَ سبہہ تہ  
غرورہ کن آس فرعون تہ تھنزہ لشکرہہ ناحق سر بندى ہنزہ مژ کرن۔ تم آس زانان کہ تمن چھو نہ ذنیاس  
منزہ نیرت اسہ نشہ وائٹوی۔ فَآخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ اتھہ تکبرس تہ غرورس پیٹھہ  
سزاندہ خیطرہ روث اسہ فرعون بیہ تھنز لشکر۔ تو پتہ دت بڑت دریا و س منز تو پتہ پھاٹو سو اسہ تھہ

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ ﴿۴۰﴾ وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً  
يَدْعُونَ إِلَى التَّارِكِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ ﴿۴۱﴾  
وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ  
مِنَ الْمَقْبُوحِينَ ﴿۴۲﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ  
مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بِصَآئِرٍ  
لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۴۳﴾  
وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا

منز۔ فَاظْطَرُّ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ نہیں دیکھو کیونکہ یہ سب انجام سپرد تم سے ظالمین ہند وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً آيَةً يَدْعُونَ إِلَى التَّارِكِ تم آس آس بناومت رئیس تہ زٹھ تم لوکن نادوان آس نارس کن وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ قیامتک دوہ آسن تم بالکل بے بس تہ بے گس کاہنہ تہ کرہ نہ تمن کاہنہ مددہہ وَاتَّبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً پتہ تھا آسہ تمن لوکن ہتھ دُنیا س منز تہ لَعْنَتُھ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ قیامتک دوہ تہ آسن تم بد حال لو کو آندرہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بِصَآئِرٍ لِّلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ پز پات آسہ کمر عطا موسیٰ علیہ السلا مس کتاب (یعنی تورات) برو تھم نافرمان اقوام، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، ہلاک کرنے پتہ۔ ہتھ کتابہ منز تمن لوکن ہندہ خیطرہ آسہ حجہ دلیلہ بیہ لوڈ ہدایت بیہ ہند رحمت۔ ہتھ تم نصیحت حاصل کرن وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ بیہ آسہونہ تہہ یارسول اللہ کوہ طور کہہ مغربہ کی طرفہ بیتس آسہ موسیٰ علیہ السلا مس احکام یعنی تورات عطا کمر۔ حکم کو رس فرعونس رشہ پیغام وائتہ ناوٹگ۔ بیہ آسہونہ تہہ تمہ وقتہ کیو لو کو آندرہ کہ پانہ کیاہ آسہوہ حالاتن ہند مشاہدہ کورمت وَلَکِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ بلکہ کمر

كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۳۲﴾ وَلَكِنَّا أَنْشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ  
 الْعُمُرُ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ تَتْلُو عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا  
 وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ﴿۳۳﴾ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا  
 وَلَكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَتْهُم مِّن نَّذِيرٍ  
 مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۳۴﴾ وَلَوْلَا أَن تُصِيبَهُمُ  
 مُّصِيبَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ  
 إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۵﴾ فَلَمَّا

پیدہ آسہ واریاہ قوم موسیٰ علیہ السلام پتہ۔ تہزے عمرہ سپرہ تمہن پیٹھ زہجہ۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًّا فِي  
 أَهْلِ مَدْيَنَ بیہ آسہونہ توہمہ شہر مدینہ کین لوکن منزبہ وَاِن تَتْلُو عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا  
 مُرْسِلِينَ تالیکن ہرہوئہ تمہن لوکن پیٹھ سان آیات بلکہ آس آس توہمہ پیٹھیر ہلات سوزہ وَاِن۔ اسی سوز  
 توہمہ گن تم حالات وواقعات ادہ ہیکوہ توہمہ تم حالات وواقعات بیان کرت۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ  
 نَادَيْنَا وَلَكِن رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا آتَتْهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ  
 بیہ آسہونہ تہہ کوہ طور کہ طرفہ موجودیلہ آسہ آلودیت (یا موسیٰ الی انا اللہ رب العلمین) لیکن بیہ چھ  
 تہندس پروردگارہ سنز تہندہ حقہ ہنڈ مہربانی کہ تہہ کمر نوہ غی آخر الزمان۔ بیہ کرنوہ باخبر تمو  
 واقعاتوسیت تہہ تہہ نیم کمر و تمہن لوکن تمہن زہم نہ توہمہ بروٹھ کاہنہ نیم کرہ وَاِن پیٹھراہ امت ہجود یوہ  
 تم نصیحت زہن وَاِن تَتْلُو عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ اسی سوزہونہ لکن گن پیٹھیر۔ ہر گاہ تہہ تہہ آسہا کہ یلہ  
 تمہن کاہنہ مصیبت تہہ بلایاہ وَاِن تہہ ہاپنہ نین تمہن تہہ کا مین ہندہ سبہ۔ تمہہ تہد یو اتھو بروٹھ گن سوز مرثہ  
 آسہن اتی دپہ ہن تمہہ سانہ خدایا تہہ کوہ سوز تہہ آسہ گن کاہنہ پیٹھراہ ہن آیات ہتھ آس کرہ ہو تمہن

جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا  
 أُوتِيَ مُوسَىٰ أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ  
 قَالُوا سِحْرِن تَظَاهَرًا وَقَالُوا إِنَّا بِكُمْ لِكُفْرُونَ ﴿۳۸﴾  
 قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا اتَّبِعْهُ  
 إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۹﴾ فَإِنْ لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُمَا  
 يُتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ

چائین آیتن ہنز پیروی۔ بیہ آسہو آس بالیما نو آندرہ۔ **فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا لَوْلَا**  
**أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَىٰ** دو ان یلہ تم ن نغمہ سائہ طرفہ امر حق یعنی رسول برحق بیہ دین حق و دوت  
 دینہ لگ تم اہس پیغمبرس کونہ آیہ تھہہ کتاباہ عطا کرنہ اڑہہ موسیٰ علیہ السلا مس عطا کرنہ آیہ یعنی ا کہ  
 وٹہ ساری کتاب اکی سائہ **أَوْ لَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ** کیاہ تمو کورنا انکار تھہ کتابہ  
 یوسہ عطا کرنہ آمر آس برو تھہ موسیٰ علیہ السلا مس۔ سوی یکہ وٹہ اکی سائہ نازل کرنہ آمر آس۔  
**قَالُوا سِحْرِن تَظَاهَرًا** تم کافر آس و نان کہہ سمہہ دوشوے کتابہ (قرآن مجید تہ تورات) چھہ سحر تہ  
 جوداکہ اہس موافقت کران۔ **وَقَالُوا إِنَّا بِكُمْ لِكُفْرُونَ** بیہ آس دپان آس چھہ دوشون کتابن انکار  
 کران **قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا اتَّبِعْهُ** **إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ** تہہ فرماؤ یو کہ  
 یار رسول اللہ، ای منکر و تہہہ کمر تو پیش خدایہ سبہہ طرفہ کتاباہ یوسہ زیادہ و تھہ ہادہ و ان آسہہ سمو دیو و کتابو  
 خونہ لوتہ کرہ تلہ تمہہ چی پیروی چھوے تہہہ یہ تھہہ ہنز ونہ و ان کہہ سمہہ زہ کتابہ چھہ سحر تہ جود **فَإِنْ لَّمْ**  
**يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّهُمَا يُتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ** ہر گاہ نہ تم یہ کمر تھہہ ممکن ہس زانو کہ تم چھہ تہہہ  
 ہنز پیروی کران بلکہ چھہ تم پنے نین نفسہہ چین خواہش ہنز پیروی کران **وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ**  
**هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ** کہہہ اکھاہ چھو گراہ اس شخصہ سبہہ خونہ لوتہ ہس پنے نفسہہ خواہشہ ہنز پیروی  
 کرہ خدایہ سبہہ طرفہ تہہہ ہدایہ و رای **إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ** ہنز پائٹ اللہ تعالیٰ چھو نہ

هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٥٠﴾  
 وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٥١﴾ الَّذِينَ  
 اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ ﴿٥٢﴾ وَإِذْ أُتِيَلَىٰ عَلَيْهِمْ  
 قَالُوا الْمَنَابِئَةُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ ﴿٥٣﴾  
 أُولَٰئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَوَيَدْرُءُونَ  
 بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴿٥٤﴾ وَإِذْ أَسْمَعُوا  
 اللَّغْوَ اعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ

و تھ ہاوان تھین ظالم لو کن تم پوز واضح تہ نون سہت گراہی نشہ بائین نہ و لَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ بیشک آسہ واتو تہن لو کن پنن کلام یعنی قرآن مجید پوئس ہتھ ہتھ تم لو کہ بار بار تازہ بتازہ بوز نہ سیت نصیحت رٹن۔ یعنی آس ہتھ ہوا کی ساتہ اکہ و تہ سوزت مگر آسہ سوز سوزوارہ وارہ تہدی فاندہ خیطرہ الَّذِينَ اتَّيْنَهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ تم لو کہ تمہن آسہ سمہ قرآن مجید ہر ونٹھ کتاب عطا کر تمہن آندرہ تم حق شناس چھہ تم ہتھ ہتھ قرآن مجیدس پڑھ کران وَاِذْ أُتِيَلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا الْمَنَابِئَةُ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ یلہ تمہن پیٹھ یہ قرآن مجید ہتھو پر نہ یوان، تم ہتھہ دپان آسہ کمر پڑھ اتھ۔ بیشک ہتھو یہ سانس پروردگارہ سندی طرفہ۔ آس آس اکہ نازل سپدہ بروٹھی اتھ تسلیم گرہ ون اُولَٰئِكَ يُؤْتُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّتَيْنِ بِمَا صَبَرُوا وَوَيَدْرُءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ امی قسمہ کین لو کن کیا یلہ دُو گن مزور عطا کر نہ تہندہ صبر کر نہ خیطرہ سبہ ہتھہ تم لو کہ نیکی سیت ہدی ہند مقابلہ کران بیہ ہتھہ خرچ کران تمی منزہ ئیس آسی تمہن عطا کور خدایہ سنزن وتن اندر وَاِذْ أَسْمَعُوا اللَّغْوَ اعْرَضُوا عَنْهُ بیہ یلہ تم بوزان ہتھہ پائس نسبت کا نہہ بیچھہ کتھاہ بخالفتن نشہ بے توجہہ ہتھہ سپدان تمہہ نشہ زن نہ بوز کھوی وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ بیہ

سَلَّمَ عَلَيْكُمْ لَأَنْتَبِغِي الْجَاهِلِينَ ۝۵۵ إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ  
 أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ  
 بِالْمُهْتَدِينَ ۝۵۶ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُخَاطِفُ  
 مِنْ أَرْضِنَا ۖ أَوْ لَمْ نُنْمِكنْ لَهُمْ حَرَمًا مِمَّا يُحِبُّ إِلَيْهِ تَمَرَاتُ  
 كُلِّ شَيْءٍ رِزْقٍ قَائِمٍ لَدُنَّا ۖ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝۵۷  
 وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قُرْبَىٰ ۖ بَطِرْتَ مَعِيشَتَهَا ۖ فِتْلِكَ مَسْكِنَهُمْ

چھہ دیان تم اسہ ولتہ پنہ نین عملن ہنز مژور توہہ تہ چھوہ پنہ نین عملن ہنز مژور۔ اسہ پیہہ بروٹھہ تی یہ  
 اس گرو۔ توہہ پیہہ بروٹھہ تی یہ تہہ کثرو سَلَّمَ عَلَيْكُمْ میانہ طرفہ چھوہ سلام۔ اس گرونہ توہہ مقابلہ چھہ  
 تھوسیت لَأَنْتَبِغِي الْجَاهِلِينَ اس چھہہ جاہلن سیت تھی کران اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ  
 اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ہنز پاٹ تہہ نہ حض بیکیون نہ وتہ پیٹھہ انتھہ سؤئس توہہ خوش کرہ ہا۔ بلکہ اللہ  
 تعالیٰ ئس یٹھہ ئس گرہ ہدایت ئس اُنہ راہ راستس پیٹھہ۔ ہدایت کرہ حق قدرت چھہہ کانہہ خدا ئس  
 وراہی۔ ہدایت چھہہ تھی یہ تہ چھونہ کانہہ معلوم کہ کس بہہ ہدایت تہ کس بہہ نہ و ہُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ  
 بلکہ چھو سؤی زیادہ زانہ ون کہ ہدایت تہ تھہ لہ ون کم چھہہ وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَىٰ مَعَكَ نُخَاطِفُ  
 مِنْ أَرْضِنَا بیہ چھہہ بعضی کافر ونان ہر گاہ اس تہندہ ہدایت پیروی گرو، دین اسلام قبول گرو تیلہ سمو  
 اس پنہ شہرہ ہنزہ چوب وت نہر کڈنہ۔ چھہہ بے وطنی ہند تکلیف ٹلو۔ بیہ سپدہ معاش تہ پریشانی اَوْ لَمْ  
 نُنْمِكنْ لَهُمْ حَرَمًا مِمَّا يُحِبُّ إِلَيْهِ تَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقٍ قَائِمٍ لَدُنَّا ۖ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ یہ ون  
 ہند چھو محض لغو کیا زہ اسہ چھہنا جای دژ مژ تھہ حرمس منزیتھہ منز امن و امانہ سان روزت چھہہ۔ کیاہ  
 ایمان اُنٹ سپدیا تمن پیٹھہ بد امنی ہر گزنہ۔ تھہ خر مس گن و اتانہ چھو یوان پریتھہ کئیہ قسمک میوہ۔ رزق  
 چھہہ عطا کران اس تمن پنہ طرفہ کانہہ ہندہ ہنتہ وراہی۔ مگر تموا ندرہ چھہہ واریاہ لو کہ ہم نہ سمہ تھہ زانان  
 چھہہ۔ تمن ہند چھہہ خیال کران۔ بیا کہ سبب چھو تہندہ ایمان نہ انہ نگ کہ تم چھہہ پنہ خوش عیشی پیٹھہ ناز

لَمْ تَسْكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ﴿۵۸﴾ وَ  
 مَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمَمٍ رَسُولًا لِيَتَّبِعُوا  
 عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ ﴿۵۹﴾  
 وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا

کران تہ تھی کان۔ یہ تہ چھ تہنز۔ سمات کیا زہ۔ وکھ اھلکنا من قریۃ بطرت معیشتها فیتک مسلکھم  
 لَمْ تَسْكُنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ اسہ گال وارین شہر ہند لو کہ تم فخر تہ محبر  
 آس کران پنہ نس سامان عیش و آرامس پیٹھ۔ یکیا چھ تہند گرہ ویران بیت تہنز ان اھن ڈیشمان۔  
 تمن پتہ آی نہ تم گرہ آبادی کرنہ زمانہ مگر کمہ سی کاس۔ چھ پاٹھ کہ کانہ مسافر اھلہ اتفاقا تو کن پتہ  
 روزہ کم کینہہ کالاہ تھکھ کڈنہ خیطرہ یا تماشہ وچھنہ خیطرہ پیٹہ تہ گرھہ۔ یا شہس کھنڈس روزہ تمن جامن  
 اندر۔ آخر کار رُو د آس تہندہ ساری مال و دولتک مالک کیا زہ آس چھہ فناء و زوالہ نشہ منزہ تہ پاک۔  
 بیا کہ شہہ چھو تمن گرھان کہ ہر گاہ تہنز ہلاکت چھہ سبز مژ تہندہ گھرہ سببہ تیلہ تمن موجودہ کافران یہ  
 واریاہ کال گو کفر چہ کامہ کران تیلہ کونہ چھہ تم تہ ہلاک گرھان۔ ائی شہہ موکھ چھہ تم ایمان انان۔  
 امہ شہبگ جواب چھو کہ و ما کان ربک مھلک القرى حتی یبعث فی امم رسولا لیاتلوا علیہم ایاتنا تہند  
 پروردگار چھو نہ منہ شہرہ کین لو کن توتان گالان یوتان نہ تمن کن تہندس مئہ بدس شہرس منز چھو  
 سوزان کانہہ پیغمبرس نس تمن پیٹھ پران چھو سان آیات و ما کنت مھلکی القرى الا و اھلہا ظالمون تو  
 پتہ چھو کہ آس شہرن ہند لو کہ گالان مگر تیلہ یلہ تم لو کہ کانہہ ظلم و ستم یا شرارت کرن ہن۔ اتھ  
 قانونس موافق آو توہہ سبت معاملہ کرنہ۔ نہ آوہ توہہ پیغمبرہ سندہ ینہ بروٹھ ہلاک کرنہ نہ پیغمبرہ سندہ  
 پتہ۔ بلکہ ویکھ تان آوہ نہ تہہ ہلاک کینہہ کرنہ۔ مگر و سن گورھن کینہہ دوہ، ہر گاہ تہند یوسے رویہ رُو د  
 تیلہ چھو توہہ ضرور سزا کھیون۔ چنانچہ جنگ بدرس و غیرہ منز سپدتی۔ بیا کہ کتھاہ تہ چھہ مانع ایمان انہ  
 نس سو گنیہ ییے کہ دنیا چھو نقد امہ موکھ چھو مرغوب آخرت چھو وعدہ تی موکھ چھو غیر مرغوب۔ لہذا  
 چھہ دنیا ک رغبت و لو نشہ دور سپدان تمیک جواب چھو اللہ تعالیٰ فرماوان و ما اوتیتہم من شئی



عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿٦٠﴾ اَمِنْ وَعَدْنَاهُ وَعَدْنَا  
 حَسَنًا فَهُوَ اَلْاَقْبَىٰ كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ  
 يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ ﴿٦١﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُوْلُ اٰيْنَ  
 شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَرْعَوْنَ ﴿٦٢﴾ قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ  
 الْقَوْلُ رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ اٰغْوَيْنَا اٰغْوَيْنَهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا  
 اِلَيْكَ مَا كَانُوْا اِيَّا نَاعْبُدُوْنَ ﴿٦٣﴾ وَقِيْلَ اَدْعُوا شُرَكَآءَكُمْ  
 فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوْا لَهُمْ وَّرَاوُا الْعَذَابَ لَوْ اَنَّهٗمُ

فَمَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَزَيَّنٰنَا بيه نيس مال تو به دنيا اس اندر عطا او كرنه سو چهو محض كنيدون دوهن  
 بنده خيتره - دنيا چه كم زندگى بند متاعه نه زينههاه عمره هندس و دبرئس سبت و ويره سوته و ما  
 عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ رزن كامين بند اجر نه ثواب نيس الله تعالى اس نسه نيكو كارن كيت چهو سو چهو  
 سيشاه بهتر نه سيشاه پوشه ون نه أَفَلَا تَعْقِلُونَ كياه تو به چهو ناييزه بن نه فخره نران اَمِنْ وَعَدْنَاهُ  
 وَعَدْنَا حَسَنًا فَهُوَ اَلْاَقْبَىٰ كياه سو شخص نيس سبت اسه رت و عده كورمت چهو - نيس ضرورته و عدس  
 حاصل كره ون چهو كَمَنْ مَتَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا سو چهائس شخص به نيس اسه تمنع نله نوو دنيا چه  
 محض زندگى منز كه ناپايدار متاعه سبت - ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مِنَ الْمُحْضَرِيْنَ تو پته بيه سو قيامت ك دوه  
 گرفتار كمرت حاضر كرنه وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُوْلُ اٰيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِيْنَ كُنْتُمْ تَرْعَوْنَ بيه چهو سو دوه قابل  
 ذكر سيمه دوهه الله تعالى نمن كافر ن زجر و تو به پاب آلودت پر زهه ارسته چهوه تم تم نجه ميان شريك  
 زانان اسو كه - شيطان بنده و انه سبتِ قَالَ الَّذِيْنَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ دينه لگن تم لو كه نمن بيته  
 عذابك لحم محقق نه ثابت سدمت اسه رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ الَّذِيْنَ اٰغْوَيْنَا اى سانه پروردگاره تم لو كه چهه  
 بيشك نى سمو اس گمراه كمر اَعْوَيْنَهُمْ كَمَا غَوَيْنَا اس كمر تمو گمراه بهه پاب اس پانه گمراه سدمت اس

كَانُوا يَهْتَدُونَ ﴿۶۳﴾ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ  
 الْمُرْسَلِينَ ﴿۶۴﴾ فَعَصَيْتَ عَلَيْهِمُ الْآيَاتِ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا  
 يَتَسَاءَلُونَ ﴿۶۵﴾ فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ  
 يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ ﴿۶۶﴾ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ۗ مَا  
 كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۶۸﴾ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ

تَبَرَّكَ إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِلَّا نَاعِبِدُونَ اَسْ جَهه ژه برونه كنه دست برداری دوان۔ سم آس نه اسه  
 عبادت کران۔ سم اوس نه اسه سمیت کانہ تعلق وَقِيلَ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ فَذَعَوْهُمْ قَالَهُ  
 سَيَجْعَلِيوَالَهُمْ وَاوَالْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ تمہ پتہ پیہ تمہن مثر کن ونہ۔ دیو آلو تمہ  
 باطل معبودن تم شریک آسوکھ ٹھہراوان معبود برحقس۔ توپتہ دیکھ تم آلو۔ تم دیکھ نہ توره کانہ  
 جوابہ۔ توپتہ پیکھ نظر عذابس پیٹھ۔ دہنہ لگن ای کاش کونہ آس آس دنیاس اندر سیزہ وتہ پیٹھ۔ تھ  
 عذابس ماسپدہ ہو گر قرار۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ پیہ سمہ دوہہ تھدہ  
 آلود تھ پر تھیکھ اللہ تعالیٰ ای لو کو توہہ کیاہ جواب دژوہ دنیاس اندر میانین پیٹہرن فَعَصَيْتَ  
 عَلَيْهِمُ الْآيَاتِ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ بس گڑھن تہمز وڈھو نغہ ساری مضمون مشیت۔ نہ اپیکھ  
 پنہ نین دماغن منز یاد کینہہ تمہ دوہہ نہ پیکھ یادای پیٹہر کیاہ آس اسه دوان نہ بیکن اکھ اکس پر تڑھت کیاڑہ  
 ساری آسن پریشان فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ البتہ دون سم  
 اکھ توبہ کور دنیاس اندر پیہ اوئن ایمان پیہ کرین رژہ عملہ تمہن لوکن جھہ امید کہ تم آسن آخر تس  
 منز رستہ گاروتہ فوز و فلاح لبہ دنیو اندرہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ تھند پروردگار جھو کئی کمالہ  
 کیو صفتو سمیت مُتَّصِف۔ چنانچہ سو تھہ چیزس پیدہ کرن یژھان جھو تھہ جھو پیدہ کران۔ تکوینی اختیار جھو  
 تشیوت۔ بس لحم سو یژھان جھو پتہ پتہ جھو کران سؤی جھو انبیاءن ہمدہ ذریعہ نازل فرماوان۔  
 تشریحی اختیار تہ جھو بس یوت یعنی کینہہ چیز شریعت مقرر کردن مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ تمہن لوکن جھو نہ

مَا تَكُنْ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿٦٩﴾ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ  
 الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٧٠﴾  
 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ  
 الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَمْ لَا تَسْمَعُونَ ﴿٧١﴾  
 قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ  
 الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُونُونَ فِيهِ أَمْ لَا

احکام تجویز کر نگ کا بہنہ تھا۔ بس لحم سویشہ سوئی کرہ جاری۔ سم مشرک چھہ پنہ طرفہ شرک  
 جائز کران مگر سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ سو چھو منزہ تہ پاک بالا و برتر تہن لوکن ہند یو ساروی  
 شرگویشہ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تَكُنْ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ تہند پروردگار چھو شیتہ کامل علمہ وول کہ سو  
 چھو زانان تہ سو روی یہ تہند دل پوشیدہ تھاوت چھہ بیہ تہ سو روی یہ تم نر او ان تہ ظاہر کران چھہ  
 وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ بیہ چھو سوئی معبود  
 برحق بس ورا ی نہ کا بہنہ معبوداہ چھو سوئی چھو حمدس سزاوار دُنْیَا س منزہ تہ آخرتس منزہ تہ کیا زہ تہند  
 نصرفات چھہ دوشون عالمن اندر تھقی سم دلالت چھہ کران تہندس کما کس پیٹھ تہ دار و مدار چھو  
 حمدس سزاوار آسن بیہ چھہ تہنزی حکومت دُنْیَا و آخرتس منزہ بیہ چھو قوت تہ وسعت تہندہ سلطنت  
 تھوی کہ چھہ ساری ایو کس کن و اتاوتہ۔ چھہ بیکنہ کس ورا ی بیہ کانسہ کن گوہت۔ یو ہے چیز چھو سو سمہ  
 سیت تہنر الوہیت ثابت سپان چھہ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ  
 مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَمْ لَا تَسْمَعُونَ فرماو یو کہ تہہ یارسول اللہ ای لو کو تلامہ و نتو تہہ ہر گاہ اللہ  
 تعالیٰ تہہ ہمیشہ خیمہ تھاوہراتھ قیامتس تان معبود برحقس ورا ی تہہ معبود بیچہ تہہ نش اُت ذہک گاش  
 بس چھو سوئی قدرتس اندر تہہ یکتا۔ بس چھو نا تہہ توحید چہ سمہ صاف دلیلہ یوزان قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ  
 اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِاللَّيْلِ تَسْكُونُونَ فِيهِ أَمْ لَا تَسْمَعُونَ



إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ وَآتَيْنَاهُ  
 مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ  
 إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ ﴿۶۱﴾  
 وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ  
 مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ

ٹھہراوان آس کہ معبودان باطل کرن اسہ شفاعت إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فَبَغَى عَلَيْهِمْ  
 قارونہ سہد حال وچھو کہ تمس گس پھش آؤقرہ تہ نافرمانی سببہ۔ تس دیت نہ کا نہ نفع تہ فاندہ مال و  
 متاعن بلکہ سپد تھند مال و متاع تس سبت تباہ و برباد۔ تھند مختصر قصہ چھو متھہ پاٹھ کہ سو اوس یقیناً  
 حضرت موسیٰ سہدہ قومہ منزہ یعنی بنی اسرائیلو منزہ۔ بلکہ اوس موسیٰ علیہ السلامہ سہد پتر نوی سوی  
 لوگ مال و دولت زیادہ آسہدہ موكھہ پنہ نس قومس پیٹھ ظلم کرنہ وَاَتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ  
 لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولَى الْقُوَّةِ مانہ زیادتی آس تس تیو کہ آسہ آس تس تیت خزانہ مالک عطا کر مت کہ  
 تم خزانہ ہنزہ گوزہ آسہ گوبراوان تہ تھکر اوان بدس جماعتس، سم قوتہ وال آس۔ سم زور پیوان  
 اوس لاگن تمہ کوزہ تئکہ خیطرہ۔ وون یلہ کوزہ ایڑہ آسہ۔ پانے گھہہ زان تم خزانہ کیت آسہن۔ یہ  
 سببہ تہ غرور ترو تم تمہ ساتہ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرَحْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ یلہ تس دون پنہ  
 قومن فہمائش کر بھہ طریقہ۔ اکی قارون خوش مہ گھہہ تھیکان مہ آس دُنیا کہ مال و دولت سبت۔ پتر  
 پاٹ اللہ تعالیٰ چھونہ پسند کران مال دُنیا سبت خوش گھہہ و نین تہ تھیکہ و نین وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ  
 الدَّارَ الْآخِرَةَ بیہ ووس پن قومن یہ تہ اللہ تعالیٰ ان مال و دولت عطا کورمت چھوی امہ مال و دولت  
 سبت کر تہ حاصل آخر تک گرہ تہ یہ مال آس کران خرچ تھندہ رضا خیطرہ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ  
 الدُّنْيَا بیہ مہ مشر او تہ دُنیا منزہ پن سوجہہ تس کھینہ چینہ تہ لباسہ خیطرہ ضرورت پیہ وَأَحْسِنْ كَمَا  
 أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ بیہ کر تہ احسان تین لوکن نسبت تھہہ پاٹھ احسان کور اللہ تعالیٰ ان تہ نسبت

الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ ﴿۴۰﴾  
 قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي ۗ أَوَلَمْ يَعْلَم أَنَّ اللَّهَ قَدْ  
 أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَآكْثَرُ  
 جَمْعًا وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ ﴿۴۱﴾ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ  
 فِي زِينَتِهِ ۖ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا لَيْلِيَّتْ لَنَا

وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ بِهِ مَهْ ثَهَانْد تباہی تہ بردبادی زمینس منز خدلیہ سزنا فرمانی کرنہ  
 سیت بہ سیدس پیغمبرہ سز مخالفت کرنہ سیت۔ بہ امہ مالک واجبی حقوق ضائع کرنہ سیت إِنَّ اللَّهَ لَا  
 يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ پز پاٹ اللہ تعالیٰ چھونہ پسند کران تباہی یڑھن والین قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ  
 عِنْدِي یہ بُوزت لوگ ونہ قارون یہ مال و دولت چھومہ حاصل سپدنت پنہ چھنہ سیت تہ ذاتی  
 ہنر مند ی سیت۔ یعنی مہ چھہ تم تدبیر تگان سموسیت مال و دولت کمانہ یوان چھو۔ تم سیت چھومہ یہ  
 سوزوی جمع کورمت۔ میون ٹھین چھو۔ بجا۔ مہ چھونہ چھہ منز کانہہ غیبی احسانہ و و تھمت نہ چھو کانہہ ہند  
 اتھ اندر کانہہ چھاہیہ چھومہ پنہ نیوا چھو جو کھمت زیونمت۔ أَوَلَمْ يَعْلَمَنَّ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ  
 الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَآكْثَرُ جَمْعًا اتھ امسیدس ونہ نس چھو اللہ تعالیٰ رڈ کران۔ فرماوان کہ  
 کیاہ ام قارون چھہ بی شمار لوکن ہندہ ذریعہ یہ کھہ بوز مرکہ پز پاٹ اللہ تعالیٰ ان چھہ گالت اس بروٹھ  
 تم تم قوم سم تمسیدہ خوتہ زیادہ سخت آس قوتہ کن یعنی نو کرو چا کرو کن بہ آس زیادہ مال و دولتہ کن۔  
 تتوی یوت سپد نہ ہندہ چھہ تم کیا آئے ہلاک کرنہ بلکہ تمن ایہ آخرتس اندر تہ ہر ٹھنہ و رای عذاب  
 کرنہ وَلَا يُسْئَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ تمن گناہگارن نش یہ نہ سوال کرنہ نہ پڑھنہ۔ تمن ایہ  
 پڑھنہ سزاونہ کیاہہ تمن آسہ سزاءس مستحق آسک علامت لحت۔ وونے تمن نغہ چھہ وقتہ سوال کرنہ  
 ایہ سو آسہ ہمز رُسوائی تہ خجالت نراونہ خیطرہ فَخَرَجَ عَلَىٰ قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ اکہ دوہہ سپد اتفاق کہ  
 قارون دراوپنہ نس قومس بروٹھ کن سخت آرائش تہ ٹیٹھ کمرت شیرت تہ پارت اکہ شانہ قَالَ الَّذِينَ

مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ ﴿۹﴾ وَقَالَ الَّذِينَ  
 أُوتُوا الْعِلْمَ وَيَلَكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَن آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا  
 وَلَا يُلْقِيهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ ﴿۱۰﴾ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا  
 كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ  
 الْمُنْتَصِرِينَ ﴿۱۱﴾ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَتَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ يَقُولُونَ  
 وَيَكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ

یُرِیدُونَ الْحَیْوةَ الدُّنْیَا تسمندہ برادری منزہ بعضے لوگوں کو تم با ایمان آستہ آس دنیازہا نڈان۔ تم لگ  
 ونہ یلیت لئامثل ما اوتی قارون اے کاش آسہ تے آسہا تھ مال تھ قارونس عطا آو کر نہ لائے  
 لذو حظ عظیم بیشک سو چھو بؤ ذ نصیبہ اول یہ ونہ سیت سپدہ نہ تہندس ایمانس کا نہہ خلل ہتھہ پاٹھ  
 ازتہ کا تیاہ مسلمان بین غیر مسلم قومن ہنز ترقی وچھت تمنا ہجہ کران تمن چھہ انجی فخر آسان۔ وقال  
 الذین اوتوا العلم ویلکم ثواب اللہ خیر لمن امن وعمل صالحا تمن لوکن خدلیہ سدہ طرفہ علم و فہج  
 دولت ونہ آس امر تمو دوپ تمن حرلیص تہ طالع لوکن کہ افسوس تہندہ ہتھہ خدلیہ سد ثواب چھو بہتر  
 تہ رت امہ مال دنیاء خونہ بس عطا کر نہ یہہ تمن لوکن سمو ایمان اون یہہ کر یکھ رتہ عملہ ولا یلقیہا الا  
 الصبرون یہ ثواب چھونہ کامل طور عطا یوان کر نہ مگر صبر کرہ ونین۔ تم مال دنیاء کہ حرص وطمع  
 نشہ صبر کرہ ون آسن فحسفنایہ ویدارہ الارض بس اول آسہ سو قارون یہہ تسمنزہ کرہ جلیہ زمینس  
 تل فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ وما کان من المنتصرین کس آس نہ کس کا نہہ  
 جماعتہا یوسہ کس مدد کمرت ہیجہ با خدا بس ورا ی۔ نہ ہیوک تم پئن پان پچاوت کا نہہ ہمد مدد حاصل  
 کمرت حال ہجہ تمس سپت آس ہڈ جماعت مگر کا نہہ تہ پوس نہ بروئھ وأصبح الذین تماتوا مکانہ  
 بالامس یقولون پگاہ صبحس تسمندہ حسسک واقعہ وچھت وون تمو لوگوں کو تم امہ بروئھ پئن تمنا آس کران  
 قارونہ سدہ مال و دولتگ یہہ کس ہیو نہ نک ویکان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر

لَوْ لَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَاتِبُ لَا يَفْلِحُ  
 الْكُفْرُونَ ﴿٨٢﴾ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا  
 يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٨٣﴾  
 مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا  
 يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٨٤﴾  
 إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَعَادِهِ

تجرب چھو کہ اللہ تعالیٰ چھورز قس اندر وسعت کران پنہ نیو بندو آندره تمن تمن یرشان چھوبیہ چھو  
 سوی تنگی کران رز قس اندر تمن تمن یرشان چھو۔ لَوْ لَا أَنْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَيُكَاتِبُ  
 لَا يَفْلِحُ الْكُفْرُونَ ہر گاہے اللہ تعالیٰ اسے پیٹھ منت تھا وہ ہا اسے نہ نیہ ہاز مینس تل والت مال دنیاء  
 کہ حرس و طمرہ موكھ۔ تجب چھو کہ کافر زانہہ کامیاب سپدن نہ۔ ہر گاہ کینہہ کلاہ دنیاء س منز عیش نہ  
 گزن مگر پتولا کہ چھو تمن تاوانس نہ خسر انس گرفتار سپدن۔ فلاح و کامیابی چھہ مخصوص بالیمان ہندہ  
 خیرہ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فُسَادًا یہ عالم آخرت  
 سمہ ثوابک مقصود اسن بیان آؤ کر نہ۔ ثواب اللہ خیر ونہہ سیت سو چھو اسے خاص مقرر کورمت تمن  
 لوکن ہندہ خیرہ سمہ دنیاء س اندر مالی اعتبارہ بوڈ بن یرشان چھہ نہ۔ بیہ چھنہ فساد تباہی نہ بُر بادی  
 یرشان وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ رُت انجام نہ رت نتیجہ چھو خدا انس کھوڑو و نین ہندہ خیرہ تم ترک نوا بن  
 سیت امتثال اوامر نہ اسن کران مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْهَا قیامتک دوہ ئس اکھاہ خدائس نشہ  
 نیکی بیٹھ بیہ سندرہ خیرہ چھہ سوی مزور بیوسہ تمہ خوتہ رث اسے استحقاقہ خوتہ زیادہ اسے وَمَنْ جَاءَ  
 بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ئس اکھاہ ئس نشہ تمہ دوہہ بدی  
 بیٹھ بیہ ئس بیہ نہ چھہ کا ماہ کرہ و نین کا نہہ مزور نہ سزاوندہ مگر تمنی کا مین ہنز تم تم گروہ ان اسن زیادتی  
 و رای إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَأْدُكَ إِلَى مَعَادِهِ تجہ کورہ دشمنو تکلیفات و اتناونہ سیت




قُلْ رَبِّيَ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۸۵﴾ وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ﴿۸۶﴾ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلْتُ إِلَيْكَ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۸۷﴾

سخت ہدیشان۔ یہ اندر توہمہ پیوہہ مجبور سپہت ترک وطن کزن۔ سمجھہ مفارقت وجدائی ہند توہمہ سخت صدمہ ہتھو۔ توہمہ سپدن تسلی سمہ کتھہ سیت کہ بیشک سم پروردگارن توہمہ پیٹھہ یارسول اللہ قرآنی احکامن ہند تعمیل تہ تبلیغ کزن فرض کورسوا تاتواہ توہمہ ضرور پنہ نس وطن اصلیس یعنی مہ شریفس منز۔ عمہ ساتہ آسوتہہ آزاد تہ غالب۔ ہیہ آسوتہہ صاحب سلطنت قُلْ رَبِّيَ أَعْلَمُ مَنْ جَاءَ بِالْهُدَىٰ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ سم لو کہ توہمہ زانان ہتھہ غلطی پیٹھہ تہ پاس ہتھہ زانان پزرس پیٹھہ تمین فرماو تہہ یارسول اللہ کہ میون پروردگار ہتھو پورہ زانہ ون کہ کتھہ آوتہمہہ طرفہ پوزدین تہ بوڈ ہدایت پیٹھہ۔ ہیہ ہتھو سوسی زانان کہ کتھہ ہتھو بیتلانہ گمرانی اندر۔ تہنز دولت نبوت ہتھہ محض خدایہ سزای مہربانی وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ توہمہ آسہ نہ پنہ ہتھہ پیغمبر ہنہ برونھہ کا نہہ امید کہ توہمہ گن کیا ایہ نازل کرنہ ہیہ عظیم الشان کتاب یعنی قرآن مجید۔ مگر سہ ہیہ کتاب نازل توہمہ پیٹھہ محض خدایہ سزہ مہربانی سیت۔ نس مہ آسوتہہ مددگار بنان کافر نہ ہندہ خیطرہ تہنز ن کتھن تاسید کرنہ سیت۔ ہتھہ پاٹ ازتان تہہ تمن رشہ الگ رُووہ ہتھہ پاٹ گوشہ آیندہ تہ الگ روزن۔ وَلَا يَصُدُّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أَنْزَلْتُ إِلَيْكَ ہیہ یلہ خدایہ سند احکام توہمہ پیٹھہ نازل سپد۔ ون مہ این لبہ توشہ کتھہ کہ سم لو کہ کیارن توہمہ ہتھہ سموا احکامو لغہہ وَأَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ تہہ رُووہ بدستور لو کون پنہ نس پروردگارہ سدس دیش گن نادوان۔ ہیہ ہتھہ پاٹ ازتام توہمہ مُشرکن سیت کا نہہ تعلق تھووہہ نہ ہتھہ پاٹ مہ تھاو کا نہہ تعلق تمن

# وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۸۸﴾

سیت آئینہ ہے۔ یہ منہ سپد و شامل ہے مُشرک سیت۔ بلکہ تھہ پاٹ از تام ہے شر کہ نشہ معصوم ہے پاک  
 زودہ تھے پاٹ روز و ہمیشہ پاک ہے معصوم وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ یہ منہ دو ہے ناد خدا بس سیت یہ  
 کانسہ معبودس لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کیا زہ کا نہ معبوداہ و جھونہ نس و رای كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ  
 پر تھہ چیزاہ و جھو ہلاک گڑھہ ون تسدہ ذات پاکہ و رای۔ معدوم ہے تاو و سپدن و جھو دلیل سمہ تھہ ہنز  
 کہ سو جھونہ قدیم او سمت یے جھہ دلیل واجب الوجودہ آج۔ مستحق عبادت آسگ شرط و جھو واجب  
 الوجود آس یلہ نہ سو واجب الوجود و جھو لہذا یہ نہ سو ہرگز مستحق عبادت آتھہ تمی و جھو مضمون لالہ  
 ثابت لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ حکومت جھہ تہننز سیمک کاسل ظہور سپدہ قیامتگ دوہ۔ تئس کن  
 ایو ہے ساری وائس و اتانہ۔ سارنی یہ پنے کمر تیک سزاوہ۔ سمو آیا تو سیت و جھو مطلب کافر ہے مُشرک  
 نا امید کرن تمہہ درخواستہ نشہ نس تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندس خدمتس منز پیش کران آس  
 کہ ہے پھیر تو سانہ سی دینس کن۔ اصل و جھو روی سخن یمن آیات کر یمن منز تمنی مُشرکن کن کہ ای  
 مُشر کو ہے و جھو حضور صلی اللہ علیہ وسلمن درخواست کران پنے نس دینس سیت موافقت کرہ نگ۔ آتھہ  
 منز سپدو نہ ہے ہرگز کامیاب۔ مگر عادت و جھو یلہ کانسہ پیٹھ ڈکھ، بیزاری ہے عتہ و جھو آسان تمہہ ساتہ  
 و جھونہ یوان نس کن روی سخن کرنہ۔ بلکہ جھہ تھہ یوان نس و اتانہ بیس کن لاگت۔ تئس و جھو تمی طریقہ  
 آمت کرنہ۔ پنے نس محبوب خاص کن و تھہ و جھو مراد تمن دشمن تھہ و اتانوں سم یہ درخواست کران  
 آس۔ کیا زہ تم یلہ اللہ تعالیٰ ان سوزین لوکن پزس دینس کن ناددہ خیطرہ یہ تھہ پاٹھ و جھو ممکن کہ تم  
 کیا سپدن شو ذبا اللہ پانہ کفر و شر کنس کن ما نیل۔



## سُورَةُ الْعَنْكَبُوتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 ۱ أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا  
 يُفْتَنُونَ ۚ ۲ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ  
 الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ۚ ۳ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ  
 يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۚ ۴ مَنْ كَانَ  
 يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۝

اللہ تمہارے ہر حرفِ مقطعات میں ہند معنی زانہ پانہ خدا أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ بعضے مسلمان چھہ کافرن ہند یو تکلیفوسیت گابرن تہ بانبران۔ کیا تم لوکن چھہ گمانہ نہ تم کیابن زیوہ سیت آمنائوت آزمائشہ وراہی تراونہ۔ یعنی تہ بہنہ نہ۔ بلکہ امہ قسمک امتحانات تہ آزمائشہ بین ضرور تم پیش وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكٰذِبِينَ ہنز پاتِ امہ چھہ ہتھوے واقعاتوسیت آزمائش کمر مژ تمین لوکن تہ تم میں بروٹھ چھہ گذر سمیت مسلمان بروٹھ میں اتن اندر۔ ہتھ اللہ تعالیٰ نراوہ تمین لوکن ہند ایمان تم ہنز زیر چھہ ایمان انہ نس اندر بیہ نراوہ سو تمین لوکن ہند ایمان تم ایمان انہ کس دعوے اس منز اپز زیر چھہ۔ چنانچہ تم لوکھ وٹھہ واخرہ ایمان اتان چھہ تم چھہ امتحان اندر ثابت روزان بلکہ چھو ٹھہند ایمان ہتھہ سپدان۔ وٹن تم لوک وٹھہ گئے چھہ ہران تم چھہ امتحانہ وقتہ اسلام تراوان بیہ کفرس گن پھیران۔ اَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا کہہ گمان چھہ کران تم لوک تم چھہ کامہ چھہ کران (شرک تہ نافرمانی، مسلمان تکلیف رسانی) تم کیاہ ہمکن ثلث امہ نشہ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ یہ خیال کرن ٹھہ چھو سیٹھاہ بے ہودہ تہ تھہ۔ تمین کافرن بیہ ضرور امیک بدلہ ہنہ۔ مَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَآتٍ

وَمَنْ جُهَدًا فَاْتَمَّا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ  
 الْعَالَمِينَ ﴿۶﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ  
 عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۷﴾  
 وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جُهَدَاكَ  
 لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ط إِلَىٰ

وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اِس شخص پورا امید اسے آخرتس منز خدا اِس سیت ملاقات کرفج تمسند گزھہ نہ  
 یتھیو حادثا تو سیت پریشان سپدن بلکہ گزھہ تمسز تچ تیاری کرن۔ خدا اِس سیت ملاقات کرنک وقت  
 چھو مقرر کرنہ آمت۔ سو وقت چھو ضرور پنے اِس موقس پیٹھ ینہ اول۔ سمہ سیت ساری غم دور سپدن۔  
 سو چھو سو زوی بوزہ ون سو زوی زانہ ون۔ اِس نشہ چھونہ کانہہ چیز پو شیدہ۔ نہ کانہہ کتھ، نہ کانہہ گوم۔  
 اِس دیکھ سو توہمہ پر یتھ رتھہ کتھہ تہ پر یتھ رتھہ کامہ ہند عوض تہ بدلہ۔ سمہ سیت ساری غم تہ عتھہ دور  
 سپدن وَمَنْ جُهَدًا فَاْتَمَّا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ یہ گزھہ تھاون یاد کہ اِس  
 اِس توہمہ محنت تہ مشتق برداشت کرنک ترغیب ووان چھہ اتھ اندر چھونہ اسہ کانہہ مفادہ۔ بلکہ اِس  
 محنت چھو کران خدایہ سد احکام بجانہ اِس اندر سو چھو محنت کران پنے پانچہ فائدہ خیطرہ۔ ورنہ پز پانچ  
 اللہ تعالیٰ چھو ساری لو کو نشہ بالکل بے نیاز۔ سو چھونہ کانہہ اِس محتاج وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
 الصَّالِحَاتِ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ یہ سمولو کو ایمان اون  
 یہ کر کیکھ رتھہ عملہ اِس گز و ضرور مغفرت تہندین گنہن یہہ دمو تہن استحقاقہ خوتہ زیادہ رت تہ زیادہ  
 بدلہ۔ تہن رتھن کاین ہند یمہ کران اِس تم دنیاء اس اندر وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا یہہ  
 کور اسہ اِس اناس مالس ماجہ نسبت رت سلوک تہ احسان کرنک۔ سیت و اِس یہ کتھہ تہ کہہ وَإِنْ  
 جُهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا ہر گاہ مول موج زور گرہے سو چیز میون  
 شریک ٹھہراونہ خیطرہ سمسندس معبود آسکس پیٹھ رتھہ نشہ کہی دلیل چھہ اِس یتھہ رتھہ تہند مانکھ کتھس

مَرْجِعَكُمْ فَأَنْبِئِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ<sup>۸</sup> وَالَّذِينَ آمَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ<sup>۹</sup> وَمَنْ  
النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ  
فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ  
لَيَقُولَنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ أَوْ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ  
الْعَالَمِينَ<sup>۱۰</sup> وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ

خدا اُس شریک ٹھہرا کہ اِنے مَرْجِعَكُمْ فَأَنْبِئِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سے کن چھو توہہ سارنی رجوع  
کرن تہ وانہس من نہس کرووہ بو توہہ خبر تمہہ سارجی یہ ٹہہ کران آسوہ رت یا پیچہ وَالَّذِينَ آمَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِي الصَّالِحِينَ توہہ آندرہ سمو لو کو ایمان اون تہ رتہ عملہ کر کیحہ تم  
واتا و کہ آس ضرور نیکو کارن سیت جنتس۔ پیٹھے پاٹ سم لو کہ پیچہ کامہ کرن تمن پیہہ سزادہ۔ لہذا اُس  
اکھاہ مالس ماجہ ہنزا اطاعت مقدم تھاوہ خدایہ سندس اطاعتس پیٹھے تہس تہ پیہہ سزادہ یہ آیہ کریم چھو  
نازل سپد مت حضرت سعد بن ابی وقاصہ سندہ حقہ۔ تمن آس موج اسلامہ نشہ پھیر تہس پیٹھے مجبور  
کران وَمَنْ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ بِیہ  
چھہ لو کو آندرہ بعضے تم وانان چھہ آسہ اون ایمان خدائس۔ توپتہ ہر گاہ خدایہ سزہ وتہ اندر کا نہہ تکلیف  
واتان چھو کہ لو کن ہندہ طرفہ تہہ لو کن ہندس تکلیفس چھہ زانان خدایہ سُد عذاب ہیو۔ یعنی سیٹھاہ  
پریشان چھہ سپدان وَلَئِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولَنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ توپتہ ہر گاہ ٹہندس پرورد گارہ  
سندہ طرفہ مسلمانن کا نہہ مدواہ واتان چھو تمہہ ساتہ چھہ دپان آسے توہی سیت آس اُو لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ  
بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ کیاہ اللہ تعالیٰ چھنا پور زان و ن تہہ سارسی یہ عالمہ کین لو کن ہندین دن  
منز چھو وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُتَفِئِينَ اللہ تعالیٰ اس چھو نتر اون با ایمان ہند  
حال تہ۔ بیہ چھس نتر اون منافقن ہند حال تہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَتَجْعَلُونا

الْمُنْفِقِينَ ۝۱۱ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا  
 سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ وَمَاهُمْ بِحَمِيلِينَ مِنْ خَطِيئِهِمْ  
 مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝۱۲ وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ  
 أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ ۝۱۳  
 وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ  
 إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ۝۱۴  
 فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ ۝۱۵

وَلِيَحْمِلْ خَطِيئَتَكُمْ بپہ چھہ ونان کافر با ایمان تہہ پکود نیس اندر سانہ وتہ۔ قیامتک دوہ تلو آس یانس پیٹھ  
 تہند وبال تہ گناہ وَمَاهُمْ بِحَمِيلِينَ مِنْ خَطِيئِهِمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ حالانکہ تم تلن نہ ہرگز تہند یو گناہو  
 اندرہ اکھ زڑہ تہ تمہہ طریقہ تمہہ سیت تم تمو تہو نشہ آزاد سپدن۔ تم چھہ یہ بالکل اپز ونان۔  
 وَلِيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ وَلَيَسْئَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ تم تلن ضرور  
 قیامتک دوہ پنہ نین گنہن ہند بور۔ یہ تلن واریاہ بور پنہ نین بورن سیت۔ سو گو لو کن گمراہ کرہ کین گنہن  
 ہند یور یہ یہ تم ضرور پر تھنہ قیامتک دوہ تم سارنی تھن ہند تمہہ تم پانے ٹھہراوان آس تو پتہ پیٹھ  
 سزاؤنہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا یہ سوزا سہ نوح  
 علیہ السلام پیغمبر پنہ نس قومس گن۔ نس رود سو تم منز پنہو (۵۰) ہو کم آس ساس (ساڑن نون شتن)  
 ورہس تبلیغ کران توحیدس گن نادودوان۔ مگر تہ کمرت تہ اون نہ تمو ایمان بلکہ کوزکھ انکار تہ تکذیب  
 فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ادہ رٹ تم سیلابن تہ پھاٹون در حالیتیہ تم آس بدہ ظالم۔ فَأَنْجَيْنَاهُ  
 وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ نس دیت اسہ نجات حضرت نوحس یہ تم تہزہ ناوہ  
 اندر کھتمت آس امہ طوفانہ نشہ۔ یہ تھووا سہ سو واقع اکھ نشاناہ عبرتک عالمہ کین لوکن ہندہ خیطرہ

وَابْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَانْتَفُوا ذَلِكُمْ  
 خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۱۳﴾ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِنْ  
 دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا إِنَّ الَّذِينَ  
 تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا  
 عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ  
 تُرْجَعُونَ ﴿۱۴﴾ وَإِنْ تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّنْ

سمن نشہ آمدہ واپج خبر واثمن تور فخرہ پڑس مخالفت کرنگ نتیجہ کیاہ چھو آسان و ابراہیم اذ قال  
 لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَانْتَفُوا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ سوز اسہ حضرت ابراہیم پیغمبر بناوت یلہ تمو فر موو پینہ نس قومس سم  
 بت پرست آس ای قوم عبادت کمر و تہمہ معبود برتہہ سزہ۔ یہ کھو ژوئس شر کہ نشہ روز و تہہ ذَلِكُمْ  
 خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ چھو تہمہہ خیطرہ بہتر ہر گاہ توہہ زان سچہ بخلاف شرک سو چھو  
 بد طریقہ کیاہہ لَمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا تہہ چھوہ معبود برحق  
 تراوت پو تلین ہنز عبادت تہہ پرستش گرہ و ن سم عاجز تہہ نالائیق چہہ۔ یہ چھوہ تہہ متعلق پائے ایزہ تہہ  
 ٹہہر او ان کہ تہمہہ سمیت سپدہ اسہ روزی روزگار س ترقی۔ یہ سوزوی چھو محض ایزہ کیاہہ لَمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ  
 تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا  
 لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ سمن ہنز عبادت تہہہ خدائس و رای کران چھوہ تم چھہ ہر گز مالک تہمہہہ ہنہ  
 رزق۔ تہن آتہہ چھوہہ رزق کاہنہ اختیار۔ بلکہ چھو تہمہہہ روزیک مالک معبود برحق۔ بس  
 ژہانڈو تہہہہ تس نشہہ ہن روزی تہہ رزق بس رزق مالک چھو۔ یہ یلہ رزق مالک چھو سوی تہمزی  
 کمر و عبادت۔ یہہ چونکہ از تام چھوہہ تمی رزق عطا کورمت لہذا کمر و تہمزی شکر گڈاری۔ تو پتہ ایزہ تہہہ  
 ساری تش کن بیہ نہ کانسہ کن و ائس ہنہ۔ سو دیہ توہہہ ضرور شرک و کفر کرہ اس پیٹہ سزاء وَإِنْ تُكَذِّبُوا  
 فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ ہر گاہ تہہ ایزو روزانومہہ تہہہ تہمہہ اندر کہ میون دعوی کیا چھو کہ

قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۱۸﴾  
 أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ  
 إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿۱۹﴾ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ  
 فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ  
 النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۰﴾  
 يُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَرْحَمُ مَنْ يَشَاءُ وَإِلَيْهِ تُقْلَبُونَ ﴿۲۱﴾

خدايہ سنز عبادت کرن چھ واجب تئس شکر دُپن چھو لازم مرنہ پتہ بیہ زندہ گدھن چھو حق تہ پوزیہ  
 نوکٹھاہ بکنہ چھنہ۔ ہنز پاٹ توہہ برو تھ تہ چھو وار بہو اُمتو پتہ نین پیغمبرن تکذیب تہ انکار کورمت سکن  
 تھن۔ تمین پیغمبرن تمیک کینہہ نقصانہ ووت نہ کیاہہ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ  
 پیغمبرس چھو نہ مگر صاف صاف پانٹھ پیغام وانہ ناؤن۔ زورہ مانراون۔ تسنز گوم چھنہ۔ تئس سپد ساری  
 انبیاء تبلیغ کمرت کامہ نشہ سبکدوش تھہ پاٹ سپدس یوتہ سبکدوش۔ تھہ نہ مانہ تک ضرر چھو توہہ پانس  
 آسہ امیک کاہنہ ضرراہ چھو نہ اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ كَیَاہ تم لوکھ چھنا  
 وہچھان زہ اللہ تعالیٰ تھہ پانٹھ چھو مخلوقن گوڈہ پیدہ کران۔ عدم محضہ نشہ بوجود اتان۔ توپتہ کرکھ سومی  
 بیہ دوبارہ پیدہ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ بیشک یہ تھہ چھ اللہ تعالیٰ اس نش سیٹھاہ سہل تہ آسان۔  
 بلکہ چھو ظاہرہ پاٹ دوبارہ پیدہ کرن گوڈہ پیدہ کرنہ خوتہ زیادہ سہل۔ اگرچہ پروردگارس نشہ چھہ  
 دوشوے چیز برابر عجیب تھہ چھہ کہ تم لوکھ چھہ گوڈہ پیدہ کرنس اقرار کران مگر دوبارہ پیدہ کرنس چھہ  
 انکار کران قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ  
 الْآخِرَةَ تہہ فرماؤ لوکھ یارسول اللہ اے لوکو تہہ پھر تویتھ سارسی زمینس اندر توپتہ وہچھو تھہ پاٹ  
 چھو اللہ تعالیٰ ان مخلوقات گوڈہ پیدہ کمرمت تھہ پاٹ کیاہ کرہ اللہ تعالیٰ تمین دوسمہ پھرہ قیامتگ دوہ بیہ  
 پیدہ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بیشک اللہ تعالیٰ چھو پریتھہ چیزس پیٹھ قدر تہ وول۔ يُعَذِّبُ



وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿۲۲﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَسُوءُونَ رَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۲۳﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۲۴﴾ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ

مَنْ يَشَاءُ وَيُرْحَمُ مِنْ يَشَاءُ بے دوباره پیدہ کمرت بس خوش کر بس کس گرہ عذاب۔ بس خوش کر بس کس گرہ رحم۔ اتھ تعذیب ورحم کرہ کس منز آسہ نہ بے کانسہ دخل کیا زہ وَاَلَيْهِ تَقْلِبُونَ تہہ ساری ایو تھس کن پھر نہ بے نہ کانسہ کن۔ امہ تعذیبہ رشمہ چنہ خیطرہ ہیکونہ تہہ کانسہ تدبیر کمرت وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ چنانچہ تہہ ہیکون نہ خدا عاجز کمرت ز مینس منز کھنٹت روز نہ سیت نہ وڑتھ آسمان کھنہ سیت وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ بے جھونہ توبہ خدا بس ورا ای کانسہ سر پر ستاہ۔ نہ کانسہ مدد گاراہ۔ لہذا ہیکونہ تہہ نہ پتہ تدبیرہ سیت عذابہ رشمہ بحت نہ کانسہ ہندہ حمایہ سیت وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَلِقَائِهِ أُولَٰئِكَ يَسُوءُونَ رَحْمَتِي وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ سمولو کو انکار کور اللہ تعالیٰ سندین آیاتن بالخصوص کس سیت ملاقات کرہ کس تہ کس برو تھہ کنہ استادہ سپد کس تے لوک کیاہ سپدن قیامتک دوہ میانہ رحمتہ رشمہ نا امید نا تھس و کس گوہیک تسلی کہ تم جھہ رحمتہ رشمہ حُرم بے جھو تھندی خیطرہ دگ تہ دود تھہ ون عذاب فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ حضرت ابراہیمہ سندہ امہ وعظ و نصیحتہ پتہ اوس نہ تھندہ قومک جواب کینہہ تہ مگر ای زہ پانہ وان لنگ تم ونہ زہ یہ ماریون یا زالیون نارس منز۔ چنانچہ کر کہ تھندہ زالک سامانہ تیار مگر اللہ تعالیٰ ان دیت تمن تھہ نارہ رشمہ نجات اِن فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ پز پات اتھ واقص منز چھہ واریادہ لیلہ متحدہ لوکن ہندہ خیطرہ

مَنْ دُونَ اللَّهِ أَوْ تَأَنَّا مَوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ  
وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ  
مَنْ يُصِرُّينَ ﴿۲۵﴾ فَمَنْ لَهُ لُوطٌ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ  
إِلَى رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲۶﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ  
وَيَعْقُوبَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ

امہ واقعہ سیت چھو ثابت سپدان اللہ تعالیٰ سُنْدِ قَادِرِ آسن۔ حضرت ابراہیمہ سُنْدِ پیغمبر آسن۔ مفر و  
شرک باطل آسن بیہ چھو خدایہ سندرہ قدر تک نغانہ تمن لوکن ہند خیطرہ یم پڑھ کران چھہ وَقَالَ  
إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بیہ فرمود ابراہیم علیہ  
السلام پنہ نس قومس و علس منزیہ کتھہ کہ تہہ چھوہ خدایس ور اے معبود بناومت بے جان پو تل ذنیاء چہ  
زندگی اندر پانہ وان محبت قائم تھاونہ خیطرہ یا اکھ اکھد لحاظ قائم تھاونہ خیطرہ۔ مگر بیہ روزہ وہ ذنیاء سی  
اندر ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا تو پتہ کمر و تہہ قیامتک  
دوہ اکھ اسنز مخالفت تہ انکار بیہ کمر و اڈاؤین و وہو تہ لعنت وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مَنْ يُصِرُّينَ  
مگر تمہ سیت اندہ نہ کیہنہ۔ ہر گاہے تہہ امہ بت پرستی نشہ پتھ روزو تھمز جاے آسہ نار جہنم تو بہہ آسن  
نہ تہہ کتھہ قسمہ مددگار فَمَنْ لَهُ لُوطٌ یوت و عطا و نصیحت کمر تہہ اون نہ ایمان تھند قومس۔ فقط  
اون ایمان تال کرنہ و رای تھند باپہ تھرن۔ لوط علیہ السلام وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ إِلَى رَبِّي إِنَّهُ  
هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بیہ ابراہیم علیہ السلام تو مکہ ایمان ائندہ نشہ مایوس سپد۔ دو چھہ وون تراوہ بو پین  
وطن۔ بو کرہ ہجرت پنہ نس خدایس گن۔ یوت سو و اتناویم توت گتھہ۔ بیشک سو چھو زبردست تہہ حکمت  
وول۔ سو کرہ میان حفاظت تہہ را چھہ۔ بیہ کریم سو امیک پھل عطا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ  
امہ ہجرت پتہ کور اسہ تمن عطا فرزند اسماعیل علیہ السلام علاوہ اسحق علیہ السلام بیہ تھند فرزند یعقوب

وَ اتَيْنَهُ اجْرَهُ فِي الدُّنْيَا وَاِنَّهُ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ  
 الصّٰلِحِيْنَ ﴿۲۷﴾ وَاِذَا قَالِ لِقَوْمِهِ اِنَّكُمْ لَتَاٰتُونَ  
 الْفٰحِشَةَ مَآ سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿۲۸﴾  
 اِنَّكُمْ لَتَاٰتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيْلَ ۗ وَتَاٰتُونَ  
 فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوْا  
 اِنْتِنَا بَعْدَآبِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۲۹﴾ قَالَ رَبِّ

عليه السلام وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِ النُّبُوَّةَ وَالْكِتٰبَ بيه تھوو اسمہ جاری تھند سی ذرئیس سے  
 خاندانس اندر نبوت سے کتابہ۔ یعنی توریث، انجیل، زبور، سے قرآن مجید۔ وَ اتَيْنَهُ اجْرَهُ فِي الدُّنْيَا  
 بيه کمر اسمہ ترم مزور سے ثواب عطا دنیاء سی اندر وَ اِنَّهُ فِي الْاٰخِرَةِ لَمِنَ الصّٰلِحِيْنَ بيه آسن تم  
 آخرتس اندر سے نیک بندو اندرہ وَ لَوْطًا بيه سوز اسمہ پیغمبر بناوت لوط علیہ السلام اِذَا قَالِ لِقَوْمِهِ  
 اِنَّكُمْ لَتَاٰتُونَ الْفٰحِشَةَ بيله تمو پنے نس قومس دُوب بیشک تھے ہجھوہ سیٹھاہ سخت ہجھ گوم کران  
 مَآ سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِّنَ الْعٰلَمِيْنَ توہمہ بروٹھ ہجھہ یٹھ ہجھ گوم کمر مشعالہ کیولو کو جنو سے انسانو  
 اندرہ کانسہ سے اِنَّكُمْ لَتَاٰتُونَ الرِّجَالَ وَتَقْطَعُونَ السَّبِيْلَ وَتَاٰتُونَ فِي نَادِيكُمْ الْمُنْكَرَ کیاہ تھے  
 ہجھوہ زنانہ تراوت مردن نیشہ قوت شہوانی پورہ کرنے خیطرہ نزدیک یوان۔ بيه ہجھوہ اسمہ علاوہ و تہ پکے  
 ونین لوٹان۔ بيه ہجھوہ پنے نین مجلس اندر ہجھ کامہ کران۔ شراب چوان۔ سیتارہ وایان۔ نغمہ سے گیون  
 لاگان۔ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ اِلَّا اَنْ قَالُوْا اِنْتِنَا بَعْدَآبِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ نس اوس  
 نہ کانہہ جواباہ تھندہ قومہ طرفہ گمراہی زہ دو پک اِنُو اسمہ پیٹھ خدایہ سند عذاب ہجھوے تھے یہ تھہ ونہ نس  
 اندر پوزونہ و نیو اندرہ کہ خدا چھو سمن کھن پیٹھ بیزار۔ بيه کیا ہجھوہ تھے تھندہ طرفہ پیغمبر قَالَ رَبِّ  
 اِنصُرْنِيْ عَلٰی الْقَوْمِ الْمُبْسِدِيْنَ لوط علیہ السلام کور دُعائے میانہ پروردگارہ مہہ کریاری سے  
 مدد سمن مفسد کو کن پیٹھ سوزین عذاب، تمی سیت گالٹھ۔ توپتہ کور اللہ تعالیٰ اَن تھند دُعای قبول کرنے پتہ

انصرتني على القوم المفسدين ﴿٣٠﴾ ولما جاءت رسلنا  
 ابراهيم بالبشرى قالوا اننا مهلكوا اهل هذه  
 القرية ان اهلها كانوا ظالمين ﴿٣١﴾ قال ان فيها  
 لوطا قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله  
 الا امراته كانت من الغيبين ﴿٣٢﴾ ولما ان جاءت  
 رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا

عذاب خبرندہ خطیر ہلاک مقرر۔ تمین ملائکن تھاون بیا کہ کام تہ منہ کہ ابراہیم علیہ السلام فرما دو تہہ  
 بشارت اسحق علیہ السلام سدہ تولد سدرج۔ ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى چنانچہ تو پتہ یلہ  
 آئے تم ملک تم اسہ سوزمت آس، ابراہیم علیہ السلام کن فرزندہ سبز بشارت و خوشخبری تہہ۔  
 قالوا اننا مهلكوا اهل هذه القرية ان اهلها كانوا ظالمين کتھن اندرون تمویہ کتھ تہ  
 تمن کہ بیشک اس چھہ ہلاک کرون سمہ شہر کہ لو کہ (شہر سدومک) کیا زہ امہ شہر کہ تم لو کہ چھہ  
 سخت ظالم تہ شریر قال ان فيها لوطا ابراہیم علیہ السلام دو چھہ اتھ شہر س منزے میون  
 باپہ تھر لوط علیہ السلام چھو قالوا نحن اعلم بمن فيها تمو ملکو دو چھہ اسہ چھہ پور خبر تہنہس تھہ  
 منز چھو لننجينك واهله الا امراته كانت من الغيبين اس بچا دو کہ ضرور تم یہ تھند اہل و  
 عیال تہنہہ آخیرہ وراکی۔ سو اسہ تہ روزت عذابس گر قمار سپدہ و نیو آندرہ ولما ان جاءت رسلنا  
 لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا ادہ یلہ سان سوزنہ امت ملک وات لوط علیہ السلام نشہ تم  
 سپد تھندہ اننہ سیت ناخوش تہ دل تنگ۔ کیا زہ تم ملک آس سیٹھاہ جو بصورت لو کٹھن ہنزہ شکہ۔ تمن  
 ملکن یلہ معلوم سپد کہ تم سپد سانہ پنہ سببہ تہ سخت پریشان وقالوا لا تحف ولا تحزن اننا

لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ إِنَّا مُنْجُوكَ وَاهْلِكَ إِلَّا  
 امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿۳۳﴾ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ  
 هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿۳۴﴾  
 وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۳۵﴾ وَالِى  
 مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَ  
 ارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿۳۶﴾

مُنْجُوكَ وَاهْلِكَ إِلَّا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ تموملکو دوپیک تمہہ مہ ہز کھوڑو۔ تمہہ مہ  
 ہز وکانہہ غم۔ آس جھنہ انسان۔ آس جھنہ عذابک ملک۔ آسہ جھنہ ہلاک گران سمہ شہرک لوکھ آس  
 بجاووہہ تمہہ نہ تمہند عیال تمہہ عذابہ نشہ تمہزہ آسہ وراکی۔ سو آسہ تہت زوزت عذابس گرفار سپدہ  
 ونیو اندرہہ **إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ** آس جھنہ آسجھہ  
 طرفہ سمہ شہرہ کین لوکن پیٹھ عذاب نازل کرہون۔ تمن پیٹھ کاین ہند سزا سمہ تم کران آس۔ تو  
 پتہ کور آسہ تھہ شہرس تلک پیٹھ۔ پیٹھ تراویکھ آسہ کنہ رُودک پاٹھ۔ **وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ**  
**يَعْقِلُونَ** ہز پاپ تھاو آسہ تمہہ شہرک کینہہ نن نغانہ باقی تمن لوکن ہندہ عبرتہ خیترہ سم کاٹل آس۔  
 چنانچہ ملک لوکھ آس شہر شامہ کس سفرس اندراوہون نہ گرشہ وان تمن ویران کاقتن شہرن وچھان۔  
 تمن اندریم عقلہ وال آس تم آس یہ وجھت نہیب کھیوان۔ کھوڑت آس ایمان انان۔ **وَالِى مَدْيَنَ**  
**أَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَارْجُوا الْيَوْمَ الْآخِرَ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ**  
 یہ سوز آسہ مدینہ کین لوکن گن بوی تمہند شعیب علیہ السلام پیٹہبر۔ بس دوپک تمواى میانہ قومہ  
 عبادت تہ پرستش کمر و معبود برحہہ سزہ تہ شرکہ نشہ رُوزو جھہ۔ یہ کھوڑو قیامتہ کس دوہس۔ یہ مہ  
 پھیلاووز مینس منز تباہی۔ حقوق اللہ تہ حقوق العبادتہ کمر وضایع۔ کھر وشرکہ نشہ کم تولہ نشہ، کم مینہ  
 نشہ رُوزو جھہ۔ **فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جُثَمِينَ** بس زون تموم

فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ  
 جُثَمِينَ ﴿۳۷﴾ وَعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسْئَلِهِمْ <sup>واقفة</sup>  
 وَرَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ  
 وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ ﴿۳۸﴾ وَقَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَدْ  
 جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا  
 سَابِقِينَ ﴿۳۹﴾ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِنَبِيٍّ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ  
 حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا

شعیب علیہ السلام اپنی قوم پر زبردستی سے ایمان لایا۔ یہ قوم نے اسے کفر سے تعبیر کیا۔ اُدھر تم سخت بتل۔ پس آس تم صبحس  
 پنہ نین نگران منز بھتھ کن پیتھ مومت۔ وعَادًا وَثَمُودًا وَقَدْ تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ مَسْئَلِهِمْ یہ گال اسے قوم  
 عادتہ قوم ثمود۔ پز پیاٹ توہہ آسہ وارہ نظرہ یوان ای مکہ کیوں کو تھند یو پچمڑ و تہ منہدم گامز ولریو جائو  
 منزہ۔ یلہ تہہ ملک شامس گن سفر کران جھوہ تھندہ تباہی ہند حال۔ وَرَيْنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ  
 فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ تہنز حالت آس یے کہ شیطان اوس تہنز تن پچھ کا میں  
 زینت دیو تھمت۔ ورنہ آس تم ہشیار۔ مجنون تہ بے عقل آس نہ۔ مگر تمو ہنہ نہ پنہ عقلہ کام وَقَارُونَ  
 وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ یہ گول اسے قارون فرعون تہ ہامان تھندہ کفر تہ نافرمانی سببہ وَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى  
 بِالْبَيِّنَاتِ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ حالانکہ تم ن ترشون نشہ آیو موسیٰ علیہ السلام  
 نہ دلیلہ ہیتھ مگر تمو کر سر کشی زینس اندر توپتہ ہیکنہ تم سانہ عذابہ نشہ ثرت فکُلًّا أَخَذْنَا بِنَبِيٍّ  
 فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ  
 مَنْ آخَرَفْنَا اسے کور سمو پانژو اندرہ پرستھ اکھاہ گرفتار پنہ پنہ بجر مکہ عذابہ سبت۔ چنانچہ تمو اندرہ  
 بعضین پیٹھ سوز اسے تیز واؤ۔ تمہ اندرہ جھومر اد قوم عاد۔ بعضے رٹ خوفناک کریکہ تمو اندرہ جھومر اد

بِهِ الْأَرْضَ وَمَنْهُمْ مَنْ أَخْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُظْلِمَهُمْ  
 وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿۴۰﴾ مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا  
 مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ إِتَّخَذَتْ بَيْتًا  
 وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۴۱﴾  
 إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ  
 الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۴۲﴾ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا

قوم ٹمود۔ بعضے نے اسے والٹ زمینس تل تمہ اندرہ چھو مراد قارون۔ بعضے پھاڑو اسہ دریاءس منز تمہ  
 اندرہ چھو مراد فرعون تہ ہامان و ما کان اللہ لیظلمہم و لکن کانو انفسہم یظلمون اللہ تعالیٰ  
 اوس نہ تہتھ کہ سو کیا گرہ ہا تمین پیٹھ ظلم مگر تم آس شرارت تہ فساد کر نہ سیت پان پانس ظلم کران مَثَلُ  
 الَّذِیْنَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ اَوْلِیَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتًا مِثَالِ تَمَنِ لَوْ كُنْ هَنْزٍ چھہ سمو  
 خدا نئس و رائے ہیہ مخلوق زان ہن دوست تہ مددگار آس زلر سنز مِثَالِ نُس پنہ خیالہ اکھ گراہ چھو بناوان  
 وَاِنَّ اَوْهَنَ الْبُیُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ حالانچہ ہتھ کتھہ منز چھو نہ شکھہ ساروی گرو اندرہ چھو سست  
 تہ ضعیف گرہ زلر سُد گرہ۔ ہتھہ پاٹ زلر چھو پنہ خیالہ پناچج جائے ہن زال تیار کران نُس نہ تحقیقس  
 اندر کا نہہ پناہ ہیکان چھو دت۔ ہتھہ پاٹھ چھہ مشرک معبودان باطلن پنہ خیالہ پنہ پناچج جائے زانان  
 واقس تہ تحقیقس منز چھہ نہ تم کہی لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ہر گاہ تم حقیقت حال زانہ ہن تملیہ کرہ ہن نہ شر  
 کچہ کامہ اِنَّ اللّٰهَ یَعْلَمُ مَا یَدْعُوْنَ مِنْ دُونِہِ مِنْ شَیْءٍ ہنر پاٹ اللہ تعالیٰ چھو زانان تمین سارنی  
 چیزن ہندہ ضعف و سستی ہنز حقیقت تمین تمین ہنز پرستش کران چھہ تم معبود بر ہٹس و رائے  
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سو چھو پانہ سارسی پیٹھ غالب۔ سو چھو سیٹھاہ حکمت و ول۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ  
 نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ چوہمہ آس چھہ سارنی چیزن ہنز حقیقت پور زانان۔ لہذا چھہ آس مِثَالِ بیان کران  
 لَوْ كُنْ فَكْرَہ تارہ خیطرہ و مَا یَعْقِلُهَا اِلَّا الْعَالِمُونَ سمہ مِثَالِ تَران نہ فخرہ مگر عالمینی حَلَقُ اللّٰهُ

يَعْقِلَهَا إِلَّا الْعِلْمُونَ ﴿۳۳﴾ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۴﴾  
 اَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ  
 إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ  
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿۳۵﴾ وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا  
 بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا

السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ كَوَّرَ آسْمَانَ وَزَمِينَ بِيدِهِ اَكه صحیح مصلحتہ خیلہ ہمیک  
 تمن اقرار چھو اِن فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ بیشک اتمہ منزہتھ حجہ دلیلہ بالایمان ہندہ خیلہ  
 تہندس معبود برحق تہ مستحق عبادت آسئ پیٹہ۔ اَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ  
 الصَّلَاةَ اے پیغمبر چونکہ تجہ چھو پیغمبر برحق لہذا پرتو تہ سو کتاب یوسہ توہہ کن ویدہ پاٹھے  
 سوزنہ آہ۔ بیہ تھا و نماز برپا۔ تہ بے لوکھ تہمز متابعت کمر تہہ پابندی سان نماز برپا تھا ون یعنی قوی  
 تبلیغ تہ کمر و قرآن مجید پرنہ سیت، فعلی تبلیغ تہ کمر و نماز پرنہ سیتے۔ دینچہ کامہ ہا یوکھ پانہ تمہ کامہ کمر تہ  
 اِن الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ بے شک نماز چھہ پتھ رتان بیچھہ کامیوتہ ناجائز حرکتونفہ۔ یعنی  
 بزبان حال چھہ نماز و نان کہ نئس معبود برحقہ سُنَدُیُوتِ تعظیم تہہ چھگ کران، تسندہ خیلہ ہ چھہ تہ  
 یون نماز تہ کہہ زمینس پٹھ تھا وان بیچھہ کامہ کرنہ سیتے تسنز بے تعظیمی کرن چھہ سیٹھاہ نازیبا تہ نارواستھ  
 پاٹھے یہ رتھہ کامہ نماز و رائے چھہ تمہہ گیمہ یاد خدا کرن تمن پٹھ تہ گتھہ پابندی کرن وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ  
 بیہ چھہ خدایہ سند یاد سیٹھاہ یوڈ چیزاہ فضیلت وول چیزاہ لہذا گتھہ تہہ پٹھ تہ پابندی کرن وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا  
 تَصْنَعُونَ اللہ تعالیٰ چھہ زانان تہ سوری یہ توہ کران چھو لہذا اٹھہ کوم کر یو توشہ لیو مزور،  
 خیر کر یوتہ خیری، بیچھہ کر یوتہ پیٹھے۔ وَلَا تَجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ بیہ مہ آسواے  
 مسلمانو بحث کران اہل کتابن سیتے، مگر رتہ طریقہ تہذیبہ سان۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ مگر نہ



بِالَّذِي أَنْزَلَ الْبَيِّنَاتِ وَالْحُكْمَ وَالْهُدَىٰ وَوَعَدَهُمْ  
 وَوَعْدُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۳۶﴾ وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ فَالَّذِينَ  
 آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ  
 وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ ﴿۳۷﴾ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ  
 مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذْ أُرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿۳۸﴾  
 بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا يَجْحَدُ

تمن سیتے ایم تمواندرہ ظلم سے زیادتی کرن۔ تمن ونوجواب تھہ شو تیکھ سے تیکھ۔ تھہ چھنہ کاہنہ خر ج  
 وَقَوْلُوا آمَنَّا بِالَّذِي أَنْزَلَ الْبَيِّنَاتِ وَالْحُكْمَ وَالْهُدَىٰ وَوَعَدَهُمْ مُسْلِمُونَ گویا ہے  
 کہ نے آسو تمن ونان کہ اسہ کھر پڑھ تھہ کتابہ یوہ سے اسہ کن نازل آہ کر نہ یہ تھہ کتابہ یوسہ توہہ کن  
 نازل آہ کر نہ یہ چھوہ نے تہ یہ کھہ تسلیم کران کہ سون معبود تہ تھہ معبود چھہ گئے۔ وَوَعْدُ لَهُمْ  
 مُسْلِمُونَ اس چھہ تھہدی فرمانبردار۔ تھہدی کھس گردن دارن۔ کیا زہ ایمانک دارودار چھہ تمہ  
 کتابہ ہندہ خدا یہ سندہ طرفہ منزل آسلس پیٹھ۔ سانہ کتابہ ہند منزل من اللہ آن چھہ ثابت تھہزہ کتابہ  
 سیتے تہ۔ لہذا ہزہ توہہ قرآن مجیدس ایمان ان تہ پڑھ کران وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ تھہ پاٹھ  
 کراسہ توہہ پیٹھ نازل یہ کتاب یارسول اللہ تھہ پاٹھے برو تھہن بیغیرن پیٹھ اسہ کتابہ نازل کرہ فَالَّذِينَ  
 آتَيْنَهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ پس یمن لو کن اسہ توہہ برو تھہ کتاب عطا کر تم چھہ اتھ تھہزہ کتابہ  
 پڑھ کران وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَنْ يُؤْمِنُ بِهِ سمومکہ کیولو کو اندرہ تہ چھہ کیہنہ مُصَفَّ مَزَاج تھہ کتابہ پڑھ  
 کران وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ دلائل واضح سپنہ پتہ چھنہ انکار کران سائین آیاتن مگر ضدی  
 کافر وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذْ أُرْتَابَ الْمُبْطِلُونَ تھہ آسوہ نہ یہ  
 کتابہ برو تھہ کاہنہ کتابہ ہر تھہ ہیگان نہ آسوہ تھہ سو کتاب لیٹھ ہیگان پنہ اتھ سیتے۔ ہر گاہ تہ آسہ ہاسیلہ  
 وَرَشَّ اس ضرور شک تہ عجبہ کر حج گنجائش دشمن بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَمَا

بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ ﴿۳۹﴾ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ  
 إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۴۰﴾ أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا  
 عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ  
 يُؤْمِنُونَ ﴿۴۱﴾ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ يَنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ  
 وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿۴۲﴾

يَعْبُدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ بلکہ چھ یہ کتاب بذات خود باوجودیکہ یہ چھ غنی کتاب چونکہ امیک پریتھ  
 حصہ چھ مجزہ تمہ اعتبارہ چھ یہ کتاب واریاہ واضح دلیلہ تم لوکن ہندین دن اندر، یمن علم عطا آو  
 کرنہ، مگر باوجود ظہور اعجاز چھ یمن سائین آیات نہ دلیل انکار کران مگر ضدی لو کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ  
 عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ بیہ چھ یم لو کہ باوجود اینکہ قرآن مجید چھ بوڈ مجزہ فرمان محض عنادہ کن کہ تمس  
 پیغمبرس پیٹھ کونہ آئی نازل کرنہ تھمدس پروردگارہ سندھ طرفہ ٹم مجزہ یمن ہمزاس فرمائش چھ  
 کران قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ تہ فرماو کہ یار رسول اللہ مجزہ چھ مگر خدا بس اتھ،  
 تھمدسی اختیارس منز، بو چھس نہ مگرن پاٹھ خدایہ سدہ عذابہ نشہ نیم کرہ ون۔ یعنی بہ چھس پیغمبر، پتہ  
 نس پیغمبر آسس پیٹھ چھ مہ نشہ واریاہ دلیلہ۔ بد دلیل چھ یہ قرآن مجید أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ أَنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ  
 الْكِتَابَ يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ کیاہ تھمدہ خاطرہ چھنا کافی یہ بوڈ مجزہ کہ اسہ کرنازل توہہ پیٹھ یہ بد کتاب یوسہ  
 تمس پیٹھ پر نہ چھ یوان۔ امہ خوتہ تہہ بوڈ مجزہ چھ تم ژھانڈان إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَىٰ لِقَوْمٍ  
 يُؤْمِنُونَ پزپاٹ اتھ کتابہ منز چھ بد رحمت بیہ بوڈ عظ با ایمان لوکن ہندہ خاطرہ بد رحمت گیہ اتھ  
 منز چھ احکامن ہمز تعلیم، تھ منز نقی نفع چھ بد نصیحت گیہ اتھ منز چھ تر غیب وتر ہیبت یہ تھہ چھنہ  
 بین مجزہ منز یمن پزہ ہایہ غنیمت زانتھ ایمان اُن تہ پڑھہ کرن۔ ہر گا وون توتہ یم ایمان اُن نہ قُلْ  
 كَفَىٰ بِاللَّهِ يَنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا تہہ فرماو کہ تیلہ یار رسول اللہ آخری جواب۔ اوہ سامتہ مان تو میون اللہ  
 تعالیٰ چھ بس گواہ۔ میہ منز تہ توبہ منز میانس پیغمبر آسس پیٹھ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سہ چھ

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ  
وَلِيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۵۶﴾ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ  
وَأَنَّ جَهَنَّمَ لَحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿۵۷﴾ يَوْمَ يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ  
فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۵۵﴾  
يُعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإَيَّايَ فاعْبُدُونِ ﴿۵۶﴾

زاناں تہ سُوروی یہ آسمان تہ زمین منز چھہ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِرُونَ یم لوکھ  
اپزن تمھن پیٹھ یقین چھہ کران معبودان باطلن چھہ پڑھ کران معبود برحقہ سزنا تمھن چھہ انکار کران  
تے لوکھ چھہ تاوان زد وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ بیہ چھہ تم کافر لوکھ توہہ عذاب جلد واقع سپد تک  
مطالبہ کران تہ عذاب نہ بینہ موکھ تھندس نبوتس پیٹھ شک تہ شبہ کران وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ  
الْعَذَابُ وَلِيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ہر گاہ نے عذابہ خاطرہ وقت مقرر کرنہ آسہ ہا آمت یمن آسہ ہا  
عذاب ڈیٹھ کنہ وومت سہ عذاب پیہ واتھہ تمھن ہنکھ تہ منگھ تھہ پاٹھ کہ تم تہینہ نے نہ تمیک یمن  
يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ یم چھہ توہہ نیشہ عذاب جلدینک مطالبہ کران  
حالانکہ عذابک گرہ نار جہنم چھہ تمھن کافرن پریتھ طرفہ احاطہ کر تھہ سہ رطہ تمھن گنہ گنہ ساتہ یوم  
يَغْشَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یمہ دوہہ عذاب تمھن ولہ  
ہیرہ ہونہ کلو پیٹھ کنہ تہ کھوہ رڈونے گئے تہ فرماویکھ اللہ تعالیٰ اے کافر ڈو تھو تمھن پیٹھ کائین ہند مزہ  
یمہ تھے دنیا س اندر کران اسوہ يُعْبَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإَيَّايَ فاعْبُدُونِ ای میانو  
با ایمان بندو، بیلہ تم کافر لوکھ توہہ ہر دین حق اختیار کرنہ خیطرہ بیہ احکام شریعت بجائانہ خاطرہ ایذا چھہ  
دوان۔ پڑے پاٹھے میون زمین چھہ کشادہ تہ کھول۔ ہر گاہ یتہ روز تھہ تھہ عبادت چھوہ نہ ہیکان کر تھہ  
رشتہ دارن تہ دوستن تہ دوطح مفاقت دشوار سپدہ سؤ مفاقت چھہ اکہ نتہ اکہ دوہہ سپدہ وئے کیا زہ۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ﴿۵۷﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا  
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ  
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ ﴿۵۸﴾ الَّذِينَ  
صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۵۹﴾ وَكَأَيُّنَ مِنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ  
رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ ۗ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۶۰﴾ وَلَٰكِن

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ پر ہمتہ شخص جسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہر گز ضرور مرے گا۔ تمہارا ساتھ ساتھ ہر حال جدائی تُوکُلُ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ تو پتہ چھوہ توہمہ سارے کسی نفعہ واثن نافرمان آستہ آسہ نفعہ واتس چھوہ سز اکیک خطرہ۔ ہر گاہ یہ ترک وطن سائہ رضامندی خاطرہ کرو تہہ منز سپد یو تہہ سانس وعدس متحق تہ سزوار۔ سہ وعدہ گو یو ہے کہہ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ میولو کو ایمان اولن بیہ کر کیکہ رتہ عملہ رتو عملو اندرہ گو ترک وطن کرن کھر کہ شہرہ نشہ ہجرت کرن تمن ومواس جای جنتہ کین بالا خان اندر، میو تمل جو یہ پکان آسن تمنی جنتن اندر روزن تم ہمیشہ۔ کیاہ رتہ مزوریاہ چھہ یہ جنت کام کرہ وینن ہندہ خاطرہ۔ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ایم گئے تھے سمو دُنیا ہس اندر اکھ سٹھین پیٹھ، یکن منز ہجرتج سختی تہ محسوب چھہ، صبر کربہ آس پنس پروردگارس پیٹھ اعتماد تہ توکل کران۔ ہر گاہ کانسہ وسوسہ سپدہ کہ ہجرت کر تھہ بین شہرن منز گزہ تھہ کیاہ کھم جویمو، تم کرن نظر وارہ ہتھہ پیٹھ کہہ وَكَأَيُّنَ مِنْ دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ واریاہ جانور چھہ تم، یم نہ تکتھہ تھاوان چھہ ہن روزی کتھہ جایہ۔ اللہ تعالیٰ ای تھہ تمن مقدر رزق عطا کران۔ توہہ تہ چھہ سی مقدر رزق واتہ ناوان۔ ادہ بیتہ آسوتہہ تہ تہہ۔ لہذا نہ کرو تہہ امیک وسوسہ بلکہ کرو خدا ئس پیٹھ پور بھروسہ۔ سہ چھہ یقیناً بھروسہ کرنس سزوار کیاہہ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ سہ چھہ سُوروی یوزہ ون، سُوروی زانہ ون۔ تہہ پاتھہ چھہ سہہ سارنے صفتن اندر سیٹھاہ کامل لہذا ئس کامل الصفات چھہ سہ چھہ بھروسہ کرنس قابل وَلَٰكِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ

سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ  
لِيَقُولَنَّ اللَّهُ فَاَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿۱۱﴾ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ  
مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۲﴾ وَلَئِنْ  
سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ  
مَوْتِهَا لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۳﴾


السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولَنَّ اللَّهُ فَاَنَّى يُؤْفَكُونَ بے ہر گاہ تمہے تمہن کا فرماں پر تھو  
آسمان تہ زمین کم چھہ کورمت پادہ، بے کم لوگ کامہ آفتاب تہ زون، ضرور دین تم اللہ تعالیٰ تمہن  
اقرار کرت کت چھہ پت پھر ان ژلان تم، تس یوت عبادت کرنہ نشہ۔ یعنی توحیدنی التوحین مانئہ کونہ  
چھہ توحیدنی الاولیبت مانان۔ بتھہ پاٹھ خالق اللہ تعالیٰ، بتھہ پاٹھہ رازق تہ سئ۔ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ  
يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ چنانچہ اللہ تعالیٰ ای چھہ رزق اندر وسعت  
کران۔ تمہن یرشہان چھہ تمہن پنہ نیوبندواندرہ۔ بے چھہ سئ رزق اندر تنگی کران۔ تمہن یرشہان چھہ  
تمہن۔ بے شک اللہ تعالیٰ سی چھہ پر بتھہ چیز ج پور خبر و لکن سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ  
الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولَنَّ اللَّهُ بے ہر گاہ تمہہ پر تھو تمہن آسمانچہ طرفہ کم ترورود، تو پتہ  
کورن زندہ تمہہ رورده سیتہ زمین تمہہ کہ مر نہ پتہ یعنی سر سبز کورن ہو کھنہ پتہ۔ ضرور دن امیگ جواب  
تہ کہ اللہ تعالیٰ ان ترورود، سؤی چھہ زمینس مردہ گزہتھہ بے زندہ کران یعنی خشک گزہتھہ پتہ سر سبز  
کران قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ تمہہ دلہ حمد معبود بر حقس۔ ایڑہ نہ تہ کور تموا اقرار مگر تم  
لوکھہ چھہ مانان تہ تسلیم کران، بلکہ چھہ امہ خوتہ بیاکھ تھہ کہ تمواندرہ چھہ اکثر تمہن نہ زائن تگان چھہ  
کینہہ تہ نہ امہ موکھ کہ عقل کیا چھہ کھنہ بلکہ چھہ تم عقلہ کام ہیوان تم چھہ اتھہ منز غور کران کہ یمہ  
یمہ کامہ بیلہ خدا ہی یوت کران چھہ، تس ورا ی شویا بے کانسہ ہنز عبادت کران۔ غور نہ کرنہ موکھ چھہ  
تمہن نشہ بدستہی تہ ظاہر چیز خفی تہ پوشیدہ روزان۔ سہ غور نہ کرنک وجہ چھہ یم چھہ دنیا کین شغلن

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ  
لَهِىَ الْحَيَاةُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۳۷﴾ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفَلَكِ دَعَا  
اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۗ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ  
يُشْرِكُونَ ﴿۳۸﴾ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ وَلِيَتَمَتَّعُوا ۗ فَسَوْفَ  
يَعْلَمُونَ ﴿۳۹﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِمَّا وَتَّخَطَفُ النَّاسُ  
مِنْ حَوْلِهِمْ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ﴿۴۰﴾

اندر حالانکه و مَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهُوٌّ وَلَعِبٌ بیه چھنہ یہ دنیا بچ زندگی لہو لعبہ و رائے کینہہ یہ  
وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَاةُ اصل زندگی گہ عالم آخرت زندگی۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ہر گاہ بچ  
خبر آسہا تمین تیلہ کرہ ہن نہ ناپا سیدار زندگی اختیار۔ مکنہ وقتہ چھہ تم توحید الوہیتک تہ اقرار کران۔ چنانچہ  
فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفَلَكِ دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ انہزہ غیر مستقل مزاجی ہنز بیا کھ مثال چھہ، تم  
ییلہ سمندر س منزل جہازن پیٹھ سوار سپد تھہ سفر کران چھہ تو پتہ چھہ ناو تہنز واوہ اولئس منز یوان، تمہہ  
ساتہ چھہ تم خدایسی پیٹھ پورا اعتقاد تھات نجات منگان، مگر دنیا چن کاین اندر روز نہ سببہ چھہ حال  
پوشان۔ چنانچہ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ تمہہ پتہ یلیہ سہ نجات دت ٹھس کن و اتہ  
ناوان چھہ، اتی چھہ یہ تس شریک ٹھہراوان لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ تھہ کفران نعمت کرن تم تھہ  
نفس یوسہ تمن آسہ عطا کر ولیتمتمتعوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ بیه تھہ کینہہ کالاہ دنیا س اندر تمتع تلن۔  
مگر بروٹھہ پھن سپدی چھہ پائے معلوم آسہ کفران نعمتک انجام بین چھہ توحید قبول کرنہ نشہ اکھ مانع  
دنیا س اندر بوڈن دیوم حیلہ چھہ یہ خیال کہ ہر گاہ اس توحید قبول کرو تیلہ مارن آسہ لو کھ بیٹھ  
شہر س منزل نہ آسہ بسہ نے اُولَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا مِمَّا وَتَّخَطَفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ کیا تم لو کو بیعنے  
مکہ کیو کافرو چھنا کہ آسہ ہوڈو ٹھند شہر حرمہ وول شہراہ، امن و اما نگ شہراہ تمن اندی کپے تم لو کھ چھہ  
تم چھہ یوان رٹھہ نہ تہ مارنہ، تم چھہ آتھ شہر س منزل روز تھہ محفوظ اٹھ مہربانی کر تھہ أَفَبِالْبَاطِلِ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ  
لَمَّا جَاءَهُ الْبَيِّنَاتُ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ ﴿۶۸﴾ وَالَّذِينَ  
جَاهِدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴿۶۹﴾

يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَ اللَّهُ يَكْفُرُونَ حق ته پوزيوت واضح آتھ چھایم آپزین معبودان پڑھ کران بیه چھ اللہ  
تعالیٰ سزنا نعمون بے قدری ته انکار کران معبود برحقس چھ شریک ٹھہراوان شریک بخدا ان  
گوخت گھران نعمت کرن۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُ  
بیه کبہ اکھاہ چھ یڑھ ظالم ته ناانصاف کس شخصہ سدہ مؤتہ ایم آپز نو روو معبود برحقس پیٹھ بلا دلیل تس  
شریک ٹھہراونہ سیت یازان اہو پڑتھ یلہ سوتس نشہ واثر بادلیل الیٰس فی جہنم مثنوی لِّلْكَافِرِينَ  
کیاہ جہنم چھ نارونج جای تمنا کافرن ہندہ خاطرہ۔ واقعی چھ بوڈ سز ابدین مجر من ہندہ خاطرہ نار جہنم  
وَالَّذِينَ جَاهِدُوا فِيْنَا لَنَهْدِيَهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ سمولوکو سانہ دینہ خاطرہ  
کوش کر تکلیف برداشت کور تمنا ہاوا اس ضرور پنہ قریبہ و تہ تلج و تھ پڑ پاٹھ اللہ تعالیٰ چھ سیت  
سیت نیوکا رن خلوصہ والین ہندن دنیاس اندرتہ آخر تس اندرتہ





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 اللَّهُ ۱ غَلَبَتِ الرُّومُ ۲ فِي أَدْنَى الْأَرْضِ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ  
 عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ ۳ فِي بَضْعِ سِنِينَ ۴ اللَّهُ الْأَمْرُ مِنْ  
 قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ۵ وَيَوْمَئِذٍ يَفِرُّ الْمُؤْمِنُونَ ۶  
 يَنْصُرِ اللَّهُ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ ۷ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۸  
 وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

اللَّهُ ایم چھ حروف مقطعات۔ تمہیں ہند معنی زانیہ خدا غَلَبَتِ الرُّومُ \* فِي أَدْنَى الْأَرْضِ رومک  
 نصاریٰ سپد آس قریب جلیہ پیٹھ مغلوب ہتس تم جنگ آس کران یوسہ جای فارسہ خوتہ ملک عربس  
 چھ تلہ چھ تھ جلیہ چھ تاوا زراعات تہ بصری ایم شامس منزہ شہر چھ حکومت رومس ماتحت آسنہ مؤہ کھ  
 چھ رومہ کس زمینس سیت شامل۔ تھ جلیہ سپد اہل روم یعنی نصاریٰ فارسہ کین لوکن مقابلہ ہم آتش  
 پرست آس مغلوب۔ ہمہ سیت عربک مٹرک خوش سپد۔ بیاہہ ہم آس نصاریٰ ان اہل کتاب آسنہ  
 مؤکھ مسلمانہ نے سیت زاناں۔ وَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَلَيْهِمْ سَيَغْلِبُونَ \* فِي بَضْعِ سِنِينَ پنہ  
 مغلوب سپد نہ پتہ سپدن تم رومی جلدے ضرور غالب اہل فارسن پیٹھ دو تمس مقابلس اندر کینہ اور مین  
 تام۔ تریوور ہو پیٹھ لون تام لِلَّهِ الْأَمْرُ مِنْ قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ یہ مغلوب سپدن تہ غالب سپدن چھ  
 خدایہ سندس اختیارس منز۔ مغلوب سپد نہ برو تھ تہ اوس اختیار خدایہ سے تہ خدایہ سی اٹھہ چھ اختیار  
 گوڈہ تہ تہ پتہ تہ وَيَوْمَئِذٍ يَفِرُّ الْمُؤْمِنُونَ \* يَنْصُرِ اللَّهُ تَمَّہ دوہہ سپدن خوش با ایمان اللہ تعالیٰ  
 سندہ تمہ یاری تہ مددہ سیت يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ سہ چھ یاری کران کس یرشان چھ کس  
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ سہ چھ سیٹھاہ غالب سیٹھاہ رحم کرہ ون وَعَدَّ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ



يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ  
 الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ ﴿٧﴾ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ وَ  
 إِن كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ ﴿٨﴾ أَوَلَمْ يَسِيرُوا  
 فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۗ

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ بے پتہ خدایہ سہہ وعدہ۔ اللہ تعالیٰ چھٹے بدل کران پنہ نس  
 وعدس مگر اکثر لوکھ چھٹے تصرفات ایمن زانان۔ تم چھہ صرف ظاہری اسبابن کن و چھٹے قیاس آرائی  
 کران يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَفْلُونَ ایم چھہ زانان صرف دنیاچہ  
 زندگی ہند ظاہری حال مگر تم چھہ آخرتہ نظر بالکل بے خبر۔ تم چھٹے معلوم آخرتس منز کیاہ آسہ  
 تہند حال۔ کیازہ تم چھٹے کاہنہ اندیشہ تم چھہ چیزن ہند سمو چیزو سیت تم ہتہ عذابس گرفتار سپدن۔  
 مثلاً کفر شرک تہ نافرمانی خداور سول نہ چھہ تم فخر تم چیزن ہمز سمو سیت تم نجات ہنہ ہا۔ سہ گو  
 ایمان تہ فرمانبر داری۔ تہنزہ نظر چھہ فقط دنیا س کن اَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ  
 وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى کیاہ آخرتہ صحیح تہ حق آسچہ دلیلہ بوزتھ چھنا ایم  
 لوکھ پانس سیت غور تہ فکر کران کہ اللہ تعالیٰ ان کوریہ زمین تہ آسمان بیہ یہ سمن دون منز باگ چھہ  
 پیدہ مگر کتہ حکمتہ سے پیٹہ۔ بیہ اکہ متعین مدتہ خاطرہ سہ مدت گڑھہ ختم پتہ آسہ قیامت یمہ دوہ ہہ  
 لوکھ خدا بس بروٹھ کن پیش بن کرنہ وَإِن كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكٰفِرُونَ لیکن اکثر لوکھ  
 چھہ قیاس پنہ نس پروردگار سیت ملاقات سپنس انکارے کران۔ اَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ  
 فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ کیاہ تم لوکھ چھناز مینس پیٹہ اورہ یور پھیرے مت۔  
 کیاہ تم چھنا گرو منز نبیر درامت۔ ہر گاہ تم اورہ یور پھیرہ ہن تیلہ و چھہ ہن تم کہ کیاہ چھہ سپدمت انجام  
 قیامتہ کین تم مکرن ہند یم تم بروٹھ آس۔ کَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا

كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ  
 مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ  
 وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٩ ثُمَّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِينَ  
 أَسَاءُوا وَالسُّوْأَىٰ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ ١٠  
 اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ١١ وَيَوْمَ  
 تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ ١٢ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ  
 مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءٌ وَكَانُوا إِشْرَاكِيَهُمْ كُفْرِينَ ١٣

اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ تہنر حالت آس کہ تم آس تہندہ خودتہ زیادہ قوتس تہ  
 طاقتس اندر بیہ اوس تموزمین لوگت بیہ اوسکھ سہ بیول ووتھ کرہ جایہ لبت تھہ بہندہ خودتہ زیادہ آباد  
 کورمت۔ تمن رشہ تہ ووت پیغمبر تہند سانہ طرفہ سن مَجْرَات ہتھہ۔ مگر تمومون نہ کیہنہ تہ توپتہ کھیو تمومو  
 تمہ نافرمانی ہند سزا فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ تہ ہنہ ہانہ ہرگز کہ اللہ تعالیٰ  
 کیاہ کرہ ہا تمن ظلم مگر تم اس کفر و شر کہ سیت پیغمبرن انکار کرنہ سیت پان پانس ظلم کران تھہ كَانَ  
 عَاقِبَةَ الَّذِينَ أَسَاءُوا وَالسُّوْأَىٰ أَنْ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ توپتہ سپد تمن چھ کامہ  
 کرہ ونین تہ پیغمبرن انکار کرہ ونین ہند انجام تہ ہتھی کیاہہ تموزان اپز خدایہ سند آیات بیہ آس تم  
 آیاتن تھنہ کران اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اللہ تعالیٰ چھ مخلوقاتن گوڈہ تہ  
 پیدہ کران۔ تمہ پتہ کرکھ سے بیہ دوبارہ پیدہ تمہ پتہ ایوتہہ تَسُنُّن واتاندنہ حساب و کتابہ خاطرہ  
 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ بیہ تمہ دوہہ قیامت قائم سپدہ نامید تہ حیران سپدن تمہ  
 دوہہ کافر تہ نافرمان کانہہ تھہ ہیکن نہ تم کر تھہ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ مِنْ شُرَكَائِهِمْ شُفَعَاءٌ  
 وَكَانُوا إِشْرَاكِيَهُمْ كُفْرِينَ آسنہ بیہ تمن پنہ نیو شریکو اندرہ تمن تم عبادتس اندر خدائس

وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِئِدِنِّيَتَفَرَّقُونَ ﴿۱۳﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ  
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ ﴿۱۵﴾  
 وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ  
 فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحَضَّرُونَ ﴿۱۶﴾ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ  
 تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ ﴿۱۷﴾ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ  
 وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴿۱۸﴾ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ  
 الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ

شریک ٹھہراوان آس کا نہ تہ شفاعت کر تھہ مولا وناہ۔ تم سپدن تمہ وقتہ پانہ پنہ نین شریکن (یعنی  
 سمن تم شریک خدا زمانان آس) مکر وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِئِدِنِّيَتَفَرَّقُونَ بیہ سہمہ دوہہ قیامت  
 قائم سپدہ تمہ دوہہ سپدن لوکھ الگ الگ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَهُمْ فِي رَوْضَةٍ  
 يُحْبَرُونَ سمولوکو ایمان اون بیہ کر کچھ رتھہ عملہ تم آسن جنہ کس باغس منز سینہاہ خوش فرحت و سرورس  
 اندر وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ فَأُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحَضَّرُونَ بیہ  
 سمو خدا اہس یا خدا لیہ سدس گن آسس انکار کور بیہ زانجھ اپز سان آیات بیہ آخرتس اندر اسہ سیت  
 ملاقات کرہ کس کس یکن تم عذابس گرفتار کرنہ فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ  
 لیہ تہہ ایمان و عمل صالحک فضیلت معلوم سپدہ کس کرو تہہ بہ پاکی یاد خدا ایمہ ساتہ توہ شام کران چھوہ  
 بیہ سہمہ ساتہ توہ صبح کران چھوہ۔ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کیا زہ کس شو بن ساری  
 تعریف یم کرنہ یوان چھہ آسمان تہ زمین اندر وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ بیہ کرو تہہ تہندوی یاد  
 دہکس پتمس حصس اندر۔ بیہ یمہ ساتہ توہ پیشہ کس و قس منز داخل چھوہ سپدان۔ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ  
 الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ سہ معبود بر حق چھہ جان دارس کڈان بے جانس نشہ مثلاً لطفہ

مَوْتَهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ﴿۱۹﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ  
 تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ﴿۲۰﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ  
 لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۱﴾  
 وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافَ أَلْسِنَتِكُمْ  
 وَالْوَالِدَاتِ إِذَا فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ ﴿۲۲﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ  
 مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاءُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ فِي

نشہ انسانس، ٹھولہ منڑہ جانورس۔ بیہ ہجھ بے جاس کڈان جاندارس نشہ۔ مثلاً لطف انسانس نشہ  
 ٹھولس جانورس نشہ۔ وَيُنْعِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ۔ بیہ چھو سوی زمینس زندہ  
 تہ سبز و شاداب کران تمحہ مرنہ پتہ یعنی خشک گڑھنہ پتہ۔ تھے پاٹھ بیو تھہ تہ قیامتک دوہ قبر و منڑہ بیہ  
 کڈنہ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ۔ معبود برحقہ بند یو قدرتہ کیو  
 نشانو اندر چھہ کہ تھہ کرنوہ پیدہ میڑہ تو پتہ چھوہ تھہ انسان بتھہ زمینس پیٹھ چھہ کرنہ تھہ پھیران۔  
 وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ بیہ  
 چھہ تھدی قدرتہ کیو نشانو اندرہ ای زہ پیدہ کرین تھندہ خیطرہ تو ہی منڑہ تھنڑہ زنانہ تھہ تھہ قرار تھو  
 تمبن نشہ۔ بیہ تروون توہہ دون باژن منڑت، شفقت تہ ہمدردی۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
 يَتَفَكَّرُونَ۔ پڑ پاٹ اتھ منڑ چھہ بڈبڈ نشانہ غورو فخر کرہ وین ہندہ خاطرہ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَالِدَاتِ۔ تھدی قدرتہ کیو نشانو اندرہ چھہ آسمان و  
 زمینک پیدہ کرن۔ بیہ تھنڑہ زیوہ یعنی لغت تہ تھدین بدن ہڈ رنگ مختلف آسن۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
 لِلْعَالِمِينَ۔ پڑ پاٹ اتھ منڑ چھہ بڈبڈ نشانہ زان و الین تہ عالمن ہندہ خاطرہ۔ وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ

ذٰلِكَ لَايَتْلِقُوْمُ يَسْمَعُوْنَ ﴿۲۷﴾ وَمِنْ اٰيٰتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ  
 خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهٖ الْاَرْضَ  
 بَعْدَ مَوْتِهَا اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَايٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ ﴿۲۸﴾  
 وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَاءُ وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ  
 دَعْوَةً مِّنَ الْاَرْضِ اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ ﴿۲۹﴾ وَاِنَّ مِنْ فِى  
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلِّ لَهٗ قَنِيْنُوْنَ ﴿۳۰﴾ وَهُوَ الَّذِى يَبْدُوْا

بِالْاَيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤِكُمْ مِنْ فَضْلِهٖ  
 زياده۔ بيه چھ جہندہ قدرتہ کیونشانو اندرہ جہندہ شوئگن رات کجیت  
 زیادہ۔ بيه دوہلہ تہ جہندہ ژہانڈن جہندہ فضل یعنی رزک تک تلاش کرنہ اِنَ فِى ذٰلِكَ لَايٰتٍ لِّقَوْمٍ  
 يَسْمَعُوْنَ پزپاٹ اتھ منز چھہ بڈ نشانہ توجہ سان یوزن والین ہندہ خیطرہ وَمِنْ اٰيٰتِهِ يُرِيكُمْ الْبَرْقَ  
 خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهٖ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا بيه چھہ جہندہ قدرتہ کیونشانو  
 اندرہ کہ سہ چھہ توبہہ بیم کرنہ خاطرہ بيه امید نہ خاطرہ وزملہ ہاوان بيه آسمانہ طرفہ رُود تراوتھ  
 موقس یعنی خشک گاقس زمینس زندہ سرسبز وشاداب کرانہ اِنَ فِى ذٰلِكَ لَايٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ  
 پزپاٹ اتھ منز تہ چھہ قدرتہ بڈ نشانہ عقلہ کام ہینہ والین ہندہ خاطرہ۔ وَمِنْ اٰيٰتِهٖ اَنْ تَقُوْمَ السَّمَاءُ  
 وَالْاَرْضُ بِاَمْرِهٖ بيه چھہ جہندہ یوقدرتہ کیونشانو اندرہ کہ آسمان تہ زمین چھہ قائم جہندی حکمہ تہ ارادہ  
 سیت توبہہ چھوہ اکس خاص مقرر کرنہ آقس وقس تان زندگی بسر کرتہ زمینس اندر دفن کرنہ یوان۔  
 ثُمَّ اِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الْاَرْضِ اِذَا اَنْتُمْ تَخْرُجُوْنَ توپتہ یلہ سہ قیامتگ دوہ توبہہ اکہ خاص قسمک آلو  
 دیہ اتی نیر وٹہہ ساری قبر و منزہ وکہ مَن فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ كُلِّ لَهٗ قَنِيْنُوْنَ ایم آسانس تہ  
 زمینس منز مخلوق چھہ تم ساری چھہ جہندی مملوک۔ ساری چھہ جہندی حکمس تابع تہ فرمانبردار۔ امہ  
 اندرہ سپد ثابت کہ۔ وَهُوَ الَّذِى يَبْدُوْا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهٗا وَهُوَ اَهْوَنُ عَلَیْہِ سہ پروردگار گوسوی بیم  
 مخلوقات گوڈہ پیدہ کر توپتہ کر کیکہ سہ بيه دوبارہ پیدہ قیامتگ دوہ۔ خمس نش چھہ دوبارہ بيه پیدہ کرنہ زیادہ

الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ۗ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ  
 فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲۷﴾ ضَرَبَ لَكُمْ  
 مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ ۖ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
 مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَارَتِكُمْ فأنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ  
 كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۲۸﴾  
 بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي

آسان قدرتِ بشریہ کہ اعتبارہ۔ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تِس جہہ تہ صفت تہ  
 تھو دشان تِس برابر تہ تِس ہیو جہنہ کاہنہ تہ آسمان تہ زمین اندر وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سُب جہہ غلبہ  
 وول قادر مطلق جمعہ وول ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ اللہ تعالیٰ اَن کور بیان توہہ شرک  
 مذموم تہ باطل آسُن فخرہ تارنہ خاطرہ تہنزی اہ مثالاکہ هَلْ لَّكُمْ مِّنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ  
 مِّنْ شُرَكَاءَ فِي مَارَتِكُمْ فأنْتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ سُو مثال گیہ بیہ کہ وارہ  
 کرد تہ غور کہ کیاہ تہہ چھوہ برابر مالک تہہ قسمہ شریک تہہ مالس اندر تِس اسی توہہ عطا کور مت چھہ۔  
 تہہ تہ تہند غلام آسہ ہن تہہ مالس اندر برابر مالک۔ تہہ آسہ ہیو کھو ژان تمن غلامن تہہ مالس منز  
 تصرف کرنس اندر۔ تہہ پاٹھ تہہ پانہ وان اکہ شریک بیس شریکس نشہ کھو ژان چھوہ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ  
 الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ تہہ پاٹھ چھہ آس ویشہ ناو تہہ بیان کران پن آیات تمن لوکن ہندہ خاطرہ  
 تمن عقل چھہ یعنی تہہ یلہ نہ پنہ حقہ غلامن مملوگن ہند شریک آسُن برداشت کران چھوہ خدایہ سند  
 مملوک کیا زہ چھو کہ تہند شریک زانان یہ چھہ بوڈ ظلم بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ  
 بلکہ کرسمو ظالمو تہہ صحیح دلیلہ ورا ی پنہ نین خیالات فامیدن تہ نفسانی خواہش ہنز پیروی فَمَنْ  
 يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ تَسَم اللہ تعالیٰ اپزس اصرار کرنہ سببہ و تہہ راورہ تِس تہہ اکھاہ بیحہ و تہہ تہ  
 ہدایت کر تہہ وَمَا لَهُم مِّنْ مُّصْرِفِينَ تمن مُر ہن یلہ عذاب بیہ کرنہ تمہ ساتہ بیحہ نہ کاہنہ تمن تہہ قسمہ

مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَصِيرِينَ ﴿۲۹﴾ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ  
 لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا  
 تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ  
 النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۰﴾ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا  
 الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿۳۱﴾ مِنَ الَّذِينَ قَرَعُوا  
 دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿۳۲﴾

ہدایت تہ مدد کبر تھ۔ لہذا چھ پریتھ اکس بوزہ ونس یوان ونہ۔ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا تھ پد  
 پریتھ باطل دینہ نفعہ الگ۔ تو پتہ کر تھہ پن رُخ دین حقس ن فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا  
 تھہ کرتابع تہ پیروی تھہ قابلیتس بیتھ قابلیتس پیٹھ اللہ تعالیٰ ان ساری انسان پیدا کرمت چھ۔  
 مطلب امیک چھہ کہ اللہ تعالیٰ ان چھہ پریتھ شخصہ پیدا کورمت پریتھ اکس چھن استعداد عطا کورمت  
 کہ ہر گاہہ پرتھہ بوزن پریتھہ، فکرہ ترن پریتھہ، سہہ بیجہ بوزت نس بیجہ فخرہ تر تھ۔ تھہ متابعت کرن گیہ  
 کہ تھہ استعدادس تہ قابلیتس ہیہ کام سہہ چھہ منگان چھہ تمہہ موجب کرہ عمل لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ  
 خدایہ سندس اتھہ پیدا کر قس چیزس، بیتھ پیٹھ تم ساری انسان پادہ کرمت چھہ گڈھہ نہ تغیر و تبدیل  
 کرن ذَٰلِكَ الدِّينِ الْقَيِّمُ ہیہ چھہ دینچ حکم و تھہ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مگر اکثر لوکھ چھہ  
 بوجہ عدم تدبیر زانان تمہہ موکھ چھہ تمیک اتباع کران مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ  
 وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ای لوکو تھہہ کر و رجوع نس خدایس کن بیہ کھوژو نس۔ تھندس  
 مخالفتس تہ مخالفتہ کس عذابس بیہ کر و دین اسلام قبول تو پتہ تھاو و برپا نماز پابندی سان بیہ مہ آسبو  
 مُشْرِكُونَ اندرہ مِنَ الَّذِينَ قَرَعُوا دِيْنَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ بیہ مہ آسبو تمو  
 مُشْرِكُونَ اندرہ سمو چھلہ کرہ و دینس پنہ نس تہ گچھہ واریاہہ جماژاک رث اکھوت آپزہ تہ باطل و تہ چھہ واریاہہ  
 سموتراو پز و تھہ آپزہ تہ باطل و تہ تراو کچھہ ای گو پنہ نس دینس چھلہ کرنہ اک رث اکھ و تھہ، بے رث

وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا  
 آذَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ ﴿۳۲﴾ لِيَكْفُرُوا  
 بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَنَّبَعُوا فَوَقْفَةً ﴿۳۳﴾ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۳۴﴾ أَمْ أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا  
 فَهَوِيَ تَكْمُلُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ ﴿۳۵﴾ وَإِذَا آذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا  
 بِهَا وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيَهُمْ إِذْ هُمْ يَقْنَطُونَ ﴿۳۶﴾

بیاکھ و تھ امی سیت گیہ واریاہ جماژ۔ اگر پڑہ و تہ پیٹھ روزہ ہن تیلہ آسہاٹی جماعت۔ باوجود آنکہ یمہ  
 سارے و تہ چھ باطل تہ ازہ توتہ چھ جہل و نادانی کن تمواندرہ پریتھ اکھاہ پندہ پندہ و تہ پیٹھ تہ رنگان۔  
 خیال کران کہ بہ چھس صحیح و تہ پیٹھ حالانکہ یہ ام سہ خیال چھ بالکل غلط۔ سیز و تھ چھ توحیدج  
 و تھ۔ تھ و تہ کن آس تمن نادووان چھ عام طور چھ تمن لوگ ہندہ حال و قالہ سیت ثابت سپدان کہ  
 یوہے چھ دین حق۔ کیا زہ اضطرار کہ وقتہ چھ تم تہ اتھ و نیس تسلیم کران۔ یمہ اندرہ ثابت چھ  
 سپدان کہ واقعی چھ یوہے دین فطرت۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ چھ فرماوان **وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ**  
**دَعَا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا آذَقَهُمْ مِنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ** بیلہ لوگ کانہہ سختیہ  
 واتان چھ تمہ ساتہ چھہ بیقرار سپد تھ آلودوان پنہ نئے حقیقی پروردگار س کن رجوع کر تھ توپتہ  
 یلہ سہ تمن پندہ رحمتک مزہ چھ ہاوان سو سختی دور کرنہ سیت آئی چھہ تمواندرہ اکھ جماعت پنہ نس  
 پروردگار س بیہ شرک اتان **لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ** تھ کفران نعمت کرن تھ نفس یوسہ اسہ تمن عطا  
 کرے یہ **فَتَنَّبَعُوا** پس تل تموتعہا کینہہ کالاہ **فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ** بروہنہ ہن زانو پائے امیک مزہ **أَمْ**  
**أَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا فَهَوِيَ تَكْمُلُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ** کنہ اسہ چھ تمن پیٹھ کانہہ دلپلاہ کانہہ کتابہ نازل  
 کر مرث۔ سوی کیاہ چھ تمن دپان شرکچہ تھ تہ کامہ کرو **وَإِذَا آذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا** یلہ اس لوکن پندہ  
 مہربانی و رحمتک مزہ چھ ہاوان تمہ سیت چھ تم خوش گدھان۔ تمہ سببہ چھ غفلتس منز بوڈ تھ شرکچہ  
 کامہ کران **وَإِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيَهُمْ** توپتہ ہر گاہ تمن واتان چھ کانہہ سختیہ تمن پیچہ



أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي  
 ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ مُّؤْمِنُونَ ﴿۳۷﴾ فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَ  
 الْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ  
 اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۳۸﴾ وَمَا تَتَّبِعُونَ مِن رَّبِّا لِّيرْبُوا  
 فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا تَتَّبِعُونَ مِن زَكَاةٍ

کا میں ہندہ شامتہ سمہ جہندہ اتھ آمزہ چھ آسان اِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ) اسی جہم تم نامید سپدان اَوْ لَمْ  
 يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ کیا تم چھناؤ چھان کہ بزپاک اللہ تعالیٰ ای ہتھ رزق  
 اندر وسعت کران نِس یڑھان چھ۔ بیہ ہتھ سنی تنگی کران رزق اندر نِس یڑھان ہتھ تس اِن اِن فِي  
 ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ مُّؤْمِنُونَ بے شک اتھ منزتہ چھ بڈبڈ نشانہ خدایہ سندہ قدر تکب تہ کن آسک  
 بالیمان ہندہ خاطرہ فَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَ الْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ پس یلہ توحید چود لیلو سیت  
 معلوم سپد کہ رزق تنگی تہ وسعت ہتھ خدایہ سی اتھ امہ سیت سپز بیاک تھ ثابت کہ مغل کرن ہتھ  
 سیٹھاہ بچھ کیا زہ امہ سیت مقدرس اندر زیادتی بیحہ نہ سپت لہذا چھ مغل کرن بے فائدہ اے مسلمانو  
 تہہ مہ آسو بجل کران بلکہ آسو قرابتہ والین واتناوان تہند حق بیہ مسکین بیہ مسافرن ذَٰلِكَ  
 خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ای ہتھ بہتر تمین لوکن ہندہ خیطرہ یم  
 ژھانڈان چھ رضای خدایہ چھ تھے لوکہ رستگار تہ کامیاب۔ وَمَا تَتَّبِعُونَ مِن رَّبِّا لِّيرْبُوا فِي أَمْوَالِ  
 النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ بیہ نِس چیز تہہ دنیا خاطرہ تہ خرچ کران چھوہ یمہ غرضہ کہ سہ چیز واتہ  
 لوکن ہندس ماکس اندر تو پتہ سمہ ساتہ تمین سہ چیز واپس کرنگ وقت واتہ تمہ ساتہ واتہ آسہ نفعہ سہ چیز  
 رت تہ زیادہ سپت ہتھ پاٹھ دُنوی رُسُومَن اندر عام طور کرنہ ہتھ یوان اتھ ہینہ دُس جھنہ اللہ اس  
 نفعہ کا نہہ زیادتی سپدان کیا زہ خدایس نشہ ہتھ نہ سہ مال واتان نہ ہتھ سہ زیادہ سپدان۔ لُسہ تہندہ رضا  
 خاطرہ آسہ ونہ آمت۔ چونکہ اتھ ہینہ دُس منز ہتھنہ خدایہ سندہ رضای کا نہہ نیت آسان لہذا چھ نہ یہ

تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿۳۹﴾ اللَّهُ الَّذِي  
 خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُبْيِتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِنْ  
 شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا  
 يُشْرِكُونَ ﴿۴۰﴾ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي  
 النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا أَلَمْ يَرَاجِعُونَ ﴿۴۱﴾  
 قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ

تہمزہ در گاہ اندر قبول سپدان نہ مجھ آتھ منز کینہہ زیادتی سپدان وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ ذِكْوٰةٍ فُرِيْدُونَ  
 وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ مگر نیس رقم تہمہ دو ان چھوہ خدایہ سبہ خاطرہ زکوٰۃ ہش ہتھ منز  
 ژھانڈان چھوہ تہمہ خدایہ سندی رضائہ قسمک لوکھ چھہ خدایس ریشہ جمع کر تھ ہن دیشمت مال ہرہ  
 راوان زیادہ کران اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُبْيِتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ معبود بر حق مجھ سہ  
 ذات پاک ایم تہمہ پیدہ کردہ تو پتہ کورنور رزق عطا تو پتہ چھوہ سہ ماران تو پتہ کردہ سہ بیہ زندہ قیامتک  
 دوہ سہ مجھ امیہ قسمک قدرتہ دول هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَفْعَلُ مِنْ ذَلِكَ مِنْ شَيْءٍ توه ونو تکیاہ  
 تہمہ یو شرکیو اندر تہ چھا کانہہ ہتھ نیس سمو کامیو اندرہ کانہہ کاما چھہ کر تھ ہیکان سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا  
 يُشْرِكُونَ پس سپ ثابت کہ سہ مجھ منزہ تہ پاک بیہ بلند تر برتر۔ تمہہ ساری شر کہ ریشہ نیس شرک تم  
 لوکھ تس کن لاگان چھہ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي  
 عَمِلُوا أَلَمْ يَرَاجِعُونَ شرک ونا فرمانی ہندا اثر چھہ تیتھ خراب کہ ظاہر سہز تہاہی قسطہ وباع بیہ  
 طوفان خشکی اندر تہ تری اندر تہ یعنی ساری دنیا اس اندر لوگن ہنز و بیچھہ عملوسیت ہتھ اللہ تعالیٰ تم  
 مزہ ژہناوہ تہمز ن ہتھے کامین ہندیہ تمو کرہ ذلّوہ تم پائس پین۔ تمو بیچھہ کامیو ریشہ رُوزن پتھ۔  
 ہر گاہ سمن مخر کن اتھ اندر کانہہ شک مجھ۔ قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ

مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ ﴿۳۲﴾ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ  
 الْقَبِيحِ مِنْ قَبْلُ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ  
 يُصَدِّعُونَ ﴿۳۳﴾ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا  
 فَلَا نَفْسُ لَهُمْ يَمْهَدُونَ ﴿۳۴﴾ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
 الصَّالِحَاتِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ﴿۳۵﴾ وَمِنْ آيَاتِهِ  
 أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ مَبَشِّرَاتٍ وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ

مِنْ قَبْلُ جُہہ فرماؤ یو کہ یا رسول اللہ ای لو کو جُہہ پھیر تو سارے زمینس منز تو پتہ و چھتو کیاہ چھو  
 سہد مت انجام تہن مشرک لوگن ہند تم تو بہہ بروئٹھ آس۔ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ تمواندرہ آس اکثر  
 مشرک۔ جُہہ و چھتو کہ تم تھہ پاٹھے آے گالہ عذاب آسانی سیت یمہ سیت صاف چھہ دنان کہ شرک  
 چھہ بوڈ گناہ۔ یمیلہ شرکک پچھہ آس ظاہر سہد پس ای مخاطب فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَبِيحِ مِنْ قَبْلِ  
 أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ يَوْمَئِذٍ يُصَدِّعُونَ پس تھواروہ پئن تھہ سیود محکم دینس اسلامس  
 تہ توحیدس گن تھہ پیٹھہ کر استقامت سہ دوہ ینہ بروئٹھ۔ تھنہ خدا یہ سہہ طرفہ ہتھہ بروئٹھ ڈلن چھہ  
 بلکہ چھہ قطعاً تہ یقیناً سہ دوہ اوہ دن تمی دوہہ سہدن لوگن عملن ہندہ اعتبارہ زہ حصہ اکھ واتہ جنتس بیاکھ واتہ  
 جہنم سہہ پاٹھہ کہ مَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ ۖ وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلَا نَفْسُ لَهُمْ يَمْهَدُونَ تہس شخص  
 کفر چہ کامہ کران آسہ تس چھہ تمن کامین ہند سزا کھیون بیہ یم لو کہ رتھہ عملہ کران آس تم چھہ  
 پنہن پان ہنزہ کامیابی ہند سز تہہ سامان تیار کران لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْ  
 فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ تہہ اللہ تعالیٰ پنہ فضلہ سیت رتھ مزور عطا کرہ تمن لو کن سموا ایمان اولن  
 بیہ کر چھہ رتھہ عملہ کافر سہدن تمن نعرہ محروم کیا زہ اللہ تعالیٰ ہتھنہ پسند کران کافر ن و مِنْ آيَاتِهِ أَنْ  
 يُرْسِلَ الرِّيَّاحَ بیہ چھہ پروردگارہ سہد یوقدرتہ کیونشاؤ اندرہ کہ سہ چھہ واون سوزان رُود پنہ بروئٹھ  
 رود چ خوشخبری ہتھہ بیہ تھتو تہہ ہاوہ سوزہ پنہ رحمتک یعنی باران رحمتک مُبَشِّرَاتٍ وَلِيَذِيقَكُمْ مِنْ

الْفُلْكِ بِأَمْرِهِ وَابْتِغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۳۶﴾ وَ  
 لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ  
 بِالْبَيِّنَاتِ فَاذْتَمَنَّا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا  
 عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۳۷﴾ اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ  
 فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ وَيَجْعَلُهُ  
 كِسْفًا فَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ ۚ فَإِذَا أَصَابَ بِهِ

تَحْتَهُ وَالتَّجْرَى الْفُلْكِ بِأَمْرِهِ ۖ بیه ہتھ تمہ واوہ سیت پگن تہمہرہ لحمہ سیت دریاؤن اندر مجھ سجدہ ناوہ تہ  
 جہازہ وَابْتِغُوا مِنْ فَضْلِهِ ۖ بیه ہتھ تمہ جہازن تہ ناؤن اندر سیر کر تھ ژھانڈو تہ تلاش کرو تہمہ فضل  
 یعنی روزی وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۖ بیه تمہ شکر گذاری کرو تہمز۔ یمہ نعمہ آستہ تہ چھ مشرک ناسپاسی  
 کران۔ شرک آنہ سیت، احکامن ہنز مخالفت کرنہ سیت پیغمبرن تہ با ایمان ایذاؤنہ سیت مگر  
 تمہ مہ سپدواہمہ خاطرہ آزرده تہ نمگین کیا زہ اس ہیمو تمن نشہ عنقریب امیک انتقام ہتھ پاٹھ بروٹھ تہ  
 ہتھ واقعہ سپدست چھ چنانچہ وَ لَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءَهُمْ وَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ  
 فَانْتَمَنَّا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا ۖ بے شک یلہ سوزاسہ ٹوہہ بروٹھ یار سول اللہ واریاہ پیغمبر پنہ نین  
 قومن گن توپتہ آی تم پیغمبر تمن نشہ نن مہجرات تہ منہ دلیلہ ہتھ مگر تموزان تم اپن۔ پس ہیوت اسہ  
 تمن لوکن نشہ سمونا فرمانی کر انتقام وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ ۖ کیا زہ اسہ پیٹھ اوس مطہ  
 با ایمان یاری کرن پنہ وعدہ موجب اللہ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيْحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُهُ فِي السَّمَاءِ  
 كَيْفَ يَشَاءُ ۖ معبود بر حق چھ ہتھ قدر تہ وول تہ حکمت وول بس و او سوزان ہتھ۔ سہ واو ہتھ ابرس ٹلان تو  
 پتہ ہتھس آسمان کھارت موزہ رواون ہتھ پاٹھ سہ یڑھان ہتھ وَيَجْعَلُهُ كِسْفًا فَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ  
 مِنْ خِلَالِهِ ۚ توپتہ ہتھس تھوان تہہ بہ تہہ توپتہ ہتھک ژہ وچھان رود چھ نیران تمہ ابرہ منزہ  
 فَإِذَا أَصَابَ بِهِ مِنْ يَسَاءٍ مِنْ عِبَادَةٍ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ۖ توپتہ یلہ سہ رود اتناؤن ہتھ پنہ نیو

مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۳۸﴾ وَإِنْ  
 كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِينَ ﴿۳۹﴾  
 فَانظُرْ إِلَى الثَّرِاحِ إِنَّ اللَّهَ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا  
 إِنَّ ذَلِكَ لَمُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۴۰﴾ وَلَئِنْ  
 أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا الظُّلُمَاتِ مِنْ بَعْدِهِ يُكْفَرُونَ ﴿۴۱﴾ فَإِنَّكَ  
 لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ النَّمْلَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ ﴿۴۲﴾

ہندواندرہ تمن، تمن نشہ و اتناون یرھان چھہ آئی چھہ تم خوش گڑھان تہ شادیانہ کران۔ ورن  
 کائوا من قبل ان یُنزل علیہم من قبلہ لمبلسین حالانکہ تم آس یقیناً آمہ رود کہ بینہ بروئہ بالکل  
 نامید تہ مایوس سپدست فانظر الی الثراح اللہ کف یحیی الارض بعد موتہا ان ذلک لمحیی  
 الموتی وهو علی کل شیء قدير پس وچھہ ژہ خدایہ سندہ رحمتک آثار تہ نتیجہ کھہ پائھہ چھہ پنہہ رحمتہ  
 سیت موتس یعنی خشک گاتس زمینس زندہ کران یعنی تروتازہ۔ بے شک یہ کھہ چھہ نعمت تہ دلیل  
 وحدت آسکھ علاوہ دلیل یمہ کھہ ہنز کہ اللہ تعالیٰ چھہ قدرت وول لوکن ہندہ مر نہ پتہ تمن بیہ زندہ  
 کرنس پیٹھ۔ امہ سیت سپد ثابت کہ یو ہے خدایچھہ یقیناً زندہ کران سارنہ مردن بیہ چھہ سی پر کھہ  
 چیزس پیٹھ قدرت وول و لکن ارسلا ریحاً فراءوہ مصفرًا الظلومات من بعدہ یکفرون تو پتہ ہر گاہ سوزواس  
 ٹھندس زرائعس پیٹھ مضرب ہوا یمہ سیت تم وچھن تھہ زرائعس زرد سپدت خشک گڑھان یک دم بدلہ ٹھند  
 حال تمہہ پتہ ہین تم ٹھران نعمت کران۔ یمہ نمو سانہ روز کھہ نہ یادے۔ امہ سیت سپد معلوم کہ تم چھہ  
 بحس ٹھندہ خاطرہ غم کھیون چھہ بے کار فَإِنَّكَ لَا تَسْمِعُ الْمَوْتَىٰ وَلَا تَسْمِعُ النَّمْلَ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ  
 ٹھہ نہ حض بیکیو کھہ نہ یوزہ ناو تھہ مردہ بیہ نہ حض بیکیو کھہ یوزہ ناو تھہ زربن آلو۔ خصوصاً یلہ تم تو بہ کن  
 تھر پھر تھہ تو بہ نشہ دور تر لان آسن وَمَا نَسُفُكُنَّ بِهَذَا الْعَمِي عَنْ ضَلَالَتِهِمْ بے نہ حض بیکیو نہ ٹھہ و تھہ  
 ہاو تھہ انین یلہ تمن و تھہ راومز آسہ إِنَّ تَسْمِعُ الْأَمْنُ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ٹھہ بیکیو کھہ نہ

وَمَا أَنْتَ بِهَادٍ الْعَمِيَّ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تَسْبِعُ إِلَّا مِنْ يُومٍ مِنْ  
 بِأَيَّتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۵۴﴾ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ  
 ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ  
 ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴿۵۵﴾  
 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ لَا مِثْرًا لِغِيْرَسَاعَةٍ  
 كَذَلِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ ﴿۵۶﴾ وَقَالَ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمَ وَ  
 الْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ فَهَذَا


بوزہ تا وہ تھ مگر ایم پڑھ کر ان چھ سائین آیات۔ تم چھ سائین حکم گردن دارہ دن بیلہ ایم لو کہ مشابہ  
 چھ مَرْدَن تہ زین کس مہ تھا و وہ تہ توقع تہ برانہ ایمانج تمن نشہ نہ مہ کھیو تہ ہدہ ایمان نہ انہ نیک کانہہ  
 غم اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوۃ ثم جعل من بعد قوۃ ضعفا  
 و شیبۃ معبود برحق چھ سی ذات پاک ایم تہ پیدہ کرنوہ کمزوری ہندس حالتس منز سوگیہ انسانہ سزہ ابتدائی  
 حالتھ لو کہ چارج حالتھ تو پیدہ کرنوہ تمہ کمزوری پیدہ قوت تہ طاقت عطا یعنی جوانی تمہ قوت پیدہ کرنوہ بیہ کمزوری تہ  
 بجز عطا یخلق ما یشاء و هو العلیم القدیر سہ یہ یشہان چھ تہ چھ پیدہ کران۔ پریتھ تصرفس چھ  
 سہ پور زانان۔ تہ تصرنفہ کس جاری تہ نافذ کرنس پیٹھ چھ پور قدرت تھاوان۔ سہ چھ سورے زانہ  
 ون پور قدرتہ دول و یوم تقوم الساعۃ یقسم المجرمون لا میتوا غیر ساعۃ کذا لک کانوا یؤفکون  
 تمہ دوہہ قیامت قائم سپدہ کافر تہ نافرمان لو کہ ہاون تمہ ذہک ہولناک حالات و چھ تہ قسم کہ قیامت  
 آیہ سیٹھاہ جلد۔ اس رودنہ قبرن اندر یعنی عالم برزخ اندر مگر اکس گرہ تہ اکس ساتس۔ بیتھ پٹھ اس  
 نا تم دنیاہس منز تہ ولہ پکان یعنی دنیاہس منز تہ آس تم لو کہ غلط خیالات دن منز جماوتھ پھر تھ تھ  
 کران وقال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبثتم فی کتاب اللہ الی یوم البعث تمن جبر من

يَوْمَ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۵۶﴾ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُنْفَعُ  
 الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتَهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿۵۷﴾ وَلَقَدْ  
 ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَلَئِنْ جِئْتُمُ  
 بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطَلُونَ ﴿۵۸﴾

ون تم لو کہ یمن علم بہ ایمان عطا کرنے آسے یعنی باایمان یمن شریعتہ کین چیزن ہند پتہ وھمہ  
 اے کافر و تھہ ٹھہرے وہ قبرن اندر خدایہ سندہ لیکھتہ بہ مقرر کرمتہ وقتہ موجب برابر قیامتہ کس  
 دوس تان فَهَذَا يَوْمَ الْبَعْثِ وَلَكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ یکیا پھہ ازوارہ کارہ قیامتگ دوه مگر تھہ کہتہ  
 آسوه بیمہ ذہک یقین تھاون بلکہ آسوه تکذیب بہ انکار کران تمی انکارہ کہ شامتہ وھمہ از پریشان  
 فَيَوْمَئِذٍ لَا يُنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتَهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ پس دیدہ نہ تمہ دہہہ کا نہہ نفع بہ فائدہ  
 تمن لوکن یموشر کہ بہ گھرہ سیت پانس ظلم کور عذر کرن نہ بیمہ تمن نشہ عذر پیش کرنگ بہ توبہ کرنگ  
 یا خدا یس راضی کرہ نگ مطالبہ کرنہ کیا بہہ تمیک وقت آسہ گذر یومت۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي  
 هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ بیمہ کرہ آسہ بیان بہتھ قرآن مجیدس منز لوکن فکرہ تارنہ خاطرہ بیمہ تمن  
 ہدایت بنہ خاطرہ پر بہتھ قسچہ مثالہ بہ پر بہتھ قسمنک مضامین بیمہ کمال بلاغتہ سبہ مقتضی آس کہ یمن  
 کافرن بہ ہدایت مگر نہایت بغض و عنادہ سبہ گورنہ تموسہ قبول۔ تمی سپندہ تمن کا نہہ فائدہ حاصل۔  
 وَلَئِنْ جِئْتُمُ بِآيَةٍ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطَلُونَ تو پتہ ہر گاہ تھہ یار رسول اللہ تمن نشہ انو تمو معجز و اندرہ کا نہہ مُعْجَازِہ یمن ہنز تم  
 فرمائش چھہ کران لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا مُبْطَلُونَ توتہ و ن ضرور کافر کہ تھہ ساری

كَذَلِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۵۹﴾ قَاصِرٌ  
 إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفُّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴿۶۰﴾

چھوہ ایزیار کذالک یطبع اللہ علی قلوب الذین لا یعلمون تھے پاٹھ چھ اللہ تعالیٰ نادان ہندین دلن پیٹھ مہر کران یعنی روز بروز ہٹھ تہندہ قبول کرنک استعدا دست نہ ضعیف سپدان بغض و عناد ک قوت قوی سپدان قاصیر ان وعد اللہ حق ولا یستخفک الذین لا یوقنون پس کروٹہ یار رسول اللہ تہندس تکلیف نہ ایذا س پیٹھ صبر بز پاٹھ اللہ تعالیٰ ان کس یاری ہند وعدہ تو بہ سیت کورمت ہٹھ سو ہٹھ حق نہ پوزیم مکرین قیامت مہ سپدان باعث تو بہ بے صبری کرنس پیٹھ۔









وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۙ خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَالْأَفْئِ  
 فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ  
 وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ ۙ  
 هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ بَلِ  
 الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۙ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ  
 لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سہ چھ غالب تہ حمتہ وول خَلَقَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا تہ  
 پروردگار آن کر پیدہ آسمان تھمورای۔ نِسْ تہبہ تہ وچھان چھوہ وَالْأَفْئِ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ  
 تَمِيدَ بِكُمْ بیہ تھو تم ز مینس پیٹھ بڈ بڈ کوہ لنگر ہی تھنہ سوز مین توبہ لوکن ہیتھ یون کن نمہ ووتل جہ  
 کرہ۔ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ بیہ تراون تھکرت اتھ ز مینس منز پریتھ قسیمک جانور وَأَنْزَلْنَا مِنَ  
 السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ بیہ کوراسہ نازل آسمانکہ طرفہ رود توپتہ کھار اسہ تمہ  
 زمینہ منزہ پریتھ قسیمک نباتات جورہ جورہ۔ رت رت چیز هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ  
 مِنْ دُونِهِ تہ فرما یو کہ اے لو کو یہ گیہ خدایہ سنز پیدا آئیش۔ پس ہاؤ تو تہبہ مہ خدایس ورا ی م  
 معبودان باطل تہبہ مقرر کران تھو کہ تمو کیاہ کور پیدہ تا اینکہ یوزنہ ایہ ہاتھنر کیاہہ گرہبہ پرستش کرن  
 بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ بلکہ چھ ظالم نہہ گرا ہی اندر مبتلا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ اشْكُرْ لِلَّهِ  
 وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ بیہ کوراسہ عطا لقمن علیہ السلام گائہ  
 جار۔ سہ گو و علم و عمل توپتہ فرموس اسہ کہ شکر ڈپ خدایس تہنر ان سار نے نعمون پیٹھ خصوصاً  
 خمس پیٹھ یوسہ بڈ نعمت چھہ کیاہہ نِسْ خدایہ سنز شکر گذاری چھہ کران تس چھہ تمیک فائدہ پنہ نِسْ  
 پانس۔ یعنی نفس اندر زیادتی سپدن نِسْ کفر ان نعمت چھہ کران سہ چھہ پنہ تہ نقصان کران۔ پس بے  
 شک اللہ تعالیٰ چھہ بے نیاز سہ چھنہ محتاج کانسہ ہنزہ شکر گذاری گن۔ سہ چھہ حمد پنہ آمت۔ چو تکہ

حَمِيدٌ ۱۲) وَاذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يُعْطٰهُ يَبْنٰى لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ  
 اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ ۱۳) وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ  
 اُمُّهُ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَفِصْلَةٌ فِىْ عَامِيْنِ اِنْ اَشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ  
 اِلٰى الْمَبْدُوْبِ ۱۴) وَاِنْ جَاهَدَكَ عَلٰى اَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ

لقمان علیہ السلام آیہ رحمت عطا کرنے میں سپرد ثابت کہ تم چھ حکیم تہ دانہ۔ تھس جیمہ سز تعلیم  
 چھ قابل عمل۔ لہذا کرو بیان تہنہ و تعلیماتو اندرہ کینہہ **وَاذْ قَالَ لُقْمٰنُ لِابْنِهٖ وَهُوَ يُعْطٰهُ يَبْنٰى لَا تُشْرِكْ  
 بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيْمٌ** بیہ یلہ لقمان علیہ السلام پنہ نس پچوس وعظ و نصیحت کران دُوب  
 گوہر اتھہ چھ بیہ کہ شریک ٹھہر اوزنہ معبودہ برحقس عنہ قسمہ پزپاٹھ نس شریک ٹھہر اون پٹھہ بوڈ ظلم  
**وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ** بیہ کوراسہ تاکیدی حکم انسانس ملس ماجہ ہندہ حقہ کہ پریتھہ حاکس اندر  
 گرھہ ہندہ ادب تہ رعایت ملحوظ تھوان۔ کیازہ تمو پٹھہ امس پچہ سندہ خاطرہ وارپاہ مشقت تہ تکلیف تلت  
 خصوصاً ماجہ چنانچہ **حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَفِصْلَةٌ فِىْ عَامِيْنِ** نل بیہ انسان تم سزہ ماجہ پینہ  
 یڈ منز۔ ضعفس پیٹھہ ضعف تہ تکلیفس پیٹھہ تکلیف برداشت کر تھہ نون ریتن۔ اکھ اوس یڈ منز تلمک  
 تکلیف تو پتہ پر بسک تکلیف، دود چاوتک تلنہ تراونگ تکلیف۔ راتس دوہس پنن آرام تہ آسایش راوہ  
 ران امس للہ وان تہ سلہ وان تو پتہ چھ امس پچہ سندہ دود تڑ تہ نگ مدت دون ورین تام یمن دون  
 ورین تہ پٹھہ بیہ موج امس چس مشفقانہ خدمت کران۔ تھہ مال سندنہ پٹھہ آسان اشتراک عمل۔ موج  
 چھس کوچھ منزہ تراوان تہ مول چھس تلان۔ مول چھس تراوان تہ موج چھس تلان یم دودہ شوے  
 چھس لولہ متہ لائے کران۔ امی موکھ کوراسہ پینہ نین حقوقن سیت ملس ماجہ ہند حق ادا کرنگ حکم  
 امس انسانس پیٹھہ **اِنْ اَشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ** میہ فرمود امس انسانس کہ کر تہ شکر گذاری۔ اکھ میان بیہ  
 کر تہ بیہ شکر گذاری پینہ نس ملس ماجہ ہنز اللہ تعالیٰ ستر شکر گذاری گیہ عبادت و اطاعت سیت ملس  
 ماجہ ہنز شکر گذاری گیہ خدمتہ سیت بیہ ہند حقوق ادا کرنے سیت **اِلٰى الْمَبْدُوْبِ** بتولا کہ چھوے نش  
 واتن تمہ ساتہ تھہ دود مت آسیتھہ تھہ لوکھہ باوجود ایچہ ملس ماجہ ہند حق چھہ سیتھہ بوڈ مگر توحیدک

بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطْعَمُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ  
 سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ  
 تَعْمَلُونَ ﴿۱۵﴾ يَبْنِيٰ إِنهَآ إِن تَاكُ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ  
 فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمٰوٰتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا  
 اللهُ إِنَّ اللهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ﴿۱۶﴾ يَبْنِيٰ أَقِمِ الصَّلٰوةَ وَأْمُرْ  
 بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأَصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ ط

مسئلہ چھوٹی تھیں عظیم الشان کہ ولان جہدک علی ان تشرکونی مالئیس لک یہ علم فلا تطعمہما ہر گاہ  
 تم دو شوے یا تمواندرہ اکھ مجبور کرے مہ شریک ٹھہراؤس پیٹھ سہ چیز تچ نہ ژہ خبرے آسی سہ کتھ  
 مان زہ نہ ژہ کینہہ ہرگز وصاحبہما فی الدنیا معروفا یہ کتھ چھ ضروری کہ دنیا کین ضروریاتن اندر  
 روزہ ژہ تمن سیت رتہ طریقہ وائیکہ سبیل من اناب الی دینہ کس معاملس اندر کچہ ژہ ٹس شخصہ  
 سنزوتہ ٹس مہ گن رجوع کرہ ون آسہ یعنی میانین احکامن پیٹھ عمل کرہ ون آسہ۔ ثم الی مرجعکم  
 فانبتکم بما کنتم تعملون تو پتہ چھوہ تو بہ سارنے مہ گن رجوع کرن۔ بو کر وہ تو بہ سارنے خبر  
 تمن سارنے کامین ہنزیمہ تہہ کران آسہ۔ لہذا مہ کرد تہہ میانس کتھ کھمس خلاف امہ پتہ چھ بیان  
 کران۔ بیہ لقمان حکمہ یعنی لقمان صابن فر مو پتہ نس فرزندس یبنی انہا ان تاک مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ  
 خَرْدَلٍ فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمٰوٰتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللهُ إِنَّ اللهُ لَطِيفٌ خَبِيرٌ اے  
 میانہ فرزندہ اللہ تعالیٰ سند علم تہ قدرت چھ تیوت کہ اگر کانہہ ہنز عمل آسہ آسہ دانس برابر مقدرہ  
 کن سوی آسہ کنہ بدس پکس منز کتھ تھاونہ آثرنتہ آسہ آسمان اندر لو کن نشہ دور کتہ جاہہ یا آسہ زمینس  
 منز تل پاتال یوت نہ کانہہ تہ واتتہ ہیچہ مگر خدا یہ سند شان چھ کہ سمو ساروے پوشیدہ جاہ منزہ  
 کڈ تھ انہ سہ قیامتک وہ حسابہ وقتہ امی اندرہ چھ سپدان تم سند کمال علم تہ کمال قدرت ثابت بیشک  
 اللہ تعالیٰ چھ سیٹھاہ بوڈباریک بین سارچی خبر تھاونہ ون۔ ٹس چھ پور خبر گس چیز سہ ٹس چھ۔ یبنیٰ

إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ۝ وَلَا تَصْعَقُ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا  
تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ۝  
وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ  
لَصَوْتُ الْحَمِيرِ ۝ أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا  
فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ

اقیم الصلوٰۃ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاَصْبِرْ عَلٰی مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ  
عملن متعلق فرمونس یہ نصیحت کہ اے میانہ فرزندہ نماز تھا برپا۔ نماز چھ اعلیٰ درجہ عمل یہ آس رزن  
کامین ہند امر کران بین لوکن تہ بیہ آس بچھ کامیونہ لوکن منع کران۔ اتھ منزئس تکلیفہ تہ مصیبتہ  
واتی پریتھ مصیبتس پیٹھ آس صبر کران۔ پزپاٹ یہ صبر کران چھ ہمتہ چوکا میواندرہ۔ وَلَا تَصْعَقُ خَدَّكَ  
لِلنَّاسِ اخلاق وعاداتن اندر فرمونس بیہ مہ آس لوکن نشہ بٹھ پئن پھر ان تکبرہ سبہ وَلَا تَمْشِي فِي  
الْأَرْضِ مَرَحًا بیہ مہ آس زمینہ پیٹھ پکان ڈالہ ماران تمہ غرور و تکبرہ سان کیاہہ اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ  
مُخْتَالٍ فَخُورٍ بے شک اللہ تعالیٰ چھنہ پسند کران کانہہ مغرورس ئس تھکان آسہ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ  
وَاعْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ بیہ آس میانہ روی کران پنہ ئس پکنس اندر تہ مہ آس دور تلٹھ پکان تہ چھہ  
اکھ وقارس خلاف بیہ چھہ تھہ اندر ڈب لگنک خطرہ نہ مہ آس تول تول پکان یہ چھہ نمبرن ہنز چال۔  
بیہ کرپست آواز پن کرکھ مہ آس لاگان۔ اِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ پزپاٹ آواز اندرہ چھہ  
بچھہ آواز کھرہ سنز آواز۔ تھہ اندر نہ کانہہ فاندہ چھہ۔ لہذا انسان آستھ مہ بن کھر حضرت عکرمہ تہ حضرت لیث چھہ  
فرماوان کہ لقمان علیہ السلام آس نبی۔ مگر حکیم ترمذی چھہ نوادرس منز مرفوع اکھ حدیث شریفہ پیش  
کران کہ لقمان علیہ السلام آئے یہ خلافت پیش کرنے داؤد علیہ السلامس بروٹھ مگر تمودوپ ہر گاہ  
حکم چھم تیلہ چھم منظور بسر و چشم۔ ہر گاہ میانہ مرضی موجب چھہ تیلہ چھس بہ معانی منگان چنانچہ پتہ  
آیہ سہ خلافت عطا کرنے چنانچہ یہ روایت چھہ دُر منشورس اندر۔ اکثر علماء چھہ فرماوان کہ حضرت  
لقمان چھہ آسمت حبشک رُوزن و آل اَلَمْ تَرَوْا اَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ

مَنْ يُجَادِلْ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴿۲۰﴾ وَ  
 إِذَا قِيلَ لَهُمَاتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَنْتَبِعُ مَا وَجَدْنَا  
 عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوْ لَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿۲۱﴾  
 وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ  
 بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ﴿۲۲﴾ وَمَنْ كَفَرَ فَلَا  
 يَحْزُنكَ كُفْرُهُ ۗ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ فَنبئهم بما عملوا ۗ إِنَّ اللَّهَ

عَلَيْكُمْ نِعْمَةٌ ظَاهِرَةٌ وَبَاطِنَةٌ کیا تو بہہ وچھوہ نامشاہدہ سیت تہ دلیلو سیت یہ تھہ معلوم کہ اے اللہ تعالیٰ ان  
 جھہہ بواسطہ یا بلا واسطہ کامہ لاگمت مسخر تہ رام کرمت تہندہ فاندہ خاطرہ تم ساری چیزیم آسانن بیہ  
 زمین منز جھہہ۔ بیہ کرین پننہ نعمہ پورہ تو بہہ پیٹھ۔ ظاہری نندہ نعمہ تہ۔ تمہ نعمہ یمہ ظاہری حواسو سیت  
 ژیندہ یوان چھہ باطنی تہ پوشیدہ نعمہ تہ یمہ نعمہ عقلہ سیت ژیندہ یوان چھہ۔ و من الناس من یجادل فی  
 اللہ بغير علم ولا ہدی ولا کتب منیر۔ باوجود آل جھہہ لو کو اندرہ بعضی تم لو کہہ تم بحث تہ جگہہ چھہ  
 لاگان خدایہ سندس کن آسنہ کس معاملس اندر علمہ ورائے واقفیہ ورائے تہ ٹکنہ دلیلہ ورائے بیہ عنبر روشن  
 کتابہ ہندہ حوالہ ورائے۔ و اذا قيل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل ننتبع ما وجدنا عليه اباؤنا  
 تو پتہ یلہ وندہ یوان چھہ تمس پیروی کر وتھہ خمس نئس اللہ تعالیٰ ان نازل کور پان چھہ نہ بلکہ گر واس  
 پیروی تھہ طریقس تھہ پیٹھ آسہ پنن مال بڈبب عمل کر ان وچھہ اولو کان الشیطن یدعوهم الی عذاب  
 السعیر کیا ہر گاہ تہندین مالین بڈبن شیطان نادووان اوس تھہ گمراہی کن نئس نارہ کس عذابس موجب  
 اوس تو تہ کرن نہ تم تہمز پیروی و من یتسلم وجهہ الی اللہ و هو محسن فقدا استمسک بالعرورۃ  
 الوثقی و الی اللہ عاقبۃ الامور۔ بیہ نئس اکھاہ پز یوک اتباع کر تھہ بٹراوہ پنن پان معبود برحقس یتھہ  
 حاکس منز کہ سہ آسہ رژہ کامہ کرہ ون ادہ تمی کر تھہہ محکم رژہ۔ تمی کر زورہ تھپ مضبوط ہانکلہ۔ پتولا کہ  
 جھہہ سارے کامہ تہ سارے کائین ہند انجام خدایہ سے نشہ وائن وول۔ و من کفر فلا یحزنک

عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۳۲﴾ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ  
عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿۳۳﴾ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ  
لَيَقُولَنَّ اللَّهُ قُلُوبُ الْحَمْدِ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۴﴾ لِلَّهِ مَا  
فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۳۵﴾ وَلَوْ أَنَّمَا  
فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ

کُفْرُهُ الْيَتَامَ مَرْجُومًا فَتَبَّ لَهُمْ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ بے ایم شخصن باوجود اس  
وضاحت کفر سے انکارے کور ٹھنڈ کفر سے انکار مہ حض کرن توہہ غم گین سے آزردہ اسی نیشہ چھہ واٹن  
رجوع کرن تمین سارنے۔ اس کرو کہ خبردار تم تموساروے کامیوسیت سمہ تم دنیا بس منز کران  
آس۔ بے شک اللہ تعالیٰ چھہ پور زانان تمہ سارے تھہ یمہ دلن منز کھٹھہ سے پو شیدہ چھہ باقی کائین ہنز  
چھہ کتھہ۔ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَىٰ عَذَابٍ غَلِيظٍ تمسح تلمناو کہ اس تم دنیا س منز کم کینہہ  
کالاہ توپتہ واتتاو کہ اس تم جبراً سخت عذابس اندر یمہ منزہ نہ تم نیر تھہ ہمکن۔ تھہ توحیدس کن اس  
تمن نادووان چھہ حمہ جن ابتدائی بعض کتھن چھہ تم سے پانہ تسلیم کران چنانچہ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ ہر گاہ ٹھہ یارسول اللہ کن پر ٹھہ آسمان سے زمین کم گورپادہ ضرورون کہ  
اللہ تعالیٰ ان گورپادہ قُلُوبُ الْحَمْدِ لِلَّهِ ٹھہ دپو محمد یومین خدا کس کہ یہ تھہ چھوہ توہہ فخرہ تران۔ یوسہ کتھہ  
زیادہ ضروری اس سوسپز جہندی اقرارہ سیت ثابت دویم کتھہ یوسہ اتھہ سیت لازم آس کہ کس چیز  
مخلوق سے پادہ کرنہ آمت آسہ سہ بیجا معبود آتھہ۔ یہ چھوہ نہ تگان زانن بے چھوہ نہ تران فخرہ یکل  
اَکْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ مگر تمواندرہ چھہ اکثر لو کہ تمکن نہ ایڑہن سے زانن تگان چھہ خدا یمہ سند شان چھہ یہ  
کہ یلہ ما فی السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ خدا یمہ سند چھہ سے سورے یہ آسمان سے زمین  
منز چھہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ چھہ بذات خود سے بے نیاز۔ سارنے تعریفن سزاوار۔ سنی چھہ سزاوار  
الوہیت۔ تمسز خوبیہ سے تعریف چھہ تیت کہ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ



سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿۲۷﴾  
 مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَبْعَثُكُمْ إِلَّا كَنَفُ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ﴿۲۸﴾  
 أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ  
 وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ  
 بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿۲۹﴾ ذَلِكَ يَأْتِيَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ

بَعْدُ ؟ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ بیہ ہر گاہ تین سارے کلین ایم تمام روی  
 زمینس پیٹھ چھ تین بناونہ قلم سونب حصہ تو پتہ آسہ سمندر میل لیکنہ خاطرہ سیاہی اکہ سمندرہ  
 پتہ ستہ وے سمندر تموے قلمو سیت تہ تہی میلہ سیت ین لیکنہ اللہ تعالیٰ سد کلمات یعنی تمہ تھہ یمو  
 سیت تہمہد کمالات ین پھر نہ۔ ایم ساری قلم تہ یہ سارے میل جوشہ ختم مگر تمہ تھہ گوہن نہ ختم سمو  
 سیت تم کمالات بیان ین کرنہ بیشک اللہ تعالیٰ چھہ غالب سیٹھاہ حکمتہ دول۔ سہ چھہ قدرتس اندرتہ  
 کامل علمس اندرتہ کامل۔ تہنزے قدرت گیہ کہ سارے کرہ بیہ پادہ پتھہ نافہم لوکھ دشوار زانان چھہ  
 حالانکہ مَا خَلَقَكُمْ وَلَا يَبْعَثُكُمْ إِلَّا كَنَفُ وَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ اے لو کو تو بہ سارے ہند گوڈہ پادہ کرن بیہ مرت دوبارہ  
 زندہ کرن چھہ خدا ایس نشہ مگر تیتھہ پتھہ اکس شخصہ سند ہو پادہ کرن چھہ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ بے شک  
 اللہ تعالیٰ چھہ سورے بوزہ ون سورے وچھہ ون سہ دیہ مرنہ پتہ بیہ زندہ گوشہ کین مکر ن ضرور  
 سزا۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي إِلَىٰ  
 آجَلٍ مُّسَمًّى وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ کیاہہ وچھان چھہ کھاثرہ اے وچھہ ونہ کیتھہ قدرتہ وول چھہ سہ۔  
 سؤی چھہ راژ ہندس اکس حصس دوہہ کس حصس منزواتہ ناوان بیہ دوہ کس حصس راژ ہندس حصس  
 منزواتاوان بیہ تھاوتی آفتاب تہ زون کامہ اندر لاگتہ۔ سمودو یواندرہ چھہ پر پتھہ اکھاہ پکان تھہ وقس  
 تان ایس تہندہ خاطرہ مقرر کرنہ آمت چھہ۔ یعنی قیاس تان۔ بیہ چھو نا تو بہ معلوم کہ اللہ تعالیٰ چھہ تہ  
 سورے زانان یہ تہہ کران چھوہ تو بہ چھانمان زہ تہنزہ شرکچہ کامہ کیا آسن تس نشہ پو شیدہ۔ سہ کیا دیہ نہ

مِنْ دُونِهِ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ۝۳۰ أَلَمْ تَرَ أَنَّ  
 الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ لِيُرِيكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي  
 ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ۝۳۱ وَإِذْ أَخَشِيَهُمْ مَوْجًا كَالظَّلِيلِ  
 دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ هَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ  
 فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ۖ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ۝۳۲

تو میرے ہاتھ پیٹھ سزا، ذلک یاق الله هو الحق وان ما يدعون من دونه الباطل وان الله هو العلیٰ الکیبر  
 یہ سب کچھ یعنی آسمان پادہ کرن دوہ سے راتھ اگھ اس منزاوہ تاون آفتاب سے زون کامہ لائن ہٹھ خاص اللہ  
 تعالیٰ سے یہ مومک کہ اللہ تعالیٰ ای ہٹھ پنے ہستی سے وجودس منز کامل سے ہٹھ واجب الوجود۔ لو کہ  
 سمن چیزن ہنز پرستش کران چھ تس وراے تم چھ باطل۔ بیہ ہٹھ اللہ تعالیٰ ای عالی شان، تھوہ سے  
 بوڈ۔ تھندس تھرس سے جرس واند نہ کہنے اَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنِعْمَتِ اللَّهِ کیا ای  
 مخاطب تھ پٹھ ناتوحیدج یہ دلیل معلوم کہ بے شک جہاز سے ناوہ ہٹھ پکان دریاون اندر خدایہ سندی  
 فضلہ سیت لِيُرِيكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ ہٹھ سہ توہ ہادہ پنے قدر تک نشانہ  
 پزپاٹ اتھ منز چھ قدر تک۔ بڈ نشانہ صبر سے شکر کرہ ون سندہ خاطرہ یعنی باایمان ہندہ خاطرہ تھے چھ  
 مومن ہندہ دو تھہہ وقتہ صبر کران جہاز یا ناوہ بوٹھ لکھہ وقتہ شکر دپان وَإِذْ أَخَشِيَهُمْ مَوْجًا كَالظَّلِيلِ  
 دَعَا اللَّهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۖ تھہ پتہ یلہ تمن کافر ن سمندر ک موج تھو دگھست سایہ بان ہند پٹھے  
 ولہہ یوان ہٹھ تمہہ ساتہ ہٹھ منگان خدائس بندگی خالص تھندی خاطرہ امانت اعتقادہ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى  
 الْبَرِّ فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ ۖ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا كُلُّ خَتَّارٍ كَفُورٍ ۝۳۲ تھہ پتہ یلہ اللہ تعالیٰ تمن نجات دتھ  
 بھٹس تل واتاوان چھہ تمومنزہ چھہ بعضے درمیان حالس پٹھ روز تھ خدیہ سندیاد کران۔ یعنی شرک  
 تراو تھ توحید اختیار کران مگر بعضے چھہ بالکل سائین آیتن مشراوتھ سائین قدرتہ کین نفاان انکار  
 کران۔ مگر تھے لو کہ یم غدار سے تھران نعمت کرہ ون چھہ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمَ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ  
عَنْ وَاوَلَدٍ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارِعٌ وَالِدٌ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ  
اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغْرِبْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرَبْكُمْ بِاللَّهِ  
الْغُرُورُ ﴿۳۱﴾ إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَ  
يَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا  
وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿۳۲﴾

لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَاوَلَدٍ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَارِعٌ وَالِدٌ شَيْئًا اے لو کو کھوڑو پروردگار سے اپنے نس  
پتہ روز و تہدہ نافرمانی نشہ بہ شرک و کفر نشہ بہ کھوڑو تھہ دوہس یمہ دوہہ نہ کانہہ مولاہ جواب ہیجہ  
د تھہ۔ عذاب پتہ ہیجہ رتھہ پنہ نس پتوس نشہ نہ ہیجہ کانہہ پتوہ پتہ رتھہ پنہ نس ماس نشہ نہ قسمگ  
عذاب یہ دوہہ پتہ یوہون ضرور۔ کیا زہ اللہ تعالیٰ ان پتہ امیک وعدہ کورمت اِن وَعْدَ اللّٰهِ حَقٌّ پز پاتھہ  
اللہ تعالیٰ سند وعدہ پتہ حق تہ پوز تو اہس تہ عذابس متعلق فَلَا تَغْرِبْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرِبْكُمْ  
بِاللّٰهِ الْغُرُورُ پس پتہ دھوکہ دیہ توہہ دنیا ج زندگی پتہ سیت مشغول روز تھہ سپد و غافل تمہ دوہہ  
نشہ بہ پتہ خدایہ سندہ حقہ توہہ دھوکہ دیہ شیطان فریب باز تہ دھوکہ باز اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ  
السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ  
بِأَيِّ اَرْضٍ تَمُوتُ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بے شک اللہ تعالیٰ سے پتہ قیامج خبر کہ سوگر سپدہ واقع یہ  
پتہ سئی رود تراوان یہ پتہ تہس خبر اسباب و آلاتن ہندہ واسطہ ورائے کیاہ پتہ زنانن ہنزن شگن اندر  
کور چھانہ پتوہ بہ پتہ خبر کانہہ شخصس پگاہ کوسہ کام کرہ بہ یہ پتہ خبر کانہہ شخصس تھہ جایہ منز مرہ  
کہہ وقتہ بے شک اللہ تعالیٰ پتہ سورے زانہون تہس پتہ سارے چیزن ہنز پور خبر۔

## سُورَةُ السَّجْدَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 ۱ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَأَرِيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۲ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَأْتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِمَّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ۳ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ۴ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ ۵

اللہ تم چھ حروفِ مقطعات۔ میں ہند معنی زائد پانہ خدا تَنْزِيلُ الْكِتَابِ لَأَرِيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ کتابہ یعنی قرآن مجیدہ کس نازل سپدلس منز پھنہ کانہہ شکھاہ پیہ چھ نازل سپدان رب العالمینہ سہہ طرفہ اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ کیاہ مُنکر چھاوانان یہ چھہ پائے بلہ ٹھہروومت حضرت محمدن صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تہندون چھہ بالکل غلط۔ یہ چھہہ کانہہ بنوومت بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَأْتَتْهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِمَّنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ بلکہ چھہ یہ کتاب پڑپاٹ تہندس پروردگارہ سہہ طرفہ نازل سپز مشیتہ تہہ امہ سیت نیم کروپروردگارہ سندہ عذابہ نشہ ممن لوکن میں گن نہ توہہ بروٹھ کانہہ پیغبرہاہ نیم کرہون آنت چھہ دیوہ تم لوکھ راہ راستس پیٹھین اللہ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ اللہ تعالیٰ گوئی ذات پاک یم آسمانہ زمین بیہ تم مخلوقات یم تمسن دون منزباگ چھہ پادہ کرشین دون ہندس مدلس اندر۔ توپتہ سپد مستوی عرش پیٹھہ تمہہ طریقہ نس تہندس شانس سزاوارتہ لایق چھہ مَا لَكُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا شَفِيعٍ اَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ سہ چھہ تیتھہ بوڈتہ عظیم الشان کہ تہندہ رضاتہ اجازتہ ورائے چھہ تہند

أَفَلَا تَتَذَكَّرُونَ ﴿۴﴾ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ ثُمَّ  
 يَعْرُجُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ ﴿۵﴾  
 ذَلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ﴿۶﴾ الَّذِي أَحْسَنَ  
 كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ ﴿۷﴾ ثُمَّ جَعَلَ  
 نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَّاءٍ مَهِينٍ ﴿۸﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ  
 رُوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مِمَّا

کانہ مددگارانہ کانہہ سفارش کرہ وناہ البتہ تہندہ اجازتہ سپدہ شفاعت۔ مگر نصرت و مدد متعلق  
 آسہ نہ اجازتہ۔ بس کونہ چھوہ نصیحت رہان کہ تھس ذات پاکس بیجا شریک آستہ یدبیر الامر من  
 السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الف سنة مما تعدون سئ خداہتھ تھہ کہ آسانہ  
 پیٹھ زمینس تام یمہ کامہ چھہ تم سار نے ہند تدبیرتہ انتظام کرہ و ن چھہ سئ۔ توپتہ ین ساری معاملہ تہ  
 سارے کامہ تس برو تھہ کن پیش کرنہ تھہ دوہس اندر سمہ ذہک مقدار تہندہ گزرنہ موجب اکھ ساس  
 وری آسہ یعنی قیامتک دوہہ ذَلِكَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ سئ خدا چھہ زانہ و ن تہ  
 سورے کھٹھہ چھہ بیہ یہ نون چھہ سیٹھہ غلبہ و ول زبردست سیٹھہ رحمتہ و ول الَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ  
 شَيْءٍ خَلْقَهُ وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنْسَانِ مِنْ طِينٍ یم پروردگارن سیٹھہ رت کور پر تھہ چیزاہ بیہ کور تم ابتداء  
 انسانہ سزہ پیدائشہ ہند میوہ نشہ۔ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَّاءٍ مَهِينٍ توپتہ کرن پادہ تہند نسل  
 تہ اولاد پشتہ منزہ کڈنہ آمتہ بے قدر ضعیف آبہ قطرہ نشہ۔ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ وَجَعَلَ  
 لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مِمَّا تَشْكُرُونَ توپتہ کورن ماجہ ہندس شمس منز تہند بدن  
 برابر۔ توپتہ وائہ نوون تھہ منز پھوکھہ دتھ ہن روح۔ بیہ کزان پادہ تہندے کن بوزنہ خاطرہ بیہ اچھہ  
 وچھہ خاطرہ۔ بیہ دل زانہ خاطرہ۔ یم ساری چیز سموسیت تہنز کمال قدرت ثابت سپدان چھہ اس  
 منگان تہنز شکر گذاری کرین مگر سیٹھہ کم چھوہ تہہ تہنز شکر گزاری کران وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي

تَشْكُرُونَ ۹ وَقَالُوا آءِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۙ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ۱۰ قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ تُعْرَأُونَ ۙ رُبَّمَا تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسًا وُجُوهِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ۱۷ وَكُوشِمْنَا الْآيَاتِنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي

الأرض إنا لفي خلقٍ جديدٍ قیامتک مقرر چھہ و نان کیاہ یلہ اس میوہ سیت میوہ گزہ هو کیاہ آسہ چھانوپادہ سپن بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ایم چھنہ مرنہ پتہ بیہ زندہ سپدہ کسے یوت عجائب زانان۔ بلکہ چھہ ایم پنہ نس خدا نس سیت ملاقات کرہ نس تہ نس بروئٹھ گن حاضر سپن نس تہ مقرر قُلْ يَتَوَفَّكُم مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ تُعْرَأُونَ تجہہ فرما یو کہ یار سول اللہ تو بہ چھنہ معدوم سپن بلکہ کڈہ جہندین روحن ملک الموت نس خدا یہ سبہ طرفہ مقرر کر نہ آمت چھہ۔ تہند روح کڈنہ خاطرہ۔ تو پتہ ایو تجہہ واتا ونہ پنہ نس پروردگار س نغہ سبہ دیوہ عملن ہنز مزور۔ رثان ہنز رثے پچھن ہنز پچھی وَكُوشِمْنَا الْآيَاتِنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي ہر گاہ تجہہ و چھو کہ ایم نافرمان تجھہ پاٹھے آسن قیامتک دوہ کلہ یون گن تراوتھ پنہ نس خدا نس بروئٹھ کتہ سخت شرمندگی اندر تجہہ و چھو تہند عجیب حالہ و نان آس رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ ای سانہ پروردگارہ آسہ و چھہ تہ تہتھ اس انکار کران اس بیہ بوز آسہ تہ سورے تہتھ نہ اس گن تھاوان آس سانہ اچھہ تہ گن آسے مشروانہ معلوم سپد کہ یہ کیوہ ہاہ پیغمبر فرماوان آس تہ سوری اوس پوز پس سوز کھنا ژہ آسہ بیہ دنیا س گن اس کرہ ہوونے تہ رتھہ عملہ بیشک چھہ اس وونے پور یقین کرہ ون۔ مگر یہ تہند ون آسہ تہ بالکل بیکار وَكُوشِمْنَا الْآيَاتِنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا ہر گاہ آسہ منظور آسہ ہا اس کرہ ہو پر تہتھ شخصس ہدایت دنیا س اندر ایمانس تہ رثان عملن گن وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلِكَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ

لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ﴿۱۳﴾ فَذُوقُوا بَأْسَ  
 نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا  
 كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۱۴﴾ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا  
 سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴿۱۵﴾ تَتَجَافَى  
 جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا  
 رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿۱۶﴾ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ

الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ مگر میان تمہہ مجھہ ازلے سے تقدیر ہی یوسہ میہ از لکہ دوہہ وار بہو حکمو موجب  
 محقق سہز مرہ مجھہ کہ ضرور برن سے ہر کرن بو جنہم جنو سے انسانوسیت۔ ہم کافر اس یکہ وٹ۔ ووان سیلہ  
 تہند دنیاء س کن گوٹھن ناممکن مجھہ لہذا یہیہ تمن وندہ فَذُوقُوا بَأْسَ نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا إِنَّا نَسِينَاكُمْ  
 وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وون زہو تہہ سمیک مزہ کہ توہہ اوسوہ ناہن مجھہ دوہس منز  
 سمکھن مشر دوومت اسہ سے مشر اووہ تہہ کیازہ رحمتہ نشہ کرووہ اس تہہ محروم۔ وون زہو ہمیشہ گی ہند  
 عذاب کیازہ تہہ اوسوہ ناہوہ کامہ کران إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا  
 بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ایمان اُنن نہ سائین آیاتن مگر تے لوکہ تمن یکہ تم آیاتن تہتیس  
 پاوندہ مجھہ یوان وعظ و نصیحت مجھہ کرنہ یوان متاثر سہد تہہ مجھہ تم سجدس منز مجھہ پنہ نس خدایہ سُد پیاکی  
 حمد و ثنایاد کران۔ بیہ مجھہ تم ایمان اُننہ نشہ کنہ قسمہ مجھہ سے غرور کران۔ مجھہ پاٹھ کافر مجھہ سبخر کران یہ  
 گو تہندہ اعترافک حال امہ پتہ چھو بیان تہندین اعمالن ہیوند تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ  
 يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ایمان اُنن نہ سائین آیاتن مگر تے لوکہ تہزہ  
 لرہ و تھر نیو نشہ محقق نماز سے تہجد نماز پر نہ خاطرہ تمہ علاوہ چھہ منگان تم پنہ نس پروردگار س آلودی  
 وی عذابہ خوفہ سے ثوابہ امیداری سان بیہ مجھہ تم ثمنہ مالہ منزہ ہس آسی عطا کورومت چھہ خرچ کران  
 خدایہ سزہ و تہ اندر فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ہس مجھہ

اَعْيُنٌ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۷﴾ اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ  
 فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴿۱۸﴾ اَمَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ  
 جَنَّاتُ الْمَاوٰى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۹﴾ وَاَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا  
 فَمَا لَهُمْ نَارُ كُلَّمَا اَرَادُوا اَنْ يَخْرُجُوْا مِنْهَا اُعِيْدُوا فِيْهَا وَ  
 قِيْلَ لَهُمْ دُوْعُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِى كُنْتُمْ بِهٖ تُكذِّبُوْنَ ﴿۲۰﴾  
 وَلَنْ يُقَيِّدَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ اِلَّا الَّذِى دُوْنَ الْعَذَابِ

کانسہ اکس خبر تمن چیزن ہنزیم کھتھ تھانہ آمت چھ تھندہ خاطرہ غیبہ کس خزائس اندر سمو چیز وسیت  
 تہزہ اچھ شہلن تھے چیز آسن رژ مزور تھندہ خاطرہ تمن رژن عملن ہنزیمہ تم کران اس دنیاء س  
 اندر اَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ کیا ئس شخص با ایمان آسہ نہ چھا برابر ئس  
 شخص ئس نافرمان نہ کافر آسہ نہ ہرگز جھنہ سم زہ برابر اَمَّا الَّذِينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ  
 جَنَّاتُ الْمَاوٰى نُزُلًا بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ پس گے تم لوکھ سمو ایمان اُون بیہ کرکھ رژہ عملہ تھندی  
 خاطرہ جھ روز نگ باغ بطور پیش کشی۔ تھہ پاٹ مہمان عزیزن چھ نفیس نفیس چیز بکمال احترام پیش  
 کرنہ یوان تھہ پاٹھ نہ تھہ پاٹھ سائل نہ تھتا جس بے قدری نہ بے وقعتی سان دنہ یوان تھہ۔ تمن عملن  
 بدلیمہ تم کران آس دنیاء س اندر وَاَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَا لَهُمْ نَارُ كُلَّمَا اَرَادُوا اَنْ يَخْرُجُوْا  
 مِنْهَا اُعِيْدُوا فِيْهَا وون سمو لو کو نافرمانی نہ کھر کور تھندہ روز نچ جائے تھہ نار جھنم۔ تھہ اندر واتھ یلہ  
 یلہ تم تھہ منزہ نیر تک خیال آسن کران۔ بیہ آسن تھہ منز واپس واتا ونہ یوان وَقِيْلَ لَهُمْ دُوْعُوْا  
 عَذَابَ النَّارِ الَّذِى كُنْتُمْ بِهٖ تُكذِّبُوْنَ وندہ آسکھ یوان ژہ ہوزہ تھہ نار جھنمک تھہ تھہ انکار آسہ  
 کران وَلَنْ يُقَيِّدَهُمْ مِنَ الْعَذَابِ اِلَّا الَّذِى دُوْنَ الْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ بیہ  
 ژھنا و وکھ اس تم لو تھہ ڈر جک عذاب دنیاء س اندر قیامتہ بڑہ عذاب برو تھہ دیو تم پائس پین کھرہ نہ شکرہ  
 نشہ پوت پھیرن۔ تھین لوکن ہند عذابس گر فاسقن جھنہ عجائب کتھاہ کینہہ نہ کیا زہ وَمَنْ اَظْلَمُ



الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۲۱﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ  
بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ﴿۲۲﴾  
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ  
مِّنْ لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ۗ وَ  
جَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَّهْدُونَ بِأَمْرِنَا لِنَاصِرُونَ ۗ وَ  
كَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ ﴿۲۳﴾ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمُ


مَنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ کوه اکاهه چھہ یژ ظالم تس  
شخصہ سندہ خوتہ نس وعظ و نصیحت آیہ کر نہ پنہ نس پروردگارہ سندہ آیہ توسیت توپتہ پھیر تم بھہ تمو آیا تو  
نہہ لہذا کیاہہ چھہ تہندس مستحق عذاب آس اندر۔ ضرور تہمواس تمن نافرمان انتقام۔ تہہ روزو  
مظنن یار سول اللہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِّقَائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى  
لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ بے شک امہ کز عطا جہدی پاٹھ موسیٰ علیہ السلام کتاب (تورات) یمہ کس  
اشاقس اندر تمن تکلیف برداشت کرن پو۔ تھہ پاٹھ کر اسہ تہ توہہ کتاب عطا امہ کس اشاقس اندر چھو  
توہہ تہ تکلیف برداشت کرن۔ نس مہ روزو تہہ شمس تہ ترددس اندر امہ کتابہ ہندس عطا سپد نس اندر۔  
اتھ منز جھنہ کانہہ شک تہ خبہ یامہ کرو تردد موسیٰ علیہ السلام سیت در شب معراج ملاقات کرہ نس  
اندر توہہ کوورہ حقیقتہ پاٹھ تمن سیت ملاقات سہ کانہہ نظر بندی یا خیالی ملاقات اوس نہ بیہ کز اسہ سو کتاب  
یعنی توراہ بنی اسرائیل اندہ خاطرہ سبب ہدایت تھہ پاٹھ سپدہ جہزہ کتابہ سیت تہ وار تہن لوکن ہدایت تہہ  
روزو خوش وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آيَةً يَّهْدُونَ بِأَمْرِنَا لِنَاصِرُونَ ۗ وَ  
کر اسہ بنی اسرائیل واندرہ واریاہ پیشوا۔ یم وتھ ہاوان آس لوکن سانہ حکمہ موجب یلہ تمو صبر کور  
مکروبین ہندین تکلیفین پیٹھ بیہ آس تم سائین آیاتن پیٹھ یقین کران امہ سیت چھہ تسلی با ایمان کہ یلہ تم تہ  
اشاعت قرآنس پیٹھ صبر کرن تم تہ کروکھ اس دنیا بک امام تہ پیشوا یہ گوود نیا کہ اعتبارہ تسلی

يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۲۵﴾ أَوْ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ  
 كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَيشُونَ فِي مَسْكِينِهِمْ ط  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ ﴿۲۶﴾ أَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ  
 الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ  
 أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ ﴿۲۷﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى  
 هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۸﴾ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بے شک تمہند  
 پروردگارے کرہ فیصلہ بنی اسرائیل منز قیامتک دوہ تم سارنے تھن اندر تمن منز تم اختلاف کران  
 آس۔ سہ فیصلہ گوویو ہے کہ بایمان و اتاواہ جنس اندر۔ کافرن و اتاواہ جنس اندر۔ اَوْ لَمْ يَهْدِ لَهُمْ  
 کَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْقُرُونِ يَيشُونَ فِي مَسْكِينِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ أَفَلَا يَسْمَعُونَ کیا  
 تمہندین دشمن یعنی مکہ کین کافرن کرہ نارہنمائی یہ تھہ کہ کاتیاہ لوکھ کراسہ تمن بروئھ ہلاک گھر وانکارہ  
 سبہ اہندیو مکاوتہ شہر و منزہ چھند تم آرتہ شہر شامہ کس سفرس اندر یوان گڑھان تمو جابو منزہ  
 گذران۔ پزپاٹھ اتھ منز چھہ صاف صاف نشانہ یمہ کتھ ہند کہ اللہ تعالیٰ چھہ گھر س تہ کافرن شرگس تہ  
 مُشرکن پیٹھ بیزار کیا تم چھنا تمن تباہ و برباد گاتین لوکن ہند حال بوزان دون تمن  
 شبہ چھہ قیامتہ مرنہ پتہ بیہ زندہ سپدس متعلق اَوْ لَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ  
 فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ کیا تم چھنا و چھان کہ اس چھہ  
 خشک زمینس کن آب و اتہ ناوان دریاؤن ہندیو بارانک تمہ پتہ چھہ اس تمہ سیت سہ زراعت کھاران یمہ  
 منزہ تمہند چارپا بیہ تم پانہ تہ کھیوان چھہ۔ کیاہ تم لوکھ چھنا اتھ سانس کمال قدر تس کن روز مرہ و چھان۔  
 تھہ پاٹھ کیاہ کروکھ اس مردہ بیہ زندہ۔ تو پتہ کڈو کھ زمینہ منزہ۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِنْ كُنْتُمْ

الَّذِينَ كَفَرُوا اِيْمَانُهُمْ وَا لَهُمْ يُنظَرُونَ ﴿۲۹﴾ فَاَعْرِضْ  
عَنْهُمْ وَاَنْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ ﴿۳۰﴾

صِدِّقِينَ تم کافر چھ ونان کر آسہ بیمہ فیصلک دودہ ہر گاہ تہہ پوزونہ ون چھوہ **قُلْ يَوْمَ الْقِيَامِ لَا يَنْفَعُ**  
**الَّذِينَ كَفَرُوا اِيْمَانُهُمْ وَا لَهُمْ يُنظَرُونَ \* فَاَعْرِضْ عَنْهُمْ وَاَنْتَظِرْ اِنَّهُمْ مُنْتَظَرُونَ** فرماو یو کہ  
یارسول اللہ فیصلہ کہ دودہ دیدہ نہ کانہہ نفع تہ فائدہ تمن کافرن پڑھ کرن تہنز بیہ بیہ نہ تمن تہمہ دودہ نہ  
قسمہ مہلت ونہ پس پھر ونہہ روی مبارک پن تمن نشہ یارسول اللہ۔ کھن تہنزن ہندمہ کرو تہہ کانہہ  
خیالہ بیہ کرو تہہ خدایہ سندہ حکمک تہ فیصلک حقہ انتظار بیشک تم تہ چھ تہندہ تکلیف و ضررک انتظار  
کران۔



## سُورَةُ الْأَحْزَابِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ  
اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ۱ وَأَتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ط  
إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۲ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ  
وَكِيلًا ۳ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ای پیغمبر خدا تمہارے  
کھوڑو حض خدا ایسے بیہ مہ کھوڑو کا نہ۔ کافرین ایم ن پائٹ وینس خلاف چھہ بیہ منافقن ایم کافرین سیت  
محقق چھہ تہندس ونس منہ ہز کرو اعتبار۔ تہزہ آتھہ مہ حض مانوبے شک اللہ تعالیٰ چھہ سوروی زانہ ون پور  
حکمتہ وول۔ تہند ساری حکم چھہ فاندہ سیت برت وَأَتَّبِعْ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ  
خَبِيرًا تہہ پکو تھی حکمہ موجب ئس تہہ گن وحی سوزنہ یوان چھہ، تہندس پروردگارہ سندہ طرفہ ای  
لو کو پز پائٹ اللہ تعالیٰ چھہ پور زانان تہ سورے یہ تہہ کران چھہوہ تہہ اندرہ ئس اکھاہ سانس پیغمبرہ سنز  
مخالفت کرہ تمس سیت انزرا وواس پانے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا بیہ کرو توکل خدا ایس  
پیٹھ۔ پس چھہ اللہ تعالیٰ تہز کام پورہ کرہ ون۔ اتھہ مقابلہہ ہیجہ نہ چلتھہ تمن لوکن ہند کا نہہ تدبیر۔ معجھہ  
چھو حقیقی چھو زانان تو پتہ تمسنزہ طلاق دنہ آتھہ زانانہ سیت تہتھر کرہ ئس پیٹھہ طعنہ زنی کرن اوس تیتھہ غلط  
چیزاہ مشہور، تھہ پائٹھہ پننہ آتھہ موج ون یا ماجہ سیت تشبیہ وئس پیٹھہ نکاح ژھینن اوس خیال کرنہ یوان  
پاہر گاہ کا نہہ شخصاہ اوس سیٹھاہ ہشیارہ تہ تقلند آسان وپان آس امس چھہ زہ دل سینس منز یمن ترشون  
تھن ہند اصلاح کور اللہ تعالیٰ ان فرموون مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ قَلْبَيْنِ فِيْ جَوْفِهِ واقعس منز کرنہ  
اللہ تعالیٰ ان کا نہہ ہندس سینس منز زہ دل پیدہ تھہ پائٹھہ فرموون وَمَا جَعَلَ آذَانًا لِّمَنْ يُنظَرُونَ



أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجَهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ  
بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَنْ  
تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴿۶﴾  
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمَنْ نُوحِ وَإِبْرَاهِيمَ  
وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴿۷﴾

اللہ تعالیٰ چھ سیٹھاء مغفرت کرہ دن سیٹھاء رحم کرہ دن الٰہی اٰولیٰ بالکلمۃ المؤمنین من انفسہم پیغمبر برحق ہٹھ زیادہ تعلق تھاوان بالایمان سیت تہند یوپانو خوتہ کیازہ شخصہ سندان ہر گاہ ہچھ آسہ تیلہ ہچھ ظاہرے کہ سٹھ ہچھ بد خواہ امند۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم ہچھ خیر خواہ بالایمان ہندہ خاطرہ ہمیشہ رت یرشان۔ ہر گاہ شخصہ سندان جانے آسہ توتہ ماہچھ تمس خبر سارنے چیزن ہنز کتھ کتھ منز ہچھ تمس نفع تہ فائدہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تین ہچھ اللہ تعالیٰ ان سارنے مفید تہ نافع چیزن ہند علم عطا کورمت۔ بہر حال تہندہ طرفہ ہچھ نفعی نفع۔ لہذا ہچھ تہندی حق پانہ خوتہ تہ زیادے۔ تمی موکھ گوہن تے زیادہ ٹاٹھ آسن قبیلہ کرانہ خوتہ ماس ماجہ ہندہ خوتہ بلکہ پندہ پانہ خوتہ تہ۔  
وَأَزْوَاجَهُمْ تہند ازواج طاہرات ہچھ بالایمان ہنزہ والدہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہند معنوی بابہ صاب آسن ہچھ لازم کہ تہند ازواج طاہرات گوہن آسنہ بالایمان ہنزہ معنوی والدہ وجوب <sup>نظم</sup> اندر وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ بیہ چھ بالایمان ہند قریبی رشتہ دار اڈاؤین زیادہ حقدار وراثتس اندر فِي كِتَابِ اللَّهِ خدایہ سزہ کتابہ اندر یعنی تہندہ شرعی حکمہ موجب مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ بالایمانو خوتہ بیہ مہاجر و خوتہ إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا مگرے تہ پندہ نین دوستن نسبت کانہہ احسانہ کرو تہ ہچھ کانہہ حرج یعنی بخشائیشہ پانٹھیہ وصیتہ پانٹھے دیو کینہہ چیزہ تین كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا یوہے حکم ہچھ لوح محفوظس اندر لیکنہ آمت یعنی وراثت ہچھ رشتہ دارنے اندر جاری کرین وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ

لَيَسْئَلُ الصِّدِّيقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ۝  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ

وَمِنْ ثَمُودَ إِذْ سَأَلُوا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَآخَذُتَاهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا  
بیہ ہجھ سہ وقت قابل ذکر  
یلہ اسہ روٹ عہد پیغمبران نشہ خاص کرت تو بہ نشہ یار رسول اللہ۔ بیہ نوح علیہ السلام نشہ بیہ ابراہیم  
علیہ السلام بیہ موسیٰ علیہ السلام بیہ عیسیٰ علیہ السلام بس مریم علیہا السلام سند فرزند چھہ۔  
بتھہ کتھہ پیٹھہ کہ بندگی کرو خدایہ سنز۔ بیہ دیولوکن تہ ناد تہنزی بندگی تہ عبادتس کن۔ یوہے عہد روٹ  
آسہ تمن نشہ مضبوط عہدہہ لَيَسْئَلُ الصِّدِّيقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا بتھہ اللہ  
تعالیٰ تحقیقات کرہ قیامت دوہ پزیراین نشہ یعنی پیغمبران نشہ تہنہہ پز یوک یمہ سیت تہند شرف ظاہر  
سپدہ بیہ سپدہ حجت تہ دلیل قایم منکرن پیٹھہ امی اندرہ سپد ثابت صاحب و حیس پیٹھہ ہجھہ واجب  
و حیس اتباع کرن۔ صاحب و حیس و رای یم چھہ تمن پیٹھہ چھہ واجب صاحب وحی سند اتباع تہ پیروی  
کرن۔ بیہ چھہ اللہ تعالیٰ ان کافرن تہ مکرن ہندہ خاطرہ تیار تھوومت دگ تہ دود تملہ ون عذاب امہ پتہ  
چھہ اللہ تعالیٰ فرماوان اکھ واقعاہ سہ گوویوہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمو کور قبیلہ بنی  
نضیرک بیہ مدینہ شریفہ نشہ جلاوطن۔ تمن سپد حکم مدینہ شریفہ منزہ نیرنگ۔ توپتہ سونہہ راہ تمو  
عربک مختلف قبیلہ قریب دہاہ ساس لوکھ مدینہ شریفہ پیٹھہ حملہ کرنہ خاطرہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ  
وسلمو کور حکم کہ مدینہ شریفہ انداند کھنو خندق۔ تمن ہندس کھنہ نس اندر بنفس نفیس تمو پانہ تہ کام  
کر۔ میہ سارک بکنہ پھڑاوک اکس رتیس تان رود تم مدینہ شریفہ محاصرہ کر تھہ۔ تھہ منز آس کتہ کتہ  
جایہ دورہ دورہ لڑائے تہ سپدان بالآخر کر اللہ تعالیٰ ان مسلمان یاری۔ ظاہر پاٹھہ سپد اکھ تیز ہوا تم  
کافرن ہند خیمہ دیر تھہ دت۔ خیمس ہنزہ رزہ ژچن باطنہ پاٹھہ سوزن ملاکن ہنز لشکر تمو کافرن چھلہ  
چھا نگر کر۔ تم پوش نہ ژلہ نس۔ تمو کھیو بالکل شکست۔ بتھہ جنگس چھہ ونان جنگ احزاب۔ بحیازہ  
مختلف قبیلہ آس آمت جنگ کرنہ بیہ چھس ونان جنگ خندق بحیازہ ہمشورہ حضرت سلمان فارسی  
آی بجکم حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریفہ انداند خندق کھنہ نہ۔ امہ جنگ نشہ فارغ  
سپت سپد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیہ دون ہندس قبیلس بنی قریظس سیت جنگ کرنس کن متوجہ۔  
کیازہ تمو اوس خلاف معاہدہ بنی نضیران مدینہ شریفہ محاصرہ کرنس اندر مددگور مت یَا أَيُّهَا الَّذِينَ

فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا أَلَم تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ  
بَصِيرًا ۙ اِذْ جَاءَ وَكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ  
زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ  
الظُّنُونَ ۙ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ۙ  
وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا  
اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا ۙ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا هَلْ

الْمَوَادُّ لَوْ رَأَيْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَ كُمْ جُنُودًا فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا أَلَم تَرَوْهَا اے باایمانو! تیس  
پاؤ اللہ تعالیٰ سز سونعت یوسہ تم توہمہ عطا کر۔ یہ سائتہ توہمہ پیٹھ دشمن ہندواریاہ فوج آئے حملہ کرنہ  
خاطرہ۔ پس سوزاسہ تمن پیٹھ تیز واؤ بیہ سہہ فوج ملاکن ہندئس نہ توہمہ بوزنہ اوس یوان وَكَانَ اللَّهُ  
بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا اللہ تعالیٰ اوس تہمد تم ساری تدبیر وچھان یم تہہ تمہ سائتہ کران آسوہ خندق  
کھن ہیوسیہ ثابت تہ مضبوط روزن کافرن ہندہ مقابلہ خاطرہ تہ وجہتہ اوس اللہ تعالیٰ خوش گڑھان توہمہ  
پیٹھ راضی سپدان تہ توہمہ مدد کران یہ واقعہ سپد تمہ سائتہ اِذْ جَاءَ وَكُم مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ  
مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ دشمن آئی توہمہ پیٹھ  
حملہ کرنہ توہمہ پیٹھ کن تہ یعنی میدا نکہ ہیر مہ طرفہ توہمہ بون کن تہ۔ یہی یلہ خوفہ سبہہ تہمزہ اچھہ درہ لبہ  
دشمن کن بیہ آسوہ وانجہ واژ مژہ ہیرین پیٹھ بیہ آسوہ تہہ خدائس متعلق عجیب عجیب مختلف خیال کران  
هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا ائی وقتہ آئیہ آزمائش کرنہ باایمان۔ بیہ آئی تم دنہ ونہ  
دنہ دناہ سیٹھہ سخت وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا  
بیہ یہہ سائتہ ونہہ لگ منافق۔ بیہ یمن لوکن ہندین دن منرفاق تہ شج بیاری اس اسمہ سیت ئس وعداہ  
خدائس تہ تہمد بیہرن کورمت اوس سہ اوس نہ مگر دھوکہ تہ فریب وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا هَلْ  
يَأْتِيكُم مَّقَامِكُمْ فَادْجِعُوا بیہ یلہ تہمزی اکھ منافقن ہنز جماعت ونہہ لج ای مدینہ کیولو کو توہمہ ہیوکو نہ





ارَادِكُمْ سُوءًا وَاَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَّلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ  
 اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيرًا ﴿۱۷﴾ قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِينَ مِّنْكُمْ وَّالْقَائِلِينَ  
 لِإِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿۱۸﴾ أَشْحٰةٌ  
 عَلَيْكُمْ ۖ فَاِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدْوُرًا  
 اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ۖ فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ  
 سَلَقُوكُمْ بِالسِّنَةِ جَدًا ۗ اَشْحٰةٌ عَلٰى الْخَيْرِ ۗ اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا

ارَادِكُمْ سُوءًا وَاَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً فرماو پوکھ تہہ یار رسول اللہ اے لو کو تمہے اکھاہ ہیجہ توبہ بجاوت خدائس  
 نغمہ ہر گاہ سہہ تہمدہ خاطرہ ہر شہہ کانہہ سختی یا تمہے اکھاہ ہیجہ تہہ سختی واند تاوتھ ہر گاہ خدا یہ سندا ارادہ آسہ  
 توبہ نسبت تہہ مہربانی ہند وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِّنْ دُونِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيرًا لہن نہ تم پندہ خاطرہ  
 خدائس ورائے کانہہ دوستس نہ کانہہ مددگار س قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِينَ مِّنْكُمْ وَّالْقَائِلِينَ لِإِخْوَانِهِمْ  
 هَلُمَّ إِلَيْنَا وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسَ إِلَّا قَلِيلًا اللہ تعالیٰ لچھہ توبہ منرہ تمن منافقن پور زماناں تم بین  
 لوکن چھہ جہادس منز شامل سپد نہ نغمہ پتھ رٹان بیہ ہم پندہ نین بائن ونان چھہ آسہ نغمہ ابو جہادس منہ  
 سپد و شامل تم چھہ تیت بزدل کہ پانہہ تہ چھہ لڑایہ منز شامل سپدان مگر کی۔ تھہ منز تہ چھہ نہ آسان  
 نیت صاف اَشْحٰةٌ عَلَيْكُمْ بخیل چھہ تم تہندہ حٹھہ حتمہ شمولیت اندرہ چھو جہند غرض آسان کہ  
 مسلمان گوڑہ نہ پورہ حصہ مال غنیمتک ترن۔ اس تہ روز و بل برائے نام شامل بیتھہ اس تہ پتولا کہ مال غنیمتہ  
 حصک حق دارینو فَاِذَا جَاءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ تَدْوُرًا اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِي يُغْشَىٰ عَلَيْهِ  
 مِنَ الْمَوْتِ ادہ یلہ خوفک وقت و اتان چھہ تمہ ساتہ چھو کہ تہہ و چھان تم توبہ کن ار زمان پاٹھ نظرہ  
 دو ان۔ اچھہ تہنرہ چھہ نژان آسان۔ تس شخصہ سند پاٹھ لیس مر س زھٹھہ پھیر مژ آسہ فَاِذَا ذَهَبَ  
 الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِالسِّنَةِ جَدًا ۗ اَشْحٰةٌ عَلٰى الْخَيْرِ ادہ یلہ خوف تہ خطرہ ژلان چھہ تمہ ساتہ چھہ تم  
 توبہ تیز زیوہ سیت ایڈ او ان یعنی بچھہ تھہ ونان سیٹھاہ حریص چھہ تم مال غنیمت حاصل کرہ لیس پیٹھ

فَأَحْبَطَ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ۝۱۹ يَحْسِبُونَ  
 الْأَحْزَابَ لَمْ يُدْهِبُوا وَإِن يَأْتِ الْأَحْزَابُ يَوَدُّوهُمُ وَإِنَّهُمْ  
 بَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أُنْبِيَائِهِمْ وَكُنُوا فِيكُمْ مَا  
 قُتِلُوا إِلَّا قَلِيلًا ۝۲۰ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  
 لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهُ كَثِيرًا ۝۲۱ وَلَتَأْتِيَنَّ  
 الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ

توہم سیت چھکھہ یہ معاملہ خدا پس سیت چھہ تہند معاملہ کہ اولیک لہ یومیئوفا حبط اللہ اعمالہم  
 وکان ذلک علی اللہ یسیرا یم گے تہ سموہتھنہ گوڈہ پیٹھے ایمان اومت خدا پس۔ تمہ موکھہ چھہ کر مڑہ  
 اللہ تعالیٰ ان تہنزہ سارے عملہ بے کار تمن ہند ثواب تمن عنہ قسمہ آخرتس منز حاصل سپدنہ۔ یہ تھہ  
 چھہ اللہ تعالیٰ اس نش آسان یعنی تہنزہ عملہ بیکار کرنہ۔ تہنزہ ہ بزولی ہنز حالتھ چھہ اڑھہ کہ یحسبون  
 الاحزاب لہم یدھبوا تمن چھہ گمانہ کہ دشمن ہنزہ لشکرہ چھہ ونہ واپس گامڑہ۔ حالانکہ تمو چھہ ہن  
 محاصرہ تہ گھیرہ تھمت وان یأتی الاحزاب یوڈو والو انھم بادون فی الاعراب یسألون عن انبیائکم  
 وکونوا فیکم ما قتلوا الا قلیلا ہر گاہہ ہ دوبارہ دشمن ہنزہ لشکرہ واپس ین تم کرن پنہ خاطرہ پسند  
 کہ گان اندر روز تھ آس کران تہند حالات بین لوکن نفسہ دریافت، غالب تھہ گوو تہ مغلوب تھہ  
 گووپانہ سپدنہ ہن نہ جھہ کین مشکلاتن شامل ہر گاہہ بالفرض توہہ سیت جنگس شامل تہ روزن توتہ کرن نہ  
 دشمن ہند مقابلہ مگر کمی۔ بل ہاونہ خاطرہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لیمن کان  
 یرجو اللہ والیوم الآخر و ذکر اللہ کثیرا واقعی چھہ تہندہ خاطرہ ای مسلمانو پیغمبر خدا جنگس اندر  
 ثابت قدمی خاطرہ اکھ عمدہ نموناہ اکھ۔ توہہ اندرہ تمن لوکن ہندہ خاطرہ یم امید چھہ تھوان خدا پس  
 سیت ملاقات کرنچ۔ بیہ یم امید چھہ تھوان آخرتس اندرہ بڈہ ثوابچ، بیہ خدایہ سند یاد چھہ کران  
 سیٹھہ زیادہ تمن لوکن یزہ کہ ریتھہ معاملس اندر حرکت و سکونس نشست و برخواس اندر ہمت و

وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا ۝۲۷  
 مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَبِمِهِمْ  
 مِنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا بَدِيلًا ۝۲۸ لِيَجْزِيَ  
 اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ  
 يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۲۹ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ ۝

استقلال اندر کجی تم جہدی قدمہ جہدی متابعتہ وکثارا المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا  
 الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ايمانا وتسليما بايمان كامل وجهه دشمن  
 ہنزہ واریاہ لشکرہ حملہ کرتھ یوان فہنہ لگیوہے چھ سہ موقعہ سمیک وعدہ اسہ تہوومت اوس خدائن  
 نہ جہد پیغمبرن پوزاوس فر موومت خدائن نہ جہد پیغمبرن۔ یہ موقعہ پیش ینہ سیت ہر یونہ تم نگر تہند  
 ایمان نہ تہنزہ فرمانبرداری ہند جذبہ یہ وصف اوس سارنے بایمان اندر مشترک بعضی اوصاف آس  
 بعضی بایمان اندر مخصوص تمن متعلق چھ فرماوان اللہ تعالیٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا  
 مَا عَاهَدُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ تَموے بایمانواندرہ چھہ بعضی تم سمو پورہ کورسہ وعدہ جان ثاری ہندی نیس  
 تہمو کورمت اوس خدایس سیت فَبِمِهِمْ مِنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا بَدِيلًا چنانچہ تہمو  
 اندرہ کرہ بعضی پورہ ہن ذمہ واری یعنی شہید سپد جنگ کران۔ بیہ چھ تہمو اندرہ یم تہمہ کس انتظار س  
 اندرہ چھہ کہ کروا تہ اسہ نہ امہ شہادیکہ سعادت تک موقعہ۔ تہمو کورنہ تبدیل پنہ نس معاہد س اندر اکھ ذرہ  
 تہ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ یہ واقعہ سپد سمہ تہمہ موکھ یتھ اللہ تعالیٰ پزیرا س پزیرج مزوردیہ  
 وَيُعَذِّبَ الْمُنْفِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ بیہ یتھ عذاب کرہ اللہ تعالیٰ تمن منافقن ہر گاہ سہ  
 یزھہ نہ دیہ تمن توبہ کر ٹگ توفیق إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھہ ہمیشہ سیٹھاہ  
 مغفرت کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون تہمند تمن نشہ توبہ قبول کرن چھنہ کینہہ بعید تہ دور وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ

وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا ﴿۲۵﴾ وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ  
الْكِتَابِ مِنْ صِيَابِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا  
تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا ﴿۲۶﴾ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَ  
أَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطُوهَا وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿۲۷﴾  
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا  
وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمْتِعْكَنَّ وَأَسْرِحْ لَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴿۲۸﴾

كَلِمَاتٍ لِيُظَاهَرَهُمْ لَمْ يَتَّوَلَّوْا أَحَدًا وَاللَّهُ تَعَالَىٰ أُنَازِلُ مَا يَشَاءُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا  
تمن پیوند پله کہنی۔ تم یہ مقصدہ امت آس سہ مقصد سپد کہ نہ پورہ شک شریک پنہ نین کاڈین۔  
وَكَفَىٰ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ سَدَ كَافِي اتَّه جَسَسَ اَنَدَر بَا اِيْمَانِ تَمَن پِيَه نَه جَنگ كَرَج  
ضرورت تھے۔ جنگ نہ کرنے کو را اللہ تعالیٰ ان کا فرن ہند شردنق وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا اللہ تعالیٰ چھہ  
ہمیشہ سیٹھاہ قوتہ وول سیٹھاہ غالب تس نشہ جھنہ کا فرن امہ طریقہ شکست دین کہنہہ عجائب تہ نوکٹھاہ  
وَأَنْزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ صِيَابِهِمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيقًا تَقْتُلُونَ  
وَتَأْسِرُونَ فَرِيقًا بیہ سمو اهل کتابو یعنی یہود و سمو بد عہد۔ بحر تھہ کا فرن مدد دستمت اوس تم وال اللہ  
تعالیٰ ان بیہ پنہ نیو قلا یو اندرہ بون۔ یمن منز تم محصور اس۔ بیہ تروان تہندین دلن اندر سخت رعب تہ  
ہبت توبہ مسلمان ہند چنانچہ تمواندرہ مارو کہ توبہ بعضی لو کہ بعضی کرو کہ گرفتار وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ  
وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَمْ تَطُوهَا بیہ کردہ تہہ وارث تہ مالک اللہ تعالیٰ ان تہندین زمین ہند  
تہندین گرن ہند۔ تہندین ماکن ہند بیہ تمہہ زمینک یپارنہ تہہہ پحمت تہ آسوہ زانہہ یعنی زمین خبیرک  
وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا اللہ جھہ ہمیشہ پرستہ چیزس پیٹھہ قدرتہ وول۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ  
لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُمْ تُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمْتِعْكَنَّ وَأَسْرِحْ لَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ای  
ہنیمبر بر حق تہہہ فرماو وحض پنہ نین زنانن ہر گاہ تہہہ ژھانڈان جھوہ دنیاہ ج زندگی بیہ تمہہ زندگی ہند

وَأَنَّ كُنْتُمْ تَرُدُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آخَرْتُمْ فَإِنَّ  
 اللَّهَ آعَدَ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿۳۹﴾ يٰنِسَاءَ  
 النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفْ  
 لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ۗ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ﴿۴۰﴾  
 وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا  
 نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴿۴۱﴾ يٰنِسَاءَ

سازو سامان تلہ یکومہ نشہ بیوہ کرہ توبہ دنیاء ک مال و متاع عطا کر تھ رخصت رہتہ طریقہ۔ طلاق و مووہ  
 تہہ بیتہ نس خوش کردہ تہہ نس گڑھتھ کردہ تہہ حاصل دنیاء ک سازو سامان۔ وَأَنَّ كُنْتُمْ تَرُدُّونَ اللَّهَ  
 وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آخَرْتُمْ فَإِنَّ اللَّهَ آعَدَ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُمْ أَجْرًا عَظِيمًا تہہ چھوہ تہہ ژہانڈان  
 خدانہ تہہ رسول یعنی یعنی موجودہ حالتہ پیٹھ کردہ تہہ قناعت بیہ کرو اختیار عالم آخرت یعنی جنک  
 تھو دور جہ یم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سند حرم محترم آسنہ موکھ تہہ خاطرہ مقرر کرنہ آمت چھہ  
 نس یوسہ توبہ اندر نیکو کار آسہ تمسندہ خاطرہ چھہ اللہ تعالیٰ ان تید تھو مژ بڈ مژور۔ اوتان لوس نبی کریم ﷺ  
 سندہ طرفہ حکم خدا الزواج طاہراتن کن خطاب آسہ پتہ چھہ اللہ تعالیٰ فرماوان تہن ازواج طاہراتن یٰنِسَاءَ  
 النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى  
 اللَّهِ يَسِيرًا ای بڈس پیغمبرہ سزورہ باژوتہ زانو یوسہ اکھاہ توبہ اندرہ کانہہ بے ہودہ کاماہ کرہ یعنی  
 تہہ معاملہ کرہ یمہ سیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل تنگ تہہ پریشان گڑھن تہہ یمہ آخر تہہ اندر  
 دو گن عذاب کرنہ تہہ چھہ اللہ تعالیٰ اس آسان۔ تہہ یمہ نہ تہہ نشہ کانہہ چیز پتہ رتھہ وَمَنْ يَقْنُتْ  
 مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا بیہ یوسہ  
 اکھاہ توبہ اندرہ فرماوان برداری کرہ خدایہ سزوبیہ سندس پیغمبرہ سزوبیہ کرہ ژ عمل تہہ و مواس مزور تہہ  
 دو گن بیہ چھہ آسہ سندہ خاطرہ عزتک روزی تید تھوومت یٰنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ اِن

النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ  
 بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿۳۳﴾  
 وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى  
 وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
 إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ  
 وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿۳۴﴾ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ

اتَّقِيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا  
 سنز و زانو ٹہہ چھو نہ عام زانو اندرہ کانہہ زنانہ ہشہ بلکہ چھہ تہمد مرتبہ سینہا تھو ہر گاہ ٹہہ پر ہیز گاری  
 اختیار کرو۔ پس گروہن نہ تہمزہ دو پر مردن سیت نرم ترایہ نزاکتہ سان تھہ کرنہ۔ یلہ تھہ کرنج  
 ضرورت پیہ۔ ہتھنہ سہ شخص نس دلس منز پیچھ خیالن ہنز ہمارے آسہ توه نسبت پیچھ خیالنج خواہش  
 کرہ۔ بیہ آسوتھہ کران عام دستورہ مطابق۔ اشاروتہ کنائو ورائے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ  
 تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى بیہ کروٹہہ قرار پنہ نین گرن اندر۔ بیہ مہ آسو برو تھم پائٹھ وہر مردن زینت  
 ہاندہ خاطرہ شیرت پیرت گرومنزہ ہیر نیران۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ  
 وَرَسُولَهُ بیہ آسوسارے نمازہ برپا تھوان بیہ آسوزکوتہ او اکران۔ کیازہ ہم دوشوے ہجہ اسلامک بد نشانہ بیہ  
 کرو فرمانبرداری خدایہ سنز بیہ تہمدس پیغمبرہ سنز۔ تہمد ساری احکام آسوجانان ایم احکام بجانہ نس اندر ہجھہ  
 تہمدوی فاندہ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ایم  
 احکام بیان کرنہ اندرہ ہجھہ اللہ تعالیٰ سند ارادہ کینہہ تہ مگر توبہہ نفعہ گنہن ہنز کشافت دور کرن ای پیغمبرہ  
 سند یو گروہ والیوبیہ چھہ سہ یرشان توبہہ پاک و پاکیزہ کرن وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ  
 اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ بیہ کرو یاد خدایہ سند تم آیات ایم پر نہ یوان چھہ تہمدین گرن اندر بیہ تہ عقلہ ہنزہ  
 تھہ میہ بیان کرنہ چھہ یوان یعنی احکام خداوندی۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا تہ تھاوو خیال کہ

مِنْ آيَةِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴿۳۳﴾  
 إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  
 وَالْقَنِينَ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ  
 وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَ  
 الْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ  
 فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَ  
 الذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿۳۵﴾

پڑھا اللہ تعالیٰ چھ رازدان تسبھہ سارچی پور خبر، لہذا آگھہ ظاہر اوباطنا تمسندین حکمن ہند تعمیل کرن بیہ  
 گھہ تمسند یومنون چیز ونشہ پتھ روزن إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  
 وَالْقَنِينَ وَالْقَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ  
 وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ  
 وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَ الذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا بیشک مسلمان  
 مرد و مسلمان زنانہ ایماندار مرد بیہ ایماندار زنانہ بیہ پزیرا مرد و بیہ ہزیراہ زنانہ بیہ صبر کرہ و ن مرد و  
 صبر کرہ و نہ زنانہ۔ بیہ خشوع و خضوع کرہ و ن مرد و بیہ خشوع و خضوع کرہ و نہ زنانہ، بیہ خیرات و  
 صدقات کرہ و ن مرد و خیرات و صدقات کرہ و نہ زنانہ، روزہ دار روزہ و ن مرد و روزہ دار، روزہ و نہ  
 زنانہ۔ بیہ پنہ نین سترہ چن جاین راجھہ کرہ و ن مرد و نہ زنانہ، بیہ سیٹھاہ یاد خدا کرہ و ن مرد و سیٹھاہ یاد  
 خدا کرہ و نہ زنانہ، یکن سارنہ ہندہ خاطرہ پتھ اللہ تعالیٰ اَن یوؤ مغفرت تہ بڈمزور تیار تھامر۔ وَكَمَا  
 كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ بیہ چھنہ کانہ  
 ایماندار مرد و نہ کانہہ ایمان دار زنانہ گنجائش یمہ کتھہ ہنز کہ یلہ خدا یکن بیہ کتھہ پیغمبرن کانہہ کھماہ



وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ  
يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ  
ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴿۳۳﴾ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ  
عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ  
مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا

جاری کور۔ اده کیاہ آسہ ہائس مردس یازنانہ اختیار تہہ خمس اندر پندہ عنہ حکمہ سیت مداخلت کرنج یعنی  
برابری زانہ ہن تہہ خمس تعمیل کرنہ تہ نہ کرن - بلکہ چہہ تمن واجب تہہ خمس تعمیل کرن و من  
یَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا نُس اکھاہ نافرمانی کرہ خدا یہ سندس پیغمبرہ سد عنہ خمس  
پز پانھ سہ پیوونہ گمر ای اندر۔ یتہ نس چہہ لفظ مؤمن کس عمومس اندر حضرت عبداللہ بن تحش بیہ لفظ  
مؤمنہ کس عمومس اندر حضرت زینب بنت تحش داخل بیہ امر ہم کس عمومس اندر حضرت زید بن  
حارثہ سیت نکاح کرن داخل۔ چنانچہ یم آیہ کریمہ نازل سپندہ پتہ سپد یہ نکاح منظور وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي  
أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ بیہ یادوژ تمیس یلہ تہہ ای پیغمبر برحق بطور  
مشورہ دنان آسوہ نس شخصس بس پیٹھ اللہ تعالیٰ ان مہربانی تہ انعام کور کہ مشرف باسلام کرون یوسہ  
دینی نعمت چھہ ، غلامی نشہ مولوون یوسہ دنیوی نعمت چھہ بیہ نس پیٹھ توبہ تہ مہربانی تہ انعام کور وہ کہ  
توبہ کورون سہ آزاد بیہ کروس دینج تعلیم بیہ کوروس پندہ پو پھترہ ہمیشرس سیت نکاح امہ اندرہ چھہ  
مراد حضرت زید بن حارثہ تہہ آسوہ نس فرماوان ای زید بن آشین (یعنی بی بی زینب) ارٹن پانس نشہ  
پندہ نس نکاحس اندر سومہ تراون نکاحہ اندرہ معمولی غلطیوسبہ۔ تمسرن غلطین گن مہ آس و چھان بیہ  
کھوژ خدا یس تمسدرین حقوقن اندر مہ کمر و کوتاہی تہ کمی وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ بیہ یادو تہہ تہ  
ژتیس سوکھ یوسہ تہہ آسوہ یار رسول اللہ پندہ نی پانس منز پوشیدہ تھاوان۔ تہہ آخر کار اللہ تعالیٰ نتر اوہ ون  
اوس یعنی توبہ آس خاھش دل مبارکس کہ ہر گاہ حضرت زید بن حارثہ ہلجوز زینبس طلاق دیہ تملیہ کرہ  
بوپانہ تمن سیت نکاح وَتُخْفِي النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ تہہ آسوہ نہ سہ خیال نتر اوان لوکن ہنزہ

قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَ لِلْكِ لَا يَكُونُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ  
 حَرْجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا اقْتَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ  
 اللَّهِ مَفْعُولًا ﴿۳۳﴾ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرْجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ  
 سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا ﴿۳۴﴾  
 لِلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا

طعنہ زنی سببہ۔ تمہہ آسوہ لوکن ہنزہہ طعنہ زنی کھوڑان۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ اوس زیادہ سزاوار کہ تمہہ کھوڑ  
 ہوتس۔ چونکہ تمہہ معاملس اندراس فی الواقع اکھ دینی مصلحتھاہ۔ لہذا تمہہ کرو تمہہ کانہہ اندیشہ لوکن ہنزہہ  
 طعنہ زنی ہند فلما قضى زيد منہا وطرًا زووجناکھا لکی لا یكون علی المؤمنین حرج فی ازواج ادعیائہم  
 إذا اقتضوا منہن وطرًا ادیہ یلہ زید بن حارث بن پور کور پن مقصد تہ تم دیت بی بی زینبس طلاق تسمیگ  
 سہ بروئٹھ پیٹھ خواہش مند اوس تو پتہ مؤکلہ یہ تمس پور عدت آسہ کور نکاح تو بہہ یار رسول اللہ صلی اللہ  
 علیہ وسلم تس بی بی زینبس سیت یوہے گوونکاح آسانی یٹھنہ امہ سیت آندہہ بالیمان کانہہ حرج واقع  
 سپدہ پنہ نین منگن ہنز ن زنان سیت نکاح کرنس اندر یلہ تم مکتہ تہ تمس نشہ پن مقصد پورہ آسن  
 کران۔ وکان امر اللہ مفعولاً خدایہ سند حکم اوس بہر حال پورہ سپدہ ون تھہ پٹھہ پائٹھہ گڑھہ ہابدل  
 ماکان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ سنۃ اللہ فی الذین خلوا من قبل کانہہ حرج تہ الزام اوسنہ  
 تمس پیغمبر برحقس سو کام کرنس اندر یوسہ مقرر آس کر مرہ تہندہ حقہ اللہ تعالیٰ ان خدایہ سند چھہ  
 یوہے دستور رودمت تمس پیغمبرن اندر یم بروئٹھ گذرے مت چھہ۔ کہ تمن یمہ کامہ ہند حکم آو کرنہ  
 سوہ کام آس تم کران کانہہ ہندہ طعنہ زنی ہند خوف کرنہ ورائے۔ تھہ پائٹھہ چھہ تمس پیغمبر برحقہ سند  
 شان تہ وکان امر اللہ قدا مقدرًا خدایہ سندین یمن پیغمبرن ہنزہہ امہ قسچہ یم کام آس تمس سارنہ  
 کابین اندر تہ اوس خدایہ سند حکم بروئٹھ پیٹھہ مقرر کرنہ امت لِلَّذِينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ  
 یم ساری گزشتہ پیغمبر آس تہ یم زن پرورد گارہ سند احکامات آس لکن واتہ

اللَّهُ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ۝ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ  
 وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ  
 عَلِيمًا ۝ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۝ وَ  
 سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝ هُوَ الَّذِي يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ

تاوان۔ بیہ اس عند وقتہ تبلیغ قوی خیرہ مامور سپدان۔ تمہ ساتھ آس تبلیغ قوی کران۔ یہ ساتھ تبلیغ  
 فعلی خیرہ مامور سپدان آس تمہ ساتھ آس فعلی تبلیغ کران۔ پیش سے سپد لہم نبی کریم کے بروٹھم  
 اکھ بے دلیل رسما پھر اوٹھی پتہ فعلہ سیتے سے گو کہ معہ پنجوے سزہ زمانہ سیتے کروٹھے عملاً نکاح تمی  
 سیتے پھٹے یہ اکھ جاہلیتک بے دلیل رسما وَيَحْشُونَكَ وَلَا يُحِثُّونَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ تم پیغمبر آس  
 اللہ تعالیٰ اس کھوڑان بیہ آس نہ کانہ کھوڑان اللہ تعالیٰ آس ورائے تہندہ مزید تسلی  
 خاطرہ آس ونان وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا اللہ تعالیٰ ای چھ اعمالن حساب ہینہ خاطرہ بس۔ وون کیاہ  
 چھہ بیہ کانہ کھوڑان توہہ ہم لو کہ تعیل احکام خداوندی کرنس پیٹھ طعنہ زنی کرن تمن سے کرہ اللہ تعالیٰ  
 عذابس گرفتار۔ لہذا مہ سپد وٹھہ نمگین سے پریشان مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ  
 وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا حضرت محمد ﷺ چھونہ توہہ مردواندرہ کانہ آسند بابہ  
 صاب۔ زید بن حارثہ سندے تھہ پاٹھے آسہ ہن پیغمبرہ سندہ روحانی مُرتی آسندہ موکھ چھہ تم توہہ سارنی  
 ہندے روحانی بابہ صاب اتھ روحانیتس منز چھہ تمن کمالک درجہ حاصل کیاہہ تم چھہ  
 سارنے پیغمبرن ختم کرہ ون۔ یعنی سلسلہ نبوتس آسہ تہندہ سیتے مہر کرنہ ون یہیچہ نہ آسندہ تمن پتہ  
 کانہہ پیغمبریتھ۔ حضرت عیسیٰ یہ آخر زمانس اندر حیثیت اکھ انبیاء، بحیثیت پیغمبر یہ نہ۔ اللہ تعالیٰ چھہ  
 پریتھ چیز کہ عدم وجودچ مصلحت پورہ زانہ ون۔ یہ معاملہ کہ وجودچ سے صحیح آس تس خبرے تمی  
 آویہ معاملہ وجودس اندر بی بی زبجہ سند نکاح سپد با حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
 آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا اے ایمانواکھ کرو خدا یہ سندین عام احسانا تن ہندیادیہ بڈہ احسانچ شکر  
 گذاری سے گو ووجود مبارک حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہ احسانک سے کرو شکر ادا خدا یہ

لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا ﴿۲۲﴾  
 تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ ۗ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا ﴿۲۳﴾ يَا أَيُّهَا  
 النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ﴿۲۴﴾ وَذَاعِبًا إِلَى  
 اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا ﴿۲۵﴾ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّن

سند کرو بکثرت یاد تمسندین سارنے احکامن کرو تعمیل۔ وَسَيُحَوُّهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا بیہ آسوپاکی تہند  
 کران یاد صبحس تہ شامس تہ یعنی ہمیشہ دلہ سیت تہ زیوہ سیتہ تہ بدنہ سیتہ تہ ہوا لذنی یصل علیکم  
 وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا سہ پروردگار چھہ بیٹھہ رحیم نُس  
 توہہ پیٹھہ رحمت چھہ سوزان پانہ تہ بیہ تہندہ حکمہ تہند ملایک تہ بیٹھہ توہہ امہہ رحمتہہ برکتہ کڈہ وہ  
 جہالت و ضلالتہ کیونکو منزہ علم و ہدایہ کس گاش کن امہ اندرہ سپد ثابت کہ سہ پروردگار چھہ ہمیشہ ایمان  
 دارن ہندہ حقہ رحمتہ و ول دنیاء س اندر۔ آخرتس اندر تہ آسہ تہمز رحمت تمن شامل۔ چنانچہ  
 تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ تعظیم و تکریم تہند آسہ تمہہ دوہہ بیہ دوہہ تم تس سیت ملاقات کرن۔  
 سلامتی سان سلام تی گوو سلام قولاً من رب رحیم، حدیث شریفس منز چھہ کہ اللہ تعالیٰ فرماو جتین  
 السلام علیکم یا اہل الجنة۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا بیہ چھہ تے تیار تھا و مژ عن تج مزور تہندہ خاطرہ  
 جتس منز یَا أَيُّهَا النَّبِيُّ ای بڈہ پیغمبر تہہ مہ حض سپد ول آزرده معمولی کنیون لوگن ہند یو طعنو سیت  
 اگر یمن بے و قوفن تہند تھو در تہہ در بیٹھہ چھند یوان، متہ ای تھکھ، با ایمان بیہ رحمہ تہ مہر بانیہ آسہ  
 عطا کرہ یمن ہند واسطہ چھوہ تہہ تہندین مخالفن بیہ سزا ونہ تہندس بیانس پیٹھہ توہہ نش بیہ نہ تمیگ  
 ثبوت مٹھہ کینہہ تہ۔ ای سیت سپد ثابت کہ تہہ کہہ درجہ چھوہ آسہ نشہ مقبول تہ محبوب إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ  
 بے شک آسہ ہز سوزو تہہ بیہ تھدہ شانک پیغمبرہ کہ تہہ آسو قیامتک دوہ شہاداً اُمتہ خاطرہ پانہ  
 سرکاری گواہ تہندی بیانہ موجب بیہ تہند فیصلہ کرنہ۔ وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا تھی چھوہ با ایمان بشارت تہ  
 خوش خبری دوہون بیہ کافرن بیم کرہون وَذَاعِبًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا بیہ سوزے وہ آسہ

اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ﴿۳۷﴾ وَلَا تَطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعَاؤُهُمْ  
 وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا ﴿۳۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا  
 نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ  
 فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمِئَعُوهُنَّ  
 وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً ﴿۳۹﴾ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا

تہم لو کن نادودہ و نے معبود برحقس کن تہدی لحمہ یہ بشارت تہ بیم کرن تہ دعوت دنے چھہ بواسطہ  
 تبلیغ۔ مگر بذات خود چھوہ تہمہ کمالات تہ تھد یو صفو عادات تہ عبادات کئے از سر تا پا ہدایتک نمونہ آسئس  
 اندر اکھ نیہ نہ کرہ دن تہ پر یزلہ ون ژونگاہ لہذا ترا او تہ ساری غم تہمہ روزو مشغول پنے کامہ سیت سوگیہ  
 بیہ کہ وَبِئْسَ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا ونو خوشخبری ایماندارن کہ تہمہ خاطرہ چھہ  
 پروردگارہ سیدہ طرفہ تمن پیٹھہ بوڈ فضل سپدہ ون تھہ پاٹھہ روزو تہمہ بیم کران کافر تہ مناقشہ بدہ  
 عذابک وَلَا تَطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَدَعَاؤُهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا بیہ مانو کافر ن  
 تہ مناقشہ ہنزہ تھہ بیہ مگر تہمہ تکلیف دنگ کانہہ پروا۔ ہر گاہ امیک خیال دل مبارکس منزیہ  
 اعتماد کرو تہمہ وقتہ معبود برحقس پیٹھہ سہ رچھہ توبہہ پر تھہ ضرر ریشہ بس چھہ اللہ تعالیٰ کار ساز آسئہ کن  
 کافی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ  
 مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا ای با ایمانویلہ تہمہ با ایمان زنان سیت نکاح کرو تو پتہ دیو تمن طلاق تھمہ  
 کرنہ تہ اتھہ لاگنہ یعنی تمن سیتہ ہم بستری کرنہ بروٹھہ ادہ چھنہ توبہہ کانہہ حق تمس عدتس منز  
 تھاو نگ تا کہ گزراو ہو تہمہ تہمہ عدتک دوہ یعنی تمن چھنہ عدتھہ۔ تمن چھنہ پیار نوی۔ تمہہ بیکن فوراً  
 بیس شخصس سیت نکاح کر تھہ فَمِئَعُوهُنَّ وَسِرَّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً پس و اتا و تمن کانہہ  
 فاندہ یعنی تمن دیو کینہہ لباس پوشاک حسب حیثیت۔ کینہہ ہاہ دتھہ کرو تمن رتہ طریقہ روخصتھہ۔  
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي آتَيْتَ أَجْرَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا آفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ

لَكَ أَزْوَاجَكَ الَّتِي أَتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ  
 مِنَّا فَأَنَّ اللَّهَ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ  
 خَالَكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ وَأُمْرَأَةً  
 مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ  
 يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ عَلِمْنَا  
 مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ  
 لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝

اے بڑے پیغمبرہ بیشک اسے کہہ حلال ٹہندہ خاطرہ تہنزه تمہ زمانہ بیمہ ون کینس ٹہندس خدس منز حاضر  
 ہجھ۔ ٹہندس عقدس تل ہجھ سکن توہمہ مہرہ دیت وہ بیمہ تمہ زمانہ یمن ٹہے مالک چھوہ سپد مت ہمملک  
 یمین یعنی کینزہ بیمہ دشمن نشہ مال غنیمتس اندر توہمہ اللہ تعالیٰ ان عطا کرہ مژہ ہجھہ وَبَنَاتِ عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ  
 عَمَّتِكَ وَبَنَاتِ خَالَكَ وَبَنَاتِ خَلَّتِكَ الَّتِي هَاجَرْنَ مَعَكَ بیمہ تہنزه پترہ پینہ، بیمہ پو پھترہ پینہ، بیمہ  
 ماترہ پینہ بیمہ ماسترہ پینہ سیمو خاندانی رشتہ دار زناؤ اندہ ہجھہ حلال توہمہ پیٹھہ تمہ زمانہ سیمو توہمہ سیت  
 ہجرت کر۔ وطن پن تراوتھ آیہ وَأُمْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبْتَ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ  
 يَسْتَنْكِحَهَا بیمہ کراسہ ٹہندہ خاطرہ حلال سو باایمان زمانہ بیمہ پن پان پیغمبرس یعنی توہمہ مہرہ  
 درائے پیش کورتہ بخش۔ ہر گاہ پیغمبرس یعنی ٹہمہ ارادہ کران چھوہ تس زمانہ سیت نکاح کرہ نگ  
 خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ ہم ساری حکم ہجھہ خاص ٹہندہ خاطرہ، باایمان درائے ٹہندہ  
 خاطرہ چھہ بے احکام قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِكَيْلَا يَكُونَ  
 عَلَيْكَ حَرَجٌ تھقین اسہ چھہ معلوم تم احکام ہم اسہ فرض کرے باایمان پیٹھہ زنانہ نہ کینرن ہندہ ہجھہ  
 تہ گووای زہ کہ ثوروزناؤ خونہ زیادہ پھنہ اجازت نکاح کرہ نگ کینزہ ایشہ خوش کرہ نگ تہ ہجھہ توہمہ

تُرْجَىٰ مِنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤَىٰ إِلَيْكَ مِنْ تَشَاءُ وَمِنْ ابْتِغَايَاتِ  
 مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقْرَأَ عَيْنُهَا  
 وَلَا يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا  
 فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا ۝ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ  
 مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ

کنہ قسمہ وقت سپدہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ تعالیٰ چھہ ہمیشہ سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ  
 رحم کرہ ون سہ چھہ پنہہ رحمتہ سیت احکامن منز مناسب سہولت فرماوان تَرْجَىٰ مِنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ  
 وَتُؤَىٰ إِلَيْكَ مِنْ تَشَاءُ سم ازواج طاہرات توہہ نشہ موجود چھہ تمواندرہ چھہ توہہ اختیار تموز منزہ ایٹس  
 کالس توہہ خوش کرہ پانس نشہ دور تھاوان یعنی نوبت تہ وار نہ دن سو بیکیون تہہ دور تھاو تھہ یوسہ تہہ  
 یڑھیون پانس نش تھاوان وار تہ نوبت تس عطا کرنے سو بیکیون تہہ پانس نشہ تھاو تھہ وَمِنْ ابْتِغَايَاتِ  
 وَمِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ بیہ یوسہ تہہ دوبارہ پانس نزدیک آن یڑھیون تموز ناواندرہ تہہ خاص مدتہ  
 خاطرہ الگ آسوکھ تھاومرہ تھہ پیٹہ تہ چھہ توہہ کانہہ گناہ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ تَقْرَأَ عَيْنُهَا وَلَا يَحْزَنَ  
 وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلَّهُنَّ یہ توہہ وارہ تہ نوبتس منز اختیار دیکن چھہ زیادہ نزدیک تہزنن اچھن  
 شہجار واتنہ خاطرہ۔ دلس سکون و قرار پادہ سپدنہ خاطرہ بیہ سپدن نہ تمہ غم گین بیہ سپدن تمہ  
 رضامندی ساری تمہ سیت یہ توہہ تمن عطا کورہ مالہ منزہ یا آلفت، محبت مای تہ شفقتہ منزہ۔ ای  
 مسلمانویم خاص احکام یوز تھہ بیٹھنہ توہہ خیال گڑھہ کہ یم احکام کونہ سپد عام طور سارنہ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
 مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا اللہ تعالیٰ چھہ زنان تہ سورے یہ تہندین دکن منز چھہ۔ اللہ  
 تعالیٰ چھہ ہمیشہ پنہہ نین مخلوقن ہند حال پورزانہ ون سہ چھہ یہ اعتراض کرہ ونین جلد گر قمار کران۔  
 کیاہہ سہ چھہ سیٹھاہ بردبار تہ تحمل کرہ ون۔ کتہ چھہ سزادوان یشکال تہ لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا  
 أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنَهُنَّ ای پیغمبر برحق تہندہ خاطرہ نہ حض چھہ حلال از

حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  
 رَّقِيبًا ۝۶۷ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ  
 إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرٍ نَبْظِيرٍ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا  
 دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا اطْعِمْتُمْ فَأَنْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ  
 لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ  
 وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا

کہ پتہ نوہ زنانہ بیہ چھنہ توہمہ جائزیمہ موجودہ سارنے زنانہ یا سمو اندرہ اچہ تراونہ تہ تمن بدل بین  
 زنان سنیتے نکاح کرن اگرچہ تہند حسن و صورت سپدن توہمہ مرغوب تہ پسند **إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ**  
 مگر چھہ حلال تہ جائز توہمہ کثیرہ یعنی تمہ زنانہ یمن تہمہ مملک یمین مالک سپدو **وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ**  
**شَيْءٍ رَّقِيبًا** اللہ تعالیٰ چھہ پریتھہ چیزچہ **حقیق تہ مصلح پورنگرانی کران تہ سوروی ژرژان** **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ**  
**آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَىٰ طَعَامٍ غَيْرٍ نَبْظِيرٍ** انہ ای باایمانو! تہمہ  
 مہ آسواژان نبی کریمہ **صلی اللہ علیہ وسلم** سندین گرن اندر حجرات مبارکن اندر مگر تلہ بیلہ توہمہ نادییہ ونہ کینہہ غذا کھینہ  
 خاطرہ۔ سہ غذا کھینہ تہ گدھہ یمن کھینہ کس و قس پیٹھہ۔ وقتہ بروٹھہ گدھہ نہ یمن تاکہ توہمہ بیہ نہ انتظار کرن  
 غذا کس تیار سپدن **وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَأَدْخُلُوا فَإِذَا اطْعِمْتُمْ فَأَنْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ** **لِحَدِيثٍ إِنَّ**  
**ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ** لیکن یلہ توہمہ ناداسہہ یوان ونہ کہ غذا چھہ تیار تلہ آسواژان توہ  
 پتہ یلہ تہمہ کھیٹھہ چیتھہ آسو موکلان توپتہ گدھہ نیرن تہ گدھہ نہ تمن سیت یا پانہ وان تھن منز مشغول  
 روزن کیا زہ تمہ سیت چھہ نبی کریم **صلی اللہ علیہ وسلم** تکلیف واتان تم چھہ توہمہ نشہ مند چھان۔ تم چھہ پانہ توہمہ  
 فرماو تھہ ہیکان نیرنگ **وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ** مگر اللہ تعالیٰ چھہہ پریتھہ ونہ نس اندر کانہہ ہند  
 لحاظ کران۔ لہذا آو توہہ واضح طور حکم کرنہ بیہ چھہ از کہ پیٹھہ حکم یوان کرنہ کہ نبی کریم **صلی اللہ علیہ**  
**وسلم** سند ازواج طاہرات کرن توہمہ نشہ پردہ لہذا **وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ**



فَسَلُّوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ۗ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ ۗ  
 وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهُ  
 مِنْۢ بَعْدِهَا اَبَدًا ۗ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا ۝۵۳  
 تَبْدُ وَاَشْيَآءٌ اَوْ تَخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا ۝۵۴  
 لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْ اَبَائِهِنَّ وَلَا اَبْنَاؤِهِنَّ وَلَا اِخْوَانِهِنَّ  
 وَلَا اَبْنَآءَ اِخْوَانِهِنَّ وَلَا اَبْنَآءَ اَخْوَانِهِنَّ وَلَا اِنْسَآءِ اِهِنَّ وَلَا

حجاب از کہ پیچہ بلہ تہہ نبی کریم ﷺ سندن ازواج مطہراتن نشہ کا نہہ چیز آسہ مگن سہ سہو تمن نشہ  
 مگان پردہ نیر یعنی بے ضرورت پردس نزدیک سپدن تو پتہ تمن سیت کتھ کرنہ تہ چھ ممنوع لیکن  
 سخت مجبوری تہ ضرور سچہ وقتہ چھ تھ کرنہ جائز مگر تمن مگن نظر دن چھنہ جایز ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ  
 وَقُلُوْبِهِنَّ یہ چھ ہمیشہ خاطرہ تہمدین دلن تہ تہمدین دلن بیچھ خیالا تو نشہ پاک و صاف روز نکھ اکھ بوڈ  
 ذریعہ۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَا اَنْ تَنْكِحُوْا اَزْوَاجَهُ مِنْۢ بَعْدِهَا اَبَدًا یہ چھنہ توہہ  
 جایز نہ صورتس اندر پیغمبر خدا لیس تکلیف و اتاون۔ یہ چھنہ توہہ ہرگز جائز تہمدین باژن یعنی ازواج  
 طاہراتن سیت تمہ پتہ مگنہ وقتہ نکاح کرن اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا یہ چھ اللہ تعالیٰ اس نشہ  
 بوڈ گوناہ۔ پتھ پاشی یہ گوناہ چھ تھہ پاتھ چھ امیک زیوہ سیتہ تذکرہ کرن یاد کس اندر امیک خیال کرن تہ  
 گوناہ اِنَّ تَبْدُ وَاَشْيَآءٌ اَوْ تَخْفُوْهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمًا چنانچہ ہر گاہ تہہ نے راو و کا نہہ چیز اہ یا  
 کھتھ تھا و اللہ تعالیٰ چھ ہم دو شوے چیز پور زمان کیا زہہ چھہ پر تھہ چیز اہ پورہ زانہ ون۔ سہ دیہ توہہ  
 ضرورت تھہ پیچہ سزا۔ آسہ لیس یہہ پر ڈک تہ حجابک حکم بیان کور تمہ منرہ چھہ بعضے اشخاص مستثنیٰ تہ  
 لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيْ اَبَائِهِنَّ وَلَا اَبْنَاؤِهِنَّ وَلَا اِخْوَانِهِنَّ وَلَا اَبْنَآءَ اِخْوَانِهِنَّ وَلَا اَبْنَآءَ اَخْوَانِهِنَّ وَلَا  
 اِنْسَآءِ اِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ کا نہہ گناہ چھنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندن ازواج طاہراتن  
 پنہ نین مایین یا پچوین یا باین یا باپہ تھرن، یا بینہ تھرن یا پنہ نین زنانن یعنی مسلمان زنانن یا پنہ نین

مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ وَأَتَقَيْنَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ۝ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ۝ إِنَّ الَّذِينَ

غلامن تہ کنیرن نشہ بے پردہ بروٹھ گن نیس تہ تھہ کرنس اندر **وَاتَّقِينَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا** ای نبی کریم ﷺ سنزوزانو مذکورہ احکامن ہندس تعلیمس اندر کھوڑو خدا لیس۔  
 گنہ کھمس منز مہ کبرو خلاف ورزی۔ بے شک سہ چھہ پرتھہ چیزس پیٹھہ شاہد۔ ممکن چھہ خلاف ورزی ہندس صورتس اندر دیہ سہ توہہ سزا۔ **إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا** بے شک اللہ تعالیٰ بیہ تہند ملائک چھہ درود سوزان نبی کریم ﷺ پیٹھہ ای باایمانو تہہ تہ سوزو درودو سلام تمن پیٹھہ بیہ کرو سلام رز سلام یعنی وان اسوالسلام علیک أیہا النبی ورحمة اللہ و برکاتہ یلہ یہ آیہ کریمہ نازل سپد صحابہ صابو کور عرض نبی کریم ﷺ سندس خدس منزیا رسول اللہ خدا این ہر کور آسہ کھم توہہ پیٹھہ درودو سلام سوزنگ سلام کرن توہہ سو پٹھہ آسہ۔ وون پٹھہ ناوے تو آسہ درود تھہ پاٹھہ آسواسے پران توہہ پیٹھہ فرموو کھ تہہ آسو پران اللھم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علیٰ ابراہیم وعلی آل ابراہیم إنک حمید مجید اللھم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علیٰ ابراہیم وعلی آل ابراہیم إنک حمید مجید اللہ تعالیٰ سند درود ہرآن گوور حمت سوزن تمن پیٹھہ یوسہ تہندس تھدس شانس مناسب آسہ ملائکن ہند درود سوزن گوو خدا لیس سو خاص رحمت سوزنہ خاطرہ دُعا کرن تھہ پاٹھہ آسہ کھم کرنہ آو تہہ خاص رحمتہ خاطرہ دُعا کرن ملائکن ہندہ مگنہ سیت بیہ سانہ یعنی باایمان ہندہ مگنہ سیت تہ دعا کرنہ سیت چھہ حضور نبی کریم ﷺ سندس مراتب عالین اندر ترقی سپدان۔ ترقی در جاتن چھنہ کانہہ حدے چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلمو کور عام امتین کھم بانگہ پتہ دعا سلیہ مگنہ ک حضرت فاروق اعظم فرموو کھ جس گھنہ وقتہ اُشر کنا فی الدعاء لے عمر آسہ تہ تھوے زہ شامل پنہ نین دعاءن اندر امہ ساری اندر ہ سپد ثابت ڈٹھہ کیتھ تے آسہ انسان سیٹھاہ تھو در تہہ دول تہ مگر خدا یہ سندس فضل ورحمتس گن چھہ پرتھہ وقتہ ممکن چنانچہ حدیث شریفس منز چھہ پانہ فرموو مت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کانہہ دیہ نہ نجات پنکن عمل یوتان نہ رحمت خدا شامل حال

يُؤذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ  
لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا ۝ وَالَّذِينَ يُؤذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ  
بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدْ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ۝ يَا أَيُّهَا  
النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ  
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكْ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ

آسیس عرض آکھ کرنہ توہمہ تہ دبیہ تانجات عمل یار رسول اللہ فرموو کہ میہ تہ دیہ نہ نجات عمل یوتان نہ میرہ ہونہ میہ اللہ تعالیٰ پنہ رحمتہ سیت ولہ یعنی یوحس زیادے محتاج خدایہ سندس زیادہ رحمتس کن تہندہ خاطرہ اللہ تعالیٰ اس درود و سلام معھ نس اندر چھہ درود پرہ ونس تہ پنہ حقہ فائدے فائدہ کیا زہ رسول اللہ تعالیٰ ان چھہ فرموومت نس اکھاہ مہ پیٹھ آکھ درود پرہ اللہ سوزہ تس پیٹھ دہ رحمتہ اِنَ الَّذِیْنَ یُؤْذُونَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِی الدُّنْیَا وَالْآخِرَةِ وَاعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّبِیْنًا پزی پاتھے سم لوکھ ایذا دن خدایس بیہ تہندس پیغمبرس ناشاستہ کتھ ونہ سیت اللہ تعالیٰ کرہ تمس لعنتس گرفتار دنیا س منز تہ آخر تس منز تہ - بیہ چھہ تہندہ خاطرہ تم تیار تھوومت ذلیل کرہ ون عذاب وَالَّذِیْنَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِیْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَیْرِ مَا اِکْتَسَبُوْا فَقَدْ اِحْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُّبِیْنًا سیتھ پاتھ یم لوکھ ایذا دن با ایمان مردن تہ با ایمان زنانن تہندہ کانہہ جرم تہ تصور کرنہ ورائے پس بیشک تمو تل پانس پیٹھ بڑھ اپزیک تہ بڑھ گنہک بور یا ایُّهَا النَّبِیُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِیْنَ یُدْنِیْنَ عَلَیْهِنَّ مِنْ جَلَابِیْبِهِنَّ ای پیغمبر برحق فرماو تہ پنے نین ازواج طاہراتن بیہ پنے نین صا جزا دین بیہ نین با ایمان ہنزن زنانن کہ کلہ نشہ آسن بون کن الوند تراوان پنے نیو پوژ و تہ ڈپٹو آندرہ آکھ حصہ پنے نین تھین پیٹھ ذَلِكْ اَدْنَىٰ اَنْ یُعْرَفْنَ فَلَا یُؤْذِیْنَ امہ طریقہ آسن تمہ جلد پر زہ ناو نہ یوان کہ یمہ چھہ شریف تہ نیک بخت زنانہ ادہ آسکھ نہ ایذا واتا ونہ یوان - امہ سیت آسہ سپدان فرق کنیرن تہ آزاد زنانن اندر - اتھ تھس ستر کرنس اندر ہر گاہ کمنہ وقتہ بلا قصد و ارادہ بے

وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۵۹ لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَ  
 الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ  
 لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ۝۶۰ مَلْعُونِينَ ۝  
 أَيَّمَا تَقْفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا ۝۶۱ سُنَّةَ اللَّهِ فِي  
 الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۝۶۲  
 يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا  
 يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ۝۶۳ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكٰفِرِينَ

احتیاطی سپدہ وَاكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ تعالیٰ چھ سیٹھاہ مغفرت کر وہون سیٹھاہ رحم کر وہون۔ تھہ  
 بے احتیاطی تہ کرہ سہ درگذرتہ مغفرت لَئِن لَّمْ يَنتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ  
 وَ الْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ لَنُغْرِبَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا ہر گاہ نے منافق بیہ تم لو کہ  
 یہہدین دلن اندر شہوت پرستی ہند مرض چھ تے چھ کینرن آنان بیہ یم لو کہ شہرس منز ایزہ خبرہ  
 پھیلاوان چھ پنہ نیو پیچھ کتھوتہ حرکتونشہ پتھ روزن تیلہ ہسہ راوودہ تھی اس تمن پیٹھ اکہ نتہ اکہ دوہہ  
 یعنی اُس کرودہ توہہ حکم تہندہ خاطرہ شہرہ نہبر کڈٹک۔ توپتہ ہمکن نہ ادہ تم توہہ نکھ تل پتھ شہرس منز  
 روز تھہ مگر کسے کالس مَلْعُونِينَ أَيَّمَا تَقْفُوا أُخِذُوا وَقُتِلُوا تَقْتِيلًا تمن آسہ پر پتھ طرفہ لعنت کرنہ  
 یوان۔ یتہ نس تم لبندین تیسین تم رٹنہ بیہ مارنہ تہ ژٹنہ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ یہ  
 چھہ خدایہ سند دستور بروظھین مفسدہ تہ شریر لوکن پیٹھ تہ جاری کرنہ آمت وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا  
 ژہ لبھ نہ خدایہ سندس دستور تہ طریقس منز کانسہ ہندہ طرف عنہ قسمہ تغیر و تبدیل یَسْأَلُكَ  
 النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا ای پیغمبر برحق  
 یم مکر لو کہ چھہ توہہ یژٹھان قیامتک کہ سو کر آسہ تہہ فرما دیو کہ جواب کہ تمہہ وینج خبر پتھنہ خدایس

وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا ﴿۶۳﴾ خَلِيدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَا يُجَدُّونَ وَلِيًّا وَلَا  
 نَصِيرًا ﴿۶۴﴾ يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ لِيَلَيْتَنَا أَطَعْنَا  
 اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ ﴿۶۵﴾ وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا  
 فَأَضَلُّونَا السَّبِيلًا ﴿۶۶﴾ رَبَّنَا إِنْتُمْ ضَعُفْتُمْ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَمِ  
 لَعْنَا كَبِيرًا ﴿۶۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا  
 مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا ﴿۶۹﴾


ورائے کانہہ تہ توہمے کس چیز زانراوہ کہ شاید قیامت ما آسہ تہہ کُن نظر کرتھہ پڑہ ہاتمن قیامتس کھوژن  
 بیہ تمہ خاطرہ کانہہ سامانہ پادہ کرن ان الله لَعَنَ الْكٰفِرِيْنَ وَاَعَدَّ لَهُمْ سَعِيْرًا پڑپاٹھ اللہ تعالیٰ اَن چھہ  
 لعنت کر مژ کافرین۔ تم چھن پنہ رحمتہ نشہ دور کر مت بیہ چھن تہندہ خاطرہ دزہ ون نارتیار تھوومت  
 خَلِيْدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا لَا يُجَدُّوْنَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيْرًا تہہ نارس منزر روزن ہیشہ نہ لہن سہہ کانہہ دوستس نہ  
 کانہہ مددگارس يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ لِيَلَيْتَنَا اَطَعْنَا اللّٰهَ وَاَطَعْنَا الرَّسُوْلًا بیہہ دوہہ  
 کھکھرہ پکناوتھہ مَن دَر تھہ ونہ نارس منزر۔ تھہ منزواتھہ آسہ تلک پیٹھ پھیر یوان دنہ تہندین تھہن۔  
 دپن تمہہ ساتہ اے کاش آسہ کونہ کرے یہ فرمانبرداری خدایہ سنز بیہ کونہ کرے یہ فرماں برداری پیغمبر  
 خدایہ سنز دنیا س اندر ہر گاہ آسہ کرہ ہو تہمز فرماں برداری تھہ مصیبتس گڑھہ ہونہ گرفتار وَقَالُوا رَبَّنَا  
 اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَاَضَلُّونَا السَّبِيْلًا بیہ دپن اے سانہ پروردگارہ بیشک آسہ کہ فرمانبرداری پنہ نین  
 زٹھن ہنز تہ بڈین ہنز تمو ڈال اَس سیزہ وتہ نشہ رَبَّنَا اِنْتُمْ ضَعُفْتُمْ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنَمِ لَعْنَا  
 كَبِيْرًا اے سانہ پروردگارہ تم ن کرتہ ڈوگن عذاب بیہ کرتن پیٹھ بڈلعنت يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
 آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا اے باایمانو  
 تہہ مہ آسو تم ن لوکن ہی سموا ایذا دیت اپز تو جمت لاگنہ سیت موسیٰ کلیم اللہس۔ تو پتہ کورسہ اللہ تعالیٰ  
 اَن بری تہ پاک تمو تہمز وہانز نشہ پیچھ کتھونشہ اوس سہ موسیٰ کلیم اللہ خدایس نشہ عزتہ وول صاحبہ۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ۝ يُصَلِّهِ  
لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ۝ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ۝ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَ  
حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۝ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ۝ لِيُعَذِّبَ اللَّهُ

تمی موكھ کر تھی اللہ تعالیٰ ان تہمز براءت ثابت اے باایمانو کھوژو اللہ تعالیٰ اس بیہ آسویزہ تہ ہزہ کھہ کران یُصَلِّهِ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ہر گاہ تہ کروتلہ سنبھالہ تہ شیرہ اللہ تعالیٰ تہمزہ کامہ۔ تہمز کامہ کرہ قبولیتس لائق بیہ کرہ توہہ گنہن مغفرت وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا بیہ نئس اکھاہ فرماں برداری کرہ خدا یہ سز تہ تہمدس پیغمبرہ سز بیشک تس بنے یہ بڈ دستگاری تہ کامیابی إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۝ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا پز پاتھ آسہ اُون احکام وشرائعن ہندامانت آسمان زمین تہ کوہن بروٹھ گن تئلہ خاطرہ۔ تمین احکام وشرائعن پیٹھ عمل کرنے خاطرہ تمو کور انکار یہ تئلہ نشہ یمن احکامن پیٹھ عمل کرنے نشہ۔ بیہ کھوژو تم اتھ خبر چھامیگ انجام کیاہ سپدہ ہیکوہ اس یہ بار تئلہ کنہ نہ آسمان زمین تہ کوہ پیدہ کرنے پتہ آوانسان پیدہ کرنے اس انسانس تہ اولامانت پیش کرنے چونکہ یہ انسان اوس علم الایس اندرز میںس منز خلیفہ سپدہ ون نئس چیز بروٹھ پیٹھ مقرر کرنے آمت اوس لہذا اٹل تے یہ بارامانت ہیون ایچ ذمہ واری (آسمان بارامانت نتوانست کشید۔ قرعہ فال بنام من دیوانہ زند) بیشک یہ انسان اوس ظالم تہ جاہل (ظالم پنہ نس نفس پیٹھ یہ بارامانت تئلہ سیت اور جاہل اوس ائمہ بار سیت) تو پتہ سپدہ امہ پتہ زہ حال لِيُعَذِّبَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ

الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبُ  
 اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۴۱

یہ اللہ تعالیٰ عذابس گرفتار کرہ منافق مردن ۽ منافق زنانن بیہ مشرک مردن ۽ مشرک زنانن یم گئے تم لوکھ سمو احکام خداوندین ہند کانہہ پرواکورنہ امانت ضائع کثرت بیہ کرہ توجہ پتہ رحمتہ سیت اللہ تعالیٰ باایمان مردن ۽ باایمان زنانن کن یم گے تم لوکھ سمو امانتس راپھہ کرا حکامن ہنز پابندی کر پتھ روز ترم جماعت یمو گوڈہ مخالفت کرہ مگر پتولا کہ سپدکھ احساس توپتہ سپدی نادم ۽ پشیمان تم ۽ کری اللہ تعالیٰ ان شامل مومنین و مومناتن منزکیازہ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللہ تعالیٰ چھ ہمیشہ سیٹھاہ مغفرت کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون۔



سُورَةُ سَبْأٍ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ  
 الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ① يَعْلَمُ مَا يَلْجُرُ فِي  
 الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ  
 فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ② وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْآتَيْنَا  
 السَّاعَةَ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عِلْمُ الْغَيْبِ لَا يُعْزِبُ عَنْهُ  
 مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغُرُ مِنْ ذَلِكَ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ تس  
 معبود برحقس تم سند ملک چھہ تہ سورے یہ آسمان منز چھہ بیہ تہ سورے یہ زمین منز چھہ چھہ  
 سزاوار ساری حمد تہ ثابہ چھہ تمس سزاوار ساری حمد تہ ثا آخرتس منز تہ بیہ چھہ سے سیٹھاہ حکمتہ وؤل۔  
 تس چھہ سارچی پور خبر۔ سہ چھہ تیتھہ باخبر ذات کہ یعلم ما یلجری فی الارض وما یخرج منها وما  
 ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو الرحیم الغفور سہ چھہ زانان تہ سورے یہ زمینس منز واتان چھہ بیہ تہ  
 سورے یہ زمینہ منز کھسان چھہ۔ بیہ تہ سورے یہ آسمانہ وسان چھہ بیہ تہ سورے یہ آسمان کن کھسان چھہ سہ  
 چھہ سیٹھاہ حم کرؤن سیٹھاہ مغفرت کرؤن وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الْآتَيْنَا السَّاعَةَ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ  
 عِلْمُ الْغَيْبِ بیہ چھہ ونان یم کافر کہ اسہ پیٹھہ بیہ نہ قیامتھہ تجھہ فرماو یو کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم  
 یقیناً بیہ تو بہ قیامت مہ چھہ پنہ نس پروردگارہ سند قسم نس سورے غیب زانہ ون چھہ۔ لَا يُعْزِبُ عَنْهُ  
 مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغُرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ پس پروردگار س



وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ۝۳ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ۝۴ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ ۝۵ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝۶ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُبَشِّرُكُمْ إِذَا مَرِّقْتُمْ كُلَّ مَسْرِقٍ ۚ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۝۷

نشہ پھنسنے پو شیدہ تہ کھٹھہ کا نہہ چیزہ اکس ذرس برابر تہ آسمانن اندرنہ زمین اندرنہ اکہ ذرہ خوتہ لوکت کا نہہ چیزہ نہ اکہ ذرہ خوتہ بوڈ کا نہہ چیزہ۔ پر ہتھ چیزہ ہتھ تس نغہ لیکھتہ نہ کتاب یعنی لوح محفوظ اندر لَیَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ قیامت بیہ ضرور بیہ ہتھ خاطرہ کہ بیجھ اللہ تعالیٰ تمہن لوکن رٹھ مزور عطا کرہ سمو ایمان اون تہ رٹھ عملہ کر کیکہ تہندی خاطرہ ہتھ بوڈ مغفرت تہ عزتک روزی تہ جنس اندر وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزٍ أَلِيمٌ بیہ یم لوکھ دورہ دورہ تہ کوشش کران آس سانین آیاتن تہ دلیل پھڑ اونہ خاطرہ تہندیہ خاطرہ چھ سخت عذاب دگ تہ دودنلہ ون وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ بیہ چھ زانان تم لوکھ یمن علم آو عطا کرنہ (یعنی علماء اہل کتاب) تھہ کتابہ یوسہ توه پیٹھ نازل کرنہ آہیہ تہندس پروردگارہ سُنَد طرفہ پز کتاب بیہ یوسہ پکنوان ہتھ لوکن تس خدایہ سنزہ ونہ نس غالب ہتھ حمد پنے آمت ہتھ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ يُبَشِّرُكُمْ إِذَا مَرِّقْتُمْ كُلَّ مَسْرِقٍ ۚ إِنَّكُمْ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بیہ

أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  
 بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ ۝۸ أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا  
 بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِن نَّشَاءِ نُخِيفُ  
 بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن فِي ذَٰلِكَ  
 لَآيَةٌ لِّكُلِّ عَبْدٍ مُّنبِيٍّ ۝۹ وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا  
 يُجِبَالٌ أَوْبَىٰ مَعَهُ وَالطَّيْرُ وَالنَّعْلُ الْحَدِيدُ ۝۱۰ إِن أَعْمَلُ

چھہ ونان کا فریادہ وان ٹھٹھہ پاٹھہ اس ماہادونو توہہ سہ تخص نئس عجیب خبراہ ونان چھہ زہ یلہ توہہ میزہ  
 منز پھتہ پھتہ تہ ریزہ ریزہ سپدہ توہ پتہ ایوتہہ دوبارہ ہیہ نوہ زندگی منزائہ **أَفْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ**  
**جِنَّةٌ** کیاہ ساتہ شخصن ٹھہروہ خدائس پیٹھ اپرہنہ تس چھہ مژرتہ جنون **بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ**  
**بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ** نہ چھہ افتزانہ چھہ مژر۔ بلکہ چھہ تم لوکھ یم قیاس تہ آخر تس  
 معر چھہ ہڈس عذابس تہ جہ گراہی منز گراہ۔ **أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِّنَ السَّمَاءِ**  
**وَالْأَرْضِ إِن نَّشَاءِ نُخِيفُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ نُسْقِطُ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ** کیا سمو لوکو وچھنا آسانس تہ زمینس کن نئس تمن برونھ کن تہ تھروکن یعنی پریتھ طرفہ چھہ احاطہ  
 کرتھ۔ ہرگاہ اس یٹھو تم نموکھ زمینس تل واتھ یا تراؤ تمن پیٹھ آسانچہ چھلہ تو پتہ گالوکھ تہی سیت  
 سائین آیاتن انکار کرنہ خاطرہ پزی پاٹھ اتھ منز چھہ بوڈ نشانہ پروردگارہ سد قدرتہ وول آسنس پیٹھ  
 پریتھ رجوع بخدا کرہ وئس بندہ سدہ خاطرہ **وَلَقَدْ أَتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا** بیہ کوراسہ عطا حضرت  
 داودس پننہ طرفہ ہذ فضیلت تہ ہذ نعمت **يُجِبَالٌ أَوْبَىٰ مَعَهُ وَالطَّيْرُ** بیہ کورحم جانورن ٹھہ تہ اسو تمن  
 سیت سیت تسبیح پران روزان چنانچہ حکم کوراسہ کوہن کہ توہ آسبو گرہ گرہ تمن سیت تسبیح پران۔  
**وَالنَّعْلُ الْحَدِيدُ** بیہ کوراسہ ٹھہدہ خاطرہ شستر موم ہیوزم **إِن أَعْمَلُ سِبْغَاتٍ وَقَدَّرَ فِي الشَّرِّ**  
 حضرت داودس کورحم ٹھہ آسبو بناوان اتھ شسترس زرباہ کشادہ کشادہ بیہ کرو پراندا زہ کرین ہندس

سِبْغَتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ  
 بَصِيرٌ ۝۱۱ وَلَسْلَيْمَ الرِّيحِ غَدُوَهَا شَهْرًا وَرَوَّاحَهَا شَهْرًا  
 أَسْلَنَّا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ  
 رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ۝۱۲  
 يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ  
 وَقُدُورٍ رِيسَاتٍ اِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ

ملہ ناؤں سے واٹھ دس اندر وَاَعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اے خاندان داؤد تمہے ساری  
 دپو یمن نعمون پیٹھ حمد سے شکر بیہ کرو تمہے رتہ عملہ پڑا ٹھہر بہ ہتھس تمہزن سارے کا میں پیٹھ پور واقف  
 وَلَسْلَيْمَ الرِّيحِ غَدُوَهَا شَهْرًا وَرَوَّاحَهَا شَهْرًا بیہ کور اسہ سلیمان علیہ السلامس واومخر - صمخس اوس  
 سہ رتق و تھ طے کران شامس سے اوس رتق و تھ طے کران۔ وَاَسْلَنَّا لَهُ عَيْنَ الْقَطْرِ بیہ پکھ نوواسہ  
 تھندہ خاطرہ تراک ناگ ترام اوس گاتھ نیران آبک پاٹھ پنہ کانہ منزہ تھہ تمن بانہ ٹھ تیار کرنس اندر  
 سہولت سپدہ تمہ کی اس تم جہ جہ دیگہ سے بڈ بڈ بانہ بناوان وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ بیہ  
 کر اسہ تمن مخر سے تابع جتواندرہ تم اشخاص یم تمن بروٹھ کنہ خدایہ سندہ حکمہ سیت کام آس کران  
 وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نَذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ بیہ نُس اکھاہ تمواندرہ سانہ حکمہ نشہ روگردانی کرہ  
 سہ ژہر ناوون اس آخرتس اندر نارہ کہ عذاب مژہ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ  
 كَالْجَوَابِ وَقُدُورٍ رِيسَاتٍ تم جن آس بناوان تھندہ خاطرہ تم تم چیز یم تم تم یثہ بن جہ جہ قالب لہ  
 ہشہ۔ بیہ کلین سے کو بن ہنزہ شکلہ۔ بیہ بڈ بڈ ٹھل تلاو بیہ جہ جہ دیگہ۔ بیہ اکسے جایہ ٹھہرت اسہ آسان  
 اِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا اسہ کور حکم حضرت داودہ سندس خاندانس کہ یمن نعمون پیٹھ دپو شکر۔ شکر  
 گذاری کرورث عمل کرنہ سیت وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشُّكُورُ میانو بندواندرہ چھہ کے شکر گذاری کرہ  
 وَنَ فَكُنَّا قَاضِيًا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهِمْ عَلَىٰ مَوْتِهِ إِلَّا ذَا بَأْسٍ مِنَ الْأَرْضِ فَأَكَلُ مِنْ سَاتِهِ اودہ یلہ اسہ

الشُّكُورُ ﴿۱۴﴾ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ  
 إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْسَاتَهُ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ  
 أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِئُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿۱۵﴾  
 لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ  
 كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ

حضرت سلیمانہ سندھ مرنگ حکم جاری کورہ تم گئے یہ عالمہ تخلص پیٹھ بہتھ لور آسکھ تھاومر ہوچکھ  
 تل، تھے پاٹھ کور تھند روح مبارکن پرواز تھ حالتس اندر رودے تم آس ور یس تانے جن آسے  
 وچھان تمن تخلص پیٹھ بہتھ کانہہ اوس نہ جرات ہیکان کر تھ نکھ تل تھ نظر دلس۔ منہ چیزن دیت نہ  
 پتاہ تمن جن سلیمان علیہ السلامہ سندھ مرنگ مگر کھوڑہ یکم اک بس تھنہ لورہ اندر اندرے کوران تہ  
 کھیوان اوس فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِئُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ اودہ یلہ  
 سولور کھو کھر گیہ تہ پیہ دستھ تم تہ آئے وکرانہ یون کن اتھ تخلص پیٹھ اودہ سپد معلوم جن تھنہ یہ عالمہ  
 گدھہ نگ دپنہ لگ کہ ہر گاہ بچ خبر آسہ ہاتیلہ ما آسہ بن تم ور یس ذلتہ کس عذابس منز گر قنار لَقَدْ  
 كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكِنِهِمْ آيَةٌ بے شک اُس قوم سبا خاطرہ تھندس وطنس اندر خدایہ سنز اطاعت تہ فرماں  
 برداری کرنس پیٹھ بڈے بڈے نشانہ تہ دلیلہ موجود جَنَّتِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ تمون نشانو اندرہ اوس  
 اکھ نشانہ کہ زہ باغ اسکھ سڑکہ دچھن تہ کھو فرے قطار در قطار یعنی تھندس علاقس اندر اُس عام  
 شاہراہ تہ سڑکہ دچھن کھو فرہ دور تان نکھ نکھ باغات یمن منز کم کم میوہ آس بکثرت آمدنی تہ آسکھ  
 کافی رونق تہ سایہ تہ اوسکھ کمال آسہ ونہ نوو تمن انبیاءن تہ ناھن ہندہ ذریعہ کُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ  
 وَاشْكُرُوا لَهُ کھیو پنے نس پروردگارہ سند عطا کورمت رزق تو پتہ کرو تھنہ شکر گذاری تہ فرماں  
 برداری۔ کیا زہ دویہ قسجہ نعمہ کرہ نوہ عطا بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ اکھ کور نوہ عطا دنیاعس منزیہ  
 شہر سبأس نہایت رت شہراہ چھ آب و ہوا کہ لحاظ بیا کہ نعمت کور نوہ عطا آخر تہ کہ اعتبارہ پروردگارہ

غَفُورٌ ﴿۱۵﴾ فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ  
 بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ  
 قَلِيلٍ ﴿۱۶﴾ ذَلِكَ جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجِزِي إِلَّا الْكُفُورَ ﴿۱۷﴾  
 وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بُرَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً  
 وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرُ سَيْرًا لِيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ ﴿۱۸﴾

چھ سیٹھاہ مغفرت کرہون۔ ہر گاہ منہ قسمہ کو تانی بیہ لبہ تہندہ منہ تھہ کر وہ در گذر فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْنَا  
 عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتِ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثَلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدْرٍ قَلِيلٍ تَمُوزَان  
 نہ اتھہ نغمس قدر بلکہ پھیر تموسانیو حکمونہ تھہ ادہ کوراسہ تمن پیٹھ ہن قہر نازل جاری کوراسہ تمن  
 پیٹھ بوڈیپ تہ سیلاب نس توتان بنداوس۔ یہہ سیت تہند تم ساری باغات تباہ و بر باد گئے بیہ بدلاو اسہ  
 تہندین دون باغن بدل بیہ قسمک زہ باغ یمن منزیم چیز پتھ کن رود بد مزہ میوہ دار کل۔ بیہ میوہ  
 ورائے جنگلی کل۔ بیہ جنگلی بریہ کل کینہہ کے یمن منزہ مزہ تہ لطافت اس ذلک جَزَيْنَهُمْ بِمَا كَفَرُوا  
 وَهَلْ نُجِزِي إِلَّا الْكُفُورَ یہ سزاؤیت اسہ تمن کُفرہ سببہ کفران نعمت کرنہ سببہ اس چھا تھہ سزاووان  
 کفران نعمت کرن والین ورا بیہ کانسہ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بُرَكْنَا فِيهَا قُرَى ظَاهِرَةً بیہ  
 کز اسہ اہل سباعن منز تہ بیہ شامہ کین تمن شہرن منز یمن منز اسہ پیداوار ج برکت کر مثر اس واریاہ  
 شہر آباد کھ کھ یم برب لب سڑک اس یم سارنے پکھ و نین بوزنہ یوان اس۔ یمو سیت نہ مسافرن  
 سفرس منز کنہ قسمک وحشت پیدہ سپدان اوس یہہ نس تمن ٹھہر نچ خواہش سپدان اس تہہ نس اس تم  
 دستھ ٹھہر تھہ ہیکان وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ مُقَرَّر اوس کورمت اسہ اکہ خاص اندازہ موجب تمو شہر  
 و منزے لوگ ہندین گڑھن سَيْرًا لِيَالِي وَأَيَّامًا آمِنِينَ فر موومت اوسکھ اسہ کہ کروسیر رات  
 کیت تہ ڈوبلہ تہ امن و مانس اندر چنانچہ ساری لوکھ اس سمنہ پیٹھ شام واتان سموے آباد شہر و منز  
 کوچ اگس شہرس تہ کال میں شہرس منز کھیوان ساری فقیر تہ دنیا دار اس کھین چین پانس سیت تلنہ

فَقَالُوا رَبَّنَا بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ  
 أَحَادِيثَ وَمَرَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ  
 صَبَّارٍ شَكُورٍ ﴿۱۹﴾ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ  
 إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۰﴾ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ  
 إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُوْمِنُ بِآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ ط وَ  
 رَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ ﴿۲۱﴾ قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِّنْ

ورائے اُسے وہ پکان دینا داروون ہتھ منڑ چھنہ سانے شان بوزن یوان تم لگے دعا کرنہ فقَالُوا رَبَّنَا  
 بَعْدَ بَيْنِ أَسْفَارِنَا کہ پروردگار ادوری تراوڑہ سائین سفرہ کین منزلن اندر۔ منزہ منزہ کرکھ بعضے  
 شہر غیر آباد تا اینکه اُسے اُسے یوان سامانہ سیت تلنہ تہ حفاظتہ خاطرہ نوکر چاکر مسلح سامانہ سیت تلنہ  
 وَظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ پس کور تمو ظلم پانے پانس بنی اسرا ایلن ہندے پاٹھ لوگھ کھینہ منزہ و وگس فَجَعَلْنَاهُمْ  
 أَحَادِيثَ چنانچہ تھاوہ اُسے پتھ گن تہزہ ہتھ باقی پتہ اودہ نین ہندہ خاطرہ وَمَرَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَرِّقٍ بیہ کر  
 اُسے تمن چھلہ چھاگر تم قبیلہ وات دور دور مختلف شہرن اندر ژلان ژلان إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّكُلِّ  
 صَبَّارٍ شَكُورٍ بے شک یہ اُسے بیان کور اتھ منز چھہ بڈ بڈ نشانہ عبرت رٹہ نک پریتھ صبر تہ شکر کرہ  
 و نین ہندہ خاطرہ یعنی بالایمان تہ فرما بردارن ہندہ خاطرہ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا  
 فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ پڑاٹھ تصدیق کور ایلین تمن منز پنہ نس خیالس چنانچہ تمو کر پور بیروی تہز  
 مگر روز پتھ تس بیروی کرنہ نشہ اکھ کے جماعتہاہ بالایمان ہنزیم کامل الایمان آس تم رُود بالکل محفوظ  
 یم ضعیف الایمان آس تمو کرنہ اگرچہ شرک و کفر س منز تم سنز بیروی مگر معاصین اندر کور کہ تم  
 سندا اتباع وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُوْمِنُ بِآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ  
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ بیہ اوس نہ ابلیسہ سند تمن پیٹھ کاہنہ زور تہ جبر مگر یہ اوس اُسے نہ راوان کہ گس  
 چھہ آخرت چڑھ تمو لو کو اندرہ بیہ گمن چھہ آخرتک شک تہ تردد و لن اندر ہتھ زن پریتھ اکس مناسب

دُونَ اللَّهِ لَا يَسْلُكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِنَّ مِنْ شَرِكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ ﴿۲۲﴾ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنِ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ

سزاییہ دنہ تہند پروردگار جھہ پرستہ چیزس پیٹھ نگہبان تہ راجھہ سارکوی چھہ تس پور اطلاع۔ قُلْ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ فرماویو کہ تہہ یار رسول اللہ فرماویو کہ تہہ یار رسول اللہ اے لو کو تہہ دیتو ناد تمین یم تہہ معبود زانان چھوہ کہ معبود برحقس ورائے معبہ تو تہہ تمین ہن حاجات۔ معلوم سپدہ پانے تمین اتھہ کیاہ چھہ تہنز۔ حقیقی حالتھہ چھہ کہ لَا يَسْلُكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ تم چھوہ نہ مالک تہہ چیزک اکس ذرس برابر تہہ آسمان اندر نہ زمین اندر وَمَا لَهُمْ فِيهِنَّ مِنْ شَرِكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ۔ بیہ چھہ تمین آسمان زمین پیدہ کرنس منز خدایس سیت کانہہ شر اکٹھاہ بیہ چھہ تموا اندرہ کانہہ اکٹھاہ خدایہ سند مددگار تہہ چیزس اندر وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ۔ چھہ پاٹھہ تم پانہہ تمین نہ کانہہ کاماہ کر تھہ چھہ پاٹھہ تمین نہ خدایس و تھہ یعنی سفارش تہ شفاعت کر تھہ کرہ ناوہ ہن کانہہ کاماہ چنانچہ یم معبودان باطل بے جان چھہ کنہہ وغیرہ ہشہ تمین ہنز چھہ کتھہ تم کیاہ شفاعت تمین کر تھہ تمین منز چھہ صحیح قابلیتھہ تھہ پاٹھہ یم جاندار تہہ چھہ مگر اللہ تعالیٰ اس نشہ چھہ تم مقبول تہ قابل اعتبار شیطان وغیرہ ہی تم تہہ کیاہ شفاعت تمین کر تھہ بلکہ یم ذی روح جاندار آتھہ مقبول تہ باعتبارہ بندہ چھہ ملائیک ہی تمین مشرک خدایہ سزہ کورہ و تھہ مستحق عبادت زانان چھہ تم تہہ تمین نہ کانہہ شخص خدایس نشہ سفارش تہ شفاعت کر تھہ خدایس نشہ چھہ کانہہ ہنز سفارش تہ شفاعت کام دوان مگر تس شخصہ سندہ خاطرہ بندہ حقہ شفاعت کرہ و تس اللہ تعالیٰ شفاعت کرہ نگ اجازت دیہ دلایلو سیت چھہ ثابت کہ شفاعت کرہ و تمین ایہ شفاعت کرہ نگ اجازت دنہ گنہ گار با ایمان بندہ خاطرہ فقط کافرن تہ مشرکین بندہ خاطرہ ملائیک تہہ تمین نہ کانہہ اکس بلا اجازت سفارش کر تھہ تہندہ غلبہ پہنچتہ حالتھہ چھہ پیہ کہ حَتَّىٰ إِذَا فُزِعَ عَنِ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقُّ چنانچہ یلہ خدایہ سندہ طرفہ تمین پیٹھہ کانہہ حکماہ

الْكَبِيرِ ﴿۲۳﴾ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَ  
 إِنَّا أَوْلِيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ﴿۲۴﴾ قُلْ لَا اسْتَعْلَوْنَ  
 عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۲۵﴾ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ  
 بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ ﴿۲۶﴾ قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ الْحَقُّمُ

جاری چھہ سپدان تمن چھہ نٹھ ووتھان ادہ یلہ سونٹھ تہندہ یود لو نٹھہ ژلان چھہ اکھ اکس چھہ پر ژھان  
 کیاہ فر موونٹھند پروردگارن یم زیادہ مقرب چھہ آسان تم بھٹھہ دپان فلانے پوز لحم فر موو خدا این۔  
 تس بروٹھہ کنہ ملائکن یٹھہ حال سپدان کیاہ عجب چھہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ واقعی سہ چھہ عالی شان  
 سارنہ ہندہ خوتہ بوڈ قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ وَ إِنَّا أَوْلِيَاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي  
 ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ٹھہ پر ژھو کہ یار رسول اللہ بیا کہ تھہ یمہ سیت یمہ بن توحید ک تحقیق سپدہ اے لو کو تو بہہ  
 ٹھہ چھہ رزق دوان آسان ہندہ طرفہ رود تراوتھہ زمین ہندہ طرفہ زراعت کھارتھہ چونکہ امیک  
 جواب چھہ تمن نشہ تہ متعینہ لہذا فرما یو کہ ٹھہ اللہ تعالیٰ چھہ رزق عطا کران۔ اتھہ تھہ چھہ تم تہ اقرار  
 کران یہ تہ فرما یو کہ کہ یتھہ مسئلہ توحیدس اندر چھہ اس یا تہہ ضرور سیزہ و تہ پیٹھہ یا صریح گمراہی اندر یہ  
 تھہ چھہ ناممکن کہ توحیدہ وائل تہ توحید ک مٹھر کیا آسن دوشوے پزس پیٹھہ یا کیا آسن دوشوے غلطی پیٹھہ  
 یہ چھہ لازمی تھہ کہ دیو منز آسہ اکھ پزس پیٹھہ اکھ آپزس پیٹھہ۔ اکھ جماعتھہ ہدایتس پیٹھہ بیا کہ گمراہی  
 پیٹھہ۔ توحیدہ جن دلیلن پیٹھہ غور کرنہ سیت چھہ ثابت سپدان کہ اہل توحیدے چھہ پزس پیٹھہ قُلْ  
 لَا اسْتَعْلَوْنَ عَمَّا أَجْرَمْنَا وَلَا نَسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ یہ تہ فرما یو کہ ٹھہ یار رسول اللہ کہ اگر اس خطاکار آسو  
 تو بہہ یمہ نہ پر ژھنہ سائین مجر من ہند۔ یمہ یمہ نہ آسہ تہ پر ژھنہ تمن کائین ہند یمہ ٹھہ کران چھوہ۔ یتھہ  
 نہ امہ سیت تو بہہ خیال گڑھہ کہ پر ژھنہ مایہ نہ کانسہ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبَّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ  
 الْعَلِيمُ فرما یو کہ ٹھہ یار رسول اللہ سون پروردگار کرہ قیامت دودہ آسہ دوشونے فریقن جمع تو پتہ کرہ سہ  
 فیصلہ آسہ منزرت فیصلہ کیاہہ سہ چھہ ژھین کرہ ون رتہ فیصلہ سیت۔ سہ چھہ سورے زاندون۔ تس  
 نٹھہ چھنہ کینہہ تہ پوشیدہ قُلْ أَرُونِي الَّذِينَ الْحَقُّمُ بہ شُرکاء کلابل ہوا اللہ العزیز الْعَلِيمُ فرما یو کہ ٹھہ



بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲۵﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ  
 لِلنَّاسِ بِشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۶﴾ وَيَقُولُونَ  
 مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۷﴾ قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا  
 تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقْدِمُونَ ﴿۲۸﴾ وَقَالَ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَا نُو  
 تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْجَعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ

تلازمہ تہ ہاؤ توکھ تم ایم توہہ خدائیس سیت رلاؤ تھ تہند شریک ٹھہراوے وکھ تھے کیاہہ بیوکھ مہیہ تم  
 ہاؤ تھ۔ ہرگز چھنہ تس کا نہہ شریک بلکہ واقس منز چھ سہ معبود برحق شریک آسنہ نشہ منزہ تہ پاک  
 سیٹھاہ غالب تہ زبردست سیٹھاہ حمتہ وول وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بِشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ  
 لَا يَعْلَمُونَ بیہ سوزوہ نہ آسہ تہہ مگر پیغمبر سارنہ لوکن ہندہ خاطرہ بلکہ جنن تہ بشارت دوہ ونے  
 باایمان بیم کردنہ کافر۔ لیکن واریاہ لوکھ چھنہ پٹن نفع و نقصان زانان۔ جہالتہ سیت چھہ انکار کران  
 وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ بیہ چھہ ونان کافر مسلمان کہ یہ قیامت تہیک تہہ ونان  
 چھوہ بیہ وعدہ کر سپدہ پورہ چھوے تہہ پوزونان قُلْ لَكُمْ مِيعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا  
 تَسْتَقْدِمُونَ تہہ فرما یو کہ یارسول اللہ توہہ سیت بیمہ ڈہک وعدہ چھہ سہ چھہ ضرور یوہ ونان۔ تمہہ نشہ نہ  
 ایو تہہ پتھ کڈنہ نہ ایو بروٹھہ آنہ تہندہ پر تھہ اندرہ چھہ ننان توہہ چھہ تھہ انکار وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ  
 نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ بیہ چھہ ونان مکر کہ ہرگز انونہ اس ایمان تھہ قرآن مجیدس  
 نہ تمن کتابن بیمہ بروٹھہ آسہ۔ بیمہ کتھہ چھہ تمن پھوران تھہ دنیاہی اندر قیامتک دوہ گڑھہ کتھہ بیمہ  
 سارے کتھہ مشھہ وَكُلُّهُمْ لِيَوْمٍ مَّوْجُودٍ عِنْدَ رَبِّهِمْ ہر گاہ تہہ وچھوہ وقت بیمہ وقتہ ایم ظالم  
 تہ نافرمان ایستادہ یں کرنہ پنہ نس پروردگارس بروٹھہ کتھہ جواب دہی خاطرہ تہہ وچھوہ کتھہ ہولناک  
 منظرہ اکھ یُرْجَعُ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ الْقَوْلِ اکھ آسہ بیس الزام ووان يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعَفُوا الَّذِينَ

إِلْقَوْلِ يَقُولُ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَلَا أَنْتُمْ  
لَكِنَّا مُؤْمِنِينَ ﴿۳۱﴾ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا وَالَّذِينَ اسْتَضَعُوا الْخُنُ  
صَدْدُكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ ﴿۳۲﴾  
وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرَ الْإِيلِ وَالْ  
تَمَارِ إِذْ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسْرُوا  
النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي آعْنَاقِ الَّذِينَ

اسْتَكْبَرُوا وَلَا أَنْتُمْ لَكِنَّا مُؤْمِنِينَ چنانچہ ادنیٰ درجہ لو کہ و ن ی م تابع آسن اعلیٰ درجہ کین لو کن یم  
متبوع آسن کہ تہندی وجہ گئے اس برباد تہہ نے کہہ ہو اس آسہ ہو با ایمان قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا  
لِلَّذِينَ اسْتَضَعُوا الْخُنُ صَدْدُكُمْ عَنِ الْهُدَىٰ بَعْدَ إِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجْرِمِينَ اتھ پیٹھ و ن تم سر کش  
لو کہ ادنیٰ درجہ کین لو کن کیا ہ آسہ رتوہ تہہ ہدایتس پیٹھ عمل کرنہ نشہ پتھ زورہ۔ ید سہ ہدایت وارہ کارہ  
توہہ نش ووت بلکہ اسوہ تہہ پانہ نافرمان تہ مجرم کہ حق واضح سپدنہ پتہ تہ کوروہ نہ توہہ سہ قبول وون  
چھوہ آسہ گن لاگان۔ وَقَالَ الَّذِينَ اسْتَضَعُوا لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرَ الْإِيلِ وَالْ تَمَارِ توپتہ و ن ادنیٰ  
درجک لو کہ تم ن سر کش لو کن۔ بلکہ رت اس پتھ حق قبول کرنہ نشہ تہند راتس تہ دوہس مکر تہ فریب  
کرہ ن لڈ تَأْمُرُونَنَا أَنْ نَكْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا ید تہہ لو کہ آسہ و ن ان آسوہ کنس خدا یس انکار کرن  
بیہ تس شریک ٹھہرون۔ اتھ گفتگو آس اندر اگرچہ و ن یم کہ اس الزام مگر پندہ جایہ زان کہ قصور  
چھہ واقعی سونے۔ گمراہ کرہ و ن دین واقعی اسی آس یمن کفر و شرکک تجویز کران تم بونمہ درجے لو کہ  
دین اگرچہ یم اسے آسہ غلط و تھ ہاون مگر اسہ تہ پڑہ ہاپن نفع و نقصان و چھن اس کیا زہ رود تم ن تابع  
سون چھہ زیادے قصور وَأَسْرُوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ مگر یہ ندامت تہ پیشمانی تھاون کہ اس نشہ  
پوشیدہ یدہ پنہ نین عملن پیٹھ عذاب و چھن وَجَعَلْنَا الْأَغْلَلَ فِي آعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا آسہ آسن  
جہنمک ہنزہ تم ن کافر ن ہزن گردن منتر او مت تہند اتھ کھور آسن آسہ ہانکو سیت زور بند

كَفَرُوا هَلْ يُجْزَوْنَ الْإِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۲﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ  
 مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ ﴿۳۳﴾ وَ  
 قَالُوا مَنَّا كَثُرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ﴿۳۴﴾ قُلْ  
 إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ  
 لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۵﴾ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرَّبُكُمْ  
 عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنَ الْإِمْنُ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ

کرے مت تھے پاٹھین ژوپنیدل کر تھے جہنم مندر تھ دنہ هل یجزون الاما کانوا یعلمون تم  
 یہ نہ سزاندہ مگر تم کائین ہندیمہ تم کران اسی تھے ووومت او سکھ تھے لون اے پیغمبر برحق یمن  
 کافرن ہندو مگر اہانہ کامیو سیت تہ جاہلانہ کتھو سیت مہ سپدن تھندے دل مبارک آزدہ یہ نوکتھاہ  
 کانہہ چھنہ بلکہ وما ارسلنا فی قریۃ من نذیر الا قال متروفوا انابما ارسلتم بہ کفرون سوزنہ اسہ سہ  
 شہرس منز کانہہ نیم کرہون پیغمبراہ مگر تمہ شہرہ کیو خوشحال لوکو ڈوپ تین از کین کافرن ہندے  
 پاٹھ اس چھہ تھ ساری انکار کران یہ ہتھ تہہ سوزنہ امت چھوہ وقالوا مہن کثر اموالا واولادا و ما  
 نحن بمعذبین بیہ اس تم ونان اسے چھہ تھندہ خو تہ زیادہ مالہ وائل تہ اولاد وائل۔ امہ اندرہ چھہ سپدان  
 معلوم زہ خدا چھہ اسہ نشہ خوش اسے چھہ تس نش مقبول تہ قابل احترام لہذا کرہ نہ سہ اسہ ہرگز عذاب  
 تہہ چھوہ اسہ ہل کھوژہ ناوان قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون  
 تہہ فرماو یو کہ یار رسول اللہ جواب کہ وسعت رزق چھنہ دلیل مقبول عند اللہ آج بلکہ چھہ یہ محض تھند  
 یشھن بے شک میون پروردگار چھہ وسعت کران رزقس اندر یمن یشھان چھہ بیہ چھہ سئ کمی کران  
 رزقس اندر یمن یشھان چھہ تھن یہ چھنہ تھندس خوش آسس یا ناخوش آسس پیٹھ دلیل۔ لیکن اکثر  
 لوکھ چھنہ یہ تھہ زانان تھن چھہ خیال مال تہ اولاد بکثرت آسن چھہ کینہہ شرنے وما اموالکم ولا  
 اولادکم بالتی تقر بکم عندنا زلفی الامن امن وعمل صالحا فاولیک لهم جزاء الضعون بما

جَزَاءُ الضَّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۳۷﴾  
 الَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي الْاِيتِنَا مُعْجِزِينَ اُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ  
 مُحْضَرُونَ ﴿۳۸﴾ قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ  
 مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ  
 يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۳۹﴾ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا  
 ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ اِهْؤُلَاءِ اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ ﴿۴۰﴾  
 قَالُوا سُبْحٰنَكَ اَنْتَ وَلِيْنَا مَنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ

عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ الْمُؤْمِنُونَ مگر البتہ یہو ایمان اون بپہ کر کچھ رتھہ عملہ پس تمنے لوکن ہندہ خاطرہ  
 چھہ دوگناو تھہ مزور بپہ آسن تمے جنتہ کین بالاخانہ تہ بنگلن منز آرام واطمینانہ سان بہتھہ  
 وَ الَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي الْاِيتِنَا مُعْجِزِينَ اُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ دون یم لوکھ اتھہ بدل محض  
 مال واولاد آسنہ سیت مغرور آسن ایمان و عمل صالح اختیار کرن نہ بلکہ آسن سائین آیتن پھڑاونہ تہ  
 باطل کرنہ خاطرہ کوشش کران بہتھہ آسہ یاسائین پیغمبرن عاجز کرن تم ین نار <sup>بہتھہ</sup> عذابس گرفتار  
 کرنہ خاطرہ حاضر کرنہ قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ تہہ  
 فرماو یو کھہ یارسول اللہ بے شک میون پروردگارہ چھہ وسعت کران رزقس اندر یکن یشھان چھہ پنے نیو  
 بندواندرہ بپہ چھہ سنی رزقس اندر تنگی کران یکن یشھان چھہ پنے نیو بندواندرہ لہذا بہتھہ خرچہ نہ کرنہ  
 سیت رزقس ہران خدا بپہ سزمن و تن اندر خرچہ کرنہ سیت بہتھہ رزقس کم سپدان وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ  
 فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ بپہ یہ کینز ہاتھہ خرچہ کران چھوہ رژن و تن اندر تمے سندہ حکمہ  
 موجب سہہ چھہ تمیک بدلہ عطا کران دنیا س اندر تہ آخرتس اندر تہ بپہ چھہ سنی رزقس عطا کرہ ون  
 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ اِهْؤُلَاءِ اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ بپہ بپہ دوبہ اللہ تعالیٰ  
 سارنے میدان محشرس منز جمع کرہ تو پتہ یرتھہ ملائکن کیاہ یم لوکھ آسہ تو ہی عبادت تہ بندگی کران  
 قَالُوا سُبْحٰنَكَ ملائکہ وپن ای سانہ پروردگارہ تہ چھہ منزہ تہ پاک شریک آسنہ نشہ اَنْتَ وَلِيْنَا

الْحِجْنَ أَكْثَرَهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ﴿۳۱﴾ فَأَيُّوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ  
لِبَعْضٍ نَفَعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ  
النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ﴿۳۲﴾ وَإِذَا شِئْنَا عَلَيْهِمُ ابْتِنَا  
بَيْنَ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانُ  
يَعْبُدُ آبَاؤَكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا آفِكُ مُفْتَرِيٌّ وَقَالَ  
الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْحَقُّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۳۳﴾

من دُونِهِمْ ثے جھٹھ سون مولا اُسہ چھہ ثے سیت تعلق۔ یمن لوکن سیت جھنہ کانہہ تعلق بَلْ  
كَانُوا يَعْبُدُونَ الْحِجْنَ أَكْثَرَهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ بلکہ اُس تم بندگی کران جن ہنز۔ تمواندرہ اکثر و اوس  
تجے ایمان اومت فَأَيُّوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفَعًا وَلَا ضَرًّا اللہ تعالیٰ فرماوہ از جھنہ توہہ اندرہ  
کانہہ اختیار نہ کانہہ فائدہ و اتاؤنگ نہ کانہہ ضررتہ نقصان و اتہ ناؤنگ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا  
عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ بیہ و نواس تمن ظالمین یعنی کافرن ژہو مزہ تمہ نار جہنمک تمہ  
عذابک ستنہ نہہ اہو زمانان آسہہ وَإِذَا شِئْنَا عَلَيْهِمُ ابْتِنَا بَيْنَ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ  
يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانُ يَعْبُدُ آبَاؤَكُمْ بیہ یلہ تمن پیٹھ پر نہ یوان چھہ سان واضح تہ ن آیات، دپان چھہ یہ شخص  
چھنہ مگر اسی ہوموہنہہ۔ اسی ہوانساناہ اُس پانس پیغیر دپان چھہ یہ چھہ یژھان توہہ پتھ رشن تمن  
معبودن نشہ یمن معبودن نشہ یمن ہنز پرستش ٹھندے مال بدبب کران آس وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا آفِكُ  
مُفْتَرِيٌّ بیہ اُس دپان یہ قرآن مجید چھہ ایزاہ ٹھہرونہ آمت اچ نسبت خدائیں گن صحیح چھنہ  
وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْحَقُّ لَمَّا جَاءَهُمْ إِنَّ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ بیہ آس ونان کافراتھہ پزس یعنی  
قرآن مجیدس یلہ سہ تمن نشہ و اتان اوس یعنی پر نہ یوان اوس دپنہ اوسکھ یوان یہ یلہ ٹھہرونہ آمت  
ایز چھہ ادہ کیاہہ چھہ عاقلن تہ گالین امہ سیت اثر گڑھان تمیک جواب آسے ونان یہ چھنہ مگر نون جوداہ  
تہ سحر اہ تی چھہ لوکن پیٹھ امیک اثر سپدان تنزہ عقلہ چھہ مغلوب سپدان وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ

وَمَا اتَيْنَهُمْ مِنْ كِتَابٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ مُبَلِّغًا  
 مِنْ نَذِيرٍ ۗ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَعْشَارًا  
 مِمَّا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۗ قُلْ إِنَّمَا  
 آعَظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِي وَفِرَادَىٰ شُجْرًا  
 تَتَفَكَّرُونَ ۗ مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ


یَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ مُبَلِّغًا مِنْ نَذِيرٍ۔ بین پڑھنا قرآن مجید سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
 سز سیٹھا قدر کرن کیا زہ یہ بندہ خاطرہ آسہ یمہ دوشوے نعمو غیر مترقبہ یمن ہنزنہ تمن کا نہہ شا کھے  
 آس کیا زہ آسہ اُس نہ تمن پیٹھ امہ قرآن مجیدہ بروٹھ کا نہہ آسمانی کتاب نازل کر مٹیوسہ تم پر ان سے  
 پرہ نادان آسہ ہن تھے پاٹھ سوزنہ اسہ تمن گن تو بہہ بروٹھ کا نہہ بیم کرہ دن پیٹھ براہ داریاہ کالہ پیٹھ۔  
 ٹہندہ خاطرہ اوس پیٹھ یعنی تہند ذات مہارک سے بد نعمت امہ تعجب سے شوبہ ہا تمن قدر کرن مگر تمو کرنہ  
 کا نہہ قدرہ اورہ بلکہ کورکھ انکار سے بخذیب۔ مگر یہ بخذیب کر تھ ہٹھن تمن فکرے روزن کیا زہ بخذیب  
 کرہ ٹک سزا چھ سیٹھاہ سخت وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مَعْشَارًا مِمَّا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي  
 فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ چنانچہ یمن بروٹھ یم کافر آس تمو سے کورپنہ نین پیٹھ برن سے تہندس وحس انکار  
 حالانکہ یم کافر واتہ ہن نہ تمہ کس دہمس حصّ سے یہ آسہ تمن عطا کورمت اوس مال ودولت و اُلس سے  
 طاقت تمہ پتہ سے یمہ تمو میانین پیٹھ برن انکار سے تہنز نافرمانی کرادہ چھ ژیہ خبرے میون انکار کیتھ اوس  
 یعنی تہندہ انکار ک ٹرا کیتھ دیت میہ تمن تیوت مال ودولت آستھ ما آؤ تمن لحاظ کرنہ یمن از کین  
 کافر ن ہٹھن تمیک دہیم حصہ سے یمن میک غرور سے پندار چھ کہ یم چھ کران سائین آیاتن سے سائین پیٹھ برن  
 انکار قُلْ إِنَّمَا آعَظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مِثْلِي وَفِرَادَىٰ شُجْرًا تَتَفَكَّرُونَ ۗ مَا بِصَاحِبِكُمْ  
 مِنْ جِنَّةٍ تہہ فرما دیو کھ یار رسول اللہ بہ تھسوہ توبہ اکے مختصر کتھاہ ونان یمہ سیت واضح سے روشن سپدہ  
 توبہ پیٹھ معاملہ کہ تہہ و تھیو محض خدایہ سندہ خاطرہ تھہ اندر نفسانیت یا تعصب آسہ زیززن یا الگ

بَيْنَ يَدَيَّ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴿۳۶﴾ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ  
 فَهُوَ لَكُمْ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
 شَهِيدٌ ﴿۳۷﴾ قُلْ إِنْ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَٰمَ الْغُيُوبِ ﴿۳۸﴾  
 قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ ﴿۳۹﴾ قُلْ إِنْ  
 ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحَىٰ  
 إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ ﴿۴۰﴾ وَكَوْتَرَىٰ إِذْ فَرَغُوا فَلَافُوا

الگ آکھ آکھ زون تو پتہ کر تو وارہ فکر تہ غور تہندس رفیقس ئیس گرہ گرہ تو بہہ سیت آسان چھہ یعنی میہ پانس ماچھہ نہ قسمہ مثر عقلہ اندر کنہ قسمہ خلل نقصان نہ کمی۔ بلکہ چھہ میہ کمال عقل عطا کرنہ آمت  
 اِنُّ هُوَ الْاِنْدِيءُ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيَّ عَذَابٍ شَدِيدٍ یہ صاحب چھہ نہ مگر تہندہ کمال شفقتہ موکھہ تو بہہ  
 بیم کران آکھ ادہ ونہ سخت عذابہ نشہ۔ قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ اِنُّ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰی اللّٰهِ  
 وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ یہ تہ فرما یو کہ تہہ یار رسول اللہ کہ یہ تہہ کانہہ مزدوریہ، معاوضہ منگان  
 چھس دین حق و اتناونہ خاطرہ سومزور تہ معاوضہ گووہ تو ہی مہ چھہ نہ کانہہ ضرورتہ۔ میان مزدور چھہ  
 خدایہ سے مہ سہ چھہ پر تہہ چیزس پیٹھہ مطلع تہ گواہ قُلْ اِنُّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَٰمَ الْغُيُوبِ تہہ  
 فرما یو کہ بے شک میون پروردگار چھہ اپزس پیٹھہ پوزدارت ودان یمہ سیت اپزگلان چھہ۔ سہ ہتھہ  
 سورے غاب زانہ ون قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِيُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ تہہ فرما یو کہ پوزدین حق آو  
 اپزدین رودنہ نہ کامہ ہند معبودان باطل نہ ہمکن گووہ کانہہ چیز اہ پادہ کر تھہ نہ ہمکن دبارہ کانہہ چیز اہ پادہ  
 کر تھہ قُلْ اِنُّ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ  
 یہ تہہ فرما یو کہ تہہ کہ یلہ دین اسلامگ پوز آسن ثابت سپد ہر گاہ بالفرض ڈولمت آسہ ادہ تمیک نقصان  
 چھہ میانسے ذاتس پیٹھہ ہر گاہ بہ تھہ پزس دینس پیروی کر تھہ سیزہ وتہ پیٹھہ چھس ادہ تہ چھہ تمہ کی برکتہ  
 یہ کنیہ ہاہ پروردگار میون مہ گن وحی سوزان چھہ پز پاٹھہ سہ چھہ سورے بوزہ ون سیٹھہ نزدیک پر تھہ

وَإِخْذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ۝۵۱ وَقَالُوا الْمَثَابَةُ إِنْ أَتَىٰ لَهُمُ  
التَّنَاوُسُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝۵۲ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ  
وَيَقْدِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ۝۵۳ وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا  
يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ ۝۵۴

اک سُنْدِ حَالِ هَجْتِهِ تَسْ مَعْلُومِ پَرِیْتِهِ اَکْسِ دِیَہِ سَہِ پَنۡتِہِ عَمَلِہِ مُوجِبِ مَزُورِ وَکَوْتَرِیٰ اِذْ فَرَعُوْا فَلَاقُوْتِ  
وَإِخْذُوا مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ ہر گاہ تہمہ وچھو یارِ سَولِ اللہِ سَہِ وَتِمْتِہِ یِمۡہِ سَاۡتِہِ قِیَامَتِگِ دَوۡہِ کَا فِرِ قِیَامَتِگِ  
اِحْوَالِ وچھتہہ بانبرِ مِیتِ اَسَنِ خَوفِہِ سَبِہِ اَسَنِ تَمۡہِ سَاۡتِہِ اَوۡرِہِ یُورِ کِرَانِ ثَلۡہِ نَیْجِ اَیْکِہِ نَہِ کَا نَہِہِ صَوۡرِ تَہَاہِ  
فُورِ اَیۡنِ تَمِ رَہۡنِہِ کَرِ فَنَارِیۡنِ کَرۡنِہِ وَقَالُوا الْمَثَابَةُ وَآتٰی لَہُمُ التَّنَاوُسُ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ تَمۡہِ سَاۡتِہِ دَیۡنِ  
تَمۡ کَا فِرِ قِیَامَتِگِ خَوفِ نَاکِ حَالِ وچھتہہ اَسَہِ اَوۡنِ اِیۡمَانِ دِیۡنِ حَقۡسِ پِیۡٹِہِ دَوۡنِ سَہۡدِنِ سَوۡنِ تَوَبِہِ قَبُولِ سَہِ کَیۡتِہِ سَنَا  
بَنۡہِ تَمۡنِ اِیۡمَانِ سُنِّ تَمۡہِ سَاۡتِہِ اَتَہِہِ زَیۡطِہِ اَوۡنِ دَوۡرِہِ جَاۡیِہِ پِیۡٹِہِ اِیۡمَانِ اَنۡہِ نَیْجِ جَاۡئِہِ اَسِ دِنِیَاہِ کِیَازِہِ سَہِ اَوۡسِ  
دَارِ العَمَلِ اَخرِ تِ چَہِ دَارِ الجَزَاۡءِ۔ اَتَہِہِ نَہِیۡہِ اِیۡمَانِ قَبُولِ کَرۡنِہِ نَہِیۡہِ کَا نَہِہِ عَمَلِ قَبُولِ کَرۡنِہِ نَہِیۡہِ تَوَبِہِ قَبُولِ  
کَرۡنِہِ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ حَالَانِکَہِ بَرُوۡنِٹِہِ دِنِیَاۡءِ اِنۡدَرِ مَوۡقِعِہِ وَزِہِ کُورِ کَہِ تَہِ اِنۡکَارِ وَيَقْدِفُونَ  
بِالْغَيْبِ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ \* وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا فِي شَكٍّ مُرِيبٍ  
ٹُہُورِ اَوۡ کَرۡنِہِ تَمۡنِ مَنۡزَبِہِ تَہۡزِنِ تَمۡنِ خَواہِشَاتِنِ مَنۡزِہِ تَہِہِ پَاٹِہِہِ کَرۡنِہِ اَوۡ یُوۡہِہِہِ دَرِ تَاوِ تَہۡمَدِیۡنِ ہِمۡ مِثۡرِ بِنِ  
سِیتِ یَمُوتِہِہِ بَرُوۡنِٹِہِ کُفۡرِ وِشَکِ کُورِ۔ کِیَازِہِ تَمۡہِ تِہِ اَسَہِ نَا حِیۡرَانِ کَرِہِ وِلسِ بَدۡسِ شَکۡسِ اِنۡدَرِ بُوۡتَاۡلَا یَمِ تَمِ  
تَرۡدِ دَسِ مَنۡزِ اَسِ تَرَاوِ مَت۔







بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلِكَةَ رُسُلًا  
 أُولَىٰ أَجْحَتِهِ مَثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعٌ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ  
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ① مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ  
 لَهَا ۗ وَمَا يُمْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ②  
 يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرِ اللَّهِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَاعِلِ الْمَلِكَةَ رُسُلًا أُولَىٰ أَجْحَتِهِ مَثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعٌ ساری حمد و  
 ثنا چھ تس معبود برحقس سزاواریم گوڈہ پادہ کور آسمان تہ زمین بس ملائکن چھ بناوان قاصدیم ملک چھ  
 بعضے زہر پکھ وال بعضے ترہ ترہ پکھ وال بعضے ژور ژور پکھ وال ژورن پیٹھ چھنہ بس کران یزیدنی الخلق  
 مایشاء بلکہ چھ ہرہ راون پیدایشہ اندریہ یژھان چھنہ بعضے ملکن چھنہ امہ خونہ زیادہ پکھ عطا کران۔  
 جبریل امیس چھن عطا کرہ مرہ ژورنہ پکھ ان اللہ علیٰ کل شئی قدیور بے شک اللہ تعالیٰ چھ پریتھ  
 چیزس پیٹھ قدرتہ دول کا نہ ہندہ مزاحتہ ورائے مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِنْ رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا يُمْسِكُ  
 فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یوسہ رحمتہا مرہ راوان چھ اللہ تعالیٰ لوکن ہندہ خاطرہ تھ  
 بیحہ نہ بندہ کر تھ کا نہہ پیٹھ سہ بند کرہ تھ بیحہ نہ پتہ یلہ تراوتھ کا نہہ۔ سئی چھ سیٹھابہ غالب حکمتہ  
 دول يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اے لوکویاد کرو خدایہ سزہ تمہ بیشمار نعمتہ بیمہ توہہ تم عطا  
 کرہ نوہ تمہن نعمتہ ہند شکر کرواد۔ سہ شکر گوویوہے کہ شرک تراو۔ تو حید کرو اختیار، چنانچہ اسہ  
 کرووہے تھے باخبر دو یو بچو نعمتوسیت سؤگیہ نعمت خلق تہ نعمت رزق نعمت ایجاد تہ نعمت بقا هَلْ مِنْ خَالِقٍ  
 غَيْرِ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کیا چھا کا نہہ پادہ کرہ وناہ معبود برحقس ورائے بس توہہ رزق

بِرُزُقِكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿۶﴾  
 وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ  
 الْأُمُورُ ﴿۷﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغْرِبْكُمْ الْحَيَاةُ  
 الدُّنْيَا وَلَا يَغْرِبْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿۸﴾ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ  
 عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِن أَصْحَابِ السَّعِيرِ ﴿۹﴾ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ

سوزان چھ آسانہ تہ زیمچہ طرفہ یلہ تے آتھہ تمہ دوشوے کامہ چھ لہذا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ کانہہ معبودہ  
 جھنہ تس وراے سئی چھ سزاوار عبادت یلہ معبودیت تسدے حق چھ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ادہ تھہ کنہ چھوہ  
 تھہ شرک کرتھ ہوت پکانونہ یوان وَإِن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ رَسُولٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ  
 اے پیغمبر بحق ہر گاہ توہمہ یمہ مکہ ہک لوکھ اپن پور زانان چھ ادہ یہ کانہہ نوکٹھہ جھنہ توہہ برو تھہ یم پیغمبر  
 آس تمہن تہ چھ محکذب کرنہ آمت لہذا مہ سپدو تہہ امہ سیت آزدہ دو یم چھ یہ تھہ کہ سارے کامہ  
 ین خدایہ سے گن واتانونہ تے نشہ پیش کرنہ سہ انزراوہ پانے یہ سوری توہہ مہ برو کانہہ غم۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ  
 إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغْرِبْكُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغْرِبْكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ اے لو کو یہ بوز تھہ کہ خدایہ سے  
 گن ین واتانونہ ساری امور متھنہ توہہ دنیا چ زنگدی ڈھو کہ دیہ تھہ منز بوڈ تھہ سپدو غافل قیامتہ نشہ بیہ  
 متھنہ توہہ دھو کہ باز شیطان بچھ دھو کس منز تراوہ کہ اللہ تعالیٰ چھ غفور ترہ رحیم سہ کرہ نہ توہہ کینہہ تہ  
 عذاب إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا ہمزے پاٹھہ یہ شیطان (سمسز پیٹھ ذکر آئیہ) چھ تھند دشمن  
 تھہ تہ زانیون سہ ہن دشمن۔ إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِن أَصْحَابِ السَّعِيرِ سہ جھنہ پنہ نس جماعتس  
 ناودوان شرکس تہ ٹھرس گن مگر تھہ تم تہ سپدن جہمید اندرہ الَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ یم لوکھ  
 کافر سپدے یمو شیطان سندس نادس اجابت کور تھندس دھو کس منز آئے تھہہ خاطرہ چھ سخت  
 عذاب آخر تس اندر وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ بیہ سمو شیطانہ سز مخالفت

مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۚ وَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ  
 اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ  
 عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ  
 الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْتَنُهَا إِلَىٰ بَدْيِ مَدْيَنَ فَأَحْيَيْنَاهِ الْأَرْضَ

کرتھ ایمان اون بیه کرکھ رتھ عملہ تہندہ خاطرہ چھ گنہن بوڈ مغفرت بیه ایمان و عمل صالحس پیٹھ بڈ  
 مزور۔ یلہ کافرہ سُنْد انجام عذاب شدید چھہ با ایمانہ سُنْد انجام مغفرت تہ اجر کبیر چھہ کیاہ یم زہ بیکنہ  
 برابر آتھ یعنی اَمَّنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ کیاہ سہ  
 شخص اُس بہن پچھ کام مزین آہیہ کرنہ تو پتہ لوگ سہ تھ پچھ کامہ رتھ نظرہ و چھنہ بیاکھ شخص چھہ پچھ  
 کامہ پچھ نظری و چھان ہنہ تہ یہ چھا برابرے گوڈہ نیک شخص گوو کافر اُس شیطانہ سُنْدہ ڈالہ سبہ باطلس  
 حق زانان مضر چیزس نفع دوہ و ن زانان دوم شخص گوو با ایمان اُس پیغمبرن ہنز پیروی چھہ کران،  
 شیطانہ سنز مخالفت چھہ کران باطلس چھہ باطل زانان حقس چھہ حق زانان مضر چیزس چھہ مضر زانان  
 مفید چیزس چھہ مفید تہ نافع زانان تم زہ چھنہ ہر گز برابر بلکہ چھہ اکھ جہنمی بیاکھ چھہ جنتی۔ پس شیطانہ  
 سندس دھوکس منز اوہ و ن تہ شیطانس دشمن زانہ و نین منز چھہ ایڑ فرق لہذا چھہ اس توہہ و نان پتھنہ  
 توہہ شیطان دھوکہ دیہ۔ سہ چھہ تہند بوڈ دشمن۔ ہر گاہ توہہ اتھ پیٹھ تعجب سپدہ کہ عاقل شخص تھہ  
 پاٹھ زانہ پچھ کامہ رتھ کام تمیک وجہ چھہ ای زہ اللہ تعالیٰ اُس یڑھان چھہ تس چھہ گمراہ کران تسز عقل  
 چھہ چھنمب گڑھان۔ اُس یڑھان چھہ تس چھہ ہدایت کران۔ تس چھہ عقل درست روزان۔ وون یلہ  
 ہدایت تہ گمراہی چھہ اللہ تعالیٰ سندس یڑھ تس تان فَلَا تَذْهَبُ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسْرَتٍ اُس مہ گڑھن  
 توہند بدن مبارک گلت تمس پتھ غم کیوان کیوان، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ پڑپاٹ اللہ تعالیٰ چھو  
 پوزانہ و ن تہ سوروی یہ تم کران چھہ سو دیہ تمس پانے سوسز ایس تمس شوبہ وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ  
 فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْتَنُهَا إِلَىٰ بَدْيِ مَدْيَنَ فَأَحْيَيْنَاهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ معبود بر حق چھہ سہ

بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّشُورُ ۹ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ  
جَمِيعًا إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ۗ وَ  
الَّذِينَ يَمْكُرُونَ السِّيَّاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ۖ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ

قدرت و دل نُس رود تراوندہ بروندھ و اوسوزان چھہ، تم و اوچھہ ٹکان او برن تو پتہ چھہ اس تم او بر  
پکہ تاوان کنہ مردہ تہ خشک زمینس کن تو پتہ چھن اسی سہ زمین تمہ رودہ سیت زندہ تہ سر سبز کران تھہ پاٹھ  
کیاہ کرو کہ اُسے لو کہ تہ قیامتک دوہ دوبارہ بیہ زندہ یلہ لو کن قیامتک دوہ دوبارہ زندہ سپدن چھہ تمن پزہ  
تہ چہ ذلت و خواری نشہ بچہ نچ کاہنہ فکراہ کرن مُشرک چھہ شیطان سہہ اغوا سیت معبودانِ باطلن  
زانان ذریعہ تمہ ذلت نشہ پنہ خاطرہ چنانچہ تم اُس وانان ہو لاء شفعا نا عند اللہ یعنی یم معبودان  
باطل چھہ اُسہ سفارش کرہ ون خدا یس نشہ دنیا کین حاجتن اندر تہ آخرتس اندر تہ تھہ متعلق چھہ اللہ  
تعالیٰ فرماوان مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا اُس اکھاہ ژھانڈان آسہ عزت دنیا و آخرتس اندر  
سہ ژھانڈان عزت خدایہ سنز فرمانبرداری کر نہ سیت تھہد حکم مانہ سیت کیا زہ سو روی عزت چھہ  
بالذات خدایہ سے بین چھہ عزت بالعرض اُس چیز بالعرض آسہ سہ چھہ ہمیشہ محتاج آسان تس لیس  
متصف بالذات آسہ پس چھہ ساری محتاج عزتس اندر خدا یس یا خدا یس نشہ یہ عزت حاصل کرن قولاً  
تسنز اطاعت کر نہ سیت خدا یس نشہ چھہ یکے چیز پسند چنانچہ اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ خدایہ سی کن چھہ  
واتان رُت کلام تہ رت کلمات سی تھہ تمن قبول کران۔ رتس کلامس اندر او کلمہ ء توحید یہ ساری  
اوراد و اذکار۔ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ بیہ چھہ رتہ عملہ تہ ہیور کھاران قبولیتہ چہ درگاہ منز سارے  
عملہ چھہ قبول سپدان توحیدہ سیت وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السِّيَّاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ یم لو کہ اٹھ خلاف  
طریق اختیار کر تھہ تہنز مخالفت چھہ کران یوسہ عین مخالفت گیہ خدایہ سنز کرنے تو پتہ چھہ بیچہ بیچہ  
تدبیر کران تو ہہ تکلیف و اتاوندہ خاطرہ۔ تھہہ خاطرہ چھہ آخرتس اندر سخت عذاب اُس تمن ذلتک  
باعث بنہ تھہد معبودانِ باطل ہمکن نہ تمن عنہ قسمک عزت عطا کر تھہ بلکہ سپدن تم تمن برخلاف  
وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يُبْوَ تھہد ساری تدبیر فندہ فریب گڑھن بے کار۔ چنانچہ تی سپد تہ تم اُس برٹھان تہ  
کوشش کران اسلامکہ ختم کرہ نچ تھہ منز گے تم پانہ ختم اسلامس دژ اللہ تعالیٰ ان روز بروز ترقی وَاللَّهُ

یَبُورُ ۱۰) وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ  
 أَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا عَلِيمَهُ وَمَا يَعْمَرُ مِنْ  
 مُعْتَمِرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۱۱  
 وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذَابٌ قُرْآتٌ سَابِعٌ شَرَابُهُ وَ  
 هَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لِحْمَاطٍ يَا وَيْلَتَ لَئِن لَّمْ يَكُنْ  
 حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاحِرَ لَتَبْتَغُوا مِنْ

خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا۔ بیہ کر وہ توہ اللہ تعالیٰ ان پادہ در ضمن پیدایش آدم  
 علیہ السلام میوہ۔ تو پتہ کرے نوہ مستقل طور توہ پادہ آبہ قطر س منی ہندس تو پتہ کر نوہ تہہ جورہ  
 جورہ مردتہ زنانہ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا عَلِيمَهُ۔ بیہ چھ تہند علم امہ قسمہ کہ چھنہ کانہہ زنانہ  
 باردار سپدان بیہ چھنہ کانہہ زنانہ پر بیان مگر سوری چھ سپدان اللہ تعالیٰ سہہ علمہ موجب وَمَا  
 يَعْمَرُ مِنْ مُعْتَمِرٍ وَلَا يُنْقِصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ۔ تہہ پاٹھ چھنہ کانہہ ہنز عمر زیادہ کرنہ یوان نہ چھ کانہہ  
 ہنز عمر کم کرنہ یوان مگر تہہ سوری چھ لورح محفوظس اندر لیکھتہ اللہ تعالیٰ ان پنہہ علم قدیمہ موجب تہہ  
 منز لیکھتہ تھوومت إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ بے شک یمہ کامہ چھ اللہ تعالیٰ اس پیٹھ سیٹھہ آسان  
 کیازہ تہوند علم چھوزاتی، قبل از وقوع برابر تہہ کیساں، وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذَابٌ قُرْآتٌ سَابِعٌ  
 شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وچھ ژہ قدر تہہ دلیلہ کہ آب چھ اکوی مادہ باوجود آل چھ تہہ منز  
 اختلاف۔ چنانچہ زہ سمندر چھ بوزنہ یوان ہی مگر اکہ سمندر ک آب چھ مؤڈر میوٹھ تہہ مزہ دار شیریں  
 تہہ خوشگوار تریش ہمہ راوہ ون چھ آسان تمیک ہٹہ یون والن کیازہ طبیعت چھ تہہ قبول کران۔ بیاکھ  
 سمندر، تمیک آب چھ نن ژوش تہہ یوٹھ تمیک اکھ دام تہہ چھنہ ہٹہ بون وسان تمہ پتہ چھ تہندہ  
 قدر تک بے بے نشانہ کہ وَمِنْ كُلِّ تَاكُلُونَ لِحْمَاطٍ يَا وَيْلَتَ لَئِن لَّمْ يَكُنْ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا۔ سمودوشوے  
 دریاوہ منزہ چھوہ تہہ گاڈہ رٹان تہہ تہند تازہ ماز چھوہ تہہ کھیوان بیہ چھوہ دوشوے دریاوہ اندرہ گھنہ

فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱۲﴾ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۖ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ ۗ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْبِيرٍ ﴿۱۳﴾ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَوَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ ۗ

کڈان یعنی محنت سے لدھر تمہ کوئی گہنہ چھوہ پانس پاران وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَازِلَ تَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بے چھٹ ڈہ اے مخاطب وچھان ناوہ تہ جہازہ اتھ سمندر س منز تھہ پاٹھ چھہ تم آبس ژنان پکان بیتھ تھہ تمن منز سفر کر تھہ ژھاندو۔ خدایہ سُنْد فضل تہ روزی سہ روزی حاصل کر تھہ کرو تهنز شکر گذاری بے چھوہ تهنزہ بے قسمہ نعمہ مثلاً يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَالنَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى سہ معبود برحق چھہ راتھ ہندین اجزاء ن وائے ناوان ڈہیہ کین اجزاء ن منز بیہ چھہ ڈہہ کین اجزاء ن وائتاوان راتھ ہندین اجزاء ن منز بیہ سیت تم نفع حاصل سپدان چھہ یم ڈہہ کس تہ راتھ کس بدلنس تہ ژھوٹہ نس منز حاصل سپدان چھہ بے چھہ تم آفتاب تہ زون کامہ لاگہ مت، تمواندرہ چھہ پریتھہ اکھاہ پکان وقت مُقرر س تام یعنی قیاس تان روزن پکان بیتھ پاٹھ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ یوہے پروردگار یم سند یہ شان چھہ کیاہ گووتھند پروردگار تسمنز ساری سلطنت چھہ وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطْبِيرٍ تس ورائے یم معبودان باطل چھہ یمن ہنز تھہ پرستش کران چھوہ یمن تھہ آلودوان چھوہ خدایس ورائے تم چھہ مالک خضر آنچہ ہندس دیس یا تمہ کس منزہ مس پانس إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دَعَاءَكُمْ وَوَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ ہر گاہ تھہ تمن نادوان چھوہ تم چھہ تھند نادبوزان ہر گاہ بوزہ بن تہ توتہ بیچہ بن نہ تم توبہ کا نہہ مدد کر تھہ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ تھہ چھوہ تمن خدایہ سند شریک ٹھہراوان قیامتک دوہ کرن تم تھندہ شرکہ نشہ انکار وَلَا يُبَدِّلُكَ وَمِثْلَ خَيْبِرِ اللہ تعالیٰ چھہ پریتھہ کہ چیزج حقیقت زانان اے

وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿۱۳﴾ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۱۴﴾ إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ ﴿۱۵﴾ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ ﴿۱۶﴾ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِهْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ إِنَّمَا تُنذِرُ

مخاطبِ تیرہ وئی نہ اصلی حقیقتک حال کانہہ تہ واقف کارس ورائے واقف کارچھہ خدائی یوت تس چھہ سارچی پور خبر یایہا الناس انتم الفقراء الى الله واللہ هو الغنی الحمید اے لوکو تہہ چھوہ محتاج پریتھہ چیزس اندر اللہ تعالیٰ اس گن اللہ تعالیٰ چھہ پانہ بے نیاز تس چھہ نہ کانہہ حاجت مٹنہ چیزس اندر۔ تس چھہ پانس ساری صفت تہ سارے خوبہ تہند محتاج آسئس گن نظر کر تھہ کر تم تہندہ فائدہ خاطرہ توحید تہ عملہ ہنز تعلیم ہر گاہ تہہ سو تعلیم مانونہ تمہ سیت واتیو پانس نقصان تہ ضرر اللہ تعالیٰ اس چھہ غنا ذاتی تہ کمال ذاتی تہ تس چھہ نہ تہنز نہ تہنز نہ عملن ہنز بالکل ضرور تھی **إِنْ يَشَاءُ يُدْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ** ہر گاہ سہ یڑہا تہندہ کفر ونا فرمانی موکھ نیہ ہا تو بہہ سارنہ یمہ عالمہ منزہ تو بہہ کرہ ہا گرفتار۔ تو پتہ آنہ ہایتھہ عالمس منز بین لوکن تہ نوین مخلوقن یم نہ تہند پاتھہ کفر ونا فرمانی کرہ ہن **وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ** یہ تھہ اللہ تعالیٰ اس نشہ کیہنہ مشکل اس نہ مگر سہ چھہ تو بہہ مہلت دیوان تھہ منز چھہ زائتمہ تم مصلحت دنیا س اندر چھہ تمہہ ضررک احتمال مگر قیامتک دوہ سپدہ سہ ضرر ظاہرنی الواقع **وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ جِهْلِهَا لَا يَحْمِلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ** ہر گاہ کانہہ گنہن ہند بورتلہ ون ناددیہ کانہہ شخصس کہ میانہ بارہ منز نکل تہ ہناہ تم سندہ بارہ منزہ بیہ نہ ہرگز تلنہ کانہہ چیز اودہ استس سہ پن کانہہ رشتہ دار سہ تلئس نہ تمہ وقتہ آسہ کفر و بد عملی ہند ضرر اس پانس تلن یمن آیاتن منز چھہ مٹرن ہندہ خاطرہ بیم کرہ نک تہ کھوڑہ ناو نک مضمون آمہ پتہ چھہ اللہ تعالیٰ تسلی دیوان سانس رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے محمد تو بہہ مہ حض سپد و غم گین بہندہ انکار

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ  
 وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿۵۸﴾  
 وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ﴿۱۹﴾ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ﴿۲۰﴾  
 وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحُرُورُ ﴿۲۱﴾ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ  
 إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يُشَاءُ ۗ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي  
 الْقُبُورِ ﴿۳۲﴾ إِنَّ أَنتَ إِلَّا نَذِيرٌ ﴿۳۳﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ

کرنہ سیت تمکن چھہ اکہ نتہ اکہ دوہہ ضرور امہ انکارہ سببہ ضرورتلن اِنَّمَا تَنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۗ تہہ نہ حض کھوڑہ ناویوکہ نہ مگر لوکھ یم پنہ نس خدا یس وجھنہ ورائے کھوڑان آسن بیہ یم نماز گزار آسن نماز آسن پابندی سان وقتہ ادا کران وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ۗ نس اکھاہ ایمان انتھہ پاک سپد شرک و معاصیٰ نشہ سہ چھہ سپد ان پاک پنہ فائدہ خاطرہ نس نہ ایمان آنہ سہ تلہ تمیک نتیجہ پانے کیا زہ سارنہ چھہ بتولا کہ واتن اللہ تعالیٰ اس نغمہ متہ تلن تم پانے پنہ نین عملن ہند پھل ۷ نتیجہ ضرور وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَىٰ وَالْبَصِيرُ ۗ یمن لوکن نغمہ کیاہ توقع بیہ تھاونہ یمن ہند ادا رک چھا با ایمان ہند ادا رک یہ چھا ممکن یم تہ کیاہ کرن با ایمان ہند پاٹھ قبول یوز تھہ کیا زہ با ایمان ہنز مثال چھہ قبول حق کرہ نس اندر گاشدارہ سنز تہنز۔ مثال چھہ قبول حق نہ کرہ نس اندر اعماء س تہ نابینا سنز لہذا جھنہ برابر اون تہ گاشدار وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ ۗ تھہ پاٹھ با ایمان یوسہ و تھہ اختیار کر تھہ نورج کافرن یوسہ و تھہ اختیار کر تھہ تاریکی ہنز لہذا جھنہ برابر گھہ تہ گاش وَلَا الظُّلُّ وَلَا الْحُرُورُ ۗ تھہ پاٹھہ یس نتیجہ تہ شمرہ کفرس پیٹھ مرتب سپدہ ون چھہ تھج مثال چھہ متہ تاتج۔ لہذا جھنہ برابر خوشگوار شہل تہ توت تاپہ تاپہ ژنڈ وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ ۗ بیہ جھنہ برابر زندہ تہ مردہ إِنَّ اللَّهَ يُسْمِعُ مَنْ يُشَاءُ ۗ پتر پاٹھ اللہ تعالیٰ چھہ بوزہ نادان نس یرھان جھہ وَمَا أَنتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ ۗ بیہ نہ حض بتوکھنہ تہہ بوزہ ناو تھہ تم





الْوَانِهَآ وَغَرَابِیْبُ سُودٌ ﴿۲۷﴾ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ  
 وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذٰلِكَ اِنَّمَا یَخْشٰی اللّٰهَ  
 مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَآءُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِیْزٌ غَفُوْرٌ ﴿۲۸﴾ اِنَّ الَّذِیْنَ  
 یَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا  
 رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَعَلٰنِیَةً یَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرًا ﴿۲۹﴾  
 لَیُوْفِیْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَیَزِیْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ ﴿۳۰﴾

تہ سخت وزل اڑے کے سفید تہ کے دوزل۔ بیہ بعضے کوہ سخت کرہن۔ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ  
 وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذٰلِكَ بیہ لو کو اندرہ تہ جاناد و اندرہ چارو ایواندرہ تمن ہندے رنگ تہ  
 مختلف بیہ پاٹھ اِنَّمَا یَخْشٰی اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَآءُ اِنَّ اللّٰهَ عَزِیْزٌ غَفُوْرٌ خدا یس چھتھ کھوژان  
 تہند یو بندو اندرہ مگر تے عالم تہ زان وال تہ سمجھ دار بندہ یم دلا کل قدرت و چھتھ تمن منز غور تہ فکر  
 چھ کران تہندین دن اندر چھ تہنزہ عظمتک علم حاصل سپدان پز پاٹھ اللہ تعالیٰ اس کھوژان چھ  
 در ذات خود ضروری کیاہ سہ چھوز بردست سہ بیحہ سورے کر تھ بیہ چھ غایت مقصودہ کہ اعتبارہ تہ  
 ضروری کیاہ سہ چھ پانس کھوژہ و نین بدن سینہاہ مخشہ ون پانس چھ تس کھوژان عزتک مقتضی تہ  
 غفور تیک مقتضی تہ اِنَّ الَّذِیْنَ یَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ  
 سِرًّا وَعَلٰنِیَةً یَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرًا بے شک یم لو کہ ہران چھ تر آن مجید تو پتہ چھ تمہ موجب  
 عمل تہ کران بیہ چھ خصوصیت و اہتمامہ سان پران نماز برابر و تچہ پابندی سان بیہ چھ خرچ کران تمہ  
 مالہ اندرہ بس اسی چھکھ عطا کر مت کھٹ تہ نن پاٹھ تہ۔ تھ پاٹھ ممکن سپد کھ تم چھ خدا یہ سہدہ وعدہ  
 موجب امیدوار تھ نجاست تھ ہمیشہ دائمی نفع تہ فائدہ چھ۔ تھ منز نہ زانہہ تہ نقصان تہ گانہ آسہ  
 کیاہ امہ سوداء ک خریدار کانہہ مخلوقاہ چھتھ بلکہ چھ امیک خریدار پانہ خالق کردگار۔ سہ چھ محض  
 لوکن فائدہ و اتانہہ موکھ امہ معالج قدر کران لَیُوْفِیْهِمْ اُجُوْرَهُمْ وَیَزِیْدُهُمْ مِّنْ فَضْلِهِ اِنَّهٗ غَفُوْرٌ

شُكْرٌ<sup>۳۰</sup> وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا  
لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ<sup>۳۱</sup> ثُمَّ أَوْرَثْنَا  
الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ  
وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ

شُكْرٌ یہ اللہ تعالیٰ تم پر موزور دینے تمہارا عمل ہنزیہ دینے تمہارے فضلہ منزہ بہ ہن زیادہ موزور  
پڑ پائے سہ چھ بخش ہارے قدر دان تمہارا عمل اندر یوسہ کیاہ آس روز مژ سو کر اللہ تعالیٰ ان پورہ  
موزورہ علاوہ دین تمہارا انعام ہے قرآن مجید س پیٹھ عمل کر نکلہ برکتہ بیوہ تمہارا اجر ہے فضل ہے کیا زہ یہ  
قرآن مجید چھ تڑھ کتابہ وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ إِنَّ اللَّهَ  
بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ<sup>۳۱</sup> یہ یوسہ کتاب آسہ توبہ پیٹھ نازل کر سو چھ پڑ کتاب یوسہ تصدیق ہے تائید چھ  
کر ان تمہارا نین تمہارے بروٹھ چھ نازل کرنے آڑھ کہ تمہ کتابہ ہے چھ خدایہ سدی طرفہ نازل آڑھ  
کرنہ۔ اگرچہ تمہ پتہ آو تمہ کتابن تحریف کرنہ اوڈ ملانوانہ ہے اوڈ کڈنہ بے شک اللہ تعالیٰ چھ پنے نین  
بندن ہنزیہ پور خبر تھاوہ ون۔ تمہارا مصلحتن چھ وارہ وچھ ون۔ لہذا ایشہ کامل کتاب نازل کرن آس  
تسز مصلحت منگان۔ کامل کتابہ ہند پورہ عامل ہے چھ کامل موزورہ ہند مستحق بلکہ اجر ہے تہ فضل ہے چھ  
گن نظر کر تھ کر آسہ یہ کتاب توبہ پیٹھ نازل یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ  
اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا تو پتہ واتا آسہ یہ کتاب تمہ لوکن ہندس آتھس اندر ایم آسہ پنے نیو ساروے  
بندواندرہ باعتبار ایمان ہند کرے۔ آسہ اندرہ چھ مراد اہل اسلام تم آسہ ایمانکہ حیثیتہ تمام دنیا کیو لوکو  
اندرہ خدایس نعمہ مقبول چھ اگرچہ تمواندرہ آس پیٹھ عملہ سببہ بعضے لوکھ قابل ملامت ہے مطلب چھ  
کہ سو کتاب واتا آسہ مسلمان ہندس آتھس اندر تو پتہ چھ تمہ مسلمان اندر برگزیدہ ہے پسندیدہ  
آسہ باوجود تریہ قسم فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُّقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ  
هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ تمواندرہ بعضے چھ کانہہ گناہ کرنہ سببہ پنے نین پان پیٹھ ظلم کرہ ون۔ بعضے چھ

هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿۳۳﴾ جَنَّتْ عَدْنٌ يَدُّ خُلُوقَهَا يُحَلِّوْنَ  
 فِيهَا مِنْ آسَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَلَوْلُؤٌ أَوْلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ ﴿۳۴﴾  
 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ إِنَّ رَبَّنَا  
 لَغَفُورٌ شَكُورٌ ﴿۳۵﴾ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ  
 لَا يَسْتَأْذِنُ فِيهَا النَّصَبُ وَلَا يَسْتَأْذِنُ فِيهَا الْغُوبُ ﴿۳۶﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا  
 لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ

گناہ کران نہ چھ رٹن عملن اندر ضرور یا تو نغمہ تجاوز کران بلکہ چھ متوسط درجس اندر روزان بعضے چھ  
 نیکی بہتہ برو نغمہ گنہہ ون خدایہ سندرہ توفیقہ سیت گنہو نشہ پتہ روزان۔ فرایضو علاوہ چھ نوافل تہ ادا  
 کران۔ غرض یہ کتاب واتا واسہ یمن تریثونی قسمن ہندین اتھن اندر۔ یہ کامل کتاب یمن تریثونی  
 قسمن عطا کرنہ ذلک ہُو الْفَضْلُ الْكَبِيرُ یو ہے گو خدایہ سند بوڈ فضل۔ امہ پتہ چھ امہ اجر و فضلک  
 تفصیل جَنَّتْ عَدْنٌ يَدُّ خُلُوقَهَا يُحَلِّوْنَ فِيهَا مِنْ آسَاوِرٍ مِنْ ذَهَبٍ وَلَوْلُؤٌ أَوْلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ  
 سو بڈ مزور گیہ ہمیشہ روزنک باغ تمنی منزواتن تم تریثونی قسمن ہندے لوکھ تہہ تیجک گہنہ لاگنہ سونہ  
 سندرے کمرے بیہ موختہ۔ بیہ آسہ پو شاک تہند جنس اندر پوٹ توت و اتھہ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي  
 أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ توت اثر تھ دین تم جتنی کچھ بود محمد یوین تس معبود برحقس یم دور کر اسہ  
 نغمہ ہمیشہ خاطرہ ساری غم اِن رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ پڑے پاٹھ سون پروردگار چھہ سیٹھاہ مغفرت  
 کرہ ون سیٹھاہ قدر دان الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِن فَضْلِهِ لَا يَسْتَأْذِنُ فِيهَا النَّصَبُ وَلَا يَسْتَأْذِنُ فِيهَا  
 الْغُوبُ یم پروردگارن بساواسہ ہمیشہ ٹھہرنچہ جایہ پنہ فضلہ سیت بیتہ نہ اسہ وائے آسندہ کانہہ مشقتاہ نہ  
 وائے اسہ پتہ کانہہ تکلیفاہ نہ تھگناہ یہ اوس قرآن مجیدس پیٹھ عمل کرہ ونین ہند حال وَالَّذِينَ كَفَرُوا  
 لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا وون سمو لوکو بمن  
 برخلاف ٹھہر کور تہندہ خاطرہ چھہ نار جہنم تمن پیٹھ نہ بیہ موتک حکم کرنہ زانہہ تا اینکہ تی مر نہ سیت

عَنْهُمْ مِّنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿۳۶﴾ وَهُمْ  
يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ  
الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ ۖ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن  
تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَّصِيرٍ ﴿۳۷﴾  
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمُ نُذَاتِ  
الصُّدُورِ ﴿۳۸﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلْفًا فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ

کیاہ مٹوکلہ ہن امہ عذابہ نشہ نہ بیچھ جہنمہ کس عذابس اندر تخفیف نہ کمی کرنہ کذالک نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ ﴿۳۶﴾  
کفُورِ یتھ پاٹھ کیاہ چھ اسے سزاوان پر یتھ کافرس وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا تم لوکھ آسن جہنمس  
منز کر یکہ ووان نہ ووان رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ اے سانہ پروردگارہ  
اسہ کڈیمہ جہنمہ اندرہ اس کرہ ہوون سیٹھاہ رزہ عملہ تمسن عملن بدل یمہ اس کران آس اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم  
نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ اللہ تعالیٰ فرما دیو کھ کیاہ اسہ کرے یہ ناتوبہ سوعمر  
عطا یتھ منز نصیحت رٹہ ہا پس نصیحت رٹن آسہا صرف آییہ نہ توبہ بہ عمرے یا ژ عطا کرنہ بلکہ تمہ علاوہ  
آوتوہ بہ نشہ سانہ طرفہ بیم گرہ ون تہ یعنی پیغمبر۔ مگر توبہ بوزوہ نہ کیہنہ تہ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ  
نَّصِيرٍ وون ژہ بو پینڈہ نافرمانی ہند مزہ۔ تھین ظالمن ہچھنہ بیتہ کانہہ مددگارہ اسے کرووہ نہ مدد کیاہ اس  
چھ توبہ نشہ بے زار اسہ ورائے تہ کرہ نہ توبہ کانہہ مدد۔ کیاہ تمسن ہچھنہ مدد کرہ نس پیٹھ قدر تھے  
راضی آس تن یا متہ آس تن إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ غَيْبِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ عَلِيمُ نُذَاتِ الصُّدُورِ بے  
شک اللہ تعالیٰ ای ہچھ زانہ ون آسمانن تہ زمین ہندے پوشیدہ چیز سکی ہچھ پور زانہ ون وکن ہنزہ  
سارے تھہ هُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلْفًا فِي الْأَرْضِ سنی گو سہ پروردگار۔ تم تھہ زمینس پیٹھ آباد کروہ  
بساوے وہ یمن دلین تہ نعمشن کن نظر کر تھہ پزہ ہا توبہ تس شکر و شادمان۔ مگر تھہ بدل چھ بعضے توبہ  
اندرہ کُفْر و انکارس پیٹھ ڈاڈ کر تھہ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا

فَعَلِيهِ كُفْرًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِلَّا  
 مَقْتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا ﴿۱۰﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ  
 شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا  
 مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ أَمْ اتَّيْنَهُمْ كِتَابًا  
 فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَاتٍ مِنْهُ بَلْ إِنَّ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ  
 بَعْضًا الْأَعْرُورًا ﴿۱۱﴾ إِنَّ اللَّهَ يُمْسِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ

مَقْتًا پس نُس اکھاہ کُفر کرہ تمسندہ کُفر ک دو بال چھ تس پانس۔ بیس کانہہ کیاہ بیکن تم بگار تھہ تہ نقصان کر تھہ کافرن ہرہ راونہ کُفر کرن خدا بیس نشہ کینہہ تہ بیزاری ورائے وَلَا يَزِيدُ الْكَافِرِينَ كُفْرَهُمْ إِلَّا خَسَارًا بیہ ہرہ راونہ نہ کافرن کُفر تہند آخر نُس اندر کینہہ تہ تاوانہ نقصانہ ورائے نہ گو وجنتہ نشہ محروم سیدن جہنمک عندہ ہُن قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ یمن لوکن یم کفرو شرگس پیٹھہ اصرار کر تھہ چھ فرماو تہہہ یار رسول اللہ اے مُشرک۔ میہ ون تو تہہ تمن شرکین ہند حال یمن تہہہ معبود برحق ورائے پر سزہ کران چھوہ۔ اَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ میہ ہا تو تموگس حصہ ہچھہ زینک پادہ کور مُت کینہہ کاہنہہ شر اکٹھاہ چھہ تمن آسمان ہندس پادہ کرہ نُس اندر تاکہہ عنہ عقلی دلیلہہ سیت سپدہ ہاتہند عبادتس مستحق آسن ثابت اَمَّا اتَّيْنَهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَىٰ بَيِّنَاتٍ مِنْهُ کینہہ اسہہ ہچھہ دژ مشرکین ہنن کاہنہہ کتاباہ ہچھہ منز شرکہہ درست آسنک تذکرہ چھہ سیمہ چہ کیند دلیلہہ پیٹھہ تم قائم ہچھہ بَلْ إِنَّ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا الْأَعْرُورًا بلکہ چھہنہ یم ظالم اڈے اڈین وعدہ کران مگر محض دھوکہ تہ فریبک کہ تہند یو بڈیو ہچھہ تمن بے دلیل اکھ کتھاہ ون مشرکہ یم معبودان باطل کرن تمن خدا بیس نشہ سفارش حالانکہ تم معبود چھہ بے اختیار محض۔ لہذا کتھہ پاٹھہ بیکن تم مستحق عبادت آسٹھہ البتہ مختار مطلق ہچھہ ذات باری تعالیٰ نسی چھہ سزاوار عبادت۔ چنانچہ پروردگارہ سندہ مختار آسٹھہ تمن ورائے یم چھہ تہندہ بے اختیار آپخو دلیلو منزہ ہچھہ اکھ مختصر کتھہ بیان




بِأَهْلِهِ ۖ فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ ۗ فَلَنْ تَجِدَ  
لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ۗ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا ﴿۳۳﴾  
أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً ۗ وَمَا  
كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۗ  
إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا ﴿۳۴﴾ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا

وَمَكْرُ السَّيِّئِ وَلَا يَجِئُ الْمَكْرُ السَّيِّئِ إِلَّا بِأَهْلِهِ تکیف رسائی خاطرہ پیچھ تدبیر کرن چھنہ ولن  
یوان مگر تم نے ایم سو تدبیر کروون آسن فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ کیاہ ہم کافر چھاپنہ حقہ تھہ  
چیزس پیاران ئس چیز برو نھین کافرن ہندہ حقہ آواستعمال کرنہ یعنی تھہ پانھ تم گانہ آئے تھہ پانھ  
گوشن ہم تہ گانہ ین فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَحْوِيلًا تی ہنہ ضرور  
کیازہ توبہ لبونہ خدایہ سندس طریقس منز کانہہ تبدیلیاہ بیہ لبونہ تہہ خدایہ سندس اتھہ دستورس منز  
کانہہ تغیراہ تہ تبدیلاہ أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً کیاہ تم چھناہ پھیران ملکس منز۔ ئس وچھہ ہن کیاہ چھہ انجام سد مت تم  
لوکن ہند ہم تم برو نھہ آس۔ ہم آسے بہندہ خوتہ زیادہ قوتہ کن باوجود آس آئے گانہ تہ ختم کرنہ  
وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ اللَّهُ تعالیٰ چھنہ تھہ تہس کیاہیہ عاجز کر تھہ کانہہ چیزاہ فی  
السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ آسمان اندر یازمین اندر کیازہ إِنَّهُ كَانَ عَلِيمًا قَدِيرًا بے شک سہ چھہ  
سورے زانہ ون سارے پیٹھ قدرتہ دول۔ علمہ سیت چھہ سہ پن پر تھہ ارادہ نافذ کران۔ دو ہم چھنہ  
کانہہ اکھاہ تھہ۔ لہذاہیہ نہ تہس کہنہ اکھاہ مغلوب کر تھہ۔ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ  
عَلَى ظَهْرِهِمَا مِنْ ذَاتِ بَرٍّ وَالْحَيُّ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ہر گاہہ اللہ تعالیٰ یمن لوکن گھرہ



كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهِا مِنْ دَابَّةٍ وَّالْكِنُ  
 يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ  
 اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهِۦ بَصِيْرًا ﴿۳۵﴾

چن کابن پيٺه ره باگر فگار کره باتله چهره بانه ز مينس پيٺه کانه حرکت ته صرصر کره ونس جاندارس  
 کيازه نافرمان گيو و پوزے فرمانبردار ته يهن يمه دنيا منزه بيس عالمس منز و اتاونه حيوانات ته يهن ختم  
 کر نه کيازه تم ساری چه انسان هندی خاطر هته دنيا وس منز۔ لیکن سه چه لوکن مهلت دوان اکس  
 مقرر کر نه آمتیس وقتس تان **فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهِۦ بَصِيْرًا** اده يله تم ن پهن مقرر  
 کر نه آمت وقت والته، پس چه الله تعالیٰ پنه نین بدن هند سوری حال پور و چه ون۔ تمس چه ساری  
 بنده نظری۔ پس تم یه کورمت آسه تم ن دیه سه پانه تمج مزدور رته کامه ر ژ مزدور بچه کامه بچه مزدور۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 یس ۱ وَالْقُرْآنِ الْحَکِیمِ ۲ إِنَّكَ لِمِنَ الْمُرْسَلِینَ ۳ عَلٰی صِرَاطٍ  
 مُسْتَقِیمٍ ۴ تَنْزِیلَ الْعَزِیزِ الرَّحِیمِ ۵ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ  
 آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ ۶ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰی أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ  
 لَا یُؤْمِنُونَ ۷ إِنَّا جَعَلْنَا فِیْ أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَافًا هِیَ إِلَى  
 الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ ۸ وَجَعَلْنَا مِنْ بَیْنِ أَیْدِیْهِمْ

یسیم چھ حروف مقطعات اوندہ زہ حرف۔ امیک معنی زانہ پانہ پروردگار وَالْقُرْآنِ الْحَکِیمِ قسم  
 چھ مضبوط و محکم با حکمت قرآن مجید کہ إِنَّكَ لِمِنَ الْمُرْسَلِینَ بے شک چھوہ تہ اے محمد پیغمبر و  
 اوندہ عَلٰی صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ سیزہ و تہ پیٹھ۔ کس تہنز پیروی تہ متابعت کرہ سہ و اتہ خدایس نش۔  
 تَنْزِیلَ الْعَزِیزِ الرَّحِیمِ نازل چھ یہ قرآن مجید کورمت تے خدایس کس سیٹھاہ غالب چھ کس سیٹھاہ  
 رحمتہ و ول چھ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ تہ اوہ پیغمبر سوزنہ بیتھ تہ یم کرو  
 خدایہ سندہ عذابہ نشہ گوڈہ تھہ قومس یمن ہندین مالین بذین اوس نہ امہ عذابک یم امت کرنہ  
 تمی چھ تہ دین حقہ نشہ بے خبر لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰی أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ بے شک تمو  
 اوندہ چھ اکثرن پیٹھ از لکہ تقدیر چ تھہ برابر آثر تہ موکھ آنن نہ تم ایمان إِنَّا جَعَلْنَا فِیْ أَعْنَاقِهِمْ  
 أَغْلَافًا هِیَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُّقْمَحُونَ تہنز مثال چھ زن اسہ چھ تراومت تہنز ان گردن منز  
 غول تم غول چھکھ ہو گنگین تان۔ یمہ سبہ تم کلمہ ہیورگن تھا و تھہ و تھہ چھکھنہ بوزنہ یوان تہندہ  
 ایمانہ دور آج چھ بیا کھ مثال۔ وَجَعَلْنَا مِنْ بَیْنِ أَیْدِیْهِمْ سَدًّا وَأَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشٰیْهُمْ فَهُمْ



جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ ۱۳ اِذْ ارْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا  
فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ ۱۴ قَالُوا  
مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ  
إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا كَذِبُونَ ۱۵ قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُم  
لَمُرْسَلُونَ ۱۶ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۱۷ قَالُوا  
إِنَّا نَطِيرُنَا يَوْمَ يُكْفَرُنَّ كَمَا كَفَرْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّهُمْ لَمُبْرَأُونَ  
مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۱۸ قَالُوا طَائِرُكُم مَّعَكُمْ أَئِنْ

اِذْ ارْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُم مُّرْسَلُونَ يٰلَهُ كُوْدُهُ نِي سُوْرَةِ اٰنۡمِ  
نۡعِبۡرۡ زِهۡ یٰعِیۡبِرۡ تَمُوۡرِ اٰنۡ تَمۡ دُوۡهُ شُوۡعِ اٰنۡ تُوۡپَتۡهُ كُوۡرِ اَسۡمِ تَمۡنِ دُوۡنِ یٰعِیۡبِرۡنِ مَدَدۡ تَرۡسِ یٰعِیۡبِرۡ هۡ سِدۡهِ سِیۡتِ تَمُوۡ  
تَرِیۡشُوۡعِ یٰعِیۡبِرۡ وُدُوۡپِ تَمۡنِ لُوۡكُنۡ یٰشِیۡكُ چَھۡ اَسۡ تُوۡہِمۡ كُنۡ خَدِیۡئۡ سِدۡہِ طَرَفِہِ یٰعِیۡبِرۡ تَمۡہِ كَرُوۡتُوۡحِیۡدِ اٰخْتِیَارِ بُوۡتِ  
پَرۡسِیۡ تَرِاۡوِ قَالُوۡا مَا اَنۡتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا اَنۡزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَیْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا كَذِبُوۡنَ  
تَمُوۡلُوۡ كُوۡ وُدُوۡپِ بَھۡ تُوۡہِمۡ مَنۡزِ كِیۡاۡہِ خُصُوۡصِیۡتِ چَھۡ یٰعِیۡبِرۡ اَسۡمِ بَیۡغِ تَمۡہِ چَھُوۡہۡ نَہۡ مَگَرِ اَسۡیۡ ہُوۡ اِنۡسَانِ خَدِیۡئِ  
رِجۡمَانِ ہَھۡنۡہِ اَزۡ تَمَانِ كَاہۡنَہِ چِیۡزۡے كِتَابِ یَا اِحۡكَامِ نَاۡزِلِ كَرۡمَتِ تَمۡہِ تَرِیۡشُوۡعِ چَھُوۡہِ بَاكِلِ اِہۡوَانِ قَالُوۡا  
رَبُّنَا یَعْلَمُ اِنَّا اِلَیۡكُمۡ لَمُرْسَلُوۡنَ تَمُوۡ یٰعِیۡبِرۡ دُوۡوِیۡہِ كِ سَانِسِ پَرُوۡرِ دِگَارِ سِ ہَھۡ مَعْلُوۡمِ كَہۡ بَے شِكۡ تَہ  
بِقِیۡاۡ چَھۡ اَسۡ تُوۡہِمۡ كُنۡ تَہۡمَدِیۡ طَرَفِہِ بَطُوۡرِ رِسُوۡلِ سُوۡزۡنَہِ اَمۡتِ وَمَا عَلَیۡنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِیۡنُ اَسۡہِ  
پِیۡٹِ ہَھۡنۡہِ مَطۡ مَگَرِ شِیۡھۡ وَاۡتَ نَاوۡنِ پُوۡرَہِ پُوۡرَہِ سُوۡكَامِ كَرِ اَسۡہِ دُوۡنِ چَھۡ مَانِ یَاۡئۡ مَانِ تَمۡہِزۡ كَامِ قَالُوۡا اِنَّا  
نَطٰیِرُنَا یٰكُمۡ تَمُوۡلُوۡ كُوۡ دُوۡپِ كَھۡ اَسۡ چَھُوۡہِ تُوۡہِمۡ زَانَانِ پَھِیۡشِلۡ كِیۡاۡزَہِ تَہۡمَدِہِ یۡنَہِ سِیۡتِ وُوۡتَہۡ شَہۡرِ سِ مَنۡزِ دَرَاگِ  
بِہِ ہُوۡ تَمۡہِہۡ تَحۡرِیۡكۡ سِیۡتِ لُوۡكُنۡ مَنۡزِ تَفَرُّقۡ تَہۡ فِسَادِ لٰكِنۡ كَمَا تَنْتَہُوۡا لِرِجۡمَانِكُمْ وَّلَیۡسَ تَنْتَہُوۡا مِّنۡ عَذَابِ  
اَلِیۡمِ ہَرۡ گَاہۡ نَے تَمۡہِ پَٹَہِ رُوۡزِوِیۡہِ تَبَلِیۡغِ كَرۡنَہِ نِشۡہِ یِمۡہِ تَھۡ وِنۡنَہِ نِشۡہِ اَسۡ لَا یُوۡدِہِ تُوۡہِمۡ كُنۡہِ بِہِ وَاۡتَ تُوۡہِمۡ سَاۡنَہِ

ذِكْرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ ﴿۱۹﴾ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا  
 الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ ﴿۲۰﴾  
 اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿۲۱﴾  
 وَمَالِيَ لَأَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي وَالَّذِي تَرْجَعُونَ  
 آخِذِينَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا إِنْ يُرِيدِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا تُغْنِي عَنِّي

طرفہ سخت عذاب سے رنگارنگ تکلیف قالوا طائبرکم معکم آین ذکرتکم بل انتم قوم  
 مُسْرِفُونَ پیغمبر و دو پہنکے تہنر نحو سٹھ چھ تو بہ گوڑہ پیٹھے پانس سیت کیا زہ ساری تکلیف چھ تو بہ  
 حق قبول نہ کرنہ موکھ ہر گاہ تہہ ساری دین حق قبول کر تھ منفق سپدہ ہوتیلہ نہ آسما تو بہ پانہ وان  
 جنگ وجدال نہ فتنہ نہ فساد نہ آسوم تہہ قسط سالی نہ در اگس بتلا۔ کیا تہہ چھوہ ہتھ کتھ نحوستہ زانان یوسہ  
 نصیحت سعادت تک کن نہ بنیاد چھ واقفس منز یہ نحوست چھنہ بلکہ چھوہ تہہ عقلہ ہندہ نہ شرعکہ حدہ نشہ  
 ڈلہ ون تمی مخالفت شرع سیت واثر تو بہ یہ نحوست امہ گفتگو اوج خبریلہ شہرس منز شائع سہز وَجَاءَ مِنْ  
 أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ توپتہ آوشہر کہ اندرہ پیٹھ اکھ شخصہاہ اُس مسلمان اوس دوران دوران  
 ہتھنہ یم لوکھ پیغمبرن کینہہ تکلیف واتاوان یم سیت تو مگ تو م تباہ گوڑہ قَالَ يَاقَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ \*

اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُّهْتَدُونَ تم شخصن دو کچھ ای لو کو پیغمبرن ہنر کرو پیروی۔  
 تہہ پکو ضرور تہنر ہوتہ یم نہ تو بہ سیزو تھ ہاونہ خاطرہ کتھ قسمہ معاوضہ منگان چھ سبہ چھ تم پانہ سیزہ وتہ  
 پیٹھ تمن کانہہ خود غرضیہ چھنہ اتھ اندر۔ وَمَالِيَ لَأَعْبُدَ الَّذِي فَطَرَنِي وَالَّذِي تَرْجَعُونَ مہ  
 نشہ کیاہ عذر چھتہ مہہ کیاہ گو کہ بہ کیاہ کرنہ بندگی تس پروردگارہ سنز یم بہ پادہ کورنس۔ ون اوس  
 اُس تو بہہ کیاہ گووہ تہہ چھوہ نہ پروردگارہ سنز عبادت کران تم تہہ پادہ کمر نوہ یہ وون آئی پانہ سے ہتھ  
 نہ مخاطبین باعث اشتعال سپدہ۔ بہ چھوہ تو بہہ سارنہ تس کن رجوع کرن، پتولا کہ واتن موجودہ حالتس  
 کن نظر کتر تھ کتھ ہتھ ہیکو تہہ اُس برو تھ کتھ ہتھ دتھ ءَاخِذِينَ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا إِنْ يُرِيدِ الرَّحْمَنُ بِضُرٍّ لَا

شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِدُونَ ﴿۲۳﴾ اِنِّي اِذَا لَفِي ضَلِيلٍ مُّبِينٍ ﴿۲۴﴾ اِنِّي  
 اَمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ ﴿۲۵﴾ قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ لَيْلَتَ قَوْمِي  
 يَعْلَمُونَ ﴿۲۶﴾ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ ﴿۲۷﴾ وَمَا  
 اَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا مُنْزِلِينَ ﴿۲۸﴾  
 اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَاِذَا هُمْ خُمُودٌ ﴿۲۹﴾ يَحْسُرَةُ عَلَى

تَعْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِدُونَ کیا ہے ہیکہ تہند یا ٹھہس درائے تم تم چیز معبودز آنتھ تم  
 ہندہ عجز کیفیت یہ تھہ کہ ہر گاہ خدای رحمان مہ نسبت کانہہ تکلیفہ واتہ تاون یڑہ تم معبودان  
 باطن ہنز سفارش ہیجہ نہ میہ کانہہ فایدہ واتنا و تھہ نہ ہیکن تم پانہ پنہ قدرتہ سیت تہ طاقتہ سیت میہ  
 تمہ تکلیفہ نشہ موہ کلا و تھہ اِنِّي اِذَا لَفِي ضَلِيلٍ مُّبِينٍ ہر گاہ بہ تھہ تاہ کار پنی معبودز انکھ تلہ تھس بہ  
 تہہ گمراہی منز اِنِّي اَمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ میہ تھہ تہندس پروردگارس پیٹھ ایمان او نمٹ۔ توہہ تہ  
 بوزویہ میان تھہ وارہ۔ مگر تم لوکن پیٹھ پیوونہ اس شخصہ سزن تھن ہند کانہہ اثر بلکہ روٹھ تو پتہ  
 مورکھ۔ کتہ لائی لائی کوڈہس جان یازو لکھ نارس اندریا چورہس ہوٹ۔ بہر حال یوموتیو طریقہ آندہ  
 اکہ طریقہ کورکھ شہید قِيلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ شہید سپدو نے سپد تمس خدایہ سندہ طرفہ ارشاد کہ اے  
 باایمانہ گڑھہ اڑہ جنس قَالَ لَيْلَتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ سو باایمان  
 لوگ امہ ساتھ تہ ونہہ کاشمہ میانس قومس سپد ہا معلوم میون حال، کہ مہ کز مغفرت میان پروردگارن  
 ایمان واتباع رسول کہ برکتہ بیہ کورنس بہ باعزت کو کو آندہ۔ یہ بوز تھہ انہ بن تم تہ ایمان۔ تم تہ بیہ  
 ہاتھہ پاٹھ مغفرت کرنہ تہ عزت دنہ۔ یلہ امہ شہرہ کیولو کو پیٹھن تہ تہندین تابعن سیت تھہ معاملہ  
 کور۔ امہ ہیوت تم امیوک انتقام ہینہ خاطرہ وَمَا اَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدٍ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا كُنَّا  
 مُنْزِلِينَ وائل نہ امہ تس باایمانہ سندس قومس پیٹھ تہندہ شہید سپد نہ پتہ سہ قوم گالہ خاطرہ کانہہ  
 لشکرہ ملاکن ہند آسمانہ طرفہ نہ اس اس تھ ضرورت کیاڑہ تہند ہلاک کرن اوس نہ محتان کتہ حجہ لشکرہ

الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ﴿۳۱﴾ أَلَمْ يَرَوْا  
 كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أَنَّهُمْ إِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿۳۲﴾ وَإِنْ  
 كُلُّ لَمَّا جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴿۳۳﴾ وَإِيَّاهُمْ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ  
 أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ ﴿۳۴﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَاتٍ  
 مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ ﴿۳۵﴾ لِيَأْكُلُوا مِنْ  
 ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿۳۶﴾ سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ

کن ان كانت الاصبعة واحدة فاذا هم خمدون بلکه اوس سہ سزا کہ۔ سخت آوازہ جبریل امینہ سنز  
 یاسیہ کانہہ ملکہ سنز۔ یان سوہ کر یکہ نمبر تان شبلیہ تم ساری یحضرہ علی العباد ما یاتیہم من رسول الا  
 کانونا بہ یتہزؤن افسوس تھین بدن ہندس حاکس پیٹھ یمن نشہ بلکہ موت کانہہ پیغمبرہ تہلیہ اس تم  
 تس پیغمبرس سنہ نہ ٹھٹھہ کران آلہروا کما اہلکنا قبلہم من القرون انہم الیہم لا یرجعون کیاہ تمو  
 وچھہ ناسہ کاژاہ جماژہ کاژاہ امو کرہ تم برونٹھ ہلاک محض امی موکہ کہ تم اس سانین پیغمبرن  
 ٹھٹھہ کران تہ اپزیری زانان ہم نہ زانہہ تم ن نشہ واپس ہمکن ہتھہ دنیاہس کن۔ اتھہ تھہ اندرے تم  
 ذرا غور کرہ ہن ممکن اوس کہ تکذیب واستہزاء نشہ روزہ ہن ہتھہ وان کل لما جمیعہ لدینا محضرون  
 ہتھہ تمو اندرہ کانہہ تہ ہس نہ قیامتک دوہ سارنے لوکن سیت اسہ بروٹھ کنہ حاضر کرنہ پیہ۔ وایہ لہم  
 الارض المیتة احییناہا واخرجنا منہا حبا فمینہ یاکلون پیہ ہتھہ لوکن ہندہ خاطرہ سانسہ قدر تک بوڈ نشانہ  
 پیہ توحیدج بوڈ لیل۔ مردہ زمین ہس اسی زندہ چھن کران رودہ سیت تو پتہ چھہ اسی کڈان تمہ زمینہ منزہ  
 غلہ تہ اتاج۔ تمہہ منزہ چھہ لوکہ کیوان وجعلنا فیہا جنت من نخیل و اعناب وفجرتا فیہا من العیون  
 پیہ کراتھہ زمینس منز اسہ خضر کلین ہند پیہ دچھہ رائٹھن ہند باغ۔ تمہہ منز کور جاری اسہ ناگہ رادہ  
 کولہ لیا کلا من ثمرہ ہتھہ لکھہ کھین اتاجک پاٹھہ تمیک میوہہ۔ وما عملتہ ایدیہم افلا یشکرون تم  
 چیز کرنہ یادہ تہند یو اتھو اگرچہ بیول و وہ نج سگ درنج کام کر تمو ی مگر پھل تہ غلہ پیدا کرن چھہ اللہ تعالیٰ

الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مَنَاطِئُتُ الْأَرْضِ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۶﴾  
 وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ ﴿۳۷﴾  
 وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿۳۸﴾ وَالْقَمَرَ  
 قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴿۳۹﴾ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي  
 لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ

سنزے کام بیہ نہ کانسہ ہنز۔ کیاہ یژھ قدر تجرہ دلیلہ وچھتھتہ کرن ناتم شکر گذاری سمیک گوڈہ نیک  
 ہیرہ پووچھ توحید مَبْنُ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مَنَاطِئُتُ الْأَرْضِ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ منزہ تہ  
 پاک چھتھ سہ ذات پاک تم پیدہ کر پنے قدر تہ سیت سارنہ چیزن ہندے جورہ تہ مقابلہ تمو چیز واندہ  
 یمن کھاران چھ زمین نباتا تو اندرہ بیہ چھ بیہ کیفیت خود تممن ہندیو پنے نیوذا تو اندرہ یعنی بشر و تہ  
 انسانو اندرہ چھ اڈ موہوی اچہ زنانہ۔ بیہ تمو چیز زواندرہ یمن ہنز نہ تممن خبرے چھ کینہ۔ غرض کیاہ  
 خدایاہ چھ ساری مخلوق کرن پادہ اکھ اکب سندے مقابل پانہ چھ خالق یکتا مقابل تہ جورہ آسنہ نشہ منزہ  
 تہ پاک وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ بیاکھ نشانہ چھ لوکن ہندہ خاطرہ خدایہ  
 سدہ قدر تک، راتک وقت۔ تاریکی اصل آسنہ موکھ چھ آفتابک گاش تھ پٹھ اکھ مسئلہ ہیو۔ تمی راز  
 پٹھ یلہ آس والان چھ ڈبھہ گاشک سہ مسئلہ کہ اتی چھ لوکھ واتان بیہ اُنہ گئی منز وَالشَّمْسُ تَجْرِي  
 لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ بیاکھ نشانہ چھ معبود برحق سنزہ قدر تک آفتاب۔ نُس پکان چھ  
 پنے مقررہ جاہ پٹھ۔ بیہ چھ اندازہ کورمت سیٹھاہ زبردست، سیٹھاہ زانن والی خدائین وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ  
 مَنَازِلَ بیہ کراسہ زونہ ہندہ خاطرہ پڑاومقرر۔ یم اٹھووہ چھ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ تالیکنہ  
 پکان پکان چھ سوہ بیہ گڑھان ہو چھ مژ پر ان خضر چہ مور ہش لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ  
 وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ اسہ چھ زونہ تہ آفتابچہ پکھ تک تیتھ اندازہ تھوومت،  
 بیہ چھ اسہ رات ودبھہ یئہ گڑھہ تک سہ انتظام کورمت کہ نہ ہیچہ آفتاب زونہ رتھہ کیاہ سہ چھ اکس



يَسْبَحُونَ ﴿۳۰﴾ وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ ﴿۳۱﴾  
 وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ ﴿۳۲﴾ وَإِنْ نَشَاءُ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيحَ  
 لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقذُونَ ﴿۳۳﴾ إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ﴿۳۴﴾ وَإِذَا  
 قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۳۵﴾ وَمَا

آسمانس پیٹھ یہ چھ بیس آسمانس پیٹھ۔ نہ ہیچہ راتھ برونھ گوتھ دوه ہس پریتھ اکھاہ چھ بیواندرہ اس  
 اکس آسمانس منز ژھانٹھ دایان یعنی پکان۔ پریتھ اکھاہ چھ پنہ نس پنہ نس دایرس منز حسابہ موجب  
 تمہ طریقہ پکان گھ آکسندس حسابس منزتہ انتقامس منز ہیچہ نہ کانہہ اکھ خلل تر آوتھ یعنی آفتاب ہیچہ  
 نہ پانے پنہ اختیارہ تمہ ساتہ طلوع کتر تھ، پنہ روشنی سیت زمین روشن کتر تھ۔ تمہ ساتہ آفتاب آسہ  
 زمینس پنہ روشنی سیت نورانی گران حدیث شریفس منز چھ کہ آفتابک مستقر چھ عرش مجیدس  
 تل۔ یہ چھ غروبہ وقتہ سجده دوان تھ منز حکم دریافت کران بیہ دہیچہ طلوعک۔ اکہ دہہ بیہ تس حکم  
 کرنہ کہ طلوع مہ کر۔ واپس گوتھ تپاری بیار آکھ۔ تمہ دہہ کھسہ آفتاب مغربہ کہ طرفہ۔ سہ چھ  
 قیامتہ چونشانو اندرہ اکھ نشانہ **وَآيَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلِكِ الْمَشْحُونِ** خدایہ سندہ قدر تک  
 بیاکھ نشانہ چھ لوکن ہندہ خاطر کہ اسہ نکل تہندہ آباء و اجداد تھ ناوہ منز یوسہ بر تھ آس ضروریاتو سیت  
**وَخَلَقْنَا لَهُمْ مِنْ مِثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ** بیہ کراسہ پادہ تمن ہندہ خاطرہ تھی ناوہ ہیشہ بیہ ناوہ بمن منز تم سوار  
 سدان چھ۔ بیہ تھ ناوہ ہی بیہ تم چیز بمن پیٹھ تم سوار سپد تھ خشکی ہند سفر کران چھ یعنی وونٹھ  
 وغیرہ۔ چنانچہ عرب چھ ونان وونٹس سفینتہ البر خشکی ہنز ناو۔ اتھ منز چھ شامل تمہ سوارہ یسہ نوہ ایجاد  
 آہ کر نہ۔ ریل موٹر، ہوائی جہاز، راکٹ وغیرہ ہیشہ **وَإِنْ نَشَاءُ نُغْرِقُهُمْ فَلَا صَرِيحَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقذُونَ**  
 ہر گاہ اس یڑھ ہو تم پھاٹھ وہو کہ تمونادوسان۔ پس آسہ نہ تہندہ خاطرہ تمومعبودان باطلواندرہ تمن  
 تم شریک خدازانان چھ کانہہ فریادرس وادتہ وناہ۔ نہ ین تم بچاونہ پھٹنہ کیو حادثاتو ہیشہ **إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا**  
**وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ** مگر چھ تم پتھ سانی مہربانی سیت بیہ چھ تم تمتع تہ فایدہ تلہ ناوین دنیاجہ زندگی ہند

تَاتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ ﴿۷۱﴾ وَإِذَا  
 قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا  
 أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ اطْعَمَهُ إِنَّ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿۷۲﴾  
 وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۷۳﴾ مَا يَنْظُرُونَ  
 إِلَّا الصَّيْحَةَ وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴿۷۴﴾ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ

اِس مُعِين و قس تان وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ يله تمن لو کن توحیدہ  
 جن و لیکن سیت مضمون و عید و نندہ یوان کہ نجه کھوژ و تھہ عذابس لیس توبہ برو نھہ کنہ چھہ یعنی لیس دُنیا  
 س منز توبہ کرنہ پیہ، غرق یا خسف ہو پیہ تھہ عذابس لیس توبہ مر نہ پتہ یوہ و ن چھہ یعنی انکار توحیدس  
 پیٹھ لیس عذاب توبہ پیٹھ واقع سپدہ و ن چھہ تھہ کھوژ توادہ سہ دُنیا س منز و آت تن یا آخرتس اندر تھہ  
 کھوژ تھہ آن تو ایمان دیوہ توبہ پیٹھ پیہ رحم کرنہ وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا  
 مُعْرِضِينَ بیہ چھہ و اتان تگن لشمہ کانہہ آیہ تہندس پروردگارہ سند یو آیا توادرہ مگر تم چھہ تمہ لشمہ تھہ  
 پھر ان تہ سرتابی کران۔ تھہ پاٹھ بیم کرہ نگ تہ کھوژہ ناوگ تن پیٹھ کانہہ اثر چھہ سپدان تھہ پاٹھ  
 چھہ تمن ترغیبک تہ کانہہ اثر پیوان چنانچہ وَاِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ بیہ یلہ و نندہ یوان چھہ  
 تمن اللہ تعالیٰ ان ییہ نعمہ توبہ عطا کر مژہ چھہ، لیس مال توبہ دیشمت چھنوہ تمہ منزہ کرو خرچ خدایہ  
 سزہ و تہ اندر قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْطَعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ اطْعَمَهُ و نان چھہ تھہ موقس پیٹھ  
 کافر با ایمان کیاہ اس کیا و کھہ تم لو کہ یمن ہر گاہ اللہ تعالیٰ کھیاون یژہ ہاتہ سہ کھیاویم چھہ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي  
 ضَلَالٍ مُبِينٍ نجه چھوہ نہ مگر نہ گرا ہی منز وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ بیہ چھہ و نان  
 کافر لو کہ پیغمبر بر حقس تہ مسلمان بطور انکار کہ یہ قیامتک وعدہ کر سپدہ پورہ چھوے تہے پوز و نان تیلہ  
 کرو توبہ بیان کر ایہ قیامت اللہ تعالیٰ چھہ فرماوان کہ ہم لیس یہ تھہ بار بار پر ژھان چھہ، زن تمن سخت  
 انتظار چھو قیامتک مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا الصَّيْحَةَ وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ تم لو کہ چھہ انتظار کران تہ

تَوْصِيَةً وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ ۝۵۰ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمُ  
 مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ ۝۵۱ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا  
 مِنْ مَرْقَدِنَا إِنَّ هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ ۝۵۲  
 إِنْ كَانَتْ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ۝۵۳  
 فَالْيَوْمَ لَا نُظَلِّمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا نُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۵۴ إِنَّ  
 أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهِونَ ۝۵۵ هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلِّ

پیاران مگر کئی سخت کریکہ یعنی نفخہ اولی یوسہ تمہن ہیکہ تہ معہ رطہ۔ تم آسن پانہ وآن تمہ وقتہ حسب  
 معمول پنہ ہن معاملاتن اندر ہرہ ہرے کران تہ آوازہ سینٹی گڑھن تم ختم فلا یستطیعون تَوْصِيَةً  
 وَلَا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ پس ہمکن نہ تم تمہ ساتہ شرین باثرن ہندہ خاطرہ کانہ وصیتاہ کر تہ۔ نہ ہمکن  
 پنہ نس عیاس کن و اہل ہتہ۔ نس پتہ نس آسہ سہ مرہ تہی تہ۔ یہ گوہ گوہ ڈہ نیک پھوکہ۔ یمہ سیت  
 ساری مران وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ تو پتہ بیہ زچہ و ہر بیاکھ پھوکہ دنہ  
 پوغس منز سیمہ سیت ساری بیہ دوبارہ زندہ سپدن یان سہ پھوکھ پیہ دنہ تام نیرن قبر و منزہ تو پتہ ہمکن پنہ  
 نس خدا نس کن دوران دوران۔ تو پتہ یلہ تہ ہولناک تہ ہیبت ناک حالات و تہن قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا  
 مِنْ مَرْقَدِنَا هَذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ حیران سپد تہ ون اکھ اگس ہائے افسوس اس کی  
 سناٹل نندرہ ہنزہ جلیہ رطہ یعنی قبر و منزہ۔ ملایک دنہ لکھ۔ بیکن چھ سو قیامت سیمگ وعدہ حضرت  
 رحمن اوس فرماوان پوز اس فرماوان پیغمبر مگر تہہ آسہ نہ مانان۔ اللہ تعالیٰ چھ فرماوان إِنْ كَانَتْ إِلَّا  
 صَيْحَةً وَاحِدَةً فَإِذَا هُمْ جَمِيعٌ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ بہر حال سہ نفخہ ثانیہ یعنی دو تم پھوکھ آسہ کئی سخت  
 کریکھہ یان سوسپدہ تان بن تم ساری جمع سپد تہ آسہ برونھ کن حاضر کرنہ فَالْيَوْمَ لَا نُظَلِّمُ نَفْسٌ شَيْئًا  
 وَلَا نُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ پس تمہ دوہہ یعنی قیامتگ دوہہ پیہ نہ کانسہ شخص سہ قسمہ ظلم کرنہ بیہ  
 ایوہ نہ توہہ جزاتہ بدلہ دنہ مگر تہن کامن ہندیہ تہہ دُنِیاء ہس منز کران آسہ۔ یہ گوونارہ کین لوکن ہند

عَلَىٰ الْأَرْيَافِ مُتَكُونَ ﴿٥٦﴾ لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُمْ مَا يَدْعُونَ ﴿٥٧﴾  
 سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبِّ رَحِيمٍ ﴿٥٨﴾ وَامْتَاذُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿٥٩﴾  
 أَلَمْ أَعْهَدَ إِلَيْكُمْ بِبَنِي آدَمَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ  
 مُّبِينٌ ﴿٦٠﴾ وَإِنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ أَضَلَّ  
 مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي  
 كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿٦٣﴾ إِصْلَوْهَا الْيَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿٦٤﴾ الْيَوْمَ

حال اِنْ اَصْحَابِ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغْلٍ فَاكِهِونَ بے شک جنتی آسن تمہہ دوہہ واریمین شغلن سیت خوش دل ہوں وَاذْوَابُكُمْ فِي ظِلِّ عَلَى الْأَرْيَافِ مُتَكُونَ تم تہمزہ بیہ زمانہ آسن ساین تل۔ مزمین  
 بیہ آرایش کرنہ آستین پلنگ بیٹھہ بحیہ و تھ بہتھ لہم فیہا فاکہۃ و لہم ما یدعون تہندہ خاطرہ آسن  
 تمن جتن منزم کم میوہ بیہ آسہ تہندہ خاطرہ سورے تک تم خواہش تہ رغبت کرن سَلَامٌ قَوْلًا مِّن  
 رَبِّ رَحِيمٍ بیہ بوزن تم سلام رحمتہ والس پروردگارہ سندہ طرفہ۔ پانہ فرماوہ تمن سلام رحمتہ وول  
 پروردگار تمن لفظن اندر السلام علیکم یا اہل الجنۃ و امتاذاوا الیوم ایہا المؤمنون حکم سپدہ موقفس منز  
 اصحاب نارن کہ جداروز وازبا ایمان نشہ ای کافر و کفر و شرک جرم کرہ وینوہ لوکو۔ کیازہ با ایمان بین  
 سوزنہ جنس کن۔ تہہ ایوسوزنہ نار جہنم سن کن۔ تی وقتہ بیہ تمن بطور زجر و ملامت و نندہ اَلَمْ اَعْهَدَ اِلَيْكُمْ  
 بِبَنِي آدَمَ اَنْ لَا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ اِنَّهٗ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ای بنی آدم کیاہ میہ آسوہ نا تہہ عمدہ کرہ ناومت۔  
 بیہ اوس نامیہ تاکیدی حکم کورمت کہ بیٹھنہ تہہ پرستش تہ عبادت کثریو شیطانہ سز کیازہ سہ چھہ تہند  
 نون دشمن وَاِنْ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ بیہ آسوہ نا عہدہ کرہ ناومت کہ عبادت کری زہ میانی  
 یاثر بیٹے چھوہ سیز و تھ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ بے شک تم ذال توہہ  
 اندرہ واریاہ لوکھ۔ کیاہ تہہ آسوہ نا یژمن تہ زمانہ کہ اگر آسن شیطانہ سندہ گراہ کرنہ سیت ذکو تہ  
 گراہ سپد و آس تہ عذابس مستحق هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ کیا گوسہ جہنم سمیک توہہ وعدہ

نَحْتُمُ عَلَىٰ أَقْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيَهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا  
يَكْسِبُونَ ﴿٦٥﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّى  
يُبْصِرُونَ ﴿٦٦﴾ وَلَوْ نَشَاءُ لَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا  
مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ ﴿٦٧﴾ وَمَنْ نَعْبُدُهُ نُكَلِّمُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا  
يَعْقِلُونَ ﴿٦٨﴾ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ  
مُبِينٌ ﴿٦٩﴾ لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكٰفِرِينَ ﴿٧٠﴾

یوان اوس کرنہ۔ اِصْلُوْهَا الْیَوْمَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُوْنَ اُڑو اُتھہ جہنمیں اندر۔ تھہ توہہ انکار آسوہ کران اَلْیَوْمَ  
نَحْتُمُ عَلَىٰ أَقْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيَهُمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ تمہہ دوہہہ کرو اس موہر تہندین  
چائین پیٹھ توپتہ کرن تھہ آسہ سیت تہند آتھہ۔ بیہ دن گواہی تہند کھور تہن سارنہ کائین ہنزیمہ تم  
کران اس دنیا س اندر۔ بیہ عذاب سپدہ تہن آخرت س اندر وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ  
فَأَنَّى يُبْصِرُونَ ہر گاہ اس بڑھہ ہو دنیا سہ منزومہ ہو اس تہن گھرک سزا۔ گاشہ روستوی کرہ ہو کہ اچھہ  
تہنزہ۔ اچھی تھاوہ ہو کہ نہ ہئہ۔ توپتہ بہن تم وتہ کن چکن تہ دورن۔ سوکتہ سنالیہ بھک وتھہ بوزنہ۔ اچھو  
ورائے یا اچھن ہندہ گاشہ وراے وَلَوْ نَشَاءُ لَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ  
آسہ خوتہ زیادہ بیہ ہر گاہ آسہ بڑھہ ہو گھرہ کس سزائس منز تہن مسخ صورت کرن ضرور ہیکہ ہو کہ مسخ  
صورت کمر تھہ۔ بیہ نس آسن تہ نس گواہن روز تھہ۔ پس ہیکہ ہن نہ بروٹھ پتھہ نہ پوت پھیر تھہ۔  
مسخ صورت س سیت سپدہ بھک ڈو کھور۔ اکسہ جایہ گھوہ ہن روز تھہ۔ بیہ گھوہ نہ کینہہ عجیب زان کیا زہ  
اچھہ نظیر بھہ موجود وَمَنْ نَعْبُدُهُ نُكَلِّمُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ بیہ نس شخص اس زیادہ عمر چھہ  
دوان نس چھہ آسہ صورت س منز تبدیل کران۔ کیا بیہ حالت وچھت تہ چھنا تہن فکرہ تران وَمَا  
عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ وَقُرْآنٌ مُّبِينٌ تم کافر، ایم نیوتس انکار کرنہ خاطر حضرت  
محمد س شاعر و نان چھہ بیہ تہند ون چھہ محض باطل، کیا زہ آسہ بھنا ونہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم

اَوْ لَمْ يَرَوْا اَنْ اَخْلَقْنَا لَهُمْ مَا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴿۴۱﴾  
 وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿۴۲﴾ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ  
 وَمَشَارِبٌ اَفَلَا يَشْكُرُونَ ﴿۴۳﴾ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِلَهَةً لَّعَلَّهُمْ  
 يَبْصُرُونَ ﴿۴۴﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ ﴿۴۵﴾ فَلَا


ہاتھ و تن۔ نہ جھہ تہندس شائس سزاوار کیا زہ تم جھہ اعلیٰ درجہ تھن۔ مضامین شعر یک بنا چھ  
 محض تخلیق تن پیٹھ آسان۔ بین دون کھن منز چھ کافی تانی تہ تاقض یہ تم بیان کران جھہ تہ جھنہ مگر  
 نصیحک کلام۔ بیہ احکام الہی منہ راہ و ن قرآن مجید لَیْبِنْدُ مِنْ كَانَ حَیْثَا وَیَحِی الْقَوْلُ عَلٰی الْکَافِرِیْنَ  
 یُتَّه تم بیم گرن تس شخصس سم سندا دل زندہ آسہ۔ بیہ یٹھ کافرن پیٹھ عذائ نج بحت قاتم سپدہ۔ تم  
 بیہ و نند باوجود ایں کہ خبے بو زوسان احکام مگر بو ز تھ کثرو انکار اَوْ لَمْ يَرَوْا اَنْ اَخْلَقْنَا لَهُمْ مَا عَمِلَتْ اَيْدِيْنَا اَنْعَامًا  
 فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ کیاہ تمومشکر لو کو کثر تا یٹھ کن نظر کہ آسہ کور تہندہ فایدہ تہ نفعہ خاطر ہ پنہ نیوا تھو  
 سیت ہناوے متوجیزہ و آندره چارواے پادہ۔ چنانچہ سان مالک ہناوہ سیت بنائے تم تم کن چاروا لکن ہند  
 مالک وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ بیہ کمر آسہ تم چارواے رام تہ مسخر تہندہ خیطرہ۔ پس  
 جھہ تمو آندره اڈین پیٹھ سوار سپدان بیہ جھہ تمو آندره اڈین تم کھیوان وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبٌ  
 اَفَلَا يَشْكُرُونَ بیہ جھہ تہندہ خاطرہ تم چاروا این منز واریاہ فایدہ بیہ دود چنہ چہ جلیہ۔ کیاہ اتھ پیٹھ تہ  
 کرن تا تم شکر گذ آری سان یٹھ منز ساروے چیزہ و آندره اہم تر اقدام اوس توحید قبول کرن۔ مگر تمو  
 کور شکرہ تہ توحیدہ چہ جلیہ کفر تہ شرک اختیار وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِلَهَةً لَّعَلَّهُمْ يَبْصُرُونَ یہ یہ  
 مہربانیہ عطا کتر تھ ٹھہر او تمو معبود بر حقس ورائے ایز معبود۔ یٹھ دو میز پیٹھ کہ دیوہ تم معبودان  
 باطلن ہندہ طرفہ و ن نہ کا نہہ مددہ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ مگر تم ہکن نہ تم منہ قسمہ مدد کتر تھ۔ مدد کرہ نج  
 کیاہ تھ جھہ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ حالانکہ تم تہ بین تھند فوج تھہ یجہ و ن جبر حاضر کرنہ۔ تو پتہ  
 کرن تہنڑے مخالفت تمن خلاف دن بیان دپکھ تہ آسونہ آسہ عبادت کران۔ وون یلیہ سم لوکھ تمکن

يَحْزُنُكَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يَسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿۳۶﴾ اَوَلَمْ يَرِ الْاِنْسَانُ  
 اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ وَاذًا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ ﴿۳۷﴾ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّ  
 نَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُعْجِبُ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ ﴿۳۸﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي  
 اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ ﴿۳۹﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنْ

واضح یہ صاف امورِ خلاف کرانِ چہہ فلا یحزُنُکَ قَوْلُهُمْ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يَسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ پس نہ حض  
 کمرِ غمگین تو بہ یارِ رسول اللہ تہنرہ کتھ توحید و رسالتس متعلق۔ کیا زہ آزدگی چھہ سپدان اُمیز ہنزہ  
 جلیہ۔ دو میز ہنزہ جلیہ چھہ آسان سہ مخاطب بس عقل و انصاف آسہ۔ یم لوکھ چھہ غبی۔ لہذا چھہ  
 سمن عقل۔ بیہ چھہ سمن لوکن غبار لہذا معاندس نشہ انصافک توقع تھاؤن چھہ غلط۔ لہذا چھہ تم محل  
 امیدے۔ تھہ سُن نظر کمر تھہ چھہ غم کھیٹک تہ کا نہہ موئے۔ بے شک اس چھہ زانان تہ سورے یہ تم  
 کھتھہ کران چھہ دُن اندر۔ بیہ یہ ظاہر کران چھہ تم زیو و سیت۔ وقت و اتن تین پیہ تمہ ساتھ پور سزاو نہ  
 اَوَلَمْ يَرِ الْاِنْسَانُ اَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ وَاذًا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ بیہ و چھنا ام انسان بس مر نہ پتہ بیہ پیدہ سپد نس  
 انکار چھہ کران کہہ آسہ کورسہ پا دہ آگس حقیر آہ قطر س۔ لازم اوس تس انسانس پتھن یہ ابتدائی حالت  
 ژیتس پاوتھ لہ ہائہ زیر نظر پتھن حقارت تہ پتہ بس خالقہ سبز عظمت تو پتہ کرہ ہائہ جزأت انکار کرہ نگ  
 نہ کرہ ہاگتسخی اتھ پیٹھ اعتراض کرہ نگ۔ شرمندہ گی سیت گلہ ہا اندر اندری بیہ کرہ پایانے پتہ  
 نس اتھہ حالس پیٹھ نظر کمر تھہ مر نہ پتہ زندہ سپد نس اقرار تہ پڑھ۔ تہ کورن نہ بلکہ لوگ تین پاٹھ  
 اعتراض گرنہ۔ بلکہ کورن آسہ سیت مقابلہ کمر تھہ قیاس انکار وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَّ نَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ  
 يُعْجِبُ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ بیہ لگ بیان کرہ سانس شانس منز عجیب عجیب مثالہ سمہ سیت انکار قدرت  
 چھہ لازم یوان۔ پتھن اصلیت گھیس و سٹدے۔ یاد رودس نہ۔ حقیر قطرہ آتھہ بنو آسہ انسان۔ یوہے چھہ  
 دپان، کوہہ بیچہ زندہ کمر تھہ دودرے مڑہ اڈے جہ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي اَنْشَاَهَا اَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ  
 تہہ فرمایوس یارِ رسول اللہ تہن دودرے موزن اڈجن گڑہ زندہ سنی ذات پاک۔ ستم یم پا دہ کرہ گوڈنچہ لہ

الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ ﴿۸۶﴾ أَوَلَيْسَ الَّذِي  
 خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَىٰ وَهُوَ  
 الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ ﴿۸۷﴾ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿۸۷﴾  
 فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۸۸﴾

یلہ نہ یہ کہی اوس یلہ یہ حیاتہ نشہ سیٹھاہ دور اوس۔ وون چھہ ام اکہ لئہ حیات وزندگی قبول کورمت۔  
 وون پادہ کران کیاہ عجائب چھہ۔ سہ چھہ پر چھہ طریقہ پادہ کران پورزانان۔ ابتداء تہ۔ دوبارہ تہ۔ تس نشہ  
 چھہ کہنی مشکل لِّلَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقَدُونَ سہ گوئے قدرتہ  
 وول ئس تہمدہ خاطرہ سبز اسبز کلہ منزہ نار چھہ پادہ کران۔ ادہ چھوہ تہہ تمہ سیت ژکھ ووان تہ ہرہ  
 ہیوان۔ چنانچہ کلیو منزہ چھہ بعضے کل سمن ہنزہ اکہ چہ سے پس چہ گھہر دھہ نار چھہ نیران۔ أَوَلَيْسَ  
 الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ کیاہ سہ ذات پاک سم آسمان تہ زمین سم پڈ  
 مخلوقات پادہ کمر چھتا قدرتہ وول سہ کیاہ کرہ انسانس ہوس لوکئس مخلوقس دوبارہ بیہ پادہ بلی  
 وَهُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ البتہ سہ چھو بو پادہ کرہ وون پادہ کران پورزانان إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ  
 كُنْ فَيَكُونُ تہنز قدرت چھہ تہہ کہ یلہ سہ ارادہ چھہ کران کئہ چیز کبہ پادہ کرہ نگ۔ سہ چھہ دپان  
 تہہ چیزس سپد پادہ۔ اتی چھہ سہ چیز پادہ سپدان۔ تس نشہ کوسہ تھہ چھہ وون مشکل فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ  
 مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ اترھو کتھو سیت سپد ثابت کہ سہ معبود چھو منزہ تہ پاک سم سندس  
 اتھس منز سارنے چیزن ہند اختیار چھہ۔ سہ چھتہ کئہ چیزس اندر کئہ قسمہ عاجز۔ تہہ ساری بیو تس کئ  
 پتولا کہ قیامتگ دوہ واتا ونہ۔





سُوْرَةُ الصَّفَاتِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 وَالصَّفٰتِ صَفًا ۱۰ فَالزُّجْرِتِ زَجْرًا ۱۱ فَالتَّلٰیٰتِ ذِكْرًا ۱۲  
 اِنَّ الْهَكْمَ لَوَاحِدٌ ۱۳ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَبٰیْنَهُمَا وَرَبُّ  
 الْمَشٰرِقِ ۱۴ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمٰءَ الدُّنْيَا بِزَيْنَةٍ الْكَوٰكِبِ ۱۵ وَحِفْظًا  
 مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ تَارِدٍ ۱۶ لَا یَسْمَعُوْنَ اِلٰی الْمَلٰٓئِكَةِ الْاَعْلٰی وَیَقْدِفُوْنَ  
 مِنْ كُلِّ جَانِبٍ ۱۷ دُحُوْرًا ۱۸ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَّاصِبٌ ۱۹ اِلَّا مَنْ خَطَفَ

وَالصَّفَاتِ صَفًا قسم چھ تمن ملائکن ہند قسم عبادت کر بچہ وقتہ یا احکام الہی بوز بچہ وقتہ صف دی دی  
 چھہ ایستادہ روزان فَالزُّجْرِتِ زَجْرًا بیہ چھہ قسم تمن ملائکن ہند ہم زوتہ ونین تارکن ہندہ ذریعہ  
 آسمانی خبرہ انہ ونین شیطان گر نزلہ لار کران چھہ فَالتَّلٰیٰتِ ذِكْرًا بیہ چھہ قسم تمن ملائکن ہند ہم یاد  
 خدا تسبیح و تقدیس ہر ان چھہ۔ ہم تر یہ قسم چھس بہ ہاوان چھہ آتھ پیٹھ کہہ اِنَّ الْهَكْمَ لَوَاحِدٌ بے شک  
 تہند معبود چھہ اکوے رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَبٰیْنَهُمَا وَرَبُّ الْمَشٰرِقِ سچ دلیل چھہ یعنی کہ سہ چھہ  
 پروردگار آسمان تہ زمین ہند۔ بیہ تمہہ سار کے یہ آسمان تہ زمین در میان چھہ۔ بیہ چھہ سہ پروردگار  
 تمن سار نے جائن ہند تمن جائن ساری ستارہ طلوع کران چھہ اِنَّا زَيَّنَّا السَّمٰءَ الدُّنْيَا بِزَيْنَةٍ الْكَوٰكِبِ پڑنا چھہ  
 اسہ دیت زینت تہ اسی کر آرائش چھہ آسمان ستارن ہندہ سیت وَحِفْظًا مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ تَارِدٍ  
 بیہ کمر حفاظت تہ آچھہ سموسا تہ وسیت آسمانی خبرن پر پتھہ سرکش تہ شریر شیطانس نشہ لَا یَسْمَعُوْنَ  
 اِلٰی الْمَلٰٓئِكَةِ الْاَعْلٰی وَیَقْدِفُوْنَ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ \* دُحُوْرًا چنانچہ نمی موکھ چھہند تم شیطان ہیکان نہ گن دتھ  
 ملا علی اس یعنی ملائکن ہنز ان مجلس۔ بلکہ چھہ ہر تھ یوان نہ تم پر پتھہ طرفہ۔ دکہ دی دی چھہ تم

الْخُطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ ثاقِبٌ ⑩ فَاسْتَفْتَيْهِمْ أَهْمُ أَشَدُّ خَلْقًا مِّنْ مَنْ خَلَقْنَا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ طِينٍ لَّازِبٍ ⑪ بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ ⑫  
وَإِذَا ذُكِرُوا لِآيَاتِكُمْ كُرُوا ⑬ وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخَرُونَ ⑭ وَقَالُوا لَئِن  
هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ ⑮ إِذْ آمَنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ⑯

دور یوان کرنے۔ یہ گو توین دنیاءس اندر سزا وَاَلَمْ عَدَابٌ وَاَصْبُ۔ بیہ ہتھ تہیدہ خاطرہ آخر تیس اندر  
ہمیشہ گی ہند عذاب نار جہنم اندر لَآئِن خَطْفَةَ فَاتَّبَعَهُ شَهَابٌ ثاقِبٌ مگرے کانہہ شیطاناہ  
تھپہ تھوسہ کانہہ خبراہ ہتھ ژلان چھ۔ تیس چھ پنے لاران اکھ نارہ رہیہاہ اکھ زوتہ ون تہ پرزلہ ون۔  
سوے چھ تیس گالان فَاسْتَفْتَيْهِمْ أَهْمُ أَشَدُّ خَلْقًا مِّنْ خَلَقْنَا تھے ہر ژھو تین مخرن یار سول اللہ تیم  
انکار چھہ کران قیاس تہ مرنہ پتہ بہر زندہ سپد تیس، تم لاجواب کر چھہ طریقہ کہ کیاہ تم پادہ کرن چھا  
سخت کنہ تم مخلوق تم آسہ پادہ کمر، تمکن ہنز ذکر گرنہ آیہ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّنْ طِينٍ لَّازِبٍ تم لوکھ چھہ آسہ  
پادہ کمر مت لار تھہ گڑھہ ونہ تہ پشاجہ میوہ۔ ہتھ نہ کانہہ قوتھاہ تہ طاقتھاہ چھہ تیس یلہ آسہ طاقت تہ  
قدرت چھہ ابتداء قوی تہ سخت مخلوقات پادہ کرہ تیس پیٹھ، ضعیف تہ سٹ مخلوقات بیہ دوبارہ پادہ  
کرن کیاہ مشکل چھہ آسہ نشہ۔ مگر باوجود اژھہ واضح دلیلہ بیان کرتھہ تہ چھنہ تم لوکھ مرنہ پتہ بہر زندہ  
سپد تیس پڑھہ گران بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ تھے چھوہ ہلکھ بہندس حالس پیٹھہ تعجب کران کہ تمکن کونہ  
چھہ بیہ صاف تھہ فخرہ تران۔ تم چھہ انکار کر چھہ علاوہ تہزن کتھن پیٹھہ تمسخر تہ ٹھٹھہ کران وَإِذَا  
ذُكِرُوا لِآيَاتِكُمْ كُرُوا یلہ تمکن فخرہ یوان چھہ تارنہ، ہمالیش تہ نصیحت چھہ یوان کرنہ تمکن چھنہ کنہ قسمہ  
فخرہ تران وَإِذَا رَأَوْا آيَةً يَسْتَسْخَرُونَ بیہ یلہ وہچھان چھہ تم کانہہ مخرہاہ تیس تمکن ثبوت نبوتہ خاطرہ  
ہاونہ یوان چھہ تھہ چھہ ٹھٹھہ تہ تمسخر گران وَقَالُوا لَئِن هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّبِينٌ بیہ چھہ دیان بیہ معجزہ چھہ صاف  
جودتہ سحر إِذْ آمَنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ کیاہ سنا یلہ آسہ مرو تہ میوہ گڑھہ اوڈے یاژہ روزو  
توپتہ سموا س دوبارہ زندہ کمر تھہ تھود تھنہ اَوَابًا وَاِلَآئَاتٍ لَّنُورٍ کیاہ سان برو تھم مال ہڈ بے تہ بیہ

أَوْ أَبَاؤَنَا الْأَوْلَادُ ۱۴ قُلْ نَعْمَ وَأَنْتُمْ دَخِرُونَ ۱۵ فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ  
 وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۱۶ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ ۱۷ هَذَا  
 يَوْمَ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكذِّبُونَ ۱۸ أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا  
 وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ ۱۹ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى  
 صِرَاطِ الْحَيِّ ۲۰ وَفَقَهُهُمْ ۲۱ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ ۲۲ مَا لَكُمْ لَاتَنَاصَرُونَ ۲۳ بَلْ  
 هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ ۲۴ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ ۲۵  
 قَالُوا إِنَّكُم كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ الْيَمِينِ ۲۶ قَالُوا بَلْ كُنْتُمْ نُؤْمِرُونَ ۲۷

یہی زندہ کرنے قُلْ نَعْمَ وَأَنْتُمْ دَخِرُونَ تمہے فرمایا کہ یارسول اللہ اوہ تمہے بیو ضروریہ زندہ کرنے۔ یہی  
 سپرد تمہے ذیل سے خوار **فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ** فَإِذَا هُمْ يَنْظُرُونَ قیامت چھتہ مگر کئی کریکھاہ۔ یا ان سو کریکہ  
 گڑھے آئی تیرن لوکھ زندہ گڑھے قبر ومنزہ تو پتہ لگن حیران سپد تھہ وہجھنہ **وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينِ**  
 یہی دین انفس سائہ خاطرہ اوہو، یہ چھتہ جزاعک دوه **هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكذِّبُونَ** ونسبہ یہکھ  
 اوہ یوہے کیاہ گو فیصلک سہ دوه ہتھ تمہے انکار کران آسوه **أَحْشُرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوا وَأَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ** \*  
**مِنْ دُونِ اللَّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَى صِرَاطِ الْحَيِّ** حکم سپدہ ملائکن کہ سونبر آویوکھ سم لوکھ سمو ظلم کور پان  
 پانس شر کہ سیت، یہی تھند تابع تہ پیر وہیہ تھند معبودان باطل بہنہ تم عبادت کران آس معبود بر حقس  
 ورأے یعنی شیطان تہ پوتل تو پتہ ہاویوکھ **وَقَفَّوهُمْ** چھتہ یعنی واتنا ویوکھ جھنمس اندر **وَقَفَّوهُمْ**  
**مَسْئُولُونَ** سردست ٹھہر آویوکھ تم دوجھہ ذہ تھاویوکھ تم تمن چھتہ کینہہ پر ژھن **مَا لَكُمْ لَاتَنَاصَرُونَ**  
 دپنہ یہکھ توہے کیاہ گووہ، تمہے چھوہ نہ اکھ آگس مدد کران **بَلْ هُمْ الْيَوْمَ مُسْتَسْلِمُونَ** بلکہ آس تم تمہہ  
 دوهہ اکھ آگس ٹھولہ دوهو نے تہ اکھ آگس نشہ بے توجہ سپدہ ونے **وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ** تو پتہ  
 پھیرن تم اڈے اڈین گن۔ اکھ آگس گن متوجہ سپدت گرن سوال وجواب **قَالُوا إِنَّكُم كُنْتُمْ تَأْتُونَنَا**

وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ ﴿۳۱﴾ فَحَقَّ عَلَيْنَا  
 قَوْلُ رَبِّنَا اِنَّآ اِلٰنَا لَذٰ اٰيَقُوْنَ ﴿۳۲﴾ فَاغْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ ﴿۳۳﴾ فَاِنَّهُمْ  
 يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿۳۴﴾ اِنَّا كُنَّا لِكَذٰبٍ نٰفَعِلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ ﴿۳۵﴾  
 اِنَّكُمْ كَانُوْا اِذْ اَقِيْلَ لَهُمْ اِلٰلَهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ ﴿۳۶﴾ وَيَقُوْلُوْنَ  
 اِنَّا لَتٰرِكُوْا الْهَيْتٰنِ الشَّاعِرِ مَجْنُوْنٍ ﴿۳۷﴾ بَلْ جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ  
 الْمُرْسَلِيْنَ ﴿۳۸﴾ اِنَّكُمْ لَذٰ اٰيَقُوْا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ ﴿۳۹﴾ وَمَا يُجْزَوْنَ اِلَّا مَا

عَنِ الْعٰلَمِيْنَ چنانچہ تابع دین متبوع عن اُس کمرے وہ تو ہی گمراہ۔ کیا زہتمہ آسوہ اسہ نغمہ زبردستی سان  
 ذالہ یوان۔ اسہ پیٹھ آسوہ دباؤتہ زور تر اوتھہ اسہ گمراہ کران **قَالُوْا بَلْ لَمْ يَكُنْ لَنَا مُؤْمِنِيْنَ** تم متبوعین  
 دیکھ سون زور اوس نہ توہہ پیٹھ کینہہ تہ۔ بلکہ آسوہ نہ تھی پانہ ایمان انہ ذن **وَمَا كَانَ لَنَا عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ**  
**بَلْ كُنْتُمْ قَوْمًا طٰغِيْنَ** بیہ اوس نہ توہہ پیٹھ سون کا نہہ زور تہ جبر۔ بلکہ آسوہ تھی پانہ سر کش توہہ **فَحَقَّ**  
**عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا اِنَّآ اِلٰنَا لَذٰ اٰيَقُوْنَ** معلوم ہجھ سپدان کہ اُس ساری اُس ازلی محروم ایمانہ نغمہ۔ تھی سپز اسہ  
 پیٹھ ازلی تھہ محقق تھہ کُن نظر کمر تھہ چھہ اسہ سارنہ عذابک مزہ ضرور تھن **فَاغْوَيْنٰكُمْ اِنَّا كُنَّا غٰوِيْنَ**  
 اسہ ذال وہ تھہ۔ اُس اُس پانہ تہ ڈعالتے راہ راستہ نغمہ **فَاِنَّهُمْ يَوْمَئِذٍ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ** کس اَسَن تم  
 ساری تھہ دہبہ عذابس اندر شریک **اِنَّا كُنَّا لِكَذٰبٍ نٰفَعِلُ بِالْمُجْرِمِيْنَ** اُس چھہ نا فرمان جرم کارن سیت یوہ  
 ہے سلوک کران **اِنَّكُمْ كَانُوْا اِذْ اَقِيْلَ لَهُمْ اِلٰلَهَ اِلَّا اللّٰهُ يَسْتَكْبِرُوْنَ** یم گے تھے تھن نہ توحید چ پڑھ  
 اُس نہ رسالت۔ ونہ اوس یوان تھن دنیا س اندر پتر ولالہ الا اللہ۔ تورہ آسے سر کشی تہ تکبر کران  
**وَيَقُوْلُوْنَ اِنَّا لَتٰرِكُوْا الْهَيْتٰنِ الشَّاعِرِ مَجْنُوْنٍ** دپان آس کیاہ اُس ترا وکھ پنے معبود اُس شاعر س تہ  
 دیوانس اک سندہ ونہ موجب۔ اللہ تعالیٰ ہجھ فرماوان یہ پیغمبر برحق نہ چھہ شاعر تہ نہ چھہ دیوانہ **بَلْ**  
**جَاءَ بِالْحَقِّ وَصَدَقَ الْمُرْسَلِيْنَ** بلکہ چھہ پیغمبر برحق آؤس تھن نغمہ پوزدین بیٹھ۔ بیہ ہجھ سہ  
 بروٹھن پیغمبرن تہ تصدیق تہ تائید کران **اِنَّكُمْ لَذٰ اٰيَقُوْا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ** اے مشرکوتہ کافر توہہ

كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۳۱﴾ الْإِعْبَادَ لِلَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿۳۲﴾ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ  
 مَعْلُومٌ ﴿۳۳﴾ قَوَاكِبُهُمْ وَهُمْ يُكْرَمُونَ ﴿۳۴﴾ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ ﴿۳۵﴾ عَلَى سُرُرٍ  
 مُتَقَابِلِينَ ﴿۳۶﴾ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ ﴿۳۷﴾ بَيضَاءَ لَدَّةٍ  
 لِلشَّرِيبِينَ ﴿۳۸﴾ لَا فِيهَا غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴿۳۹﴾ وَعِنْدَهُمْ قَصْرٌ  
 الْمَرْفُوعِ عَيْنٌ ﴿۴۰﴾ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مُكْتُونٌ ﴿۴۱﴾ فَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

سارنے یعنی تابعین سے متبوعین سے جھگڑے تھے وہ عذاب کے ضرور مزہ ڈھنڈھن و ما تجزؤن الا ما كنتم  
 تعملون اتھہ منز جھنہ توہہ پیٹھ کاہنہ ظلم کیا زہ توہہ بیہ نہ سزا دینہ مگر تے کا میں ہند بیہ نہہ کران آسہ  
 الْإِعْبَادَ لِلَّهِ الْمُخْلِصِينَ مگر جھہ محفوظ عذابہ نشہ پروردگارہ سند خاص کرنہ آمت، ڈارنہ آمت سے  
 شرکہ نشہ صاف و پاک کرنہ آمت بندہ۔ مراد جھہ تموا ندرہ اہل ایمان۔ تموا کر پزنج پیروی۔ اللہ  
 تعالیٰ ان کتر تم مقبول سے مخصوص بندہ أُولَئِكَ لَهُمْ رِزْقٌ مَعْلُومٌ لہذا جھہ تہندہ خاطرہ سے رزق تیار  
 تھاوند آمت سمیگ حال قرآن مجیدہ کین بن سوزن اندر معلوم جھہ سہد مت قَوَاكِبُهُمْ وَهُمْ يُكْرَمُونَ  
 یعنی کم کم میوہ بیہ تہن سیٹھاہ عزت کرنہ فِي جَنَّتِ النَّعِيمِ نعمون ہندین باغن اندر عَلَى سُرُرٍ  
 مُتَقَابِلِينَ تختن پیٹھ آسن روبرواکھ اکس کن ہتھ کتر تھ بہتھ۔ يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِكَأْسٍ مِنْ مَعِينٍ پھرہ  
 ناوند بن تہن نشہ پیالہ ہم پکھ ونہ سے جاری شراب طہورہ سیت بر تھ آسن۔ بَيضَاءَ لَدَّةٍ لِلشَّرِيبِينَ سنی  
 شراب آسہ سفید، صاف و شفاف۔ یس چہنہ اندر چہنہ والین سیٹھاہ لذیذ معلوم آسہ سپدان لَا فِيهَا  
 غَوْلٌ وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ نہ آسہ تھہ شرابس منز کلہ دودتہ نہ بے ہوشی سے نہ عقلہ ہند نور وَعِنْدَهُمْ  
 قَصْرٌ الْمَرْفُوعِ عَيْنٌ تہن نشہ آسن ہتھ جورہ تم نہ پنہ نین مردن ور اے کانسہ کن اچھہ تھان  
 آسن۔ تم اچھہ آسکھ دتھکھ دتھکھ۔ کَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مُكْتُونٌ تے جورہ آسن سفیدر اچھہ کرنہ آمت پھرہ  
 تلک ٹھول ہتھ۔ یعنی گردو غبارہ نشہ محفوظ۔ تو پتہ بلہ تم با ایمان اگس جلس، مجمع منز جمع آسن  
 فَأَقْبَلْ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ ہس پھیرن سے متوجہ سہدن اڈے اڈین کن سے اکھ اگس ہن دنیاہ ک

يَتَسَاءَلُونَ ﴿۵۱﴾ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ ﴿۵۱﴾ يَقُولُ  
 إِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ ﴿۵۲﴾ إِذْ آمَنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا  
 وَأَنَا لَكَ بِئُورٌ ﴿۵۳﴾ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ ﴿۵۴﴾ فَاطَّلَمَ  
 فَرَأَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ ﴿۵۵﴾ قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدَتْ لَتُرْدِينَ ﴿۵۶﴾  
 وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ﴿۵۷﴾ أَفَمَا نَحْنُ  
 بِبَيِّنَاتٍ ﴿۵۸﴾ الْأَمْوَاتِ الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ ﴿۵۹﴾ إِنَّ

حالاتھ پر ژھنہ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ إِنِّي كَانَ لِي قَرِينٌ تمومنزہ ونہ اکھ وُن دولاہ زہہ دنیاس اندر اوس  
 میہ اکھ ملاقاتیا، مٹرک سنی اوس میہ بطور تعجب پر ژھان یَقُولُ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ سہ اوس  
 دپان میہ کیاہ ژہ چھلکھ چھلکھ تھ تھ تصدیق کران إِذْ آمَنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا وَأَنَا لَكَ بِئُورٌ اس یلہ  
 مرو توپتہ سپدو میٹرتہ اڈجہ توپتہ تموہ اُس بیہ زندہ کرنہ۔ کیاہ توپتہ بیما سہ جزاوسزاوینہ۔ سہ میون  
 ملاقاتی اوس مرنہ پتہ بیہ زندہ سپدس مٹرک۔ سہ آسہ ضرور چھٹس ووٹمت۔ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ  
 اللہ تعالیٰ سندر شاد سپدہ کہ اے جنتیو کیاہ تہہ چھونہ سہ کافر و چھن یرھان اگر یرھان چھوہ توہہ چھوہ  
 تمیک اجازت فَاطَّلَمَ فَرَأَاهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ اتی دیہ نظر سہ جنتی، وچھہ تس مٹرک ملاقاتیس  
 چھٹس منز باگ دزان قَالَ تَاللَّهِ إِنْ كِدَتْ لَتُرْدِينَ دپیس قسم خدا تہہ ہیرو چھس بہ تباہ کرن، ڈلہ  
 تراون کھوہ ڈس منز۔ ژہہ ہیرو چھس بہ تہ قیامتک مٹرک بنلون۔ از آسہ ہاہہ تہ ژے سیت عذابس گرفتار  
 وَلَوْلَا نِعْمَةُ رَبِّي لَكُنْتُ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ہر گاہ نے میانس پروردگارہ سز میہ پیٹھ مہربانی تہ فضل  
 آسہا بوہ تہ آسا ژے سیت عذابس گرفتار۔ مگر خداین کور میہ پن بوڈ فضل۔ بوہ تھوونس صحیح اعتقادس  
 پٹھہ قائم۔ توپتہ ونہ یہ جنتی پنہ نین اہل مجلس سن أَفَمَا نَحْنُ بِبَيِّنَاتٍ کیاہ دوون چھنا اسے جنتی  
 مرہ و نین اندر زانہہ الْأَمْوَاتِ الْأُولَىٰ گمرے مرن نیس بروٹھ اکھ پھر دنیاس اندر لبہ آو۔ وَمَا  
 نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ بیہ بیہ نہ آسہ عذاب تہ کرنہ زانہہ إِنَّ هَذَا هُوَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ اللہ تعالیٰ چھہ فرماوان

هَذَا هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۶۰﴾ لِيُنْثَلِ هَذَا فَيَعْمَلِ الْعَمَلُونَ ﴿۶۱﴾ أَذَلِكَ خَيْرٌ نُزُلًا أَمْ شَجَرَةُ الزُّقُومِ ﴿۶۲﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهَا فِتْنَةً لِلظَّالِمِينَ ﴿۶۳﴾ إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيْمِ ﴿۶۴﴾ طَلَعَهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيْطَانِ ﴿۶۵﴾ فَإِنَّهُمْ لَا يَكُونُونَ مِنْهَا فَمَا لِيُتُونُ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿۶۶﴾ ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبًا مِّنْ حَمِيمٍ ﴿۶۷﴾ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيْمِ ﴿۶۸﴾ إِنَّهُمْ أَلْفَاؤُا بَاءَهُمْ ضَالِّينَ ﴿۶۹﴾ فَهُمْ عَلَىٰ آثَرِهِمْ

کہ جنس اندروانتھ روحانی تہ جسمانی نعموہ حاصل سپدہ، بے شک یہی نعمیہ بڈر ستگاری لیںل ہذا فایعمل العیلون یڑھی کامیابی خاطرہ گومہ عمل کردین ہنز عمل کرن، ایمان اُن تہ اطاعت کرن اذک خیر نزلًا ام شجرۃ الزقوم یہ جنت تہ سمہ جتہ نعموہ جھا بہتر دعوتہ کن بایمان ہندہ خاطرہ کنہ زقوم کل تمیک میوہ بیوہ تہ پھم لہ جتہ کافر ن ہندہ خاطرہ بے شک آسہ کورسہ زقوم کل آخرتس اندر عذابگ ذریعہ بناوہ علاوہ ظالمین ہندہ خاطرہ امتحانگ تہ آز مایعہ ہند سبب کہ سہ کل بوزت کرنہ تم تھ پڑھ کنہ انکار تہ استہزاء۔ چنانچہ تمو کافر و کور استہزاء، تہ انکارے۔ دینہ لگ کہ کتہ جتہ بوزمت از تال نارس اندر کل آسن۔ اللہ تعالیٰ جھک فرماوان انا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم سو جھہ اکھ کلاہ اُس کھو ثمت جتہ جہنمہ کہ تکہ تلہ نارہ منزے نازک کل کھو ثمت۔ جتہ پاتھ دنیاس اندر نارس اندر اکھ خاص قسمک لگر پادہ سپدان تہ نوان چھ تمین لگرن جھہ ”سمندرونان“ طلعا کا تہ رؤوس الشیطان تمیک پھل تہ میوہ آسہ سرفہ کلہ ہی بد شکل تہی سیت پیہ کرنہ ظالمین ہنز دعوت فائتم لا کونون ونا فمالیون ونا البطون بوچھ سیت یلہ بے تاب آسن سپدان پس آسن تم یوہے پھل کھیوان۔ تہی سیت آسن یڈبران ثمران لہم علیہا لشوبان حمیم تو پتہ یلہ تریش آسکھ لگان تم آسن تھ پیٹہ بلہ نانہ آمثر سر سخت تیز گرم آب جتہ سیت پال تہ پاکھ ملہ نانہ آمت آسہ تریعہ بدل چاونہ یوان ثمران مرجعہم الالی الجحیم تو پتہ آسہ

يُهْرَعُونَ ﴿۴۱﴾ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۴۱﴾ وَلَقَدْ  
 أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿۴۲﴾ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
 الْمُنْذِرِينَ ﴿۴۲﴾ الْإِعْبَادِ لِلَّهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿۴۳﴾ وَلَقَدْ نَادَيْنَا نُوْحًا  
 فَلْنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿۴۴﴾ وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ﴿۴۵﴾  
 وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ ﴿۴۶﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿۴۷﴾  
 سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ ﴿۴۸﴾ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۴۹﴾

سمن بیہ و اہل سن نارِ جہنم منز۔ یعنی تہ روزن بدستور۔ یہ بیٹھ عذاب کیا زہ سنا بیٹھ کرنہ۔ تم کیا  
 آس نہ خدایہ سندہ ہدایہ موجب پکان بلکہ اِنْتُمْ الْقَوَائِدُ هُمْ ضَالِّينَ تم لو سب ہنن مال بدب  
 ڈلٹ فہم علی اشرؤم یہرعون ہل آس تم تہ تمنے پتہ پتہ اچھ ڈلٹھ دوران سمن آکرہ وقتہ کین کافر  
 بروٹھ تہ ولقد ضل قبلہم اکثر الاولین بے شک ڈلٹ آس بروٹھ ہو اندرہ اکثر لوکھ ولقد  
 ارسلنا فیہم منذرین تو پتہ سوز آسہ تم منز بیم گرہ ون پیغمبر فانظر کیف کان عاقبہ  
 المنذرین ہل وچھ زہ تمن بیم بیم کرنہ آمتین ہند انجام کیا ہد۔ تھہ پاٹھ گئے تم عذاب گر فدا  
 ہل عذاب تمن پیٹھ دینا سے منز کرنہ آو الاعباد اللہ المخلصین مگر بچائے تمہ عذاب ڈنیوی نشہ  
 اللہ تعالیٰ سند خاص کرنہ آمت بندہ ولقد نادینا نوح فلنعلم المجیبون تھتق بیہ کور آسہ نشہ فریاد  
 نوح علیہ السلام یاری تہ مدتہ خاطرہ۔ یعنی دُعا موٹھ۔ ہل کمر آسہ تمن فریاد سی کیا زہ آسہ چھہ رٹ  
 فریاد سی کرہ ون وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ تو پتہ ڈیت آسہ نجات تس بیہ تھندین تابعین جہ  
 پریشانی تہ غمہ نشہ یعنی کافر ہندہ ایذا و تکلیفہ نشہ۔ بیہ انکار تکلیفہ نشہ۔ طوفانہ سیت کمر تم کافر  
 غرق۔ تمن تہ تھندین تابعین ڈیت نجات وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ تو پتہ کمر آسہ تھنر ذریت پتھ  
 گن باقی روزہ ون۔ بیہ کانسہ ہند نسل رودنہ بیٹھ گن باقی وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ آسہ تھو تھند ذکر خیر  
 پتہ یوہ نین منزوار ہل کاس تان سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ پر بیٹھ طرفہ آسہ لوکن ہنزن



إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿۸۱﴾ ثُمَّ أَخْرَقْنَا الْآخِرِينَ ﴿۸۲﴾  
 وَإِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ ﴿۸۳﴾ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿۸۴﴾  
 إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ ﴿۸۵﴾ إِنِّي كُنَّا لِلَّهِ  
 رُبُودًا ﴿۸۶﴾ فَمَا ظَنَّمُ بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۸۷﴾ فَظَنَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ ﴿۸۸﴾  
 فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ ﴿۸۹﴾ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ ﴿۹۰﴾ فَرَاغَ إِلَىٰ آلِهِمْ

زیون پیٹھ یہ کتھہ جاری کہ سلامتی بوین حضرت نوحس عالمین منز۔ خدا کھرن کہ تم تمام جن انسان تہ ملایک روزن تمن پیٹھ سلام سوزان اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ اَسے چھہ تھے عوض نیکو کارن دووان اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ سہ نوح علیہ السلام چھہ سانیو بایمان بند واندردہ ثُمَّ أَخْرَقْنَا الْآخِرِيْنَ تُو پتہ پھاٹو اَسہ باقی ساری لوکھ سمو تهنز نافرمانی کمر۔ وَاِنَّ مِنْ شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيْمَ بیہ چھہ بے شک نوح علیہ السلام سنزہ وتہ پکھ و نیو اندردہ۔ تمن سیت اصولن اندر اتفاق گرہ و نیو اندردہ ابراہیم علیہ السلام تہ اِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ جہند قصہ تہ چھہ قابل ذکر۔ یلہ سہ پنہ نس پروردگار سُن متوجه سہ صاف دلہ سیت نُس بچھہ شرکی اعتقادوتہ ریاء لشمہ پاک اوس تہہ منز خالص توحیدتہ کامل اخلاص موجود اوس اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَاذَا تَعْبُدُونَ یلہ سمو پنہ نس مالس بیہ پنہ نس قومس دوپ یم بت پرست آس کہ تہہ کتھہ واہیات چیزس چھوہ پرستش کران اِنِّي كُنَّا لِلَّهِ رُبُودًا کیاہ اپزین مپزہ یین باطل معبودن چھوہ تہہ معبود بنلان یشھان معبود برحقس دور آے فَمَا ظَنَّمُ بِرَبِّ الْعَالَمِيْنَ تہند کیاہ خیال چھہ رب العالمیس متعلق۔ توہہ بے چھوہ نُس عبادت کرن تراثر توہیہ چھا تھندس معبود آسئس منز کانہہ شک۔ سہ شک کمر وودر۔ امی قسمگ بحث و مباحثہ اوس تمن منز آسان۔ اکہ وقتہ دوت تمن اکہ میلک تہ عرسک موقہ۔ تمو لوگووون تمن کہہ تہہ تہ سپد ونا تھہ سانس میلکس منز شامل۔ تہند غرض اوس کہ تمن پیٹھ پیہ مالہ کہ شان و شوکتک اثر فَظَنَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ توپتہ دژاکھ نظراہ ابراہیم علیہ السلامن سٹارن سُن فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ توپتہ دوپکھ بہ چھس بیمار لہذا ایکنہ بہ میلکس تہندس شامل

فَقَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ<sup>۹۱</sup> مَا لَكُمْ لَا تَنْطِقُونَ<sup>۹۲</sup> فَرَاغَ عَلَيْهِمْ  
ضَرْبًا بِالْيَمِينِ<sup>۹۳</sup> فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ<sup>۹۴</sup> قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا  
تَنْحِتُونَ<sup>۹۵</sup> وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ<sup>۹۶</sup> قَالُوا ابْنُوا لَهُ بُنْيَانًا  
فَالْقُوَّةُ فِي الْبَحِيوِ<sup>۹۷</sup> فَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَسْفَلِينَ<sup>۹۸</sup>

سپد تھ۔ یہ ہند ارادہ اوس کہ تم گڑھن تہ میہ یہ موقعہ تہندین پوتلین سمار کرہ نگ۔ تمی موکھ کوزکھ  
حیلہ برتارن گن دژکھ نظر۔ تمین لوکن اوس برتارن ہند اعتقاد۔ تمہ موکھ ہیوک نہ تمو کینہہ جواب  
دنتھ۔ یہند غرض اوس حضرت خالق حقیقی سز کمال عظمت متحضر کرن فتوکوا عنہ مدیرین توپتہ  
گے تم لوکھ تمین تینے تر آوتھہ پنہ کلمہ گن فراغ الی الہیم توپتہ ژاوا ابراہیم علیہ السلام تہندس  
بت خائس منز پوتلین نشہ تمین نشہ دہکھ واریاہ کینہہ چیک چیز لوکو تھومت فقال ألا تأکلون  
پوتلین گن دوپکھ نہہ کیا زہ چھوہ نہ تم چیز کیہوان۔ یلہ نہ تمو تورہ کینہہ تہ جواب دوپکھ ما لکم لا  
منطقون توہہ کیاہ گووہ تہہ چھوہ نہ کینہ کتھاہ کران فراغ علیہم ضربا بالیمین توپتہ ہیو کھ تمین  
دہکھہ اتھہ سیت زورہ لائن۔ یوتان تمین ٹیگ کوزکھ مکڑہ سیت فأقبلوا الیہ یزفون توپتہ آے تم  
لوکھ وانس تمین گن دوران دوران بانبر سیت تہ ژکھ بیتھ قال أتعبدون ما تنحيتون ابراہیم علیہ  
السلام دوپکھ اے لوکو کیاہ نہہ چھوہ پرستش کران تمین چیزن ہنز تم تہ پائے پنہ نیوا تھو گران وچو کھ۔  
نہس چیز پانہ توہہ گن محتاج آسہ شے شویا خدا واللہ خلقکم وما تعملون حالانکہ اللہ تعالیٰ ان چھوہ تہہ  
تہ یہہ تم چیز نہہ بناوان وچو کھ تم تہ پادہ کثرت۔ تم گئے لاجواب۔ تمین پھور نہ کینہہ تہ قالوا ابناؤا  
بنیانًا فالقوة فی البحیو پانہ وان لگ تم دہنہ وون کمر و تیار آم سدہ خاطرہ کوندہ ہش اکھ عمار تھاہ۔  
تہہ منز زالونار۔ توپتہ تراویون سہ تہہ ڈزہ و نس نارس منزہ۔ فأرادوا بہ کیدًا فجعلناہم الاسفلین پس  
یرشو تموا ابراہیم علیہ السلام نسبت اکھ حیلہ گرن تکلیف واتناو نگ مگر اسہ کمر تم ذلیل تہ خوار۔ سہ نار  
سپد سانہ حکمتہ سیت تمین پیٹھ گل تہ گلزار پنہ قومکہ آمہ ورتاؤہ سیت یلہ ابراہیم علیہ السلام تمین نشہ

وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَّهَدِينَ ﴿۹۹﴾ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۰۰﴾ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ ﴿۱۰۱﴾ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُا إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ ﴿۱۰۲﴾ قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿۱۰۳﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿۱۰۴﴾ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ﴿۱۰۵﴾ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۰۶﴾

ما یوس سپد وَقَالَ إِنِّي ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّي سَيَّهَدِينَ تموووپ وون کره بو-سمه شهره نشه هجرت- بوگرهه پنه نس پروردگار س لغه- سه باوه ميه و ته نمبه رزه جابه کن- توتے گرهه به- تمه پته واتناوی تم اللہ تعالیٰ ان شهر شامس منز- توت واتته کور تموؤعا رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ بدوردگار ميه کرتے وون فرزنداه عطا نیکوکار واندره فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ توپته فرمواسه تمن بشارت ائس نرم مزاج فرزندہ سنز فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُا إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ اده یله سه فرزندہ ووت تمن سیت اوره یور پھیر نجھ عمره دوپ اس اے فرزند ميه وچھه خوائس منز زن به ثیہ کھش کران خدایه سده حمه وونی وچھه ژه چانی راع کیاہ چھه قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ فرزندن دوچھه اے میانہ بابہ صابہ نہه کمر و حض سوکام- سمیک توہہ حکم کرنے آؤ- میون مہ بمر واندیشہ کینہہ تہ- خدائے یوژھ ميه لبوئہہ صبر کره و نیو آندره فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ توپته یله تموودوشوے خدایه سُد حکم مون توپته سوؤ تموسه فرزندن ذبح کرنے خاطره ہتھه کنی تو پته ہنؤکھ گردنہ شر اکھ واینی وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ \* قَدْ صَدَّقْتَ الرُّءْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ تان کوڑاسه آلو تمن اے ابراہیم مر جبا- بے شک توہہ ہووہ پئن خواب عملاً پوز- وون چھه اس حکم کران وون تراویون اسماعیل علیہ السلام تمووترووسه- ٹھند زوہچو تمہه علاوہ سپد تمن دو شونی مال ہتھرن تھد مرتبہ حاصل- اس چھه تھتھ کننہ رژ مزوری ووان نیکوکارن إِنْ هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ

هَذَا هُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ﴿۱۰۶﴾ وَقَدَيْنَهُ بِذُبْحٍ عَظِيمٍ ﴿۱۰۷﴾  
 وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿۱۰۸﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ﴿۱۰۹﴾ كَذَلِكَ  
 نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۱۰﴾ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۱۱﴾ وَبَشَّرْنَاهُ  
 بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۱۲﴾ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ وَ  
 مِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ ﴿۱۱۳﴾ وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ  
 مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿۱۱۴﴾ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ ﴿۱۱۵﴾  
 وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ ﴿۱۱۶﴾ وَآتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ ﴿۱۱۷﴾

بے شک حق تعالیٰ نے اس پر تہمیدہ خاطرہ اٹھ کر ہوا امتحان۔ یہ منزلت کامیاب ہے۔ وَقَدَيْنَهُ بِذُبْحٍ عَظِيمٍ  
 یہ دیت ہے کہ ہوا جانور اور تم بدلہ دینا کرنے خاطرہ۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ یہ تھو و اسے باقی پتہ  
 یوں دینا ہندہ خاطرہ تہمید ذکر خیر۔ تم آسن دان سَلَّمَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ سلام بوبین حضرت ابراہیم  
 پیٹھ۔ چنانچہ ازتان چھہ تم پتہ یوں ہون تہمیدہ نام مبارکہ پتہ دان علیہ السلام کَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ  
 یہ کتہ کتہ چھہ آسن نیکو کارن مزور تہ صلہ و دان اٹھہ من عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ بیشک چھہ سہ سانو ایمان دار  
 ہند و اندرہ وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ یہ دڑ اسے بشارت تم حضرت اللہ سز۔ سہ تہ  
 آسہ ہنم نیکو کار و اندرہ وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ یہ کرہ اسہ تم پیٹھ یہ اسحاق علیہ السلام پیٹھ  
 برکت و نازل وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ یہ کر اسہ تہمیدہ ذریہ اندرہ بعض نیکو کار تہ بعض  
 تم ہم چھہ عملو سبہ پتہ نس پانس تن پائٹھ ظلم کرہ ون آسن وَلَقَدْ مَنَّا عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ہنر پائٹھ یہ  
 کر اسہ احسان موسیٰ علیہ السلام یہ ہارون علیہ السلام پیٹھ وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيمِ  
 یہ دیت نجات اسہ تم دوشون یہ تہمید س قومس یعنی بنی اسرائیلن ہڈہ غمہ کہہ لیشہ وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا  
 هُمُ الْغَالِبِينَ یہ کر اسہ تم یاری تہ مدد فر عونس مقابلہ۔ پس سپد تم تمی تس دشمنس پیٹھ غالب

وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿۱۱۸﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي  
 الْآخِرِينَ ﴿۱۱۹﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ مُوسَىٰ وَهَارُونَ ﴿۱۲۰﴾ إِنَّا كَذَّبُكَ بِجِزْيِ  
 الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۲۱﴾ إِنَّهُمَا مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۲۲﴾ وَإِنَّ إِلْيَاسَ  
 لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿۱۲۳﴾ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ الْآتَتُّوَنِي ﴿۱۲۴﴾ أَدْعُونَ  
 بَعْلًا وَتَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخَلْقِينَ ﴿۱۲۵﴾ اللَّهُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ  
 الْأُولَىٰ ﴿۱۲۶﴾ فَكَذَّبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ ﴿۱۲۷﴾ إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ  
 الْمُخْلِصِينَ ﴿۱۲۸﴾ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ ﴿۱۲۹﴾ سَلَّمَ عَلَىٰ

وَاتَيْنَاهُمَا الْكِتَابَ الْمُنِيرِينَ \* وَهَدَيْنَاهُمَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ بے کمر عطا آسہ تمن دوشونی واضح کتاب  
 بے ہاو کہ تمن سزوتھ و ترکنا علیہما فی الآخرین بے تھو تھندہ خاطرہ پتہ یوہ وین من ذکر  
 خیر۔ پتہ یوہ ون چھہ ونان سلم علی موسی و ہارون سلام بوین حضرت موسی اس تہ حضرت  
 ہاروس بیٹھہ انا کذک بجزی المحسنین اس چھہ بیٹھہ کنیکو کارن مزوری عطا کران انہما من  
 عبادنا المؤمنین تم تہ چھہ دوشوے سانو ایمان دار بند و اندرہ فان الیاس لمن المرسلین بے چھہ  
 حضرت الیاس تہ تنمبر و اندرہ اذ قال لقومہ الاتتوون ایلہ تمودوپ قومس پنہ نس کیاہ تہہ چھہ نا  
 کھوژان خدائس۔ اذ دعون بعلًا و تذرون احسن الخلقین کیاہ تہہ چھہہ اگس پوتیس (نس)  
 ناوچھہ بعل پرستش کران تہ نا دووان۔ نس پروردگار ت پادہ کرہ ون چھہ تس پرستش کران چھہ  
 تراوان۔ اللہ ربکم و رب ابائکم الاولین سوگو و معبود برحق نس تھند پروردگار تہ تھندین مالین بدبین  
 بند پروردگار چھہ کذبوہ فانہم لمحضرون تموتہ زون سہ اپن۔ پس یں تم تہ گر فاکر تھ  
 عذابہ خاطرہ حاضر کرنہ قیامتگ دہہ الا عباد اللہ المخلصین مگر یں نہ رتہ ژارنہ آمت بندہ  
 و ترکنا علیہ فی الآخرین بے تھای آسہ باقی پتہ یوہ وین اندر تھند ذکر خیر تم اس ونان سلم علی

إِلْ يَا سَيِّئٌ ۝۱۳۶ إِنَّكَ ذَلِكْ بِجَزَى الْمُحْسِنِينَ ۝۱۳۷ إِنَّهُ مِنْ  
عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۝۱۳۷ وَإِنَّ لَوْطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝۱۳۸  
إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ ۝۱۳۹ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ ۝۱۴۰ ثُمَّ  
دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ ۝۱۴۱ وَإِنَّكُمْ لَتَسُرُّونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ ۝۱۴۲ وَبِالْبَيْلِ  
أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝۱۴۳ وَإِنَّ يُوسُفَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝۱۴۴ إِذْ أَبَقَ إِلَى

إِلْ يَا سَيِّئٌ سلام بوبین حضرت الیاس پیٹھہ إِنَّكَ ذَلِكْ بِجَزَى الْمُحْسِنِينَ سببے پاٹھہ چھہ اَس نیکو  
کارن رثمزوری عطا کران إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ سہ حضرت الیاس تہ چھہ سانیو ایمان دار  
بندو آندرہ وَإِنَّ لَوْطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بیہ چھہ بزپاٹھہ حضرت لوط تہ چھہمیر آندرہ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ  
أَجْمَعِينَ یلہ اسہ تمن بیہ ٹھہدس سارسے عیاس نجات ڈیت۔ عذابہ نشہہ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَيْرِينَ  
مگر نہ تہمزوزنانو، اہل بیٹو آندرہ اگس جہزنانہ۔ سوروزتمتی عذابس منزروان والین سیت۔ ثُمَّ دَمَّرْنَا  
الْآخَرِينَ توپتہ کڈاسہ باقی لوکن ہنزبخت۔ تم گال ساری تمن کورتلگ پیٹھہ وَإِنَّكُمْ لَتَسُرُّونَ عَلَيْهِمْ  
مُصْبِحِينَ \* وَبِالْبَيْلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ توپتہ چھوہ ای مکہ کیولو کو تہمزو بسیتوکن صحتس یارات گیت پکان یلہ  
ٹہہ شامس کن سفر کران چھوہ۔ کیاہ توہہ چھنا فکرہ تران نافرمان لوکن ہند انجام کیاہ چھہ سپد مت وَإِنَّ  
يُوسُفَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ بیہ چھہ یونس علیہ السلام تہ بے شک بیغیرہ آندرہ۔ ٹھہند تمہہ وٹک قصہ تہ چھہ  
قابل ذکر۔ یلہ تموپنہ نس قومس ایمان نہ لہنہ موکھ خدایہ سندہ حکمہ عذاب بنگ وعدہ کور۔ توپتہ درای  
پانہ تمہہ شہرہ نشہہ سمہ دوہدہ عذابگ وعدہ اوس تمہہ دوہدہ یلہ عذاب نازل سپدنگ آثار ہتین سپدن قومس  
ہیوت یونس علیہ السلام ڈھاندن ایمان اٹکھہ ارادہ یلہ نہ بیہ تم لبکھ کنہ تہ ساروے کور متفقہ طور رجوع  
بخدا سیٹھاہ کمر کھگریہ وزاری۔ بیہ اوکھہ بصدق دل ایمان، مجمل پاٹھی۔ چنانچہ عذاب در اوپتھہ۔ یونس  
علیہ السلامس سہز امہہ واقع خیر تم دراے پنہ اجہتہادہ سیت خدایہ سندہ صرتح اجازتہ درائے توپتہ کورکھ  
ارادہ کنہ دور جایہ گوٹھہ نگ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ توپتہ گئے ڈلتھہ امہہ جایہ نشہہ۔ وات اس  
مسافرو سیت ہر تھہ ناوہ پیٹھہ۔ تمن ہوو کھ اشارہ۔ تمورٹ ناوہ۔ توپتہ سپد تم تھہ ناوہ منز سوار ہناہ گنیہ۔

الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿۱۴۰﴾ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ ﴿۱۴۱﴾  
 فَالْتَمَمَهُ الْحَوْتُ وَهُوَ مَيْلُهُ ﴿۱۴۲﴾ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ ﴿۱۴۳﴾  
 لَلَيْتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿۱۴۴﴾ فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ  
 سَقِيمٌ ﴿۱۴۵﴾ وَأَبْتَنَّا عَلَيْهِ شَجْرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ ﴿۱۴۶﴾ وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ

یکدم دوتھ سمندرس منز طوفان۔ ناوہ ہانزو وہمکھ آسہ منز چھہ گس تام بس تازہ قصوروار چھہ۔ سہ شخص پیہ آسہ ناوہ نچہ الگ کرن۔ ادہ ہمہ طوفان نتہ چھہ آسہ سار نے پھہ تک خطرہ  
 فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ سہ قصوروار معین کرنہ خاطرہ تراوکیہ چیرہ۔ چیرین اندر دراو یونس علیہ السلائے خطاوار۔ توپتہ کور تمو پین پان دریاوس منز تراونہ خاطرہ پیش۔  
 دوپہکھ واقعی چھس بوی پنہ بس آغس نچہ بلا اجازت ژولمت۔ تراوومیہ آبس اندر تمن اوس خیال دریاوک کنارہ چھہ زیادہ دور۔ یہ وایہ ژھانٹھ توپتہ کھسہ پنھس پیٹھ۔ چنانچہ تم آے تراونہ حسب معمول دریاوس اندر۔ مگر تھہ تمو دریاوس اندر وٹھ لائے۔ خدایہ سدہ حکمہ آیہ اکھ گاڑا۔ تھی کور تمن لقمہ تہ توپتہ نچہ لاون۔ یک دم پچ ناوہ۔ فَالْتَمَمَهُ الْحَوْتُ وَهُوَ مَيْلُهُ توپتہ نیگل تم اکھ گاڑہ  
 تھہ حاکس تھہ تم آس پانس ملامتھ کران پنہ بس قصورس پیٹھ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ بس نے تم آسہن تسبیح پرہ و نیو آندرہ یعنی نماز پرہ و نیو آندرہ۔ چنانچہ گاڑہ ہندس کرہنہہ مازس پیٹھ ڈیت تمو بجدہ تھہ منز پور کہ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لَلَيْتَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ  
 نتہ روزہ ہن تم گاڑہ ہنزہ یڈ منز قیاس تانی۔ سمہ دوہہ لھہ قبر و منزہ کڈنہ یکن۔ تمو ییلہ زیوہ سیت تسبیح واستغفار پور دلہ سیت ندامت تہ توبہ کور فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ توپتہ تراوی آسہ تم تمہ کی برکتہ میدا س گن۔ تھہ منز نہ کانہہ کلاہ نہ سائیگ کانہہ چیزاہ اوس بحالیجہ تم آس گاڑہ ہنز یڈ منز آب ہوا تہ ضروریات زندگی خاطر خواہ میر نہ سپنہ موکھ۔ بیمار سپد مت وَأَبْتَنَّا عَلَيْهِ شَجْرَةً مِّنْ يَقْطِينٍ  
 پیہ کھور آسہ تمن نچہ تا پہ نچہ محفوظ روزنہ خاطرہ۔ مشادی الہ کل۔ کیاڑہ تمک و تھر چھہ بڈتہ شادہ آسان۔ پیہ واتاوا آسہ تمن بس اکھ جنگلی ژھاوج، یوسہ تمن دودچاوان آس وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفِ

مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ ﴿۱۴۷﴾ فَأَمَّنُوا فَمَنَّبَعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۱۴۸﴾  
 فَاسْتَفْتِهِمُ الرِّبِّيكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ ﴿۱۴۹﴾ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ  
 إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ ﴿۱۵۰﴾ أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ أَفْكَهْمُ لَيَقُولُونَ ﴿۱۵۱﴾  
 وَلَدَّ اللَّهُ ۗ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۱۵۲﴾ أَصْطَفَىٰ الْبَنَاتِ عَلَىٰ الْبَنِينَ ﴿۱۵۳﴾  
 مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿۱۵۴﴾ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۱۵۵﴾ أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ  
 مُّبِينٌ ﴿۱۵۶﴾ فَاتُوا بِكْتٰبِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ ﴿۱۵۷﴾ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ  
 وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسْبًا ۗ وَقَدْ عَلِمْتَ الْجَنَّةُ إِنَّهُمْ لِمُحْضَرُونَ ﴿۱۵۸﴾

اَوْ يَزِيدُونَ تو پتہ سوز اسہ تم پیغمبر اکھ لچھ خوتہ زیادہ لوکن کن تم شہر نیوآء س منز آس نئس شہر  
 موصلس قریب چھہ۔ یہند تعداد اکھ لچھ تہ ترہ ساس (۱۳۰،۰۰۰)۔ اوس فَأَمَّنُوا فَمَنَّبَعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ  
 تمولو کو اون ایمان گوڈہ آثار عذاب وچھتہ۔ ایمان مجمل تو پتہ تفصیلی ایمان۔ یلہ یونس علیہ السلام  
 واپس آئے تمن کن۔ نئس تلہ ناواسہ تم متع، عیش کرہ ناو ایمانجہ برکتہ آکس مد تس تام یعنی یوت تان تم  
 زندہ رود فَاسْتَفْتِهِمُ الرِّبِّيكَ الْبَنَاتُ وَلَهُمُ الْبَنُونَ نئس پر ژتھو تمن تم دپان چھہ ملائیک چھہ خدایہ  
 سزہ کورہ۔ کیاہ ٹھندس پروردگارہ سندہ خاطرہ گیا کورہ تہ تمن گئے پائس تھہ گبر۔ أَمْ خَلَقْنَا الْمَلَائِكَةَ  
 إِنَاثًا وَهُمْ شَاهِدُونَ کنہ اسہ کرہ پادہ ملائیک کورہ تمن تھی۔ تم آسیا تمن بناوچھہ وقتہ حاضر تہ موجود  
 تمن وچھان أَلَا إِنَّهُمْ مِّنْ أَفْكَهْمُ لَيَقُولُونَ وارہ چھوہ بوزان، تم چھہ پنہ نیو اپڑو تھو منزہ تہ تہ اکھ تھہ  
 ونان تہ وَلَدَّ اللَّهُ ۗ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اللہ تعالیٰ اس زائے اولاد وائھہم لکذیبون تم چھہ بالکل اپڑوانان أَصْطَفَىٰ الْبَنَاتِ  
 عَلَىٰ الْبَنِينَ کیاہ تمو کر یا پسند کورے پچوین پیٹھ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ کیاہ گوڈہ تو ہیہ تھہ بے  
 ہودہ تجویز چھوہ کران أَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیاہ تو ہیہ چھوہ ناغور کران أَمْ لَكُمْ سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ کنہ تو ہیہ  
 نغمہ چھہ نئی کانہہ دلیلہاہ اتھہ پیٹھ فَاتُوا بِكْتٰبِكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِينَ انو تو ہیہ پئی کانہہ کتاباہ چھوے



سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿۱۵۹﴾ ۱۵۹ اَلْاِعْبَادِ اللّٰهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿۱۶۰﴾  
 فَاَنْتُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ ﴿۱۶۱﴾ ۱۶۱ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفِتْنَيْنِ ﴿۱۶۲﴾ ۱۶۲ اِلَّا مَنْ هُوَ  
 صَالِحٌ الْجَحِيمِ ﴿۱۶۳﴾ ۱۶۳ وَمَا مِثْلُ الْاِلٰهَةِ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ ﴿۱۶۴﴾ ۱۶۴ وَاِنَّا لَنَحْنُ  
 الصّٰقُوْنَ ﴿۱۶۵﴾ ۱۶۵ وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴿۱۶۶﴾ ۱۶۶ وَاِنْ كَانُوْا لَيَقُولُوْنَ ﴿۱۶۷﴾  
 لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ﴿۱۶۸﴾ ۱۶۸ لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلِصِينَ ﴿۱۶۹﴾

تو ہیہ پوزونہ ون وجعلوا بآیتہ و بین الجنۃ سببا بیہ چھہ ٹھہر وومت تمو خدا نس نہ جنن منزاکہ رشتہ۔  
 دپان چھہ جن چھہ خدایہ سند داماد و لَقَدْ عَلِمْتِ الْيَتْمَ الْيَتْمَ لَمْ حَضَرُونَ حالانکہ تحقیق جن چھہ پانہ بیہ  
 کتھہ زانتھہ کہ تم تہ یلن گرفتار کتر تھہ عذابہ خاطرہ حاضر کرنہ قیامتک دوہ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ اللّٰهُ  
 تعالیٰ چھہ منزہ تہ پاک سموسارو پوتھو نشہ، یلہ سم لوکھ ونان چھہ نس خلاف اَلْاِعْبَادِ اللّٰهِ الْمُخْلِصِينَ  
 مگر چھہ محفوظ تمہہ گرفتاری نشہ اللّٰهُ تعالیٰ سندی ژارنہ آمت بندہ۔ سم جنواندرہ آس تن یا نساؤ اندرہ  
 فَاَنْتُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ \* مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ بِفِتْنَيْنِ نَس اے مگر کیو کافر و تو ہیہ تہ بیہ تم ساری تمن ہنز تو ہیہ  
 پرستش کران چھوہ میہ کو نہ خدانس نشہ کانہہ آگس دھو کہ دتھہ پانس کن پھر تھہ اِلَّا مَنْ هُوَ صَالِحٌ الْجَحِيمِ  
 مگر تس نَس جہنمسن کن واتہ ون آسہ ازلے۔ بیہ گوہ جنن ہند حال۔ ملا یکن ہند حال چھہ، تم چھہ ونان پانہ  
 وَمَا مِثْلُ الْاِلٰهَةِ مَقَامٌ مَّعْلُومٌ آسہ منز چھنہ کانہہ تہ یس نہ جایاہ چھہ مقرر کرنہ آسہ آکھ درجہ معین  
 کرنہ آمت وَاِنَّا لَنَحْنُ الصّٰقُوْنَ بیہ چھہ آس صفن منز ووتھندہ روزن و آل دست بستہ کھمس تعمیل  
 کرنہ خاطرہ۔ وَاِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ بیہ چھہ آس بے شک تسبیح پڑن و آل۔ خدایہ سنز پاکی بیان  
 کران۔ غرض آس چھہ پرستھہ طریقہ محکوم وون یلہ ملا یک پانہ پنہ نس بندہ آسئس اقرار چھہ کران۔  
 تمہہ باوجود تم معبود زانن کاژاہ بے وقوفی چھہ۔ وَاِنْ كَانُوْا لَيَقُولُوْنَ \* لَوْ اَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ \*  
 لَكُنَّا عِبَادَ اللّٰهِ الْمُخْلِصِينَ بیہ آس سم عربکی کافر ونان نبی کریمہ سندہ تشریف انہ بروٹھہ ہر گہہ آسہ  
 نشہ آسہا کانہہ نصیحت گروہ ون کتاباہ بروٹھہ لوکن ہندی پاٹھہ۔ استہ آسہو خدایہ سند خاص بندہ تو پتہ یلہ  
 تمن بروٹھہ کن واژ نصیحت کرہ ون کتاب پیغمبرہ سندہ ذریعہ فَاَنْتُمْ عَلَيْهِمْ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ تھہ کوڑکھ تو





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ ① بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ ②  
 كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَُوا وَآلَاتٍ حِينَ مَنَاصٍ ③  
 وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ وَقَالَ الْكٰفِرُونَ هَذَا سِحْرٌ  
 كَذَّابٌ ④ أَجَعَلَ الْإِلَهَةَ الْهَاءَ وَاحِدًا ⑤ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ⑥  
 وَأَنْطَلَقَ الْمَلَكُ مِنْهُمْ أَنْ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ ⑦ إِنَّ هَذَا

ص وَالْقُرْآنِ ذِي الذِّكْرِ حرف ص ہجھ حروفِ مقطعاتِ اَو اُنْدَرہ۔ امیک معنی زلہ پانہ اللہ تعالیٰ۔ قسم  
 ہجھس بہ ہاوان قرآن مجیدک۔ بس نصیحتہ سیت ہر ہجھ۔ یعنی ہتھ منز بے شمار نصیحتہ ہتھ ہتھ ہتھ ہتھ کہ  
 ہرگز ہجھتہ تمہ تھہ پڑہ یمہ یم کافر ونان ہجھہ کہ خدا بس ورا ای کیاہ ہجھہ بیہ معبودیا سمہ تھہ رسالتس خلاف  
 ونان ہجھہ۔ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي عِزَّةٍ وَشِقَاقٍ بلکہ سمولو کو شرک و کفر س ہتھہ کمر گو نڈمٹ ہجھہ تم ہجھہ  
 ہتھہ س، تعصبس تہ بیہ مخالفس منز بوڈ مت۔ امہ تعصبک تہ مخالفک سزایہ دنہ تمن اکہ دوہہ ضرور  
 كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ فَنَادَُوا وَآلَاتٍ حِينَ مَنَاصٍ ہتھہ پاٹھ اسہ ہجھہ تمو برو نھہ کاتیاہ لو کہ عذابو  
 سیت گال مت بس کر یو، تمو ہلاکتہ کہ وقتہ کریحہ نادتہ زارہ پارہ مگر سہ اوس نہ عذابہ نشہ آزاد سپد نگ  
 موتہ۔ وَعَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنذِرٌ مِنْهُمْ سم قریش ہجھہ تجب کران ہتھہ تھہ ہتھہ کہ تموے منزہ  
 او تمن نشہ بیم کرہ ون پیغمبر اہ یعنی بشر اہ وَقَالَ الْكٰفِرُونَ هَذَا سِحْرٌ كَذَّابٌ تو پتہ لگ دہتہ کافر یہ پیغمبر  
 ہجھہ معجزان اندر جادوگر، دعوائے نبوتس اندر اپز یور۔ کیاہ یہ شخص ہیجیا پز یور آتھہ أَجَعَلَ الْإِلَهَةَ الْهَاءَ  
 وَاحِدًا ای تہو وار سمن معبودن ہنزہ جاپہ گئے معبود باقی سار نے ہجھہ کران انکار إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ

كُنْتُمْ تُرَادُّونَ ۗ مَا سِعْنَا بِهَذَا فِي الْآخِرَةِ ۗ إِنَّ هَذَا إِلَّا  
 اخْتِلَافٌ ۗ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ  
 ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَدُوُّ قَوَاعِدَابٍ ۗ أَمْرَعُنَدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ  
 رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ ۗ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا  
 بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ ۗ جُنْدًا مَا هَذَا لَكُمْ مَهْزُومٌ مِّنْ

عجاوب بے شک یہ چھ آکھ عجیب چیزہ وانطلق السلامیہم ان امشوا واصيدوا على الهتك ان هذا  
 کُنْتُمْ تُرَادُّونَ یہ ہوت نیرن وعظہ چہ مجلسہ منزہ تہند یوز ٹھیوز ٹھیوز۔ باقین تہ دوچھہ پکونیرو، مضبوط تہ  
 قائم روزوپنہ نین معبودن ہندس عبادتس پیٹھ۔ بے شک بیتھ منز چھہ ائس پیغمبرس خبر کیاہ ذاتی  
 مطالبہہ مَا سِعْنَا بِهَذَا فِي الْآخِرَةِ ۗ إِنَّ هَذَا إِلَّا اخْتِلَافٌ کیازہ آسہ چھنہ یوز مثری یہ کتھہ  
 بروٹھس ندیس اندر۔ یہ چھنہ کینہہ تہ مگرپانے ٹھہر وومت چیزہہ أَنْزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرَ مِنْ بَيْنِنَا کیاہ آسہ  
 ایٹیو منزہ سپدہ آس یوت پیٹھ نازل نصیجگ کلام۔ ہر گاہ کانسہ ہڈس موہوس کانسہ رئیس پیٹھ سپدہ ہاتوتہ  
 آس بیاکھ کتھہ۔ اللہ تعالیٰ چھہ فرماوان کہ یہ ہند یہ وئن کہ ائس پیغمبرس پیٹھ کیازہ سپد نازل کلام الہی، آسہ  
 منزہ کانسہ ہڈس شخصس پیٹھ کونہ سپد نازل یہ چھنہ امہ خاطرہ کہ ہر گاہ تی سپدہ ہاتیلہ کیاہ کرہ ہن تم پڑھہ  
 بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَدُوُّ قَوَاعِدَابٍ بلکہ چھہ تہن میانس کلامس پیٹھ وحی سوز نی اندر  
 شک بلکہ ژہن تم وونہ میون عذاب أَمْرَعُنَدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ تہ ماچھہ تمنہ نشہہ  
 ٹھہندس زبردست تہ فیاض پروردگارہ سندین رحمن ہند خزانہ جمع تہن منز نبوت تہ شامل چھہ۔ نیس  
 تہن خوش کرہ تہس دن نبوت نیس نہ خوش کر کیکہ تہس دن نہ کینہ۔ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا  
 بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ سہ تہنز حکومت چھہ زمین تہ آسمان منز۔ یہ یہ تہن دون منز  
 باگ چھہ تھہ منز اگر تہن کانہہ اختیارہ چھہ آسمان وز مینس پیٹھ نیس کھس تہن ہیر لاکھہ آسائس۔ تور  
 کھتھہ بدلاوئن تم نبوتک لحم۔ جُنْدًا مَا هَذَا لَكُمْ مَهْزُومٌ مِّنْ الْأَحْزَابِ یہ چھہ آکھ مختصر جماعتہہ ٹھہندین

الْأَحْزَابُ ۝ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَارِ ۝  
 وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ ۝ إِنَّ  
 كُلَّ الْإِلَاحِ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابُ ۝ وَمَا يَنْظُرُ هُوَ إِلَّا  
 إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ ۝ وَقَالُوا رَبَّنَا  
 عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ ۝ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا  
 يَقُولُونَ وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝

مخالفین ہنز بر تھمیدو شکست خوردہ جماعتوں اندر یہ ہے کہ جماعتہا۔ بہنز، و تھو سے حرکتو سیت کیا زہ چھوہ  
 توہیہ غمگین سپدان کَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتَارِ پیغمبرن ہتھ تکذیب کورمت مکہ  
 کین کافر ن بروئھ قوم نوحن، قوم عادن، بیہ قوم فرعونن اُس میٹھ وول اوس۔ اُس سزاو نہ کہ وقتہ  
 اتھن نہ کھوزن اوس بحر من میٹھ کان وَثَمُودُ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ لَيْكَةِ أُولَئِكَ الْأَحْزَابُ بیہ قوم  
 ثمودن، بیہ قوم لوطن بیہ شہر ایکہ کیو لوکو۔ تی ایزہ جماڑ نہ لوکھ سمو شکست کھیو پیغمبرن ہندس  
 مخالفین اندر اِن كُلَّ الْإِلَاحِ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقَابُ سمو ساروی کور تکذیب پیغمبرن۔ اُس سپد  
 تمن پیٹھ میون عذاب ثابت وَمَا يَنْظُرُ هُوَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً مَّا لَهَا مِنْ فَوَاقٍ سم ملک  
 کافر چھنہ پیاران مگر تھہ گنی کریجہ تھہ منز نہ شہہ تھکنہ موکھ ژھین آسہ بلکہ آسہ گنی شہہ سیت سہ  
 چھو کہ وَقَالُوا رَبَّنَا عَجِّلْ لَنَا قِطْنَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ بیہ چھہ دنان سم کافر ٹھٹھہ پاتھ اے سانہ  
 پروردگارہ جلد مکن وانہ ناوتہ آسہ پنن حصہ عذابک حسابک دوہینہ بروئھ اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ  
 وَادْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُدَ ذَا الْأَيْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ تھہ کمر و صبر یار رسول اللہ تمن کھن پیٹھ سمہ تم کافر دنان  
 چھہ۔ بیہ پادویون ژیتس سون بندہ داؤد علیہ السلام اُس قوتہ وول نہ صبرہ وول اوس عبادتس نہ دشمن  
 ہندس تکلیف پیٹھ۔ تم اُس خدا ایس گن سیٹھارہ رجوع کرن وائل۔ آسہ آسہ کر مرزہ یمن یمنہ نعرہ عطا  
 اِنَّا سَعَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُن بِالْعِشِيِّ وَالْاِشْرَاقِ آسہ آس مُخَّر نہ رام کمر مت کوہ یم تمن سیت

إِنَّا سَخَرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحُنَ بِالْعِثِيِّ وَالْإِشْرَاقِ ۝<sup>۱۸</sup>  
 وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ ۝<sup>۱۹</sup> وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ  
 وَفَصَّلَ الْخِطَابِ ۝<sup>۲۰</sup> وَهَلْ أَتَاكَ نَبِيُّ الْخِطَمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ ۝<sup>۲۱</sup>  
 إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمِينَ بَغْيِ  
 بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى  
 سَوَاءِ الصِّرَاطِ ۝<sup>۲۲</sup> إِنَّ هَذَا آخِرُ لَه تَسْعَةٍ وَتَسْعُونَ نَعَجَةً وَوَلِي

اَس تَبِيحُ بِرَانَ شَاسَ تَه صَحْسُ وَالطَّيْرَ مَحْشُورَةً كُلٌّ لَّهُ أَوَّابٌ بِیہ کمری تمَن مَحْر جَانورِ یَم سُونِبر نہ اسی  
 آمتِ تمَن رُغْمِ ساری کوه تہ جانور اَس تہندہ وچہہ ذکرہ سیت مشغول روزان وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ  
 الْحِكْمَةَ وَفَصَّلَ الْخِطَابِ بِیہ کمر اَسہ مضبوط تہ محکم تہنر سلطنت بیہ کمر اَسہ عطا تمَن حِجْمَت گاہہ جار بیہ  
 فیصلہ کرہ وَا ن کلام نُس نہایت واضح تہ جامع اوس وَهَلْ أَتَاكَ نَبِيُّ الْخِطَمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ بِیہ چھاوا اثر مثر  
 توہمہ رُغْمِ مقدمہ والین ہنز خبر یلہ زان جوراہ تمَن رُغْمِ مقدمہ تہہ آے راتہ گیت سہمہ وقتہ تم خلوت  
 عبادت خانس منز مشغول اَس خدایہ سندس یادس سیت۔ پھرہ والیو پھو تر اونہ تم سیدہ دروازہ کن بے  
 وقت پینہ موکھ۔ مگر تم ژاے تمَن رُغْمِ دیوارہ پیٹھہ دوٹھہ دتھ۔ توپتہ وَا ت تم داؤد علیہ السلامہ سندس  
 عبادت خانس منز إِذْ دَخَلُوا عَلَى دَاوُدَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ یلہ تم ژاے داود علیہ السلامہ رُغْمِ  
 نُس کھو ژ تمَن رُغْمِ تہندہ بے وقت پینہ کہ سبہہ تمودو پھکھ کھو ژومہ حض خَصْمِينَ بَغْيِ بَعْضُنَا عَلَى  
 بَعْضٍ فَاحْكُم بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تُشْطِطْ وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ اَس چھہ تاز عک زہ فریق۔ اَسہ آندرہ  
 مخر اک بھیس پٹھہ زیادتی۔ نُس کمر وچہہ اَسہ منز فیصلہ پڑہ سیت۔ تہنہ بے انصافی کمر۔ ہاؤو سیز و تھہ توپتہ  
 دوپ تمودو آندرہ اک زان مقدمہ صو رتھ حض پھہ پتھہ پآ پھُ اِن هَذَا آخِرُ لَه تَسْعَةٍ وَتَسْعُونَ نَعَجَةً  
 وَوَلِي نَعَجَةً وَاحِدَةً فَقَالَ الْكَلْبِيُّهَا وَعَزَنِي فِي الْخِطَابِ اک شخصن دوپ بیہ دو سَم زون حض پھہ میون  
 بوی۔ اَس رُغْمِ چھہ نمہ تھہ ۹۹ گجہ۔ میہ حض پھہ صرف اک گجہ ہن۔ یہ بوی پھہ میہ دپان یہ اک گجہ ہن

نَجَّةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ الْغَلْبِيُّهَا وَعَزَّيْنِي فِي الْخُطَابِ<sup>(۱۲)</sup> قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجَّتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ<sup>(۱۳)</sup> فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ<sup>(۱۴)</sup> يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ط

ترہ ذہنہ می۔ بیہ حض چھم تھو سیت غالب سپدان۔ میہ ہجھہ تھہ تہ دو ان کرنہ قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَجَّتِكَ إِلَى نِعَاجِهِ تمودو پھجھ یہ ہجھہ یقیناً تہ یہ پیٹھ ظلم کران چان ان آکھ گہہ ہن معجھہ سیت یوہ سہ ملہ ناوہ ہا پنہ نین گمن سیت وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لِيَبْغَىٰ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ اکثر شریک ہجھہ زیادتی کران آکھ آکس پیٹھ مگر ہجھہ کران تم سمو ایمان اون بیہ کر کیکہ رثہ عملہ۔ تمہہ قسمک لوکھ یعنی ایماندار چھہ کمنے وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ تو پتہ آود اوو علیہ السلام خیال کہ یہ مفد مہ میہ نیشہ بیگانہ وقتہ پیش کرنس اندر ہجھہ بیہ حکمت کہہ آسہ کور امہ سیت ٹھنڈا امتحان کہہ آس وچھو کوتاہ صبر و تحمل گرہ و ہن ہجھہ داود علیہ السلام۔ کیا زہ تھس ہنڈس جلیل القدر پادشاہ سندس خلوت خانس بلا اجازت کانہہ ہنڈ واٹن تو پتہ امہ بے رطلی سیت کلام کران یجھہ منز کافی گستاخی آس تہ ٹھنڈا تھہ سہاری پیٹھ صبر و تحمل کران۔ چنانچہ تمودو موبگ مغفرت پنہ نس پروردگار س۔ بیہ نے یہ بون ن بون کور ر کھ رجوع بخدا فَغَفَرْنَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَىٰ وَحُسْنَ مَّآبٍ نِس بخش آسہ تمن سہ معاملہ سمہ خاطرہ امتحان کرنہ آکھ۔ بیہ ہجھہ بے شک تمن آسہ نیشہ خاص قریب مقام بیہ رت انجام يٰ دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ آسہ

إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَمَانُوا  
يَوْمَ الْحِسَابِ ﴿۲۷﴾ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِإِطْلَافٍ  
ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ ﴿۲۸﴾  
أَمْ يَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ  
أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ ﴿۲۹﴾ كَتَبْنَا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبْرَكٌ

فرمود تمہیں اے داؤد اسیہ بنو کہ تھہ حاکم زمینس اندر۔ تہس کر تھہ حکم آئیدہ لوکن اندر انصاف سیت۔  
یتھہ پاٹھہ از تان کران رود کہ۔ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِیہ یتھہ پاٹھہ از تام نفع پیروی  
کمر وہ نہ یتھہ پاٹھہ مہ کمر و پیروی نفعیہ خاہشہ ہنز۔ نفع پیروی کرن ڈالوہ توبہ خدایہ سزہ و تہ نشہ۔ إِنَّ  
الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ يَمَانُوا يَوْمَ الْحِسَابِ ہنز پاٹھہ سم لو کہ ڈالان چھہ  
خدایہ سزہ و تہ نشہ تہندہ خاطرہ چھہ سخت عذاب کیا زہ تمومشرو حسابگ دوہ یعنی قیامت وَمَا خَلَقْنَا  
السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بِإِطْلَافٍ بِیہ کمر نہ اسہ آسمان تہ زمین بیہ یہ تمن دون منز چھہ پیدہ بے بودہ  
خال از حمت ذَلِكْ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِیہ چھہ خیال کافرن ہند فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ کافرن  
ہندہ خاطرہ چھہ آخرتس اندر بدخرابی۔ سہ گوہ جہنمک عذاب کیا زہ انکار کرنہ سیت سانس اگس بدس  
حتمس تہ انکار کران۔ کیا زہ بدلائل نقلیہ و قطعیہ چھہ اسہ بتصریح بیان کورمت کہ قیامتس اندر چھہ بیہ  
حکمت کہ یتھہ اَس نیکو کارن جزاء تہ مفسدن سخت سزا دم۔ وون تہس قیامتس انکار چھہ کران سہ چھہ  
خدایہ سندس اتھ حتمس انکار کران بلکہ چھہ سارنہ برابر زانان۔ اللہ تعالیٰ چھہ فرماوان أَمْ يَجْعَلُ  
الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ کیاہ اَس کرو کہ تم سموم  
ایمان اون بیہ کر لیکہ رتھہ عملہ تمن لوکن ہی سم زمینس پیٹھہ کفر و نافرمانی کمر تھہ دنیاءس منز فساد تہ  
تباہی کران چھہ بین الفاظن اندر گوہ یتھہ پاٹھہ کہ بیہ کرو کہ اَس پر ہیز گار تہ خدائس کھوژہ و ن تہ بدکار  
برابر۔ یتھہ پاٹھہ توحید تہ بعث دلیلو سیت ثابت چھہ یتھہ پاٹھہ چھہ نبوت و رسالت تہ بدلیل ثابت۔



لِيَذَّبَنَّ رُؤْيَايَتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ۝۲۹ ۞ وَوَهَبْنَا لِذَاوُدَ سُلَيْمَانَ  
 نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ ۝۳۰ ۞ إِذْ عَرَّضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصُّفِيْنَتُ  
 الْجِيَادُ ۝۳۱ ۞ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى  
 تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ۝۳۲ ۞ رُدُّوَهَا عَلَيَّ فَنُفِخَ مَسْحًا بِالسُّوقِ

کتاب آنزلنے الیک مُبرک لید بَرُوْا ایتہ ولیتذکر اولو الالباب یہ قرآن مجید ہے کتاب یوسہ آسہ  
 نازل کمر یار رسول اللہ توہہ کن، بابرکت کتابہ یمہ کین الفاظن، حرفن یتہ معائن اندر چہہ پور برکت یتہ  
 لوکہ یمن آیتن اندر غور یتہ فکر کرن یمہ یتہ عقلہ والی تمہہ سیت نصیحت رُٹن وَوَهَبْنَا لِذَاوُدَ سُلَيْمَانَ  
 نِعَمَ الْعَبْدِ إِنَّهُ أَوَّابٌ یمہ کر آسہ عطا داد علیہ السلا مس فرزند سلیمان علیہ السلام۔ کیاہ رُت بندہ چہہ  
 سہ سلیمان علیہ السلام۔ پر یتہ وقتہ خدا نِس کن رُجوع کرہ ون۔ چنانچہ تمہند قصہ چہہ قابل ذکر اِذْ  
 عَرَّضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصُّفِيْنَتُ الْجِيَادُ یمہ کہ دوہہ تمہن پیش آئی کرنہ شامہہ وقتہ عمدہ تیز رفتار گُر  
 تم جہادہ خاطرہ تھاونہ امت آس تمہندس وچھنس یتہ ملاحظہ کرہ نِس اندر لوگ واریاہ وقت۔ نمازہ  
 گووڑیر۔ چنانچہ جلال و ہیبتہ سببہ ہیوک نہ کانسہ جرأت کمر تھہ کہ تمہن کرہ ہن اتھہ پیٹھہ مطلع تو پتہ سپد  
 تمہن پانہ سے امیک خیال فَقَالَ تو پتہ لگ فرماونہ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى  
 تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ افسوس یمہ کورا اختیار مالگ محبت یمہ سیت بہ غافل سپدس پنہ نِس پروردگارہ سندہ عبادتہ  
 نِعْمَ یوتان آفتاب کھٹھہ رود شامہ کس ہر درس تل رُدُّوَهَا عَلَيَّ فَنُفِخَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْكَعْبَاتِ  
 فرموؤ کہ یمہ اینوکہ واپس تم گری یمہ نِشہ۔ تو پتہ ہیو کھٹھہ تمہن گُرین گروزن یتہ گردن پھس دِسِن  
 شمشیرہ سیت۔ یعنی تم کمر کہ ساری ذن۔ کیاہہ نِس مال خدلیہ سندہ یادہ نِشہ غافل سپدنگ سبب سپدہ  
 سہ مال گدوہہ نہ پانس نِشہ روزے۔ اکھ قصہ تمہند گوویہ۔ بیا کہ قصہ چہہ۔ متفق علیہ چہہ حدیث شریفچہہ  
 اکھ نِشہ سپد سلیمان علیہ السلام پنہ نین امراء لشکرن نِشہ جہادہ کس اگس معاملس اندر آزردہ۔ تو پتہ  
 فرموؤ کہ ازرات کیت سپدہ بہ پنہ نین ستہ تن زنان سیت ہم بستر تمہن نِشہ سپدن پیدہ ستھہ فرزند یم

وَالْأَعْنَاقِ ﴿۳۷﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَانَ عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ  
 أَنَابَ ﴿۳۸﴾ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَبْتَغِي لِإِحْدَىٰ مِنْهُ  
 بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ﴿۳۹﴾ فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ  
 رُحَاءَ حَيْثُ أَصَابَ ﴿۴۰﴾ وَالشَّيْطَانَ كُلًّا بِنَاءٍ وَعَوَاصٍ ﴿۴۱﴾ وَالْآخِرِينَ  
 مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ ﴿۴۲﴾ هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ

مجاہد سپدن ان شاء اللہ ہرگز کوکھ مشیت۔ نتیجہ در او کہ کانسہ زنانہ رود نہ امہ شبہ حمل۔ صرف رود اکیس زنانہ  
 نائہ پیاد یعنی ناتمام چیر۔ سہ ناتمام چیر ہتھ آیہ دای تو پتہ تر و نکھ تنگس پیٹھ **وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَالْقَيْنَانَ**  
**عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ** تحقیق بیہ کمر اسہ آزمائش تہ امتحان سلیمان علیہ السلام سیہ تر و واسہ  
 تہندس تنگس پیٹھ بدناہ، بے روح تو پتہ کور تمور جوع بخدا بیہ کور کہ ان شاء اللہ نہ پرہ نس پیٹھ توبہ  
 مومکھہ دُعا **قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَبْتَغِي لِإِحْدَىٰ مِنْهُ بَعْدِي إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ** دعا کور کہ ای  
 میانہ پروردگارہ میہ کر مغفرت پتہ میں گوئہن۔ بیہ کرم عطا آئیدہ خاطرہ سو سلطنت یوسہ نہ کانسہ اکیس  
 میہ ور ائے آسہ۔ بے شک ژے چکھ سورے عطا کرہ ون۔ ژیہ نشہ چھنہ بیہ دُعا قبول کران کینہہ دشوار  
**فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُحَاءَ حَيْثُ أَصَابَ** نس کور اسہ واؤ تمین مسخر تہ تابع۔ سہ واواوس پکان  
 تہندہ حکمہ وارہ وارہ یوت تمین وایتگ ارادہ آسان اوس۔ سمہ سیت تمین گرین ہنز چنداں ضرورت  
 روزنہ **وَالشَّيْطَانَ كُلًّا بِنَاءٍ وَعَوَاصٍ** بیہ تھادو تابع تہ مسخر اسہ تمین شیطان یعنی جن۔ تم ساری تم دسل  
 آس بیہ ڈونگل آس سمندرہ منزہ غوطہ و تھہ موختہ کھاران **وَالْآخِرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ** بیہ تمین  
 ور اے بے جن یم ہانکو سیت بند آس کر نہ امت قید تھانہ امت عدول حکمی سبہ۔ خدمات مفوضو  
 نشہ تم جن ژلان آس تعمیل حکم آس نہ کران۔ تمین اوس امی قسمہ سزاندہ بیوان **هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ**  
**أَوْ أَمْسِكْ بِغَيْرِ حِسَابٍ** اسہ فرموس اے سلیمان یہ چھٹی ژیہ سانہ طرفہ اکھ عطیہ بے پادشاہ چھنہ  
 آسان ملکہ کین خزان ہند مالک۔ بلکہ چھہ تم آسان ملکہ ناظم۔ مگر جہ کمر وہ اسہ مالک تمام خزان

حِسَابٍ ﴿۳۹﴾ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَىٰ وَحَسْنَ فَاٰبٍ ﴿۴۰﴾ وَاذْكُرْ عَبْدًا نَّآءًا  
 اَيُّوبَ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ اَنِّىٓ مَسَّنِيَ الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ ﴿۴۱﴾  
 اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ ﴿۴۲﴾ وَوَهَبْنَا لَهٗ  
 اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرًا لِّاُولٰٓئِىٓ اَلْبَابِ ﴿۴۳﴾

ہندس خوش کردہ نس دیو۔ ہر گاہ پانسے نیشہ تھا و۔ سانہ طرفہ چھنہ کانہہ باز خواست وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا  
 لَزُلْفَىٰ وَحَسْنَ فَاٰبٍ امہ دنیا کے سامانہ علاوہ چھ تہندہ خاطرہ اسہ نیشہ خاص قرب۔ بیہ نہایت اعلیٰ  
 درج نیک انجامی۔ سمیک ظہور آخرتس منز سپدہ۔ وَاذْكُرْ عَبْدًا نَّآءًا اَيُّوبَ اِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ اَنِّىٓ مَسَّنِيَ  
 الشَّيْطٰنُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ بیہ پایون تہیتس سون بندہ ایوب علیہ السلام۔ یلہ تموپنہ نس ہروردگار س  
 ہد اکورای میانہ ہر وردگارہ شیطان چھہ واتاوان میہ ایذا تہ تکلیف۔ سہ تکلیف اوس یوہے کہ اکہ دوہہ  
 سٹھہ وتہ پکان شیطان تہندین باژن طیبہ سزہ شکلہ منز۔ تمو کور خیال یہ چھہ حکیم۔ اہس اٹھہ کرہ ناؤو  
 ایوب علیہ السلامس علاج۔ تمی دوپٹھہ بہ کرہ تمن علاج سٹھہ شرطس پیٹھہ کہ ہر گاہ شفا بہ تمن۔ ٹھند گڑھہ  
 دہن کہ ژے دُیٹھہ تمن شفا۔ امہ ورائے چھس نہ بہ کانہہ معاوضہ توہہ نیشہ یرشہان۔ تمو کور امیک  
 تذکرہ ایوب علیہ السلامس نیشہ۔ تمو فر موو کہ بی بی بی بی پٹھہ ناخبر یہ کس چھہ یہ چھہ شیطان۔ تمن سپد  
 امیک سخت رنج۔ تمو دوپ میانہ بیماری سببہ لوب شیطانس موقہ میانہ گرواجہ اٹھہ سٹھہ شرکک کلمات  
 ونہ ناوک۔ لہذا ہوو کہ قسم کہ بہ لایہ پنہ نین باژن ہتھہ قچہ۔ اللہ تعالیٰ اَن کمر تہندس معہ نس  
 اجابت۔ فر موو چھہ اُرْكُضْ بِرِجْلِكَ هٰذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ اے حضرت ایوب کتھہ دیوپنہ کھورہ  
 سیت ز مینس۔ آتی دراوتہ نس ناگہ راد۔ اللہ تعالیٰ اَن فر مووس اے حضرت ایوب یہ آب چھہ ٹھندہ  
 سران کرنے خاطرہ، جڑن آب۔ بیہ چھہ ٹھندہ چنہ خاطرہ۔ چنانچہ تمویان امہ آبہ سیت غسل کور، بیہ  
 چوکہ سہ آب تانی سپد کہ سوڑی تکلیف دور وَوَهَبْنَا لَهٗ اَهْلَهٗ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرًا لِّاُولٰٓئِىٓ  
 اَلْبَابِ بیہ کمر اسہ عطا تمن گرک باژ۔ سم مکانہ کس ہمش تل گڑھتھہ مووست اس بیہ تمن ہی تمن سیت

وَحَدُّبَيْدِكَ ضَعْفًا فَاصْرَبْ بِهِ وَلَا تَحْتَسِبْ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا  
 نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ ﴿۳۶﴾ وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَأَسْحَقَ وَيَعْقُوبَ  
 أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ ﴿۳۷﴾ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذَكَرْنِي اللَّذَارِ ﴿۳۸﴾  
 وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْاٰخِيَارِ ﴿۳۹﴾ وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَ  
 الْيَسَعَ وَذَ الْكِفْلَ وَكُلٌّ مِّنَ الْاٰخِيَارِ ﴿۴۰﴾ هَذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ

بہے باثر ہے، پندہ خاص مہربانی سیت بیہ بیٹھ عقل مندن ہندہ خا طرہ اکھ یادگار روزہ۔ یعنی عقلہ والین ہند گڑھہ یاد تھاون کہ صبر کرہ وین کیتھ رت جزاء چھہ اللہ تعالیٰ ووان۔ امہ پتہ کور ایوب علیہ السلام ارادہ کہ پنن قسم کرہ ہن تم پورہ یعنی الین پنن نین لایہ ہن ہتھ قچہ۔ مگر چوچہ تموا س ایوب علیہ السلام سیتھا خدمت کمر مژ خصوصاً تھہ بیمارہ اندر بیہ اس نہ تہندہ طرفہ خاص کانہہ نافرمانیاہ امر کر نہ لہذا کمر اللہ تعالیٰ ان پندہ مہربانی سیت تہندہ خا طرہ اکھ خاص حکماہ نازل سمہ سیت تہندہ حثہ اکھ تھیفہا سہ بیہ فرموا سہ ایوب علیہ السلام وَحَدُّبَيْدِكَ ضَعْفًا فَاصْرَبْ بِهِ وَلَا تَحْتَسِبْ رَلُوْجُہہ اَحْس منز مورہ بودارہ ہتھ منز اکھ ہتھ مورہ آس تھی سیت لایو جہہ ژنڈ با ژن پنن قسم مہ پھڑ راؤد۔ چنانچہ تی کور ایوب علیہ السلام من امہ پتہ چھہ اللہ تعالیٰ فرماوان ایوب علیہ السلام تعریف کہ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نَعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ بیشک اسہ لوب سہ صبر کرہ وین بندہ۔ کیاہ رت بندہ چھہ سہ۔ بے شک سہ چھہ سیتھا رجوع کرہ وین پنن نس خدائس گن وَأَذْكُرْ عَبْدَنَا إِبْرَاهِيمَ وَأَسْحَقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ بیہ کمر ویاو سانین ہند ہند، ابراہیم علیہ السلام سہ، اسحاق علیہ السلام سہ بیہ یعقوب علیہ السلام سہ۔ ہم اٹھو کھو روسیت اسی ہنگی کران۔ اچھو سیت اس آثار قدرت و چھتھہ مغفرت حاصل کران۔ إِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذَكَرْنِي اللَّذَارِ اسہ اس تم مخصوص کمر مت کہ خاص کتھہ سیت۔ سہ گوو آخر تک گھرہ بکثرت یاد کر نہ سیت وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفِينَ الْاٰخِيَارِ بیہ چھہ تم حضرات اسہ نشہ یقیناً ژار نہ آتیر تو ہند و اندرہ وَأَذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَذَ الْكِفْلَ وَكُلٌّ مِّنَ الْاٰخِيَارِ

لِلْمُتَّقِينَ لِحُسْنِ مَآبٍ ﴿۵۹﴾ جَدَّتِ عَدْنٌ مُفْتَحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ ﴿۶۰﴾  
 مُتَكِبِينَ فِيهَا يُدْعَوْنَ فِيهَا بِغَاكِهِ كَثِيرَةً وَّشَرَابٍ ﴿۶۱﴾  
 وَعِنْدَهُمْ قَصْرَاتُ الطَّرِيفِ اُتْرَابٍ ﴿۶۲﴾ هَذَا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ  
 الْحِسَابِ ﴿۶۳﴾ اِنَّ هَذَا الرِّزْقُ مَالَةٌ مِنْ تَفَادٍ ﴿۶۴﴾ هَذَا طَوَّانٌ  
 لِلطَّغْيِينِ لَشَرِّ مَا بٍ ﴿۶۵﴾ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْبِهَادُ ﴿۶۶﴾ هَذَا

بیہ کریون یاد اسمعیل علیہ السلام بیہ الیسع علیہ السلام، نیس صاحب الیاس علیہ السلام بن نایب  
 سوڑمت اوس بنی اسرائیل کن۔ پتہ سبز تمّن نبوت عطا۔ بیہ ذوالکفل علیہ السلام۔ سم ساری تہ چھہ  
 رتیوبند و آندرہ ہذا ذکر یہ چھہ نصیحت کلامہ۔ یہ سپد ختم امہ پتہ چھہ بیان جزاء و سزاء ک۔ تمیک  
 تفصیل چھہ پتہ پاٹھی کہ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لِحُسْنِ مَآبٍ بیہ چھہ پر ہیز گارن ہندہ خاطرہ آخرتس منز  
 رز جایاہ روزنہ خاطرہ جَدَّتِ عَدْنٌ مُفْتَحَةً لَّهُمُ الْاَبْوَابُ یعنی ہمیشہ روزنک باغ تمّن ہند دروازہ و تھہ  
 آسن تراونہ آمت تمّن پر ہیز گارن ہندہ خاطرہ مُتَكِبِينَ فِيهَا يُدْعَوْنَ فِيهَا بِغَاكِهِ كَثِيرَةً وَّشَرَابٍ  
 تکیہ و تھہ آسن بہتھہ تمّن جنن منز۔ طلب آسن کران تمّن جننہ کین خدمت گارن نشہ تمّن جنن منز  
 واریاہ قسمک میوہ بیہ واریاہ قسمک چنہ چیز۔ وَعِنْدَهُمْ قَصْرَاتُ الطَّرِيفِ اُتْرَابٍ بیہ آسکھ بروٹھہ کنہ  
 خوب صورت تہ خوش شکل زنانہ یعنی حورہ بیہ بون کن نظر تھاونہ آسن۔ تم آسن کی عمرہ ہم سن وندہ  
 بیکھ ہذا مَا تُوْعَدُونَ لِيَوْمِ الْحِسَابِ اے مسلمانو سیمہ پتھہ تمہہ نعمتو تمّن ہند توہمہ وعدہ اوس تھاونہ  
 یوان قیامتک دوہ نیش پیٹھہ اِنَّ هَذَا الرِّزْقُ مَالَةٌ مِنْ تَفَادٍ بے شک یہ چھہ سون رزق۔ اتھہ چھہونہ زانہہ  
 تہ و و برن تہ ختم گڑھن میہ پتھہ دائی نعمتو ہمیشہ پوشہ وندہ یہ مضمون گوو ختم نیس اہل سعادتن متعلق  
 اوس۔ وون بوزو امہ پتہ اہل شقاوتن ہند حال ہذا وَإِنَّ لِلطَّغْيِينِ لَشَرِّ مَا بٍ بیہ چھہ کرش تہ نافرمان ہندہ  
 خاطرہ سیٹھاہ پچھہ روزنچ جائے جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْبِهَادُ سو جای گیہ جننم بیٹھہ منز تم داخل سپدن۔  
 نیس چھہ سیٹھاہ پچھہ جائے ہذا فَلْيَذُوقُوْهُ حَبِيْبًا وَعَسَاۗءُ وندہ بیکھ اے جہنمیوہ چھوہ سر بیہ پال تہ

فَلْيَذُوقُوا حَبِيمٌ ۙ وَغَسَّاقٌ ۙ وَالْآخِرِينَ سَكِيلَةً ۙ أَرْوَاجٌ ۙ هَذَا  
 فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَعَكُمْ ۙ لَا مَرْجَاءَ لَهُمْ ۙ أَلَمْ صَلُّوا النَّارَ ۙ قَالُوا  
 بَلْ أَنْتُمْ لَمَرْجَبًا بِكُمْ ۙ أَنْتُمْ قَدْ مَتَمُّوهُ لَنَا قَيْسُ الْقَرَارِ ۙ  
 قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فِرْدُةً عَذَابًا ضِعْفَانِي النَّارِ ۙ  
 وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ ۙ  
 أَخَذْنَا لَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْزَاجَتْ عَنْهُمْ الْأَبْصَارُ ۙ إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ

پاک۔ اتھ تہ وچھو مزہ۔ وَالْآخِرِينَ سَكِيلَةً أَرْوَاجٌ بیہ آسن اتھ ہی واریاہ چنک تہ کھنک چیز۔ تم سیٹھاہ  
 پیچھ، ناگوار تہ تکلیف دہ آسن هَذَا فَوْجٌ مُّقْتَحِمٌ مَعَكُمْ لَا مَرْجَاءَ لَهُمْ صَلُّوا النَّارَ یلہ زکھین تہ  
 منبو عن ہنز جماعت جہنم منز داخل سپدہ توپتہ بن آنہ تہ داخل کرنہ تہندی تابع۔ تم وہن پانہ وانی  
 یکیا آیہ بیاکھ جماعت یم توہمہ سیت عذابس اندر شامل سپدہ نہ خاطرہ جہنم اندر ٹریل کمر تھہ چھہ  
 اثران۔ خدا ان سمن بلائے سمن مہ بن کشادہ جائے کئے۔ سمن تہ چھہ اثرن نارس اندر قَالُوا بَلْ أَنْتُمْ  
 لَا مَرْجَبًا بِكُمْ تم دیکھہ تورہ بلکہ مہ یلن کشادہ جائے کئے تو ہی ان خدایند بلائے أَنْتُمْ قَدْ مَتَمُّوهُ لَنَا قَيْسُ  
 الْقَرَارِ پس کا تراہ پیچھہ جائے چھہ یہ جہنم یس اسہ تہندہ وجہہ پیش آؤ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَّمَ لَنَا هَذَا فِرْدُةً  
 عَذَابًا ضِعْفَانِي النَّارِ پانہ وان اکھ اُس پیٹھ چھاوہ داسی کمر تھہ کمرن دُعا، اے سانہ پروردگارہ سمویہ  
 عذاب تہ مصیبت اسہ بروٹھکن ترودتہ واتا تن کرنہ ژہ زیادہ عذاب دوگنا و تھہ نارس اندر وَقَالُوا مَا لَنَا  
 لَا نَرَىٰ رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَارِ توپتہ دہن ساری جہنمی کیاہ سنا و جہہ چھہ اس چھہکنہ و چھان  
 یترہ تم لوکھ تم اسی گنزران آسکھہ پیچھہ تہ ناکارہ لو کو اندرہ یعنی مسلمان أَخَذْنَا لَهُمْ سِخْرِيًّا أَمْزَاجَتْ عَنْهُمْ  
 الْأَبْصَارُ کیاہ اس آسہ تمن ناحق ٹھٹھہ کران۔ تم آس نہ فی الحقیقت نارس لایق۔ کنہ جہنم اندر چھہ  
 تم تہ موجود، مگر سانہ نظر لے چھہ تمن نشہ ڈجہ مژہ بیت آتھہ چھہ نہ در میٹھی یوان عذابس سیت چھہ  
 یہ کتھہ سانہ حقہ باعث حسرت إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَافُهُمْ أَهْلُ النَّارِ بے شک یہ چھہ واقعی سپدہ ون یعنی

تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ ﴿۳۶﴾ قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ وَمِمَّنْ إِلَّآ اللَّهُ  
 الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ﴿۳۷﴾ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ  
 الْغَفَّارُ ﴿۳۸﴾ قُلْ هُوَ نَبِيُّ عَظِيمٍ ﴿۳۹﴾ أَنْتُمْ عَنْهُ مُعْرِضُونَ ﴿۴۰﴾ مَا  
 كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿۴۱﴾ إِنْ يُؤْتَىٰ  
 إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۴۲﴾ إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلِكَةِ إِنِّي

جہنمیں ہنر پانہ والی ہر ہر کرن قُلْ إِنَّمَا أَنَا مُنذِرٌ جہہ فرما یو کہ یار رسول اللہ ای لو کو جہہ ئس توحیدو  
 رسالتس انکار کران چھوہ، امیگ ضرر چھوہ توہہ پانس۔ میہ کئہ قسمحہ امیگ ضرر چھنہ کیا زہ بہ چھس  
 توہہ اکہ نیم کرہ وناہ خدایہ سندہ عذابہ ریشہ وَمِمَّنْ إِلَّآ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ بیہ فرما یو کہ بیٹھ پاٹھ  
 میون پیغمبر تہ نیم گرہ ون آس اکہ امر واقعی چھہ بیٹھ پاٹھ چھہ توحید تہ اکہ پوزتہ واقعی امرہ یعنی خدا یس  
 وراے ئس کئے تہ غالب چھہ چھنہ کانہہ اکھاہ عبادتس لایق رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ  
 الْغَفَّارُ ئس آسمان تہ زمین ہند پروردگار چھہ بیہ تہن دون منز چھہ تمہ سارکے پروردگار تہ مالک  
 سیٹھاہ زبردست تہ سیٹھاہ ششہار چھہ ہندن ہندین بے شمار گوئمن قُلْ هُوَ نَبِيُّ عَظِيمٍ \* أَنْتُمْ عَنْهُ  
 مُعْرِضُونَ جہہ فرما یو کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امر یعنی اللہ تعالیٰ سندن توحیدو شرا یجن ہنز  
 تعلیم کرنہ خاطرہ بوسوزن، بیہ چھہ اکہ عظیم الشان مضمونہہ سمیگ توہہ سیٹھاہ اہتمام کزن شوہہ ہاگر  
 افسوس جہہ چھوہ امہ ریشہ سیٹھاہ بے پروا سپدان۔ اکہ عظیم الشان آسک وجہ چھہ یوہے کہ امہ وراے  
 چھہ سعادت حقیقی حاصل سدن محال مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَأِ الْأَعْلَىٰ إِذْ يَخْتَصِمُونَ میہ اس نہ کہین  
 خبہ عالم علوی ہنز ن مجلس ہنز۔ یلہہ ہم یعنی ملاء اعلیٰ اک لو کہ آدم علیہ السلامہ سزہ پاد ایشہ متعلق بحث  
 آس کران۔ میہ آیہ خبر کرنہ بعض تمن معاملن ہنز وجیہہ ذریعہ إِنْ يُؤْتَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ  
 میہ گن چھنہ وحی یوان نازل کرنہ مگر ای زہ بہ چھس اکہ پیغمبر اہنن پاٹھ نیم کرہ ون چنچا تمہ تمو معاملو  
 اندرہ گوواکھ معاملہ بیٹھ منز ملاء اعلیٰ اس منز بحث اوس یوان کرنہ۔ آدم علیہ السلامہ سڈ پادہ کزن۔ بیہ

خَالِقُ بَشَرًا مِنْ طِينٍ ۴۱) فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنْ رُوحِي  
 فَتَقَوُّوْا لَهُ سِجْدًا ۴۲) فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۴۳) إِلَّا  
 إِبْلِيسَ ۴۴) اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ ۴۵) قَالَ يَا بَلِيسُ مَا مَنَعَكَ  
 أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإِيْدِي ۴۶) اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ  
 الْعَالِيْنَ ۴۷) قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِمَّنْ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ  
 مِنْ طِينٍ ۴۸) قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَاجِعٌ ۴۹) وَإِنْ عَلَيْكَ

تہ سپد میہ معلوم و حیحہ کہ ذریعہ۔ بیاکھ کانہہ ذریعہا میہ نشہ چھنہ۔ یوہے چھہ ثبوت میانہ نبوت و  
 رسالت۔ لہذا پڑہ توہہ میانیس پیغمبر برحق آسہ پڑہ کرن۔ تفصیل تمہ گفتگو ک چھہ اذ قال ربك  
 للملائكة اني خالق بشر من طين سہ گفتگو سپد تمہ وقتہ یلہ فرمود چھندی پروردگار ان ملائکین  
 اے ملائکو میوں ارادہ چھہ بہ کرن پادہ میوہ اکھ بشرہہ فَإِذَا سَوَّيْتَهُ وَنَفَخْتَ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَتَقَوُّوْا لَهُ  
 سِجْدًا تویپتہ یلہ سہ بہ وارہ پور بناؤن یعنی تہند اعضاء مکمل گرہ بہہ واتاوہ بہ تس منز پنہہ طر نہ  
 روح ہس شمرہ تمہہ تس بروٹھ کنہ سجدہ دو ان تویپتہ اللہ تعالیٰ ان سہ تیار کور فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ  
 أَجْمَعُونَ ساروے ملائکو ڈیت تس سجدہ یکہ دوہہ إِلَّا إِبْلِيسَ مگر ڈیت نہ سجدہ ایلین اسْتَكْبَرَ  
 وَكَانَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ تم کور سبخر تہ غرور بہہ سپد سہ کافر و اندرہ قَالَ يَا بَلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا  
 خَلَقْتُ بِإِيْدِي اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِيْنَ اللہ تعالیٰ ان فرموس اے ایلین کم چیزن روٹھ  
 تہ پتھ تس سجدہ نہ نشہ ہس میہ پنہ نیو اتھو پیدہ کور۔ یہ کور تھہ تہہ سبخر تہ غرور، بوڈنہ آتھہ کنہ واقعی  
 اوسکھ تہ تھدہ درجہ کیولوگو اندرہ سکن نہ سجدہ کرن زیباوس قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِمَّنْ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ  
 وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ ایلین لوگ دہنہ کہ یہ دویم تھہ چھہ ثابت یعنی بہ تھس تہندہ خوتہ بہتر۔ بہ  
 کور تھس پادہ نارہ نشہ۔ سہ کور تھس پادہ رہہ نشہہ قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَاجِعٌ اللہ تعالیٰ ان فرموس  
 نیز سمہ آسانہ نشہ ہیر بے شک امہ عدول حکمہ سبہ تھکھہ تہ مردود۔ وَإِنْ عَلَيْكَ




لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ﴿۸۸﴾ قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ  
يُبْعَثُونَ ﴿۸۹﴾ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿۹۰﴾ إِلَى يَوْمِ  
الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ﴿۹۱﴾ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۹۲﴾  
إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ ﴿۹۳﴾ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ ﴿۹۴﴾  
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۹۵﴾ قُلْ

الدِّينِ یہ جھڑپہ بیٹھ میاں لعنت قیامتہ کس دوہس تان۔ تمہ پتہ چھنہ مرحوم سپدنگ امکانے۔  
قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ البلیس دوپ اے پروردگارہ ہر گاہ آدم علیہ السلام سندہ  
وجہہ بہ مردود کور تھس تلہ دتہ میہ مہلت مر نہ نشہ قیامتہ کس دوہس تان۔ تھہ بہ تمن نشہ بیہ تہندین  
اولادن نشہ پورہ بدلہ ہیمہ ہا قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ اللہ تعالیٰ ان فرموس یلہ ژہ مہلت چھکھ  
منگان گڑھ ادہ کیاژہ آئی موہلتھ دنہ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ تمہ دوہس و قس تام یس مقرر  
چھہ۔ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ \* إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ دہنہ لوگ یلہ میہ مہلت آیہ  
دنہ تلہ چھم چانہ عزتک قسم کہ یم ساری بنی آدم ڈالکھ بہ ضرور سیزہ و تہ نشہ مگر نہ تموا اندرہ چان  
برگزیدہ بندہ یم ژہ میانہ اثرہ نشہ محفوظ تھاو تھکھ قَالَ فَالْحَقُّ وَالْحَقُّ أَقُولُ \* لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ  
وَمِمَّن تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ اللہ تعالیٰ ان فرموس پس چھنہ ہڑتیکے تھہ کہ بہ چھس ہمیشہ پوزے  
ونان کہ یقیناً بہ گزن ہر چھنم چانہ سیت بہ چانین سارنہ بیرون تہ تاہن ہندہ سیت قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ  
عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ فرماو بوکھ توہیہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای لوگو بہ  
چھنہ توہیہ منگان دین حق و اتانہ خاطرہ کانہہ مزدوریاہ۔ بیہ چھس نہ بہ زورہ ہن پان پیغمبر بناوٹ کہ  
طریقہ کرہ ہابہ نبوتک دعوی۔ غیر قرآن ونہ ہابہ قرآن۔ بلکہ چھہ فی الواقع یہ قرآن مجید کلام الہی  
إِنَّ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ لِلْعَالَمِينَ یہ قرآن مجید چھہ ساری جہانکھ خاطرہ اکھ و عظامہ تہ نصیحتہاہ۔ سمجھہ تبلیغہ

مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ ﴿۸۶﴾ إِنَّ  
هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۸۷﴾ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ ﴿۸۸﴾

خاطرہ مہ نبوت عطا کرنے آئیے۔ منزهتہندی خاطرہ بود نفع سے فایدہ چھہ۔ ہر گاہ توہمہ پوزواضح سپدنہ پتہ  
تہ مانونہ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ توہمہ زانو پائے ضرور کنیز و دو ہو پتہ امیک پورہ حال۔ مرنہ پتے  
سپدہ توہمہ پورہ حقیقت ظاہر۔



## سُورَةُ الزُّمَرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ① إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ  
 الْكِتَابَ بِالْحَقِّ فَأَعْمِدِ اللَّهُ مَخْلَصًا لَهُ الدِّينَ ② أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ  
 الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ  
 إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ

تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ یہ ہجرت نازل کرنے امر کتاب اللہ تعالیٰ سندہ طرفہ نسیں غالب  
 تہ حمتہ وول ہجرت۔ غالب تہ زبردست آسن تہند اوس مکان کہ نسیں ہجرت کتابہ انکار گرہ ہاس گرہہ  
 سزاد نہ من فوراً مگر حکیم آسن تہند ہجرت منگان کہ تمن گرہہ مہلت دنہ یں۔ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ الْكِتَابَ  
 بِالْحَقِّ فَأَعْمِدِ اللَّهُ مَخْلَصًا لَهُ الدِّينَ اسی کمر نازل یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توبہ ہجرت یہ کتاب  
 (قرآن مجید) پتر پانچ۔ نسیں روزو توبہ خدیہ سز عبادت کران قرآنی تعلیمہ مطابق خالص اعتقاد  
 کمر تہ ہجرت پانچ اذتان توبہ کران رودو أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ  
 آے لو کو وارہ بو زویوسہ عبادت خالص شر کہ نشہ آسہ سو ہجرت سز او ار خدیہ لیس۔ یعنی توحید ہجرت واجب  
 سار نے پیٹھ یلہ توبہ ہجرت تہ یہ واجب تہ مطہ ہجرت بن ہنز ہجرت کتھے۔ وونی سمولو کو خالص عبادت تر او تہ  
 خدایس ور اے شریک تجویز کمری تمن متعلق تم و نان چہہ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ  
 اسی ہجرت ہنز پر سٹش کران مگر بی خیالیہ کہ تم و اتاؤن آسہ خدایس نزدیک، سان عبادت تہ مطالبات  
 کرن پیش خدایس نشہ۔ ہجرت پانچ دنیا س اندر ہجرت وزیر و اتاؤن پادشہن نشہ لو کن ہندی معاملات  
 إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بیشک اللہ تعالیٰ کرہ عملی فیصلہ تمنی منزبہ تہند یں  
 مقابن اہل ایمان منز تمن سار نے کتھن تمن منز تم اختلاف کران چہہ۔ سہ فیصلہ گو کہ اہل توحید یں

يَخْتَلِفُونَ هَٰذَا إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ ۝ لَوْ أَرَادَ  
 اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا الْأَصْطَفَىٰ مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحٰنَهُ ۗ  
 هُوَ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ۗ  
 يَكْوَرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكْوَرُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ  
 وَالْقَمَرَ كُلًّا يَجْرِى لِأَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ ۝ الْهٰهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ ۝

وانتا ناه جنس اندر اهل شرکن و اتاوه دوزخ اندر۔ نجه مه کھپو ھندس نہ مانہ نس پیٹھ کا نہہ غم۔  
 سمیک تہ مہ کمر و تجب کہ یم کونہ ھجھ باوجود نہہ دلیلہ آتھہ سیزہ وتہ پیٹھ پکان۔ اِنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي  
 مَنْ هُوَ كَذِبٌ كَفَّارٌ بے شک اللہ تعالیٰ ھجھہ کا میا بی ہنز و تھہ ہاوان تس نس قولاً اپز یور آسہ بیہ نس  
 اعتقاد یعنی نس زیوہ اپز یور آسہ بیہ آسہ کفر چہ تھہ ونان۔ دلہ کنی آسہ گھری اعتقاد اپیٹھ ڈاڈ کر تھہ۔  
 بعض مشرک آس اللہ تعالیٰ آس کن اولاد لاگان۔ ملائکن آس دیان تمہ ھجھہ خدا یہ سزہ کورہ تمن ھجھہ  
 اللہ تعالیٰ رد ذکران۔ لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَتَّخِذَ وِلْدًا الْاَصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ سُبْحٰنَهُ هُوَ اللّٰهُ  
 الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ہر گاہ اللہ تعالیٰ بالفرض یرٹھہ ہا کانسہ اولاد بنوان پنہ نیوے مخلوقہ آندرہ نس یرٹھہ ہا تس  
 گرہ ہا امہ خاطرہ منتجب۔ مگر نہ ھجھہ پانہ خالق تس وراے سم ھجھہ تم ھجھہ مخلوق۔ غیر جنس اولاد آس  
 ھجھہ عیب۔ اللہ تعالیٰ ھجھہ ساروے عابونہ پاک۔ لہذا ھجھہ مخلوق آندرہ ولدیہ خاطرہ کا نہہ منتجب کرن  
 محال۔ لہذا ھجھہ ارادہ بحال کرن تہ محالے۔ پد ثابت کہ نہ ھجھہ معبودا گن۔ شریک بالفعل تہ ھجھہ نس  
 کا نہہ بیہ ھجھہ نہ زبردست۔ تس ھجھہ شریک بالقوہ تہ کا نہہ۔ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّ  
 يَكْوَرُ اللَّيْلَ عَلَى النَّهَارِ وَيُكْوَرُ النَّهَارُ عَلَى اللَّيْلِ سنے ھجھہ راتچہ تاریکی ولان ڈپچر روشنی پیٹھ سمہ سیت  
 دوہ ھجھہ غائب سپدان تہ رات ھجھہ یوان۔ ڈپچر روشنی ھجھہ دلان راتچہ تاریکی پیٹھ یمہ سیت راتھ ھجھہ  
 ختم سپدان تہ دوہ ھجھہ یوان وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ تم ھجھہ لاگت کامہ آفتاب تہ زون کل یجری  
 لِاَجَلٍ مُّسَمًّى الْهٰهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ تموا آندرہ روزہ پریتھہ اکھاہ پکان اکس مقررہ و قس تام سمود لیلو

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَانزَلَ لَكُمْ  
 مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ يَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ  
 بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ لَا إِلَهَ إِلَّا  
 هُوَ فَأَنَّى تُصْرَفُونَ ۚ إِنَّ تَكْفُرًا وَقَاتَانَ اللَّهُ عَنِّي عَنْكُمْ وَلَا  
 يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ۚ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ

پستہ تو حیدس انکار کر نس چھہ اندیشہ عذاب اللہ تعالیٰ اس چھہ تھہ پیٹھ قدرت کیا زہوارہ بوزوسہ چھہ  
 زبردست۔ ہر گاہ کا نہہ انکار کمر تھہ توحید تسلیم کرہ ٹس کرہ نہ ہتھ گزشتہ انکار س پیٹھ عذاب۔ کیا زہ  
 سہ چھہ سیٹھاہ مغفرت کرہ ون۔ بیا کھ دلیل چھہ تھہندہ توحید ج۔ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ تھہ  
 لو کھ کمر نوہ پادہ اگس شخصس نشہ۔ سہ گوو آدم علیہ السلام تھہ جعلاں تھہ تو پتہ پھیلاون تھن دوشونی نغہ ساری بنی آدم وَاَنْزَلَ  
 علیہ السلام نغہ تسنز زمانہ سوگیہ حوالیھا السلام تو پتہ پھیلاون تھن دوشونی نغہ ساری بنی آدم وَاَنْزَلَ  
 لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ بیہ کمرن پادہ تھہندہ فایدہ خاطرہ چار وایو آندرہ اٹھہ نرمادہ۔ دونھہ، گادہ،  
 ژھاوول، کھ، یَخْلُقْكُمْ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ خَلْقًا مِّنْ بَعْدِ خَلْقِ فِي ظُلُمَاتٍ ثَلَاثٍ سہ پروردگارہ چھہ توہیہ  
 اے انسانو پادہ کران ماجن ہندین شہمن آندر کہ کیفیت پتہ ہمیس کیفیتس پیٹھ۔ تمہہ کیفیت پتہ ہمیس کیفیتس  
 پیٹھ۔ گوڈون کیفیت چھہ نطفہ یعنی آب منی آسان دویم کیفیت چھہ، موٹ خون آسان، ترمیم کیفیت  
 چھہ ماز پھول آسان۔ بیہ چھوہ توہ پادہ کران ترین گٹن اندر یڈ ہنزگمہ، بچہ دانہ ہنزگمہ، کھچ کھچ تھہ منز  
 چہ آسان چھہ۔ مختلف کیفیتن پیٹھ پادہ کمرن چھہ تھندس کمال قدرتس پیٹھ دلالت کران۔ ترین  
 تاریکین منز پادہ کمرن چھہ تھندس کمال عکس پیٹھ دلالتھ کران ذَٰلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ یوہے اللہ  
 تعالیٰ چھہ تھندہ پروردگار۔ تھوندے چھہ سورے ملک، تھنزے چھہ سارے سلطنت تہ حکومت لآلہ  
 إِلَّا هُوَ کا نہہ اکھاہ چھنہ عبادتس سزاوارتس وراے فَأَنَّى تُصْرَفُونَ یرشہہ دلیلہ تھندس معبود  
 برحق آسٹس پیٹھ آستھ کوت چھوہ تھہ پھر نہ یوان إِنَّ تَكْفُرًا وَقَاتَانَ اللَّهُ عَنِّي عَنْكُمْ وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ

وَدَّرَ آخِرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ فَرُجِعْكُمْ فَيَنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ إِنَّهُ  
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ  
مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ  
مِن قَبْلُ وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّیُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعْ

الکفر اے لوگو تمہے بوزوگہ کفر و شرک چھ محض باطل۔ ہر گاہ تمہے امہ پتہ تہ کفر و شرک کمر۔ پس اللہ تعالیٰ اس چھ تھمک کا نہ ضرر۔ کیا زہ سہ چھ توہہ کن یا تھمک س عبادتس کن محتاج۔ تس واسیہ تھمک عبادت نہ کرنے یا توحید اختیار نہ کرنے سیت کا نہ ضرر۔ مگر یہ تھہ چھ ضرور کہ تس چھہ بدن ہند کفر کرن پسند۔ کیا زہ تھمک کفر نہ سیت چھہ تمن پانس ضرر۔ **وَلَنْ تَشْكُرُوا بَرِّئَةٌ لَكُمْ** ہر گاہ شکر گذاری کمر و تمیک بوڈ فردتہ باقی افرادن ہند موقوف علیہ چھہ ایمان، تھہ چھہ سہ تھمکہ حقہ پسند کران۔ امہ نچہ چھہ اکھ قاعدہ مقرر کہ **وَلَا تَزِدُوا زِنَةً وَدَّرَ آخِرَىٰ** کا نہ اکھاہ تلمہ نہ کانسہ پندین گو نہن ہند بور پانس پیٹھ۔ پر تھہ اگس چھہ پائے پنہ نین گو نہن ہند بور تکلن۔ لہذا آگھہ نہ کانسہ ہند خیال کرن کہ کفر کمر تھہ کیاہ یہ سون کفر لیکنہ بیہ سندس نامہ اعمالس اندرتہ سپدو تمہہ نشہ بری۔ نہ ہیکن تابن ہند جرم متبوع برداشت کمر تھہ تہ تلٹھ۔ یا کا نہہ ونہ کانسہ ژہ گریہ کام امیک گوناہ چھہ میانہ ذمہ۔ غرض یہ بتہ نہ کسہ صور تس اندر۔ بلکہ چھہ پر تھہ اگس پنہہ جرمگ سزایانہ کھیون **ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ فَرُجِعْكُمْ فَيَنْبِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ** تو پتہ چھہ توہہ پنہ نس پروردگارس کن رجوع کرن۔ پس کرہ سہ توہہ خبر تمن سارنے کا مین ہنزیمہ جہہ کران آسہ۔ سئی دیہ توہہ بیچھ کا مین ہند سزا **إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ** بے شک سہ چھہ پوزانہ ون دن ہنزہ تھہ **وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ** یہ یلہ مشرک انسانس کا نہہ سختیاہ واتان چھہ منگان چھہ تمہہ ساتہ پنہ نس حقیقی پروردگارس پروردگارس چھہ تس کن بے معبود چھس تمہہ ساتہ مشان تو پتہ یلہ سہ تس عطا چھہ کران پنہہ طرفہ کا نہہ نعمزہ، امن و آسایشاہ مشان چھہ تس، تہ بیمہ خاطرہ سہ منگان اوس امہ بروٹھ بالکل چھہ غافل سپدان **وَجَعَلَ لِلَّهِ أَنْدَادًا لِّیُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ** تو پتہ چھہ یہ ٹھہراوان معبود

بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ ۗ أَمْ مَنْ هُوَ قَائِلٌ  
 أَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ  
 قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا  
 يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ ۗ قُلْ يُعْبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا  
 رَبَّكُمُ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَأَرْضُ اللَّهِ

برحقش شریک۔ بکتھ لوکن ڈالہ تہزہ و تہ نشہ۔ یعنی پانہ گمراہ سپد تھ چھہ بن لوکن ڈالان تہ گمراہ  
 کران۔ قُلْ مَثَعُ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا إِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ فرماوو توہہ یارسول اللہ تس شخص ای  
 شخصہ تھ ژہ فایدہ پنہہ کفرک کم کینہہ کاس تان۔ آخر کار ہتھ ژہ نارہ کیو لو کو اندرہ۔ امہ پتہ چھہ اللہ  
 تعالیٰ فرماوان اہل توحیدن ہند مدح آئن ہوقائت اناء اللیل ساجداً وقائماً یحذر الآخرة ویرجوا  
 رحمة ربہ کیاہ سہ شخص نیس ایس مشرکس برعکس عبادت آمہ کران رات کیت نیس وقت عموماً  
 غفلتک چھہ آسان سجدہ تہ قیامہ سیت، کھوژان آمہ آخرتس بیہ آمہ امیدوار پروردگارہ سندس  
 رحمتس۔ سہ چھا برابر تس شخص سیت نیس نافرمان تہ بے نماز آمہ۔ ہرگز نہ بلکہ چھہ عبادتس پیٹھ شب  
 وروز مداومت تہ ڈاؤ کرہ ون، محمود تہ مقبول، مشرک تہ بے نماز مطرود تہ مردود قُلْ هَلْ يَسْتَوِي  
 الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ فرماوکھ تہہ یارسول اللہ برابر چھا تم  
 لوکھ تم عالم تہ زانہ ون آئن بیہ تم تم جاہل آئن کینہہ تہ آئن نہ زانان۔ سمہ بیانہ سیت اگرچہ سپد ثابہت  
 کفرک تہ کافرن ہند مذموم آئن بیہ ایمانک تہ اہل ایمان ہند محمود آئن، مگر توتہ رٹن نصیحت تہ تم  
 صاحب عقل سلیم آئن۔ قُلْ يُعْبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا  
 حَسَنَةً فرما دو میانہ طرفہ بالیمان، ای میانو با ایمان ہند وتہہ کھوژو پروردگارس پنہ نس مداومت  
 کمر و طاعتن پیٹھ۔ پتھ روزو گنہو تہ نافرمانیہ نشہ۔ تم ہتھ دنیا س اندر نیکی گرن تہندہ خاطرہ چھہ رت  
 صلہ تہ رت بدلہ آخرتس اندر وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ ہر گاہ توہہ وطنس اندر کانہہ چیز عبادت کرنہ نشہ

وَإِسْعَاءُ إِتْمَايُوفَى الصُّبْرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ ⑩  
 قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ ⑪ وَأُمِرْتُ لِأَنْ  
 أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ ⑫ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ  
 يَوْمٍ عَظِيمٍ ⑬ قُلِ اللَّهُ أَعْبُدْهُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي ⑭ فَأَعْبُدْهُ وَوَمَا  
 شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَيْرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ  
 أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ⑮ لَمْ يَنْ

مانع چھہ، تیلہ کمر و ہجرت کیا زہ خدایہ سُنْد زمین چھہ کھول تہ و سبج۔ اُکس جالیہ نے دشمن ہندہ و جہہ  
 خدا ہیوکن سرت، بیس شہر س منز گوتھتھ سُر یون پُن خدال دینس پیٹھر رُو زو صبر و استقالہ سان اِتْمَا  
 یُوفَى الصُّبْرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ مستقل روزہ و نین تہ صبر کرہ و نین یہ مزدور نہ بے حساب و  
 بے شمار قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ تہہ فرما یو کہ یار رسول اللہ میہ آو خدایہ سندہ  
 طرفہ حکم کرنہ کہ بہ کرہ عبادت خدایہ سز یوسہ عبادت خالص تہندی خاطرہ آسہ۔ یتھ منز نہ شریک  
 اکھ زیش تہ آسہ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ بیہ آومیہ حکم کرنہ کہ بہ آسہ سمہ اُمتہ کیو گوڈہ  
 نیو مسلمانو آندرہ یعنی اسلامس دین حق تسلیم کرہ و نیو آندرہ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ  
 تہہ فرما یو کہ پتہ کہ ہر گاہ بہ پنہ نس پروردگارہ سز نا فرمانی کرہ تیلہ چھہ میہ اندیشہ بڈہ ڈہجہ عذابگ سہ  
 گو و قیامتک دودہ قُلِ اللَّهُ أَعْبُدْهُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي تہہ فرما یو کہ بہ چھس بندگی کران خدایہ سزے یاژ۔  
 یہ زمانتھ کہ بندگی شو بہ خاص تسی یاژ۔ توہہ تہ پزہ ہایشے عبادت کرن تہنز۔ لیکن ہر گاہ تہہ تہ مانان  
 چھوہ نہ فَأَعْبُدْهُ وَوَمَا شِئْتُمْ مِنْ دُونِهِ تلہ کمر و جہہ عبادت تس ورائے سمن ہنز خوش کرودہ۔ تمبک  
 نتیجہ تلو توہہ پائے قیامتک دودہ۔ قُلْ إِنَّ الْخَيْرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ  
 پتہ فرما یو کہ تہہ کہ بے شک تاوان زد گے تھے سمن تاوان بیو پنے نین پانن تہ پنہ نس عیاکس قیامتک  
 دودہ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ وارہ بو زوتہ یاد تھا و یہ تھہ کہ یوہے کیاہ گوون تاوان تہ بوڈ نقصان



فَوَقِهِمْ ظُلْمٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلْمٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ  
 عِبَادَهُ يُعْبَادُ فَاتَّقُوا<sup>(۱۶)</sup> وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ  
 يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادِ<sup>(۱۷)</sup> الَّذِينَ  
 يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ  
 وَأُولَٰئِكَ هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ<sup>(۱۸)</sup> أَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ  
 أَفَأَنْتَ تُتَّقِدُ مَنْ فِي النَّارِ<sup>(۱۹)</sup> لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا لَهُمْ لُحُوفٌ مِنْ

تجہ کیفیت چھہ پٹھہ کہ اَمَنْ مِنْ فَوَقِهِمْ ظُلْمٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلْمٌ تہہہ خاطرہ چھہ تمن پیٹھہ  
 کن تہہ نارہ شعلہ، وُزْن تہہ نارہ کئے تہ تمن بون کن تہ چھہ نارہ کی شعلہ یعنی و تھرن تہ نارہ کئے۔ پر پٹھہ  
 طرفہ آسن تمن احاطہ کتر تھہ نارہ کی شعلہ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ یہ گووسی عذاب سمہ سیت  
 کھوڑہ ناوان چھہ اللہ تعالیٰ پنہ بنن ہندن، اَمَّہ عذابہ نشہ چنگ تہیر تہ چھہ بیان کران۔ سہ گوودین حقس  
 عمل گرن یُعْبَادُ فَاتَّقُوا فرماوان چھہجھہ اکی میانیو بندو، کس کھوڑو میہ یعنی میانس عذابس۔ میانی  
 مہ کتر ونا فرمانی۔ دین حقس پیٹھہ کتر و عمل۔ یہ اوس کافر ن تہ مشرکن ہند حال۔ اَمَّہ پتہ چھہ اللہ تعالیٰ  
 فرماوان با ایمان ہند حال وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَنْ يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ  
 عِبَادِ یہہ سم لوکھ پتھہ رود شیطانس پر ستش کرنہ نشہ یعنی معبودان باطلن ہنز پر ستش کرنہ نشہ، یہہ  
 کوڑکھ رجوع اللہ تعالیٰ اس گن تم چھہ مستحق خوش خبری بوزہ ناوس۔ پس فرماو بشارت تہ خوش خبری  
 میا مین تمن ہندن الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ سم بوزان چھہ خدلیہ سُد کلام گن دار تھہ  
 تو پتہ چھہ تمہ چن ر ژان کھن پیروی کران تمہ چھہ سارے کھہ ر ژہ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَىٰ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ  
 هُمُ أُولُو الْأَلْبَابِ تے لوکھ کیاہ گئے تم تمن اللہ تعالیٰ ان ر ژو تھہ ہا۔ یہہ گئے تے خاص کر عقلہ وال تہ  
 گائل اَمَنْ حَقَّ عَلَيْهِ كَلِمَةُ الْعَذَابِ أَفَأَنْتَ تُتَّقِدُ مَنْ فِي النَّارِ کیاہ کس پیٹھہ عذابک حکم ثابت سُد  
 کیاہ توہہ ہیکو نہ موکلاو تھہ سہ شخص کس حکم الہی نارس منز و تہمت آسہ لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا لَهُمْ

فَوْقَهَا عَرْفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعَدَا لِلَّهِ لَا يُخْلِفُ  
 اللَّهُ الْبَيْعَادَ ۝ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ  
 فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا  
 ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ ۝  
 أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ فَوَيْلٌ

عُرْفٌ مِّنْ فَوْقِهَا عَرْفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لیکن تم لو کہ تم کھو ژ ہر درو گارس پنہ نس تو پتہ رود چھ تہندہ نا فرمانی نشہ، تہندہ خاطر چھ جنک بالا خانہ یکن پیٹھ کن بے بالا خانہ بناؤ مت آسن تمو بالا خانو بون کن چھ کولہ تہ جو یہ پکان وَعَدَا لِلَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْبَيْعَادَ امہ کے چھ اللہ تعالیٰ ان وعدہ کورمت اللہ تعالیٰ چھنہ وعدس بدل کران أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَلَكَهُ يَنَابِيعَ فِي الْأَرْضِ کیاہ ثیہ ڈھتھتھ نالے وچھونہ پتھ کن کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان ترود آسا چھ طرفہ رود تو پتہ پکہ ٹوون سہ آب نا گوتہ کیر یو کن زمینس اندر ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا تو پتہ چھ تہی آہ سیت کھاران زراعت۔ سمیک قسم مختلف چھ آسان۔ تو پتہ چھ سہ زراعت خٹک سپدان نس پتھن سہ وچھان ژہ زرد سپدان۔ تو پتہ چھ تھ اللہ تعالیٰ چورہ کران إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِأُولِي الْأَلْبَابِ بے شک چھ تھ زراعت کس ابتدا س تہ انتہا س منز بڈ نصحت گائین ہندہ خاطرہ۔ یکنے حالتھ چھ بعینہ انسان ہنزہ دنیوی زندگی ہنز۔ اتھ زندگی اندر مشغول سپد تھ ابدی راحت و آرامہ نشہ پن پان محروم کمر تھ ابدی مصیبتن گرفتار چھ بڈ حماقت تہ نادانی۔ اگرچہ سون بیان چھ سیٹھاہ بلوغ مگر بو زن و آل چھ ساری ہوی آسان أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّنْ رَبِّهِ چنانچہ سہ شخص یم سُنَد سینہ اسلام قبول کرنہ خاطرہ اللہ تعالیٰ ان مژہ روو یعنی اسلامہ حقیقتک سپد نس یقین، سہ چھ پکان پنہ نس ہر درو دگارہ سندہ عطا کمر متہ گاشہ موجب یعنی عمل کران تہند یو ہدایتو مطابق۔ تس شخص برابر چھ سہ شخص یس کفرہ چین تاریکن منز بو ڈمت

لِلْقِسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۲۲﴾ اللَّهُ  
 نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِي تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ  
 الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ  
 اللَّهِ ذَٰلِكَ هُدَىٰ اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن يُضِلِلِ اللَّهُ  
 فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿۲۳﴾ أَمَّن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ  
 الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ ﴿۲۴﴾ كَذَّبَ

آسہ فَوَيْلٌ لِلْقِسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِّنْ ذِكْرِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ پس سیٹھاہ خرابی تہ افسوس چھہ تمن  
 لوکن بہمد دل سخت در چھہ خدایہ سزہ ذکرہ لغہ۔ دنیا س منز چھہ تمے لو کہ نہ گمراہی منز بتلا تہ گرفتار  
 امہ پتہ چھہ تمہہ نورک ذکر تہ بیان اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعیر منہ جلود  
 یخشون ربہم اللہ تعالیٰ ان کور نازل سیٹھاہ رت کلام یعنی قرآن مجید کتاباہ یک مضامین اکھ آگس  
 ہی چھہ پھیر پھیر بیان کرنہ آمت یچھہ منز لوکن فکرہ تارنہ خاطرہ چھہ بعضے بعضے مضامین یچھہ تکرار س  
 منز باوجود فائدہ تاکید دلس منز مدعا تہ مطلب رانخ سپدیحہ بے بے خاص لطایف موجود چھہ۔ امہ کلامہ  
 سیت چھہ تیرہ کنڈی پھٹان تمن لوکن ہندین بدن تم کھوژان چھہ پنہ نس پروردگار س ثم تلین  
 جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ تو پتہ چھہ نرم سپدان تہمد بدن تہ دل خدایہ سدس یادس کن متوجہ  
 سپدنہ سیت یعنی قرآن مجیدہ موجب عمل گرہ نس گن متوجہ سپدان ذلک ہدی اللہ یهدی بہ من  
 یتشاء یہ قرآن مجید چھہ خدایہ سمد ہدایت امہ سیت چھہ سہ و تھ ہاوان تمن تمن ہندسہ یڑھان چھہ  
 ومن یضلیل اللہ فمالہ من ہادئ نس اللہ تعالیٰ و تھ راورہ نس چھنہ کانہہ و تھ ہاودن اامن یتقی  
 بوجہہ سوء العذاب یوم القیامۃ وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون کیاہ سہ شخص نس بچاؤہ  
 پن پان بچھہ سیت جہنم سخت عذابہ لغہ قیامتگ دوہ، عام دستور چھہ کہ انسان چھہ پن پان بچاوان  
 تکلیفہ لغہ اتھو سیت قیامتگ دوہ آسن خالمن ہندی اتھ پتھ گن گنڈ تھ تمی موکھ بچاوان تم پن پان بچھہ

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۳۵﴾  
 فَآذَاهُمْ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةَ  
 أَكْبَرَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿۳۶﴾ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا  
 الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۳۷﴾ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ  
 ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ﴿۳۸﴾ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ  
 شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا

سیت عذابہ نشہ تو پتہ یہی تمن ظالمین وندہ ژہومزہ تمن یتھہ کائین ہندیمہ ٹہہ کران آسودہ دنیاس اندر۔  
 کیاہ امہ قسمک ظالم تہ بہ تم با ایمان یم جنٹن اندر ہمیشہ تہ آرامہ سان آسن بہتھ چھا برابرے ہر گز نہ  
 کَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَآتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ تکلذب چھہ کورمت حضرات انبیاءن  
 تممولو کو تہ یم تمن اذکین کافرن برونتھ اسی تو پتہ چھہ واکتھ پیومت تمن خدایہ سُد عذاب۔ تھہ تھہ  
 تمن خیال تہ اوس نہ۔ فَآذَاهُمْ اللَّهُ الْخِزْيَ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةَ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ  
 کس ژہہ ناوی تم اللہ تعالیٰ اَن رَسُوای ہند عذاب دنیاچہ زندگانی اندر بہہ چھہ ضرور آخر تک عذاب  
 سیٹھاہ بوڈ تھندہ خاطرہ۔ ہر گاہ تمن معلوم آسہا وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ  
 لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ بے شک بہہ گرہ آسہ لوکن ہندہ ہدایتہ خاطرہ یتھہ قرآن مجیدس اندر پر یتھہ قسچہ  
 مثالہ تہ پر یتھہ قسمک مضمون یتھہ تم نصیحت رٹن قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ تہ کیفیت  
 چھہ یہ کہ یہ قرآن مجید چھہ بزبان عربی یتھہ مز نہ کنہ تہ کمی تہ چیدگی چھہ یتھہ تم لوکھ امک مضامین ہلیغہ  
 بوژتھ کھوژن ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلًا سَلَمًا لِرَجُلٍ چنانچہ اللہ تعالیٰ  
 چھہ موجودہ مٹھر کن متعلق اکھ مثال بیان کران۔ اکھ شخصہاہ چھہ غلام۔ سنی چھہ مشترک وار یتھن  
 بد مزاج شریکن ہند۔ بیاکھ موہوہاہ چھہ غلام اکسے شخصہ سُد هَلْ يَسْتَوِينَ مَثَلًا کیاہ یمن دون ہنز  
 حالتھہ یحیا برابر یتھہ۔ ہر گز نہ بلکہ گوڈنیک شخص چھہ ہمیشہ حیرانی اندر گرفتار کہ کھندمانہ تہ کھندمانہ نہ



بِالصِّدْقِ وَصَدَقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿۳۳﴾ لَهُمْ مَا  
 يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ﴿۳۴﴾ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ  
 عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ  
 الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۵﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُخَوِّفُونَكَ  
 بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۗ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ﴿۳۶﴾  
 وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ۗ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ

وَصَدَقَ بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ۚ تم بدل گے تم لو کہ تم خدایہ سندہ طرفہ یا پیغمبرہ خدایہ سندہ  
 طرفہ پوزیتھ آئے۔ یہ کوزکھ پانہ تہ تھہ ہزس تصدق۔ تے لو کہ چھہ یقیناً متقی تہ پرہیزگار۔ تھہہ فیصلہ  
 چھہ کہہ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ تھہہ خاطرہ چھہہ تہ سورے یہ تم بہ صحن پنہ نس پروردگار س  
 نھہہ۔ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ ۚ یے چھہ مزرور تہ بدلہ نیکو کارن ہند۔ تھہہہ خاطرہ سپد یہ تجویز  
 لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ۚ تھہہ اللہ  
 تعالیٰ دور کرہ تھہزہ ہچھہ عملہ یہہ تھہہ رٹومزور عطا کرہ تم عملن ہنزیہ رٹہ عملہ تم کران آس اَلَيْسَ  
 اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ ۗ کیاہ اللہ تعالیٰ چھنا کافی پنہ نس ہندہ خاص (حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم)  
 حفاظت کرنہ خاطرہ۔ سہ چھہ سارنہ ہندہ حفاظتہ خاطرہ کافی پنہ نس ہندہ خاصہ سندہ خاطرہ گوٹھہ  
 نَا أَنس وَيُخَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ ۗ تم کافر چھہ امہ قسمک احمق کہ خدایہ سنزہ حفاظتہ نش تجاہل  
 کمر تھہ چھہ توبہ کھوڑہ ناوان معبودان باطلن ہندہ سیت تم تمو خدا یس ورانے چھہ پائے ٹھہراومت۔  
 حالانکہ تم چھہ پانہ بے جان تہ عاجز۔ ہرگاہ قادر تہ آسہ کن توتہ کیاہ چلہ ہاتمن خدایہ سنزہ راچھہ تہ  
 حفاظتس مقابلہ۔ یہ چھہ تم تھہ راومر ۗ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۚ نَس اللہ تعالیٰ وتھہ راورہ  
 نَس چھہ نہ کانہہ تہ وتھہ ہاودون تہ ہدایت کرہ ون وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُضِلٍّ ۗ نَس اللہ تعالیٰ  
 وتھہ ہاودون تھہ نہ کانہہ وتہ نھہ ڈالہ ون تہ گراہ کرہ ون اَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِي انْتِقَامٍ ۗ کیاہ تم

ذِي انْتِقَامٍ ﴿۳۱﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ  
 وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ  
 مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ  
 ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ قُلْ  
 حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿۳۲﴾ قُلْ لِيَقَوْمٍ  
 اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾

وہنا خیال کہ اللہ تعالیٰ چھ زبردست انتقام بہنہ وول۔ تعجب چھ کہ تم چھ پانس تہ تمہہ تھہ ہند تسلیم کہ اللہ تعالیٰ چھ پنہ نین بدن نصرت کرہ نس پیٹھ کافی۔ قدرتس اندر چھ سیٹھہ کامل چنانچہ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ہر گاہ تہہ تم لوکن پر تھو کہ آسمان تہ زمین کم کر پادہ ضرور ون تم کہ اللہ تعالیٰ ان کمر پادہ تھہ بڈ اجرام فلکی از عدم بوجود اُن چھہ دلالت کران تہہ ہنس کمال قدرتس پیٹھ تھہ پیٹھ بنا کر تھہ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَتُ رَحْمَتِهِ پر تھو تہہ تم اے کافر و میہ و نتو توبہ تم معبودان باطلن ہنز تہہ پر ستش کران چھوہ خدا ئس و رائے۔ ہر گاہ اللہ تعالیٰ میہ کانہہ تکلیف وائتہ ناون یڑھہ کیاہ تم معبود ہیکنہ سہ تکلیف میہ نشہ دور کمر تھہ یا ہر گاہ اللہ تعالیٰ میانہ حقہ یڑھہ کانہہ مہر بانیاہ کیاہ تم معبود ہیکنہ سو مہر بانی تھہ رتھہ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ تہہ فرما دیو کہ امہ اندرہ سپد ثابت ای آیو گوڈو تہہ بیان کرنہ۔ چو چھہ سہ چھہ پیٹھ قدر تہہ وول تہہ پیٹھ مدد کرہ و ن مہ چھہ بس سے اللہ تعالیٰ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ لہذا چھہ تہ پیٹھ توکل کرہ و ن توکل کران۔ بہ تہ چھہ تہ پیٹھ توکل کران۔ تہنہ مخالفک تہ دشمنی ہند چھہ تہ بہ کانہہ پروا کران قُلْ لِيَقَوْمٍ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ ۖ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ بالاخر فرما دیو کہ تہہ یا رسول اللہ اے لوکو ہر گاہ تھہ پیٹھ تہ توبہ کینہہ ماونہ تیلہ زانو توبہ تہ کار زانو۔ توبہ گزہ ہو کام کران پنہہ جلیہ پیٹھ۔ بہ تہ

مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ﴿۳۹﴾  
 اِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدَىٰ  
 فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۖ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ  
 بِوَكِيلٍ ﴿۴۰﴾ اَللّٰهُ يَتَوَقَّى الْاِنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ  
 تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ  
 يُرْسِلُ الْاٰخِرَىٰ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ

بھٹس پنہنہ طورہ عمل کران۔ بروٹھ پھن زانو توبہ پائے مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُّقِيمٌ ۳۹ کس پیٹھ  
 پیٹھ آخترس اندر سہ عذاب نئس ہمیشہ دایم تہ پوشہ ون آسہ اِنَّا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ  
 ہنز پانٹھ آسہ کمر نازل توبہ پیٹھ یہ کتاب ہتھ منز پلازے پوز چھ لوکن ہندہ نفعہ فایدہ خاطرہ۔ تہن کام  
 ہتھ یہ ذاتہ ناون فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا تمہ پتہ نئس اگس وتھ آیہ  
 امہ قرآن مجیدہ سیت نئس ہتھ تمیک فاندہ تس پانس۔ نئس اکھاہ وتہ نغہ ڈول سہ ڈلہ نہ مگر پنہ پانہ کہ  
 ضررہ خاطرہ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ توبہ نہ حض چھوہ نہ لوکن ہند ذمہ دار زورہ کیاہ انبو کہ تم  
 سیزہ وتہ پیٹھ۔ لہذا کیا زہ توبہ تہندہ گراہی ہندہ سبہ غمگین سپدان اَللّٰهُ يَتَوَقَّى الْاِنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا  
 وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا اللہ تعالیٰ اکی ہتھ قبض کران تمن روحن یہ ہندہ مرہ نلک وقت دو تمن  
 آسان ہتھ۔ یہ تمن روحن تمن نہ ونہ مر نلک وقت دو تمن ہتھ آسان۔ تمن تہ ہتھ قبض کران بندرہ  
 اندر فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَ يُرْسِلُ الْاٰخِرَىٰ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى نئس چھہ رٹان تمن روحن  
 تمن پیٹھ مر نلک حکم تم جاری کورمت آسان ہتھ۔ یہ ہتھ وائس سوزان باقی روحن اگس متعین تہ مقرر  
 کرنہ آقس و قس تان یعنی عمرہ ہندس مدتس تام اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُوْنَ بے شک اتھ  
 مجموعہ تصرفس منز چھہ خدایہ سندہ قدر تہ تہندہ منفرد فی التصرف اسچہ واریاہ دلیلہ تمن لوکن ہندہ



يَتَفَكَّرُونَ ﴿۳۲﴾ اِمْرَاتُخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شَفَعَاءَ ط قُلْ  
 اَوْ لَوْ كَانُوْا اِلٰهِيْمَلِكُوْنَ شَيْئًا وَّ لَا يَعْقِلُوْنَ ﴿۳۳﴾ قُلْ لِلّٰهِ  
 الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا لَّهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَّ الْاَرْضِ ط ثُمَّ اِلَيْهِ  
 تُرْجَعُوْنَ ﴿۳۴﴾ وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَّحَدَّاهُ اشْمَاَزَتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ

خاطرہ سم فخر یہ تامل کر ان آسن اِمْرَاتُخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ شَفَعَاءَ کیاہ سمو مشرک لو کو چھا باوجود  
 واریاہ د لیلہ توحید چہ قاسم آسحہ خدائس ورائے یہ معبود قرار دتیت تم من متعلق تم خیاں چھہ کہ تم  
 کرن اسہ سفارش قُلْ اَوْ لَوْ كَانُوْا اِلٰهِيْمَلِكُوْنَ شَيْئًا وَّ لَا يَعْقِلُوْنَ تُوہہ فرما یو کہ یار رسول اللہ اے  
 لو کو کیاہ اگر تم نمنہ چیزس پیٹھ اختیار تہ قدرت نہ آسٹھ یہ کانہہ چیزانہ زانتھ چھوہ تُوہہ تم زانان ہن  
 سفارش کرہون۔ حالانکہ سفارش کرہ نس گڑھہ آسن قدرت تہ علم بے جان چیز چھہ سمودو شوے چیزو  
 نِشہ خالی۔ وون ہر گاتم و ن آس چھکنہ تم بے جان چیز فی نفسہ زانان شفاعت کرہون بلکہ چھہ اسی تم  
 زانان شفاعت کرہون تم ہنزہ یہ سٹھہ چھہ۔ تم چھہ ذی روح تم منز چھہ قدرت تہ تہ علم تہ۔ اللہ  
 تعالیٰ چھہ تھہ رد فرماوان آمہ پتہ قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا نہہ تارو یمن وارہ فکرہ یہ تھہ کہ سفارش  
 ہند سورے اختیار چھہ خدایہ سے یوت۔ تہندہ اذنہ تہ اجازتہ ورائے ہیچہ نہ کانہہ تہ کانہہ سفارش  
 کمر تھہ۔ اذنہ خاطرہ چھہ زہ شرط۔ اکھ گڑھہ شفع مقبول آسن یہ بس شفاعت یہہ کر نہ سہ گڑھہ قابل  
 مغفرت آسن۔ تین ارواحن ہنز سم پر سٹش کران چھہ تم اگر شیطان چھہ تیلہ چھہ تم منز دو شوئے  
 شرط مفقود ہر گاہ تم ملا مکہ چھہ تیلہ چھہ دو سٹم شرط مفقود۔ لہذا سہز تہنز شفاعت کرن باطل امی موکھ  
 آس یوان تم معبود قرار نہ لہذا سہد تہند معبود آسن باطل امی سیت سہد اللہ تعالیٰ سہد معبود بر حق آسن  
 ثابت تس معبود برحقہ سہد شان چھہ کہ لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَّ الْاَرْضِ آسان تہ زمین ہنز سارے  
 حکومت چھہ تس اٹھہ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ بتولا کہ سورے عالم خم گڑھہ پتہ ایو تہہ تس سُن و اتناونہ  
 وَاِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَّحَدَّاهُ اشْمَاَزَتْ قُلُوْبُ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ کافرن تہ مشرکن ہند حال چھہ کہ

لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ  
يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۳۵﴾ قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ  
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا  
فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۳۶﴾ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ  
جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ الْعَذَابِ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ ۗ وَبَدَّ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَهُمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ ﴿۳۷﴾

یلعہ خدایہ سُنَدے یوت یاد کرنے چھہ یوان کہ سنی معبود برحق تئس چھہ تصرف سار نے کائین پیٹھ تمہہ  
ساتہ چھہ تمہن لوکن ہند دل چو نگر اوندہ یوان تمہن نہ پٹھہ چھہ آخر تج کیا زہ تمہن چھہ توحید ج نفرت  
وَأِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ستمہ ساتہ تذکرہ چھہ کرنے یوان تمہن ہند ہم تئس معبود  
برحقس ورائے چھہ، تمہن تم شریک خدازانان چھہ، تم چھہ خوش گڑھان کیا زہ تمہن چھہ شرک ٹوٹھ  
قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ عَلِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ تمہہ مہ سپدیار رسول اللہ تمہزہ دشمنی  
سیت غمگین۔ توبہ کمر و دغا۔ خدائس معبود یا اللہ تے چھہ آسمان تے زمین ہند پادہ گرہون تے چھہ  
سورے پوشیدہ تے نون زانہ ون أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِي مَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ تے کر کہ  
قیامتک دوہہ فاصلہ پنہ نین بدن منز تمہن تھن ہند تمہن منز تمہ پانہ وان اختلاف کران اس تمہہ فیصلہ کہ  
وقتہ سپدہ حال کہ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ مِنْ سُوءِ  
الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ہر گاہ تمہن لوکن نیشہ سمو ظلم کور شرکہ تے ٹھہرہ سیت سہ سورے مال آسہ، تئس  
سارسی زمینس منز چھہ بیہ تھہ سیت بیہ تیوت مال تے دولتھ ضروردن تمہہ سورے مال، تم تامل  
تے تار کرنے ورائے ہن پان موکلاوندہ خاطرہ قیامتک دوہہ کہ سخت مشکل عذابہ نیشہ وَبَدَّ اللَّهُ مِنَ اللَّهِ  
مَا لَهُمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ تمہن تئس تمہہ دوہہ اللہ تعالیٰ سپدہ طرفہ تمہن حالاتھہ تمہن ہند نہ تمہن وہم و  
گمانے اوس وَبَدَّ اللَّهُ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ بیہ سپدن ظاہر

وَبَدَّالَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهٖ  
 يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۸﴾ فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا ثُمَّ اِذَا  
 خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ اِنَّمَا أُوتِيْتُهَا عَلٰى عِلْمٍ بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ  
 وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۹﴾ قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ  
 فَمَا اَعْنٰى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۴۰﴾ فَاَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ  
 مَا كَسَبُوا وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوا مِنْ هٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ  
 مَا كَسَبُوا وَاَهُمْ بِمُعْجِزِيْنَ ﴿۴۱﴾ اَوْ لَمْ يَعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ يَبْسُطُ

تمہہ دوہہ تمہہ سارے پیچہ کامہ تمہہ تمو کر مرہ آسن۔ یہیہہ ولہ تمن سہ عذاب تہہ تم ٹھٹھہ کر ان اس  
 فَاِذَا مَسَّ الْاِنْسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا مُشْرک انسان اُس ذکر اللہ نشہ نفرت ہتھہ کر ان، غیر اللہ سدس یادس  
 سیت ہتھہ دل چہسی تھوان سمہ ساتہ اس مشرک انسانس کانہہ سختیہہ واتان ہتھہ اتی ہتھہ تمہہ ساتہ باقی  
 ساری تراوتھہ آسے نادودوان لُٹھہ اِذَا خَوَّلْنٰهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ اِنَّمَا أُوتِيْتُهَا عَلٰى عِلْمٍ تمہہ پتہ یلہ اس  
 اُس کانہہ نعمتہہ عطا کر ان چہہ تمہہ ساتہ ہتھہ یہ نعمت خدا اُس کن منسوب کرنہ نشہ گریز کر ان۔ دہنہ ہتھہ  
 لگان کہ یہ نعمت بنے یہ میہ پنہہ تدبیرہ سیت اُس انسانس نہ یہ زان چہہ غلط بَلْ هِيَ فِتْنَةٌ وَلٰكِنَّ  
 اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بلکہ ہتھہ یہ نعمت آزمائش تہ امتحان کہ آیایہ نعمت واتھہ مشراویایہ انسان آسہ کنہ  
 امہ نعیج شکر گذاری گرہ مگر لوکھ چہنہ یہ تہہ زانان قَدْ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَمَا اَعْنٰى عَنْهُمْ  
 مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ نتیجہن اثڑہ تہہ ہتھہ ونموہہ تمولو کو تہہ تم تمن بروٹھہ اس (قارون وغیرہ) اُس دیت  
 نہ کانہہ فایدہ تمن تمو چیز ویم تمو حاصل کر مت اس فَاَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَالَّذِيْنَ ظَلَمُوا  
 مِنْ هٰؤُلَاءِ سَيُصِيبُهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَاَهُمْ بِمُعْجِزِيْنَ یہہہ تمولو کو ظلم کور سمومکہ کیولو کھواندرہ۔  
 تمن تہہ ولتہ عنقریب تمن چہہ عملن ہند پیچہ نتیجہہ یہہہ تمو کرہ مرہ ہتھہ۔ تم تمن کن نہ خدا اُس عاجز ٹھہ تہہ۔

الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ  
 يُؤْمِنُونَ ﴿۵۲﴾ قُلْ يُعْبَادِي الَّذِينَ اسْرِفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ  
 لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا  
 إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ﴿۵۳﴾ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلُمُوهُ  
 مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴿۵۴﴾ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ

چنانچہ جنگ بدرس منز کھوو تھو کافی سزا اؤکم یعلمو ان الله یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لِّقوم یتؤمنون بے شک اتھ کمی وزیادتی کرہ نس اندر چھہ واریہ نشانہ خدایہ سدہ قدر تک تمن لوکن ہندہ خاطرہ سمو پڑھ کمرہ ایمان اون معبود برھس قُلْ یعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ فرماو توہہ میانین ہندن تم پر ژھان چھہ کہ ہر گاہ اس اسلام اٹو سائین گوئمن کیاہ ہنہ۔ اے میانو بندو سمو گناہ کرنہ سیت پنہ نین پانن پیٹھ زیادتی کمر کہ نا امید نہ سدو اللہ تعالیٰ سندہ رحمتہ نعمہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعاً اللہ تعالیٰ کرہ تہمدین سارنہ بروٹھمن گوئمن بخشائش۔ ادہ اس تن تم گوناہ شرک تہ کفرے۔ یہ آیہ کریمہ چھہ اعلان کران حضرت ارحم الراحمینہ سندہ بے شمار رحمک بے تہندہ غفودر گزر کر چھہ تھدہ شانگ۔ بیہ ہر گاہ کانہہ سخت مایوس العلاج گوئمن ہند بیماراہ آسہ تسدہ حقہ چھہ یہ آیہ کریمہ کسیرک حکم تھاون۔ مشرک، طہد، زندیق مرتد یودی، نصرانی، مجوس، بدعتی، فاسق، فاجر آس تن یہ آیہ کریمہ بوڑ تھ گھسہ نہ تھمد خدایہ سندہ رحمتہ نعمہ مایوس سدن۔ کیا زہ اللہ تعالیٰ بس یشہ تس کرہ مغفرت سارنہ گوئمن۔ تسد ارادہ ہیچہ نہ کانہہ تہ چھہ رتھہ انہ ہو الغفور الرحیم واقعی سہ چھہ سیٹھاہ بخشنہار، سیٹھاہ رحمتہ وول، چوچھہ امہ معافی تہ بخشائشہ ہند شرط چھہ تہ مسلمان سدن وانیبوا الی ربکم واسلموا لہ من قبل ان یأتیکم العذاب ثم لا تنصرون لہذا کمر و تھہ رجوع تہ توبہ پنہ نس ہرورد گارس ن بے کمر و تھمز تابعدری، توبہ پیٹھ عذاب الہی نازل سدنہ بروٹھ عذاب نازل سدنہ پتہ بیہ نہ توبہ کانہہ مدد

مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ  
بَغْتَةً وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ﴿۵۵﴾ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يُحَسِّرُنِي عَلَى  
مَا فَرَطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لِمِنَ السَّخِرِينَ ﴿۵۶﴾  
أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴿۵۷﴾ أَوْ  
تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كُرَّةٌ فَاكُونَ مِنَ  
الْمُحْسِنِينَ ﴿۵۸﴾ بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ  
وَكَنتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ ﴿۵۹﴾ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا

کرنه کانسہ ہندہ طرفہ **وَابْعَثُوا أَحْسَنَ مَا أَنْزَلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ بَغْتَةً**  
**وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ** بیہ کمر و پیروی تمن رتین حکمن سم توبہ کن نازل آے کرنہ تہندس پروردگارہ  
سندہ طرفہ ہجرتہ معجہ عذابس گرفتار سپندنہ بروٹھ۔ توبہ آسہ نہ تمیک وہم و گمانے عنہ قسمہ۔ **أَنْ**  
**تَقُولَ نَفْسٌ يُحَسِّرُنِي عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنبِ اللَّهِ وَإِنْ كُنْتُ لِمِنَ السَّخِرِينَ** تہندہ بدوہ ہناہ ہندہ کہ  
توبہ آندرہ ونہ کانہہ شخصاہ افسوس تھہ میانہ کوتاہی پیٹھ یوسہ میانہ طرفہ آیہ خدایہ سزہ فرماں برداری  
اندر۔ واقعی بہ اوس ٹھٹھہ کرہ ونیو آندرہ تمن تمھن پیٹھ دنیا س اندر **أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَدَانِي**  
**لَكُنْتُ مِنَ الْمُتَّقِينَ** یا ونہ کانہہ شخصاہ کہ ہر گاہ اللہ تعالیٰ ان میہ ہدایت کورمت آسہ ہاہہ تہ آسہ ہا  
پرہیز گارہ آندرہ **أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِي كُرَّةٌ فَاكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ** نتہ ونہ  
کانہہ شخصاہ سمہ سائہ نظر نہیں عذابس پیٹھ کاش کہ میہ ہے دنیا س کن وانھس وان گروھنہ ادہ ہناہ نیوکا زو  
آندرہ **بَلَى قَدْ جَاءَتْكَ آيَتِي فَكَذَّبْتَ بِهَا وَاسْتَكْبَرْتَ وَكَنتَ مِنَ الْكٰفِرِينَ** تس بیہ ونہ البتہ تھتق  
ژیہ ہشہ وات میان آیات تم زان تھتھہ ژیہ اپز۔ ژیہ کوز تھہ تم ماننہ ہشہ ہجرتہ غرور۔ بیہ اوسٹھہ ژہ

عَلَى اللَّهِ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ ۚ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى  
لِّلْمُتَكَبِّرِينَ ﴿۶۰﴾ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا  
يَمَسُّهُمْ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿۶۱﴾ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ  
عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴿۶۲﴾ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ  
الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۶۳﴾ قُلْ  
أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَنِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ﴿۶۴﴾

ہمیشہ کافر نے سیت و یوم القیمۃ تری الذین کذبوا علی اللہ قیامتہ دو وہجہ ہجہ ذہ تم لو کہ سمو  
اپنورود اللہ تعالیٰ اس پیٹھ۔ یہ تمہہ خدا من فرماوہ نہ تمہہ لاجھہ تس یمہ تمہہ تم فرماوہ تمن کو رکھ  
انکار۔ وَجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ ۚ تمہہ تہدی اسن کرن سیاہ۔ اَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْمُتَكَبِّرِينَ  
کیا ہجہ چہناروزنج جائے تمن مہجر ن ہندہ خاطرہ وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ یہ دیر  
اللہ تعالیٰ نجات رستہ گاری تہ کامیابی سیت تمن لو کن تم بہتہ رود شرک و کفرہ نغمہ بیہ رود بہتہ تہزہ  
تا فرمانی لغہ لَا يَمَسُّهُمْ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ تمن ولتہ نہ کا نہہ تکلیف، نہ اسن تم غمگین اللہ  
خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ اللہ تعالیٰ ای ہجہ پر ہتہ چیزک پیدہ کرہ ون۔ بیہ ہجہ سنی  
پر ہتہ چیزک ذمہ دار لہ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تس اتھہ ہجہ کوزہ آسمان تہ زمین ہندین خزان  
ہنزہ۔ سنی ہجہ موجد سار گوی۔ باقی تھاوہ ون تہ حافظ پر ہتہ چیزک۔ سنی ہجہ متصرف پر ہتہ چیزک  
آسمان وزمین ہندین خزان ہنزہ کوزہ ہجہ تسی اتھہ۔ لہذا تمہہ کمالک صفت آسہ ونس شو بیا شریک  
وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ تم لو کہ باوجود آل انکار ہجہ کر ان خدا یہ سندین  
آیا تن تم لو کہ ہجہ تاوان زد تہ سیٹھاہ نقصان تلہ ون۔ تم لو کہ آس پانے کھر و شرکس بتلا۔ مگر تم ہجہ  
امہ قسمک بے حیاء کہ یم ہجہ توہہ تہ فرمائش کر ان نعوذ باللہ پنہ نس طریقس پٹھہ عمل کرنج قُلْ  
أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونَنِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ توہہ فرما یو کہ یار رسول اللہ کیا ہ توحید ثابت سپد تھہ تہ

أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَئِنْ أَشْرَكْتَ  
لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴿۶۵﴾ بَلِ اللّٰهُ  
فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿۶۶﴾ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ  
قَدْرِهِ ۗ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ  
مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ ۗ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۶۷﴾  
وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ

شرک باطل سپد تھ چھوہ توہہ میہ دیان معبود برحقس ورائے بین ہنز عبادت کرن۔ اے نادانو تہ  
جاہلو، ای پیغمبر برحق توہہ نعمہ تھہ پاٹھ ہیجھ نعوذ باللہ شرک وکفر صادر سپد تھہ میگ تم احق توقع چھہ  
تھوان کیاہہ و لَقَدْ أَوْحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ  
وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تھہن وحی آوسوزنہ توہہ کن سم توہہ برونھہ آس کہ پنہ نین امتین ونو  
توہہ پریتھہ اکس فرداً فرداً کہ ہر گاہہ ژہ شرک بخدا انکھ چان سارے کام گڑھہ ضایع۔ بیہ سپد کہ ژہ  
ضرور نقصان تلہ ونیواندہ۔ لہذا انھہہ کافرن ہندہ بارونہہ سیت متاثر سپد تھہ شرکس کن مایل سپدو۔  
بَلِ اللّٰهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ بلکہ کمر و خدایہ سزے یا ژ عبادت بیہ آسوتس شکر ڈپہ ونیو  
اندہہ وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ  
بِيَمِينِهِ سُبْحٰنَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ افسوس تم لو کو کہ نہ خدایہ سزہ قدر و عظمت تڑھہ ہڑھہ  
تس شوہہ ہا۔ حالانکہ تم سد شان چھہ کہ سورے زمین آسہ ہمزہ موچھہ منز قیامتک دوہ ساری آسمان  
آسن وٹھہ تھندس دچھنس اتھس اندر۔ منزہ تہ پاک بیہ تھود تہ بلند تھہ شرکہہ چوساروے کتھو نعمہ سمہہ  
کتھہ لو کہ تس ٹھہراوان چھہ و نُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ  
قیامتک دوہ بیہ پو غس منز چھو کہ دنہ۔ تمہہ سیت سپدن بے ہوش تم ساری سم آسمان تہ زمین منز  
آسن۔ یم زندہ آسن تم مرن۔ یم مومت آسن قبرن منز تھند روح سپدن بے ہوش۔ مگر تم ہند اللہ

اِلَّا مَنْ شَاءَ اللهُ ط ثُمَّ نَفَخَ فِيْهِ اٰخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ ﴿۷۸﴾  
 وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا وَوَضِعَ الْكِتٰبُ وَجِئَتْ بِالرَّسُوْلِيْنَ  
 وَالشُّهَدَآءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ﴿۷۹﴾ وَوَقِيَتْ  
 كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ ﴿۸۰﴾ وَسَيُقَآءُ  
 الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتّٰى اِذَا جَآءَ وُهَا فُتِحَتْ  
 اَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ  
 يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ وَيُنذِرُوْنَكُمْ لِقَآءِ يَوْمِكُمْ

تعالیٰ پر ہر تم روزان آمد بے ہوشی سے مراد نشہ محفوظ ط ثُمَّ نَفَخَ فِيْهِ اٰخْرٰى فَاِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُوْنَ تو پتہ  
 یہ پو غس منز بیا کہ پھو کہ دنہ۔ سہ پھو کہ یاں دنہ یہ تان ساری ہو ش منز روحن ہند تعلق سپدہ  
 بدن سیت۔ تو پتہ دو تھن قبر و منزہ تھو د۔ پر تھ طرفہ لکن و چھنہ۔ تھہ پاٹھ کٹھہ حادثہ وقتہ انسان سہند  
 عادت چھہ وَاَشْرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِ رَبِّهَا تو پتہ کرہ اللہ تعالیٰ حسابہ خاطرہ پن تخلی نزول زمینس  
 پیٹھ زمین سپدہ روشن پنہ نس پروردگارہ سپدہ نورہ سیت۔ وَّوَضِعَ الْكِتٰبُ وَجِئَتْ بِالرَّسُوْلِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ  
 وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ یہ یں پر تھہ اگس برو نٹھ کتہہ تھانہ عملن ہنزہ کتابہ یعنی نامہ  
 اعمال۔ یہ یں پیش کر نہ پیغمبر یہ تھند گواہ۔ تو پتہ یہ فیصلہ کر نہ تھن منز بعدل۔ تھن یہ نہ کٹھہ قسمہ ظلم  
 کر نہ وَوَقِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُوَ اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُوْنَ یہ یہ پورہ پورہ دنہ پر تھہ اگس تمیک بدلہ  
 یہ تم کورمت آسہ۔ اللہ تعالیٰ چھہ زیادہ زانہ ون تمہہ سارے کامہ یہ لو کہ کر ان چھہ۔ تمہہ بد لگ بیان  
 چھہ تھہ پاٹھ کہ وَسَيُقَآءُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا اِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتّٰى اِذَا جَآءَ وُهَا فُتِحَتْ اَبْوَابُهَا وَقَالَ  
 لَهُمْ خَزَنَتُهَا اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِ رَبِّكُمْ تالینکہ یلیہ جھنمس نشہ واٹن تمہہ  
 ساتہ یں مورا ونہ تمک دروازہ یہ دیکھ تمہہ ساتہ بطور نصیحت و ملامت جھنمک داروغہ کیاہ تو بہ نش




هَذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴿۴۱﴾  
 قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِيدِينَ فِيهَا فَبئسَ مَثْوًى  
 الْمُتَكَبِّرِينَ ﴿۴۲﴾ وَسَيَقُ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا  
 حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا  
 سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ ﴿۴۳﴾ وَقَالُوا  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَاةَ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ ضَ

واثر اے ناپیغمبر ہم تو ہی منزه اس۔ ہم پرہ من بوزہ ناوہ من توہمہ تہندس پروردگارہ سند آیات  
 وَيَنْذِرُوكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ یہ کرہ من نیم توہمہ سمہ  
 دہمہ پیش بیک۔ تم دین بے شک اے پیغمبر اسہ نیشہ تمو بوزہ ناوہ سند آیات۔ تم اس امہ سمہ ذبک نیم  
 کران۔ لیکن عذابک وعدہ سپد کافرن پیٹھ پورہ سم منز اس یہ داخل چھہ قِيلَ ادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَلِيدِينَ  
 فِيهَا فَبئسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ وندہ پیٹھہ اژو جنم کیودروازو منز۔ اتھہ جہنم منر چھہ توہہ ہمیشہ  
 روزن غرض خدایہ سند یوا حکامو نیشہ حکمر کرن والین ہندہ خاطرہ کاژاہ پیٹھہ جای چھہ یہ جہنم۔ وَسَيَقُ  
 الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا یہ من بکمال عزت پکناوندہ تم لوکھ تم پنہ نس ہروردگار  
 کھوژان اس، جنس کن، سیمک گوڈنیک مرتبہ ایمان گووجماژو جماژو حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ  
 أَبْوَابُهَا تَالِيحہ بلہ تم تھہ نزدیکہ واتن سیمکی دروازہ اسن موراونہ آمت بروٹھے متھنہ تمن پیازن یہہ وَقَالَ  
 لَهُمْ خَزَنَتُهَا یہہ ون تمن جنک باغوان سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ سلام بوین توہہ اے جننیو۔ توہہ  
 روزو عیش و آرامس منز۔ فَادْخُلُوهَا خَلِيدِينَ کس اژوچھہ تمن جشن اندر ہمیشہ روزنہ خاطرہ  
 وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَاةَ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ ضَ نَبَّوْا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ  
 فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمِلِينَ جننی ون جشن منر اژتھہ، حمد بوین اس معبودر حقس ہم اسہ پن وعدہ پوز کور۔ اس بناون

نَتَّبُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَمَلِينَ ﴿۴۴﴾  
 وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ  
 رَبِّهِمْ وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَقِيلَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۴۵﴾

وارث سے مالک جتنے کہ سر زینک۔ جائے زلواؤں سے ہمہ جہت منزه ستین خوش گرہ امہ۔ غرض کیاہر ژمزوریہ سے رت بدلاہ  
 بچھ جنت عمل سے محنت کروئین ہمدہ خاطرہ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ  
 بیہ وچھو کہ جہ یارسول اللہ ملایک حسابہ اجلاسہ کہ وقتہ عرش مجیدس آنداند گھیر کمر تھ، حلقہ کمر تھ روز تھ تسبیح  
 سے حمد پران پنہ نس پروردگارہ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ بِالْحَقِّ بیہ بیہ لوکن منز فیصلہ کرنہ ہز یک سے انصاف و قیل  
 الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ امہ رتہ فیصلہ پتہ سپدن پر تھ طرفہ نعرہ ہای تحسین بلند۔ دننہ سارے خوبہ سے  
 تعریف چھہ سز اوار معبود برحقس نُس عالمین ہند پروردگارہ ہھ۔ یم رت فیصلہ لوکن منز کور سبھن نعرہ  
 ہائے تحسین پیٹھ سپدہ دربار برخواست۔



سُورَةُ الْمُؤْمِنِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 أَحْمَرٌ ۱ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ۲ غَافِرِ الذَّنْبِ  
 وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطُّولِ ۳ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
 إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ۴ مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا  
 يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ ۵ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ  
 الْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ بِرَسُولِهِمْ

أَحْمَرٌ سم زه حروف چھ حروف مقطعاتو آندرہ۔ سمن ہند معنی زانہ اللہ تعالیٰ تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ  
 اللَّهُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ یہ کتاب قرآن مجید چھ نازل کرنے آمت اللہ تعالیٰ سندہ طرفہ کس سیٹھا غالب تہ  
 سیٹھا زانہ ون چھ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي الطُّولِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ  
 سہ گوناہ بخشہ ون توبہ قبول کرہ ون، سخت عذاب کرہ ون کافر ن تہ مثر کن، قدر تہ وول کا نہہ معبوداہ  
 چھنہ تس ورائے کس کن چھہ سارنہ تہ لاکہ واتن مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللَّهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَا  
 يَغْرُرْكَ تَقَلُّبُهُمْ فِي الْبِلَادِ اللہ تعالیٰ سندن آیاتن منز چھنہ بحث تہ اختلاف کران مگر تہ لوکھ  
 سہموتس انکار کور۔ کس مہ تراون توبہ دھو کس تہ شہس منز چھنہ اورہ یورگرن، پھیرن تہ تھورن شہرن  
 منز تجارت کرنہ خاطرہ۔ سمن کونہ چھہ کفرہ سبہ کینہہ نقصان گڑھان۔ توبہ روزو مطمئن کہ کس تہ کس  
 وقتہ بن سم گرفتار کرنہ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَعْدِهِمْ سمن مکہ کین کافر ن  
 بروٹھ تہ چھہ انکار کورمت نوح علیہ السلامہ سند قومن بیہ واریہو جماژون تہن پتہ وَهَمَّتْ كُلُّ أُمَّةٍ  
 بِرَسُولِهِمْ لِيَأْخُذُوهُ وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتَهُمْ بیہ کر پرتھ اتس اندر

لِيَاخُذُوهُ وَجَادِلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ فَأَخَذْتَهُمْ  
فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ ۝ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ  
كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ۝ الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ  
حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ  
لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ  
لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝

ارادہ پڑھ نہ کرہ و نیو لو کو کہ تم گرہ ہن پنے نس پیئبرس گرفتار کر تھ قتل کر نک، بیہ کور تموا پز یو تھو  
سیت تنازہ تھ تم تمہہ ایزہ سیت ہزس باطل گرن۔ ادہ رٹ میہ تم فکیف کان عقاب ادہ پٹھے خبر  
میون سز اکتھ اوس تہندہ تھ۔ تھہ پاٹھ تھن دنیاس منز سزا آودنہ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ عَلَى  
الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ تھہ پاٹھ تھہ سارنے کافرن ہندہ تھہ تھن س پروردگارہ سہند حکم  
ازلی ثابت سہمت کہ تم آسن ضرور آخرتس اندر نارس اندر وادون یعنی تھن سپدہ ہتہ سزاستہ تہ  
آسہ تھن ابدی سزائتھ پاٹھ ہنہ تھن موجودہ وقتہ کین ہند حال اتھ بدل تھن با ایمان تہ مؤحدہ تھہ تم تھہ  
خدائس نشہ تھنی مکر تہ محترم کہ ملائکہ مقررین تھہ مولاء سہندس تسبیح و تقدیس سیت و تظیفہ مقرر  
آمت تھاونہ با ایمان ہندہ خاطرہ دعا و استغفار کرن۔ سہمہ سیت ظاہر تھہ سپدان با ایمان گمہ قسمہ تھہ  
اللہ تعالیٰ اس نشہ محبوب تہ مقرب۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ تھہ فرماوان الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ  
يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ تم ملائکہ عرش مجیدس تلتھ تھہ بیہ تم ملائکہ تم تھہ انداند  
روز تھ تھہ یا طواف کران تھہ تم تھہ تسبیح تہ حمد دپان پنے نس پروردگارہ سہندہ تھہ تس بیٹھ پور پڑھ  
کر تھہ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا بیہ تھہ تم ملائکہ مغفرت منگان تھن لوکن ہندہ خاطرہ سہمو ایمان  
اون۔ دپان تھہ رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ وَقِهِمْ  
عَذَابَ الْجَحِيمِ اے سانہ پروردگارہ پرستھ چیزس تھہ واتھہ چان رحمت تہ چون علم پس کر تھہ

رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ  
 مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ  
 الْحَكِيمُ ۝ وَقِهِمُ السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ  
 فَقَدْ رَحِمْتَهُ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝ إِنَّ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ  
 إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ ۝ قَالُوا رَبَّنَا آمَنَّا

مغفرت تمن لو کن سمو شرک و کفره نشہ توبہ کوربیہ کر کہ پیروی چاہو و تہ ہنزیہ رہتھک تم جہنمہ کہ  
 عذابہ نشہ رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتٍ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدْتَهُمْ ای سانیہ پروردگارہ بیہ و اتناؤ کہ تم ہمیشہ روزنہ  
 کین جتن اندر تمک جتن بند تہیہ تمن وعدہ کورمت چتھتھ۔ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ  
 وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بیہ یم تھند یو مایو ماجو آندرہ بیہ تھنوز ناؤ آندرہ بیہ تھندیو  
 اولاد و آندرہ، تم تھ لایق آسن یعنی با ایمان آسن بے شک ژے تھکھ زبردست جنتہ وول وَقِهِمُ  
 السَّيِّئَاتِ وَمَنْ تَقِ السَّيِّئَاتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ بیہ تھکھ ژہ تم قیامتک دوہ ساروے تکلیفونشہ  
 میدان محشر کیو بیہ تکلیفوتہ پریشانیو نشہ۔ کس اکھاہ ژہ رچھہ ہن تمہ دوہہ کیو تکلیفونشہ بے شک چھہ  
 تس پیٹھ چانی مہربانی وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ کینے گنیہ مغفرت تہ حفاظت عذاب اکبرہ نشہ تہ  
 عذاب اصغرہ نشہ بیہ جنتس واتن ہڈرستگاری تہ کامیابی إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لِمَقْتُ اللَّهِ  
 أَكْبَرُ مِنْ مَقْتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ إِذْ تُدْعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ بے شک سمو لو کو کفر کورتم یلہ جھنمس منزواتھ  
 پنہ کس کفر و شر کس پیٹھ حسرت و افسوس کمر تھ سخت ژگھ اندر پانے پنہ اتھہ چہ اونگہ آسن کھیوان تمن  
 بیہ بدہ و منہ قیامتہ دوہ اے کافر و توبہ جھوہ آہ پنہ نین پانن پیٹھ بیزار۔ اللہ تعالیٰ اوس توہہ پیٹھ تھندہ ون  
 کینس پنہ نین پانن پیٹھ بیزار سپندہ خوتہ زیادہ بیزار۔ تمہ ساتہ یلہ توہہ ایمانس کن نادا لوس یوان دنہ توپتہ آسو

اٰثِنْتَيْنِ وَاٰحِيَّتِنَا اٰثِنْتَيْنِ فَاَعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلَىٰ  
 خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ ۝۱۱ ذٰلِكُمْ بِاَنَّهُۥ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحَدّٰهُ  
 كَفَرْتُمْ وَاِنْ يُشْرِكْ بِهٖ تُوْمِنُوْا فَاَلْحٰكُمُ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ ۝۱۲  
 هُوَ الَّذِيۡ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا  
 وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنۢ يُنِيْبُ ۝۱۳ فَاَدْعُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهٗ  
 الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ الْكٰفِرُوْنَ ۝۱۴ رَفِيْعُ الدَّرَجٰتِ ذُو الْعَرْشِ

توہمہ انکار کران قالوا ربنا ائمتنا ائمتين و احييتنا ائمتين فاعترفنا بذنوبنا فهل الى خروجه من سبيل تم دين اے سارے پروردگارہ، مارتھ تیرے اس دویہ پھرہ اکھ پادہ سپدنہ بروٹھہ بیہ دنیاچہ زندگی پتہ۔ زندہ تہ کمر تھہ تیرے اس دویہ پھرہ اکھ دنیاچ زندگی دوتم آخرتج زندگی۔ سمہ گنیہ ژور حالو۔ سمو آندرہ اس اس انکار کران اگسی حالس سہ گوومرنہ پتہ بیہ زندہ سپدنس۔ پس جھہ اس اقرار کران پنہ نیں گو نہیں۔ وون چھانکینہہ وقھاہ سمہ جہنمہ منزہ نیسرتج۔ دنیاچ اس اندرواچتھہ گرہ ہو اس سمں سارنے گو نہیں ہند تدارک جواب پیکھ ذنہ کہ ہر گزنہ۔ تہندہ خاطر جھہ نیسرتج کہنہ صور تھہ۔

تہندہ خاطرہ جھہ ہمیشہ تیرے روزنک حکم جاری ائمت کرنے ذالکُم بِاَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللّٰهُ وَحَدّٰهُ كَفَرْتُمْ وَاِنْ يُشْرِكْ بِهٖ تُوْمِنُوْا فَاَلْحٰكُمُ اللّٰهُ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ یہ سزا جھہ توہہ امی موکھ دنیاچ منزیلہ کنہ سے خدا نیس نادوس یوان دنہ توہہ اسوہ تھہ انکار کران ہر گائس شریک ٹھہراونہ اس یوان تھہ اسوہ کران تھہ ہنڈ تہ تسلیم۔ اڑ جھہ اس خدلیہ سنز حکومتھہ نیس تھودتہ بوڑ جھہ تس پیٹھکن جھہ کاہنہ تہ نیس تھندس کھمس پھراوہ ہا۔ هُوَ الَّذِيۡ يُرِيْكُمْ اٰيٰتِهٖ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ السَّمَآءِ رِزْقًا وَمَا يَتَذَكَّرُ اِلَّا مَنۢ يُنِيْبُ سہ گووسی نیس توہہ ہاون جھہ پنہ قدر تک نشانہ بیہ جھہ سوزان آسانکہ طرفہ تہندہ خاطرہ رزق۔ سوزن تہ جھہ تہندہ قدرتہ کیونشاؤ آندرہ اکھ نشانہ۔ یم نشانہ وجھہ سیت ریلہ نہ نصیحت مگر سنی نیس خدا نیس کن رجوع کرنگ ارادہ آسہ تھواون۔ وون یلہ توحیدس پیٹھہ دلیل قائم جھہ فَاَدْعُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهٗ الدِّيْنَ وَلَوْ كَرِهَ

يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ  
يَوْمَ التَّلَاقِ ۝۱۵ يَوْمَهُمْ بَارِزُونَ ۚ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ  
مِنْهُمْ شَيْءٌ ۚ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ ۖ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝۱۶  
الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۖ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ  
سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝۱۷ وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَرْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى  
الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ ۚ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ

الْكَافِرُونَ اے لوگو! تم کو فرم دیا کہ تم لوگوں کو توہم معبود برحق، تمہی یا اثر بندہ کی مخصوص زانتھ  
اگرچہ کھڑے تن سے ناگوار گذر تن ٹھکن سے کافران رفیع الدرجات ذو العرش یلقى الروح من امرہ  
عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ سہ چھ تھو درجہ اول۔ باایمان ہند درجہ چھ بند  
کرہون۔ عرش مجیدک مالک چھ سہ۔ سہ چھ سوزان وحی پندرہ حکمہ سیت۔ پندرہ نوبتہ و اندرہ بس پیٹھ  
سہ بڑھان چھ، بٹھ سہ بندہ خاص لوکن بیم کرہ قیامتہ ڈبک۔ سیمہ دوہہ ساری جمع سپدن یومہم  
بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ بیمہ دوہہ تم ساری لوکھ قبر و منزہ نیرن نیر، توپتہ سپدن  
جمع خدا بس بروٹھ کتھ روزہ نہ نیرن کانہہ کتھ اللہ تعالیٰ اس نشہ نہ ٹھند کانہہ چیزاہ۔ اللہ تعالیٰ فرماوہ  
لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ از کھنزا سا حکومتھ چھ۔ کانہہ تہ بیمہ نہ جواب دتھ۔ پائے فرماوہ اللہ تعالیٰ لِلَّهِ  
الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ از چھ حکومتھ کسی خدا یہ سز۔ بس قہر و اول سے غلبہ اول چھ الْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ  
بِمَا كَسَبَتْ لَا ظُلْمَ الْيَوْمَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ از یہہ پریتھ اکس بدلہ دنہ تمہہ ساریوہ تم کو رمت  
آسہ دنیاس اندر۔ از یہہ نہ کانہہ نسبت نمہ قسمہ ظلم کرنہ۔ بیشک اللہ تعالیٰ چھ جلد حساب ہوہون۔  
چھ پاٹھ سارنے پیغمبرن او حکم کرنہ کہ قیامتہ ڈبک کمر لوکن بیم تھہ پاٹھ چھ توہہ تہ حکم کرنہ  
یوان وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْأَرْفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ ٹھہ تہ کمر و حض بیم لوکن یار رسول  
اللہ کہ نزدیک یوہوہ مصیبتہ کہ ڈبک یلہ وانجہ آسن لوکن واثر مرہ ہر س پیٹھ۔ تہ آسٹھ غمہ سیت پد

يُطَاعُ ۱۸) يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ ۱۹) وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۲۰) أَوْلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ۲۱) ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ

مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَبِيبٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ تمہ دہمہ آسہ مشرکن تہ کافر ان کا نہہ ولی دوستانہ  
کا نہہ سفارش گرہ وناہ نمنز سفارش مانہ یہہ ہا یعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور اللہ تعالیٰ  
چہہ زانان اچھن ہمدس خیائس یہہ تم ن سارنہ کنھن تم ن دل کھٹھتھ تھوان چہہ۔ یہہ کنھ سکن منز  
پوشیدہ آسان چہہ تم ن پٹھ نہ کا نہہ واقف ہدان چہہ واللہ یقضی بالحق اللہ تعالیٰ سند علم چہہ  
کامل۔ سہ کرہ پوز فاصلہ تمہ دہمہ والذین یدعون من دونه لا یقضون بشیء ان اللہ ہو السميع  
البصیر یہہ تم ن باطل معبودن یم لو کہ خدایس ورائے آلودوان چہہ تم ن تم ن نہ کمنہ قسمہ فاصلہ کمر تھ  
کیازہ بیشک اللہ تعالیٰ اے چہہ سہ سوزی وچہہ ون۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان  
عاقبة الذین کانوا من قبلہم کیاہ تم لو کہ چھنا پھیر مت شام ویمنہ کس ملکس اندر تالینکہ وچہہ ہن  
تم کیاہ چہہ ہمد مت انجام تم ن نافرمان لو کن ہمد یم تم ن برو تھ آس کانوا ہم اشد منہم قوۃ  
واثارا فی الارض فآخذہم اللہ بذنوبہم تم آس تمہدہ خوتہ زیادہ قوتہ کن یہہ تمو تراویتھ کن  
ز میس اندر جہ جہ عمارث۔ تو پتہ رٹ تم اللہ تعالیٰ ان کمر ن گرفتار عذاب تمہد یو گونہوسبہہ وما کان  
لہم من اللہ من واق تو پتہ تہ اوس نہ تم ن کا نہہ بچاؤن وولاہ خدایہ سندہ عذابہ نسیہہ ذلك بانہم



فَكَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آلِهَةً مَعَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۲۲﴾  
 أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿۲۳﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَ  
 هَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَّابٌ ﴿۲۴﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ  
 بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ  
 وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ ﴿۲۵﴾  
 وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي  
 أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ

كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آلِهَةً مَعَ اللَّهِ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ یہ عذاب سید تم  
 بیٹھ سمہ موکہ نازل کہ تم نغمہ آس واتان جہند پیغمبر نہ دلیلہ ہتھ۔ تو پتہ آس تم انکار کران۔ کس کس  
 تم گرفتار اللہ تعالیٰ ان عذابس۔ بیشک نہ ہتھ سینہا قوتہ دول سخت عذاب کرہ ون وَقَدْ أَرْسَلْنَا  
 مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ہنز پاٹھ بیہ سوز اسہ موسیٰ علیہ السلام ہن آیات تہ نغمہ دلیلہ ہتھ  
 إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سِحْرٌ كَذَّابٌ فرعونس ہمانس تہ قارونس کن دوپ تمو  
 یہ ہتھ جادوگر تہ ایزور فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ  
 وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ تو پتہ یلہ آو موسیٰ علیہ السلام عام لوکن نغمہ سانہ طرفہ پوزدن ہتھ تمو  
 منزہ اون ایمان بعضے لوکو۔ تم کافر اس تمو دوپ پانہ وان بطور مشورہ کہ ماریو کہ تم لوکن ہندی  
 لوکت تمو ایمان اون حضرت موسیٰ آس سیت۔ ہتھ تم لوکن ہند قوت زیادہ سپدہ ورنہ ہتھ اندیشہ  
 سلطتمہ زوالک۔ کورہ ہنز تھاویو کہ زندے کیازہ تمہہ بن خدقس تہ کامہ کوچہ بکار۔ یہ سوچ تمو غلبہ  
 موسویہ بندشہ ہند تدبیر وَمَا كَيْدُ الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ کافر ن ہند تدبیر چھنہ مگر بالکل بے اثر  
 وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَىٰ وَلْيَدْعُ رَبَّهُ بیہ دوپ فرعون میہ تراوہ۔ بہ مارن موسیٰ۔  
 غالباً آسہ ہن اہل دربار تس توہ حرکت کر نہ نغمہ پتھ رٹان۔ گوہن نہ کمرن فریاد پنہ نس خدایس بہ  
 وچھہ نہ ہتھ پاٹھ بچاوہ نس إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ

أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ  
 الْفُسَادَ ﴿۲۶﴾ وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ  
 مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ ﴿۲۷﴾ وَقَالَ رَجُلٌ  
 مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا  
 أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ  
 وَإِنَّ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ وَإِنَّ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ  
 بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ

میہ چھ خطرہ گزشتہاں کہ سہ بدلاوہ دین تمہد۔ یہہ ما پھیلاوہ ملکس منز تاہی۔ سمہ سیت سان سلطنت کرہ  
 ختم وَقَالَ مُوسَىٰ إِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ موسیٰ  
 علیہ السلامن دوپ پنہ نس قومس توہم مہ ہر وکینہ بہ چھسنہ کھوژان فرعونہ سندس خوف دس۔  
 میہ چھ پناہ ہیوت مت پنہ نس تہ تمہدس خدلیہ سندہ سیت پریتھ مغرور شخصہ سندہ شرہ نشہ نس نہ پڑھ  
 چھ حسابچہ دُجَّ وَقَالَ رَجُلٌ مُّؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ  
 اللَّهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ تو پتہ وون اک با ایمان مردن نس اتھ مشورچہ مجلسہ  
 منز اوس فرعونہ سندہ خاندانہ منز، نس پن ایمان کھٹتھ تھاوان اوس اے لو کو کیاہ تہہ چھوہ نہ اکھ شخصہ  
 محض سمہ تمھ خاطرہ ماران کہ سہ چھہ دپان میون معبود چھہ اللہ تعالیٰ حالانکہ سہ چھہ توہم نشہ نہہ دلیلہ  
 پیش کران پنہ نس ہروردگارہ سندہ طرفہ وَإِنَّ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبُهُ اگر سہ بالفرض اہڑوان  
 آسہ تس چھہ تمیک دوبال پانس وَإِنَّ يَكُ صَادِقًا يُصِيبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ ہر گاہ سہ پزوریور  
 آسہ تلہ ولتہ توہم ضرور تمہہ منزہ کینہہ سمیک سہ توہم و عیدہ چھہ کران إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ  
 مُسْرِفٌ كَذَّابٌ اللہ تعالیٰ چھہہ و تھ ہوان نس شخص نس حدہ ڈلہ ون تہ سخت اہڑوریور آسہ يَقَوْمُ لَكُمْ



يَوْمَ تُولَوْنَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضِلِلِ  
اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۝۳۳ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ  
بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ ۝ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قَلْبُكُمْ  
لَنْ تَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ  
مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ ۝۳۴ ۝ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ  
أَتَاهُمْ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ يَطْبَعُ

عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ ای میانہ قومہ بہ چھس کھوژان تہنہہ خاطرہ تہہ دوہس سچہ منز واریاہ آلوپین دنہ۔  
گوڈینگ نداگو پو غس منز بیہ پھوکھ دنہ سمہ آوازہ سیت ساری مردہ زندہ گڑھن۔ بیہ بیہ پریتھہ آگس  
شخص پنہ ماجہ سیت نسبت کمر تہہ ندا کرنہ یَوْمَ تُولَوْنَ مُدْبِرِينَ سمہ دوہہ تہہ ژلان آہو تہہ  
پھر تہہ حسابہ کہ موقعہ نغمہ دوڑخس کن۔ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ تمہ ساتہ آسہ نہ کانہہ تہ توہہ  
خدا لیہ سندرہ عذابہ نغمہ بجاوہ ون۔ یہ مضمون اوس سیٹھاہ غایت درجہ ہدایتس مقضیٰ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ  
فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ مگر یس خداوتہہ راورہ آس چھنہ کانہہ تہ وتہہ ہادہ ون وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ  
مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ تھنہ بیہ آوتوہہ کن موسیٰ علیہ السلامس برو تہہ  
یوسف علیہ السلام نبرہ دلیلہ ہیٹھ۔ کس رودوہ توہہ ہمیشہ شک کران تہہ منز بیہ سہ توہہ کن ہیٹھ آمت  
اوس خدا لیہ سندرہ پیغام حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قَلْبُكُمْ لَنْ تَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا تالیجہہ یلہ تم گئے سمہ عالمہ  
تہہ لکم وہ ونہ پائے ون سوزنہ اللہ تعالیٰ یوسف علیہ السلامس پتہ کانہہ بیغمبرس كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ  
مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ سچہ پاٹھ چھہ اللہ تعالیٰ وتہہ راوران تہ غلطی منز تھاوان تمہن کوکن ہم حدہ  
چھہ ژلان انکار کرنس اندر بیہ تم شک چھہ کران ۝ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَانٍ أَتَاهُمْ  
تم گئے تمہ بحث تہ قضیہ چھہ لاگان اللہ تعالیٰ سندین آیاتن اندر کئی تہدہہ دلیلہ ورائے یوسہ تمہن  
نغمہ واژمڑ آسہ ہا۔ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ تعالیٰ آس چھہ سیٹھاہ نفرت امہ کج

اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُّتَكِدِّرٍ جَبَّارٌ ﴿۳۵﴾ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا مَعْزُومُ ابْنُ  
 لِي صِرَاحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ﴿۳۶﴾ ۞ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ  
 إِلَىٰ آلِ الْهَمُوسَىٰ وَإِنِّي لِأَكْتُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ  
 عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا كِيدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ ﴿۳۷﴾  
 وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَوْمَ اتَّبَعُونَ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ ﴿۳۸﴾  
 يُقَوْمُ إِنَّمَا هِيَ هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ

بخش ہنز۔ با ایمان نے تہہ پہنچ کر فرحت گنڈک یطبع اللہ علیٰ کل قلب متکدیر جبار۔ تہہ پاٹھ اللہ  
 تعالیٰ ان تہمدین وکن پیٹھ موہر کر مرٹھہ پیٹھ پاٹھ تہہ اللہ تعالیٰ موہر کر ان پر تہہ متکدیر تہہ سرکٹھ  
 سندس دس پیٹھ۔ یہ اوس تقریر تہہ با ایمان مردہ سندس پن ایمان کھیت تھوان اوس۔ امہ تقریرہ  
 پتہ کور تم پن پان ظاہر۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا مَعْزُومُ ابْنُ لِي صِرَاحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ فرعون یلہ یہ  
 لاجواب تقریر یوز تمس با ایمانس میجوکن نہ کینہہ ونٹھ پنہ نس سابقہ جہالتس پیٹھ قائم روز تھ لگ پنہ  
 خیالہ دلیل قائم کرنہ خاطر ہانس کہ اے ہان میانہ خاطرہ بناوڑہ اکھ تھود مکانا دیوہ بہ تھہ پیٹھ کھٹھ  
 واتہ آسانہ جن وتن پیٹھ۔ ۞ أَسْبَابَ السَّمَوَاتِ فَأَطَّلِعَ إِلَىٰ آلِ الْهَمُوسَىٰ وَإِنِّي لِأَكْتُنُّهُ كَاذِبًا یعنی آسان  
 کھنہ جن وتن پیٹھ توپتہ وچھہ بہ موسیٰ علیہ السلامہ سندس خدا نس کن۔ بہ چھس زانان سہ چھویہ ونہ  
 نس اندر اپز پور۔ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ تہہ پاٹھ آوزینت ونہ فرعونہ  
 سندہ خاطرہ تمسزن یکچہ کاٹین۔ بیہ آوسہ تہہ رٹھہ سیزہ وتہ نشہ۔ تم کر یہ موسیٰ علیہ السلامس مقابلہ  
 داریاہ بڈ بتدیر وَمَا كِيدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ مگر فرعونہ سند پر تہہ تدبیراہ گود ضایع تہ بے کار۔ کٹھ  
 تدبیرس منز پند نہ سہ کامیاب وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَوْمَ اتَّبَعُونَ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ تم با ایمان  
 شخصن یلہ وچھہ کہ فرعونس پھورنہ کانہہ معقول جواباہ تم کور یہ۔ تقریر۔ تم دوپ ای میانہ قومہ تہہ میجو  
 میانہ وتہ۔ تہہ کمر و میان پیردی۔ بہ ہاودوہ توہہ رڈو تھہ۔ یعنی سبیل الرشاد تہہ میانہ وتھ فرعونہ سنز

الْقَرَارِ ۳۹) مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ  
 عَمِلَ صَالِحًا مِمَّنْ ذَكَرَ وَأُنْتِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ  
 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْمَوْنَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ۴۰  
 وَيَقُومُ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى التَّجْوَةِ وَتَدْعُونِنِي إِلَى النَّارِ ۴۱  
 تَدْعُونِنِي لِكُفْرٍ بِاللَّهِ وَأَشْرِكٍ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ  
 وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ ۴۲ لِأَجْرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونِنِي  
 إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ وَأَنْ مَرَدَّنَا

و تھ و جھنہ۔ تم سدا دعوہ جھہ اہز یقومو اٹھا لہذا العیوۃ الدنیا متاعاً و ان الآخرة ہی دار القرار اے  
 میانہ قومہ یہ دنیا ج زندگی جھنہ مگر کیوں دو دن فایده تلخ اصل روزہ نک گرہ گوو آخر تک گرہ۔ مَن  
 عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِمَّنْ ذَكَرَ وَأُنْتِى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ  
 يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْمَوْنَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ ایم اکھ بیچھ کو م کمر تس بیہ نہ تمیک سزا نہ مگر  
 تھہ برابر بس اکھاہ رث عمل گرہ ہر دو یا زنا و اندرہ با ایمان آتھہ تے لوکھ اثن جنس اندر۔ تہہ بیچھ برزق  
 عطا کرنہ حسابہ روستے وَيَقُومُ مَالِي أَدْعُوكُمْ إِلَى التَّجْوَةِ وَتَدْعُونِنِي إِلَى النَّارِ ای میانہ قومہ یہ کجھہ  
 کتھاہ جھہ کہ بہ جھسوہ توہہ نادوان نجائس کن جہہ جھوہ میہ نادوان نارس کن تَدْعُونِنِي لِكُفْرٍ بِاللَّهِ  
 وَأَشْرِكٍ بِهِ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ۔ جہہ جھوہ میہ نادوان معبود  
 بر حقس انکار کرنس تہ شریک ٹھہراونس کن تہج نہ میہ نشہ کاہنہ خبراہ جھہ، دلایلاہ جھہ۔ بہ جھس توہہ  
 نادوان تس معبود بر حقس کن بس سیٹھاہ جھنہار جھہ لِأَجْرَمَ أَنَّمَا تَدْعُونِنِي إِلَيْهِ لَيْسَ لَهُ دَعْوَةٌ فِي  
 الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ یہ کتھہ جھہ ظاہر کہ بس پر ستش کرنس کن جہہ میہ نادوان جھوہ سہ جھنہ

إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ ﴿۳۳﴾ فَسْتَذَكُرُونَ  
 مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأَفِوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ  
 بِالْعِبَادِ ﴿۳۴﴾ فَوَقَّعَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ  
 بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ ﴿۳۵﴾ النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا  
 غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ  
 فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ ﴿۳۶﴾ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ

قابل نہ دُنیا سے اندر کئی حاجت و زہ نادرس نہ آخرتس اندر دفع عذابہ کہ وقتہ کیا زہ نادرنج صلاحیت  
 چھہ تش نیس قدرت و علم آسہ۔ ہم دوشوے چیز چھہ غیر اللہس نشہ مفقودہ وَأَنَّ مَرَدًّا إِلَى اللَّهِ وَأَنَّ  
 الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ یہ چھہ یقینی کتھ کہ آسہ سارنے چھہ وائس رجوع کران اللہ تعالیٰ اس  
 گن۔ یہ تہ چھہ یقینی کتھ کہ حدہ نشہ ذلہ ون یعنی غیر اللہس عبادت گرہ ون چھہ نارس اندروانہ ون  
 فَسْتَذَكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ میان کتھ چھہ توبہ بہان بیوہ توبہ ژیتس سوکتھ۔ یوسہ بوونان چھوس مگر  
 بروٹھ بہن۔ وَأَفِوضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ بہ چھس پن معاملہ ہنر لوان  
 اللہ تعالیٰ اس بے شک اللہ تعالیٰ چھہ پانہ وچھان پنہ نین ہند حال فَوَقَّعَهُ اللَّهُ سَيِّئَاتٍ مَا مَكَرُوا  
 وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ کس روچھہ سہ بالیمان بندہ اللہ تعالیٰ ان تھند یومضر تدیر و  
 نشہ۔ پوت پھیر تھہ آدولہ عذاب فرعونہ سندین لو تین پو تین چنانچہ فرعون تہ تھند قوم پھوٹ  
 دریائے قلمس اندر۔ موسیٰ علیہ السلام تہ تھند یو تا یو لوب نجات۔ آل فرعونہ منزہ ہم بالیمان اس  
 تمویہ لوب موسیٰ علیہ السلام سیت غرق سپندہ نشہ نجات النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا  
 عالم ہرز خس منز چھہ تم صُحُحس تہ شامس نارس بروٹھ کتھ آئندہ یوان تھن چھہ ونہ یوان کہ قیامتگ دوہ کیاہ  
 بیو تھہ تھ نارس منز داخل کرنہ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ  
 قیامت قاسم سپدہ تمہہ دوہنہ بیہ حکم کرنہ واتہ ناویو کہ فرعون تہ تھند قوم سخت عذابس اندر وَإِذْ

فَيَقُولُ الضُّعْفُو الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ  
تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُعْتَنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ ﴿۳۷﴾  
قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ  
بَيْنَ الْعِبَادِ ﴿۳۸﴾ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ  
ادْعُوا رَبَّكُمْ يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ ﴿۳۹﴾  
قَالُوا أَوْلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ رُسُلُكُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا بَلَىٰ  
قَالُوا فَاذْعُوا وَمَا دَعَا الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ ﴿۴۰﴾

يَتَحَايَجُونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعْفُو الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ  
مُعْتَنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ سہ وقت تہ جہہ قابل ذکر علیہ کافر نارِ جہنمیں اندر پانہ وان ہرہ ہر  
گرن تو پتہ ونن کمزور لوکھ تمن لوکن تم مغرور تہ سرکش آس اس تو ہی تابع۔ کیاہ جہہ ہیکوہ نازک  
کا نہہ جہہ آسہ نشہ دور کمر تہہ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ  
مغرور تہ سرکش لوکھ ونہ کھہ آس ساری جہہ نارہ سے منز (آس ہر گاہ تو بہہ کینہہ کمر تہہ ہیچہ ہو گوڈہ کرہ  
ہو آس پانہ سے) بیشک اللہ تعالیٰ ان کو رفاصلہ بدن منز۔ وون ہیچہ نہ ہیچہ فاصلس منز بدل سپد تہہ۔  
تہہ فاصلس منز آس ساری نار ی قرار ونہہ وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ ادْعُوا رَبَّكُمْ  
يُخَفِّفْ عَنَّا يَوْمًا مِّنَ الْعَذَابِ حمہ پتہ ونن تم ساری لوکھ تم جہنمیں منز دزان آسن جہنمہ کین  
داروغن، جہہ معنو سانہ خاطرہ خدا بس سہ کرہ ہاکنہ وہہ عذابس منز سہل قَالُوا أَوْلَمْ تَكُنْ تَأْتِيكُمْ  
رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ تم دپکھہ کیاہ تو بہہ نش آس نایوان پیغمبر تہند نہہ دلیلہ ہیتہ جہنمہ کہ عذاب نشہ ہیچ  
کا نہہ طریقہ تہ صور تہہ ہیتہ قَالُوا بَلَىٰ تم دپکھہ آہہ یوان آس مگر آس آس نہہ تہند مانان قَالُوا  
فَاذْعُوا وَمَا دَعَا الْكٰفِرِينَ إِلَّا فِي ضَلٰلٍ تم دپکھہ تورہ جہہ معنو پانے آسہ چہہ کافر ن سفارش



إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
 وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴿۵۱﴾ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ  
 مَعْدِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ ﴿۵۲﴾ وَلَقَدْ  
 آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ ﴿۵۳﴾  
 هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ ﴿۵۴﴾ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ  
 اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ

کرہ نچ ممانعت۔ مگر تھہ مگنسن تہ کانہہ نتیجاء نیر یونہ کیا زہہ کافر ن ہند مگن جھنہ مگر بیکار تہ بے اعتبار۔  
 اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ اِس جھہ یاری تہ  
 مدد کران پنہ نین پیغمبر ن بیہ با ایمان دنیا چہ زندگی اندر بیہ سمہہ دوہہ گواہ یعنی تم ملائیک، تم نامہ  
 اعمال لیکھان اسن گواہی خاطرہ تھو دوو تھن۔ تم دن گواہی پیغمبر ہندہ تبلیغ بیہ کافر ن ہندہ انکار چ  
 يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْدِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ سمہہ دوہہ نہ کانہہ  
 فایدہ دیہ ظالم ن یعنی مضر کن تہ کافر ن عذرتہ بہانہ پیش کرنہ تھندہ خاطرہ جھہ لعنت (یعنی خدایہ سندہ  
 رحمتہ لغہ دوری) بیہ جھہ تھندہ روزنہ خاطرہ بچھہ مکان وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي  
 إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى وَذِكْرَىٰ لِأُولِي الْأَلْبَابِ تھیق توبہہ بروئھہ کورائہ عطا موسیٰ کلیم  
 الھس بوڈ ہدایت یعنی تورات بیہ کمر بنی اسرائیل اُسہ وارث کتابہ ہندی یعنی توراتک اُس تورات ہدایت و  
 نصیحت جھہ عقلہ والین تہ گائلین ہندہ خاطرہ۔ بے عقل سم اس تمن ووت نہ تمہہ کتابہ ہند کانہہ فایدہ۔ جہہ تہ  
 چھوہ موسیٰ علیہ السلامہ سند پاٹھہ صاحب رسالت و وحی۔ تھندین اقعین اندر ایم گائل تہ عاقل جھہ تم تہ  
 کرن تمہہ کتابہ ہنز یوسہ توبہہ عطا کرنہ آیہ خدمت تہ اشاعت۔ بے عقل سم جھہ تم کرن اتھہ کتابہ انکار  
 فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ مگر جہہ  
 کمر و تھہ پیٹھ صبر یار سول اللہ بے شک اللہ تعالیٰ سُنو وعدہ جھہ پوز۔ بیہ مگن و مغفرت پنہ نین گونہن ہندہ خاطرہ

بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ ۝۵۵ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ  
 اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطَنٍ أَتَاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ  
 مَّا هُمْ بِبَالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ  
 الْبَصِيرُ ۝۵۶ لَخَلَقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ  
 النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝۵۷ وَمَا  
 يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَالَّذِينَ آمَنُوا

ہیہ روز و ٹوہہ تھے کلمہ سیت مشغول سیمہ سیت نہ غمیں کن التفاتھے سپان آسہ۔ سہ گوو کہ تہہ آہو تسبیح تہ  
 حمد پنہ نس پروردگارہ سندہ خاطرہ پران شامس تہ صبحس تہ اِنَّ الَّذِیْنَ یُجَادِلُوْنَ فِیْ آیَاتِ اللّٰهِ بِغَیْرِ  
 سُلْطٰنِ اَتٰهُمَّ اِنْ فِیْ صُدُوْرِهِمْ اِلَّا کِبْرٌ مَّا هُمْ بِبَالِغِیْهِ بے شک سم لو کہ بحث تہ قضیہ چھہ  
 کران خدایہ سندین آیاتن اندر کندہ دلیلہ ورائے یوسہ تمن نشہ و اثر مثر آسہ ہا، تہمدین دلن اندر چھہ کینہہ  
 تہ بڈی یعنی سبخر و غرورہ ورائے۔ تمن سیمہ بڈی ہند خیال چھہ تھہ ممکن نہ و آنتھ یعنی سوہ سپنہ تمن  
 حاصلے زانہہ بلکہ گزہن تم خوار و ذلیل فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ اِنَّهُ هُوَ السَّمِیْعُ الْبَصِیْرُ بلکہ منگ توجہہ  
 اللہ تعالیٰ آس پناہ تمن لوکن ہندہ شرہ نشہ۔ بے شک اللہ تعالیٰ چھہ سوڑے بوزہ ون، سوڑے وچھہ  
 ون۔ سم لو کہ انسان ہندس دوبارہ پادہ سپنہس انکار کران چھہ تم چھہ سیٹھاہ بے عقل، کیا زہ لَخَلْقُ  
 السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ اَکْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَکِنَّ اَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُوْنَ آسمان تہ زمین  
 ہند پادہ گرن چھہ زیادہ کام انسان دوبارہ کرنہ خو تہ لوکن ہنزہ نظرہ اندر یلہ بڈ کام کرنس پیٹھ تس پور  
 قدرت چھہ لوکت کام کرن کیاہ عجایب چھہ تس نش۔ مگر باوجود آل چھہ اکثر لوکن یہ تھہ فخرہ تران۔  
 وَمَا یَسْتَوِی الْاَعْمٰی وَالْبَصِیْرُ وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَلَا الْمِیْسِیْ قَلِیْلًا  
 مَا تَتَذٰکُرُوْنَ ہیہ تھہ پاٹھ برابر چھنہ اون تہ گاشدار تھہ پاٹھ چھنہ برابر تم لو کہہ سموا ایمان آنتھ رتھہ  
 کلمہ گزہ ہیہ سم ہند کار آسن۔ سیٹھاہ گم چھوہ تھہ فخر کران ورنہ روزہ ہیونہ تھہ اعلمی تہ بدکار اِنَّ السّٰعٰةَ

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الِيسَىٰ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ﴿۵۸﴾  
 إِنَّ السَّاعَةَ لَأْتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ  
 لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۵۹﴾ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ  
 إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ  
 دُخْرَيْنَ ۗ ﴿۶۰﴾ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لَتَسْكُنُوا فِيهِ  
 وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَ  
 لَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ﴿۶۱﴾ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ

الْأَيَّةِ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ قیامت بھتھ ضرور یوہون تمہہ کس میں منز  
 چھتھہ کانہہ شکھاہ۔ لیکن واریاہ لوکھ چھنہ مانان نہ پڑھہ کران کیاہہ تم چھنہ تمہہ جن دلیمان اندر تہہ نہ غور  
 کران۔ وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ بیہ چھہ فرماون تہہہ پروردگارے لوکو منگو توبہ سے۔  
 بہ گرہ تہہہہ پرچھہ جایز درخواستہ قبول إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ  
 دُخْرَيْنَ میہ ورائے مہ منگوین حاجت کانہہ تہہ۔ بیشک تم لوکھ منجبر چھہ کران میانہ عبادتہ نشہ یعنی  
 میہ منجھہ نشہ میہ ورائے بن چھہ منگان، میہ چھہ بن حاجت منگان، تم اثران جہنم منر تھہ خوار گدھتھہ  
 اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الَّيْلَ لَتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا معبود برحق گووسی یم راتھہ کر تہہہہ  
 فایدہ خاطرہ تھہہہ تھہہہ منز آرام کرو، بیہ کرن دوہو چھہ خاطرہ روشن تھہہہ تکلیفہ ورائے تھہہہ معاش  
 حاصل کرو إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ بے شک  
 اللہ تعالیٰ چھہ سیٹھاہ فضل کرہون لوکن پیٹھہ۔ لیکن واریاہ لوکھ چھہہ تمن نعمون ہنز شکر گذاری کران  
 بلکہ چھہ تھہہہ بدل شرک کران۔ ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَىٰ تَوْفَكُونُ بیہ چھہ  
 اللہ تعالیٰ تہہہہہ پروردگار سمسد ذکر کر نہ آو۔ تم چیز نہ یم توبہہ پانے چھو کہ ٹھہراوان۔ سئی چھہ پرچھہ

كُلِّ شَيْءٍ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ ﴿۶۲﴾ كَذَلِكَ  
يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴿۶۳﴾ اللَّهُ  
الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَصَوَّرَكُمُ  
فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمْ  
اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿۶۴﴾ هُوَ  
الْحَيُّ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۶۵﴾ قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ

چیز کا پادہ کرہوں کا نہ ہے معبودا چھنہ تس وراے۔ توحید ثابت سپد نہ پتہ کوت چھوہ تہہ مشرک کر تھ  
پوت پھیر ان كَذَلِكَ يُؤْفَكُ الَّذِينَ كَانُوا بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ تھے پائٹھ آس یوان  
و تھ راہہ راونہ تمن یم سائین آیاتن آس انکار کران اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاءَ  
بِنَاءً وَصَوَّرَكُمُ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ معبود برحقے گووسی یم تہنہہ خاطرہ  
کور روزنج تہ قرار کرہ نج جای زمین۔ بیہ کورن آسمان ہیر مہ طرفہ پشاہ ہیو۔ بیہ کرنوہ عطا توہہ صور تھہ  
سوی صورت کمرن رث صور تھہ۔ بیہ کورن توہہ رزق عطا۔ رت رت چیز کھنہ خاطرہ۔ ذَلِكُمْ اللَّهُ  
رَبُّكُمْ یوہے گوونہندہ وردگار فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ بس جھ اللہ تعالیٰ سیٹھہ عالیشان۔  
سے جھہ عالمین ہند رب هُوَ الْحَيُّ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ  
الْعَالَمِينَ سے جھہ ازلی تہ ابدی زندہ روزہ ون کا نہ ہے معبودا چھنہ تس وراے۔ اے لو کو بس معگو تہہ  
ساری تس، خالص اعتقاد کمر تھ، شریک مہ ٹھہراو تس کئی چیز س اندر عبادت تہ بندگی خالص سز لوار انتھ بیہ  
نہ کا نہ۔ ساری حمد و ثناء سارے خوب یہ جھہ تسی معبود برحق سز لوار بس رب العالمین جھہ قُلْ إِنِّي  
نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ نَهہ فرما ویو کھ یا رسول اللہ یمن مشرکین  
کہ میہ آو منع کرنہ بہ کیاہ کرہ پرستش تمن معبودان باطن ہنز یمن تہی

الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ  
 مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦١﴾  
 هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ  
 ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شِيُوخًا  
 وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَلَّى مِنْ قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى وَلَعَلَّكُمْ  
 تَعْقِلُونَ ﴿٦٢﴾ هُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا  
 يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿٦٣﴾ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي

پرستش کران چھوہ معبود برحقس درائے لَمَّا جَاءَنِيَ الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِّ  
 الْعَالَمِينَ یکہ زن میہ نش میانس پروردگارہ سندہ طرفہ واضح دلیل چھہ آشرتہ مہ او حکم کرنہ کہ بہ  
 نومراوہ کلہ عبادتس اندر فقط رب العالمینس بردنھ کنہ ہُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ  
 مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شِيُوخًا سہ پروردگار گودسی یم تمہہ  
 پادہ کمری نوہ گوڈہ میوہ یعنی تمہند جد اعلیٰ آدم علیہ السلام توپتہ تمہند نسل آہہ قطرس توپتہ خونہ دتہ تو  
 پتہ کڈی نوہ تمہہ چھہ سبزہ شگلہ اندر ماجہ ہندہ شکمہ اندرہ۔ توپتہ چھوہ توہمہ زندہ تھاوان تمہہ تمہہ واتوپتہ  
 جوانی ہندس وقس توپتہ چھوہ توہمہ زندہ تھاوان تمہہ تمہی بڈہ سپدو وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَلَّى مِنْ قَبْلُ بیہ چھہ  
 توہی اندرہ کتیبہہ اتھہ جوانی یا بجرہ کس وقس واتنہ بروٹھے مران وَلِتَبْلُغُوا أَجَلًا مُسَمًّى بیہ چھہ سہ  
 توہمہ زندہ تھاوان تمہہ تمہہ واتوپتہ نس مقرر گرنہ آقس وقس تان وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ بیہ سورے کور  
 آسہ تمہہ توہمہ فجرہ ترہ خدایہ سندا توحید بیہ بیہ کہ سزہ تمہہ بیہ سہ پروردگار آسہ بیہ زندہ کمر تمہہ یم آسہ پتو  
 دور و منزی گڈاری ہُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ فَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ سہ گودسی

اٰیٰتِ اللّٰهِ اٰتٰی یُصْرَفُوْنَ ۙ۶۹ الَّذِیْنَ كَذَّبُوْا بِالْكِتٰبِ وَبِیِّنٰتِ  
 اَرْسَلْنَا بِهٖ رُسُلًاۙ فَسَوْفَ یَعْلَمُوْنَ ۙ۷۰ اِذِ الْاَعْمٰلُ فِیۡ  
 اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلٰسِلُ یُسْحَبُوْنَ ۙ۷۱ فِی الْحَبِیْمَةِۙ ثُمَّ فِی  
 النَّارِ یُسْجَرُوْنَ ۙ۷۲ ثُمَّ قِیْلَ لَهُمْ اَیْنَ مَا كُنْتُمْ تُشْرِكُوْنَ ۙ۷۳  
 مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ قَالُوْا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوْا مِنْ  
 قَبْلُ شَیْئًا كَذٰلِكَ یُضِلُّ اللّٰهُ الْكٰفِرِیْنَ ۙ۷۴ ذٰلِكُمْ بِمَا كُنْتُمْ

نہیں زندہ کران تہ ماران ہتھ۔ یلہ کنہ کلمہ ہندہ پورہ کرہ ٹک ارادہ کران ہتھ، سہ ہتھ تھہ چیز س کن  
 فرماوان سہ آئی ہتھ سہ سپان آلم ترالی الذین یجدلون فی آیت اللہ آئی یصرفون نہہ ہتھودہ  
 ناوچھان تھن لوکن ہندس حاس کن یم بحث تہ قصیہ چھہ کران اللہ تعالیٰ سندین آیاتن منزکہ کوکن ہتھہ  
 تم پھر نہ یوان۔ الذین کذبوا بالکتب و بیئات ارسلانا بہ رسلنا سوف یعلمون سمو لو کو او پر ازان  
 یہ کتاب یعنی قرآن مجید، بیہ سم مجزہ سم ہتھہ آسہ سوز ہن پیغمبر، مٹر کین عرب آس نہ کانسہ پیغمبرس  
 مانان۔ تھن سپدہ معلوم بروٹھ پہن یعنی قیامتگ دودہ یوسہ نزدیکہ ہتھہ اذ الاعمال فی اعناقہم  
 والسلسل یسحبون \* فی الحمیمہ تھہ فی النار یسجرون یلہ غل آسن تھنزن گردن منزہہ  
 ہانکھ سمن طوق سیت واٹھ کمر تھہ آسہ سمیک ہیاکھ اند آسہ ملائکن ہندین اتھن اندر۔ سموے ہانکو  
 سیت آسن تم کھکھرہ پکانو نہ یوان جھنچہ رسرہ منز تراونہ خاطرہ توپتہ یین تم نارس اندر زانہ  
 لھم آین ما کنتم تشرکون \* من دون اللہ توپتہ بیہ تھن و نھہ تم معبودان باطل کوت گئے سم  
 توہہ خدایہ سند شریک آسوکھ ٹھہراوان تم کونہ ہتھہ توہہ مدد کرنہ یوان قالوا ضلوا عنابا بل لَمْ نَکُنْ  
 ندعوامن قبل شیئاً تم دپن تم روا سہ۔ بیہ تھہ کنہ نظرہ گرہہاں بلکہ ہتھہ ہنر تھہ تھکے کہ آس نہ  
 کانسہ تہ آزی کہ بروٹھ پر ستش کران۔ یعنی آسہ سپد معلوم سمہ سم آس نہ کہنی کذالک یضل اللہ  
 الکفرین ہتھہ پاٹھ ہتھہ اللہ تعالیٰ کافرن غلطی منز بھساوان ذالک بما کنتم تفرحون فی الارض



هٰذَاكَ الْمُبْطِلُونَ ۝۱۰۰ اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَنْعَامَ  
لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝۱۰۱ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَ  
لِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ  
تُحْمَلُونَ ۝۱۰۲ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ ۝۱۰۳  
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ  
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۖ كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَ

قُصِي بِالْحَقِّ وَخَيْرٌ هٰذَاكَ الْمُبْطِلُونَ      کانہ رسول اوس نہ مقدور کہ سو کیا آئے ہا کا نہہ نفا علی مگر یہ کہ  
اللہ تعالیٰ سندہ اجازت سے تادہ یلہ خدایہ سند حکم عذابس متعلق ولتہ ذنیاس اندریا آخرتس اندر تمہ  
ساتہ سپدہ فیصلہ پڑہ سیت۔ تمہ وقتہ روزن اہل باطل آپزیر خسارس تہ تاوانس اندر اللہ الَّذِي جَعَلَ  
لَكُمْ الْأَنْعَامَ لِتَرْكَبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ اللہ تعالیٰ ای گووسہ یم پادہ کمر تہمدہ خاطرہ چاروائے  
بیتھ تمواندرہ بعضین پیٹھ تہہ سوار سپدہ تمواندرہ بعضین ہندماز کھیدو۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَ لِتَبْلُغُوا  
عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ بیہ چھہ تہمدہ خاطرہ تمن منز واریاہ فایدہ۔ بیہ بیتھ تہہ تمن پیٹھ کھسنتھ  
سوار سپدہ تھ واتو تمن مظلمین یم تہمدین وکن منز آسن وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ بیہ چھوہ تہہ  
اکھ تمن چاروائس پیٹھ بیہ ناون اندر تلنہ یوان تہ سیر کرہ نانہ یوان وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ  
تُنْكِرُونَ اللہ تعالیٰ چھہ توبہ پنہ قدر تک نشانہ ہاوان۔ پنہ نس پروردگارہ سندس کتھ کتھ نشانس بیکو  
تہہ انکار کمر تھ یم لوکھ یم دلائل قائم سپدہ تھ تہ چھہ توحیدہ نشہ انکار کران کیاہ تمن چھنا شرسکہ ووبالچی  
خبر أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کیاہ تم چھنا پھیر  
مت ملکس اندر۔ پس وچھہ من تم کیاہ سپد مت چھہ انجام تمن ممکن ہند یم تمن بروٹھہ آس شرسکہ سبہ  
کَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَأَثَارًا فِي الْأَرْضِ حالانکہ تم بروٹھیم لوکھ آس تہمدہ خوتہ زیادہ  
عزده کن۔ بیہ آس تہمدہ خوتہ زیادہ قوتہ کن، بیہ تمن نشان اندر یم تموز مینس پیٹھ پتھ کن تراوی بجہ بجہ



اِنَّ اَرْضَ الْاَرْضِ فَمَا اَعْتَىٰ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۸۲﴾  
 فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ  
 وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا يَهِيمُونَ ﴿۸۳﴾ فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا  
 قَالُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحَدّٰهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا يَهِيمُوْنَ مُشْرِكِيْنَ ﴿۸۴﴾  
 فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا سُنَّتَ اللّٰهِ  
 الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِيْ عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۸۵﴾

عمارؓ و غیرہ۔ فَمَا اَعْتَىٰ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ پس دُیت نہ تمہن کا نہہ فایدہ تم مال و دولتیں یوسہ  
 تم حاصل کران اَس۔ نہ آکھ سہ مال و دولت بکار عذابہ نیشہ پچہ کس اندر فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم  
 بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوا يَهِيمُونَ پس یلہ تمہن نیشہ وات نہند  
 پیغمبرنہ دلیلہ ہتہ تم اَس تہنگان تہہ علم معاش پیٹہ بہہ مادی ترقیاتہ کس علمس پیٹہ بہہ یمن غلط اعتقادن  
 پیٹہ۔ تم اَس پیغمبرن ہندین علوم ہداتین پیٹہ اَس تھتہ کران فَلَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا قَالُوْا اٰمَنَّا بِاللّٰهِ وَحَدّٰهُ  
 وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا يَهِيمُوْنَ مُشْرِكِيْنَ پس یلہ تمووچھ سون عذاب۔ تموون اَسہ ان ایمان کُنس خدایس تہ  
 اَس چھہ انکار کران تمہن سارئی اپزین معبودن ہم اَس خدایس آسچھہ شریک گزیران کیا زہ سہ اوس  
 ایمان اضراری۔ بندہ چھہ مکلف ایمان اختیار یک فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ اِيْمَانُهُمْ لَمَّا رَاَوْا بَاْسَنَا تیلہ  
 دیہ نہ تمہن ایمان انن کا نہہ فائدہ تیلہ تم سون عذاب وچھن سُنَّتَ اللّٰهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِيْ عِبَادِهِ یہ  
 چھہ اللہ تعالیٰ سُنَد دستورِ قدیم برو تھتہ زمانہ پیٹہ پنہ نین بدن اندر۔ یہ چھہ تمہن معمول مقرر  
 کورمٹ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكٰفِرُوْنَ یلہ نہ نہند ایمان نفع دوہون ثابت سہد، نقصانس منزرد تہہ  
 وقتہ تم کافر تہہ مکربے باشی بنہ تمہن کافرن ہم تو بہہ انکار کران چھہ یار سول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 حَمِّ ① تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ② كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا  
 عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ③ بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ  
 لَا يَسْمَعُونَ ④ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكْتَةِ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي  
 آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّا نَحْمِلُونَ  
 قُلُوبَنَا إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ آتِمَاتِ الْهَكْمِ إِلَهُ وَاحِدٌ

حرف سیم زه حرف چھہ حروفِ مقطعات تو آندرہ۔ تہن ہند معنی زانہ پانہ اللہ تعالیٰ تَنْزِيلٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ یہ کلام چھہ نازل یوان کرنہ تس خدایہ سندہ طرفہ نُس رحمن ورحیم چھہ کِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ یہ کلام چھہ کتابہہ ہمک آیات صاف صاف تہ ویژہ ناوتہ آمت چھہ۔ یہ چھہ قرآن مجیدہ عربی زبوتہ اندر سمجھ دار لوکن ہندہ خاطرہ۔ چھہ تہن آسانی سان فخرہ ترہ اگرچہ مخفف چھہ ساری لوکھ مگر نفع تہ فایدہ چھہ واتان سمجھ دار لوکنے بَشِيرًا وَنَذِيرًا بشارت دودون چھہ یہ قرآن مجید مانن والین بیہ چھہ بیم گرہ وون نہ مانہ ونین۔ لازم اوس تہن صفتن کن نظر کتر تھہ کہ ساری گدہ اتھ مان تہ تسلیم کرن۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ مگر وار یہو لو کو کتر روگردانی۔ کس چھہ تم یہ قرآن مجید بوزان۔ یلہ تہہ تہن یہ قرآن مجید بوزہ ناوان چھوہ۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكْتَةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّا نَحْمِلُونَ تم چھہ دپان سان دل چھہ تھیلن تہ گو ژرین منز بند تمہ نشہ چھہ کن تہہ آسہ ناد چھوہ دووان۔ بیہ چھہ سائین کنن دوگہ تہ زہ سمہ موکھ سائین کنن منز تہنز آوازے چھہ واتان۔ بیہ چھہ آسہ منز تہ توہہ منز ٹھور سمہ سببہ آسہ منزہ کانہہ اکھ آگس سیت ملیتھہ ہیکہ نہ۔ لہذا کتر و تہہ پن کام۔ آس تہ چھہ کران پن کام۔ یہ مہ تھاو تہہ توفی

فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا ۗ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ ۖ الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۗ قُلْ أَيْتَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ إِندَادًا ۗ ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۙ وَجَعَلَ فِيهَا رِيسًا مِّنْ قَبْلِهَا

کہ آس سپد و تهنز و تھوہ نہ نصحتو سیت متاثر قُلْ إِنَّمَا آتَاكُم مِّنكُمْ يَوْمَئِذٍ مِنَ اللَّهِ ذِكْرًا وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا ۗ توبہ فرما دیو کہ یارسول اللہ اے لوگو میرے ہتھ نہ قدرت کہ بہ زبردستی کیا کرناودوہ بہ تہہ توحید قبول۔ کیا زہ بہ تہہ تھس تو ہی ہوا کہ انسانہ تہہ بشرہ مگر اللہ تعالیٰ ان ہتھ میرے امتیازی شانہ عطا کورمت کہ میرے کن ہتھ و حی یو ان سوزنہ۔ سنی و حی لیس عقلمہ کن قابل قبول ہتھ۔ سہ و حی ہتھ ای کہ تہند معبود ہتھ کئے معبود۔ لیس روز تہہ متوجہ عبادتس اندر تہس کن۔ تہس و رای مہ کمر و کانہہ ہنز عبادت۔ از تان کانہہ ہنز عبادت تہس و رای کمر مژ ہتھوہ تہہ معنیوس مغفرت۔ یعنی توحید کمر و قبول شر کہ نہ کمر و توبہ ۗ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ \* الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ سیٹھاہ ہذخرابی ہتھ تمن مشرکن ہندہ حقہ تم نہ مضمون ثبوت نبوت سیدہ وجوب اتباع بوڑتھ ہن روش تراؤن ہتھ ہم ہاچ زکوٰۃ ادا کر نہ۔ ہتھ ہم آخرتس ہتھہ بدستور انکار کر ان ۚ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ تمن بر خلاف ہم لو کہ رسالتہ کس حق آسٹس پڑھ ہتھہ کر ان ہتھ ہم لو کہ ہم ایمان اون ہتھ کہ لیکہ رتھ عملہ ہتھہہ خاطرہ ہتھہ آخرتس اندر سو موزور یوس نہ زانہہ ختم سیدہ موکلہ تہہ موقوف سپدہ قُلْ أَيْتَكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ إِندَادًا تہہ فرما دیو کہ یارسول اللہ تمن لو کن اے لوگو کیا تہہہ ہتھوہ تہس خدایہ سدس تہہ کن آسٹس انکار کر ان ہم ہتھ یوت زمین پادہ کور دون دوہن اندر۔ ہتھہ ہتھوہ تہسی خدایس شریک تھہہ اون ذَٰلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ یوہے ہتھہ ساری عالمک تہہ جہانک رب۔ سنی ہتھہ معبود تہہ۔ وَجَعَلَ فِيهَا رِيسًا مِّنْ قَبْلِهَا وَبَرَكٌ فِيهَا

وَبَرَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءٍ  
 لِلسَّائِلِينَ ⑩ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ  
 لَهَا وَاللَّأَرْضِ انْتِيَاطُوعًا أَوْ كَرْمًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ ⑪  
 فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَنَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا  
 وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِصَابِغٍ مَّحْفُوظًا ⑫ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ  
 الْعَلِيمِ ⑬ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ

وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءٍ لِلسَّائِلِينَ بپہ کمر تھی اللہ تعالیٰ ان پادہ زمینس پیٹھ کو بہن  
 ہندی لنگر۔ پیتھ تھاون اتھ زمینس منز فاندک چیز پیہ کوڑن اتھ پیٹھ روزن والین ہندہ خاطرہ رزقک  
 تجویز۔ پیتھ زمینس الگ الگ قسمگ غذا۔ پیتھ قسمگ غلہ تہ میوہ کوڑن پادہ۔ پیہ سوڑے سپد ژورن  
 دوہن اندر۔ سارنہ مگن والین ہندہ خاطرہ برابر ⑩ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا  
 وَاللَّأَرْضِ انْتِيَاطُوعًا أَوْ كَرْمًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ تو پیتھ سپد اللہ تعالیٰ موجه آسمان پادہ کرہ کس گن۔  
 سہ اوس دوہ ہا اکھ زمین پادہ کرنہ برونتھ۔ کس فر موون آسمانس تہ زمینس تہہ دو شوے ایوسانس کھمس  
 گن۔ کس حکماہ اس فر ماوہ سہ ماہو۔ دون بھتھ توہہ اختیار خوشی سان مان تو یاز بردستی سیت مان تو۔ تمو  
 دوہ شوے دوپ اس چھہ احکام مانہ خاطرہ دو شوے حاضر نہایت خوشی سان فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَنَاتٍ  
 فِي يَوْمَيْنِ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا چنانچہ کس بناون بھتھ کس آسمانس سٹھ آسمان دون دون ہندہ اندر تو پیتھ  
 کرن جاری پیتھ آسمانس منز تہہ کین ملا گن ہندہ خاطرہ ہم آسمانس منز بسہ ون تہ روزہ ون بھتھ پن  
 پن حکم وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِصَابِغٍ مَّحْفُوظًا بپہ ڈیت اسہ زینت آسمان دنیاہس ستاروسیت بپہ کمر اسہ  
 راجھہ شیطان ہندہ گن دنہ نشہ ⑫ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ بپہ بھتھ تجویز بردست واقف الکل خدایہ  
 سڈ کس عبادتس لایق بھتھ۔ یوہے بھتھ کامل الصفت خدایہ کہ تم چیز ہم ناقص الذات تہ بھتھ تہ ناقص  
 الصفت تہ بھتھ۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عاد و ثمود کس اگر پیہ دلیلہ بوز تھ

عَادٍ وَثَمُودَ ۱۳ اِذْ جَاءَتْهُمْ الرُّسُلُ مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ وَمِنْ  
 خَلْفِهِمْ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اللّٰهَ قَالُوْا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَانزَلَ  
 مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِنَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كٰفِرُوْنَ ۱۴ فَاَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى  
 الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مَنَاقِبَةً اَوْ لَمِيْرًا اِنَّ اللّٰهَ  
 الَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَّكَانُوْا بِاٰتِنَا يَجْحَدُوْنَ ۱۵  
 فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ اَيَّامٍ مَّحْسٰتٍ لِّنُنذِرْهُمْ

تہ تم لو کہ توحیدہ نشہ پھیرن ادہ فرما یو کہ تمہ یار رسول اللہ اے لو کہ تمہو توبہ ہم کر ان توجہ  
 تریہ ہند یوسہ تر تھ قوم عادس تہ قوم ثمودس پیٹھ شرک و کفر گرنہ سببہ واقع سہز اذ جاءتہم الرسل من  
 بین ایدیہم ومن خلفہم الا تعبدوا الا اللہ ۱۳ یلہ یوان اس تمن نشہ پیٹھ پتہ بروٹھ بلکہ پر تھ  
 طرفہ یے تھ و نان کہ ہالو کو عبادت مہ کمر و کانہ ہنز معبود بر حقس وراے قَالُوْا لَوْ شَاءَ رَبُّنَا لَانزَلَ  
 مَلٰٓئِكَةً فَاِنَّا بِنَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ كٰفِرُوْنَ تمو کافر و دوٹھ تھ جھوہ یہ تھ غلط و نان کہ اُس سوز اللہ تعالیٰ ان۔  
 اگر سانس ہرورد گارس یہ منظور آسہا تیلہ سوزہ ہائے کانہہ ملکس توبہ پیٹھ کیا زہ و اتہ ہانوت۔ لہذا جھ  
 اُس تھ سارے سے یہ تھ ہتھ سوزنہ آمت جھوہ انکار کران فَاَمَّا عَادُ فَاسْتَكْبَرُوْا فِى الْاَرْضِ  
 بِغَيْرِ الْحَقِّ وَقَالُوْا مَنْ اَشَدُّ مَنَاقِبَةً کس کس قوم عاد اوس تم لگ بکتر تہ غرور کرنہ ملکس منزنا حق۔  
 یہ دیکھ سانہ خوتہ کس جھ زیادہ قوتہ کن۔ سہ گہہ حادثہ جھ تھ نہ اُس مدافعت میو کمر تھ اَوْ لَمِيْرًا اِنَّ  
 اللّٰهَ الَّذِى خَلَقَهُمْ هُوَ اَشَدُّ مِنْهُمْ قُوَّةً کیاہ تمن آوانوزنہ کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہم تم پادہ کمری، سہ جھ  
 سیٹھاہ زیادہ تھندہ خوتہ قوتہ کن۔ کس بیٹھ تمن پیٹھ عذاب واقع کمر تھ و کانوا بایتنا یجحدون مگر  
 باوجود آن اون نہ تموا ایمان بلکہ رود تم سائین آیاتن انکار کران۔ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا صَرْصَرًا فِىْ اَيَّامٍ  
 مَّحْسٰتٍ لِّنُنذِرْهُمْ عَذَابَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا کس تر وویلہ اسہ تمن پیٹھ تیز واوتھن دوہن  
 اندر ہم دوہ بوجہ نزول عذاب الہی تھندہ حقتہ منحوس تہ پھیشل آس تھ اُس تم ژہ ناو کہ خواری ہند

عَذَابِ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ آخِرِي وَهُمْ  
 لَا يُبْصِرُونَ ﴿۱۷﴾ وَأَمَّا سُودُ فَهَدْيُهُمْ فَاسْتَجَبُوا الْعَيْ عَلَى الْهُدَى  
 فَآخَذَتْهُمْ صِعْقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿۱۸﴾ وَ  
 نَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴿۱۹﴾ وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ  
 اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿۲۰﴾ حَتَّىٰ إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ  
 عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۱﴾  
 وَقَالُوا الْجُلُودُ هِيَ لَمْ شَهِدَتْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ

عذاب دنیا چہ زندگی اندر و لعذاب الآخرة آخری و ہم لا یبصرُونَ یہ ہتھ آخرتک عذاب زیادہ رسوا کرہ و ن  
 تو پتہ بیہ نہ تمن ثمنہ وقتہ کنہ قسمہ مدد گر نہ و اما سُودُ فَهَدْيُهُمْ فَاسْتَجَبُوا الْعَيْ عَلَى الْهُدَى فَآخَذَتْهُمْ  
 صِعْقَةُ الْعَذَابِ الْهُونِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وون نُس قوم شمرداوس تمن ہوو اسہ پیغیرن ہندہ ذریعہ  
 سیز و تھ۔ مگر تمو مگر اختیار گمراہی ہدائیس مقابلہ ہس رٹ تم خوار کرہ و نہ عذاچہ خرید۔ بُئیل آو تمن  
 تھہ سیت آس کر کیہ سمہ کر یکہ سیت ہندے جگر پھٹ۔ تمن کاین ہندہ سببہ یمہ تم کران آس  
 وَنَجَّيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اسہ ڈیت نجات تمنہ عذابہ نشہ تمن لوکن سموا ایمان اولن بیہ اس  
 تم شرکہ نشہ ہتھ روزان سانس عذائس کھوژان وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ  
 تمن لوکن پاوونہہ رئیس سہ دوہ سمہ دوہ خدا یہ سند دشمن ملن جمع گر نہ نارِ جہنمَس تراونہ خاطرہ تو پتہ  
 ملن تم آکسی جلیہ ٹھہراونہ تہ پیارہ ناونہ ہتھ ساری سمن۔ سمجھین تراونہ جہنمَس اندر حَتَّىٰ إِذَا مَا  
 جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تا ایچہ بلہ تم جہنمَس نکھ تل واتن  
 گواہی دن تمن پیٹھ کن ہندہ آجھ ہنزہیہ مسلمہ جہنم تمن سار نے کاین ہنزہ سمہ کامہ تم کران آس دنیاعس  
 اندر۔ وَقَالُوا الْجُلُودُ هِيَ لَمْ شَهِدَتْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقْنَا اللَّهَ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ تَوْبَتَ وَن

الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ  
 تُرْجَعُونَ ﴿۲۱﴾ وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ  
 سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ  
 لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ ﴿۲۲﴾ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي  
 ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَيْرِينَ ﴿۲۳﴾ فَإِنْ  
 يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا لَهُمْ مِنَ  
 الْمُعْتَبِينَ ﴿۲۴﴾ وَقِيضْنَا لَهُمْ قُرْنَاءَ فَزَيْنُوا لَهُمْ مَابِينَ

تم پہنہ نس مُسَلَس سے پہنہ نین تائن تو بہہ کیا زہہ و ڈوہہ گواہی اسیہ خلاف۔ اسی تہندی خاطرہ و نیاء س منز  
 سوڑے کینہہ کران آس زیوہ سیت اوُس بہ سارنہ گونہن انکار کران۔ تو بہہ کس مُصِیَّت اوہ تو بہہ  
 ہڑوہ کتھ گرنہ۔ آخریمہ کتھ کرنہ کم پتھناؤ نوہ ٹوہیہ۔ تم دیکھ جو اب اُس کرہ ناؤ کتھ تم خدائن بس  
 سارنہ کتھ گرہ و نین چیزن کتھ کرہ ناوان ہتھہ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ تم کردہ  
 ٹوہیہ پادہ گوڈیچہ لٹہ۔ بیہ چھوہ دو بارہ زندہ کر تھ کس کن و اتاوانہ یوان وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَرُونَ أَنْ يَشْهَدَ  
 عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ ٹوہیہ اَسُو دنیاء س اندر غیر نشہ پوشیدہ روز تھ گوانہ  
 کران۔ بیہ اَسو نہ خیر کہ تو بہہ پیٹھہ کیاہ دن گواہی کن تہند اچھہ تہزہ بہ مسلہ تہند وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ  
 لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ لیکن تو بہہ اوس گمان کہ اللہ تعالیٰ اُس چھنہ خبرے وار سکن چیزن  
 ہنز تموچیز و اندرہ تم تو بہیہ کران اَسوہ وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ  
 الْخَيْرِينَ اکی جہند خیالن بس تو بہہ پنہ بس پروردگار س متعلق اوس کیاہ کردہ ٹوہیہ تباہتہ بر باد کس  
 سپد وہ ٹوہیہ تادان زڈو اندرہ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ بس ہر گاہ تم صبر کرن تو تہہ چھہ تہزہ  
 جاے نارِ جہنم وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا لَهُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ بیہ ہر گاہ تم کینہہ عذرو معذرت کرن،

أَيَدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّ  
 قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا  
 خٰسِرِينَ ﴿۲۵﴾ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَأَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ  
 وَالْغَوَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ ﴿۲۶﴾ فَلَمَّا يُقَنَّ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَكُنْزِيَّتُهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا  
 يَعْمَلُونَ ﴿۲۷﴾ ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ لَهُمْ فِيهَا  
 دَارُ الْخُلْدِ ط جَزَاءُ لِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ ﴿۲۸﴾

معافی مگن زارہ پارہ گرن تمن بیہ نہ ہرگز معافی دنہ کنہ صور تہس اندرہ وَقَيَضْنَا لَهُمْ قُرْآنًا فَزَيَّنُوهُ لَهُمْ  
 مَابَيْنَ أَيَدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ بیہ اُس اُسہ دُنیا س اندر تمن سیت روزن وائل شیطان مقررہ کر  
 مت تمواوس تہنزن پتہ بین برو تظہن غمکن زینت دہشت تمنی کالین پیٹہ اُس تم ڈاڈکر تہہ کُرس پیٹہ  
 اصرارتہ ڈاڈکر نہ موکہ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمِّ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ  
 إِنَّهُمْ كَانُوا خٰسِرِينَ لہس سید تمن پیٹہ خدلیہ سُدو عدہ عذاب پورہ تمن لوکن سیت سیم تمن برو تہہ  
 گذرے مت جہہہ جوتہ انسانو اندرہ بے شک تم ساری آسن تاوان زدو اندرہ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا  
 لَأَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوَافِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ بیہ جہہہ سیم کافر پانہ وان ونان سہہ قرآن  
 مجید س مہ تہا ووگن سہہ ساتہ پیغمبر قرآن ہر دن آسہ ہیوان تو ہیہ اُسو شور لاگان۔ شاید امہہ طریقہ سیدو  
 تہہہ غالب فَلَمَّا يُقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا وَكُنْزِيَّتُهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ  
 لہس امہہ نالائق حرکتہ موکہ ژہہ ناووکہ اُس سیم کافر سخت عذابگ مزہ بیہ دمو اُس تمن سزا تمن پیچہ  
 کالین ہند سہہ تم کران اُس ذَلِكَ جَزَاءُ أَعْدَاءِ اللَّهِ النَّارِ یوہہ سزا خدلیہ سندن دشمن ہند یعنی  
 نار لہم فیہا دار الخلد جَزَاءُ لِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ تہہہہ خاطرہ جھو اتہہ نارس اندر



وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرْنَا الَّذِينَ آذَلْنَا مِنَ الْجِنَّ  
 وَالْإِنْسِ نَجَعَلُهُم تَحْتِ أَقْدَامِنَا لِيَكُونُوا مِنَ الْأَسْفَلِينَ ﴿۲۹﴾  
 إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ  
 الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ  
 تُوعَدُونَ ﴿۳۰﴾ نَحْنُ أَوْلِيَائِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ  
 وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ ﴿۳۱﴾ نَزَّلْنَا مِنْ

ہمیشہ روزگ گھرہ سزاء آمدے کہ تم اس کران سائین آیتن انکار  
 الَّذِينَ آذَلْنَا مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ نَجَعَلُهُم تَحْتِ أَقْدَامِنَا لِيَكُونُوا مِنَ الْأَسْفَلِينَ یہ دن کافرے  
 ساتھ پروردگار اُسے ہاویجھ تم زہ شخص سمو اس گمراہ کری جنویہ انساؤ اندرہ۔ اس تھاوہ ہو کہ تم پنہ نین  
 لتن تل بیجھ تم ساری تل کن واتہ کن۔ یہ آسہ گمراہ کرہ ونین پیجھ تم نیہ سخت غصہ تہ ڈکھ۔ اِن  
 الَّذِينَ قَالُوا رَبَّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشُرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي  
 كُنتُمْ تُوعَدُونَ بے شک تم لو کہ سمو دلہ سیت اقرار کور کہ سون حقیقی پروردگار جھ صرف اللہ تعالیٰ  
 توپتہ کر کہ تجھ پیجھ استقامت تہ کوز کہ یہ اتھ اقرار اس شوہ تر و کہ نہ یہ خیال کنہ صورتس اندر تم  
 پیجھ دن ملایکہ اکھ مریمہ وقتہ یہ قبرن منزبہ قبر و اندر میرینہ کہ وقتہ کنہ دیکھ تہ ہو یہ مہ کھوژ و آخرتہ  
 کین ہولناک حالاتن۔ یہ مہ سبر و تمہ غم دنیاء کس تراؤس پیجھ کیا زہ توہہ بنہ تمہ خوتہ تہ رت چیز۔  
 بشارت بوین توہہ تمہ جتج سمیک توہہ پیغمبرن ہندہ واسطہ وعدہ یوان اوس تھاوہ نَحْنُ أَوْلِيَائِكُمْ فِي  
 الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ اس جھہ ہندرفیق دنیاءہ زندگی اندر تہ۔ یہ روز و اس ہندرفیق آخرتس  
 اندر تہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهَى أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ جھندہ خاطرہ جھہ جھہ جنس اندر تہ سوزی  
 موجود بیجھ کن توہہ خواہش گدھ۔ یہ جھوہ توہہ گیت تہ سوزے یہ توہی مگو۔ ساری چیزین تھاوہ توہہ  
 مہیا نَزَّلْنَا مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ یہ جھہ گوڈنج ضیافت جھندہ خاطرہ غفور و رحیم پروردگارہ سندہ طرفہ یہ

غَفُورٍ رَّحِيمٍ<sup>۳۲</sup> وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ  
 صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ<sup>۳۳</sup> وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَ  
 لَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ  
 عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ<sup>۳۴</sup> وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا  
 يُلْقُهَا إِلَّا ذُو حِطِّ عَظِيمٍ<sup>۳۵</sup> ۚ وَإِنَّمَا يَنزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ  
 فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ<sup>۳۶</sup> وَمِنَ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ  
 وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ

نعمودین توہمہ عطا کرنے بکمال عزت و احترام تمہے کن معزز تر ہیں چھہ بروئہ کین اُنہ یوان وَمَنْ أَحْسَنُ  
 قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ یہ کہہ اکھاہ چھہ زیادہ رُت کلامہ  
 کن تسدہ خو تہ یم لوکن نادیت معبود بر حقس کن یہہ کرین پانہ تہ رثہ عملہ یہہ دوہن اظہار اطاعت  
 کران کہ بہ چھس فرمانبر دارو آندرہ یعنی بہ چھس خدایہ سز بندگی کرن فخر زانان مُکبرن ہند پاٹھ  
 چھس نہ عار زانان وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعُ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ یہہ چھہ نیکی تہ بدی برابر بلکہ  
 چھہ پریتھہ کنیک اثر الگ الگ۔ یلہ یہہ کھہ متحقق سہز وون کزو و توہمہ مع اتباع بدی ہند مدافعہ تمہہ طریقہ نیس  
 بہتر آسہ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ تمیک نتیجہ نیرہ کہ سہ شخص نیس منز تہ  
 توہمہ منز عداوت و دشمنی آسہ نہ نہ بیٹھ بیٹھ زن سہ دوست جانی آسہ وَمَا يُلْقُهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا  
 يُلْقُهَا إِلَّا ذُو حِطِّ عَظِيمٍ یہہ کھہ چھہ تمنی لوکن نصیب سدان تم ثوابہ اعتبارہ سیٹھاہ خوش نصیب تہ  
 نیک بخت آسن وَإِنَّمَا يَنزَعَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ تہس و قس اندر  
 ہر گاہ توہمہ شیطانہ سدہ طرفہ غضبگ تہ خشک کانہہ و سوسہ پیدہ سڈن ہیہ تمہہ ساتہ آسور فور اپناہ مکان  
 اللہ تعالیٰ اس۔ بیشک سہ چھہ سورے بوزہ و ن سورے زانہ و ن وَمِنَ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمْ آيَاةً تُعْبُدُونَ ﴿۳۷﴾ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ  
عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ﴿۳۸﴾  
وَمِن آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ  
اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُجِي الْمَوْتِ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ  
شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۹﴾ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا ۗ

بہ چھ خدایہ سند یو قدرت کیو توحیدہ کیونشانو آندرہ رات تہ دوہ بہ آفتاب تہ زون لا سجدوا  
للسمس ولا القمر واما الله الذي خلقهن ان كنتم آياتا تعبدون اے لو کو تو بہ مہ دیو سجدہ نہ  
آفتاب نہ زونہ بلکہ دیو سجدہ تہس معبود برحقس تم تم پادہ کر چھوہ تو بہ تہس یوت عبادت کران یعنی  
مشرک تم خدایہ سندہ عبادتک دعوہ چھہ کران تم چھہ عبادتس اندر شرک انان۔ چھہ عبادتس اندر  
شرک آسہ حقیقتس منزگیہ نہ سو خداوند کریمہ سنز عبادت۔ بلکہ تہندسہ دعوہ چھہ باطل۔ خدایہ سنز  
عبادت چھہ کران تیلہ کر یوس عبادت شرک تراوتھ تہ شرکہ وراکی فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ  
عِنْدَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ توپتہ ہر گاہ تم لوک غرور تہ تکبر کران تہس  
عبادت کرنے نشہ سو چھہ تہنز حماقت تہس کیاہ پرواہچہ تمیک۔ تم ملایک تم تہندس پروردگارہ سند  
مقرب چھہ تم شان و عظمتس منز ساسہ گنہ زیادہ چھہ راتس تہ دوہ تہس تہنز پاکی بیان کران۔ توپتہ چھہ  
تم نہ قسمہ گنہ وقتہ چھکان وَمِن آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ  
الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُجِي الْمَوْتِ بہ چھہ تہندہ قدر تہ کیو توحیدہ کیونشانو آندرہ اکھ نشانہ تہ چھہن وچھان  
اے مخاطب یہ زمین ژمیومت تہ ہو کھفت۔ خشکی ہندہ وقتہ چھہ ہوا الج گردنمان تہ چھہکر او ان آتی یلہ اس  
تراوان چھہ تھہ پیٹھ روواتی چھس تازگی پھیلان بہ چھہ پھولان تہ سر سبز سپدان بے شک یم  
پروردگارن یہ زمین مرتھہ بہ زندہ کورسئی پروردگارہ چھہ مردن زندہ کرہ ون۔ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ  
قَدِيرٌ بے شک سہ چھہ پرتھہ چیزس پیٹھ قدرتہ دول یم پروردگارن یہ مردہ زمین زندہ کورسہ ہیچہ

اَمَّنْ يَلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرًا مِّنْ يَّاتِيْ اِمْنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ اَعْمَلُوا مَا  
 سَنَّمُ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿۳۱﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِالذِّكْرِ لَمَّا  
 جَاءَهُمْ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ ﴿۳۲﴾ لَا يٰۤاَيُّهَا الْبٰطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ  
 وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حٰكِمٍ حَمِيْدٍ ﴿۳۳﴾ مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا  
 قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ وَّذُوْ عِقَابٍ

نامردہ انسان ہندین بدن اندر روح و اتنا و تھہ ، تمن دوبارہ زندہ کر تھہ۔ کیاہ سہ قادر مطلق ہیجہ  
 نامو متین دلن زندہ کر تھہ پنہ نور توحیدہ سیت بے شک سہ ہیجہ سوڑی کینہ کر تھہ۔ سہ ہجھہ پر ہجھہ  
 چیزس پیٹھ قدر نہ وول اِنَّ الَّذِيْنَ يُلٰجِدُوْنَ فِي الْاٰيٰتِنَا لَيُغْفَرُوْنَ عَلَيْنَا بے شک ہم لوکھ سانن آیاتن  
 منز ہم آیات توحیدس پیٹھ دلالت کران چھہ تمنی منز چھہ ہول پکان یعنی تمن منز چھہ شک نہ شبہ  
 یادہ کران۔ تم لوکھ چھہ نہ نشہ کھٹھہ۔ آسہ ہجھہ تھند سوڑی حال معلوم۔ تمن و مو اس سزای نار اَمَّنْ  
 يَلْقَىٰ فِي النَّارِ خَيْرًا مِّنْ يَّاتِيْ اِمْنًا يَوْمَ الْقِيَمَةِ کیاہ سہ شخص ئیس نارس منز تروانہ پیہ چھا بہتر کین سوئیس  
 قیامتک دوہو امن و الماس اندر ولتہ اَعْمَلُوا مَا سَنَّمُ اِنَّهٗ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ یہ خوش کرہ وہ تہ کمر و بے  
 شک اللہ تعالیٰ ہجھہ تہ سوڑی وارہ و چھان یہ توبہ کران چھوہ سارنی عملن ہند دیوہ سہ سزای اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا  
 بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَاِنَّهٗ لَكِتٰبٌ عَزِيْزٌ بیشک سمولو کو انکار کور قرآن مجیدس یلہ سہ تمن نشہ دوت تم تہ  
 و چھن تھند انجام کیاہ آسہ تمن ہجھہ نقص نہ کی پانس اندر۔ ہجھہ قرآن مجیدس اندر کانہہ کیاہ چھہ۔ یہ  
 قرآن مجید چھہ باعزت و با وقعت کتاباہ لَا يٰۤاَيُّهَا الْبٰطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهٖ تَنْزِيْلٌ مِّنْ حٰكِمٍ  
 حَمِيْدٍ اتھہ ہیجہ نہ آپز تہ غیر واقعی تھہ لکھ پتھہ نہ بروٹھ کن تہ نہ تھر کن یہ ہجھہ نازل آمت کرنہ حکمتہ  
 و اسس تہ حمد دینہ آتس خدا یہ سہہ طرفہ مَا يُقَالُ لَكَ اِلَّا مَا قَدْ قِيْلَ لِلرُّسُلِ مِنْ قَبْلِكَ توبہ چھہ یوان  
 ونہہ مگر تمہ تھہ ہم ونہہ آثرہ چھہ تمن پیئمبرن یم توبہ بروٹھ اس۔ یہ نوکھاہ کانہہ چھہ۔ تمو پیئمبرو  
 کور تمن تھن پیٹھ صبر۔ تھہ تہ کمر و صبر۔ سمہ تھہ سیت تہ کمر و توبہ تسلی حاصل سمہ اِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ

الْيَوْمِ ﴿۳۱﴾ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا مَّجْمُوعًا لَقَالُوا لَوْلَا فِصَلتُ آيَتُهُ  
 ءَاعْجَبِي وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ ۗ وَالَّذِينَ  
 لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْءَانُهُمْ عَمًى أُولَٰئِكَ  
 يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ﴿۳۲﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ  
 فَاخْتَلَفَ فِيهِ ۗ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ

كُذِّبَ وَعَقَابَ الْيَوْمِ بے شک تہند پروردگار چھ مغفرتہ دولتہ سخت عذاب کرہ دن تہ ہس اگر ستم  
 مخالفین مخالفت کرنہ نشہ بازیتھ مستحق مغفرت سدن نہ تلہ بیہ تمن ضرور سزادنہ لہذا گمہ موکھ چھوہ  
 توہہ پریشان روزان وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا مَّجْمُوعًا لَقَالُوا لَوْلَا فِصَلتُ آيَتُهُ بیہ ہر گاہ آس کرہ ہون یہ قرآن  
 مجید عجمی زیوہ اندر توتہ وَنہ ہن لکھ امگ آیات کونہ آئے وارہ پاٹھ وشرہ ناونہ عربی زیوہ اندر۔  
 ءَاعْجَبِي وَعَرَبِيٌّ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ کیاہ کتاب چھ عجمی زیوہ اندر، پیغمبرتہ لوکھ چھہ  
 عربی۔ یہ قرآن مجید چھہ عربی۔ دپان چھہ یہ کونہ عجمی۔ ہر گاہ عجمی آساہاد پہ ہن یہ کونہ چھہ عربی۔ کونہ  
 حاکس پیٹھ چھہ ستمن قرار لوکن ہنز ذہنیت چھہ یڑھے۔ توہہ فرماو لوکھ یار سول اللہ۔ یہ قرآن مجید چھہ  
 با ایمان ہندہ خاطرہ رثہ کامہ کرنگ اکھ ہدایت بیہ دن ہنز ن بیمار من ہندہ خاطرہ شفا وَالَّذِينَ  
 لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرْءَانُهُمْ عَمًى بیہ ستم لوکھ اتھ قرآن مجید س پڑھ چھہ نہ گران تہندین  
 کنن چھہ وگمہ۔ یہ قرآن مجید چھہ تہندہ خاطرہ آسرتہ تاہنای اُولَٰئِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ ستمن  
 لوکن زن چھہ آلو یوان دنہ دورہ جلیہ پیٹھ لُس نہ تم بوزان چھہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ  
 فِيهِ تھتق اسہ کر یہ عطا حضرت موسی اس تہ کتاب۔ تھ منزتہ آواختلاف کرنہ کانسہ مان تہ کانسہ  
 مانی نہ توہی مہ سپد و مغموم یہ نوکتھاہ چھہہ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ ستم  
 منکرین چھہ تیت مستحق عذاب کہ ہر گاہ سوکتھ آساہانہ یوسہ تہندس پروردگارہ سہدہ طرفہ بروٹھ مقرر  
 کرنہ آسٹ چھہ کہ پورہ سزایہ کافر ن دنہ آسرتس اندرنتہ بیہ ہا ستمن کافر ن منز قطعہ فاصلہ کرنہ دنیا س

بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ ﴿۳۵﴾ مِّنْ عَمَلٍ صَالِحًا  
 فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿۳۶﴾  
 إِلَيْهِ يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ  
 الْأَشْجَارِ وَمَا تُحْمَلُ مِنْ أُثْقَالٍ وَلَا تَضَعُ إِلَّا وَعَلَيْهَا وَيَوْمَ  
 يُنَادِيهِمْ ائِنَّ شُرَكَّاءِئِي قَالُوا اذْذٰلِكَ مَا مِمَّا مِّنْ شٰهِيْدٍ ﴿۳۷﴾

منز وَلَا تَهْمُ لَفِي شَكِّ مِّنْهُ مُرِيبٍ تم کافر چھہ باوجود دلائل، عذاب موعودہ کس شکس اندر ایم تم  
 تر دس منز تر اومت چھہ تمکن چھہ عذابک یقینہ یوان حالانکہ فیصلہ چھہ ضرور واقع سپدہ ون۔ تمہ  
 فیصلک حاصل چھہ ای کہ مِّنْ عَمَلٍ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ  
 ئس شخصہہ رث عمل گرہ تمیک فاندہ چھہ ئس پانس یعنی تمیک نفع یت فاندہ تلہ سہ آخر ئس اندر۔ بیہ ئس  
 شخصہہ پیچھہ عمل کرہ تمیک نقصان یت ضرر چھہ ئس پانس تہند ہر در دگار چھہ بندن پیچھہ ظلم گرہ ون إِلَيْهِ  
 يُرَدُّ عِلْمُ السَّاعَةِ سمہ بروئھہ سمہ قیامتک ذکر آمت چھہ کرنہ کہ تھہ منزایہ تمکن جتلانہ تمہ  
 قیامتہ علمک حوالہ چھہ خدایہ سی دنہ یوان۔ یعنی سمہ سوالک جواب کہ قیامت کریہ۔ چنانچہ کافر اس  
 یہ سوال کران انکارہ خاطرہ۔ امہ سوالک جواب چھہ یوہے کہ امیک علم چھہ خدایہ سی یوت۔ مخلوقن  
 تمیک علم نہ آسنہ موکھ چھہ لازم یوان کہ قیامت کیا آسی نہ۔ قیامتہ کہ وقوع علم کیاہ تھہ چھہ۔ ئس  
 ذات پاک سندن علم چھہ محیط پر تھہ چیزس۔ حئی سمہ وَمَا تَخْرُجُ مِنْ ثَمَرَاتٍ مِّنْ الْأَشْجَارِ وَمَا تُحْمَلُ  
 مِنْ أُثْقَالٍ وَلَا تَضَعُ إِلَّا وَعَلَيْهَا کانہہ پھل یت میوہ چھہ پندہ ٹورہ یعنی غنچہ منزہ نبر نیران۔ نہ چھہ کانہہ  
 مادہ گو بہ گھورہ روزان یعنی باردار سپدان نہ پھہ کانہہ مادہ پر بیان مگر یہ سورے چھو تہیدہ علم واطلاع  
 موجب سپدان یہ چھہ تہندس توحیدس یت کن آسسن پیچھہ دلیلِ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ ائِنَّ شُرَكَّاءِئِي قَالُوا  
 اذْذٰلِكَ مَا مِمَّا مِّنْ شٰهِيْدٍ سمہ دوہہ اللہ تعالیٰ مُشْرِكُنْ آلود تھہ فرماوہ تمکن توہہ میان شریک قرار  
 ودان اُسوہ ازنتہ چھوہ تم شریک۔ تن دیو آلو۔ تم موکلاوہ نوہ مُصِيبٌ نَشِيْءٌ۔ تم دین از چھہ اسی گذارش

وَضَلَّ عَنْهُمْ تَاكَاثُورًا يُدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَلُّوا مَا لَهُمْ مِنَ  
 مَحْيَصٍ ﴿۳۸﴾ لَأَيْسَرُ الْإِنْسَانَ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَّهُ السُّرُّ  
 فَيُؤَسِّ قَنُوطٌ ﴿۳۹﴾ وَلَئِنْ أَذَقْتَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِنْ بَعْدِ ضَرَاءٍ  
 مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا إِلَىٰ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ  
 رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَاَلَّذِي يُقْتَلُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ ﴿۴۰﴾ وَإِذَا

کران کہ آسہ منز چھنہ کا نہہ تہ آسہ عقیدہ ک مدعی۔ آس چھہ اڑ پینہ غلطی ہند اعتراف کران۔ از تہ و آسہ  
 سورے و ضلَّ عَنْهُمْ تَاكَاثُورًا يُدْعُونَ مِنْ قَبْلُ وَظَلُّوا مَا لَهُمْ مِنَ مَحْيَصٍ بیہ سپدن غایب تمن نشہہ  
 تم ساری تمن پرستش کران آس دنیاء س اندر تمہہ بروٹھہ بیہ زانن تم یقینہ پاٹھ تہندہ خاطرہ چھنہ  
 کا نہہ موکلنج تہ پنچج صورتھہ۔ آسہ پتہ چھہ اللہ تعالیٰ فرماوان لَأَيْسَرُ الْإِنْسَانَ مِنْ دُعَاءِ الْخَيْرِ کہ  
 شرک و کفرک اثر چھہ انسانی طبیعتس پیٹھہ بیوان کہ بس شخص توحید و ایمانہ نشہہ بے بہرہ چھہ آسان،  
 تسند اخلاق، اعمال تہ عقاید چھہ تھئی خراب آسان کہ آرام و سختی ہندس حالتس منز چھنہ تس انسانس  
 ترقی ہنزہ خواہشہ نشہہ یڈیوان کمال حرصہ موکلہ وَاِنْ مَسَّهُ السُّرُّ فَيُؤَسِّ قَنُوطٌ یلہ تمس کا نہہ تکلیفہ  
 چھہ و اتان تنگی و غیرہ ہش آتی چھہ بد دل تہ نا امید سپدان وَاَلَّذِي يُقْتَلُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ مَسَّتَهُ  
 لَيَقُولَنَّ هَذَا إِلَىٰ بیہ یلہ آس تس کئہ سختی پتہ پنہہ مہربانی ہندہ مزہ چھہ ہاوان تمہہ ساتہ چھہ و نان بیہ اوس  
 میانی خاطرہ کیا زہ میون تدبر، لیاقت تہ قابلیت اوس آتھہ منگان۔ بیہ گیہ غایت درنج نا شکری تہ حکمر  
 وَاَلَّذِي يُقْتَلُ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ مَسَّتَهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا إِلَىٰ بیہ چھہ دپان میہ کتہ چھہ گمانہ کہ قیامت کیاہ سپدہ وَاَلَّذِي  
 رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْحُسْنَىٰ ہر گاہ بفرض محال بیہ تہ قیامت تو پتہ سمہہ بیہ پنہ نس خدا بس نش و اتانہ  
 تہ بیشک میانہ خاطرہ آسہ تس نش ضرور رتے فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَاَلَّذِي يُقْتَلُ مِنْ  
 عَذَابٍ غَلِيظٍ بس خبر گرو آس ضرور کافرزن پنہ نین کر تو تن کا میں ہنز۔ بیہ ژہنا و کلہ آس تم سخت

انْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَابَ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ  
 فَذُودِعَاءٌ عَرِيضٌ ۝۵۱ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ  
 تَمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ ۝۵۲  
 سَرُّهُمْ ائْتِنَانِي الْأَفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمْ

عذابك مزه وَإِذَا انْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَابَ بِجَانِبِهِ بيه يله اس شخص انسان نعمت عطا  
 کران چھہ تمہہ ساتہ چھہ سانو حکمونہ پھہ پھر ان دور ژلان تھر پھر تھہ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُودِعَاءٌ  
 عَرِيضٌ توپتہ يله تَس کا نہہ سٹنیاہ واتان چھہ تمہہ ساتہ چھہ کران زٹھہ زٹھہ دعاء قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ  
 مِنْ عِنْدِ اللَّهِ تَمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقِ بَعِيدٍ توہہ فرماو يو کہ يار رسول اللہ کہ  
 اے منکر و قرآن مجيدہ کس حق تہ پوز آسنس پيٹھہ سمہہ دليلہ قائم چھہ مثلاً تمیک معجز آسن، تچہ غابہ چہ  
 خبرہ دنہ۔ ہر گاہ توہہ تمہہ دليلہ عدم تدبرہ سببہ مورث يقين زانان چھوہ نہ تہ کم از کم مورث احتمال تہ  
 چھو کہ ضرور زانان کيا زہ تمہہ کس نفيس پيٹھہ چھہ توہہ نش کہنہ دليل۔ لہذا تھہ احتمال پيٹھہ بنا کر تھہ  
 دنو توہہ کہ ہر گاہ يہ قرآن خدا يہ سے نشہ آمت آسہ توپتہ کرو توہہ تھہ انکار، تھس شخصہ سندہ خوتہ  
 کبھہ اکھاہ آسہ غلطی منزلئس پڑہ نشہ دور دور از مخالفتس منزل پيومت آسہ سَرُّهُمْ ائْتِنَانِي الْأَفَاقِ وَفِي  
 أَنْفُسِهِمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْاَلْحَقُّ عنقریب ہاؤو اس تمن پنہہ قدر تک نشانہ سمہ دلالت اس کران  
 قرآن مجيدہ کس پوز آسنس پيٹھہ۔ تمن گردو نواح تہ ہاؤو اس تم نشانہ کہ اقطار عرب سپدن سائين پيشين  
 گوئين مطابق فتح۔ بيه ہاؤو خود تھندين پانن اندر تہ نشانہ کہ تم ين مارنہ تہ قتل کرنہ جنگ بدر س منزل۔  
 تھند شہر خود مکہ شريف تہ سپدہ فتح سہ بيه مسلمان ہندس اتھس اندر۔ تا يچہ تمن نہہ کہ يہ قرآن مجيد  
 چھہ بالکل پڑ اچہ پيشين گوئيه چھہ پڑہ اَوْلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ اَنْهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ کياہ تھندس  
 پروردگارہ سز يہ کتھ چھنا کافی تھندس پڑس پيٹھہ آسچہ گوآي خاطرہ بيه تھندہ تسلي خاطرہ کہ سہ چھہ



اِنَّهُ الْحَقُّ اَوْلَمَ يَكْفِ بِرَبِّكَ اِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۵۳﴾  
 اِنَّهُمْ فِي مَرِيَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ اَلَا اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ ﴿۵۴﴾

پریتھ واقعی چیزس پیٹھ گواہ اَلَا اِنَّهُمْ فِي مَرِيَةٍ مِّنْ لِّقَاءِ رَبِّهِمْ اَلَا اِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطٌ وارہ بوزو کہ  
 تم لو کہ چھ پنہ نس ہر دگار سیت ملاقات کرہ نس اندر شمس منز بتلا تمی چھکھنہ دلن منز کاہنہ  
 خوف یمہ سببہ تم ہز کی طلب گار آسٹھن بیہ بوزوارہ کہ سہ چھہ پریتھ چیزس پنہ علمہ سیت احاطہ  
 کر تھ۔ سہ چھہ تہندس شک و شبہس تہ زانان۔ تھ پیٹھ دیہ سہ تہن پورہ سزاء۔



## سُورَةُ الشُّورَى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 حَمْدٌ ۝ عَسَقٌ ۝ كَذَلِكَ يُوحى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ ۝  
 اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۝ وَهُوَ  
 الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ۝ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَّقَطُرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ  
 يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ ۝ الْآرَاءُ  
 اللَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ۝ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ

حَمْدٌ \* عَسَقٌ \* تم چھہ حروف مقطعات تم ہند معنی زانہ پانہ خدا کَذَلِكَ يُوحى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ یتھہ پاٹھہ سورہ شریفہ بڈین فاندن تہ اصول دین ہندہ تحقیقہ خاطرہ توہہ پیٹھ نازل کرنہ آو، یتھہ پاٹھہ کور اللہ تعالیٰ آن نُس سیٹھاہ غالب چھہ، سیٹھاہ جمتہ وول چھہ دینی اصولن ہندہ تحقیقہ خاطرہ توہہ پیٹھہ تم تینمیرن پیٹھہ تم توہہ بروٹھہ اَس وَحی نازل نُس خدایہ سُنڈ شان چھہ کہ لَہ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ تہندوی چھہ تہ سورے یہ آسمان تہ زمین اندر چھہ۔ سَی چھہ ساروے خوتہ بوڈ تَكَادُ السَّمَوَاتُ يَتَّقَطُرْنَ مِنْ فَوْقِهِنَّ وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ الْآرَاءُ اللَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ تمسند س عظمت و شانس اگرچہ بعضے اہل زمین مَہ زان تن، متہ مان تَن مگر آسمان اندر چھہ تسند شان زانن وال۔ یعنی ملایکہ تیت بکثرت کہ کینہہ دور چھہ کہ تم آسمان کیاہ پھشن پنہ ہیر مہ طرفہ ملائک ہندہ گوبرہ سیت چنانچہ حدیث شریفس منز چھہ اُمّت اطت السماء وحق لها أن تظ ما فيها موضع أربعة أصابع الاوملك واضع جبهته ساجدالله (رواہ الترمذی وابن ماجہ) فرمونبی کر تممن صلی اللہ علیہ وسلم آسمانس چھہ کر کر گوشہان،

حَفِیْظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ ۝۶ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا  
إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنذِرَ يَوْمَ  
الْجَمْعِ لَأَرْيَبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ ۝۷ وَلَوْ  
شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ

تھے پڑھ کر کر گھوٹن کیا زہ تھے منز چھنہ آگس چس برابر تہ جای خالی بیتر نس نہ اکھ اکھ ملک بن ککھ  
تراو تھ اللہ تعالیٰ آس سجدہ دو ان چھ۔ تم ملایک چھہ تسبیح تہ حمد پنس پروردگارہ سند ہد ان بیہ چھہ زمینہ  
کین لوکن ہندہ خاطرہ مغفرت منگان۔ وارہ بوزوسہ پروردگار چھہ سینہاہ مغفرت کرہ ون سینہاہ رحم  
گرہ ون وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِیْظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ بیہ سمولو کو ٹھہر اوی  
مت چھہ تس ور آئے دوست تہ مددگار اللہ تعالیٰ چھہ تہنزہ سارے کامہ ژر ژان۔ سہ دیہ پائے وقس  
پیٹھ تہن سزاء۔ توہہ نہ حض چھوہ نہ یار سول اللہ تہن لوکن پیٹھ کانہہ اختیاراہ کہ سمہ ساتھ خوش کرہ ہا  
تمہ ساتھ کرہ ناوی ہو تہن پیٹھ عذاب نازل۔ امیک اختیار چھہ خدایہ سے تہ توہہ مہ سپد و غمگین  
تہندس ایمان نہ انہ نس پیٹھ، کیا زہ تہنز کام چھہ صرف تبلیغ کرن تہ حکم و اتناون۔ چنانچہ وَكَذَلِكَ  
أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِنُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَنُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَأَرْيَبَ فِيهِ اس سوز تھہ پاٹھ  
توہہ کن قرآن مجید چھہ پاٹھ توہہ وچھان چھوہ عربی زیوہ اندر۔ تھہ توہہ۔ بیم کرو سارے برو تھہ مکہ  
کین لوکن بیہ تہن لوکن سم تھہ انداند بسان چھہ تہ روزان چھہ بیم تہ کرہ یو کھ سمکھہ ڈبک یعنی قیامتہ  
کہ ڈبک سمہ دوہہ ساری اولین و آخرین جمع کرنہ بن تھہ منز نہ شکھہ چھہ سمہ دوہہ یہ فاصلہ کرنہ بیہ  
کہ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ سمہ دوہہ گزہ ہن لوکن زہ حصہ اکھ حصہ جنس منز۔ بیا کھ حصہ  
چہنٹس منز۔ تہنز کام چھہ محض امہ دوہہ نعرہ لو کھ کھوڑہ ناون۔ باقی لوکن ہندہ ایمان انہ نک یانہ انہ  
نک، اتھ سیت کیاہ چھہ توہہ بیہ سورے چھہ خدایہ سندس یڑھنس تان وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً  
وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ قَلِيلٍ وَلَا نُصِيبُ ہر گاہ خدائس منظور

فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَّلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۝۸ أَمْ اتَّخَذُوا  
 مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ ۚ قَالَ اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ  
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝۹ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ  
 إِلَى اللَّهِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝۱۰  
 فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا  
 وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا يَذُرُوكُمْ فِيهِ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ

آسہائے کرہ ہاتھن سارنے لوکن ہندہ خاطرہ آکے و تھہ یعنی سارنے کرہ ہا ایمان نصیب۔ مگر وار بہن  
 حتمن کن نظر کرتھ سپند نہ تس یہ منظور لیکن سہ تس یڑھان چھہ تس چھہ ایمانس کن و تھہ ہا و تھہ و اتناوان  
 پنہ نس رتھس منز سمن یڑھان چھہ تھن چھہ کفر و سرکش منز مبتلا کر تھہ پنہ ر حمتہ نشہ نیر کڈان تہ  
 دور کران۔ چنانچہ تھن ظالمین آسہ نہ قیامتگ دودہ نہ کانہہ دوستا تہ نہ کانہہ مدگار ہا اَم اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ  
 اَوْلِيَاءَ قَالَ اللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَىٰ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کیاہ تمہو لو کو چھار و تھمت معبود  
 برتھس و ر آے بدل دوست تہ مدگار پس اگر کانہہ کار ساز تہ دوست بناون چھہ سہ چھہ اللہ تعالیٰ ای  
 یوت بہ نہ کانہہ۔ سہ چھہ مردن زندہ کرہ و ن بہ چھہ سہ پر تھہ چیزس پیٹھ قدر تہ و ول وَمَا اخْتَلَفْتُمْ  
 فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ توبہ فرما و تھن لوکن تھم توبہ سیت توحیدس اندر اختلاف کران چھہ  
 کہ بہ تھہ تھہ چیزس اندر تھہ پزیران سیت اختلاف چھوہ کران۔ توحیدس وغیرہ چیزن اندر، تمیک  
 فیصلہ چھہ تس سپرد۔ دنیا س اندر صحیح دلیلو سیت آخرتس اندر فریق فی الجنة و فریق فی السعیر  
 سیت ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ یہ اللہ تعالیٰ سمسد شان یہ چھہ، چھہ میون رب۔  
 تس پیٹھ چھس بہ توکل کران تس کن۔ چھس بہ سارنے دینہ چمن تہ دنیا چمن کائین اندر رجوع کران۔  
 فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا سہ چھہ آسمان تہ  
 زمین ہند پادہ کرہ و ن تھی کر تھندہ خاطرہ تو ہی منز تھند جورہ تھہ پٹھہ پٹھہ کرن چار و این اندر تہ پادہ جورہ

السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝ لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ  
الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۱۳ شَرَعَ لَكُمُ  
مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا  
وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَ  
لَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللَّهُ  
يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ۝۱۴ وَمَا

جورہ بڈرؤگم فیہ لیس کتبہ شئی وھو السمیع البصیر سى ہھ توہہ اتھ ز مینس منز ہتھر اوان،  
جہند نسل بڑاوان تس ہیو ہجھنہ کانہہ۔ سى ہجھ سورے یوزہ ون، سورے وچھ ون کہ مقلید السموت  
والارض تس اتھ ہجھ آسمان تہ زمین ہندین خزان ہنزہ کوزہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر  
سى ہجھ رزق زیادہ کران نس یشھان ہجھ، بیہ ہجھ سى رزق کم کران نس یشھان ہجھ۔ انہ بکل شئی  
علیم بے شک سى ہجھو پر ہتھ چیزہ پوزانہ ون شرع لکم من الدین ما وصى بہ نوحا والذی  
اوحینا الیک وما وصینا بہ ابرہیم وموسى وعیسی ان اقیمو الدین ولا تفرقوا فیہ اللہ تعالی  
ان کور توہہ لوکن ہندہ خاطرہ سى دین مقرر تمیک حکم فرموان نوح علیہ السلام بیہ نس اسہ  
توہہ کن وحی مگر بیہ تہج وصیت اسہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کر بیہ موسی علیہ السلام  
بیہ عیسی علیہ السلام۔ تہزن امتن تہ فرموانہ اتھ دینس پیٹھ روزو قائم اتھ منزہ کرو تفرقہ۔  
مراد چھ امہ اندرہ اصول دین یم سارنہ اندر مشترک چھ مثلاً توحید، رسالت تہ معاد۔ پس  
اوس لازم لوکن ہجھ اتھ کرہ ہن قبول مگر افسوس کبر علی المشرکین ماتدعوہم الیہ سیٹھہ دشوار  
چھ گذران مشرکن پیٹھ سوٹھہ ہتھ کن توہہ تمن ناد چھوہ دوان یعنی توحید اتھ سیت چھ یہ تھ تہ کہ  
اللہ یجتبی الیہ من یشاء اللہ تعالی ہجھ درہ دوان پانس کن نہ خاطرہ تمن بین یشھان چھ۔ یعنی  
دین حق قبول کر تک توفیق ہجھہ دوان ویھدی الیہ من ینیب بیہ ہجھہ تھ ہوان پانس کن تمن  
سیم تس کن پھیران تہ رجوع کران ہجھہ وما تفرقوا الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا لیکہم سون

تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيًّا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا  
 كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَفَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ وَ  
 إِنَّ الَّذِينَ أُوْرثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ ﴿۱۷﴾  
 فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ  
 وَقُلْ أَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ  
 بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا

حکم پس بروٹھمن امتن اوس کہ آقِیْمُوا الدِّیْنَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِیْهِ وَارِیَاہِ لَوْ کَہ رُوْدنہ اَتھہ خمس پیٹھ قائم تم  
 سپدے اکھ اگس نشیہ جڈا لیکن امیک سبب اوس نہ کئیہ قسمک اشتباہہ تہ شک کیا اوس تمن بلکہ سپد تمن نشیہ  
 علم صحیح واتنہ پتہ محض اکھ اکہ سندہ ضدہ تہ عداوتہ وَلَا لَوْلَا کَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى  
 لَفَقَضَىٰ بَيْنَهُمْ ہر گاہے تہ ہندس پروردگارہ سندہ طرفہ اکھ حکم (یعنی تمن مملت دن اگس معین  
 وقس تان بروٹھ جاری سپد مت آسہا۔ نتہ بیہ ہا تمن منز دنیا سی منز فاصلہ کرنہ۔ یعنی تم بہن تنھس  
 عذائس گرفتار کرنہ سمہ سیت تم ملہ موجبہ گانہ بہن وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْرثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ  
 مِنْهُ مُرِيبٍ بے شک تمہ لو کہ تمن کتاب آیہ دنہ بروٹھمن امتن پتہ (امہ اندرہ چھہ مشرکین  
 عرب۔ تمن آئے یہ کتاب یعنی قرآن مجید بواصلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا کرنہ) تم چھہ  
 ضرور تمہ کتابہ ہندس حقس اندر بڈس شکس اندر تراونہ آمت پس تمن تردس منز تراوان چھہ  
 فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ لہذا مہ سپد تو بہہ دل شیکستہ کانہہ ہندہ انکار  
 کرنہ سیت بلکہ دیو تو بہہ ناد تمن اتھہ قرآن مجیدس نُن برابر۔ بیہ کرو تو بہہ پانہ تہ استقامت تھہ پیٹھ تھہ  
 پاٹھ تو بہہ حکم آو کرنہ تہنزن خواہش ہنزمہ کرو پیروی۔ تم چھہ یڑھان مخالفت کرنہ سیت ایو تو بہہ عاجز  
 تو پتہ تراوو تو بہہ تمن تبلیغ کرن۔ مگر تھنہ ٹو بہہ تہ کرو ہرگز وَقُلْ أَمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ  
 وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ بیہ فرما یو کہ ٹو بہہ بو تھہ تھہ

حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ ﴿۱۵﴾  
 وَالَّذِينَ يُجَاجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ  
 دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿۱۶﴾  
 اللَّهُ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ وَمَا يُدْرِيكُ

کُن توہمہ ناد پھنس دو ان بو پھنس پانہ تھہ عمل کران۔ چنانچہ میہ کر پڑھ تمہن سار نے کتابن میہ اللہ تعالیٰ اَن نازل پھنہ کرہ موہ۔ بیہ آومیہ حکم کرنہ کہ توہمہ منز گرہ ٹھنڈین اختلافان عدل وانصافہ موجب فیصلہ یعنی کس چیزہ توہمہ پیٹھہ واجب مقرر کرہ سہ چیز زانہ پانس پیٹھہ تہ واجب۔ یہ کھہ پھنہ کہ توہمہ تراوہہ لکھیس اندر تہ پانہ روزہ آزاد۔ سمہ کھہ آسہ سلیم الطبعن ہندہ خاطرہ رغبت تہ شوق دوہ و تہ ہر گاہ تمہن سمو کھو سیت تہ کینہہ بنہ نہ تیلہ و نیو کہ آخری کھہ کہ معبود بر حق پھنہ سون مالک تہ تہ تہند مالک تہ سہ پھنہ سار نے ہند حاکم سارہ عملہ پھنہ پانس، ٹھنڈہ عملہ پھنہ توہمہ پانس لَاحُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ آسہ منز تہ توہمہ منز پھنہ کانہہ بخشے۔ اللہ تعالیٰ کس آسہ سار نے ہند مالک پھنہ سہ سو مبر اوہ آسہ سار نے قیامتگ دوہ۔ آتھ منز پھنہ کانہہ شھہ کہ کس گن پھنہ آسہ سار نے واٹن۔ سہ کرہ سار نے ہند فاصلہ عملہ موجب۔ ون کینس توہمہ سیت بحث کرن پھنہ فضول مگر تبلیغ روز و اس توہمہ کران وَالَّذِينَ يُجَاجُونَ فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بیہ ہم لو کہ بحث چھہ لاگان خدایہ سندس دینس اندر مسلمان سیت سمہ کھہ پتہ کہ سہ دین آو تسلیم کرنہ کیاہہ واریاہ عاقل و داناسپی دی مسلمان سمو کور اقرار دین اسلامہ حق آسگ۔ وونی ہم آسہ پتہ تہ بحث لاگان تہنڈ دلیل پھنہ تہندس پروردگار س نسیہ بالکل باطل۔ تمہن پیٹھہ پھنہ خدایہ ہند غضب واقع سپدہ ون۔ تہندی خاطرہ پھنہ قیامتگ دوہ سخت عذاب سپدہ ون۔ تمہہ عذابہ نسیہ چنک ذریعہ پھنہ اللہ تعالیٰ اس پڑھ کرن۔ تہند دین پوز زان گو و قرآن مجید پھنہ منز حقوق اللہ تہ حقوق العباد ویرہہ ناوتھہ بیان کرنہ آمت پھنہ واجب العمل زان کیاہہ اللہ الَّذِي أَنْزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانَ معبود بر حق گووسی ہم پڑ پانھی کتاب نازل کر۔ خصوصاً

لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ ۝۱۷ يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  
 بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ  
 الْآيَاتِ الَّذِينَ يُبَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ ۝۱۸  
 اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ۝۱۹

نہیں حکم تھے منز انصاف کے لئے ہرگز نہ سمجھتے عدل و انصاف کرنے یوں کہہ  
 السَّاعَةَ قَرِيبٌ ہم لوگ کہ ہم قیامت واقعات بوز تھ توہم نے نہ سمجھتے وہی تعیین یزہان کہہ توہم کیا  
 کہہ تھے مگر خیر نہ آسنہ سیت یا خبر نہ کرنے سیت و تھنے لازم یوں سو کیا آسے نہ بلکہ کہہ تمک و قوع  
 دلیلو سیت ثابت تعیین و قس متعلق کہہ ایڑن کافی کہ عجب و تھنے سو قیامت ما آسے نزدیکہ یَسْتَعْجِلُ  
 بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا ہم لوگ نہ کہہ تھنے باوجود ہمہ یقینی نہ نزدیکہ آسے کھوڑانی  
 بلکہ کہہ بطور استہزاء و انکار ہمہ و قوع تقاضا کران وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ  
 ہم لوگو ایمان اون تم کہہ کھوڑان تھنے ہمہ اعتقاد تھاوان کہ قیامت دودہ ہمہ حق نہ پوز الْآيَاتِ الَّذِينَ  
 يُبَارُونَ فِي السَّاعَةِ لَفِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ وارہ بوزو کہ بے شک ہم لوگ قیامت مکر آسے ہر نہ قصیہ  
 کہہ لاگان ہمہ کس یس منز یقیناً کہہ ہم زبچہ نہ دور دراز گراہی اندر بتلا اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ  
 مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ہم مکر ہم دنیا جن نازو نعمن پیٹھ و یٹھان کہہ تم نے منز بوڈ تھ کہہ آخر نہ  
 نہ غافل نہ بے خبر سپدے مت۔ امہ پنے نازو نعمن اندر آسنہ سیت کہہ ہم استدلال کران کہ سون  
 مسلک کہہ پسندیدہ اگر تہ آسہانہ تھ سانس مسلکس پیٹھ آسے باخدا بیزار۔ تیلہ کیا زہ تھاوہ ہا آسے عیش و  
 آراس اندر۔ یہ کہہ تہمز حماقت کیا زہ یہ کہہ رضا مندی ہنزہ دلیل بلکہ کہہ امیک وجہ ای زہ اَللّٰهُ  
 لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ اللہ تعالیٰ کہہ دنیا س منز سیٹھا مہربان پنہ نین بدن پیٹھ۔ عام طور امی رحمت عامہ  
 سیت کہہ سہ سار نے روزی عطا کران۔ اگرچہ مصلحتہ موجب کہہ تھ منز کمی زیادتی نہ سپدان یَرْزُقُ  
 مَنْ يَشَاءُ کس یوت یزہان کہہ تھ تھ تیوت دوان۔ مگر نفس رزق کہہ سار نے منز مشترک۔ امہ  
 لطف فی الدنیا اندرہ کہہ ہمہ لازم یوں کہہ تہند مسلک کیا کہہ خدا نہیں پسند۔ تم کیا یہ آخر تھ اندرہ نہ



مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ  
 كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ  
 مِنْ نَصِيبٍ ۚ أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ أَشْرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ  
 مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ  
 وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ تَرَى الظَّالِمِينَ

لطف و مہربانی عطا کرنے بلکہ آسن تم آخرتس اندر بوجہ ایچھ تم اس باطلس پیٹھ کڈرس عذابس گرفتار  
 دنیاس اندر۔ تم عذابس گرفتار کرن چھنہ کینہہ مشکل کتھاہ کیا زہ و فَوَالْقَوٰی الْعٰزِمُوْا سہ چھہ سیٹھاہ  
 قوتہ وول، سیٹھاہ زبردست تمکن سارنہ خرائٹن ہندوجہ چھہ دنیاء سیت گڑھن۔ لوکن پزہ نہ  
 دنیاءہ سیت مغرور گڑھن بلکہ پزہ ہاتمن آخرت ژھانڈن تمکن پزہ وارہ بوزن کہ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ  
 الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ  
 ئس شخصاہہ پڑھان آہہ آخرتک زراعت گرن یعنی آخرتک تو ابگ طالب آہہ آخرتہ خاطرہ کرہ رتہ عملہ  
 بامید ثواب اس دموترتی ئس تہمدیس تھہ زراعتس اندر یعنی رٹن عملن پیٹھہ دموا س ئس رت ثواب۔  
 بلکہ گرو اسی تھہ ثوابس اندر تس زیادتی۔ اگس عملہ کروس ادنی درجہ ذہہ گنہ ثواب عطا۔ یہ ئس اکھاہ  
 پڑھان آہہ دنیاءک زراعت ئس دموا س یہ اگر اس پڑھو کینہہ تمہہ دنیا، آندہ مگر آخرتس اندر آہہ نہ  
 تس کیت کا نہہ حصہ۔ کیا زہ سہ چھہ مشروط ایمانس سیت حاصل چھہ ئس اکھاہ عمل کرہ دنیائی مطلب  
 حاصل کرنے خاطرہ تس یہہ دنیاء عطا کرنے مگر تنوی یوت اس پڑھو تو پتہ چھہ سہ آخرتکہ ثوابہ نشہ محروم۔  
 دین حق کور اللہ تعالیٰ ان مشروع و مقتر مگر تم لو کہ اگر سہ دین چھنہ مانان اَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ أَشْرَعُوا  
 لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَفُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ  
 اَلِيْمٌ کیاہہ تمو چھا خدا ئس شریک ٹھہر او ی مت سمو شریکو تہندہ خاطرہ کا نہہ دیناہ مقررہ کورمت  
 چھہ۔ تمیک اجازت اللہ تعالیٰ ان تمکن دیتمت چھہ۔ ہر گاہہ خدا یہ سندہ طرفہ اکھ قول فیصل مقرر

مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ  
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا  
 يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ ﴿۲۲﴾  
 ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
 قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَنْ يَقْتَرِفْ

آسپانه كرنه آمت سہ گواي زه اصل عذاب سپده تمن پيٹھ حرنه پته نته بيہ ہا دنيا سے اندر تہند عملی  
 فيصلہ كرنہ۔ بيٹك يمن ظالمين ہندہ خاطرہ ہجھ آخرتس اندر دودنكہ ون عذاب تَرَى الظَّالِمِينَ  
 مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ تمہ دہہہ وچھو كھ توہہ تم تا فرمان تہ ظالم سيٹھاہ كھو تان  
 تمو كھو سبہ يہ تمو كرہ مژہ آسن يلبہ تم تمن كامين ہند عذاب و تھن بس عذاب تمن پيٹھ يقيناً سپدہ ون  
 ہجھ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ بيہ  
 سمو لو كوايمان اون تہ رژہ عملہ كركيہ تم آسن جنتہ كين باغن اندر داخل تہندہ خاطرہ ہجھ تہندس  
 ہروردگارس نشہ تہ سورسہ يہ تم يژھن ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ يوسہ گوو خديہ سند بوڈ فضل، بوڈ  
 انعام۔ اتھ مقابلہ تھنہ دنيا ك عيش و عشرت كہي ذَلِكَ الَّذِي يُبَشِّرُ اللَّهُ عِبَادَهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
 الصَّالِحَاتِ ييہ گيہ خوشخبري يوسہ فرماوان تھہ اللہ تعالیٰ پنہ نين بدن سمويمان اون تہ رژہ عملہ كركيہ  
 چو كھ كافر اس مضمون پور بيان كرنہ بروٹھے زيہہ پيٹھ ژانگ تژاوتھ، چونج كرتھ تكلذ يہ چہ كٹھ كران تہي  
 آوتيس بشارتگ مضمون پور بيان كرنہ بروٹھے جملہ معترضس منز تكلذ يہ كزن۔ وكنہ خاطرہ سہ  
 مضمون بيان كرنہ سمہ سبت تہدي دل ويگہ ہن۔ نبی كريم صلى اللہ عليہ وسلمس آو كھم كرنہ قُلْ لَا  
 أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ توہہ فرماو تمن اے لو كھو پوچھنہ توہہ نشہ كانہہ مطلبہہ ژھانڈان  
 توہہ سبت يہ كٹھ بات كرنس اندر رشتہ داری ہمدہ محبتہ وراے يعنہ سبے پھٹس بہ توہہ نشہ ژھانڈھان كہ  
 ميان تہ تہند تعلقات رشتہ داری سم پھجھ سم ساری قرين سبت وابستہ ہجھ بلکہ تمام عربہ كين لوكن

حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ شَكُورٌ ﴿۳۱﴾ أَمْ يَقُولُونَ  
 افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشِئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَبِمِمْ  
 اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ﴿۳۲﴾  
 وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ

سیت پیوستہ چھہ تم دور چھہ یا نزدیک تم تعلقان ہندین حقون ہند تھاوی تو نمی خیال۔ تم تعلقان  
 چھہ مقصی تھہ تھہ کہ تمہ ہیو میانس مخالفس اندر جلدی کرن۔ بوزنہ بروٹھے شور لاگن بلجہ چھہ تم  
 تعلقان منگان کہ نہایت اطمینانہ سان، سودلہ بوزو توہہ گوڈہ بہ کیاہ چھس توہہ ونان توپتہ تویون  
 سومیان تھہ عقلہ ہنزہ تکرہ اندر توپتہ پر کھاویون وارہ سوکھہ غور و تاملہ سیت ہر گاہ تھہ اندر کانہہ شہاہ  
 تہ اشکالہ گزہ ہوہ سہ کر و صاف۔ ہر گاہ سومیان تھہ غلط آسہ تہہ تار و میہ وارہ فکرہ بوہر گاہ ڈلھہ آسہ توہہ  
 آید میہ سیزہ و تہہ پیٹھہ غرض یوسہ تھہ آسہ سواکن خیر خواہی پیٹھہ، یہ چھہ دستور کہ میہ دیونہ توہہ ونہ نے  
 تہ فوراً ہیو توہہ شور و غل لاگن۔ آشنائی ہندین تعلقان ہر گاہ توہہ نشہ کانہہ احترامہ چھہ تیلہ بوز  
 تو میان تھہ تھہ منز تھہند خاطرہ سیٹھاہ فاندہ چھہ وَمَنْ يَفْتَرِ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ  
 غَفُورٌ شَكُورٌ بیہ ئس اکھاہ نیکی کرہ آس گر و تم نیکین اندر زیادہ رزہ خوبی عطا یعنی آس دمسو تس زیادہ ثواب۔

بے شک اللہ تعالیٰ چھہ فرماں بردارن ہندین گو نہن سیٹھاہ عشمہار۔ تہزن نیکین سیٹھاہ قدر دان تہ رت  
 ثواب عطا کرہ ون أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَإِنْ يَشِئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ وَبِمِمْ  
 اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ کیاہ سہ لکھ چھا توہہ نسبت ونان زہ تمو چھہ یہ قرآن  
 مجید خدا ئس پیٹھہ اپز ٹھہر وومت نعوذ باللہ یعنی نبو ٹگ تہ وحیک خلاف واقعہ دعو کورمت۔ اتھہ صورتس  
 اندر چھہ خدا ئس قدرت کہ ہر گاہ سہ یژہ تھندس دس پیٹھہ کرہ سہ مہر۔ بیہ چھہ اللہ تعالیٰ سندیہ  
 طریقہ فطرت کہ سہ چھہ ہنہاوان اپز تہ پوزہ چھہ پزراوان غالب تہ ثابت پنہ نیوا حکامو سیت پزی پاٹھہ  
 سہ چھہ دلہ جن گھن ہنزتان پور خبر تھاوان وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ  
 وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ بیہ چھہ سئی تھہر رحیم کہ پنہ نین ہندن ہند توہہ چھہ تھہ کیو شرطو سان قبول کران

وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٢٥﴾ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ  
وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ﴿٢٦﴾ وَلَوْ  
بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ  
مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ  
مِنْ أَعْدَاكُمْ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿٢٨﴾

پس اگر کانہہ کافر توبہ کرچھ مسلمان سپدہ سہ چھہ ہند ایمان ان قبول کران بیہ چھہ سئی توبہہ برکتہ پنہ  
نیں بندن ہندین گوہن عفو کران۔ بیہ چھہ سئی تہ سورے زانان بیہ توبہہ کران چھوہ تہس چھہ معلوم کہہ  
کم کور توبہ خلوص دل تہ کم کور توبہ خلوصہ وراے وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُمْ  
مِنْ فَضْلِهِ بیہ چھہ سئی تمہن لوکن ہندس دعاءس اجابت کران۔ سمو ایمان اون تہ رزہ عملہ کرکھ۔ بیہ  
چھہ تمہن زیادہ عطا کران ہن فضل وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ ہم کافر کفرس پیٹھہ اصرار کرن اسلام  
ان نہ تمہن ہندہ خاطرہ چھہ مقرر سخت عذاب۔ اللہ تعالیٰ سدہ صفت رحمتک اثر چھہ کہ سہ چھہ  
سارنہ لوکن زیادہ مال عطا کران کیاہہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ ہر گاہ اللہ تعالیٰ  
پنہ نین بندن روزئیس اندر وسعت گرہ وہا تیلہ کرہ ہن تمہن زمینس اندر سرکشی تہ شرارت۔ عام طبعین  
ہندہ اعتبارہ چھہ لوکن ہنزہ ہستی ہند سبب اکہ اگس کن محتاج آئن۔ مال دارن چھہ کامہ منزدہ حاصل  
کرنہ خاطرہ مزورن تہ کاری گرن کن حاجتہ۔ فقیرن چھہ پونہ حاصل کرنہ خاطرہ مالدارن کن  
حاجت۔ تھہ پاٹھ چھہ دنیاہک کارخانہ پکان وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ لیکن سہ چھہ روزی نازل کران  
تمہ اندازہ موجب ئیس سہ یشہان چھہ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ بے شک سہ چھہ پنہ نین بندن ہند  
سورے زانان، سورے وچھان وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ أَعْدَاكُمْ وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ  
الْحَمِيدُ سہ پروردگار چھہ تھتھ حکیم کہ سہ چھہ رود تراوان لوکن ہندہ نا امید گرہنہ پتہ۔ بیہ چھہ سئی پنہ  
رحمتک آثار عالس منزواتاوان یعنی رود پر تھتھ جایہ واتاوان۔ پر تھتھ جایہ چھہ زمینس سر سبز کران بیہ

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ  
 وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذْ يَأْمُرُهُمْ بِالْحَمَةِ ۚ قَدِيرٌ ۙ ﴿٢٩﴾ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا  
 كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ ۙ ﴿٣٠﴾ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ  
 فِي الْأَرْضِ ۗ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ۙ ﴿٣١﴾  
 وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ ۙ ﴿٣٢﴾ إِنَّ يَتَشَاءُ يَكِينُ الرِّيحِ  
 فَيُظَلِّلَنَّ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ۙ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ

بھہ سئی سار نے ہند کار سازتھ کار سازی پیٹھ بھہ سے قابل حمد و ثنا و مِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ  
 وَمَا بَيْنَهُمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذْ يَأْمُرُهُمْ بِالْحَمَةِ قَدِيرٌ بھہ بھہ ہندہ قدرت کیونشانو اندرہ آسمان سے زمین  
 ہند پادہ کرن بھہ تمہن جاندارن ہند پیدہ کرن ہم آسمان سے زمینس منز بھہ کر اوی مت بھہن۔ سئی بھہ  
 تمہن سار نے مخلوقا تہ دوبارہ زندہ کر تھ قیامتگ دہ سو مبرس سے جمع کرنس پیٹھ یلہ سہ تمہن جمع کرن  
 بڑھ۔ پور قدرت وول۔ وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ بھہ بھہ سہ منتقم  
 آسکہ باوجود عفو سے در گذر کر وں۔ چنانچہ کس مصیبتا ہ توہہ واتان بھہ اے گنہ گار سہ بھہ حقیقتا واتان  
 توہہ تمو بھہ عملو سببہ توہہ ہم پنے نیو اتھو کر ان چھوہ۔ توتہ بھوہ سہ وار یکن گونہن عفو سے کر ان  
 وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ بھہ بھہ کیون نہ توہہ زمینہ کس  
 کمنہ حصص منز پناہ حاصل کر تھ سے روز تھ۔ اللہ تعالیٰ عاجز کر تھ۔ نہ بھہ تھ حاکم اندر تھندہ خاطرہ  
 کانہہ مدد گارہ سے یاری کر وناہ خدا کس ور اے وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ بھہ بھہ تھندہ  
 قدرت کیونشانو اندرہ ناوہ سے جہاز ہمہ دریا وں سے سمندر ن منز پکان بھہ۔ ہمہ تھندین کو ہم سببہ بھہ۔  
 تمہن بڈین جہازن ہند سمندر س منز بچن بھہ تھندی قدرت سے تہن إِنَّ يَتَشَاءُ يَكِينُ الرِّيحِ فَيُظَلِّلَنَّ  
 رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ ہر گاہ سہ بڑھ و اوس ٹھہر اوہ تمہ ناوہ سے جہاز ہمہ واوہ سیت پکان بھہ۔ تمہ گڑھن  
 روز تھ اچہ تھر پیٹھ یعنی سمندرہ کس سطحس پیٹھ۔ ہمہ بھہ تہن سے کام کہ و اوس بھہ پچہ ناوان۔ تمہ سیت

شُكْرٍ<sup>(۳۳)</sup> أَوْ يُوقِنُ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ<sup>(۳۴)</sup> وَيَعْلَمَ  
الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَّخِصٍ<sup>(۳۵)</sup> فَمَا أُوتِيْتُمْ  
مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى  
لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ<sup>(۳۶)</sup> وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ  
كِبْرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ<sup>(۳۷)</sup>

چھہ جہازتہ پکان ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور بے شک اتھ منز چھہ واریاہ قدر تک نشاندہ۔ پرستھ  
سیٹھاہ صبر کرہ ونہ سندرہ تہ شکر پہ ونہ سندرہ خاطرہ۔ یعنی با ایمان ہندہ خاطرہ اَوْ يُوقِنُ بِمَا كَسَبُوا  
وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ۔ یاہر گاہ سہ یرتھ سخت تیز و اور توادہ تمن جہازان اندر سارنہ سوارن گالہ تہنزہ پیچھ  
عملو سببہ۔ یعنی پھاٹہ ویکھ وریاؤس اندر۔ واریمن لوکن گرہ در گذر یعنی تمن پھاٹوہ نہ تمہ ساتہ مگر آخر تس  
اندر یہیہ تمن عذاب کرنہ۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُمْ مِنْ مَّخِصٍ۔ امہ تباہی ہندہ وقتہ حکمہ  
زان تمن لوکن تم کج محشی چھہ کران سائین آیتن اندر کہہ تہندہ خاطرہ چھنہ کانہہ ژکن جایاہ ساتہ عذابہ  
نشہ چنہ خاطرہ فَمَا أُوتِيْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى۔ امہ اندرہ سہ  
معلوم کہ مطلوب بناؤس قابل چھہ دُنیا بلکہ چھہ آخرت مطلوب مقدس بناؤس قابل۔ دون یہ  
کینتر ہاہ دنیاء کیو چیز و اندرہ توہم عطا کرنہ اَوْتِيْتُمْ چھہ محض چند روزہ دنیاء کہ زندگی ہندہ اکھ تمتع تلنک  
چیز اہ نِس عَمْرٍ خَمٌّ حَمْلٌ پیٹھ خَمٌّ گڑھ۔ یا کھ گوویہ کینرہا اللہ تعالیٰ اس نشہ تہندہ خاطرہ چھہ تہ چھہ  
رُت تہ پوشہ ون۔ لہذا گڑھ دنیا طلبی تراوتھ آخر تک طالب سہن۔ مگر سہ سہدہ حاصل ایمان و اعمال  
صالحو سیت بہ شرک و کفرہ نشہ پتھ روزنہ سیت چنانچہ سہ ثواب مذکور چھہ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ  
يَتَوَكَّلُونَ تہندہ خاطرہ سمو ایمان اون۔ بہہ کوڑکھ پنہ نِس پروردگار س پیٹھ اعتماد تہ بھروسہ وَالَّذِينَ  
يَجْتَنِبُونَ كِبْرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشِ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ بہہ ہم لوکھ بڑو گناہو نشہ چھہ چھہ  
روزان بہہ پیچھ کا مو نشہ بہہ تم ژکھ کھستھ ژکھ کھارہ و دینن معافی و دان چھہ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ  
بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٢٨﴾ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ  
الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٢٩﴾ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا  
فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ﴿٣٠﴾  
وَلَمَنْ اتَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ  
سَبِيلٍ ﴿٣١﴾ إِنَّهَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَ  
يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ بیه سمو حکم مون پنہ نس پروردگارہ سند بیه تھاو کہ نماز قائم پابندی سان .....  
وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ بیه آسہ تہزہہ پرستہہ کاماہ متہ منز نہ شرعی حکماہ بیان آسہ  
کرنہ آمت پانہ وانی مشورہ کر تہہ پورہ سپدان۔ بیه آسن تم تمہ مالہ منزہ نیس اسی عطا کو رکھ خرچ کران  
وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ بیه تم لو کہ تمکن پیٹھہ سمہ ساتہ کانسہ ہندہ طرفہ ظلم  
کرنہ آسہ یوان، تم اگر بدلہ آسن ہیوان سہ آسن برابر برابر ہیوان۔ زیادتی آسن نہ کران۔ بدلہ ہنک  
اجازت ہتھہ اسی تمکن دہشتت کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا بدی ہند سزا ہتھہ بدی تہہ ہش فَمَنْ  
عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ تمہ پتہ یعنی انتقامگ اجازت ونہ پتہ نیس اکھاہ معاف  
کرہ ظالمس بیه کرہ معاملس منز اصلاح سمہ سیت دشمنی دور سپدہ دوستی پادہ سپدہ تمیک ثواب ہتھہ حسب  
وعدہ اللہ تعالیٰ اس مہ۔ واقعی اللہ تعالیٰ ہتھہ پسند کران ظالمس۔ وَلَمَنْ اتَّصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ  
مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ وون سم لو کہ بدلہ نہ انتقام ہن ظالمن نشہ تہندہ ظلم کرنہ پتہ نیس ہتھہ تمکن  
لوکن پیٹھہ کاہنہ الزامہ نہ باز خواستہہ إِنَّهَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ  
بِغَيْرِ الْحَقِّ بلکہ ہتھہ باز خواست نہ الزام تمکن لوکن پیٹھہ ہم ناحق لوکن ظلم کران آسن۔ بیه آسن

أَلِيمٌ ﴿۳۳﴾ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ ﴿۳۴﴾  
 وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَبِيلٍ مِّنْ بَعْدِهَا وَتَرَى الظَّالِمِينَ  
 لَمَّارًا وَالْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّنْ سَبِيلٍ ﴿۳۵﴾ وَتَرَاهُمْ  
 يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَشِيعِينَ مِنَ الذَّلِيلِ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ  
 وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَيْرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ  
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَّا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ ﴿۳۶﴾ وَمَا كَانَ لَهُمْ

سرکشی سے بغاوت کران زمینس منزناحق اولیک لہم عذاب الیم تمہیں لوکن ہندہ خاطرہ چھ  
 مقرر عذابہ دگ سے دودتکہ ون لکن صبر و غفران ذلک لمن عزم الامور بے شک نئس شخص  
 کانہ ہندس ظلمس پیٹھ صبر کرہ، انتقامس درپے روزہ نہ عفو سے در گذر کرہ بے شک صبر سے در گذر کران  
 چھ بڈہ ہمتہ چوکا میواندرہ یعنی عفو سے در گذر کران چھ سیٹھا بہتر۔ ومن یضلیل اللہ فمالہ من و بیل من  
 بعدہ یہ اوس اوت تان حال مہتدین ہندون چھ امہ پتہ ضالینن ہند حال بیان کرنہ یوان کس اللہ  
 تعالیٰ و تھ راوہ راوہ تس چھند دنیا س منز تس پتہ کانہ چارہ سازہ سے مدد گارہ نئس تس و تہ پیٹھ اترہ ہا۔  
 قیاس اندر تہ آسہ تس سیٹھا چھ حال وتوی الظالمین لمارا وال عذاب یقولون هل الى مراد من سبیل  
 وچھو کہ تہہ تم ظالم سے کافر یلہ تم عذاب و تھن قیامتگ دوہ دپنہ لکن نہایت حسرتہ سان کیاہ سادنیاس  
 کن وائس گھہ نچ چھنا کانہہ صور تھہ سے کرہ ہو اس تعیل احکام سے نیک بنہ ہو وتراہم یعرضون  
 علیہا خشیعین من الذلیل یظرون من طرف خفی  
 بروٹھ کن انہ یں لکہ بون کن تراوتھ آسن فجالت در سوائی ہندہ سببہ وچھان آسن نار چھنمس کن اچھ  
 بون کن تراوتھ تلی نارہ وقال الذین امنوا ان الذین خسروا انفسهم واهلہم یوم القیامۃ تمہ  
 سادہ دین بالیمان پنہ نئس چہ نئس پیٹھ شکر دپنہ خاطرہ کہ بیشک تاوان زد گئے تھے سمونا فرمانیو سیت  
 تاوان ہیو پنہ نین پان پنہ نین شرین باذن از قیامتگ دوہ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم وارہ بوڑو



مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنْصُرُونَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ  
 مِنْ سَبِيلٍ ﴿٢٦﴾ اسْتَجِيبُوا لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ  
 مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِنْ مَّالٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ ﴿٢٧﴾ فَإِنْ أَعْرَضُوا  
 فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا ۖ إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا  
 الْإِنْسَانَ مِتْرًا رَّحْمَةً فَرِحَ بِهَا ۚ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ  
 أَيْدِيَهُمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ ﴿٢٨﴾ اللَّهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ط


یاد تھا و کہ ظالم یعنی کافر تہ تا فرمان لو کہ آسن دائمی عذابس اندر گرفتار و ما کان لکم من اولیاء  
 یَنْصُرُونَهُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ بیہ آسہ نہ تمن ستہ کا نہہ مد گارہ بس تمن مدد تہ یاری کر تہہ بیجہ ہا خدا بس  
 و رائے و مَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ سَبِيلٍ بیہ بس خدا و تہہ راورہ تس چھنہ نجات کابہہ دتھاہ اسْتَجِيبُوا  
 لِرَبِّكُمْ مِّنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا مَرَدَّ لَهُ مِنَ اللَّهِ ای لو کو حکم ملو پنہ بس پروردگار سندا - ایمان آنو  
 فرمانبرداری کرو سہ دوہینہ برو تہہ بیجہ دوہس بیجہ نیرہ بیجہ صورتہ چھنہ خدا یہ سبہ طرفہ مَا لَكُمْ مِنْ  
 مَّالٍ يَوْمَئِذٍ وَمَا لَكُمْ مِنْ نَّاصِرِينَ آسہ نہ تمنہ دوہہ کابہہ چھنہ جابا نہ آسہ تمنہ دوہہ تمنہہ خاطرہ خدا بس  
 کابہہ بازخواست کرناہ - نہ آسہ توہہ سب تہ انکار کرہ بیجہ صورتہہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا  
 إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلْغُ اے پیغمبر برحق تہہ بوزہ ناو لو کہ تم پس ہر گاہ تم لو کہ یہ بوز تہہ تہہ بھران تہ  
 ایمان آئن نہ اہہ ٹمی مہ روز و غمس تہ فکرہ اندرہ آسہ چھوہ نہ سوز مت تہہ تمنہہ شکر د رتہ راچہہ بیجہ کامیو  
 نشہ کیارٹو کہ تہہ زورہ ہتھہ - توہہ چھنہ منہ مگر سون حکم و اتناون بس تہہ با حسن وجہ انجام دو ان چھوہ -  
 یہبہہ خدا بس نشہ اعراض کرہ ٹک وجہ ہتھہ کہ تمن چھنہ خدا بس سیت کمل تعلق تہ چھہ ہتھہ پاٹھ  
 نان کہ وَاِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنْسَانَ مِتْرًا رَّحْمَةً فَرِحَ بِهَا آس یلہ تمنہ انسان چھہ پنہ رحمتک مزہ ژہناوان  
 تمنہ ساتہ چھہ نہ ژہنگان تمنہ نعمتہ سیت - ویزان چھنہ منہ مگر تمنہس پیٹھ نظر کر تہہ چھنہ تس شکر و ثنا  
 دپان وَاِنْ تُصِيبُهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيَهُمْ فَإِنَّ الْإِنْسَانَ كَفُورٌ توپتہ یلہ تمنہ انسان کابہہ سختیاہ تہ

يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِثَ سَنَةً يُمْسِكْ بِهَا الْقَنَاطِرَ أَوْ يُبْرِزْ جُهُمُ ذُرًّا أَوْ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُجْعَلَ مِنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ  
 قَدِيرٌ ﴿۵۰﴾ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَائِ  
 حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآذُنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ ﴿۵۱﴾  
 وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ

تکلیفہا و اتان چھ تمو پیچھ کامیو سببہ ستمہ تمو پنے نیو اٹھو کرہ مژہ آسان چھہ تمہہ ساتہ چھہ خدلیہ سنز  
 شکایت نہ گراو کران بے شک انسان چھہ سیٹھاہ احسان فراموش نہ ناشکر گزار بلکہ مُلْكُ السَّمَوَاتِ  
 وَالْأَرْضِ خدلیہ سنزے چھہ پادشہمت آسمان تہ زمین ہنز یَخْلُقُ مَا يَشَاءُ پادہ چھہ کران یہ یرشہان چھہ  
 يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُنْفِثَ سَنَةً دوان چھہ تمن یرشہان چھہ کورہ بیہ چھہ دوان تمن  
 یرشہان چھہ گبر اُوْبُرُوْجُهُمْ ذُرًّا أَوْ إِنْ أَرَادَ أَنْ يُجْعَلَ مِنْ يَشَاءُ عَقِيمًا بیہ  
 چھہ کران تمن یرشہان چھہ ہانٹھ یعنی بے اولاد، اولاد نسیہ محروم اِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ بے شک سہ چھہ  
 سوڑے زان ون۔ پور قدرت وول وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحِيًّا أَوْ مِنْ وَرَائِ حِجَابٍ بیہ چھہ  
 کانہہ انسان یہ جسم عنصری تھاوتھ موجودہ قوتن ہندہ اعتبارہ یہ طاقتھ تھاوان کہ دنیا س منز کیاہ کرہ  
 تس بروٹھ کتہ اللہ تعالیٰ تس سیت کلام۔ مگر چھہ یہ ممکن سموتریہ صورتو آندرہ کتہ صورتہ یا بلا واسطہ بلا  
 حجاب بطریق الہام کانہہ ہندس دس منزواتہ ناوان کانہہ رٹکٹھاہ بیداری منز یا خوا بس منز۔ یا بلا واسطہ  
 مگر پردہ تل اُوْرُسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بآذُنِهِ مَا يَشَاءُ یا چھہ سوزان کانہہ پیغام و اتاودہ نس سئ چھہ و اتاوان  
 خدلیہ سدہ حکمہ تمہہ تھہ بیمہ سہ یرشہان چھہ کانہہ بندہ خاص نسیہ اِنَّهُ عَلَىٰ حَكِيمٍ بے شک سہ چھہ  
 سیٹھاہ عالیشان نہ سیٹھاہ تھود، سیٹھاہ حکمتہ وول وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا تھہہ پانٹھ سوزاسہ  
 توہہ گن یارسول اللہ کلاماہ یعنی قرآن مجید پنے طرفہ۔ بیہ بناوی وہ اسہ تہہ پیغمبر خاص لوکن بلکہ خاص  
 الخاص لوکن سیت۔ سانہ کلام کرچہ صورتہ چھہ تہہ ترہ صورتہ۔ بلکہ توہہ سیت باوجود صلاحیت یوہے

وَلَا إِلِهَ إِلَّا نُوْرًا تَهْدِي بِهٖ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا  
 وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۵۲ صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِي لَهٗ مَا  
 فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ ۗ اِلَّا اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ الْاُمُوْرِ ۝۵۳

سلسلہ جاری ہے باقی عام لوکن سیت تھہ پاٹھ گرواں نبروانہ بطریق مشافہہ و معاینہ کلام۔ تھہ پاٹھ وحی  
 سوزنہ سیت سپدے توہہ بے مثل علوم حاصل ورنہ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتٰبُ وَلَا الْاِيْمٰنُ وَلٰكِنْ جَعَلْنٰهُ  
 نُوْرًا تَهْدِي بِهٖ مَنْ نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا لیکن اسہ کور توہہ عطا نبوت و قرآن۔ یہ قرآن مجید کور اسہ اول  
 تہندہ خاطرہ دوم توہہ وراکی بین لوکن ہندہ خاطرہ اکھ نوراہ سمہ سیت اس و تھہ چھہ ہاوان تین تین  
 ہند اس یرٹھان چھہ پنہ نیوہند و اندرہ علوم و اعمال کن وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ تہہ تہ چھوہ  
 بیشک امہ قرآن مجیدہ سیت و تھہ ہاوان عام لوکن راہ راستہ کن صِرَاطِ اللّٰهِ الَّذِي لَهٗ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا  
 فِي الْاَرْضِ تہ خدایہ سزہ و تہ کن یسند تہ سورے چھہ یہ آسمان تہ زمین منز چھہ اِلَّا اِلَى اللّٰهِ تَصِيْرُ  
 الْاُمُوْرِ اے لو کو وارہ بوزد کہ سارنے کائین ہند انجام تہ مرجع چھہ اللہ تعالیٰ سہ و یہ سارنے  
 عمل کن، تھہ یہ شوبہ، موزور۔



## سُورَةُ الرَّخْرِفِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 حم ﴿١﴾ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿٢﴾ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ  
 تَعْقِلُونَ ﴿٣﴾ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ ﴿٤﴾ أَفَضْرِبُ  
 عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ ﴿٥﴾ وَكَمْ أَرْسَلْنَا  
 مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ ﴿٦﴾ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ

حَمْ سَمِ چھہ حروفِ مقطعات سمن ہند معنی زلہ پانہ اللہ تعالیٰ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ قسم چھہ سَمِ  
 قرآن مجید ک سَمِک معنی بالکل واضح چھہ إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ اِسْمِ کریمہ کتاب  
 عربی پانٹھ قرآن۔ تہہ توبہ اے عربہ کیو لو کو باسانی فخرہ ترہ۔ تہندہ واسطہ پنھن ساری دنیاء کی اقوام  
 یہ مقدس کتاب وَاللّٰہِ فِیْ اُمِّ الْکِتَابِ لَدَیْنَا لَعَلِیٌّ حَکِیْمٌ بیشک یہ قرآن مجید چھہ لوح محفوظ اندر اِسْمِ  
 نشہ وجوہ اعجاز اسرار عظیمین مشتمل آسنہ موکہ سیٹھاہ تھدس مرتبس اندر تبدیل و تحریفہ نشہ محفوظ  
 آسنہ موکہ سیٹھاہ محکم تہ مضبوط۔ امیک احکام چھہ ساری مبنی برحمت۔ امیک مضامین چھہ اصلاح  
 معاش و معادہ خاطرہ اعلیٰ ترین ہدایات پنہ مشتمل لوح محفوظ اندر چھہ یہ قرآن مجید سارنئے  
 آسمانی کتابن پنہ نہ لیکنہ آمت۔ یژھ جلیل القدر کتاب گدھ ضرور مان۔ لیکن اگر تہہ ماؤنہ توتہ چھہ  
 آس یہ کتاب توبہ بوزنادنہ خاطرہ ضرور نازل کرن۔ تہہ مَانْ تُوایماتہ مَانْ تُو افَضْرِبُ عَنْکُمُ الذِّکْرَ  
 صَفْحًا أَنْ کُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِیْنَ اے معر و کیاہ توبہ چھا خیال کہ اَسْ رُلون یہ نصیحت نامہ قرآن مجید  
 توبہ نشہ پنہ سَمِ تھہ موکہ کہ تہہ کیاہ چھوہ حدہ روئے نافرمانی گرہ وکن امہ خیالہ نشہ نیرو وکَمْ اَرْسَلْنَا  
 مِنْ نَبِیِّ فِی الْاَوَّلِیْنَ اِسْمِ سوز کا تیاہ پیغمبر برو نظھین لوکن منز۔ تہندہ انکار تکذیبہ کہ باوجود یہ کورنہ  
 اِسْمِ کہ تہندہ تکذیبہ موکہ گرہ ہو اَسْ پیغمبر سوز نگ سلسلہ بند۔ تہہ پانٹھ اِسْمِ تہندہ تکذیب کرہ نگ

يَسْتَهْزِءُونَ ﴿٤﴾ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ  
 الْأَوَّلِينَ ﴿٥﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ  
 خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ ﴿٦﴾ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَ  
 جَعَلَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿٧﴾ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ  
 السَّمَاءِ مَاءً يَقْدَرُ فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا كَذَلِكَ نُخْرِجُونَ ﴿٨﴾  
 وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُمُ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ

كانه هر واکورنه بیته پاٹھ منہ کرو تہہ تہہ کانہہ ہدواتہ نم کیاہہ تمکن بروٹھہ ہم لوکھ آس تہند حال تہہ اوس  
 بیٹھہ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ تَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ تمکن لوکن نعبہ اوس نہ واتان کانہہ پیغمبر اہہ نس نہ  
 تم ٹھہہ آس کران فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ ہمں گال آسہ تم لوکھ ہم آز  
 کیمن کافر ن ہندہ خونہ زیادہ طاقتور آس۔ چنانچہ تمکن بروٹھہمں لوکن ہندہ تباہ و برباد گوشہ نک واقعات  
 آی بیان کرنہ آیات کریمن آندر۔ یہ تہند حال سپد تی سپدہ آزی مکر ن ہند حال تہہ وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ مَنْ  
 خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ بیہ ہر گاہ تہہہ تمکن لوکن پر ژھوزہ آسمان تہہ  
 زمین کم کور پادہ ضرور ون تم کہ پادہ کر تم نمی خداین ہمں سیٹھہہ زبردست ، سوڑی زانہ ون چھہ  
 الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمُ فِيهَا سُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ہی خداہن تہندہ خاطرہ زمین  
 کور فرشاہ ہتھہ پیٹھہ تہہ آرام چھوہہ کران بیہ کران تہندہ اورہ یور پھیر نہ خاطرہ ، منزل مقصودس تان  
 واتنہ خاطرہ تھہ منزوتہ بیٹھہ تہہہ تموو تو پچھہ مطلبس تہہ مقصدس واتان آسہ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ  
 مَاءً يَقْدَرُ بیہ ہم خداہن ترود آسمانہہ طرفہ روداہ اندازہ کرتھہ حسب مشیت و حکمت فَأَنْشَرْنَا بِهِ  
 بَلْدَةً مَيِّتًا ہمں کور آسہ نمی رودہ سیت زندہ مومت زمین کذالک نُخْرِجُونَ بیٹھہ پاٹھہ کیاہہ بیو قبر و  
 آندرہ تہہہ تہہہ زندہ کرتھہ نبر کڈنہ قیامتک دوہ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا بیہ ہی خداہن پادہ کر  
 مختلف قسمک چیز وَجَعَلَ لَكُمُ مِنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ بیہ تہندہ خاطرہ ناوہ تہہ جہاز بیہ چار پاپادہ

مَا تَرْكِبُونَ ﴿۱۱﴾ لِيَسْتَوِيَ عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُونَ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ ﴿۱۲﴾ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ ﴿۱۳﴾ وَجَعَلُوا آلَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ ﴿۱۴﴾ أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ ﴿۱۵﴾ وَإِذَا ابْتَرَأَهُمْ بِمَا ضَرَبَ

سمن پیٹھ تہہ کھسان تہ سوار سپدان چھوہ۔ لِيَسْتَوِيَ عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُونَ نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ  
 پیٹھ تہہ وارہ بہو تہمدین پٹھن پیٹھ توہتہ پاوژ تیس پنہ نس ہروردگارہ سزہ یہ نعمت یلہ تھ سواری پیٹھ  
 وارہ روزان آسبو وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ تمہ وقتہ آسوپران یہ مضمون  
 کہ منزہ ہتہ پاک چھہ سہ پروردگار ہم تابع تہ رام کر یہ سواری سانہ خاطرہ ورنہ فی الحقیقت آس آس نہ  
 پانہ یہ قابلیت تھوان کہ آس کیالہ ہو آس سواری پیٹھ قابو۔ کیا زہ سہ جانور چھہ سانہ خوتہ زیادہ طاقتور آسان  
 یہ چھہ محض مہربانی اللہ تعالیٰ سزیتھہ پاٹھہ بچہ ہونہ آس آس پیٹھ جہاز تہ ناوہ پکہ ناو تھ۔ اللہ تعالیٰ نے آسہ  
 جہاز تہ ناوہ بناوہ نلک توفیق دت توپتہ تمہ آس پیٹھ پکہ ناوہ نلک تدبیر تہ بچھہ ناوہ ہا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ  
 ان کر خشکی تہ دریائی سوارین ہنزہ کریتھہ آسہ کر سمس منز امہ اندرہ چھہ سپدان معلوم کہ ناوہ گھسہ ون  
 تہ گروہہ ہرکن سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرْنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ \* وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ بیہ چھہ  
 آس پنہ نس ہروردگار سکن واپس رجوع کرہ ونی وَجَعَلُوا آلَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا توحیدس پیٹھ بے  
 شمار دلیلہ آسبحہ باوجود چھہ ٹھہر او ان لوکھ خدائس تہمدوے بند و اندرہ کورہ تہ سمر سمن جزع بناوان چھہ  
 خدایہ سندی۔ حالانکہ نس اجزاء آسن چھہ محال تسدہ خاطرہ جزع قرار دین گو نعوذ باللہ تسد حادث  
 مانن نس بوڈ کفر تہ ناشکری چھہ۔ اکھ خرابی چھہ اتھ منز یہ بیاکھ خرابی چھہ اتھ منز کہ سیم لوکھ چھہ  
 کورین ناقص زنانان توپتہ چھہ خدائس سیت تمہ نسبت ٹھہر او ان إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ بے شک  
 انسان چھہ نن پاٹھہ ناشکری گرہ ون اَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ کیاہ تم چھاپنہ نیو



مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ ﴿۲۰﴾ أَمْ أُنذِرُكُمْ  
 كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ ﴿۲۱﴾ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا  
 آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿۲۲﴾ وَكَذَلِكَ مَا  
 أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا  
 إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿۲۳﴾  
 قُلْ أَوْ كُوجِبْتُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا

الْأَخْرُصُونَ تم۔ جھنہ اُج خبرے کہینہ۔ تم جھہ بل تھقیقہ در اے کتھہ کران اندازہ لگاوان امر اتینہم  
 کتبا من قبلہ فہم بہ مستمسکون کیاہ اسہ ہتھا تمین کا نہہ کتاباہ امہ قرآن مجیدہ۔ بروٹھ عطا کر مثر  
 اتھہ دعویٰ اس اندر کیاہ جھہ تم تمی سیت استدلال کران حقیقت جھہ یہ کہ نہ جھہ تمین عقلی دلیلہاہ  
 اتھہ پیٹھ نہ نقلی دلیلہاہ بل قالوا اننا وجدنا ابائنا علیٰ ائمہ وانا علیٰ اثرہم مقتدون بلکہ جھہ تم  
 کران پیروی بروٹھیم ہندین رسکن ہنز۔ ونان جھہ کہ اسہ وچھہ مائل بڈب ہتھن کہہ طریقہ پکان اس تہ جھہ  
 پکان تھہندوے نقش قدم موجب وکذالک ما ارسلنا من قبلك فی قریۃ من نذیر الا قال مترفوہا  
 اننا وجدنا ابائنا علیٰ ائمہ وانا علیٰ اثرہم مقتدون ہتھہ پاٹھہ سوزنہ اسہ توہہ بروٹھہ یار سول اللہ کتھہ  
 شہرس منزرا کا نہہ بینبرہاہ تمین نیم کرنہ خاطرہ۔ مگردوان اسی حمہ شہرک لوکھ مالدارتہ آسودہ حال کہ اسہ  
 وچھہ پنی مائل بڈی بب اکہ وتہ پکان اس تہ جھہ تھہندے نقش قدم پیٹھہ ہتھہ تھنز پیروی کران قل  
 او کوجبتکم باہدی مہا وجدتم علیہ ابائکم قالوا انما ارسلکم بہ کفر وون تھہند تم پیغمبرن فر موو تمین  
 کیاہر گاہ بہ توہہ نطہ پیش کرہ سووتھہ یوسہ زیادہ مطلبس واتاہون اسہ حمہ وتہ خوتہ ہتھہ پیٹھہ توہہ  
 وجھو کہ پن مائل بڈب توہہ پکوتہ تہہ تھی وتہ۔ تم لگ ڈہنہ عنادہ کنی تہہ ٹیس دیناہ تھہ سوزنہ آمت چھوہ  
 اس جھنہ سہ دین مانانی۔ بلکہ جھہ اس تھہ انکار کران۔ یلہ تھہند عنادا تھہ در جس ووت فانتصنا منہم  
 فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین کس ہیوت اسہ تمین پور، انتقام۔ کس وجھو کیاہ سپدا انجام تمین نہ



بِمَا أُرْسِلْتُ بِهِ كُفْرُونَ ﴿۲۳﴾ فَأَنْتُمْ نَامٌ مِنْهُمْ فَاَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ  
عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ ﴿۲۴﴾ وَاذْ قَالَ اِبْرَاهِيْمُ لَآبِيهِ وَقَوْمِهِ اِنتِي  
بِرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ ﴿۲۵﴾ اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَاِنَّهُ سَيَهْدِيْنُ ﴿۲۶﴾ وَ  
جَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۲۷﴾ بَلْ مَثَعْتَ  
هُؤُلَاءِ وَاٰبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ ﴿۲۸﴾ وَكَلَّمَا  
جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ وَاِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ ﴿۲۹﴾ وَقَالُوْا لَوْلَا

مانہ و نین ہند۔ ہر گاہ تم آباء و اجدادہ نے ہنز متابعت چھہ کرن تھیلہ شو بہ متابعت کرن تس جد اعلیٰ  
سزیم مسلم و معظم چھہ سار نے عربن نشہ۔ تم و چھو تھی مضبوط تہ محکم آس توحیدس پیٹھ و اذ قال  
اِبْرَاهِيْمُ لَآبِيهِ وَقَوْمِهِ اِنتِي بِرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ بیہ پاؤ کوکھ ژئیس قصہ ابراہیم علیہ السلام تھیلہ فرمو  
تمو پنہ نس مالس تہ پنہ نس قومس بے شک بہ چھس بیزار تم سار نے ہنز عبادت کرنہ نشہ یمن ہنز  
پرستش کران چھوہ اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَاِنَّهُ سَيَهْدِيْنُ مگر بہ چھس تس ذات پاکس سیت تعلق تھاوان  
یم بہ پیدہ کورس بے شک سنی چھہ میانہ دینی و دنیوی مصلحتن کن میہ رہنمائی کران تہ و تھ ہاوان  
وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقْبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ بیہ قائم روزہ دن کتھ تراؤ تمو باقی پنہ نین اولادن منز  
تھ تم ہزس کن رجوع کرن۔ یعنی تمو کرنہ نین اولادن وصیت شرک تراہ نس تہ توحید پالہ نس  
متعلق مگر سیم لوکھ چھہ شرک نشہ بازوان بَلْ مَثَعْتَ هُوَ لَوْلَا وَاٰبَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ  
بلکہ تھ ناومیہ سیم لوکھ بیہ تھند مال بدبب زتھہ عمرہ تہ میٹھہ رزقہ سیت تمح۔ یوتان و اثر تم نشہ پز  
کتاب بیہ سوڑی نزاہون تہ صاف بیان کرہون پیغمبر خدایہ سندہ طرفہ و کَلَّمَا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْا  
هٰذَا سِحْرٌ وَاِنَّا بِهٖ كٰفِرُوْنَ تو پتہ یلہ دوت تم یہ پوز قرآن مجید تم ہزہ ہاشکرو شاد ہن تھ بدل  
دیکھ یلہ سیمک معجزات و چھہ کہ بیہ چھہ بحر تہ جود۔ اُس چھہ اتھ انکار کران یہ و وکھ قرآن مجیدس  
نسبت وَقَالُوْا لَوْلَا نَزَّلَ هٰذَا الْقُرْآنُ عَلٰی رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيْبِيْنَ عَظِيْمٍ بیہ لگ دہنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ

نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرِيبَيْنِ عَظِيمٍ ﴿۳۱﴾ أَمْ  
يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ لَنْ نَسُنَّ بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ  
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ  
بَعْضًا سَخِرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿۳۲﴾ وَلَوْ لَا أَن  
يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ  
لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴿۳۳﴾ وَلِبُيُوتِهِمْ

دسلن متعلق کہ یہ قرآن مجید کو نہ آواز ل کر نہ سمودوہ یو شہر و منزہ مکہ و طائفہ کیو لو کو منزہ کا نہ  
بدس شخصس پیٹھ **أَمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ** کیاہ تہندس ہروردگارہ سنز خاص رحمت یعنی نبوت چھا  
سم پائے تقسیم کرن تہ باگرن یژھان۔ یہ چھہ سراسر تہنز نادانی۔ تمن کیاہ حق چھہ اتھ منز دخل  
دنگ کیاہہ **لَنْ نَسُنَّ بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا** اس چھہ تقسیم کران تہ باگران تمن منز تہند  
رزق تہ روزی دنیاچہ زندگی اندر **وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ** تھہ تقسیمس اندر کور اسہ تمو  
آندرہ اڈین ہند درجہ تھو اڈین پیٹھ **لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سَخِرِيًّا** تھہ تمہہ سیت یہ مصلحت حاصل  
سپدہ کہ تمو آندرہ اڈین کوم اڈین نشہ تمہہ سیت روزہ عالمک نظام قائم **وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ**  
تو پتہ چھہ یہ کتھ ظاہر تہ یقینی کہہ تہندس پروردگارہ سنز رحمت یعنی نبوت چھہ بدرجہا بہتر تہ افضل تمہہ  
مال دنیاخو تہ بس سم سونبر اوان چھہ یعنی بلہ یہ دنیوی معیشت بس ادنی درجک چیز چھہ تمیک تقسیم  
کرونہ اسہ تہنزہ راہیہ موجب، کیاہ نبوت بس اعلی درجک چیز چھہ تمک مصالحتہ چھہ اعلی درجکی تمیک  
تقسیم تھہ پاٹھ گرو اس تہنزہ راہیہ موجب تھہ روز تجہ صلاحیتک بناعتہ چھہ نہ امہ نشہ مال وریاست، دنیاءک  
مال و دولت جاہ و شہمت چھہ اسہ نشہ حقیر و ذلیل تمہہ تمہہ کہہ **وَلَوْ لَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً**  
**لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ** بیہ ہر گاہ یہ کتھ آسہانہ  
کہ ساری لوکھ کیاہ نہ ہن گئی جماعت کا فرن سیت موافقت کر تھہ نہ کرہ ہو اس حضرت رحمانہ سندین

أَبُو آبَا وَسُرَّرَ عَلَيْهَا يَتَكُونُونَ ﴿٣٧﴾ وَزُخْرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا  
 مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٣٨﴾  
 وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴿٣٩﴾  
 وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٤٠﴾  
 حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْبَشْرِ قَيْنِ

مَنگرن، تہندین گرن ہندی نیش تہ تالورویہ سندھیہ تمہ ہیرہ سمو پیٹھ ہبور کھسان تہ بون وسان چھہ تمہہ  
 تہ گرہ ہو کہ روپہ سزے وَلِيُوِيْلِيْمُ اَبُوآبَا وَسُرَّرَ عَلَيْهَا يَتَكُونُونَ \* وَزُخْرُفًا بیہ کرہ ہو کہ تہندین گھن  
 ہندے دروازہ بیہ چارپیہ تمکن پیٹھ تم ڈوکہ دتھ بہان تہ آرام کران چھہ روپہ سند تے چیز گرہ ہو اُس سونہ  
 سند تیوت چھہ آسہ نشہ مال دُنیا بے اعتبار تہ بے قدر وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا  
 وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ یہ سوزے کہینہ چھہ مگر ناپا سدا ر دنیا چہ زندگی ہندا کہ ساماناہ پائیدا ر  
 آخرت بیہ آخر تک پوشہ ون سازو سامان چھہ تہندس خدا اُس نشہ تمکن لوکن ہندہ خاطرہ تم تس  
 کھو ژان شرکہ نشہ پتھ روزان وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِيضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ اُس اکھاہ حضرت  
 رحمانہ سندہ نصیحتہ نشہ یعنی قرآن مجیدہ نشہ چھہ زانتھہ کر تھ اون بنان پتھہ پاتھہ تم کافر چھہ شافی دلیلہ  
 آتھہ سمو سیت علم ضروری حاصل سپدان چھہ تجاہل تہ تغافل کران اُس چھن تس پیٹھ مقرر کران اکھ  
 شیطانہ اُس تس سیت سیت روز تھ کتھ چیز چہ کامہ کن آتھہ دتھ ہتھہ ووان وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ  
 السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ بے شک تم شیطان چھہ تمکن لوکن سیرہ وتہ نشہ پتھہ رمان مگر تمکن  
 چھہ پتھہ جایہ گمانہ کہہ تم چھہ سیرہ وتہ پیٹھہ تمکن ہنزہ گرا ہی ہنزہ صورت آسہ تہندہ وتہ پیٹھہ پکھہ نچ کیاہ  
 امید بیہ کرنہ تہند غم کیاہ چھہ کیون حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بَعْدَ الْبَشْرِ قَيْنِ فَيَسْ  
 الْقَرِينُ یوت تام قیامتک دوہ پتھہ شخص آسہ نشہ وتہ سہ آسیس سیت۔ آسس سپدہ پتھہ غلطی ہند  
 احساس۔ اُس شیطانس کن لکھہ ونہہ کاشکے میہ منز تہ ذبیہ منز آسہا دُنیا س منز تیوت دور ریوت

فَيْسَ الْقَرِيْنُ ﴿۳۸﴾ وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ اَنْكُمُ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ ﴿۳۹﴾ اَفَاَنْتَ تَسْمِعُ الصَّمَّ اَوْ تَهْدِي الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ﴿۴۰﴾ فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَاِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُوْنَ ﴿۴۱﴾ اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ ﴿۴۲﴾ فَاَسْمِعْ سِكِّ بِالَّذِي اُوْحِيَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ﴿۴۳﴾ وَاِنَّهُ لَذِكْرٌ

مشرقس تہ مغربس منزجھہ کیا زہ ڈہ چکھ سیٹھاہ پچھ رفیق ژبیہ کور تھس بہ گمراہ۔ مگر اکی سندیہ وئیں بیہ نہ  
 ائس ئنہ یکار امہ ساتہ وئندہ پچھہ وَلَنْ يَنْفَعَكُمْ الْيَوْمَ اِذْ ظَلَمْتُمْ اَنْكُمُ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُوْنَ یلیہ توہدہ دنیاہ س  
 اندر کفر کرنہ سیت ظلم کور وہ۔ پچھہ پاٹھ نہ از توہہ افسوس و حسرت کرنس کا نہہ فاندہا چھہ پچھہ پاٹھ  
 چھہ پچھہ کچھہ تہ تہندہ کچھہ کا نہہ فایدہ کہ توہہ کیاہ چھوہ عذابس اندر اکھ اکی سندی شریک یعنی پچھہ پاٹھ  
 دنیاہ س اندر کچھہ بلا یہ گرفار گچھہ سیت اکھ ائس کچھہ کچ لوژر محسوس آس سدا ن تہ آسہ نہ متہ بلکہ  
 آسہ جہنمک عذاب شدت امہ کچھہ امہ کچھہ ہند ہوشی آسہ نہ کانسہ سہ کیاہ گرہ پئس کانسہ کن التفات تہ  
 توجہ۔ پر پچھہ اکھاہ آسہ پنہ ئس حالس اندر بتلا اَفَاَنْتَ تَسْمِعُ الصَّمَّ اَوْ تَهْدِي الْعُمْىَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلٰلٍ  
 مُّبِيْنٍ اے پیغبر توہہ یلیہ بہنہزہ حالتھ معلوم سپز کیاہ تہہ پچھو کہ زربوزہ ناتھہ یا پچھوہ ائین و تھہ ہاوتھہ۔  
 بیہ پچھو نہ سہ شخص ئس منہ گمراہی منز پچھو مت آسہ و تہہ پیٹھہ ائچھہ۔ یعنی تہندہ ہدایت چھہ تہندہ اختیارہ نشہ  
 نیر۔ لہذا مہ کچھو تہہ تمیک غمے۔ تمہ ہنزیہ سرکش تہ نافرمانی بیہ نہ نظر انداز کرنہ بلکہ بیہ تمہ نشہ امیک  
 ضرور انتقام ہنہ۔ اوہ سہ تہنہزہ موجودگی اندر آس ئن یا تہندہ سہمہ عالمہ گرھنہ پتہ آس ئن فَاِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ  
 فَاِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُوْنَ ئس ہر گاہ آس تہہ بیہ عالمہ نمودہ توتہ چھہ آس تمہ نشہ ضرور انتقام ہیوہ ون  
 اَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ تہ ہاوہ توہہ تہ سہ عذاب سمیک آسہ تمہ وعدہ کور مت  
 چھہ سہ گرو آس تمہ نازل تہنہزہ موجودگی اندرے۔ بہر حال آس چھہ تمہ پیٹھہ پر پچھہ طریقہ پور  
 قدرت تھادان فَاَسْمِعْ سِكِّ بِالَّذِي اُوْحِيَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ئس روز توہہ پورہ اطمینانہ سان

لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ ﴿۳۷﴾ وَسَأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا  
 مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا  
 يُعْبَدُونَ ﴿۳۸﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ  
 فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۹﴾ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذْ هُمْ

اتھ قرآن مجید س پیٹھ قائم۔ ئس توہم پیٹھ وجیہ کہ ذریعہ نازل آو کر نہ۔ تہہ ہجھوہ پیشک سیزہ و تہ پیٹھ  
 ورائہ لڈ کڈ لک و لِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ یہ قرآن مجید ہجھ شرف تہ عزت تہندہ خاطرہ ہیہ تہندہ  
 قومہ خاطرہ تہندہ خاطرہ ہجھ سمہ موک کہ توہم گن ہجھ بلا واسطہ اتھ اندر خطاب تہندہ قومہ خاطرہ  
 ہجھ امہ موک کہ تم ہجھ تہندہ واسطہ مخاطب عام پادشہن ہندہ طرفہ خطاب سڈن ہجھ باعث کمال  
 شرف و عزت ون ہجھن کتھ یلہ ملک الملوکہ سندہ طرفہ خطاب آسہ۔ سہ کوتاہ باعث کمال شرف و  
 عزت ہجھ قومہ آندرہ ہجھ مراد قریش یاساری عربک لوکھ یاساری امتی۔ توہ سار نے ہیہ یہ پر ژھنہ  
 پنہ پنہ ذمہ داری ہندین حقوقن متعلق ہجھ منز تمو کوتاہی کر مرژ آسہ ہیہ پر ژھنہ تبلیغس متعلق باقین  
 نغیر ہیہ پر ژھنہ تعمیل احکامن متعلق ہجھ منز تمو کوتاہی کر مرژ آسہ وَسَأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ  
 رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهًا يُعْبَدُونَ یار سول اللہ ہر گاہ توہم خوش گرہ تھی پر ژھنہ تہ  
 دریافت کمر تو تمین نغیر سم آسہ توہم ہرونٹھ پنہ نیو پیغیر و آندرہ سوزی لوکن گن کیاہ آسہ چھا حضرت  
 رحمانس و رائے ہیہ معبود مقرر کر مت تمین ہنز پر ستش کرنہ ہیہ ہایعہ ہنز و تھ تہ ہجھ سوے یوسہ بن  
 حضرات انبیاءن ہنز آس۔ شرکچہ تعلیم ہجھنہ کانسہ پیغیرن و ژھنہ نہ ہجھ اللہ تعالیٰ ان کتھ دیکس منز یہ  
 تھ جائز قرار و ژھنہ خدائس و رائے کیاہ ہیہ کانسہ ہنز پر ستش کرنہ۔ خدا ہیہ سندیہ ارشاد کرن کہ تھی  
 پر ژھنہ پیغیرن، سہ گو و سمہ وقتہ تمین سیت ملاقات سپدہ مثلاً شب معراجس اندر۔ یا و جھنہ تہنزن  
 کتابن اندر۔ بہر حال ئس ئس ذریعہ توہم ممکن سپدہ سہ کر تو تہہ استعمال۔ توہ سپدہ صاف معلوم کہ کتھ  
 آسانی دیکس اندر ہجھنہ کتھ وقتہ شرک اجازت دہہ امت و لَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ  
 فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ پڑ پاٹھ ہیہ سوز آسہ موسیٰ کلیم اللہ پنن آیت ہتھ فرعونس تہ تہندین

مِّنْهَا يَصْحَكُونَ ﴿۴۶﴾ وَمَا تُرِيهِمْ مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا  
وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۴۷﴾ وَقَالُوا يَا آيَةُ  
السَّاجِرِ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ ﴿۴۸﴾  
فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُثُونَ ﴿۴۹﴾ وَنَادَى فِرْعَوْنُ  
فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ  
تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿۵۰﴾ أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ

اہل کارن کین تو پتہ فر مو تمن نشیہ یتھ تمو اکی فرعون بہ جھس پیغمبر رب العالمین سدہ طرفہ توہیہ لوکن ہدایت کرنہ خاطرہ مگر فرعونؑ تہ تمی سند یولو کو مون نہ فلما جاءهم بالآيات اذا هم منها ياصحكون اویلیہ موسیٰ علیہ السلام دوت تین نشیہ سان آیات یعنی آیات تسعہ نو آیات ہیتھ۔ یکبار لگ تم لو کہ تم آیات و جھتھ اسنہ تہ جھتھہ کرنہ و ما تریہم من آية الا هي اكبر من اوتیہ آس نہ آس تین کا نہہ معجزہ ہوان مگر سہ اوس بیہ معجزہ خود بوڈ آسان و اخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون اسہ کرے تم گرفتار مختلف عذابو سیت دیوہ تم تا فرمانیو نشیہ بازیتھ خدا بس کن رجوع کرن و قالوا يا آية الساجر ادع لنا ربك بما عهد عندك اننا لمهتدون بیہ دوپ تمو موسیٰ علیہ السلام عذابو سیت تنگ یتھ اے جادوگرہ سانہ خاطرہ معجتہ پنہ نس پروردگار س کیا زہ ثیہ چھے تم قبولیت دعاء ک وعدہ کورمت۔ بے شک آس جھتھ و تہ پیٹھ پوہ دن ہر گاہ آس سمو عذابو نشیہ نجات لبو۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کور تہندہ خاطرہ دعا عذاب سپد تین نشیہ دور فلما كشفنا عنهم العذاب اذا هم ينكثون اویلیہ اسہ تین نشیہ عذاب تل تہ دور کور یکبار ہوت تمو بیہ سہ وعدہ پھر اوان بیہ ہڑکہ تا فرمانی کرن۔ و نادى فرعون فى قومه قال يا قوم اليس لى ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتى افلا تبصرون بیہ کر فرعونؑ کرکھ تہ منادی پنہ نس تو س منزا لبایہ خیال کر تھ کہ خمر چھا موسیٰ علیہ السلامہ سندواریہ معجزہ و چھت ماسدن عام لو کہ متاثر سپد تھ مسلمان منادی اندر ونہ نو وکھ اے میانہ قومہ کیو لو کھو قبطیو میہ چھنا سمہ مصر ج

مِهَيْنٌ ۙ وَلَا يَكَادُ يَبِينُ ﴿۵۲﴾ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ  
 أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ﴿۵۳﴾ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَطَاعُوهُ  
 إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ ﴿۵۴﴾ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ  
 أَجْمَعِينَ ﴿۵۵﴾ فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ ﴿۵۶﴾ وَلَمَّا ضُرِبَ

حکومت سے سلطنت سے یہ جھٹھا مایا نیو مکانو تہ باغو منز سمہ جو یہ تہ کولہ پکان یمہ دریا ی نیلہ نشہ کڈنہ آمزہ  
 ہتھ۔ کیا ہتھ چھوہ ناو چھان تم چیز۔ موسیٰ علیہ السلا مس نشہ ہتھہ کہین۔ وون ونو تہ ہتھہ بہ ہتھہ بہتر تہ  
 قابل اتجان عنہ موسیٰ علیہ السلام ہتھہ امر اتاخو من ہذا الذی ہو مہین و لا یکاڈ یبین بلکہ ہتھس ہوی  
 بہتر اہس شخصہ سہہ خوتہ نس نہ کہے اعتبار تہ عزت ہتھہ بہ ہتھہ سہہ کتھہ تہ وارہ پاٹھ کر تھہ ہیکان۔ زیوہ  
 ہتھہ ہتھہ سبہ فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلِكَةُ مُقْتَرِنِينَ ہر گاہ یہ شخص خدایہ  
 سہہ فرستادہ آسہ ہا۔ ادہ کونہ آئی تر وانہ تمس پیٹھ خدایہ سندہ طرفہ سونہ سند کر۔ ہتھہ پاٹھ پاد شہن ہنز  
 طریق ہتھہ تم یلہ کانسہ شخصس پیٹھ مہربان آس ہتھہ تم ہتھہ تس شخصس سونہ سند کر لاگان اگر تمس  
 شخصس تہ نبوت عطا کرنہ آسہا آمز تلہ آسہ ہن اہس تہ آمت لاگنہ سونہ سند کر۔ یا کونہ چھہ تمس سیت  
 سیت ملایک پکان پر پن اکھ اکھ اس ستی ملہ ناو تھہ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ تہ  
 تھہ ونی کہین عقل پتہ کوچ تم آئی امی سندس دھو کس منز تمو کر امہ سز ن تھن پیٹھ عمل۔ بے شک تم  
 آس بروٹھ پیٹھہ شرارتہ ہت۔ نافرمانی کرہ ون۔ فَلَمَّا آسَفُونَا انْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ادہ یلہ  
 تمو لو کو بر ابر کفر و عنادس پیٹھہ اصرار کر تھہ آسہ تھہ کھار آسہ ہیوت تہن پورا نقام۔ چنانچہ پھاٹو آسہ تمہ  
 ساری دریائے قلز مس اندر فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ تو پتہ بناو آسہ تم گامز گذرے مرث جماعتھہا  
 اکھ یہ مثالا پتہ یوہ و نین ہتھہ عبرت رفتہ خاطرہ۔ یلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمو یہ آسہ کریمہ تلاوت  
 کور لَآئِكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَن لَّهَا وُدُّونَ مشرکین عرب لگ دہنہ کہ  
 نصاریٰ ہتھہ عیسیٰ علیہ السلا مس سز عبادت کران لہذا ہتھہ تم تہ سمہ آسہ کریمہ کس عمو مس اندر داخل  
 سہان۔ لہذا اگر سان معبود تہ اتھہ منز داخل سہان کیا ہتھہ بعضہ رواتین اندر ہتھہ کہ نبی

ابن مریم مثلاً إذا أقومك منه يصدون ﴿٥٨﴾ وقالوا الهتنا خير  
 أم هو ما ضربوه لك الأجدال لئلا يبلهم قوم خصمون ﴿٥٩﴾ إن هو  
 إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لئنبي إسرائيل ﴿٥٩﴾ ولو  
 نشاء لجعلنا منكم مملکة في الأرض يخلفون ﴿٦٠﴾ وإنا لعلم  
 للساعة فلا تتترن بها واتبعون هذا صراط مستقیم ﴿٦١﴾

کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمود کہ دوہندہ لیس احد یعبد من دون اللہ فیہ خیر مشرک لگ دہندہ کیاہ  
 مسیح علیہ السلام منزتہ چھنہ کانہہ غیر یہ کتھ چھہ ظاہر کہ آیہ کریمگ تہ نبی کریمہ سندین یمن  
 الفاظن ہند مطلب چھہ تمن چیزن متعلق یمن چیزن ہنز پرستش کرنہ یوان چھہ تم چھنہ تمن پرستش  
 کرہ ونین تمہہ نعبہ چھہ رتان تہ ممانعت کران۔ مگر یمن اعتراض کرہ ونین ہند مطلب چھہ فقط جگرہ  
 کرن تہ قضیہ لاکن تی موکہ چھہ تم معنی پیدا کران سمہ منکلمہ سندس مقصدس خلاف چھہ آسان  
 ولتاضرب ابن مریم مثلاً إذا أقومك منه يصدون بیہ یلہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلام متعلق اکہ  
 عجیب مضمونہ او بیان کرنہ مقترضہ سدہ طرفہ آتی ہوت تہند قوم سنہ مضمون بوزتھہ کریکہ نادکرن  
 شور تکلن تہ اظہار خوشی کرن وقالوا الهتنا خير أم هو دہندہ لگ سان معبود چھا بہتر کنہ عیسیٰ علیہ السلام  
 ما ضربوه لك الأجدال تمو کرنہ عیسیٰ علیہ السلامہ سنز مثال پیش توہہ برو تھہ کنہ مگر محض قضیہ لاگنہ  
 خاطرہ توہہ سیت بلہم قوم خصمون بلکہ چھہ تم ہندہ عادتہ موجب قضیہ لاگہ ون لو کہہ ان ہو  
 إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لئنبي إسرائيل عیسیٰ علیہ السلام چھہ محض اکہ ہندہ اکہ نس پیٹھ  
 اسہ مقبولیت و کمالات نبوتہ سیت یمن احسان تہ انعام کوربیہ کر اسہ تم یمن اسرا یکلن تہ یمن لوکن ہندہ  
 خاطرہ ہندہ قدر تک اکہ نمونہ آسی چھہ امہ خودہ زیادہ عجیب و غریب امور ظاہر کرہ نس پیٹھ قادر۔  
 چنانچہ ولو نشاء لجعلنا منكم مملکة في الأرض يخلفون ہر گاہ اس یڑھ ہو توہہ نشہ تہ گرہ ہو کہ  
 ملا یک پادہ تھہ پاتھ تہند چہ چھہ توہہ نعبہ پادہ سپدان۔ یا آسانہ پیٹھ والو کہ توہہ بدل ملا تک۔ تمہ بسا کہ



وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ﴿٦٢﴾ وَ  
لَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلاِبَيِّنٍ  
لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ﴿٦٣﴾  
إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿٦٤﴾  
فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ  
عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمٍ ﴿٦٥﴾ هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ

ز میںس منزاکہ اُکس پتہ وَاِنَّهُ لَعَلُّهُ لِّلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاطِيعُونَ بیہ چھہ عیسیٰ علیہ السلامہ سُنَد بے  
پدر پادہ سُنَد اُکھ بوڈنغاناہ تہ یقینک ذریعہا قیامتہ حق آسک۔ کس مہ کرو تہہ لوکھ قیامتس منز مگرہ قسمہ  
شک تہ ترد۔ بیہ کرو میانی پیروی تہ تابعداری هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ بیہ چھہ سیز و تھہ یوسہ بہ توہہ  
ہاوان چھسورہ وَلَا يَصُدُّكُمْ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ بیہ چھہ شیطانتان توہہ اتھہ سیزہ و تھہ  
پیٹھ پچھہ نشہ پتھہ رُتہ تہ ذالہ کیا زہ بے شک سہ چھہ ناتھند نون دشمن و لَمَّا جَاءَ عِيسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ  
جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلاِبَيِّنٍ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ تو پتہ بلہ پانہ او عیسیٰ علیہ السلام نون معجزات تہ  
نیزہ دلیلہ ہتھہ۔ لوکن دوہن بہ آس توہہ نشہ عقلہ ہنز مکتہ دلیلہ ہتھہ۔ بیہ آس بہ توہہ نشہ ہتھہ بہ صاف  
گرہ تم مسئلہ تہ احکام تہن منز توہہ اختلاف تہ قضیہ کران چھوہ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا کس کھوژو  
خدا لیہ سندس عذابس۔ میان مخالفت مہ کرو۔ میانس نبوتس مہ کرو انکار بیہ کرو میان فرمانبرداری اِنَّ  
اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ اکی ہتھہ میون پروردگارتہ چھند  
پروردگارتہ۔ کس کرو تھنرے یا تہر عبادت تہ پرستش بیہ چھوہ توحید، پرہیزگاری، فرمانبرداری، سیز  
و تھہ مگر باوجود وضاحت فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ کس کور تمومنزہ وار یہو جماژو اختلاف عیسیٰ  
علیہ السلامہ سندس حقس منز۔ اڈیو دوپ سہ ہتھہ خدا یو دوپ سہ ہتھہ خدا لیہ سُنَد چو۔ یو دوپ تر یو خدا لیہ  
منزہ چھہ سہ اُکھ خداہ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ أَلِيمٍ کس تہن ظالمین یعنی مُشْرِكِ اہل



بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۴۳﴾ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا  
 تَأْكُلُونَ ﴿۴۴﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ﴿۴۵﴾  
 لَا يُفْتَرِعْنَهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ ﴿۴۶﴾ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَ  
 لَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ ﴿۴۷﴾ وَنَادُوا يٰلَيْلِكَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا  
 رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مُّكْتُوبُونَ ﴿۴۸﴾ لَقَدْ جُنْتُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنْ  
 أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كِرْهُونَ ﴿۴۹﴾ أَمْ أَبْرُمُوا أَمْ أِنَّا مَبْرُمُونَ ﴿۵۰﴾

چھ تمہیں جتن اندر روزن ہمیشہ ابد الابدیہ تکھ وندہ وَاِنَّكَ الْجَنَّةُ الَّتِي اُوْرِنْتُمُوْمَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  
 یہ جنت جس توہمہ وراثتہ پائٹھ دنہ آؤ تمہک تہمہ مالک بناونہ اوہ یہ چھ توہمہ بدلہ تمہ عملن ہند سمہ تہی  
 دنیاءس منز کران اسوہ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ جہند خاطرہ چھہ اتھہ جنس  
 اندر واریاہ میوہ تمبوے منزہ چھوہ تہہ کھیوان یہ گو دبا ایمان ہند حال امہ پتہ چھہ کافر ن ہند حال بیان  
 یوان کرنہ اِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ بے شک نافرمان یعنی کافر روزن جہنمہ کس  
 عذابس منز ہمیشہ لَا يُفْتَرِعْنَهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ سوژاوند تہ کم یہیہ نہ کرنہ تمہ نشیہ سہ عذاب۔  
 بلکہ تم روزن تھہ عذابس اندر مایوس تہ نا امید وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ اسہ کورنہ  
 تمہن پیٹھ کٹھہ قسمہ ظلم لیکن تم اس پائے ظالم کفر و شرک کرنہ سببہ وَنَادُوا يٰلَيْلِكَ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ  
 آلودن تم نافرمان لوکھ (جہنمہ کس داروغس) اے مالک تھہ معتہ پنہ نس پروردگار سہ کرہ ہا حکم سائہ  
 مرنگ دیوہ تمہہ سیت سمہ عذابہ نشیہ موکلہ ہو قَالَ إِنَّكُمْ مُّكْتُوبُونَ سہ دیکھہ جواب تہہ چھوہ روزہ ون  
 ہمیشہ اتھہ عذابس اندر نہ چھوہ توہمہ مرن تہ نہ چھوہ امہ منزہ نیران لَقَدْ جُنْتُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنْ  
 أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كِرْهُونَ بیشک اسہ واتوہہ توہمہ نشیہ بنبرن ہندہ ذریعہ پوزدین مگر توہمہ اندرہ وار سیکن لوکن  
 اوس پوزدین کھران أَمْ أَبْرُمُوا أَمْ أِنَّا مَبْرُمُونَ پیغمبرس تکلیف واتوانہ خاطرہ کورتمو کا نہہ انتظام  
 درست لہذا کور اسہ تہ اکھ انتظام درست یہ تھہ چھہ ظاہر کہ خدائی انتظامس مقابلہ کیاہ چلہ تھند انتظام۔

أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَنَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ  
 يَكْتُبُونَ ﴿۸۱﴾ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبْدِينَ ﴿۸۱﴾  
 سُبْحٰنَ رَبِّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۸۲﴾  
 فذَرَهُمْ يَبْغُضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ﴿۸۳﴾  
 وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ وَهُوَ الْحَكِيمُ  
 الْعَلِيمُ ﴿۸۴﴾ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

چنانچہ تم ردی محفوظ تہمہ شرہ نشہ۔ تہند دشمن سپدی ناکام پنہ نین تدیرن اندر امر یحسبون انکالا  
 نسمع سرہم ونجواہم کیاہ تمن چھا گمانہ کہ اس کیاہ چھنہ بوزان تہنزہ پوشیدہ تہ لوتہ لوتہ  
 کتھ بیہ تہنزہ پھسرایہ تہ خفیہ مشورہ بے شک چھہ اس بوزان تہند سوزے بلی ورسولنا لدیہم  
 یکتوبون بلکہ چھہ سانی خفیہ پولیس ملک تہند سوزے تمن کتھ کل روز تھہ لیکھتھ تھوان قل ان  
 کان للرحمن ولد فاننا اول العبدین فرماو یو کہ تہہ یارسول اللہ ہر گاہ رحمتہ والس خدائس اولاد آسہ ہن  
 بہ اوس تیلہ گوڈہ نیک پر سترش کرہ ون تس۔ مگر اللہ تعالیٰ چھہ تمہ نشہ منزہ تہ پاک سبحن رب  
 السموات والارض رب العرش عما یصفون منزہ تہ پاک چھہ سہ آسمان تہ زمین ہند مالک نس عرش  
 مجید ک مالک تہ چھہ، تموساروے کتھو نشہ بیہ کتھ کافر تس کن لاگان چھہ فذہم یغضوا ویلعبوا  
 حتی یلقوا یومہم الذی یوعدون کس تراو کہ تم آتھ پنہ نس شغلس اندر یوتان تم سمکھن تھہ دوہس  
 سمیک تمن وعدہ کرنہ یوان چھہ یعنی قیامتگ دوہ تمہ دوہہ نشہ تمن پانے۔ یعنی تہندہ مخالفک مہ کرو کاہنہ  
 اندیشہ۔ تہندہ ایمان نہ انہ ٹک مہ کھبو کاہنہ غم وهو الذی فی السماء والارض والہ وهو  
 الحکیم العلیم سہ پروردگار گوئے نس آسمان اندر تہ معبود چھہ اہل ساواتن ہند۔ زمین اندر تہ  
 معبود چھہ زمینہ کین لوکن ہند بیہ چھہ سہ بوڈ حکمتہ وول سیٹھاہ زانن وول وتبارک الذی لہ ملک  
 السموات والارض وما بینہما بیہ چھہ سیٹھاہ عالی شان سہ ذات پاک نس آسمان تہ زمین ہند بیہ تمہ

وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿۸۵﴾ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ  
يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ  
يَعْلَمُونَ ﴿۸۶﴾ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى  
يُؤْفَكُونَ ﴿۸۷﴾ وَقِيلَ لَهُمْ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۸۸﴾  
فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ﴿۸۹﴾

سارے کی یہ تمن منزل باگ چھہ حاکم تہ پادشاہ چھہ۔ تم سزے سلطنت چھہ قائم پر چھہ جاہیہ تہمد علم چھہ  
تھے کامل کہ وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ قیاح تخمیر تہ علم چھہ خاص تسی یوت بیہ چھہ تہج خبر کانہہ اگس۔  
بیہ چھہ سے جزاء و سزاء اک مالک وَاللَّيْؤُ تُرْجَعُونَ چنانچہ تہ ساری ایومرنہ پتہ بیہ زندسید تھ حساب  
دنہ خاطرہ ئس گن واتانہ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ  
يَعْلَمُونَ بیہ چھہ کانہہ اختیارہ تمن معبودان باطن تمن تم خدا ئس ورائے معبودانان چھہ سفارش  
کرہ تک تہ مگر کرن شفاعت تھے لو کہ سمو گواہی و ژمژ آہہ پزج یعنی پزس خدا ئس آسیکھ اقرار کورمت  
در حالیکہ کہ تم اس پور زانان یعنی دن اندر تہ آسیکھ پورہ پڑھ۔ تھے کرن شفاعت فقط با ایمان گنہ گارن۔  
مشر کن تہ کافرن چھہ توتہ کانہہ فائدہ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ بیہ  
ہر گاہ تھی تمن کافرن پر ژھویار سول اللہ تم کم کم پادہ ضرور دپنہہ جواب کہ اللہ تعالیٰ ان کر اس  
پادہ۔ یہ اکھ مقدمہ سید ثابت تہمدہ تسلیم کرنہ سیت دویم مقدمہ چھہ بدیہی۔ عبادتس سزوار چھہ مگر  
سے ئس قادر آہہ پادہ کرہ ئس بیٹھ۔ بدیہی تہ چھہ ملے ہیو، ئس چھہ تیم لو کہ مقدمائں مانان۔ مگر  
مطلوب ماننہ کہ وقتہ خبر کو ئن چھہ گڑھان وَقِيلَ لَهُمْ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ مہ چھہ قسم پینمبر  
برحقہ سہدیاب ونہ ٹک، بیشک تیم لو کہ چھہ تھی سجدل کہ یم ہر گز ایمان ان نہ فَاَصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ  
سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ئس بھر وجہہ تمن نشہ روی سخن یعنی تراؤو تمن تبلیغ کرن۔ تمن دپو میان چھہ  
سلام۔ میہ چھہ توبہ سیت کانہہ تعلق۔ بروٹھ یکن زانن تم پائے تمن کیاہنہ اتھ روگردانی کرہ ئس  
پیٹھ۔

سُورَةُ الدُّخَانِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 حَمْدٌ ۱ وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ ۲ اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ  
 اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ۳ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ۴  
 أَمْراً مِنْ عِنْدِنَا اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ ۵ رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ اِنَّهُ  
 هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۶ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنَّ  
 كُنْتُمْ مُوقِنِينَ ۷ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ

حکم سے ہم چھہ زہ حرف مقطعا تو آندرہ۔ سمن ہند معنی زانہ پانہ پروردگار وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ \* اِنَّا  
 اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ قسم چھہ سیمہ مقدس کتاب ہند یوسہ بیان کرہ وئی چھہ  
 احکامن حلال و حرامس تہ حق و باطلس۔ بیہ کمر اسہ سو کتاب یعنی قرآن مجید نازل لوح محفوظہ پیٹھ آسمان و میاعس  
 گن بابرکت شمس اندرہ کمبازہ اُس چھہ لوکن تہندہ شفقتہ موکھ اتھ قرآن مجیدس اندر تم چیز بیان کرہ وئی تم  
 تممن مضر چھہ، پتہ عدلہ سیت کھوڑہ ناوہون فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ اتھ شمس اندر چھہ پرستھ  
 حکمتہ وول معاملہ سانہ پیشی تلہ حکم صادر سپد تھ طے یوان کرہ اَمْراً مِنْ عِنْدِنَا ای چھہ سپدانسانی  
 حکمہ سیت اِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ \* رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ اسی بوجہ رحمت یوسہ تہندس پروردگارہ سندہ  
 طرفہ چھہ توہمہ پیغمبر سوزہون سٹھ تہندہ واسطہ لوکن پورا اطلاع سپدہ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بیشک سہ  
 چھہ سیٹھاہ بوزن دول تہ سیٹھاہ زان دول رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا اِنس مالک چھہ آسمان تہ  
 زمین ہند۔ بیہ تمہ سارگے یہ تممن منز باگ چھہ اِن كُنْتُمْ مُوقِنِينَ اگر تہہ یقین کرہون چھوہ لآلِہ  
 اِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمْ الْاَوَّلِينَ کانہہ معبوداہ چھنہ اَس ورائے سِ چھہ بدہ اَس منز  
 زووانہ ناوہون، سے چھہ بدنہ منزہ زو کدہون۔ بیہ چھہ سِ تہندہ پروردگار تہندس مالین بدین ہند مالک تہ

الْأُولَئِينَ ۸ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ ۹ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ  
 بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ۱۰ يَغْشَى النَّاسَ ۗ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ ۱۱ رَبَّنَا اكْشِفْ  
 عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ۱۲ أَلَيْسَ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ  
 رَسُولٌ مُّبِينٌ ۱۳ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلَّمٌ مَّجْنُونٌ ۱۴ إِنَّا

مردور دگار بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ بلکہ چھہ تم توحید وغیرہ پر نہ تھوڑے شکیس منز۔ دنیا کس کس بند کس  
 درو کہ کس سیت مصروف۔ آخر حج چھکنہ کا نہہ فکرے۔ وون یلہ سم لو کہ پوزواضح تہ صاف سپد تھہ تہ  
 مأن نہ کینہہ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ کس پیاروتہہ تہمدہ خاطرہ تھہ دوہس سمہ دوہہ  
 آسمانہ طرفہ اکھ دہ ہاوزنہ یہ کس سارنہ درینھی آسہ یوان یَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ سہ یہ  
 ولنہ لوکن تم دمن یہ چھہ عذابہ دگ تلمہ ون۔ امہ اندرہ چھہ مرادسہ قحطیتھ منز اہل مکہ بتلا سپد۔  
 سمیک سبب اوس بد دعا حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سہیلہ تمبو سخت تکلیف ہیوت دمن نبی  
 کر سمس صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسلمان۔ ظاہری سبب سپد امہ قحطک کہ حضرت ثمامہ سم شہر یمامک  
 بڈی رئیس اس سپدے مسلمان۔ مکہ کیو کافر و ہنزہ تم سخت ملامتھ کرن تھہ پیٹھ۔ تمو کور شہر یمامہ پیٹھ  
 مکس گن غلہ سوزن بند۔ مکس گن اوس یمامہ پیٹھ غلہ یوان۔ پیاری کن سپز بارش تہ بند مکک لو کہ ہتین  
 بوچھہ سیت مخرن قایدہ چھہ سخت بوچھہ ہمدس حالس اندر خشک سالی ہندس و قس اندر چھہ ہوزنہ  
 یوان آسمانکہ طرفہ دہ دوتھان۔ عرض مکک لو کہ یلہ سخت تنگ سن قحطہ سببہ تم لگن عاجزی کرنہ تم ہن  
 دُعَاؤُكَ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ اے سارہ پروردگارہ دور کرتہ آسہ نعرہ یہ قحطک عذاب۔  
 بے شک اس انوون ضرور ایمان۔ چنانچہ یہ پیشین گوئی سپز چھہ پانھی پورہ کہ اوسفیان یہ بھڑیہ قریشو  
 لیٹھ نبی کر سمس صلی اللہ علیہ وسلم سہ ہتہ کر تو دعائے خیر یہہ کر تو ثمامہ یمانیس ہمایش سہ سوزہ ہاہیہ  
 غلہ۔ یہہ کور اوسفیان وعدہ پنہ مسلمان سپد نگ۔ چنانچہ امہ بروندھ گن چھہ اللہ تعالیٰ فرماوان سہ وعدہ  
 اوس نہ بصدق دل اَلَيْسَ لَهُمُ الذِّكْرَىٰ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مُّبِينٌ سم لو کہ کھ پانٹھ رتہ ہن نصیحت

كَاشَفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ ﴿۱۵﴾ يَوْمَ نَبِّئُشُ الْبَطْشَةَ  
 الْكُبْرَىٰ إِنَّا مُنْتَقِمُونَ ﴿۱۶﴾ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَ  
 جَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ ﴿۱۷﴾ أَنْ أَدْوِرْ إِلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ  
 أَمِينٌ ﴿۱۸﴾ وَأَنْ لَا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَنِ مُبِينٍ ﴿۱۹﴾ وَإِنِّي

امہ عذابہ سیت سیمہ سیت تہمدہ ایمانگ توقع بیہ ہاتھاونہ حالاحجہ تمن نشہ واژوو پیغمبرہ تھدہ شاٹگ  
 ویرھہ ناوہون تھ توکوواعنہ وقالوا معکم لجنون توپتہ تہ تکر تموتس پیغمبرس نشہ سرتابی تہ ای لگ  
 ومنہ کہ بیہ چھ موتاہ کم تان سیمہ تھہ بچھہ نوومت انا کاشفوا العذاب قلیلا انکم عائدون اسی گروحت  
 پورہ کرنہ خاطرہ کینہہ کالاہ تمن نشہ بیہ عذاب دور مگر تھہ کتر و بیہ تی یہ کران آہو۔ کفر تہ تا فرمانی۔ چنانچہ  
 یہ پیشین گوئی سہزیتھہ پانٹھ پورہ کہ نبی کریمو صلی اللہ علیہ وسلم کور دعاتوپتہ پیژوورود۔ بیہ لیوکھٹھہ تمامہ  
 یمائش تم سوزغلہ۔ مکہ کین لوکن سہز فارغ البالی میسر پریشانی گیکھ دور۔ مگر سہ تھہ سنا کرہ ہن تم ہن  
 وعدہ پورہ۔ بیہ ہیوکھٹھہ تی کرن یہ کران آس یوم نبیئش البطشۃ الکبریٰ انما منتقمون اذہ سیمہ دوہہ رٹو کہ  
 اس تھہ بوڈ سخت رٹہ وناہ تھہ دوہہ تھو وکھ نہ۔ اس گئے تھہ دوہہ پورا انتقام ہنہ وال ولقد فتنا قبلہم  
 قوم فرعون و جاءہم رسول کریم البتہ بیہ کتر اسہ آزمائش تمن بروٹھہ فرعونہ سندس قومس سیمہ  
 طریقہ کہ او تمن نشہ پیغمبرہ عزتہ وول یعنی موسیٰ علیہ السلام ان ادور الی عباد اللہ انی لکم رسول امین  
 تم فرموو کہ اے قوم فرعون کریوکھ میہ حوالہ خدایہ سند بندہ بنی اسرائیل توہہ رنگارنگ تکلیف  
 چھو کہ کتر مت۔ پتہ غلامی نشہ کریوکھ تم آزاد۔ بہ چھس خدایہ سندہ طرفہ پیغمبرہ امانت دار۔ بہ  
 چھسوہنہ کانہہ کتھاپنہ طرفہ ونان میہ ئس حکم خدایہ سندہ طرفہ واتان ہتھ بہ چھس سہ حکم توہہ نش  
 واتان۔ لہذا پڑہ توہہ تعمیل احکام کرن۔ وان لاتعلوا علی اللہ انی آتیکم سلطان مبین بیہ فرموو کہ  
 کہ مہ کتر و سرکش خدائس نشہ۔ بہ چھس توہہ نشہ امت یعنی دلیل ہتھ پتہ بیوتج یعنی عصا تہ ید بیضا۔ یلہ  
 فرعون تہ تہند قومس مون نہ بلکہ ہیو بچھہ مشورہ کرن موسیٰ علیہ السلام سہہ تھک تہ مارنگ وانی



عَدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ ۚ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا إِلَيَّ فَأَعْتَزَلُونِ ۖ ﴿۳۱﴾  
 فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هُوَ لَأَنَّ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ ۖ ﴿۳۲﴾ فَأَسْرِعْ بَعَادِي لَيْلًا  
 إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ ۖ ﴿۳۳﴾ وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ هَوًّا ۖ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُعْرِفُونَ ۖ ﴿۳۴﴾  
 كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّتٍ وَعَيْوُنٍ ۖ ﴿۳۵﴾ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ ۖ ﴿۳۶﴾  
 وَنَعْمَةٌ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ ۖ ﴿۳۷﴾ كَذَلِكَ تَضَاءُ أَوْرَشَاقُ مَا آخِرِينَ ۖ ﴿۳۸﴾

عَدْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونِ یہ جھس پنہ نس خدا نئس نئسند خدا تہ جھہ پنہا منگان تہہ کیا کر و میہ شہید کنہ لائی لائی وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا إِلَيَّ فَأَعْتَزَلُونِ ہر گائوہہ میہ پڑھہ کمر ونہ تیلہ روز و میہ نشہ الگ۔ یہ دنتہ تہ رود تم موسیٰ علیہ السلا مس تکلیف و اتنا وان فَدَعَا رَبَّهُ أَنْ هُوَ لَأَنَّ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ نئس مونگ دعا موسیٰ علیہ السلا من پنہ نس پروردگار س یا اللہ تم جھہ سخت شری لوکھ۔ میہ وہ نجات بہندہ شرہ نشہ۔ اللہ تعالیٰ ان فر موو کھ اے موسیٰ اسہ کور نئسند دعا قبول۔ وون ووت بہندہ فاصلک وقت فَأَسْرِعْ بَعَادِي لَيْلًا إِنَّكُمْ مُتَّبِعُونَ نئس کر اسہ حکم موسیٰ علیہ السلا مس کہ تہہ نیر و میان بندہ بنی اسرائیل ہتھہ رائزی منتر۔ برو نھہ یہ و تہ اندر توہہ دریا و۔ تہہ لائی زہ تھہ دریا و س لورہ سیت تہڈ۔ سہ سپدہ خشک۔ سہ دیہ توہہ اپور تر نہ خاطرہ و تھہ تہہ یلہ بنی اسرائیل ہتھہ اپور تتر و دریا و روزہ آتھہ حاکس پیٹھہ۔ تہہ کمر زہ نہ کا نہہ فکر خبر چھافرعون تہہ مایہہ سہ تہہ ما و سہ آتھہ دریا و س اندر تو پتہ ماترہ اپور۔ ایچ فخر تہہ اندیشہ کمری زہ نہ تہہ کینہہ تہ۔ کیا زہ توہہ پتہ نیرہ فرعون لشکر ہتھہ توہہ گرفتار کرنہ خاطرہ۔ رات رائی نیر نہ سیت ہیکہ نہ سہ توہہ رتھہ وَأَتْرَكَ الْبَحْرَ هَوًّا بلکہ تر آوز ہن تہہ دریا و پنہ نس حاکس پیٹھہ تھہ فرعونہ سنز لشکر تہہ دریا و س منز و سہ۔ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُعْرِفُونَ بے شک سو لشکر چھہ دریا و س منز و اتھہ پھند و نی تہ غرق سپدہ و نی۔ تو پتہ یلہ تم پھسٹ تہہ ہلاک گئے كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّتٍ وَعَيْوُنٍ \* وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ تھہ کن ترا و تمو کا تیاہ باغ یہہ کا تیاہ ناگہ را و۔ کوتاہہ زراعنگ زمین یہہ کا تاہ عمدہ جاہہ وَنَعْمَةٌ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ یہہ عیش و آرامگ سامان ہتھہ منز خوشالی آس آسان كَذَلِكَ تَضَاءُ أَوْرَشَاقُ نافرمان سیت جھہ آس

فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ ﴿۲۹﴾ وَلَقَدْ  
 بَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ ﴿۳۰﴾ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ  
 كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ ﴿۳۱﴾ وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى  
 الْعَالَمِينَ ﴿۳۲﴾ وَاتَّيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ ﴿۳۳﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ  
 لَيَقُولُونَ ﴿۳۴﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَمْوَاتُنَا الْأُولَىٰ وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ ﴿۳۵﴾  
 فَاتُوا يَا بَنِي آدَمَ أَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۶﴾ أَهْمُ خَيْرًا مَقَوْمٍ تَبِعُوا

یو ہے معاملہ کرانِ وَأَدْنَاهُمْ أَقْوَامًا الْخَيْرِينَ اُمہ ساری جہنمہ مال و دولتکب وارث بناوا اُسہ پیہ لو کہ یعنی بنی  
 اسرائیل فَمَا بَكَتُ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنظَرِينَ کس وود نہ تمن پیٹھ نہ آسمان نہ نہ زمین  
 پیہ اُس نہ تم مہلت دہ آمتی یعنی تمن آہ نہ مزید مہلت دہ وَلَقَدْ بَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ  
 الْمُهِينِ الْبیتہ ذیت اُسہ تھے یا ٹھ نجات بنی اسرائیل سخت ذلت کہ عذابہ بشرہ مِنْ فِرْعَوْنَ یعنی فرعونہ  
 سہہ ظلم و ستم بشرہ إِنَّهُ كَانَ عَلِيًّا مِنَ الْمُسْرِفِينَ بے شک سہ اوس سخت سرکش سیٹھا حدہ بشرہ ذلہ  
 و نیو آندرہ۔ ا کہ نعمت کمر اُسہ بنی اسرائیل پیٹھ یہ کہ نجات دیکھ فرعونہ سہہ شرہ بشرہ اُسہ علاوہ کمر کہ  
 بیا کہ نعمت وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ بیہ دژ اُسہ فوقیت بنی اسرائیل تمہ زمانہ کین بین  
 لو کین پیٹھ پتہ علم و جہتہ موجب وَاتَّيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ بیہ دت اُسہ تمن پتہ قدر تک  
 تھے نشانہ کمن منز جہنمہ تھے نئی انعامات اُس من و سلوی وغیرہ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ \* إِنَّ هِيَ إِلَّا أَمْوَاتُنَا الْأُولَى  
 وَمَا نَحْنُ بِمُنشَرِينَ بیشک ہم کافر جہہ قیامتک و عید بوز تھ قیاس انکار کران۔ تو پتہ جہہ و نان سان  
 اخیرى حالت جہہ بیہ کہ اُسہ جہہ دنیاس اندر مرن۔ تو پتہ جہہ اُسہ بیہ زندہ سڈن۔ یعنی اخیرى  
 حالت سان حیاتِ آخروی جہہ بلکہ جہہ اخیرى حالت موت دنیوی۔ اُسہ جہہ مگر اکی لہ مرن تو پتہ  
 سمونہ اُس بیہ زندہ کرنہ فَاتُوا يَا بَنِي آدَمَ أَنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ اے مسلمانو ہر گاہ جہہ مرنہ پتہ بیہ زندہ  
 گزھنہ کس اعتقادس منز پز زیر جھوہ زیادہ انتظار کیا جہہ کزان تیلہ ان تو کہ سان سال پڈب تم سپدن

الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَاهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿۳۵﴾ وَمَا  
 خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ ﴿۳۶﴾ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا  
 بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۷﴾ إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ  
 مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿۳۸﴾ يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا  
 هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۳۹﴾ إِلَّا مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿۴۰﴾  
 إِنَّ شَجَرَتَ الزُّقُومِ ﴿۴۱﴾ طَعَامُ الْإِثْمِ ﴿۴۲﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي


بہ زندہ اَمْ حَتَّىٰ اَمْ قَوْمٌ تُنْفِخُ وَّالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کیاہ سنا تم قریش چھا تو تس تہ شو کس منز زیادہ کنہ  
 تئج (سمہ کس پادشاہ) سہ قوم یا سم لو کہ تم برونٹھ آس عا دو شمو دو غیرہ اھلکناھم انھم کاناو امجرمین  
 آسہ وچہ نہ تم کینہہ۔ آسہ کمر تم ہلاک تہ برباد۔ کیا زہ تم آس سخت تا فرمان۔ ہر گاہ یم قریش منک  
 کافر تا فرمانی نیشہ با زمین نہ سم تھہ کنتی بچاؤن سانہ عذابہ نیشہ پن پان وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ  
 وَمَا بَيْنَهُمَا لِعَيْنٍ بہ گرنہ آسہ پادہ آسمان تہ زمین بہ یہ تم منز ہتھہ سمہ طریقہ کہ آس کیاہ آس اکھ  
 عبث تہ بے ہودہ کا ماہ کران مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ آسہ یلہ تک سم ہتھہ بڈ مخلوق پادہ کرن آسہ نش کیاہ  
 عجیب ہتھہ انسان مر نہ پتہ بہ زندہ کرن وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن اکثر لو کہہ چھہ زانان إِنَّ  
 يَوْمَ الْفَصْلِ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ ہنز پانٹھ فیصلک دوہ یعنی قیامتک دوہ چھہ سارن ہندہ دوبارہ زندہ  
 سہد تک بہ جزاء دیک وقت مقرر کرنہ امت يَوْمَ لَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَوْلَى شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ سمہ  
 دوہ نہ کانہ تعلق دار کانہہ تعلق دار س بکاریہ نہ ہیجہ کانہہ ہندہ طرفہ کانہہ مددے کانہہ واتھہ إِلَّا  
 مَنْ رَحِمَ اللَّهُ إِنَّهُ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ مگر سم پیٹھہ اللہ تعالیٰ ان رحم کو مرت آسہ یعنی با ایمان تم بہ یہ  
 یاری تہ مدد کرنہ بہ گرن تم تہ مدد اکھ آگس شفاعتہ سیت۔ بے شک اللہ تعالیٰ چھہ غالب تہ زبردست۔  
 سمہ بہ کافر نیشہ انتقام۔ کس سہ وکرہ تہ بیزار آسہ کس ہیجہ نہ مدد کمر تھہ کانہہ بہ ہتھہ سہ رحمتہ وول  
 سم تہمز رحمت شامل حال آسہ تم دیہ سہ شفاعتک مرتبہ إِنَّ شَجَرَتَ الزُّقُومِ \* طَعَامُ الْإِثْمِ \*

فِي الْبُطُونِ ۝ كَغَلِي الْحَمِيمِ ۝ خُدُوهُ ۝ فَاعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاءِ  
 الْحَمِيمِ ۝ ثُمَّ صُوبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ ۝  
 ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ۝ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ  
 تَمْتَرُونَ ۝ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ ۝ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ۝  
 يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ ۝ كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَاهُمْ  
 بِحُورٍ عِينٍ ۝ يَدْعُونَ فِيهَا بِحُلٍّ فَاكِهَةٍ أَمِينٍ ۝ لَا يَدْخُلُونَ

كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ \* كَغَلِي الْحَمِيمِ پز پائٹھ زو کم کل ہتھ نافرمان ہند غذا۔ سمیگ رنگ  
 آسہ بلکہ ہند۔ سنی آسہ گریکان تہنزن یڈن منز ہتھ پائٹھ آہ رسر چھہ دیچہ منز گروہہ تہ کران۔ خُدُوهُ  
 فَاعْتَلُوهُ إِلَى سَوَاءِ الْحَمِيمِ اللہ تعالیٰ فرماوہ عذابہ کین ملکن ریٹون یہ کافر تو پتہ نیون کھکھرہ۔  
 تراویون منز باگ جہنمس ثُمَّ صُوبُوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ تو پتہ تراووا اس کلا پیٹھی  
 سورسراہ سمہہ سیت زیادہ عذاب واتیس۔ ذُقْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ عذابک ملکہ ونہ نس وچھہ  
 مزہ سمہہ عذابک۔ بے شک ژہ او سکھنا پنہ نس قومس منز بوڈتہ ژیتھ پائس زانان یہ چھہ ژیہ تعظیم و  
 تکریم کرنہ یوان۔ ہتھ پائٹھی ژہ پنہ نس پائس معظمہ و مکرسم زانتھ سائین احکامن تحقیر تہ عار او سکھ  
 کران جہنمین یہ ونہہ إِنَّ هَذَا مَا كُنْتُمْ بِهِ تَمْتَرُونَ بے شک عذاب کیاہ گووسی ہتھ توہہ شیکھ آسوہ  
 کران إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ بے شک ہم خدائس کھوژہ ون آسن تم آسن امن و آراچہ جایہ  
 منز محفوظ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ یعنی باغن تہ ناگہ راڈن منز يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَقَابِلِينَ نال  
 لاگن تم زاوول تہ موٹہ پاکک جامہ اکھ اگس سیدہ سیود آسن بہتھ۔ كَذَلِكَ وَرَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ یہ  
 گرواَس تمن نیتھر جنہ چن حورن سیت یہہ پرہنہ تہ اچھہ و ہتھ کمر تھ آسن يَدْعُونَ فِيهَا بِحُلٍّ فَاكِهَةٍ  
 اومنین مگھ ناوان آسن تم جتنن منز اطمینان سان پرہتھ میوہ لَادْخُلُونَ فِيهَا الْمَوْتِ إِلَّا الْمَوْتَةَ  
 الْأُولَى ژکن نہ تہہ موٹک مزہ مگر سنی گوڈیک موت سمیگ مزہ تموود نیاءس منز ژمٹت آسہ یعنی تہہ

فِيهَا الْمَوْتُ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وَوَقَّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ﴿۵۷﴾  
 فَضَلَّامِن رَّبِّكَ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿۵۸﴾ فَأَتَمَّا يَسَّرْنَاهُ  
 بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۵۹﴾ فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ ﴿۶۰﴾

مَرَن نہ تم زانہہ تہ وَوَقَّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ بیہ رَہجہ تمَن اللہ تعالیٰ جہنمہ کہ عذابہ نَشہ فَضَلَّامِن رَّبِّكَ یہ سورے آسہ تمَن جہنمَس پروردگارہ سُنَد فضل تہ مہربانی ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ سیکہ گنیہ بڈرستگاری تہ کامیابی فَأَتَمَّا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ یہ قرآن مجید کور آسہ سہل تہ آسان امی موکہ جہنمہ لَغْتہ یعنی بزبان عربی تہ تمَن لوکن فکرہ تہر تہ تم نصیحت رُشَن یلہ نہ اُمہ سیت تہ تمَن کینہہ بنہ فَأَرْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُّرْتَقِبُونَ پس پیاریو تہ تمَن کیاہ بنہ تم جہہ پیارہ ون کہ تہند حال کیاہ سیدہ۔ تہندہ حقہ سیدہ عذاب، تہندہ حقہ آسہ نصرت ویاری





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 حَمَّ ① تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ② إِنَّ فِي السَّمَوَاتِ  
 وَالْأَرْضِ آيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ ③ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْتُ مِنْ دَابَّةٍ  
 آيَاتٍ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ④ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ  
 اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ  
 تَصْرِيفِ الرِّيحِ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ⑤ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا

حَمَّ سم زہ حروفِ مقطعاتِ اُو اُنْدَرہ۔ سمن ہند معنی زلہ پانہ خدا تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ  
 سیمہ کتابہ ہند نازل سُنْدن چھہ اللہ تعالیٰ سندرہ طرفہ نُس سبھاہ غالب چھہ سبھاہ جمتہ وول چھہ۔ لہذا  
 گروہن امکِ مضامین بوزنِ توجہہ سان اِنَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ آيَاتٍ لِلْمُؤْمِنِينَ بے شک آسمان تہ  
 زمین منزیبہ یہ تم منزیبہ تھہ منزیبہ واریاہ نشانہ قدر تک تہ توحید ک بایمان ہمدہ استدلال کرنہ  
 خاطرہ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبْتُ مِنْ دَابَّةٍ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ بیہ چھہ تھہ پاٹھ تھندس پادہ گرہ نُس منزیبہ  
 حیوانان ہندس پادہ کرہ نُس منزیبہ، سم تمزی منزیبہ منزیبہ چھہک اوی تم سارنہ منزیبہ بڈ نشانہ خدایہ  
 سندرہ قدر تک تم لوکن ہمدہ خاطرہ سم یقین تہ پڑھہ تھوان چھہہ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنْزَلَ  
 اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَ تَصْرِيفِ الرِّيحِ آيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ تھہ پاٹھ  
 چھہ راتہ کس تہ دُہرہ کس اکھ اگس پتہ پیش گوئہ نُس منزیبہ، تھہ رزقہ کس ہارس منزیبہ آسمانہ طرفہ اللہ  
 تعالیٰ تراوان چھہ یعنی رود سیمہ سیت مردہ گاقس زمینس زندہ گران چھہ۔ تھہ پاٹھ واؤن ہندس اورہ پور  
 پھیر نُس منزیبہ بڈ نشانہ تم لوکن ہمدہ خاطرہ سم گائل چھہہ۔ سمن عقل سلیم چھہہ تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ

عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعَدَ اللَّهُ وَآيَتِهِ يُؤْمِنُونَ ④  
 وَيَلُّ لِكُلِّ آفَاكٍ أَثِيمٌ ⑤ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا  
 كَانُ لَمْ يَسْمَعْهَا فَبَشِّرُهُ بِعَذَابِ الْيَوْمِ ⑥ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا  
 اتَّخَذَهَا هُزُوعًا أَوْ لِيكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ④ مِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمُ  
 وَلَا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كَسَبُوا شَيْئًا وَلَا مَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ  
 وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ⑩ هَذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ

نَتَلُوها عَلَيْكَ بِالْحَقِّ يم جھہ خدایہ سید صحیح صحیح آیات سم آس ہدان جھہ توہمہ پیٹھ سموسیت نبوت ثابت سہدان جھہ۔ لیکن ہر گاہ تہہ توتہ مانونہ فبای حدیث بعد اللہ وایتہ یؤمنون پس اللہ تعالیٰ یہہ جہندیو تھہو آیا تو پتہ تھہ سنا تھہ یوسہ امہ خونہ بذ اسہ ان تم ایمان وین لکل آفاک ائیو ہڈ خرابی جھہ پر تھہ تھس شخصہ سندہ خاطرہ ئس عقایدن اندر اپزور آسہ۔ عملن اندر تا فرمان بدکار آسہ یسم آیت اللہ تئل علیہم ثم یصر مستکبرا کان لم یسمعہا ئس باوجود ایچہ بوزان آسہ خدایہ سند آیات سم آس برو تھہ کنہ مد نہ یوان جھہ تو پتہ تہ جھہ سہ محکم و غرور کمر تھہ کفرس پیٹھ ڈاڈ کران زن نہ تم تم آیات یوزی متی جھہ فبیرہ بعذاب الیوم پس و نو تھہ تھس شخصس کڈرہ عذاب بشارت و اذا علم من آیتنا شئیًا اتخذها هزوعًا یلہ سہ سانیو آیا تو آندرہ کنہ آتج خبر جھہ بوزان تھہ جھہ ٹھٹھہ تہ محولہ کران اولیک لهم عذاب مہین سمن لوگن ہندہ خاطرہ جھہ آخر ئس اندر ذلک عذاب من وراہم جھہم ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئًا واما اتخذوا من دون اللہ اولیاء تم جھہ برو تھہ یوان جھہ تم تہ ساتہ دن نہ تم چیز تم جھہ نفع تہ فایدہ ہم چیز تمود دنیا ئس منز حاصل کمر مت آسن مالہ تہ عملو آندرہ۔ نہ دیکھ معبودان باطل کا نہہ نفع تہ فایدہ۔ سمن معبود بر تھس وراے تم سکن مدد گارتہ کار سازانان آس ولہم عذاب عظیم جہندی خاطرہ جھہ بوڈ عذاب۔ امہ عذابک وجہ جھہ ای زہ ہنا ہدی تہ

عَذَابٍ مِّن رَّجْزِ إِلَهُ<sup>ع</sup> ۱۱ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِيَجْزِيَ الْفُلْكَ  
 فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۱۲ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا  
 فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ  
 لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۱۳ قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ وَالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ  
 أَيَّامَ اللَّهِ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۱۴ مَن عَمِلَ صَالِحًا

قرآن مجید چھ سر امر نوڈ ہدایت تہ واجب التسلیم وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَهُمْ عَذَابٌ مِّن رَّجْزِ إِلَهُ<sup>ع</sup> سم لو کہ انکار چھہ کران پنہ نس ہروردگار سندین آیاتن۔ تہندہ خاطرہ چھہ عذاب دگ تہ دودنلہ ونہ عذاب منزہ اللَّهُ الَّذِي سَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِيَجْزِيَ الْفُلْكَ فِيهِ بِأَمْرِهِ محبوبہ برحق گووسی سم تہندہ نفعہ خاطرہ مسخر قدرت کمر دریاو۔ بٹھ ناہ تہ جہاز کن بٹھ منز تہندہ حکمہ سیت وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلِعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ بیہ بٹھہ تمن جہازن منز سوار سپد تھ ژھانڈون تہندہ خدایہ سند فضل تہ رزق بیہ بٹھ تہندہ سہ رزق حاصل کرتھ شکر گذاری کمر و تہنز وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ بٹھہ پاٹھ سم چیز آسمان تہ زمین اندر چھہ تم ساری چیز کرن پنہ حکمہ سیت تہ پنہ فضلہ سیت مسخر قدرت بٹھ تہندہ نفعگ تہ فایدک سبب بن۔ ہنر پاٹھ اتھ منز چھہ بڈ نشانہ تہ آیات تمن لوکن ہندہ خاطرہ سم فکر کرن تہ غور کرن کہ سم چیزیلہ سانہ خاطرہ چھہ کامہ لگ مت اسہ تہ ما پزہ ہاپنہ تھہ کامہ سیت سمہ خاطرہ آس خدائن پادہ کمر مت آس لچھ روزن قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُ وَالَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللَّهِ فرماو تہندہ یار رسول اللہ با ایمان تہ درگذر تہ عفو کرن تمن لوکن سم نہ پڑھہ تہ امید چھہ اللہ تعالیٰ سندین اخروی معاملن ہنز یعنی سم آخر تک منکر چھہ۔ بیہ اللہ تعالیٰ نیکو کارن ر ژ مزوری عطا کرہ تہ نافرمان عذابس گرفتار کرہ لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ بٹھہ اللہ تعالیٰ آگس قومس یعنی با ایمان تمن ر ژن عملن ہند ر ژت ثواب عطا کرہ سمہ تم کران آس کیا زہ تس نش چھہ قاعدہ کلیہ سمہ مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ نُس ا کھاہ ر ژ عمل کرہ تمیک نفع تہ ثواب چھہ تس پانس وَمَن



فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلِيَهَا ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿۱۵﴾ وَلَقَدْ  
 آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
 وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿۱۶﴾ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا  
 إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيَابِنَاهُمْ أَن رَّبَّكَ  
 يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿۱۷﴾

اَسَاءَ فَعَلِيَهَا بِہ نفس اکھاہ سچھ عمل گرہ تمیک ضرر چھہ نفس پائس ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ توپتہ الیوجہہ ساری واتانہہ پنہ نفس پروردگار س نشہ ہتہ بیہ توہہہ رٹون عملکن تہ رتین اخلاقن ہند رت بدلہ عطا کرنہ۔ ٹہندین مخالفن بیہ کفر وشرک تہ معاصین ہند سچھ عذاب کرنہ۔ لہذا پڑہ نہ توہہہ معاملہ پنہ نفس اٹھس منزیتھ تمن یتر کتہہ قسمگ سزادین توہہہ پڑہ درگذر تہ غفوعے گزن۔ البتہ اگر اعلائی کلمتہ اللہ خاطرہ تمن سیت باقاعدہ جہاد بیہ گزن سچھ جھنہہ کا نہہ چارہ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ نبوت و سچھہ کا نہہ نو چیزہ ہتھہ انکار۔ بیہ کرنہ۔ چنانچہ اکرہہ بروٹھہ کتر اسہ عطا بنی اسرائیلن اکھہ کتاب آسمانی بیہ حمت یعنی علم احکام بیہ نبوت یعنی تموا ندرہ کتر اسہ بیٹنمبر پیدا۔ بیہ کھیواوی اسہ تم پاک و پاکیزہ نفیس نفیس غذا میدان ٹہنیں منز کور اسہ تمن پیٹھہ من و سلوا ی نازل۔ بیہ بناوی اسہ تم ملک شاکم مالک نفس برکات ارضیک منع چھہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ بیہ دیت اسہ تمن فضیلت پنہ وقتہ کین سارن لوکن پیٹھہ بعضے چیز و سیت مثلاً بحر قلزمس باہ کوچہ کرنہ سیت۔ بیہ او برہہہ سانبانہ سیت وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ بیہ دژہ اسہ تمن دینہ کس معاملس منز نہہ دلیلہ یعنی تمن ہاونی معجزات۔ نفس پڑہ ہائین پورا طاعت تہ فرماں برداری کرن فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَعِيَابِنَاهُمْ مگر تموا کور اختلاف پانہ وان علم حاصل سپنہ پتہ اکھ اک سندرہ ضدہ تہ عداوتہ موکھہ اِن رَّبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ بے شک ٹہند پروردگارہ کرہ فاصلہ تمن منز قیامتگ دوہ تمن سارنہ چیزن منز تمن منز تمن اختلاف کران آس۔ توپتہ بنی اسرائیلن اندر

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأُمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ  
 الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۱۸﴾ إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَ  
 إِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ ﴿۱۹﴾  
 هَذَا بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴿۲۰﴾ أَمْ  
 حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا  
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ﴿۲۱﴾

دوره نبوت ختم کر دہن پتہ۔ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأُمْرِ تو پتہ ڈیت اُسے نبوت تو بہ۔ اُسے کمر وہ  
 تہہ یار رسول اللہ دینہ کس اُس خاص طریقہ پیٹھ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لہذا پتہ  
 تہہ تہہ طریقہ پیٹھ یعنی عملہ کن تہہ تبلیغہ کن تہہ۔ تہہ مہ کرو پیرو وی تمن لو کن ہنر تمن نہ حقیقت حاج  
 کہنی خبر چتھ۔ تہزہ خاہشہ موجب مہ پکو تہہ۔ تہزہ خاہش چتھ کہ تہہ تراود تبلیغ کرون إِنَّهُمْ لَن يُغْنُوا  
 عَنكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا بے شک تم ہیکن نہ کا نہہ فایدہ وابتاوت تہہ تو بہ خدا اُس نشہ نہ ہیکن تہزہ کا نہہ کا ماہ  
 کمر تہہ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ بیشک ظالم یعنی مشرک چتھ اوی اؤین  
 ہندی دوست اکہ اگی سزہ تہہ مانان۔ اللہ تعالیٰ چتھ دوست پر ہیز گارن تہہ اہل تقویٰ ان ہند۔ اہل  
 تقویٰ چتھ خدایہ سُدے حکم مانان۔ تہہ ہجوہ رئیس المتقین۔ تو بہ تہہ پزہ اللہ تعالیٰ سُد حکم مان ہذا  
 بَصَائِرُ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ یہ قرآن مجید اُس تو بہ عطا او کر نہ یہ چتھ عام لو کن ہندہ  
 خاطرہ عقلہ تہہ دانش مندی ہند سبب یہ ہدایتک بوڈر یہ یقینہ والین ہندہ خاطرہ ہدر حمت اَمْ حَسِبَ  
 الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کیا ہ تم قیاس انکار کرہ دن لو کہ  
 تم پیچہ کامہ شرک و کفر تہہ ظلم و معصیت چتھ کران تمن چھا خیال کہ تم کیا ہ تھاود کہ آس برابر تمن  
 لو کن سیت سمو ایمان اون بیہ کر کیہ رزہ عملہ سَوَاءً مَّحْيَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ تہہ مرمن تہہ زیون  
 کیا ہ آسہ برابرے یعنی با ایمان ہند مرمن تہہ زیون کیا ہ چتھ سمہ معنی برابرے کہ ہتھہ پاٹھ تم دنیاوس

وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِيَتَّعْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۲۳﴾ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عَشْرَةَ قُرْصِينَ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۲۴﴾ وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ

اندر عقوبت و سزاء لشبه محفوظ اس تھے پائے کیار وزن تم مرند پتہ تہ محفوظ۔ تہ ہر گز نہ نہ۔ سیمہا بیچہ  
چھہ تہ سیمک تم حکم کران چھہ۔ کیاہہ صحیح دلیلویت چھہ امیک باطل اسن ثابت سہد مت۔ حیات  
اخروی چھہ امی خاطرہ کہہ یٹھہ پر یٹھہ اکھاہ پنہ نین نیک و بد عملن ہند ثمرہ تہ نتیجہ حاصل کرہ۔ رژن  
عملن رژ موزور۔ بیچہ عملن بیچہ موزور و خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ بہ کمر اللہ تعالیٰ ان آسمان  
تہ زمین پادہ حکمت۔ سو حکمت چھہ ییہ کہہ وَلِيَتَّعْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ بہ یٹھہ بدلہ ییہ دنہ پر یٹھہ  
شخص تمیک یہ تم کورمت آسہ وَّهُمْ لَا يُظْلَمُونَ لوکن ییہ نہ ظلم کرنہ کئہ قسمہ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ  
هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ عَشْرَةَ قُرْصِينَ وچھان چھوہ تس شخصہ سندس  
حالتس سُن یم معبود پنہ بنو مت چھہ پنہ نفع خواہش۔ یہ دس منز یوان چھس تس چھہ پیروی کران۔  
اللہ تعالیٰ ان کورسہ گراہ۔ حالانکہ سہ اوس زان پھکان تھوان یعنی پوزاوس سہ بوزان تہ فخرہ اوس  
تران۔ مگر نفسہ چہ خائمشہ اتباع کرنہ سیت سہد سہ گراہ۔ تم بوزہ ن تہ فخرہ خرہ ن ویش نہ کانہہ فایدہ  
بلکہ کمر اللہ تعالیٰ ان تہمدین کنن تہ تم سندس دس پیٹھ موہر تہزنن اچھن پیٹھ تروون پردہ تہ ٹھور۔  
امی اتباع ہوا کہہ شامتہ، چنانچہ حق قبول کرہ ٹک نئس کم زیادہ استعداہ تس اوس سہ سہدس متحمل تہ  
کمزور قُتُن يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ پس کبہ اکھاہ ییچہ چھس شخص و تھہ ہاوتھہ خدایہ سدہ گراہ کرنہ  
پتہ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ کیاہہ تم بیانات بوز تھہ تہ چھوہ ناتوہہ فخرہ خران تھہ پائے تھہ پائے توہہ نفعاہ تہ  
فایدہ و اتاواہا وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا بہ چھہ ونان قیاس انکار کرہ ون کہہ سمہ

مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ ﴿۲۷﴾ وَإِذْ أَنْتَلَىٰ عَلَيْهِمُ الْيَتَابَ إِنِّي  
 مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّوَابًا بَيْنَنَا إِنْ كُنْتُمْ  
 صَادِقِينَ ﴿۲۸﴾ قُلِ اللَّهُ يُخَيِّبُكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُجْمَعُكُمْ إِلَىٰ  
 يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۲۹﴾  
 وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُومِدُ خَيْرُ

دنیاچہ زندگی و راعے چھنہ بیہ کانہہ اخروی زندگیہ۔ موت تہ زندگی چھہ ہتھہ دنیاوی زندگی سیت وابستہ۔  
 زندگی تہ ہتھہ اکے موت تہ ہتھہ اکے وَمَا هُمْ بِكُلِّ الْآلَاءِ الَّذِينَ هُمْ بِهِ يَهْتَفُونَ اِسہ ماران مگر صرف زمانک  
 گردش وَمَا هُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ تحقیق منہ چھنہ تمن اُن کا نہہ خیر اہ۔ تم چھنہ  
 یہ کتھہ ونان مگر پنہ طرفہ بے دلیل اکھ رایاہ قایم کران۔ یعنی آخرتچہ زندگی ہندس انکارہ کرہ کس پیٹھ  
 چھنہ تمن نشہ کانہہ دلیلانہ ہتھہ ہیکان تم اہل حقن ہنزہہ دلیلہ ہند کانہہ جواباہ پیش کمر تھہ۔ چنانچہ  
 وَإِذْ أَنْتَلَىٰ عَلَيْهِمُ الْيَتَابَ إِنِّي مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا اتُّوَابًا بَيْنَنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ یلہ  
 پر نہ یوان چھہ تمن پیٹھ اتھ متعلق سان روشن تہ صاف آیات تمن منہ پتہ بیہ زندہ سپدنک  
 مضمون چھہ آسان تہندہ طرفہ ہتھہ اتھہ انکار کرس پیٹھ کینہہ تہ دلیل آسان مگر سیت کہ دہنہ لگان چھہ  
 کمر توکھ زندہ سان آباواجداد اگر دوبارہ زندہ کرس پیٹھ پوزوان چھہ۔ قُلِ اللَّهُ يُخَيِّبُكُمْ تہہ فرماویا  
 رسول اللہ یمن لوکن اللہ تعالیٰ چھہ توبہ (عندہ وقس تام ہتھہ عالس منہ) زندہ تھوان تھہ مُمَيِّتُكُمْ امہ  
 پتہ دہہ سہ توبہ موت تھہ یَجْمَعُكُمْ امہ پتہ کرہ سہ توبہ جمع الی یَوْمِ الْقِيَامَةِ قیا تمکس دوہس تام  
 لَا رَيْبَ فِيهِ اتھہ منہ چھنہ عندہ قسمک کانہہ شک و شبہ یعنی قیا تمکس میں تہ تہندس امہ دوہہ جمع  
 آسئس منہ چھنہ کانہہ شک تہ شبہ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مگر اکثر لوکھ چھنہ یہ زانان تہ  
 کتھان۔ اکثر لوکن ہندہ آنجان لاگنہ سیت یانہ کتھہ سیت یانہ زانہ سیت پیہ نہ قیا تمکس حق آسئس پیٹھ  
 کانہہ اثر۔ یا تھہ منہ گورھنہ کانہہ شک تہ شبہ پیدہ وَ لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بیہ (چھہ یہ حقیقت

الْمُبْطُلُونَ ﴿۲۷﴾ وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِثَةً تَسْكُلُ أُمَّةٌ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا  
 الْيَوْمَ تُجْرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۲۸﴾ هَذَا كِتَابُنَا يَنْطِقُ عَلَيْكُمْ  
 بِالْحَقِّ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۲۹﴾ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا  
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ  
 الْمُبِينُ ﴿۳۰﴾ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَتِي تَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ  
 فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ ﴿۳۱﴾ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ


زہ) آسمان سے پڑھ بادشاہی چھہ اللہ تعالیٰ بس۔ ساری آسمان سے زمین چھہ تھس ماتحت و یوم تقوم  
 الساعۃ سے سمہ دہہ سوگر یعنی قیامت برپا سپد یُوْجِزُ الْمُبْطُلُونَ تمہ دوہہ گڑھہ گائے گائے  
 آپرس پیرو کرن والین۔ یعنی یم حق تراوتھ کنہ مصلحتہ خاطرہ چھہ آپرس ساتھ دوآن۔ آپرس چھہ پیروی  
 کران۔ تمہن پیہ تہہ تاون وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَائِثَةً سے ژہ وچھہن پریتھہ کانہہ آمت ہیتہ سے خوفہ سیت  
 کوٹھین پٹھہ نمٹھہ كُلَّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا پریتھہ کانہہ آمت پیہ بلاونہ پنہ کتابہ یعنی اعمال نامس کن  
 پریتھہ آتس پیہ ہاونہ سہ کارنامہ کس امہ کورمت آسہ۔ آتی تیس ونہ الْيَوْمَ تُجْرُونَ ازپیہ توہہ پورہ  
 جزانہ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تھہ سارسے کارس تمہن سارنہ کامین پیہ توہہ دنیا بس منز کران آسہ وہ  
 هَذَا كِتَابُنَا پیہ چھہ سانی کتاب سانی رجسٹر۔ یَنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحَقِّ پیہ چھہ توہہ خلاف پوز پوزونان  
 إِنَّا كُنَّا نَسْتَنسِخُ آس آس درج تھاوان کرتھہ اتھہ رجسٹری منز پنہ جایہ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ سے سورے  
 پیہ توہہ کران آس وہ یعنی تھہند سورے قول و فعل اوس اسہ نُس سے درج سپدان لہذا پیہ از توہہ اتھہ  
 سارسے قول و فعلس جزانہ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وون سموا ایمان اون سے اتھہ مطابق  
 کرکیہ رژہ عملہ فَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَتِهِ سے تمہن ولہ اللہ تعالیٰ پنہ رحمت سیت ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ  
 الْمُبِينُ کیے چھہ کن کامیالی وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وون رود تم یموٹھر کور۔ یوحق سے پوزمانس انکار کور  
 أَفَلَمْ تَكُنْ آيَتِي تَتْلَىٰ عَلَيْكُمْ یمن پیہ پرژھہ کیا توہہ آئے نامیان پیغام پر تھہ بوزاونہ فَاسْتَكْبَرْتُمْ

اللَّهُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَارِيبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ  
 إِنَّ نَسْفَاتِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ بِمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ ﴿۳۲﴾ وَبَدَأَ اللَّهُ سِيَّاتِ مَا  
 عَمِلُوا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۳۳﴾ وَقِيلَ الْيَوْمَ  
 نَنسِفُكُمْ كَمَا نَسِفْنَا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمُ  
 مِنْ نَصِيرِينَ ﴿۳۴﴾ ذَلِكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۳۵﴾

توہ آے میان پیغام تہ احکام بوزنادنہ مگر توہہ کورودہ تکبر توہہ تھوونہ زانہہ کن وکنتم توہہ  
 مجرمین تہہ آسودہ اکہ جرم کرن وول قوم اللہ تعالیٰ سُنِد پیغام بوز تھ آسودہ نہ پڑھ کران بلکہ  
 آسودہ کبر تہ نحو تہ سیت اتھ انکار کران تہ بوزہ ناون والین ٹھٹھہ تہ مذاق کران رنگہ رنگہ ایزادہ تہ تکلیف  
 دو ان وَاذَاقُوا بئس یلہ وندہ اوس یوان اِنَّ وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا زہ اللہ تعالیٰ سند وعدہ چھہ پوزاتھہ بیسہ نہ  
 خلاف سپد تھ وَالسَّاعَةُ لَارِيبَ فِيهَا تہ قیامت چھہ پڑے اتھ منز چھہ کتہ قسمک کانہہ شک تہ حُجَبہ  
 یہ سپدہ ضرور برپا قُلْتُمْ توہے آسودہ اورہ ونا ن مَا نَدْرِي مَا السَّاعَةُ اس چھہ زانان زہ یہ قیامت  
 کیاہ گیہ اِنَّ نَسْفَاتِ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتِ اس چھہ زانان صرف اکہ خیلا وَمَا نَحْنُ بِمُسْتَيْقِنِينَ تہ اس چھہ یقین  
 تھاون وائل یعنی اسہ چھہ یقین زہ کیوں لکن ہند یہ گمان زہ قیامت سپد برپا چھہ پوز۔ اسہ چھہ قیامت  
 پیٹھ کانہہ یقین وَبَدَأَ اللَّهُ سِيَّاتِ مَا عَمِلُوا تہ یمن بحر من نین ناکارہ پاٹھ پکن پیچھہ کار وَحَاقَ بِهِمْ  
 ولہ تم نال مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ تہ تھہ تم ٹھٹھہ اس کران یعنی تھہ عذابس تہ تھہ سزا اس تم  
 پڑھ نہ آسکھ سببہ ٹھٹھہ اس کران سے عذاب تہ سزا ولہ یمن نال وَقِيلَ بئس یلہ بحر من وندہ  
 الْيَوْمَ نَنسِفُكُمْ از چھہ اس توہہ مشراوان کَمَا نَسِفْنَا لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا تھہ پاٹھ توہہ آسودہ مشرومت  
 تھندہ یمہ دوہک یمن تہ اسہ برو نہ کن جزا تہ سزا باپتھ حاضر سپدن وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وولن چھہ تہنز چھین  
 جائے نار یعنی جہنم وَمَا لَكُمُ مِنْ نَصِيرِينَ بئس چھہ تھندہ باپتھ کانہہ مددگار و منزہ توہہ آسودہ مشرومت  
 قیامتگ برپا سپدن اسہ سیت ملاقات کرن، عملن ہند جزایا سزا حاصل کرن۔ یہ تعلیم یلہ توہہ ہاونہ آہ

الْحَيَوَةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ﴿۳۵﴾  
 فَبِاللَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۶﴾  
 وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۳۷﴾

توہ کروہ نہ اتھ پڑھ توے کروہ لا پروائی۔ لہذا چھ اس تہ از توہ سیت لا پروائی ورتاوان۔ توہہ چھہ پنہ  
 نن پیچہ کارن ہند انجام نارو چھن تہ توہہ بیسہ نہ کانہہ تہ امہ نش مجلس منزد کر تھہ ذلکم یاتکم  
 اتخذتم الیت اللہ ہزوا تہندیہ پیچہ انجام چھ نتیجہ یہ تھہ ہندزہ توہے آسؤہ اللہ تعالیٰ سندین پیغامن  
 مذاق زانان وَخَوَّجْكُمْ الْحَيَوَةَ الدُّنْيَا بیہ دیت توہہ دوکھ دنیا چھہ زندگی یعنی دہس منز بس عیش تہ  
 عشرت توہہ حاصل سپد امہ سیت لوگ توہہ دوکھ توہہ گنیہ رائے زہ یہ عیش تہ عشرت موکہ لی نہ  
 زانہہ تہ توہہ جھوٹی روزن فَالْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا لہذا این نہ از نیپر کڈنہ امہ نارہ منزہ یعنی از  
 قیامتک دوہ چھہ یمن ضرور نارس منز ایذاہ تکلن وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ تہ نہ بیہ یمن کانہہ عذر قبول کرنہ  
 فَبِاللَّهِ الْحَمْدُ لہذا شو بن ساری حمد تہ ثا اللہ تعالیٰ ہس رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ بس رب چھہ  
 آسمان ہند بیہ بس رب چھہ زمینک رَبِّ الْعَالَمِينَ بس رب چھہ سارنہ عالمن ہند وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ تہ تنس چھہ بجز تہ طاقت آسمان تہ زمینس منز وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ تہ سوی  
 چھہ زبردست طاقتہ وول تہ حکمتہ وول۔



## سُورَةُ الْأَحْقَافِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 حَمَّ ① تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ ②  
 مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ  
 مُّسَمًّى وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ ③ قُلْ أَرَأَيْتُمْ  
 مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ  
 أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ إِيْتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا أَوْ

حَمَّ ہم چھہ حروفِ مقطعات۔ خدایہ سے چھہ معلوم ہنہ معنی تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ قرآن مجیدک نازل سپدن چھہ نس معبود برحقہ سہہ طرفہ نس غالبہ حمہ وول چھہ لہذا آگوشہ امہ کین مضمون پیٹھ پور غور کرن۔ مَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى اسہ کرنہ پادہ آسمان تہ زمین بیہ یہ تمہ منز چھہ، مگر حکمت بیہ اکہ مقرر تہ متعین مدتہ خاطرہ۔ سہ مدت گودقت قیام قیامت۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَمَّا أُنذِرُوا مُعْرِضُونَ مگر ہم لوک کافر چھہ تمہ سمو چیز وسیت توحیدہ کس انکار کرہ نس پیٹھ نیم چھہ کرنہ یوان تم چھہ تھہ کن کنہی توجہ تہ التفات کران۔ توحید چھہ قبول کران قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَوَاتِ تہہ فرما یو کہ یار سول اللہ تمہ تہہ خدایہ سنز عبادت تراو تھہ چھہ عبادت کران تمہ ہدس متحق عبادت آسئس پیٹھ کیاہ دلیل چھہ توہہ نشہ۔ اگر عقلی دلیل چھہ میہ ہا تو زینٹ کہہ چھہ تمہ پادہ کورمت۔ کنہ آسمانہ کس پادہ کرنس منز چھہ تمہ کانہہ شر اکتھاہ۔ یہ کتھہ چھہ ظاہر کہہ تہہ چھہ کہ نہ تم خالق مانان۔ بلکہ چھہ کہہ تہہ تمہ تہہ مخلوقے مانان۔ مخلوق آس چھہ معبود آس بالکل منافی دلیل عقلی ختم۔ اگر توہہ نش دلیل نقلی چھہ إِيْتُونِي بِكِتَابٍ مِّنْ قَبْلِ هَذَا میہ نعرہ ان



أَشْرَۃٍ مِّنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۴﴾ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُوا  
 مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنِ  
 دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ ﴿۵﴾ وَإِذَا حِشَرَ النَّاسَ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَ  
 كَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ﴿۶﴾ وَإِذَا اتَّسَلْتُمْ عَلَيْهِمُ الَّتِنَابِينَ  
 قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ ﴿۷﴾

تو تلمیہ کا نہہ صحیح کتاباہ۔ یہ تھ منز شریک لحم آسہ یوسہ کتاب سمہ قرآن مجیدہ بروئٹھ نازل کرنہ آمر  
 آسہ اَوْ أَشْرَۃٍ مِّنْ عِلْمٍ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ یا اگر کتاب آسہ نہ توتہ کر تو پیش معتبر علمی کا نہہ مضموناہ،  
 رواستھاہ یوسہ منقول آسہ، چھوے تھہ شریک دعوائے کرہ نس اندر پوزونہ ون۔ یہ تھہ چھہ ظاہر کہ  
 یرھہ دلیل ہیجہ نہ کا نہہ تہ پیش کمر تھہ مگر تھہ چھوہ نہ امہ پتہ تہ باطل تھہ نشہ باز یوان۔ وَمَنْ أَضَلُّ  
 مِمَّن يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کہہ اکھاہ چھٹس شخصہ سندہ خوتہ زیادہ گمراہ  
 نس دلیل پیش کرنہ نشہ چھہ عاجز۔ باوجود آل چھہ معبود برحق تراوتھہ تمن باطل معبودن آلودوان  
 سم نہ قیاس تان تھہدس ناوس تہ آوس جوابے ممکن دتھہ۔ تمن چھہ تھہدہ آلودنچ خبرے کینہہ کیاہ  
 تمن چھہ تمیک شعورے تمن چھہ خبرے سجدہ کم دیت تہ تھہ کم دتھہ۔ وَلَمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَفْلُونَ تم  
 چھہ تھہدہ آلودنہ نشہ بالکل بے خبر۔ جمادات یعنی کمنہ تہ بے جان چیزن ہند چھہ ظاہرے کہہ تمن چھہ  
 قوت سامع کینہہ۔ باقی ذوات الارواح، ملایکہ، حضرات انبیاء، بیہ اولیاء اللہ تم چھہ سوے کتھ  
 بوز تھہ ہیکان یوسہ اللہ تعالیٰ بوزہ ناویکھ۔ سوی کام ہیکان کمر تھہ سمیک اجازت تہ قدرت تمن اللہ تعالیٰ  
 دیہ پانس تمن بذات خود کا نہہ اختیاراہ چھہ۔ وَإِذَا حِشَرَ النَّاسَ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ  
 كَافِرِينَ چنانچہ یلیہ لوکھ ہمشرہ کس مید انس منز جمع ین کرنہ حساب دنہ خاطرہ تے معبودان باطل  
 آسن، تمن تم نادتہ آلودوان آس، تھہد دشمن۔ بیہ آسن تے تھہدس عبادت تہ پرستش کرہ نس مکر۔  
 دیکھ آسہ چھہ خبرے تھہ کیاہ آسہ عبادت کران وَإِذَا اتَّسَلْتُمْ عَلَيْهِمُ الَّتِنَابِينَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ فَلَا تَمْلِكُونَ  
 لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ كَفَىٰ بِهِ  
 شَهِيدًا ابْنِي وَبَيْنَكُمْ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ①  
 قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعَاءِ مِنَ الرُّسُلِ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ  
 إِنْ أَتَيْتُمُ إِلَّا مَائِوُجِي إِلَىٰ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ④ قُلْ أَرَأَيْتُمْ

لِلْحَقِّ لَتَأْتِيَآ هُمْ هَذَا وَيَعْرُفُونَ ① یہ یہ پر نہ چھہ یوان تم پٹھ سان صاف صاف تہ واضح آیات،  
 ونان چھہ تم کافر اتھ پڑس قرآن مجیدس کہ یہ چھہ نعوذ باللہ نون سحر تہ جود اَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ  
 قُلْ إِنْ افْتَرَيْتُهُ کیاہ تم لوکھ چھہ ان کمر یہ قرآن مجید ٹھہر دو آم پیغمبرن پائے۔ ٹھہ فرما یو کہ یا  
 رسول اللہ ای لو کو ہر گاہ میہ یہ قرآن مجید پانے پتہ طرفہ بنوومت آتھہ خدایس کن لوگمت آسہ ہاتلیہ  
 کرہ ہا اللہ تعالیٰ پتہ عادتہ موجب میانس اُپڑد عوی نبوت کرہ نس پیٹھ میہ ہلاک۔ تو پتہ یلہ سہ میہ (نعوذ  
 باللہ) ہلاک کرن پتہہ فَلَا تَمْلِكُونَ لِي مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ٹھہ لو کہ یاباتی لو کہ میکو نہ میہ خدایہ سندہ عذابہ  
 یشہ بجاوتھہ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُفِيضُونَ فِيهِ نس چھہ پور خبر ٹھہ کمہ کمہ کتھہ چھہ اتھہ قرآن مجیدس  
 متعلق کران کفی یہ شَهِيدًا ابْنِي وَبَيْنَكُمْ بس چھہ سنی گواہ میہ منزتہ تو بہ منز۔ نس چھہ آسہ  
 سارنے ہند حال پور معلوم ٹھہہ چھہ صادق تہ ٹھہہ چھہ کاذب وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ سنی چھہ سیٹھاہ  
 مغفرت کرہ ون سیٹھاہ رحم کرہ ون۔ سہ چھہنے کافر ن دنیا س اندر عذابس گرفتار کران۔ مگر تم  
 عذابس گرفتار نہ کرن چھہنے دلالت کران تھندس پڑس پیٹھ آسئس قُلْ مَا كُنْتُ بِدُعَاءِ مِنَ الرُّسُلِ ٹو بہ  
 فرما یو کہ یا رسول اللہ ای لو کو بہ نو پیغمبرہ چھس نہ۔ میہ برونتھہ تہ چھہ بہ تہ واریاہ خدایہ سندی احکام  
 ہتھہ آمت۔ وَمَا أَدْرِي مَا يُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ یہ چھہنے میہ خبر میہ سیت کیاہ معاملہ سپدہ آئندہ۔ پتہ نین  
 آئندہ حالائن ہنز یلہ نہ میہ خبر چھہ بین متغیباتن ہندد عوی کتھہ یا ٹھہ ہیچہ بہ کمر تھہ۔ تم حالائن ہند  
 میہ بذریعہ وحی علم سپد تم ہند چھہ واقعی علم کامل إِنْ أَتَيْتُمُ إِلَّا مَائِوُجِي إِلَىٰ وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ مُّبِينٌ بہ

اِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ وَكَفَرْتُمْ بِهٖ وَشَهِدَ شَٰهِدٌ مِّنْ بَنِي  
 اِسْرَآءِيْلَ عَلٰى مِثْلِهٖ فَاَمِنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ اِنَّ اللّٰهَ لَآيْهَدِي الْقَوْمَ  
 الظّٰلِمِيْنَ ﴿۱۰﴾ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا  
 سَبَقُوْنَا اِلَيْهٖ وَاذْكَرْ مِیْهْتَدُوْا بِهٖ فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَا اِفْكٌ قَدِيْمٌ ﴿۱۱﴾  
 وَمِنْ قَبْلِهٖ كَتَبَ مُوْسٰى اِمَامًا وَّرَحْمَةً وَّهٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ  
 لِّسَانَ عَرَبِيٍّ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَّبَشْرٰى لِّلْمُحْسِنِيْنَ ﴿۱۲﴾ اِنَّ

جھنہ علم و عملہ اندر پیروی کران مگر تھے یہ میرے کن وحی نازل یوان جھہ کرنے۔ پانہ پتہ طرفہ کانہہ چیز  
 ٹھہر اونچ جھنہ صورتھے کانہہ یہ جھس نہ بہ مگر عن پانٹھ بیم کردن قل آونیم ان کان من عند اللہ و  
 کفرتومہ و شہد شہد من بنی اسرائیل علی مثلہ قامن و استکبرتم فرما یو کہ تہہ یار رسول اللہ ای  
 لوگو میرے دن تو ہر گاہ یہ قرآن مجید واقعی طور خدایہ سیدہ طرفہ آتھ تہہ آتھ انکار کرمیہ آسہ بنی اسرائیل  
 اندر تہہ کانہہ معتبر گواہ گواہی ودان یرھ کتابہ ہندہ نازل سپدنج، تھ پیٹھ پانکتر تھ آسہ سہ تھ ایمان  
 اتان تہہ پرھ کران مگر تہہ روز و محبت تہہ غرورہ سببہ امہ کس انکار س پیٹھ، تھ صورتس اندر تہہ اکھاہ جھہ  
 تہہہہ خو تہہ زیادہ بے انصاف تہہ ظالم۔ اِنَّ اللّٰهَ لَآيْهَدِي الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ بے شک اللہ تعالیٰ جھنہ بے  
 انصافن تہہ ظالمن و تھ ہادان بلکہ جھہ تم ہمیشہ گمراہی تہہ ضلالتس اندر روزان۔ گمراہی ہند انجام جھہ نار  
 جہنم۔ وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَوْ كَانَ خَيْرًا مَّا سَبَقُوْنَا اِلَيْهٖ یہ جھہ تم کامفروان با ایمان ہندس  
 ایمان انہ نس نسبت کہ ہر گاہ یہ قرآن مجید جھہ تم پڑھ کرم مڑ جھہ رت آسہ ہا، تیلہ گڑھن نہ تم کم  
 درجک لو کہ آتھ دینس کن آسہ برو تھ۔ یہ گوو تھند کمال درجک استکبار تہہ غرور وَاذْكَرْ مِیْهْتَدُوْا بِهٖ  
 فَسَيَقُوْلُوْنَ هٰذَا اِفْكٌ قَدِيْمٌ یلہ نہ امہ غرورہ تہہ استکبارہ سببہ تمن امہ قرآن مجیدہ سیت دینس کھس کن  
 و تھ آسہ لہذا جھہ تمن دنہ لے کہ یہ جھہ پرائیو اہر و کھو منزہ اکھ اپز کتھاہ وَمِنْ قَبْلِهٖ كَتَبَ مُوْسٰى  
 اِمَامًا وَّرَحْمَةً وَّهٰذَا كِتٰبٌ مُّصَدِّقٌ لِّسَانَ عَرَبِيٍّ لِّلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا وَّبَشْرٰى لِّلْمُحْسِنِيْنَ حالانکہ سمہ

الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْزَنُونَ ﴿۱۳﴾ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا  
يَعْمَلُونَ ﴿۱۴﴾ وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ  
كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ

قرآن مجیدہ بروئے آس حضرت موسیٰ سز کتاب یعنی تورات نازل آمز کر نہ یوسہ امت موسویہ خاطرہ بالعموم و تھ باہ و ن آس، اہل ایمان ہندہ خاطرہ بالخصوص بڈ رحمت آس، یہ قرآن مجید تہ پیشین گوئی تور آس منز تہ چھ، تہ چھ کتابہ عمہ کتابہ ہنز پیشین گوئی تصدیق کران یوسہ عربی زیوہ منز چھ، یٹھ یم گرہ تم ن لوکن سمو ظلم کور یعنی شرک تہ کفر کر نہ سیت۔ یہ چھ بڈ بشارت نیکو کارن ہندہ خاطرہ **إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ** بیشک سمو لو کو بصدق دل اقرار کور زہ سون پروردگار چھ اللہ تعالیٰ تو پتہ رود اتھ اعتقاد س پیٹھ آخر س تان، یہ اعتقاد تروو کہ نہ زانہہ ہس چھہ تم ن آخر س اندر کانہہ خوفاہ واقع سپدہ ون نہ آس تم تہ نمگین **أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ** یم لو کہ چھہ جنتی، یم ہمیشہ روزن تم ن جتن اندر۔ یہ چھہ تم ن رت جزا تم ن رزن عملن ہند تم کران آس دنیاس اندر یعنی ایمان تہ استقامت بر ایمان تہ پٹھ پٹھ اسہ پنن حق بندن پیٹھ واجب کمر سیمگ ذکر کر نہ آوتیٹھ پٹھ کور اسہ حقوق العبادتہ واجب چنانچہ تموا ندرہ گوو سیٹھاہ بوذ حق ملس ماجہ ہند **وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا** تمی مو کہ کور اسہ اناسس تاکیدی حکم پنہ نس ملس ماجہ نسبت احسان کرہ نک۔ بالخصوص ماجہ نسبت زیادہ احسان کرہ نک حکم۔ کیا زہ یہ موج آس نہایت شفقہ سان تلان اسس اناسس پنہ یڈ منز تو پتہ تروون یہ یڈ منز نہایت سختی سان **وَحَمَلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا** اسس انسانہ سڈ ماجہ ہنزہ یڈ منز روزہ نک مدت بہہ دودر تہ نک مدت چھہ اکثر ترہن ر تین یعنی ڈاین و رین پورہ سپدان۔ تمہ پتہ چھہ سہ نشوونما لبان۔ **حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً** تالیٹھہ یلہ سہ نشوونما

أَشَدُّهَا وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ  
الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ  
وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي بُنْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۱۵﴾  
أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ  
فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ الصَّدُوقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿۱۶﴾ وَالَّذِي  
قَالَ لَوْلَا دِيهِي أَفِي لَكُمْ مَا اتَّعَدْتَنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَّتِ الْقُرُونُ

کہاں چھ، پندرہ جوانی ہندس توتس واتان چھ یعنی جوان چھ سپدان تو پتہ چھ واتان ژ تہجن ہنزہ عمرہ،  
نہیں سعادت مند چھ آسان قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ  
صَالِحًا تَرْضَاهُ سہ چھ دپان ای میانہ پروردگارہ وہ تھتھ پٹھ مداومت گرہ نلگ توفیق کہ بہ کیاہ کرہ  
شکر گذاری تمہہ نعت یوسہ ژہ میہ عطا کر تھ بہہ میانس مالس ماجہ عطا کر تھ بہہ دہ میہ توفیق سمیک زہ بہ  
کیاہ کرہ رژہ کامہ میہ ژہ ہند آسہ نے، سمو سیت ژہ راضی گوہھہ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي بہہ کر  
صلاحیت پادہ میانہ نفعہ خاطرہ میانین اولادن منز۔ نفع دنیوی گووہہ کہ بہ کیا آسہ تم و پھتھ  
پھولان۔ نفع دینی گووہہ کہ میہ تہ آسہ اجر و ثواب حاصل سپدان إِنِّي بُنْتُ إِلَيْكَ بہہ چھس توبہ  
کران سمو کو تاہہ نشہ سمہ میانہ طرفہ آہ چانین حقوقن یا چانین بندن ہندین حقوقن اندر وَإِنِّي مِنَ  
الْمُسْلِمِينَ بہہ چھس بہ چانس کھمس گردن دارہ و نیو آندرہ أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا  
وَنَتَجَاوَزُ عَنْ سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعَدَّ الصَّدُوقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ سہ لوکھ گے تم سمن ہنزہ رژہ  
عملہ آس قبول گرہ بہہ گرد آس تہند خطا معاف سمہ طریقہ کہ تم آس جنتیہ آندرہ، تمہہ بزہ وعدہ کہہ وجہہ  
نہیں سیت دنیا اس اندر کرنہ اوس یوان وَالَّذِي قَالَ لَوْلَا دِيهِي أَفِي لَكُمْ مَا اتَّعَدْتَنِي أَنْ أُخْرَجَ وَقَدْ خَلَّتِ  
الْقُرُونُ مِنْ قَبْلِي بیاکھ گووسہ شخص سم حقوق اللہ تہ حقوق العباد ضایع کتر تھہ پاٹھس شخصہ سندھ  
حالہ سیت معلوم چھ سپدان، سم مالس ماجہ، بہہند حق حقوق العباد و منزہ نہایت موکد اوس، خصوصاً

مِنْ قَبْلُ ۚ وَهِيَ اسْتَيْغِيثُ اللَّهِ بِكَ مِنْ إِيَّانٍ وَعَدَا اللَّهِ حَقٌّ ۚ  
 فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝۱۷ أُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ  
 الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ  
 كَانُوا خَسِرِينَ ۝۱۸ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا أُولَئِكَ فِيهِمْ أَعْمَالُهُمْ  
 وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ۝۱۹ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ

یہ تم مسلمان آس، خصوصاً یہ تم آس تہ اسلامک تبلیغ کران آس، آس آس حقوق ادا کرہ نک  
 واریاہ ذرائع حاصل یہ یہ یہ تم آس دین حقس کن دعوت ووان آس ام دو پکھ اف، توہہ اونوس بہ عاجز  
 عجیب کتھ ون ون کیا تہہ چھوہ میہ ونان قیامتگ دوہ سپد کھ تہہ یہ زندہ سپد تھہ کتھ تہہ قبر واندہ  
 منزہ کڈنہ حالیکہ میہ بروٹھ گذرے یہ واریاہ اُمترہ تمن پر تھہ وقتہ پنن پیغمبر تھہ وعدہ ووان آس مگر  
 از تام سپد نہ کنہ وعدک ظہور امہ اندرہ چھہ معلوم سپدان زہ سمہ کتھہ یا تہہ وَهِيَ اسْتَيْغِيثُ اللَّهِ  
 وَيْلِكَ اٰمِنٌ اِنَّ وَعَدَ اللّٰهُ حَقًّا تم دوشوے یعنی مول تہ موج اُمند، اُمندہ انکارہ تہ عُزَّ عَظِيْمَه سبہ  
 سخت دولتھ لگ تم اللہ تعالیٰ اس فریاد کرہ۔ آس پنچوس لگ وننہ درد مندی سان۔ وال بوئے تہہ ان  
 جلد ایمان بہ زان قیامت برحق۔ بیشک خدایہ سُد وعدہ چھہ حق تہ پوز۔ مرنہ پتہ چھہ ضرور بہ زندہ  
 گوٹھن سارنہ۔ فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سہ چھہ تورہ تمن ونان کہ یہ کتھہ چھہ بالکل بے  
 سُد۔ بروٹھن لوکن نشہ نقل یوان کرنہ اُولَئِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ  
 الْجِنِّ وَالْإِنْسِ إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ سبے گئے تم لوکہ یہندہ چھہ عذابگ حکم مقرر سپد مت ہتھہ تم  
 اُمتن سبت یہہ تمن بروٹھ آسہ جنو تہ انسانو اندرہ۔ بیشک تم آس از لے تاوان زُد وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ  
 مِمَّا عَمِلُوا تمن دوہ شونی فریقن ہندہ خاطرہ چھہ تہنز و مختلف عملن ہندہ اعتبارہ الگ الگ درجہ مقرر  
 کرنہ آمت۔ آس فریقس جتنس منز پس فریقس جہنمس منز، تمو کامیو موجب یہہ کامہ تمو کرہ مرثہ  
 آس دنیاس اندر وَلَئِكَ فِيهِمْ أَعْمَالُهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ سبھ اللہ تعالیٰ تمن سارنہ تہنز عملن ہند

أَذْهَبْتُمْ طِبْيَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ۖ فَالْيَوْمَ  
تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي  
الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ۖ وَادْكُرُوا آخَا  
عَادٍ إِذْ أَنْذَرْتُمُوهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَّتِ السُّدُورُ مِنْ  
بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ

بدلہ پورہ عطا کرہ یہ یہ نہ کانسہ آگس تمو آندرہ مئے طریقہ ظلم کرنہ **وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى  
النَّارِ** یہ یہ دوہہ کافر بروٹھ کن آنہ سن نار جھنسن و منہ بیجھ **أَذْهَبْتُمْ طِبْيَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا  
وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا** اے کافر توہہ وچھوہ پنہ دُنیاچہ زندگی منزرتین نمون ہند پن حصہ حاصل کورمت یہ  
چھوہ تہن ہند پورہ تمح سے فایدہ توہہ تکت یہ سپدہ نہ توہہ کانہہ نعمتہ حاصل **فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ  
الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ** وون یہ توہہ ازیتہ  
بدلہ دنہ خواری ہند عذاب کیا زہ تہہ آسوہ نادنیاعس منزحجترہ غرور کران ناحق۔ یہ سہہ موکھ کہ تہہ  
کیا آسوہ سخت نافرمانی کران۔ ناحق آوونہ امی موکھ کہ مخلوقس پڑہ نہ حجتر کران۔ تہس ہجھنہ مئے وقتہ حق  
حجتر کرہ ٹک خصوصاً زمینس پیٹہ۔ یہ چھہ انسانہ سدہ حقہ زیادے مذموم **وَادْكُرُوا آخَا عَادٍ إِذْ  
أَنْذَرْتُمُوهُ بِالْأَحْقَافِ** یہہ کوروتہہ تہن کافر ن نعبہ قوم عادن ہندس برادر ہود علیہ السلامہ  
سنزد کریلہ تموپنہ نس قومس تم تڑھہ جلیہ پیٹہ ہسان آس بیتہ خمدار سکہ بند تودہ آس تھہ جلیہ چھہ ونان  
احقاف۔ یہ چھہ اکھ وادیاہ تہنس منز حضر موتس نزدیک۔ سوی پن قوم کھوڑہ نووڈک خدلیہ سدس  
عذابس۔ فرماوان آسکھ ہتھنہ توہہ عبادت کمر وکانسہ ہنز خدالیس ورائے ورنہ گڑھو عذابس گرفتار۔ یہ  
چھہ تڑھہ تھہ کہہ **وَقَدْ خَلَّتِ السُّدُورُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمَنْ خَلْفَهُ إِلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ** کہ بے شک  
ہود علیہ السلامس بروٹھ تہ تہن پتہ تہ آی امی مضمون خاطرہ وادیاہ کھوڑہ ناؤن وال پیغبر ازتان۔ ہود  
علیہ السلامن فرموپنہ نس قومس کہ عبادت مہ کمر وکانسہ ہنز معبود برحقس ورائے۔ **إِنِّي أَخَافُ**

عَلَيْكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۲۱﴾ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَأْفِكَنَا  
عَنِ الْهَيْئَةِ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ ﴿۲۲﴾  
قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَابْلَغُكُمْ مَا اُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي  
اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ﴿۲۳﴾ فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اُوْدِيَّتِهِمْ  
قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّسْطَرْنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ  
فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ ﴿۲۴﴾ تَدْمُرُ كُلَّ شَيْءٍ بِاَمْرِ رَبِّهَا  
فَاَصْبَحُوا الْاَيْرٰى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ كَذٰلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ

عَلَيْكُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَظِيمٍ بہ چھٹس کھوڑان چہندہ چھہ اکہ بڑہ دوہہ کس عذابس یعنی قیامتہ دوہہ کس  
عذابس قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَأْفِكَنَا عَنِ الْهَيْئَةِ تمودوہس اے ہود کیاہ ژہ چھکھہ آمت اَسہ نِسہ امی  
خاطرہ کہ ژہ کیاہ پھر کہ اَسہ پنہ نیو معبودوہ چہ۔ اس پھیرن وال چہنہ۔ فَاْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ  
مِنَ الصّٰدِقِيْنَ دون ہرگاہ ژہ پوزونہ و نیو منزہ چھکھہ تیلہ و اتناوہ عذاب ہمیک ژہ اَسہ بیم کران چھکھہ  
قَالَ اِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللّٰهِ وَابْلَغُكُمْ مَا اُرْسِلْتُ بِهِ وَلَكِنِّي اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ہود علیہ السلام  
فرمو کہ عذابہ شیخ خبر چھہ خدلیہ سے یا ژہ بہ چھٹس توہہ و اتناوان سہ پیغام نس ہتہ بہ سوزنہ آمت  
چھٹس۔ مگر بہ چھٹس توہہ و چھان اکہ قواہ خالص جمالتہ چہ۔ کتہہ کران یلہ نہ تموکتہ طریقہ حق تسلیم  
کورائی ہن عذابک آثار شروع سپدن گوڈہ نی کھوت اوراہ اکہ فَلَمَّا رَاَوْهُ عَارِضًا مُّسْتَقْبِلَ اُوْدِيَّتِهِمْ اَدہ  
یلہ تموٹہ اوروہ چھہ نس پکان اوس یہہد سے زمینس زراعتس کن قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُّسْطَرْنَا دہنہ لگ  
یہ اور تر اوہ رود اَسہ پیٹہ۔ ڈینہ آکھ یہ رود تراوہ ون اور بہنہ بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ بلکہ چھہ یہ  
سے عذاب نس توہہ دل دل ژہا نڈان آسہ اتھ اورس منز چھہ ریحٌ فِيْهَا عَذَابٌ اَلِيْمٌ واواہ چھہ  
سیت کڈر عذاب چھہ تَدْمُرُ كُلَّ شَيْءٍ بِاَمْرِ رَبِّهَا فَاَصْبَحُوا الْاَيْرٰى اِلَّا مَسٰكِنُهُمْ یہ عذاب گالہ



الْمُجْرِمِينَ ﴿۲۵﴾ وَلَقَدْ مَكَنَّهُمْ فِيمَا إِنْ مَكَنَّاكُمْ فِيهِ  
 وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفِيدَةً ۖ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ  
 سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفِيدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ  
 كَانُوا يُجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ  
 يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۲۶﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ  
 وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿۲۷﴾ فَلَوْلَا نَصْرُهُمْ

پرستھ چیزس پنہ نس خدایہ سہدہ حمہ سیت۔ چنانچہ سہ داویلہ در اوتہم تھوونہ کانہہ چیزاہ باقی گالہ  
 وراے۔ پس سہ ختم کانہہ چیزاہ اوس نہ درینشی یوان تہنز ولریو جاہو وراے کذلک نَجْزِي الْقَوْمَ  
 الْمُجْرِمِينَ یتھہ پاٹھ کیاہ جھہ آس نافرمان سزاوان وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِيمَا إِنْ مَكَنَّاكُمْ فِيهِ  
 وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفِيدَةً بے شک آسہ اوس تمن طاقت دیتمت تمن تمن کامین ہند  
 تمن ہند طاقت توہہ جھنہ دیتمت۔ تمہ اندرہ چھ مراد تم تصرفات تم جسمانی قوتس تہ مالی قوتس پیٹھ  
 موقوف جھہ۔ ہیہ آس آسہ تمن کن اچھہ تہ دل دیتمت۔ سموسیت تم بڈین بڈین مشکلاتن ہند مقابلہ آس  
 کران۔ مگر یلہ تمن سون عذاب دوت تھہ مقابلہ ہیو کھ نہ کینہہ تہ کمر تھہ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ  
 وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفِيدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ نس دیت نہ تمن کانہہ فائدہ نہ کونہ اچھو تہ نہ دلونہ  
 چیزک إِذْ كَانُوا يُجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ کیا زہ تم آس انکار  
 کران خدایہ سندین آیاتن۔ توپتہ آدولنہ تمن سنی عذاب یتھہ تم ٹھٹھ تہ محول کران آس وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا  
 مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَىٰ وَصَرَفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اے مکہ کیولوکو تھمتن گال آسہ تمن  
 شہرن ہند لوکہ تم توہہ لہد پک جھہ کفر وشرک سببہ۔ قوم ثمود تہ قوم لوط، آسہ و اتناوے یہ تمن نشہ  
 پنہ دلیلہ پھیر پھیر دیوہ تم کفرہ تہ شرکہ نشہ پتھ روزن مگر تم رودنہ پتھ کینہہ تہ۔ تمہ موکھ گے تم  
 عذابس گرفتار فَلَوْلَا نَصْرُهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً پس کونہ سنا کور تمن

الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِهَةً بَلُّ ضَلُّوا عَنْهُمْ وَذَلِكَ أَفْكَهُمُ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ ﴿۴۸﴾ وَإِذْ صَرَفْنَا

مد تمو معبودان باطلو ہم معبود برحقس وراے معبود بناوی مت آس خدایہ سند قرب حاصل کرنے خاطرہ کہ ہم بن آسہ مصیبتہ کہ وقتہ بکار۔ ہنس کونہ سنا آے تم تمین بکار سمہ عذابکہ تہ ہلاک گروھنکہ وقتہ بَلُّ ضَلُّوا عَنْهُمْ مد کرہ نچ کیاہ ہجھہ کہتے بلکہ ثل تم تمین پیٹھ عذاب وسجہ وقتہ وَذَلِكَ أَفْكَهُمُ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ یہ سورے تہند تم معبود زائن یا شفیع زائن اوس اہوئیس سموپانے دلہ نڈا اکھ ٹھہر دومت اوس بروٹھمین آیات کریمین اندر آویان کرنے کہ کافرین یہہ ونہ عذابس گر فمار سپد سجہ وقتہ کہ یہ ذلتک عذاب چھہ توہہ ( بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ ) ٹہہ کیاہ آسوہ دنیاءس منز ناقح حکمگر کران بیہ کیاہ آسوہ ٹہہ نافرمانی کران۔ حکمگر دنا فرمائی ہنز مذمت بوزانہ خاطرہ آوکافرین ونہ کہ وچھو کہ جن سم حکمگر س اندر انسان ہندہ خوتہ زیادہ چھہ۔ تمو ترو و حکمگر، تہ کفرہ نشہ دست بردار سپد تھ کور تموا سلام قبول۔ مگر ٹوہہ انسان آتھہ چھوہ نہ ٹہہ حکمگر تہ کفرہ نشہ بازیوان۔ سمین جئن ہندہ مسلمان سپد نچ آتھہ آہ کر سمس منز ذکر چھہ تہند قصدہ چھہ حدیث شریفین منز ہتھہ پاٹھہ آمت کہ یلہ بعثت نبویہ کہ وقتہ جن آئی آسمانی خبرہ بوزنہ نشہ ستارن ہندہ شعلہ سیت ہتھہ رنہ تم سپد حیران کہ یہ کیاہ سنا سپد۔ امیک پزہ آسہ تحقیقات کرن۔ دریافت گروھہ کرن کہ دنیاءس اندر گہہ سنا واقعہ سپد نمودار سمہ سببہ آس آے پتھہ رنہ۔ چنانچہ جن ہنزہ مختلف جماتر آہ مختلف طرفن گن امیک تحقیقات کرنے تموے آندرہ اکھ جماتھہ واژمکہ شریف۔ تمہہ دوہہ آس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض صحابہ صابن سیت اکس جاییہ ہتھہ بطن نخلہ ناواوس۔ لہہ پیٹھہ اوسگھہ سوق عکاظس گن بغرض تبلیغ دین و اشاعت اسلام تشریف نیک ارادہ۔ آتھہ جاییہ آس صبح نمازہ پان۔ جن ہنز یہہ جماتھہ تہہ و آتھہ جاییہ بوزکھ وارہ ٹہندہ قرآن مجید پان۔ دہنہ لگ سونو کتھہ سمہ کہ دریافت کرنے خاطر آس درامت چھہ۔ سو چھہ بیے سمہ سببہ نہ آس آسمانی خبرہ بوزتھہ ہیکان چھہ۔ بروایت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہم چھہ کہ تم جنات یلہ اوت وات آتہ بوزکھ قرآن مجید۔ دہنہ لگ ژھوپہ لاگو وارہ بوزویہ قرآن مجید۔ تمہہ پتہ یلہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نمازہ نشہ فارغ سپد سم جن سپد مسلمان تو پتہ گئے پنہ

إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمْعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ  
 قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ ﴿۲۹﴾  
 قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَبِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا  
 لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۳۰﴾ يَقَوْمَنَا  
 أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ  
 مِّن عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿۳۱﴾ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِعَجِزٍ فِ


نس قومس کن واپس تمن تہ کر کہ ایج خبر یہ لکھ دہہ ترغیب ایمان انہ نس کن واذ صرّفنا الیک نقرأ من  
 الجین یستمعون القرآن یہ کمر و تمن لو کن نعرہ ذکر تمہہ و تک قصہ یلہ اسہ تو بہ کن سوزا کہ جماعتہا  
 جو اندرہ۔ یوت واتھ لگ تم بوزہ قرآن مجید سمہ ساتہ نہہ صبح نمازہ اندر قرآن مجید پر ان آسہ  
 فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا تم یلہ ساری جمع سہد تھہ جاہہ بہہ قرآن مجید پر نہ اوس یوان اکھ ائس  
 لگ و نہہ ژھوپہ کمر تھہ بوزویہ کلام فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ تمہہ پتہ یلہ قرآن ہر ان  
 ختم سہد تمہہ پتہ گئے تم و ائس پنہ نس قومس کن یہ سوری واقعہ بیان کرنہ خاطرہ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَبِعْنَا  
 كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَىٰ چنانچہ پنہ نس قومس لگ دہنہ آے قوم آس آے بوز تھہ اکھ عجیب کتابہ  
 ہند اکھ مضمونہ یوسہ کتاب نازل مجھہ آمو کرنہ موسیٰ علیہ السلام پتہ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ  
 إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ سوی کتاب مجھہ تصدیق کر ان تمن کتابن یہہ تمہہ بروٹھہ نازل کرنہ  
 آسہ مجھہ۔ سوی کتاب مجھہ و تھہ ہاوان دینن حقس کن یہہ مجھہ رہنمائی کر ان سیزہ وتہ کن یَقَوْمَنَا أَجِيبُوا  
 دَاعِيَ اللَّهِ اے میانو بھایو اجابت کمر و تہ مانو خدائس کن نادودہ و نس یعنی قرآن مجیدس یا نبی کر سمس  
 صلی اللہ علیہ وسلم۔ تھندس ونہ نس اجابت کرن گو کہہ وَإِمْنُوا بِهِ يَغْفِرَ لَكُمْ مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُمْ مِّن  
 عَذَابِ أَلِيمٍ ایمان اؤتہ پڑھ کمر و خدائس۔ تمجہ برکتہ کر وہہ تھندس گونہن مغفرت۔ یہہ رتھو سہ

الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۳۲﴾  
 أُولَئِكَ يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْزِمْ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدْرِ عَلَى أَنْ يُسْخِجَ النُّوْتَىٰ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۳۳﴾  
 وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿۳۴﴾ فَاصْبِرْ  
 كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ

توہمہ آخر حکم کڈرہ عذابہ نشہ۔ وَمَنْ لَا يُحِبُّ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِعَجِزٍ فِي الْأَرْضِ نَسِ الْكَاهِنِ اجابت کرہ نہ خدایہ سندس نادودہ و نوس آدہ سہ بیچہ نہ زینہ کس کئے حصص منزگوہت نہ ژلتہ۔ خدائس رشتہ نشہ عاجز کمر تھہ پٹن پان، بچاوتھہ۔ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءُ نہ چھہ تہندہ خاطرہ خدائس ورے کانہہ حمایت کرہ ونانہ تہ مددگارہ اُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ امہ قسمک لوکھ تمن پتہہ جلہ خیال آسہ کہ آسہ کیاہہ بیچہ بچاوتھہ تہ موکلاوتھہ کانہہ تم چھہ نہ گمراہی اندر اُولَئِكَ يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْزِمْ بِخَلْقِهِنَّ بِقَدْرِ عَلَىٰ أَنْ يُسْخِجَ النُّوْتَىٰ کیاہہ کتھہ جھنازانان تم کہ تم پروردگارن آسمان تہ زمین پاڈہ کر تو پتہ تھوکنہ سہ تم پاڈہ کرنہ سیت نَسِ پروردگارس چھہ پور، قدرت قیامتک دودہ مردہ لوکھہ بیہ زندہ کرہ نَسِ بیٹھہ بَلَىٰ إِنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ گوٹھہ ناسہ تھہ بیٹھہ قدر تہ دول آسن۔ سوے پریتھہ چیزس بیٹھہ قدر تہ دول چھہ۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ بیہ سمہ دودہ کافرین نار چھہ نَسِ بروٹھکن آندہ دینہ بیچہ اَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ کیاہہہ دوزخ چھناپوز تہ امر واقعی آتھہ آسودہ دنیا س اندر نفی وانکار کران قَالُوا بَلَىٰ وَرَبِّنَا دین خدایہ سزدرے واقعی چھہ پوز تہ برحق قَالَ فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ اللہ تعالیٰ فرماوکیہ دون ژہو توہمہ امہ جھنمکہ عذابک مزہ۔ کیا زہہ آسودہ ناتھہ انکار کران فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ یلہ معلوم سپد کہ تمن بیہ امہ کفرو انکارک انتقام ہینہ لہذا کثر و جہہ صبر یار سول اللہ کافرین ہندس تکلیف س بیٹھہ چھہ پاٹھہ صبر کور ہمتہ والیو

يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ ط  
 بَلَغٌ فَبَلَّغْ يَهْلِكُ إِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ ۝۴۵

تیمبر و، تمہہ مہ ژھانڈ ویہندہ خاطرہ جلد انتقام تہ تمہند عذاب الہیس گرفتار سپدن کا تمہم یوم یرون ما  
 یوعدون لم یلبثوا الا ساعۃ من نھار بلغ فھل یھلک الا القوم الفسقون سمہ دوہہ وچھن  
 تم تھ عذابس سمیک تمین وعدہ یوان ہٹھ کرنہ تمہ دوہہ پیہ بوزنہ تمین زن تم دنیا س منز رود مت  
 آس اگہ سے گرہ۔ یہ آس تمین کتھاہ واتہ ناون۔ سو آکھہ واتاونہ۔ تباہ تہ ہلاک ہچھنہ یوان کرنہ مگر  
 نافرمان تہ کافر۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ①  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ  
 وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ②  
 ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا  
 اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِنْ رَبِّهِمْ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ ③

الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ أَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ہم لو کہ ہنس دینس انکار کرنہ سیت پانہ کافر  
 سپدی بیہ رنجھ لوکھ تہ ہتھ خدایہ سزہ و تہ نشہ ہتھ پاتھ کافرن ہند زینھہ کران آس، ضائع کرہ اللہ تعالیٰ  
 ان تہزہ سارے رتھہ عملہ ایمان قبول نہ کرنہ موکھ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ  
 عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ تمہ بدل گے تم لو کہ ہموا ایمان  
 اون کئس خدا بس بیہ کرکھ رتھہ عملہ۔ بیہ اوکھ ایمان تھہ سارے بیہ نازل آو کرنہ حضرت محمدؐ پیٹھ  
 تہ زوچھ سورے ہنس پاتھ پنہ نس خدایہ سند طرفہ۔ اللہ تعالیٰ کرہ تہندین گو نہن مغفرت بیہ سنبھالہ تہ  
 رت کرہ تہند حال دنیا تہ آخرتس اندر۔ دنیا س اندر تم توفیق طاعات دنہ سیت، آخرتس اندر  
 نجات و کامیابی عطا کرنہ سیت ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ  
 مِنْ رَبِّهِمْ بیہ ہتھہ امی موکھ کہ بے شک ہم لو کو انکار کور تم پک غلط و تہ پیٹھ۔ بیہ ہم لو کو ایمان اون  
 تہ پڑھ کتر کہ تم پک صحیح و تہ یوسہ تہندس پروردگارہ سندہ طرفہ آس۔ غلط و تہ پکن باعث ناکامی  
 آس تہ صحیح و تہ پکن باعث کامیابی آس ہتھہ ظاہر كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ تھہ پاتھ ہتھہ

فَإِذَا قِيَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضْرَبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَتَخْتَمُواهُمْ  
فَسُدُّوا الْوُثَاقَ ۖ فَأَمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِنَّا فِدَاءٌ ۚ حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ  
أُوزَارَهَا ۗ ذَٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرْنَا مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ  
بَعْضُكُم بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ ۝

اللہ تعالیٰ لو کن جہند حالات بیان کران بیٹھ تم ن بوزن صحیح رت کیا ہ چھتہ تہ چھتہ کیا ہ چھتہ یلہ کافر مفسد  
چھتہ آس چھتہ توہمہ فساد دفع کرنے خاطر حکم کران کہ **فَإِذَا قِيَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضْرَبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا**  
**أَتَخْتَمُواهُمْ فَسُدُّوا الْوُثَاقَ** یلہ چھتہ کافر ن سیت مقابلہ کر ویلہ چھتہ تم ن منزہ واریا ہ مار یو کہ تو پتہ یلہ  
تم ن منزہ کینہہ قید کر یو کہ ، پس آسیو کہ تم مضبوط گنڈ پھر تھ قید کران **فَأَمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِنَّا فِدَاءٌ حَتَّىٰ**  
**تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا** تو پتہ چھتہ توہمہ دون کھن ہند اختیار۔ یا آسیو کہ تم ن پیٹھ احسان تھا و تھ یلہ  
تراوان یا آسیو کہ معاوضہ تہ بدلہ ہتھ یلہ تراوان۔ یوتان نہ لڑائی کرن و آل دشمن آسن سلاح و سامانہ تہ  
تھتھار پھر تراوان یعنی دشمن آسن آن مانان ، یعنی اسلام یا استسلام دو یو چیز و آندرہ آسن اکھ چیز مانان ،  
پس ہر گاہ تم قتل تہ قید کرنے بروٹھ ایمان اون یا کور کہ ذمی آسن قبول تیلہ چھنہ تم نہ قتل کرن جائیز  
تہ قیدے کرن **ذَٰلِكَ** یہ حکم جہاد ک نئس مذکور سپد گڑھہ بجائن۔ اسہ یوسہ صورت بیان کتر کافر ن  
انتقام پئچ ، بیٹھ اندر چھتہ حجت ورنہ **وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرْنَا مِنْهُمْ وَلَٰكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ** ہر گاہ  
اللہ تعالیٰ یڑھہ ہا تم ن کافر ن ہر ہا پانہ انتقام پیو حواد ثو تہ بلا یو سیت غرقہ سیت ، لیکن تم کور توہمہ جہاد  
کرہ نک حکم بیٹھ توہمہ آزمائش گرہ اذین اذین ہندہ سیت مسلمان چھتہ بیٹھہ پاٹھ امتحان کہ کس کرہ  
خدا یہ سندس حکم پیٹھ عمل یعنی کس نیرہ جہادس۔ کافر ن چھتہ امتحان بیٹھہ پاٹھ کہ کس سپدہ امہ عذابہ  
سیت متنبہ تہ آگاہ تو پتہ کرہ قبول دین حق اتھ جہادس اندر بیٹھہ پاٹھ قاتل سپن کامیابی چھتہ بیٹھہ  
پاٹھ چھتہ مقتول سپن تہ کامیابی۔ **وَالَّذِينَ قَاتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ** بیہ تم لو کہ خدا یہ سزہ  
وہ اندر مار نہ آئے ہنزہہ عملہ کرہ نہ اللہ تعالیٰ ہر گز ضائع سیہدیہم ویصلیہم بالکم اللہ تعالیٰ ہا وہ

سَيُهْدِيهِمْ وَيُصَلِّحُ بِالْحَمْدِ ۝ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ①  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتُورُوا وَاللَّهِ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ  
أَقْدَامَكُمْ ② وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ③  
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ④  
أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ  
مِنْ قَبْلِهِمْ دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا ⑤ ذَلِكَ

تمن و تھ منزل مقصود حج بیہ تھا وہ تھند حال وارہ پریتھ قبر منزہ میدان محشرس منزہ پہل صراطس  
پیٹھہ، باقی مواقن اندر تہ **وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ** بیہ و اتا وہ تمن تھ جنس منزج زان تمن  
پورہ پورہ کرہ تاکہ بروٹھم مغفرت تہ زان نہ آسکھ باوجود اولتہ پریتھ جنتیہاہ پنتہ جلیہ پنتہ نس پنتہ نس  
منزل و مقاس تکلیف یا اثر ہانڈنہ تہ تلاش کرنہ وراے **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتُورُوا وَاللَّهِ يَنْصُرْكُمْ**  
**وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ** اے بالیمانو اگر تھہ خدلیہ سندس دینس، (تھندس پیغبرس) مدد کمر و سوتہ کر  
توہہ مدد بیہ در راوہ تھند کھورد شمن سیت مقابلہ کر بھہ وقتہ **وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ**  
بیہ سمولو کو انکار کور تھندہ خاطرہ چھہ یلہ تم دنیا س اندر بالیمان سیت مقابلہ کرن تاہی تہ پسپائی۔ بیہ  
کرہ تھزہ عملہ اللہ تعالیٰ آخرتس اندر ضائع تہ برباد **ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ**  
**أَعْمَالَهُمْ** بیہ خسران دارین چھہ تمن اہی موکھہ کہ تم کو رنا پسند سہ دین تہ تم احکام سم اللہ تعالیٰ  
ان نازل کمر تھی موکھہ کرہ اللہ تعالیٰ تھزہ عملہ ضائع **أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ**  
**عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ** کیاہ سم چھنا پھیر متی اورہ یورز مینس منز تا لیچہ و چھہ ہن کیاہ انجام چھہ  
تمن نافرمان لوکن ہند سپد مت سم تمن بروٹھہ آس **دَمَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا** اللہ تعالیٰ ان  
گال تم مولہ موجبہ تمن کافرن ہندہ خاطرہ تہ چھہ تھی قسمگ معاملہ **ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ**  
**آمَنُوا وَإِنَّ الْكُفْرَانَ لَمَوْلَى لَهُمْ** بیہ چھہ ام موکھہ زہ اللہ تعالیٰ چھہ مدد گارہ تہ کار سازہ بالیمان سھی



بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكُفْرِينَ لَمَوْلَى لَهُمْ ۝  
 إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي  
 مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَنَبَّهُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا  
 تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ ۝<sup>۱۲</sup> وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ  
 قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ ۝<sup>۱۳</sup>  
 أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُرِّي لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَ  
 اتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ۝<sup>۱۴</sup> مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا

چھ تہندہ خیطرہ دنیاو آخرتس اندر کامیابی۔ کافرن ہتھنہ ہتھ کا نہہ مددگارہ تہ کارسازہ تھی چھ تہندہ  
 خاطرہ دنیاو آخرتس اندر ناکامی إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا  
 الْأَنْهَارُ بے شک اللہ تعالیٰ واتاہوہ باایمان، نیکو کارن تہن جتن سمومنزری جوہ پکان آسن وَالَّذِينَ  
 كَفَرُوا يَتَنَبَّهُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ بیہ سم لوکھ کافر چھ تم چھ دنیا س  
 اندر عاش کران کھیوان۔ ہتھ پاٹھ گہن چھ کھیوان۔ نار جہنم چھ تہندہ روزنچ جائے۔ ہتھ منزواتھ  
 سورے کھیومت چومت نیرکھ۔ سمہ تھتک تہ خوردو نوشی ہند ذکر آو کر نہ تھ تھتس پیٹھ مہ گڑھن  
 تہند مخالف مغرور۔ نہ مہ کمر و تہہ تہندس غافل روزہ نس پیٹھ کا نہہ افسوس و غم کیا زہ و کَآيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ  
 هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجْنَاكَ أَهْلَكْنَاهُمْ شہرہ کین لوکن ہندہ  
 خود زیادہ طاقتور آس مال دوتس تہ جاہ و حشمتس اندر۔ یہ شہرہ کیولو کو تہہ پندہ شہرہ منز کڈ تھ بے گرہ  
 کمر ہوہ۔ أَهْلَكْنَاهُمْ فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ تمے گال آسہ پندہ عذابہ سیت۔ پس لوس نہ کا نہہ اکھاہ تہن بچا ہون تہ مدد  
 کر ہون۔ سم لوکھ کیاہ چیزے چھ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيْتَةٍ مِّنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُرِّي لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا  
 أَهْوَاءَهُمْ کیاہ سنا تم لوکھ پندہ نس پروردگارہ سزہ واضح تہ صاف دتہ پیٹھ پکان آسن تم چھاہر ابر تہن لوکن

أَنَهْرٍ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ اسْنٍ وَأَنَهْرٍ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ وَأَنَهْرٍ  
 مِّنْ خَمْرٍ لَّدَّةٍ لِلشَّرِيبِينَ هَ وَأَنَهْرٍ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى ط وَكَهْمُ  
 فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي  
 النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ۝ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ  
 إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ  
 مَاذَا قَالَ انْفِئَا ۚ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ

سیت تین پنہ نین پیچھ عملن زینت ونہ آؤ تو پتہ کمر تمو پنہ نین نفسہ چن خواشن ہنز پیروی۔ مثل  
 الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّنْ مَّاءٍ غَيْرِ اسْنٍ ۖ حَجَّ مقیمین تہ پر ہیز گارن سمیک وعدہ کرنہ آؤ  
 کج کیفیت چھہ بیکہ کہ ہتھ منز آسن واریاہ کولہ تہ جو یہ تمہہ آبہ چہ لیس آب نہ مزہ ڈولمت آسہ ہتھ نہ اکھ  
 ذرہ تغیر سپد مت آسہ۔ نہ مزس منز نہ مشکس منز نہ رنگس منز وَأَنَهْرٍ مِّنْ لَّبَنٍ لَّمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ۖ بیہ آسن  
 واریاہ کولہ تہ جو یہ تمہہ وودہ چہ سمیک مزہ تہ ذائقہ نہ خراب گو مت آسہ وَأَنَهْرٍ مِّنْ خَمْرٍ لَّدَّةٍ لِلشَّرِيبِينَ  
 بیہ آسن واریاہ کولہ تہ جو یہ شرابہ چہ ہتھ منز سیٹھا لذت آسہ چینہ والین ہندہ خاطرہ وَأَنَهْرٍ مِّنْ عَسَلٍ  
 مُّصَفًّى ۖ بیہ آسن واریاہ کولہ صاف کرنہ آمتہ ماہچھہ چہ وَكَهْمُ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ  
 بیہ آسن تہندہ خاطرہ پر ہتھ کجہ قسمک میوہ۔ بیہ پنہ لیس پروردگارہ سدہ طرفہ بوڈ مغفرت تہہ منز اژنہ  
 بروئٹھ۔ یم لوکھ چھا کَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ ۝ تین لوکن ہی سم ہمیشہ  
 آسن نار جہنم اندر۔ تو پتہ یکن تم چاونہ بر سرہ وولن لیس اندر من دو تہ دو تہ کر کیکہ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَسْتَمِعُ  
 إِلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ ۖ بیہ چھہ بعضے لوکھ یعنی منافق سم تہندہ تبلیغ ووعظکہ وقتہ ظاہرہ پاٹھ  
 کن دارتھ تہند کلام بوزان چھہ۔ ای محمد ﷺ تالیحہ یلہ تم تہنہرہ مجلسہ نشہ ووتھان چھہ تہ نیران چھہ قَالُوا  
 لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مَاذَا قَالَ انْفِئَا ۚ پر ژھان چھہ بعضے علمہ والین صحابہ صابو اندرہ یہ کیاہ سافر مونی ﷺ  
 کر تہن وونی یلہ آس ہتھ مجلسہ منز بہتھ آس گویا چھہ ظاہر کران کہ سوئٹھ آس نہ قابل توجہ۔ آسہ کورنہ

وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ<sup>(۱۶)</sup> وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ<sup>(۱۷)</sup> فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً ۖ فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرُهُمْ<sup>(۱۸)</sup> فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ

تو کن توجہ اولیٰک الذین طبعہ اللہ علی قلوبہم واتبعوا اہواءہم سم گئے تھے لو کہ تم موبہر کر اللہ تعالیٰ ان تہمدین دن پیٹھ۔ تم موکہ رود تم ہدایۃ نشہ دور۔ یہہ یک تم پتہ نفسہ چن خواہش پتہ پتہ والذین اہتدوا زادہم ہدی و انہم تقواہم میوے منزہ سم لو کہ راہ راستس پیٹھ چھہ تمین چھہ اللہ تعالیٰ زیادہ ہدایت عطا کران یہہ چھہ پر ہیز گاری ہند توفیق عطا کران یعنی تم چھہ خدیہ سندین احکامن پیٹھ پور عمل کران۔ امہ پتہ چھہ منافقن ہند حال بیان یوان کرنہ کہ تم چھہ قرآن مجیدتہ احکام و دلائل بوزتتہ نصیحت مانان **فَهَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا** معلوم چھہ سپدان کہ تم چھہ انکار کران قیامت۔ سو کیا ہر گھہ بن تمین چھہ معہ ادہ رٹن تم نصیحت ہر گاہ تی چھہ تلخے قیامتہ نزدیک چھہ کیا زہ تمیک ڈیٹھ کئی علامتہ ظاہر سپد سمو چھہ۔ چنانچہ خود بہشت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھہ علامت قیامت، شق قمر چھہ علامت قیامت۔ نبوتک اپزد عومے کرہ و نین ہند ظاہر سپدن چھہ علامت قیامت **فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرُهُمْ** سمہ ساتہ سو قیامت تمین نشہ ولتہ تمہ ساتہ تھہ پاتھہ ہیکن تم نصیحت رٹھہ **فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ** یلہ توہہ فرماں بردارن تہ نافرمان ہند حال بوزوہ لہذا اگر چھہ تہند گذشتہ زمانک پاتھہ آئیندہ زمانس منزتہ یمہ تھہ ہند پور یقین تھاون کہ کانہہ معبودا چھہ اللہ تعالیٰ اس ورائے۔ اتھ پیٹھ روزو تہہ قائم یہہ روزو تہہ مغفرت منگان پنہ نین صوری خطا عن ہندہ خاطرہ یعنی تہندہ معصوم آسبہ وجہہ آسہ نہ سہ فعل فی الحقیقت خطا مگر سمہ وجہہ کہ سہ آسہ سپد مت نخل تمہہ خوتہ افضل کلمہ سیت مشغول سپدنس۔ لہذا آسہ سہ تہندس شان ارفس کن نظر کر تھہ ظاہری صورتس منز خطا بنہ یوان۔

وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ<sup>(۱۹)</sup> وَيَقُولُ الَّذِينَ  
 آمَنُوا لَوْلَا أَنْزَلْتَ سُورَةً فَإِذَا أَنْزَلْتَ سُورَةً مُحْكَمَةً وَذَكَرْنَا فِيهَا  
 الْقِتَالَ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ  
 الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَئِكَ لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ  
 فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ<sup>(۲۱)</sup> فَهَلْ

بہ آسو منگان مغفرت با ایمان مردان سے با ایمان زنان ہندہ خاطرہ تاکہ تدارک روزہ سپدان تمن چیزن  
 سم گل چھہ ٹہندہ شانہ کس کمال دین یا ٹہندین آستین ہدس کمال دینس وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ  
 وَمَثْوَاكُمْ اللہ تعالیٰ چھہ تہندہ پٹنگ، ٹیک سے گھوہ نک، ٹھہر نک سے روزہ نک سوزی حال زانان  
 وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا أَنْزَلْتَ سُورَةً<sup>(۱۹)</sup> بہہ چھہ ونان تم لوکھ سمو ایمان اون سم پر چھہ وقتہ چھہ  
 آسان سمہ کتھہ ہند مشتاق کہ کونہ چھہ کانہہ نوو سورہ شریفہ نازل گھوہان تاکہ آس بوزہ ہو کلام خدا  
 ایمان گھوہہ ہا تازہ بہہ بوزہ ہو تازہ احکام تمن ہند ثواب سے کہہ ہو حاصل۔ خصوصاً ہر گاہ جہادک حکم سے تھہ  
 منز آسہا آس گرہ ہو خدایہ سنزہ و تہ اندر جہاد فَإِذَا أَنْزَلْتَ سُورَةً مُحْكَمَةً وَذَكَرْنَا فِيهَا الْقِتَالَ تو پتہ یلہ  
 نازل چھہ یوان کرنہ کانہہ مضبوط ناقابل نسخ، صاف صاف مضمونک کانہہ سورہ شریفہ تھہ منز چھہ اتفاقاً جہاد  
 کرنہ نک حکم سے آسان رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ  
 تھہ ساتہ گھوہہ نظر دن تمن لوگن کن بہندین دن اندر نفاق پمار چھہ۔ تمن چھہ وہ گھوہان و تھہ۔ تم  
 چھہ و چھان تو بہہ کن یار رسول اللہ زن موتن پان چھکھہ آسان ہوومت تمہ سیت چھکھہ وہ ڈھٹھہ آسان  
 پھیر مژساری سے پانس فَأُولَئِكَ لَهُمْ طَاعَةٌ<sup>(۲۰)</sup> تمن آہہ شہمت۔ تم سپدان عنقریب بلا یہ گرفتار۔ اگر چہ تم  
 چھہ فرصت کہ وقتہ واریاہ تھہ اطاعتچہ سے فرماں برداری ہنزہ کران لیکن تہندہ اطاعت سے تھن ہنز حقیقت  
 سہ معلوم جہادک حکم نازل سپدنہ سیت طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ تہندہ خاطرہ اوس بہتر ٹھہنز  
 فرمانبرداری کرن بہہ تو بہہ رت جواب پیش کرن۔ سمعنا و اطعنا و امنن فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ

عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتَقَطَّعُوا اَرْحَامَكُمْ ﴿۲۲﴾  
 اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعَمَّى اَبْصَارَهُمْ ﴿۲۳﴾ اَفَلَا  
 يَتَذَكَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالٌهَا ﴿۲۴﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا  
 عَلٰى اَدْبَارِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْهُدٰى الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ  
 وَاَمَلُ لَهُمْ ﴿۲۵﴾ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا الَّذِيْنَ كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيعُكُمْ

لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ لَمَّسَ يَلِيهِ مَكْمَلُ سِدِّ جَاهِدِكُمْ صَاحِبَهُ صَابَ سِدِّنَ جِهَادِ كَرِهَ خَاطِرَهُ تَيَارَ - لَمَّسَ هَرَّ گَاه  
 سَمَّ لَوْ كَه تَهْ خَدَائِسَ نَشِيَهْ پَنِيَهْ اِيْمَانَك تَهْ فَرْمَا لِنِ بَرْدَارِي هِنْدِ دَعْوَا لِي پُو زِ ثَابِت كَرِن جِهَادِ س شَامِلِ سِدِّنَه  
 سِيْتَه تَهْ هَجْهْ ضُرُور تَهْمِنْدَه خَاطِرَه بَهْتَر فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتَقَطَّعُوا اَرْحَامَكُمْ  
 پَس كِيَا ه تَوْبَه چْهَا خِيَال كَه هَر گَاه تَه سَارِي جِهَادَه نَشِيَهْ هَجْهْ رُو زُو تَه كِيَا ه بِيُو دِنْيَا عَس فَتَنَه وَفَسَاد قَائِم كَرِن -  
 بِيَه اَشْنَائِي پَنِيَهْ ژُفْنَه بِنِيَهْ جَاهِلِيْتِك دُور بِيَه زَنْدَه كَرِن - تَه بِنِيَهْ هَر گَز اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ  
 وَاَعَمَّى اَبْصَارَهُمْ سَمَّ مَنَافِقِ هَجْهْ تَه لَوْ كَه يَم اللّٰهُ تَعَالٰى اَنْ پَنِيَهْ رَحْمَتَه نَشِيَهْ دُور كَرْمَتِ هَجْهْ - تَمِي چْهْ هَجْهْ  
 كَنِن زُر پُور مُمْت - تَمِي هَجْهْ تَم خَدَلِيَهْ سِنْدِ كَحْم بَسْمِجِ قَبُولِ بُو زَان - بِيَه چْهْ هَجْهْ بَا طَلِي اَهْتَمِن اِنِيُو تَرُو مُمْت - تَمِي  
 هَجْهْ تَمِن رَاهِ حَق دَر نِيْنَهِي يُوَان - اَفَلَا يَتَذَكَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ اَمْ عَلٰى قُلُوْبٍ اَقْفَالٌهَا كِيَا ه سَمَّ لَوْ كَه چْهْنَا  
 قُرْآنِ جَمِيْدَه كِيَن مَضْمُونِ اَنْدَرِ نُغُورِيَهْ فِكْر كَرِن كَنَه تَهْمِنِ دَن چْهْ غَيْبِي فَضْلِ لُغِي مَت اِنَّ الَّذِيْنَ ارْتَدُّوْا  
 عَلٰى اَدْبَارِهِمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّ لَهُمُ الْهُدٰى بَه شَك سَمَّ لَوْ كَه پُوتِ پَهِيرِ يَزَهْ نَشِيَهْ هِدَايَتِ وَاَرَه كَارَه تَمِن  
 نَشِيَهْ ظَاهِرِ سِدِّ هَجْهْ عِيْنِي اِسْلَام تَرَاو تَه مَسْمُوبِيَهْ كَفْرِ اَخْتِيَارِ كُور الشَّيْطٰنُ سَوَّلَ لَهُمْ وَاَمَلُ لَهُمْ شَيْطٰنِ ذُو يَت  
 تَمِنِ كَفْرِ سِ زِيْنَت - بِيَه تَرَاو كَه دَن اَنْدَرِ زِيْنَه اَرِي زُو - عِيْنِي مَنَافِقُو كُور اِسْلَامِ اَقْرَار - تَمِي پَتَه نَج  
 حَقَانِيَتِ ظَاهِرِ سِدِّ هَجْهْ كُور كَه وَقْتَه وَرَه تَه اَنْكَارِ جِهَادِ س شَامِلِ سِدِّنَه نَشِيَهْ زُو وِ پَهْتَه - شَيْطٰنِ تَرُو كَه وَ سُو سَه  
 كَه لَزَا يَه مَنَزَه كُو هُو تَه گَرَه هُو مَارَه هَر گَاه يَتِي رُو زُو وَاَرِي سِ كَالِ سِ يَكُو زَنْدَه رُو زُو تَه ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا  
 لَكِن كَرِهُوْا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ سَنُطِيعُكُمْ فِي بَعْضِ الْاَمْرِ وَاَللّٰهُ يَعْلَمُ اسْرَارَهُمْ سِي تَمِنِ هِنْدِ مُرْتَدِ سِدِّنِ نِيُو وَ سَمِيَهْ

فِي بَعْضِ الْأُمْرِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَسْرَارَهُمْ ﴿۳۶﴾ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ  
 الْمَلَائِكَةُ يُضْرَبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ﴿۳۷﴾ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا  
 مَا اسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ﴿۳۸﴾ أَمْ حَسِبَ  
 الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ﴿۳۹﴾  
 وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسَبِيهِمْ ۖ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ  
 الْقَوْلِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ﴿۴۰﴾ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ نَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ

سیت کہ سمو منافقو دوپ تمن لوکن تمن ناہند چھہ قرآن مجیدک نبی کریمؐ پیٹھ نازل سپدن یعنی  
 یہوؤن کہ اسی گرو تہنز فرمانبرداری بعضے معاطن اندر۔ اَس چھہ پن پان بظاہر مسلمان ستر وان مگر  
 اندرونی چھہ اسی توہی سیت۔ یمہ کتھہ چھہ تم منافق ژورہ پاٹھ کران۔ مگر اللہ تعالیٰ چھہ زانان تہنزہ  
 سارے کنہ پھسرایہ پورہ پاٹھ ۖ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يُضْرَبُونَ وَجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ ۗ کس کیاہ سنا  
 حال آسہ تہند سمہ ساتہ زوکن تمن ملایک۔ تے آس تہندین تمہن تھاپرہ لایان بیہ تہنز چھہ دگان  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ اتَّبَعُوا مَا اسْخَطَ اللَّهَ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ ۗ یہ امہ طریقہ تہند مران چھہ امی  
 موکہ کہ تم پکب تمہہ وتہ تہہ بیزارہ چھہ اللہ تعالیٰ بیہ کرہ سمو نا پسند تمہہ عملہ سمو سیت خدایہ سنزہ  
 رضامندی حاصل سپدہ بچھہ۔ کس کرہ اللہ تعالیٰ ان تہنزہ سارے عملہ ضایع۔ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي  
 قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ ۗ کیاہ تم لوکہ یہندہ ین وکن اندر نفاق بیمار چھہ تمن چھا  
 گمان کہ اللہ تعالیٰ کیاہ کرنہ تہندین دی عداوتن تہ بغض ظاہر ۖ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَرَيْنَاكُمْ ۗ ہر گاہ اَس یڑھو اَس  
 ہاووہ توہی تم لوکہ ۖ فَلَعَرَفْتَهُمْ بِسَبِيهِمْ ۗ توہی چھو کہ تم ہرزہ ناومت تہند یو علامتو سیت۔ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ  
 فِي لَحْنِ الْقَوْلِ ۗ بیہ ہرزہ ناویو کہ تہہ تم کھن ہندہ طرزہ سیت کیاہ تہنزہ کتھہ چھہ پڑہ دلہ پیٹھ  
 دوتھان۔ بیہ چھہ پڑیک اژدلس پیٹھ یوان ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ أَعْمَالَكُمْ ۗ اللہ تعالیٰ اَس چھہ خبر تہنز  
 سارنے کاہین ہنز۔ سہ دیہ مسلمان پنہ اخلاص مزور۔ منافق نفاق تہ دھوکچ مزور۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّىٰ

مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبَلَّوْا أَخْبَارَكُمْ ۖ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا  
 وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَسَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا  
 تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَيَسْخِطُ أَعْمَالَهُمْ ۖ  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا  
 أَعْمَالَكُمْ ۖ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ  
 مَا تَوَّأَوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ۖ فَلَا تَهْنُؤُوا تَدْعُوا إِلَى  
 السَّلَامِ ۖ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ ۗ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتْرُكُمْ أَعْمَالَكُمْ ۗ

تَعْلَمُ الْمُتَهِدِّينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَتَبَلَّوْا أَخْبَارَكُمْ بے گروا اُس ضرور تو بہ سارے آزما ئیش مشکل سے سخت احکامو سیت۔ بٹھ ظاہر سپدہ تو بہ منزہ کم چھہ جہاد کردون بے کم چھہ جہادہ کین تکلیفین پیٹھ صبر کردون سے ثابت قدم روزہ دون۔ بے گروا اُس تحقیقات تہندین سارے حالاً ن ہند۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَسَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَيَسْخِطُ أَعْمَالَهُمْ بے شک سمولو کو کفر کور بے بٹھ لو کہ خدایہ سزہ و تہ نشہ لو کن دیکھ نہ دین اسلام قبول کرنے بے کمر کہ مخالفت پیغمبر خدایہ سز تہن نشہ ہدایت صاف ظاہر سپدہ پتہ، تم بھکن نہ کانہہ نو نقصان وادے تا و تھ خدا اُس کٹھ چیزہ سیت۔ اللہ تعالیٰ کرہ تہنزہ سارے کامہ ضائع تہ برباد۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ اے با ایمانو تہہ کمر و فرماں برداری خدایہ سزہ بے پیغمبر خدایہ سز بے کمر و پتہ عملہ ضائع۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ مَا تَوَّأَوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ بے شک سمولو کو کفر کور بے کمر کہ خدایہ سز تو تھ بندہ، لو کن دیکھ نہ تمہ و تہ پتہ تو پتہ مود تم اتھ حاس پیٹھ ادہ اللہ تعالیٰ کرہ نہ ہر گز تہندین گو نمن مغفرت۔ فَلَا تَهْنُؤُوا تَدْعُوا إِلَى السَّلَامِ وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ وَاللَّهُ مَعَكُمْ وَلَنْ يَتْرُكُمْ أَعْمَالَكُمْ پس اے مسلمانو تہہ مہ سپد و پست


إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ دِرْهَمٌ وَإِنْ تَوَمَّنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ  
 أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ۚ إِنَّ يَسْأَلْكُمْوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخُلُوا  
 وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ۚ هَآئِنٌ مَّا هُوَ إِلَّا تَدْعُونَ لِنُفُوقِ إِنِّي سَيِّئِلٌ  
 اللَّهُ فِيمَنكُمْ مَّنْ يَبْخُلْ ۚ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَخْجُلْ عَن نَّفْسِهِ ۗ

ہمت نہ سست۔ تہہ مہ دیو کا فرن دعوت یوزے صلحس کن تمہہ سیت چھہ ذلت نہ پستی ننان تہہ چھوہ  
 تھہ نہ غالب بہہ چھوہ توہہ پانہ خدیاری نہ مدد کرنہ خاطرہ سہ کرہ نہ ہر گز تہنزن عملن ہندس تو اہس  
 اندر کی إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُوَ دِرْهَمٌ وَإِنْ تَوَمَّنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أَجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ یہ  
 دنیا ج زندگی چھنہ مگر گنڈن نہ تماشہ۔ اگر کانہہ بن جان دمال امی دنیا خاطرہ بچاؤہ نہ یہ تمتع کیتہ کالہ  
 خاطر چھہ نہ امیک حاصلہ کیاہ چھہ اتھ بدل ہر گاہ تہہ ایمان آؤہ نہ خدائس کھوڑو یعنی ایمان و تقوی اختیار  
 کمر و تھہ منز جہاد بالنفس و المال شامل چھہ، سہ کرہ توہہ پتہ طرفہ پور مزدور عطا بہہ چھنہ سہ توہہ نشہ  
 مکنہ نفعک نہ فایزک طلب گار۔ توہہ نشہ چھنہ منگان مال تھہدئس تمئی عطا کورمت چھوہ اِن  
 يَسْأَلْكُمْوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبَخُلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ ہر گاہ اللہ تعالیٰ توہہ نشہ مال معہہ نہ زبردستی سان،  
 تہہ کمر و تھہ منز بخل، توہہ سپدہ مال خرچ کرن ناگوار۔ اللہ تعالیٰ کڈہ نہ ظاہر کرہ تمہہ سیت تھہدین دلن  
 ہمد خیالات یعنی مال خرچ کرہ بچ ناگوارى هَآئِنٌ مَّا هُوَ إِلَّا تَدْعُونَ لِنُفُوقِ إِنِّي سَيِّئِلٌ اللَّهُ فِيمَنكُمْ مَّنْ  
 يَبْخُلْ ۚ وَمَنْ يَبْخُلْ فَإِنَّمَا يَخْجُلْ عَن نَّفْسِهِ توہہ بوزووارہ کہ توہہ گوہ ناتسے یمن نادا پوان چھہ دنہ  
 خدیہ سزہوہ نہ اندر مال خرچ کرہ نس اندر حالانکہ تمیک اوس توہہ پانس نفع یس بخل کران چھہ خرچ  
 کرہ نس اندر سہ چھہ بخل کران مگر پانس یعنی پن پان چھہ نفع دائمی نشہ محروم کران وَاللَّهُ الْعَفِيفُ



وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا  
غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ۝۴۸

وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ ورنہ اللہ تعالیٰ جھنہ بے نیاز۔ سہ جھنہ محتاج کانسہ کن بلکہ چھوہ نمی تس کن محتاج  
وَإِنْ تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ہر گاہ تہہ تھ پھر و تہزہ فرماں برداری نشہ  
سہ آنہ توہہ بدل بھیس اگس قومس یم نہ تمہ پتہ توہہ ہی آسن۔ بلکہ آسن نہایت فرماں برداریہ کام بیہ  
تمنی نشہ ہینہ۔



## سُورَةُ الْفَتْحِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا ۝ لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۝ وَ  
 يَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا ۝ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي  
 قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزِدُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ ۝ وَاللَّهُ جُنُودُ  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ۝ لِيُدْخَلَ

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا بے شک اسہ کور توہمہ عطا یار رسول اللہ من فتح یعنی صلح حدیبیہ۔ بس سبب سپد سارنے تھن ہند لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ بٹھ اللہ تعالیٰ مغفرت گرہ توہمہ برو تھمن تہ پٹھن صوری خطا ان وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا بیہ سم پن احسانات اللہ تعالیٰ توہمہ نسبت کران رود مثلاً نبوت، قرآن مجید بیہ واریاہ علوم، وارہن اعمان ہند ثواب تمن احسانان اندر کرہ بیہ زیادتی تہ تکمیل بیہ کرہ توہمہ یہ نعمت تہ عطا کہ تہندہ واسطہ سپدن واریاہ لو کہ مسلمان تمہہ سیت سپدن تہندی در جات تھد۔ توہمہ سپدہ اجر و ثواب و قرب زیادہ عطا بیہ بٹھ توہمہ پکناوہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ راہ راستس پیٹھ کانہہ ہندہ مزاحمتہ وراے۔ وَ يَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا بیہ بٹھ اللہ تعالیٰ توہمہ دشمن پیٹھ یاری گرہ۔ سوے یاری بٹھ منز عزت تہ غلبہ آسہ۔ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزِدُوا إِيمَانًا مَعَ إِيْمَانِهِمْ سہ معبود بر حق گووسی تم پادہ کور بال ایمان ہندین وکن اندر سکون قرار تہ تحمل۔ بٹھ تمن ایمانس پیٹھ ایمان ہرہ تہ زیادہ سپدہ وَاللَّهُ جُنُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ہر دور دگاہ سزے چھہ آسمان تہ زمین ہنز لشکر۔ ملائکہ وغیرہ مخلوقات۔ ہر گاہ سہ یڑھہ آنا فنا منز بیہ سہ کافرن

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَدَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ۝ وَيُعَذِّبُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالشِّرْكَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءَ عَلَيْهِمْ ذَائِرَةُ السَّوْءِ ۝ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا ۝

زبردست انتقام مگر **وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا** اللہ تعالیٰ ہرچہ سورے زانہ ون، پور حکمت و دل۔ تس ہرچہ خبر کہہ ساتھ ہرچہ لڑائی کرن مفید تہ گمہ ساتھ ہرچہ صلح کرن مفید۔ سہمہ ساتھ جنگ کرہ نس منز مصلحت آہہ تہمہ ساتھ ہرچہ تہمہ کوئے حکم فرماوان۔ تہنز گوہرہ چون و چر اورائے تہہ منز شمولیت کرن۔ سہمہ ساتھ صلح کرہ نس منز مصلحت آہہ تہمہ ساتھ ہرچہ تہمہ کوئے حکم فرماوان۔ تہند گوہرہ نہ تہہ اندر رنج و افسوس کرن۔ تہنز گوہرہ پر تہہ حاکس منز اطاعت کرن **لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَدَّتِ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا** تہہ تہمہ اطاعت و فرماں برداری سیت ولتہ تاوہ اللہ تعالیٰ با ایمان مردن تہ با ایمان زنان تہمن جتن تہمن سمو منز کولہ تہ جو یہ پکان آسن۔ تہن جتن منز روزن تہ ہمیشہ۔ یہ تہہ اللہ تعالیٰ آہہ اطاعت سیت تہمن با ایمان ہندی گناہ دور کرہ۔ یہ بیان کر نہ آو۔ یہی ہرچہ اللہ تعالیٰ اس نیشہ بڈ کامیابی **وَالْمُنْفِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُنْفِقَاتِ الظَّالِمِينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءَ** یہ تہہ اللہ تعالیٰ منافق مردن تہ منافق زنان، یہ مشرک مردن تہ مشرک زنان سم گمان بڈ آس تھوہ ون خدا یس نسبت کہ خدا کرہ نہ مدد تہ یاری حضرت محمد س تہ مسلمان **عَلَيْهِمْ ذَائِرَةُ السَّوْءِ** یہ ہرچہ مصیبت پنے تہمن پانس۔ تہمن ہرچہ عنقریب پوت کھور یوہ ون۔ چنانچہ مشرک سہد تہمہ پتہ کنیون و دہن تان ختم۔ منافقن گنیہ عمر ڈاکی افسوس و خسرتس اندر۔ اسلام رود۔ روز بروز ترقی کران۔ منافق رُود روز بروز خوار و ذلیل گوہان۔ یہ گو کہ دنیا س اندر **وَوَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا** یہ ہرچہ آخرتس اندر تہمدہ

وَاللَّهُ جُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ①  
 إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ② لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ  
 وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ③  
 إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ  
 فَمَنْ نَكَتْ فَإِنَّمَا يَنْكُتْ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ  
 اللَّهُ فَمَنِّيهِ أَجْرًا عَظِيمًا ④ سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ

خاطرہ ای زہ اللہ تعالیٰ آسہ تمن بیزارتہ غضبناک بیہ کرہ سہ تمن پندرہ حصتہ عشرہ دور۔ بیہ تھوون تہندیہ  
 خاطرہ تیار نار جنہم یوسہ سیٹھاہ بیچہ جای چتھ تہندیہ وائتہ خاطرہ وَاللَّهُ جُودُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ  
 اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا پروردگارہ سزے چتھ آسمانن تہ زمین ہنز لشکر۔ سہ چتھ سیٹھاہ حکمتہ وول تہ لہذا  
 چتھ سہ تہندس عقوتس اندر توقف کران إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا بے شک آسہ سوزوہ  
 تہہ یار رسول اللہ امتہ چن عملن ہند گواہ قیامتگ دوہ بشارت فرماوہ ون با ایمان تہ بیم کرہ ون کافرن۔  
 اے مسلمانو آسہ سوز تم پیغمبر لِيُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ چتھ تہہ ایمان انو خدا ایس۔  
 بیہ تہندس پیغمبرس۔ بیہ چتھ تہہ تہندس دینس مدد کمر و بیہ چتھ تہہ تہند سیٹھاہ تعظیم کمر و اعتقاد  
 تھا و کہ سہ چتھ موصوف بصفات کمال۔ منزہ تہ پاک نقا پھو عشرہ۔ بیہ کمر و تہنز اطاعت وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً  
 وَأَصِيلًا بیہ چتھ تہہ پاک تہندیاد کران آسہ صبحس تہ شامس إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ  
 پز پاتھ تم لو کہ توہہ سیت یار رسول اللہ حدیثیہ کہ دوہہ جہادہ خاطرہ بیعت آس کران تم آس فی الحقیقت  
 بیعت کران خدا ایس سیت۔ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ گویا خدا یہ سندا تھہ چتھ تہندین اتھن پیٹھ فَمَنْ  
 نَكَتْ فَإِنَّمَا يَنْكُتْ عَلَى نَفْسِهِ ایس ایس اکھاہ یہ معاہدہ پھڑاوہ یعنی بجای اطاعت کرہ مخالفت تمہہ عہد  
 پھڑاونک و بال تہ گوناہ چتھ تس پانس وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهِ اللَّهُ فَمَنِّيهِ أَجْرًا عَظِيمًا بیہ ایس اکھاہ  
 پورہ کرہ تھہ عمدس ایس تم خدا ایس سیت کور ایس دہہ سہ عنقریب بدمزور سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ

الْأَعْرَابِ شَغَلْتْنَا أَمْوَالَنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْنَا يَقُولُونَ  
 بِالسِّنْتِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ طُفْلٌ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ  
 اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ۝۱۱ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ  
 إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا وَزَيَّنَّ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ۝۱۲  
 وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا ۝۱۳ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا

مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلْتْنَا أَمْوَالَنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْنَا ۝۱۱ دُونِ يَلِہِ تہہ مدینہ شریف والو توہمہ نش حاضر  
 سپد تھ وئن توہمہ تم لو کہ تم توہمہ سیت سفر حد بیس شامل سپد نہ گامہ کیو لو کو اندرہ نفاقہ سببہ اپنڈر کہہ  
 آس حض کمر آور مان تہ عیالں۔ تہمدہ راجھ خاطرہ اوس نہ آسہ گرن اندر کانہہ تہ۔ وون منگو خدا لیس  
 سائہ امہ کوتاہی خاطرہ مغفرت تہ بخشایش یقولون یا لیسنتہم ما لیس فی قلوبہم تم لو کہ وئن  
 زیو سیت تھے تھہ سمہ نہ تہمدین دلن منز آسن قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا تہہ فرما دیو کہہ  
 یار رسول اللہ لیس تہہ شخص چھہ سہ لیس خدا لیس برو تھہ کہہ تہمدہ خاطرہ کئہ چیز س پیٹھ اختیار چھہ تھوان  
 إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ہر گاہ اللہ تعالیٰ تہمدہ خاطرہ تھہ کانہہ نقصانہ یا کانہہ فائداہ بک  
 كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بلکہ چھہ اللہ تعالیٰ تہمز ن سارنہ کامین پیٹھ مطلع تھی کور میہ خبر بذریعہ  
 وَحَىٰ كَمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بلکہ اوس تہمدہ بیان کور وہہ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ  
 إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا بلکہ اوس تہمدہ ہتھ روزہ تک اصلی وجہ کہہ توہمہ اوس گمان کہہ حضرت پیغمبر خدا بیہ  
 بِالْإِيمَانِ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا بلکہ اوس تہمدہ بیان کور وہہ بَلْ ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَنْقَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ  
 إِلَىٰ أَهْلِيهِمْ أَبَدًا بلکہ اوس تہمدہ ہتھ روزہ تک اصلی وجہ کہہ توہمہ اوس گمان کہہ حضرت پیغمبر خدا بیہ  
 قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ ۝۱۲ یہ تھہ آس تہمدین دلن منز رتہ جان بوزنہ یوان۔ نبی کریم صلی اللہ  
 علیہ وسلم بیہ بایمان ہندہ عداوتہ موکھہ اوس توہمہ امیک تمنا ہے۔ بیہ آس وہہ واریاہ گمان بد کران  
 وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا تہہ سپدہ میے پیچھہ گمان ہندہ سببہ ہلاک تہ بر باد سپدہ وون لو کہ۔ ہر گاہ وون تہہ عذاب

أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا ۝۱۳ وَبِاللَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط  
يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا ۝۱۴  
سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمٍ لَتَأْخُذُوا هَا  
ذُرُونًا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ قُل لَّن  
تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَيَقُولُونَ

وعدہ بوز تھ ایمان آؤتے گو جان ورنہ وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا  
تم نہ وعید بوز تھ تہ پڑھ کرن خدا جس تہ تہندس رسولس، اده متہ کرتن۔ اہہ چھہ تین پڑھ نہ کرہ  
وینن تہ منکرن ہندہ خاطرہ دزہ ون نار تھوومت۔ باایمان تہ کافرن ہندہ خاطرہ الگ الگ قانون مقررہ  
کرہ نس پیٹھ گڑھ نہ تعجب کرن **وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ** يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَكَانَ  
**اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا** اللہ تعالیٰ سے چھہ حکومت تہ سلطنت آسمانن تہ زمینن ہنز۔ سہ چھہ اختیارہ دول نس  
خوش کریس نس کرہ مغفرت۔ نس خوش کریس نس کرہ عذابس گرفتار۔ باایمان ہندہ خاطرہ چھہ تہ  
یوڑھمت مغفرت کرن۔ کافرن ہندہ خاطرہ عذابس گرفتار کرن۔ سہ چھہ سیٹھاہ مغفرت کرہ ون،  
سیٹھاہ رحم کرہ ون۔ ہر گاہا کافر تہ توبہ کرن تہ ایمان انن تہن تہ کرہ مغفرت **سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ**  
**إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَائِمٍ لَتَأْخُذُوا هَا ذُرُونًا نَتَّبِعْكُمْ** وون ون توبہ اے مسلمانو تم تم سفر حد پیس  
نشہ پٹھ روزہ ون لوک آسن تمہ ساتہ ٹہہ ہو پچن جنگ خیبرس کن تیک مال غنیمت حاصل کرنہ خاطرہ  
کہ اہہ تہ دیو پیہر نیر نہ۔ اسی پچو تو ہی سیت خیبرس کن **يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلِمَ اللَّهِ** تم چھہ یڑھان  
امہ سیت خدایہ سندس کلامس بدل کرن۔ خدایہ سند حکم اوس کہ تم لوکھہ سفر حد پیس شامل اس تہن  
ورائے گڑھ نہ جنگ خیبرس کا نہہ تہ نیرن **قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ** ٹہہ  
فرما یو کھ اے لوکو ٹہہ ہی کو نہ اہہ سیت ہرگز شامل سپد تھہ تھہ پاتھ چھہ اللہ تعالیٰ ان بروٹھے  
فرموومت **فَيَقُولُونَ بَلْ نَحْنُ نَحْسُدُونَنَا** تم دنپوہ تورہ توبہ چھوہ ساتہ فایدک از رون یوان، اہہ

بَلْ تَحْسُدُ وِنَتَابِلْ كَانُوا اِلَا يَفْقَهُونَ اِلَّا قَلِيْلًا ۝۱۵  
 قُلْ لِلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعُوْنَ اِلَى قَوْمِ اَوْلَىٰ بِاِسْمِ  
 شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسَلِّمُوْنَ ۚ فَاِنْ تُطِيعُوا يُوَفِّكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا  
 حَسَنًا وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا ۝۱۶  
 كَيْسَ عَلَى الْاَعْمَىٰ حَرْجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرْجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرْيُضِ  
 حَرْجٌ وَّمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّةٌ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا

سیت ہجھہ حسد کران بَلْ كَانُوا اِلَا يَفْقَهُونَ اِلَّا قَلِيْلًا از زرون تہ حسد ہجھنہ۔ بلکہ ہجھنہ تمن اصل  
 مطلب فکری تران۔ یہ ہجھنہ تم زمان کہ یہ ماہجہ تمن سفر حدیبیہ نشہ بے وجہ پتھ روز نگ سزا۔ تمہ  
 علاوہ ہجھنہ تمن فکرہ تران کہ یہ حکم سپد نازل وحیہ کہ ذریعہ اتھ منز ہجھنہ حسد آسس تعلق قُلْ  
 لِلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعُوْنَ اِلَى قَوْمِ اَوْلَىٰ بِاِسْمِ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسَلِّمُوْنَ جہہ فرماو و یا  
 رسول اللہ تمن یم حدیبیہ نشہ پتھ روزہ و نین بدوین، ای لو کو ہر گاہ توہہ جنگ خیبر س منز شامل  
 سپد ونہ، تہ کیاہ اتھہ جھہ۔ ہر گاہ توہہ واقعی ہنز پاٹھ شوق ہجھہ جہاد کرہ نگ ثواب حاصل کرنہ خاطرہ سن  
 توہہ واریاہ موقعہ چنانچہ عنقریب بیہ توہہ نادنہ آگس قوس سیت جہاد کرنہ خاطرہ تم سخت جنگ کرہ  
 ون آسن مراد ہجھہ أمہ قومہ اندرہ فارس تہ روم۔ تہہ کرہ تمن سیت جہاد یوتان تم آن مانن اسلام  
 قبول کرنہ سیت یا جزیرہ دنہ سیت ۚ فَاِنْ تُطِيعُوا يُوَفِّكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا نَس ہر گاہ جہہ تمہہ ساتہ خدلیہ سُنْد  
 حکم مانو، جہادس نیر واللہ تعالیٰ کرہ توہہ رث مزوری عطا ۚ وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا  
 اَلِيْمًا ہر گاہ جہہ تمہہ ساتہ تہ روگردانی کثرو، ہجھہ پاٹھ توہہ بروٹھ تہ روگردانی کر مرث ہجھوہ اللہ تعالیٰ کرہ  
 توہہ کڈر عذاب۔ البتہ جہادہ نشہ ہجھہ بعض لوکھ متشئہ تہ کيسَ عَلَى الْاَعْمَىٰ حَرْجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرْجٌ وَّلَا  
 عَلَى الْمَرْيُضِ حَرْجٌ چنانچہ ہجھنہ اُس پیٹھ کانہہ گوناہ بیہ ہجھنہ لنگس پیٹھ بیمار س پیٹھ کانہہ گوناہ ہر گاہ تم  
 جہادس شامل سپدن نہ ۚ وَّمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَدْخُلْهُ جَنَّةٌ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَرُ نَس فرماں برداری

الْأَنْهَارِ وَمَنْ يَتَوَلَّ يَْعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا ۙ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ  
 الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ  
 فَأَنْزَلَ السِّكِّينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ۙ وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً  
 يَأْخُذُ وَنَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ۙ وَعَدَّكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ  
 كَثِيرَةً تَأْخُذُ وَنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ  
 عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا ۙ

کرہ خدایہ سزبیہ تہمیدس پیغمبرہ سزئس واتاواہ اللہ تعالیٰ تمن جنتن منز سمو منز ر نگارنگ یتہ قسما قسم کولہ  
 پکان آسن وَمَنْ يَتَوَلَّ يَْعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا نئس روگردانی کرہ، احکامونشہ بئھ پھرہ نئس کرہ اللہ تعالیٰ  
 کڈر عذاب لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ تھقیق راضی یتہ خوش سئن اللہ  
 تعالیٰ با ایمان پیٹھ یلہ تم توہمہ سیت یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیعت آس کران بکر کلس تل،  
 کافرن سیت ثابت قدی سان جہاد کرہ نس پیٹھ بئن پان اسلامس پیٹھ فد اکرہ نس پیٹھ فَعَلِمَ مَا فِي  
 قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السِّكِّينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا اللہ تعالیٰ آس اوس یتہ معلوم یتہ تھندین وکن منز  
 اوس، اخلاص یتہ عزم وفاداری ہند۔ پس تروو اللہ تعالیٰ ان تمہہ وقتہ تمن پیٹھ الطمینان یتہ سکون سمہ  
 سیت نہ تمو حکم خدانہ نس اندر عنہ قسمہ پس و پیش کور۔ بیہ دیتھکھ انعام امہ پتے بڈفخ یعنی فتح خیر  
 وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُ وَنَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا بیہ کور کھ عطا سیٹھاہ مال غنیمت یتھ پیٹھ تمو  
 قبضہ کور۔ اللہ تعالیٰ چھہ سیٹھاہ غالب یتہ قدر یتہ وول، سیٹھاہ حکمتہ وول۔ سہ چھہ پنہ قدر یتہ سیت حکمتہ  
 سیت نئس یرٹھان نئس مناسب و قس پیٹھ فتح عطا کران فتح خیر سے پیٹھ چھہ معاملہ ختم بلکہ وَعَدَّكُمْ  
 اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُ وَنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هَذِهِ اللہ تعالیٰ ان چھہ وعدہ کورمت توہمہ سیت اے با ایمانو  
 وار سئن مال غنیمت ہند تم توہمہ حاصل کرہ سمو منزہ جلد بکن سر دست یتہ فتح خیر عطا کرنوہ وَكَفَّ  
 أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ وَلِتَكُونَ آيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا بیہ بئھ یتہ واقعہ بیہ مال غنیمت



وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ اللَّهُ  
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا ﴿۲۱﴾ وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوَلِيُّ  
 الْأَدْبَارُ لَمْ يَجِدُوا مِنَّا وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ﴿۲۲﴾ سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي  
 قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَكِن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴿۲۳﴾  
 وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ  
 مِن بَعْدِ أَنْ أظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ﴿۲۴﴾

حاصل سپدن اکھ بوڈ نشانہ تہ نمونہ بنہ بالیمان ہندہ خاطرہ پروردگارہ سندن پزین وعدن پیٹھ تہ حضرت  
 رسول کریمہ سزین ہون پیشینگو مین پیٹھ بیہ سٹھ اللہ تعالیٰ تھاوہ توہمہ محکم تہ مضبوط راہ راستس پیٹھ۔  
 تہی آسو ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس پیٹھ پورا اعتماد کران **وَأُخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَدْ أَحَاطَ اللَّهُ بِهَا وَكَانَ**  
**اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا** بیہ سٹھ کرہ اللہ تعالیٰ توہمہ عطا بیا کہ فتح یعنی فتح مکہ یوسہ نہ ونہ تہندس قابو اس  
 منز آثر چھ مگر اللہ تعالیٰ سندس عکس تہ تہندس احاطہ قدرتس اندر چھہ آثر۔ یلہ سہ یڑھہ تمہ  
 ساتھ کرہ سہ توہمہ عطا سو فتح۔ کیا زہ اللہ تعالیٰ چھہ ہمیشہ پر سٹھ چیزس پیٹھ۔ قدرتہ دول **وَلَوْ قَاتَلَكُمُ**  
**الَّذِينَ كَفَرُوا وَالْوَلِيُّ الْأَدْبَارُ لَمْ يَجِدُوا مِنَّا وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا** بیہ ہر گاہ کافر توہمہ سیت صلح کرہ ہن نہ  
 لڑائی کرہ ہن ضرور پھیرہ ہن تم پوت شکست کھیتھ کیا زہ تہندہ مغلوب سپدن وجوہ اس موجودہ تم بروٹھ  
 بیان کرنہ یں۔ تو پتہ لبہ ہن نہ کانہہ اکس حمایت تہ مدد کرہ دن **سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلُ وَلَكِن**  
**تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا** کافرن شکست تہ بالیمان فتحیہ چھہ قانون خدایہ سندن بروٹھ پیٹھ جاری  
 کہ مقابلہ کہ وقتہ چھہ اہل حق غالب تہ اہل باطل مغلوب سپدن تہہ لبونہ یار رسول اللہ اتھ خدایہ  
 سندس قانونس تہ دستورس منز ہر گز تغیر و تبدیل کئے وقتہ امیک بدل سپدن چھہ مبنی کئے جنس پیٹھ  
 آسان **وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِن بَعْدِ أَنْ أظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ** سہ  
 پروردگار گوسی تم کافرن ہندا اتھ چھہ رٹ توہمہ تکلیف و اتاوانہ نعرہ یعنی توہمہ قتل کرنہ نعرہ بیہ تم تہند

هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ  
 مَعَكُمْ فَإِنْ تَبَلَّغَ حَيْلُهُمْ وَلَوْ لَارْجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ  
 لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوَّهُمْ فِتْصِبِيكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةً بِغَيْرِ عِلْمٍ  
 لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ

اتھ ہتھ رٹ تمین تکلیف و اتناوندہ لہیہ یعنی تم تہمدہ اتھ مارہ گوہنہ لہیہ عین مکہ شریفس نزدیک یعنی حد پینس منز توہہ تمین پیٹھ غلبہ دتھ تم آس تمہ وقتہ تہمدس قابواس منز آمت ہر گاہ امہ وقتہ جنگ سپدہ ہائہ روزہ ہاوارئیس کالس جاری۔ بیمہ جموونہ سپد نس منز آسہ تمہ سپدہ ہن ضائع و کان اللہ ہنا تَعْلَمُونَ بَصِيرًا اللہ تعالیٰ اوس تہمزہ کامہ و چھان تمو اندرہ تھہ پانھی آئے کی شیتھ زنی توہہ تکلیف و اتناوندہ خاطرہ۔ توہہ کرووکہ تم گرفتار توپتہ آئی دوکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برونٹھ کین۔ تمو دژ بھ معافی۔ اللہ تعالیٰ اوس تمہ وقتہ تہمزہ سارے کلمہ و چھان۔ تمین کالمین ہندین اثراتن اوس زانان، تمی دژنوہ نہ توہہ کام کرنہ۔ تمہہ سیت جنگ دوتھ ہا۔ **هُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيِ مَعَكُمْ فَإِنْ تَبَلَّغَ حَيْلُهُمْ** تم منک لوکھ گئے تھے۔ تمو خدا ایس نسبت کفرتہ انکار کور۔ یہہ رٹ ہوہ تہہ ہتھ عمرہ کرہ نہ لہیہ۔ مسجد حرامس اندر خانہ کعبس طواف کرنہ لہیہ یہہ رجھہ ہتھ تہمدی قربانی ہندی جانور، تم مقام حد پینس اندر آئی بند کرنہ۔ تمین دیتھ نہ واتنہ قربان گرہن جانن اندر یعنی مٹی اس منز ایس مسجد حرامہ کیو تو ابھواندرہ ہتھ تم چیز آس منگان کہ مسلمانن لیہ ہا اجازت دنہ جنگ کرنہ نک تا ایچہ تم کافر سپدہ ہن مغلوب۔ لیکن بعضے حکمو سپزہ مانع امہ لہیہ **وَلَوْ لَارْجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ أَنْ تَطَّوَّهُمْ فِتْصِبِيكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةً بِغَيْرِ عِلْمٍ** یہہ ہر گاہ واریاہ با ایمان مردتہ واریاہ با ایمان زنانہ آسہ ہن نہ مکہ شریفس منز تمین ہنز نہ توہہ خبرے آس خطرہ اوس کہ تم کر ہوکھ ہتھ جھکہ کہ وقتہ لتہ مونجہ پس ولتہ ہا توہہ بے خبری منز سٹھاہ ضرر توہہ یہہ ہاضرور جنگ کرہ تک اجازت دنہ مگر سہ اجازت آوندہ دنہ کیا زہ **لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ** ہتھ اللہ تعالیٰ داخل کرہ ہاپنہ نس رحمتس منز

كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۲۵ اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝۲۶ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّبِّيًّا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَهُمْ وَمُقَصِّرِينَ لَا

پس یشہ بہا تہ اس اسلاس مشرف سہ نہ سیت لَو تَزَيَّلُوا الْعَدَابَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ہر گاہ تم با ایمان مردہ با ایمان زنانہ یم مکہ شریفس منز آس تمہ شہرہ منزہ اورہ یورگن گا متی آسہ ہن سبیلہ کرہ ہو آس تہن لوکن سموگر کور مکہ کیولو کو آندرہ مسلمان ہندیواتھوسیت نڈر عذاب اِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ یہ واقعہ گووتی ساتہ سمہ ساتہ کافر و تھو دینہ نین دلن اندر سخت تھب تہ جاہلانہ جوش۔ سمہ سببہ اشتعال انگیز تھہ ہبہ کہ کر نہ سہ تہ اوس باعث کہ مسلمان کرہ ہن مشتععل سہ تھہ جنگ شروع۔ یہ گووتی وقتہ بلکہ صلح حدیبیگ مسودہ لیکنہ یوان اوس بسم اللہ تہ رسول اللہ لیکنس پیٹھہ کرتمو کافر و مسلمان سیت ضد تہ ہٹ دھرمی قَانَزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ کس کور اللہ تعالیٰ ان پنے طرفہ صبر و تحمل تہ سکون پنے کس پیغمبرس یہہ با ایمان پیٹھہ سمہ سیت تموضبط کور تہن کلماتن ہندس لیکنس پیٹھہ کور کہ نہ اصرار تا لیکنہ صلح سپد کمل کافر بچے مارہ گرہنہ نشہ وَالزَّمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا اللہ تعالیٰ ان تھاو تم مضبوط تہ محکم تقویٰ کس کس پیٹھہ سہ گوو کلمہ طیس پیٹھہ یعنی توحید و رسالت پڑھ پیٹھہ یوسہ متقاضی پٹھہ خداو پیغمبرہ سہدس کس اطاعت کرہ کس واقعی آس تم تھہ تقویٰ کس کس دنیا س اندر مستحق یہہ آس امہ کس ٹو اس لائق آخر کس اندر وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللہ تعالیٰ پٹھہ پڑھہ چیزہ پورزانہ ون لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّبِّيًّا بِالْحَقِّ لَتَدْخُلَنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ مُحَلِّقِينَ رُءُوسَهُمْ


لَا تَخَافُونَ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا  
 قَرِيبًا ﴿۱۶﴾ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ  
 لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا ﴿۱۷﴾  
 مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ

وَمُقَدَّرِينَ لَا تَخَافُونَ اللہ تعالیٰ ان ہووینہ نس پیغمبرس پوز خواب لیس تمو سفر حدیبیہ بروٹھ وچھمت  
 اوس لیس واقس سیت مطابق اوس زہ ضرور آژوٹھہ ساری مسجد حرامس منز بعضے آسن مس کاسٹھ تہ  
 بعضے آسن مس کر پتھ خوف و خطرہ ورائے، امن و امانہ سان۔ امہ اندرہ پتھ مراد عمرہ تھہ منز پتھ  
 آسان حلق و قصر یعنی مس کاسن تہ مس کر من تہ فَعَلِمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا پس زان تم یرتھ مصلحت  
 صلحس اندر یوسہ مصلحت نہ تھہ زانہ ہو۔ فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا پس کر اللہ تعالیٰ ان مکنس  
 منز فاتحانہ اژنہ بروٹھ اتھ پیٹھہ بیاکھ فتحا توہہ عطا یعنی فتح خیبر دویمہ دریہ دراوخابک تعبیر اللہ

تعالیٰ ان کورتن فتح مکہ عطا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ  
 وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا سہ پروردگار گوسے یم سوز پن پیغمبر بڈہ ہدایتک سامان ہتھہ یعنی قرآن مجیدہ  
 پوز دین یعنی اسلام ہتھہ تھہ دینس غالب کرہ سارنہ دینس پیٹھہ باعتبار حجت و دلیل ہمیشہ مگر باعتبار  
 شوکت و سلطنت اہل اسلام بشرطیکہ تمن منز آسہ تج صلاحیت سو صلاحیت آسہ صحابہ صائن اندر لبہ  
 یوان۔ بس پتھہ اللہ تعالیٰ امیک گواہ سہ پتھہ تھہہ رسالتک تصدیق کران۔ اللہ تعالیٰ سنز گواہی دن گیہ  
 کہ تمی کرہ دلیلہ قائم تھہہ رسالتس پیٹھہ بس سید دلا نیلو سیت ثابت کہ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ حضرت  
 محمد ﷺ پتھہ خدیجہ سید پیغمبر امہ سیت سید تسلیمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندس دل مبارکس کہ ہر گاہ صلح  
 حدیبیس منز کافر تھہہہ نام مبارکس سیت لفظ رسول اللہ جھنہ ووان لیکنہ تھہہ مہ حض گڑھو آژردہ  
 آس پتھہ قرآن مجیدس منز تھہہہ نام مبارکس سیت یہ لفظ لیکھان بس قیاس تان باقی روزہ وَالَّذِينَ  
 مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَوَاهُمْ وَرُحَمَاءُ مَعَهُ اسم لوکھ اس پیغمبرس سیت پتھہ یعنی صحابہ صاب  
 ساری تم پتھہ کافرن ہمدہ حقہ سخت تیز زور آور۔ پانہ و ان پتھہ یعنی مسلمان سیت سیٹھاہ رحم دل تہ

تَرَاهُمْ رُكْعًا سَجْدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي  
 وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي  
 الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَاةً فَازَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى  
 عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ  
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿۶۹﴾

مہربان۔ وچھہ بھکھ ژہ اے مخاطب تم رکوع کران تہ سجدہ دو ان یعنی نماز پر ان یَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ  
 وَرِضْوَانًا ژہا نڈان چھہ تم پروردگارہ سُنْد فضل یعنی ثواب یہ یعنی قرب خدا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ  
 أَثَرِ السُّجُودِ علامت تہند چھہ تہندین تھن پیٹھ سجدہ کہ اثرک یعنی تہندی تھی چھہ نورانی ذَلِكَ مَثَلُهُمْ  
 فِي التَّوْرَةِ سم صفت تہندی چھہ توراس اندر وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَاةً فَازَرَهُ  
 فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ یہ چھہ انجیلس اندر تہند یوہے صفت۔ تہنڑ مثال چھہ  
 زراعت مثال بس نڈان چھہ گوڈہ پن لوٹ شاخ تھہ طاق تھہ طاق ت دو ان یوتان سہ ویٹھان تہ پوٹھان چھہ ،  
 ایستادہ چھہ روزان پنہ نس دس تہ گوڈس پیٹھ۔ پنہ نشوونما سیت چھہ حیران کران زمیندارن۔ یوحال  
 چھہ صحابہ صائن ہند۔ ابتداءس اندر آس تم کمی وارہ وارہ دژکھ اللہ تعالیٰ ان ترقی لِيغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ  
 بٹھہ تھہ تھہ دیاوہ تہندہ سیت کافرن۔ تم دزن حسدہ کہ نارہ سیت وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
 الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا وعدہ تھو اللہ تعالیٰ ان تم لوکن سمو ایمان اون یہہ کرکھ  
 رژہ عملہ صحابہ صابو اندرہ بڈہ مغفر تک یہہ بچہ مزورہ ہند



## سُورَةُ الْحَجَرَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتَدُوا بِأَيْدِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَ  
اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ① يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا  
أصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ  
بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالِكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ ② إِنَّ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتَدُوا بِأَيْدِي اللَّهِ وَرَسُولِهِ اے باایمانو پیشاباںی مہ کمر و خدایہ سندس بیہ  
تہندس پیغمبرہ سندس کھمس کتہہ منز یا کتہہ کامہ منز یعنی یوتان نہ تہند اجازت آسہ توتان گدھہ نہ پانے  
گفتگو کرن پانہ وان۔ امہ آیہ کریمک شان نزول چھہ یہ کہہ کہ دوہہ آس قبیلہ بنی تمک کینہہ لو کہ امت  
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندس خدق اندر۔ حضرت ابو بکر صدیق ؓ حضرت عمر رضی اللہ عنہما ان  
در میان سدا تھہ مجلسہ منز گفتگو تھہ اندر کہ تم لو کن ہند حاکم کہہ کروں مقرر (ابو بکر صدیق ؓ،  
تم آس دپان قفعا بن معبدس نسبت، عمر بن الخطاب آس دپان اقرع بن حائس نسبت، گفتگو اس اندر  
سزہ ہنزہ آوازہ بلند تھی پیٹھ سدی تم آیہ کریمہ نازل وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ بیہ کھو ترو  
خدائس۔ بے شک اللہ تعالیٰ چھہ ہنزہ سارے تھہ بوزہ ون، سارے کامہ زانہ ون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ اے باایمانو بلند مہ آسو کران آواز ہنن نبی کریمہ سزہ آوازہ پیٹھ  
وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ بیہ مہ آسو تم سیت بدھ تھہ کران تھہ پآھ ہتہ بدھ  
تھہ چھوہ کران اکھ اگس سیت۔ یامہ آسو تم آلو دووان نام مبارکہ سیت یا کینتہ سیت۔ تھہ پآھ اگس پتس ہتہ  
آلو دووان چھوہ بلکہ آسو آلو دووان تم تہندہ نبوتہ سیت یا عہدہ رسالتہ سیت۔ ونان آسویار رسول اللہ صلی اللہ علیہ  
وآلہ وسلم تھہ سیت ضائع گدھن ہنزہ عملہ توہہ روزہ نہ خبرے

الَّذِينَ يَعْضُونَ أَسْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ  
 اٰمَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَّأَجْرٌ عَظِيمٌ ۝۳ اِنَّ  
 الَّذِيْنَ يِنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجْرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ۝۴  
 وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ  
 رَّحِيْمٌ ۝۵ يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ  
 تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ ۝۶ وَاَعْلَمُوْا

اِنَّ الَّذِيْنَ يَعْضُوْنَ اَسْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ اٰمَنَ اللّٰهُ قُلُوْبَهُمْ لِلتَّقْوٰى لَهُمْ  
 مَغْفِرَةٌ وَّاَجْرٌ عَظِيْمٌ بے شک ہم لو کہ پنہ آواز چھ پست کران پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم برودتھ کنہ  
 تہمدی دل کمر اللہ تعالیٰ ان خالص تقویٰ و پرہیزگاری خاطرہ۔ تہمدی خاطرہ چھہ مغفرت تہ  
 بدمزوری آخرتس اندر اِنَّ الَّذِيْنَ يِنَادُوْنَكَ مِنْ وَّرَآءِ الْحُجْرٰتِ اَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُوْنَ ہم لو کہ توہہ یا  
 رسول اللہ آلودان چھہ حجرات شریفو نمبر کنہ تمواندرہ واریاہ لو کہ چھہ بے عقل وَلَوْ اَنَّهُمْ صَبَرُوْا  
 حَتّٰى تَخْرُجَ اِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ہر گاہ تم ذرا صبر تہ انتظار کرہ کن یوتان تہہ پائے تمن نشہ نیرہ ہو تہ  
 اوس تہمدہ خاطرہ یث جان۔ ہر گاہ تم لو کہ و تہ توہہ کرن تہہہ مغفرت کرنہ کیازہ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ  
 رَّحِيْمٌ اللہ تعالیٰ چھہ سیٹھہ مغفرت کرہ ون، سیٹھہ رحم کرہ ون تہمدہ حقہ تمن پنہہ غلطی بند احساس  
 سپد تھ نہامت پادہ سپدہ يَاۤ اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَاٍ فَتَبَيَّنُوْا اے ایمانو ہر گاہ کانہہ  
 شریر شخصہ توہہ نش کانہہ خبر اہ و اتادان آسہ کانہہ خلاف تہہہ آس زہ تہہہ گوڈہ تحقیقات کران تہہہ سوچھا  
 پز خبر کنہ اپز اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِيْنَ چھہ تہہہ کنہ تو مس یا جماعتس پیٹھ  
 بے خبری منز کانہہ تکلیفہ واد تہہہ تا و و سمہ سببہ تہہہ سپد و پنہہ غلط کارروائی پیٹھہ پتولا کہ نادم تہہہ پشیمان۔ سمہ  
 آہہ کر۔ سمگ قصہ نزول چھہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوزی ولید بن عقبہ بنی مصطلق نشہ زکوٰۃ  
 وصول کرنہ خاطرہ۔ ولیدس تہہہ قبیلس منز اوس زمانہ جاہلیتس منز عداوت۔ ولیدس سپد توت گوڈہ

أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ وَ  
 لَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ  
 الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ فَضَلَا  
 مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۸﴾ وَإِنْ طَائِفَتٌ مِّنَ

نس اندر اندیشه - سمویلہ ولیدہ سیدہ ہنگ بوز، تم در ای تس استقبال تمس گو و گمان ہم یم مدارای تمس  
 قتل کرنے خاطرہ - سہ آدواہل مدینہ منورہ - توت و آنجھ وون پنہ خیالہ موجب کہ تم حض ہجھہ مخالف  
 اسلام سدی مت - حضر توسوز خالد بن ولید تحقیقاتہ خاطرہ - تمو کور تحقیقات واره پاٹھ توپتہ کور کہ  
 عرض تم حض ہجھہ مکمل طور اسلامس پیٹھ ثابت تہ محکم - بعضے روایتن اندر ہجھہ کہ تم اہل قبیلہ آئے  
 پانہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشہ - ہجھہ پاٹھی سپد نازل یہ آیہ کریمہ **وَأَعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ**  
 بیہ زانو کہ توہہ منز ہجھہ موجود پیٹھ خبر خدا - ہجھہ مہ آسوا پز معاملہ ہجھہ تمن نشہ یوان - اللہ تعالیٰ ہجھہ تمن  
 اصل حالاتن پیٹھ مطلع کران - بیہ ہجھہ یہ تہندہ خاطرہ پروردگارہ سزبذ نعمت - امہ نعمتک شکر ہجھہ ای  
 زہ ہجھہ مہ کرو تمن خلاف ہجھہ معاملس اندر آدہ آس تن سہ دنیاوی معاملے ہجھہ مہ تھا وویہ خیال کہ تم کرن  
 دنیوی معاملس اندر پائے نہ رہیہ سیتی موافقت کیا زہ **لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ** واریاہ ہجھہ  
 ہجھہ تمہہ قسمجہ آسان کہ ہر گاہ تمن منز تم تہندمانن، توہہ سیت موافقت کرن تمہہ سیت وایتہ توہہ سخت  
 ضرر **وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ** لیکن  
 اللہ تعالیٰ ان بجائے وہ ہجھہ مصیبتہ نشہ - ہجھہ پاٹھے کہ ایمان کاملگ محبت کور نوہ عطاسہ حاصل کرن  
 کورن تہندین وکن اندر مرغوب تہ پسندیدہ کفر تہ فسق یعنی گناہ کبیرہ بیہ مطلق گوئین ہنز کرن توہہ  
 نفرت سمہ سببہ ہجھہ پر ہجھہ وقتہ ہجھہ تلاش آسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سزہ رضامندی حاصل  
 کرہ نک **أُولَئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ** سببہ با ایمان سم تکمیل ایمان دلدادہ ہجھہ، ہجھہ راہ راستس پیٹھ  
**فَضَلَا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً** پروردگارہ سیدہ فضلہ سیت تہ مہربانیہ سیت **وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ** اللہ تعالیٰ ہجھہ



الْمُؤْمِنِينَ اقْتُلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنِ ابْغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى  
 الْآخَرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِئَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنِ فَاءَتْ  
 فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ①  
 إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَابِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ  
 تُرْحَمُونَ ② يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْخَرُوا قَوْمًا مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ  
 يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا

سورے زانہ دن سے سیٹھاہ حمہ دول وَاَنْ طَايْفَتَيْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتُلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنِ ابْغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْآخَرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِئَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ یہ ہر گاہ با ایمان ہنزہ زہ ہما ژپانہ وَاَنْ لِرَأْسِ كُرْنِ تہہ كمر و تمن منر صلح، نئس چیز باعث ہٹھ لڑاہ ہندسہ كر دور۔ نئس ہر گاہ تودو یو اندرہ اكھ جماتھ ہئس جماتئس پیٹھ زیادتی کرہ ہٹھ كر وئس زیادتی کرہ وئس جماتئس سیت مقابلہ یوتان تم رجوع کرن خدایہ سدس لحمس ئن فَإِنِ فَاءَتْ فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ پس ہر گاہ سو جماتھ سمو زیادتی کرے یہ رجوع کرن خدایہ سدس لحمس ئن، ادہ كر و تمن منر اصلاح عدل و النصفانہ سیت یہہ آسو پر ہٹھ معاملس اندر عدل و النصفانك خیال تھاوان بے شك اللہ تعالیٰ اس چھ عدل گرہ ونے بندہ ٹاٹھ۔ اس ئس توہمہ اصلاحك حکم كور امیک و جہہ ہٹھ کہہ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَابِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ با ایمان چھ دئس منر اشتراك آسنہ سببہ پانہ وانے بائے بائے۔ یمن اندر ہٹھ یہ اشتراك فی الدین نسب معنویاہ اكھ۔ پس كر و ہٹھ اصلاح پنہ یمن بائن منر۔ یہہ كھوژ و اللہ تعالیٰ اس كانسہ ہنز طرف و آری کرہ ئس یا انتقامی جذبئس كام ہئس اندر، ہٹھ توہمہ پیٹھ رحم یہہ كر نہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْخَرُوا قَوْمًا مِنْ قَوْمٍ اے با ایمانو توہمہ منرہ مہ آئن كانبہ مرد مر دن پیٹھ آسان تہ ٹھٹھ كر ان عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءً مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ شاید ما آسن ٹھٹھ کرہ و نئس ہندہ خوتہ تہہ تہہ یمن ٹھٹھ چھ یوان كر نہ بہتر تہہ

مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بِئْسَ الْإِسْمُ  
 الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۝۱۱  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ  
 إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُّبُ أَحَدِكُمْ أَنْ يَأْكُلَ  
 لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ ۝۱۲

افضل خدائیں نشہ۔ بیہ مہ آسن زنانہ ٹھٹھہ کران بین زنانن کیا زہ شاید ٹھٹھہ کرہ و نین زنانن مہدہ خوتہ ما  
 آسن تے زنانہ بہتر تہ افضل خدائیں نشہ سمن ٹھٹھہ چھہ یوان کرنہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ بیہ مہ آسبو  
 اے مردو تہ اے زنان اکھ آس طعنہ دو ان تہ عاب ژاران وَلَا تَنَابَزُوا بِاللِّقَابِ بیہ مہ آسوا اکھ آس  
 ناوتہ ریزہ کڈان بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ایمانہ پتہ گو نہک ناؤ لکن چھہ سیٹھاہ پچھہ۔ یعنی  
 ئیس پئس شخصس ریزہ کڈہ سہ چھہ پانہ گو چھہ کار سپدان۔ تہ چھہہ با ایمانہ سبہہ خاطرہ جان یا چھہہ مراد امہ  
 منزہ کہ یلہ کانسہ ایمان او نمت آسہ گو بہو نشہ توبہ کور مت آسہ تس گزہ سن نہ پامہ دنہ برو ظنن کھن تہ  
 کاین ہنزہ۔ یا آسہ کانہہ شخصہہ، نس آسہ پیدائشی کانہہ عابہہ تس تہ گزہ سن نہ تمک طعنہ دنہ تھہ منز  
 کیاہ چھہ تم سہ قصور۔ سہ چھہ ٹیٹھہ چھہ کر ان تھور۔ تھہ چیزس تمس طعنہ دین چھہ بے عقلی وَمَنْ لَّمْ  
 يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ سمن لوکھ نہ سمو چیز و نشہ توبہ کرن تم چھہ ظلم کرہ و نیو آندرہ یعنی حقوق  
 العباد تلف تہ ضائع کرہ و نیو آندرہ ئیس سزا ظالمین بیہ دنہ سے سزایہ سمن تہ دنہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
 اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ اے با ایمانو پچھہ روز و گمانو نشہ اِن بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ کیا زہ بعضے گمانہ چھہ گوناہ  
 آسان وَلَا تَجَسَّسُوا ژر ژان مہ آسوا کانسہ یعنی کانسہ اک سندین حالاتن در پے مہ آسوروزان وَلَا  
 يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا نہ آسن توبہ آندرہ اڈی اڈین ہنز غیبت گران نہ عاب گزران اَيُّبُ أَحَدِكُمْ أَنْ  
 يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا کیاہ توبہ آندرہ چھا کانہہ ئیس پنہ نس مردہ بائی سند ما ز کھیٹھہ بیہہ فَكَرِهْتُمُوهُ  
 ان چھہ توبہہ یقیناً نفرت اٹھہ غائبہہ کرن کتھہ پاٹھہ چھہ توبہہ پسند۔ یہ تہ گوا کہ قسمہ موگرتہ مردہ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ  
 لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿۱۳﴾  
 قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ نُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قَوْلُوا اسْلَمْنَا وَلَمَّا  
 يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ


مازکھیون۔ اچ تہ گڑھہ توہمہ نفرت آسن مُشاہتک وجہ چھہ یوہے کہ پتھ پاٹھ بائی سُنڈ مازکھیون تَس بائی  
 سِدہ تکیفک باعِث چھہ بنان پتھ پاٹھ چھہ تسن۔ آبروریزی تہ تہندہ خاطرہ تکیفک باعِث بنان۔ اگرچہ  
 غایبانہ تہنزہ نامرغوب تھہ پھر نہ سیت چھہ تَس تکیف واتان مگر در ذات خود چھہ یہ امر سخت تکیف  
 وہ۔ امی سبہ فرموو کہ مشبہ بہ آسَس اندر لفظِ مینا وَأَقْوَالُ اللَّهِ کھوڑو اللہ تعالیٰ اَس، کانسہ ہنز غایتھ  
 کرنی تراو، تہمہ نشہ کرو توبہ۔ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ چھہ سیٹھا توبہ قبول کرہ ون تہ  
 سیٹھاہرم کرہ ون يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اے لوکو تہہ  
 ساری کر وہ آسہ پادہ اگس مردس تہ اگس زنانہ نشہ یعنی آدم علیہ السلام تہ حوا علیہا السلام نشہ۔ اتھ  
 منز چھو تہہ ساری برابر توبہ تہہ تھہ منز فرق چھہ توہمہ اندر سوہ گیہ یہے کہ آسہ کمر توہمہ اندر مختلف قوم  
 تہ مختلف قبیلہ تہ خاندان۔ تہ چھہ محض سمہ تھہ خاطرہ تھہ تہہ اگھ اگس پرزہ ناوتھہ ہیکو۔ اگھ اگس پیٹھ  
 فخر کرنہ تہ تھیکہ خاطرہ نہ۔ پریتھہ اگس چھہ بوڈ فخر شونت تہ پرہیزگار آسن إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
 أَتَقْوَاهُ بے شک توہمہ اندرہ چھہ زیادہ عزتہ وول خدا اگس نشہ سے اگس زیادہ شونت تہ پرہیزگار آسہ  
 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ بے شک اللہ تعالیٰ اَس چھہ پریتھہ اک سزہ پرہیزگاری ہنز پور خیر۔ تَس چھہ  
 پور علم اگس کیتھ چھہ قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ نُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قَوْلُوا اسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ  
 فِي قُلُوبِكُمْ یم بعض دہی لکھ بنی اسد وغیرہ چھہ ونان توہمہ نشہ حاضر سپد تھہ کہ آسہ اون ایمان مگر یہ  
 چھہ تم وٹھے ونان، دگس چھہ اچ پڑھاہ کینہہ تہ، تہی فرماو یو کہ اے لوکو توہمہ اونوہ نہ ونہ ایمان کیا زہ  
 تہیک آثار چھہ توہمہ منز بیہ چھہ ایمان موقوف تصدیق قلبس پیٹھ۔ لیکن تہہ وونکہ وون سپدے اَس  
 مطہع۔ سمہ معنیہ کہ وون تراو آسہ مخالفت کرن۔ ونہ کتہ سپد ایمان داخل تہندین دکن اندر۔ لہذا مہ کرو

مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۶﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ  
 آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ﴿۱۵﴾ قُلْ  
 اتَّعَلَّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا  
 فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿۱۷﴾ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا  
 قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ

جہہ ایمانک دعویٰ وَاَنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلَيْتُكُمْ مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ہر گاہ دوسرے جہہ  
 فرماں برداری کمر و خدلیہ سز سے تہمتیں پیغمبرہ سز سارے کتھ ماننے سیت، یعنی دلہ سیت کر پوچھ سہ کرہ نہ  
 جہزن عملن ہنزہ مزدورہ اندر کتھہ قسمہ کمی کیا زہ بے شک اللہ تعالیٰ جتھہ سیٹھہ مغفرت کرہ ون، سیٹھہ  
 رحم کرہ ون۔ ون بوزو جتھہ کہ بالیمان کامل کم گئے۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ  
 يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ بالیمان گئے تھے  
 سمو پڑھ کر کتھ خدائیس یہ تہمتیں پیغمبرس۔ تو پتہ کو رکھ نہ ساری عمرہ کتھہ قسمہ شک سے تردید جتھہ  
 خدلیہ سزہ وتہ اندر مال وجانہ سیت محنت یعنی دینہ خاطرہ جتھہ منز جہاد وغارہ کاملہ تہ آہ تھے کیاہ گئے  
 پزی زیار آمانا ون نس اندر قُلْ اتَّعَلَّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ  
 وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ تھی فرماؤ یو کہ یار رسول اللہ اے لو کو جتھہ چھوہ خدائیس پنہ نہ دین قبول کرہ کج خیر  
 وناں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ جتھہ تہ سورے زانان یہ آسمان تہ زمین منز جتھہ۔ یہ جتھہ اللہ تعالیٰ تمہ علاوہ  
 پر جتھہ چیزہ پور زانان پروردگار س یہ توہہ متعلق معلوم جتھہ تہ جتھہ یہی زہ جتھہ چھوہ حقیقتاً بے ایمان  
 محض جتھہ چھوہ زیو وسیت ایمان جتلا وان يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ  
 اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَا كُمُ لِلإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ توہہ پیٹھہ جتھہ سم لو کہ احسان تھا وان پنہ  
 اسلام قبول کر نہ سیت۔ وناں جتھہ کہ اس سپد مسلمان لڑائی تہ قضیہ کر نہ ورائی، یہ لو کہ سپد مسلمان

هَذَا كُمْ لِلْإِيمَانِ إِنَّ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۷﴾ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ  
غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِصِيرَاتِكُمْ خَبِيرٌ ﴿۱۸﴾

سیٹھاہ پریشانی کرتھہ۔ یہ گیہ بہنہز سیٹھاہ گستاخی۔ جہہ فرماو یو کہ یار سول اللہ اے لو کو میہ پیٹھہ مہ تھا ووپنہ  
مسلمان سپدنہ سیت منت تہ احسان قطع نظر کترتھہ تہنہزہ گستاخی نٹھہ، تہنہدہ اسلام آنہ سیت کیاہ نفع تہ  
فائدہ ووت میہ تہ تہنہدہ اسلام نہ آنہ سیت کیاہ ضرر اوس میہ۔ ہر گاہ تہہ پز زیار آسوتیلہ چٹھوہ امیک نفع  
آخرتس منز توہہ پائس۔ دنیوی نفع کہ تہہ کیا بچے وہ قتل و قیدہ نٹھہ، یہ تہ چٹھہ توہہ پائس۔ میہ پیٹھہ  
احسان تھاون گوو محض جہل بلکہ چٹھہ اللہ تعالیٰ سنز توہہ پیٹھہ بدمنت تہ بوڈ احسان کہہ تی ہا وہ توہہ  
ایمانس کن و تھہ، ہر گاہ تہہ پوزونان چھوہہ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِصِيرَاتِكُمْ  
خَبِيرٌ بیشک اللہ تعالیٰ چٹھہ زانان آسمانن تہ زمینن ہنرہ پوشیدہ تھہ۔ بیہ چٹھہ سہ و چھان وارہ تہ  
سورے یہ تہہ کران چھوہ۔ تی موجب دی وہ سہ توہہ جزاء۔ تس بروٹھہ کتہہ اپزہ مپزہ تھہ کرنہ اندرہ کیاہ  
فائدہ چٹھہ۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 ق ت وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ ۱ بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ  
 فَقَالَ الْكٰفِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ۲ ءَاذًا مِّنَّا وَكِنَّا تَرَابًا  
 ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ ۳ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا  
 كِتٰبٌ حَفِیْظٌ ۴ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَمَنْ فِيْ اٰمْرِ قَرِیْبٍ ۵

ق یہ حرف پچھ حروفِ مقطعات تو آندرہ۔ امیک علم پچھ خدا پس وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ تمہ قرآن مجید چ درے پچھ مجد و شرف پچھ بین کتابن پیٹھ کہ اسہ سوزوہ تہہ قیامتہ عذابہ سیت لوکن کھوژوانونہ خاطرہ مگر تمولو کو مون نہ تہند بَلْ عَجِبُوا أَنْ جَاءَهُمْ مُنْذِرٌ مِنْهُمْ بلکہ سپد تمن تجب پچھ تہہ پیٹھ کہ تہہ پاٹھ آو تموے منزہ اکھ شخصہ اُس بشر پچھ، نیم کرہ ون پیغمبر، تم تمی قیامتہ دہ بہ سیت کھوژہ ناوی فَقَالَ الْكٰفِرُونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ اٹھ پیٹھ لگی ونہہ کافر کہ یہ پچھ اکھ عجیب قصاہ گوڈہ نی پچھ بشرہ سُنْد پیغمبر بنت سُن عجیب تو پتہ تم سُنْد یہ وُن کہ مرنہ پتہ چو تہہ بہ زندہ کرنہ ءَاذًا مِّنَّا وَكِنَّا تَرَابًا ذٰلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ کیا ہیلہ اُس مَر و تو پتہ سَد و اسی میوہ سیت میوہ کیاہ تو پتہ میوہ اُس بہ دوبارہ قیامتک دوہ زندہ کرنہ۔ یہ دوبارہ بہ زندہ سپدن پچھ عقلہ نشہ تہ امکانہ نشہ سیٹھادور۔ اُمہ دعوائے محالہ سیت پچھ بہ بن پیغمبری ہند دعوائے کمزور سپدان۔ اللہ تعالیٰ پچھ امکانہ کہ ثبوتہ خاطرہ فرماں وان کہ امکانہ نشہ کیا زہ پچھ بعید۔ ہر گاہ محل ہنزہ نا قابل حیات آسنہ موکھ پچھ تہندہ خیالہ تہ پچھ یہ بالکل باطل کیا زہ محل اندر پچھ حیات بالفعل موجود۔ ہر گاہ باعتبارِ فاعل پچھ یہ نا ممکن کہ اللہ تعالیٰ اُس کیاہ پچھ نہ اجزاء مبین ہند علم یا کیا پچھس نہ تصر فس پیٹھ قدرت، سانہ علمک شان تہ حال پچھ پچھ کہ قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْاَرْضُ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كِتٰبٌ حَفِیْظٌ اسہ پچھ معلوم کہ کم کم اجزا پچھ زمین موزون نشہ کم کران تہ کھیوان،

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا  
 مِنْ فُرُوجٍ ۖ وَالْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا  
 فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۚ تَبَصَّرَةٌ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ ۝  
 وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرُكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جِبْتًا وَحَبَّ الْحَصِيدِ ۝

روح چھ موجود آتھے یلہ اس یڑھو بیہ پادہ مرن، تم ساری چیز کرو کہ اس بیہ جمع، یہ تھہ چھنہ کہ اسہ کیاہ  
 چھہ از تمن اجزان ہنز خبر بلکہ سون علم چھہ تمن اجزاءن متعلق قدیم۔ چنانچہ اسہ چھہ تمن اجزاءن ہند  
 ساری حالات درج کری مت اگس کتابہ اندر یچھہ ناو چھہ لوح محفوظ سو کتاب چھہ اسہ نغمہ از تان برابر  
 محفوظ، چھہ منز موز دن ہندین اجزاءن ہنز جای، مقدار تہ ساری صفت موجود چھہ۔ مگر ایم لو کہ کرن  
 توتہ اتھ اندر تعجب بلا وجہ بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ لَّهِيبٍ یہ تھہ چھنہ یوسہ تم دنان چھہ  
 بلکہ چھہ حقیقت کہہ تم کو انکار ہزس یلہ تمن نشہ پوزوت غور تہ فکر کرنہ ور اے۔ پس چھہ تم ولنہ  
 آمتی اگس پیچیدہ معاملس آندر۔ کئہ وقتہ چھہ تعجب کران تہ کئہ وقتہ چھہ انکار کران سانہ قدر تک شان  
 چھہ بالکل ظاہر أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ کیاہ وچھان چھنا تم  
 لو کہ ایم قیاس تہ مرنہ پتہ بیہ زندہ سپدنس انکار چھہ کران آسانس گن بس تمن بیٹھی کن چھہ، تھہ پاٹھی  
 بنو اسہ تہ تھود تہ بلند، تھہ پاٹھی دیت اسہ تھہ زینت ستارو سیت۔ بیہ چھنہ تھہ غایت درجہ مضبوط  
 آسنہ مو کہ کئہ جایہ کانہہ کھ چھہ تہ پھراٹھاہ وَالْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ  
 كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ بیہ چھہ زمینس منز سان یہ قدرت ظاہر کہ سہ زمین و ہر و اسہ۔ بیہ ترا و اسہ تھہ  
 پیٹھ کوہ بارہ خاطرہ لنگر ہی بیہ کھاری اسہ تمہہ زمینہ آندرہ پر تھہ کسکمی خوشما چیز یہ سوڑے کور اسہ  
 تَبَصَّرَةٌ وَذِكْرَىٰ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّنِيبٍ عبرت تہ بینائی دانائی ہند اکھ ذریعہ اسہ گن رجوع کرہ و بس پر تھہ  
 بندہ سندہ خاطرہ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُّبْرُكًا فَأَنْبَتْنَا بِهِ جِبْتًا وَحَبَّ الْحَصِيدِ بیہ چھہ سان قدرت  
 ظاہر سمہ سیت کہہ تر و اسہ آسانجہ طرفہ برکتہ دول رود توتہ کھار اسہ تمی سیت باغ بیہ تم پھل تہ

وَالنَّخْلَ بَسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ ۙ رِزْقًا لِلْعِبَادِ وَأَحْيَيْنَا بِهِ  
 بَلَدًا مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ ۙ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ  
 الرَّسِّ وَثَمُودُ ۙ وَعَادٌ وَفِرْعَوْنٌ وَإِخْوَانُ لُوطٍ ۙ وَأَصْحَابُ  
 الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ ۙ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ ۙ  
 أَفَعَيَّنَّا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ ۙ

غلات سم لوندہ چھہ یوان وَالنَّخْلَ بَسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ بیہ کھار تمہ ستیہ آسہ زیتھہ زیتھہ خضر کل  
 سمن ہندی گزن پوٹھس پیٹھہ آکس سیت دھتھہ چھہ آسان رِزْقًا لِلْعِبَادِ پتہ نین بندن رزق دنہ  
 خاطرہ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلَدًا مَيْتًا كَذَلِكَ الْخُرُوجُ بیہ کور آسہ تھی رودہ سیت زندہ مومت زمین۔ پتھہ پاٹھہ  
 کیاہ نیران قیامتک دوہ زمینہ منزہ ساری لوکھہ یلہ سمن بڑین چیزن پیٹھہ سان قدرت ثابت سپرہ مورده  
 زندہ کرہ نس پیٹھہ گڑھنا آسہ قدرت آسن۔ پس یلہ مقدور ممکن بیہ فاعل عالم صاحب قدرت آسہ اتھہ  
 صورتس منز کیاہ پتھہ تجب و تکذیب کرہ ٹک موقعہ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ  
 وَثَمُودُ پتھہ پاٹھہ مکہ کیوکافر و قیامتس انکار کور پتھہ پاٹھہ پتھہ انکار کور مت بین بروٹھہ نوح علیہ السلامہ  
 سند قومن بیہ کیر والیبیہ قوم ثمودن وَعَادٌ وَفِرْعَوْنٌ وَإِخْوَانُ لُوطٍ بیہ کور انکار قوم عادن، بیہ فرعونہ  
 سند قومن بیہ قوم لوطن وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ بیہ کلین تل روزہ و نیو لوکو۔ بیہ تیج سند  
 قومن۔ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ سمو ساروے کور پنے نس پنے نس پیغمبرس توحید و رسالتس، بیہ قیامتس  
 انکار فَحَقَّ وَعِيدِ نس سپدہ تہندہ حقہ عذابک وعدہ برابر تہ محقق۔ پتھہ پاٹھہ سپدن یم منکر تہ عذابس  
 گرفتار۔ دُنْيَا س اندرتہ، آخرتس اندرتہ یا صرف آخرتس اندر یقینا أَفَعَيَّنَّا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ  
 فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ کیاہ سنا آس تھتھہ مخلوقات گوڈنچہ لہ پادہ کرنہ سیت کہ دون کیاہ پتھہ کوکھ نہ  
 قیامتک دوہ بیہ دُبارہ پادہ کرتھ سم اتھہ انکار کران چھہ تگن نفعہ پتھہ کا نہہ دلیلہاہ بلکہ چھہ سم لوکھ دُبارہ  
 پادہ کرنہ کس شکس اندر بتلا سپدی مت نس نہ دلائلن مقابلہ قابل التفات پتھہ۔ پیٹھہ آویان کرنہ کہ



وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ  
 إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ<sup>(۱۶)</sup> إِذْ تَتْلَى الْمُتَلَقِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ  
 الشِّمَالِ قَعِيدٌ<sup>(۱۷)</sup> مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ<sup>(۱۸)</sup> وَ  
 جَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ<sup>(۱۹)</sup> وَنَفَخَ

مرنے پتہ پر زندہ سپدنگ امکان چھہ ثابت بروٹھ چھہ بیان یوان کرنہ تمیک وقوع چوچھہ تمجھہ وقوع غایت یعنی مجازات چھہ موقوف چھہ پیٹھہ جزاء دودہ ونس گنہہہ اعمان ہند علم تہ عاملس پیٹھہ قدرت آسن۔ لہذا چھہ گوڈہ تی بیان یوان کرنہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ تھنق اسہ کور پادہیہ انسان یوسہ بذلیل چھہ سانس قدرتس پیٹھہ بیہ چھہ اسہ معلوم تم سدس دس منز کم کم خیالات چھہ یوان تم سزہ زیوہ پیٹھہ یاتانو سیت یمہ کتھ کامہ لبہ یوان چھہ تمہ تہ چھہ کسی بدرجہ اولی زانان۔ بیہ چھہ اسہ تھندین احوال ہند تھہ علم کہ تس چھہ پانس تہ تمن احوال ہند توت علم پس چھہ آسی انسانس باعتبار علم قریب بلکہ اقرب وَعَنْ أَقْرَبِ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ بلکہ چھہ کسی زیادہ قریب اس انسانس گردنہ ہنزہ شہ رگہ خوتہ یمہ رگہ ہندہ ڈٹنہ سیت انسان ختم چھہ سپدان إِذْ تَتْلَى الْمُتَلَقِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ تمن لوکن کرو بیان یلہ زہ رٹن والی ملکھ چھہ اس انسانہ سزہ عملہ ضبط کران تہ زانان یمہ عملہ تہ کامہ تس نشہ چھہ صادر سپدان تہ لبہ یوان تہ ملکھ چھہ اس دھنہ طرفہ تہ یا کھ کھوفرہ طرفہ بہتھہ آسان مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ بیہ انسان چھہ اسہ منزہ کاہنہ کتھہ کڈان کاہنہ لفظہ ونان مگر تان چھہ تس نشہ سان راجھہ تہ نگرانی کرن دول سہ لفظ لیکنہ خاطرہ تیار آسان۔ سہ ہر گاہ نیکی ہنز کام آسہ کران تیلہ چھہ سو کام دھنہ طرفہ ملکھہ لیکنان۔ اگر بدی ہنز کام آسہ کران تیلہ چھہ سو کام کھوفرہ طرفہ ملکھہ لیکنان وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ بیہ آسہ مویج سختی نزدیک حقیقتا یعنی پریتھہ شخصس چھہ موت قریب ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ تمہ ساتہ کیاہ بیہ وننہ اس انسانس یوسہ کیاہ گووہ موت تمہ نشہ ڈہ ژلان اوسکھہ وَنَفَخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمَ الْوَعِيدِ بیہ

فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمَ الْوَعِيدِ<sup>(۲۰)</sup> وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ  
 وَشَهِيدٌ<sup>(۲۱)</sup> لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكُمْ غِطَاءَكُمُ  
 فَبَصَرُكُمُ الْيَوْمَ حَدِيدٌ<sup>(۲۲)</sup> وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ<sup>(۲۳)</sup>  
 الْيَقِيَانِي جَهَنَّمَ كُلٌّ كِفَّارٍ عَنِّي<sup>(۲۴)</sup> مَتَاعٌ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٌ<sup>(۲۵)</sup>  
 الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيهِ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ<sup>(۲۶)</sup>  
 قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطَّغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ<sup>(۲۷)</sup> قَالَ

یہ دوسرے بھڑے پھو کہ دن پو غس منز سہ سیت ساری یہ زندہ گزھن یو ہے دوہ کیاہ گو دو وعیدک سہ سیت لو کہ آس کھوڑہ ناو نہ یوان **وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ** یہ یہ تمہ دوہہ پر تھ اکھا میدان محشرس منز سیت آسپس اکھ ملکھہ پکناونہ خاطرہ، بیا کہ ملکھہ أمہ سزمن کامین ہند گواہ تہ شابد۔ حدیث شریفس منز چھ کہ یم زہ ملکھہ آسن تے سم دنیاءس منز امہ سزہ رزہ تہ پیچھ عملہ لیکھان آسن تم کافر آسن تمین یہہ ونہ **لَقَدْ كُنْتُمْ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكُمْ غِطَاءَكُمُ فَبَصَرُكُمُ الْيَوْمَ حَدِيدٌ** تھیں اے انسانہ ژہ او سکھہ اکھہ دوہہ نشہ غفلتس منز پیومت۔ از کیا تھل آسہ ژہ نشہ ٹھور تہ پردہ۔ وون چھہ چان نظر از تیز۔ اے کاش دنیاءس منز تہ ہے یہ غفلت تراو مژ آسہ ہی، از مایہہ ہایہ روز بد پیش **وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَىٰ عَتِيدٍ** یہہ دیس سہ ملکھہ ئس أم سزہ عملہ لیکھتھ تھوان اوس یکیا چھہ آئی سند نامہ اعمال میہ نش کمل پانھی تیار **الْيَقِيَانِي جَهَنَّمَ كُلٌّ كِفَّارٍ عَنِّي** \* **مَتَاعٌ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ مُّرِيبٌ** اللہ تعالیٰ فرماوہ تمین دون ملکن تراویون پر تھہ سہ شخصاہ ئس کفر کرہ وون تہ ہز یک دشمن آسہ، رژو کامیون نشہ پتہ رژو وون آسہ، حدہ ڈلہ وون آسہ، دنیس منز چہ تہ شک پادہ کرہ وون آسہ نار جھنس اندر **الَّذِي جَعَلَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَأَلْقِيهِ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ** سم خدا ئس سیت بیا کہ معبوداہ تجویز کور مت آسہ پیچھ شخص تراویون سخت عذابس منز۔ چوبچہ تمین گمرا کرہ وونین اندر آسہ شیطان تہ **قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَا أَطَّغَيْتُهُ وَلَكِنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ** سہ شیطان ئس اہس انسانس سیت سیت روزان اوس دیہ اے سائہ

لَا تَخْتَصِمُوا لَدُنِّي وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ ۖ مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ  
لَدُنِّي وَمَا أُنْزِلَ بِالْمَلَأْمِ لِلْعَيْدِ ۖ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ  
وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ۖ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ۖ  
هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ ۖ مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ

پروردگارہ میہ بنوونہ سرکش یہ شخص جبر ابلکہ اوس یہ پائے پختہ اختیارہ زتجھ گمراہی منز بوڈمت اگرچہ میہ  
تہ کمرس آتھ گمراہی اندر مددہ ہن۔ لہذا اگرچہ نہ اکی سزہ گمراہی ہند اثر میہ پیٹھ پیون **قَالَ**  
**لَا تَخْتَصِمُوا لَدُنِّي وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَيْكُمْ بِالْوَعِيدِ** اللہ تعالیٰ فرماوکیہ میہ بروٹھ کتہ منہ کرو لڑایہ ہنزہ تھ۔  
تمہ تھ چھ بے سود، میہ ہٹھ بروٹھ توہہ تمہ عذابگ بیم کتابن تہ پیغمبرن ہند واسطہ کورمت کہ بس  
گفر کرہ پائے یا کانسہ ہندہ گمراہ کرنہ سیت جبر آیا بلا جبر، سارنے دمہ بہ سزانا زجہنمہ سیت **مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ**  
**لَدُنِّي وَمَا أُنْزِلَ بِالْمَلَأْمِ لِلْعَيْدِ** میہ نشہ پیہ نہ تبدیلی کرنہ تھہ حکمس بس جاری کرنہ آمت ہٹھ توہہ  
سارنے چھ جہنمس اندر دزن۔ یہ چھس نہ بہ یہ تجویز کرہ بس اندر پنہ نین بدنن پیٹھ ظلم کرہ وون بلکہ  
کرہ تموپائے تھہ ناشایان کامہ تم ہند سز از تم تلان جھہ **يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأَتْ وَتَقُولُ هَلْ**  
**مِنْ مَزِيدٍ** سہ دوہ پاو تہی ژتیس تم لوکن تمہ دوہہ پرژھو اسی جہنمس یلہ ساری مجرم تھہ منز واتا وونہ  
آسن آمت، برنہ آکھ؟ سہ دپہ یہ چھاکینہہ؟ حدیث شریفس منز چھہ آمت کہ اللہ تعالیٰ تھاوہ  
جہنمس پیٹھ پن قدم۔ تمہ پتہ دپہ جہنم، بس بس وون سڈس ہد، وون آس برنہ **وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ**  
**لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ** یہ ہٹھ جتک بیان کہ جنت یہ متقین تہ پرہیزگارن کھ کل آنہ دور آسہ نہ دپنہ  
یچھ **هَذَا مَا تُوعَدُونَ** یوہے کیا گووٹہ جنت تمیک توہہ وعدہ یوان اوس تھاوانہ کہ یہ جنت آسہ  
**لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ** پرچھ تھس شخصہ سندہ خاطرہ بس خدائس گن دلہ سیت رجوع کرہ وون آسہ یا تم  
آپزہ نشہ پزس گن، نافرمانی نشہ فرمانبرداری گن، شرکہ نشہ توحیدس گن بدعتو نشہ سٹس گن رجوع  
کورمت آسہ۔ یہ سارنے حقونن راجھ کرہ وون سندہ خاطرہ، اعمال و طاعتن پیٹھ پابندی تہ ڈاڈ کرہ وون

وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ ۚ (۳۳) ادْخُلُوا بَيْتَكُمْ ذَٰلِكَ يَوْمَ الْخُلُودِ ۗ  
 لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ ۗ (۳۴) وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ  
 مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّخِيصٍ ۗ (۳۵)  
 إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ  
 شَهِيدٌ ۗ (۳۶) وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ  
 أَيَّامٍ ۖ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ ۗ (۳۸) فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ


سیدہ خاطرہ من حیثی المؤمن بالغیب و جَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ اُس کھوڑہ حضرت رحمانس و چھندہ ورائے،  
 بیہ یس تیس نشہ ہتھ آوز جوع کرہ و ن دلاہ تمن بیہ وندہ ادْخُلُوا بَيْتَكُمْ ذَٰلِكَ یَوْمَ الْخُلُودِ اتھ جنس منز  
 بسلامت ذَٰلِكَ یَوْمَ الْخُلُودِ یوہے چھہ ہمیشگی ہند حکم جاری کرہ نگ دودہ از سہ دویہ تمن ہندہ  
 خاطرہ سمہ جلیہ ہند تجویز آو کر نہ تمن چھہ تنھ جلیہ ہمیشہ روزن۔ بالیمان ہمیشہ جنس اندر، کافر ن  
 ہمیشہ جہنم اندر لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ جنتین ہندہ خاطرہ چھہ تمن جنتین اندر تہ  
 سورے یہ تم یڑھن، تکج کج خواہش کرن۔ اسہ نشہ چھہ تمہ خوتہ سیٹھا زیادہ لغوہ تمو لغوہ خوتہ تمن  
 ہنز تم خواہش کرن وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَّخِيصٍ  
 بیہ گال اسہ تمن مکہ کین کافر ن برونھ واریاہ جماژ مفکر ن ہنزہ تم ہندہ خوتہ توئس اندر زبردست  
 آس۔ پس ییلہ ہندہ انتقامگ وقت ووت تم ژائے واریہن شہرن اندر کنتہ جلیہ بنہ ناچھن جلیاہ مگر تم  
 ہیک نہ خدایہ سندہ عذابہ نشہ پنہ نین پان کنتہ جلیہ بچاد تھہ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أَوْ  
 أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ بے شک یمن عبر تناک واقعاتن منز چھہ بوڈو عظ تمن لوکن ہندہ  
 خاطرہ تمن فخر کرہ و ن دل اسہ یاسم نصیحت دو عظک کلام بوژن و آرہ کن دار تھہ، دل حاضر تھہ و تھہ  
 وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ۖ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ بے شک بیہ کر اسہ پادہ  
 آسمان تہ زمین بیہ یہ تمن منز چھہ شین دوہن ہندس مدتس منز توپتہ سپز نہ یہ پادہ کر نہ سیت تھکن تہ

بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ<sup>(۳۹)</sup> وَمِنَ اللَّيْلِ  
فَسَبِّحْهُ وَادْبَارَ السُّجُودِ<sup>(۴۰)</sup> وَأَسْتَمِعِ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ  
قَرِيبٍ<sup>(۴۱)</sup> يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ<sup>(۴۲)</sup>  
إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَاللَّيْنَا الْمَصِيرُ<sup>(۴۳)</sup> يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ

ماندگی پادہ وون کیاہ عجایب چھہ آسہ نشہ دُبارہ پیدہ کرن تُوپتہ تہ ہر گاہ تم لوکھ انکارے کرن فَاَصْبِرْ  
عَلَى مَا يَقُولُونَ جہہ کڑو ژید دشمن ہنزن کھن پیٹھہ یارسول اللہ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ  
الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ بیہ کروٹھہ خدلیہ سُنڈیاد، تمسز پایکی تم سُنڈ حمد تہ تعریف بیان کرنہ سیت  
آفتاب کھسنہ بروٹھہ بیہ آفتاب لوسنہ بروٹھہ امہ اندرہ چھہ مُراد صُح نمازیہ پیشین تہ دگر نماز۔ وَمِنَ اللَّيْلِ  
فَسَبِّحْهُ بیہ کروٹھہ یادرا اژ اندرہ ہنہ اگس وَادْبَارَ السُّجُودِ بیہ آسہ جہند یاد کران فرض نمازوپتہ یعنی  
سنت تہ نفل ادا کرنہ سیت وَأَسْتَمِعِ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَّكَانٍ قَرِيبٍ بیہ بوزاے مخاطب گن دار تھہ یہ  
تھہ کہ سمہ دوہہ سارنہ مورذن آلودیہ آلودہ ون کھ تلہ جایہ پیٹھہ یعنی اسرافیل علیہ السلام پوغس  
يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ سمہ دوہہ بوزن ساری سو کرکھ وارہ پاٹھی ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ سَے  
دوہ کیاہ آسہ لوکن قبر و منزہ پیر نیرہ نگ دوہ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَاللَّيْنَا الْمَصِيرُ آس ہجھہ بیہ نہ کانہہ  
سارنہ زندہ کران بیہ سارنہ ماران۔ بیہ چھہ آسی نشہ سارنہ پتولاکہ واٹن يَوْمَ تَشَقُّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ  
بِوَاعَا سمہ دوہہ زمین مژرنہ بیہ سخن پیٹھہ تم نیرن تمہ منزہ دل دل ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْكُمْ يُسِيرُ یہ  
تمن ہند سو نیر لون تہ جمع کرن چھہ آسہ نشہ سہل تہ آسان غرض قیامتگ واقع سپدن آو بیان کرنہ  
تجرا۔ امہ پتہ تہ ہر گاہ تم لوکھ مانن نہ جہہ مہ بروکانہہ غم تہ فکر کیاہہ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ آس  
جہہ زانان تمہ سارے تھہ سمہ سمہ دشمن تھند ونان جہہ آس زانو پائے سخن سیت وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ

سِرَاعًا ذَٰلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ ﴿۲۴﴾ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ وَمَا  
 أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكَرُ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ﴿۲۵﴾

پہلے جہہ چھو نہ خدایہ سندہ طرفہ تمن گن زور تہ جبر کرہ ون آمت سوزنہ کہ تم بنا ویو کہ جہہ  
 زورہ مسلمان۔ ٹہنہ کام چھہ وعظ ہن تہ نصیحت کرن۔ فَذَكَرُ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدِ ہس  
 پیر و جہہ وعظ قران مجیدہ سیت تمن لو کن تم کھوژن عذابہ کس وعیدس۔





فَتَتَكُمُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ ﴿۱۳﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ  
وَعُيُونٍ ﴿۱۵﴾ اخْذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ  
مُحْسِنِينَ ﴿۱۶﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴿۱۷﴾ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ  
يَسْتَغْفِرُونَ ﴿۱۸﴾ وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿۱۹﴾ وَفِي  
الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۲۰﴾ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿۲۱﴾ وَفِي  
السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴿۲۲﴾ قُورَبِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ

سمہ دوہے تم نارس پیٹھ بوزنہ بن جہنمک داروغہ دیکھ ڈو قُوا فِتْنَتَكُمْ زہو تہہ مزہ پتہ سزاعک ہذا  
الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ یہ مجھ سے عذاب جس توہہ جلد ڈھانڈان آسوہہ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ  
وَعُيُونٍ بے شک خدایس کھوڑہون آس باغن تہ ناگہ رادان منز اخْذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ حاصل  
کرہون آسن تمن مہر بانین تہ تہہ ثوابس سمہ تمن یمن پروردگارن عطا کرہ مژہ آسن إِنَّهُمْ كَانُوا  
قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ بیشک تم آس سمہ بروٹھ دنیا س منز نیکو کار کَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ  
تم آس فراض دو اجبات علاوہ نوافل تہ ڈاڈکر تھہ پران سمہ خاطرہ رات گیت تہ سیٹھاہ کم بندر کران  
آس وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ بیہ آس تم باوجود آل تحرکہ وقتہ خدایس مغفرت منگان، پنہ نس  
عبادتس پیٹھ اوسکھنہ غرور تہ ناز سہدان وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ بیہ اوس جہندس ماس  
اندر حصہ مکہ و نین تہ مکہ و نین محتاجن ہندہ خاطرہ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ بیہ مجھہ زمیں  
منز جہ جہ دلیلہ قیامت قائم کرہ عکس قدرت آسکس پیٹھ، یقین کرہ نس پیٹھ کوشش کرہ و نین ہندہ  
خاطرہ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ بیہ مجھہ خود تہندین ذاتن تہ نفس منز تہ قدر تکی بڈی نشانہ۔  
تہندین ظاہری و باطنی مختلف احوالن منز تہ مجھہ دلیلہ امکان قیامتس پیٹھ کیاہ توتہ مجھنا توہہ بوزنہ یوان  
وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ بیہ مجھہ آسانہ نے اندر جہند رزق بیہ تم چیز سمن ہند تہہ قیامتس متعلق  
وعدہ تھاونہ یوان مجھہ تمن سارنہ چیزن ہند معین وقت مجھہ درج لوح محفوظس اندر نس آسانس پیٹھ



مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ ﴿۲۳﴾ هَلْ أَنْتَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ  
 الْمَكْرُمِينَ ﴿۲۴﴾ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ﴿۲۵﴾  
 فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ ﴿۲۶﴾ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا  
 تَأْكُلُونَ ﴿۲۷﴾ فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَحْضُ وَبَشُرُوهُ بِعِلْمٍ  
 عَلَيْهِ ﴿۲۸﴾ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ

پٹھ۔ زمینس پیٹھ آوند تمیک یقینی علم نازل کرنہ کنہ خاص مصلحتہ سببہ فَوَدَّتِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ إِنَّهُ لَحَقٌّ  
 مِثْلَ مَا أَنْتُمْ تَنْطِقُونَ نِس پٹھ آسمان تہ زمین ہندس پروردگارہ سُنْد قسم کہ یہ جزاء ک دودہ پٹھ  
 حق تہ پوز۔ پٹھ پاشھی تہنزہ آتھ گرنہ پٹھ یقینی، اللہ تعالیٰ اَن دیت قیامتہ کس واقعہ سہنس تشبیہہ تھہ  
 کرنس سیت یعنی پٹھہ پاتھ انسان اکہ تھہ کران پٹھو توپتہ چھوڑھو یہ کران توپتہ چھو بیا کہ تھہ ہوان  
 کمرن پٹھہ پاتھ کرہ اللہ تعالیٰ مرتھہ بیہ لوکن زندہ هَلْ أَنْتَ حَدِيثُ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ الْمَكْرُمِينَ  
 اے محمد کیاہ توہمہ نعرہ چھاو تھمت ابراہیم علیہ السلامہ سندین مضر ز پڑھین ہند قصہ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ  
 فَقَالُوا سَلَامًا یلہ تم ژائے تہن نعرہ توپتہ کر کہ تہن سلام قَالَ سَلَامٌ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ ابراہیم علیہ السلامن  
 تہ فرمود کہ سلامہ ہند جواب سلام۔ بیہ لگب وندہ ابراہیم علیہ السلام تم کم ساوودہر موہو پٹھہ معلوم  
 سہان فَرَاغَ إِلَىٰ أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعِجْلٍ سَمِينٍ توپتہ ژائے تم جلد باژن نعرہ تورہ آے پٹھہ وڑھی سُنْد  
 مازنئس گیوس منزاوس تلنہ آمت فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ توپتہ تھو کہ تہن برو تھہ کنہ تمویلہ  
 نہ توکن توجہ کوردو پٹھہ ہٹہ کونہ چھوہ کھیوان۔ توپتہ تہ یلہ نہ تمو کھیو فَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً تہمہ سیت  
 گاہرے تہ خوف زدہ سہدے تم تہن نعرہ اندری کن دوپ تمو کہ خبر چھاسم ما آن دشمن ادہ کونہ چھہ تم  
 کھیوان مگر تمو پڑھیو ژایون تہند گاہرن تہ خوف زدہ سہان قَالُوا لَا تَحْضُ تمو دو پٹھہ تہی مہ حض  
 کھوژو۔ اَس نہ حض وھند انسان اَس وھمہ ملکھ۔ وَبَشُرُوهُ بِعِلْمٍ عَلَيْهِ سیت و ن بھہ بشارت اَس عالم  
 فرزندہ سز نئس پیغیر آہہ فَأَقْبَلَتْ امْرَأَتُهُ فِي صَرَّةٍ فَصَكَّتْ وَجْهَهَا وَقَالَتْ عَجُوزٌ عَقِيْرٌ توپتہ آہہ

عَقِيمٌ ﴿۳۹﴾ قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ ﴿۴۰﴾  
 قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ﴿۴۱﴾ قَالُوا إِنَّا  
 أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ﴿۴۲﴾ لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جَارَةً مِّن طِينٍ ﴿۴۳﴾ مُّسَوَّمَةً  
 عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ ﴿۴۴﴾ فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۴۵﴾  
 فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿۴۶﴾ وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً

آٹھ حاس منبر و نٹھ کن ہنز آشین بی بی سارہ علیہا السلام یوسہ تہہ تھے یہ تھہ بوزان آس، آیہ شور  
 تلان۔ توپتہ لائن ڈیکس پنہ نس ژنڈا، بیہ لچی ڈہنہ اکھ چھس بہ بدہ بیہ چھس ہانٹھ سہ تھہ سناپا ٹھی زیوہ  
 میہ پنٹھ حاس منبر میہ اولاد زیون چھہ عجیب کتھہ **قَالُوا كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ** تمودوپ ہس تجب  
 مہ کرژہ آس چھاکینہ ہن ونان یہ فرمویتھہ پانٹھ چان پروردگار ن **إِنَّهُ هُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ** بے شک  
 سہ چھہ سیٹھہ حکمتہ وول سیٹھہ علمہ وول سہ چھہ کمال قدرتہ وول نس نشہ چھنہ کہنہ تھہ عجائب۔ ابراہیم  
 علیہ السلامس سُد معلوم نبوتہ کہ فراستہ سیت کہ تم من ملکن چھہ امہ بشارتہ علاوہ بیہ تہ کیاہ تان مقصد۔  
 تھہ کن نظر کر تھہ **قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ** پرژہ ابراہیم علیہ السلامن تم ملاکن،  
 اے سوزنہ آتیو ملکو ہتہ گمہ ضروری کامہ خاطرہ چھوہ بیہ یور آمت **قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمٍ**  
**مُّجْرِمِينَ** تمودوپ چھہ آس حض چھہ سوزنہ آمت نافرمان قومس آس کن یعنی قوم لوٹس کن  
**لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ جَارَةً مِّن طِينٍ** تھہ تراو آس تم پٹھ کھنکن ہندکن پھنل تم نارس منبر پنہ آمت  
 چھہ **مُّسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُسْرِفِينَ** تم کن پھنل خاص نشانہ تھونہ آمت اوس تھدس پروردگار س  
 نشہ نافرمانی اندر حدہ ڈلہ وین ہدہ خاطرہ نشانہ اوسکھ امی خاطرہ کہ سمہ گڑھن لکنہ تمے ہم عقلہ تہ دینہ  
 کہ فطرتہ کہ حدہ نشہ ڈلت چھہ **فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ** یلہ تم بسٹن پٹھ عذابک  
 وقت ووت ہس کریو واسہ ارادہ آس کڈو کہ تمہ شہرہ منزہ تم لو کہ تم باایمان آس تم تھادو کہ آس علیحدہ  
**فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ** پس لوب نہ آسہ تھہ شہر س اندر کہ گروہ آسے کانہہ گراہ

لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ<sup>(۳۷)</sup> وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ<sup>(۳۸)</sup> فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ<sup>(۳۹)</sup> فَآخَذْنَاهُ وَجُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ<sup>(۴۰)</sup> وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَةَ<sup>(۴۱)</sup> مَا تَدْرُمْنَ شَيْءٌ آتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ<sup>(۴۲)</sup> وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ<sup>(۴۳)</sup> فَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْقَةُ

مسلمانو آندره، سہ گره اوس لوط علیہ السلامہ سید تم تھاؤ آسہ عذابہ نشہ محفوظ۔ باقی کمر آسہ ساری ہلاک وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ بیہ ترو آسہ تمن سنگ بارال کر تھ۔ تھہ شہرس منز ہمیشہ خاطرہ لشانہ اکھ، تمن لوکن ہمدہ خاطرہ سم کھو ژان آسن سانس کڈرس عذابس تو پتہ آسن سمہ واقعہ نشہ عبرت رٹان وَفِي مُوسَىٰ إِذْ أَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ بیہ ہتھہ عبرت موسیٰ علیہ السلامہ سندس قصص اندرتہ یلہ آسہ سوز تم فر عوس کن نہ دلیل یعنی مجزہ ہتھہ فَتَوَلَّىٰ بِرُكْنِهِ وَقَالَ سِحْرٌ أَوْ مَجْنُونٌ کس پھیر ہتھہ تم بیہ تم سند یوار کان سلطنتو، سہ لوگ موسیٰ علیہ السلامس دہنہ بیہ ہتھہ جادو گریا دیوانہ فَآخَذْنَاهُ وَجُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ وَهُوَ مُلِيمٌ پس روٹ آسہ سہ بیہ تھند فوج تو پتہ دیت وارتھہ دریاوس اندر ہتھہ منز سہ غرق گوہ و لشکر ہتھہ۔ سہ اوس سیٹھاہ قابل ملامتھہ کفر و شرک تہ نافرمانی ہمدہ سببہ وَفِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الرِّيحَ الْعَقِيمَةَ بیہ ہتھہ قوم عادہ کس ہلاک کرہ کس اندرتہ عبرت کئی مقام یلہ پھیر آسہ تمن پیٹھ پھش تہ وجہہ او، کس خالی اوس خیرہ نشہ یعنی تھہ منز اوس تھندہ خاطرہ شرے شر مَا تَدْرُمْنَ شَيْءٌ آتَتْ عَلَيْهِ إِلَّا جَعَلَتْهُ كَالرَّمِيمِ سہ واو اوس نہ تراوان عنہ چیزس سمہ پیٹھ سہ یکہ ہا مگر تھہ اوس چورہ چورہ کران، ناس تہ ڈاس کران وَفِي ثَمُودَ إِذْ قِيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينٍ بیہ ہتھہ قوم شمودہ کس گلنس اندرتہ عبرت تک مقام یلہ ونہ آیو تمن یعنی صالح علیہ السامس فرما یو و تمن کس تو تمح تہ فائدہ زندگی ہند کم کہنہہ کالاہ یعنی کفر و شرک نشہ نے باز ایو تیلہ

وَهُمْ يَنْظُرُونَ ﴿۳۳﴾ فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ ﴿۳۴﴾  
 وَقَوْمٌ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿۳۵﴾ وَ  
 السَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا يَدَيَّ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿۳۶﴾ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا  
 فَنِعْمَ الْمُهْدُونَ ﴿۳۷﴾ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ  
 تَذَكَّرُونَ ﴿۳۸﴾ فَفِرُّوْا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿۳۹﴾


بُھ توہم ہلاک سپدن فَعَتَوَاعَنْ أَمْرٍ رَبِّهِمْ فَأَعَدَّ لَهُمُ الصُّوعَةَ وَهُمْ يَنْظُرُونَ توپتہ تہ کہ تمہو سرکشی تہ  
 نافرمانی پنہ نس پروردگارہ سدس کھمس نھس رٹ تم اکہ خوفناک کریجہ وچھان وچھان۔ یعنی عذابک  
 آثاریلہ ظاہر سپد تم آس تم آثار وچھان فَمَا اسْتَطَاعُوا مِنْ قِيَامٍ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ نھس ہیوک نہ تمہو  
 تھو دو تھتھ کلہ وکرمن کھر تھ مودساری۔ نہ ہیوک تمواسہ نشہ تمیک بدلہ ہتھ۔ وَقَوْمٌ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ  
 إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ بیہ کر اسہ تمکن برو تھ ہلاک تہ برباد نوح علیہ السلامہ سند قوم بے  
 شک تم آس سیٹھاہ نافرمان لوکھ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا يَدَيَّ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ بیہ کورپادہ اسہ آسمان پنہ  
 قدر تہ سیت۔ بے شک سان قدرت تھہ سیٹھاہ وسیع وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمُهْدُونَ بیہ دھرو اسہ  
 زمین فرشک پاتھ۔ پس کیاہ رت دو تھرو اودون چھہ آس۔ یعنی اتھ زُ مینس منز کم نفع تہ فایندہ تھادوی  
 آس وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ بیہ کور اسہ پر ہتھ چیزاہ پادہ جورہ جورہ، زرقم۔ امہ اندرہ چھہ  
 مراد پر ہتھ چیزس مقابل تھو و اسہ بیاکھ چیز، مثلاً آسمان تہ زمین، جوہر تہ عرض، گرمی تہ سردی،  
 مودر تہ ٹیوٹھ، لوکت تہ بوڈ، خوشنما تہ بد نما، سفید تہ سیاہ، گاش تہ گمہ وغارہ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ہتھ توہم  
 سمہو مصنوعا تو سیت خدا سندن کن آسن فکرہ ترہ کہ موجودات ہتھ زہہ تہ ہفت خالق موجودات چھہ کئے  
 طاقت تہ فرد فَعَفُّوْا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ اے پیغبر برحق تھی فرما و لوکن بیلیہ سم  
 موجودات و مصنوعات حضرت خالق سدس کن آسس پیٹھ دلالت کران چھہ پس پڑہ توہم کہ ہتھ  
 دور و تھس خدا یہ سدس توحیدس کن۔ بے شک بہ ہتھ سوہ جہندی طرفہ توہم فکرہ تارہ خاطرہ نھن پاتھ

وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْ نَّذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۵۱﴾ كَذَلِكَ  
 مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ ﴿۵۲﴾  
 اتَّوَصَّوْا بِهِ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿۵۳﴾ قَتَلْنَا عَنْهُمْ قَوْمًا تَسْلُومًا ﴿۵۴﴾  
 وَذَكَرْنَا لِلذِّكْرِى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۵۵﴾ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ  
 إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿۵۶﴾ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ

بیم گروہوں۔ وضاحت سان چھسوہ و نان کہ وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ إِنِّي لَكُم مِّنْ نَّذِيرٌ مُّبِينٌ یہ منہ  
 ٹھہراوین اللہ تعالیٰ اس سیت کا نہہہ بیا کہ معبودا۔ بے شک بہ چھسوہ توہہ تہندہ طرفہ بیم کرہ و ن ن  
 پاٹھ اتھ منزسہ زیادہ وضاحت کہ ففروالی الھس منز چھ توحید ک حکم، چھ چھ لازم نبی عن  
 الشکر۔ سہ گوو وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ اتھ سیت آویہ تاکیدہ خاطرہ و ن نہ بہ چھسوہ ن ن  
 پاٹھ خدایہ سدہ طرفہ بیم کرہ و ن اللہ تعالیٰ چھ فرماو ان اے پیغمبر برحق جہہ چھوہ بیشک نذیر مبین۔  
 لیکن تم تہند مخالف چھ تھ جاہل کہ تم چھ توہہ سآحرتہ مجنون و نان۔ جہہ کمر و اتھ پیٹھ صبر، یہ  
 نوکتھاہ چھہ کَذَلِكَ مَا آتَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجْنُونٌ چھہ پاٹھ تم کافر  
 تم بروٹھ کڈرے تم ن نشہ آونہ کا نہہ پیغمبر اہ مگر دو پھس یہ چھہ جادو گریا مت تہ دیوانہ اتَّوَصَّوْا بِهِ  
 کیسا تم آسہ اکھ اگس اچ وصیت کر ان تہ یہ تھہ بروٹھو و نموہ و چھہ تے تھہ چھہ تم کافر تہ و نان بَلْ  
 هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ بلکہ آس تم ساری سرکش تہ نافرمان۔ یعنی یہ تھہ و نہ ٹک سبب چھہ سرکشی  
 تہ طغیان قَتَلْنَا عَنْهُمْ قَوْمًا تَسْلُومًا جس پھر و تم ن نشہ پن توجہ۔ تم گن منہ کرو کا نہہ التفات توہہ  
 پیٹھ چھہ کا نہہ الزام تہہ کرو پھن کام توہہ و اتنووہ پیغام حق وَذَكَرْنَا لِلذِّكْرِى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ جہہ  
 روز و اطمینان نہ سان چھنی کام کر ان۔ جہہ روز و لوکن نصیحت کر ان تم فخرہ تار ان۔ بے شک و عظ و  
 نصیحت کر نس چھہ سیٹھاہ فائدہ با ایمان ہندہ چھہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ یہ کر میہ پارہ  
 جن تہ انسان خاص امی خاطرہ کہ چھہ تم میانی عبادت کرن مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ

يُطْعَمُونَ ﴿۵۸﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ ﴿۵۹﴾ فَإِنَّ  
 لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿۶۰﴾  
 قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿۶۱﴾

يُطْعَمُونَ بہ چھسنہ تمہن نشہ رزق ژھانڈان۔ نہ چھس بہ یشھان میہ کھیاون ناکنہہ۔ إِنَّ اللَّهَ  
 هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ بے شک اللہ تعالیٰ چھ سارنہ رزق عطاگرہ وون قوتہ وول تہ مضبوط  
 فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذُنُوبًا مِّثْلَ ذُنُوبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ کہس تمہن لوکن ہندہ عذابہ خاطرہ تہ  
 چھہ و آر پتہن مقرر خداہس نشہ سموپان پانس کفر و شرکہ سیت ظلم کور۔ ہتھ پاٹھہ بروظہن کافرہ  
 ہندہ خاطرہ و آر چھہ مقرر کہس مہ کرن تم بانہر یعنی عذاب طلب کرنس اندر مہ کرن جلدی۔ سو پتہن  
 و آری وائہ تمہ ضرور قَوْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ يَوْمِهِمُ الَّذِي يُوعَدُونَ پس چھہ بڈ خرابی تہ  
 افسوس تمہن لوکن ہندہ خاطرہ سمو کفر تہ شرک کور تمہہ دوہہ۔ سمہ ڈہک تمہ وعدہ تھاونہ یوان چھہ۔



## سُورَةُ الظُّورِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 وَالظُّورِ ۱) وَكُتِبَ مَسْطُورٍ ۲) فِي رَقٍّ مَشْهُورٍ ۳) وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ ۴)  
 وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ ۵) وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ ۶) إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ ۷)  
 مَّالَهُ مِنْ دَافِعٍ ۸) يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا ۹) وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا ۱۰)  
 قَوْلٍ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۱۱) الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ ۱۲) يَوْمَ  
 يَدْعُونَ إِلَى نَارِهِمْ دَعْوًا ۱۳) هَذِهِ النَّارُ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ ۱۴)

وَالظُّورِ کوہ طور چ درے وکُتِبَ مَسْطُورٍ یہ لیکھنے آمزہ کتابہ ہنزدرے فی رَقٍّ مَشْهُورٍ یوسہ  
 مژرنہ آتس کاغذس پیٹھ لیکھنے آمزہ ہجھ۔ تمہ اندرہ ہجھ مرادنامہ اعمال وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ بیت  
 المعمورچی درے۔ سہ گوو ملائکن ہندہ عبادتک گرہ۔ ئس تسم آسمانس پیٹھ ہجھ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ  
 یہ تھدہ بچ درے۔ یعنی آسمان وَالْبَحْرِ الْمَسْجُورِ یہ دریائے محبظ درے ئس آبہ سیت برتھ ہجھ  
 إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ بے شک چانس پروردگارہ سُد عذاب ہجھ کافرن تہ مکران پیٹھ ضرور واقعہ  
 سپدہ وں نالہ مِنْ دَافِعٍ کانہہ چیزاہ ہجھہ، کانہہ ہند طاقت ہجھہ تھہ عذائس ہجھہ رٹن۔ یوسہ  
 عذاب سپدہ واقعہ تمہہ دوہہ یَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا سمہہ دوہہ آسمانس نھہ تہ تھرہ دوہجھہ، سخت نھہ، سمہہ  
 سیت تھہ پھر اٹھہ تہ شکاف گوہن وَتَسِيرُ الْجِبَالُ سَيْرًا یہ سمہہ دوہہ وڈن کوہ عجیب طریقہ پنہہ جلیہ نشہ  
 وں قَوْلٍ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ئس بوین وال تہ افسوس تمہہ دوہہ انکار گرہ ونین، یم توحیدس  
 رسائس تہ قیاس انکار کران آس الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ یم تکذیبہ کس شغلس منزبے ہودگی  
 سان بوڈی مت آس يَوْمَ يَدْعُونَ إِلَى نَارِهِمْ دَعْوًا سمہہ دوہہ تم لوکھ زورہ پکانانہ ین جہنمس گن یتھ

أَفَسِحْرُ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لَا تُبْصِرُونَ ۝۱۵۱ اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا  
 سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ إِنَّمَا تُجْرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۱۶۱ إِنَّ  
 الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمٍ ۝۱۷۱ فَكَيْهَيْنِ بِمَا آتَاهُمُ رَبُّهُمْ وَوَقَّاهُمْ  
 رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ ۝۱۸۱ كُلُّوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۝۱۹۱  
 مُتَّكِنِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ ۝۲۰۱ وَزَوَّجْنَاهُم بِحُورٍ عِينٍ ۝۲۱۱ وَالَّذِينَ  
 آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا

دوان تہ دکہ دوان ونہ بیجھ ہذہ النار الی کنتم وھا لکذون یوسے کیاہ گووسہ جنم بیجھ تہہ لہز زانان  
 آسوہ۔ یمن آیاتن منزاج خبر آس آسان تمن آیاتن آسوا انکار کران دپان آسوسم آیات جھہ سحر افسحرو  
 ہذا امر انتم لا تبصرون یہ جنم تہ ماٹھہ تہندہ خیالہ سحر تہ جود۔ وارہ وہ جھتھ وروکنہ توبہہ چھنہ در نینٹھی  
 یوان کینہہ تہ اِصْلَوْهَا فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ اثراتھ جھنمسن اندر، ادہ جتھ صبر کر تویامتہ  
 کر توتہندہ خاطرہ جھہ دوشوے چیز برابر اِنَّمَا تُجْرُونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ یہ چھنہ مگر تمنے کایمن  
 ہند بدلہ یمہ توبہہ کران آسوہ دنیاءس اندر اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّتٍ وَنَعِيمٍ بے شک پر ہیزگار آسن  
 جتن نعمون تہ سامان عیش منز فَكَيْهَيْنِ بِمَا آتَاهُمُ رَبُّهُمْ خوش تہ خرم آسن تمونعموتہ مہربانیوسیت  
 سمہ یمن عطا کرہ مژہ آسن پروردگارن وَوَقَّاهُمْ رَبُّهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ بیہ آسن تم رہمتہ پن  
 پروردگارن جھنمکہ عذابہ نشہ ونہ بیجھ كُلُّوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ کھپوتہ چپویہ چھوہ بدلہ تمن  
 کایمن ہند یمہ توبہہ کران آسوہ دنیاءس اندر مُتَّكِنِينَ عَلَى سُرُرٍ مَصْفُوفَةٍ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ تم جنتی  
 آسن تکیہ دی دی تنگن پیٹھ سم لکھ لکھ تھاونہ آسن آمت۔ بیہ کروکھ نیتھر حورن سیت تمن اچھہ دیکھ  
 دیکھ آسن یہ گووام با ایمان ہند حال۔ امہ پتہ جھہ خاص با ایمان ہند ذکر یمن ہند اولاد تہ آسن با ایمان  
 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ بیہ  
 سمو لو کایمان اون تو پتہ پنک تہند اولاد تہ تمنے پتہ پتہ ایمان انہ نس اندر اگرچہ عملہ کر کیہ نہ تہنزہ ہشہ





نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ ﴿۳۸﴾ فَذَكَرْنَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ  
بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ ﴿۳۹﴾ أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ  
رَبِّ الْمُنُونِ ﴿۴۰﴾ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَرِبِينَ ﴿۴۱﴾  
أَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ ﴿۴۲﴾ أَمْ يَقُولُونَ  
تَقْوَاهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۴۳﴾ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا

مبت آسہ پیٹھ خدا من اس رہن جہنم عذابہ نیشہ لاکا کثامن قبل نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ بے شک اس آس از کہ برو نٹھ دنیاس منزسی دعامنگان۔ بے شک سہ چھہ سیٹھاہ احسان کرہون، سیٹھاہ مہربان۔ توہہ نشیلہ آسہ امہ قسمک مضامین سوز یمن منز جنتہ کین لوکن تہ جہنمہ کین لوکن ہند حال بیان او کرنہ فَذَكَرْنَا أَنْتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ پس تہ مضمون بیان کرنہ سیت تارو فخرہ یار رسول اللہ لوکن کیا زہ توہہ چھوہ نہ ہر گز خدایہ سزہ مہربانی و فضلہ سیت کاہن تہ دیوانہ ستھہ پاٹھہ تم مشرک و نان چھہ۔ توہہ چھوہ بے شک پیغمبر برحق۔ پیغمبرہ سز کام چھہ مداومت کرن و عظ و تہلیس پیٹھ اَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ نَّتَرَبَّصُ بِهِ رَبِّ الْمُنُونِ کیاہ تم چھا توہہ شاعر زانٹھہ دان اس پیار و یمن زمانہ کین حادثاتن ستھہ پاٹھہ بے شاعر مزر مزر ختم گئے تہ مودتتھہ پاٹھہ گڑھن سم تہ سمہ عالمہ قُلْ تَرَبَّصُوا فَإِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَرِبِينَ توہہ فرماو لکھ یار رسول اللہ جان گو پیارو توہہ کہہ تہ تھس توی سیت پیارہ و نیو اندرہ و چھو کسد کیتھہ انجام سپدہ توہہ و چھو میون انجام کیتھہ آسہ۔ میہ چھہ امید میون انجام آسہ کامیابی تہ تہند انجام آسہ ناکامی اَمْ تَأْمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِهَذَا أَمْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ کیاہ تم چھا عقلہ تہزہ سمیک تم دعوٰی چھہ یہہ کتھہ پچھہ نادان کہہ تم چھہ سرکش تہ شریر قوم کہہ رانڈہ چھہ یتمت اَمْ يَقُولُونَ تَقْوَاهُ بَلْ لَا يُؤْمِنُونَ کیاہ تم چھا و نان کہہ یہ قرآن مجید چھہ آنخضر تو پانے بنودت تہ چھہ ہر گز بلکہ چھہ تم عنادہ سببہ اتھہ قرآن مجید س پڑھ کران۔ ہر گاہ بالفرض تی آسہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ تیلہ ان تن تم تہ اتھہ قرآن مجید س ہیو کا نہہ کلامہ تم تہ عربی

صِدِّقِينَ ﴿۳۳﴾ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿۳۴﴾ أَمْ خَلَقُوا  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴿۳۵﴾ أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَيْكَ  
 أَمْ هُمُ الْمُضِيِّطُونَ ﴿۳۶﴾ أَمْ لَهُمْ سُلْمٌ تَسْمَعُونَ فِيهِ فَلَیَاتِ  
 مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَنِ مُبِیْنٍ ﴿۳۷﴾ أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ ﴿۳۸﴾ أَمْ  
 تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّعْرُومٍ مُثْقَلُونَ ﴿۳۹﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ

کلام کرہ نس پیٹھ قادر چھہ، فصیح و بلیغ چھہ چھہ تم اتھ دعوی اس اندر پزیر **أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ** **أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ** کیاہ تم چھا پادہ کرنہ آمت کئہ چیزہ ور آئے۔ یعنی پائے چھا پادہ سپد مت کانسہ خالقس ور آئے کنہ تھے چھہ پائے پانس پادہ کرہ وونی تہ خالق **أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ** کیاہ تموے کرہ آسمان تہ زمین پادہ۔ بلکہ چھہ تم بوجہ جمالت توحید ک یقینی کران تمین چھہ پڑھے **أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَيْكَ أَمْ هُمُ الْمُضِيِّطُونَ** کیاہ تمین لوکن نشہ چھا تھندس پروردگارہ سندین رحمن تہ نعمتون ہند خزانہ سمو نعمتو تہ زحمو آندرہ نبوت تہ چھہ کہ تہنزہ خاہمہ مطابق کس سو نبوت عطا کرن یشھن کس کرن عطا کئہ تم چھہ تمہہ حکمک زٹھ تہ میٹھ بنے مت کس خوش کر کیکہ کس دیا و ان نبوت **أَمْ لَهُمْ سُلْمٌ تَسْمَعُونَ فِيهِ فَلَیَاتِ مُسْتَمِعُهُمْ بِسُلْطَنِ مُبِیْنٍ** کیاہ تمین نشہ چھا کا نہہ ہیراہ تھہ پیٹھ

کٹھتھ تم بوزان چھہ آسانچہ خبرہ۔ ہر گاہ تہ چھہ تیلہ کرن پیش تم خبرہ بوزہ و ان کا نہہ نن دلیللاہ سمہہ سیت ثابت سپدہ کہ تم کیاہ چھہ واقعی بوزمت وحی الہی **أَمْ لَهُ الْبَنَاتُ وَلَكُمُ الْبَنُونَ** توحیدس انکار کرہ و ان چھہ ملائکن دپان خدایہ سزہ کورہ۔ اے کافرو کیاہ خدا کس کیا کورہ تجویز کرنہ سمہہ توہہ پانس نامرغوب تہ ناپسند چھہ تہ توہہ گوہ پنہ خاطرہ چو **أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَّعْرُومٍ مُثْقَلُونَ** کیاہ توہہ چھوہ یارسول اللہ مکان تمین دسین حق و اتاوند خاطرہ مزور تہ معاوضہ۔ تمہہ نقصانک بور کیاہ چھہ ہیکان تم برداشت کمر تھ **أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ** کیاہ تمین نشہ چھا علم غیب پوشیدہ کتھ واثر مثرہ تمہہ کیاہ چھہ تمو لیکھت تھاوتھ محفوظ تھاوتھ و و ان چھہ تمین کج ضرور تھے۔ تمہے غیبہ جن کتھن پیٹھ اطلاع

فَهُمْ يَكْتُبُونَ ﴿۳۱﴾ أَمْ يُرِيدُونَ كَيْدًا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ  
 الْمَكِيدُونَ ﴿۳۲﴾ أَمْ لَهُمُ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۳۳﴾  
 وَإِنْ تَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ ﴿۳۴﴾  
 فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ﴿۳۵﴾ يَوْمَ  
 لَا يَغْنَىٰ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ ﴿۳۶﴾ وَإِنَّ  
 لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا بَادُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۷﴾

آسنہ موکہ کیاہ چھہ تم قیاس انکار کران۔ اَمْ یُریدُونَ کیداً فالذین کفروا هُم المکیدون بہ تم  
 چھہ صاحب رسالتس نسبت کانہہ آزار تہ تکلیف وائتہ تاؤن یشھان۔ نِس سمولو کو کفر تہ انکار کورتے  
 سدن تہتھ آزارس تہ تکلیف منزیانہ گرفتار۔ چنانچہ تم سپد تہتھ منز نام جنگ بدرس منز گے واریاہ  
 ڈا بھر کافرن ہندمارہ اَمْ لَهُمُ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ کیاہ تمن چھا معبود برحقس وراکے ہیہ کانہہ معبودہ سُبْحَانَ  
 اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ اللہ تعالیٰ چھہ منزہ تہ پاک تموساروے چیز و نشہ یم چیز تم لو کہ تِس شریک  
 ٹھہراوان چھہ مخالف لو کہ یعنی مشرک آس رسالتس متعلق ونان کہ آس مانون یہ صاحب ثبلی پیغمبریلہ  
 تم آسانکہ طرفہ آسانچ اھ چھلاہ تراوہ تاؤن وَإِنْ تَرَوْا كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ سَاقِطًا يَقُولُوا سَحَابٌ مَّرْكُومٌ  
 ہر گاہ تم وچھن تہ آسانچ اھ چھلاہ وس پیوان توتہ اُن نہ تم ایمان۔ دین یہ چھہ پیو ٹھس پیٹھ تھونہ  
 اُمت اھ او برہ ژرواٹہ۔ وون بیلہ تم لو کہ اُمہ قسمک طاعنی تہ باغی چھہ تمن لو کن لغتہ ایمانک توقع  
 تھاون چھہ بے کار فَذَرَهُمْ حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُصْعَقُونَ ہس تراؤ یو کہ حض یارسول اللہ تم  
 لو کہ پنہ نِس حالس پیٹھ یوتان تم سمہ کھن پنہ نِس تہتھ دوہس سمہ دوہہ تمن جس تہ ہوش وڈن یعنی  
 قیامتک دوہ یَوْمَ لَا يَغْنَىٰ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ یمہ دوہہ نہ تمن کانہہ فائدہ دیہ پن  
 مکر تہ فریب نِس تم اسلامہ کس مخالفتس منز دنیا س اندر کران آس نہ بیچھ گنہ طرفہ کانہہ مددہ مکر نہ  
 وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا بَادُونَ ذَلِكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ بیہ چھہ پڑی پاٹھ یمن ظالم ہندہ خاطرہ

وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ  
رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ ۗ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ ۝۴۹

اگر عذابہ قیامتہ عذابہ بروٹھے دنیا سے منزع مگر تمہو اندر وہ جہنہ اکثر ان سے معلوم۔ یلہ توبہ معلوم سپد کہ  
تہندہ خاطرہ چھہ اگہ وقاہ معین کرنے اُمت وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ  
رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ توبہ کرو حض پنہ نس پروردگارہ سندس خمس انتظار کرہ نس پیٹھ صبر توبہ مہ  
کرواندیشہ اتمس کالس یمن پیٹھ عذاب نازل سپدہ۔ اتمس کالس ماوا تہ نون تم توبہ کانہہ تکلیفہ تمہہ نشہ  
روزو توبہ بے فکر کیا زہ توبہ چھوہ آسہ نظرہ تل سانس حفاظتس تہ راجھ اندر۔ ہر گاہ توبہ تہندہ فکر ک  
غم دلس پیٹھ یوان آسہ تمیک علان چھہ کہ مجالسو نشہ وو تھنہ وزہ یانیدر نشہ بیدار سپد نہ نشہ آسو توبہ پنہ  
نس پروردگارہ سند یاد کران تسبیح و تحمیدہ سیت وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ بیہ آسورا تہ کس  
کنہ حصص منزتہ ہند تسبیح پران مثلاً حفتنہ کہ وقتہ۔ بیہ تارگن ہندہ لوسنہ پتہ تہ یعنی صبح نماز آسو پران۔  
غرض ہن دل آسو خدایہ سیدس یادس سیت مشغول تھوان۔ ادہ آسہ نہ غمن تہ فکرن ہند غلبہ روزان۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ۝۱ مَاضِلٌ صَاحِبِكُمْ وَمَا غَوَىٰ ۝۲ وَيَأْتِنُطُقُ عَنِ  
 الْهَوَىٰ ۝۳ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ۝۴ عِلْمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۝۵ ذُو

وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ قسم چھ میہ ستارک یلہ سہ لوسان چھ۔ بیتھ پاٹھ ستارہ چھ پنہ نس ساری سے مسافس اندر، طلوعہ پیٹھ غروبس تان اورہ پورڈانہ ورآے سیوڈے پکان بیتھ پاٹھ چھ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پنہ نس ساری عمر شریفش ابتداء پیٹھ انتہاءس تان گراہی وضلا لہ نعمہ محفوظ۔ چنانچہ یوہے چھ جواب قسم یعنی اتھ کتھ پیٹھ چھ قسم ہانہ امت مَاضِلٌ صَاحِبِكُمْ وَمَا غَوَىٰ یہ تہند پریتھ وقتہ سیت نہ بروٹھ کنہ روزن وول پیغمبر، یہندین سارنہ احوالن نہ افعالن ہنز توہہ خبر چھ، نہ ڈل تم راہ راستہ نشہ نہ کرکھ ہج و تھ اختیار۔ ضلال گو سیز و تھ زانتھ ہج و تہ پکن۔ غوایت گو سوسیز و تھ ترا و تھ بیہ و تہ پکن وَيَأْتِنُطُقُ عَنِ الْهَوَىٰ نہ چھہ تم پنہ نفسانی خواہشہ موجب کلام فرماوان بیتھ پاٹھ توہہ ونان چھہوہ إِنَّ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ تہند ارشاد چھہ خالص وحی آسان نس تمن گن سوزنہ یوان چھہ خدایہ سیدہ طرفہ خواہ سہ الفاظن ہندوحی چھہ بیتھ قرآن ونان چھہ، خواہ صرف معانین ہندوحی چھہ بیتھ سنت ونان چھہ اصل مقصد چھہ نفی کرن تھ خیال نس کافر ونان اس کہ نعوذ باللہ تم کیاہ چھہ خدایس گن نسبت کرن غلط کتھن، تہ ہرگز چھہنہ امہ پتہ چھہ اللہ تعالیٰ وحیک واسطہ بیان کران کہ عِلْمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ کہ تمن چھہ امہ وچچ تعلیم کران سہ ملک یعنی جبریل امین نس سٹھاہ طاقتہ وول چھہ سہ طاقت چھن نہ حاصل کورمت بلکہ ذُو مِرَّةٍ چھہ نس سہ طاقت ذاتی تہ پیدایشی۔ بیتھ پاٹھ آکس روا تیس اندرپانہ جبریل امین پنہ طاقتگ بیان کورمت چھہ کہ میہ چھہ قوم لوٹہ ہستی رکتہ تلہ کھار تھ آسمانس تانویاتنا وہ مرثہ۔ آسمانس قریب واتنا و تھ چھہ تلگ پیٹھ کورمت۔ یات چھہ سہ طاقتہ وول۔ آس سے طاقتہ واکل سیدہ ذریعہ چھہ یہ مُقَدِّس کلام توہہ تان واتنا نہ امت نعوذ باللہ کانہ شیطانہ سیدہ

مِرَّةً فَاسْتَوَىٰ ۖ وَهُوَ بِالْأَفْقِ الْأَعْلَىٰ ۗ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ ۗ<sup>۸</sup>  
فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ ۗ<sup>۹</sup> فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ۗ<sup>۱۰</sup> مَا

ذریعہ چھنہ و اتانہ اُمت تا کہ ٹھہرہ کا ہن آسک آسہا احتمال۔ بلکہ چٹھہ ملائین ہندس سردارہ سیدہ  
ذریعہ و اتانہ اُمت۔ سمہ کتھ ہند چھنہ احتمال کہ و اتوومت کیاہ چٹھہ ملکتے مگر خبر چھاوتہ ما آسہ ٹس پیٹھ  
تصرف کورمت کانہہ شیطان کیا زہ ٹس ملکتس کور اللہ تعالیٰ صفت شدید القوی سیت۔ امہ اندرہ چٹھہ  
مطلب کہ شیطانہ سند مجالے چھنہ کہ سہ کیاہ کتھ کہہ قسمک تصرف کتر تھہ اہس قوتہ و اہس ملکتس پیٹھ  
و حکم سلولہ ختم سپنہ پتہ چٹھہ پانہ اللہ تعالیٰ ان امہ قرآن مجیدہ کہ حفاظتک، امکہ بعینہ ادا کرنگ ذمہ  
ہوتمت تہ وعدہ کورمت اِن عَلَيْنَا جَمْعَةٌ وَقُرْآنُهُ وونی چٹھہ بیا کہ شبہ کہ اہس وحیہ کس واسطس ملکتس  
سیت چٹھہ تمو ہندس اصلی صورتس منز ملاقت کورمت۔ تھہ متعلق چٹھہ ای زہ واقعی تہ چٹھہ لبنہ اُمت۔  
متعدد دفعہ چٹھہ تمو جبریل امین و چھمت بیس صورتس منز فاستوی پس سپد سوسیدو ایستادہ اکہ بھرہ  
چٹھہ لبنہ اُمت کہ اصلی صورتس منز تہ آوسہ تمن بروٹھ گن وَهُوَ بِالْأَفْقِ الْأَعْلَىٰ در حالیہ سہ اوس  
آسانہ کین بلند کینارن پیٹھ آسانہ کین افقن نزدیک چھنہ چیز صاف بوزنہ یوان۔ وسطہ آسانس گن  
نظردن چٹھہ باعث تکلیف سپدان افقن اعلیٰ اس پیٹھ و چٹھہ آسان تہی موکھ رود جبریل امین افقن  
اعلیٰ اس سیدہ سیود۔ یہ گووتی دوہہ سمہ دوہہ تمو خواہش کر جبریل امینس نشہ کہ اے جبریل میہ ہاوتہ  
پن اصلی صورت چنانچہ امام ترمذی سندہ روایتہ موجب آو وعدہ کرنہ کہ کوہ خراء س نکھ تل، موضع  
جبارس منزیہ یہ بعلم۔ پس اون تشریف نبی کریمو صلی اللہ علیہ وسلم تھہ جاہی تہ پیٹھ و چھکھ جبریل  
امین مشرقی افقن پیٹھ شہ ہتھ پڑ مژرا و تھہ تہی آس و امت مغربی افقن تان یہ و چھتھ سپدی نبی کریم  
صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش توپتہ پے زمینس پیٹھ۔ توپتہ آو جبریل امین تمن نکھ تل انسانی صورتس  
اندر تسکین دنہ خاطرہ تج ذکر چٹھہ امہ پتہ۔ الحاصل جبریل امین آو گوڈہ افقن اعلیٰ اس پیٹھ اصلی صورتس  
منزیلہ تم بے ہوش سپدے توپتہ آوسہ تمن نزدیک انسانی صورتس منزنی گوو ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ تو  
پتہ آو جبریل امین تمن نکھ تل فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ پس آس تمن دون مزدون کمانن یاثر جائے  
بلکہ تمہ خوتہ تہ کتھے عربک عادت اوس کہ یلہ زہ شخص پانہ و ان کمال اتحاد و اتفاقہ خاطرہ

# كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى ۝۱۱۱ أَفَمُرُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ۝۱۲۱ وَقَدَرْنَا ۝۱۳۱ نَزْلَةَ الْآخِرَى ۝۱۴۱ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ۝۱۵۱ عِنْدَ حَاجَتِهِ الْمَأْوَى ۝۱۶۱

سمکھان آس تم آس پن کمان سیت تھلان تھن کمان ہند۔ تنقی کور آس اکھ اکی سدرس تنقی کرس سیت بلہ ناوان۔ یہ اوس علامت اتفاق و اتحاد صورتیک۔ اتھ سیت ہر گاہ اتحاد روحانی و قلبی تہ آسہاتلہ اوس یوان وندہ اوادنی۔ تیس تہ اولفظ اوادنی ہرہ روانہ سیت بیان کرنہ کہ جبریل امینس تہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در میان ہتھ روحانی مناسبت تہ یوسہ مدار اعظم ہتھ تہدہ پورہ معرقت تہ زانی ہنز۔ الغرض جبریل امینہ سدرہ نزدیک بینہ سیت سدرتھن افاقہ و تسکین حاصل۔ تو پتہ افاقہ سپد تھ۔ **فَادْوِيَ إِلَى عَيْدِهِ الْمَأْوَى** کس سوز اللہ تعالیٰ ان ايسے جبریل امینہ سدرہ ذریعہ پنہ کس بندس محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ سہ وحی کس تموسوز۔ سمسہ وحیک تعین و تخصیص کرنہ ہتھہ آمت۔ ممکن ہتھہ ايسے جبریل امینہ سدرس تعارف متعلق آسہ کانہہ وحی یاہیہ کانہہ و حیاہ۔ امہ وقتہ تہ وحی نازل سپدن کس خاص جبریل امینہ سدرہ تعارفک وقت اوس ہتھہ غالباً سمہ امرہ خاطرہ کہ سہ سپدہ تعارفکس معاملس اندر زیادہ مدد معین۔ کیا زہ امہ ساتک وحی ہتھہ جبریل امینہ سدرہ اصلی صورتس منزینہ موکھ قطعی و یقینی یلہ امہ و تھک وحی تہ صورت بشر تیک وحی برابرہیہ۔ اکی شانک تہ حقیقتک لبنہ یہ یقین سپدہ تمہ سیت کامل تہ پوختہ **مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى** غلطی کرنہ نبی کریمہ سندی دل مبارکن تھہ منزیہ تمو چشمان مبارکو سیت وچہ یعنی جبریل امین وچہ تمو اچھو سیت اندری دوپ دل مبارکن کہ واقعی میانہ چشمہ یہ وچھان چھہ حقیقت تمہ ہتھہ وچھان بیشک جبریل امینہ سی **أَفَمُرُونَهُ عَلَى مَا يَرَى** اے کافر وکیاہ توہہ چھوہ ايس پنغیر برحق سیت قضیہ لاگان تھہ چیزس اندر کس تمو پانہ وچہ پنہ نیو چشمان مبارکو۔ یہ جبریل امین ہتھہ تمو اکی پھرہ و ہتھہ **وَلَقَدَرْنَا أَنْ نَزْلَةَ الْآخِرَى** تمو چھہ و ہتھہ جبریل امین دوسمہ پھرہ تہ اصلی صورتس منزون رودنہ کانہہ اشکال تہ اعتراض **عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى** بریہ کس نزدیک۔ حدیث شریفس منز ہتھہ آمت کہ سہ ہتھہ اکھ بریہ کلاہ تھس آسمانس پیٹھ۔ عالم بالا پیٹھ ایم احکام تہ اوراق وغیرہ سوزنہ یوان ہتھہ تم چھہ گوڈہ واتان اتھ بریہ کس کھتل تہ پیٹھ ہتھہ ملائک و اتاوان تم احکام وغیرہ زمینس پیٹھ ہتھہ پاٹھ پورہ بدن ہنزہ عملہ کھارنہ یوان تمہ تہ چھہ و اتاوانہ یوان اتھ سدرہ التہی اس



## إِذْ يَعْنِي السِّدْرَةَ مَا يَعْنِي ۱۹ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَعَى ۱۷

کھتل۔ تو پتہ چھہ و اتاوانہ یوان تمہ عملہ متہ پیٹھ بعالم بالا۔ اتھ سدرة التہمی اس تل چھہ جبریل  
 اینہ سُد مقام۔ رولیا تو سیت چھہ معلوم سپدان کہ امہ سدرة التہمی ءک مول چھہ شہہ مس آسمانس اندر  
 شاخ تہ لچہ چھس سمس (۷) آسمانس پیٹھ پتھ پانھی جنتہ کین میون متعلق یہ تھہ چھہ کہ تمن چھہ دنیا کین  
 میون سیت صرف لفظی اشتراک حقیقت چھہ سیٹھاہ مختلف۔ تنگ میوہ من نہ قیاس کرنہ دنیا کین میون  
 پیٹھ۔ دنیا کین میون چھہ مناسقہ کا نہہ تمن میون سیت۔ پتھ پانھ چھہ سدرة التہمی اچ کیفیت سوی  
 یوسہ دنیا کلین بریہ کین ہنز چھہ بلکہ چھہ تمن منز فرق یوس زمینس تہ ستہ مس آسمانس منز چھہ  
**عِنْدَ مَا جَاءَ الْمَأْدَى** اتھ سدرة التہمی اس نکھ تلے چھہ با ایمان تہ نیک بدن ہندہ روز نچ جائے یعنی  
 سہ جنت۔ پتھ منز با ایمان نیو کار اخروی زندگی بسر کرن۔ امہ اندر ہ سپد معلوم کہ با ایمان ہند مقام چھہ  
 جبریل اینہ سندس مقاس نکھ تلے۔ الغرض کہ دو سمہ پھرہ و چھہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
 جبریل امین سدرة التہمی اس نکھ تل۔ امہ پتہ چھہ یوان بیان سہ وقت سمہ وقتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ  
 وسلم جبریل امین اصل صورتس منز و چھہ۔ **إِذْ يَعْنِي السِّدْرَةَ مَا يَعْنِي** یلہ سدرة التہمی دول تمو چیز و  
 سموول۔ یعنی اللہ تعالیٰ سند انوار تہ تجلیات اس تھہ پیٹھ ولنہ آمت۔ ملائکین ہنز کثرت تہ ہجوم اوس  
 تیوت کہ ہر پنہ و تھرس پیٹھ اوس اکھ اکھ ملکھہ روز تھہ۔ اگس روایتس منز چھہ آمت کہ ملائکو اوس اللہ  
 تعالیٰ اس اجازت ہیو تمت کہ اس تہ و چھہ ہون محبوب خدا اس تہ کرہ ہو جنز زیارت۔ اللہ تعالیٰ اَن  
 دیت تمن اجازت تمی موکھ آئے سدرة التہمی اس پیٹھ سونہ سندین پنہ پونہرن ہنزہ شکلہ اندر۔ ابن  
 کثیرن چھہ حضرت مجاہدس نعہ یم عبداللہ ابن عباسہ سندی خاص شاگرد آس سمہ آیہ کریمہ کس  
 تفسیرس منز یم الفاظ نقل کر مت کان أغصان السدرة لؤلؤا و زبر جدًا یعنی سدرة التہمی اوس  
 تیوت خو بصورت تہ خوش رنگ، سہ و چھہ سیت اوس دل و پھران۔ تمہ وقتہ اوس امہ کلک رونق تہ  
 حُسن و جمال تمہ قسمک کہ کانسہ مخلوقہ سُد طاقھہ چھہ سہ کیاہ کرہ بیان الفاظن اندر۔ شاید حضرت  
 صاحب المعراج صلی اللہ علیہ وسلمہ سند دیدار خدا چھہ کی آیہ کریمہ کس اشارس اندر درج آمت  
 کرنہ سدرة التہمی بیہ تمیک بے انتہاء رونق بیہ بے شمار ملائکین ہند اجتماع بیہ جبریل امین سزا اصلی  
 صورت و شکل و چھتھہ **مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَعَى** دول نہ تہند نظر مبارک یعنی پتھ ڈول نہ تہ و چھہ نعہ

لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ ۝۱۸ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۝۱۹  
 وَمَنْوَةَ الثَّلَاثَةَ الْأُخْرَىٰ ۝۲۰ أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ۝۲۱  
 تِلْكَ إِذْ أَسْمَتْهُنَّ أَصْنَانًا فَمِنْ حَتَمٍ ۝۲۲ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ

سمیہ وچھک حکم سپد کہ۔ نہ زینٹو تہند نظر مبارک تم چیز و پھنس کن سمن چیزن کن وچھک حکم او سکھ  
 نہ۔ یعنی مستقل مزاجی سان۔ تہند مزید استقلال بیان کرنے خاطرہ فرمود اللہ تعالیٰ ان لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ  
 آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ بے شک وچھ تھو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پنہ نس پروردگارہ سہدہ  
 قدر تک بڈ بڈ عجائبات معراج شریفہ کین حدیث شریفن منز چھہ آمت کہ تم عجائبات گئے  
 حضرات انبیاء ان ہند ملاقات ارواحن ہند ملاقات۔ جنک معائنہ جہنمک ملاحظہ وغیرہ وغیرہ ہم  
 عجائبات خدایہ سے چھ معلوم کیاہ کیاہ ہو نکھ۔ مگر تم ساری چیز و پھنس اندر اوس شان مازاغ البصر و  
 ما طعی قائم۔ اے کافرو، مگر کو حضرت رسول کریمہ سہد پیغمبر حق آسن، صاحب وحی آسن سہد متعدد  
 عقلی دلیلو سیت ثابت۔ تمی وجیہ موجب چھہ تم توحیدک حکم فرماوان مگر توہہ چھوہ توہہ پوتلین ہنز  
 پرستش کران۔ **أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ۝۱۹ وَمَنْوَةَ الثَّلَاثَةَ الْأُخْرَىٰ** کیاہ توہہ چھوہ بین پوتلین لات  
 عزی تہ ملوہ سہد س حاکس منز تہ زانہہ غور کور مت تاکہ توہہ سپدہ ہا معلوم ہم چھا قابل پرستش نہ نہ  
 لات، عزی تہ منات، ہم آس مگر کن ہندین پوتلین ہندی ناؤ۔ لات اوس شہر طایف کین لوکن ہند بوڈ  
 پوتل۔ منات اوس قبیلہ، اوس و خزرج بیہ حزا عین ہند بوڈ پوتل۔ تیم تہ ترسمہہ درجک پوتل اوس مکہ  
 شریف نشہ دور مدینہ شریف متصل اکھ پوتلاہ۔ عزی آس آس قریش تہ بیہ بئی کنانہ ہمدو شوے خوتہ  
 بوڈ پوتل زانانہ کس نزدیک موضع نخلس منز اوس۔ یا قوت حموی چھہ ونان مجتم البلد انس منز کہ  
 کافر آس سمن پوتلین خدایہ سنزہ کورہ ونان۔ بیہ آس بعض کافر ملائکین تہ خدایہ سنز کورہ زانٹھ معبود  
 زانان اللہ تعالیٰ چھہ فرماوان کہ **أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ** کیاہ تہندہ خاطرہ گپہ پچوی خدایہ سہدہ  
 خاطرہ گپہ کورہ۔ یعنی ہمہ کورہ توہہ پنہہ خاطرہ ناپسند کران چھوہ تمہ گیا لکنہ خدایس۔ سہ چھہ کورہ تہ  
 کبر آسنہ نشہ سہرات پاک **تِلْكَ إِذْ أَسْمَتْهُنَّ أَصْنَانًا فَمِنْ حَتَمٍ** یہ چھہ بے ربط تہ لغو تقسیمہ رت چیز گوہ توہہ پانس  
 پچھہ تہ خراب چیز گوہ نعوذ باللہ خدایس۔ یہ چھہ بنا بر عرف ونہ آمت ورنہ خدا تعالیٰ چھہ اولاد آسنہ نشہ

وَابَاؤُكُمْ مَّا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهِمْ مِنْ سُلْطٰنٍ اِنْ يَتَّبِعُونَ  
 اِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوٰى اِلْاَنفُسُ وَاَلْقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ  
 الْهُدٰى ﴿۲۳﴾ اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنٰى ﴿۲۴﴾ فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَاَلْاٰوَلٰى ﴿۲۵﴾  
 وَاَلْقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدٰى ﴿۲۶﴾

مبرا تیر پاک نہ چھہ تس پنچوی تنہ کوری اِنْ هِيَ اِلَّا اَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوْهَا اَنْتُمْ وَاَبَاؤُكُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ  
 بِهٖمْ مِنْ سُلْطٰنٍ سمہ معبودات چھہ مگر ناوے یات تم توہہ نہ تہند یو مالیو تہ بڈ بڈ پانے ٹھہر آوی  
 مت چھہ۔ اللہ تعالیٰ اِن چھہ تم ہندہ معبود آج کا نہہہ دلایاہ نازل کر مژا اِن يَتَّبِعُونَ اِلَّا الظَّنَّ وَمَا  
 تَهْوٰى اِلْاَنفُسُ بلکہ چھہ تم ہندس معبود آس منصرف بے بنیاد خیال نہ نفسہ چن خاہش ہنز  
 پیروی کران۔ وَاَلْقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدٰى حالانکہ تم نلشہ چھہ وومت تہندس پروردگارہ سندہ  
 طرفہ تس پیغمبر برحقہ سندہ واسطہ اُس پوز فرماوہ و ن تہ خدایہ سندس و جس پیروی کرہ و ن چھہ بوڈ  
 ہدایت یعنی پنہ اُس دعویٰ اس پیٹھہ چھہ تم ن کا نہہہ دلایاہ۔ تھہ بدل اُس دعویٰ پیغمبر خدا کران چھہ تم  
 چھہ بوزان مگر توتہ چھہ مانان تہ تسلیم کران یمہ امہ پتہ چھہ اللہ تعالیٰ فرماوان کہ تم لکھ چھنا سائین  
 معبودان باطن ہنز عبادت تہ پرستش کران یمہ خیالہ کہ تم کیاہ کرن تم ن شفاعت تہ سفارش  
 اَمْ لِلْاِنْسَانِ مَا تَمَنٰى کیاہ انسان نبیاتی تمیک سہ تمنا کرہ تہ بہ نہ ہرگز کیاہہ ﴿۲۴﴾ فَلِلّٰهِ الْاٰخِرَةُ وَاَلْاٰوَلٰى  
 پر تھہ تمنا چھہ خدایہ سندس اختیارس منز آخر تک تمنا تہ دنیا ک تمنا۔ پس سیدہ حقہ سہ یشہ تس  
 کرہ تہند تمنا پورہ۔ یہ کتھہ چھہ آمز بیان کرنہ کہ اللہ تعالیٰ کرہ نہ تہند یہ باطل تمنازا نہہہ تہ پورہ تم  
 معبودان باطل نہ ہیکن دنیا س اندر تم ن شفاعت کر تھہ حاجت کڈنس منز نہ ہیکھ لکھ آخر تس اندر  
 شفاعتہ کر تھہ نجات و اُس اندر۔ تم پوتل تہ بے جان چیز کیاہ ہیکن شفاعت کر تھہ تم ن منز چھہ تج  
 اہلیت تہ قابلتھہ۔ تھہ دربارس منزیم لو کہ اہل تہ قابل تہ چھہ تم تہ ہیکن نہ بے اجازت کینہہ کرہ نگ  
 جرات کر تھہ چنانچہ ﴿۲۶﴾ وَاَلْقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمْ الْهُدٰى واریاہ ملاکھ چھہ موجود آسما ن

بَعْدَ أَنْ يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَرْضَى ﴿۳۸﴾ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ  
 بِالْآخِرَةِ لَيَسْتُؤْنِنُونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثَىٰ ﴿۳۹﴾ وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ  
 عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ  
 شَيْئًا ﴿۴۰﴾ فَأَعْرَضَ عَنْ مَنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ  
 الدُّنْيَا ﴿۴۱﴾ ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ  
 ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ اهْتَدَىٰ ﴿۴۲﴾ وَبِاللَّهِ مَا فِي

اندر۔ تہم شان تھو آسکھ باوجود ایہ نہ تہمز شفاعت بکارنہ چیزہ خاطرہ الا من بعد ان یاذن اللہ  
 لمن یشاء ویرضی مگر خدایہ سدہ اجازتہ پتہ کس نہ شفاعت کرنہ خاطرہ راضی آسہ ان الذین  
 لایؤمنون بالآخرۃ لیسئون الملائکۃ تسمیۃ الانثی بے شک یمن لوکن آخرتج نہ قیاق پڑھ جھنہ بلکہ  
 تھہ انکار کرنہ سببہ جھہ تم سزاتہ بازہ نہ نشہ بے فکر سپد تھہ سیٹھاہ گستاخانہ تھہ کران چنانچہ دیان چھہ  
 ملاکن کہ تمہ جھہ زنانہ خدایہ سزہ کورہ (نعوذ باللہ) یہ جھہ تہمز محض جہالت ملاکن کیاہ سنا تعلق جھہ  
 مرد یازانہ آسس سیت۔ خدائس اولاد آسس سیت کیاہ تعلق جھہ وما لھم بہ من علم حالانکہ  
 تمن نشہ جھہ آتھ پیٹھ کانہہ دلیلاہ ان یتبعون الا الظن تم جھہ پیروی کران مگر بے اصل  
 خیالاتن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا بے شک بے اصل خیالات جھنہ پزس مقابلہ کانہہ  
 فائدہ بخشان یلہ بہند عناد ثابت سپد معادس نشہ۔ قبول حق امید جھہ بیکار فأعرض عن من تولى  
 عن ذکرننا پس پھر وتوہہ بن توجہ تس شخص نشہ ہم جھہ پھیر سانہ وعظ و نصیحتہ نشہ ولم یرد الا الحیوة  
 الدنیا یس نہ کانہہ خیالاہ جھہ دنیاچہ زندگی ورآئے میرہ وجہہ تس آخرتج پڑھے جھنہ آخرتجہ سزا  
 وعذابہ نشہ جھہ تم بے فکر ذلک مبلغہم من العلم تہمدہ علمک نہ فہمک نہایت جھہ یوہے دنیاہے  
 یوت بیہ نہ کینہہ۔ یلہ بیہندہ فہم ودانشہ ہند حال یہ جھہ ہذا مہ بروتوہہ تہمز کانہہ فکراہ۔ تہمد معاملہ  
 پھر آو توہہ خدایس ان ربک ہوا علم بہن ضل عن سبیلہ ہوا علم بہن اہتدی بے شک تہمد

السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا  
وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ ۗ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْأَثْمِ  
وَالْفَوَاحِشِ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۗ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ  
أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجْنَةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوْا

پروردگارے چھہ یژانہ ون کہ ہمہ چھہ تہمزہ وہ تہ نشہ ڈولمت۔ سئی چھہ یژانہ ون تس تم و تھ لب راہ  
راستس ن۔ امی سیت سہ ثابت تہمد کمال علم و لله ما فی السموات وما فی الارض ہہ چھہ خدلیہ  
سند سے اختیارس منزہ سوزی یہ آسمان اندر تہ زمین اندر چھہ۔ امہ سیت سہ ثابت تہمسز کمال  
قدرت۔ وون یلہ سئی چھہ صاحب کمال علم تہ صاحب کمال قدرت تہ تم سندین احکان تعیل و عدم  
تعیل کہ اعتبارہ سہ مکلفین اندر زہ قسم اڈی گے ضال تہ گمراہ اڈی گے مہمتہ ہدایت یاب لَیَجْزِی  
الَّذِينَ اَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِي الَّذِينَ اَحْسَنُوا بِالْحُسْنٰی چھہ سہ بیچھہ کامہ کرہ و نین عوض تہ بدلہ  
دیہ تمیک یہ تمو کور۔ بیہ تھ سہ بدلہ تہ عوض دیہ تمین سمور ژہ کامہ کرہ ژہ مزورہ تہ جزاسیت۔ لہذا  
چھہ تہمد یہ شان مگان کہ تس کرہ سہ سورے مگن تہ پھر اون الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبِيرَ الْأَثْمِ وَالْفَوَاحِشِ  
إِلَّا اللَّمَمَ تم لوکھ گئے تے تم بڑیو گہو یعنی گناہ کبیر و نشہ ہہ بے حیائی ہنز و تھو نشہ چھہ پتھ روزان  
مگرے تہمدے کن لوکت لوکت گناہ آمت آسن اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ بے شک تہمدس  
پروردگارہ سند مغفرت چھہ سیٹھاہ وسیع سہ کرہ تم گنہن مغفرت هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَأَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ  
سہ زلہ پور توہہ تہ تہمدین حالاتن تہ پیٹھ پیٹھ پیٹھ چھہ یعنی تہمد جد بزرگو آدم علیہ السلام میڑہ پاڈہ  
کورن۔ تہمدس ضمنس اندر چھوہ تہ میڑہ نشی پاڈہ سہمت وَاِذْ اَنْتُمْ اِجْنَةٌ فِي بُطُوْنِ اُمَّهَاتِكُمْ بیہ چھہ  
سئی تہہ خوب زانان یلہ تہہ ماجن ہنز یڈن منزچہ آسہ۔ تمین دوشونی حالن اندر چھوہ نہ توہہ پنہ پانچ  
کینہہ خبر۔ اسہ چھہ تہمدین تمین دونہ ون وقتن ہند حال پور، معلوم ونی کینس تہ تہمد پن حال نہ زان  
سون تہمد حال پور زان۔ یہ عجیب تھہ چھہ نہ بلکہ چھہ یہ حقیقت فَلَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ یلہ تھہ بیہ چھہ

أَنْفُسِكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ۚ أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى ۖ وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى ۚ أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهَوَّيَرَى ۚ أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِبِئَانِي صُحُفِ مُوسَى ۖ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ۚ أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ۚ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ۚ

پس مہ آسوی پنہن پان مقدس تہ قابل تعریف زانتہ پانے پنہن تعریف کران **هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى** پروردگارے زلہ پورہ پاٹھ تمن تم متقی تہ پر ہیز گار چھہ تہس چھہ خبر کہہ شخص چھہ متقی تہ کہہ چھہ اودہ آسین تمن دوشونی نشہ افعال تقویٰ ظاہر سپدان **أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى** توہہ بوزوہ اوتان نیک لوکن ہند صفت۔ وون بوزو تمن بدل بین لوکن ہند حال۔ کیاہ توہہ وچھونہ یارسول اللہ سہ شخص سم دین حقہ نشہ روگردانی کر تہ بچھہ پھیر **وَأَعْطَى قَلِيلًا وَأَكْدَى** بیہ سم وعدہ کمر تھ کم کینہہ مال دیت بیہ لوڈن اتھ پیٹھ۔ امام مجاہد وغیرہ چھہ فرماوان کہ سم آیات چھہ نازل سپدی متی ولید بن مغیرس متعلق۔ تمس پیٹھ سپزوو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدہ وعظ و نصیحتک اثر۔ سہ سپزو و ماکل ایمان انہ نس گن۔ اک کافرن وون تہس بیہ مہ کر تہ۔ چان ساری گناہ تلہ بہ پانس پیٹھ چانہ حقہ تہس سزا تجویز سپد تھہ دمہ بہ پن پان۔ بشر طیکہ ژہ دکھ مہ یوت مال۔ تم کورس اقرار۔ تہس رقم مقرر آو کر نہ تمہ منزہ دیت تہس اکھ قط۔ بیہ کورنس باقی رقم دنہ نشہ انکار **أَعِنْدَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهَوَّيَرَى** کیاہ تہس شخص نشہ چھا علم غیب تھہ کیاہ چھہ سہ وچھان سمجھہ ذریعہ تہس معلوم سپد کہ فلاں شخص سپدہ میانہ بدل عذابس گرفتار۔ **أَمْ لَمْ يُنَبَّأْ بِبِئَانِي صُحُفِ مُوسَى ۖ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى** کیاہ تمس چھنا خبر کر نہ آسڑ تمہ مضمون چ تہس موسیٰ علیہ السلامہ سندین صھن منز چھہ بیہ تہس مضمون ابراہیم علیہ السلامہ سندین صھن اندر چھہ سمو پن قول و قرار پورہ کورمت چھہ یعنی سمو خداہ سندساری احکام پورہ پاٹھ بجائمت چھہ سہ مضمون گوو یوہے کہ **أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى** کانہہ شخص تلہ نہ کانہہ شخصہ سندین گو نہن ہند بور سمہہ طریقہ کہ گوناہ کرہ وون کیاہ سپدہ گو نہو نشہ بری۔ بیہ چھہ تمن صحیفن منزیہ مضمون کہہ **وَأَنْ لَيْسَ**




وَاقْتَنِ ﴿٣٨﴾ وَأَنْتَ هُوَ رَبُّ الشَّعْرَىٰ ﴿٣٩﴾ وَأَنْتَ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ ﴿٤٠﴾  
 وَتَمُودَ أَمَّا أَبْيَعُ ﴿٤١﴾ وَقَوْمُ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ  
 وَأَطْغَىٰ ﴿٤٢﴾ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ ﴿٤٣﴾ فَغَشَّهَا مَا غَشَّىٰ ﴿٤٤﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ  
 رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ ﴿٥٥﴾ هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذِيرِ الْأُولَىٰ ﴿٥٦﴾ أَرَأَيْتَ

مضمون کہ سنے پروردگار چھ ستارہ شعریٰ اک مالک۔ یہ ستارہ چھ اک بوڈستارہ۔ یہ بعض لوکھ  
 آس پرستش کران یہ زانتھ کہ عالمہ کین اکثر احوال اندر چھ امیک تاثیر۔ یہ نس آو بیان کرنہ کہ امہ  
 ستارہ شعریٰ اک مالک یہ چھ اللہ تعالیٰ ای۔ دنیاک ساری تغیرات چھ اللہ تعالیٰ سدس دست  
 قدر تس اندر۔ یہ ستارہ شعریٰ یہ چھ اگس ادنیٰ مزورہ سندی پاٹھ تمسد حکم بجانان۔ تس منز چھنہ  
 مستقل طور بذات خود کانہہ تاثیرتہ اختیار۔ وَأَنْتَ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ یہ چھ یہ مضمون کہ تمسی  
 پروردگار نکر ہلاک بروٹھم قوم عاد یعنی ہود علیہ السلامہ سند قوم تہندہ کفر و نافرمانی ہندہ سببہ وَتَمُودَ  
 فَمَا أَبْيَعُ یہ کورتی ہلاک قوم تمود صالح علیہ السلامہ سند قوم۔ پس تھوون نہ تمو منزہ کینہہ نہ باقی  
 وَقَوْمُ نُوحٍ مِّنْ قَبْلُ تہن بروٹھ کو زن ہلاک نوح علیہ السلامہ سند قوم إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ  
 وَأَطْغَىٰ بے شک تم آس سارنے خوتہ زیادہ عالمہ تہ شریرتہ سرکش وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ یہ کرین  
 ہلاک تلک پیٹھ کرنہ امزہ بستی ہند لوکھ یعنی قوم لوط علیہ السلام۔ تم دتن ہیرہ پیٹھ بون دار تھ  
 فَغَشَّهَا مَا غَشَّىٰ تو پتہ دل تم تمسی چیزن یم دل یعنی پیٹھ آو تہن کتہ رود کرنہ۔ تھ تل آی تم گالہ  
 امہ پتہ چھ یمن سارنے مضمون ہیوند نتیجہ بیان کران کہ اے انسان یلہ ژہ امہ باخبر کرکھ تمو  
 مضمونوسیت تم ذریعہ ہدایت آسکھ وجہ بجای خود خدلیہ سزاکھ اک نعمتہ چھ لہذا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ  
 تَتَمَارَىٰ پنہ نس پروردگارہ سند یو نعمتو آندہ تھ تھ نقس کرکھ ژہ شک نہ انکار۔ تم گنیہ تم مضامین  
 تم صف ابراہیم علیہ السلام یہ صحف موسیٰ علیہ السلام منز آس هَذَا نَذِيرٌ مِّنَ النَّذِيرِ الْأُولَىٰ یہ پیغمبر  
 برحق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تہ چھ نافرمان اک عظیم الشان بیم کرہ و ناہ بروٹھمیو بیم کرہ



الْأَرْزَاقُ ۵۸ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ كَاشِفَةٌ ۵۸ أَفَمِنْ هَذَا  
الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ ۵۹ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ ۶۰ وَأَنْتُمْ  
سَيِّدُونَ ۶۱ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَعَبُدُوا ۶۲ الْحَيَّةُ

دنیا و اندرہ۔ یہ پیغمبر مآنیوں جلد کیا زہ آرن فَتِ الْأَرْزَاقُ نزدیک یوہ و ن قیامت ہیون نکلہ یں۔ تم چہہ  
پیغمبر آخر الزمان۔ تمو فرموو بعثت انا و الساعة ہکذا بونہ قیامت آس سوزنہ آمرشہ پاشی چہہ اشارہ  
ہوؤ کہ دو یوانگشت مبارکویت۔ اکھ شہادتچہ او گجہ سیت بیہ منز مہ او گجہ سیت لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ  
كَاشِفَةٌ بیلہ سو قیامت پنہ نس مقررہ و نفس پیٹھ بیہ تہہ چہنہ کانہہ اکھہ خدا یس و راکی ہتہ کڈہ و ن  
پس چہنہ کانہہ پیٹھ بھر و سہ کر تہہ بے فکری ہنز گنجائش أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ کیاہ بیہ خوف  
ناک تہہ بو ز تہہ تہ چہوہ تہہ تہہ خدایہ سندس کلام پاکس نسبت تعجب کران وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ  
کیاہ بیہ چہوہ تہہ استہزاء تہہ ٹھٹھہ پاٹھہ یہ قرآن مجید بو ز تہہ آسان۔ عذابک خوف کھتہ کونہ چہوہ تہہ  
و دان تہہ روان وَأَنْتُمْ سَيِّدُونَ بیہ چہوہ تہہ اطاعت و فرمانبرداری کرنہ نشہ تکبر کران۔ امہ  
تکبر تہہ غفلتہ نشہ بیو باز تمس پیغمبر برحقہ سندہ تعلیمہ موجب فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَعَبُدُوا تکبر تہہ غرور  
تراو و پٹنی کلہ تراووز مینس پیٹھ معبود برحقہ سندہ خاطرہ تہنزیے کمر و کانہہ اگس تس شریک تھاونہ  
ورائے عبادت روایاتن اندرہ تہہ آمت سمہ ساتہ بیہ سورہ نجم پور حضرت رسول کریم، تمودیت یہ  
آینہ کریمہ ہر تہہ سجدہ۔ بیہ یم لو کھہ آتھ منز مسلمانو اندرہ بیہ کافر و اندرہ آس، تمو ساروے تہہ دیت بے  
اختیار پاٹھ سجدہ۔ صرف اوس اکھ بد بخت کافر، تمی تیج اکھ میرہہ موٹھاہ، سوی لاجن ڈیکس۔ دپنہ  
لوگ میہ چہہ ایڑے ہن کافی۔



## سُورَةُ الْقَمَرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۱ وَإِنْ سَأَلْتَهُ عِزْرًا لَقَدْ عَلِمْتَهُ لَوْمًا فَجَبْرًا  
 وَسَأَلْتَهُ عِزْرًا لَقَدْ عَلِمْتَهُ لَوْمًا فَجَبْرًا ۲ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا هُمْ وَكَانَ كَلِمَتَهُمْ  
 سِحْرًا مُّسْتَمَرًّا ۳

ہجرت بروئٹھ آس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکہ دوہہ بازار مناس منز تشریف تھاوتھ۔ کافر ہندتہ  
 اوس اکھ بوڈ جمعہ ہتہ موجود۔ تھ اندر کری کافر و تمن نہہ معجزہ طلب۔ تمو فر موو کہ ای لو کو آسانس  
 کن دیو نظر۔ اتی وچھ تمو ساروے کہ زونہ گئے زہ اڈ۔ اکھ حصہ پیو مغربس کن بیا کہ حصہ پیو مشرقس  
 کن۔ یکن دون حصن سپدی کوہ حائیل۔ یلہ ساروے لو کو وچھ یہ معجزہ۔ تو پتہ میلی تم دو شوے حصہ یہ  
 پانہ وان۔ کافر لگ دینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیوت زونہ پیٹھ جود کرون۔ تھ معجزس چھہ ونان شق  
 القمر۔ امام طحاوی محدث یہ علامہ ابن کثیر وغیرہ چھہ فرماوان تھ واقص منز تو اتر یعنی یہ چھہ حدیث  
 متواتر۔ یہ واقعہ چھہ تاریخ فرشتس منز موجود۔ ہندوستانس منز چھہ مہاراجہ مالبارہ سندہ اسلام آنہ تک  
 یوہے وجہ سپد مت۔ اللہ تعالیٰ چھہ فرماوان اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ قیامت آیہ نزدیک۔ زونہ  
 گئے زہ اڈ۔ شق قمر چھہ نبی کریمؐ سند یو معجزہ و آندرہ اکھ بوڈ معجزہ امہ کس واقع سپد نس اندر چھہ کانہہ  
 شکھاہ۔ تھ چھہ صحابہ صابو آندرہ روایت کمر مرث حضرت علی مرتضیٰ ان عبد اللہ بن مسعود انس بن  
 مالکن، عبد اللہ بن عباس۔ حذیفہ بن الیمان، جبیر بن مطعم، عبد اللہ بن عمر، بیہ واریہو صحابہ  
 صابو آندرہ روایت کمر مرث۔ اتھ واقص متعلق چھہ حدیث شریف بخاری شریفس مسلم شریفس بین  
 حدیث شریفہ چین کتابن اندر۔ بخاری شریفس اندر چھہ بروایت عبد اللہ ابن مسعود سمہ کتھہ ہنز  
 صراحت کہ صحابہ صاب آس امہ واقعہ وزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیت حاضر لفظ حدیث چھہ  
 تھہ پاٹھ کہ کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آس آس پیغمبر خدا یس سیت بازار مُنی  
 اس اندر تمہہ ساتھ یلہ یہ واقعہ سپد۔ امام بیہقی سندس روا یس اندر چھہ کہ ژور وطر نویم لو کہ مکہ شریف



مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكٰفِرُونَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۝۹ كَذَّبَتْ  
 قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُّوحٌ فَكَذَّبُوۤا عِبْدَنَا وَقَالُوا لِمٰجُنُونُ ۝۱۰ وَاٰزِدْجَرَ ۝۹  
 فَدَعَا رَبِّيۥ اٰتٰنِي مَغْلُوْبٌ فَاٰتٰتٰنِي ۝۱۱ فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمٰوٰتِ بِمَآءٍ  
 مُّسَهَبٍ ۝۱۱ وَفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَاَلْتَقٰى الْمَآءُ عَلٰى اَمْرِ قَدْرِ ۝۱۲  
 وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذٰتِ الْاَوَاجِ ۝۱۳ وَّوَدُّرٍ ۝۱۳ تَجْرِىۡ بِاَعْيُنِنَا جَزَآءٌ لِّمَن كَانَ

الدَّاعِ قبر و آندره نیر تھ بین تم دوران آلوده و نس کن یعنی حساچہ جاہہ جمع سپدنہ خاطرہ آلودہ و ون  
 آلودوان آسہ۔ متر چہ بے شمار تخیہ و وجہت يَقُولُ الْكٰفِرُونَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ کافر آسن و نان یہ دوہ چھہ  
 سیٹھے سخت كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمٌ نُّوحٌ یمن لوکن بروٹھہ چھہ کورمت انکار پنہ نس پیغمبرس نوح علیہ  
 السلامہ سندے قومس فَكَذَّبُوۤا عِبْدَنَا وَقَالُوا لِمٰجُنُونُ وَاٰزِدْجَرَ پس کور تموانکار سانس بندہ خاص نوح  
 علیہ السلامس بیہ و نکھ تمن نسبت کہ یہ چھہ موت تہ دیوانہ۔ بیہ آسہ تمن دھمکی تہ دنہ۔ تم آس تمن  
 و نان کہ ای نوح ہر گاہ تہہ امہ تہلیغہ نشہ پتھہ روزونہ آس کروہہ تہی سنگسار۔ فَدَعَا رَبِّيۥ اٰتٰنِي مَغْلُوْبٌ  
 فَاتٰتٰنِي اده مونگ نوح علیہ السلامس پنہ نس پروردگارس دُعا کہ میانہ پروردگارہ بو آس عاجز یمن  
 لوکن فہمائش کران تہ وعظ و نصیحت کران۔ تمن پھنہ کینہہ تہ بان۔ وون ہیہ تہے یمن نشہ پنہ  
 دیگ تہ پنہ نس پیغمبرہ سدا انتقام زمینس پیٹھہ مہ تران تمواندرہ اکھ تہ زندہ۔ بو پوشہ نہ تمن تہے پوشہ  
 ہچھ۔ نس کمر آسہ تہندس مگنکس اجابت فَفَتَحْنَا اَبْوَابَ السَّمٰوٰتِ بِمَآءٍ مُّسَهَبٍ نس مثر راوی آسہ آسمان  
 ہندی دروازہ یپاری کئی رودہ شرانہ و ترہہ وَفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا بیہ کمر آسہ جاری زینک ساری  
 چشمہ، ناگہ راد۔ فَاَلْتَقٰى الْمَآءُ عَلٰى اَمْرِ قَدْرِ نس رلیو (آسمانک تہ زینک) آب سو کام پورہ کرنہ  
 خاطرہ یوسہ نوح علیہ السلامہ سند قوم ہلاک تہ تباہ کرنہ خاطرہ مقرر تہ مقدر کرنہ آس آمر۔ چنانچہ تم  
 ساری کافر سپد ہلاک وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذٰتِ الْاَوَاجِ وَّوَدُّرٍ نوح علیہ السلامس امہ طوفانہ نشہ نجات دنہ  
 خاطر کھور آسہ سہ تھہ ناوہ منز یوسہ پچو تہ میخوسیت تیار کرنہ آس آمر تَجْرِىۡ بِاَعْيُنِنَا یوسہ ناویکان

كُفِرَ<sup>(۱۶)</sup> وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ<sup>(۱۵)</sup> فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي  
 وَنَذِيرٍ<sup>(۱۶)</sup> وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ<sup>(۱۷)</sup> كَذَّابْتِ  
 عَادٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذِيرٍ<sup>(۱۸)</sup> إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا  
 فِي يَوْمٍ نَحِيسٍ مُسْتَمِرٍّ<sup>(۱۹)</sup> تَتَزَعَّرُ النَّاسُ عَنْهُمْ آعْجَازٌ نَحْلٍ  
 مُنْتَعِرٍ<sup>(۲۰)</sup> فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذِيرٍ<sup>(۲۱)</sup> وَلَقَدْ يَسَّرْنَا

آس سائین اچھن تل آہ پیٹھ امن واطمینان سان۔ تم ساری ہتھ سمونوح علیہ السلامس ہذہ کمر مثر  
 آس جزاؤن کان کُفِرَ یہ سورے کور آہ تس شخصہ سُنْد بدلہ ہینہ خاطرہ کس بے قدری تہ انکار کرنہ  
 آو۔ امہ اندرہ جھہ مراد نوح علیہ السلام۔ کیا زہ خدایہ سِدِس پیغمبرس انکار کرن گوو خدائس انکار کرن  
 وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آيَةً فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ بیشک آہہ تھاوسو ناونوح علیہ السلامس پتہ وار ییس کالس باقی پنہ  
 قدر تک اکھ نشانہ یُتھہ لوکھہ نصیحت تہ عبرت رشن۔ پس چھاسناکانہہ امہ واقعہ سیت عبرت تہ نصیحت  
 رٹہ وناہ۔ یم فکر کرن کہ خدائس نافرمانی سیت کوسہ تباہی تہ بربادی چھہ گڑھان یا گوو معنی کہ یہ واقعہ  
 تھوواسہ قصن تہ تذکرن اندر جاری۔ یُتھہ لوکھہ یہ بوز تھہ عبرت رشن عبرت رٹھہ زانن تم فَكَيْفَ  
 كَانَ عَذَابِي وَنَذِيرٍ پس کیتھہ اوس میون عذاب ہیہ کیتھہ پوزدر او میون بیم کرن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ  
 لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَكِّرٍ بے شک ہیہ کور آہہ یہ قرآن مجید جتھہ منزلی قسمک قصہ چھہ سہل تہ آسان  
 نصیحت رفتہ خاطرہ پس چھہا کانہہ تیار نصیحت حاصل کرنہ خاطرہ كَذَّابْتِ عَادٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنَذِيرٍ  
 قوم عادن تہ کور پنہ نس پیغمبر ہود علیہ السلامس انکار پس یوزو تہہ تہند قصہ تہندہ خاطرہ کیتھہ اوس  
 میون عذاب تہ میون بیم کرن۔ سہ قصہ جھہ جتھہ پاٹھہ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمٍ نَحِيسٍ  
 مُسْتَمِرٍّ کہ آہہ سوز تمن پیٹھہ اکھ تیز واواہ اکھ پُوشہ ونہ کس پھیشل دوہس اندر یعنی سہ زمانہ اوس تہندہ  
 حقہ پھیشل۔ چنانچہ سو نحو سٹھہ وژھہ نہ تمن نشہ یوتان نہ تم ساری ہلاک تہ برباد سپد تَتَزَعَّرُ النَّاسُ  
 كَانَهُمْ آعْجَازٌ نَحْلٍ مُنْتَعِرٍ تمو آس یکنے پان شترہ وین کو ٹین ستی ہانکو ستی بند کمر مت۔ تم

الْقُرْآنَ لِلَّذِي كُفِرَ بِهِ مِنْ شِدَّةٍ ۚ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ۚ ﴿۲۲﴾  
 فَقَالُوا أَبَشْرًا مِثْلًا وَاحِدًا اتَّبِعْنَا إِنَّآ أَدْفَعُ لَكُمْ فِتْنَتَهُمْ إِنْ أَنتَ إِلاَّ فِتْنَةٌ ۚ ﴿۲۳﴾  
 ءَأَلْقَى الذِّكْرَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ ۚ ﴿۲۴﴾ سَيَعْلَمُونَ  
 عَذَابَ آثَرِ الْكَذَّابِ الْإِشْرُ ۚ ﴿۲۵﴾ إِنَّا مُرْسِلُونَ النَّاقَةَ فِتْنَةً لَّهُمْ

کوٹ آسکھ بند کمر متی۔ باوجود آل اوسکھ سہ داوزینہ منزہ کڈان تو پتہ کوئیو سان ہیور کھاران۔  
 ہیور کھارتھ ز میس پیٹھ ٹھاسہ وان۔ کلہ ہیرہ آسکھ زہنان باقی بدن ٹھند اوس ز میس پیٹھ یوان  
 زن سہ مولہ کڈنہ آمت خضر کل ہیو آسان اوس اتھ اندر چھہ بیاکھ تشبیہہ تھندس دراز قد آس  
 اندر۔ باوجود تو مند تہ قد بلند آسکھ تراوتم واؤن پھر مولہ کڈنہ آمت خضر کلی ہو۔ فَكَيْفَ كَانَ  
 عَذَابِي وَنُذُرِي پس چھکھ وچھان ژہ کہ کیتھہ لوس میون عذاب، میون بیم کرن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ  
 لِلَّذِي كُفِرَ بِهِ مِنْ شِدَّةٍ بے شک کوراسہ قرآن مجید نصیحت حاصل کرنہ خاطرہ سہل تہ آسان۔ پس  
 چھاکانہ نصیحت رٹہ وناہ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ قوم ثمود تہ کوریم کرہ و نین پیغمبرن انکار یعنی  
 صالح علیہ السلام۔ اُس پیغمبرس انکار کرن گو سارن پیغمبر انکار کرن فَقَالُوا أَبَشْرًا مِثْلًا وَاحِدًا  
 نَتَّبِعُهُ تم لگ دہنہ کیاہ اُس کرہہ تھہ سے اُس شخصہ سنز پیروی تہ متابعت ئس اسی منزہ اکھ انسانہ  
 مجنون زن چھہ۔ سیت چھس نہ کانہہ تہ۔ نہ چھس نوکر چاکر۔ نہ چھس پیر وکار اُس ہر گاہ آئی سنز  
 پیروی کرو إِنَّا أَدْفَعُ لَكُمْ فِتْنَتَهُمْ إِنْ أَنتَ إِلاَّ فِتْنَةٌ یقیناً چھہ اُس تیلہ جہ غلطی اندر بلکہ مژرس تہ جنونس اندر واقع  
 سپدہ ونی۔ خیالی قصاہ چھہ ءَأَلْقَى الذِّكْرَ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌّ بلکہ چھہ یہ دعویٰ کرنس اندر  
 بوڈا پز یور۔ یہ چھہ بوڈ بن یرٹھان۔ سردار قوم بن یرٹھان اللہ تعالیٰ ان فرمود صالح علیہ السلام یمن

دیو تھہ دورنہ۔ غم مہ بڑو کینہہ سَيَعْلَمُونَ عَذَابَ آثَرِ الْإِشْرُ یمن سپدہ چھہ معلوم کہ بوڈ  
 ایز یور شیخی باز کہہ اوس۔ ہم لوکھ ئس معجزہ طلب کران چھہ کہ پلہ منزہ گڑھہ اوئین نیرنی۔ إِنَّا  
 مُرْسِلُونَ النَّاقَةَ فِتْنَةً لَّهُمْ اُس چھن تھزی فرما کھہ تہ درخواستہ موجب بے منزہ ووئین کڈان تمن

فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ۞ وَبَدَّوهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ۞  
 كُلُّ شَرْبٍ مُّخْتَصِرٌ ۞ فَنَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ۞  
 فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً  
 وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ۞ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ  
 فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ ۞ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذْرِ ۞ إِنَّا أَرْسَلْنَا

آزماوہ خاطرہ۔ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ اُس روز و تہہ تہدین حرکات و سکناتن ژر ژان بہیہو تہہ صبرہ  
 سان بیلہ یہ و وٹن پادہ سپدہ وَبَدَّوهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ بہیہو پونہ نِس قومس کہ کیرک آب او  
 تقسیم کرنہ تہ باگرنہ تمن منز تہ اُمس و وٹنہ منز آب چنئس یعنی تہدین چارواہن منز آیہ وار مقرر  
 کرنہ۔ اکہ دوہنہ آسہ آب چہواہن یہ و وٹن بہیہو دوہنہ آس چہواہن تہدے چارواہنی كُلُّ شَرْبٍ مُّخْتَصِرٌ  
 پر تہہ دوہنہ آسہ پنہنہ وارہ پیٹھہ پر تہہ اکھاہ حاضر سپدان۔ چنانچہ و وٹن سپز پادہ پلہ منزہ۔ صالح علیہ  
 السلامن فرمود تمن تہہ پاتھہ پاتھہ پاٹھی ارشاد خداوندی اوس۔ مگر تم آی امہ نوبت تہ وار مقرر کرنہ  
 سیت سخت عاجز تہ تنگ تمو کوریہ و وٹن مارنہ خاطرہ پن اکہ شخصہ مقرر فَنَادُوا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ  
 تو پتہ دُیت ناد تمو تس شخصس اُس تمو امہ کامہ خاطرہ مقرر کرنہ اوس یعنی قیدارس۔ تمنیٰ ج  
 شمشیرہ ژنڈ سوی لاین اُمس و وٹنہ تمی سیت ژنئس صہ نار فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذْرِي اُس و ہجھونہ کہ  
 میون عذاب تہ کھو ژہ ناؤن کیتھ اوس تہدہ تھہ سہ گوواہی کہہ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا  
 كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ اُسہ لایہ ناؤ تمن جبریل امینہ سزگنی کر کیکہ سمہ سیت تم ہنر تھہ پنے کڈ مورین  
 ہندہ دیوار کی پاتھہ اُس خشک گڑھ تھہ تھہ ٹہہ ٹہہ پتھر پیوان جبریل امینہ سزہ تمہہ کریجہ ستی پھٹ تمن جگر  
 وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّذَكِّرٍ بے شک اُسہ کور قرآن مجید سہل تہ آسان نصیحت رنہ  
 خاطرہ۔ پس چھا کانہہ نصیحت رنہ و ناہ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذْرِ لوط علیہ السلامہ سند قومس تہ کور ہم  
 کرہ و نین پیغمبرن انکار إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا اُسہ کور تمن پتہ تگنہ رُود اِلَّاآلَ لُوطٍ بَخِيَتْهُمْ بِسَعْرِ

عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ نَّجَّيْنَاهُمْ بِسِحْرِ<sup>(۳۳)</sup> رَبِّنَا مِنْ عِنْدِنَا  
 كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ<sup>(۳۴)</sup> وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا  
 بِالنُّذُرِ<sup>(۳۵)</sup> وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا  
 عَذَابِي وَنُذُرِي<sup>(۳۶)</sup> وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ<sup>(۳۷)</sup> فَذُوقُوا  
 عَذَابِي وَنُذُرِي<sup>(۳۸)</sup> وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ  
 مُدْكِرٍ<sup>(۳۹)</sup> وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ<sup>(۴۰)</sup> كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كُلِّهَا

مگر نہ لوط علیہ السلامہ سندس عیالس۔ تمن دیت اُسہ نجات سحرہ کہ وقتہ پاس آخرس تمہ شہرہ منزہ  
 نیر کڈنہ سیت رَعْمَهُ مِنْ عِنْدِنَا محض پنہ فضل تہ مہربانی سیت کَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ شَكَرَ تہ پانٹھ  
 جہہ آس بدلہ دوران با ایمان تہ شکر گزار بدن۔ تم جھکھ اسی پنہ قہرہ نشہ بچوان وَلَقَدْ أَنْذَرَهُمْ  
 بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ \* وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ بیشک عذاب یہ بروٹھ کھوڑہ ناوے تم لوط علیہ  
 السلامن سانہ گرفتاری نشہ مگر توتہ لگ تم تورہ بحث کرنہ سیت تہ تیم کرنس انکار کرنہ۔ یلہ لوط علیہ  
 السلامس نشہ سانی ملکہ خوب صورت لوکین ہنزہ شگلہ مہمان ہٹھ آئے۔ توپتہ بوز تمولو کو تو تم آے  
 دوران دوران تمن نشہ۔ بے شک کھر تمولو لوط علیہ السلامس آرفقاری تہندین تمن پڑھین ہندہ خاطرہ  
 کہ کڈنہ پانٹھ نمہ ہو کہ تم تمن نشہ بچھ کامہ خاطرہ۔ گوڈہ کیے لوط علیہ السلام سخت پریشان۔ مگر تم مہمان  
 آس ملکہ۔ اُسہ کور تمن حکم توپتہ ڈول جبریل امین بن اٹھ تہزنن اچھن پیٹھ۔ تمن پیوانیو۔ فَطَمَسْنَا  
 أَعْيُنَهُمْ پس نیو اُسہ تہزنن اچھن ہندگاش فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِي وَنہ آو تمن وونی ژہو گوڈہ تہہ میانہ  
 عذابک تہ میانہ کھوڑہ ناوٹک مزہ وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌّ توپتہ پوکھہ وائٹھ صبحس سلی  
 پوشون عذاب توپتہ آکھ بیہ ونہ کہ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِي ژہو مزہ ہلاک کرہ ونہ عذابک وَلَقَدْ  
 يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ بے شک اُسہ کور قرآن مجید نصیحت رنہ خاطرہ سہل تہ  
 آسان پس چھا کانہہ نصیحت رنہ وناہ وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ بے شک بیہ آئی فرعونس تہ تہندین



فَأَخَذْنَا مِنْهُمُ آخِذًا مِّنْ عِزِّ مَقْتَدِرٍ ﴿۳۲﴾ الْفَارُكُمُ خَيْرٌ مِّنْ أَوْلِيكُمُ  
 أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿۳۳﴾ أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرُونَ ﴿۳۴﴾  
 سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴿۳۵﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ  
 أَذْهَىٰ وَأَمْرٌ إِنَّ الْجُجَمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿۳۶﴾ يَوْمَ يُسْحَبُونَ

لوکن گن کھوڑہ ناوکی تہ بیم کرہ کی واریاہ چیز یعنی موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام بیہ معجزات وغیرہ  
 سوزنہ گد بڑا پایا تکتا کھٹا مگر تمہو تہ زان اپڑسان ساری آیات تہ نشانہ یم تمن نشن واتحت آس  
 فَأَخَذْنَا مِنْهُمُ آخِذًا مِّنْ عِزِّ مَقْتَدِرٍ پس رٹ تہ گرفتار کر آسہ تم تھہ پاٹھہ تھہ پاٹھہ آس زبردست قدر تہ  
 والس بڑہ ہا۔ تھہ گرفتار کرہ آس تہ رٹ آس کانہہ تہ بیکہ نہ بلکہ تراوتھہ تہ چھوڑ تھہ الْفَارُكُمُ خَيْرٌ مِّنْ  
 أَوْلِيكُمُ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ توہہ بوزوہ برو تھہمین مٹھن تہ کافرن ہند قصہ تمن کیاہ گڈ ریو  
 کفر و نافرمانی ہندہ سبہ۔ کیاہ توہہ اندر تم کافر چھہ تم چھابرو تھہمین تمن کافرن ہندہ خوتہ جانے تا اینکه  
 یمن کیاہ بیہ پاس کرنہ۔ تم کیاہ گزن نافرمانی تہ گھر آس کرو کہ نہ کنی کتہ تہندہ خاطرہ چھہ آسانی کتابن  
 اندر بیکہ قسمہ معافی تہ آزادی ہند پروانہ آمت لیکنہ کہ تھہ کمر ویہ خوش گروہ تہ توہہ چھنہ کانہہ  
 بازخواست أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنتَصِرُونَ کنہ تہند گفٹ چھہ کہ آسہ تھہ بیکہ نہ مقابلے کانہہ کمر تھہ۔  
 آس چھہ بڈ جماعتھہ اکھ پر تھہ کانسہ نشہ بدلہ ہیوہون آسہ کین تلہ نیرن تم سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ  
 الدُّبُرَ عنقریب کھیہ بیہ جماعت سخت شکست۔ بیہ ژلن تم میدان چھہ نشہ تھر بھر تھہ۔ چنانچہ آسہ  
 پیشین گوئی ہند ظہور سپد جنگ بدرس تہ جنگ احزاب اندر بیہ گوو نیاس اندر۔ یعنی یوت چھنہ ہیہند  
 سزا بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ بلکہ سپدن تم بڈس عذابس گرفتار قیامتک دوہ۔ اصلی عذابک وعدہ چھہ  
 تمن سیت سنی دوہ وَالسَّاعَةُ أَذْهَىٰ وَأَمْرٌ قیامت مہ زانن ژہ معمولی چیزہ بلکہ چھہ قیامت سیٹھہ  
 سخت تہ سیٹھہ ٹیٹھہ تہ تلخ سوی قیامت چھہ ضرور واقع سپدہون إِنَّ الْجُجَمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ بے  
 شک یم مجرم یم آسہ قیامتہ کس وقوعس انکار کران چھہ تم چھہ سخت گمراہی تہ جنونس اندر پے مت بیہ  
 گمراہی تہ جنون سپدہ تمن ظاہر تمہ دوہہ يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ بیہ دوہہ تم

فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿۴۸﴾ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ  
 بِقَدَرٍ ﴿۴۹﴾ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلِمَةٍ بِلَاصِرٍ ﴿۵۰﴾ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا  
 أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ ﴿۵۱﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿۵۲﴾ وَ  
 كُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ ﴿۵۳﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ ﴿۵۴﴾  
 فِي مَقْعَدِ صَدَقٍ عِنْدَ مِلْيَكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿۵۵﴾

کھڑے ہیں پکناوند ہتھ کن سے دار تھ یں دنہ نار جہنمیں اندر تو پتہ پیچھ وندہ ذوقا مس سقر ژہوئتہ اے  
 کافرو نارچہ ژبجی ہند مزہ۔ ہر گاہ تمکن شبہ چھکہ ادہ کونہ چھہ سو قیامت یوان تمیک جواب چھہ کہ اِنَّا  
 كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ اِسہ چھہ پر چھہ چیز اہ پادہ کورمت کہ خاص اندازہ موجب چھہ منزوار بہن  
 چیزن ہند خصوصاً وقتک سے زمانک اعتبار تھونہ آمنت چھہ۔ اِس اِسہ پنہ اِس علمس منز مقررہ متعین  
 کورمت چھہ۔ لہذا یوتان نہ سہ وقت وائتہ توتان تھہ پاٹھ سپدہ تمیک وقوع۔ یکہ تمیک وقت وائتہ وَمَا  
 اَمْرُنَا اِلَّا وَاحِدَةٌ كَلِمَةٍ بِلَاصِرٍ سون حکم اِسہ تمہہ کس وقوعس متعلق اے حماہ۔ اِس جاری سپدہ اِس  
 اچھہ بیئہ اندر۔ اِسہ چھہ نہ کانبہ چیز پادہ کرہ اِس اندر یا تباہ و بُر باد کرہ اِس اندر زیادہ کال لگان وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا  
 أَشْيَاءَكُمْ فَهَلْ مِنْ مُدْكِرٍ بے شک اِسہ گال تو ہی ہی واریاہ کافرہ سے نافرمان لوکھ۔ اِس چھا تو بہہ اندرہ  
 کانبہ نصیحت رتہ و ناہ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ اِس چیز تم کران اِس سے سورے اوس خدایس  
 معلوم باوجود آل آوتہ سورے لیکھنہ تہندین نامہ اعمالن اندر یہ تھہ چھہ نہ کینہہ آسہا لیکھنہ آمنت۔  
 کینہہ اِسہ ہالیکھنہ رودمت نہ بلکہ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٌ پر چھہ لوکٹ تھہ سے بد تھہ چھہ تھہ اندر  
 وارہ لیکھنہ آثر یہ گوو کافر ن سے جُر من ہند حال۔ اِسہ پتہ چھہ با ایمانن سے متقین ہند حال۔ اِنَّا الْمُتَّقِينَ  
 فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ بے شک تم کُفرہ نشہ نافرمانی نشہ چھہ ون چھہ تم آسن جنتہ کین باغن اندرہ سے جو من پیٹھ  
 فِي مَقْعَدِ صَدَقٍ عِنْدَ مِلْيَكٍ مُّقْتَدِرٍ حقیقی عزتچہ جایہ بڈس باد شمس چھہ اِس کل کا ناسا پٹھہ اقتدار  
 چھو تم پنہ پڑہ کہہ برکتہ خداو پیغمبر خدایہ سندہ پڑہ وعدہ موجب آسن اگھ اِس عمدہ سے پسندیدہ مقاس



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 الرَّحْمٰنُ ۝۱ عِلْمُ الْقُرْآنِ ۝۲ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ۝۳ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ۝۴  
 الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ بِحُسْبَانٍ ۝۵ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ ۝۶ وَالسَّمَاءُ  
 رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ۝۷ اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ ۝۸ وَاَقِيمُوا  
 الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ ۝۹ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا

الرَّحْمٰنُ \* عِلْمُ الْقُرْآنِ رَحْمَتِهِ وَالسُّ خَدَائِهِ سِزَهٗ وَجَهَّ بِي شَارِ نَعْمُوهُ - اَجِبٌ رُوْحَانِي - اَجِبٌ جِسْمَانِي اَجِبٌ  
 ذُنُوْبِي اَجِبٌ اُخْرُوِي - رُوْحَانِي نَعْمُو اَنْدَرُهٗ كَيْفِي اَكِهٖ نَعْمَتِ كَمْ تَمْحِي بِجَهَّ نَاوُ قُرْآنِ مَجِيْدٍ لِيْعْنِي تَمِي كُوْر نَا زَلِ قُرْآنِ  
 مَجِيْدِي تَهَّ تَهْمِدُ بِنْدَهٗ نَسْ بِئِيْهٖ اِيْمَانِ اَنْتَهٗ، تَمْيِكِ عِلْمِ حَاصِلِ كَمْرٍ تَهَّ تَهْمٌ مَوْجِبٌ عَمَلِ كَمْرٍ تَهَّ تَمْيِكِ نَفْعِي تَهَّ  
 فَايِدِهٖ تَلْن - تَمْ سِزِيَا كِهٖ نَعْمَتِ كَيْفِي جِسْمَانِي يُوسُهٗ مَوْقُوْفٍ عَلَيْهِ وَجَهَّ رُوْحَانِي نَعْمَتِ سُوْغِي كِهٖ نَعْمَتِ كَمْ خَلَقَ  
 الْاِنْسَانَ \* عَلَّمَهُ الْبَيَانَ تَمْحِي كُوْر پَادَهٗ اِنْسَانِ تُوْپِي تَهَّ نُوْدُنِ سُهٗ تَهْمِهٖ كَرِيْبِي لِيْعْنِي دَلِكِ حَالِ تَهَّ خِيَالِ ظَاہِرِ  
 كَرَنِ كَتُوْ سِيْتِ تَهَّ اَتُوْ سِيْتِ لِيْعْنِي تَقْرِي وِ تَحْرِي رِهٖ سِيْتِ - تَمِي سِيْتِ وَجَهَّ سُهٗ قُرْآنِ مَجِيْدِ پَانِهٖ پَرَانِ تَهَّ تَمْنِ پَرِهٖ  
 نَاوَالِ بِيَا كِهٖ نَعْمَتِ كَيْفِي اَفَاتِي سُوْغِي كِهٖ الشَّمْسُ وَالْقَمَرَ بِحُسْبَانِ اَفْتَابِ تَهَّ زَوْنِ وَجَهَّ پِكَانِ اَكِهٖ مُنْتَظَمِ حَسَابِهٖ  
 مُوْجِبِ سَمِهٖ سِيْتِ دُوْهٖ تَهَّ رَا تَهَّ وَجُوْدِ سِ مَنَزِيُوَالِ وَجَهَّ - يَمْنِ سِيْتِ بِنْدَنِ هَمَزِهٖ بِنْدُ كِي تَهَّ عِبَادَتِ سِيْطَهٗ  
 تَعْلُقِ وَجَهَّ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ تَهَّ كِهٖ تَهَّ تَهَّ تَهَّ تَهَّ تَهَّ تَهَّ تَهَّ تَهَّ تَهَّ تَهَّ تَهَّ تَهَّ تَهَّ تَهَّ تَهَّ تَهَّ تَهَّ تَهَّ  
 مُوْلِي سِدْرِ سَجْدِ سِيْتِ وَالسَّمَاءُ وَرَفَعَهَا تَمْحِي حَضْرَتِ رَحْمٰنِ كُوْر تَهَّ دُوْهٖ تَهَّ بِنْدِ آسْمَانِ - وَوَضَعَ  
 الْمِيزَانَ تَمْحِي كَمْرٍ قَائِمِ دِيَا سِ اَنْدَرِ تَرَكِرِ اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ تَهْمِهٖ تَهْمِهٖ تَهْمِهٖ تَهْمِهٖ تَهْمِهٖ تَهْمِهٖ تَهْمِهٖ تَهْمِهٖ تَهْمِهٖ تَهْمِهٖ  
 كَمْرٍ - اَمِهٖ نَعْمَتِ شُكْرِ كُوْدَا يَزِهٖ وَاَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ بِيِهٖ تَهَّ وَاَقِيمُوا قَائِمِ اِنصافِهٖ  
 مُوْجِبِ پَرِي تَهَّ چِيْزِ كِ وَزْنِ بِيِهٖ مَهٗ اَسُوْ كَرَانِ كِي تُوْلَسُ بِيِهٖ قِسْمِهٖ وَالْاَرْضَ وَضَعَهَا لِذَلِكِ اَمْرِ بِيِهٖ تَهَّ وَاَقِيمُوا

لِلْاِنَامِ ۱۰ فِيْهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ ۱۱ وَالْحَبُّ  
 ذُو الْعَصْفِ وَالرَّيْحَانُ ۱۲ فَبِآيِ الْاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ۱۳  
 خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ ۱۴ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ  
 مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ ۱۵ فَبِآيِ الْاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ۱۶ رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ  
 رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ ۱۷ فَبِآيِ الْاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ ۱۸ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ

زمین مخلوقن ہندہ فایدہ خاطرہ وہر اوتھہ **فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْاَكْمَامِ** تھہ زمینس منزجھہ کم  
 کم میوہ بیہ خضر کل سمن ہند میوہ چھہ آسان گوثرین تہ غلائن منزولتھہ **وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ**  
**وَالرَّيْحَانُ** بیہ چھہ اتھہ زمینس منز پر تھہ قسمک غلہ تھہ غلٹ سیت چارولین ہندہ کھینہ خاطرہ گاسہ تہ  
 چھہ آسان۔ بیہ پر تھہ قسمک خوشبودار پُوش سمو سیت دماغ چھہ سپدان مٹھہ **فَبِآيِ الْاَءِ رَبِّكُمَا**  
**تُكَذِّبُنِ** پس تھہ تھہ نفٹس پروردگارہ سدرس کمر و تھہ انکار ای جنوہ انسانو۔ اگس حدیث شریفس  
 گن نظر کر تھہ فرمود عالمو کہ یکہ کانہہ شخصایہ آیہ کریمہ **لَوْ زَه تَمَسُّدُ كَوْهٍ** جواب دمن لا بشی من  
 نعمک ربنا نکذب فلك الحمد اے سانہ پروردگارہ چانیو نعمتو آندرہ **فَبِآيِ الْاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ** تھہ  
 نفٹس ساری حمد شوبہ نے تہے **خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ** بیاکھ نعمت کنیہ کہ تمی گڑ پادہ اگس  
 انسانہ سداصل اول یعنی آدم علیہ السلام تھہ میوہ یوسہ ہو چھہ کترہ ہند یا تھہ ترن ترن کرت وزان آس  
**وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَّارِجٍ مِّنْ نَّارٍ** بیہ کرتی پیدہ جن ہیونداصل اول نارہ چہ رہہ تھہ نہ شامل آسان  
 چھو۔ یمن دشوین مخلوقن کمر وجود چ نعمت عطا تمی پروردگارن **فَبِآيِ الْاَءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُنِ** اے جنوہ  
 انسانو خدایہ سز و نعمتو آندر تھہ تھہ نفٹس کریو تہہ انکار **رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ** بیہ چھو سوی  
 معبود برحق دون مشرقن تہ دون مغربن ہوندا ملک حقیقی آفتاب چھو وندس تہ رتہ کالس مختلف جایو  
 نشہ طلوع سپدان تہ کھسان بیہ مختلف جایو کن لوسان تہ غروب سپدان تمی اعتبارہ آوونہ مشرقین تہ  
 مغربین، آفتابچہ مختلف جایو کھسن لوسن امہ سیت چھہ موسم بدلان تھہ آندر چھہ بے شمار فائدہ تہ مصلحوہ،

يَلْتَقِينَ<sup>(۱۹)</sup> بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِي<sup>(۲۰)</sup> فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ<sup>(۲۱)</sup>  
يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ<sup>(۲۲)</sup> فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ<sup>(۲۳)</sup>  
وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ<sup>(۲۴)</sup> فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا  
تُكَذِّبِينَ<sup>(۲۵)</sup> كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِنَّ<sup>(۲۶)</sup> وَيَسْئَلُ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلِيلِ

زمینہ کین لوکن ہندہ خیطرہ امہ سارکوی مالک ۱۰ اختیارہ وول ہتھوسوی پروردگار فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا  
تُكَذِّبِينَ پس پنے نس پروردگار سند یو نعمتو اندر کتھہ کتھہ نفس کریو تُوہ انکار ای جنوہ انسانو۔ مَوْجِ  
الْبَحْرِ يَنْتَقِينَ \* بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِي تہی پروردگارن پکناؤ زہ دریاواکھ میو تھہ تہ بیاکھ ژوش۔ یکے  
زہ دریاوچھہ اکھ اکس سیت طاہرہ پاٹھہ میلٹ پکان۔ مگر تھقیفس منز چھو یمن در میان اکھ ٹھورہ اُس نہ  
یمن اکھ اکس پیٹھہ غلبہ دوان ہتھو کرنہ، میو تھہ سپدہ ہاژوش ژوش سپدہ ہامیو تھہ۔ یہ چھہ نعمت تہ بہ  
قدر تک اکھ بوڈ نشانہ تہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ پنے نس پروردگارہ سنزیو نعمتو آندرہ کتھہ نفس ہتھو  
توہ انکار کرت ای جنوہ انسانو یَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ یومودوشوی دریاوؤ منزہ چھو نیر ان اکھ حنہ  
بیہ لدرہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ پنے نس پروردگارہ سنزہ نعمتو آندرہ کتھہ نفس ہو توہ انکار کرت ای  
جنوہ انسانو وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ تمسزے چھہ تمہ ناوہ تہ جہازیمہ تھزہ تہ ہجہ چھہ  
سمندرس منز کوہن سومبہ یمن پیٹھہ سوار سپدت توہ اکھ ملکہہ نیشہ بین ملکن و اتان چھو ضروریات تہ  
مال تجارت و اتانوان چھوہ۔ یَخْرُجُ مِنْهُمَا آندرہ گو اشارہ تمن نعمون کن یہہ سمندرہ تہ دریاو و تھہ  
نیر ان چھہ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ آندرہ چھو اشارہ تمن نعمون کن یہہ آبہ پٹھہ کن سطح نیشہ حاصل  
سپدان چھہ آبہ پٹھہ کن تہ نعمو۔ آبہ تل تہ نعمو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ پنے نس پروردگارہ سنزہ نعمتو  
اندر کتھہ نفس ہو توہ انکار کرت ای جنوہ انسانو اتان یمن نعمون ہیوند ذکر کرنہ اولازم چھو تمن  
نعمون گروہہ توحید و طاعتہ سیت شکر دین کفر و معصیت سیت گزہ ہنہ ناشکری و ناسپاسی کرن۔ کیا زہ تھہ  
عالمس چھو فناسپدن یہہ پتہ ہتھو بیاکھ عالم اوہون۔ تھہ عالمس منز ایمان و کفرس پٹھہ جزا و سزا یہہ دنہ۔  
یہوی مضمون چھہ اللہ تعالیٰ فرماوان كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَإِنَّ \* وَيَسْئَلُ وَجْهَ رَبِّكَ ذُو الْجَلِيلِ وَالْاَوَّلِ اَمِ جَن

وَالْأَكْرَامِ ۚ ﴿۲۷﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۲۸﴾ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ كُلِّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ۚ ﴿۲۹﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۳۰﴾  
سَنَفِّرُ لَكُمْ آيَةَ الثَّقَلَيْنِ ﴿۳۱﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿۳۲﴾ يَمْعَشَرُ  
الْحِجْنَ وَالْإِنْسَ إِنْ اسْتِطَعْتُمْ أَنْ تَتَفَدُّوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ

یہ انسان اتھ رُوئی زمیںس پٹھہ چھ موجود تم ساری چھ گلہ وین تہ فانی سپدہ ون۔ باقی روزہ ون چھو فقط  
تہندس پروردگارہ سُنْد ذات پاک نُس عظمتہ وول تہ احسانہ وول چھہ، یم چھ زہ صفت اللہ تعالیٰ سند، اکھ  
چھو ذاتی بیاکھ چھو اضافی۔ اکثر اہل عظمت چھو پنہ نسی عظمتس سیت آسان بین گُن چھنہ کانہ توجہ  
کران مگر معبود برحق چھو باوجود کمال عظمت، صاحب اکرام تہ پنہ نین بدن پیٹھہ چھہ تہمز رحمت و  
فضل جاری۔ چونکہ امہ مضمونچ خبر دن چھہ موجب ہدایت، لہذا چھہ یتہ نعمتو آندرہ اکھ اخروی نعمتاہ  
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ پنہ نس پروردگارہ سند یو نعمتو آندرہ تھہ نفس کریو تہ انکار ای جنوتہ انسانو۔  
امہ پتہ چھو اکھ خاص طریقہ تہندس عظمت واکرامس متعلق مضمون بیان یوان کرنہ یَسْأَلُهُ مَنْ فِي  
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ سو چھو یتھوی باعظمت کہ تہس نشہ چھہ منگان بیون بیون ہن ہن حاجت تم ساری  
یم آسان اندر چھہ بیہ یم زمین اندر چھہ ساری چھہ محتاج تس گُن سو چھہ سارنی ہیون محتاج الیہ ہیوی چیز  
چھو دلالت کران تہندس کمال عظمتس پیٹھہ۔ صاحب اکرام آسن تمسند چھو ننان یمہ سیت کہ کُلِّ  
يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ پرت وقتہ چھو سو کامہ اندرئی۔ یعنی عالمن اندر یہ کیڑہ ہا واقع سپدان تہ چھو سپدان  
تہندی تصرف سیت تمنے تصرفاتن اندر آئے۔ تم تصرفات تہ یم دلالت چھہ کران تہندس اکرام و  
احسانس پٹھہ مثلاً پیدہ کرن عافیت و صحت عطا کرن رزق عطا کرن اولاد عطا کرن۔ ہدایت تہ علم۔  
توفیق عمل۔ پس باوجود عظمت یو تھہ اکرام و احسان کرن یتہ گیہ نعمتس فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ پنہ نس  
پروردگارہ سنزوو نعمتو آندرہ تھہ تھہ نفس کریو تہ انکار ای جنوتہ انسانو۔ سَنَفِّرُ لَكُمْ آيَةَ الثَّقَلَيْنِ  
اس د موپور توجہ تہ حساب ہنس گُن ای جنوتہ انسانو۔ یہ برو نشی تہ ای جنوتہ پتہ چھوہ سان نعمت تہ  
مہربانی یو تھہ تہ تیاری ہونہ خیال پیدہ گڑھہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ پنہ نس پروردگارہ سنزوو نعمتو

وَالْأَرْضِ فَاَنْفُذُوا وَالْاَنْفُذُونَ الْاِسْلَاطِينَ ﴿۳۳﴾ فَبِآيِ الْاِءِ  
 رَبِّكُمْ اَتَكْذِبُونَ ﴿۳۴﴾ يُرْسَلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطِرٌ مِّنْ نَّارِهِ لِيَحْسَبُنَّ فَلَاحِ  
 تَنْتَعِرِينَ ﴿۳۵﴾ فَبِآيِ الْاِءِ رَبِّكُمْ اَتَكْذِبُونَ ﴿۳۶﴾ فَاِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ  
 فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ ﴿۳۷﴾ فَبِآيِ الْاِءِ رَبِّكُمْ اَتَكْذِبُونَ ﴿۳۸﴾  
 فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ اِنْسٌ وَّلَا جَانٌّ ﴿۳۹﴾ فَبِآيِ الْاِءِ رَبِّكُمْ

آندره تھ تھ نفس کریو توه انکار ای جنو تہ انسانو يُعَسَّرُ لِحَمِلِهِنَّ وَالْاِنْسُ اِنْ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوهُنَّ  
 اَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ فَاَنْفُذُوا وَالْاَنْفُذُونَ الْاِسْلَاطِينَ ای جنن تہ انسانن ہنز و جمائو ہر گہ توه طاقت  
 تہ قدرت چھوہ توه کیا بھجو آسمان و زمینی کو بناور نشہ نبر نیرت تکانیر تو اس تہ و چھوہو۔ ہر گز بھجو نہ توه  
 نیرت مگر کونہ طاقتہ سیت۔ سو طاقت چھوی نہ توه نہ بھجو دنیاء س اندر نیرت نہ ثرت کونہ طرف س کن  
 بیہ حالت آسہ توه ہنز قیامتک دوہ تہ تہ بھجو نہ کن ثرت۔ یہ تھ باون تہ چھوہ سان نعت **فَبِآيِ الْاِءِ  
 رَبِّكُمْ اَتَكْذِبُونَ** پنہ نس پروردگارہ سنزو نعمتو آندره تھ تھ نفس کریو توه انکار ای جنو تہ انسانو۔ توه چھوہ  
 حساب و نس اندر تہ عاجزی عذاب و عقاب س اندر تہ عاجزی **يُرْسَلُ عَلَيْكُمْ شَوَاطِرٌ مِّنْ نَّارِهِ لِيَحْسَبُنَّ فَلَاحِ  
 تَنْتَعِرِينَ** ای جنو تہ انسانو آندره مجر مو توه پیٹھ یں قیامتک دوہ تراونہ نارک شعلہ بیہ دہ تھ نہ توه نشہ  
 کاہنہ تہ دفع بھ کر ت یہ ونون تہ چھوہ زریعہ ہدایت آسنہ کہ اعتبارہ نعت۔ **فَبِآيِ الْاِءِ رَبِّكُمْ اَتَكْذِبُونَ** پنہ  
 نس خدایہ سنزو نعمتو آندره تھ تھ نفس کریو توه انکار ای جنو تہ انسانو۔ **فَاِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ  
 وَرْدَةً كَالدِّهَانِ** ادہ یلہ قیامت ایہ تھ منز آسمان بھٹن پس سپدہ آسمانگ رنگ و وزل دالہ ہیو۔ اچ  
 خبردن تہ چھہ اکھ نعمتہ **فَبِآيِ الْاِءِ رَبِّكُمْ اَتَكْذِبُونَ** پنہ نس پروردگارہ سنزو نعمتو آندره تھ تھ نفس کریو  
 توه انکار ای جنو تہ انسانو۔ **فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْئَلُ عَنْ ذَنْبِهِ اِنْسٌ وَّلَا جَانٌّ** پس ایہ نہ تمہ دوہ گوئی پر ژھنہ  
 تہ سوال کرنہ اطلاع حاصل کرنہ خیطرہ کاہنہ انسانس تہ کاہنہ جنس۔ کیا زہ اللہ تعالیٰ اس چھہ خبری  
 ساری ہنز۔ اچ خبردن تہ چھہ اکھ نعمتہ **فَبِآيِ الْاِءِ رَبِّكُمْ اَتَكْذِبُونَ** پنہ نس پروردگارہ سنزو نعمتو آندره تھ

تُكذِّبِينَ ﴿۴۰﴾ يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَ  
 الْأَقْدَامِ ﴿۴۱﴾ فَيَأْتِي الْأَرْضَ بِكَمَا تُكذِّبِينَ ﴿۴۲﴾ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكذِّبُ  
 بِهَا الْمُجْرِمُونَ ﴿۴۳﴾ يُطَوَّفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ إِنْ فَيَأْتِي الْأَرْضَ  
 بِكَمَا تُكذِّبِينَ ﴿۴۴﴾ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٍ ﴿۴۵﴾ فَيَأْتِي الْأَرْضَ  
 بِكَمَا تُكذِّبِينَ ﴿۴۶﴾ ذَوَاتَا أَفْنَانٍ ﴿۴۷﴾ فَيَأْتِي الْأَرْضَ بِكَمَا تُكذِّبِينَ ﴿۴۸﴾ فِيمَا  
 عَيْنٌ تَجْرِيْنَ ﴿۴۹﴾ فَيَأْتِي الْأَرْضَ بِكَمَا تُكذِّبِينَ ﴿۵۰﴾ فِيمَا مِنْ كُلِّ

تھہ نفس کریو توه انکارای جنوۃ انسانو يُعْرِفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَ الْأَقْدَامِ پرزہ  
 ناونہ ین مجرم لوک پنہ نیو علاما تو سیت تہوند بو تھ آسہ کرنن تو پتہ ین رنہ تم کاڑہ کلہ کہ متہ سیت  
 بیہ کھوروسیت تو پتہ ین دارت دنہ جہنم اندراج خبردن تہ چھ اکھ نعمتہ فَيَأْتِي الْأَرْضَ بِكَمَا تُكذِّبِينَ پنہ  
 نس پروردگارہ سند یو نعمتو آندرہ کمہ کمہ نعمت کریو توه انکارای جنوۃ انسانو جہنم منتراونہ پتہ ایکھ دنہ  
 نہ هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي يُكذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ یہوی کیا گو سو جنم تھ مجرم (یعنی توه) انکار کران آس  
 يُطَوَّفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ پھیران تہ اورہ یور آس کران تھ جہنم تہ تچہ رسرہ وانس اندریوسہ  
 سیٹھاہ گرم آسہ گرمی ہندس آخری در جس منترگرم آسہ۔ اکھ ساتہ جیموک عذاب بیہ ساتہ جیمک  
 عذاب انج بروٹھ خبردن تہ چھ اکھ نعمتہ۔ فَيَأْتِي الْأَرْضَ بِكَمَا تُكذِّبِينَ پنہ نس پروردگار سنزو نعمتو اندر  
 تھ تھ نفس کریو توه انکارای جنوۃ انسانو وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٍ وون نس شخص کھوڑہ پنہ نس  
 پروردگار س بروٹھ کنہ استادہ سپد نس پرت ساتہ کھوڑت رود پتہ گہو تہ نافرمانیو نغمہ تہندہ خیطرہ چھ زہ  
 عالی شان جنت یہ گو خاص بدن ہندہ خیطرہ فَيَأْتِي الْأَرْضَ بِكَمَا تُكذِّبِينَ پنہ نس پروردگارہ سنزو نعمتو  
 اندر تھ تھ نفس کریو توه انکارای جنوۃ انسانو ذَوَاتَا أَفْنَانٍ تمنہ جنن اندر آسنن سہٹا لچہ دار کول  
 تہ لچہ آسن برت میوسیت فَيَأْتِي الْأَرْضَ بِكَمَا تُكذِّبِينَ پنہ نس پروردگارہ سنزو نعمتو اندر تھ تھ نفس  
 کریو توه انکارای جنوۃ انسانو۔ فِيمَا عَيْنٌ تَجْرِيْنَ تمنہ دون باغن اندر آسن زہ ناگہ رادیکن ہوند



فَاكِهَةٌ زَوْجٍ ﴿۵۲﴾ فَيَأْتِي الْآءَ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿۵۳﴾ مُتَكِينٍ عَلَىٰ فُرُشٍ  
 بَطَائِنُهُمَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ ﴿۵۴﴾ فَيَأْتِي الْآءَ رَبِّكُمَا  
 تُكذِّبِينَ ﴿۵۵﴾ فِيهِنَّ قَصْرٌ الطَّرْفُ لَمْ يَطْمِئِنَّ أَنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا  
 جَانٌّ ﴿۵۶﴾ فَيَأْتِي الْآءَ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿۵۷﴾ كَانَتْهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ ﴿۵۸﴾  
 فَيَأْتِي الْآءَ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ ﴿۵۹﴾ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا

آب دور تان جاری آسہ۔ فَيَأْتِي الْآءَ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ۔ پنے نس پروردگارہ سنزو نعمتواندر کتھہ کتھہ کریو توه انکارای جنوتہ انسانو۔ فِيهِنَّ مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجٍ۔ تمنے دون باغن اندر آسن پرت میوس زیر قسم کنہ ساسہ اکہ قسمک میوه سیت مزہ حاصل کران کونہ ساسہ بیہ میوک لطف حاصل کران۔ فَيَأْتِي الْآءَ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ۔ پنے نس پروردگارہ سنزو نعمتواندر کتھہ کتھہ نفس کریو توه انکارای جنوتہ انسانو مُتَكِينٍ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَائِنُهُمَا مِنْ اسْتَبْرَقٍ۔ تکیہ دت آسن تم جنتی تمس فرش و تھر نین پٹھ یمن ہونداستر آسہ تافہ یعنی زایول پوٹ ابرج وھنہ کتھہ سوکیاہ آسہ۔ وَجَنَا الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ۔ یمن دو شوین جتن ہوندمیوه آسہ تمس جنتین سیٹھانزدیک پرت حلس اندر آسن تمیوک لطف تلان وودہ تہ۔ شوگت تہ تکلیف و مشقتہ ورا ی آسہ تمس جالن کتھہ واتان۔ فَيَأْتِي الْآءَ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ۔ پنے نس پروردگارہ سنزو نعمتواندرہ کتھہ کتھہ نفس کریو توه بیہ انکارای جنوتہ انسانو۔ فِيهِنَّ قَصْرٌ الطَّرْفُ لَمْ يَطْمِئِنَّ أَنْسُ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ۔ تمس باغن ہنزہ لرین تہ بگلن منز آسن نظر بون کن تھوہ ونہ زنانہ یعنی بیمہ زنانہ نہ پنس خانہ دارس ورا ی کانہ شخصس کن اچھی تلان چھہ۔ نہ آسہ تمس نزدیک آمت پنے نین خانہ دارن بروٹھ نہ کانہہ انسان نہ کانہہ جن۔ فَيَأْتِي الْآءَ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ۔ پنے نس پروردگارہ سنزو نعمتواندرہ کتھہ کتھہ نفس کریو توه انکارای جنوتہ انسانو۔ كَانَتْهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ۔ رنگ آسہ تمس زنانن ہوندتو تھہ صاف تہ شفاف زن تمہ آسن یاقوت تہ لدرہ ہمشہ سرخاسرخ۔ فَيَأْتِي الْآءَ رَبِّكُمَا تُكذِّبِينَ۔ پنے نس پروردگارہ سنزو نعمتواندرہ کتھہ کتھہ نفس کریو توه انکارای جنوتہ انسانو۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ۔ کیا رث عبادت و اطاعت بدلہ چھانہ رثہ مزورہ تہ ثوابہ ورا ی میو جنتیو کردنیاس اندر رث عبادت تمیوک بدلہ اکھ عطا

الْإِحْسَانُ ۙ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦١﴾ وَمِنْ دُونِهِمَا  
 جَنَّاتٍ ۙ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٢﴾ مُدَاهِمَاتٍ ۙ  
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٣﴾ فِيهِمَا عَيْنٌ نَّضَّاحَتٌ ۙ  
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٤﴾ فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ ۙ  
 فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٥﴾ فِيهِنَّ خَيْرٌ حَسَنٌ ۙ فَبِأَيِّ آلَاءِ  
 رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ﴿٦٦﴾ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْبُيُوتِ ۙ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

کرنے آخرتس اندر روت ثواب ینہ کانہ ہنزہ اچھو و جھمت آسہ کانہ ہند ککن یوزمت آسہ کانہ  
 ہندس دلس رای گھو آسہ یہ چھو محض خدایہ سند فضل و کرم۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ پنے نس  
 پروردگارہ سنزو نعمتو آندرہ کتھ کتھ نفس کریو توه انکارای جنوتہ انسانو۔ وَمِنْ دُونِهِمَا جَنَّاتٍ  
 باغورای جھہ بہ زہ باغ تموخوتہ دستھ عام با ایمان ہندہ خیطرہ پرت با ایمانس زیز باغ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا  
 تُكَذِّبِينَ پنے نس پروردگارہ سنزو نعمتو آندرہ کتھ کتھ نفس کریو توه انکارای جنوتہ انسانو مُدَاهِمَاتٍ تم  
 دوشوے باغ آسن شوخ سبز کر ہنیرہ سان سخت سبز آسنہ موکھ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ پنے نس  
 پروردگارہ سنزو نعمتو آندرہ کتھ کتھ نفس کریو انکارای جنوتہ انسانو۔ فِيهِمَا عَيْنٌ نَّضَّاحَتٌ تمسن دون  
 باغن منز چھہ زہ ناگ یمن ہوند آب چھو زورہ سان ہیورکن شولہ ماران۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ  
 ادہ کتھ کتھ نفس پنے نس پروردگارہ سنزو نعمتو آندرہ کریو توه انکارای جنوتہ انسانو فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ  
 وَرُمَّانٌ تمسن دون باغن اندر آسن میوہ۔ خضر۔ بیہ دین فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ادہ کتھ کتھ نفس  
 پنے نس پروردگارہ سنزو نعمتو آندرہ کریو توه انکارای جنوتہ انسانو۔ فِيهِنَّ خَيْرٌ حَسَنٌ تمسن باغن  
 ہنزن لرین اندر چھہ رتھہ زنانہ خوب صورت فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ادہ کتھ کتھ نفس کریو توه انکار  
 پنے نس پروردگارہ سنزو نعمتو آندرہ جنوتہ انسانو۔ حُورٌ مَّقْصُورَاتٌ فِي الْبُيُوتِ تھے زنانہ آسن اچھہ دستھ  
 کرت نورانی بوتھ کرت خیمن اندری روزن واجنہ اورہ یور پھیرونہ آسن نہ۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا

تَكْذِبِينَ ﴿۴۳﴾ لَمْ يَطْمِئُنْ بِسُؤَالِهِمْ وَلَا جَانٌّ ﴿۴۴﴾ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا  
تَكْذِبِينَ ﴿۴۵﴾ مُتَكِبِينَ عَلَى رَفْرِفِ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ ﴿۴۶﴾ فَبِأَيِّ  
آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبِينَ ﴿۴۷﴾ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ ﴿۴۸﴾

تَكْذِبِينَ اودھ تھ تھ نفس کریو تو یہ انکار پنہ نس پروردگارہ سنز و نعمتو آندره ای جنوتہ انسانو۔ لَمْ يَطْمِئُنْ  
إِسْرَافًا وَلَا جَانٌّ ہم بستری آسنہ کر مرث تمن سیت یمو جنتیو بروئٹہ نہ کانسہ انسان نہ کانسہ جن  
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبِينَ اودھ تھ تھ نفس کریو توہ انکار پنہ نس پروردگارہ سنز و نعمتو آندره ای جنوتہ  
انسانو۔ مُتَكِبِينَ عَلَى رَفْرِفِ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ تے آسن تکیہ دتھ سبز مخملی قالینن پٹھ بہت بیہ نہ  
نہ کرہ و نین رتین فرش پٹھ بہت۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكْذِبِينَ اودھ تھ تھ نفس پنہ نس پروردگارہ سنز و  
نعمتو آندره کریو توہ انکار ای جنوتہ انسانو۔ تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ بابرکت چھونا نام پاک  
تھوندس پروردگارہ سندیار رسول اللہ نس پروردگار عظمت و ول تہ احسانہ و ول چھو۔ یہ سارے دنیوی  
نعمو چھ تسزے یہ یلہ نام پاک برکت گیہ امے آندره گزھ زانن کہ ناوہ و ول کیو تھ آسہ تہندہ ذات  
پاکچہ برکت کڑ کڑہ آسن کیڑہ آسن ظاہر اچھوسپدان معلوم کہ باایمان جن تہ انسان دوشوین چھو  
واتن جنتس۔ دوشوین سپدان حاصل چلچلے نعمو دوشوین عطا کرنہ چتہ حورہ۔ لَمْ يَطْمِئُنْ بِسُؤَالِهِمْ  
وَلَا جَانٌّ آندره چھو مراد کہ یہ حورہ انسان جنتین عطا کرنہ تمن حورن نزدیک آسنہ آمت تمن  
انسان جنتین بروئٹہ کانہہ انسان کیاہہ تمہ حورہ آسن انسانن ہندہ خیطرہ مخصوص آمرہ کرنہ۔ تھے پاٹھ  
جن جنتین یہ حورہ عطا کرنہ یں تمن حورن آسنہ نزدیک آمت تمن جن جنتین بروئٹہ کانہہ جتہ کیاہہ  
تمہ حورہ آسن جن جنتین ہندی خیطرہ مخصوص آمرہ کرنہ۔ گوڈنک زہ جنت یمن ہنز ذکر گوڈہ آہ  
کرنہ تمن ہندہ افضل بہتر آس کن آوتر جس اندر اشارہ کرنہ۔ وین چھ تجہ دلیلہ بیان یوان کرنہ۔  
تفسیر در منشورس منز چھو حدیث شریف کہ فرمود حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنتان  
من ذهب للمقربین وجنتان من ورق لأصحاب اليمين یعنی تم زہ جنت چھ سونہ سندی۔ مقر بن  
ہندہ خیطرہ۔ بیہ زہ جنت چھ روپہ سند تمن ہوند سوری سامانہ چھو روپہ سندی تم چھ اصحاب اليمين  
ہندہ خیطرہ۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۝۱ لَيْسَ لَوْقَعِهَا كَاذِبَةٌ ۝۲ خَافِضَةٌ ۝  
 رَافِعَةٌ ۝۳ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا ۝۴ وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ۝  
 فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا ۝۶ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً ۝۷ فَأَصْحَبُ الْيَمِينَةِ ۝  
 مَا أَصْحَبُ الْيَمِينَةَ ۝۸ وَأَصْحَبُ الْمَشْأَمَةِ ۝۹ مَا أَصْحَبُ الْمَشْأَمَةَ ۝  
 وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ ۝۱۰ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ ۝۱۱ فِي جَنَّتٍ

إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ يله قیامت واقع سپده لَيْسَ لَوْقَعِهَا كَاذِبَةٌ نندتمه سائتمه که امس واقعہ سپدنس اندراوسنہ کانہہ شکھاہ تہ خلافا، بلکہ اوس امیوک واقع سپدن بالکل صحیح تہ پڑ، یہ آسنہ ٹھٹھہ باشاہ، خَافِضَةٌ رَافِعَةٌ سہ قیامت چھ بعضے لوکن پست کرہون، بیہ بعضے لوکن بلند کرہون، یعنی تمی دوہہ سپدہ کافرن ہندہ ذلت و پستی ہیوند تہ باایمان ہندہ رفعت و بلندی ہیوند ظہور إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًا یلہ بونیول ایہ زمینس سیٹھہ سخت بونیولاہ، یعنی دسر اونہ بیہ سوزورہ، وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا بیہ آیہ کوہن ریزہ ریزہ کرنہ فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًا پس سپدن کوہ چھکرنہ آثر گردہی، وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً توہہ سپد کو سارنی لوکن اولینن تہ آخرین تہ ترہ جماژ، اکھ جماعت گیہ دوزخی، بیاکھ گیہ عام جلتین ہنز، بیاکھ گیہ خاص جماعت مقر بینن ہنز، یم جنتہ کین اعلیٰ درجن منز آسن، امہ کوی تفصیل چھہ اللہ تعالیٰ فرمادان، فَأَصْحَبُ الْيَمِينَةِ مَا أَصْحَبُ الْيَمِينَةَ پس چھویو آندرہ اکھ قسم دچھنہ طرفک لوک، کیاہ رت چھہ تم دچھنہ طرفک لوک، تم گئے تمنے یمن نامہ اعمال ایہ دیندہ چھس اتھس کتھہ، دویم قسم گو لوکن ہیوند وَأَصْحَبُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَبُ الْمَشْأَمَةَ کھوفرہ طرفک لوک، تم کھوفرہ طرفک لوک کیتیاہ بیچھہ چھہ، مراد چھہ تمو آندرہ تم لوک یمن نامہ اعمال ایہ دنہ کھوفرس اتھس کیتھہ، یعنی کافر، وَالسَّابِقُونَ

التَّعِيمِ ۱۲ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ ۱۳ وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ ۱۴  
 عَلَى سُرْرٍ مَوْضُوعَةٍ ۱۵ مُتَّكِينَ عَلَيْهَا مُتَّقِلِينَ ۱۶  
 يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ ۱۷ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ  
 مِنْ مَّعِينٍ ۱۸ لَا يُصَدَّ عُنُقَهُمْ وَالْأَيْزُوفُونَ ۱۹ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا  
 يَتَخَيَّرُونَ ۲۰ وَالْحَمِيرِ مِمَّا يَشْتَبُونَ ۲۱ وَحُورٍ عِينٍ ۲۲ كَأَمْثَالِ

الطُّبَعُونَ تریوم قسم گو بر و نھ گدھ و نین هیوند، تمے گئے برو نھ گدھ و ن اعلیٰ درجک لوک، اولیک  
 الْمَعْرُوفُونَ تم گئے خدائیس سیت خاص قرب تہ نزدیکی تھو و ن لوک، فی جئنت التَّعِيمِ یم مقرب  
 لوک آسن نعمت کین باغن اندر، عیش و آرامس منز ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوَّلِينَ \* وَقَلِيلٌ مِنَ الْآخِرِينَ یمن  
 مقرب لوکن ہنز بڈ جماعت آسہ برو نھمیو لوکو اندرہ کیازہ تہوند تعداد چھو زیادہ کم جماعت آسہ پتہ اوہ  
 دنیو اندرہ، برو نھمیو اندرہ چھو مراد آدم علیہ السلامس پیٹھ عیسیٰ علیہ السلامس تان، پتہ اوہ و نیو اندرہ  
 چھہ مراد پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم سندہ پیٹھ، قیامتس تام، عَلَى سُرْرٍ مَوْضُوعَةٍ تم مقرب  
 لوک آسن بہت تمن تخن پیٹھ یم سونہ سنز و تارو سیت و ونہ آسن آمت، بیہ آسکھ لعل و جواہر جرنہ  
 آمت، مُتَّكِينَ عَلَيْهَا مُتَّقِلِينَ تمخی تخن پیٹھ آسن تکیہ دت بہت، اکھ اکس ن بوتھ کرت،  
 يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ یوان گدھان آسن تمن نغمہ خوب صورت لوکٹ لوکٹ خدمت گار،  
 یم اکسی حالس تہ عمرہ پیٹھ روزن ہمیشہ پاکو آب و آباریق تمے آسن تمن نغمہ انان ٹھکدار آب خور، بیہ  
 قربہ نارہ، وَكَأْسٍ مِنْ مَّعِينٍ بیہ پیالہ یم شراب طہورہ سیت بربر آسن، بس شراب قدرتی طور  
 ناگو تہ چشمو سیت اندرہ نیرت جاری آسہ، لَا يُصَدَّ عُنُقَهُمْ وَالْأَيْزُوفُونَ یمہ شراب طہورہ سیت نہ  
 کرہ تمن کلہ دودز انہ، نہ ایکھ عقلہ منز قنورز انہ، وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَخَيَّرُونَ بیہ ین تم خوب صورت  
 لوکٹ تمن برو نھسکن تم میوہ ہیئت یم تم پسند کرن، وَالْحَمِيرِ مِمَّا يَشْتَبُونَ بیہ انکھ ہیئت و ڈوہ و نین  
 جانورن ہیوند بوز مت ماز یمن ہیوند تم میل تہ خواہش کرن، وَحُورٍ عِينٍ بیہ آسن تمن جنتین ہندہ

اللُّؤْلُؤُ الْمَكْنُونُ ﴿٢٧﴾ جِزَاءً لِّمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢٨﴾ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا  
لَغْوًا وَلَا تَأْتِيهِمْ إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا ﴿٢٩﴾ وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ  
الَّذِينَ فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ ﴿٣٠﴾ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴿٣١﴾ وَظِلِّ مَمْدُودٍ ﴿٣٢﴾ وَ  
مَاءٍ مَّسْكُوبٍ ﴿٣٣﴾ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ ﴿٣٤﴾ لَّامْقُطُوعَةٍ ﴿٣٥﴾ وَلَا مَنُوعَةٍ ﴿٣٦﴾

خیطرہ تمن جتن اندر تمے زانہ یہ پر نہ آسن، اہنزہ اچھہ ویچھہ آسن، گامثال اللؤلؤ المکنون تمے  
آسن محفوظ تھادہ آمت نخہ ہشہ صاف وشفاف، نہ نہ کران، جزاء لئما کانوا یعملون یہ اکیہ بدلہ  
عطا کرنہ تمن رثن کاین ہیوند یہ تمہ دنیا س منز کران آسن، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاتیہما  
سوجنک شراب طہور چت یا تمہ ورا می نہ بوزن نہ تمن جتن اندر کانہہ بے ہودہ کتھاہ، یا ناگوار کلاماہ،  
یہہ سیت تہوند عیش متعفن سپدہ ہا، الا قیلا سلما سلما مگر آسہ پر تھ طرفہ یوان تمن سلامی ہنز  
آواز، حق تعالی کرہ تمن سلام، سلام، قولان رب رحیم، ملایک آسن کران تمن سلام، والملائکہ  
یدخلون علیہم من کل باب، سلام علیکم طبعم پانہ وان نہ آسن اکھ اس سلام کران تختہم فیہا سلام،  
غرض کہ روحانی و جسمانی پر تھ قسمک اعلیٰ درجک لذت آسہ تمن حاصل یہ گوسا یقین ہیوند حال،  
امہ پتہ چھو بیان یوان کرنہ اصحاب الیسین ہیوند حال وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ یہہ ہم دہجھہ  
طرفک لوک چھ، کیاہ رت چھہ تم دہجھہ طرفک لوک، فِي سِدْرٍ مَّخْضُودٍ تم آسن بریہ کلین ہندین  
باغن اندر یمن نہ کنڈ آسن وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ یہہ کیلہ کولین ہندین باغن اندر، یمن کیلہ لگت آسن  
پیوٹھوس پیٹھ، وَظِلِّ مَمْدُودٍ یہہ آسن زہٹھ، زہٹھس سالیس تل، تیوت زیوٹھ سایہ کہ ہر گاہ تیز رفتار  
گراکس ہس ورہس گنی دور تلہ، توتہ ورنہ سوسایہ، نہ آسہ تھہ سالیس اندر گرمی نہ آسہ سردی، نہ  
آسہ تاریکی نہ نہ انہ گٹھ، نہایت خوشگوارہ معتدل آسہ وَمَاءٍ مَّسْكُوبٍ یہہ آسہ تمن باغن اندر آب  
جاری، وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ یہہ آسن تمن باغن اندر بکثرت میوہ، لَّامْقُطُوعَةٍ وَالْمَنُوعَةِ یہہ نہ ختمی  
گوہان آسن زانہہ دنیا کین میون ہند پاٹھ، کہ موسم ختم سپنہ سیت کیا آسہ ہن میوہ نہ ختم سپدان،

وَفُرْشٍ مَّرْفُوعَةٍ ۳۳ اِنَّا اَنْشَاْنَهُنَّ اِنْشَاءً ۳۵ فَجَعَلْنَهُنَّ اَبْكَارًا ۳۶  
عُرْبًا اَثْرَابًا ۳۷ لِاصْحَابِ الْيَمِينِ ۳۸ ثَلَاثَةٌ ۳۹ مِنَ الْاَوَّلِينَ ۳۹ وَثَلَاثَةٌ ۴۰  
مِّنَ الْاٰخِرِينَ ۴۰ وَاَصْحَابُ الشِّمَالِ ۴۱ مَا اَصْحَابُ الشِّمَالِ ۴۱ فِي سَمُوْمٍ ۴۲  
وَحَمِيْمٍ ۴۲ وَظِلٌّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ ۴۳ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيْمٍ ۴۴ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ  
ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ ۴۵ وَكَانُوْا يُبْصِرُوْنَ عَلٰى الْحِنْتِ الْعَظِيْمِ ۴۶ وَكَانُوْا

بہ آسن نہ تم میوہ ٹھاک کر نہ آمت، وُفْرُشٍ مَّرْفُوعَةٍ بہ آسن تھند تھند و تھرن، تمنی و تھرنین پیٹھ  
آسن خوب صورت انہر شہ زنانہ اِنَّا اَنْشَاْنَهُنَّ اِنْشَاءً اسہ اسہ تمن زنانن ہنز پیدا نش کر مثر خاص  
طریق، فَجَعَلْنَهُنَّ اَبْكَارًا تمہ آسن اسہ کر مثرہ سارے انہر شے، حور تہ، دنیا چہ زنانہ تہ، بیمہ دنیا س  
اندر آسہ بن سپہ مثرہ جہ، آندہ تہ کانہ، تمنی آیہ جنتیس اندر نوزندگی تہ نولو کہ چار عطا کر نہ، تمن آسہ نہ  
سوانہر شر پنے نین خاندازن ہندہ ہم بستری کر نہ سیت تہ ژلان نہ زایل سپدان، عُرْبًا اَثْرَابًا تمہ آسن  
دلربانہ تعبلاوہ ونہ، یعنی خاندان پنہ نین نازو تہ عشو سیت پانس گن مایل کرہ ونہ، بیمہ آسن اکی وانسہ،  
غرض تہوند حسن و جمال، نازو انداز، حرکات و سکنات، ساری چیز آسن دلکش لِاصْحَابِ الْيَمِينِ یم  
ساری چیز آسن دہجھہ طرفہ کین لوکن ہندہ خیطرہ، ثَلَاثَةٌ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ \* وَثَلَاثَةٌ مِنَ الْاٰخِرِيْنَ اصحاب  
تسمین ہنز ہڈ جماعت آسہ بروٹھمیو لوکو اندرہ، بیمہ آسہ ہڈ جماعت اہنز پتہ اوہ و نیو اندرہ وَاَصْحَابُ  
الشِّمَالِ مَا اَصْحَابُ الشِّمَالِ بیمہ یم کھوفرہ طرفہ لوک چھہ، تم کھوفرہ طرفہ لوک کیتیاہ بیچھہ چھہ، فی  
سَمُوْمٍ وَحَمِيْمٍ تم لوک آسن نارس تہ رسر منز، وَظِلٌّ مِّنْ يَّحْمُوْمٍ بیمہ سخت سیاہ دھس کس سائیس تل،  
یتھ منز نہ درینشی کینہ یوان آسہ، لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيْمٍ نہ آسہ سو دوہ شہول، نہ آسہ سو کتہ قسمہ خوش منظر تہ  
راحت ولتہ ناوہ ون، یہ یو تھ عذاب کیازہ سنا آسہ تمن، اِنَّهُمْ كَانُوْا قَبْلَ ذٰلِكَ مُتْرَفِيْنَ بے شک تم آسنا بیمہ  
بروٹھ یعنی دنیا س اندر عیش و آرامس منز، بیمہ سببہ فکری کھسان او سکتھہ کینہہ، تھہ خوشحالی اندر  
آس غرق گیمت، وَكَانُوْا يُبْصِرُوْنَ عَلٰى الْحِنْتِ الْعَظِيْمِ تمی آسن تم ڈاڈ کرت اکس ہڈس گنہس پیٹھ یعنی

يَقُولُونَ هَٰئِنذٍ نَمُنَّا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا ۗ إِنَّا الْمَبْعُوثُونَ ﴿۳۸﴾ أَوَابًا وَنَا  
 الْأَوَّلُونَ ﴿۳۹﴾ قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ ﴿۳۹﴾ لَمَجْمُوعُونَ ۗ هَٰ إِلَىٰ  
 مِيقَاتٍ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿۴۰﴾ ثُمَّ إِنكُمْ أَيْهَا الضَّالُّونَ الْمَكِيدُونَ ﴿۴۱﴾  
 لَأَكُلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُومٍ ﴿۴۲﴾ فَمَا لُئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ﴿۴۳﴾  
 فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ ﴿۴۴﴾ فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ ﴿۴۵﴾  
 هَٰذَا نَزَّلْنَاهُمْ يَوْمَ الدِّينِ ﴿۴۶﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تَصَدَّقُونَ ﴿۴۷﴾  
 أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَمَنُّونَ ﴿۴۸﴾ ؕ أَن تُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ ﴿۴۹﴾

شرکس تہ کفرس پیٹھ وکلاؤ یقولون بیہ آس تم وان، ایدنا متنا وکنا ترابا و عظاما انا المبعوثون کیا  
 اس یلہ مرو تو پتہ دودرو، اس روز نہ کینہہ تہ مرثہ تہ اذ جو رای، تہ گزہت ییوہ اس دوبارہ بیہ زندہ کرنہ،  
 اوابا ونا الاولون کیا بیہ یینہ سان برو تھیم مال بوڈبب تہ زندہ کرنہ۔ اہنز حالت سانہ خوتہ تہ بدتر  
 آسہ گمہ، قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ \* لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتٍ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ توہ فرما یو کہ یا رسول اللہ  
 بے شک تہنز کیا چھ کتھی، اولین تہ آخرین، ساری یین جمع کرنہ تہ سونبراونہ اکہ دوہہ اکس معین کرنہ  
 آتس و قس پیٹھ، یعنی قیامتک دوہ، ہمیک وقت اللہ تعالیٰ سندس علس اندر مقرر چھہ ثُمَّ إِنكُمْ أَيْهَا  
 الضَّالُّونَ الْمَكِيدُونَ تو پتہ چھو تہ ای ویہ ذلیتو، ای پزس اپززانہ و نیو لاکلون من شجر من زقوم آسہ  
 تہ ضرور کھیون، زقومہ کہ کلہ منزہ فَمَا لُئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ تی زقومہ سیت آس توہ پنہ نہ یڈ برہ و سن  
 تہ پڑ کرہ و سن، فَشَرِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ تہ پیٹھ آسہ تہ چن چن رسر فَشَرِبُونَ شُرْبَ الْهَيْمِ  
 سوی رسو چھو تہ، تریشہ ہمین ووٹن ہند پاٹھ، هَٰذَا نَزَّلْنَاهُمْ يَوْمَ الدِّينِ بیہ آسہ گوڈنچ ضیافت تہنز  
 قیامتک دوہ، نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تَصَدَّقُونَ اسہ کرہ تہ ساری پیدہ، گوڈنچ لہ، تہ تہ تہ تہ چھوہ تسلیم  
 کران، دویمہ لہ پیدہ کر نس کونہ چھوہ تہ تسلیم تہ تصدیق کران، أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَمَنُّونَ \* أَن تُمْ تَخْلُقُونَهُ



نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿٦٠﴾ عَلَىٰ أَنْ  
 يُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئْكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦١﴾ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ  
 النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٦٢﴾ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ ﴿٦٣﴾ إِنَّكُمْ  
 تَزْرَعُونَهَا أَمْ نَحْنُ الزُّرْعُونَ ﴿٦٤﴾ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا  
 فَظَلَّمْتُمْ تَفَكَّهُونَ ﴿٦٥﴾ إِنَّا لَمَعْرَمُونَ ﴿٦٦﴾ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ ﴿٦٧﴾

اَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ توہ ورتولیس منی یعنی نطفہ توہ وادانہ تاوان چھوہ زنانہ ہندین شکمن تہ بچہ دانین اندر، کیا تو ہی چھوہ تھہ نطفس انسان بناوان، بکنہ اس چھہ انسان بناوان وال، یہ تھہ چھہ ظاہر کہ بناوان وال تہ پیدہ کرن وال چھہ اسی، منی اندر تراونہ پیتہ پھنہ تہہ چہ کنہ کامہ پیٹھہ تھوہند کانہہ تصرف، یہ پھنہ اسہ ورا ی کانہہ ہنز کوم، نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْمَوْتَ اسی چھوہ مقرر کر مت تو ہندہ خیطرہ مرن، یعنی سانی کوم پیدہ کرون، تو پیتہ اکس خاص و قس تام زندہ تھاون، تو پیتہ اکس معین و مقررہ و قس پیٹھہ ماژن، یہ پھہ سارے کامہ سائے، وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ اسہ پھنہ ہرگز عاجز علیٰ أَنْ يُبَدِّلَ أَمْثَالَكُمْ وَنُنشِئْكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ سمہ تھہ نشہ کہ اس کیا بدلاووه توہ، تو ہی ہیوین بین لوکن سیت، بیہ وادہ تاوہ توہ تھہ عالس منز، یتیدک نہ توہہ پیتہ ہی آسہ، یا بناووه توہ تمی قسمک مخلوق بین ہنز نہ توہ خبری آسہ، یعنی توہ سپدہ مٹ صورت، واندرن تہ سُورن ہنز شکل، اسہ بیکہ نہ تمہ نشہ کانہہ تہ پھہ رُتھہ، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ بے شک توہ چھہ سانہ گوڈہ پیدہ کرکج خبرئی، ادہ کونہ چھوہ توہ یاد پیوان تہ فکرہ تران کہ قیامتگ دوہ تہ آیوہ توہ اتھہ پاٹھہ بیہ دوبارہ پیدہ کرنہ، أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ \* اَنْتُمْ تَزْرَعُونَهَا اَمْ نَحْنُ الزُّرْعُونَ توہ ورتوای لوکو لیس توہہ غلاتن ہیوند بیول زمینس منز ووان چھوہ، کیا توہ چھوہ تھہ بیالس زمینہ منزہ کل کھاران، بکنہ زراعت تہ کل کھارہ وٹن چھہ اس، سوزراعت کھیت تہ چھوہ سوسائسی اختیار س اندر، لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلَّمْتُمْ تَفَكَّهُونَ ہر گاہ اس یڑھو سو زراعت کرون اس ہاشہ گو مت، لیس پنہ پنہ سو روی وس پیہ، پنہ وراے آسہ کنہ، پس سپد یو توہ حیران

أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿٦٨﴾ ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ  
 الْمُنْزَنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ ﴿٦٩﴾ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا  
 تَشْكُرُونَ ﴿٧٠﴾ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ﴿٧١﴾ ءَأَنْتُمْ  
 أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنْشِئُونَ ﴿٧٢﴾ نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكَرَةً  
 وَمَتَاعًا لِلْمُقِيمِينَ ﴿٧٣﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٧٤﴾ فَلَا  
 أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ ﴿٧٥﴾ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿٧٦﴾

تہ پریشان دینہ لگیو توہ، اِنَّا الْمَعْرُومُونَ بے شک چھہ اس نقصان زدہ تاون زدہ، بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ  
 نقصان چھہ نہ کتھی، بلکہ چھہ اس بالکل محروم، اسہ رودنہ کنھی، أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ توہ  
 و نٹوای لوکو تھہ آس متعلق یس توہ چوان چھوہ، ءَأَنْتُمْ أَنْزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُنْزَنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنْزِلُونَ  
 کیا توہی چھوہ سو آب ابر منزہ تراوان، کینہہ سو آب تراوان وال چھہ آس، سو باران تراوت تہ چھوہ سو  
 آسان سانس اختیار س اندر، لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ ہر گاہ اس یشو سو کرون اس  
 نمکین تہ ٹیوٹھ، بالکل بدمزہ، تہ بیگون کرت، و سَنَ چھوہ یہ سان ہڈ مہربانی کہ اس چھوہ نہ سو آب  
 ٹیٹھراوان، اوہ کوہ چھوہ توہ شکر گذاری کران بیاک بوڈ فرض چھو شکر تراوان تہ توحید پان، أَفَرَأَيْتُمُ  
 النَّارَ الَّتِي تُورُونَ ای لوکو توہ و نٹوئس نار توہ روشن کران چھوہ، ءَأَنْتُمْ أَنْشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ  
 الْمُنْشِئُونَ کیا توہ کردھ تم کل پیدہ یمو منزہ تم سبز آتھہ سونا چھو نیہ ان ٹس تہزن لجن اکھ اس  
 سیت کھرن دنہ کہ وقتہ ظاہر سپدان چھو، کنہ آس چھہ تمن کلین ہند پیدہ کرہ و سَن، تمو منزہ سو شعلہ تہ  
 رہ کرہ و سَن، نَحْنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكَرَةً وَ مَتَاعًا لِلْمُقِيمِينَ اسہ کر یہ دنیاک نار آخر تک نار دوزخ تہ تیس  
 پاونک اکھ چیزہ پیدہ، بیہ اکھ فایدک چیزہ مسافرن ہندہ خیطہ، سو نفع تلن تہ چھو موقوف خدایہ  
 سندس قدر تہ پیٹھ، لہذا سمنز یہ قدرت چھہ، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ پس کر پو توہ تس پنہ نس  
 بڈس پروردگارہ سندہ نام پانگ تسبیح تہ تمجید، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوْقِعِ النُّجُومِ بو چھس قسم ہاوان تارہ کن

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿۴۴﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿۴۵﴾ لَا يَسْمَعُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿۴۶﴾  
 تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۴۷﴾ أَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ ﴿۴۸﴾  
 وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكذِّبُونَ ﴿۴۹﴾ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ ﴿۵۰﴾  
 وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ ﴿۵۱﴾ وَمَعْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا


ہنزن لوسنہ چن جاین، ہیوند ورائہ لقسَم لَو تَعْمَرُونَ عَظِيمٌ پڑھا تھہ یہ چھو قسماہ سیٹھاہ بوڈ ہر گاہ توہ  
 خبر آسہا کیا زہ خدا سمیک قسم ہا وہ سو چھا معمولی کتھاہ، قسم چھو تھہ کتھاہ پیٹھ کہ إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ \* فِي كِتَابٍ  
 مَّكْنُونٍ بے شک یہ قرآن مجید نِس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیٹھ نازل سپدان چھو، تمہ کہ منزل  
 من اللہ آسنہ موکھ چھو سو سیٹھاہ کرم و معظم قرآن مجید نِس اکس محفوظ کتابہ اندر بروٹھ پیٹھے درج  
 چھو، یعنی لوح محفوظ اندر، لَا يَسْمَعُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ اتھ چھنہ لاگان تھہ لوح محفوظ، مگر پاک و  
 پاکیزہ ملک، شیطان چھنہ ممکن، اتھ، لکھ یکن یا تھہ لاگن، امہ کین معنی پیٹھ مطلع پدنج چھنہ تھھی،  
 بعضے مفسرین چھہ لاسمئہ، راجع کران قرآن مجید سگن، یعنی اتھ قرآن مجید س چھنہ اتھ لاگان مگر  
 پاک لوک یعنی آھند دل صاف چھہ اھند اخلاق پاکیزہ چھہ، یمن و تھہ چھہ یوان امہ کین علوم و صنایعین  
 سگن، یا چھو یہ نفی یعنی نہی گو مطلب اتھ قرآن مجید س مہ آسن اتھ لاگان مگر پاک لوک یعنی بے  
 طہارت آسن نہ اتھ لاگان یا تھپ کران، چنانچہ حدیث شریفن اندر چھو تھہ متعلق بیان فرمومت  
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ یہ قرآن مجید چھو نازل کرنہ آمت رب العالمین  
 سندہ طرفہ أَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ کیا اتھ کلام پاکس سیت چھو تھہ سو معمولی کتھاہ زانت  
 خلاف کران، وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنْتُمْ تُكذِّبُونَ امہ مد اہنتہ علاوہ چھو تھہ بنوموت اتھ قرآن مجید س  
 انکار کرون تہ سوا پڑزان پنون غذا، تمی چھو توحید س تہ قیامتہ کس دوہس انکار کران، ہر گاہ یہ انکار  
 کرون تو ہندہ پڑ چھو، فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلُقُومَ اودہ کونہ چھو تھہ وقتہ کنہ ہیکان کرت یمہ وقتہ  
 تو ہندس کانسہ رشتہ دارس، عزیزس مرنہ و زہ زوہرس پیٹھ واتان چھو، مو تہ چہ سختی گرفتار سپدان  
 چھو، وَأَنْتُمْ حِينِيذٍ تَنْظُرُونَ توہ چھو حسرتہ چو نظر و تہس و چھان، تمسز بے بسی تہ درماندہ گی ہیوند

تُبْصِرُونَ ﴿۸۵﴾ فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ ﴿۸۶﴾ تَرْجِعُونَهَا إِنْ  
 كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۸۷﴾ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ ﴿۸۸﴾ فَرَوْحٌ وَ  
 رَيْحَانٌ ۚ وَجِبَتْ نَعِيمٌ ﴿۸۹﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿۹۰﴾  
 فَسَلَامٌ لَكَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ ﴿۹۱﴾ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ

تماشہ و چھان، وَعَنْ أَقْرَبٍ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تَبْصِرُونَ اس تہ چھ تہس مرن والس شخصس توبہندہ  
 خوتہ زیادہ نزدیک آسان توبہ چھو و چھان تہوند ظاہری حالی یوت، اسہ چھو معلوم تہوند باطنی حال تہ،  
 مگر توبہ چھو نہ سون تہس نزدیک تہ قریب آسن و چھان فَلَوْلَا إِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ اگر فی الواقع توبہ  
 قیامتک دوہ دوبارہ بیہ زندہ آیونہ کرنہ توبہ حساب آیہ نہ ہیئہ، توبہ کانسہ ہندس اختیارس منز چھوہ نہ  
 تَرْجِعُونَهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ تلہ کونہ چھوہ اس مرن والس شخصسہ سند روح واپس اتان، یا کیا زہ چھوہ  
 تہندس روحس نیرنہ دیوان، چھوئے توبہ اتہہ خط و خیالس یعنی قیامتہ کس انکارس اندر پزیر، معلوم  
 سپد کہ قیامتک وقوع چھو حق تہ پز، لہذا ایلہ سہ قیامت قائم سپدہ فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ پس نس  
 شخصس آسہ تمہہ دوہہ مقرب بند و آندرہ، فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجِبَتْ نَعِيمٌ تلہ چھو تہندی خیطرہ کمل  
 آرام، بیہ فراغتک غذا، یا جنتک بوی خوش، بیہ نعمون ہند باغ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَن  
 نس آسہ دچھنہ طرفہ کیو لو کو آندرہ، تہس آیہ وندہ، فَسَلَامٌ لَكَ مِنَ أَصْحَابِ الْيَمِينِ چانہ خیطرہ چھو امن  
 و اماں پر تہہ آفتہ نعرہ، کیا زہ ژہ جھٹ اصحاب سیمو آندرہ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ وَن  
 نس شخصس آسہ پزس انکار کرہ و نیو آندرہ، و تہ ڈلیبو آندرہ، فَذُلٌّ مِنَ هَيْبِهِمْ \* وَتَصْلِيَةٌ مِنْ جَنَّتِهِمْ پس آیہ  
 تہس گوڈنی پیش کرنہ سچ رسر، تو پتہ گوس و اتن تہ داخل سپدن دزہ و نس نارس اندر، ہمیشہ روزنہ

الضَّالِّينَ ﴿٩٢﴾ فَنُزِّلُ مِنْ حَمِيمٍ ﴿٩٣﴾ وَتَصْلِيَةً جَحِيمٍ ﴿٩٤﴾ إِنَّ  
هَذَا الْهُوحَىٰ الْيَقِينُ ﴿٩٥﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ﴿٩٦﴾

خیطرہ انّ هذا الهوحى الیقین بے شک یہی چھ پزرتہ یقینی تھ، فسبّح باسم ربك العظیم لہذا  
ہندس اختیار و تصرف منزیمہ سارے کتھ چھ، تس عظیم الشان پنہ نس پروردگارہ سندہ نام پاکہ سیت  
کریو توه تہوندیاد، پران آسیو سبحان ربی العظیم یلہ یہ آیہ کریمہ نازل سپد نبی کریم صلی اللہ علیہ  
وسلمس پیٹھ فرمووک اجعلوہا فی رکوعکم یہ تھاویو توه پٹن وظیفہ نمازہ ہندس رکوعس اندر، یعنی  
رکوعس اندر آسیو پران یسوی تسبیح سبحان ربی العظیم یلہ یہ نازل سپد سبّح اسم ربك الاعلیٰ  
تمہ ساتہ فرمونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجعلوہا فی سجودکم یہ تھاویون توه پنہ نس سجدس  
اندر، یعنی سجدس اندر آسیو پران سبحان ربی الاعلیٰ۔



## سُورَةُ الْحَدِيدِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ① لَهُ مُلْكُ  
 السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ②  
 هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ③  
 هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى  
 عَلَى الْعَرْشِ يُعَلِّمُ مَا يَلْبِغُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ      الله تعالیٰ سزایاکی چھہ بیان کران ساری مخلوق یم آسمان منزتہ  
 زمین منزچہ اذ بزبان قال، اذ بزبان حال، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ      سو چھو سیٹھاہ زبردست سٹھاہ حکمتہ دول  
 لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ      تھوندوی راجتہ حکومت چھو آسمان تہ زمین اندر، يُحْيِي وَيُمِيتُ  
 سوی چھو زندگی عطا کران سوی چھو ماران، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ      بیہ چھو سوی پر تھہ چیزس پیٹھہ  
 قدرتہ دول      هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ      سوی چھو سارنی مخلوقن بروٹھ، سوی چھو سارنی  
 مخلوقن پیٹھ، سوی چھو دلین ہندہ اعتبارہ ظاہر تہ نون سوی چھو بیہ اعتبارہ کہ تھندہ ذاتک ٹھنتہ ادراک  
 کیا بیٹھ نہ کا نہہ تہ کرت باطن تہ پوشیدہ، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ      سوی چھو پرت چیزاہ پورہ زانہ ون،  
 هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ      سوی چھو تیو تھہ قدرتہ دول کہ تم کرو آسمان تہ زمین  
 پیدہ، شن دوہن ہندس مدتس اندر، ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ      توپتہ سپد مستوی عرش پیٹھہ تھہ پاٹھہ  
 اُتھہ پاٹھہ ہندس شانس شوبہ، يُعَلِّمُ مَا يَلْبِغُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا      سوی چھو زانان تہ سوری بیہ وسان  
 واتان تہ آثران ہھوز مینس اندر، بیہ تہ سوزوی بیہ تہ تمہ منزہ کھسان تہ نیران چھو، وَمَا يَنْزِلُ مِنْ

مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرِجُ فِيهَا ۖ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ ۗ وَاللَّهُ بِمَا  
تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝۴ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ  
الْأُمُورُ ۝۵ يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ۗ وَهُوَ  
عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝۶ اٰمِنُوۤا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖ ۚ وَاَنْفِقُوۡا مِمَّا  
جَعَلَكُمْ مُّسْتَخْلَفِيۡنَ فِيْهِ ۗ فَاَلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوۡا

السَّمَاءِ وَمَا يَعْرِجُ فِيهَا بیه تہ سوروی یہ دسان چھو آسمان کہ طرفہ بیه تہ سوروی یہ کہ کھسان چھہ  
توکن، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ چنانچہ سو چھو علم واطلاع کہ اعتبارہ توه سیت سیت ادہ بیت توه آسیوتہ  
تت وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بیه چھو سو معبود برحق توهنزه سارے کامہ وچھان، توبہہ ہیکونہ کنہ جایہ  
تس نشہ ژورہ تہ کھت روزت لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ تهنزی سلطنت تہ  
حکومت چھہ آسمان تہ زمین منز پیٹہ تہ آویان کرنہ لہ ملک السموات والارض، تہہ نس چھو مراد  
احیاء واماتت، یعنی زندہ کرنگ تہ مارک مسئلہ چھنہ تس وراي کانہ ہندس اختیارس اندر تتس  
فرموو کہ بیه لہ ملک السموات والارض یوتھ ثابت تہ محقق سپدہ کہ مرنہ پتہ بیه پیدہ کرن تہ چھو  
تھند سئی اختیارس اندر، لہذا چھنہ اتھ آیہ کر تس اندر تکرار کینہ تہ، يُؤَلِّجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُؤَلِّجُ  
النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ سوی چھو راتہ ہندین حصن دوہہ کین حصن منز ملناوان، یہ سیت دوہ چھو بزان، سوی  
چھو دوہہ کین حصن راتہ سیت ملناوان یہ سیت رات چھہ بزان، اتھ قدر تس سیت چھو تھوند علم تمہ  
قسمہ کامل، کہ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ سہ چھہ زانان لوکن ہندین دلن ہنزہ تھہ تہ رایہ تان تہ، وُسْن  
یلہ ہنزہ وحدانیت مکمل طور ثابت سپز، اٰمِنُوۤا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهٖ ای لوکو ایمان انیوتہ پڑھ کریو کنس  
خدایس، سوزانیون منزہ تہ پاک مٹہ چیزس اندر شریک آسنہ نشہ، بیه کریو پڑھ تھندس پیغمبرس، کیاہہ  
تھندس رسالتس پڑھ کرنہ وراي چھنہ توحید نجات دیوہ ون تس شخصس، نس پیغمبرہ سنز خبر واثمر  
آسہ، بلکہ چھو لازم اقرار الوھیتس سیت اقرار رسالت تہ کرون، امہ پتہ فرموو کہ اصلی حکم سیت

لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ ① وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ  
لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ②  
هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدٍ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ  
الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ ③

فرعی حکما سے، سوگو و آنفقوا مینا جعلکم مستخلفین فیہ بیہ کریو خرچ تمہ مالہ اندرہ، میک توه اللہ تعالیٰ ان خلیفہ سے قائم مقام کر نوہ، تہندی خیطرہ کیا زہ تہنزہ وہ تہ اندر مال خرچ کرن و چھو علامت کہ توه چھوہ پورہ پڑھ خدایہ سز تہ تہندس پیغمبرہ سز، بیہ سپدہ مال خرچ کرنہ سیت اشاعت اسلام لیس مقصود اعظم چھو، یعنی پانہ تہ انبو ایمان خدا لیس تہ تہندس پیغمبرس، بیہ کریو کوشش بین لوکن ہندہ ایمان آنہ نبی، مما جعلکم مستخلفین فیہ فرمانہ سیت کر کہ اشارہ متھ تھ گن کہ بیہ مال اوس توه بروٹھ بیہ کانہ نش، توه بناو توه تہند خلیفہ، و کن ایس کالس توه نش چھو بیہ مال، تلمیذ تیتیس کالس امہ سیت فاندہ، رٹن کالین اندر خرچ کرنہ سیت، توه پتہ واتہ بیہ مال بیہ کانہ نش، سو سپدہ خلیفہ امہ مالگ، بیہ مال پو شہ ون چھنہ، بیہ ات تھاون، جمع کرت تھاذن، ضروری مصرفن اندر خرچ نہ کرن چھ محض حماقت، اتھ گن نظر کرت فالذین امنوا منکم و آنفقوا لہم اجر کبیر یمولو کو توه اندرہ ایمان ان خدا و پیغمبر خدا لیس بیہ کر کہ مال خرچ تہنز و تن اندر، تہندہ خیطرہ چھو بوڈ ثواب یمولو کو ایمان ان نہ تمن چھ اس پر تھان وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ بیہ کیاہ وجہ چھو کہ توه چھوہ نہ پڑھ کر ان معبود برحقس بیہ تہندس رسول برحقس، حالانکہ تمک قوی اسباب تہ دواعی چھوہ ساری موجود وَالرَّسُولِ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ بیہ بوڈ پیغمبر چھو توه ناددیوان کہ کریو پڑھ پنہ نس پروردگارس دویم داعی گوہ بیہ کہ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ پانہ چھو توهند پروردگارن توه نشہ ایمان انہ نس پیٹھ ميثاق اکت کہ دوہہ عہد رحمت، یموک اجمالی اثر توهندس فطرتس منز موجود تہ چھو تیج یاد دہانی پیغمبران کر امونہ توه کر مڑ چھ وقتا وقتا، اگر توه ایمان ان چھویم چیز چھ توهندہ حقہ کافی هُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدٍ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ



وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ ط لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ  
أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا  
وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ط وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۱۰

سو مجبور بر حق چھو تھوی رحمتہ وول کہ سو چھو پنہ نس بندہ خاص محمد صلی اللہ علی وسلم پیٹھ صاف صاف تہ نن آیات نازل کران، لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ یو تھ سو بندہ خاص توه لوکن کفر ہ چوتہ جہلمہ چوتار کیونہ کڈ تھ ایمان و عرفانہ کس نور س کن واد تادہ، وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ چھو توه نسبت سٹھاہ مہربان تہ سٹھاہ رحم کرہ ون، یم توه کن شفقتہ وول یو تھ پیغمبر بر حق سوز، تھ اندر اوس سوال ایمان نہ انہ نس پیٹھ، امہ پتہ چھو سوال یوان کرنہ مال خرچ نہ کرنس پیٹھ، یعنی مال کونہ چھوہ خرچ کران، وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بے کیاہ وجہ چھو کہ توه چھوہ نہ مال خرچ کران خدایہ سزہ و تہ اندر، دلہ چہ خوشی سیت وَيَلِلَهُ مِيرَاثُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ امہ توه بندہ مالچ کیاہ چھہ کتھی، سوروی آسمان تہ زمین سپدہ پتولا کہ خدایہ سندوی، یلہ ساری عارضی مالک مران تہ ختم سپدن، سوروی واد تہ مالک تحقیق نس، دنیا اس اندر چھو بے مال توه اکہ تہ اکہ دوہہ تراوہ نوی، لہذا کونہ دیو تہمدہ رضا خیرہ، یمہ سیت توه ثوابہ تہ اجراہ حاصل سپدہ، خرچ کرنس اندر تہ چھو واریاہ فرق تہ تفاوت، لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ برابر چھنہ تم لوک یمو مال خرچ کر اللہ تعالیٰ سزہ و تہ اندر، یا جہاد کر اللہ تعالیٰ سزہ، و تہ اندر فتح مکہ برو تھ، أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدُ وَقَاتَلُوا یم لوک چھہ درجہ کن سٹھاہ تھد، تمس لوکن ہندہ خوتہ یمو خرچ تہ جہاد کر، فتح مکہ پتہ کیاہ فتح مکہ برو تھ آس زوتہ مال خرچ کرنس خدایہ سزہ و تہ اندر زیادہ قدر، کیاہہ مسلمان آس کم دشمن آس واریاہ، مال غنیمت اوس نہ یوان نمہ طرفہ، لہذا آس جہاد کرنس تہ مال خرچ کرنس زیادہ قدر، فتح مکہ پتہ سزہ یمین چیزن اندر واریاہ فرق، فتح مکہ پتہ آس لوک پرت طرفہ برضا و رغبت دین اسلامس اندر داخل سپدنہ خیرہ، فوجو فوجو، وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ تھ پاٹھ چھو اللہ تعالیٰ ان

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ ۝۱۱ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ بُشْرَاكُمُ الْيَوْمَ جَنَّتُ بَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝۱۲ يَوْمَ يَقُولُ

ثواب عطا کر نگ وعدہ سارنی سیت کرمت وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ اللہ تعالیٰ اس چھ تہ ہنزن سارنی عملن ہنز پور خبر، کس کت اخلاص چھو لس اندر، سودیہ نمی موجب سارنی مزور، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعْفَهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ میں لوکن فتح مکہ بروٹھ مال خرچ کر نگ موقعہ آوے تمن تہ چھو اللہ تعالیٰ دینہ چن کا میں اندر مال خرچ کر نگ ترغیب دیوان فرماوان چھو کہ چھا کا نہ شخصاء بس اللہ تعالیٰ اس قرض دیہ اتھ طریقے، یعنی خلوصہ سان تس ہورہ اللہ تعالیٰ دو گناوت، بیہ چھ ہندہ خیرہ مزدور یاہ با عزت، یوصہ حسب مدعاو مطلب آسہ، امہ قرضک مطلب چھو کہ جہادہ کہ وقتہ پائے جہادس نیرن تمہ کین ضروریاتن منز خرچ کرن، توپتہ پائے مال غنیمت حاصل کرن، یہ گو دنیا س اندر، آخر تس اندر گو تھد مرتبہ حاصل کرن، يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ سووہ تہ چھو قابل ذکر یمہ دوہہ توه وچھو با ایمان مردن تہ با ایمان زنانن ہیوند نور تمن بروٹھ بروٹھ بیہ تمن وچھن کن دوران، یمہ ساتہ محشرہ کہ میدانہ نعہ ہل صراطس کن لوک گو ہن، تمہ ساتہ آسہ سخت تاریکی تہ ان گھ، تمہ وقتہ آسہ ایمانچہ تہ نیک عملہ ہنز روشنی پر تھ اکس سیت، یوت ایمانس تہ عملہ اندر قوت آسیس تیو آسیس تھہ گاشس اندر زیادتی ایمانک نور آسیس بروٹھ بروٹھ، عملن ہیوند نور آسیس دھجھہ طرفہ، بعضے روا تین اندر چھو آمت کھوفرہ طرفہ تہ آسہ نور، تمن با ایمان مردن تہ با ایمان زنانن آپہ ونہ بَشْرَاكُمُ الْيَوْمَ بشارت بوین توه از کہ دوہہ، جَنَّتُ بَجْرَى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا تمن با عن ہنزیمو منزجہ سجہ کولہ پکان چھ، میں منز توه ہمیشہ روزن چھو، ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ یے گیہ ہڈ کا میابی، کیا زہ جنت چھو اللہ تعالیٰ سزہ خوشنودی تہ رضاءک مقام، بس ثوت ووت، سو سپند پنہ نین سارنی مطلبن اندر

الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُوا نَفْسَكُمْ مِنْ  
 نُورِكُمْ قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ  
 بِسُورَةٍ بَابٌ بَاطِنَةٌ فِيهَا الرَّحْمَةُ وَظَاهِرَةٌ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ<sup>۱۳</sup>  
 يُنَادُونَ لَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَىٰ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَ  
 تَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّىٰ جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَ

کامیاب، یہ گو سوی دودہ یَوْمَ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَاتُ لِلَّذِينَ آمَنُوا انظُرُوا نَفْسَكُمْ مِنْ نُورِكُمْ  
 یمہ دودہ منافق مردیتہ منافق زنانه و من مسلمان پل صراطس پیٹھ، ای مسلمانو اسہ پیار تو ہناستہ کرہ ہو  
 تو ہند گاش حاصل تو پتہ پکہ ہو تو ہندی گاشہ سیت، قِيلَ ارْجِعُوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا نُورًا و ننه ایکہ توه  
 پھیر یو پانس پتھ کن، تھی کریو تلاش گاشک، تفسیر در منشور س منز چھو کہ امہ پتھ کن پھیر نہ اندرہ چھو  
 مراد سو جای تینس سخت انہ گتہ گتہت پل صراطس کھنہ کہ وقتہ نور تقسیم سپد یو، یعنی تھہ نور تقسیم سپد  
 نہ چہ جایہ گتہ ہیو، تھی ژھانڈ یو گاش، چنانچہ تم گتہ صن توت، تہ تہ یلہ نہ کہہ گاشہ حاصل سپد کیکہ، تو پتہ  
 ہن بیہ یں مسلمان کن فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورَةٍ بَابٌ پس ایہ کھارنہ تہ قائم کرنہ مسلمان تہ تمن  
 منز کہ دیوارہ نہ قلیاہ، تھہ آسہ دروازہ تھہ دروازس آسن زہ حال، بَاطِنَةٌ فِيهَا الرَّحْمَةُ وَظَاهِرَةٌ مِنْ  
 قِبَلِهِ الْعَذَابُ سمیوک اندر یوم طرف نیس با ایمان کن آسہ سو آسہ رحمت تہ نور، تمیوک نبر یوم  
 طرف، نیس تمن منافق کن آسہ، سو آسہ عذاب تہ انہ گتہ، يُنَادُونَ لَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ تم منافق دن  
 آلو تہ آواز مسلمان، ای مسلمانو، اس آسناد نیاعس اندر توه سیت اعمال و اطاعت کران، از تہ گتہ اس  
 پانس سیت رشن، قَالُوا بَلَىٰ مسلمان دیکھہ واقعی آسو توه دنیاعس منز اسہ سیت آسان، مگر کیاہ شرف  
 تھہ سیت آسس، توه آسہ ظاہرہ پاٹھی، اسہ سیت، توه ہندہ باطج حالت آس کہ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ  
 أَنْفُسَكُمْ توه اوسوہ ترددس منز پھسو و مت ہن پان گرا ہی اندر، سہ گرا ہی گتہ ہیہ کہ توه ندین دن  
 اندر اوس عدوت پیغمبر برحقہ سُدہ بیہ با ایمان ہیوند، وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ توه آسہ

غَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ ﴿۱۴﴾ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ﴿۱۵﴾  
 أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ

پیاران تہ تمنا کران تمں گھوہہ کانہہ تکلیفہ تہ مصیبتہ واثن، بیہ اوس توه اسلامہ کس حق آسئس منز شک تہ تردد، بیہ آسوه توبے ہودہ آرزو اودو کس منز تھاومت، توه اوس خیال کہ اسلام گھوہہ جلدی ختم، حتی جاء امر اللہ اتھ پیٹھ رودوہ توه عمرہ، یوتان خدایہ سندہ حکم ووت توه بندہ خیطرہ یعنی مرتکب حکم، وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ بیہ دیوت توه دھوکہ باز شیطان خدایہ سندہ حقہ دھوکہ، یوکفریاتو سببہ رودیونہ توه اتھ قابل کہ پتہ تہ کیاروز هیو توه اسہ سیت، فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا پس ایہ نہ رنہ از کہ دوہ نہ توه رنہ تہ نہ کافر رنہ کنہ قسمہ بدلہ تہ عوض، گوڈہ چھنہ توه نش عوض پیش کرنہ خیطرہ کنہی چیز، دویم ہر گاہ آسہا تہ توه نشہ کانہہ چیز، سو ایہ ہانہ قبول کرنہ، کیا زہ بیہ عالم چھو دار الجزاء، بیہ چھنہ دار العمل، تمہہ کتھہ گذرے بیہ دنیاس اندر، مَأْوَاكُمُ النَّارُ توه سارنی منافقن تہ کافر ہندہ روزنچ جای چھہ نار جہنم ہی مَوْلَاكُمْ یہوی نار جہنم چھوپتہ توه ہند ریت تہ سیت سیت روزہ ون، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ کثیرہ بیچھہ جای چھہ بیہ نار جہنم بیمہ سیت سپد ثابت کہ زیوہ ہندس اقرار س چھنہ کانہہ اعتبار، یوتان نہ دلہ سیت تصدیق آسہ امہ پتہ چھہ فرماوان کہ یتھہ ایمانس سیت ضروری اعمالن ہنز کی آسہ سو تہ چھو کمزور تہ نامکمل لہذا چھو اللہ تعالیٰ فرماوان بطریق عتاب مسلمانن حکم کہ تھہ کی کریو پوریہ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ کیا با ایمان اندرہ یم لوک طاعات ضروری یعنی فرائض اندر کوتاہی، پہلو تہی تہ سستی کران چھہ تمں ووتناؤنہ وقت بیمہ کتھہ ہیونکہ تھند دل کیا سپدہ ہن نرم خدا ژیتس پینہ سیت وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ بیہ ئیس دین حق خدایہ سندہ طرفہ نازل سپد تمک ساری احکام بجاننہ سیت یعنی دلہ سیت کر ہن پور عزم طاعات و عبادات

عَلَيْهِمُ الرِّمْدُ فَكَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿۱۶﴾ اَعْلَمُوا اَنَّ  
 اللهُ يُحْيِي الارضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿۱۷﴾  
 اِنَّ الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ وَاَقْرَضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضَعُفُ  
 لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيمٌ ﴿۱۸﴾ وَالَّذِينَ اٰمَنُوا بِاللهِ وَرُسُلِهِ اُولٰٓئِكَ هُمْ

ضرور یہ پابندی سان ادا کرنگ، بیه روزہ ہن نافرمانیو تہ معصیو نشہ پتھ، وَاَلَيْكُمُ الْكَاذِبِينَ  
 اُولَٰئِكَ الْكٰتِبُ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الرِّمْدُ فَكَسَتْ قُلُوبُهُمْ بیه سپدہ ہن نہ توبس تہ استغفراس منز تاخیر  
 کرنے سیت تمن لوکن ہی یمن تمن بروٹھ آسانی کتاب عطا کرنے آیہ، یعنی بہود و نصاری، یم تمن  
 کتابن خلاف نفسہ چن خواہش تہ گنہن منز رود، تویہ تہ گذریووتھہ حالس اندر تمن واریاہ وقت کنہ قسمہ  
 تمن احساس پیدہ سپد نہ توبہ و استغفار کرنگ، تمیوک نتیجہ دراو کہ تہند دل سپد سٹھاہ سخت تہ در،  
 وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ تمہ قساوتک نتیجہ دراو کہ تمواندرہ چھ از تہ واریاہ لوک فاسق۔ الغرض مسلمان  
 پڑہ جلدپایس بیون تہ توبہ کردن تم مہ کرن خیال کہ اس چھ گنہ گار، توبہ سیت کیاہ اصلاح جیسہ سبت  
 اسہ بلکہ اَعْلَمُوا اَنَّ اللهُ يُحْيِي الارضَ بَعْدَ مَوْتِهَا یہ تھہ زانیوارہ کہ اللہ تعالیٰ سندشان چھویہ قسمک کہ  
 سو چھو خشک گتس ز مینس بیه زندہ کران، سر سبز تہ شاداب کران، اُتھے پاٹھ کہہ سو گنہ گار ہندن پنے نہ  
 رحمتہ سیت مردہ گمت دل بیه زندہ، کیاہہ قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ بہ تحقیق اسہ کہہ بیان اچھ  
 مثالہ یوتھ توبہ فکرہ ترہ امہ پتہ چھ فرماوان بیه مال خرچ کرنگ فضیلت خدا یہ سزن وتن اندر، اِنَّ  
 الْمُصَدِّقِينَ وَالْمُصَدِّقَاتِ بے شک سیٹھاہ صدقہ دیوہ وئن مرد بیه سٹھاہ صدقہ دیوہ ونہ زنانہ،  
 وَاَقْرَضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا بیه یم قرض دیوہ وئن چھہ اللہ تعالیٰ اس بکمال خلوص رت قرضاہ يَضَعُفُ  
 لَهُمْ وَلَهُمْ اَجْرٌ كَرِيمٌ بیه یہ تمن دو گناوت عطا کرنے، بیه ہتھ تہندہ خیطرہ باعزت مزور، یعنی یم لوک  
 اللہ تعالیٰ سزہ ویتہ اندر مال خرچ کرن آنیت خالص، محض تہندی رضا مندی تہ خوشنودی خیطرہ  
 پروردگارس وراي آسن نہ بیه کانسہ نغہ تمیوک عوض تہ بدلہ یا شکر یہ ژھانڈھان، تم زن اللہ تعالیٰ

الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ۝۱۹ اَعْلَمُوا اَمَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَنْجَبَ الْكُفْرَانَ بَانْتَاهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتْرَةً مُّصَفَّرًا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا وَاِنِ الْاٰخِرَةُ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَمَغْفِرَةٌ

اس فرض چھ دیوان، تم تہاوں اطمینان کہ تہوندو پو تمت مال ضایع گدھنہ بلکہ کرہ تمس اللہ تعالیٰ عطا تمہ خوتہ واریاہ گن، امہ پتہ چھو بیہ ایمانک فضیلت بیان یوان کرنہ، وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمْ۔ بیہ یم لوک اللہ تعالیٰ اس بیہ تہندیں پیغمبرن پورہ پاٹھ پڑھ چھ کران تہند احکام چھ عملاً بجائانان، بے شک تھے لوک چھ پڑپاٹھ بالیمان، بیہ چھ تھے لوکن ہوند حال پنہ نس پروردگار س نعمہ باوہ وئن تہ گواہی دیوہ وئن، لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ تہندی خاطرہ ہجھہ جنس اندر تہنزہ خاص مزور تہ ثواب، بیہ چھو تہندی خیطرہ پُل صراطس پیٹھ خاص نور تہ گاش، وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ سمولو کو کھر تہ انکار کر، بیہ زایک آپزسان آیات، تھے لوک چھ جہنمی، اَعْلَمُوا اَمَّا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهُمْ زِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ ای لوکو توہ زانیویہ تھہ وارہ کہ آخرتس مقابلہ ہجھنہ دنیا ج زندگی ہرگز توتھ چیزہ، ہتھ سیت مشغول رُوزن مقصود آسن گو تھہ، کیا زہ تج حقیقت چھ کہ لوکہ چارس منز چھو گند نس سیت وقت ضائع گدھان، جوانی منز چھہ زینت و آرائش تہ بین ہم عمرن پیٹھ تھکنس گن فخر آسان، بو جرس منز چھہ مال و دولت تہ شر گمر گز راونس تہ سبر اونس گن فکر آسان، یم ساری چیز چھہ فانی گدھہ وئن مقاصد، بیہ محض خواہاہ تہ خیالہ تج مثال چھہ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَنْجَبَ الْكُفْرَانَ بَانْتَاهُ ثُمَّ يَهِيْجُ فَتْرَةً مُّصَفَّرًا ثُمَّ يَكُوْنُ حُطَامًا تہہ رُودج ٹیس پیوان چھو، تمہ سیت زراعتک کھسن چھو ز میندارن سیٹھاہ پسند یوان تہ خوش کران، تو پتہ چھو زراعت خشک سپدان ٹس چھو ٹس سوو چھان ژہ، لیدرہ رنگہ، تو پتہ چھو تمیوک گاسہ ہو کھان،

مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ ۖ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ ﴿۱۰﴾  
 سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَ  
 الْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۗ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ  
 يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿۱۱﴾ مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ  
 فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَّبْرَأَهَا إِنَّ

تھے چھو چورہ گدھان، اُتھے پائٹھ چھو دنیاک بہار کیوں دوہن آسان تو پتہ چھو تھے زوال تہ اضحلال  
 سپدان، یہ گودنیاء **وَفِي الْأَرْضِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ** آخرتس اندر چھو کافر ہندہ  
 خیطرہ عذاب شدید اہل ایمان ہندہ خیطرہ مغفرت تہ رضامندی یم دو شوے چھہ باقی، پس چھہ  
 آخرت تہ باقی، **وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْعُرُورِ** دنیوی زندگانی چھہ مگر دھو کھٹک اکھ ساماناہ، وکن  
 یلہ متاع دنیا چھو فانی آخرتچ دولت چھہ باقی یوسہ ایمانکہ برکتہ حاصل ہیچہ سپدت، لہذا پڑہ توه کہ  
**سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ** دور تلیو توه، یعنی جلدی کریو پنے  
 نس پروردگارہ سند مغفرت حاصل کرنہ خیطرہ، بیہ دور یوسو جنت حاصل کرنہ خیطرہ، سمیوک پناہ چھو  
 تیوت، یوت آسمان وزمین اکھ اکس سیت ملناوت ہنہ یہ گو ہنہی ز پھھر تموک زانہ پانہ اللہ تعالیٰ،  
**أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ** یسوی جنت چھو تیار کرنہ آمت تمن لوکن ہندہ خیطرہ یمن پور  
 پڑھہ چھہ خدایہ سزبیہ تہندین پیغمبران ہنز، **ذَٰلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ** یہ مغفرت تہ رضای  
 خدا چھو خدایہ سند فضل سو چھو یہ فضل عطا کران کس لیس یہ گدھان چھو، **وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ** اللہ  
 تعالیٰ چھو بوڈ فضلہ وول **مَا أَصَابَ مِنْ مُّصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلِ أَنْ نَّبْرَأَهَا** کانہہ  
 مصیبتاہ چھہ دنیاءس تہ ملکس اندر، یا تو ہندین زون اندر واقع سپدان، یعنی خارجی تہ داخلی مصیبت،  
 مگر سو مصیبت چھو لیجھت اکس کتابہ اندر یعنی لوح محفوظس اندر تم تو ہند زوپیدہ کرنہ بروٹھہ، **إِنَّ ذَٰلِكَ**  
**عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ** یہ کٹھ، یعنی پیدہ کرنہ بروٹھہ لیجھت تہاون چھو اللہ تعالیٰ اس نضرہ سہل تہ آسان کیاہ

ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿۲۲﴾ لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ ﴿۲۳﴾ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ﴿۲۴﴾ لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ

تس چھو سُرودی علم غیب حاصل یہ تھہرین اسہ توه یمہ موکھ، لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ یوتھنہ توه زیادہ رنج تہ غم کھیوتھہ چیزس، اُس توه نِشہ ازدست گو، صحت ہیو، مال واولاد ہی، تا اینکه سورنج و غم کھیون سپدہ توه مانع آخرتجن کائین اندر مشغول روزنہ نِشہ، بیہ خدایہ سندر ضاثرھانڈنہ نِشہ، ہر گاہ رنج طبعی سپدہ تھہ ہجھنہ کانہہ حرج، بیہ یوتھنہ توه تمہ چیزہ سیت، کس تمی عطا کردہ شیخیو خوش گڑھیو تہ مغرور سپدیو، بلکہ گڑھہ زانن کہ یہ گڑ عطا اللہ تعالیٰ ان محض پنہ فضلہ سیت، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ اللہ تعالیٰ ہجھنہ پسند کران کانہہ شیخیو ولس نہ تھیجھ ولس شخصس، الَّذِينَ يَبْخُلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ یم تمہ قسمک لوک ہجھ کہ مال دنیاء کہ محبتہ سببہ ہجھ پانہ تہ بخل کران پروردگارہ سنزن و تن اندر خرچ کرنہ نِشہ بیہ ہجھ بین لوکن تہ بخل کرنج تعلیم کران، یہوی محبت دنیا چھو تمس باعث سپدان پڑہ وینہ نِشہ اعراض کرنک وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ یس اکھاہ دین حقہ نِشہ اعراض کرہ، کرتن، اللہ تعالیٰ اس ہجھنہ تمیوک کانہہ ضرر، کیازہ سوچھو بے نیاز، پنہ نس ذاتس تہ صفاتن اندر کامل، بیہ سزوار حمد و ثنا، سوچھنہ محتاج لوکن ہندس بدنی عبادتس یا مالی عبادتس گن، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ بے شک اسہ سوز ہنن پیغمبر لوکن ہندہ اصلاحہ خیطرہ، ن تہ واضح احکام ہیئت وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ بیہ دژاسہ تمس سیت ہنن کتاب، بیہ کراسہ نازل تر کر یعنی عدل انصافک احکام و اسباب، تمس ہیوند تعلق چھو حقوق العبادن سیت لِيَقُومَ النَّاسَ بِالْقِسْطِ یوتھہ لوک خدایہ سندین حقن تہ ہندن ہندین حقن اندر اعتدالس پیٹھہ قایم روزن، وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ بیہ وول اسہ شتر تھہ منز چھو کافی قوت تہ طاقت وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ بیہ



بَأْسٍ شَدِيدٍ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۳۵﴾ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ ﴿۳۶﴾ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ فَوَجَعْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ

چھ تھے اندر لوکن ہندہ خیطر ہ واریاہ فاندہ تہ نفع، الحاصل یم لوک آسانی کتابو سیت سیزہ ووتہ پیٹھین نہ، بیہ یم نہ میزان عدل دنیاس منز قائم تہاوں تہندہ خیطر ہ چھ ضرورت تمن گوشالی کرنہ خیطر ہ بیہ ظالمن تہ ہول پکہ وینن راہ راستس پیٹھانہ خیطر ہ، خداور سولہ سندین احکامن ہیوندو قار قائم تہاوندہ خیطر ہ شمشیر کوم ہنچ سہ تہ چھ تمہ ساتھ اکھہ دینی کوماہ، جہاداہ سہ کوم کیہ ہینہ آتھہ شسترس، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ تاکہ اللہ تعالیٰ زانہ کہ کس اکھاہ چھو اللہ تعالیٰ اس تہ تہندین پیغمبرن یعنی تہندس دینس وہچھندہ وراہی مدد کران تہندہ دینہ کہ تھزرہ تہ بلندی خیطر ہ جہاد کران، اگرچہ سو ہچھندہ محتاج لوکن ہندس مددس کن، إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ کیازہ سوچھوپانہ سٹھاہ طاقتہ وول تہ غلبہ وول مگر سوچھویرٹھان لوک گھٹھہ اشاعت دین کرنہ سیت ثواب حاصل کرن۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ بے شک بیہ سوزاسہ امی اشاعت دینن حق کرنہ خیطر ہ نوح علیہ السلام بیہ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر بناوت وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ بیہ تھوواسہ جاری تمن دون ہندین اولادن اندر پیغمبری تہ کتاب یعنی تہند یو اولادو اندرہ کتراسہ بعضے پیغمبر بعضے مرسل تمن کتر کتاب تہ عطا، فَمِنْهُمْ مُّهْتَدٍ تمولو کو اندرہ آس بعضے یمن ہدایت نبیو، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ واریاہ آس تھواندرہ نافرمان ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِرُسُلِنَا تمہ پتہ سوزاسہ تمن پتہ ہنن پیغمبر اکھ اکس پتہ، یم مستقل صاحب شریعت آس نہ بلکہ آس تابع بیس صاحب شریعت پیغمبرس، وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ توپتہ سوزاسہ تمن پتہ اکھ صاحب شریعت پیغمبر عیسیٰ فرزند بی بی مریمہ سوند علیہا السلام، تمن کتر عطا سہ کتاب تھہ انجیل ناوچھو، تہندس آتھس سپزہ زہ ہماژ، اکھ جماعت تمن پیروی

اتَّبِعُوهُ رَافَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا  
عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا  
فَاتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿۲۷﴾

تہ متابعت کرہ و نین ہنز بیا کہ جماعت یومہ تمن انکار کمر، و جملہ قلوب الذین اتبعوه رافۃ و رحمۃ  
یمولو کو تہوند اتباع تہ پیروی کمر یعنی گوڈنچ جماعت، اسہ تراوتہندین دن اندر شفقت تہ مہربانی تم چھہ  
خدا یہ سندین مخلوقن نسبت محبت و شفقتک بر تاؤ کران، اتھہ پاٹھ اللہ تعالیٰ ان صحابہ صمیمین ہندہ حقہ  
فر موور حماء یتیم چونکہ امت عیسویس پیٹھ اوسنہ جہاد فرض تمہ موکہ فر مووہہ تہوند صفت اشداء علی  
الکفار کنہ تہ، سو آو صحابہ صمیمی ہیوند صفت بیان کرنہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان کہ سانہ طرفہ اوس امت  
عیسویس پیٹھ صرف اتباع احکام کر لکوی یوت لحم و رہبانیتہ ابنتد عوہا ما کتبنا علیہم لیکن تمو  
اندرہ بعضے شخصونو اوپانے رہبانیت، یعنی گوشہ نشینی، لوکن سیت نہ ملہ ژار تہاوان، ترک نکاح کرن  
ترک لذات کرن، یہ ایجاد کرنک وجہ سہز تمن یہ تھہ کہ عیسیٰ علیہ السلامہ سندہ دفعہ پتہ تراو بعضے لوکو  
احکامو موجب عمل کرن، تمن اندر آس بعضے لوک اہل حق تہ، تم رو بدستور اظہار حق کران، یہ  
تھہ پنرنا گوار ہوا ہر ستن، تمو مگر تمہ وقتہ کس حکوقس در خواست کہ یم لوک گروہن مجبور کرنہ ین  
اسہ سیت موافقت کرنس پیٹھ، تم یلہ اتھہ پیٹھ مجبور کرنہ آمی تموتہ دیوتہ در خواست کہ اسہ دیو  
اجازت کہ اس تہاوندہ یمن لوکن سیت کا نہہ تعلق، نہ آسواس تمن احکامن پیٹھ عمل نہ کرنس پیٹھ  
کا نہہ اعتراض کران، اس روزو لوکن نغمہ الگ، اس کرو گوشہ نشینی تہ سیرو سیاحتس اندر پختہ عمرہ  
صرف، چنانچہ تمن آو تمکوی اجازت دنہ، غرض تمو مگر پانے ایجادا کہ چیزا، اسہ مگر نہ تمن پیٹھ یہ  
تھہ واجب کہنہ تہ الا ابتغاء رضوان اللہ مگر تمو کر یوویہ اختیار اللہ تعالیٰ سندر ضاحا صل کرنہ خیترہ،  
کہ امی سیت روزہ سون دین محفوظ، مگر یموراہ ہواندر آس تم لوک زیادہ، فمارعوا حق رعیاتہا تمو  
مگر نہ اتھہ رہبانیتس پورہ راچھہ، یمہ غرضہ خیترہ تمویہ اختیار کرے یہ سوگیو خدا یہ سندر ضاثر ہانڈن،  
تمو ک مگر نہ تمو پورہ اہتمام کنہ تہ، تمن راہن سہزہ زہ جماژ، اڈگئے تم یمور رعایت تہ راچھہ کر، اڈگئے تم  
یمونہ کا نہہ رعایت مگر، تمو منزہ یمو پیغمبر آخر الزمانہ سند وقت کب تہندہ حقہ اوس حق رعایتک شرط،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يُؤْتِكُمْ  
 كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تمشونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَكُمْ  
 وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٨﴾ لَيْلًا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ  
 عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ  
 يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾

حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ان تہ پڑھ کر سن و دن یومہ تمہ پڑھ کر، تم گئے رعایت کرہ دن، یومہ  
 تمہ پڑھ کر تم گئے نہ رعایت تہ راجحہ کرہ دن تہ رہا نیتس، تی چھو فرماوان اللہ تعالیٰ فَاتَيَاكَ الَّذِينَ  
 آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسُئِلُوا پس کراسہ عطا تمواندرہ، تمہ یومہ ایمان ان تہ پڑھ کر حضور  
 صلی اللہ علیہ وسلم تہند حصہ مزدور تہ اجر سمیوک اسہ تمہ وعدہ کرمت اوس مگر تم آس کئی، زیادہ  
 آس تمواندرہ فاسق تہ نافرمان، یومہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایمان ان تہ پڑھ کر يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
 آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ای تمولو کو یومہ ایمان ان عیسیٰ علیہ السلام پیٹھ خدایس کھوڑیو، تہ کر یو یہ تس  
 کھوڑن سزوار چھو، یعنی وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ ایمان انیو تہندس پیغمبرس حضرت محمد صلی اللہ  
 علیہ وسلم یؤتیکم کفلین من رحمتہ اللہ تعالیٰ کرہ توہ پنہ نہ رحمتہ سیت زہ حصہ ثوابک عطا،  
 وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تمشونَ بِهِ بیہ کرہ توہ توتھ نور عطا، نئس توہ سیت سیت روزہ۔ یہ تہ پیٹھ پل صراطس  
 تان، وَيَغْفِرْ لَكُمْ بیہ کرہ اللہ تعالیٰ توہ سارنی گنہن بخشالیش، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو  
 مغفرت کرہ دن رحم کرہ دن، لَيْلًا يَعْلَمُ أَهْلُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ بیہ زہ  
 مہربانیہ کرہ اللہ تعالیٰ بیہ موکھ عطا، یوتھ تم اہل کتاب یومہ پڑھ کر حضرت پیغمبر آخر الزماں صلی  
 اللہ علیہ وسلم یہ تھہ وارہ زانن کہ تمہ چھنہ خدایہ سندہ فضل منزہ کئیہ چیزس پیٹھ کانہہ اختیارہ،  
 وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ بیہ سپدہ تمہ یہ تھہ معلوم کہ سوروی فضل چھہ خدایہ سی  
 اتھ، سو چھو سو فضل عطا کران نئس یشھان چھوتہ تس، چنانچہ تم پوڑھ سو فضل مسلمان عطا کران،  
 نئس سترن تمہی عطا وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ اللہ تعالیٰ چھو بوڈ فضلہ وول

سُورَةُ الْمَجَادِلَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ①  
 الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ

یعنی آیات کریمین هیوندشان نزول چھو کہ آھہ شخصہا صحابہ صیو اندرہ، نس ناواوس اوس بن صامت، تمودپ زمانہ پنہ نہ زکھہ اندر کہ ژہ چھک ماجہ ہینز تھر ہش مہ پیٹھہ حرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندہ مبعوث سپد ہنہ بروٹھہ، زمانہ جاہلیتس اندر اوس یہ لفظ ونہ سیت زنانہ ہمیشہ خیطرہ حرام سپدان بلکہ اوس یہ لفظ طلاقہ خونہ زیادہ سخت تصور یوان کرنہ تحقیق حکم کرنہ خیطرہ آیہ یہ دید صاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدتس اندر، تمو فرموس مہ چھویوان لبتہ کہہ ژہ سپز کہ پنہ نس خاندارس پیٹھہ حرام، یہ بوزت تل تمہ شور سٹھاج کرنہ واویلا دپنہ لج میون تہ میانین کچن ہیوند

گذارہ کتھہ سپدہ، میان خاندان ہیوتنہ طلاق لفظ زیوہ پٹھی یہ کتھہ پاٹھہ بیو و طلاق، اللهم انی اشکو الیک، خدلیا بو پھس ژہ نش پنون مشکل پیش کران اتھہ مشکلس کرم ژہ حل، آتی سپدیم آیات کریمہ نازل، قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ بے شک اللہ تعالیٰ ان

بوزہ تہ زنانہ ہنزہ کتھہ، یوصہ توه سیت یارسول گفتگو کران آس خاندارہ سندس معالس اندر، دپان آس تم ہیوتنہ طلاق لفظی زیوہ پیٹھہ، بوتھہ پاٹھہ سپزس تہس پیٹھہ حرام، پنہ نہ امہ رن خونج شکایت آس کران خدالیس نہشہ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا اللہ تعالیٰ اوس بوزان توہند گفتگو إِنْ اللَّهُ سَمِيعٌ

بَصِيرٌ بیشک اللہ تعالیٰ چھو سوری بوزہ ون سوری وچھ ون، سوی چھو فریادس واتہ ون، امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان ظہارک حکم الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ ای مسلمانو توه اندرہ سم

إِلَّا إِلَىٰ وَكَلَنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ ۝۱۰ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَٰلِكُمْ تُوَعُّظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝۱۱ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاطْعَامُ

ظہار کران آسن یعنی پنہ نین زنان آسن ونان انت علی کظہر امی یعنی ژہ چھک مہ پیٹھ حرام ماجہ ہیوند پشت نہ تھر ہش، تمہ منکوحہ زنانہ چھنہ فی الحقیقت تہنرہ ماجہ، **إِنَّ لَهُمْ إِلَّا إِلَىٰ وَكَلَنَهُمْ** تہنرہ ماجہ چھنہ مگر تمہ زنانہ یمن تم زامت چھہ **وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا** بے شک تم لوک یم زنان چھہ ونان موج یا ما جن سیت چھک تشبیہ دیوان، تم چھہ بے ہودہ نہ اپز تھہ ونان لہذا چھہ تم گنہک مرنکب سپدان ہر گاہ اتھہ گنہس تدارک کرنہ آہ، اتھہ سپدہ معافی نہ، **وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوفٌ غَفُورٌ** کیا زہ اللہ تعالیٰ چھو سیٹھاہ عفو کرہ ون سٹھاہ مغفرت کرہ ون **وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا** بیہ یم لوک پنہ نین زنان ظہار کرن تو پتہ یڑھن تم سوی کوم کرن ہتھہ متعلق تمو نیو واس کرہ نہ یعنی تعلقات زوجیت تلہ چھومہ مردس اکھ غلام یا کینرہ آزاد کرن، اورہ یور دون باژن ہنز اکھ اکس تھپ کرنہ بروٹھہ، یعنی ہم بستری کرنہ بروٹھہ، **ذَٰلِكُمْ تُوَعُّظُونَ بِهِ** بیہ کفارہ کہ حئمہ سیت چھہ توہ نصیحت یوان کرنہ، یعنی امیوک فاندہ چھو کہ یوتھہ توہ آئندہ اژھ بے ہودہ نہ لغو تھہ کریونہ، **وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ** اللہ تعالیٰ اس چھہ تو ہنزن سارنی کابین ہنز پور خبر، سو چھو زنان کہ تعمیل احکام کوہ چھو کران کوہ چھنہ کرن، اتھہ کفارہ دلس اندر چھہ زہ حکمہ، اکھ گنہن ہنز بخشایش، بیہ آئندہ خیطرہ جذبہ احتیاط پیداہ کرن **فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا** ونن یسنہ بنہ غلام یا کینر، آزاد کرنہ خیطرہ تس چھومہ اچ کفارہ دنہ خیطرہ دون رتین پتوس ہتھہ روزہ دار روزن، اکھ اکس تھپ کرنہ یعنی ہم بستری کرنہ

سِتِّينَ مَسْكِينًا ذَٰلِكَ لِمَنْ أُولَىٰ آبَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
 وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝۱۰ إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ  
 كَبُتُوا كَمَا كَبَتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَ  
 لِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ ۝۱۱ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ  
 بِمَا عَمِلُوا أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۱۲

برونہ، مَن لَمْ يَسْطِعْ فَاطْعَمْ سِتِّينَ مَسْكِينًا پس نئس شخص تہ پئوس پتھہ روزہ دار ہیکہ روزت، تہندہ  
 خیطرہ چھہ کفارت ظہار شیشٹن مسکین کھین دیون، ذَٰلِكَ لِمَنْ أُولَىٰ آبَا اللَّهِ وَرَسُولِهِ یہ حکم آویان کرنہ  
 یوتھ۔ توہ عملن متعلق مصلحو حاصل کرنہ کہ علاوہ، خدائیس تہ تہندس پیغمبرس پور پڑھہ کریو، وَتِلْكَ  
 حُدُودُ اللَّهِ یم احکام چھہ خدایہ سند حد مقرر کرنہ آمت، تہند قانون تہ ضابطہ لیکنہ آمت، یوحو حدو  
 لغہ گودھنہ نیر نیرون حدہ ڈلہ ون گئے کافر، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ کافرن ہندہ خیطرہ چھو، سم نہ  
 احکام الہین ہیوند تصدیق و تعمیل کرن، سخت دودتلہ ون عذاب، یہ سزا چھہ بیتھہ خمس خلاف کرنہ  
 خیطرہ خاص، بلکہ، إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كَبُتُوا كَمَا كَبَتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ  
 بَيِّنَاتٍ یم لوک خدائیس تہ تہندس پیغمبر سزہ مخالفت گنہ کھمس منز کران چھہ، تم ین خوارو  
 ذلیل کرنہ دنیاءس اندر تہ تمن لوکن ہند پاتھہ یم تمن بروٹھہ آس، گوہنا تم عذابو سیت خوارو ذلیل  
 ین کرنہ بے شک اسہ سوز تمن کن صاف تہ واضح آیات، تمن آیتان پڑھہ نہ کرین بلکہ انکار کرون  
 چھولا محالہ موجب سزا نئس دنیاءس اندر تمن دنہ آو، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ تمہ علاوہ چھو  
 کافرن تہ منکرن ہندہ خیطرہ آخرتس اندر خوار تہ ذلیل کرہ ون عذاب، سو عذاب کرسپدہ تمن يَوْمَ  
 يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا یمہ دوہہ تمن سارنئ اللہ تعالیٰ دوبارہ بیہ زندہ کرہ تو پتہ ونہ  
 تمن تمہ کامہ یمہ تمو کر مژہ آس دنیاءس اندر أَحْصَاهُ اللَّهُ وَنَسُوهُ تمہ سارے کامہ آس اللہ  
 تعالیٰ ان اکہ اکہ لیکن تہ محفوظ تہا ونہ و مژہ، تمن آس نہ پائس تمہ کامہ یادئی، مشت آسکھ گمہرہ،

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِنْ  
تَجْوَى ثَلَاثَةَ الْأُحْوَاجِ أَعْمَهُمْ وَلَا خُمْسَةَ الْأُمُوسَادِ سَمُّهُمْ وَلَا أَدْنَى  
مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ الْأُمُومَعَمِّمْ آيِنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا  
يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۴۰ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ  
التَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْآثِمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ

وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۝۴۱ اللہ تعالیٰ چھوپانہ پرت نہ چیزس بیٹھ پور مطلع تہ باخبر، أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ  
مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ کیا توہ چھپنا یہ کتھ زہر نظر کہ اللہ تعالیٰ اس چھوتہ سوروی معلوم، یہ  
آسمان اندر چھو، بیہ تہ سوروی یہ زمین منز چھو، بوڈیا لوکت چیز، بڈہ بڈہ کتھ یالوتہ لوتہ کتھ، بلکہ کن کتھ  
تان تہ، چنانچہ مَا يَكُونُ مِنْ تَجْوَى ثَلَاثَةَ الْأُحْوَاجِ أَعْمَهُمْ وَلَا خُمْسَةَ الْأُمُوسَادِ سَمُّهُمْ چھنہ آسان ترین  
شخص ہنزہ کن کتھ نہ جاہہ یمن سیت نہ اللہ تعالیٰ چھ ژور یوم آسان اتھہ پاٹ چھنہ آسان پانژن  
شخص ہنزہ کن کتھ یمن سیت نہ شیوم چھو آسان اللہ تعالیٰ، وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ الْأُمُومَعَمِّمْ  
مَعَمِّمْ آيِنَ مَا كَانُوا نہ امہ عدہ خوتہ کم، زہ یا ژور، نہ امہ خوتہ زیادہ، شہ یا کتھ، مگر پرتھ حاس اندر  
چھو اللہ تعالیٰ تمن سیت آسان ادھہ یتھ جاہہ آسن تہ تھہ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ توپتہ ونہ  
سو تمن سارنی قیامتک دوہ، تمہ سارے کامہ، یمہ تم کران آس دنیاس اندر، إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ  
شَيْءٍ عَلِيمٌ بے شک اللہ تعالیٰ چھو پرتھ کتھ تہ پرتھ چیزاہ پور زنان، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ  
التَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ کیا توہ چھوہ نامن لوکن کنن وچھان یمن منع آیود کرنہ کن کتھ کرنہ  
نہ، مگر توتہ چھہ تم سوی کوم کران، یمہ نہفہ تمن منع آیود کرنہ، وَيَتَنَجَّوْنَ بِالْآثِمِ وَالْعُدْوَانِ  
وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ زیادہ انوس ناک کتھ چھہ یہ کہ تم چھہ کن کتھ کران گنن متعلق سرکش متعلق بیہ  
پیغبر برحقہ سنزہ نافرمانی متعلق وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحْيِكَ بِهِ اللَّهُ یمہ ہود چھہ تھئی کہ یلہ تم

وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسِبُوهُمْ جَهَنَّمَ  
يَصَلُونَهَا فِئْسَ الْمَصِيرُ<sup>۸</sup> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ  
فَلَا تَتَنَاجَوْا بِالْآثِمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَتَنَاجَوْا  
بِالْبُزِّ وَالنَّفْقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ<sup>۹</sup> إِنَّمَا التَّجْوَىٰ  
مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا  
بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ<sup>۱۰</sup> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

توہ نش یوان چھہ یار رسول اللہ توہ چھہ تم سلام کران تمی لفظ سیت یمہ لفظ سیت نہ اللہ تعالیٰ ان توہ سلام  
کمر اللہ تعالیٰ ان کمر توہ تہ، بین پیغمبرن تہ سلام، بلفظ سلام، چنانچہ فرمودن السلام علیک ایہا النبی  
بیہ فرمودن سلام علی المرسلین، سلام علی عبادہ الذین اصطلح، تم چھہ ونان السام علیک، سام گو موت،  
وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ توپتہ چھہ تم پاند وان پانس سیت ونان کہ اگر یم پیغمبر چھہ  
تلہ کونہ چھہ واسہ اللہ تعالیٰ لہ لفظ ونہ نس پیٹھ رٹان تہ مزاد یوان، کیا زہ اتھ اندر چھہ سراسر بے ادبی،  
حَسِبُوهُمْ جَهَنَّمَ يَصَلُونَهَا تہندہ سزا خیرہ، چھہ کافی جہنم، تھہ منز چھہ تمن ضرور داخل سدن  
فِئْسَ الْمَصِيرُ صہ بھہ سٹھہ چھہ جای تہندہ واتنہ خیرہ، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَنَاجَيْتُمْ فَلَا تَتَنَاجَوْا  
بِالْآثِمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ ای با ایمانویلہ توہ تہ ضرورتہ وزہ کن تھہ آسیو کران تلہ مہ  
آسو کران منافقن ہند پٹھہ، گنہس متعلق یاسر کش متعلق یابی کریمہ سزہ نافرمانی متعلق، وَتَتَنَاجَوْا  
بِالْبُزِّ وَالنَّفْقَىٰ بلکہ آسیو توہ کنہ تھہ کران لوکن نفع واتہ ناونس متعلق بیہ پر ہیز گاری متعلق،  
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ بیہ کھوژیو خدا لیس، لیس برو تھہ کنہ توہ ساری سبراونہ آیو حسابہ خیرہ،  
إِنَّمَا التَّجْوَىٰ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا منافقن ہنزہ کن تھہ مگر شیطانہ سندہ ڈالنے سببہ،  
یو تھہ با ایمان غمس تہ تکلیف منس تراون، وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ حالانکہ شیطان ہیچہ نہ  
با ایمان کنہ قسمہ ضرور واتہ ناوت خدا یہ سندہ حمہ ورا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ با ایمان پزہ



امَّنُوا إِذْ أُقِيلَ لَكُمْ تَفْسَحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ  
لَكُمْ وَإِذَا أُقِيلَ انْشُرُوا فَانْشُرُوا وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا  
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَأْتَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ

پر تھ کامہ اندر اللہ تعالیٰ سنی پٹھ توکل تہ اعتماد کرن، **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذْ أُقِيلَ لَكُمْ تَفْسَحُوا فِي الْمَجْلِسِ فَأَفْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ** ای باایمانو یلہ توه ورنہ آیہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمان توه یا اولی الامر آندرہ یا واجب الاطاعت لو کو اندرہ دنہ توه کانزہاہ، کہ جایہ اندر کر یوسعت، نگھ عکھ بہو، یوتھ بین لوکن تہ آیہ موقعہ کلام خدا، تہ وعظ و نصیحت بوزنک، تمہ ساتہ آسیو توه جایہ اندر کشادہ گی کران، بین ینہ والین آسیو جای دیوان، اللہ تعالیٰ کرہ توهنز تنگی تہ کشادہ، سومثر اوہ توه کن رحمتک دروازہ، **وَإِذَا أُقِيلَ انْشُرُوا فَانْشُرُوا** ہر گاہ کئہ ضرورتہ کہ وقتہ توه ورنہ آیہ کہ تھودو تھیو، بیس ینہ والس ترا یو جای، فور اگر کھ تھودو تھن تہ بیس جای ترا وکن، پانہ بیس جایہ بہون، یہ حکم چھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسہ، سوونہ ون اده نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آستن، یا کانہہ واجب الاطاعت شخص آستن البتہ اہل مجلسو اندرہ، یا کانہہ پتہ اوہ ونس چھنہ جائز کہ کانہہ شخص تلہ ہا مجلسہ منزہ تھود، ہنزہ جایہ بہہ پلانہ، یا بہناوہ ہاسیہ کانہہ، **يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ** اللہ تعالیٰ کرہ اتھ حکم تقمیل و اطاعت کرنہ سیت تمن لوکن ہند (یمو تمونہ اندرہ ایمان ان) آخر تس اندر درجہ بلند بیہ تمن لوکن باایمان اندرہ، بمن علم دین عطا کرنہ او، زیادہ تھند درجہ عطا کیازہ آہنز اطاعت تہ تقمیل حکم چھ زیادہ پر خلوص، عملہ اندر یوت زیادہ خلوص آسہ تیوت چھو ثواب زیادہ عطا یوان کرنہ، **وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ** اللہ تعالیٰ اس چھ توهنزن سارنی عملن ہنز پور خبر تس چھ خبر کھنز عمل کھ خالی از ایمان، کھنز عمل چھ ایماندری سان، کھنزہہ عملہ منز چھو کوتاہ اخلاص **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَأْتَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْكُمْ صَدَقَاتٍ** ای

نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرُ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ  
 غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿۱۷﴾ ءَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ  
 صَدَقَاتٍ فَإِذ لَّمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَ  
 آتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۸﴾  
 أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَّا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا

بالیما نو یلہ توہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیتی برہہ تمہہ کرنہ آسن، تہند گوہہ تمہ پنہ نہ سرہ تھہ تمن  
 سیت کرنہ بروٹھ فقیرن مسکینن کنیوہادیون بطور صدقہ تمیوک مقدار چھنہ مقرر کرنہ آمت، مگر  
 آسن گوہہ سو معتد بہی ذلک خیر لکم و اطہر یہ چھو توہندہ ثواب تہ اجر حاصل کرنہ خیطرہ بہی توہ  
 گنہولہہ پاک کرنہ خیطرہ رت ذریعہ، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ و سن ہر گاہ توہ صدقہ جورہ  
 نہ تلہ چھو توہ معاف، بس بے شک اللہ تعالیٰ لچھو سٹھاہ مغفرت کرہ دن سٹھاہ رحم کرہ دن، ءَأَشْفَقْتُمْ  
 أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ کیاہ توہہ اندرہ بعضے متوسط لوک کھوڑوہ نبی کریم صلی  
 اللہ علیہ وسلم سیت برہہ تمہہ کرنہ بروٹھ صدقہ دلن، فَإِذ لَّمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ خیر یلہ نہ  
 توہ پور وسعت نہ آسنہ موکھ صدقہ ہیوکوہ دتھ اللہ تعالیٰ ان کر توہندس حالتس پیٹھہ رحم کرت توہ  
 صدقہ دیون معاف مگر بین ضروری عبادتن اندر کریو توہ پابندی فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ  
 وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ پس تہادیو قائم نماز پابندی سان بہی آسیو دیوان زکوٰۃ پابندی سان، بہی آسیو  
 فرماں برداری کران خدایہ سنزیہ جہندس پینمبرہ سنز، وَاللَّهُ خَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ تعالیٰ اس چھہ پور  
 خبر تمہہ سارچی یہ توہ کران چھوہ، تس چھہ توہنزا ظاہری حالت تہ معلوم باطنی حالت تہ معلوم، أَلَمْ  
 تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ کیا توہ چھنا و چھان یار رسول اللہ چھو نا تمن لو کن کن یبو  
 یارزتہ دوستی چھہ لاجھو تھنھی لو کن سیت یمن پیٹھہ اللہ تعالیٰ سند غضب چھو، تم گئے یہود تمنی سیت  
 آس دوستی لاجھو منافقو، مَّا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْكُمْ یم منافق چھنہ کانسہ ہند، نہ توہند نہ چھہ جہند،

مِنْهُمْ وَيَخْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿۱۴﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا  
شَدِيدًا إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۵﴾ اِتَّخَذُوا آيَاتِهِمْ جُنَّةً  
فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ ﴿۱۶﴾ لَنْ نَغْنِي عَنْهُمْ  
أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ  
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۷﴾ يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ  
كََمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ أَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ

وَيَخْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ تمن چھ پنہ نہ کھو چرج تہ خبث باطن خبرئی، مگر باوجود آن چھ  
اپس پیٹھ قسم ہاوان سواپز گو یہوی کہ مسلمانن چھ قسم ہاوتھ دپان اس چھ تو ہی سیت اعدا اللہ لکم  
عذابا شدیدا اللہ تعالیٰ ان چھو تہمدہ خیطرہ تیار تہومت سخت عذاب، اِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ  
کیازہ بے شک تم آس سٹھاہ پیچھ تچھ کامہ کران چنانچہ کفر و نفاقہ خوتہ کوسہ ہش کوم چھ زیادہ پیچھ،  
تموی پیچھ کامیواندرہ گیہ اکھ۔ پیچھ کوم کہ اِتَّخَذُوا آيَاتِهِمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَلَهُمْ عَذَابٌ  
مُّهِينٌ تمیو کثیر ہین تمئے اپز قسم، پنہ نہ بجاوہ خیطرہ سپر، یمہ موکھ کہ مسلمان زانن آسہ مسلمانن سانس  
مال و جانس لاگن نہ اتھ، پیار کن آس لوکن خدایہ سزہ و تہ نشہ یعنی دین اسلامہ نشہ پتھ رٹان، امہ  
موکھ چھ تہمدہ خیطرہ خوار و ذلیل کرہ ون عذاب، لَنْ نَغْنِي عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا  
یلہ یہ عذاب تمن کرنہ آیہ، تمہ ساتہ آیہ نہ تمن بکار خدایس نشہ، نہ مال تہوند، نہ گبر تہند تم کیا  
موکلاوہ صحاہ عذابہ نشہ، اُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ بلکہ چھ تمئے جنمی، تمئی چھواتھ  
جہنمن اندر روزت دزن ہمیشہ، يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَمِيعًا یہ عذاب آسہ تمن تمی دوہہ یمہ دوہہ اللہ  
تعالیٰ تمن بیہ باقی تمام مخلوقاتن دوبارہ بیہ زندہ کرہ، فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ  
عَلَىٰ شَيْءٍ پس ہاون تس بروٹھ کنہ تہ اپز قسم، اتھ پاٹھ توہ بروٹھ کنہ چھ قسم ہاوان، یمن آسہ خیال  
کہ تم ماچھ کنہ رتس حالس پیٹھ، یمو اپز یو قسمو سیت مالبن تم نجات، اَلَّا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَافِرُونَ وارہ

الْكَذِبُونَ ۱۸) اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ط  
 أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ ط الْأَلَاكُ حِزْبُ الشَّيْطَانِ هُمْ الْخَائِرُونَ ۱۹)  
 إِنَّ الَّذِينَ يُجَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ۲۰)  
 كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ۲۱) لَا تَجِدُ قَوْمًا  
 يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ط

بوزیو کہ بیشک تمہے چھ بیڈاپزیر، کیا زہ تمو کر نہ خدا یس بروئٹھ کنہ تہ اپزونہ نشہ کانہہ وایہ، تمن ہنزہ تمہ کامہ یمن ہیوند پیٹھ ذکر کرنہ آو کرنک وجھہ چھو ائی کہ اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ ط شیطان چھو تمن پیٹھ پور تسلط تہ غلبہ لب مت، تو پتہ پھکھ تھی خدایہ سن دیاد مشروومت یعنی تھندین احکا من تمیل کرن، أُولَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ واقعی یم چھہ شیطانہ سنز جماعت، الْأَلَاكُ حِزْبُ الشَّيْطَانِ هُمْ الْخَائِرُونَ وارہ بوزیو شیطان سنزی جماعت چھہ بر باد تہ خراب گوشہ و سن۔ إِنَّ الَّذِينَ يُجَادُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ بے شک یم لوک مخالفت چھہ کران خدایہ سنز بیہ تھندس پیغمبرہ سنز، تم چھہ سخت ذلیل لوک خدا یس نشہ، تھند ذلتہ کس عذابس گرفتار سپدن کیاہ عجایب چھو، اللہ تعالیٰ ان اتھہ پاٹھ تھندہ خیطرہ ذلت تجویز کر مرثہ یرتھہ مرث چھہ، تھتھے پاٹھ چھہ تھی یوژ ہمت تہ تجویز کر مت فرماں بردار بدن ہندہ خیطرہ عزت، كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي یہ تھہ چھہ اللہ تعالیٰ ان حکم از یس اندر لیکھت تھاو مرث کہ یو تہ میان پیغمبر روزو غالب حقیقتس اندر چھو ہیوی بوڈ عزت تہ تنس چھو مقصود اللہ تعالیٰ اس بیان کرن پیغمبرن ہیوند غلبہ، ہمن ذکر فرموون پیغمبرن ہیوند شان تہ شرف نر اونہ خیطرہ، و سن یلہ پیغمبر با عزت چھہ، تمن متابعت تہ بیروی کرہ و یمن تہ گئے با عزت تھی، إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ بے شک اللہ تعالیٰ چھو قدر تہ وول تہ غلبہ وول آتھی سولیس یرتھ تس تہ دیہ غلبہ دشمن پیٹھ، لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ط توہ مہز لبون نہ کانہہ جماعتہ یمن فی الواقع پور پڑھہ آسہ خدایہ سنز تہ قیامتہ دوچ، تم کیا لاگن دوستی تمن

وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ  
 كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ  
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا  
 عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۲۷﴾

لوکن سیت یم خدایہ سند تہ سندس پیغمبرہ سند مخالف تہ دشمن آسن۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ  
 أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ اودہ آستن تم مخالف مال جہند، یا پچو جہند یا بای جہند، یا قبیلہ جہند، کیا زہ  
 أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ جہندین دلن اندر چھو کھو نعمت اللہ تعالیٰ ان  
 ایمان، بیہ چھن جہندین دلن پنہ فیضہ سیت قوت دیو تمت تمہ فیضہ اندرہ چھو مراد نور، تیہہ نورس  
 ہدایت مقتضی چھو، سمیوک نشانہ چھو ظاہرس اندر عمل صالح باطنس اندر سکون قلب، چونکہ یہ چھو  
 سبب معنی زندگانی ہندہ زیادتی ہیوند امہ موکھ تہووکھ اتھ ناوروح، یہ دولت ونعمت گیہ تمن دنیاءس  
 اندر، آخرتس اندر گو تہند خیطرہ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بیہ واتا وہ تمن  
 لوکن تمن جتن اندر یویون کن ہرہ تہ کولہ آسن پکان تمیشی جتن منزر وزن تم ہمیشہ ابد الآباد،  
 رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اللہ تعالیٰ چھو تمن نشہ راضی تم چھ تش نشہ راضی، أُولَئِكَ حِزْبُ  
 اللَّهِ جیہ گیہ اللہ تعالیٰ سنز جماعت أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وارہ بوزیوکہ اللہ تعالیٰ سنزی  
 جماعت چھ کامیاب سپدہ و سن۔





هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ  
 لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ تَانَعْتُمْ حُصُونَهُمْ  
 مِنْ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي  
 قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ

کرنہ آمت یمن دو شون جلاوطنین چھوونندہ آمت حشر اول تہ حشر ثانی ہیندہ پاٹھ آواتھ مضمونس  
 شروع کرنہ تسبیح سیت سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ خدایہ سنزپاکی چھ  
 بیان کران تم ساری لوک یم آسمان تہ زمین منز مخلوقات چھ هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ  
 الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ تہندہ علوشانک قدرت کاملک تہ کمال حمتک اثر چھویہ کہ سوگو سوی  
 یم کفار اہل کتاب یعنی بنی النضیر کڈ پنہ نیو گرواندرہ نیر، گوڈنچہ لہ اکہ وٹہ سنبرت یعنی یہ مصیبت آو  
 تمن بنت گوڈنچی لہ یہ چھو تمن تمنی کالین ہیوند سزایہ تمہ تم کران آس مخالفت تہ دشمنی پیغمبر  
 آخر الزماں سنز صلی اللہ علیہ وسلم، بیتھ منز چھواکھ لطیف اشارہ اکس پیشگوئی کن، سہ گیہ یعنی کہ تہندہ  
 خیطرہ چھو آیندہ تہ اتھوی انقلاب اوہ ون چنانچہ حضرت عمرن رضی اللہ عنہ کڈ پنہ نس خلافت اندر  
 ساری یہود جزیرہ عربہ اندرہ، مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا ای مسلمانو تہ او سنہ گمان یمن یہودن ہیوند  
 سامانہ تہ شوکت وچھت کہ تم کیانیرن سیدہ سیدہ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ تَانَعْتُمْ حُصُونَهُمْ مِنْ اللَّهِ تمن یہودن تہ  
 اوس پنہ نہ جایہ گمان کہ تہندہ قلائی پچاون تمن خدایہ سنہ انتقامہ لہ یعنی تمن تہ اوس پنہ نین قلائی  
 ہنزہ مضبوطی تہ محکم پیٹھ بڑہ ناز، فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا پس پیواتھ تمن خدایہ سنہ  
 عذاب تڑھئی جایہ کن سمیو کہ نہ تمن وہم وگمان تہ اوس تمہ اندرہ چھو مراد کہ مسلمان ہندہ اتھ آی  
 تم کڈنہ تہ جلاوطن کرنہ یمن مسلمان ہنزہ بے سروسامانی کن نظر کرت تہ یہودن ہندس باسلاح  
 وسامان آس کن نظر کرت اوسنہ کانہ ہندس وہم وگمانس منز یوان کہ تم کیاسپدن یمن پیٹھ غالب،  
 وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ بیہ ترو اللہ تعالیٰ ان یہودن ہندین دن اندر مسلمانن ہیوند رعب تہی  
 رعبہ سبہ کر تموپانے نیر تک ارادہ چنانچہ تہنز حالت سہز تو قسمتہ کہ یَخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي

فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ الْأَبْصَارِ ۝ وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ  
 الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۝  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ  
 شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ تَرَكْتُمْهَا قَائِمَةً عَلَى

الْمُؤْمِنِينَ پنہن گرہ آس لوران پائے پنہ نیو اتھو بیہ مسلمان ہند یو اتھو سیت فَاَعْتَبِرُوا يَا أُولِيَ  
 الْأَبْصَارِ پس ریو عبرت توہ یہ حال وچھت ای عقلیہ والیو وچھو شرک کفر ظلم تہ بد عہدی کرنگ  
 انجام کیو تھ چھو آسان تم خدایہ سز تہ تہندس پیغمبرہ سز مخالفت چھہ کران تمن چھو اللہ تعالیٰ بعض  
 اوقات دنیا س منز تہ کروٹھ سزادیوان ، وَلَوْلَا أَنْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا  
 ہر گاہ نئے اللہ تعالیٰ ان تہندہ حقہ جلاو طنی ہیوند حکم لیو کھت آسہان تہ دیہا تمن تہ دنیا سئی اندر سز  
 قتل کرنہ سیت اتھ پاٹھ تمن پتہ بنی قرظن سیت معاملہ کرنہ آو، ہر گاہ تم دنیا س اندر عذاب قتلہ  
 نشہ بچای تہ مگر وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ تہندہ خپرہ چھو آخرتس اندر نارک عذاب تیار،  
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ یہ سز دنیا س اندر جلاو طنی ہیوند آخرتس اندر عذاب نارک  
 چھو تمن امی موکھہ کہ تمو کیا کفر مخالفت خدایہ سز بیہ تہندس پیغمبرہ سز، وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ  
 شَدِيدُ الْعِقَابِ پس شخص خدایہ سز مخالفت کران چھو سوی گیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ سز  
 مخالفت کمرن پس اللہ تعالیٰ چھو سخت سز دیوہ ون یہ مخالفت تہ جرم یہودن ہیوند اوس دوہیہ قسمہ اکھ  
 نقض عہد سیت سمیوک سز آکھ دینہ جلاو طنی سیت بیا کھ جرم اوس ایمان نہ اُن تمیوک سز چھک  
 نار جہنمک عذاب امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان یہودن ہندہ اکھ طعک جواب ئس تمبو کل ژٹنک تہ  
 زانک دژو کہ کیا یہ گونا فساد تہ تباہی تولین بیہ کریو بعض مسلمانو کل ژٹنہ نشہ ہر اسے یہ خیال کرت  
 کہ یم کل سپدن تہ واتن مسلمائی نشہ لہذا کیا زہ واتہ ناووپان پانس نقصان، بعضیہ کز خیال کہ امہ سیت  
 ولتہ یہودن تکلیف تہ رنج لہذا اگر ہن یم کل ضرور ژٹن، اللہ تعالیٰ اُن کردو شوئن جماعتن ہنزہ کامہ



أُصُولَهَا فَيَاذِنُ اللَّهُ وَيُخْرِجِي الْفَسِيقِينَ ⑤ وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى  
رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَا كِنَ  
اللَّهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ ⑥ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ⑦  
مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ  
وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّبِيلِ ⑧ لِكَيْ لَا

تائید چنانچہ فرمود **مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْنَةٍ أَوْ نَرَكَةٍ فَأَوَّامَةٌ عَلَىٰ أَصُولِهَا فَيَاذِنُ اللَّهُ** ای مسلمانو! جس  
خضہ کو لاء توہ ڈیٹھ تروون یا زولون یا تہوون پنہ نین مولن پیٹھ استادے یعنی ڈیٹھ تروون نہ کہنہ  
دوشوے چیز کردہ توہ اللہ تعالیٰ سنزی حکمتہ نہ رضا مندی موافق یو تھہ مسلمان اللہ تعالیٰ عزت نہ  
آبرودیہ، **وَالْيُخْرِجِي الْفَسِيقِينَ** بیہ یو تھہ ذلیل نہ خوار کرہ کافرن **وَمَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا  
أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ** بیہ کس تمس یہودن ہیوند مالہ اللہ تعالیٰ ان مال غنیمت بناو تھہ واتہ نوو  
پنہ کس پیغمبرس نشہ تھہ منز پیہ نہ نہ۔ کانہہ مشتقاہ تولسن نہ پئے توہ تمہ خیطرہ گرتہ وونٹھ دورہ ناوسن  
یعنی نہ پیوہہ توہ سفر کزن کیاہہ مدینہ شریفہ پیٹھ آس سہ جای زی میل دور نہ پیو توہ جنگ کزن لہذا جہنہ  
تھہ اندر توہ ہند کانہہ حق **وَاللَّيْنِ اللَّهُ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ** لیکن اللہ تعالیٰ سند طریقہ چھ کہ سوچھو  
پنہ نین پیغمبرن خاص غلبہ دیوان پنہ نیو دشمنو اندرہ یکن پیٹھ یشہان چھو یعنی محض رعبہ سیت غلبہ  
دیوان تھہ منز نہ کانہہ مشتقاہ واتان چھہ چنانچہ تمو پیغمبر واندرو تن غلبہ حضرت محمد مصطلے اس  
واتہ نوون تمس نشہ یمن یہودن ہیوند مال لہذا جہنہ تھہ مالس اندر توہ کانہہ حق بلکہ چھواتھ پیٹھ مالکانہ  
تصرف کر تک تمنی پورہ اختیار، **وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** اللہ تعالیٰ اس چھہ پر تھہ چیزس پیٹھ پور  
قدرت اتھہ پاٹھہ بنی نصیرن ہندہ مالک حکم بیان آو کر نہ اتھئے پاٹھہ چھو حکم کہ **مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ  
مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالسَّبِيلِ** کس مال اللہ تعالیٰ ان  
بطریق مال غنیمت واتہ نوو پنہ کس پیغمبرس نشہ اتھئے پاٹھہ یعنی محنت و جنگ کرنہ ورا ای کافرن ہنز و

يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ  
 لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ  
 يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

یو بستو منزہ مثلاً فدک بیہ سرتھ منز بیہ چھنہ توہ کا نہہ استحقاق مالک بنہ ٹک بلکہ چھ سو حق رسول کریمہ سند اللہ تعالیٰ ان چھو تمن تھ پیٹھ مالکانہ تصرف کر تک حق دیو تمت یس خوش کر کیکھ تس ہیکن عطا کرت بیہ چھو تھ اندر تھندین اہل قرابتن رشتہ دارن ہیوند حق بیہ تیکن مسکین تہ مسافرن ہیوند حق یعنی یم ساری چھ امہ مالک مصارف ہر گاہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مناسب زانن بیہ حکم آویسہ موکھ کرنہ کے مَنِّي لَا يَكُونُ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ یو تھنہ سومال غنیمت وانہ تو ہندین مالدارن ہندس قبض منز فقیر تہ مسکین سپدن محروم اتھ پاٹھ جاہلیتہ کس زمانس منز سپدان اوس کہ مال غنیمت وغیرہ محاصل جنگ آس کھیوان اقتدارہ وال لوکھی فقیر تہ مسکین لوک آس محروم سپدان امی موکھ تہو واللہ تعالیٰ ان امہ مالک خرچ کرن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنزہ رایہ پیٹھ تمہ علاوہ کمر اللہ تعالیٰ ان تمک مصارف بیان گویا فرموون کہ باوجود اینکہ توہ چھہ اتھ اندر مالکانہ حیثیت مگر توہ گڑھہ محتاجن تہ مصالحہ عامن ہندین مواقعن ہیوند خاص خیال تہاوتھ تمن پیٹھ صرف کرن ای مسلمانویدہ توہ معلوم سپد کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سزہ رایہ پیٹھ تہاونس منز چھ حکمت لہذا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا یہ کنیوہاہ دونو تہ عطا کرنوہ توہ رسول کریم تہ ریٹو بیہ یمہ چیزہ کہ رشتہ رشتہ تم توہ پتھ رٹن تمہ رشتہ آسیوروزان پتھ یہوی حکم زانیو افعال واحکامن منز تہ لفظ ”ما“ عام آسہ موکھ، وَاتَّقُوا اللَّهَ بیہ کھوڑیو اللہ تعالیٰ اس اِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ بے شک اللہ تعالیٰ چھو مخالفت کرنس پیٹھ سخت عذاب کرہون تہ سزادیوہون لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ اگرچہ مال غنیمتس منز چھو مطلق مسکین ہوند حق آتھی مگر فقیر تہ حاجت مند

أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ۝ وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝

مہاجرین ہیوند حق تہ چھو خصوصاً تہہ منزیم مہاجر پنہ نیو گروتہ مالو اندرہ جبرأتہ ظلماکڈنہ تہ جد اکر نہ آئے کیا زہ تم کفر کافرو تیتوت تنگ تہ پریشان کہ تم سپد گھرہ بار تراونس پیٹھہ مجبور یبتعون فضلا من الله ورضوانا یہ ہجرت کرنہ سیت چھہ تم ڈھانڈان محض خدایہ سُد فضل تہ تہمز رضامندی سُنہ دنیوی غرضہ خیطرہ کرکھنہ ہجرت وَبِصُرُونِ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ بیہ چھہ تم خد اور سولہ سبوس دینس مدد کران اُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ تہئے لوک چھہ پڑاٹھہ بالایمان، وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ بیہ چھواتھہ مال غنیمتس اندر حق تمن لوکن ہیوند یومو قرار کردار الحجر تس تہ دار الایمانس اندرئی یعنی مدینہ مورش اندر مہاجرین ہندہ ات واتنہ بروٹھہ یعنی تم آس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنزہ ہجرت کرنہ بروٹھی مدینہ شریفس منز مسلمان سپد مت تموا آسہ تہ مسجدہ بناٹھ یہ اوس تہوند کمال باوجود موانع و مخالفت، يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ یم مدینہ شریفک لوک چھہ محبت تہاوان تمن لوکن ہیوند یم یمن گن ہجرت کرت یوان چھہ۔ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا مال غنیمتہ منزہ یہ کتہرہ باہ ونہ یوان چھہ مہاجرین تہہ سیت و تھنہ تم پنہ نس دلس اندر سُنہ قسمک طلب تہ رغبت محسوس کران بلکہ چھہ زیادہ محبت تمن بیجر اوان بلکہ چھہ تمن کھیوان چاوان وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ تہہ اندر چھہ تمنئی مقدم زانان تہ ترجیح دیوان پنہ نین پانن پیٹھہ ادہ آستھہ پانس و پستنی یعنی پانہ چھہ روزان بسا اوقات فاتی تمنئی چھہ کھیوان وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ واقعی یم لوک پنہ نہ نفس و طبعیتہ کہ مغلہ نَشہ محفوظین تہاوانہ یعنی یمن اللہ تعالیٰ توفیق دیہ یعنی تہند دل تہاود لالچہ حرصہ تہ مغلہ نَشہ محفوظ تمنئی لوک چھہ کامیاب تہ با مراد سپدہ و ن

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا  
الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ  
آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ۝۱۰ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا  
يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَئِنْ  
أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلَا نُطِيعُ فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ  
قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ۝۱۱ لَئِنْ أُخْرِجُوا

کیازہ لالچی تہ بخیل انسان کتھہ پاتھ کرہ بایس پیٹھ ایثار سو کر گوٹھ خوش باکی سبندھ خوش حالی سیت  
وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ بیہ چھو تممن لوکن ہیوندتہ اتھ مال غنیمتس اندر حق یم اسلا مس اندر،  
یا بھرتس اندر دنیاس اندر یمن مہاجرن تہ انصارن پتہ آی یا پتہ ین، يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا  
وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ یم یا نس سیت ملہ وتھ یمن مہاجرن تہ انصارن دعای خیر چھ  
کران دپان چھ ای سانہ پروردگارہ سائین گھن کر بخشایش تہ مغفرت، بیہ سائین باین یمواسہ بروٹھ  
أَنْ إِيْمَانٍ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا بیہ مہ تہاوسائین دلن اندر مٹہ قسمہ کینہ تہ بغض  
کانسہ با ایمانہ سبند رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ای سانہ پروردگارہ بے شک ژہ چھ کھ شھاہ مہربان شھاہ رحم  
کرہ ون۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَافَقُوا کیا توه وچھوتا یمن منافقن عبداللہ بن ابی وغیرہ ہیوند حال  
يَقُولُونَ لِإِخْوَانِهِمُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تم چھ ونان پنہ نین ہم مذہب باین یم اہل  
کتبا باندہ کافر چھ، یعنی بنی النضیرن لَئِنْ أُخْرِجْتُمْ لَنَخْرُجَنَّ مَعَكُمْ قسم خدا اس چھ پر تھ حاس  
اندر توی سیت ہر گاہ توه پنہ نہ وطنہ منزجر آلیو کڈنہ اس تہ نیرو پنہ نہ وطنہ منزہ توی سیت، وَلَا نُطِيعُ  
فِيكُمْ أَحَدًا أَبَدًا وَإِنْ قُوتِلْتُمْ لَنَنْصُرَنَّكُمْ بیہ مانونہ اس توه متعلق کانسہ ہنز کھ زانہہ تہ ہرگز بیہ ہر گاہ  
توه سیت لڑائی تہ جنگ کرہ کانہہ اس نیرو ضرور توهندہ مددہ خیطرہ، وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ اللہ

لَا يُخْرَجُونَ مَعَهُمْ وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَإِيْنَصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ  
 لَيُؤَلِّقَنَّ الْأَدْبَارُ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ﴿۱۲﴾ لَا نُنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً  
 فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿۱۳﴾  
 لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ  
 جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسِبُهُمْ جَمِيعًا وَقُلُوبُهُمْ

تعالی چھو گواہی دیوان کہ یم منافق چھ ایزیر، محض چھ یہودن مسلمانن خلاف نلنہ خیلرہ یمہ تھہ  
 ونان یہ زیووسیت ونان چھہ تھہ کرن نہ تم زانہہ نہ عمل، لَئِنْ قُوتِلُوا لَإِيْنَصُرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ  
 قُوتِلُوا لَإِيْنَصُرُونَهُمْ قسم خدا ہر گاہ یم یہود پنہ نیو شہر واندرہ کڈنہ ین، یم منافق نیرن نہ تمن سیت  
 ہرگز بیہ ہر گاہ تمن سیت جنگ آو کرنہ یم عنہ قسمک تمن مد کرن نہ، وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُؤَلِّقَنَّ  
 الْأَدْبَارُ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ہر گاہ بفرض محال تمن عنہ قسمک مدد نہ کران لڑایہ منز پدن شریک  
 عین وقت وزہ ژلن تم میدانہ منزہ تمن کن تھر پھرت یمن منافقن ہندہ موقس پیٹھہ ژلنہ پتہ ہیجہ نہ  
 کانہہ نہ تمن مدد کرت چنانچہ آتھہ پاٹھ سپد واقع یمہ ساتھہ بنی النعیرن صحابہ صیوی محاصرہ تھندس  
 قلایس تھہ منز لڑایہ ہیوند احتمال اوس منافقواندرہ آونہ اکھ نہ تمن بروٹھہ کن توپتہ یمہ ساتہ کڈنہ  
 آی تم کانہہ نہ دراونہ تمن سیت، صدق اللہ مولانا العظیم یہ خداین فرموتہ سوروی دراوپز نہ حق  
 لَا نُنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ بے شک توه لوکن ہیوند خوف و حراس چھو تمن  
 منافقن ہندین دن اندر خدایہ سبہ خوفہ خوتہ نہ زیادے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ امیوک  
 وجہ چھو کہ تمن چھنہ کفرہ سببہ خدایہ سنز عظمت فکری تران یم ساری یہود بنی النعیر وغیرہ بیہ منافق  
 نہ ہیکنہ الگ الگ سیت مقابلہ کرت تھہ تمن سیتھی، لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا إِلَّا فِي قُرَى  
 مُحَصَّنَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ یم لوک ہیکن نہ توه سیت جنگ نہ مقابلہ کرت اکہ ونہ ساری میلت نہ  
 نہ وانہ میدانس اندر مگر ہیکن جنگ کرت تھہ شہرس منز اندر اندر تھہ پر تھہ طرفہ قلائی آسہ کھارنہ

شَيْءٌ ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴿۱۴﴾ كَمَثَلِ الَّذِينَ  
 مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاتُوا وِبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ  
 أَلِيمٌ ﴿۱۵﴾ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ  
 قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ ﴿۱۶﴾

آمت نہ ہمکن جنگ کرت کنہ دیوارن نہ دوسن زہایہ، بِأَسْمُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تمہن چہہ پانہ وان سخت لڑائی نہ اختلاف مسلمانن مقابلہ چہہ یم کنہی، نَحْسَبُهُمْ جَبِيحَةً وَقَلُوبُهُمْ شَتَّى ای بوزونہ ژہ چھو بھہ یم زمانن متفق نہ کنہی یہ چھو ظاہرہ پاٹھئی حقیقتس اندر چہہ تہند دل بیون نہ الگ الگ چہلہ چھانگرہ گرفتار، ذَلِكِ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ یہ چھو ای وجہہ کہ تمہن چہہ دشی عقل یوسہ یمین متفقہ تہو ہایم بنی الغیر نہ منافقن ہنز چہہ اکھ اکھ مثالا بنی الغیر ہنز مثال چہہ كَمَثَلِ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاتُوا وِبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ تمہن لوکن ہنز ہش مثال یم یمین بروٹھ کنہی کنہ کالا آس یمودنیاءس اندر نہ پنہ نین بد اعمالن ہیوند مزہ وچہہ بیہ آخرتس اندر نہ تہندہ خیطرہ چھو کڈر عذاب سپدہ ون۔ تم گئے یہود بنی قیقاع تہوند قصہ چھو اٹھہ پاٹھہ کہ تمو کمر بد عہدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمن ۲ ہجریس اندر جنگ بدرہ پتہ تمو پھڑ دو عہد تمہ پتہ درای جنگ کرنہ تھہ جنگس اندر سپد مغلوب و مقہور پتہ یلہ قلا یہ منزہ درای نیر توپتہ آوسارنی گڈ پھرنہ توپتہ آوتہندہ خیطرہ عبد اللہ بن ابی منافقن تم کمر سخت زارہ پارہ دین یم نیرن پائے یمہ شہرہ منزہ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمو کمر یہ تھہ منظور توپتہ درای تم یہود مدینہ شریفہ منزہ تہ وات ملک شامس منز اس جایہ تھہ از رعایت ونان چہہ یمین یہودن ہیوند سوروی مال و جایاد آوامال غنیمتک پاٹھہ صحابہ صہین اندر تقسیم کرنہ منافقن ہند حال نہ سپد یہی كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ اكْفُرْ شیطانہ سز مثال یلہ سوگوڈہ چھو ونان انسانس کافر سپد، فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ پس یلہ انسان اسند ونہ موجب کفرچ کانہہ کوماہ کرت کافر سپدان چھو امس چھو ناوہ والان ناوہ والتھہ چھس ناوہ نمس و کہ دیوان توپتہ چھو یہ

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ  
 جَزَاءُ الظَّالِمِينَ ﴿۱۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ  
 نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ  
 بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۹﴾ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ  
 أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۱۹﴾ لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ

انسان تمہ کس کنہ پیچھ شیخس گرفتار سپدان یہ انسان چھو تمہ ساتہ شیطانس مدد منگان تمہ ساتہ چھس  
 سونان مہ چھنہ ژہ سیت کانہ واسطے بو چھس ژہ نشہ الگ اِنِّيْ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ بو چھس  
 کھو ژان خدا بس نِس رب العالمین چھو، فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا پس چھو یمن  
 دو شوئن ہیوند انجام اُی زہ ہم دو شوئے چھو واتہ وئن نار چھنمس اندر ہمیشہ ہمیشہ چھ روزن یمن دو شوئن  
 تہہ اندر، وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ یہوی چھو ظالمس ہیوند سزاء شیطان اتھ پاٹھ انسانس چھو ڈالان  
 تہ گمراہ کران وقتہ وزہ چھس توپتہ دور ہیوان تہ ژالان اتھہ پاٹھ کر ممو منافقو گوڈنی دیکھ بنو نصیرن کہ  
 یوتھنہ توہ شہرہ منزہ نیر یو توپتہ رود عین موقعس پٹھ کھٹت تمئن دیو توکھ دھوکہ توپتہ گئے دو شوے  
 گرفتار بلا، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ای بایمانو توہ بوزوہ کہ  
 نافرمانن ہیوند انجام کیاہ سپد لہذا کھو ژ یو توہ خدا بس توہ اندرہ پر تھہ اکھاہ وچھن پگاہ قیامتہ خیطرہ کیاہ  
 سامانہ چھو تم سوزمت یعنی رژن عملن اندر کر یو کوشش ہسے توہندہ خیطرہ سامان آخرت بنہ بیہ۔ اتھہ  
 پاٹھ طاعات تہ اعمال صالحہ حاصل کرنس اندر تقویٰ پر ہیز گاری ہیوند حکم چھو اتھہ پاٹھ چھو گنہو تہ  
 پیچھ کامیونشہ پتھ روزنس اندر تہ توہ حکم کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ کھو ژ یو  
 خدا بس بے شک اللہ تعالیٰ اس پتھہ پور خبر توہندن کامین ہنزہ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ  
 فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ توہ مہ جیو تمئن لوکن ہی یومشراو اللہ تعالیٰ سدا احکام بے پرواسپد تھوئیشہ چنانچہ  
 احکام تراو تھہ کر یکھ تمہ کامہ یونشہ ممانعت آسکھ امیوک نتیجہ دراو کہ اللہ تعالیٰ ان مشراو تمئن پھنن

النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۲۰﴾  
 لَوْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا  
 مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا  
 لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۲۱﴾ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ

پان یعنی تمو کرہ نہ تمہ کامہ یوسیت تم پنے نین پانن موکلاوہ ہن آخر تکہ عذابہ نشہ اولیک ہم  
 الْفٰسِقُوْنَ سمئے لوک کیا گئے نافرمان یمن چھونا فرمانی ہونند سزا کھیون، پیٹھ آؤڈ کر کرنہ دوہیہ قسمہ  
 کین لوکن ہونند حال اکھ قسم گو متقین تہ پرہیزگارن ہونند، بیاکھ قسم نافرمانن تہ حکم نہ مانہ وینن ہونند  
 یوناندرہ چھواکھ قسم جنتی، بیاکھ قسم جہنمی، لَا یَسْتَوِیْ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ برابر چھند  
 نارس اندروانہ وئن تہ جنتس اندروانہ وئن، اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفٰیِزُوْنَ بلکہ چھ جنتس اندر  
 وانہ ونی کامیاب تہ رستہ گارنارہ وال چھ ناکام توہنز گڈھ کو شش کرن جنتی بندہ نچ جہنمی بندہ نچ گڈھند  
 ہرگز کو شش کرن یمہ مفید تہ رث نصیحو چھ توہ اتان قرآن مجیدہ کہ ذریعہ سو قرآن گو کہ لَوْ اَنْزَلْنَا  
 هٰذَا الْقُرْآنَ عَلٰی جَبَلٍ لَّرَاٰیۡتَہٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشٰیۡةِ اللّٰہِ ہر گاہ اس نازل کرہ ہون  
 یہ قرآن مجید گڈھ کو ہس پیٹھ تو پتہ تموہ ہو اس تھہ گو ہس منز شعور و فہمک مادہ تہ بیہ آسہانہ تھہ اندر  
 شہوت و خواہشاتن ہونند مادہای انسانہ یقیناً و چھ ہن ژہ سو کوہ تھہ گڈھ ہاژس بیہ گڈھ ہس چھلہ یعنی  
 قرآن مجید چھو در ذات خود تہ موثر تہ قوی فاعل مگر انسانس چھ بوجہ غلبہ شہوت سہ قابلیت تباہ  
 گمبو یمہ سببہ تمس چھند قرآن مجیدک کاہنہ اثر سپدان لہذا پڑہ انسانس خدا و پیغمبرہ سنز نافرمانی تراوت  
 پنون قوہ شہوانی مغلوب کرت فرمانبرداری خدا و رسول کرت طاعات و عباد تو سیت پنون پان پاک  
 کرن، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ اس چھ یمہ مثالہ تہ یم  
 مضمون بیان کران لوکن ہندہ نفعہ خیطرہ یو تھہ تم غور و فکر کرن اتان آیہ بیان کرنہ قرآن مجید چ  
 عظمت وئن چھ بیان یوان کرنہ اللہ تعالیٰ سنز عظمت تہند یو اسماء حسنی و سیت، هُوَ اللّٰهُ الَّذِي



الْاِلهُ الْاَهُوَ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ﴿۲۲﴾  
 هُوَ اللهُ الَّذِي لَا اِلهَ اِلاَّ هُوَ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ  
 الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللهِ  
 عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۲۳﴾ هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ  
 الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ  
 وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿۲۴﴾

الْاِلهُ الْاَهُوَ سوپروردگار گو سوی یس و رای نہ کا نہہ اکھاہ چھو معبود آسنس قابل عِلْمُ الْغَيْبِ  
 وَالشَّهَادَةُ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ سوی چھو زمانن وول پوشیدہ چیز تہ نن چیز سوی چھہ سٹھاہ  
 مہربان سوی چھو سٹھاہ رحمتہ وول هُوَ اللهُ الَّذِي لَا اِلهَ اِلاَّ هُوَ سوی پروردگار چھو یس و رای نہ  
 کا نہہ اکھاہ چھو معبود نہ نس قابل۔ الْمَلِكُ الْقَدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ  
 الْمُتَكَبِّرُ سو چھو پادشاہ ساروی عیبو نشہ پاک گذشتہ زمانس اندر ساروی عیبو نقصانوشہ پاک و سالم  
 آسنده زمانس اندر پنہ نین بدن چھو ساروی خوفناک چیز و نشہ امن و امان دیوہ و ن پنہ نین بدن چھو  
 ساروی خطرناک چیز و نشہ ر اچھہ کرہ و ن زبردست تہ غالب چھو خرابی تہ نقصان پورہ کرہ و ن چھو سٹھاہ  
 عظمتہ وول چھہ سُبْحَانَ اللهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ تہو نندشان چھو کہ سو چھو مغزہ تہ پاک تمو ساروی کتھو نشہ  
 یمہ کتھہ لوک تس ن لاگان چھہ هُوَ اللهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى سوی چھہ  
 معبود بر حق سوروی پیدہ کرہ و ن سوروی حکمت پیدہ کرہ و ن پرت چیز س صورت و شکل عطا کرہ و ن  
 تس چھہ رت رت ناو يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ساری چیز یم  
 آسانن تہ زمین منز چھہ یم چھہ تہنہ پاک ی بیان کران سوی و چھو زبردست تہ غالب کمال حکمتہ وول پس  
 اکتھس با عظمت خدا یہ سندن احکامن ہونند تعمیل چھو سٹھاہ ضروری۔



## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ

یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کرنے خیرہ جہاد کرنگ ارادہ کر صحابہ صیواندرہ اک صاحبین لیو کہ خط مکہ کین لوکن کہ حضرت رسول کریم چھ عنقریب توہ پیٹھ حملہ کرنگ ارادہ کران۔ اس صاحبس اوس ناوحاطب بن ابی بلتعہ جنگ بدرہ کیو صحابہ صیواندرہ اک صاحب یم آس اصلی سمکن باشندہ مگر یمو آس مکہ معظمس منز سکونت اختیار کر مژ چنانچہ مول بوی اولاد اہل و عیال اوسکھ مکہ شریفہ سی منز سوی خط اوسن دیو تمت اس زانہ اتھہ سہ آس سوخط ہتھ گزہان مکہ شریف نبی کریم سپدو حیحہ کہ ذریعہ یہ معلوم تم فرمود حضرت علی مرتضیٰ اس بیہ کنیوں صحابہ صمیمین کہ توہ نیر یو فلاں جایہ سمکھیوہ توہ سہ زانہ تمس نشہ کریو سوخط وصول چنانچہ تم دورے تس زانہ پتہ تس نشہ کر کہ سوخط وصول گوڈہ تہاد یو تمہ زانہ پوشیدے مگر پتہ کر کہ تس تلاشی تمہ اوس تہوومت سوخط کلس پیٹھ مستس ولتھ بہر حال ان سوتمو کر کہ پیش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندس خدق اندر تموانہ نوو نادد تھ حضرت حاطب فرمود ہس توہ کیا زہ سوزوہ یہ خط مکہ کین لوکن س تمو کر عرض واقعی ہز سوزمہ یہ خط مگر خدانہ کردہ مہ نہ حض سوزنہ یہ خط اسلامہ کہ مخالفتہ خیرہ بلکہ مہ حض اوس یقین کہ اللہ تعالیٰ دیہ اسلامس بہر حال غلبہ توہ کرہ ضرور فتح عطا مہ خطہ سیت واتہ مہ اکھ نفعاہ تہ فاندہ کہ مکہ ہک لوک روزن مہ نشہ ممنون و مشکور تمہ موکھہ واتہ ناون نہ میانس عیالس کانہہ تکلیفانہ ضرراہ کیا زہ مہ چھنہ متہ کانہہ سیت کانہہ قرابتاہ تہ رشتہ داریاہ بلکہ چھس بوتہ اکھ اجنبی تہ پردیسی شخصاہ اتھہ حالس اندر کھوت حضرت عمرس سخت غصہ تمو مگر عرض مہ دیو حض اجازت بوٹلہ تمس حاطبس گردن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمودس کہ یہ شخص چھو جنگ بدرہ کیو صحابہ صیواندرہ اللہ تعالیٰ ہن چھہ جنگ بدرہ کین لوکن سارنی گنہن بخشایش کر مژامی وقتہ سپدیمہ سورہ شریفک یم آیات کریمہ نازل،

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ اٰی بِالْاِیْمَانُو تُوہ مہ ریو کہ منگ کافر یم میان تہ توہند

إِيهِمْ بِالْمُودَّةِ وَقَدْ كَفَرُوا بِأَجَاءِكُمْ مِنَ الْحَقِّ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ  
وَأَيَّاكُمْ أَنْ تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ جِهَادًا فِى سَبِيلِى وَ  
ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِى تُسِرُّونَ إِلَيْهِم بِالْمُودَّةِ ۗ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا  
أَعْلَمْتُمْ وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ ۝۱

دشمن چھ پن دوست اگرچہ توہندین دین منزئے آسہ تمیوک خیال تُلُقُونِ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَّةِ مگر  
ظاہر چھو کران دوستی ہیوند برتاو تمن سیت تہہ مہ کریو وَقَدْ كَفَرُوا بِأَجَاءِكُمْ مِنَ الْحَقِّ حالانکہ نئس  
ہز دین توہ نیشہ دوت تہہ کرتمو صرت انکاریہ گیہ خدا ئس نسبت دشمنی، يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَأَيَّاكُمْ أَنْ  
تُوْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ بیہ گئے یم لوک تمئے یو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تہہ توساری مسلمان پنہ نہ  
شہرہ اندرہ کڈ ہورہ نگارنگ ایذا تہہ تکلیف واتہ ناوت محض یمہ تہہ سببہ کہ توہ کیا زہ کر وہ کئس معبود  
برحقس پڑھ ئس توہ سارنی ہند رُب چھویہ گیہ توہ نسبت دشمنی غرض اُتھین ذلیل لوکن سیت گوہیا  
دوستی تہاؤن إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ جِهَادًا فِى سَبِيلِى وَابْتِغَاءَ مَرْضَاتِى ہر گاہ توہ گرومنزہ درامت چھوہ میانہ  
وتہ اندر جہاد کرنہ خیطرہ بیہ میان رضامندی ژھانڈنہ خیطرہ تلہ شوپیا توہ کافرن ہنز رضامندی  
ژھانڈین توہ کروہ دشمنی سارنی سیت میانہ رضامندی خیطرہ ہون تلمئی دشمن سیت دوستی ہیوند سلسلہ  
قایم کرن تہنز رضامندی ژھانڈنہ خیطرہ یمین دون تھن چھوہ واٹھئی پاند وان تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمُودَّةِ  
توہ چھوہ زورہ زورہ کئٹھ کئٹھ تمن سوزان دوستی ہنزہ شچھہ تہہ پیغام گوڈہ چھہ تمن سیت دوستی تہاؤن پیچھہ  
توپتہ پو شیدہ تہہ کئٹھ پیغام سوزن یم چھوہ زیادے پیچھہ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَمْتُمْ حالانکہ مہ چھوہ  
تمن سارنی چیزن ہیوند پورہ علم یم چیز توہ کئٹھ چھوہ کران بیہ یم چیز توہ ن پاتھ چھوہ کران اتھ کن  
نظر کرت تہہ پڑہ ہانہ توہ تمن سیت دوستی ہیوند سلسلہ قایم کرن، وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ  
السَّبِيلِ ئس اکھاہ توہ منزہ اُتھہ حرکت کرہ پس تحقیق سوڈول سیزہ وتہ نیشہ ڈلہ ونین ہیوند انجام تہہ  
عاقبت چھو توہ معلومئے تم مہ زانیو کہ توہ دوست بلکہ چھہ تم توہند تھئی دشمن کہ إِنْ يَفْعَلْهُ

يَتَّقُوكُمْ بِكُنُوزِ الْكَرْمِ أَعْدَاءٌ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالسِّنَدَهُمْ  
 بِالسُّوءِ وَوَدُّوا أَنْ يَكْفُرُوا ۚ لَنْ تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ ۗ  
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ قَدْ كَانَتْ لَكُمْ  
 أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالَ الْقَوْمُ لَهُمْ إِنَّا  
 بَرَاءٌ وَأَمْنٌكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا

يَكُونُوا الْكَرْمِ أَعْدَاءٌ ہر گاہ تمں لوکن توه پیٹھ موقعہ لمحہ فوراً تر او ان تم ہینن دشمنی توه سیت وَيَبْسُطُوا  
 إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَالسِّنَدَهُمْ بِالسُّوءِ بیہ موراون توه ضرر و اتانہ خیطرہ ہینن اتھ نہ چندہ زیوہ یہ گود نیوی  
 ضرر تہوند بینی ضرر تہوند گو وَوَدُّوا أَنْ يَكْفُرُوا ۚ تمں چھو تمنا کہ توه نہ گوہیو کا فر سپدن اُتھی لوکھ  
 چھادوستی قابل اگر توه اظہار دوستی کرنہ اندرہ پنہ اہل و عیالک خیال چھو تھ متعلق بوز یوارہ کہ لَنْ  
 تَنْفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ توهند رشتہ دار آشنا اولاد نہ گبردن نہ توه کا نہہ نفع نہ فایدہ  
 قیامتک دوہ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ اللہ تعالیٰ ای کرہ توه منز فیصلہ تمہ دوہہ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللہ  
 تعالیٰ چھو توه ہنزہ سارے کامہ پورہ و چھان پس کرہ سو پرت کامہہ ہیوند فیصلہ وارہ پاٹھ ہر گاہ توه ہنزہ عملہ  
 آسن عذابس نہ سزاس قابل تمہ عذابہ نیشہ بیگونہ موکلاو تھ آشنا تہ گھبر ہذا تمں ہیوند رعایت کرن  
 خدایہ سندس خمس نافرمانی کرنہ سیت یہ چھو سٹھاہ بیچھ نہ قابل مذمت قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي  
 إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ ای مسلمانو توه ہندہ خیطرہ اوس اکھ رُت نمونہ پیروی کرنہ خیطرہ ابراہیم  
 علیہ السلام بیہ تم با ایمان یم تمں سیت ایمان و طاعتس اندر شریک کار آس یعنی اتھ بارس اندر گوٹھ  
 کارن سیت سوی بر تاد کرون یس ابراہیم علیہ السلام نہ تہند یو تابو کر۔ إِذْ قَالَ الْقَوْمُ لَهُمْ إِنَّا  
 بَرَاءٌ وَأَمْنٌكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ یلہ تموساروی مختلف وقتن اندر پنہ نس قومس دوپ اس چھ  
 بیزار توه نیشہ بیہ یمن ہنزہ توه پرستش کران چھوہ معبود بر حقس ورا ی کَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ

وَبَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ابْدَاحَتِي تُوْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحَدَاةَ الْاِ  
 قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لَآبِيْهِ لَاسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ  
 مِنْ شَيْءٍ رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاللّٰيكَ اٰنَبْنَا وَاللّٰيكَ الْمَصِيْرُ ﴿۴﴾  
 رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا اِنَّكَ اَنْتَ

الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ ابْدَاحَتِي تُوْمِنُوا بِاللّٰهِ وَحَدَاةَ  
 اسے منزه تہ توہ منسپد عداوت تہ بغض زیادہ ظاہریہ عداوت روزہ اسہ تہ توہ منز ہمیشہ یوتان نہ توہ کنسی  
 خدا ایس ایمان انیو تہ پڑھ کریو غرض ابراہیم علیہ السلامن تہ تہند یوتا بعو کمر کافرن نشہ بالکل قطع  
 تعلق صاف پاٹھ اِلَّا قَوْلَ اِبْرٰهِيْمَ لَآبِيْهِ لَاسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا اَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ لیکن  
 ابراہیم علیہ السلامہ سنز سٹھ یوسہ تمو فرما پونہ نس مالس یمہ منزہ ننان چھو کہ تمن اوس تس سیت کنہ  
 قسمہ تعلق باقی دو پس کہ یومجہ مغفرت چانہ خیطرہ خدا ایس امہ استغفارہ علاوہ چھنہ مہ اختیار خدا ایس  
 نشہ کئے چیزس پیٹھ یہ چھنہ مہ آتھ کہ بوکیاہ کرہ ناوہ یہ دعا ضرور قبول اتہ بیجہ نہ ہتھ کہ چانہ ایمان انہ  
 ورا ی کیا پچراوت بوڑہ عذابہ نشہ یوتوی یوتی اوس ابراہیم علیہ السلامن و نمت یمہ اندرہ بعضے لوکن  
 مطلق استغفارہ فکرہ تر حالانکہ بتتس چھہ استغفارک بدلہ سوگو طلب ہدایت سمیوک پرتھ اکس  
 اجازت چھونی الواقع چھنہ سو قطع تعلق کرنس خلاف تہ کنہ وریہ پتہ کمر ابراہیم علیہ السلامن دعا۔  
 رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَاللّٰيكَ اٰنَبْنَا وَاللّٰيكَ الْمَصِيْرُ ای سانہ پروردگارہ کافرن اظہار عداوت کرنس اندر  
 چھہ اس تے پیٹھ توکل کران تھی گن چھہ اسی پرتھ معاملس اندر رجوع کران سون اعتقاد چھو کہ  
 تھے گن چھو سارنی پتولا کہ واٹن اتھ اعتقادس گن نظر کرت یوسہ اسہ کافرن نشہ بیزاری ظاہر کمر سو  
 کمر دلہ کہ تھ کہ محض خلوصہ سان کنہ دنیوی غرضہ ورا ی بیہ ہاونہ تہ تھیجنہ ورا ی رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً  
 لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ای سانہ پروردگارہ اسہ متہ کرتہ کافرن ہندہ ظلم و تشددک تختہ مشق اسہ کمر ظاہر تہندہ  
 باطل دینہ تہ باطل معبودان نشہ بیزاری و سن یوتھنہ تم مچ کمر کڈن اسہ پیٹھ ظلم و تعدی کرنہ سیت  
 وَاغْفِرْ لَنَا رَبَّنَا اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ای سانہ پروردگارہ بیہ کمر اسہ گنہن مغفرت بے شک تہ

الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهَا آسَؤُهُ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ  
 يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ ۝  
 عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَادَبْتُمْ مِنْهُمْ مَّوَدَّةً  
 وَاللَّهُ قَدِيرٌ ۝ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا  
 يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَ

چھک زبردست حکمتہ دول ثلے چھے پرت قسمہ قدرت یم زہ دعاء چھہ پئین دعاء ان ہند غرض و  
 غایت اکھ غایت باعتبار دنیا یا اکھ غایت چھو باعتبار آخرت چنانچہ لا تجعلنا اس چھو تعلق دو شون سیت  
 لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهَا آسَؤُهُ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ بے شک تمن لوکن اندر چھو  
 یعنی ابراہیم علیہ السلام تہ تہندین تابعی اندر تو ہندہ خیطرہ (یعنی تنھیں لوکن ہندہ خیطرہ) رُت نمونہ یم  
 لوک اعتقاد چھہ تہاوان خدا اس بروٹھ گن واتوک بیہ قیامتک دوہ قایم سپد نگ **وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ**  
**هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ** ئس شخص یمہ حکمہ نغمہ روگردانی کرہ تس واتہ پانس امیوک ضرر کیا زہ اللہ تعالیٰ چھو  
 بے نیاز تس ہچھنہ پروا نہ چیزک تس منزساری کمالات جمع آسنہ موکھ چھو سوسر لوار حمد و ثناء سیتھی تس  
 چھنہ ضرورت مخلوقن ہندہ عبادتچہ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ مسلمان ہندہ تسلی خیطرہ بطور بشارت اکھ  
 پیشین گوئی فرماوان **عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ كَادَبْتُمْ مِنْهُمْ مَّوَدَّةً** یہ کتھہ چھنہ کنہ عجایب  
 کہ اللہ تعالیٰ کرہ توہ منزہ بیہ تمن لوکن منزیمین سیت توہ مذہبی دشمنی چھہ دوستی تہ بچک سلسلہ قائم  
 تہندہ مسلمان سپد نہ سیت کیا زہ تمن یلہ اللہ تعالیٰ مشرف بشرف اسلام سپد نگ توفیق دیہ دشمنی روزہ  
 نہ گنہ **وَاللَّهُ قَدِيرٌ** یہ چھنہ خدا ئس دور کیا زہ تس چھہ پرتھہ چیزس پیٹھہ بد قدرت چنانچہ فتح  
 منک دوہ سپد واریاہ لوک پنہ نہ خوشی سیت مسلمان **وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ** ازتان ہر گاہ کانہہ شخص اتھ  
 اندر خطا گو مت چھو نہ و سن چھو سوتہمہ خطا نشہ توبہ کران اللہ تعالیٰ چھو تسدہ حقہ سیٹھاہ مغفرت کرہ  
 ون سیٹھاہ رحم کرہ ون **لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن**

تُقْسَطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ⑧ إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكُمْ اللَّهُ عَنِ  
 الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ  
 إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ⑨  
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ  
 اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِن عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ  
 إِلَى الْكُفَّارِ لَأَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا

تَبَرَّوهُنَّ وَتُقْسَطُوا إِلَيْهِمْ اللهُ تعالیٰ چھنہ توه منع کران تمن لوکن سیت احسان تہ انصاف کر تک  
 یمونہ دینہ کس معاملس اندر توه سیت لڑائی کر بیہ یمونہ توه گرد منزہ نیر کڈوہ تمن سیت احسانک تہ  
 انصافک بر تاوکرن چھو جایز **إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ** بے شک اللهُ تعالیٰ چھو انصافک بر تاو  
 کرہ و نین محبت تہاوان تہ پسند کران **إِنَّمَا يَسْتَأْذِنُكُمْ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ**  
**وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ** البتہ اللهُ تعالیٰ چھو صرف منع کران تمن کافرن سیت دوستی لاگنہ نشہ یمو توه  
 سیت دینہ سببہ جنگ کر مت آسہ بیہ یمو توه پنہ نیو گرد منزہ نیر کڈوہ بیہ یمو توه ہندس گرد منزہ کڈنس  
 مدد کر مت آسہ **أَن تَوَلَّوهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ** وکن یم لوک تمن کافرن سیت  
 دوستی لاگن تم چھ سخت گار تہ ظالم، **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ**  
 ای با ایمانو یلہ توه نشہ با ایمان زنانہ دارالحر بہ پیٹھ ہجرت کرت و اتان آسن توه آسیو تمن واقعی مسلمان  
 آسک امتحان کران، **اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ** جہندہ حقیقی با ایمان آسک پور علم چھو خدا ایسی یوت، **فَإِن**  
**عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ** پس ہر گاہ توه امتحان کرت معلوم سپد تہوند با ایمان آسن پس  
 مہ سوز یو کہ تمہہ واپس کافرن کن کیا زہ۔ **لَأَهُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ** نہ چھ تمہہ زنانہ حلال  
 تمن کافرن ہندہ خیطرہ نہ چھ تم مرد حلال تمن کافرن زنانن ہندہ خیطرہ، **وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا** اتھ  
 صورتس اندر نپس مہر وغیرہ تمو کافرو تمن زنانن پیٹھ خرچ کر مت آسہ ہو کر یو توه تمن ادا۔

أَنْفَقُوا وَالْإِنِّجَامَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكُحُوهُنَّ إِذَا تَيْتَمَوْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ ط  
 وَلَا تَسْئَلُوا بِعِصَمِ الْكَافِرِ وَسْئَلُوا مِمَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ مِمَّا  
 أَنْفَقُوا ذَلِكُمْ حَلْمٌ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ⑩  
 وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقِبْتُمْ فَاتُوا  
 الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَرْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا وَاللَّهُ الَّذِي  
 أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ⑪ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ

وَالْإِنِّجَامَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكُحُوهُنَّ إِذَا تَيْتَمَوْنَهُنَّ أَجُورَهُنَّ ط توه چھنہ کا نہہ گناہ تمن زنان سیت نکاح کرنس  
 اندر یلہ توه حسب قاعدہ تمن مہر دیو وَلَا تَسْئَلُوا بِعِصَمِ الْكَافِرِ ای مسلمانو توه مہ تہا دیو کافر زنان  
 سیت تعلقات باقی کیا زہ تہن زانہ تو ہنزہ دارالحر بس اندر روزہ کفرہ کسی حالتس پیٹھ تہنہندہ مسلمان  
 سپنہ سیت دارالاسلام سن ہجرت کرنہ سیت ژھیون سو نکاح تو ہندون ژودنہ باقی تو ہند کا نہہ  
 تعلق تمن زنان سیت وَسْئَلُوا مِمَّا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ مِمَّا أَنْفَقُوا اتھ صورتس اندر نس رقم توه تمن زنان  
 ہندس مہرس اندر خرچ کرمت آسہہ سو مگھو توه تمن کافرن نشہ اتھہ پاٹھ یہ تمو خرچ کرمت آسہہ  
 سو مگن تم توه نشہ۔ ذَلِكُمْ حَلْمٌ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ یہ کینڑہہ بیان آو کرنہ یہ چھو خدا یہ  
 سندہ حکم اتھہ کریو تعمیل سو معبود برحق چھو اتھی مناسب فیصلہ توه منر کران اللہ تعالیٰ چھو سٹھہ زانہ  
 ون سٹھہ حکمتہ وول تمی علم و حکمتہ موجب چھو احکام مقرر فرماون وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَرْوَاجِكُمْ إِلَى  
 الْكُفَّارِ بیہ ہر گاہ توه ازدست گزھن تو ہنزہ زنانو اندرہ کا نہہ زانہ سوی واتہ کافرن نشہ تمہ پتہ سپنہ نہ  
 سہ توه دستیا ب نہ سپنہ توه تموند مہر وغیرہ وصولیابی نس توه تس پیٹھ خرچ کرمت آسہہ فَعاقِبْتُمْ تو  
 پتہ ایہ توه تمن کافرن سیت جنگ کرنگ موقع تو پتہ کریو توه تمن نشہ مال غنیمت وصول فَاآتُوا  
 الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَرْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنْفَقُوا پس دیو توه تمن مسلمان ہنزہ زانہ ازدست گیہ تمہ مال  
 غنیمتہ پیٹھ تیوت رقم یوت تمن خرچ گو مت آسہہ تمن زنانس پیٹھ وَاللَّهُ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ




عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقَنَّ وَلَا يَزْنِيَنَّ وَلَا  
يَقْتُلَنَّ أَوْلَادَهُنَّ وَلَا يَأْتِيَنَّ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِيَنَّ بَيْنَ  
أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايَعُهُنَّ  
وَأَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ

بیہ کھوڑیو تہس خدایس نیس توہ پڑھ کر مڑ چھو جہندین کھن اندر مہ تراویو عنہ قسمہ خلل امہ پتہ چھو اللہ  
تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرت فرماوان **يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ مِنَ النِّسَاءِ أَوْلَادٌ فَبَايَعْنَهُنَّ** ای  
پیغمبریلہ مسلمان زنانہ توہ نشہ یمہ غرضہ خیطرہ حاضر سپدن کہ تمہ کیاہ کرن توہ سیت بیعت یمن کھن  
پیٹھ **عَلَىٰ أَنْ لَا يُشْرِكَنَّ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَسْرِقَنَّ وَلَا يَزْنِيَنَّ وَلَا يَقْتُلَنَّ أَوْلَادَهُنَّ** کہ شریک ٹھہراون  
نہ تمہ معبود برحقس کا نہہ چیزاہ بیہ کرن نہ ژور بیہ کرن نہ فسق و فجور یعنی زنانہ بد کاری بیہ مارن نہ  
پنہ نین اولادون۔ **وَلَا يَأْتِيَنَّ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِيَنَّ بَيْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ** بیہ ٹھہراون نہ اپڑ اولادیس  
بنو مت آہہ تمہو پنہ نین انھن تہ کھورن منز باگ یعنی بچہ آسکھ حاصل کر مت فسق و فجور کرت بے  
سندی سوی لاگن خاوندس گن یا بیس زنانہ ہیوند اولادان فند فریب کرت سوی لاگن پانس گن حدیث  
شریض منز چھو کہ یس بے سند بچہ لاگہ پانس گن یا بیس پنہ نس مالس و رای لاگہ پنون پان بیس شخصص  
گن تس پیٹھ چھو جنت حرام **وَلَا يَعْصِيَنَّكَ فِي مَعْرُوفٍ** بیہ کرن نہ توہنز نا فرمانی تہ مخالفت شرعہ کس گنہ  
کھن اندر اتھ آسے ساری احکام شریعت یس ہر گاہ تمہ زنانہ یمن شرطن قبول کرن یمن ہیوند  
اعتقاد شرط ایمان چھو یمن پیٹھ پابندی سان عمل کرن شرط کمال ایمان چھو **فَبَايَعُهُنَّ وَأَسْتَغْفِرْ**  
**لَهُنَّ اللَّهُ** تلہ کرہ ناویوکھ تمہ زنانہ بیعت بیہ مگھو جہندہ خیطرہ اللہ تعالیٰ اس مغفرت **إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ**  
**رَحِيمٌ** بے شک اللہ تعالیٰ چھو سٹھاہ مغفرت کرہ و ن سٹھاہ رحم کرہ و ن یعنی یلہ تمہ زنانہ یم احکام زانن  
پنہ تہ واجب العمل تلہ زانیوکھ تمہ زنانہ مسلمان بیوی گو بیعتک آہہ کریمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نشہ  
یلہ کا نہہ زنانہ بیعت کرنہ خیطرہ حاضر سپدن اس تس اس اتھ مضمونس پیٹھ اقرار کرہ ناوان بیعت کرنہ

# امَنُوا لَاتَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَسُوْا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبِئْسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُوْرِ ۝۱۳

وزہ اوسنہ کانہہ زنانہ ہیوند اتھ لگان تہندس دست مہار کس سیت یمہ بروئٹھ آیات کر یکن منز فرماو اللہ تعالیٰ ان ممانعت مطلق کافرن سیت دوستی ہیوند تعلق تہاونہ نغمہ امہ پتہ چھو فرماوان ممانعت یہودن سیت دوستی ہیوند تعلق تہاونہ نغمہ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَاتَتَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللهُ عَلَيْهِمْ قَدْ يَسُوْا مِنَ الْآخِرَةِ كَمَا يَبِئْسَ الْكُفَّارُ مِنْ أَصْحَابِ الْقُبُوْرِ** اے با ایمانو تمہن لوکن سیت تہہ تہاویودوستی ہیوند تعلق یکن پیٹھ اللہ تعالیٰ ان غضب فر موویعے یہود یکن ہنز کثرت مدینہ منورس منز آس تم چھہ آخرتہ کہ ثواب ذخیرہ نغمہ نامید تہ مایوس اتھ پاٹھ کافر تم قبرن اندر دفن چھہ کرنہ آمت چھہ آخرتہ کہ خیر و ثوابہ نغمہ مایوس تہ نامید کیازہ قبرن اندر واتھ چھو کافرن عالم آخرتک معاینہ سپدان یقین ہجھک سپدان کہ سانہ خیطرہ نجاتچ کا نہہ صور تھاہ جھنہ اتھہ پاٹھ اوس یہودن پور یقین کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھہ بے شک پیغمبر آخر الزماں مگر دیدودانستہ آس انکار کران لہذا چھہ یہودن تہ کافرن ہنز حالت نجات نہ لینس اندر کسئی۔





وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمٍ لِمَ تَأْتُوا بِنَبِيٍّ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ⑤ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا

کارت ناگ تراوند آمنت دیوار ہی صفو منزہ چھنہ اورہ یور ڈلان تہ پتھ نیران توہے چھوہ ونان کہ اسے معلوم سپدہ ہاساروہ عملواندرہ کوسہ عمل چھہ زیادہ ٹاٹھ اللہ تعالیٰ اس امہ چھہ ییہ عمل جہاد کرن خدایہ سنزہ وتہ اندرادہ کیازہ اوس توہ پیٹھ شاق گذران یلہ جہادک حکم نازل سپدان اوس بیہ کیازہ ژبے وہ جنگ اُحدس منز اُتھ چیز کر تھ ورن یہ ونن کہ اسے معلوم سپدہ ہاُحب الاعمال کوسہ چھہ اس تہ کرہ ہو سہ عمل یہ چھوژھوروی دعویٰ ای یوت اتھ پیٹھ چھوہ نہ توہ عمل کر مژ کافر چھہ مستحق قتل و قتال تہ جنگ وجدال امی موکھ کہ تم چھہ پروردگارہ سندین آیاتن اپژ زانان پیغمبرن ہنز مخالفت کران تمن ایذاء تہ تکلیف وانہ تاوان اُتھ مناسب چھو اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام بیہ عیسیٰ علیہ السلام سند قصہ بیان فرماوان **وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ لِقَوْمٍ لِمَ تَأْتُوا بِنَبِيٍّ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ** سو وقت تہ چھو قابل ذکر یلہ موسیٰ علیہ السلامن فرمود پنے نس قومس ای میانہ قومہ مہ کیازہ چھوہ توہ ایذاء دیوان حالانکہ توہ چھو معلوم کہ بوچھس خدایہ سُنہ طرفہ توہ کن سوزنہ آمنت پیغمبر **فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ** پس یلہ تم فہائش کرت تہ ہجر سئی پیٹھ رود ایذاء و مخالفت رود بدستور کران اللہ تعالیٰ ان تہ ڈال تہندہ دل ہمیشہ خیطرہ پوز قبول کرنہ نغمہ ہنہ ہنہ زیادہ اُتھ پاٹھ نافرمانی پیٹھ مداومت تہ ڈاڈ کرنہ سیت چھہ دلچ سیاہی زیادہ سپدان اللہ تعالیٰ سند دستور چھو کہ سوچھنہ اُتھین نافرمانن سیزو تھ ہوان اُتھ پاٹھ چھہ ازک کافر حضرت رسول کریمؐ سز پر تھہ رنگہ مخالفت کران ایذاء وانہ تاوان تمن تہ چھوروز بروز گمراہی تہ حدس اندر ترقی سپدان پس آو عالمہ نغمہ فساد تہ تباہی گالہ خیطرہ مصطحا تمن جہاد و قتالک حکم کرنہ **وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ** اُتھ پاٹھ چھو سو وقت تہ قابل ذکر یلہ عیسیٰ بن مریم علیہ السلامن فرمووا

بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا  
 هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ⑥ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ  
 يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ④ يُرِيدُونَ  
 لِيُظْفَرُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ⑧

بنی اسرائیل بو جھس خدایہ سند پیغمبر توہ کن سوزنہ آمت تصدیق کرہ ون جھس بو تھہ کتابہ یوسہ مہ  
 برو نھہ نازل آمر چھہ کرنہ یعنی تورات وَمُبْتَرَأً بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدٌ بیہ جھس بو خوش  
 خبری تہ بشارت دیوہ ون اکس عظیم الشان پیغمبر سنزئیس مہ پتہ تشریف لہ نام مبارک تہوند آسہ احمد  
 فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ پس یلہ عیسیٰ علیہ السلام تمن نشہ یم مضامین بیان کرت پینہ نہ  
 نبوتہ کہ اثباتہ خیطرہ نہ دلیلہ ہیئت آی تم لوک لگ ونہ نہ تمن دلیلن تہ معجزن نسبت کہ بیہ چھونون تہ  
 صاف جو دیعے تھندس نبوتس لگ تکذیب تہ انکار کرنہ اٹھہ پاٹھہ عیسیٰ علیہ السلامس پتہ یلہ پیغمبر  
 آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلمو تشریف ان تمہ ساتہ لگ موجودہ عربک کافر تمن  
 انکار و تکذیب کرنہ بیہ لگ تمن ایذاء تہ تکلیف وادہ نادنہ بیہ گو ظلم عظیم امہ ظلمک مہلک اثر وادہ نگ  
 خطرہ اوس بین لوکن تہ سو خطرہ دور کرنہ خیطرہ آو مصلحتا جہادک حکم کرنہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى  
 اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ بیہ کوہ اکھاہ چھویش ظالم تس شخصہ سندہ خوتہ لیس اللہ تعالیٰ اس  
 پیٹھہ اپز نور اوہ حالانکہ تس چھوناد عومت یوان کرنہ دین اسلامس کن نبوتس تکذیب تہ انکار  
 کرنوی گو اللہ تعالیٰ اس پیٹھہ اپز نور اون تھہ اللہ تعالیٰ ثابت چھو کران تھہ کرن نفی ہیتہ نفی  
 چھو کران تہ کرن ثابت یسوی گو خدا یس پیٹھہ اپز نور اون زیادہ افسوسناک تھہ چھہ کہ تس چھونادہ تہ یوان  
 دنہ اسلامس کن توتہ جھنہ سو تھہ کن توجہ کران بیہ گو زیادہ ظالم لاگن وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ اللہ  
 تعالیٰ جھنہ ظالم قومس کامیابی تہ نجاست کن و تھہ ہاون امی خیطرہ جھندہ خیطرہ سزای قتالی تجویز کران  
 اللہ تعالیٰ دیہ پزس غلبہ باطل سپدہ مغلوب یُرِيدُونَ لِيُظْفَرُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ یم کافر چھہ یش بان خدایہ  
 سند نور تھہ کرن پینہ نیو چانیوسیت پھو کہ دت یعنی تم چھہ تھہہ تھہ کرنہ بیہ ان یوسیت دین جھس

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ ۙ ﴿٩﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنَجِّيْكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۙ ﴿١٠﴾ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۙ ﴿١١﴾ يَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۙ ﴿١٢﴾

فروغ سے ترقی سپدہ بانہ وَاللّٰهُ مِمَّنْ نُّورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكُفْرُونَ حالانکہ اللہ تعالیٰ چھوپنے نس اتھ نورس بہر حال پورہ کران سے کمال سے وائے ناون یژھان اگرچہ کافرن ای تن سے ناخوشی هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ چنانچہ سو معبود برحق گو سوی یم امی اتمام نورہ خیطرہ سوزہ پن پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایتک سامان یعنی قرآن مجید ہیست بیہ پوز دین یعنی دین اسلام ہیست دنیاءس کن یو تھ اتھ دینس باقی تمام دینن پیٹھ غلبہ دیہ ای گوا تمام نور کرن ادہ ای تن مشرکن ناخوشی يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنَجِّيْكُمْ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ای با ایمانو کیا بوماہوہ توہ تیو تھ کاروبارہ تژھ سوڈاگریاہ تیو تھ تجار تھاہ ئس توہ نجات دیہ سے بچاودہ اکہ دردناک عذابہ نشہ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ سوگوہی کہ توہ انیو ایمان بیہ کریو پڑھ کنس خدایس بیہ ہندس پیغمبرس بیہ کریو جہاد خداہ سنزو سے اندر مال پنن خرچ کرنہ سیت سے جان پنن فدا کرنہ سیت ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ یہ چھو توہندہ خیطرہ سٹھاہ رت ہر گاہ توہ زاہمیو یلہ توہ یہ کریو يَعْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ اللہ تعالیٰ کرہ مغفرت توہندس گنہن بیہ وائے ناوہ توہ جنتہ کین تمسن باغن اندر یوبون کن کولہ سے نہرہ جاری آسن بیہ بساودہ توہ تمسن رتین گرن اندر یم گرہ سے مکان ہمیشہ پو شہ و نمین باغن اندر بنا کرنہ آسن آمت یے گیہ ہڈ کا میابی سے رستہ گاری۔ وَأَخْرَجْنَا مُضِرَّهَا نَصْرًا مِنَ اللَّهِ وَفَجَّرْنَا رَبِّي

وَأُخْرَىٰ مُجِبُّونَهَا نَصْرَ مَنِ اللَّهُ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِيرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۳﴾  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ  
لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ  
اللَّهِ فَأَمَّنْتَ طَلِيفَةً مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرْتَ طَآئِفَةً  
فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ ﴿۱۴﴾

وَبَشِيرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ بے چھہ امہ اُخروی کامیابی علاوہ توہندہ خیرہ بیاکھ دنیوی کامیابی یوصہ جلدی پنہ نہ  
مُوکھ توہ پسندتہ محبوب چھہ سہ گیہ پروردگارہ سندہ طرفہ یاری تہ مددگاری بیہ نزدیک فتحیابی ای پیغمبر  
برحق توہ فرما یو یمن سارنی چیزن ہنز بشارت تہ خوش خبری با ایمان امہ خوشخبری ہیوند ظہور سپدان  
اولی کین مسلمان سیت تیج سارنی خبر چھہ از کہ وقتہ تی مسلمان وژہہ وآنجہ صحیح معین اندر ایمان تہ  
جہاد فی سبیل اللہ اس اندر قائم روزن تہندہ خیرہ تہ چھہ فتح و نصرت پر تھہ وقتہ سیت سیت امہ پتہ چھو  
اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سندین حواریین ہیوند قصہ بیان کرت با ایمان دینس مدد کر نگ ترغیب  
دیوان **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنْصَارَ اللَّهِ** ای با ایمانو توہ سپدیو پروردگارہ سند دینک مددگار تمہ طریقہ  
نُس توہندہ خیرہ مقرر کرنہ آمت چھو سو گو جہاد اتھہ پاٹھ حواریین پنہ نہ طریقہ موجب دینک  
مددگار سپدیہ عیسیٰ علیہ السلام بکثرت دشمن و تلتھہ اکی **كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِّلْحَوَارِيِّينَ مَنْ  
أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللَّهِ** تمہ پتہ اتھہ پاٹھ عیسیٰ علیہ السلام فرموو حواریین  
کہ میون مددگار کوہہ خدایہ سندہ رضا خیرہ توہ اندرہ حوارییو پ اس چھہ خدایہ سندہ دینک مددگار  
چنانچہ تمو حوارییو کرنہ نُس دینس مدد تمہ کہ اشاعج کر کہ پور کوشش تمہہ تہزہہ کوششہ پتہ **فَأَمَّنْتَ  
طَلِيفَةً مِّنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرْتَ طَآئِفَةً** پس ان ایمان بنی اسرائیلو اندرہ بعضے لوکو بعضے لوک رود  
کفر سنی پیٹھہ تو پتہ سُد تمس منز مذہبی اختلافہ سببہ عداوت تہ خانہ جنگی **فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ  
عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ** پس کراسہ مدد تمواندرہ با ایمان تہندین دشمن پیٹھہ پس سپد تمے غالب  
تھے پاٹھہ کریو توہ تہ دین محمدی خیرہ کوشش تہ جہاد ای با ایمان مسلمانو۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ  
 الْحَكِيمِ ۝۱ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ  
 وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلِيلٍ  
 مُّبِينٍ ۝۲ وَالْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝۳ ذَلِكَ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ اللہ تعالیٰ سزپاکی چھ بیان کران تم  
 ساری چیزیم آسان اندر چھہ بہ تم ساری چیزیم زمین منز چھہ سوی چھو بو پادشاہ منزہ تہ پاک ساروی  
 عبودتہ سوی چھو سٹھاہ زبردست سٹھاہ حمتہ وول، هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمَمِينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ  
 وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ سوگو سوی پروردگار یم عربہ کین ان پر لوکن کن سوز پیغمبر جہندی  
 قومہ منزہ یعنی عربی نُس پیغمبر پران تہ بوزہ ناوان چھو تمن اللہ تعالیٰ سند آیات بہ چھک باطل عقاید و  
 نشہ پیچھ اخلا قونہہ پاک کران بہ بہک چھہ ناوان خدایہ سز کتاب بہ عقلہ ہنزہ تھہ ہتھہ منز ساری  
 علوم دینیہ شامل سپد وَلَنْ كَانُوا مِن قَبْلِ لَفِي ضَلِيلٍ مُّبِينٍ تم لوک آس جہندہ مبعوث سپد نہ برو تھہ نہ  
 گراہی اندر یعنی شرکس تہ گُرس اندر مبتلا، وَالْآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بہ سوزن  
 یمن از کین لوکن علاوہ یمن لوکن کن تہ پیغمبر یم نہ ونہ تمن سیت شامل سپد مت چھہ یایمہ موکھ کہ ونہ  
 ہتھہ تموا سلام اُمت یایمہ موکھ کہ ونہ چھہ تم پیدے سپد مت اتھہ منز آئی جہندی ساری اُمتی یم  
 قیاس تان پیدہ سپدون ہتھہ عربک تہ بھک تہ سوی پروردگارہ چھو زبردست حمتہ وول تمی سوز پنہ نہ  
 قدرت و حمتہ سیت یوتھہ جلیل القدر پیغمبر۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ تمس پیغمبر برحقہ  
 سندہ ذریعہ کفر و شرکچہ گراہی منزہ کڈن کتاب و حکمت تہ ہدایہ کس نورس کن واتہ ناؤن یہ چھو خدایہ





مَنْ دُونَ النَّاسِ فَتَمَوُّا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ⑥  
 وَلَا يَمْتُونَهُ أَبَدًا إِمَّا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ④  
 قُلْ إِنْ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ  
 إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ⑧ يَا أَيُّهَا  
 الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ  
 ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ⑨ فَاذَا

ذَعَمْتُمْ أَنْتُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِنْ دُونَ النَّاسِ فَتَمَوُّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ توه فرماو یو کہ یارسول اللہ ای یہو دود ہر گاہ توهند دعوی چھو کہ توهی کیا چھو اللہ تعالیٰ سند دوست ساروی لو کو اندرہ تلہ کر یو توه امہ دعویٰ کہ تصدیقہ خیرہ موتک تمنا ہر گاہ توبہ اتھ دعویٰ اس اندر پزیر چھو، وَلَا يَمْتُونَهُ أَبَدًا إِمَّا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ اس چھ توه اتھ سیت، ایتہ وان کہ تم کرن نہ زانہہ تہ موتک تمنا تمن چھ نٹھ تمن کا میں ہندہ سزاء کھنچیمہ کامہ تمورونٹھ کن سوزہ مژہ چھ کفر وانکار و عناد وغیرہ۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ اس چھو پور علم بمن ظالمن ہندہ حالک یمہ سائہ مقدمک تاریخ و اسٹھ قیامتک دودہ فرد جرم بوزہ ناو تھہ ایکھ سزاء دنہ تمہ سزاء کہ وعدہ کہ تائیدہ خیرہ، قُلْ إِنْ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فرماو یو کہ توه یہ تھہ نہ کہ یمہ موتہ نشہ توه ژلان چھوہ سوموت سمکھ توه ضرور کہ تہہ اکہ دوہہ توپتہ اُیو توه واتہ ناوہ تس پروردگار سٹھہ لیس سوروی پوشیدہ تہ تن زانہ دن چھو فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ توپتہ باوڈہ سوتہ سوروی یہ توه کران آسوہ دنیاء س اندر تھی موجب دیوہ سو توه سزاء۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ای با ایمانویلہ بانگ آسہ دنہ یوان نمازہ خیرہ جمعہ کہ دوہہ جمعہ نمازہ خیرہ تان آسیو فوراً لارن ہیوان توه خدایہ سندس یادس گن یعنی نماز پرنس تہ خطبہ یوزنس گن بیہ آسیو خریدو فروخت کرن یک دم تراوان بیہ تمہ سارے کامہ تراوان یمہ پتھہ رٹہ ونہ آسن ادای جمعہ

تُضِيَّتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشَرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغَوْا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ  
 وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۱۰﴾ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا  
 لِنَفْسِهِمْ فَلْيَرَوُا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ  
 الْلَهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۱۱﴾

نہشہ ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون سارے کامے تراوت جمعہ نماز ہندوی سزکرن چھو تو ہندہ خیطرہ  
 زیادہ بہتر ہر گاہ توہ خبر آسہا کیا زہ امیوک نفع تہ فائدہ چھو پوشہ ون خرید و فروخت وغیرہ کامین ہیوند  
 نفع چھو فانی تہ نہ پوشہ ون وَإِذَا تَضِيَّتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشَرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغَوْا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ پس یلہ  
 نماز جمعہ موکلان آسہ یعنی توہ آسیو تمہ نفعہ فارغ سپدان پس نیریو تہ پھیر یوئس یوکن گوہن آسہ  
 سوگوہن توکن بیہ ژھانڈ یو تہ تلاش کریو خدایہ سندر زق مگر غفلتس منز مہ روز یو بلکہ وَادْكُرُوا اللَّهَ  
 كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اتھہ حالس منز تہ کریو خدایہ سند یاد بکشرت یو تھہ تمہہ برکتہ توہ رزق  
 ژھانڈ نس اندر کامیاب سپدیور نہ چھو بعضے لوکن ہیوند حال کہه وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا لِنَفْسِهِمْ  
 وَتَرَكُوكَ قَائِمًا تم یلہ وچھان چھہ کانہہ تجارت یا سو چیزئس بیس طرفن کن ڈالان چھو تان چھہ تھہ  
 طرفس کن دوران توہ چھہ تراون و تھدنی خطبہ پر نہ کس حالس اندریہ چھو اتھہ پاٹھ واقع سپد مت کہہ  
 جمعہ آس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پر ان تمی وقتہ آونبرہ پیٹھہ اکھ تجارتی قافلہ غلہ ہیئت تھہ  
 قافلہ سیٹ او س اعلان کرنہ خیطرہ نقارہ واینہ یوان تمن دہن آس اتھہ شہرس اندر اناج کمی یم لوک  
 نماز جمعہ شامل سپد نہ خیطرہ آمت آس تم آس خطبہ بوزان تمہ وقتہ او س نماز جمعہ منز تہ عید ہند  
 پاٹھ خطبہ پتے یوان پر نہ لوکو آس نماز پر مژون آس تم خطبہ بوزان اتی پک نہر کن یہ قافلہ ڈنڈم وایان  
 لوکو کو رخیال کہہ نماز چھہ ادا کر مژہر گاہ خطبہ بوزننے اس و تھو تھہ آسنہ کانہہ حرج اتی و تھہ لوک تہ درای  
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمن سیت رود صرف باہے صاحب یمن منز چہار یار صفا تہ بیہ کینہہ صاحب  
 آس تمی ساتہ سپدیہ آیہ کریمہ نازل قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الْلَهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ ۗ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ  
 توہ فرما یو کہہ یار رسول اللہ لیس چیز اللہ تعالیٰ اس نفعہ باعث ثواب تہ قرب چھو سو چھو امہ تماشہ خوتہ تہ  
 امہ تجارتہ خوتہ بدر جہا بہتر افضل بیہ چھو اللہ تعالیٰ ساروی اندرہ بہتر روزی تہ رزق عطا کرہ ون۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا أَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ  
 إِنَّكَ لَرَسُولُهُ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ ۝۱ اتَّخَذُوا  
 آيَاتَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝۲

اِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا أَشْهَدُ إِنَّكَ لَرَسُولُ اللَّهِ يله توه نشہ منافق یوان چھ دپان چھ اس حض چھ دلہ  
 سیت گواہی دیوان کہ توه چھو بے شک پیغمبر خدا یمن آیات کر یمن ہیوند شان نزول چھو کہ اس  
 جگس اندر سپز انصارن تہ مہاجر ن منز ہرہ ہر ہش تھ اندر لگ منافقن ہیوند زیوٹھ عبد اللہ بن ابی  
 اشتعاس منزونہ نہ انصارن کہ توه چھو کہ یم پردلیسی لوک ژوچہ کھیاوکھیا و خراب کرمت تہ بھن  
 کھالت و ن یلہ مدینہ شریفس منز و اتو توه کریو یمن مہاجر ن خرچ دیون بند یم نیرن پانے ننگ سپت  
 یمہ شہرہ منزہ تہ پنہ نین ملکن ن گھوہن بیہ لگ وننہ کہ اس چھ عزتہ وال یم ذلت لد لوک کڈو کہ اس  
 پنہ نہ شہرہ منزیہ تھ امس منافقہ سنز بوز صحابہ صیواندر حضرت زید بن ار قمن تم آی تہ کر کہ عرض  
 حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندس خدس اندر تموان نادوت ابن ابی تہ بیہ تمسد ہم خیال  
 منافق تو پتہ ہر ژھبک توه آسوہ یمہ قسچی تھہ کر ان تم لگ قسم ہا واد صرتح انکار کرنہ زید بن ار قمن گذر  
 یو و سٹھاہ مشکل اھوند انکار کرن تھہ موقعس پیٹھ سپد یم آیات کر یمہ نازل وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ  
 اللہ تعالیٰ اس چھہ یہ تھہ معلومی کہ توه چھوہ تسد پیغمبر وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ باوجود آن  
 چھو اللہ تعالیٰ گواہی دیوان کہ یم منافق چھہ یہ ونہ نس اندر بالکل اپزیر کہ اس چھہ دلہ سیت گواہی  
 دیوان کیا زہ تہنز سو گواہی چھہ محض زیوہ سیت دلہ کہ اعتقادہ نہ کینہہ تہ۔ اتَّخَذُوا آيَاتَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا  
 عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ یمولو کو چھو قسم ہاون کرمت اھ سپراہ پنون مال و جان بجانہ خطیرہ کیا زہ اظہار  
 کفرہ سیت بنہ تہنز حالت تہ بین کافرن ہنز ہش یمن سیت تہ ایہ ہاجہاد کرت قتل و غارت کرنہ تو پتہ

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ ۝۳  
 وَاِذَا رَاٰتِهِمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ ۗوَ اِنْ يَقُوْلُوْا سَمِعْنَا لَقَوْلَهُمْ كَاَنَّهُمْ  
 خُشْبٌ مُّسْنَدَةٌ يَّحْسِبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ ۗهُمُ الْعَدُوْۗۤ وَاقٰحِذَرُهُمْ  
 قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَلِيۙ يُوْفِكُوْنَ ۝۴ وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُوْلٌ

بھو اہنزہ اتھ لازمی خرابی سیت بیا کہ متعدی خرابی تہ کہ تم چھہ بین لوکن تہ خدا یہ سزہ وتہ کن بینہ نشہ  
 پتھہ رمان اَنَّهُمْ سَامًا كَاَنُوْا يَعْۢلُوْنَ بے شک اہنزہ کامہ چھہ سٹھاہ خراب ، ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ اٰمَنُوْا ثُمَّ  
 كَفَرُوْا فَطُبِعَ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ تم نسبت یہ کھم چھو پتھہ کن نظر کرت کہ تمولو کو ان  
 ظاہرہ پاٹھہ گوڈہ ایمان تو پتہ یلہ پنہ نین شیطان نشہ گئے متہ کرکھہ بیہ گھر چہ کامہ اتھ کن نظر کرت  
 آو حکم کرنہ اَنَّهُمْ سَامًا كَاَنُوْا يَعْۢلُوْنَ یعنی اہندس نفاس کن نظر کرت امی نفاقہ کہ سبہ آیہ  
 تہندین دلن پیٹھہ مہر کرنہ پس بھنہ تمں ہنز کتھہ فکرہ تران وَاِذَا رَاٰتِهِمْ تُعْجِبُكَ اَجْسَامُهُمْ بیہ چھہ تم  
 ظاہرہ پاٹھہ پچھہ تہ مدرہ کتھہ کران چنانچہ یلہ تہ ڈھچھہ ہک تم ظاہری شان و شوکت تہ قد و قامت و چھت  
 بیٹے بوزنہ تم تہ جان تہ دل پسند وَاِنْ يَقُوْلُوْا سَمِعْنَا لَقَوْلَهُمْ بیہ یلہ تم تھہ بین کرنہ سٹھاہ فصاحتہ تہ شیرینی  
 سبہ روزکھ تہ گن دارت تھوند کلام بوزنہ مگر یہ سوروی چھو نبر نبوی اندرنہ حقیقتاہ کنہ تہ تمی چھو تھوند  
 حال ، كَاَنَّهُمْ خُشْبٌ مُّسْنَدَةٌ زن تم مؤنڈ چھہ بہ سیت ڈھکراوت آمت تھاونہ تنہ و توش اندر  
 جان موٹ موٹ مگر اندرہ بے جان چونکہ ایمان و اخلاصہ نشہ چھہ تم بالکل خالی امہ سبہ چھک پر تھہ  
 وقتہ اندیشہ تہ خطرہ روزان کہ مسلمان ماسپہ سون حال معلوم کانہہ شخصہ سندہ اطلاع دنہ سیت یا اسہ  
 متعلق وحی نازل سپنہ سیت تم نیرن امہ سیت تہ کافرن ہند پاٹھہ جماد کرنہ امی خیالہ موکھ چھکھہ پرت  
 وقتہ ٹھہ تہ تھر آسان تمی سبہ چھہ يَحْسِبُوْنَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ پر تھہ مشورہ تہ کریکہ وزہ ادہ آستن  
 سویہ سبہ مگر تم چھہ خیال کران آیہ ماسی کانہہ بلا یاہ و کرت هُمُ الْعَدُوْۗۤ وَاقٰحِذَرُهُمْ حقیقتس اندر چھہ  
 تے تو ہند دشمن لہذا بچو تمں نشہ ہشیرار روز و پور تہنز کنہ کتھہ پیٹھہ مہ آسیوا اعتماد کران قَاتَلَهُمُ اللّٰهُ اَلِي  
 يُوْفِكُوْنَ اللہ تعالیٰ گارن تمں کو تہنا چھہ دین حق تر و اتھہ دور ژلان تہندہ پیچہ و شرارتچہ کیفیت چھہ



وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّكِنَ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۸﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  
لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ  
فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ﴿۹﴾ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ آجِلٍ

وَالْمُؤْمِنِينَ وَاللَّكِنَ الْمُنْفِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ بلکہ چھو عزت خاص اللہ تعالیٰ اس بالذات بیہ تہندس پیغمبرس بواسطہ تعلق باخدا بیہ چھو عزت مسلمانن بواسطہ تعلق باخدا اور سول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مگر منافق چھنہ زمانا بیہ کتھہ بلکہ چھو تمن نشہ عزتگ دارودار فانی تہ ناپایدار چیزن پیٹھ حضرت زید بن ار قمن یلہ اس عبد اللہ بن ابی سزہ بیہ کتھہ بوز تم آی در خدمت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تموانہ نوو سواد تھہ تو پتہ پڑھہ ہس تم کر قسم ہاوت صرح انکار لو کو ہست زید بن ار قمن دن طعنہ بیہ لکھہ کرنہ ٹسہ تم سپد شرمندہ تہ تادم اتی یلہ سپدیم آیات کریمہ نازل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمود زید بن ار قمن کہ خوش روز چون پوز پزودو اللہ تعالیٰ ان **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ** ای باایمانو توه مہ کرن آور تہ غافل مال تہ اولاد تو ہند یعنی دنیا خدایہ سندہ یادہ نشہ تہ طاعتہ نشہ یعنی دینہ نشہ مراد چھو کہ دنیا س اندر مہ بڈیوتیوت کہ دینہ چن کاہن اندر سپد پوہ خلل واقع، **وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ** ٹیس اکھاہ تہ کرہ تم لوک سپدن ناکام تہ تاوان زد کیاہہ دنیا ک نفع تہ فائدہ چھو سورہ ون تہ خم گوہ ون آخر ٹنگ ضرر چھو ہمیشہ روزہ ون طاعات و عبادتو اندر ہہ کھ عبادت مال خرچ کرن خدایہ سزہن وتن اندر **وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ** لہذا کر یو خرچ تمہ مالہ اندر ٹس اسی توه عطا کرمت چھو خدایہ سزہن وتن اندر توه اندرہ کانسہ مرنگ وقت واتتہ بروٹھہ **فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ آجِلٍ قَرِيبٍ** تمہ ساتہ لکھہ دپنہ حسرت و تمننا پٹھہ ای میانہ پروردگارہ مہ کونہ دژاہتھہ ژہ مہلت تہ فرصت بیہ کنہ کالہ تان **فَأَسَدِّقْ وَأَكُنْ مِنَ الصَّٰلِحِينَ** تااینکہ بو تہ کرہ ہاصد قات و خیرات بیہ بنہ ہاوتہ نیکو کارواندرہ مگر

قَرِيبٍ لَّا فَاصِدًا قَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ ۝۱۰ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ  
نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝۱۱

تمسند یہ حسرت و تمنا کرن دیہ نہ تس کا نہہ فاندہ کیا زہ و لکن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها اللہ تعالیٰ چھنہ کانسہ اکس مہلت دیوان یلہ عمر ختم سپدنس پیٹھہ تسمندہ مرنگ وقت واتان چھو واللہ خبیر بما تعملون اللہ تعالیٰ اس چھہ پور خبر تمہ ساریچی یہ توہ کران چھوہ۔





## سُورَةُ التَّجَابُثِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ  
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ① هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ  
فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ ② وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ③  
خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ  
وَالِيَهُ الْمَصِيرُ ④ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ خدایہ سنزپاکی چھ بیان کران تم ساری چیزیم آسمانن اندر چھ  
بیہ یم چیز زمین اندر چھ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ تهنزی چھ سلطنت بیہ شون  
تس ساری تعریف بیہ چھوسوی پر تھ چیزس پیٹھ قدرتہ وول تمس یلہ اتھ کمالک صفت چھ لہذا  
چھ تهنز اطاعت واجب بیہ چھ تهنز نافرمانی تہ معصیت بیچھ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ  
مِنْكُمْ مُؤْمِنٌ سوگو سوی ذات پاک یم توه ساری پیدہ کریوتھ کن نظر کرت پڑہ ہاتوبہ سارنی تس پڑہ  
کرنن تہ ایمان ان، تمہ باوجود چھ توه اندرہ بعض کافر بیہ چھ بعض باایمان، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ  
اللہ تعالیٰ چھو توهنرہ سارنے کامہ ایمانچہ کامہ تہ کفرہ چہ کامہ تہ وچھان پر تھ کامہ مناسب دیوہ سو توه  
جزا خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تمی کر آسمان تہ زمین پیدہ ہدبیر تہ حکمت وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ  
صُورَكُمْ وَالِيَهُ الْمَصِيرُ بیہ کرتھی توهند نقشہ تہ صورت ای انسانوپس کرون سیٹھاہرت توهند نقش  
تہ توهنرہ صورت تس کن چھو پتولا کہ سارنی واتن يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسَبِّحُونَ  
وَمَا تُعَلِّمُونَ سو چھوزانان تمن سارنی چیزن یم آسمانن اندر تہ زمین اندر چھ، بیہ چھوسو تم ساری چیز

مَا تُسْرُونَ وَمَا تَعْلَمُونَ ۵ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۶  
 أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ فَنَادُوا اقْبَالِ أَمْرِهِمْ  
 وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۵ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ  
 بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشْرُ يَهُدَىٰ وَنَنَا كَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَىٰ  
 اللَّهُ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۶ زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ  
 يُبْعَثُوا قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا

زنان ایم توه پوشیده تہ کھشت کران چھوہ بیہ یم چیز توه نن پاٹھ کران چھوہ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ  
 اللہ تعالیٰ چھوہ دن ہنزہ تھ تان پور زنان یم ساری چیز چھہ منگان کہ توه کر یو تهنز اطاعت تہ فرماں  
 برداری اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبُؤُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ امہ علاوہ چھناوا اثر متو توبہ تمن لوکن ہنز خبر یمو توه  
 بروٹھ گھر وانکار کر فَنَادُوا اقْبَالِ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ پس ژوہ تمو پنہ نین کا یم ہنزہ سختی ہیوند  
 مزہ دنیاں اندر بیہ چھوتمہ علاوہ تهندی خیطرہ آخرتس اندر دود تہ دگ تلہ ون عذاب ذَلِكَ بِأَنَّهُ  
 كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالُوا أَبَشْرُ يَهُدَىٰ وَنَنَا كَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَىٰ اللَّهُ یہ دنیاک وبال  
 تہ آخرتک عذاب چھو تمن امی موکھ کہ تمن نش آس یوان تهنہ پیغمبر واضح تہ نندہ دلیلہ ہیئت تم آس  
 تمن پیغمبرن نسبت ونان کہ کیا یم اسی ہی انسان ہاونہ آہ تہ تمن کیاہ فوقیت چھہ اسہ پیٹھ بہر حال تمو  
 کر گھر تہ اعراض اللہ تعالیٰ تہ سپد تمن نشہ بے نیاز تم برنہ تهنو نہ کا نہہ پروان بلکہ کرن تمن پن قہر  
 وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ اللہ تعالیٰ چھو سارنی نشہ بے نیاز تعریف کرنہ آمتس چھنہ کا نہہ ہنز ضرورت نہ  
 ہر یس لوکن ہنز طاعت و فرماں برداری سیت بھ نہ چھنیں لوکن ہنزہ نا فرمانی سیت کنہ یم  
 فرمانبرداری کرن تمن چھو پانس تمبوک فاندہ یم نا فرمانی کرن تمن چھو پانس تمبوک ضرر زَعَمَ  
 الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا انکار رسالتک پاٹھ چھہ یم کافر منہ پتہ بیہ زندہ سپنس تہ انکار کران  
 دعویٰ چھہ کران کہ تم یم نہ بیہ دوبارہ قیامتک دودہ زندے کرنہ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّؤُنَّ بِمَا

عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۝ فَاْمُنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ  
 وَالتُّورِ الَّذِيْ اَنْزَلْنَا وَاَللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ۝  
 يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ ۝ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ  
 وَيَعْمَلْ صٰلِحًا يُكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِيْ  
 مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ۝ ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ۝  
 وَالدِّيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا ۝ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا

بِمَا عَمِلْتُمْ تُوْهُ فَمَا يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَالتُّورِ الَّذِيْ اَنْزَلْنَا  
 بِمَا عَمِلْتُمْ تُوْهُ فرمایو کہ یا رسول اللہ مہ چھو قسم پنہ نس پروردگارہ سند کہ واقعی ایو توه مر نہ پتہ بیہ  
 پیدہ کرنہ تو پتہ آہ توه تہ سوروی باونہ یہ توه کرم ت آسودہ دنیا س اندر تو پتہ آہ توه تمیوک سزاء دنہ  
 وَذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ بیہ یہ پیدہ کرن تہ جزا سزاء دیون چھو اللہ تعالیٰ اس نغیہ کمال قدرت آسہ  
 موکہ بالکل سہل تہ آسان پس یلہ ات چیز چھہ منگان ایمانس فَاْمُنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَالتُّورِ الَّذِيْ  
 اَنْزَلْنَا پس اینو توه ایمان تہ کریو پڑھہ معبود بر حقس بیہ تہندس پیغمبر بر حقس بیہ تھہ نورس نیس اسہ  
 نازل کر یجنے قرآن مجیدس وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ اللہ تعالیٰ اس چھہ تو ہنزن سارنی کامین ہنز  
 پور خبر یَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذٰلِكَ يَوْمُ التَّغَابُنِ بیہ پاویو سو دودہ ژیتس یمہ دوہہ توه سارنی جمع کرہ سو  
 جمع سپد نہ کس دوہس منز سو گو سوی دوہہ تھہ منز ظاہر سپدہ کم کیاہ زیون تہ کم کیاہ ہور با ایمان زمین اتھہ  
 دوہس منز کافر منافق تہ مشرک ہارن امہ دوہہ چنانچہ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَيَعْمَلْ صٰلِحًا يُكْفِرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ  
 یس اکھاہ ایمان انہ کنس خدا یس بیہ کرہ رثہ عملہ اللہ تعالیٰ کرہ تس نغیہ دور تسد گناہ وَيُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ  
 تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا بیہ واتہ ناوہ تس جنتہ کین تمن باغن اندر یمو منز جو یہ تہ  
 کولہ پکان آسن یمن جنمن منز ہمیشہ ہمیشہ تم روزن ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ بیہ گیہ بد کامیالی تہ رستہ گاری  
 وَالدِّيْنَ كَفَرُوْا وَكَذَّبُوْا بِآيٰتِنَا ۝ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَمِنْ الصّٰغِرِ یمو لو کو کفر کرم ت آسہ بیہ  
 آسکھہ سان آیات زامت اپز تم لوک گئے دوزخک لوک تم روزن تھہ منز ہمیشہ سہ چھہ سینٹھاہ بچھہ جایاہ

وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ۱۰ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا يَأْذِنُ اللَّهُ ۗ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۱۱ ۙ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَ  
 أَطِيعُوا الرَّسُولَ ۚ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ۱۲ ۙ  
 اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ۱۳ ۙ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ  
 آمَنُوا إِنِّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوٌّ لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ۗ


تہندہ اسے خیر ہے! تمہارا پٹھ کفر چھو مانع سپدان آختر تیرے گاری حاصل سپدن نشہ آتھ پاتھ چھو مصیبتیں  
 اندر بوڈن مال و دولتہ چه فکرہ اندر روزن یا زنانن تہ اولادن سیت مشغول سپدت خدایہ سندھ یادہ نشہ  
 عافل سپدن تہندین احکامن ہنز تعمیل کرنس اندر کوتاہی تہ سستی کرنن تہ مانع سپدان آختر تیرہ فلاح  
 در ستگاری نشہ لہذا گڑھ مصیبتیں متعلق یہ خیال کرن کہ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا يَأْذِنُ اللَّهُ کانہہ  
 مصیبتاہ چھنہ واتان کانہہ اکس خدایہ سندھ حکمہ وراہی یہ تھہ فخرہ تارت گڑھہ مصیبتیں پیٹھ صبر کرن  
 راضی روزن خدایہ سندس یڑھنس وَمَنْ يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ اللَّهُ قَلْبَهُ بیہ ئیس اللہ تعالیٰ اس چھو پور پڑھہ  
 کران تسدس دلس چھو اللہ تعالیٰ و تھہ ہوان صبرس تہ رضائس گن وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ تعالیٰ  
 چھو پرتھہ چیزاہ وارہ زنانن کہ کم کر صبر و رضا اختیار کم کرنہ اختیار پرتھہ اکس چھو حسب حکمت جزاء و  
 سزا دیوان۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ خلاصہ چھو ای زہ پرتھہ کامہ اندر (مصیبت تہ چھو تمو کامیو  
 اندرہ اکھ کام) کر یو فرماں برداری خدایہ سنز بیہ کر یو فرمانبرداری پیغمبرہ سنز صلی اللہ علیہ وسلم فَإِنْ  
 تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ہر گاہ توہ اطاعتہ نشہ بو تھہ پھر یو کانہہ پروا چھنہ تموک تلہ تہادیو  
 توہ یاد یہ تھہ کہ سانس پیغمبرس چھو مٹہ صاف صاف پیغام سون و اتہ ناؤن ئیس تمو واتہ نور تہ طریقہ  
 تمس چھنہ کانہہ نقصان تہ ضرر اتھ منز بلکہ چھو بوڈ نقصان تہ ضرر اتھ منز توہ پانس۔ اللَّهُ لَا إِلَهَ  
 إِلَّا هُوَ تونہند گڑھہ وارہ زانن کہ اللہ تعالیٰ اس وراہی چھنہ کانہہ اکھاہ معبود آسئس لایق پس زانیون سوی  
 بن معبود وَعَلَىٰ اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ بالیمانن ہونہ گڑھہ مصیبتیں اندر اللہ تعالیٰ سنی پیٹھ توکل

وَأَنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا وَإِنِ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۱۴﴾ إِنَّمَا  
أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿۱۵﴾ فَاتَّقُوا

کرن۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَوْلَادِكُمْ وَعَدُوِّكُمْ فَأَخَذُوا مُمْسِكًا اے ایمانوالو! تمہارا پٹھہ توہ  
حکم کرنے آو کہ مصیبتیں اندر گڑھ صبر کروں یو تھنہ بے صبری کرن مانع سپدہ توہ فلاح آخرتہ نشہ اتھے پٹھہ  
چھوہ توہ حکم یوان کرنے کہ نعم اندر مہ آسیو بوڈت گڑھان کیا زہ نعمتی اندر بوڈت گڑھت خدا میں نشہ  
عافل سپدون آتہ چھو مانع سپدن آخر تک فلاح حاصل کرنے نشہ لہذا گڑھ توہند خیال تہاون کہ توہ ہنزہ  
بعضے زنانہ بیہ بعضے اولاد چھہ توہند دشمن پس روزہ یو توہ تمن نشہ ہو شیر تہندین تنہن حکمن تہ فرمائش  
پیٹھہ مہ کریو عمل بسا اوقات چھو انسان زنانہ تہ اولاد ہندس محبتیں اندر گرفتار گڑھت خدا میں تہ  
خدا یہ سندین حکمن مشراوان تہندین تعلقات ہندہ سببہ وار ہین گنہن ہیوند مر تکب سپدان یمہ سببہ سو  
وارہ یمو چیز و نشہ محروم چھو سپدان زنانہ تہ اولاد ہنزہ فرمائشہ تہ ناز برداریہ چھنہ مردس سو گھٹی  
دیوان اتھہ فکرہ اندر روزنہ سببہ چھنہ تس آخرت ژتیمی سپوان یہ تھہ چھہ ظاہر کہ یو تھہ عیال تہ امہ  
قسمک شربا ژیم آیتہ نقصان عظیمک سبب بن یم چھنہ حقیقتیں اندر دوست ونہ نس سزاوار بلکہ چھہ تم  
بدترین دشمن ہنزہ دشمنی ہیوند چھنہ کنہ وقتہ احساس تہ سپدان تمی موکھ فرمود اللہ تعالیٰ ان کے امہ  
قسمہ کین دشمن نشہ روز یو ہو شیرا سو طریق مہ کریو اختیار سمیوک نتیجہ یہ نیرہ کہ توہ کریو تہوند نیاو  
آخرت سنبھالہ خیطرہ ہین دین و آخرت بُرباد مگر امیوک مطلب چھنہ کہ دنیا س اندر چہ سارے  
زنانہ تہ ساری اولاد امی قسمک آسان بلکہ چھو واریاہ زنانہ تہ اولاد یم پنہ نین خاوندن تہ مالین چھہ دینہ  
چن کاین اندر معین و مددگار بنان **وَأَنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا وَإِنِ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ** و سن ہر گاہ تمو  
توہ سیت دشمنی کمر دینی یا دنیوی کانہہ نقصانہ و اتہ نوو تمیوک نتیجہ گڑھنہ یہ نیرن کہ توہ سپد یو تمن  
انتقام ہمیں در پے تمن پیٹھہ ہو توہ کانہہ سختیاہ شروع کرن یمہ سیت دنیاک نظام در ہم بر ہم سپدہ بلکہ  
ایشہن توہ پہلہ تیوہن گڑھہ توہ ہنز عقلہ کوم ہیئت تہندین قصورن تہ خطائن در گزر کرن ٹہنزہ کوتاہیہ  
معاف کرنے یو تھہ سلوک تمن سیت در تاوندہ سببہ کہہ اللہ تعالیٰ توہندن گنہن مغفرت توہندس حالس  
پیٹھہ رحم کیا زہ سو چھو سٹھاہ مغفرت کرہون **إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ** توہند مال تہ توہند اولاد چھہ

اللَّهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ ط  
 وَمَنْ يُؤَقِّ شَيْءًا نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿١٦﴾ إِنَّ  
 تَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ط وَاللَّهُ  
 شَكُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٧﴾ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿١٨﴾ ع

توہندہ آزمائشہ خیرہ اکھ چیزاہ یوتھ اس وچھو کہ کوہ چھو مال واولادن ہنز فکرہ منز بوڈتھ خدایہ سند  
 حکم مشراوان کوہ چھویاد تہاوان نِس شخص مال داولاد آتھ احکام خداوندی چھویاد تہاوان وَاللَّهُ عِنْدَكَ  
 أَجْرٌ عَظِيمٌ تہندہ خیرہ چھو اللہ تعالیٰ اس نغیرہ اجر عظیم یعنی بڈمزور فَأَنْفِقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا  
 وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ بیہ سارے تھ بوزت کھوژ یو اللہ تعالیٰ اس یوت بیکو تہ توت بیہ بوز یو  
 تہند حکم وارہ پاٹھ تو پتہ مانو تم حکم بیہ کریو مال خرچ تمں جائن اندر بین منز خرچ کر نیک حکم اووہ  
 کرنہ ای چھو توہندہ حقہ بہتر وَمَنْ يُؤَقِّ شَيْءًا نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ یس اکھاہ نفسانی حرصہ  
 نشہ محفوظ تہاونہ آوتھی قسمک لوک چھہ آخرتس اندر رستہ گاری تہ فلاح حاصل کرہ و سَنَ إِنَّ تَقْرَضُوا  
 اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا يَضْعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ہر گاہ توہ اللہ تعالیٰ اس قرض دیورتہ طریقہ یعنی خلوصہ  
 سان سوروزتھ اندر توہندہ خیرہ زیادتی کران بیہ کرہ توہ گنہن مغفرت وَاللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ اللہ  
 تعالیٰ چھو سٹھاہ قدردان کہ رتھ عملہ چھو قبول کران سوچھو تحمل تہ تڑید کرہ ون نافرمانین تہ بیچھ عملن  
 پیٹھ چھنہ سیتی رٹان تہ گرفتار کران عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ سوچھو پوشیدہ تہ نندہ عملہ  
 زانہ ون زبردست چھو سیٹھاہ حمتہ وول چھو



## سُورَةُ الطَّلَاقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا  
الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ  
إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ای پیغمبر بزرگ توه فرما دیو لو کن کہ  
یلہ توه تمّن زنانن طلاق دیوان آسیو یمن سیت توه خلوت صحیحہ کر مت آسوه پس دیو تمّن طلاق حیصہ  
کہ زمانہ بروئٹھہ طهرس اندر بیہ تھا دیو طلاق دنہ پتہ یاد عدت یعنی مردتہ زنانہ تہاون عدت تک حساب  
یادوا حصو فرمو کہ بصیغہ جمع مذکرامی موکہ کہ زنانن چھ سپدان اکثر غفلت لہذا اگر چہ مردن ہوندتہ  
امیو کہ خیال تہاون وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ بیہ کھوڑیو اللہ تعالیٰ اس کس توه ہند پروردگار چھو تہندین حکمن مہ  
آسیو خلاف ورزی کران اکہ و مہ آسیوترہ طلاق دیوان حیصہ کس حالس اندر مہ آسیو طلاق دیوان۔  
یمہ چیز و نشیہ چھ حدیث شریفس منز ممانعت فرماو مژ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم  
لَا تَخْرُجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ بیہ مہ آسیو کہ تمہ زنانہ تموگر و اندرہ نیر کڈان یمن منز تمہ لسان آسن  
کیازہ طلاق دنہ آمرہ زنانہ بسنہ خیطرہ جای دن چھو واجب تھے پاٹھ منکوہہ زنانہ ہندہ خیطرہ چھو  
وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ نہ گڑھ تمّن زنانن ہوندا پانہ نیرن تموگر و اندرہ کیازہ تمّن بسنہ  
خیطرہ جای دن یہ پھنہ حق العبدی یوت بلکہ چھویہ حق الشرع تہ سوہیکہ نہ ساقط سپدت تمسندہ رضامندی  
سیت مگرامہ قسچہ زنانہ کنہ نہ بے حیاء مر محب سپدن مثلاً بدکاری کرن یا ژور کرن تھے صورتس  
اندرین تمہ کڈنہ بطور سزاء بعض علماءن نشیہ چھو کہ ہر گاہ زبان درازی بیہ پر تھ وقتہ ہر تہ قضیہ لاگہ  
تلہ تہ چھو جایزہ زنانہ گرہ منزہ نیر گڈن وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یم ساری چیز چھ خدا یہ سندی مقرر

حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ  
 أَمْرًا ۚ وَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ  
 بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ  
 يُوعِظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ

کرمت احکام، وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لیس اکھاہ خدایہ سند یواحکا مونثہ تجاوز کرہ تم  
 کر بے شک پنہ نس پانس پیٹھ ظلم یعنی سوسپد گنھگار امہ پتہ چھہ اللہ تعالیٰ ترغیب دیوان کہ طلاق منزہ  
 چھو طلاق رجعی بہتر لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا ۚ تھہ چھہ نہ خبرای طلاق دیوہ ونہ شاید اللہ  
 تعالیٰ ما کرہ امہ طلاق دنہ پتہ کا نہہ نو کتھاہ چانس دس منز پیدہ یعنی تھہ ما سپدہ کہ طلاق دنہ پتہ نادم تہ  
 پیشیان لیس ہر گاہ تھہ طلاق رجعی دیو تممت آستھہ تھہ اندر ہیہہ اتھہ علاج بنت بیہ رجوع کر نہ سیت ۚ وَإِذَا  
 بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ لیس یلہ تمہ زانہ یمن طلاق رجعی دنہ آمت  
 آسہ ہنن عدت و برنس نزدیک واتن تمہ ساتہ چھو توہ دون گھن ہیوند اختیار یاریو کہ تمہ باقاعدہ  
 رجعت کرت پنہ نس نکاحس اندر یا تراویو کہ قاعدہ موجب یلہ یعنی عدت و برنس تان مہ کریو تمس گن  
 رجعت تریم صورت مہ کریو کہ توہ آسیونہ سہ بساؤنس غرض خواہ مخواہ تکلیف دنہ خیطرہ تمسز عدت  
 زبٹھر اونہ خیطر کریو تمس سیت رجعت ناحق کانہہ ایذا دیوان تہ چھنہ مناسب تھہ چھو خدا بیزار  
 وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۖ یہ کینرھا توہ کریو پانس نثہ رنہ اندرہ یا یلہ تراونہ اندر تھہ  
 تہاویو کہ پنہ نیواندرہ زہ معتبر شخص شاہد تہ گواہیو تھنہ آیندہ کتھہ پیٹھہ اختلاف پیدہ سپدہ ای گواہو ہر گاہ  
 گواہی دنج ضرورت پیہ توہ ذرہ پز پز گواہی خدایہ سندہ خیطرہ کانہہ ہیوند طرف کر نہ ورا ی ذَلِكُمْ  
 يُوعِظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۖ یہ مضمونہ سیت چھہ نصیحت کر نہ یوان تس شخصس لیس  
 پور پڑھہ آسہ گنس خدایہ سنز بیہ آس یقین ہتمہ دوہک یعنی قامتک کیا زہ ایمان واری چھو اسہ نصیحتک  
 فائدہ ہیکان تلت اگر چہ نصیحت چھہ سارنئی ہندہ خیطرہ بروٹھہ لیس حکم تقویٰ اس متعلق بیان کر نہ آؤ۔



يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجًا<sup>۲</sup> وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى  
 اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بِالْعُمْرَةِ الْقُدُّوسَةِ الَّذِي حَدَّثَ شَيْءًا قَدْرًا<sup>۳</sup>  
 وَالْأَيُّ يَبْسُ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ  
 ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالْأَيُّ لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ  
 حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا<sup>۴</sup> ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ

وَنَ چھ تھے متعلق احکام میں درمیان فضائل بیان یوں کرنے کو ڈنیو کہ فضیلت گو و مَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلُ  
 لَهُ مَخْرَجًا اِس شخص اللہ تعالیٰ اس کو تھوڑا اللہ تعالیٰ چھو تھندہ خیرہ مضر تو نشہ نجات لئج صورت پیدہ  
 کران وَیَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا یَحْتَسِبُ بیہ چھو تقویٰ کہ برکتہ تس رزق وائتہ ناوان تڑھی جایہ سمیو کہ نہ  
 تس برانت تہ گمانے چھو آسان بیہ چھو امہ تقویٰ اک اکھ شاخ توکل تمیو کہ خاصیت چھو وَمَنْ  
 یَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اِس اکھاہ اللہ تعالیٰ اس پیٹھ توکل کرہ سو چھو تس اصلاح مہمات ہندہ  
 خیرہ کافی سو چھو پنہ کافی آسک اثر خاص ظاہر کران اصلاح مہمات کرنے سیت إِنَّ اللَّهَ بِالْعُمْرَةِ الْقُدُّوسَةِ  
 شَک اللہ تعالیٰ چھو پنن کوم اتھ پاٹھ خوش کر اِس تھہ پاٹھ پورہ کران تھہ پاٹ چھو اصلاح مہمات  
 کرن وقت تہ موقوف تھندس ارادس پیٹھ کیا زہ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا اللہ تعالیٰ ان چھو پر تھہ  
 چیز خیرہ اکھ اندازہ پنہ نس علمس اندر مقرر کرمت تہی موجب تھو سو چیز حکمتس مطابق واقع کران امہ  
 پتہ چھو اللہ تعالیٰ بیہ طلاقہ کین احکام میں متعلق تفصیلی بیان فرماوان وَالْأَيُّ یَبْسُ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ  
 نِسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالْأَيُّ لَمْ یَحِضْنَ تو ہنزن طلاق دنہ آمرن زنانں یمہ زیادہ وانسہ  
 آسنہ موکھ خون حیض انہ نشہ نامید آسن سبز مرثہ ہر گاہ تو بہہ تھندس عدتس منزئبہ آسنہ (چنانچہ ئبہ  
 چھو او سمت یمہ سببہ پر تھنہ آو) تھنز عدت چھو ترہ ریتھہ تھہ پاٹھ یکن زنانں نہ نابالغ آسنہ موکھ ونہ  
 خون حیض میں شروع سپد مت آسنہ تھنز عدت تہ چھہ ترہ ریتھہ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ یَضَعْنَ  
 حَمْلَهُنَّ بہ یمہ زنانہ حملہ واجنہ آسن تھنز عدت گیہ یوتان تمہ پر سن حملہ نشہ فارغ سپدن وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَ

أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا ⑤  
 أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
 عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٌ فَلَا تُنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  
 فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَنْتُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ  
 تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْ رَضِعُ لَهَا أُخْرَى ⑥ لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ

يَجْعَلُ لَهَا مِنْ أَمْرِهِ يُورِثُهَا نِسْ شَخْصِ خدایس کھوژہ تس کرہ اللہ تعالیٰ پر تھ کامہ منز آسانی دنیاچہ کامہ  
 تہ آخرتچہ کامہ تہ ذلک امر اللہ انزلہ الیکم یہ کنیزہ باہ بیان کرنہ آویہ چھو اللہ تعالیٰ سہ حکم لیس تم توه  
 کن سوز و من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا لیس اکھاہ یمن معاملاتن اندر تہ بین احکامن اندر  
 تہ خدایس کھوژہ اللہ تعالیٰ کرہ دور تس نشہ تسد گناہ بجو بجو سختیو نشہ ر چھس بیہ کر لیس عطا بد مزور یعنی  
 بد بد فاندہ تہ نفع وادہ ناس اسکنوہن من حیث سکنتم من ووجدکم بیہ چھہ طلاق دنہ آمر زمانن ہند توه  
 پیٹھ بیہ تہ کنہ حقوق سوگو تم گروہ بسنہ تہ روزنہ خیطرہ جای دن پنے نہ طاقتہ تہ وسعتہ موجب بیہ توهہ  
 پانہ بسان آسیوہت گروہ تمہن تہ جای دن یعنی عد تس اندر چھہ طلاق دنہ آموہہ زنانہ جای دن واجب البتہ  
 ہر گاہ طلاق باین آسہ دنہ آمت تلہ کسی کو ٹھس اندر تمہن دون ہیوند روزن چھنہ جائز بلکہ گروہہ منزہ کنہ  
 ٹھور آسن ضرور و لا تضاروہن لتضیقوا علیہن بیہ مہ وادہ ناویو تمہن تکلیف بسنہ کس معالس اندر تمہ  
 تنگ کرنہ خیطرہ و ان کن اولات حمل فانفقوا علیہن حتی یضعن حملہن بیہ ہر گاہ تمہ طلاق دنہ آثرہ زنانہ  
 حملہ واجنہ آسن تلہ کر یو تہندہ کھینہ چنہ خیطرہ تمہن پیٹھہ خرچ برداشت یو تان تمہہ پر سن حملہ نشہ فارغ  
 سپدن فان ارضعن لکم فآتوہن اجورہن ہر گاہ تمہہ زنانہ یمن توه طلاق دیو توه عد تہ پتہ توهندین ٹھرین  
 (یم ٹھر تمہن برو نٹھی توهند آسن یا آسیکھ عدت خم گمہ شرزینہ سیتی دودھ دن توهندہ خیطرہ اجر تس  
 پیٹھہ توه دیو تمہن سہ اجرت یوسہ توه پانہ وان مقرر کر یو و انتروا ابناؤکم بمعروف بیہ کر یو اتھ اجرتس  
 متعلق پانہ وان مشورہ مناسب طریقہ و ان تعاسرتکم فممن رضع لہا اُخری ہر گاہ توه اکھ اکس پیٹھہ تنگی تہ

قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يَكْفِلُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا  
 سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ حُسْرَيْكُمْ<sup>۱</sup> وَكَأَيُّنَ مِّنْ قُرْبَىٰ عَدَّتْ عَنْ أَمْرِ  
 رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسِبْنَهَا حَسَابًا شَدِيدًا وَعَدِّبْنَهَا عَذَابًا ثَكْرًا<sup>۲</sup>  
 فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا<sup>۳</sup> أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ  
 عَذَابًا شَدِيدًا<sup>۴</sup> فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ

سختی کریو تله چاوه تس پچس دوده بیه کانه زنامه لِيَنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وسعت وال کرن امس  
 خرس پیٹھ خرچ پنه نہ وسعتہ موجب وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيَنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ وین تسنگی امر آسه  
 کرنه رزقس اندر یعنی آمدنی امیس کم سو کرن امس خرس پیٹھ خرچ تی منزہ یہ تمس دیو تمت آسه اللہ  
 تعالیٰ ان یعنی امیر شخص کرن خرچ پنه نہ حیثیتہ موجب فقیر کره خرچ پنه نہ حیثیتہ موجب لَا يَكْفِلُ اللَّهُ  
 نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا اللہ تعالیٰ چھنہ کانسہ شخصس تکلیف دیوان مگر تمی موجب یہ تمس عطا کرن تنگ دست  
 شخصہ سند گونہنہ خیال کرن کہ ہر گاہ بوا مس زنامه پیٹھ خرچ کره تله ماروز سمہ پانس کنسی سَيَجْعَلُ اللَّهُ  
 بَعْدَ حُسْرَيْكُمْ اللہ تعالیٰ کره عنقریب سختی نہ تنگی پنه وسعت نہ آسانی۔ وَكَأَيُّنَ مِّنْ قُرْبَىٰ عَدَّتْ عَنْ أَمْرِ  
 رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسِبْنَهَا حَسَابًا شَدِيدًا وَعَدِّبْنَهَا عَذَابًا ثَكْرًا واریہن بستین نہ شہرن ہند یولو کو کرنا فرمانی پنه  
 نس پرورد گارہ سندس خمس بیه خدایہ سندین پیغمبرن ہند ہن حکمن پس ہیوت اسہ تہنزن عملن ہیوند  
 سخت حساب یعنی تہنزن وکفر چوکامیواندرہ کرنہ اسہ کانه کماہ تمن معاف بلکہ کرسارنی کامن پیٹھ سزا  
 تجویز بلکہ کراسہ تمن سو عذاب نس نہ تمو وچھتیو اوس فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا  
 پس ژوہ تمو پنه نین پیچھ عملن ہندہ وبالک مزہ بیه اوس تہنزنہ کامہ ہیوند انجام تاوان نہ نقصان یہ گوکھ  
 دنیا س منزہ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا امہ علاوہ چھو اللہ تعالیٰ ان تہندہ خیطرہ تیار تہومت آخر تس  
 اندر سخت عذاب و سن یلہ نافرمانی ہیوند عذاب بوزو فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِيَ الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آمَنُوا کھوژ یو  
 اللہ تعالیٰ اس توہ ای عقلہ والیو بیو ایمان ائمت چھوہ کیا زہ ایمان نہ چھو اتھ مگان خدایس کھوژن گو کہ  
 تہنزن کریو فرمان برداری اطاعت و فرمان برداری ہنز طریق ہاونہ خیطرہ قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا \* رَسُولًا

أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا ۱۰ رَسُولًا يَتْلُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ  
 لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ۚ وَمَنْ  
 يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  
 خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا ۱۱ ۚ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ  
 سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ يَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ لِتَعْلَمُوا أَنَّ  
 اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۙ ۱۲

سوز اللہ تعالیٰ ان توہ کین اکھ نصیحت نامہ سو نصیحت نامہ ہیبت سوزن اکھ جلیل القدر پیغمبرہ یَتْلُوا  
 عَلَيْكُمْ آيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ نُس پر ان نہ بوزہ ناوان چھ توہ اللہ تعالیٰ سند آیات ویرہناوت لِيُخْرِجَ  
 الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ یوتھ سو پیغمبر برحق تمن لوکن یموایمان ان نہ رثہ  
 عمل کرکھ گفرہ نہ جہلہ چوتاریکیو منزہ کڈہ ایمان نہ علمہ وعملہ کس نورس کن۔ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ  
 صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا یس اکھاہ پڑھ کرہ خدایس بیہ کرہ رثہ عملہ  
 اللہ تعالیٰ واتہ ناوتس جلتہ کین تمن باغن منز یمو بون کن کمہ کمہ جوی نہ کولہ آس پکان تمہی جشن منز  
 روزن تم ہمیشہ ابد الآباد، قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا بے شک اللہ تعالیٰ ان دیوت تس رت رزقاہ ہمیشہ  
 پوشہ ون اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ اللہ تعالیٰ گو سو معبود برحق یم ستھ آسمان  
 پیدہ کتر بیہ کرن تہندی پاٹھ ستھ زمین چنانچہ صحیح ترمذی منز چھو حدیث شریف کہ اکس زمینس تل  
 چھو بیاکھ زمین تھ تل چھو تر یوم زمین اتھ پاٹھ چھ اکھ اس تل ستھ زمین یَتَنَزَّلُ الْأَمْرُ بَيْنَهُنَّ اللہ  
 تعالیٰ سند احکام تکلیفیہ نہ تکوینیہ چھ یمن ستن آسمان نہ ستن زمین منز نازل سپدان لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا یوتھ توہ معلوم سپدہ کہ اللہ تعالیٰ چھو پر تھ چیزس  
 پیٹھ قدر نہ دول بیہ جھو اللہ تعالیٰ پر تھ چیزس احاطہ کرت پنے نہ علمہ سیت اتھ کن نظر کرت چھو  
 واجب اللہ تعالیٰ اس اطاعت نہ فرماں برداری کرن



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ  
 أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ① قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ صحیح بخاری شریف سے بین حدیث شریفہ چن کتابن اندر چھو  
 بروایت أم المؤمنین عائشہ صدیقہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہوند عادت شریفہ اوس  
 کہ تم آس پرت دوہہ دگر نمازہ پتہ ازواج طاہراتن ہندین حجرات شریفین اندر تشریف اتان وودنہ ووتی  
 آس مختصر توقف کرت تمہن تفقہ حالات فرماوان اکہ دوہہ تہووکہ حضرت زینبہ سندس حجرہ شریفہ  
 منز معمولہ خوتہ زیادہ کالس تشریف کیازہ تمو کرہکھ پیش مانچھ سوی کروکہ تناول تمہ کس تناول  
 کرنس لگ کنہ کالاہ معمولہ خوتہ زیادہ حضرت عائشہ چھ فرماوان کہ مہ گوامیوک مٹک مہ کر حضرت  
 حصہ اس سیت مشورہ کہ اسہ اندرہ لیس نشہ نبی کریم امہ پتہ تشریف اتن تمسد گدھ عرض کرن کہ  
 توہ چھوہ ہز مغافر نوش فرمومت (مغافیر چھ ونان اکہ کلہ کس تھہ ماس کس ژیرہ کرانکھ صیو چھو  
 آسان یا صمغ بیوریا تو تہ مانچھ ہیو۔ تھہ چھو آسان مٹک ناپسندیدہ یعنی پھک چنانچہ ییے عمل کر باقی  
 ازواج طاہراتو تو پتہ فرموو تمومہ چومانچھ استعمال کرمٹ بو کیازہ کرہ ہامغافیر استعمال تمہ کرہک عرض  
 شاید مانچھ تلمر ما آسہ بیٹھو مغافیرس پیٹھ تھنس ما تھنس تہ آسہ ترمت تمیوک پھک یہ بوزت ہو ووقسم  
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانچھ استعمال کرنس پیٹھ اتھہ موققس پیٹھ سپد نازل یم آیات کریمہ  
 يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ ای بدہ بینمبرہ توہ کیاہز چھو قسم ہوت پانس پیٹھ سو چیز حرام  
 کران لیس چیز اللہ تعالیٰ ان توہندہ خیطرہ حلال کرمٹ چھوہ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ تمی چھوہ  
 کران پنہ نین باژنی ہنز رضامندی تہ خوشنودی حاصل کرنہ خیطرہ اگرچہ کنہ مباح چیزک ترک کرن  
 چھوہ مباح تو پتہ تھہ ترک مباحس تاکید کرن قسمہ سیت تہ چھو مباح مگر خلاف اولی چھو ضرور

أَيْبَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ۝ وَإِذَا سَرَ  
 النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ  
 اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَأَهَا بِهِ

خصوصاً یلہ تمیوک موجب تہ باعث آسہ معمولی تہ غیر ضروری اکھ چیزاہ ہو گو گرہ کین باذن ہنز خوشنودی تہ رضامندی حاصل کرین وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ اللہ تعالیٰ چھو بخشہار سو چھو گنہس تان تہ بخشایش تہ معاف کران توه نشہ سپدنہ کانہہ گناہ تہ صادر یہ بچھنہ توه بیٹھہ کانہہ عتاب بلکہ بچھو اتھ گن توه اکھ قسمہ توجہ یوان دنہ شفقت ورافتہ موجب توه چھو وندنہ یوان کہ توه کیا زہ ہز پرووہ سو چیز نس مباح اوس توهندہ خیطرہ یہ تکلیف کیا زہ ہو توه تھہ سیت ہووہ توه اتھ بیٹھہ قسم لہذا دیو کچ کفارت توپتہ کریو بیہ مانچھہ استعمال قَدْ قَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحَلَّةَ أَيْبَانِكُمْ اللہ تعالیٰ ان بچھہ مقرر کر مرث توهندہ قسم مشراونچ یعنی قسم پھڑوانہ پتہ تیج کفارت دنچ طریق سو گودہن مسکین طعام دیون یا غلام یا کینز آزاد کرن یا ترین دوہن روزہ دارروزن وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ اللہ تعالیٰ چھو توهندہ دوست وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ سوی چھو سوروی زانہ ون سوی چھو شاہ حمتہ وول تمی علم و حمتہ سیت چھو توهنزہ مصلحہ تہ ضرورتک چیز زانت توهنزہ واریاہ دشواریہ آسان کر نچہ طریقہ بیان کران چنانچہ کچ کفارت ونک حکم کرنہ سیت کر تم قسچہ پابندی ہونہ تکلیف دور۔ وَإِذَا سَرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا اے ازواج طاہرا توه سو وقت چھو یاد کر نس قابلہ یلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمو پنہ نس اکس باثس سیت سرہ کتھاہ اکھ فرماوے یہ سہ کتھہ آس ییے بو کھیمہ نہ از کہ بیٹھہ مانچھہ مگر یوتھنہ ژہ کانہہ نشہ یہ کتھہ باو کہ فَلَمَّا نَبَأَتْ بِهِ تہ پتہ یلہ تہہ دید صیبہ یوسوسر بین ازواج طاہرا تن نشہ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللہ تعالیٰ ان نتر ووسو معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فر مومس سنز فاش کرہ وندہ دید صیبہ کہ ژہ چھت یہ میان سرہ تھہ بین نشہ واتہ ناومر مگر اڈتھہ کر کہ بیان آجہ کتھہ نشہ کر وہ کہ اعراض تمیوک کر وہنہ کنہہ بیان یہ گو غایت درجک کر م تھونہ کہ پنہ نس کھمس خلاف کر نس بیٹھہ یلہ شکایت کر کہ پنہ نین بازن ہنز سوروی کر کہنہ بیان بلکہ کر کہ تہ منزہ مویہ ہنا

قَالَتْ مَنْ أَيْبَاكَ هَذَا قَالَ بَنَانِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ۖ إِنَّ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا ۚ وَإِنْ تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ

بیان یوتھنے تمن زیادہ شرمندگی پیدہ سپدہ فَلَمَّا بَيَّنَّا لَهَا أَنِ لَهَا مِن تَوْبَةٍ قَالَتْ مَنْ أَيْبَاكَ هَذَا اودہ یلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تسہ کتھ فرماوسہ گیہ حیران تمہ کروکہ عرض توه کم ہزد پوہ مہ کیا بو تو ہند سر بیہ کانہ نشہ تمن گیہ رای حضرت عائشہ نبی مآسہ یمن وونمت قَالَ بَنَانِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ تمو فر مووس مہ کر خبر اللہ تعالیٰ ان نئس بوڈزان وول چھوئیس سارچی پور خبر چھہ یہ آوونہ ازواج طاہراتن یوتھ تمہ آیندہ امہ قسچہ ژویہ کرنہ نشہ پتھ روزن بیہ کرن توبہ سمیوک تمن یمہ پتہ آیات کر یمن اندر حکم چھو یوان کرنہ إِنَّ تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا اے نبی کریمہ سنزدو شوئی الہیو (مراد چھہ امہ اندرہ حضرت عائشہ بیہ حضرت حھہ اگر توه خدا یس بروٹھ کنہ توبہ کریو تہ چھو تو ہندہ خیطرہ بہتر کیا زہ تھہ لائق چھوہ توه کرمت تہ گواہی زہ کہ توه ہند دل چھہ ہتھ کتھ گن مایل سپد مت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوند توجہ پھرہ ہواس بین ازواج طاہراتو نشہ پانس گن تھی خیطرہ چھوہ توه پانہ وان ژویہ کران اگرچہ ہتھ گن نظر کرت کہ اموک سبب چھوہ توه محبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہ اعتبارہ اوسنہ یہ ناکارہ چیز مگر چونکہ امہ سیت چھہ سپدان بین ہنز حق تلفی بیہ چھوہ تہندہ دل شکنی ہیوند باعث سپدان اتھ کن نظر کرت چھو ناکارے یمہ موکھ توهہ پزہ توبہ کرن۔ وَإِنْ تَظْهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وئن ہر گاہ توه دو شوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ ہنن کارروائی جاری تہاویو بیہ کرس اندر توه آندہ نہ کنہ تہ کیا زہ تہوند دوست چھو پانہ اللہ تعالیٰ بیہ جبریل امین بیہ نیکو کار مسلمان وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ تمہ علاوہ چھہ ساری ملایک تہند مددگار توهنژو ژویو سیت واتنہ تمن کانہہ ضرر تہ نقصان بلکہ چھوہ توه پانس امیوک نقصان کیا زہ کئس صاحبس اتھ مددگار آس (گوڈہ چھو بس تمن اکوی بوڈ مددگار) تہندس مزاج مبارکس تہ طبعیت نازینیس خلاف کانہہ حرکت کرن تھہ کوسہ کوندے کھسہ توهہ تمیوک انجام چھونن پاٹھہ سیٹھاہ بچھہ توهندہ خیطرہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ اتھ آہ

ظَهْرٍ<sup>۱۹</sup> عَسَى رَبُّهُ أَنْ طَلَقَنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا  
 مِّنْكَ مُسَلِّمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَنَاطَاتٍ تَبَتَّ عِبَادَاتٍ سَبَّحَتْ  
 تَبَّتْ وَأَبْكَرًا<sup>۲۰</sup> يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ  
 نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ

کرسمس منزئیس وندہ آوسارئی رفیق سوچھو پر تھہ اکس سیت الگ الگ معنیہ کن اللہ تعالیٰ سنزر فاقت گیہ حقیقی جبریل امینہ سنزر فاقت گیہ یمہ معنیہ کہ سواوس واسطہ فیوض الہی واندہ نانس اندر ملائکن ہنزرفاقت گیہ انزال سکینہ باایمان ہنزرفاقت گیہ تابعداری تہ فرماں برداری بعضے سلف مفسرینو فرمودو صالح المومنینہ اندرہ چھہ مراد شیخین جلیلین یعنی حضرت ابو بکر صدیق تہ حضرت فاروق اعظم واللہ اعلم چونکہ بعض روایتن اندر چھو امیوک سبب نزول تہ واقعات تہ آمت تمن روایتن اندر چھو آمت کہ حضرت عائشہ تہ حضرت حفصہ وراہی تہ چھہ بیہ ازواج طاہرات اتھہ تحریکس سیت شامل آسموہ حضرت سووہ حضرت صفیہ تھی موکھ کرکھ بیان بصینہ جمع کہ ای ساروی ازواج طاہرات توہ مہ روزنویہ خیال کہ مردس چھہ زنان ہنز ضرورت لازمی آسان تہ اتھہ کن نظر کرت ین سان مطالبات تسلیم کر نہ عَسَى رَبُّهُ أَنْ طَلَقَنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِّنْكَ مُسَلِّمَاتٍ مُّؤْمِنَاتٍ قَنَاطَاتٍ تَبَّتَّ عِبَادَاتٍ سَبَّحَتْ تَبَّتْ وَأَبْكَرًا لہذا تہاد یو توہ آی پیغمبر برحق سنز وازواج طاہراتو یہ تھہ یاد کہ ہر گاہ یہ پیغمبر توہ سارئی زنان طلاق دیہ اللہ تعالیٰ کرہ توہ بدل تمن توہندہ خو تہ رتہ زنانہ عطا یمہ زنانہ مسلمان آسن باایمان آسن فرماں بردار آسن توہہ کرہ وندہ آسن عبادت کرہ وندہ آسن روزہ دار آسن بعضے وورزہ آسن بعضے آنہر شہ آسن بعض مصلحتن کن نظر کرت چھو زنانہ وورز آسن تہ مرغوب کیا زہ سہ چھہ سلیقہ واجین تہ تجربہ کار آسان ای آوصفن اندر بیان کر نہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ای باایمانویلہ حضرت رسول کریمہ سنزن ازواج طاہراتن تہ کانہہ چارہ چھہ عبادت تہ عمل کر نہ وراہی تمن تہ آوبذریعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر نہ توہ تہ چھو حکم



لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿۶﴾  
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَدُوا الْيَوْمَ إِنَّمَا نُجَزِّوُنَاكُمْ  
تَعْمَلُونَ ﴿۷﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا  
عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي

یوان کرنے کہ توبہ نہ آسید پنے نس عیالس تبلیغ کران عیالس تبلیغ کرن ہٹھو واجب پر تھ مسلمانس چھو لازم پانہ تہ عمل کرن پنون عیال تہ عمل کرہ ناون دنیجہ وتہ پیٹھ ان وارہ وارہ فخرہ تارنہ سیت ماردنہ سیت وعید شدید بوزہ ناوتھ کھوڑہ ناونہ سیت پیار کرنہ سیت غرض پر تھ طریقہ گڑھن تم سمجھاؤن لہذا بچاویو کھ پنن پان تہ پنون عیال تہ نار جہنمہ نغیر ہتھ نارس ہرہ ہنہ آیہ لوکن تہ کنیو سیت یمہ کنہ ژمن ہند پاٹھ دزان چھ پان بچاون گو پانہ فرماں برداری کرن عیال بچاون گو تم گڑھن خدا یہ سندا حکام پٹھناؤن بیہ تمنا احکامن پیٹھ عمل کرہ ناؤن عَلِيهَا مَلِكَةٌ غُلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ہتھ نارس پیٹھ مقرر تہ معین چھہ کرنہ آمت ژ کھیل مضبوط قدا طاقور ملایک تم نہ ٹنہ قسمہ رحم کرہ وٹن چھہ یا یمن سیت نہ کانہہ مقابلہ ہیجہ کرت یم نہ اکس ذرس برابر خدا یہ سنزنا فرمانی کران چھہ کنہ حکم اندر نس حکم تم کرنہ یوان چھو نس حکم اللہ تعالیٰ کران پٹھ تھ چھہ تم فوراً بجا اتان نہ چھہ تعمیل حکم کرنس اندر سستی تہ تار کران تے ملایک واتہ ناون کافر ن نار جہنم اندر تھی وقتہ آیہ تمنا ونہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَعْتَدُوا الْيَوْمَ اے کافر وازمہ کریو تہ ٹنہ قسمک عذر پیش کیاہہ تھ چھو نہ فائدہ کنہ تہ إِنَّمَا نُجَزِّوُنَاكُمْ تَعْمَلُونَ کیاہہ تہ چھو تمکوی سنا یوان دنہ یہ تہ کران آسود نیاس اندر امہ پتہ چھو بیان یوان کرنہ امہ نار جہنمہ نغیر سچ کیاہہ صورت چھہ تی و نیو تہ پنے نس اہل وعیالس۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَّصُوحًا اے با ایمانو تہ کریو خدا یس بروٹھ کنہ پوز توبہ یعنی دلس منز ہیو پوز تہ کامل ندامت تمنا گنہن پیٹھ یم از تام کر مت چھو آسندہ کریو پختہ عزم گناہ تراونس پیٹھ امہ توبہ کہ برکتہ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ يُكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ امید چھہ یعنی وعدہ چھو توہند پروردگار کرہ توہندین گنہن غنوبیہ واتہ ناوہ تہ جنتہ کین

مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ  
 نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا آتِنَا لَنَا  
 نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ① يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ  
 الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وِبِسُّ  
 الْمَصِيرُ ② ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتٍ نُورٌ وَ  
 امْرَأَتٍ لُوطٌ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ


تمن باغن اندر میوبون کن کوله ته جو به پکان آسن **يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ** یہ گوئی  
 دوہہ اللہ تعالیٰ عزت دیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیہ تمن لوکن میوایمان ان تمن سیت یہ  
 ساتہ میدان محشر پتہ پل صراط پیٹھ تم باایمان ترن ہین **نُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ**  
 باایمان آسہ نور ہین دوران تمن بروٹھ کن تہ بیہ تمن دچھن کن تہ **يَقُولُونَ** دعاء آسن کران **رَبَّنَا**  
**آتِنَا لَنَا نُورَنَا وَاعْفِرْ لَنَا إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ** ای سانہ پروردگارہ سانہ خیرہ پوشہ ناون یہ نورسون  
 یوتھنہ یہ و تہ منزئی ژھتیہ گڑھ بیہ کر آسہ مغفرت بیشک ژہ ھھکھ پر تھ چیزس پیٹھ قدر تہ وول **يَا أَيُّهَا**  
**النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَا لَهُمْ جَهَنَّمَ وِبِسُّ الْمَصِيرُ** اے نبی کریم جہاد کریو  
 کافرن سیت سلاح و سامانہ سیت بیہ کریو منافقن سیت جہاد زیوہ سیت دلیلو سیت بیہ کریو تمن پیٹھ سختی  
 دنیاس اندر کیاہہ تم چھ تھ مستحق تہ سزاوار آخرتس اندر چھ تہنز جای نار جہنم سہ چھ سیٹھاہ سخت  
 پیٹھ جای جہنمہ روزنہ خیرہ **ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتٍ نُورٌ وَ امْرَأَتٍ لُوطٌ** اللہ تعالیٰ ان  
 فرماواکھ مثال کافرن ہندہ عبرتہ خیرہ نوح علیہ السلامہ سزہ گھر واجنہ ہنز بیہ لوط علیہ السلامہ سزہ  
 گرواجنہ ہنز۔ **كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحِينَ** تمہ دوشوئے زنانہ آسہ سانو بند و اندرہ  
 خاص دون نیکو کار بندن ہندس نکاحس تل **فَخَانَتْهُمَا** تمو دوشوی زنانو کر تمن دوشوئک صاحبن ہیوندہ

فَخَانَتْهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ  
 مَعَ الدَّٰخِلِينَ ۝۱۰ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ  
 فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ  
 فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝۱۱ وَمَرْيَمَ  
 ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَدَتْ فَرجَهَا فَنفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا

حق ضایع کیا زہن کر کھنہ فرماں برداری سے تابعداری تمہ دو شوئے زانہ آسہ منافق بظاہر آسہ  
 تمن سیت لیکن دلہ سیت آسہ کافر سیت فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا پس آئے نہ تم دو شوئے  
 نیک بندہ عنہ بکار اللہ تعالیٰ اس بروئٹھ کنہ تمن دون زنان وَ قِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّٰخِلِينَ چنانچہ تمن  
 دو شوئے زنان آو حکم کرنہ کفرہ سببہ اٹھو تو ہیہ دو شوئے عام کافر سیت نارِ جہنم اندردون بیٹھن  
 سیت رشتہ آسنن دو کھنہ کانہہ فایدہ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ بیہ فرماو  
 اللہ تعالیٰ ان بیاکھ مثال با ایمان ہندہ تسلی خیطرہ فرعونہ سندین باژن ہنز حضرت آسیہ بنت مزاحم  
 سنز إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ یلہ  
 تمود عاکر عام حالاتن اندر یا یلہ تموا کس خاص حالس اندرد عاکر یہ ساتہ فرعونس معلوم سپد جہندہ  
 با ایمان آسگ تم دیوت حکم یہ کڈیون نفس تاپس تو پتہ ٹھاسیوس اتھن کھورن چہار میخ سنس بیٹھ  
 تہاویوس گر ٹچ بو نیم کن تھہ حالس اندر مونگ تمویہ دعاء پروردگار میانہ خیطرہ کر بنا جٹس اندر  
 پتہ نس قر بس اندر اکھ گراہ بیہ دہ مہ نجات فرعونہ سندہ شرہ نشہ بیہ ہنزہ و کفرہ چوکا میو نشہ بیہ دہ مہ  
 نجات سارنی ظالمن یعنی کافر ن ہندہ شرہ نشہ یلہ تمویہ دعامونگ تمن آو جٹس اندر سو پتہ گرہ ہاونہ  
 یہ سیت نہ تمن سو تکلیف بوزنے آو وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَدَتْ فَرجَهَا فَنفَخْنَا فِيهِ مِنْ رُوحِنَا

## وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ لَهَا مِنَ الْقَنَاتَيْنِ ۝۱۷

دُوْجِنَا وَصَدَقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتِبَ لَهَا مِنَ الْقَنَاتَيْنِ ۝۱۷ بے چھہ اللہ تعالیٰ ان مسلمان ہندہ تسلی خیطرہ حضرت مریم یوصہ صاجزاد چھہ حضرت عمرانہ سنز مثال بیان فرماو مژسمہ بن ناموس تہ عصمت حلال و حرام دوشوئے چیز و نشیہ محفوظ تہو و پس واتہ نو و آسہ تمن منز پن روح یعنی عیسیٰ علیہ السلام بے کر تمو تصدیق پنہ نس پروردگارہ سندین پیغامن یم تمن نشیہ ملائکن ہندہ ذریعہ واتہ تاونہ آئے بے کر تمو تصدیق پروردگارہ سنزن کتابن یعنی تورات و انجیلس بے آس سہ واقعی اطاعت و فرماں برداری کرہ و نیواندرہ





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 تَبْرَكَ الَّذِي يَبْدِيهِ الْمَلِكُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ  
 قَدِيرٌ ۝ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ  
 عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ ۝ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا  
 مَا تَرَىٰ فِيهَا خَلْقَ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوُّتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ

تَبْرَكَ الَّذِي يَبْدِيهِ الْمَلِكُ سوپروردگار چھو سیٹھاہ عالی شان تہ برکتہ وول تسمندس قبضس منز چھہ  
 ساری پادشاہی تہ حکومت وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بیہ چھو سوپر تھہ چیزس پیٹھہ قدر تہ وول  
 الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا ایم پروردگارن مرن تہ زندہ روزن پیدہ کر  
 یو تھہ سو تہ آزمائش کرہ کہ تہ اندرہ کوه چھو رت عمل کرنس اندر۔ تس چھو دغل رتہ عملہ اندر اتھہ  
 پاٹھہ کہ موتک خیال تہاوتھہ چھو انسان دنیاں فانی زانان مر نہ پتہ بیہ زندہ سپد نہ کہ اعتقادہ سیت چھو  
 آخر تس باقی زانان بیہ چھو آخر تک ثواب حاصل کرنہ خیطرہ بیہ تہ کہ عذابہ نشہ پتہ خیطرہ مستعد  
 روزان اتھہ پاٹھہ چھو حیات تہ عمل کرنس اندر دغل یمہ اعتبارہ کہ حیات نئے آسہ عمل تھہ اندر کرہ  
 شخص لہذا اچھو حیات عملہ ہندہ خیطرہ نمبر لہ طرف چونکہ موت پتھہ عدم محض چیزہ بلکہ چھو وجودی  
 لہذا آواتھہ پیٹھہ مخلوق آسنگ حکم کرنہ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ بیہ چھو سوپروردگار زبردست تہ غالب  
 پتھہ عملن پیٹھہ سزاء دیوہ وون تہ سوی چھو گنہن مغفرت کرہ وون تہ در گذر کرہ وون تہ الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ  
 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ایم پروردگارن ستھہ آسمان پیدہ کر اکھ اکس پیٹھہ چنانچہ حدیث شریفس منز چھو آمت اکہ  
 اکھ آسمان چھو بیس آسمانس پیٹھہ گن تہ پیٹھہ گن چھو تریم آسمان اتھہ پاٹھہ چھہ ست ستوئے آسمان اکہ  
 آسمانہ پیٹھہ چھہ بیس آسمانس تان پانژن تین ورہنی ہنز مسافت مَا تَرَىٰ فِيهَا خَلْقَ الرَّحْمَنِ مِن تَفَوُّتٍ ای

تَرَى مِنْ نُطُورٍ ③ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبُ إِلَيْكَ  
 الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ ④ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا  
 بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَا رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ  
 عَذَابَ السَّعِيرِ ⑤ وَاللَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ ⑥  
 وَبِئْسَ الْمَصِيرُ ⑦ إِذَا الْقُوفُوفُ فِيهَا سَمِعُوا أَلْحَادًا بِحَشِيحَةٍ  
 وَهِيَ تَفُورٌ ⑧ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ كُلَّمَا أَلْقَى فِيهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ

آسمانس کن وچھرونہ ژہ لکھنہ حضرت رحمانہ سزہ اتھہ کارگیری تہ صنعتس اندرئہ قسمک خلل نقصان  
 تہ فرقاہ نئس چیز یوتھ شوبہ ہاسو کرن تھوی پیدہ فازجہ البصرہ ل تری من نطور بلا تامل آستھ  
 ژہ وارہہ پھرہ اتھہ کن نظر ڈٹروئن دتہ ژہ تاملہ سان بیہ اکھ نظرہ اتھہ کن ژہ چھویہ بوزنہ یوان  
 اتھہ منز کانہہ خلاہ یا پھرائاہ پھراہ یارماہ ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ توپتہ دتہ پھیر پھیر نظرہ کانہہ  
 رخناہ تہ عیباہ تلاش کرنہ خیطرہ مگرکنہ تہ اندنہ یَنْقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ آخر کار آئیہ  
 نظر ژہ کن پوت پھیرت وکہ زدگوہت تہ لوسیتھہ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحٍ وَجَعَلْنَا  
 رُجُومًا لِلشَّيْطَانِ بیہ چھہ سانہ قدر تچہ بڈلیل کہ آسہ دیوت زینت تہ لملواکھ تلہ کس آسمانس  
 ژانگیوینے ستارو سیت بیہ کراسہ تم ستارہ کنہ شیطان یم ملائکن ہنزن کھن کن دنہ کھسان آس، دفع تہ  
 دُور کرنہ خیطرہ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ بیہ چھہ امہ علاہہ آخرتس اندر تھنہہ کفرہ سببہ تھنہہ  
 خیطرہ تیار تھومت جھنمک عذاب، وَاللَّذِينَ كَفَرُوا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ بیہ یم  
 لوک پنہ نس پروردگارہ سندس کن آسئس انکار کران چھہ تھنہہ خیطرہ تہ چھو دوزخک عذاب سہ چھہ  
 سیٹھاہ بچھہ جای إِذَا الْقُوفُوفُ فِيهَا سَمِعُوا أَلْحَادًا بِحَشِيحَةٍ وَهِيَ تَفُورٌ یلہ تم لوک تھہ منز تراونہ ین تم بوزن  
 تچہ اکھ سخت خوفناک کریکھاہ درحالیتمہ سو آسہ گرزان تہ گرتہ گرتہ کران۔ تَكَادُ تَمَيِّزُ مِنَ الْغَيْظِ سو  
 آسہ تھہ پاٹھہ جوش ماران کہ معلوم آسہ سپدان کہ ون تہ ون ما پھڑ تھہ سیت یوسہ تس آسہ مٹر کن تہ

خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۝۸ قَالُوا بَلَىٰ قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ فَكَذَّبْنَا  
 وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ؕ إِن أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ ۝۹  
 وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝۱۰  
 فَأَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ ۖ فَنَسْحَقُوا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝۱۱ إِنَّ الَّذِينَ  
 يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۖ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ۝۱۲ وَأَسْرُوا  
 قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ۝۱۳ أَلَا يَعْلَمُ

کافرن ہنز کَلِمَا الْفَوَاحِشُ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيرٌ ۝۸ یلہ یلہ تھہ جہنمیں منز تراونہ آسہ  
 یوان کافرن ہنز اکھ جماعتہا تمں آسن پر ژھان تمک داروغہ کیا توہ نس واژو ناگانہ نیم کرہ ون پیغمبرہ  
 یم توہ نیم آسہ ہجو کرمت یمہ نار جہنمک یہ سوال آسن تم تمں کران بطور زجر و توبخ قَالُوا بَلَىٰ  
 قَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ تم کافر دیکھ واقعی آید واسہ نشہ پیغمبر فَلَکَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ؕ إِن أَنْتُمْ  
 إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ مگر شامتہ نہ کارہ زان آسہ تم اپزیر اسہ ڈپ تمں پیغمبرن کہ اللہ تعالیٰ ان چھنہ  
 نازی کرمت از قسم کتاب یا احکام کنہ توہ چھوہ جہ غلطی اندر ہمت وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا  
 فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ بیہ ون تم کافر جہنمہ کین داروغن ہر گاہ اسہ پیغمبرن ہیون دن بو زمٹ آسہا فکرہ  
 تورمٹ آسہا اس کتہ آسہ ہوتلہ شامل دوزخہ کین لوکن اندر فَأَعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ فَنَسْحَقُوا لِأَصْحَابِ  
 السَّعِيرِ پس کرن تم پنہ جریمہ اقرار پس بوین لعنت جہنمکین لوکن إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ  
 بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ پز پاٹھ یم لوک پنہ نس پروردگار س وچھنہ ورا ی کھوژت ایمان  
 واطاعت اختیار کرن تہندہ خیطہ چھو بوڈ مغفرت تہ بڈ مزور مقرر کرنہ آمر وَأَسْرُوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا  
 بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ای لوکو توہ لو تہ پاٹھ تھہ کر تو یا بڈہ بڈ کر تو نس چھ سارنی چیزن ہنز خبر  
 کیا زہ سوہ چھو دلن ہنزہ تھہ تان پور زانان أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ کیا سو پروردگار یم  
 یہ انسان پیدا کر گوژھنا زانن تمسند سوروی حال سو ی چھو ساری پوشیدہ چیز زان ون سو ی چھو پور بانجر

مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿۱۳﴾ هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ  
 الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ  
 النُّشُورُ ﴿۱۵﴾ ءَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ  
 الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ ﴿۱۶﴾ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ  
 يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ ﴿۱۷﴾ وَلَقَدْ  
 كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ﴿۱۸﴾ أَوْ لَمْ يَرَوْا

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَأَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِنْ رِزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ سو چھو  
 تنھوی منع یم تو ہندہ خیطرہ گریہ زمین رام تہ مسخر سو چھو تو ہند ساری تصرفات قبول کران پس پھیر  
 یو توہ بچن وتن اندر تو پتہ کھیو خدایہ سند سوزق بس تم اتھ ز مینس اندر پیدہ کزلتہ طریقہ حاصل کرت  
 مگر یمہ تھہ ہوند تہا یو وارہ خیال کہ تس کن چھوہ پتولا کہ واتن دوبارہ زندہ سپت لہذا کریو تہزن نغمن  
 ہنز شکر گذاری ایمان و اطاعتہ سیت۔ ءَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمْ الْأَرْضَ فَإِذَا  
 هِيَ تَمُورُ اے لو کو کیا توہ چھوہ تس ذات پاکس نشہ صوکس اندر بے خوف سپد مت یسند حکم تہ  
 تصرف چھو آسمان اندر سو کیا والہ توہ قارونہ سند پاٹھ ز مینس تل پس ایہ تھہ ز مینس یو نیول بیہ  
 دو تھیس نٹھ تو پتہ سپد یس تلگ پیٹھ یعنی ای لو کو توہ پھیر یو تہ بچو اتھ ز مینس پیٹھ کھیو خدایہ سند رزق  
 مگر مغرور گتھ مہ سپد یو غافل تہندہ یادہ نشہ اَمْ أَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا  
 کہنہ توہ لوک چھوہ بے خوف تہ صوکس اندر تس ذات پاکس نشہ یسند حکم تہ تصرف چھو آسمان اندر  
 یمہ تھہ نشہ کہ سو کیا سوزہ تو بچن سخت تیز واوتھہ منزکنہ پھل تہ آسن قوم عادک پاٹھ یمہ سیت توہ تہ  
 ہلاک گتھ ہیو۔ تو ہندہ کفرہ موجب گوٹھ توہ تی بن دن ہر گاہ ہنہ مصلحتہ سبہ تھہ منز تا خیر سپدان چھو  
 سردست توہ پیٹھ عذاب ہنھنہ نازل سپدان فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرِ مگر عنقریب تلگہ توہہ زانن کہ  
 میون بیم کرن تہ کھوٹھہ ناولن عذابہ نشہ کیو تھہ اوس۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ





قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَ  
الْأَفِيدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿۲۳﴾ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي  
الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۲۴﴾ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ  
إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۵﴾ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا  
نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿۲۶﴾ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سَيِّئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ


ناسہ تر اس آسنہ موکہ کونت لگان آسن تہ سو آسہ بو تھکن پوان پوان پکان سو چھا منزل مقصودس  
پیٹھ زیادہ وادون کنہ سو شخص چھولیس سیزہ تہ ہمواروتہ پیٹھ پکان آسہ یہوی حال چھو با ایمانس تہ کافرہ  
سند با ایمان چھو پکان صراط مستقیمس پیٹھ افراط و تفریط ورا ی کافر چھو گمر اہی ہندیو کھوژو پیٹھ پکان تہ  
اندر جایہ جایہ خطرے تھس سو کیاہ بیجہ واتھ منزل مقصودس اوتان آسہ توحیدہ چہ دلیلہ یمہ نبر نبر  
چھہ امہ پتہ چھہ تمہ دلیلہ بیان یوان کرنہ یمہ انانس پانس اندر چھہ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ  
لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفِيدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ توه فرما یو کہ یار سول اللہ سو پروردگار گو سوی  
قدر تہ وول تہ نعمہ عطا کرہ وون یم توه پیدہ کرہہ بیہ یم بوزنہ خطرہ کن وچھنہ خیطرہ اچھہ زاننہ خیطرہ دل  
عطا کر توه یمن نعمن پیٹھ پڑہ ہا توه سٹھاہ شکر دمن مگر توه چھوہ سٹھاہ کم شکر دین یمن نعمن ہیوند شکر گیو  
کہ یم طاقت تہ قوت گڑھ استعمال کرن تمہی جائن اندر یمن منزل اللہ تعالیٰ سند رضا آسہ تہ کرہہ نہ توه  
قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ توه فرما یو کہ اتہ کہ سوی چھو سو پروردگار یم  
توه پیدہ کرت روی زمینس اندر تھس اوو تو پتہ ا یو توه بیہ تس نشہ جمع کرنہ تہ سزاونہ یس نشہ آوہ تس  
نشہ چھو توه بیہ وائن توه اوس لازم تس نشہ گوژھنہ اکس دمس تہ غافل روزن پر تھہ وقتہ گڑھ توه فکر  
آسن کہ اس کیاہ گڑھو پنہ نس مالکس نشہ اس کمہ لا تھہ واتو تس نشہ اتھ چھنہ کافر ن پڑھی وَيَقُولُونَ  
مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ تم چھہ دپان یہ قیامتک وعدہ کرایہ لبنہ ہر گاہ پزیر چھوہ توه قُلْ  
إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ توه فرما یو کہ جواب کہ امہ قیامتہ تعینک علم چھو خدا یسی

كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ ﴿۲۷﴾ قُلْ أَرَأَيْتُمْ  
 إِنِ أَهْلَكِنِي اللَّهُ وَمَنْ مَعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكَافِرِينَ  
 مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿۲۸﴾ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ الْمَتَّابُ وَعَلَيْهِ  
 تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۲۹﴾ قُلْ

یو تھ ہو جس محض ن پاٹھ تو ہندہ خطرناک مستقبلک بیم کرہ دن فَاَلَمْ تَرَ اَوْ هُوَ لَفَنَّ سَيِّئَتْ وُجُوهُ  
 الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ پس یلہ سو ہولناک مستقبل یعنی سو عذاب  
 سمیوک تمن وعدہ تہاوند چھو یوان وچھن تم کھتل واتان تھ کن نظر پیوہ ونوی بگرن تمن کافرن ہند  
 بو تھ شکہ دلکھ ونہ ایکہ یہوی کیا گو سو عذاب یس توہ جلد ژھاٹان آسیو قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَهْلَكِنِي اللّٰهُ  
 وَمَنْ مَعِيَ اَوْ رَحِمْنَا فَمَنْ يُجِيرُ الْكٰفِرِيْنَ مِنْ عَذَابِ اَلِيْمٍ توہ فرماو یو کہ یار رسول اللہ ای کافر توہ ونویہ  
 ہر گاہ اللہ تعالیٰ تو ہنزہ خواہشہ موجب مہ بیہ ہم با ایمان مہ سیت چھ تمن ہلاک کرہ یا ہر گاہ سو سانہ  
 ویمز موجب تہ پنہ نہ وعدہ موجب اسہ پیٹھ رحم کرہ دو شوئن حالن ہیوند کیاہ اثر چھو توہ پیٹھ توہ ہیو خبر  
 پنہ نی حاج کج توہ کیاہ بنوہ یعنی کافرن چھو بہر حال عذابس گرفتار سپدن تمن کوہ بیسکھ موکلات دود تہ دگ  
 تلہ ونہ عذابہ نشہ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ الْمَتَّابُ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا توہ فرماو یو کہ یار رسول اللہ ایہ کہ سو معبود  
 برحق چھو سیٹھاہ رحمتہ دول اسہ چھ پڑھ کر مژتہ ایمان اُمتت تس ایمانہ کہ برکتہ دیہ سُو اسہ نجات بیہ  
 چھ اس تس پیٹھ اعتماد تہ توکل کران تمہ کہ برکتہ سپد وامن مقصدن اندر کامیاب اسہ رچھ سو  
 آخر تک عذابہ نشہ تہ دنیا کیو حادثا تو نشہ تہ فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ یلہ توہ عذابس گرفتار  
 گڑھیو تہ اس روز تمہ عذابہ نشہ محفوظ تھی ساس تہ سپدہ توہ معلوم کوہ چھونہ گراہی اندر اس آسوہ یس توہ  
 خیال چھو کہ توہ آسیوہ سون عقیدہ چھو قُلْ اَرَأَيْتُمْ اِنْ اَصْبَحْتُمْ مَادُّوْكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يُّؤْتِيْكُمْ مِمَّا مَعْبُودِيْنَ  
 توہ فرماو یو کہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتہ کہ ای لو کو ہر گاہ تو ہند آب یس چشمو تہ کیر یو منزہ  
 نیران چھو ہر گاہ یہ شریعت گڑھ ز مینس منز کیر تہ ناگ تو ہند گڑھن خشک ادہ کوہ بیسکھ انتی توہ آب جاری

أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ ﴿۳۰﴾

حدیث شریف من چھو آمت کہ کس شخص سورہ ملک پرہ توہ پتہ پرہ یہ آیہ کریمہ (قُلْ أَرَأَيْتُمْ) الخ سوہرن اللہ یا تینا بہ و ہورب اللعین مگر یہ چھوہرہ ونسی پر ن بوزہ ونین نہ کنہ کیا زہ لفظ حدیث و چھو من قرأ یہ لفظ جھنہ من سمع اتھ گن نظر کرت چھو اما مسی پر ن مقتدین نہ کنہ۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۱ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ  
 بِمَجْنُونٍ ۲ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ۳ وَإِنَّكَ  
 لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ ۴ فَسَبِّحْهُ وَوبِّصِِرْهُ ۵ بِإِيَّامِكُمُ الْمَفْتُونُ ۶  
 إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ

ن پروردگاری چھو معلوم امہ اندرہ کیاہ چھو مراد وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ قسم چھو قلمک یہ  
 سیت مخلوقاتن ہند تقدیر لوح محفوظس بیٹھے لکھنہ آمت چھہ بیہ چھو قسم تمن ملائکن ہند لکھنک یم  
 لوکن ہنزہ عملہ لکھان چھہ مَا أَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ توحہ نخر چھو نہ پنہ نس پروردگارہ سندہ  
 فضلہ سیت مت نہ دیوانہ پتھہ پاٹھہ تہوہدہ نبوتک منکرونان چھہ غرض چھو کہ تہوہ چھوہ نبی برحق شک و  
 شبہ وراہی وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ بے شک تہوہدہ خیطرہ چھو لوکن تبلیغ احکام کرنہ خیطرہ  
 لوکن ہنزن پچھہ کتھن پٹھہ صبر کرنہ خیطرہ سو بوڈ ثواب یسنہ زاہ و برہون چھو وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ  
 بیہ چھوہ تہوہ بے شک رتین خلقن ہدس اعلیٰ بیانس پٹھہ پیدہ کرنہ آمت تو ہنز پرت کامہ چھہ اعتدالس  
 پٹھہ مجنونس تہہ چھو آسان کامین اندر توازن نہ اعتدال دشمن تہوہد یم امہ قسمچہ کتھہ ونان چھہ تمبوک مہ  
 بردیو تہوہ کانہ غم فَسَبِّحْهُ وَوبِّصِِرْهُ \* بِإِيَّامِكُمُ الْمَفْتُونُ عنقریب وچھو تہوہ یارسل اللہ بیہ وچھن تم تہ کہ  
 تہوہ اندر گس چھو مجنون نہ دیوانہ جنوچ حقیقت چھہ عقل زائل گوہن عقلہ ہوند غایت چھو نفع و نقصان  
 فکرہ ترن نقصان گو سوی نس ابدی آسہ یس پنہ قیامتک دوہ تمن تہوہد دشمن کہ عاقل تہ گائل  
 آس با ایمان یمو یہ نفع ابدی حاصل کرد مجنون نہ دیوانہ آس کافرینے یس دشمن یم امہ نفع ابدی نشہ  
 محروم سہت ضرور نقصان ابدی سبتلا سہد۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ

بِالْمُهْتَدِينَ ۴ فَلَا تَطْعِمُ الْمُكْذِبِينَ ۵ وَذُو الْوَلْدَانِ ۶  
 فَبِدْهُنُونَ ۷ وَلَا تَطْعَمُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ ۱۰ هَمَّا زَمْشَاءُ ۱  
 بِنَمِيمٍ ۱۱ مَتَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ آتِيهِمْ ۱۲ عَتَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ ۱۳  
 أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ۱۴ إِذِ اتَّكَلَىٰ عَلَيْهِ الْيَتِيمَا قَالَ  
 أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۱۵ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ ۱۶ إِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا

بِالْمُهْتَدِينَ بے شک تہوند پروردگار چھوٹس شخصس وارہ زانان نُس تہنزہ ووتہ نشہ ڈول سوی چھوہ وارہ  
 زانان سبزہ ووتہ پٹھ پکھ وکن لہذا دیہ سوی پرت کانسہ جزائتہ سزاوین یلہ تہ سپد معلوم کہ تہ چھو پزس  
 پٹھ تہوند دشمن چھ اپزس پٹھ۔ فَلَا تَطْعِمُ الْمُكْذِبِينَ پس مہز مانیو تہ یمن مُکْرَن ہنزہ کتھ پٹھ پٹھ نہ  
 ازتان مونو کھ وَذُو الْوَلْدَانِ فَبِدْهُنُونَ تم چھ یڑھان تہ گڑھ یو نعوذ باللہ پنے نُس فرض مضمیس  
 یعنی تبلیغس بت پرستی ہندس تردیدس منز جہندہ رعایہ خیطرہ ہناہ نرمی کرن تلہ کر ہن تم تہ تہ ہندس  
 مخالفس اندر نرمی وَلَا تَطْعَمُ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ تہ مہز مانیو تہنزہ کتھ خصوصاً اتھس شخصہ سنزہ کتھ نُس  
 زیادہ قسم ہاوان آسہ نُس پنے نیو پچھ حرکتو موکھ خدا یس تہ لوکن نشہ بے وقعت تہ ذلیل آسہ۔  
 هَمَّا زَمْشَاءُ بِنَمِيمٍ یس زر کہ تہ طعنہ دیوان آسہ یس وناون کران پھیران آسہ مَتَاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ  
 آتِيهِمْ یس رٹو کا میون نشہ لوکن پٹھ رٹہ ون آسہ نُس حدہ نشہ ڈلہ ون آسہ نُس بدکار تہ گناہ گار آسہ  
 عَتَلٌ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ یس بد مزاج تہ ڈکھویل آسہ نُس امہ ساری علاوہ ولد الزان تہ حرامزادہ تہ آسہ  
 غرض کہ تہ مہز مانیو تہنزہ کتھ أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ یسہ موکھ کہ سو کیا آسہ مالہ دول تہ سُر  
 گھبر وول یعنی دنیاں اندر آسہ صاحب وجاہت! اتھس شخصہ سنزہ کتھ مانہ نہ نشہ چھ اس تہ ممانعت  
 کران یسہ موکھ کہ اتھس شخصہ سند عادت چھو کہ۔ إِذِ اتَّكَلَىٰ عَلَيْهِ الْيَتِيمَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ  
 یلہ تمس بروٹھ کنہ سین آیات پر نہ یوان چھ سو چھو وناں یسہ چھ بے سند کتھ یسہ نقل چھ آمزہ کرنہ  
 بروٹھنن نشہ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرُطُومِ اس کروداغ عنقریب تہنزہ نستہ پٹھ یعنی قیامتک دوہ کرو اس

بَلُونَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ ﴿۱۷﴾ وَلَا  
يَسْتَتِنُونَ ﴿۱۸﴾ قَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِبُونَ ﴿۱۹﴾  
فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿۲۰﴾ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ ﴿۲۱﴾ أَنْ ائْتِدُوا عَلَيَّ  
حَرِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۲۲﴾ فَأَنْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ ﴿۲۳﴾

تہمدہ کفرہ سببہ تہندس بو تھس تہ نستہ پٹھ سو علامت یمہ سیت تمہن ساری لوک پرزہ تاوان آس تہ  
سیت سپن تم وارہ ذلیل تہ رسوا اِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ بے شک اسہ چھہ یمن مکہ کین  
لوکن آزمائش کر مژسامان عیش دنہ سیت تہ پٹھ تم مغرور چھہ اس وچھہ یمن نہ ایمان خدایہ سندس کن  
آسئس کنہ یم کرن ناشکری کفر و شر کہ سیت تہ پٹھ اسہ آزمائش کر تمہن بروئٹھ بانغہ والین (یہ اوس  
اکھ بانغہ حبش منزیاتمن منزامہ بانغ آس خبری مکہ کین لوکن تمہن بانغہ والین ہیوند قصہ چھو تہ پٹھ  
کرہ تمہن بانغہ والین ہیوند مول اوس پنہ نہ وقت امہ بانغہ کہ میوک اکھ بوڈ حصہ غریبن تہ مسکین اندر  
تقسیم کران یلہ سویمہ عالمہ گوامند یونچو یو دوپ یہ سون مول اوس احمق تہ بے عقل کہ یوٹ حصہ  
امہ بانغہ کہ آمدنی ہیوند اوس مسکین دو ان۔ ہر گاہ یہ سوری میوہ اس گرے انوشٹاہ فاندہ واتہ اسہ چنانچہ  
اتھ پٹھ سپدیم متفق۔ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ \* وَلَا يَسْتَتِنُونَ یلہ تموپانہ وان قسم ہوو کہ جس  
سلہ گروہ اس ضرور امہ بانگ میوہ ژمنہ خیطرہ بیتہ اعتماد و وثوقہ سان ویچھہ یہ تھہ کہ ان شاء اللہ پر نہ  
گو کہ مشت یلہ امہ کج بدیتی سپر ہیہندین دن اندر قَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِبُونَ پس  
پھیورراتہ منزی اتھ بانغس تہوندس پروردگارہ سندہ طرفہ اکھ کنوی واوہ پھشاہ تھہ نار اوس یمہ  
سیت یہ سوری بانغ دزت گوونہ آس تم شو گھتی۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ پس سپد سوبانغ زن تھہ  
ساری دروت اوس واینہ آمت فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ پس ہیوت تموصحس ندرہ تھہ اکھ اکس آلودیون  
أَنْ ائْتِدُوا عَلَيَّ حَرِّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ و تھیو با یو واتو سلہ گرہ زمینس پٹھ ہٹھوے غرض میوہ  
ژٹنک فَأَنْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَفَتُونَ پس دراے تمپانہ وان آس لوتہ لوتہ تھہ کران یوتھہ کانہ بوزہ اَنْ

اَنْ لَا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ﴿۲۳﴾ وَغَدَاً وَعَلَىٰ حَرْدٍ  
 قَدِيرِينَ ﴿۲۵﴾ فَلَمَّارًا وَهَاقًا لَوْ اِنَّا لَضَّالُّونَ ﴿۲۶﴾ بَلْ نَحْنُ  
 مَحْرُومُونَ ﴿۲۷﴾ قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تُسَبِّحُونَ ﴿۲۸﴾  
 قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿۲۹﴾ فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى  
 بَعْضٍ يَتَلَآءَمُوْنَ ﴿۳۰﴾ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿۳۱﴾

لَا يَدْخُلَهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ یو تھ نہ توہ نشہ ازاتھ باغس اندر کانہہ مسکین تہ محتاج اثر تھ ہمہ  
 وَغَدَاً وَعَلَىٰ حَرْدٍ قَدِيرِينَ پس درای تم پنے نہ خیال کانسہ نہ دلس پٹھ قدر تہ وال زانت خیال او سکھ  
 از دمنہ اس کانسہ سوروی انواس پنے نوی گرہ فَلَمَّارًا وَهَاقًا لَوْ اِنَّا لَضَّالُّونَ پس یلہ توت واتھ تھ  
 پٹھ نظر پیکھ باغہ کس اتھ حالس پتھ دپنہ لگ اس چھ لگمت خبر کوت اسہ چھہ و تھ راومڑ کیا زیہ پتھ نہ  
 باغ واغ اسہ نظری یوان تو پتہ یلہ اورہ یور نظر اہ دژکھ معلوم سپدک یقیناً چھہ یہ سوی جای۔ تمہ ساتہ  
 لگ دنہ نہ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ بلکہ چھو اس تمہ نعمتہ نشہ محروم سپد مت قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ  
 لَكُمْ تمواندرہ ئس ہناہ جان پہن انسان اوس سولگوکھ دپنہ مہ و نیوہ ناتوہ کہ ایشہ نیت مہ کریو۔  
 مسکین فقیرن دنہ سیت چھہ برکت بنان امی موکھ فرمواندہ تعالیٰ ان تس جان انسان لَوْ لَا تُسَبِّحُونَ تو پتہ  
 دوپ تکھ وئن یہ اتھ سانہ بدیتی ہندہ شامتہ بنون اوس تہ بیوس مگروین کونہ چھوہ کران توتہ  
 خدا ئس کن توبہ تسندیاد کرنہ سیت تسبیح پرنہ سیت دیوہ اتھ گناہس اسہ معاف کرہ امہ خوتہ زیادہ کانہ  
 تکلیف اہ اسہ واجنہ قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ چنانچہ ساروی ہیوت پرن توبہ کران کران سون  
 پروردگار چھو منزہ تہ پاک اس چھہ بے شک پان پانس ظلم کرہ ون اسہ کر قصور فَاَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلٰى  
 بَعْضٍ يَتَلَآءَمُوْنَ پس پھیر اڈا ئن گن اکھ اس ہتو کھ الزام دیون (تھہ پاٹھ عادت چھو لو کن  
 ہوند کہ کوم خراب گڑھت چھہ اکھ اس ٹھولہ دو ان پانس پٹھ چھو نہ کانہہ بور ہوان قَالُوْا يٰوَيْلَنَا اِنَّا  
 كُنَّا ظٰلِمِيْنَ تو پتہ لگ ساری متفق سپد تہ ونہ نہ کہ افسوس واقعی آس اس ساری حدہ ڈلہ وین یہ چھو



عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ ﴿۳۲﴾  
 كَذَلِكَ الْعَذَابُ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا  
 يَعْلَمُونَ ﴿۳۳﴾ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ﴿۳۴﴾  
 أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ ﴿۳۵﴾ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿۳۶﴾  
 أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ﴿۳۷﴾ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَخَيَّرُونَ ﴿۳۸﴾

نہ اسے اندرہ کہندوی یوت خطا بلکہ چھ اس ساری اتھ اندر خطا کار چھواداسی سیت نیرہ نہ کنہ تہ اس  
 ساری کرواکہ وہ توبہ عَسَى رَبُّنَا أَنْ يُبَدِّلَنَا خَيْرًا مِنْهَا إِنَّا إِلَى رَبِّنَا رَاغِبُونَ شاید توبہ کہ برکتہ ما کرہ  
 سون پروردگار اسہ امہ باغ بدل امہ خوتہ رُت بانہ عطا دنیا س اندریا آخرتس اندر امہ اندر چھو سپدان  
 معلوم کہ یم لوک آس با ایمان بخلہ سببہ سپدک بدینتی یموک سزایہ نقصان تلک مگر توبہ کہ برکتہ  
 کر کہ اللہ تعالیٰ ان دنیا سی اندر امیوک عوض عطا چنانچہ تفسیر روح المعانی اندر چھو عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ  
 سند قول نقل آمت کرنہ کہ تمن آوامہ و تہ روت باغ عطا کرنہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان كَذَلِكَ  
 الْعَذَابُ تہ پانٹھ چھ آسان سون عذاب امی مکہ کیو کافر و توبہ تہ کیا چھو اتھس عذابک مستحق تہ سزاوار  
 بلکہ امہ خوتہ سخت عذابک سزاوار کیا زہ یہ عذاب سمیوک ذکر کرنہ آویہ آو تمن کرنہ محض اکس  
 مصحیتس پٹھ توبہ چھو کفر تہ شرک کران توبہ شوبہ امہ خوتہ زیادے۔ وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَكْبَرُ لَوْ  
 كَانُوا يَعْلَمُونَ آخر تک عذاب چھو یمہ دنیا کہ عذابہ خوتہ سٹھاہ بوڈ کیاہ روت اوس ہر گاہ یم کافر

اتھ تھ وارہ زانہن۔ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٍ النَّعِيمِ بے شک پر ہیز گارن ہندہ خیرہ چھ  
 تہندس پروردگار س نشہ آسانس ہند جنت یعنی جنٹس واسٹک سبب تہ ذریعہ چھو تقویٰ تہ پر ہیز گاری  
 کافر تہ مُشْرک چھ امہ نشہ عاری تہ خالی لہذا تھ پانٹھ ہک تم جنٹس واتھ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ  
 كَالْمُجْرِمِينَ کیا اس کرو کہ فرماں بردار تہ تا فرمان برابر مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ای کافر و توبہ کیا گوہ توبہ  
 کہہ بوتھ چھو یہ فیصلہ پانس پٹھ دو ان۔ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ کیا توبہ نشہ چھاکانہ آسمانی کتابہ

أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بِالْغَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ  
لَمَّا تَحْكُمُونَ ﴿۳۶﴾ سَأَلَهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ ﴿۳۷﴾ أَمْ لَكُمْ شُرَكَاءُ  
فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ ﴿۳۸﴾ يَوْمَ يَكْشَفُ  
عَنْ سَاقٍ وَ يَدُ عَوْنٍ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿۳۹﴾

تھ منز توہ پر ان چھوہ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَّا تَحْكُمُونَ بے شک تھ کتابہ منز چھ لکھت تہوندہ خیطرہ سو چیزئس توہ پسند چھوینے تھ کتابہ منز کیا چھو لکھت کہ آخرتس اندر کیا آیہ توہ عطا کرنرہ رثمزور اَمْر لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنَا بِالْغَةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ کنہ اسہ پٹھ چھ ذمہ کھمت کنہ قسم یم اسہ تہوندہ خیطرہ ہاومت چھ یم قسم قیامتس تان برابر باقی روزہ ون چھ سمعہ پھوٹنی زانہ یم قسم تھ کتھ پٹھ ہاونہ آمت چھ کہ إِنَّ لَكُمْ لَمَّا تَحْكُمُونَ بے شک تہوندہ خیطرہ چھ تم چیز یم چیز توہتہ حقہ فیصلہ کریوینے ثواب تہ جنت سَأَلَهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ توہ پر تھتویار رسول اللہ تمن کہ توہ اندرہ کوہ چھو امیوک ذمہ دار اَمْر لَكُمْ شُرَكَاءُ کیا تہند ٹہراومت خدایہ سند شریک چھا تمن امہ کتھ ہند ذمہ دار کہ تمن کیا بنہ آخرتس اندر ثواب تہ جنت فَلْيَأْتُوا بِشُرَكَائِهِمْ إِنْ كَانُوا صَادِقِينَ پس کرن تم پیش تمن شریکن ہر گہ تم پوزونان چھ غرض یلہ نہ یہ کونہ آسانی کتابہ اندر تہ چھونہ چھو سانہ طریقہ یمن اتھ پٹھ کانہ وعدہ یس بمنزلہ قسم آسہا نہ چھوامہ کتھ ہیوند ذمہ دار یمو اندرہ کانہ بنان نہ تہند یو شرکیو اندرہ پس امہ بے بنیاد کتھ ہوند دعوی کرن یہ ونون کہ وَ لَئِنْ رُجِعْتَ إِلَى رَبِّي إِنَّ لِي عِنْدَهُ لَلْخُسْفَى یعنی ہر گہ بو خدایس نشہ واتانہ یمہ تس نشہ بنہ مہ رثمزور کثیراہ شر مناک کتھ چھ امہ پتہ چھ اللہ تعالیٰ بیان کران کہ تمن کافرن کثیراہ رسوائی آسہ قیامتک دوہ يَوْمَ يَكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَ يَدُ عَوْنٍ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سو دوہ تہ چھوڑتس پاونس قابل یمہ دوہ گریزہ ہیوند تجلی منز اونہ ایہ توپتہ آیہ سارنی لوکن سجدس گن نادونہ یم کافر دنیا س اندر خدایس گن نماں آس نہ یعنی نماز پران آس نہ تم کن نہ تمہ وقتہ سجدے دت حدیث شریفس اندر چھو کہ اللہ تعالیٰ نر اوہ قیامت دوہ پنہن گرز گرز نر اونہ اندر چھو مراد کانہ خاص صفتاہ تھ کونہ مناسبتہ لوکھ گرز آونہ نہ تھ حدیث شریفس منز چھو کہ یہ تجلی و چھت

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ  
إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَلِيمُونَ ﴿۳۳﴾ فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَلِّبُ بِهِذَا  
الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿۳۴﴾ وَأُمْلِي  
لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ ﴿۳۵﴾ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ  
مُثْقَلُونَ ﴿۳۶﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴿۳۷﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ


دن ساری مسلمان مرد و مسلمان زنانہ سجدہ یم شخص دنیا س اندر بین ہاونہ خطرہ سجدہ دوان اس تم بہکن  
نہ سجدے دتھ تمن گدھ کمر شترج پٹ ہیو تم ہیکن نہ بون کن نمٹہ یہ آسہ امہ تجلیک اثر کہ مخلص  
با ایمان سپدن مضطر سجدہ دنس پٹھ ریاکارہ منافق کرہ بکن سجدہ دنگ ارادہ مگر قدرت لبس تہ تم سجدہ  
کرنس پٹھ کافرن ہنزہ جھنہ کھی خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ تہزہ اچھ پین شرمندگی سبہ بون  
کن تمن پٹھ آسہ ذلت تہ رسوائی ولہ آثر امیوک وجہ آسہ ای کہ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ  
وَهُمْ سَلِيمُونَ یمن اوس دنیاء س اندر سجدس کن ناد یوان دنہ یعنی ونہ نہ اوسکھ یوان کہ ایمان انتو  
معبود برحقہ سنز عبادت کر تو تم اری تہ ور آسٹھ آسہ خدا یمنز عبادت تہ بندگی کر ان یمن آسن قیامتک  
دوہ مختلف حالات کونہ وقتہ آسکھ غیرت غالب سپدت اچھ ہیور کن درہ لگان، تہ کونہ وقتہ آسکھ غلبہ  
ندامت و خجالت وزہ بون کن پوان فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَلِّبُ بِهِذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ  
لَا يَعْلَمُونَ توہ تراویو مہ یار رسول اللہ سبہ تمن لوکن یم یٹھ کلامس یعنی قرآن مجید س اپز گنزر ان چھ  
موجودہ حالس پٹھ توہ مہ بانبر یو یمن کونہ چھو جلد عذاب کرنہ یوان اس چھک تم و اتاوان پاوہ پاوہ بتدرج  
جہنمس کن تمہ طریقہ کہ ثینہ نے تہ تم کہ تھہ بلایہ کن چھہ و اتان وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ  
سر دست چھوس بو تمن مہلت دوان بے شک میون تدبیر چھو سیٹھا مضبوط تہ محکم أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا  
فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ کوتاہہ تجب چھو یمن ہندس انکار نبوتس پٹھ کیا توہ چھوہ تمن نشہ تبلیغ و  
دعوت کرنس پٹھ کنہ مزور تہ عوض مگان پس کیا چھہ تم تمکسی بارس تل لگمت تہودہ جھہ ہکان دتھت

رَبِّكَ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿۳۸﴾  
 لَوْلَا أَنْ تَدْرِكُهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ مَذْمُومٌ ﴿۳۹﴾  
 فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۴۰﴾ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ

أمر عندَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ كنه تمن نشہ چھو غیب علم سو محفوظ تھا ونہ خیطرہ چھ تم سو لکھان یعنی  
 یمن چھا خدایہ سندا احکام بیہ کونہ ذریعہ واتان تا ایسہ یمن کیا چھنہ ضرورت تو ہندہ متابعت و پیروی  
 ہنزیہ کتھ چھ ظاہر کہ یمودو یو کتھواندرہ چھنہ تمن نشہ کانہ کتھ ونے یم توندس نبوتس انکار کران  
 چھ کتھ بناءس پٹھ یلہ توہہ معلوم سپد یارسول اللہ کہ یم چھنہ کفرہ سبہ بہ مستحق عذاب وین بیسہ تمن  
 مہلتھ یوان چھ دنہ سہ چھ امی موکھ یوتھ ناوتہنز برنہ آیہ مقرر و قس سپدن تم ضرور گرفتار عذاب فاصیڈ  
 لِحُكُورَبِّكَ پس کریو توہ پنہ نس پروردگارس سندس اتھ تجویزس پٹھ صبر وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ  
 الْحُوتِ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ دل تنگ سپدنس اندر مہ سپد یو توہ گاڑہ ہنزیہ ہنڈ اندر اثرہ ونس بیغیرس  
 یونس علیہ السلام ہی تم سپد دشمن پٹھ عذاب نازل نہ سپدنہ موکھ دل تنگ سو وقت تہ پاد یو ژتس یلہ  
 یونس علیہ السلام پنہ نس پروردگارس مونگ دعائتھ حالس منز کہ تم آس وارہین غمن اندر بو نڈ مت  
 سو گولا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظلمین لَوْلَا أَنْ تَدْرِكُهُ نِعْمَةٌ مِّنْ رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ  
 وَهُوَ مَذْمُومٌ ہر گہ نے احسان خدانوی تمن دستگیری کرہ ہانتہ یمن تراونہ ستھ حالس اندر ستھ  
 حالس اندر گاڑہ ہندہ شحمہ اندرہ کڈت میدانس اندر تراونہ آئیے پیچھ طریقس اندر مگر اللہ تعالیٰ ان  
 کر کہ تو بہ قبول سوی گیہ دستگیری کرن تو بہ قبول کرت ان لکھ نہ رو بہ اجتہادی غلطی ہونڈنہ آس  
 نہایت بد حالی فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ بلکہ کر تم ہینن پروردگارن برگزیدہ تمن حُرَن  
 زیادہ مرتبہ عطا تم کرن صالحو اندرہ۔ امہ اندر چھ غرض پنہ نہ اجتہادہ موجب عمل کرن کوتاہ مضر  
 سپد ثابت تہندہ حقہ اتھ پٹھ مہز کریو توہ جلدی کافرن عذاب نازل سپدنس اندر بلکہ کریو توہ صبر تہ  
 توکل تمیوک پھل تہ نتیجہ نیرہ سٹھاہ روت وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِأَبْصَارِهِمْ لَمَنَاسِبُ عَوَالِدِ الْكَافِرِ  
 وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ یم کافر یلہ یہ قرآن مجید تہونڈہ زبان مبارکہ بوزان چھ سخت عداوتہ کہ سبہ

كَفَرُوا وَالَّذِينَ نَكَحُوا أَبْصَارَهُمْ كَمَا سَبَّحُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ  
لَمَجْنُونٌ ﴿۵۱﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۵۲﴾

بہ چھ توہ کن تھہ پاٹھ و چھان زن اچھوسیت کھیت ژھہن تہنزہ اچھ لگنہ سیت ماڈلن تہ نیرت گڑھن  
تہوند پائے مبارک توہ ایو پتھر لاینہ چھ شدت عداوتہ موکھے تم توہ و تان نعوذ باللہ موت تہ دیوانہ  
وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ حالانکہ یہ قرآن مجید ئیس توہ تمہن پران چھوہ یہ چھوساری جہانہ خیطرہ ہنڈ  
نصیحت تہ وعظ



## سُورَةُ الْحَاقَّةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 الْحَاقَّةُ ۱ مَا الْحَاقَّةُ ۲ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ ۳  
 كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ ۴ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا  
 بِالطَّاغِيَةِ ۵ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ ۶  
 سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمِينَةَ أَيَّامٍ لِحُسُومًا  
 فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ۷

الْحَاقَّةُ \* مَا الْحَاقَّةُ سو قیامتک وقت کیاہ چھو قیامتک وقت وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ توہ کیاہ چھ  
 خبر سو قیامتک وقت کوتاہ مشکل نہ ہولناک چھو كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَعَادٌ بِالْقَارِعَةِ قوم ثمودن نہ قوم  
 عادن زون اپز سو ژبون دوہ ئیس دوہ آسانس نہ ز مینس زونہ نہ آفتابس گھن نہ بالن ژبٹھ تراوہ بیہ کمن  
 کمن سخت چیزن ریزہ ریزہ نہ سور کرہ تھہ دوہس انکار کرنہ موکھ چھیہ خبر کیاہ گذر یوہ یمن دو شوئن  
 قومن فَأَمَّا ثَمُودُ فَأَهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ پس آو قوم ثمود گالانہ جبریل آینہ سزہ کونی کریکہ سیت  
 تہزہ اہ جایہ الراونہ آییہ دت ولس پیہ۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأَهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ قوم عاد لیس اوس سو  
 آو گالانہ سخت نہ تیز واوہ سیت لیس بے قابو سپد مت اوس سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمِينَةَ أَيَّامٍ  
 حُسُومًا ئیس واو مسلط کرنہ آو تمن پیٹھ برابر ستن راتن نہ آٹھن دوہن پے در پے فَتَرَى الْقَوْمَ  
 فِيهَا صَرْعَى كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ ای مخاطب ہر گہ ژہ تمہ وقتہ تھہ جایہ موجود آسکھ ژہ و چھمن  
 سو قوم ز مینس پیٹھ و لیس پیومت زن تم کھو کھرن خضر کولین ہند بونیم حصہ آس قد بلند موکھ آکھ خضر

فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّنْ بَاقِيَةٍ ۝۸ وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ  
 وَالْمُؤْتَفِكُ بِالْخَاطِئَةِ ۝۹ فَعَصَا رَسُولَ رَبِّهِمْ  
 فَأَخَذَهُم مَّا أَخَذَتْ رَابِيَةَ ۝۱۰ إِنَّا لَمَّا طَغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ  
 فِي الْجَارِيَةِ ۝۱۱ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيهَا أَدْنُ ۝۱۲ وَأَعْيَا ۝۱۳  
 فَادْنِفْخِرْ فِي الصُّورِ نَفْخَةً ۝۱۴ وَاحِدَةً ۝۱۵ وَحِصَلِ الْأَرْضِ

کولین سیت تشبیہ و نہ فہل تری لہم من باقیۃ پس چھویہ ژہ اے مخاطب تمہو اندرہ کانہ درینٹھ  
 یوان۔ یعنی تمہو اندرہ رودنہ اکھ تہ باقی تم ای مولہ مونجہ صفحہ ہستی نشہ نیست و نا بود کرنہ تہو ندی بول تان  
 آوگالہ و جاء فرعون و من قبلہ و المؤتفک بالخطیئۃ اتھے پاٹھ آو فرعون بیہ یم لوک تس  
 بروٹھ آس قوم نوح بیہ قوم لوط یمن ہزنن جاین تہ بستین تلوک پٹھ آو کرنہ بڈبڈ قصور تہ جرم ہست یعنی  
 کفر تہ شرک تمہ خیطرہ سوز آسہ تمہن کن ہینن پیغبر۔ فعصوا رسول ربہم فآخذہم آخذۃ  
 رابیۃ مگر تمہو کر تس پتہ نس خدایہ سندس پیغمبرہ سزنا فرمانی کفر و شرک نشہ روزنہ ہتھ بیہ کرکھ قیاس  
 تہ انکار پس رٹ تم اللہ تعالیٰ ان سٹھہ سختی سان۔ تمہو اندرہ قوم عاد و ثمود تہو ند قصہ کو بیان کرنہ و من چھو  
 یوان بیان کرنہ قوم نوحس متعلق انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاریۃ یلہ نوح علیہ السلامہ سندہ وقتہ  
 آس یو پ کھوت عالم سہد ت غرق تہند یو کو ہو پٹھ کن گو آب ژ تجرہ ژ تمہ ساتھ کھاروہ اسہ توہ ناوہ اندر  
 یعنی تمہ و ٹنگ تہو ند آباء و اجداد یم با ایمان آس کیازہ تمہن نجات ہنون سپد باعث توہندہ وجودک  
 تمہن نے نجات بنہ ہاتہو ند وجودی آسہانہ کونہ باقی نا فرمان تہ کافر پھاٹو اسہ ساری لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ  
 تَذْكِرَةً وَتَعِيهَا أَدْنُ وَأَعْيَا تاکہ اس ہتھ کرون یہ معاملہ توہندہ خیطرہ اکھ یادگار راہ تہ عبرتک سہہ بہ  
 بیہ یو تھ ژ تس تہاوہ و نن یہ واقعہ پور ژ تس تہاون یعنی یو تھ لوک یہ تھہ ژ تس تہاد تھہ تمونافرمانیو نشہ  
 پٹھ روزن یموسیت یڑھن بلاین گرفتار چھہ سپدان یہ گو او تان قیامتہ کین منکرن ہوند حال امہ پتہ چھو  
 بیان یوان کرنہ قیامتک ہولناک حالات فَادْنِفْخِرْ فِي الصُّورِ نَفْخَةً وَاحِدَةً تمہ پتہ یلہ پو غس منزایہ

وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَادَكَّةً ۙ وَاحِدَةً ۙ ﴿۱۳﴾ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۙ ﴿۱۵﴾  
 وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۙ ﴿۱۴﴾ وَالْمَلِكُ عَلَىٰ أَجْزَائِهَا  
 وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَةٌ ۙ ﴿۱۲﴾ يَوْمَئِذٍ  
 تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ ۙ ﴿۱۸﴾ فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ  
 كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَذَا مَا قَرَأْتُ ۙ وَانْتَبِهتُ ۙ ﴿۱۹﴾ إِنِّي  
 ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْكٌ حَسَابِيَةٌ ۙ ﴿۲۰﴾ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ۙ ﴿۲۱﴾

مکوی بھوک دنہ (یعنی گوڈنیوک بھوک) وَحَمَلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَادَكَّةً وَاحِدَةً بیہ بین  
 زمین سے کوہ تمہ وقتہ تھوڈٹلنہ پنہ نہ جاہی نشہ ڈالنے پس آیہ دو شون ریزہ ریزہ کرنہ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ  
 تھی دوہ کیا سپدہ واقع سو چیز نیس سپدہ دن آسہ یعنی قیامت وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ بیہ  
 پھٹہ تمہ دوہ آسمان سو آسہ تمہ دوہ ہپومت لیوزتہ کمزور سپدمت تھی سپدن کھنہ تہ پھرائہ وَالْمَلِكُ  
 عَلَىٰ أَجْزَائِهَا تمہ وقتہ روزن ملائک آسمانہ کین کنارن پٹھ آسمان پھٹہ منز باگ کنارہ روزنس موجودیم  
 واقعات سپدن گوڈنک بھوکہ سیت امہ پتہ یمن واقعات ہنز ذکر چھہ تم سپدن دویمہ بھوکہ سیت  
 وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَةٌ بیہ ٹلن توہندس پروردگارہ سُنْد عرش پانس پٹھ تمہ دوہ  
 آٹھ ملک قیامتک دوہ ٹلن تھہ عرش آٹھ ملک تھے واتاون عرش مجیدس محشرکس میدانس اندر۔ توپتہ  
 سپدہ حساب شروع۔ تمیوک بیان چھوامہ پتہ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ  
 تمہ دوہ آیو تہہ ساری پیش کرنہ خدا نیس بروٹھ کن توہنز کانہہ کتھاہ روزنہ اللہ تعالیٰ اس نشہ کھٹت توپتہ  
 ین نامہ اعمال وژان وژان دنہ لوکن ہندن اتھن اندر فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ ۙ  
 تمس نامہ اعمال پنون دنہ ایہ دتھنس اتھس کیتھہ سُوپہ خوش گوشہت پانس آندء پگ لوکن۔ هَذَا مَا قَرَأْتُ  
 اَقْرَأْتُ وَانْتَبِهتُ ۙ ہالو کو لیو پر یومیون نامہ اعمال إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلْكٌ حَسَابِيَةٌ مہ اوس گوڈہ پٹھے  
 اعتقاد تہ پڑھ کہ مہ چھو ضرور پیش آنہ وول پنون حساب۔ یعنی بو اوس اعتقاد تہ پڑھ تھاوان قیامت تہ



فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۙ قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ﴿۲۳﴾ كُلُوا وَاشْرَبُوا  
هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ ﴿۲۴﴾ وَأَمَّا مَنْ  
أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ ۗ فَيَقُولُ لِيَلَيْتَنِي لَمْ أُوتِ كِتَابِي ۚ  
وَلَمْ آدِرْ مَا حِسَابِي ۚ لِيَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۚ مَا  
أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِي ۚ هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةٌ ﴿۲۵﴾ خذوه  
فَعْلُوهُ ۗ ﴿۲۶﴾ ثُمَّ الْحَجِيمَ صَلُّوهُ ۗ ﴿۲۷﴾ ثُمَّ فِي سُلَيْلَةٍ ذُرْعَهَا

حسابک تمہ کی برکت کرمہ اللہ تعالیٰ ان بڑ مہربانی فہو فی عیشۃ راضیۃ بس وائتہ سورتس عیش  
اندر فی جنتہ عالیۃ یعنی تھدس جنس اندر قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ ہمیک میوہ تیت نکھ آسن کہ پرت  
حالس اندرین تم استعمال کرنہ۔ متھ پاٹھ تمن خوش کرہ تھہ پاٹھ ونہ نہ آیتھہ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا  
بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ کھیوتہ چیومزہ کرت یہ چھوہ تمن عملن ہوند بدلہ یمہ توبہ بڑہ ثوابہ چہ  
امید سیت کران آسیو بروٹھمن دوہن اندر یعنی یم دوہ توبہ دنیا س اندر گذاروہہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ  
بِشِمَالِهِ وین نئس نامہ اعمال پنون ٹھو ہرس انھس منز دنہ آیہ فَيَقُولُ لِيَلَيْتَنِي لَمْ أُوتِ كِتَابِي سوونہ  
نہایت حسرت و افسوسہ کن کہ کیاہرت گڑھہ ہا میانہ حقہ کہ ہر گاہہ نامہ اعمالی دنہ آہیانہ و لَمْ  
آدِرْ مَا حِسَابِي مہ سپدانہ معلومے میون حساب کیاہ آسہ لِيَلَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ کیاہرت گڑھہ  
ہا اگر گوڈ نکوی مرن ختم کرہ ہا معاملس تمہ مر نہ پتہ آسہانہ بیہ پیدہ سپدن نہ بہن نامہ اعمالے تقسیم کرنہ  
نہ آیہ ہا حسابے ہنہ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِي افسوس کانہ نفع دیوت نہ مہ مالن بہنن هَلْكَ عَنِّي سُلْطَانِيَةٌ  
میون حشمت تہ عزت تہ گور ہا ذاتھس شخصہ سندہ خیطرہ سپدہ لحم ملائکن خُذُوهُ فَعْلُوهُ ۗ ثُمَّ  
الْحَجِيمَ صَلُّوهُ ریون یہ شخص توپتہ تراویوس نال غل توپتہ و اتناویون نار جہنم اندر ثُمَّ فِي سُلَيْلَةٍ  
سُلَيْلَةٍ ذُرْعَهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ توپتہ و ریون تھہ ہانکھہ تھہ بیابانش چھ ستت گز۔ امہ

سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ۗ إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ  
 بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ۗ وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ ۗ  
 فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا حَبِيمٌ ۗ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ  
 غَسِيلِينَ ۗ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ ۗ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا  
 تُبْصِرُونَ ۗ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۗ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ


عذابک وجہ کیا چھو، اِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ یہ شخص گونا سوی تمس نہ پڑھ آس عظمتہ  
 والہس بڈس خدا یہ سنز وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمُسْكِينِ بیہ اوس نہ یہ غریب نہ مسکین لوکن  
 کھیاونک ترغیب دو ان نہ اوس پانہ فقیرن مسکین کھیاوان چاوان غرض امس شخصس آس نہ دلس اندرنہ  
 خالقہ سنز عظمت نہ آس مخلوقن ہنز شفقت نہ اوس یہ حقوق اللہ ادا کران۔ یہ حقوق العباد بجانان  
 یہ چھو تمن دوشون حقن ہوندا تارک نہ منکر تمی سبہ بہ چھو یہ مستحق عذاب فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هُنَا  
 حَبِيمٌ ۗ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غَسِيلِينَ ۗ لَا يَأْكُلُهُ إِلَّا الْخَاطِئُونَ لہذا چھونہ از تہندہ خیطرہ نہ کانہ  
 دوستانہ نہ ہم خوارہ۔ نہ چھو تہندہ خیطرہ کھنوک کانہ چیزاہ نصیب غسلینہ ورا ی یعنی جہنمین ہندن ز خمن  
 ہیوند بیل تہ پاک۔ یس نہ بڈین گنہ گارن ورا ی کانہ نہ کھیہ امہ پتہ چھو بیان یوان کرنہ تمہ قرآن مجید ج  
 حقانیت تہہ منز یمن مجر من ہندہ امہ سزاء ج ذکر چھہ۔ یس اتھ قرآن مجیدس انکار کرہ سو تہ سپدہ امی  
 قسمہ کس عذابس گرفتار۔ فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۗ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ ۗ یس چھس بوتسم ہاوان تمن  
 چیزن ہوندم تہوہ وچھان چھوک یا تہہ قسمس چھہ اکھ مناستہاہ اصل مقصدس سیت کیا زہ قرآن  
 مجید یس اتان اوس سواوس نہ کانہہ درینٹھ یوان۔ یمن نشہ واتان اوس تمن آس ساری وچھان یعنی نہ  
 چھو سارنی مخلوقن ہیوند قسم کہ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ بے شک یہ قرآن مجید چھو خدا لیہ سند  
 کلام یس معزز ملکہ سندہ ذریعہ واتانہ چھو یوان لہذا یس صاحبس نشہ سو واتان چھو تم چھہ بے شک  
 پیغمبر برحق وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ یہ چھونہ کانہہ شاعرہ سند کلام تہہ پاٹھی تہ اندرہ بعضے کافر چھہ

کَرِيمٌ ۳۱ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ ۳۱  
 وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَدَّكُرُونَ ۳۲ تَنْزِيلٌ مِّنْ  
 رَبِّ الْعَالَمِينَ ۳۳ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ ۳۳  
 لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ۳۴ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ ۳۵ فَمَا  
 مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ ۳۶ وَإِنَّ لَتَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ۳۸

ونان اس جلیل القدر پیغمبر نعوذ باللہ شاعر قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ مگر توہ منزچہ کے پڑھ کران  
 یعنی پڑھی چھونہ کران کانہہ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ بیہ چھونہ کانہہ سند کلام ہتھ پاٹھ بعض کافر  
 آس تمن کاہن ونان قَلِيلًا مَّا تَدَّكُرُونَ مگر کم چھوہ توہ نصحت رمان حقیقت چھ پیہ کہ نہ چھویہ  
 قرآن مجید شاعرہ سند شعر نہ چھ کاہن سز کہانت بلکہ چھویہ تَنْزِيلٌ مِّنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ کلامہ  
 نازل کرنہ آمت حضرت رب العالمین سندہ طرفہ۔ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِيلِ تو پتہ ہرگہ  
 بالفرض یہ پیغمبر اسے گن لاگماکنہ اُپڑہ تھ یعنی کس کلام اسہ فر مومت آسہانہ تھہ دپہ ہاسون کلام یعنی اپڑ  
 دعوی نبوت کرہ ہیاخدا یہ سندس کلامس سیت ملناد ہاپون کلام تلہ کتہ چھڑہ ہون سوایس۔ لَأَخَذْنَا  
 مِنْهُ بِالْيَمِينِ \* ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ بلکہ کرہ ہواس تہندس دہھس اتھس تھپ تو پتہ ژ ٹہو اس  
 تہندہ دلچ رگ یعنی تم تھاوہ ہوک نہ اس زندے فَمَا مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ پس آسہانہ توہ  
 اندرہ کانہ اکھا تمن امہ سزانشہ پتہ رٹہ ون تہ بچاوہ ون۔ چونکہ یو تھہ معاملہ چھونہ آمتوی در پیش لہذا  
 چھو امی سیت ثابت کہ یم چھو رسول بر حق یہ قرآن مجید چھو بے شک کلام حضرت حق جل جلالہ  
 وَإِنَّ لَتَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ بے شک یہ قرآن مجید چھو متقین تہ ہیزگارن ہندہ خیطہ ہڈ نصحت بوڈ  
 وعظ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِينَ بیہ تھہ اسہ خبری کہ توہ اندرہ چھہ بعضہ اتھہ قرآن مجیدس اپڑ  
 گزران امہ کس کلام خدا آسس انکار کران تمن دمواس پانے سزا وَإِنَّ لَحَسْرَةً عَلَى الْكَافِرِينَ اتھہ کن  
 نظر کرت چھویہ قرآن مجید کافرن ہندہ حقہ موجب حسرت کیاہہ تمن سپدہ انکار کرن عذابک سبب

وَاِنَّا لَنَعْلَمُ اَنَّ مِنْكُمْ مُّكَذِّبِيْنَ ﴿۳۹﴾ وَاِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلٰى الْكٰفِرِيْنَ ﴿۵۰﴾  
 وَاِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ ﴿۵۱﴾ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ﴿۵۲﴾

وَاِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِيْنِ بيه چھو بے شک يہ قرآن مجيد حق تہ پوز يقينی اکھ تھ  
 فسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ  
 پس بسند يہ کلام پاک چھو تس عظيم الشان پروردگارہ سندہ نام پاکہ سیت آسیو توہ پاکي یاد کران۔ يہ يہ  
 آيہ کریمہ نازل سپد فرمود حضرت رسول کریمین اجعلوہا فی رکوعکم يہ تسبیح آسیو پران پنہ  
 نین رکوعن اندر۔



## سُورَةُ الْمَعَارِجِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۱ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ  
 لَهُ دَافِعٌ ۲ مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ ۳ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَ  
 الرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُ أَلْفِ سَنَةٍ ۴

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ \* لِلْكَافِرِينَ اک ساکن پروتھ عناد انکارہ کن تھ عذابس متعلق نُس کافر ن پٹھ ضرور واقع سپدہ ون چھو۔ سو شخص سوال کرہ ون اوس کافر و اندرہ نصر بن الحارث سوی لگ دپنہ گستاخانہ اللہم ان کان ہذا ہوا الحق من عندک الخ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ یتھ عذابس نہ کانہ اکھاہ پتھ ہیجہ رتھ مِّنَ اللَّهِ ذِي الْمَعَارِجِ سوی عذاب چھو واقع سپدہ ون تس پروردگار سند طرف نُس آسمان ہوند مالک چھویم آسمان اکھ اس پٹھ چھہ درجہ بدرجہ ہیر پاون ہند پاتھ تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَ الرُّوحُ إِلَيْهِ یمو ہیر و کن ملائکہ تہ بالیمان ہند روح چھہ تس نشہ کھسان تس نشہ کھسہ نہ اندرہ چھو مراد تم چھہ عالم بالاس اندر تھ مقاس واتان نُس تہندہ عرو جک نہایت مقرر کرنہ آمت چونکہ امہ تہند کھسہ نچ و تھ چھہ آسمان امی او تمن وننہ معارج۔ معارج چھو جمع معراج معراج چھہ ونان ہیرہ۔ سوی عذاب سمیوک کافر پر ژھان چھہ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُ أَلْفِ سَنَةٍ سو عذاب سپد واقع تھہ دوہس اندر سمیوک مقدار تہ مدت آسہ دنیاک پنزہ ساس ورہ۔ سو دودہ گو قیامتگ دودہ بیس آیہ کر تمس اندر چھو اللہ تعالیٰ فرماوان كَانَ مِقْدَارُ أَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ یعنی قیامتہ کہ دوہوک مقدار آسہ اکھ ساس وری تموور یواندرہ یم توہ گنزران تہ شمار کران چھوہ۔ یہ تفاوت آسہ کافر ن ہندیو احوالو موجب کانہ سپدہ محسوس سو دودہ زیوٹھ اکس ساسس ورہس برابر کانہ آیہ بوزنہ سو دودہ سختی تہ بے چینی موکھ پنزہ ساس وری مگر بالیمان سپدہ سو دودہ محسوس اکس فرض نمازہ برابرتی فر مووحدیث

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا ۵ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۶ وَنَرَاهُ  
 قَرِيبًا ۷ يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْلِ ۸ وَتَكُونُ الْجِبَالُ  
 كَالْعِهْنِ ۹ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا ۱۰ يُبْصَرُونَ يَوْمَهُ  
 الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ ۱۱ وَ  
 صَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ ۱۲ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤَيِّسُ لَهُ ۱۳ وَمَنْ فِي  
 الْأَرْضِ جَمِيعًا لَا تُمْلِكُ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ آلُكُمْ ۱۴ كَلَّا إِنَّهَا لَأَنْظِلُ ۱۵ نَزْرًا عَاقِبَةً

شریف اندر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وون بلکہ کافران عذاب ضرور واقع سپدہ فاصبر صبراً جمیلاً پس کریو توہ یارسول اللہ کافران ہندس مخالفتم کونس پٹھ پور صبر تتھوی صبریتھ سیت نہ کونہ کج شکایت آسہ یعنی ہندس کفرس تہ مخالفت کونس پٹھ گڑھنہ تہوند دل تنگ سبت شکایت کرن بلکہ گڑھ تہوندیہ تھ زانت پور صبر و تحمل کرن کہ تمن آیہ ضرور اتھ کفر و مخالفتم پٹھ سزادہ قیامتک دودہ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا \* وَنَرَاهُ قَرِيبًا تم چھ تھ دوس و چھان تمیوک اعتقاد تہ پڑھ نہ آسنہ موکھ دور تہ بعید اس چھن و چھان سہ قیامت نزدیک کیاہ اسہ چھو معلوم سہ سپدہ ضرور واقع۔ یَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْلِ \* وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ سو عذاب سپدہ واقع تمن کافران پٹھ تمہ دودہ ییہ دودہ آسانک رنگ آسہ ہلم ہیو کر ہون بیہ آسن کواہ دودنہ نہ آمت رجعت پھم ہی وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا تمہ دودہ آسنہ کانہ دوست کانہ دوستس پڑھان تہ يُبْصَرُونَ وَهُمْ اکل اکس آسن بوزنہ یوان مگر کانہ آسنہ کانہ ہنز ہمدردی پرت اکس آسنہ پنہ نی پنہ نی پریشانی یَوْمَ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابٍ يَوْمَئِذٍ بِبَنِيهِ تمہ دودہ کرہ مجرم یعنی کافر تمنناہر گاہ تمہ دودہ کہ عذابہ نشہ پنہنہ خیطرہ مہ پیہ ہاندیہ تہ بدلہ دیون بِبَنِيهِ \* وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ \* وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤَيِّسُ لَهُ \* وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَا تُمْلِكُ لَهُمْ يَوْمَئِذٍ آلُكُمْ پنن پنچو تہ گبر بیہ پنن آشین بیہ پنن بوی بیہ پنن سوروی قبیلہ کرون پس دنیا س اندر مصیبتہ کہ وقتہ تس پناہ دوران اوس بیہ تم ساری لوک ایم دنیا س اندر چھ سوی

لِلشَّوَى<sup>(۱۶)</sup> تَدْعُوْا مِنْ أَدْبُرٍ وَتَوَلَّى<sup>(۱۷)</sup> وَجَمَعَ فَأَوْعَى<sup>(۱۸)</sup> إِنَّ  
 الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا<sup>(۱۹)</sup> إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا<sup>(۲۰)</sup> وَإِذَا مَسَّهُ  
 الْخَيْرُ مَنُوعًا<sup>(۲۱)</sup> إِلَّا الْمُصَلِّينَ<sup>(۲۲)</sup> الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ  
 دَائِمُونَ<sup>(۲۳)</sup> وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ<sup>(۲۴)</sup> لِّلسَّائِلِ  
 وَالْمَحْرُومِ<sup>(۲۵)</sup> وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ<sup>(۲۶)</sup>

فدیہ بدلہ دیونے مہ نجات دیہ یعنی تمہ دودھ آسہ تمہ قسح نفسا نفسی کہ پرت اکھاہ آسہ پنہ نی فیر  
 کران۔ دنیا س اندر یہ ہندہ خیطرہ زودوان اوس تمہ دودھ کرہ تمنا کہ ہرکہ یکے میانہ بدل لکھ ہین بوگڑہس  
 موکہ لون۔ اللہ تعالیٰ فرماوان کلا تہ منہ نہ ہرگز یعنی کانہہ ہک نہ لگت کانہہ ہندہ بدلہ لائہا لظی \*  
 نَزَّاعَةً لِّلشَّوَى بے شک سو جہنم چھو شولہ ماران پتہ تراوان لیس تمنن بو تھیوک مسلہ تان  
 والہ تَدْعُوْا مِنْ أَدْبُرٍ وَتَوَلَّى سوی جہنم دیہ پانے نادلس شخصس یم دنیا س اندر پزس گن تھر پھر  
 مرث آسہ۔ خدایہ سزہ فرماں برداری نشہ بوتھ پھرمت آسہ وَجَمَعَ فَأَوْعَى بیہ آسین لوکن ہند حق  
 کھے کھے مال جمع کرمت سوی آسین صندوقن تہ ششترہ وین المارین اندر راجھہ کرتہ تھاومت إِنَّ  
 الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا بے شک انسان چھو پیدہ کرنہ آمت بے صبر تہ کم ہمت إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ  
 جَزُوعًا یلہ تس سختیاہ تہ مصیبتہ واتان چھو تمہ ساتہ چھو ژہٹہ تہ جزع و فزع کران وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ  
 مَنُوعًا توپتہ یلہ تس کانہہ خیراہ واتان چھو تمہ ساتہ چھو خیر چوکا میونشہ پتہ روزان إِلَّا الْمُصَلِّينَ \*  
 الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ مگر چھہ یموعد ابو نشہ مستثنی تم با ایمان لوکھ، یم پنہ نین نماز ن پیٹھ  
 برابر توجہ تہ ڈاڈ کرہ وئن چھہ بیہ ہندہ نمازہ اندر بیہ کونہ چیزس کن توجہ کران وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ  
 حَقٌّ مَّعْلُومٌ \* لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ بیہ تم با ایمان یہندس مال وودولتس اندر مقرر حق چھو مگھ  
 ونین ہندہ خیطرہ تہ نہ مگھ ونین ہندہ خیطرہ تہ یعنی زکوٰۃ علاوہ تہ چھہ تم پنون مال خرچ کران رثن رثن  
 وتن اندر وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ بیہ یم لوک قیامتہ کس دوہس تصدیق تہ پڑھ چھہ کران

وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابٍ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿۲۷﴾ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ ﴿۲۸﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْمَارِهِمْ حَفِظُونَ ﴿۲۹﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿۳۰﴾ فَمَنْ ابْتغى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ ﴿۳۱﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ ﴿۳۲﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ قَائِمُونَ ﴿۳۳﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ

وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابٍ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ یہ ہم پنہ نس پروردگارہ سندس عذابس کھوژوئن پھہ  
 إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونٍ بے شک تہندس پروردگارہ سندس عذاب چھو خطرہ ناک چیزاہ یمہ نشہ  
 نہ بے خوف روزن شوہہ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْمَارِهِمْ حَفِظُونَ یہ یم لوک پنہ نین سترہ چن جاین  
 حرامہ نشہ راجھہ کران چھہ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ مگر  
 پھہنہ راجھہ کران سترہ چن جاین پنہ نین منکوہہ زنانن نشہ یہہ تمن زنانن نشہ یمن تم مسلک یمین  
 مالک آسن یعنی شرعی کیزن نشہ کیاہہ تمن چھونہ تمہہ خیطرہ کانہ بازخواست فَمَنْ ابْتغى وَرَاءَ ذَلِكَ  
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعُدُونَ دین ایس شخصاہہ بن شہوت پورہ کرنہ خیطرہ ہیمودو پو حلال صور توورای یہہ کانہہ  
 حرام صور تاہہ ژھانڈہ نہ اختیار کرہ پنہ تقسیم خواہش پورہ کرنہ خیطرہ پس کیا گئے تھے لوک حد شرعی  
 نشہ ڈلہ وئن وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ یہ یم لوک پنہ نین امائن یم تمن سپرد  
 کرنہ آسن آمت یہہ پنہ نین عہدن راجھہ کرہ ون نہ خیال تھاوہ وئن آسن وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَتِهِمْ  
 قَائِمُونَ یہہ یم پنہ نین گواہین پٹھہ ثابت نہ مضبوط روزہ دین آسن تمن منز آسن نہ کمی یا زیادہ تی  
 کران یا کانہہ ہوندر عایت کر تھہ کانہ کتھاہ کٹھان وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ یہہ  
 یم پنہ نین فرض نمازن پٹھہ پابندی کران چھہ أُولَٰئِكَ فِي جَذْبٍ مُّكْرَمُونَ سئے لوکن کیا ایہہ جنتن  
 اندر تعظیم و تکریم کرنہ تم چیز یم سعادت و شکایت و شقاوتنگ موجب چھہ تم یلہ بوضاحت بیان




يُحَافِظُونَ ﴿۳۳﴾ أُولَئِكَ فِي جَنَّةٍ مُّكْرَمُونَ ﴿۳۵﴾ فَمَالِ الَّذِينَ  
 كَفَرُوا بِكَ مُهْطِعِينَ ﴿۳۶﴾ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ  
 عِزِينَ ﴿۳۷﴾ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ  
 نَعِيمٍ ﴿۳۸﴾ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ ﴿۳۹﴾ فَلَا أُقْسِمُ  
 بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴿۴۰﴾ عَلَىٰ أَنْ نُبَدِّلَ

کرنہ آئے فَمَالِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِكَ مُهْطِعِينَ پس کیاہ سناگو کافرن کہ تم چھ توہ بروٹھ کن  
 استہزاتہ ٹھٹھ پاٹ دورہ دورہ اورہ یور کران عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ دُجھن تہ کھو فرچھ  
 انکار و تکذیب کرنہ خیطرہ ڈھپرہ کران أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ کیا تھ  
 استہز او انکار کرنس پٹھ چھا تمن شاکھ کہ اسہ اندرہ پرت اکھاہ کیا ایہ واتا و نہ نعمن ہندس جنس اندر  
 کَلَّا تہ ہنہ نہ ہرگز کونہ صورتس اندر کیا زہ تموچھ کرہ مرزہ تمہ کامہ یمہ سزاوار ناچھ۔ تہ آتھ تھ  
 پاٹھ واتن تم جنس۔ جنس واتن تمے لوک یمو تمہ کامہ کر مرزہ آسن یمہ سزاوار جنت چھ وین گو تھوند  
 انکار معاد یعنی مرنہ پتہ بیہ دوبارہ پیدہ سپد نس انکار کرن۔ تہ چھ تم کران بے وقونی سبہ تم چھنہ زنان  
 تم تھ چیزس آی پیدہ کرنہ گوڈہ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِّمَّا يَعْلَمُونَ بے شک اسہ کر تم پیدہ تھ چیزس تیج  
 تمن خبری چھ سو گو آب نطفہ مگر تامل تہ غور چھنہ کران کہ تھ آب نطفس انسان آو پیدہ کرنہ تھ  
 آسنہ حیات تہ زندگی کٹھ پچھو تھ یلہ اللہ تعالیٰ ان انسان پیدہ کور وون یموسہ ہیترہ یادودر سمسرہ اڈجہ  
 یمن کینہ کالہہ حیاتک تہ زندگی ہیوند تعلق رودمت چو تھ کیا زہ ہنہ اللہ تعالیٰ بیہ دوبارہ زندہ کرت۔  
 یہ تھوندنا ممکن تہ محال زانن گیہ تھنزے بے وقونی۔ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ  
 إِنَّا لَقَادِرُونَ تو پتہ پھس بو قسم ہاوان مشرقن تہ مغربن ہندس پروردگارہ سُنْد یعنی بو پھس پتہ ذات  
 پاکگ قسم ہاوان کہ اسہ چھ ضرور قدرت عَلٰی أَنْ نُبَدِّلَ خَيْرًا مِنْهُمْ تھ تھ پٹھ کہ تھنزہ جاییہ تہ  
 تمن بدل انوکھ اس دنیا س اندر تم لوک یم تھندہ خوتہ بہتر آسن یعنی پیدہ کروکھ وَمَا نَحْنُ

خَيْرًا مِنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ ﴿۴۱﴾ فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا  
وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ ﴿۴۲﴾ يَوْمَ يُخْرِجُونَ  
مِنَ الْجِبَاتِ فِي سَرَعَا كَانَهُمْ إِلَىٰ نَصَبٍ يُوَفُّونَ ﴿۴۳﴾ خَاشِعَةً  
أَبْصَارُهُمْ تَرَاهُمْ ذَلَّةٌ ۗ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿۴۴﴾

بِمَسْبُوقِينَ اس جھنہ تمہ نشہ عاجز اسہ نشہ چھونو مخلوق پیدہ کرن آسان۔ توہ دوبارہ پیدہ کرن کیاہ  
مشکل چھوسانہ خیطرہ۔ وین ہر گاہ ہم لوگ امہ انکار و عنادہ نشہ بازین نہ فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا  
حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ تلہ تر وایو کہ توہ تم اتھہ پنہ نس شغل س بے ہودہ تھہ کرنس نہ  
گندنس سیت یوتال سمکھن تم تھہ دھوس سمیوک تمن وعدہ کرنہ یوان چھولینے قیامتس دوہس یوم  
يَخْرُجُونَ مِنَ الْجِبَاتِ فِي سَرَعَا كَانَهُمْ إِلَىٰ نَصَبٍ يُوَفُّونَ میہ دودہ نیرن تم قبر و اندرہ دوران  
دوران زن تم آسن کونہ نشانس کن بروٹھہ واتس اندرمان مان کران خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرَاهُمْ ذَلَّةٌ  
لوکن کن آسن اچھ تہزہ شرمندگی سببہ بون ولنہ آسکھہ آمر ذلت نہ خواری ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي  
كَانُوا يُوعَدُونَ یہوی کیاگو سو دودہ سمیوک تمن وعدہ اوس یوان تھاونہ۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ  
 يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۱ قَالَ يُقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۲  
 أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ وَأَطِيعُوا ۳ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ  
 ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۴ إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ  
 إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۵ قَالَ رَبِّ إِنِّي

اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَىٰ قَوْمِهِ بے شک اسے سوز نوح علیہ السلام پیغمبر بناوت پہ نس قومس کن اَن  
 اَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ اسے فرمودتس کہ نیم کریو پہ نس قومس کفر کہ  
 وبالہ نشہ تمن نشہ کڈر عذاب واتنہ برو نطی ، دنیاء س اندر گو سو عذاب طوفان آخرتس اندر  
 عذاب نیر ان قَالَ يُقَوْمِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ چنانچہ تمودوپ پہ نس قومس ای قوم بو چھس تہوندہ  
 خیطرہ نئن پاٹھہ نیم کرہ ون اَنْ اَعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ وَاطِيعُونَ بو چھوس توه ونان کہ عبادت کریو  
 توه خدایہ سنزی یا ژبیہ کھوژیوتس شریک مہ ٹھہراویوس کونہ قسمہ بیہ مہ کرو تہنز نا فرمانی بیہ مانیومیون  
 یَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرْكُمْ اِلَىٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى تمہ کہ برکتہ کرہ سو توه گنہن مغفرت بیہ  
 دیہ سو توه مہلت مقرر کرنہ آتس و قس تان آرامہ سان زندگی بسر کرنچ وقت مقررہ اندرہ چھو مراد  
 موتک وقت یعنی اجل اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ بے شک اللہ  
 تعالیٰ سند موتیہ خیطرہ مقرر کر مت وقت سو پتھہ آہ نہ کڈنہ کیاہ رت گڑہ ہاہرگہ توه ییمہ تھہ زانہ چگنہ۔  
 یلہ وار بیس مندس تان یمن لوکن کاہنہ اثرہ گو نہ قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا قُلْ  
 يَزِدْهُمْ دَعْوِي اِلَّا فِرَارًا نوح علیہ السلامن کردعای میانہ پروردگارہ مہ ڈژونادپس قومس دین

دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۱۰۸ فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا  
 فِرَارًا ۱۰۹ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ  
 فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا  
 اسْتِكْبَارًا ۱۱۰ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا ۱۱۱ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ  
 لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا ۱۱۲ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ  
 إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۱۱۳ يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ۱۱۴

حس کن راتس تہ دوہس مگر تمہیں ہر یوں نہ میانہ دعوت کرنے سے تزلزلہ نہ ڈالے اور ای یوت بوتمن بروٹھ آج  
 کوشش اوس کران تیوت آس تم پتہ تزلزلان وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي  
 آذَانِهِمْ وَاسْتَعْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصْرُوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا مہ یلہ یلہ تمہیں دین حس کن  
 ناددیوت یوتھہ تہ تمہیں ایمانہ کہ برکتہ مغفرت کہ گنہ گنہ تمہوہ پتہ اوگج کن منرتھاونہ یوتھہ نہ پڑہ  
 تھہ ہنز آواز تہ تھہ دین کنن وانہ بیہ دلکھ پھلن پلو کلہ پیٹھ یوتھہ پرتھہ ونہ دین پیٹھ تمہیں نظر تہ پیہ۔ بیہ  
 کر تمو کفر وانکار س پیٹھ ڈاڈ، بیہ کر تمو میانہ فرمان برداری نشہ سینٹھہ تکبر۔ باوجود آن رودس بوتمن  
 مختلف طریقو نصیحت کران ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جَهَارًا توپتہ تہ دیوت مہ تمہیں دین حس کن ناد آواز  
 بلند یعنی عام مجلس اندر ہر کھہ وعظ لیس وعظ بدہ بدہ آواز بلند چھو یوان پرنہ ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ  
 وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا توپتہ یوز نامہ تم خصوصی مجلس اندر ننن پاتھہ بیہ تور مہ تمہیں فکرہ پوشیدہ  
 پاتھہ تہ انفرادی صورتس اندر فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا اتھہ فکرہ تارنس اندرون مہ  
 تمہیں ونہ چھو موقع توہ معنیہ بخشایش پتہ نس پروردگار س ایمانہ انہ نہ سیت بے شک سو چھو سینٹھہ  
 مغفرت تہ بخشایش کرہ ون یُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ایمانہ کہ برکتہ کرہ سواخروی نعم ہندہ  
 علاوہ توہ دنیاوی نعم تہ عطا سوگو آسمانکہ طرفہ تراوہ سوبارش تہ رود۔ یہ سیت تھونڈ زراعت سر سبز و  
 شاداب سپدہ وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَأَبْنَاءٍ بِیہ دیہ سورتی توہ مالس تہ اولادن اندر وَيَجْعَلُ

وَيُمِدُّكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّتٍ  
وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا ۝۱۱ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا ۝۱۲  
وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا ۝۱۳ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ  
سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۝۱۴ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا  
وَجَعَلَ الشَّمْسُ سِرَاجًا ۝۱۵ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ نَبَاتًا ۝۱۶ ثُمَّ يُعِيدُكُمْ فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا ۝۱۷

لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلُ لَكُمْ أَنْهَارًا بے کرہ سوتہوندہ خیرہ باغ تیار بے پھروہ سوتہوند یوز مینو منز کولہ  
تہ جو بے امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان نوح علیہ السلامہ سند باقی کلام یعنی بو اوس تمن و نان مَا لَكُمْ  
لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا اے قوم توه کیاہ گوہ توه چھوہ نہ اللہ تعالیٰ سندس عظمس اقرار کر ان تہندہ  
عزت و عظمک اعتقاد تہواوان۔ ہر گبے توه تہندہ عظمک اعتقاد آسہ ہاتلہ ٹھہراو ہوس نہ شریک حالانکہ  
یم چیز اعتقاد عظمس منگان چھہ تم آس موجود وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا چنانچہ تم کر وہ پیدہ اکہ  
حالہ پتہ بیس حالس اندر۔ اکہ۔ حال اوسوہ نطفہ بیاکھ حال علقہ بیاکھ حال مضعہ وغیرہ وغیرہ یہ گیہ دلیل  
نفسی یعنی دلیل یوسہ تہندس ذاتس اندر چھہ۔ امہ پتہ چھہ فرماوان آفاقی دلیل یعنی سودلیل یسہ  
خارجس اندر موجود چھہ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ای لوکو توه چھوہ  
ناو چھان تھہ پاٹھہ کر اللہ تعالیٰ ان ستھ آسمان پیدہ اکہ اس پیٹھہ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ  
الشَّمْسُ سِرَاجًا بے تھہ پاٹھہ کر اللہ تعالیٰ ان زون یمن آسمان اندر اکہ نورانی چیزہ۔ بے کرن  
آفتاب اکہ روشن ژونگاہ وَاللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا بے کھاروہ توه اللہ تعالیٰ ان زمینہ  
منزہ اکہ خاص طریقہ۔ پتھہ پاٹ کہ آدم علیہ السلام کرن پیدہ مژہ نشہ توتہ باقی انسان تم کرن پیدہ  
نطفہ نشہ۔ نطفہ چھوہ بان غذا س غذا چھوہ نان عناصرن۔ تمن چھوہ غالب زمینک اجزاء ثُمَّ يُعِيدُكُمْ  
فِيهَا توتہ چھوہ واتاوان توه مر نہ پتہ اتھہ زمینس اندر وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا توتہ کڈہ توه ای

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا ۱۹ لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا  
فِجَا جًا ۲۰ قَالَ نُوحٌ رَبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاَتَّبَعُوا مَن لَّمْ  
يَزِدْهُ مَالَهُ وَّوَلَدًا اِلَّا خُسَارًا ۲۱ وَمَكْرُؤًا مِّكْرًا ۲۲ وَ  
قَالُوا لَا تَذَرُنَّ الْاِهْتِكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَاُولَا سُوَاعًا وَّ  
لَا يَعُوْثَ وَيَعُوْقَ وَاَنسُرًا ۲۳ وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا وَّلَا

زمینہ منزہ قیامتک دوہ اکہ خاص طریقہ۔ وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ بِسَاطًا \* لِّتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا  
فِجَا جًا بیہ کر اللہ تعالیٰ ان یہ زمین تہوندہ خیطرہ اکہ فرشہ تہ و تھریو تا یو تھ تہو پچو تہہ چو کشادہ تو  
منزہ۔ یہ سوروی کلام چھوئیس نوح علیہ السلامن اللہ تعالیٰ ہس بطور فریاد حکا یا پیش کر یعنی یہ یہ تھ  
ون ون تار پومہ فکر پنے نس قومس مگر تمن تور نہ کنہ تہ فکرہ قَالَ نُوحٌ رَبِّ اِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاَتَّبَعُوا  
مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالَهُ وَّوَلَدًا اِلَّا خُسَارًا ون نوح علیہ السلامن ای میانہ پر در دگارہ یمولو کو مون نہ  
میون کینہ تہ تمو کر پیروی تمن شخص ہنز یمن مال و اولاد کا نہہ چیز زیادہ کرنہ نقصانہ تہ تاوانہ ورا ی  
یعنی یمو کر ریشن تہ زٹھین ہنز پیروی یمن مال تہ اولاد آسن سبب سپد زیادہ طغیان و سرکشی ہونہ۔  
وَمَكْرُؤًا مِّكْرًا ۲۲ تہو تہند یوز ٹھبو کر کم کم بیڈ تدبیر پوز ختم کرنہ خیطرہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ الْاِهْتِكُمْ  
وَلَا تَذَرُنَّ وَاُولَا سُوَاعًا وَّوَلَدًا اِلَّا خُسَارًا وَاَنسُرًا تہودوپ پنے نین تابعا یو تھ نہ تہو ہنن  
معبود ترا یو لکھ خصوصاً تہ تراویون و دبیہ سواع بیہ یغوث بیہ یعوق بیہ نسریم آس مشہور پتل  
بعض روایاتن اندر چھو کہ گوڈ نکس زمانس اندر آس کینہ بزرگ تم بلہ بیہ عالمہ گے تہندہ انتقالہ پتہ آو  
شیطان تم کر پیش تمن لو کن نشہ تمن بزرگن ہند تصویر دوپ کھ یم تھایو تہو پانس نشہ بطور یادگار تہ  
پتہ کپنہ کالا گھت ہیہ لو کو تمن سٹلن تہ تصورین ہنز پرستش کرن تھتے پٹھ سہز شروع بت پرستی العیاز  
باللہ۔ وَقَدْ اَضَلُّوْا كَثِيْرًا یمو ریشن تہ زٹھبو ڈال واریالوک چونکہ ژہ فر مو تھ کہ یمو چانہ قومہ  
اندر ایمان اون تمو علاوہ انہ نہ وین کانہ تہ ایمان۔ لہذا جھسی منگان کہ وَلَا تَذَرُنَّ الْاِهْتِكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ  
یمن ظالمن ہر راوژہ بیہ ہن گرا ہی چنانچہ مَعَ اَخِيَّتِهِمْ اَعْرَفُوْا فَاذِلُّوْا نَارًا پنے نیوی گناہن ہندہ

تَزِدِ الظَّالِمِينَ الْإِضْلَاقَ ﴿۳۴﴾ مِمَّا خَطِيئَتِهِمْ أُغْرِقُوا فَأَدْخَلُوا  
 نَارًا ۗ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْصَارًا ﴿۳۵﴾ وَ  
 قَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا ﴿۳۶﴾  
 إِنَّكَ إِن تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا  
 كَفَّارًا ﴿۳۷﴾ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي  
 مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ  
 الْإِتْبَارًا ۙ ﴿۳۸﴾

سبہ بہ آئی تم پھاہ و نہ تمہ پتہ آئی داخل کرنے نارس اندر پس لوب نہ تمو خدا پس و رای کا نہ مد کرہ و ناہ و قَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا بے دوپ نوح علیہ السلام بیتہ کہ ای میانہ پروردگارہ یمو کافر و اندرہ مہ تھاون اتھ ز مینس پٹھ کا نہ مہ موجود۔ بلکہ کرو کہ ساری ہلاک تہ برباد فَاجِرًا كَفَّارًا کیا زہ ہر گہ ژہ تم ہلاک گھوہنہ نشہ چھڑہ ہک یم لوک کرن چانین بندن گمراہ بے زیوراون نہ یم پٹھن اولادہ ذریت مگر فاجر تہ کافر رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِمَنْ دَخَلَ بَيْتِي مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ میانہ پروردگارہ مغفرت کرتہ مہ بے مینس ماس ماجہ بے تممن یم ایمانہ کس حالس اندر مینس گھرس اندر ژامت چہ یعنی مینس اہل و عیالس کنعانس تہ تہمزہ آشنہ و رای بے ساری با ایمان مردن تہ با ایمان زنان یم قیاس تان پیدہ سپدن وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ الْإِتْبَارًا بے ہر او ظالمین بے ہن تباہی تہ بربادی تموان نہ ایمان (اے میانہ پروردگارہ کر مہ بندہ گنہ گارس تہ خطا کارس تہ پتہ نہ رحمت و فضلہ سیت سارنی بڈن گنھن تہ لوکٹن گنھن مغفرت دنیا و آخرتہ کہ عذابہ و رای و اتاومہ پنہ نس رحمتہ کس تہ رضاع کس گھرس اندر ژہ نش چھنہ کا نہ ہڈ کتھاہ مہ گنہ گارس ساری گنہ

خوشین انک غافر غفور غفار)

## سُورَةُ الْجِنِّ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا  
 يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَامْتَابِهِمْ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝  
 وَأَنَّهُ تَعَلَّى جَدْرًا مَّا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۝  
 أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا ۝  
 وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝

قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ توه فرمايو يار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مکہ کین لوکن کہ  
 مہ گن آدوحی سوزنہ کہ جنواندرراک جماعتن بوزمیون قرآن مجید پر صبح نماز اندر فقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا  
 قُرْآنًا عَجَبًا تو پتہ یلہ تم جن پنہ نس قومس کن واپس گئیہ تمں دوپک اسہ بوزاکھ عجائب قرآنہ یَهْدِي  
 إِلَى الرُّشْدِ فَامْتَابِهِمْ نِس قرآن سیزو تھ ہاوان چھو پس کراسہ تھ پڑھ اسہ تور فبرہ کہ معبود  
 برحق چھوکنی شریک آسنہ نشہ منزہ تہ پاک وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا وین ٹھہراون نہ آس پنہ نس  
 پروردگار س کانہہ اکھاہ شریک تو پتہ کہ ترمو جنو پانہ وان تمں کھن ہونند تذکرہ وَأَنَّهُ تَعَلَّى جَدْرًا مَّا  
 اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا بیہ ون تموسانس پروردگارہ سندشان چھو سٹھاہ تھود تم ہانہ کانہ زمانہ  
 پنن آشین نہ ہانوان کانہہ کور پنن یانچو پنون وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا بیہ آس  
 وان تم جن اسہ منزیم احمق تہ نادان چھہ تم چھہ ونان خدا یہ سندس زانس نسبت تمہ تھہ ییہ تھندہ شانہ  
 نشہ دور چھہ مثلاً کلمات شریکیہ وغیرہ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّنْ نَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا اسہ اوس  
 گووہ خیال کہ انسان تہ جن ون نہ زانہہ تہ خدا لیس نسبت اپزہ تھہ۔ یعنی چونکہ اکثر جن تہ انسان آس



رَجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فزَادُوهُمْ  
 رَهَقًا ۖ ﴿٦﴾ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنُ يَّبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا ۗ  
 وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا فِيهَا مِثْلَ حَرِّ سَائِدِيدًا  
 وَشُهَبًا ۗ ﴿٨﴾ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن  
 يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا ۗ ﴿٩﴾ وَأَنَّا لَآلِنْدُرِي

شرك بخدا انان آسه گو خيال اتيو شخصوتھ پاٹھ اسه ايزس پيٹھ اتفاق كرت تھه كُن نظر كرت كراسه ته  
 تهنزي طريق اختيار وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنْسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فزَادُوهُمْ رَهَقًا  
 واريه لوک آس انسانواندره يم پناه نوان آس جنواندره كنيون لوكن هند سیت تموی هرود تمن جن  
 نخوت ته تكبير يمه سیت تموكفر وعناد زياد هيوت كرن وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّنُ يَّبْعَثَ  
 اللَّهُ أَحَدًا بيه اوس تموانسانو خيال كرت متھ پاٹھ توه ته خيال اوسوه كرت كه الله تعالى كره نه هرگز  
 كانه شخصس دوباره بيه زنده مگر يه خيال ته سپد غلط ثابت بلكه سپد معلوم كه مرنه پته زنده سپدن چھو حق  
 ته پوزياگو معنی كه تمواوس خيال كرت متھوندياٹھه كه آسنده سوزنه الله تعالى كانه بينغمبرس يم بينغمبر  
 ازتان آي تم آي مگردين سپد قرآن مجيده سیت معلوم كه پروردگارن چھو سوزمت كه عظيم الشان  
 بينغمبره بس لوكن چھو فرماوان كه توه ساري آيو مرنه پته بيه زنده كرت قبرواندره تولنه توپته آيوه ذره  
 ذرك حساب بينه وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَا فِيهَا مِثْلَ حَرِّ سَائِدِيدًا وَشُهَبًا بيه كراسه  
 ژھانڈ سارسي آسمانس آسه لب سوپرت طرفه برت پهره داريعي محافظ ته راجھ كره ونيو ملكو سیت بيه  
 وچھه اسه هر طرفه ناريران يعني يم جن آسماني خبرن كُن دنه كھسان آس تمن چھه تم پهره دارملك نارھ  
 رهو سیت دور ته دفع كرن وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ اس آس بروٹھ آسمانچھه خبره  
 بوزنه خيطره بعضي جاين پٹھ روزان ته ٹھهران - فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا  
 مگروين بس تمبه خبره بوزنه كھسان چھو سوچھو سیت پنه خيطره كه نارھ باتيار لبان - يمه خبره بوزنه بند سپده

أَشْرُرِيدَ بِنِ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۝ وَأَنَا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِمَّا دُونَ ذَلِكَ طُكْنَا طَرَائِقَ قَدَدًا ۝ وَأَنَا ظَنَنَّا أَنَّ لَنْ كُنْعُجَزَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجَزَهُ هَرَبًا ۝ وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ أَمْتَابِهِ ط فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَغَافُ بَغْسًا وَلَا رَهَقًا ۝ وَأَنَا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِمَّا الْقُسِطُونَ ط فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا ۝

نه سپد باعث یمن جن ہندہ اوت مکہ شریف منزاواتنگ محکھ بوزن کہ کیاہ تان واقعہ چھو دنیا س اندر سپد مت یہ سبب اس چھہ یوان خبر بوزنہ نشہ دور کرنہ امہ کی تحقیقات خیطرہ آسہ جنو مختلف جمائزہ دنیا س اندر پرت طرفہ سوزنہ خیطرہ مقرر کر مرث جماعت یوس مکہ شریف منزاواتر تمن سپد معلوم کہ بعثت حضرت پیغمبر آخر الزمان ﷺ بیہ نزول قرآنی چھو سبب تہندہ دور سپدنگ آسمان ہند یو کنار ونشہ وَأَنَا لَآنْدَرِي أَشْرُرِيدَ بِنِ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا ۝ بیہ آس ونان تم جن آسہ چھنہ خبر کہ تسم یوس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سندہ سوزنہ سیت چھازینہ کین لوکن کانہ تکلیفہا و اتانوک ارادہ خدا یس کنہ تہند پروردگارن چھو یڑھمت تہندہ خیطرہ سیزہ وتہ پٹھ آنن تہ رثوتھ ہاون وَأَنَا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِمَّا دُونَ ذَلِكَ طُكْنَا طَرَائِقَ قَدَدًا ۝ بیہ آس ونان تم جن کہ اسہ منزہ آس گوڈہ پیٹھ نیکو کار تہ بعضے تہ ورای بیہ طریقہ لوک اس آس مختلف وتن پٹھ پکان وَأَنَا ظَنَنَّا أَنَّ لَنْ كُنْعُجَزَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ وَلَنْ نُعْجَزَهُ هَرَبًا ۝ بیہ ون تمو جنو کہ اسہ اوس خیال س منز کہ اس ہون نہ اللہ تعالیٰ زمینہ کس کونہ حصس منز روزت ہارہ ناوت تہ عاجز کرت نہ ہون سوعا جز کرت کونہ صورتس منز زمینہ ورای کونہ جایہ مثلاً آسمانس کن رثلنہ سیت وَأَنَا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ أَمْتَابِهِ ط فَمَنْ يُؤْمِنُ بِرَبِّهِ فَلَا يَغَافُ بَغْسًا وَلَا رَهَقًا ۝ اسہ یلہ بوزہد اچ تھ اسہ کرتھ ہڑھ یس و ون سانی پاتھ پنہ نس خدا یس ہڑھ کرہ سو کھوژنہ کونہ قسچہ کمی نہ کونہ قسچہ زیادتی یعنی تسم چھنہ کانہ خطرہ تہنزور ژر عملواندہ کیاروزہ ہا کانہ عملہ درج سپدہ ورای یا کانہہ گناہ ہا یلیہ ہا زیادہ لیکن وَأَنَا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِمَّا الْقُسِطُونَ ۝ بیہ

وَأَمَّا الْقِسْطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا<sup>۱۵</sup> وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا  
عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً عَذَقًا<sup>۱۶</sup> لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ  
وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا<sup>۱۷</sup>  
وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَاتْ دُعُوًا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا<sup>۱۸</sup> وَإِنَّهُ

ون تمو جنوا سے منزہ چھو بعضے مسلمان سپہ مت۔ بیہ چھ اسہ منزہ بعضے جن بدستور و تہ نشہ ڈلمت  
نا فرمان **مَنْ سَلَكَ نَادِيكَ فَخَرَّوْا شِدًّا** وون یو اسلام اُن تمو ژھانڈ سیزہ رنج و تھہ ییہ پیٹھ پچھ تمس  
ثواب حاصل سپہہ **وَأَمَّا الْقِسْطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا** وون یو سیزہ و تہ نشہ ژلمت نا فرمانی کر تم سپہ  
جہنمک زیون تہ کا ٹھہ۔ یوت تان گو ختم حنن ہونڈ کلام۔ امہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ فرماوان توہہ فرماو یوکھ  
حض یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیہ آومہ کن وحی سوزنہ کہ **وَأَنْ لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ  
لَأَسْقَيْنَهُمْ مَاءً عَذَقًا** ہر گہ یم شہر ہنک لوک سیزہ و تہ پٹھ قائم روزن تلہ چا و ہوک تہ سیراب  
کر ہو کہ اس تم گو تلہ آبہ آب وافرہ سیت **لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ** یوتھ اس تمن امتحان تہ آزمائش کر  
ہوکہ تم چھا شکر گزار تہ فرماں بردار کنہ نا فرمان تہ نا شکر گزار مگر چونکہ تمو کر ایمان انہ بدل اعراض  
تہ انکار تمہ سببہ گئے تم بتلا فطس تہ در اگس۔ کفر و انکار کہ یہ سزا چھونہ خاص مکہ کین لو کن سیتی بلکہ  
**وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا** یس اکھاہ پنہ نس پروردگارہ سندہ یادہ نشہ یعنی  
ایمان اطاعتہ نشہ بوتھ پھرہ تس و اتا وہ اللہ تعالیٰ سخت عذابس اندر **وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ** بیہ آومہ کن  
وحی سوزنہ کہ یمہ مسجدہ چھہ تمہ سارے چھ خدایہ سزے معبود برحقہ سزنی عبادتہ خیطرہ خاص آمرہ  
کرنہ **فَلَاتْ دُعُوًا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا** پس مہ کریو تس سیت بیہ کانسہ ہنز عبادت یمن مسجدن اندر۔ نہ  
گدھ مسجدن اندر تس و رای بیہ کانسہ مخلوقس آلودیون حاجتو خیطرہ بعضے مفسر و فرموو مساجدہ اندرہ  
چھو مراد اعضای سجدہ یعنی سجد کہ تان۔ یعنی کلمہ بیٹھ منز ڈکہ تہ نست چھہ۔ بیہ اتھ زہ۔ کو ٹھہ زہ بیہ  
کھور زہ۔ یسے گے ستھ تان یوسیت سجدہ یوان چھو و نہ۔ یم ستھ تان چھہ خدایہ سندی یوسیتو تانوسیت

لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا ۱۹  
 قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۲۰ قُلْ إِنِّي لَا  
 أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا ۲۱ قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ  
 اللَّهِ أَحَدٌ ۲۲ وَلَنْ أجدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا ۲۳ إِلَّا بَلَاغًا

گروهه عبادت کرن خدا پس وراى بیه کانه هنز **وَإِنَّمَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا** بیه او مه گن وحی سوزنه که یله خدایه سند بنده خاص یعنی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم خدایه سنزه بندگی کرنه خیطره یا قرآن مجید پر نه خیطره تهو دوو تھان چھو تمه ساته ہژو جنو تمن انداند ہجوم کرت جمع سپدن۔ یا آس لوک تمه ساته جما شو سمن ہیوان با ایمان آس سماں شوق و ذوقہ سان قرآن مجید بوزنه خیطره۔ کافر آس عناد و عداوتہ سبہ بہ ہجوم کرت یوان مجلسه منز خلل تراونہ خیطره **قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا** توبہ فرماو یو یار رسول اللہ یہ تھہ کہ بو چھس صرف پنہ نس پروردگارہ سنز عبادت کران بو چھس نہ تس کانه اکھاہ شریک ٹھہراوان یہ تھہ گیہ توحیدس متعلق **قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا** ایته فرماو یو کہ رسالتس متعلق کہ بو چھس فقط خدایہ سند احکام تہ پیغامات و اتاودن بو چھس نہ مالک تہ اختیارہ و ول نہ تہوندہ ضررک نہ تہوندہ نفع خیرک نہ تہوندہ ہدایتک تم چھہ توه و نان ہرگہ توه واقعی پیغمبر چھوہ تله ہاویاسہ فلاں فلاں مَجْرہ، توبہ فرماو یو کہ کہ مه تمن چیزن ہوندا اختیار پانس اتھ چھونہ یہ سوروی چھو خدایہ سندس اختیارس اندر۔ بیه آس کافر و نان کہ آس مانو تو ہنزر رسالت ہرگہ توه مضمون توحیدس بیه قرآن مجیدس منز کونہ قسمہ کنہ تغیر و تبدیل کریو **قُلْ إِنِّي لَنْ يُجِيرَنِي مِنَ اللَّهِ أَحَدٌ وَلَنْ أجدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا** تمیوک جواب فرماو یو کہ توه ہرگہ خدا نخواستہ بویژہ کوم کرہ تھہ نہ مه کانه اکھاہ خدایہ سندہ غضبہ تہ عذابہ نش نجات تہ پناہ و تھہ نہ بیکہ بوتس وراى بیه کانه نشہ لب ت کانه چھین جایہ۔ مین کوم چھنہ کنہ تہ **إِلَّا بَلَاغًا مِنَ اللَّهِ وَرِسَالَاتِهِ** مگر و اتاون خدایہ سندہ طرفہ تھند احکام بیه تھند پیغامات لوکن یعنی پیغمبرہ سنز

مَنْ اللَّهُ وَرِسْلَتِهِ وَمَنْ يُعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَانَ  
 لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ۖ حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا  
 يُوعَدُونَ فَيَسْئَلُونَ مَنْ أضعفُ ناصراً وَاَقْلُ عَدُوًّا ۖ  
 قُلْ إِنَّ أَدْرِي أَقْرَبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ  
 لَهُ رَبِّي أَمَدًا ۗ ۝٢٥ عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ  
 أَحَدًا ۗ ۝٢٦ إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِنْ رَّسُولٍ فَإِنَّهُ

کوم چھ احکام الہی لوکن نشہ و اتاوان تغیر و تبدیلہ و رای وَمَنْ يُعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَانَ لَهُ نَارَ  
 جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ایم لوک نافرمانی کرن خدایہ سز بیہ تہندس پنیمبرہ سز بیخہ تہند احکام  
 مان نہ پس چھو یقیناً تہندہ سز اخیطرہ نار جہنم ہتھ منز تم ہمیشہ ہمیشہ روزن یمن کافرن چھونہ از یقین  
 یوان امیوک مگر یمن ایہ نہ یقین حَتَّىٰ إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَيَسْئَلُونَ مَنْ أضعفُ ناصراً  
 وَاَقْلُ عَدُوًّا یوتان سو عذاب و چھن چنانچہ بلہ تم سو عذاب و چھن تمیوک تمن وعدہ تھوانہ یوان  
 چھو۔ تمہ ساتہ زان تم کمند مدگار چھ کمزور بیہ کمسنز جماعت چھ کم تعدادہ کن۔ وین یم توه قیامتگ  
 وقت پرژھان بطور انکار۔ قُلْ إِنَّ أَدْرِي أَقْرَبُ مَّا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا  
 توه فرما یو تمن مہ ہھنہ خبر یمہ عذابک توه وعدہ تھوانہ یوان چھو سو چھانزدیک ینہ وول کنہ مین  
 پروردگارن چھوہ تمہ خیطرہ کانہہ زیوٹھ مدتہ مقرر کرمت تمیوک خاص تہ متعین وقت یہ گو علم غیب  
 یہ زانہ سوی یوت کیاہہ سوی چھو عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَىٰ غَيْبِهِ أَحَدًا سوروی سرتہ پوشید  
 چیز زانہ ون۔ سو چھونہ پنہ امہ نسچہ پوشیدہ تھ کانہہ نشہ باوان إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِنْ رَّسُولٍ  
 مگر چھو باوان تہ مطلع کران پنہ نس کانہہ برگزیدہ پنمبرس۔ سو تہ چھو ہتھ پاٹھ خاص اکس طریقس  
 اندر تس مطلع کران کہ قَاتِلُهُ يَسْلُكُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا تس پنمبرس  
 پتہ بروٹھ بلکہ پرت طرفہ سووچی نازل کرنہ کہ وقتہ محافظ ملائکن ہوند بروقت پھرہ سوزان یم نہ

يَسْأَلُكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ﴿۲۷﴾  
 لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَكَ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ  
 وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا ﴿۲۸﴾

شیطانس تھہ کلھ چھہ دو ان پھنہ چنانچہ تمن شیطان چھونہ ممکنہ سدان تھہ وحی یس کن انوک یا گونہ قسمہ وسوسہ تراونگ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عباس چھہ روایت کران کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ژور ملک مستقل امہ حفاظتہ خیطرہ یہ انتظام چھوامہ موکھ کرنہ یوان لِيَعْلَمَ أَنْ قَدْ أَبْلَغُوا رَسُولَكَ رَبِّهِمْ یوتھہ اللہ تعالیٰ اس ظاہری طور معلوم سپدہ کہ یم ملائکہ وحی بیت سوزنہ امت آس تمود اتناو پنہ نس پروردگارہ سند پیغامات پیغمبر برھس نشہ و تہ منز سپز نہ کانہہ ہنز مد اخلت وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا اللہ تعالیٰ چھو یمن پھرہ دار ملائکن ہند احوالن احاطہ کرت امہ خیطرہ چھہ اللہ تعالیٰ ان تہ پھرہ دار مقرر کر مت یمہ امہ کام خیطرہ موزون و مناسب چھہ بیہ یم امہ کامہ ہند پورا اہل چھہ۔ بیہ چھہ اللہ تعالیٰ اس پرت چیز چی گرند معلوم لہذا چھہ و حیک ساری اجزا کہ اکہ تس معلوم۔ سوچھو تمن سارنی اجزاء ن پور حفاظت تہ راجھہ کران۔ ملائکن تہ پیغمبرن ہنز ن ذہن س اندر لفظ یسئلک ونہ نہ سیت چھہ شیطان ہنزہ استراق سمع تہ التباسہ نشہ حفاظت لفظ و احاطہ بیان کرنہ سیت چھہ حفاظت یمہ اعتبارہ کہ ذرائع و وسائل یم چھہ تمن چھہ خدا سنز حفاظت و احصیٰ بیان کرنہ سیت چھہ حفاظت از نیان و ذہول الیہ سند حقہ لہذا چھہ گوڈہ پیٹھہ اند تان سارنی حفاظن ہیوندر رعایت تھاونہ امت۔ حاصل چھہ تینس کہ قیامتہ تعینک علم آسن یہ چھہ نہ نبوتہ کیو علو مو اندر۔ لہذا امیوک علم نہ آسن چھونہ نبوتس پٹھہ کانہہ ناکارہ اثر تراوان۔ یا تمیوک علم نہ سبب آسسن چھونہ لازم کہ سہ سپدہ واقع پنہ نس و قس تہ موقعس پٹھہ البتہ علوم نبوت یم چھہ تم چھہ مستقل تہ مقصود بالذات علوم۔ تہ علوم لو کن نشہ و اتناونہ خیطرہ آو پیغمبر برحق صلی اللہ علیہ وسلم سوزنہ تہ علوم کریو تہ حاصل تموے سیت سپدیو تہہہ مستفید تمو علو مو و رای باقی علوم حاصل کرنک خیال تراویو تھہ منز چھونہ تہہ کانہہ فائدہ۔



## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ يَا أَيُّهَا الْمُرْمِلُ ① قُمْ الْيَلَّ إِلَّا قَلِيلًا ② نِصْفَهُ أَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ③ أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ④ إِنَّا

يَا أَيُّهَا الْمُرْمِلُ ای پلون منزولتھ روزہ ونہ صاحبہ۔ امہ عنوانہ خطاب کرنگ وجہ چھوای زہ ابتداء نبوتس اندر آس قریش دارالندوس اندر سمت مشورہ کران کہ تمس پیغمبرہ سندس حالس مطابق گزھہ کانہ ڈیچھ لقبہ تجویز کرن تمی سیت آسوایس تہوند ذکر کران۔ اک زین دوپ کاہن بے زین دوپ مجنون بے زن دوپ ساحر مگر اتفاق سپد کہ نہ کونہ پٹھ یے پٹھ واژدر خدمت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل مبارک سپد کہ آزرہ کپر ژادراہ ہڈ ہڑ کہ سر مبارک پیٹھ۔ ہتھ پاٹھ اکثر غم گین شخص چھوکلہ پیٹھ پلوہت روزان۔ اللہ تعالیٰ ان کرامی عنوانہ سیت بکمال اُس ملا طفت تمن خطاب فر مونکہ

يَا أَيُّهَا الْمُرْمِلُ ہتھ پاٹ حدیث شریفس منز چھو آمت کہ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ورائی اکہ پھرہ گھرہ اندرہ آزرہ سپت مسجد نبوکس صحنس اندر رود شھت مندرہ پیہ تمن مژتہ روئی مبارک گو سست نسی بدن مبارکس آیہ گرد متھنہ۔ توپتہ وات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمن ژھانڈان ژھانڈان اتوی مسجد شریفکس صحنس اندر۔ توپتہ وچھک تمن بدن مبارکس مژتہ گرد لار سمہ توپتہ ہڑیک سہ گردو تھراون دست مبارک سیت آسکھ ہٹس ہٹس دوان تہ فرماوان آسکھ قم آبا تراب قم آبا تراب بکمال اُس و محبت۔ غرض اللہ تعالیٰ ان فرموو تمن تہومہ بریود شمن ہنزن کتھن ہوند کانہ غم تہ روزیو ہمیشہ زیادہ متوجہ پنہ نس پروردگارہ سندس عبادتس کن ہتھ پاٹ کہ قُمْ الْيَلَّ إِلَّا قَلِيلًا تہ آسوروزان رات کہ وقت ایستادہ کمس کالس نِصْفَهُ مثلاً رات ہندس نصفس۔ باقی نصفس آسیو آرام کران اَوْ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا یا کر یونصفہ خوتہ تہ کم کالس عبادت نصفہ خوتہ زیادہ حصص کر یو آرام۔ یعنی رات ہندس تر تمس حصص آسیو عبادت کران۔ دون حصص آسیو آرام کران۔ اَوْ زِدْ عَلَيْهِ یا کر یونصفہ خوتہ زیادہ و قس عبادت یعنی تر یو حصو اندرہ دون حصص اکس حصص آسیو

سَلِّقْ عَلَيَّ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝ إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ  
 أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَمُ قِيلًا ۝ إِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا  
 طَوِيلًا ۝ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا ۝

آرام کران۔ یہ قیام لیل چھو توہ پٹھ فرض مگر وقت قیامس چھ ترہ صورت۔ یا نصفانصف۔ یا ترسمس  
 حصص قیام دون حصص آرام یا دون حصص قیام اکس حصص آرام۔ وَدَّتِلَ الْقُرْآنُ تَرْتِيلًا اتھ  
 قیام لیلس منز آسیو قرآن مجید پران وارہ وارہ صاف صاف یوتھ اکھ اکھ حرف بیون بیون ترہ فجرہ  
 بوزن والین۔ امہ طریقہ پر نہ سیت چھو فہم و تدبرس اندر مدد حاصل سپدان۔ بیہ چھو امیوک اثر دلس  
 پٹھ زیادہ بیوان۔ بیہ چھو ذوق و شوق ہران یہوی حکم چھو نمازہ و رای قرآن مجید ک بار تراونک  
 استعداد توہ قوی تہ مضبوط سپدہ کیاہہ اِنَّا سَلِّقْ عَلَيَّ قَوْلًا ثَقِيلًا اسہ چھو تراون  
 توہ پٹھ یعنی نازل عُرْن اکھ گوب تہ وزن دار کلامہ یعنی قرآن مجید، یمہ کہ ثقلک تہ گوبرک  
 یہ حال اوس کہ امہ کہ نازل سپد نہ کہ وقتہ آس نبی کرسمس صلی اللہ علیہ وسلم عجیب  
 کیفیتاہ پیدہ سپدان۔ بدن مبارک اوس گوبان۔ شہ تہ شانس آس تیز سپدان سردی ہندس موسمس اندر  
 اوس بدن مبارکس عرق یوان۔ عرکک قطرات آس جبینہ مبارکہ پٹھ خنہ پھلین ہند پاٹھ پتھر پوان۔  
 اکھ پھرہ اوس تہوند زانوی مبارک حضرت زید بن ثابتہ سزہ رانہ پٹھ تھتھ حالس اندر ہتون وحی نازل  
 سپدان زید بن ثابتس سپد محسوس کہ رانہ ماسپدس ژس مگر شہ تہ بیگو کہ نہ کڈت۔ ہر گہ تمہ وقتہ نمہ  
 سوارہ پٹھ سوار آسہن تس سوار ی آسہ زنگہ پھشان۔ فقط آس ناقہ عضباء مخصوص تہمز سوار تس اوس  
 برو نطھی الہام سپدان سو آس امہ وقتہ پتھر بہان۔ بیا کہ وجہ چھو اس چھو توہ قیام لیلک یعنی رات کہ وقتہ  
 نمازہ پر نگ حکم کران کیاہہ اِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ اَشَدُّ وَطْأً وَاَقْوَمُ قِيلًا بیشک رات کہ  
 وقت نندرہ پتہ و تھون عبادت کرنہ خیطرہ بیہ چھو زیادہ موثر نفس پامال کرنہ خیطرہ بیہ چھو بیہ زیادہ سیود  
 تہ راست کرہ ون کلامس تہ تھ۔ امہ ساتہ یہ کنیوہا پر نہ یوان چھو قرآن مجید یاد عاباذاکار، تم چھہ پر نہ  
 یوان پریشانی و رای بکمال توجہ اِنَّ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا بیشک توہ چھہ دوہس اندر  
 واریاہ کامہ، دینچہ تہ دنیا چہ تہ، لہذا کر یو خدا یہ سز کوم رات کہ وقتہ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ



رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا ④  
 وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا ⑤  
 ذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمِهْلُهُمْ قَلِيلًا ⑥ إِنَّ  
 لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا ⑦ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا ⑧ يَوْمَ  
 تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا ⑨ إِنَّا أَرْسَلْنَا  
 إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ⑩ ط

تَبَيَّنَّا ۱۱ تمہ علاوہ تہ کریو توه یاد نام پاک پنہ نس پروردگارہ سُد پر ت وقتہ بیہ تزیو دیک تعلق سارنی  
 نشہ مشغول تہ متوجہ روزیو تمس سیت یعنی ذکر و تبتل چھو پرت و فکک فرض قطع تعلقانہ اندرہ چھو مراد  
 علاقہ خداوندی گڑھ غالب روزن باقی سارنی تعلقان پٹھ کیا زہ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ  
 فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا سو چھو مالک مشرک تہ مغربک تس و رای چھونہ کانہ تہ عبادتس لائق۔ پس بشر ادیو  
 پھن کوم تس یوت وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا بیہ کریو صبر یمن لو کن  
 ہنزن کھن پٹھ بیہ روزیو تمس نشہ الگ تہ دور رتہ طریقہ تمس سیت مہ تھ ادیو کانہ تعلق۔ رت  
 طریقہ اختیار کرن گو تہنز شکایت مہ کریو، تمس انتقام ہنچ فکر مہ بریو وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي  
 النَّعْمَةِ وَمِهْلُهُمْ قَلِيلًا بیہ تراویو مہ تہ بیہ تمس انکار کرہ و نین نازو نعمن اندر روزن والین موجود  
 حالتس منز۔ تمس دیو بیہ کینہہ دوہ مہلت توه کریو بیہ کنہ کالاہ صبر۔ تہندہ سزاعک تہ عذابک وقت چھو  
 دین قریب إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَالًا وَجَحِيمًا \* وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا کیا زہ بے شک اسہ نشہ چھ تم  
 گرفتار کرنہ خیطرہ ہانکھ۔ بیہ تم زانہ خیطرہ نارِ جہنم بیہ تہندہ کھنہ خیطرہ ہٹنہ نہ وسہ ون خوراک، نس  
 کھوان کھوان ہٹس بند آسکھ گڑھان۔ بیہ تمہ و رای دگ تہ دو دتکھ ون عذاب یموی چیز و سیت آیہ تمس  
 سزادنہ یہوی سز ایک تمہ دوہ دنہ یَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا بیہ دوہ الہ  
 الہ و تھ ز میمنس تہ کوئن بیہ سپدن کوہ ریزہ ریزہ گڑھت پکھ ون سیکھ ہش ای انکار و تکذیب کرہ و نیو۔

فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِئْسَ  
 فَكِيفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ  
 شِيبًا ۱۷ السَّمَاءُ مُنْقَطِرَةٌ بِهِ ۱۸ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا ۱۸ إِنْ  
 هَذِهِ تَذْكَرَةٌ ۱۹ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۱۹  
 إِنْ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَ  
 نِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۲۰ وَاللَّهُ

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۲۰ پڑھا تھ اسے سوز توہ کن تھوی  
 پیغمبر اہس توه پیچھ قیامتک دوه گواہی دیہ کہ یمو لو کو کیاہ برتاو کور میانہ تہلینہ پتہ انتھہ پاٹ اسہ  
 فرعونس کن اکھ پیغمبرہ سوز مت اوس فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِئْسَ  
 کرنا فرمانی فرعونس تس پیغمبرہ سز پئس روٹ تہ گرفتار کور اسہ سو فرعون سیٹھاہ سختی سان ہرگہ توه تہ یہ  
 پیغمبر برحق سوز نہ پتہ نافرمانی کر یوتلہ پیہ توه تہ اکھ دوه سو مصیبت تُلن، چنانچہ سو مصیبت چھو  
 عنقریب ینہ وول فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ہرگہ توه ٹھہر  
 کر یو پئس تھہ پانچہ بچو تہ مولیو توه تمہ دوہہ کہ مصیبتہ نشہ تیج سختی تہ شدت تہیو زیادہ آسہ کہ لو کئین  
 معصوم بچن تان بوڈواوہ سو۔ السَّمَاءُ مُنْقَطِرَةٌ بِهِ ۱۸ یمہ دوہہ آسانس کھنچہ گودھن ۱۸ كَانَ وَعْدُهُ  
 مَفْعُولًا ۱۸ تمسند وعدہ سپدہ ضرور پورہ، إِنْ هَذِهِ تَذْكَرَةٌ ۱۹ بے شک یہ سوروی مضمون  
 چھواکھ بوڈو عظ تہ بتلہ نصیحت فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ۱۹ لہذا تمس خوش کرہ سوہیہ پنہ نس  
 پروردگارس کن دتھ یعنی سو کرہ خداہس نشہ واتنہ خیطرہ دتیج و تھ اختیار إِنْ رَبِّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ  
 أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَ نِصْفَهُ وَ ثُلُثَهُ وَ طَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۲۰ بے شک تھوندس  
 پروردگارس چھو معلوم کہ توهہ یہ توهہ سیت اکھ جماعتھاہ تمولو کو اندرہ یم توهہ سیت چھہ رات کہ وقت  
 نماز پرنہ خیطرہ دتھان قریب راژ ہندن دون حصن کونہ شبہہ یہ نصف راتس کونہ شبہہ راژ ہندس تر تمس

يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ  
 عَلَيْكُمْ فَأَقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ  
 سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۖ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ  
 يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي  
 سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَأَقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ ۗ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ  
 وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا

حصص کونہ شبہ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اللہ تعالیٰ ہی چھو پورہ اندازہ ہکان کرت دُہک تہ  
 راتک علِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ تہس چھو معلوم کہ توه ہبیونہ امہ وٹنگ اندازہ ضبط  
 کرت لہذا کور تم تہوندس حالس پٹھ عنایت سو سخت مشقت گوڈنک حکم قیام لیلک  
 کرن تہوندہ خیطرہ منسوخ فَأَقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وون یوت توه آسانی سان قرآن  
 مجید ہیکمہ ہرت تیوت آسیو پران۔ امہ قرآن مجید پر نہ اندرہ چھو مراد تہجد پر نہ تہہ منز قرآن مجید  
 پر نہ یوان چھو۔ یہ چھو استحابی امر مطلب چھو کہ تہجد ج فرضیت گیہ منسوخ وون ہر گہ توه یشو تہجد  
 پر نہ تلہ آسیو پران بیہ چھو تہجدہ کہ منسوخ سپد نگ بیاکھ وجہ کہ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ  
 وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ بیہ چھو اللہ تعالیٰ اس معلوم کہ توه  
 اندر آسن بعضے لوک بیمار تم ہیکن نہ تہہ حالس اندر رات کہ وقتہ و تہہ تہ تہجد پرت۔ بیہ آسن بعضے  
 لوک خدایہ سند فیض یعنی معاش تہ رزق ژھانڈنہ خیطرہ ملکن اندر سفر کران تہندہ خیطرہ تہ چھو بیہ  
 مشکل۔ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بیہ چھو بعضے لوک خدایہ سزہ و تہ اندر جہاد کران،  
 تہندہ حقہ تہ چھو تہجد ج پابندی کرن مشکل فَأَقْرَأُوا مَا تيسَّرَ مِنْهُ پس پر یو قرآن مجید یوت توه  
 آسان سپدہ، اگرچہ تہجد ک حکم وجوب سپد منسوخ مگر وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فرض  
 نمازہ کریو پابندی سان ادا، بیہ آسیو زکوٰۃ دو ان۔ وَاقْرَأُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا بیہ آسیو اللہ

لَا أَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ  
وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ  
رَّحِيمٌ ﴿۲۰﴾

تعالیٰ اس خوش کرنے خیرہ قرض دو ان رت پائے بکمال اخلاص **وَأَنْفُسِكُمْ مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ** بے یوسہ نیک تہ رت عملہ پنے نہ خیرہ توه بروٹھ کن سوز یوسولیبون توه موجود خدایس نشہ **هُوَ خَيْرٌ وَأَعْظَمَ أَجْرًا** سورت عمل آسہ سٹھاہ بہتر بے سٹھابڈ ثوابہ کن۔ دنیوی معاملن اندر مال خرچ کرنے سیت نئس عوض تہ نفع توه حاصل سپدان چھوتمہ خوتہ بہتر تہ بوڈ نفع تہ فائدہ سپدہ توبہ حاصل خیرہ چین کابین اندر خدایہ سندر ضا حاصل کرنے خاطرہ مال خرچ کرنس۔ **وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ** اللہ تعالیٰ اس آسبو منگان گنہن مغفرت۔ کیا زہ سوچھوبے شک گنہن مغفرت کرہ ون رحم کرہ ون۔



## سُورَةُ الْمَدَّثِرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ ① قُمْ فَأَنْذِرْ ② وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ ③ وَشِيَابِكَ  
 فَطَهِّرْ ④ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ⑤ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ ⑥ وَ  
 لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ⑦ فَإِذَا أَنْقَرْنَا فِي النَّاقُورِ ⑧ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ

حدیث شریفن منز چھو آمت کہ ساری بروٹھ سپڈ نازل قرآن مجیدہ اندرہ سورہ اقرآک ابتدائی آیات۔ توپتہ سپڈ بعض حتمن کن نظر کرت کینہہ کالاو جیکس نازل سپڈنس اندر تاخیرتہ مانٹھ تمہ پتہ آس اکہ دوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شہرہ نیرپکان اتی تکیک آسمانکہ طرفہ آواز توپتہ ورتکھہ ہیورکن نظر وہتھک جبریل امین اکس تخس پٹھ بہت۔ سوخت اوس آسمان وز مینس منز معلق تمن سپڈ دل مبارکس ہیبت پیدہ تم آی واپس گھرہ توپتہ ہتک ہیرہ بونہ وزن تمہ ساتہ آویہ جبریل امین ہم آیات کریمہ بہت **يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ** ای کلہ پٹھ وزن ہیوہونہ صاحبہ **قُمْ فَأَنْذِرْ** پنہ نہ جایہ نشہ و تھیو تھودتہ سپڈ یو مستعد پس کھوڑہ ناویو کہ ساری لوک تی چھو تھوندس منصب نبوتس لازم۔ امہ وقتہ آس اکہ زی صاحب مسلمان سپڈ مت تمہ موکھ آیہ نہ بشارتچ ذکر کرنہ **وَرَبِّكَ فَكَبِّرْ** بیہ زاینون پنون پروردگار بوڈ جہزی عظمت کریو بیان تبلیغس اندر چھو گوڈ نکوی چیز اشاعت توحید بیہ گوشہ مبلغہ سڈ پانہ عامل آسن، تس پنون پانس اندر رت صفت پیدہ کرن رتہ عملہ رت اعتقاد رت اخلاق۔ اکھ چیز گو تمو اندرہ **وَشِيَابِكَ فَطَهِّرْ** پنن پلو تھاو یو پاک۔ امہ وقتہ آس نہ ونہ نماز فرضی سپز مڈ لہذا کر کھنہ سچ ذکر کینہہ تہ۔ امہ اندر سپڈ معلوم جامہ پاک آسن چھو لازم نمازہ وراہی تہ **وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ** پرت قسبہ پلیدی تہ ناپاکی نشہ روزیو دور **وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْبِرُ** کانہہ مہ دیو کانہہ چیز تمیوک عوض زیادہ حاصل کرنہ خیطرہ نہ علم تہ نہ مال۔ **وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ** بیہ کریو صبر پنہ نس پروردگارہ سندہ رضا خیطرہ ہرگہ تبلیغ ادا کرنس منز کانہ تکلیف تہ واتوہ۔ ہم نہ تھوندہ ہم کرنہ پتہ تہ ایمان ان تھندہ خیطرہ چھویہ

يَوْمَ عَسِيرٍ ۹ عَلَى الْكٰفِرِيْنَ غَيْرِ يَسِيْرٍ ۱۰ ذَرْنِيْ وَمَنْ  
 خَلَقْتُ وَحِيْدًا ۱۱ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُوْدًا ۱۲ وَبَنِيْنَ  
 شُهُوْدًا ۱۳ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيْدًا ۱۴ ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ  
 اَزِيْدَ ۱۵ كَلَّا اِنَّهٗ كَانَ لِاِيْتِنَا عٰنِيْدًا ۱۶ سَاْرِهْقَهٗ

وعید کہ قَادًا نَفَرًا فِي النَّافُوْرِ پس یلہ پھو کہ آپ دنہ پو غس منز فَاذٰلِكَ يَوْمَ يَوْمِ عَسِيْرٍ \* عَلَى الْكٰفِرِيْنَ سُودوہ آسہ سٹھاہ مشکل دوہاہ کافرن پٹھ غَيْرِ يَسِيْرٍ تھہ دوہس منز آسنہ کونہ کج آسانیاہ تہندہ حقہ۔ امہ پتہ چھ ذکر بعضے خاص کافرن ہنز ذَرْنِيْ وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيْدًا یار سول اللہ توہہ مہ بریو کا نہہ فکرہ تراویومہ تہ تس شخصس یس مہ پیدہ کر کھوی، بو بوزہ تس سیت پانے سو شخصس گو لید بن مغیرہ، یہ اوس مالس کھوی نچو۔ زینہ وزہ یعنی پیدہ سپد نہ وزہ اوس ننوی تہ چھنوی کا نہ چیزاہ اوس نہ سیت نہ مال تہ نہ اولاد وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَّمْدُوْدًا توپتہ کر س مے بکشرت مال عطا وَبَنِيْنَ شُهُوْدًا بیہ کر س مے گبر تہ اولاد عطا یم تس پرت وقتہ حاضر بروٹھ کنہ آس آسان، تعمیل حکم کرنہ خیطرہ تیار وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيْدًا بیہ وتھر وی تہندہ خیطرہ عزت و جاہک فرش تہ وتھر ن تا اینکه ساری لو کہ آس تس رئیس تہ زُیٹھ مانان مگر باوجود آن کرنہ تم یمن نعمن ہوند شکر ادا ثُمَّ يَطْمَعُ اَنْ اَزِيْدَ توپتہ چھو تس پنہ نہ جایہ خیال کہ بُو کیا کرہ تس اتھ اندر تہ بیہ نعمو عطا كَلَّا تہ نہ نہ ہرگز اِنَّهٗ كَانَ لِاِيْتِنَا عٰنِيْدًا کیا زہ یہ اوس سائین آیا تن ہوند مخالف تہ دشمن امندہ خاطرہ چھ زیادتی دنیا و آخر تس منز بند چنانچہ تم آیات کریمہ نازل سپد نہ پتہ رود نہ امس مال و دولت کونہ نہ جاہ و عزت نہ اولاد خوار و ذلیل سپد سَاْرِهْقَهٗ صَعُوْدًا آیندہ آخر تس اندر کھارن بو سُ جہنمس منز تھہ کو ہس ہتھ ناو چھو صعود۔ حدیث شریف چھو صحیح ترمذ یس اندر کہ فر موو حضرت نبی کریمو صلی اللہ علیہ وسلم کہ صعود چھو جہنمس اندر آکھہ کوہاہ ستن ورین وائہ جہنمی تجھ تالہ پٹھ توپتہ آپہ تمہ پٹھ بیہ یون دارت دنہ۔ اُتھہ پاٹھ روزہ سو ہمیشہ اتھہ کو ہس کھسان توپتہ تمہ کوہہ پٹھ و س

صَعُودًا ۱۷) إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ۱۸) فَقَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۱۹) ثُمَّ  
 قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ۲۰) ثُمَّ نَظَرَ ۲۱) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ۲۲) لَا  
 شُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ۲۳) فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْأَسْحَرُ  
 يُؤْشِرُ ۲۴) إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ ۲۵) سَأُصَلِّيهِ

پوان۔ یہ سزا ایہ تس دنہ امی اعتقادہ موکھ سمیوک ذکر کرنہ آوہ إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ پڑھا تم شخصن  
 کر فکر بیہ کرن اندازہ کہ قرآن مجیدس نسبت کوہ پیچھ لفظ کرہ تجویز تو پتہ کرن واریاہ فکر تہ تامل کرت  
 اکھ لغوتہ بے ہودہ کتھاہ پیش فَقَتَلَ كَيْفَ قَدَّرَ پس گڑھن سواڈہ ژوٹ تہ کھوڈہ بوز، کتھاہ پاٹ  
 کرن یہ اندازہ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ تو پتہ گڑھن سو بیہ اڈہ ژوٹ دوبارہ پتہ کڑھ کتھاہ کرتم یہ  
 تعجب مکرر کرن چھو اسمنز سخت مذمت کرنہ خیطرہ۔ یعنی یہ کڑھ بے ربط کتھاہ کرتم سمیوک نہ کونہ  
 صورتس منز احتمالے ہیچہ سہت کیا زہ سحرچ چھہ پرت اکس خبر کہ تمیوک اثر چھونہ زیادہ کالس  
 پوشان سحرک طاقت چھونہ سو کیا ہیچہ غائبن پیچھہ تہ اثر کرت۔ گاتس زمانس تہ آئندہ آوہ ونس زمانس  
 پٹھہ اثر کرت۔ یعنی نعوذ باللہ ہر گہ یہ قرآن مجید جود آسہ ہا۔ سو کتھاہ پاٹ ہیچہ پرت زمانہ کین لوکن  
 جود کرت کہ تم ہیچہ ہن تمہ جاڈہ کہ اثر سیت تمیوک مقابلہ کرت جاوگر یعنی اپہ زیور کتھاہ پاٹ بلکہ علی  
 الاعلان دعویٰ کرن گہ جرات کرت کہ مثل تہ تھہ کلامس ہیو، ہیچونہ توہ جن تہ انسان ہرگز کانہ کلامس  
 پیش کرت ثُمَّ نَظَرَ تو پتہ لگ مجلسہ ہندین لوکن گن بو تھہ بو تھہ وچھنہ سہ کتھاہ یوسہ مہ تجویز کر صہ  
 وناکنہ ونہہ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ تو پتہ لدن بو تھس بوم وَبَسَرَ تو پتہ لگ بو تھہ ژکراونہ ڈکس درہ کھارنہ  
 یو تھہ لوکھ دپن تمس چھہ سخت نکہت قرائچ شُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ تو پتہ پھیور پتھہ گن بیہ نہ  
 راون غرور تہ تکبر۔ فَقَالَ إِنَّ هَذَا الْأَسْحَرُ يُؤْشِرُ تو پتہ ونس یہ قرآن مجید چھونہ مگر بین نشہ  
 نقل کرت جوداہ ان هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ یہ چھونہ کنہ تہ بشرہ سندہ کلامہ وراہ۔ یعنی اللہ  
 تعالیٰ سُنَد کلام چھونہ اللہ تعالیٰ چھو فرماون امس دیو توہ وورنہ۔ سَأُصَلِّيهِ سَعَّرَ جلدی و اتاون

سَقَرٌ ۲۶ وَمَا آذُرُكَ مَاسَقَرٌ ۲۷ لَا تُبْقِي وَ  
لَا تَذَرُ ۲۸ لَوْ آحَةٌ لِلْبَشَرِ ۲۹ عَلَيْهَا تِسْعَةٌ عَشْرٌ ۳۰  
وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً ۳۱ وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ  
إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۳۲ وَالَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الْكُتُبَ

بوسو جہنمہ کس نارس اندر وَمَا آذُرُكَ مَاسَقَرٌ ۲۷ ژہ کوہ چیز زانروی کہ سقر نار جہنم کیا  
حقیقت چھ لَا تُبْقِي وَ لَا تَذَرُ ۲۸ سونار تراوہ نہ باقی بدنگ کانہ حصاہ زالنہ وراہ۔ نہ چھڈہ کانہ  
نافرمانس عذاب کرنہ وراہ لَوْ آحَةٌ لِلْبَشَرِ ۲۹ پھسرہ والرون چھو بٹھ کس دالس یمہ سیت شکل  
وصورتھ تہ تہ بر باد گوہ عَلَيْهَا تِسْعَةٌ عَشْرٌ ۳۰ تھ جہنم پٹھ چھ مقرر کرنہ امت گوہ ملک ہڈ  
ہڈ سردار یم کافرن رنگارنگ عذاب کرن۔ ملائک ہيوند قوت تہ طاقت چھو سیٹھاہ زیادہ جنن تہ انسان  
ہندہ خوتہ چنانچہ سارنی جہنم عذاب کرنہ خیطرہ اوس اکوی ملک کافی۔ مگر اللہ تعالیٰ ان کر مقرر گوہ دوہ  
ملک امہ اندرہ چھو معلوم سپدان کہ کافرن تہ مضر کن عذاب کرنگ اہتمام چھو سٹھاہ زیادہ۔ کونہ وہن  
ہوند عدد خاص کرنگ بر چھو معلوم اللہ تعالیٰ آسی۔ یمن کنوہن ملکن ہندس سردارس چھو تاو مالک  
یلہ یمہ آہہ کر یمک مضمون بوزکا فروتم لگ ٹھٹھ تہ استہزاء کرنہ۔ چنانچہ اکھ کافراہ اکھ اوس  
ابوالاشدین سو اوس سٹھاہ طاقت ور شخصہہ سو لگ وندہ کہ ای قریشو تہ وہ مہ کھوڑیو۔ یمو اندرہ زہہ ملک  
ہٹاؤ کہ توہہ باقی سداہن سیت کر بہ عنی مقابلہ اللہ تعالیٰ ان کر اتھ تردید وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ  
إِلَّا مَلَائِكَةً ۳۱ اسہ کرنہ جہنمک داروغہ انسان یمن کانہ قوی انسانہ ہٹاؤ تھ ہیکھا بلکہ کراسہ جہنمک  
داروغہ صرف ملائک یمو اندرہ اکھ ملک تیوت قوت چھو تھاوان یوت سارنی جنن تہ انسان اولین تہ  
آخرین قوت چھو چنانچہ حدیث شریفس منز چھو لہم مثل قوتہ التقلین وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً  
لِلَّذِينَ كَفَرُوا ۳۲ بیہ کرنہ اسہ تہوند تعداد یوت اس بیان آو کرنہ مگر کافرن آزمائش کرنہ خیطرہ  
یو تھ تہزہ مگر این ہيوند سبب نہ بیہ یو تھ اتھ پٹھ امیک نتاج مرتب سپدان لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا



وَيَزِدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا  
الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ  
وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا امْتِثَالًا كَذَلِكَ يُضِلُّ  
اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ  
رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ ۗ كَلَّا وَالْقَمَرِ ۗ<sup>٣١</sup>  
وَاللَّيْلِ إِذَا دُبِرَ ۗ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ ۗ إِنَّهَا لِحُدَىٰ

الْكِتَابِ یو تھ تم اہل کتاب یہ بوزت یقین کرن کیاہہ تمن آسہ پنہ نیو کتابو موجب اتھ تعدادس متعلق اطلاع خبر برو نھئی وَيَزِدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا یمہ سیت با ایمان ہوند ایمان زیادہ سپہہ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ یمہ روزہ نہ کانہ شک تہ تردد اہل کتابن تہ با ایمان۔ تمن لکھ نہ مٹر کن ہندہ استہزاء تمخرہ سیت کونہ قسمہ دھو کھ وَلَيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا امْتِثَالًا یمہ یمن ہندن دلن اندر شکم مرض چھو یعنی مناقق تہ ضیعت الایمان لو کھ یمہ کافر ن پاٹھ انکار کرہ ون تم ون کہ یمہ عجیب مضمون یعنی جہنمہ کین داروغن ہنز گردونہ اندرہ کیاہہ سنا چھو مقصود اللہ تعالیٰ اس یتھہ پاٹھ اللہ تعالیٰ ان یتھہ معاملس اندر با ایمان خاص ہدایت کر یمہ کرن اتھ معاملس اندر کافر خاص طور گمراہ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ یتھہ پاٹھ چھو اللہ تعالیٰ گمراہ کر ان لس یرشان چھو تس یمہ چھو ہدایت کر ان لس یرشان چھو تس۔ جہنمہ کین داروغن ہنز گردن کتوہ ونس اندر چھہ کمہ کمہ حکمہ، نتہ چھا کل بل یتوی فوج نہ ہر گزنہ بلکہ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ ای پنخبر چالس پروردگارہ سند فوج چھو تیوت یمن ہوند شمار نہ کانہ تہ زانہ تس معبود بر حقس ورا ی وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ یمہ جہنمک حال بیان کرن چھو بیڈ نصیحت صرف انسان ہندہ خیطرہ كَلَّا وَالْقَمَرِ یتھہ تم چھو زونہ ہوند وَاللَّيْلِ إِذَا دُبِرَ یمہ چھو قسم راز ہوند یمہ نہ گوہن چھہ حیوان وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ یمہ چھو قسم صمک یمہ

الْكَبِيرِ ۳۵ نَذِيرًا لِلْبَشَرِ ۳۶ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ  
 أَوْ يَتَأَخَّرَ ۳۷ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۳۸ إِلَّا الْأَصْحَابَ  
 الْيَمِينِ ۳۹ فِي جَنَّتٍ يُتَسَاءَلُونَ ۴۰ عَنِ الْمُجْرِمِينَ ۴۱ مَا  
 سَلَّكُمْ فِي سَقَرٍ ۴۲ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِينَ ۴۳ وَلَمْ

سو پھولان چھو دارہ گاش یوان چھو سخی قسم چھس بو ہوان یتھ تھ پیٹھ کہ اِنھَا اَلْحَدَى الْكَبِيرِ بے  
 شک جہنم چھو بڈیو ہولناک چیز واندرہ اکھ چیز نَذِيرًا لِلْبَشَرِ پس نیم کرہ ون تہ کھوژناوہون چھو  
 سارنی انسان لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ تمن سارنی ہندہ خیطرہ ہم توہہ اندر  
 نیکن تہ خیرہ چن کا میں برو تھ گڑھون یڑھن۔ بیہ تمن یم نیکیو تہ خیرہ چو کا میونشہ پتھ روزن یڑھن  
 امہ ہمگ تہ کھوژناو ٹگ انجام تہ عافیت پدہ ظاہر قیامتک دوہ۔ تمی آی اتھ پیٹھ تمنے چیزن ہند قسم ہاونہ  
 بمن چیزن قیاس سیت اکھ مناسبتاہ چھ چنانچہ زون چھ ابتداءس اندر بڑان بڑان تمہ پتہ چھ پور تہ برابر  
 سپدت کم ہوان گڑھن یوتان ختم چھ سپدن ایہ چھ ہمہ عالمہ کہ وجود پتہ تہ فنا گڑھن حقیقت تھہ پاٹھ چھ  
 دوہ کس اینس تہ راتہ کس گڑھ نس تہ مناسبت بہ دنیاہ کس ختم گڑھ ہنس تہ قیامتکس اینس سیت۔  
 راژ ہیوند ختم گڑھون گو ہمہ عالمک ختم گڑھن صبح پھلن تہ دوہگ ین گو تمہ عالمک ظاہر سپدن۔ امہ  
 پتہ چھ بیان کران جہنمن ہند بعضے حالات کُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ پرت شخصاہ آیہ پنہ نین  
 کفرہ چن کا میں ہندہ موکھ جہنمکس قیدس اندر بند کرنہ تہ قید تھاوہہ إِلَّا الْأَصْحَابَ الْيَمِينِ مگرین نہ  
 تھ جہنمسن منز قید تھاوہہ تم لوک بمن نامہ اعمال ایہ دندہ چھس اتھس کیتھہ فِي جَنَّتٍ تم آسن جنس  
 اندر تہ عیش و آرامس اندر تو پتہ آسن يَتَسَاءَلُونَ \* عَنِ الْمُجْرِمِينَ تم جلتی آسن کافرن نشہ  
 تہوند حال تمنے نشہ پڑھان مَا سَلَّكُمْ فِي سَقَرٍ تم با ایمان آسن تمن کافرن پڑھان توہ کم  
 چیزن واتاوہ جہنمسن یعنی کمو پیچھ عملو موکھ اوہ جہنمسن اندر واتاوہہ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصْلِينَ تم  
 دیکھ اس آسنہ دنیاہس اندر نماز پرہ و نیواندرہ یعنی معبود برحقس عبادت کرہ و نیواندرہ وَلَمْ نَكُ

نَكَ نَطْعُمُ الْمَسْكِينِ ﴿۳۷﴾ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿۳۸﴾ وَ  
 كُنَّا نَكْذِبُ بِيَوْمِ الدِّينِ ﴿۳۹﴾ حَتَّىٰ آتَيْنَا الْيَقِينَ ﴿۴۰﴾ فَمَا تَنْفَعُهُمْ  
 شَفَاعَةُ الشَّفِيعِينَ ﴿۴۱﴾ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ ﴿۴۲﴾  
 كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ﴿۴۳﴾ فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ ﴿۴۴﴾ بَلْ يُرِيدُ  
 كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمُ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا مُنشَرَةً ﴿۴۵﴾ كَلَّا بَلْ لَا

نَطْعُمُ الْمَسْكِينِ بیه آسنه اَسِ غریبن تہ مسکین ہوندیہ ہوند حق آسہ پٹھ واجب اوس طعام کھیواوان  
 وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ بیه آس تمن لوکن سیت شامل سپدان یم دین حق یعنی اسلام باطل  
 کرخ کوشش کران آس وَكُنَّا نَكْذِبُ بِیَوْمِ الدِّینِ بیه آس اہمز زانت انکار کران قیامتہ کس  
 دوہس حَتَّىٰ آتَيْنَا الْیَقِينَ یوتان اتھ حالس اندراسہ مرئک وقت ووت یعنی یمو حال تو نشہ آے نہ  
 آس باز تا اینکه اتھ نافرمانی ہندس حالس پٹھ مُودِ اَسِ فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّفِيعِينَ پس دیہ نہ کانہ  
 نفع تہ فاندہ تمن شفاعت کرہ ونین ہنز شفاعت یعنی تمن کرہ نہ شفاعت تہ سفارشی کانہہ تمن یلہ  
 امہ کفر و اعراضہ موکھ یہ حالت ہنہ فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ مُعْرِضِينَ پس کیاہ گو تمن کہ تم چھہ امہ  
 قرآنہ کہ نصیحت نشہ یوتھ پھران تہ روگردانی کران تہ ژلان کَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ ﴿۴۳﴾ فَرَّتْ مِنْ  
 قَسْوَرَةٍ زن تم چھہ جنگلی تہ وحشی کھر یم سہ و پھت چھہ کھر کھ کھوان تہ ژلان۔ امہ تہندہ ژلنک وجہ  
 چھو کہ تم چھہنہ پنہ خیالہ قرآن مجیدس کافی دلیل زانان بَلْ يُرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمُ أَنْ يُؤْتَىٰ صُحُفًا  
 مُنشَرَةً ﴿۴۵﴾ بلکہ چھو تمواندرہ پرت اکھاہ پڑھان کہ تس نعیہ گڑھہ واتن آسانی خطاہ وارہ مزہ رواوت۔ ہتھ  
 خطس اندر بو صاحت لکھت آسہا خدایہ سندہ طرفہ خصوصی طور تہندہ ناوہ کہ توه کری حضرت محمد ﷺ سنز  
 متابعت اللہ تعالیٰ چھو فرماوان کَلَّا تہ ہنہ نہ ہرگز کیا زہ اچ چھہ ضرورتھ نہ چھہ یمن تیج لیاقت تہ  
 قابلیت یہ درخواست کرنگ وجہ چھو نہ یمن کیا چھو دلن اندر پڑھ کرنگ پختہ ارادہ بَلْ لَا  
 یَخَافُونَ الْآخِرَةَ ﴿۴۶﴾ بلکہ چھو یہ درخواست کرنگ وجہ کہ یمن چھہنہ آخر تیج پڑھی یمن چھو نہ

# يَخَافُونَ الْآخِرَةَ ۝۵۴ كَلَّا إِنَّهُ تَذَكَّرٌ ۝۵۳ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۝۵۵ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۝هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَآهْلُ الْمَغْفِرَةِ ۝۵۶

آخر تک عذابِ خوفِ بے تمی چھو نہ میں پوزھا ٹنگ خیالے کا نہہ **کَلَّا** یلہ وین تہندہ در خواست کرنگ باطل آسن ثابت سپد۔ لہذا بہ نہ تہ ہرگز بنت تیج تم خواہش کران چھہ **إِنَّهُ تَذَكَّرٌ** بلکہ چھویہوی قرآن مجید وعظ نصیحتہ خیطرہ کافی بیہ گوئے خصوصی وعظ چھہ نہ نہ ضرورت **فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ** اتھ گن نظر کرت بس امہ قرآن مجیدہ سیت نصیحت رٹن یشہ۔ سورٹن نصیحت یس نہ یشہ سومہ رٹن گوہن گرفتار جہنمہ کس عذابس۔ اسہ چھہ تہنہز۔ کانہ ضرورت کہ تس نشہ کیا سوڑا اس خصوصی صحیفہ **وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ** بیہ کہہ کرن تم نصیحت قبول یوتان نہ اللہ تعالیٰ تہوند نصیحت قبول کرن یشہ تمسندس نہ یشہن اندر چھہ بچہ بچہ حکمہ باوجود آن چھو ضرور قرآن مجید بوڈوعظ تہ بہ نصیحت لہذا گڑھہ امہ سیت نصیحت رٹن تہ خدایہ سزاطاعت وفرماں برداری کرن کیا زہ **هُوَ أَهْلُ التَّقْوَىٰ وَآهْلُ الْمَغْفِرَةِ** سوی چھو سوزات پاک یسندس عذابس کھوژن شوہہ بیہ چھو سوی لایق بندن ہندن گنہن بخشایش کرنس یعنی انسانے ڈٹھ کیتھ گناہ کرہ توپتہ یلہ سو تقویٰ چہ وتہ پختہ تس کھوژہ توپتہ کرہ توبہ گنہن مگس بخشایش سو پروردگار کر یس سارنی گنہن مغفرت توبہ کرس قبول۔ چنانچہ اکس حدیث شریفس منز چھو آمت یس بروایت انس بن مالک چھو کہ حضرت آنحضرت تو ہر کہ دودھ یہ آہ کریمہ کریمہ فرموو کہ قال ربکم عزوجل انا اهل ان اتقى فلا يشرك بى شىء. فاذا اتقانى العبد فانا اهل ان اغفر له یعنی بوچھس ہتھ لایق کہ بندہ کھوژن مہ توپتہ ٹھہراونم نہ کا نہہ اکھاہ کونہ چیزس تہ کونہ کامہ منز شریک توپتہ یلہ بندہ مہ کھوژ شر کہ نشہ سپد پاک تمہ ساتہ چھو میون شان ای زہ بو کرہ ٹھہرین گنہن مغفرت۔ (اللہ تعالیٰ تھاون اسہ پتہ نہ فضلہ ورحمتہ سیت ہمیشہ ایمان و توحیدس پٹھ قائم بیہ کرن سائین سارنی گنہن بخشایش۔ آمین یا رب العالمین)



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ ۱ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ۲

لَا أُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ بوچھس قسم ہاوان قیامتہ دوھک وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ بیہ چھس  
 بُوقسم ہاوان تمہ نفسک لیس پان پانس ملامت کرہ محققو چھو لکھمت کہ انسانس چھو نفس اکوی مگر تمہ کیو  
 تر یو حالو منز چھہ تھہ ترہ ناو۔ اگر انسانہ سند نفس آسہ مائل عالم علویس کن تو پتہ آسہ اللہ تعالیٰ سنز عبادت  
 تہ فرماں برداری کران۔ بیہ آسہ تس شریچ پیروی کر نس سکون و قرار محسوس سپدان تھہ نفس چھہ  
 و نان نفس مطمئنہ اگر تھوند نفس عالم سفلیس کن مائل آسہ دنیا کیل لذت تہ نفعہ خواہش اندر آسہ  
 بوڑمت تو پتہ آسہ بیچھہ کائین تہ بدین کن رغبت کران شریعتہ چہ پیروی نشہ آسہ ژلان تہ گریز کران  
 تھہ چھہ و نان نفس امارہ ہر گہ کونہ وقتہ عالمہ سفلیس کن آسہ نمان شہوتن تہ خواہش منز آسہ مبتلا سپدان  
 تہ کونہ وقتہ آسہ عالم علویس کن مائل سپدت یکن چیزن بیچھہ تہ خراب زانت دور ژلان، بیہ آسہ یمو  
 کامیو سبہ بہ شرمندہ تہ نخل گڑہت نادم تہ پشیمان سپدت پنہ نس پانس ملامت تہ کرڈہہ پریت کران تھہ  
 چھہ دپان نفس لوامہ یہوی مضمون ایہ بیہ طریقہ تہ بیان کرنہ کہ انسانہ سوند دل چھو گوڈ گوڈہ نفسہ چن  
 خواہش گندہ نس تہ بے ہودہ کائین منز بوڈ تھہ غرق گڑہان نیکن کن چھس نہ رغبتی آسان سوگو نفس  
 امارہ تو پتہ چھوس ہوش یون روت تہ بیچھہ چھوس فکرہ تران پالیس چھو ہیوان پیون بیچھہ کامیو نشہ چھو باز  
 ہیوان یون محسوس چھو ہیوان کرن کہ مہ کوریہ نہ کرن گڑہہ پنہ نس پانس چھو ملامت ہیوان کرن۔ سو  
 گو نفس لوامہ تو پتہ یلہ پنہ نس پانس درست کران تہ سنبھالان چھو۔ دلہ سیت چھو نیکن کن رغبت  
 کران۔ بے ہودہ تہ ناجائز کامیو نشہ چھو خود بخود دور روزن ہوان بیچھہ کائین کرہ نچ چھہ کتھے تمن ہند  
 تصور کرنہ سیت تہ چھو تکلیف تہ انقباض محسوس کران۔ تھہ چھہ و نان نفس مطمئنہ، یتس چھو اللہ تعالیٰ  
 نفس لوامک قسم ہاوان کیا زہ اگر کانہ فطرت سلیمہ آسان چھو سو چھو خود بخود دنیا س اندری بیچھہ  
 کائین پیٹھہ نادم تہ پشیمان سپدت پنہ نس پانس اصلاح کران یتس چھو جواب قسم محذوف کیا زہ امہ پتہ

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ ۝۳ بَلَىٰ قَدَرِيْنَ  
 عَلٰى اَنْ تُسَوِّىَ بِنَانِهِ ۝۴ بَلْ يُرِيْدُ الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ  
 اِمَامَهُ ۝۵ يَسْئَلُ اَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۝۶ فَاِذَا بَرِقَ  
 الْبَصْرُ ۝۷ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۝۸ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۝۹  
 يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَقَرُّ ۝۱۰ كَلَّا لَا وَاُزْرًا ۝۱۱ اِلٰى

ہم آیات چھ تھے پیٹھ دلالت کران سو جواب قسم چھو کہ توہ ساری اُوبیہ دوبارہ مر نہ پتہ زندہ کرنہ قبرو  
 اندرہ کڈت محشرہ کس میدانس اندر سو نبراونہ اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَنْ نَجْمَعَ عِظَامَهُ کیا انسان  
 چھا خیال کران کہ اَس کیا ہونہ ہر گز تہنرہ اڈچہ سو نبروات تہ جمع کرت انسانہ اندرہ چھو مراد کافر بلی  
 قَدَرِيْنَ عَلٰى اَنْ تُسَوِّىَ بِنَانِهِ اَس کرو کہ ضرور اڈچہ جمع، تہ چھونہ اسہ نشہ کینہہ دشوار تہ مشکل  
 کیا زہ جہ اڈچہ جمع کرنہ کیا چھ کتھے اسہ چھہ قدرت تمسزہ لو کچہ اڈچہ یعنی او کچہ ٹینڈ تان سو نبرانس جمع  
 کرنس تہ پندہ پندہ جایہ برابر کرنس پٹھ قدرت لیس حصہ بدنک سانہ نظرہ اندرہ مشکل چھو واٹن تہ برابر کرن  
 تھہ پیٹھ یلہ تس قدرت چھہ تمہ گیہ نچہ نچہ اڈچہ بد نچہ وُن کیاہ عجائب چھو تس نشہ ہڈ ہڈ تان جمع کرن  
 لیکن بعض لو کہ چھنہ خدایہ سندس قدر تس منز غور کران تھی چھہ قیامتس انکار کران بَلْ يُرِيْدُ  
 الْاِنْسَانُ لِيَفْجُرَ اِمَامَهُ بلکہ چھو انسان قیامتس انکار کرت یڑھان کہ آئندہ پینہ نہ زندگی اندر  
 خوف تہ خطرہ ورا ی فسق و فجورس اندر رودیون يَسْئَلُ اَيَّانَ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تھی چھو بطریق انکار  
 پر ژھان کر کمہ دوہ تہ تھہ سنس منز آسہ سو قیامت یینہ چھو سو ٹھٹھ پاٹ تہ ٹسنہ پاٹ سوال کرن پس  
 بوزنا دیون فَاِذَا بَرِقَ الْبَصْرُ \* وَخَسَفَ الْقَمَرُ \* وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ پس یلہ اچھ خیرہ  
 گدھن بیہ یلہ زونہ گرهون لکھ زونہ کیاہ کتھے چہ بلکہ یلہ آفتابہ زونین جمع کرنہ تہ کنی حالت سپدہ  
 آفتابس تہ زونہ یعنی دو شون لکھ گرهون دو شوے سپدن گٹ تہ بے نور۔ ہم ہم حالات یلہ تمہ دوہ رونما  
 سپدن يَقُوْلُ الْاِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ اَيْنَ الْمَقَرُّ یہ مکر قیامت انسان گدھہ حیران بد حواس گدھت لکھ

رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ ۝۱۲ يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ  
بِمَا قَدَّمَ وَآخَرَ ۝۱۳ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ ۝۱۴  
وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ۝۱۵ لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ

وَن كوت گوه ژلن جایہ تہ چھین جایہ چھنا کونہ اللہ تعالیٰ چھو فرماون۔ کَلَّا ہرگز نہ لاوڈر  
ژلن جانی چھنہ کونہ ممکنی چھونہ کانہ کیا بھہ ژلت اِلٰی رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ تمہ دوہہ آسہ  
سارنی پنہ نس پروردگارہ سزدرگاہ اندر تہ عدالتس اندر حاضر سپن تہنہ پٹیشی اندر ایستادہ روزن  
تہمدسی فیلس پیازن توپتہ چھوس تہہ جایہ واتن یمہ جایہ ہوند سو فیصلہ کریس جتس یا نارس منز  
يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَآخَرَ تمہ دوہہ ایہ امس انسانس کرمت تہ کر اومت پیوم تہ  
بروٹھیوم سو روی یاد پاونہ بلکہ جھنہ تس باونچ ضرورتہ بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ بلکہ چھو  
یہ انسان پنہ نس پانس پیٹھ پانہ دلیل تس چھ پنہ نین کر توتن ہنز پانس خبری وَّلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ  
اگرچہ بروٹھ کن تراوتن سوڈٹھ کتھ عذر تہ ہیانہ تم چلن نہ تمہ دوہہ کینہہ ونہ ناووکہ تمسد تان تہ  
سوروی یہ تم کرمت آسہ، لہذا عذر تہ ہیانہ یا انکار کرہ نچ روزنہ گنجایشی۔ یمہ آہ کریمہ يُنَبِّئُ الْإِنْسَانَ  
منزہ درای زہ مضمون۔ اھ مضمون گو کہ اللہ تعالیٰ چھو سو روی زانہ ون۔ سارنی چیزن احاطہ کرہ ون  
تس نشہ چھونہ کھٹمت کینہہ تہ دوئم مضمون گو کہ اللہ تعالیٰ سند طریقہ چھو کہ یلہ سویشان چھہ باقتضاء  
حکمت چھو سو تم علم تہ تم واقعات مخلوقن ہنزہ ذہنہ اندر حاضر کران، یم تہمدس ذہنس نشہ غائب  
تہ پوشیدہ آسن چنانچہ تی سپدہ لوکن ہوند حال قیامتک دوہ، ستیوم تہ پیوم پیہ تمن پانے خود بخود یاد۔  
یلہ یہ سانہ قدرنچ حقیقت تہ کیفیت چھہ تہہ کیا حض چھو یار سول اللہ پنہ نس پانس تکلیف ووان وحی  
نازل سپدہ کہ وقتہ چھو جبریل امینس سیت سیت پران۔ بوزان تہ چھوہ پران تہ چھوہ محض یمہ اندیشہ  
مؤک کہ وحیک کانہ حصہ ماروزہ غیر محفوظ تہ ذہن مبارکہ منزہ نیرہ نیر۔ تہہ کیا زہ چھوہ اندیشہ کران۔  
یلہ اسہ تہہ پیغبر بناوہ تہہ نشہ چھو اسہ تبلیغ کام ہن۔ سانی کام چھہ تم ساری مضامین تہہ ہنزہ ذہنہ  
مبارکس اندر جمع کرن تہ محفوظ تھاون۔ تہہ کیا زہ چھوہ تمیوک غم بران تہ محنت و مشقت برداش کران  
لَا تُحَرِّكُ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بہ مہ آسیو تہہ زبان مبارکس حرکت کران وحی موکلنہ بروٹھ

بِهِ ۱۶ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ ۱۷ فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ  
 قُرْآنَهُ ۱۸ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ۱۹ كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ  
 الْعَاجِلَةَ ۲۰ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ۲۱ وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ۲۲  
 إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ۲۳ وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ أَبْسُرَةٌ ۲۴ تَنْظُنُّ

یہ خیال کہ جلدی سان کرہا یوحیک الفاظ یاد کیا زہ **إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ** بے شک اسی چھو  
 مٹ یہ قرآن مجید تو ندس دل مبارکس منزع جمع کرن بیہ چھو اسی مٹ تہوندہ زبان مبارک کہ یہ پرہ ناون  
**فَإِذَا قَرَأَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ** پس یلہ اُس یہ قرآن مجید پران آسو یعنی سون فرستادہ ملک جبریل امین  
 یلہ یہ پران آسہ تہوند ذہن تہ فکر گروہ تمہ ساتھ امہ کس بوزنس کن متوجہ تہ تابع روزن، سیت سیت  
 پرنس سیت گروہنہ مشغول روزن **ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ** تمہ پتہ یلہ توہ لوکن بروٹھ کنہ بیان آسہ  
 کرن، تمہ ساتھ تہوندہ زبان مبارک کہ یہ بیان کرہ ناون چھو سانی مٹ یہ مضمون ضمنی طور بیان کرت چھو  
 بیہ قیامتہ کین مکن کن خطاب یوان کرنہ۔ ای منکر انسانہ ہتین تہ بروٹھمن عملن پٹھ مطلع کرنہ یون  
 سپدہ ضرور قیامتک دوہ۔ توہ لوکن چھو خیال کہ قیامت سپدی نہ قائم **کَلَّا** یہ تہوند خیال چھو نہ  
 ہرگز صحیح توہ چھنہ اتھ پٹھ کنہ دلیل حقیقتس اندر چھتھ کتھ بیے کہ **بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ** بلکہ چھو توہ  
 دنیاک محبت تھواون تمکسی محبتس منز چھوہ توہہ بڈت گمت **وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ** آخرتہ نشہ  
 غافل سپدت چھون سو بس پشت تراوان تہوندہ قیامتس انکار کرنگ بنا چھو دنیاک محبت۔ لہذا زانیو تہوہ  
 وارہ کہ قیامت سپدہ قائم ضرور۔ پرت اکھاہ ایہ پنہ نمین عملن پٹھ مطلع کرنہ تو پتہ ایہ پرت اکس تمس  
 عملن ہنز مزدور دنہ رژن عملن رژ مزدور پچھ عملن پچھ مزدور سمیوک تفصیل تھہ پاٹ چھو **وَجُودٌ**  
**يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ** واریاہ بوتھ آسن تمہ دوہہ بارونق تروتازہ **إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ** تم آسن پنہ نس  
 پروردگارس کن وچھان لذت دیدارہ سیت آسن سرشار، ہشاش تہ بشاش بیٹنہ اسہ وین تہ پٹھلہ وین  
**وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ أَبْسُرَةٌ** واریاہ بوتھ آسن تمہ دوہہ بے رونق تہ ذکر اوت تہ یوم لد تھ **تَنْظُنُّ** اُن



أَنْ يُفْعَلَ بِهَا فَاقْرَأْهُ ۖ كَلَّا إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ ۙ  
 وَقِيلَ مَنْ سَنَّىٰ رَاقٍ ۙ وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ ۙ وَالتَّقَتِ  
 السَّاقُ بِالسَّاقِ ۙ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ ۙ  
 فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّىٰ ۙ وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۙ  
 ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ ۙ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۙ

يُفْعَلَ بِهَا فَاقْرَأْهُ تمَن لو کن آسن زانتھی کہ تمَن سیت سپدہ سوی معاملہ نئس تہند کمر پھڑا وہ ون  
 آسہ یعنی تمَن آیہ کرنہ عذاب شدید۔ امہ پتہ چھود نیاء کس مجتہس پٹھہ زجر یوان کرنہ کہ ای انسانہ  
 ژہ اوسکھ دنیاء س محبوب زانان تہ آخرتس ناپسندتہ نامرغوب زانان کَلَّا سوکھہ چھنہ کیا زہ امہ  
 دنیاء نشہ چھہ ژہیہ اکہ نتہ اکہ دوہ مفارقت تہ جدائی کرن تو پتہ چھوی ژہ بہر حال آخرتس گن وائُن  
 إِذَا بَلَغَتِ التَّرَاقِيَ یلہ زوواتان چھو ہر س پٹھہ یعنی انسان چھو مر نہ لگان وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ  
 تمہ ساتہ چھو نہایت حسرتہ کن و نہ نہ یوان یعنی بیمار دار چھہ تمہ ساتہ ونان کانہہ یرن و ولاہ چھو نائس  
 تمس چھو کھادہ دیہ ہایا کانہہ علاج کرہ دناہ حکیمماہ چھونا وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ سومرہ ون چھوپانہ یقین  
 کران کہ یہ چھود نیاء نشہ عزیزن تہ رشتہ دارن نشہ جداسپد نلک وقت وَالتَّقَتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ  
 موچہ سختی سیت ہتھس اکھ گرز بیس گرزہ ول نہ یوان۔ یہ چھو علامت سكرات الموتک إِلَىٰ رَبِّكَ  
 يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ یلہ یژہ حالت پیش یوان ہتھہ، دپنہ چھو یوان امس مرہ ونس، کہ ژہ چھہ از  
 پنہ نس پروردگار س گن چکن تو پتہ خدا یس نشہ واتنہ پتہ اگر سوخض کافر آسہ تمسند حال آسہ سینٹاہ خراب  
 کیا زہ فَلَا صَدَقَ وَلَا صَلَّىٰ کیا زہ تم آسہ کرمت تصدیق تہ پڑہ کنس خدا یس تہ پیغمبر برحقس بیہ  
 آسین نہ پر مشر نماز وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ لیکن تم کربجای تصدیق انکار و تکذیب بیہ بجای نماز  
 ونیاز کرن سخت اعراض ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ اعراض کرت تہ بو تھہ بھرت تن گرہ گن  
 چکن یژہ ماران زن تم لاس لہمت لاس بند کومہ کر مشر آس اَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ \* ثُمَّ اَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ

ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ۗ ﴿٣٥﴾ أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ  
يُتْرَكَ سُدًى ۗ ﴿٣٦﴾ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مِّمِّي يُمْنِي ۗ ﴿٣٧﴾  
ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ ۗ ﴿٣٨﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ  
الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ ۗ ﴿٣٩﴾ أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ  
يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ ۗ ﴿٤٠﴾

ای بد بخت چانه بد بختی تباہی تہ خرابی ہوند وقت ووت، اکئی خرابی نہ بلکہ اکہ خرابی پتہ بیاکھ خرابی اکہ تباہی پتہ بیاکھ تباہی اَیْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى کیا یہ انسان چھا گمان کران کہ سو کیا ایہ تراونہ لیے تس کیا ایہ نہ آزمائش کرنہ امر ونہی کیوا حکا موسیت۔ تو پتہ کیا ایس نہ پر تھ نہ حساب ہینہ۔ بلکہ چھو سو یقینا مکلف۔ یہ ایہ تس یقینا حساب و کتاب کرنہ جزاء و سزا ونہ یہ انسان اوس مر نہ پتہ زندہ سپد نس محال زانان پتہ آیتہ آس امسز کمال حماقت اَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مِّمِّي يُمْنِي کیا مس چھنا پنون ابتداء معلوم کیا یہ اوسنا گوڈہ محض اکہ منی قطراہ یس پشپا ونہ آوزانہ ہندس شمس تہ بچہ دانہ اندر ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً تو پتہ بیوتھ منی قطرس خونہ و تھاکھ فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ تو پتہ کرتھ اللہ تعالیٰ ان پیدہ اکھ انسان تس کرن اعضاء بدن برابر فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ امسی انسانس کر اللہ تعالیٰ ان زہ قسم زتہ مادہ۔ مرد تہ زنانہ اَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ کیا یہ قادر مطلق یم پتہ نہ قدر تہ سیت ابتداء یہ سوروی کینہہ کور اگس بیجان قطرس کرن عاقل تہ دانا انسان پیدہ سو بھہ نامرنہ پتہ بیہ دوبارہ تس پیدہ کرت۔ حدیث شریفس منز چھو آمت من قرأ سورة القيمة وقرأ فيها أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيِيَ الْمَوْتَىٰ فليقل بلى إنه على كل شئ قدير یعنی یس سورہ قیامت پرہ تو پتہ پرہ تمیوک پیوم آ یہ کریمہ اَیْسَ ذَلِكَ الْإِنْسَانُ سُوپر ن بلی ! لسخ اودہ سو پر تن نمازہ منز یا نمازہ ورا ی یس یہ سورہ شریفہ پرہ ون آسہ تس چھو حکم امہ پتہ بلی پر ن۔ بوزہ ونس چھونہ پر نگ حکم۔ اتھے پاٹھ چھہ اما مسی یوت پر ن مقتدرین چھنہ پر ن کیا زہ لفظ حدیث چھو من قرأ اتھ منز چھونہ من سمع یعنی یس بوزہ یہ آ یہ کریمہ تھوند گوڈہ نہ پر ن واره گوڈہ تامل کرن۔



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 هَلْ اٰتٰی عَلٰی الْاِنْسَانَ حَیْنٌ مِّنَ الذَّهْرِ لَمْ یَكُنْ شَیْئًا مَّذْکُوْرًا ۝۱  
 اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ ۖ نَّبْتَلِیْهِ فَجَعَلْنٰهُ  
 سَبِیْعًا ۙ بَصِیْرًا ۝۲ اِنَّا هَدٰیْنٰهُ السَّبِیْلَ اِمَّا شَاکِرًا ۙ وَاِمَّا  
 کَفُوْرًا ۝۳ اِنَّا اَعْتَدْنَا لِلْکٰفِرِیْنَ سَلَیْلًا ۙ وَاَعْلًا ۙ وَسَعِیْرًا ۝۴

هَلْ اٰتٰی عَلٰی الْاِنْسَانَ حَیْنٌ مِّنَ الذَّهْرِ لَمْ یَكُنْ شَیْئًا مَّذْکُوْرًا بے شک اس انسانس پچھ گذر یوزمانہ منز  
 اکھ وقماہ بیتھ و قس منز اوس نہ سوکانہ چیزہ زیوہ پیٹھ ہیون لایق یعنی قابل ذکر۔ انسان اوس نہ بلکہ اوس  
 نطفہ تمہ بروٹھ اوس غذا تمہ بروٹھ اوس چیز جماد اتواندر اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ اسی  
 گر پیدہ یہ انسان ملناوندہ آتس آب نفطس یعنی مردہ سندس آبس تہ زنانہ ہندس آبس سیت ملناوت  
 کیاہہ زنانہ ہنز منی چھ اندر اندری تہندس شمس یعنی بچہ دانہ اندر جمع سپدان توپتہ چھ تم دوشوے  
 آب پانہ وان رلان تہ ملناوندہ یوان تھہ چھ انسان بنان بیتہ ہمہ معنی آستھ کہ سوادہ چھو  
 مختلف چیز و سیت مُرکب آسان سپد مُت غرض اِتھسے نفطس کر پیدہ اسہ یہ انسان  
 نَّبْتَلِیْهِ فَجَعَلْنٰهُ سَبِیْعًا ۙ بَصِیْرًا یہ طریقہ کہ اس کر سو مگت یعنی پنہ نین حکم امر تہ نہی  
 واتاؤ و تس نشہ دپوس یہ کرتہ یہ نہ۔ امی سیت کرو آس تس آزمائش تہ امتحان تمی موکھ کر اسہ  
 سو بوزہ ون تہ وچھ ون بیہ کور اسہ تس عقل و فکر عطا غرض کہ سو بیت تہ تم صفت کر اسہ تس عطا یبو  
 سیت تمس اندر مکلف بہ نچ قابلیت سپز پیدہ۔ تمہ پتہ یلہ تس مکلف بہ نگ وقت ووت اِنَّا هَدٰیْنٰهُ  
 السَّبِیْلَ اِمَّا شَاکِرًا ۙ وَاِمَّا کَفُوْرًا اسہ کر یو مطلع رزن کامن پٹھ تہ بچھ کامین پیٹھ توپتہ ہاوس اسہ  
 سیز و تھ یعنی پنہ نیوا حکا موسیت کور اسہ تس گن خطاب۔ تمہ سیت سپد سویا شکر گزار با ایمان۔ یاسپد

إِنَّ الْأَبْرَادَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ۗ  
عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَ نَهَا تَفْجِيرًا ۖ يُوفُونَ  
بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ۗ وَيُطْعَمُونَ  
الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا ۗ وَأَسِيرًا ۗ إِنَّمَا نَطْعَمُكُمْ

ناشکر گزار کافر یعنی یہ وہ تہ دہن دوپ پکن ہر گہ تمی وہ تہ پوک تلہ گو با ایمان۔ ہر گہ تمہ وہ تہ پوک نہ تلہ گو کافر۔ وین چھو بیان یوان کرنہ یمن دوشون ہیوند جزا سزا **إِنَّمَا نَطْعَمُكُمْ** ایسا کھانا لکھن سلسلا و آغللا **وَسَعِيرًا** اسہ چھو تیار تھاومت کافرن ہندہ خیترہ ہانکہ تہ طوق بیہ دزہون نار **إِنَّ الْأَبْرَادَ يَشْرَبُونَ** **مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا** بے شک ہم نیوکار آسن تم جن جٹک شراب طہور پیلاو سیت ہتھ شراب طہورس ملانوانہ آسہ آمت جنتہ کہ کافورہ منزہ مویہ ہنہ جنس منز چھواکھ چشمہ یعنی اکھ ناگہ بس اللہ تعالیٰ ان چھو مخصوص کرمت مقرب بدن ہندہ خیترہ سو آسہ خوشبو تہ فرحت افزانہ سفید تمی مناسبہ آسہ و منہ کافور **عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَ نَهَا تَفْجِيرًا** اکھ چشمہ بیہ منزہ جن اللہ تعالیٰ سند خاص بندہ۔ تھہ آسن تم خاص بندہ پھر ان یوگن تمن خوش آسہ کر ان سو آسہ بون گن پکان ہیور گن پکان چتچہ جو یہ آسن جنتین تابع تہندہ اشارہ سیت توکن پکان یوکن تہنز خواہش آسہ۔ درمثورس اندر چھہ اکھ روایت کہ جنتین آسن اتھن منز سونہ سزہ لورہ تموی سیت آسن جوین گن اشارہ کر ان تمہ جو یہ آسن تہندہ اشارہ سیت تھہ طرفس پکان ہتھہ طرفس گن تہنز خواہش آسہ گھشان **يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا** تم عباد اللہ خدایہ سند بندہ گے تمہ ہم پورہ چھہ کر ان تمہ واجبات یعنی نذر و نیاز ہم تمویانس پٹھہ مہ ہمت آسان یلہ تمہ پانے مہ ہمت چیز پورہ کر ان چھہ وین ہم چیز اللہ تعالیٰ پانے چھہ تمن پیٹھہ واجب تہ مہ کر ان تمن چیزن ہنز چھنہ کتھہ کہ تم کتھہ پاٹھہ آسن پورہ کر ان۔ واجبات ربانی چھہ کمال اخلاص پورہ کر ان کیازہ تم چھہ کھوژان تھہ دوس یہ دوچ تختی عام آسہ پرت اکس وانہ وین الامشاء اللہ **وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا** تم



وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِأَنْبِيَاءٍ مِّنْ فَضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ۝<sup>۱۵</sup>  
 قَوَارِيرًا مِّنْ فَضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ۝<sup>۱۶</sup> وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا  
 كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا ۝<sup>۱۷</sup> عَيْنًا فِيهَا سُسْبِيلًا ۝<sup>۱۸</sup> وَيُطَوَّفُ  
 عَلَيْهِمْ وَلَدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ۚ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا  
 مَّنثورًا ۝<sup>۱۹</sup> وَإِذَا رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ۝<sup>۲۰</sup>

جنتہ کین کلین ہوند خوشگوار سایہ آسہ تمن نکھ تل وذلکت قُطُوفُهَا تَذَلُّلًا نمرانہ آسہ آمت  
 تمن کلین ہوند میوہ تیوت کہ تکلیف و مشقت و رای آسن تم سومیوہ استعمال کرت پرت حاس اندر  
 ودنہ بہت بہت شوبخت تہ۔ سو آسہ تمن تابع تھانہ آمت ہتھ پاٹھ خوش آسکھ کران تھہ پاٹھ آسن  
 کھوان و یطاف علیہم بانبیاء من فضة و اکواب کانت قواریرا \* قواریرا من فضة بیہ ین تمن نشہ  
 کھنہ چنک چیز پیش کرنہ روپہ سندین بانن تہ روپہ سندین ژ کدارا بخورن منزیم روپھ ہی آسن سفید  
 شیشہ ہی آسن شفاف تہ صاف۔ روپھ سند آستھ آسن شیشہ ہی شیشو آستھ آسن روپھ ہی قَدَّرُوهَا  
 تَقْدِيرًا بیہن آبخورن منز پھرن وال اکہ خاص انداز موجب پھران آسن تہ ہتھ گُن جنتین خواہش  
 گڑھان آسہ و یُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا بیہ ین جنتی تمن جنتن اندر تمہ شرابہ علاو  
 ہتھ کافور ملانوانہ آسہ آمت بیہ تہ بیاکھ قسم شرابگ چاونہ، ہتھ منز شونٹھ ہیوندا نقہ تہ مزہ لبنہ یوان  
 آسہ۔ عَيْنًا فِيهَا سُسْبِيلًا امہ قسمہ شرابک تہ آسہ اکھ چشمہ ہتھ تہ ونہ نہ آسہ یوان سلسبیل  
 و یطوف علیہم ولدان مخلصون بیہ آسن تمن برو نھن کن چیز بیت یوان گڑھان تم خوب صورت  
 لوکت بچہ یم تمہ قسمہ حسین و جمیل آسن کہ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثورًا بلہ ژہ ای  
 مخاطب تم و جھبک اورہ یور کران ژہ کرکھ گمانہ یم ماچھ ہتھ کرنہ آمت نختہ پھل تھہ آسن تم نندہ بان  
 و إِذَا رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ای مخاطب جنتک حال کیاہ آیہ ونہ، سو سپدی ژہ تمیلہ  
 معلوم بلہ ژہ پانہ و چھک۔ و چھک ژہ کمہ کمہ عظیم الشان نعمہ بیہ شہاہ ہڈ سلطنت یوسہ ادنی جنتیس عطا آیہ

عَلَيْهِمْ شِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ  
 مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَمَهُمْ رُبَّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ﴿۳۱﴾ إِنَّ هَذَا كَانَ  
 لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا ﴿۳۲﴾ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ  
 الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا ﴿۳۳﴾ فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا تَطِعْ مِنْهُمْ آيَةً  
 أَوْ كُفُورًا ﴿۳۴﴾ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿۳۵﴾ وَمِنَ اللَّيْلِ

کرنہ سوگیہ کہن دنیاءن برابر عَلَيْهِمْ شِيَابٌ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ پٹھیوم پوشاک تہوند آسہ  
 زایول سبزپوٹ تہ سوت وونموت وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ بیہین لاگنہ جنتین روپہ سند کریمین  
 کرن ہیوند حسن و خوبی بیانے ہم نہ کانہہ کرت وَسَقَمَهُمْ رُبَّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا بیہ چاہہ تمن پنون  
 پروردگارہ پاک و پاکیزہ شراب بس نہ دنیاء ک شراب پاٹھ عقل زائل کرہون آسہ یاد بودار آسہ بلکہ  
 آسہ سومعطر تہ مشک دار، حدیث شریف منز چھو آمت لیس دنیاء کہ شراب اکھ قطرہ چہ سوسپدہ  
 محروم آخرتس اندر جنتہ کہ شراب طہورہ نشہ إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً وَكَانَ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا ونہ  
 ایک بے شک ای جنتیویہ چہ تو ہندہ خیطہ تو ہنز عملن ہنز مزر، تو ہنز کوشش تہ جدوجہد چھو  
 قابل قبول تہ قابل تعریف یہ بوزت گزہن جنتی زیادہ خوش۔ ای پیغمبر توه بوزوہ کہ تو ہندین موافقن  
 کوسہ رث مزرور آہ عطا کرنہ تہوند مخالفن کوسہ سزایہ دنہ لہذا مہ کریو توه ہنزہ مخالفن کانہ پروا۔ توه روزیو  
 مشغول پنہ نین کامین سیت إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ تَنْزِيلًا بے شک اسہ کرنازل توه یہ  
 قرآن مجید وارہ وارہ ہنہ ہنہ یو تھ توه تہ واتاویو لوکن وارہ وارہ تہ ہنہ ہنہ یہ سیت تمن آسانی سپدہ  
 وارہ وارہ زانن تم پنون نیک و بد۔ بیہ بیگھ زانن کمورتو و عملو سیت چھو حاصل یوان کرنہ رضای خدا ہرگہ  
 تھہ پاٹھ فکرہ تارنہ سیت تہ تم مانن نہ پنہ نی انکارس پٹھ روزن قائم فَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَلَا  
 تَطِعْ مِنْهُمْ آيَةً أَوْ كُفُورًا توه روزیو پنہ نس پروردگارہ سندس حکمس پٹھ مضبوط تہ محکم بیہ پیاریو  
 تہندس آخری فیصلس۔ توه روزیو بدستور تبلیغ و دعوت کران احکام الہی لوکن واتاوان اتھ اندر مہ مانیو


فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا ﴿۳۶﴾ إِنَّ هَؤُلَاءِ يُحِبُّونَ  
 الْعَاجِلَةَ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ﴿۳۷﴾ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ  
 وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ ۖ وَإِذَا شِئْنَا بَدَلْنَا مِثْلَهُمُ بَدِيلًا ﴿۳۸﴾  
 إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ ۖ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا ﴿۳۹﴾ وَمَا  
 تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ ۖ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿۴۰﴾

توہ کا نسہ فاسقہ سزیا کا فرہ سز کا نہہ کتھاہ۔ کافر واندرہ عتبہ تہ ولید وغیرہ آس نبی کریم صلی اللہ علیہ  
 وسلم دنیوی لالچ دتھہ تبلیغ و دعوت نشہ پتھہ رٹان اللہ تعالیٰ ان فرمود کہ کہ یمو منزہ یوتھہ نہ توہ کا نسہ  
 ہنز کتھہ مانبو۔ یہ تبلیغ و دعوت گیہ سو عبادت سمیوک فیض بین واتان چھوامہ پتہ چھو اللہ تعالیٰ تمہ  
 عبادتک حکم فرماون سمیوک فائدہ خاص پنہ نس ذاتس چھو وَاذْکُرْ اسْمَ رَبِّکَ بُکْرَةً ۙ وَاصْبِلًا ۙ بِیہ  
 آسیو پنہ نس پروردگارہ سُنْد نام پاک یاد کران خمس تہ شامس ۙ وَمِنَ الْاٰیْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا  
 طَوِيْلًا ۙ بیہ آسیو راز ہندس نمہ حصص منزتس سجدہ دوان امہ اندرہ چھو مراد شام نماز تہ خشن  
 نماز۔ بیہ آسیو تہنر پاکیا بیان کران شبہ کس زٹھس حصص منز۔ تمہ اندر چھو مراد نماز تہجد واللہ اعلم  
 اِنَّ هٰؤُلَاءِ یُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَةَ وَیَذَرُوْنَ وَرَآءَهُمْ یَوْمًا ثَقِيْلًا ۙ بے شک یم تہند دشمن یم نہ تہنر  
 نصیحت تہ ہدایت قبول چھہ کران یم چھہ دنیاک محبت تھواون تمی چھک نہ اتھہ و تھہ یوان تھونہ حکم  
 مانہ نس کن دنیاک محبتن چھہ تم ان تہ زر کرمت۔ بیہ چھہ تم تھکن تراوان سودوہ لیس گوب یعنی سٹھا مشکل  
 تہ خطرناک چھہ۔ بلکہ چھو یم تھہ دوہس انکاری کران۔ یم چھہ زانان کہ قبرہ ہنزہ مژہ منز روزت کوہ  
 کرہ اسہ بیہ پیدہ اللہ تعالیٰ چھک تھہ جواب فرماوان کہ نَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا اَسْرَهُمْ اسی کر تم گوڈہ  
 پیدہ اسی کر تھند بند تہ استخوان مضبوط۔ از تہ چھہ اسہ سو قدرت بدستور موجود۔ وَاِذَا شِئْنَا بَدَلْنَا  
 اَمْثَلَهُمْ بَدِيْلًا ۙ اَس ہر گاہ یرھو اَس ہکو بہنر موجودہ ہستی ختم کرت تو پتہ ہوک اس تمنے ہی سمو  
 بدل پیدہ کرت اِنَّ هٰذِهِ تَذْكِرَةٌ ۙ بے شک یہ سوروی یہ بیان آو کر نہ یہ چھہ اکھ نصیحتاہ زور جبر



# يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝۳۱

کرنچ چھنہ ضرورت فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا پس یس خوش کرہ یہ نصیحت بوزت سو کرن اختیار پنہ نس پروردگار س نشہ واتج و تھہ یہ قرآن مجید چھو یقیناً در ذات خود اکہ بند نصیحتاہ لیکن وَمَا كُنَّا نَعْلَمُ إِلَّا أَنْ يُشَاءَ اللَّهُ توه ہکینہ کانہ چیز یرھت مگر تی یہ اللہ تعالیٰ یرھہ بعضے لوکن ہندہ حقہ چھ آسان خدا یہ سندس نہ یرھنس اندر جہ جہ حکمہ کیا زہہ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا اللہ تعالیٰ چھ پانہ سیٹھاہ زان دول سٹھاہ حمہ وول يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ سولیس یرھان چھوتس چھو بیشک سٹھاہ رتھس منزواتناوان۔ یس یرھان چھوتس چھو شرک و کفر س بتلا کران شرک انہ موکھ چھہ تم ظالم بنان وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ظالمن ہندہ خیترہ چھوتس تیار تھاومت دگ تہ دود تلہ ون عذاب۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا ① فَالْعَصْفِ عَصْفًا ② وَالنَّشْرِ نَشْرًا ③ فَالْفَرْقَتِ فَرْقًا ④ فَالْمَلَقِيَّتِ ذِكْرًا ⑤ عُدْرًا أَوْ  
 نُذْرًا ⑥ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ⑦ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ ⑧ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ ⑨ وَإِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ ⑩ وَإِذَا الرَّسُلُ أَقْتَتْ ⑪ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ ⑫ لِيَوْمِ الْفُصْلِ ⑬ وَمَا أَدْرَاكَ

وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا قسم چھو تممن ہوا عن ہوندم نفع تہ فاندہ و اتاندہ خیرہ تراونہ چھو یوان  
 فَالْعَصْفِ عَصْفًا توپتہ چھو قسم تممن ہوا عن ہوندم تیزی سان پکان چھو یمن اندر خطرک  
 احتمال چھو آسان وَالنَّشْرِ نَشْرًا توپتہ چھو قسم تممن ہوا عن ہوندم ابرن تلت چھو تممن  
 مثر او ان، یمہ پتہ ادہ رود چھو ہیوان بیون فَالْفَرْقَتِ فَرْقًا توپتہ چھو قسم تممن ابرن ہوندم ابرس  
 چھ چھلہ کران، یوسہ صورت ابرس رود پنہ پتہ چھہ سپدان فَالْمَلَقِيَّتِ ذِكْرًا توپتہ چھو قسم تممن  
 ابرن ہوندم خدایہ سند یاد دلن منز تراوان چھہ۔ یا خدایہ سند خوف پیدہ کران چھہ عُدْرًا أَوْ نُذْرًا  
 تو بگ خیال یاد خدایہ سند خوف دلس منز پیدہ کران چھہ۔ امہ پتہ چھو جواب قسم سو گو لَانَّمَا  
 تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ یمہ چیزک توه توعدہ کرنہ یوان چھو سو چیز چھو ضرور واقع سپدہ ون یعنی قیامتک دودہ  
 فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ پس یلہ ستارہ گٹ تہ بے نور سپدن وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ بیہ یلہ آسمانس  
 وول گڑھن وَإِذَا الْجِبَالُ سُفَّتْ بیہ یلہ کوہین وڑہ نانہ وَإِذَا الرَّسُلُ أَقْتَتْ بیہ ساری پیغمبر مقرر  
 کرتس و قس پٹھ پنن پنن امتی ہیبت پیش ین کرنہ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ توه چھاکینہہ معلوم کہ کہہ

مَا يَوْمُ الْفَصْلِ ۝ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ أَلَمْ  
 نُهَلِكِ الْأَوَّلِينَ ۝ ثُمَّ نُنَبِّئُهُمُ الْآخِرِينَ ۝ كَذَلِكَ  
 نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ ۝ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ۝ أَلَمْ  
 نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ۝ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝  
 إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ ۝ فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ ۝ وَيْلٌ

دوہ خیطرہ اوس پیغمبرن ہوند معاملہ ملتوی آمت تھاونہ لیومر الفصیل سو معاملہ اوس ملتوی  
 تھاونہ آمت فیصلہ کہ دوہ خیطرہ و ما اذک ما یومر الفصیل توہ چھا معلوم کہ فیصلک دوہ کیو تھ  
 چھو۔ سو چھو سیٹھاہ سخت مشکل تہ خطرناک و یل یومئذ للکذبین سخت تباہی تہ مصیبتک  
 دوہ چھو قیامتس اپز زانہ و نین ہندہ خیطرہ منکرین قیامت چھ خیال کران کہ یہ تھ پاتھ ہندہ کہ ساری لوکھ  
 کیامر ن گھنہ انسان روزند دنیا س اندر موجود تمیوک جواب چھو اللہ تعالیٰ فرماوان کہ اَلَمْ نُهَلِكِ  
 الْأَوَّلِينَ \* ثُمَّ نُنَبِّئُهُمُ الْآخِرِينَ کیا سہ گال ناعذابہ سیت بروظھم لوکھ یم کفر و انکار کران  
 آس۔ تو پتہ تھاوکھ اس تمن تابع پتہ اوہ ون تہ یم تھندی پاتھ کفر و انکار کرن یوسہ ہستی الگ الگ  
 و نفس اندر بڈین بڈین مضبوط تہ طاقتور انسان ختم ہیچہ کرت سو ہستی ہیچنا سارنی نافرمان اکی وقتہ رتھ  
 تہ گرفتار کرتھ تمن عذابک مزہ ژہناو تھ کَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ تھ پاتھ چھ اس  
 نافرمان تہ جُر میں سزا دووان و یل یومئذ للکذبین افسوس تہ تباہی چھ تمہ دوہہ قیامتس اپز  
 زانہ و نین ہندہ خیطرہ اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ کیا سہ کردہ ناتوہ پیدہ اکہ بے قدر آبہ قطرہ  
 نشہ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ \* إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ تو پتہ تھاو سو آبہ قطرہ اکس محفوظ جایہ اندر، یعنی  
 ماجہ ہندس رُحس اندر اکس مقرر و نفس تان یعنی نون رتین تان فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ اسہ  
 کریم سارنی تصرفاتن ہوند اکھ خاص اندازہ پس کیو تھ رت اندازہ کردہ ون چھ اس تریہ فکرہ ژیہ  
 سین قدرت و یل یومئذ للکذبین و ون یم لوکھ پزن کھن اپزہ زانٹھ انکار کرن تھندہ خیطرہ

يَوْمَ مِذْيَلِ الْمَكِّدِ بَيْنَ ۳۳ ﴿۳۳﴾ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا ۗ ﴿۳۴﴾  
 أَحْيَاءَ وَآمَوَاتًا ۗ ﴿۳۵﴾ وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوَاسِيَ شِجَاتٍ ۙ  
 وَسُقَيْنَكُم مَّاءً فُرَاتًا ۗ ﴿۳۶﴾ وَيْلٌ يَوْمَ مِذْيَلِ الْمَكِّدِ بَيْنَ ۳۸ ﴿۳۸﴾  
 أَنْطَلِقُوا إِلَى مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكذِّبُونَ ۗ ﴿۳۹﴾ أَنْطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ  
 ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ ۗ ﴿۴۰﴾ لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُعْنِي مِنَ اللَّهَبِ ۗ ﴿۴۱﴾  
 إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِّ رِكَالِ الْقَصْرِ ۗ ﴿۴۲﴾ كَأَنَّهُ جِلْدُ صَفْرٍ ۗ ﴿۴۳﴾ وَيْلٌ  
 يَوْمَ مِذْيَلِ الْمَكِّدِ بَيْنَ ۳۴ ﴿۳۴﴾ هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ ۗ ﴿۳۵﴾ وَلَا


چھو افسوس تہ تباہی قیامتک دہہ اَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا \* أَحْيَاءَ وَآمَوَاتًا کیا اسہ کرنا یہ زمین  
 پائس منز زندن تہ مُردن جمع کرہ ون کہ زندگی تہ چھ ساری اتھ ز مینس پٹھ بسر کران تہ مر نہ پتہ تہ  
 چھ اسی مثرہ منزواتون امہ منزہ دوبارہ بیدہ کرن کیاہ مشکل چھواسہ نشہ وَجَعَلْنَا فِيهَا رِوَاسِيَ  
 شِجَاتٍ وَسُقَيْنَكُم مَّاءً فُرَاتًا بیہ کرناواسہ اتھ ز مینس پٹھ تھمد بال گبراونہ خیطرہ بیہ چاودناسہ  
 توبہ میوٹھ آب وَيْلٌ يَوْمَ مِذْيَلِ الْمَكِّدِ بَيْنَ ویل تہ افسوس بوین تمہ دوہہ منکران أَنْطَلِقُوا إِلَى  
 مَا كُنْتُمْ بِهِ تُكذِّبُونَ ونہ ایہ تمن منکران قیامت دوہہ توبہ پچو تھہ عذابس کن تھہ توبہ انکار کران  
 آسوہ أَنْطَلِقُوا إِلَى ظِلِّ ذِي ثَلَاثِ شُعَبٍ توبچو ترہ شاخل سائس کن لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُعْنِي مِنَ  
 اللَّهَبِ یس نہ ٹھور کرہ ون آسہ آفا پچہ گرمی نشہ نہ جھنمچہ پٹھہ نشہ بیہ آسہ فاندہ دووان پچاوک  
 جھنمہ چونا رہیونشہ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرِّ رِكَالِ الْقَصْرِ بے شک جھنم آسہ تراوان تمبہرہ تھرن لرن سومبہ  
 كَأَنَّهُ جِلْدُ صَفْرٍ زن تمہ تمبہرہ بون پنہ کہ وقت زردوونٹن سومبہ آسن کھنہ وزہ آسن تمہ تمبہرہ  
 لرن سومبہ وسنہ وزہ آسن وونٹن سومبہ وَيْلٌ يَوْمَ مِذْيَلِ الْمَكِّدِ بَيْنَ ویل تہ افسوس بوین تمہ دوہہ  
 انکار کرہ ونین هَذَا يَوْمٌ لَا يَنْطِقُونَ بیہ گو سوودہ بیمہ دوہہ نہ تم تھہ بیکن کرت وَلَا يُؤذِنُ لَهُمْ

يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَدُونَ ﴿۳۷﴾ وَيَلِيُّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۳۸﴾  
 هَذَا يَوْمُ الْفُصْلِ جَمَعْنَكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ﴿۳۸﴾ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ  
 كَيْدٌ فَاكِيدُوا ﴿۳۹﴾ وَيَلِيُّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۴۰﴾ إِنَّ  
 الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ وَعُيُونٍ ﴿۴۱﴾ وَفَوَاكِهِ مِمَّا يَشْتَهُونَ ﴿۴۲﴾  
 كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿۴۳﴾ إِنْ كُنْتُمْ  
 نَجُزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿۴۴﴾ وَيَلِيُّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۴۵﴾ كُلُوا

فَيَعْتَدُونَ بيه نہ رایہ تمن تھ کرہ تک اجازت دنہ یوتھ عذر خواہی کرہن۔ کیا زہ زارہ پارہ تہ توبہ  
 قبول سپد تک وقت آسہ گذر سمت وَيَلِيُّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ افسوس تہ ویل یوین تمہ دوہ انکار  
 کرہ ونین هَذَا يَوْمُ الْفُصْلِ جَمَعْنَكُمْ وَالْأَوَّلِينَ \* فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَاكِيدُوا بيه از یوک دوہ  
 چھو فیصلک دوہ تھ توہ انکار کران آسوہ دنیا س اندر اسہ کر وہ توہ ساری اولین آخرین جمع پس ہر گہ  
 توہ کانہہ تدبیرہ چھو اسہ نشہ موکلک سو تدبیر کریو استعمال توہ ساری اولین تہ آخرین رلت ملت  
 وَيَلِيُّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ افسوس تہ ویل یوین تمہ دوہ انکار کرہ ونین إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظِلِّ  
 وَعُيُونٍ ہنر پاتھ پر ہیز گار آن تمہ دوہ سایہ بان تل ناگہ رادن پیٹھ وَفَوَاكِهِ مِمَّا يَشْتَهُونَ بيه  
 تمن قسما تم میون منز میں گن تمن میل خواہش آسہ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ  
 ونہہ ایک کھیوتہ چھو یڈ بر تھ کیا زہ ٹوہ آسوہ نار تھہ کامہ کران إِنْ كُنْتُمْ نَجُزِي الْمُحْسِنِينَ بے  
 شک اس چھ اڑھی مزور دیوان نیو کارن وَيَلِيُّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ افسوس تہ ویل یوین تمہ دوہ  
 انکار کرہ ونین كُلُوا وَاشْرَبُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ اے نافرمانو تہ کافر توہ کھیوتہ تمتع  
 تلود دنیا س اندر کم کینہ کالاہ توہ چھو مجرم سزاوار عذاب وَيَلِيُّ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ افسوس تہ  
 ویل یوین تمہ دوہہ انکار کرہ ونین وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ادْعُوا آلَكُمْ لَعَنُوا بیلہ ونہ نہ یوان چھو تمن

وَسَمِعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُّجْرِمُونَ ﴿۳۶﴾ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ  
 لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۳۷﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ادْعُوا آلِيكُمْ قَالُوا  
 يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ﴿۳۸﴾ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴿۳۹﴾

خدا ایس کن نمولیعنی نماز پر یوتم چھنہ نماز و یل یومئذ للمکذبین افسوس تہ ویل یومئذ تمہ دوہ  
 انکار کروئین فبای حدیث بعدہ یؤمنون پس تھ سنا تھ پیٹھ کرن تم پڑھ تہ یقین قرآن مجید  
 پتہ۔ (آمنہ باللہ وحدہ)



## سُورَةُ النَّبَاِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 عَمَّ یَتَسَاءَلُوْنَ ۙ ۱ عَنِ النَّبَاِ الْعَظِیْمِ ۙ الَّذِیْ هُمْ  
 فِیْهِ مُخْتَلِفُوْنَ ۙ ۲ کَلَّا سَیَعْلَمُوْنَ ۙ ۳ ثُمَّ کَلَّا سَیَعْلَمُوْنَ ۙ ۴ اَلَمْ  
 نَجْعَلِ الْاَرْضَ مَهْدًا ۙ ۵ وَّ الْجِبَالَ اَوْتَادًا ۙ ۶ وَ خَلَقْنٰکُمْ  
 اَزْوَاجًا ۙ ۷ وَ جَعَلْنَا نَوْمَکُمْ سُبَاتًا ۙ ۸ وَ جَعَلْنَا اللَّیْلَ لِبَاسًا ۙ ۹

نقل چھو آمت کرنہ زہ یلہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نین پاٹھ لوکن دعوت حق کرن ہوت قرآن مجید کلام خدا بوزناوک لوکھ۔ بیہ کروکھ قیامتجہ دوہک بیم۔ کافر لگ تہندس نبوتس منز قرآن مجیدہ کس نازل سپدنس منز۔ قیامتہ کس واقع سپدنس منز ترددتہ اختلاف کرنہ اکھ اس نشہ یابی کر تہمس صلی اللہ علیہ وسلم نشہ یا با ایمان نشہ لگ پرڑہ پرڑہ کرنہ چنانچہ اللہ تعالیٰ چھو تہجی ذکر فرماوان **عَمَّ یَتَسَاءَلُوْنَ** کتہ چیزک چھ یم کافر پرڑھان **عَنِ النَّبَاِ الْعَظِیْمِ** کیا بچہ خبرہ ہونہ چھاتم پرڑھان **الَّذِیْ هُمْ فِیْهِ مُخْتَلِفُوْنَ** ہتہ خبرہ منز تمن پانس تہ اختلاف چھو کاہنہ چھونہ کونہ تہہ بیٹھ ثابت اڈچھ و نان نبی کر تہمس صلی اللہ علیہ وسلم شاعر ساحر تہ مجنون قرآن مجیدس چھو و نان اڈ سحر اڈ شعر اڈ کہانت۔ قیامتس تہ چھہ اڈ دپان آسہ مگر معبودان باطل کرن شفاعت تہی سیت موکلو اڈہ چھہ بالکل تہہ منکری اڈین چھو شک تہ تردد تہہ کس آسن تہ نہ آسنس منز **کَلَّا سَیَعْلَمُوْنَ** ہرگز یمن کتھن منز اختلاف فہ گنجائش چھہ عنقریب زانن کہ یمہ تہہ چھہ پڑہ **ثُمَّ کَلَّا سَیَعْلَمُوْنَ** بیہ چھسک یو فرماوان یہ اختلاف تہ شک لگہ نہ کرن بروٹھ پہن زانن تم اچ پورہ حقیقت **اَلَمْ نَجْعَلِ الْاَرْضَ مَهْدًا** کیا اسہ گرن زمین و تھرنہ **وَّ الْجِبَالَ اَوْتَادًا** بیہ کرنا آسہ کویہ تہ بال یمہ **وَ خَلَقْنٰکُمْ اَزْوَاجًا** بیہ کردہ آسہ تویہ پیدہ جورہ جورہ یعنی مرد تہ زنانہ **وَ جَعَلْنَا نَوْمَکُمْ سُبَاتًا** بیہ کراسہ نندر تو ہنز تہونہ آرامک سبب

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۖ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۚ وَبَيَّنَّا فَوْقَكُمُ سُبُعًا شَدَادًا ۗ (۱۲) وَ  
 جَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ۗ (۱۳) وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً  
 ثَجَّاجًا ۗ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۗ (۱۴) وَجَدَّتِ الْفَأَقَا ۗ (۱۵) إِنَّ  
 يَوْمَ الْفُصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۗ (۱۶) يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ  
 فَتَأْتُونَ أَقْوَابًا ۗ (۱۷) وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۗ (۱۸) وَ  
 سُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۗ (۱۹) إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ  
 مِرْصَادًا ۗ (۲۰) لِلطَّغِينِ مَابًا ۗ (۲۱) لِبَشَرٍ فِيهَا أَحْقَابًا ۗ (۲۲)

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا ۖ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۚ بِیہ کراسہ رات پوشاکھ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۚ بیہ کراسہ دوہ ضروریات  
 زندگی حاصل کرک وقت وَبَيَّنَّا فَوْقَكُمُ سُبُعًا شَدَادًا ۗ بیہ کھاراسہ توه پیٹھ کن ست آسمان درتھ  
 محکم وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ۗ بیہ کراسہ آسمان اندر ژونگہ پرزلہ ون زینجھہ گاشہ خیطرہ سوگو  
 آفتاب وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا ۗ بیہ ترواسہ چیرنہ آیتوا برومنزہ آبہ سیٹھاہ پشپہ ون  
 لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا ۗ یوتھ کدواس تمہ سیت غلہ بیہ گاسہ وَجَدَّتِ الْفَأَقَا ۗ بیہ گھن باغ یم کلیو سیت  
 برت آسن یمن چیزن اندر چھہ دنیاہ س منز توه سارنی انسانن شرکت مگر آخرتس بیہ حال روزانہ بیتہ  
 آسن ساری الگ الگ إِنَّ يَوْمَ الْفُصْلِ كَانَ مِيقَاتًا ۗ بے شک فیصلگ دوہ چھو مقرر کرنہ آمت  
 يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ فَتَأْتُونَ أَقْوَابًا ۗ بیہ دوہ پھوکھ ایہ دنہ پوغس منز توپتہ ہیو توه یون فوجو فوجو  
 وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا ۗ بیہ ین مژاوانہ آسمان پس بن تھہ دروازہ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ  
 فَكَانَتْ سَرَابًا ۗ بیہ ین پکناوندہ کوہ پس سپدن تم سیکھ ہی إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۗ بے شک جنم چھ  
 زاگہ روزت تہ اشکار کران سارنی چھو پکن تمہ پیٹھ چنانچہ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان وَإِنَّ مِنْكُمْ لِلْآلِ وَارِدُهَا




لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿۲۵﴾ إِلَّا حِيمًا وَغَسَاقًا ﴿۲۵﴾  
 جَزَاءً وَفَاقًا ﴿۲۶﴾ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ﴿۲۶﴾  
 وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا ﴿۲۷﴾ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ﴿۲۸﴾  
 فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا ﴿۲۹﴾ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿۳۰﴾  
 حَدَاقًا وَاعْتَابًا ﴿۳۱﴾ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿۳۲﴾ وَكَأْسَادِهَا قَا ﴿۳۳﴾  
 لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَابًا ﴿۳۴﴾ جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ  
 حِسَابًا ﴿۳۵﴾ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَنُ

توہ اندرہ جہنہ کا نہہ اکھاہ یسہ تہہ پٹھ واتہ لِلظَّالِمِينَ مَا بَا سَوَى جہنم چھو سرکش ہندہ واتہ نَجَّ جَاى  
 لِيُسْتِثْنَىٰ فِيهَا أَحْقَابًا روزه ون آس تہہ منور بہہ وادن لعن بے شمار ورین۔ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا  
 بَرْدًا وَلَا شَرَابًا \* إِلَّا حِيمًا وَغَسَاقًا ژہن نہ تم تہہ جہنم منور کونہ قسمک شجرانہ کونہ قسمک چنہ چیزہ  
 مگر چھین ربرہ وون بیہ دد متین تانن ہیوندرس۔ جَزَاءً وَفَاقًا مزورہ ایک دنہ عملہ موافق اِنَّمَا  
 كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا پزپاٹھ آسہ تم امید تھاوان حسانج۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَابًا بیہ آس  
 انکار کران تہہ پزگنزران سانین آياتن سخت سٹھاہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا بیہ چھو پرت چیزہ  
 تہنہہ و عملہ اندرہ لکھت تھاومت گنزر اوت فَذُوقُوا فَلَنْ نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا وین ژہو مزہ پنہ نین  
 کاین ہیوندریس ہر اووونہ اس مگر عذاب اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا پزپاٹھ پر ہیوز گارن کڈھ چھ ہڈرستہ  
 گاری تہہ کامیابی حَدَاقًا وَاعْتَابًا باغ میو وسیت برت بیہ ڈچھ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا بیہ پھٹ پھٹ کرہ ونہ  
 نوجوان زنانہ میہ اکی ونیسہ آس وَكَأْسَادِهَا قَا بیہ پیالہ شراب طھورہ سیت بربر۔ لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا  
 لَغْوًا وَلَا كِذَابًا بوزن نہ تمں جٹن منور بے ہودہ تھہ بیہ نہ اپز جَزَاءً مِّن رَّبِّكَ عَطَاءٌ حِسَابًا بیہ آیہ

لَا يَسْلُكُونَ مِنْهُ خِطَابًا ۚ ﴿۳۷﴾ يَوْمَ يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ  
صَفًّا ۗ لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۗ ﴿۳۸﴾  
ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ ۗ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَاءً ۗ إِنَّا  
أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ۗ يَوْمَ يَنْظُرُ الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ  
وَيَقُولُ الْكَافِرُ لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ۗ ﴿۳۹﴾

تمن مزدور دنہ تموندس پروردگارہ سندہ طرفہ یار رسول اللہ بخشہ پور حسابہ موجب رَبِّ السَّمَوَاتِ  
وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا آسمان تہ زمین بیہ یہ تمن منز چھو تمہ سار کسی پروردگارہ سندہ طرفہ۔  
الرَّحْمَنُ یس رحمتہ دول چھو۔ لَا يَسْلُكُونَ مِنْهُ خِطَابًا اختیار آسکھنہ تس نشہ تھہ کرہ نک یَوْمَ  
يَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا ۗ یمہ دوہ ساری جان دار روحہ وال بیہ ساری ملائکہ وودنہ رُوزن صف  
دت لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ یم ساری ہمکن تھہ کرت مگر کرہ تھہ سوی یس حضرت رحمان  
اجازت دیہ وَقَالَ صَوَابًا ۗ بیہ ونہ کلامہ درست ذَلِكَ الْيَوْمَ الْحَقُّ ۗ یہ قیامتک دوہ چھو پوز فَمَنْ شَاءَ  
اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَاءً ۗ ہس ہس اکھاہ یژھ سو کرہ پنہ نس پروردگار س نشہ ولتج جای ایمانہ سیت رژہ  
عملہ سیت۔ إِنَّا أَنْذَرْنَاكُمْ عَذَابًا قَرِيبًا ۗ پزپاٹ اسہ کر نیم توہ کہ نزدیک اودنہ عذابک یَوْمَ يَنْظُرُ  
الْمَرْءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ ۗ یمہ دوہہ وچھہ پرتھہ اکھاہ تہ سو روی یہ برو تھسکن سوزمت آسہ تھندیو اتھو یعنی  
یہ عملہ تم کرہ مژ آسَن وَيَقُولُ الْكَافِرُ لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا ۗ بیہ دپہ تمہ دوہہ کافر کونہ اوس  
بومژری۔



## سُورَةُ النَّازِعَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 وَالزُّرْعَةِ غَرَقًا ① وَالنَّشْطِ نَشْطًا ② وَالسَّبْحِ سَبْحًا ③  
 فَالسَّبْحِ سَبْقًا ④ فَالْمَدْبْرَةِ أَمْرًا ⑤ يَوْمَ تَرْجُفُ  
 الرَّاجِفَةُ ⑥ تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ ⑦ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ⑧  
 أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ ⑨ يَقُولُونَ ءَأِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ ⑩  
 ءَأِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً ⑪ قَالُوا تِلْكَ إِذْ أَكَرَّةٌ خَاسِرَةٌ ⑫

وَالزُّرْعَةُ غَرَقًا قسم چھو تمن ملائک ہوندیم کافرن ہوں نذر و کڈان چھ تختی سان وَالنَّشْطِ نَشْطًا بیہ چھو قسم تمن ملائک ہوندیم با ایمان ہند روح کڈان چھ نرمی سان گنڈیلہ تراوان چھ وَالسَّبْحِ سَبْحًا بیہ تمن ملائک ہوندیم آسمان وز مینس منز پھیران چھ ژھانہ وایان فَالسَّبْحِ سَبْقًا بیہ تمن ملائک ہوندیم حکم مان نس منز بروئٹھ گڑھان چھ فَالْمَدْبْرَةِ أَمْرًا بیہ تمن ملائک ہوندیم دنیاک انتظام کران چھ سانہ حمہ۔ جواب قسم چھو حذف کرنہ آمت سوگو لبخشن توه ساری ایومرنہ پتہ ضرور بیہ زندہ کرنہ یَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تھی دوہہ یمہ دوہہ الراوہ تہ ذہنہ وہ سارنی چیزان الراوہ ون سوگو پوئٹھ گوڈنیوک پھوک تَتَّبِعُهَا الرَّادِفَةُ پتہ آئیہ تھہ پتہ اوہ ون بیاک پھوک دون پھوک منز آسہ مدت ژتجوری قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ وارہین ہند دل آسن تمہ دوہ ننان أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ اچھ تہزہ آسن بون گن نمت يَقُولُونَ ءَأِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ یم لوک قیاس منکر چھ تم چھ ونان کیا اس یمہ پوت پھیرت نندہ بروئٹھس حالس گن یعنی مر ت گڑھو بیہ زندہ ءَأِذَا كُنَّا عِظَامًا نَّخِرَةً کیا اس سپدہ بیہ زندہ یلہ سانہ اڈجہ آسن دودر سمہہ ژھوژہ گمہہ قَالُوا تِلْكَ إِذْ أَكَرَّةٌ

فَاتَّمَاهِي زَجْرَةً وَاحِدَةً ۱۳ ۱۴ فَاذَاهُمْ بِالسَّاهِرَةِ ۱۵ هَلْ أَتَكَ  
 حَدِيثُ مُوسَى ۱۶ اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۱۷  
 اِذْهَبْ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ۱۸ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ  
 تَزُولَ ۱۹ وَاهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ ۲۰ فَارَاهُ الْآيَةَ  
 الْكُبْرَىٰ ۲۱ فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۲۲ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَىٰ ۲۳ فَحَشَرَ  
 فَنَادَىٰ ۲۴ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ ۲۵ فَاخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ


خَاسِرَةً دِپَنہ لگ سوزندگی چھ اودہ پھیرت یُن تاوان نہ نقصان فَاتَّمَاهِي زَجْرَةً وَاحِدَةً پس قیامت  
 چھہ مگر گئی اکھ سخت کرکھ یوسہ پونہ منزیرہ یان سو کرکھ گڑھ فَاذَاهُمْ بِالسَّاهِرَةِ تان بین تم  
 واتھ محشر کس میدانس منز هَلْ أَتَكَ حَدِيثُ مُوسَى کیا توہ چھو بوز مت حضرت موسیٰ سند قصہ یا  
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى یلہ آلودیوت تس پن پروردگارن  
 پاک میدانس منز تھ ناو چھو طوی یس کوہ طورس بھتلہ چھو اِذْهَبْ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى گڑھیو  
 فرعونس نشہ پیغام ہتھ کیاہہ پڑ پانٹھ سوچھ حدہ ڈولمت فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَنْ تَزُولَ پس دیپوس  
 کیاژیہ چھویہ کانہہ خیالہ پاک گڑھنک کفر و شرکہ نشہ۔ وَاهْدِيكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ بوہوے تہ  
 وتھ پنہ نس پروردگارس کن پس کھوٹک تہ تس حضرت موسیٰ گو تس نشہ حکم خداواتا وہس تم مونگ  
 معجزہ تہ دلیل فَارَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ پس ہوو حضرت موسیٰ ان تس بوڈ معجزہ سوگو عصاءس اژدھا  
 سڈن فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ پس اپز گزر فرعونس تہنز رسالت بیہ کرن نافرمانی تہندس کھمس ثُمَّ  
 أَدْبَرَ يَسْعَىٰ توپتہ پھیور پوت کوشش ہیون کرن حضرت موسیٰ سندس مخالفس اندر فَحَشَرَ فَنَادَىٰ  
 توپتہ سمبراون قوم پنون پس دژن کرکھ تمن منز فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ پس دپون بوی چھس تہوند  
 بوڈ پروردگار فَاخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْخِزْيَةِ وَالْأُولَىٰ پس کرسوگر فقاہر اللہ تعالیٰ ان آخر تہ کہ  
 عذابہ سیت بیہ دنیا کہ عذابہ سیت اِن فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةٌ لِّمَن يَخْشَىٰ پڑ پانٹھ اتھ منز چھہ ہڈ نصیحت تسندہ

الْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ ۖ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنِ يَخْشَىٰ ۖ ۲۱ ۖ أَنْتُمْ  
 أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا ۖ رَفَعَهَا سَمَكًا فَسَوَّاهَا ۖ وَ  
 أَعْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا ۖ ۲۲ ۖ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ  
 دَحَاهَا ۖ ۲۳ ۖ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ۖ ۲۴ ۖ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا ۖ ۲۵ ۖ  
 مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۖ ۲۶ ۖ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَىٰ ۖ ۲۷ ۖ  
 يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَىٰ ۖ ۲۸ ۖ وَبُرُزَتِ الْجَحِيمُ  
 لِمَنْ يَرَىٰ ۖ ۲۹ ۖ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ ۖ ۳۰ ۖ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ ۳۱

خیرہ نُس کھوڑہ خدا یس۔ اے انتم! اشد خلیقاً ام السماء ای قیامتہ کیونکر و تموند قیامتک دوہ دوبارہ  
 بیہ زندہ کرن چھا مشکل بنہ آسمانک پیہہ کرن بنہا بیہ یوت بوڈ آسمان کور اللہ تعالیٰ ان پیہہ دفع  
 سنکھا فسوہا بلند کرن تھر تھمیک تو پیہہ ٹرن سو برابر و اعطش لیکھا بیہ کرن گت رات سج  
 و اخوج ضحہا نراون گاش تمیک ڈولہ۔ و الارض بعد ذلک دحہا بیہ نراون زمین تمہ پتہ  
 اخوج منہا ماءها و مرعہا کڈن تمہ زمینہ منز آب تمیک بیہ نیور تمیک و الجبال ارسہا بیہ  
 کرن کوہ محکم لنگر ہی۔ بیہ سو روی کرن پیہہ متاعاً لکم و لانعامکم تھونده نفعہ خطرہ بیہ تھمدین  
 چارواں ہندہ فاندہ خیرہ فاذا جاءت الطامة الكبرى پس یلہ بیہ قیامت کبریٰ یوم یتذکر  
 الانسان ما سعی بیہ دوہ انسانس ژیتیس پیہہ سوروی بیہ تم کرمت آسہ و برزت الجحیم لیم  
 یرای بیہ بیہ نیر کڈنہ دوزخ پرت و پھون سیدہ خیرہ فاما من طغی \* و اثار الحیوة الدنیا پس یم  
 اک پڑہ نشہ سر کشی کر بیہ قیامتس انکار کرت دنیا ج زندگی اختیار کر مژ آسہ فان الجحیم ہی  
 الماوی بے شک بیہ جہنم چھو تھنزی جای و اما من خاف مقام ربہ لیکن نُس اکھاہ کھوڑہ دنیا س

فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ ﴿۳۹﴾ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَ  
 نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ ﴿۴۰﴾ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ۖ ﴿۴۱﴾  
 يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا ۖ ﴿۴۲﴾ فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ۖ ﴿۴۳﴾  
 إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا ۖ ﴿۴۴﴾ إِنَّهَا أَنْتَ مُنذِرٌ مِّنْ يَّحْشَاهَا ۖ ﴿۴۵﴾ كَانَتْ لَهُمْ  
 يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا ۖ ﴿۴۶﴾

اندرک قیامتک دوه چھم پنہ نس خدا لیس بروٹھ کنہ استادہ سپدن وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ سبہ رثن  
 نفس پنون پتھ پتھ میلونشہ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ پس جنت چھو تهنزی جای یَسْأَلُونَكَ عَنِ  
 السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا پر ژھان چھ مک کافر توه قیامتک کہ کر آسہ تمبوک برپاسدن فِيمَا أَنْتَ مِنْ  
 ذِكْرِهَا توه کیاہ چھو تمبوک تذکرہ کرن یہ چھنہ توهنزی کوم إِلَىٰ رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا تھوندس  
 پروردگاری تام چھو تممہ علمک نہایت یعنی سوئی زانہ قیامت کر آسہ إِنَّهَا أَنْتَ مُنذِرٌ مِّنْ يَّحْشَاهَا توه  
 چھونہ مگر بیم کرہون تس لیس تھہ کھوژہ كَانَتْ لَهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا تس لوکن  
 بیہ بلزنہ تمہ دوهہ یلہ تھہ قیامتس وچھن تم۔ زن تم رودمت آس دنیا س منز پشنہ پیٹھ شامس تام یا  
 صبح پیٹھ دوپہرس تام سوہولناک دوهہ وچھنہ سیت مشکھ سوروی۔









صَبَابًا ۲۵ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۲۶ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۲۷ وَ  
 عِنَبًا وَقَضْبًا ۲۸ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ۲۹ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ۳۰ وَفَاكِهَةً  
 وَأَبًّا ۳۱ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ ۳۲ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَةُ ۳۳  
 يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۳۴ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ ۳۵ وَصَاحِبَتِهِ  
 وَبَنِيهِ ۳۶ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۳۷  
 وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ۳۸ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ ۳۹ وَوَجُوهٌ  
 يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ ۴۰ تَرَاهُهَا قَآئِرَةٌ ۴۱ أُولَئِكَ هُمُ  
 الْكٰفِرَةُ الْفَجْرَةُ ۴۲

وَعِنَبًا بے دچھہ وَقَضْبًا بے ترکارہ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا بے زیتون بے خضر وَحَدَائِقَ غُلْبًا بے کلیو برت  
 باغ وَفَاكِهَةً وَأَبًّا بے میوہ بے گھاسہ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ تھوندہ نفعہ خیطرہ بے تھوندن چارواين  
 ہندہ نفعہ خیطرہ۔ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاحَةُ اودہ یلہ گڑھ سو کر یک یسہ کنن زر پادہ ون آسہ یعنی پونگ دویم  
 پھوک تمہ دوہہ سدن عجیب عجیب حالات ظاہر۔ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ \* وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ بے دوہہ  
 شخص ٲرلہ پنہ نس بالیس نشہ پنہ نہ ماجہ تہ ماس نشہ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ پنہ نہ زنانہ نشہ تہ نجوین نشہ  
 لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ بے یواندرہ آسہ تمہ دوہہہ پر تھہ اکس پنہ نی فکرہ یسہ کس  
 بے نیاز کرہ بے سز فکرہ نشہ وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ کینہہہ بو تھہ آسن تمہ دوہہ پھولہ ون۔ ضَاحِكَةٌ  
 مُسْتَبْشِرَةٌ آسہ ون تہ خوش خصال یعنی با ایمان ہند بو تھہ وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ بے آسن کینہہ  
 بو تھہ تمہ دوہہ گرد آلودہ تَرَاهُهَا قَآئِرَةٌ تمہ آسہ ونہ آسہ سیاہی اُولَئِكَ هُمُ الْكٰفِرَةُ الْفَجْرَةُ  
 تے گئے کافر تہ بدکار نافرمان

## سُورَةُ التَّكْوِيْرِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝  
 اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ۝<sup>۱</sup> وَاِذَا النُّجُوْمُ اُنْكَدَرَتْ ۝<sup>۲</sup> وَاِذَا الْجِبَالُ  
 سُيِّرَتْ ۝<sup>۳</sup> وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ ۝<sup>۴</sup> وَاِذَا الْوُحُوْشُ  
 حُشِرَتْ ۝<sup>۵</sup> وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ۝<sup>۶</sup> وَاِذَا النُّفُوْسُ رُوِّجَتْ ۝<sup>۷</sup>  
 وَاِذَا الْمَوْءُودَةُ سُيِّدَتْ ۝<sup>۸</sup> بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ ۝<sup>۹</sup> وَاِذَا الصُّحُفُ  
 نُشِرَتْ ۝<sup>۱۰</sup> وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ ۝<sup>۱۱</sup> وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِرَتْ ۝<sup>۱۲</sup>  
 وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ ۝<sup>۱۳</sup> عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا اَحْضَرْتَ ۝<sup>۱۴</sup> فَلَا

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ بیلہ آفتاب دینہ بیلہ گاش روز سنہ کینہ تہ وَاِذَا النُّجُوْمُ اُنْكَدَرَتْ بیلہ یلہ تارک  
 گٹ گڑھن وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ بیلہ یلہ کوہ پکناونہ یں وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ بیلہ یلہ باردار اونٹنہ  
 یمن دہ رت حملس گیمت آس پر سنس تیار آسن ترانہ یں۔ وَاِذَا الْوُحُوْشُ حُشِرَتْ بیلہ یلہ جنگلی  
 جانور سوئیر نہ یں جنگلو منزہ یں ساری دست وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ بیلہ یلہ دریا تاونہ یں وَاِذَا النُّفُوْسُ  
 رُوِّجَتْ بیلہ یلہ روح یں ملناونہ بدن سیت وَاِذَا الْمَوْءُودَةُ سُيِّدَتْ \* بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ بیلہ یلہ زندے قبرہ  
 منز ترانہ آشرہ کور پر ژھنہ بیلہ کمہ گنہ آیہ سومانہ وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ بیلہ یلہ نامہ اعمال یں  
 مژراونہ یا چھر اونہ یں وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ بیلہ یلہ آسمانس بستہ والنہ بیلہ وَاِذَا الْجَحِيْمُ سُعِرَتْ  
 بیلہ یلہ جہنم بیلہ تیز کرنہ وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ بیلہ یلہ جنت بیلہ نکھ انہ۔ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا اَحْضَرْتَ  
 زانہ تمہ ساتہ پرت اکھاہ کیاہ آسہ تم حاضر کرمت عملواندرہ فَلَا اَقِيْمُ بِالْحَنِيْنِ پس ٹھس بو قسم  
 ہاوان پوت پھیرت گڑھ و نین تارکن ہیوند الجوار الکئیس یم پکہ ون پنہ نین مطالعن منز غیب گڑھ

أَقْسِمُ بِالْخَنَسِ ۱۵ الْجَوَارِ الْكُنَسِ ۱۶ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ ۱۷  
وَالصُّبْرِ إِذَا تَنَفَّسَ ۱۸ إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۱۹ ذِي  
قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ ۲۰ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ ۲۱ وَ  
مَا صَاحِبُكُمْ بِسَجُنٍ ۲۲ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ ۲۳  
وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ ۲۴ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ  
رَّجِيمٍ ۲۵ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ ۲۶ إِنَّ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ۲۷  
لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ ۲۸ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ  
يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ۲۹

وَن چھ وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَسَ بے پھس قسم ہاوان راتر ہیوندیلہ سہ پھیرت گردھن ہواون چھ وَالصُّبْرِ  
إِذَا تَنَفَّسَ بے پھس قسم ہاوان صبحک یلہ سو پھلان چھویم قسم پھس پٹھ ہاوان کہ إِنَّهُ لَقَوْلُ  
رَسُولٍ كَرِيمٍ بے شک یہ قرآن مجید چھو پروان اکس سوزنہ آتس ملکہ سندس مرتبہ کن بوڈ چھو  
خدا ایس نشہ ذی قُوَّةٍ توتہ وول چھ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ عرشہ والس خدا ایس نشہ چھو تھدس  
عھدس پٹھ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ مانہ آمت پھو۔ بے پھوتہ معتبرامانت دار وَمَا صَاحِبُكُمْ بِسَجُنٍ بے  
چھونہ توبہ سیت ہمیشہ روزن وول حضرت محمد ﷺ موت تہ دیوانہ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ بے وچھ  
حضرت محمد ﷺ جبریل امین پنے نہ اصلی شکل منز آسمانس اندس پٹھس نُن چھو وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ  
بِضَنِينٍ بے چھونہ یہ پیغمبر برحق نبی کھن پٹھ بجل کرہون وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَّجِيمٍ بے  
چھونہ یہ قرآن مجید مردود شیطانہ سنزکت فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ پس کوئن چھوہ توبہ گزھان إِنَّ هُوَ إِلَّا  
ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ یہ قرآن مجید چھونہ مگر نصیحت سارنی عالمن کرھہ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ  
توبہ اندرہ نمس ہندہ خیطرہ ہم سزہ ووتہ پچن یزھن وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ توبہ  
ہکیونہ یزھ تھ مگرے یزھ اللہ تعالیٰ بس عالمن ہیوند رب چھو۔


## سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 اِذَا السَّمَاءُ اِنْفَطَرَتْ ۝۱ وَاِذَا الْكُوٰكِبُ اُنْتَثَرَتْ ۝۲ وَاِذَا الْبِحَارُ  
 فُجِّرَتْ ۝۳ وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ ۝۴ عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَاٰخِرَتْ ۝۵  
 يَاۤیُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِیْمِ ۝۶ الَّذِیْ خَلَقَكَ  
 فَسَوَّكَ فَعَدَلَكَ ۝۷ فِیْ اٰمِیْ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رُبَّكَ ۝۸ كَلَّا لَبَلٌ  
 تُكَدِّبُوْنَ بِالَّذِیْنَ ۝۹ وَاِنَّ عَلَیْكُمْ لَحٰفِظِیْنَ ۝۱۰ كِرًا مَّا كَتَبِیْنَ ۝۱۱  
 یَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ ۝۱۲ اِنَّ الْاَبْرَارَ لَفِیْ نَعِیْمٍ ۝۱۳ وَاِنَّ

اِذَا السَّمَاءُ اِنْفَطَرَتْ یلہ آسمان پھٹے وَاِذَا الْكُوٰكِبُ اُنْتَثَرَتْ بیہ یلہ تارک چھکرنہ یں وَاِذَا الْبِحَارُ  
 فُجِّرَتْ بیہ یلہ دریائیں زورہ پکنانہ وَاِذَا الْقُبُوْرُ بُعْثِرَتْ بیہ یلہ قبرہ پرانہ یں عَلِمْتَ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ  
 وَاٰخِرَتْ تمی ساتھ زانہ پرت اکھاہ بروٹھ کیاہ سوزن پتھ کیاہ تراون يَاۤیُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ  
 الْكَرِیْمِ اے انسانہ کم چیزن ہر اوک ژہ پنہ نس کریم پروردگارہ سزنا فرمان کرنس پیٹھ الَّذِیْ  
 خَلَقَكَ فَسَوَّكَ فَعَدَلَكَ یم پروردگارن ژہ پیدہ کرنک بیہ سیود کرنک تو پتہ برابرہ معتدل کرنک  
 فِیْ اٰمِیْ صُوْرَةٍ مَّا شَاءَ رُبَّكَ یتھ شکلہ منزیرھون یتھ شکلہ منزورٹنہ ژہہ ترکیب کَلَّا لَبَلٌ تُكَدِّبُوْنَ  
 بِالَّذِیْنَ کونہ چیزن ہر اوک نہ بلکہ چھہ حقیقت کہ توبہہ چھوہ اپرگنزران عملن ہندس جزائس قیامتک  
 دوہ روز تو توبہ اتھ خیالس سیت وَاِنَّ عَلَیْكُمْ لَحٰفِظِیْنَ \* کِرًا مَّا كَتَبِیْنَ مگر اسہ چھہ توبہہ پیٹھ مقرر کرمت  
 راجھہ تے چھہ خدائس نشہ معتبر لکھن وال یَعْلَمُوْنَ مَا تَفْعَلُوْنَ تمسن چھو معلوم سپدانہ سوروی بیہ

الْفُجَّارَ لِنَفِيٍّ جَحِيمٍ ۙ (۱۳) يَصَلُّونَهَا يَوْمَ الدِّينِ (۱۵) وَمَا هُمْ  
 عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۖ (۱۶) وَمَا آدُرُّكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ (۱۷) ثُمَّ مَا  
 آدُرُّكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ (۱۸) يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ  
 شَيْئًا ۗ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ (۱۹)

توہمہ کران چھونیک و بد اِن الْاَبْرَارَ لِنَفِيٍّ جَحِيمٍ پڑپاٹھ نیکوکار آسن جنہن منزعون اندر و اِن الْفُجَّارَ  
 لِنَفِيٍّ جَحِيمٍ پڑپاٹ بدکار تہ تا فرمان آسن جنہن منزع ابس اندر يَصَلُّونَهَا يَوْمَ الدِّينِ اِثْن تھ  
 جنہن منزع قیامتہ دوہہ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ بیہ چھنہ تم تمہ جہنمہ نشہ الگ تہ کھٹت روزہ ون  
 وَمَا آدُرُّكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ کوہ چیز تاری ژہ فکرہ ای انسانہ سو جزاء ک دوہ کوتاہ مشکل چھو ثُمَّ مَا  
 آدُرُّكَ مَا يَوْمَ الدِّينِ بیہ چھو سے ونان کوہ چیز زانراوے ژہ جزائک دوہ کوتاہ مشکل تہ سخت چھو۔  
 مختصر بوز یومَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا سو گو سوئی دوہ بیہ دوہنہ کانہہ اکاہہ کانہہ اس نفع ہیجہ  
 و انتاوت پنہ نہ اختیارہ وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ حکم تہ اختیار آسہ تمہ دوہ کنس خدا بس بیہ نہ کانہہ۔



سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۱ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۲ زط  
 وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ۳ ۴ الْأَيْظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ  
 مَبْعُوثُونَ ۵ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۶ لِيَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ  
 الْعَالَمِينَ ۷ كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَارِ لَفِي سَجِّينٍ ۸ وَمَا أَدْرَاكَ  
 مَا سَجِّينٌ ۹ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۱۰ وَيْلٌ لِّيَوْمٍ مِّدٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ۱۱  
 الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ ۱۲ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ پرزناوک ہلاکت چھ منہ نس تہ تولہ نس منز کی کرہ و نین ہندہ خظیرہ الذین إذا  
 اکتالوا علی الناس یستوفون یم یلہ لوکن نشہ پنون حق تولن سورثن ہور و اذا کالوہم او وزنوہم  
 یخسررون تو پتہ یلہ لوکن دین پنون کانہ چیز میت یا تولت سودن ہخون الا یظنن اولیک انہم مبعوثون \*  
 لیوم عظیم کیا گمان چھنا تمں لوکن زہ تم میں ثلثہ اکہ بدہ دوہہ خظیرہ ہتھہ منز تمں سارکوی حساب  
 بیہ ہنہ لیوم یقوم الناس لرب العالمین یمہ دوہ ساری لوک روزنہ و دتہ حساب دنہ خظیرہ کاناکس  
 رلس بروئہ نہ کتہ کلا ان کتب الفجار لفی سجین بہ تحقیق بے شک کافرن تہ نافرمان ہوندا نامہ اعمال  
 روزہ سجین منز و ما ادرک ما سجین کواہ چیز ازراوی ثیہ سجین کیاہ گو کتب مرقوم سوچھود فترہ اکہ  
 لکھنہ آمت تھہ منز چھہ دوزخین نا لکھنہ آمت تمں پیٹھ چھہ نشان تھاونہ آمت نمبر دنہ آمت و یل یوم مید  
 للمکذبین افسوس چھوتمہ دوہہ پزس اپزگنر و نین الذین یکذبون بیوم الدین یم اپزگنر ن

مُعْتَدٍ أَثِيمٍ ۱۷ إِذْ أَتَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ  
 الْأَوَّلِينَ ۱۸ كَلَّابٍ مُّسْتَرَانٍ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ۱۹  
 كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّمْ حُجُّوْا ۲۰ ثُمَّ إِنَّهُمْ  
 لَصَالُوا الْجَحِيمِ ۲۱ ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ ۲۲  
 كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَفِي عِلِّيِّينَ ۲۳ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ ۲۴  
 كِتَابٌ مَّرْقُومٌ ۲۵ يُشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ ۲۶ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي  
 نَعِيمٍ ۲۷ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ ۲۸ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ

جزء کس دو ہس و ما یگذب بہ الا کل مُعْتَدٍ أَثِيمٍ پر گزرنہ تھے مگر پرت حدہ ڈلون بدکار اِذَا أَتَىٰ  
 عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ یلہ پر نہین تس پٹھ آیت سین دپنہ لعمہ سویم چھ بروٹھین ہند  
 افسانہ کلا تہ وھنہ ہرگز بل ران علی قلوبہم ما کانو ایکسبون بلکہ چھوز نگارتہ کھے لجرہ تھمدن  
 دن پٹھ تمس بیچھ کائین ہنزیمہ تم کران آس کلا تھتھن انھم عن ربہم یومئذ لَمْ حُجُّوْا بے  
 شک تم لوک بن تمہ دوہہ پنہ نس پروردگار سند دیدارہ نشہ پتھ رنہ ثُمَّ إِنَّهُمْ لَصَالُوا الْجَحِيمِ توپتہ  
 چھ تم یقیناً نار جھنم منراژہ وین ثُمَّ يُقَالُ توپتہ بیہ ونہ تمس هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ یہوی  
 کیا گوسو جھنم پتھ توہ اپزنانان آسوہ کلا پزپٹھ ان کتب الأبرار لفي عليلين بے شک نیکوکارن  
 ہیوند نامہ اعمال چھو علیینس اندر وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ زہ کوہ چیز زانراوی علیون کیاہ چھو کتب  
 مَرْقُومٌ سو چھو دفترہ لکھنہ آمت تھتھ منز چھو با ایمان ہندناو آمت لکھنہ تمنی چھو نشانہ آمت تھاونہ  
 نمبر آمت ونہ يُشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ وھنہ یوان چھ تھتھ ملائکہ مقربین ان الأبرار لفي نعيم  
 پزپٹ نیکوکار چھو نچن نعمون اندر علی الأرائک یَنْظُرُونَ تختن پیٹھ آسن وچھان عجائبات تَعْرِفُ


نَصْرَةَ النَّعِيمِ ۳۲ يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ ۳۵ خِتْمُهُ  
 مِسْكٌ وَفِي ذَلِكَ فَلَيْتَنَّافِسِ الْمُتَنَفِسُونَ ۳۶ وَ  
 مَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ ۳۷ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ ۳۸  
 إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ۳۹  
 وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ ۴۰ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى  
 أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ۴۱ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ  
 هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ ۴۲ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ۴۳

فِي وَجْهِهِمْ نَصْرَةَ النَّعِيمِ بِرِزَاوَكِ زَه تَهْدِي بِيَهْتِيو پِيَهْتِيو نَعْمَانِ هَنْز تَرَو تَارَكِي يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ  
 مَخْتُومٍ \* خِتْمُهُ مِسْكٌ چاوندن تَم سَو شَرَاب طَهْوَر يَهْتِيو مَسْج بَو تَلَه مَهْر آسَه كَرْنَه آسَه- سَو مَهْر مَسْج آسَه  
 خَالِص نَافَه كَسْتَوْرِي مَو مَه تَه لَآچَه بَدَل سَوِي مَهْر تَلَن پَانَه تَم جَنْتِي اَهْس كَت رُو نَوِي گُوهَن خُوش تَهْدِي  
 دَمَآغ نَافَه كَه خُوش بُو سِيَت مَعْطَر وَفِي ذَلِكَ يَهْتِي سِي شَرَابِس كَن فَلَيْتَنَّافِسِ الْمُتَنَفِسُونَ  
 كَسْرَن رَغْبَت رَغْبَت كَرَن وَالِ وَمَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ بِيَه آسَه مَلَانَوْنَه آمَت تَهْت سِيَت تَسْنِيمِك أَب  
 عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ تَسْنِيم چَهْوَنَاگَه يَه مَنز آب چَوَان آسَن پَرُو دَر گَارَه سَنَد مَقْرَب بَنَدَه اِنَاق  
 الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ پَزِيَاك نَافَرْمَان لُوك آس بَا اِيْمَان پِيَه آسَان وَإِذَا  
 مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ يَلَه تَم بَا اِيْمَان تَمَن كَا فَرَن بَرُو تَه كَن پِكَان آس تَم آس اَكَه اَكَس كَن اِچَهْنَاه  
 كَرَان حَقَارَتَه كَن- وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَى أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ تُو پَتَه يَلَه وَابِس آس تَم كَا فَر  
 گُوهَان پَنَه نَس اَهْل وَعِيَالِس كَن وَابِس آس گُوهَان تَرِي گَان يَمُو كَا مِيُو سِيَت وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ  
 هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ بِيَه يَلَه وَچَهَان آس تَم كَا فَر تَمَن مُسْلِمَان دِيَان آس يَم لُوك چَه ذَلَت گَرَاهِ كَمَت



فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ ﴿۳۳﴾ عَلَى  
الْأَرَآئِكِ لَا يَنْظُرُونَ ﴿۳۴﴾ هَلْ تُؤِيبُ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿۳۵﴾

وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ حالانکہ ہم آسنہ سوزنہ آمت تمن ہند خیترہ راجھ تمن کیا حق اوس  
یہ ونہ نک فالیوم الذین امنوا من الکفار یضحکون از قیامتہ کہ دوہہ کیا آسن با ایمان تمن  
کافرن پٹھہ علی الارایک ینظرون تختن پٹھہ بہت آسن جنتی کافرن تہ مشرگن ہندہ عذابگ حال  
وچھان دپان آسک۔ هل تؤیب الکفار ما کانوا یفعلون کیا جزا آوہ دنہ کافرن تمن کا میں ہوندمیہ  
تم کران آس دنیا اس اندر۔



## سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۝  
 اِذَا السَّمَاءُ اَنْشَقَّتْ ۱؎ وَاذِنْتَ لِرَبِّهَا وُحِّتٌ ۲؎ وَاِذَا  
 الْاَرْضُ مُدَّتْ ۳؎ وَاَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۴؎ وَاذِنْتَ  
 لِرَبِّهَا وَوُحِّتٌ ۵؎ يَا أَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ كَادِحٌ اِلَى رَبِّكَ  
 كَدًا حَافِلِقِيهِ ۶؎ فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ بِيَمِيْنِهِ ۷؎  
 فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا ۸؎ وَيُنْقَلَبُ اِلَى اَهْلِهِ


اِذَا السَّمَاءُ اَنْشَقَّتْ يله آسمانس چھلے گزھن خدایہ سندہ لحمہ وَاذِنْتَ لِرَبِّهَا وَوُحِّتٌ بیہ مانہ آسمان  
 پنہ نس پروردگارہ سند حکم تس پزہ حکم مان وَاذِنْتَ لِرَبِّهَا وَوُحِّتٌ بیہ یلہ زمین زبشتر اونہ بیہ خدایہ  
 سندہ حمہ سیت وَاَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ بیہ تراوہ زمین نبیر تم ساری چیزیم تھہ منزچھہ سوسپدہ خالی  
 وَاذِنْتَ لِرَبِّهَا وَوُحِّتٌ سوتہ مانہ پنہ نس پروردگارہ سند حکم تس پزہ حکم مان يَا أَيُّهَا الْاِنْسَانُ اِنَّكَ  
 کَادِحٌ اِلَى رَبِّكَ کَدًا حَافِلِقِيهِ ای انسانہ بے شک ژہ چھک تکلیف تہ محنت تلہ ون پنہ نس  
 پروردگار س نشہ واتنہ خیطرہ پس چھک ژہ تس سیت ملاقات کرہ ون نیکن اندر محنت کرت تہ تس نشہ  
 واتہ ون بدی اندر مشقت تلت تہ تس نشہ واتہ ون تس نشہ پنہ نین عملن ہنز مزور حاصل کرہ ون  
 رثن عملن رثمزور بیچہ عملن بیچہ مزور فَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ بِيَمِيْنِهِ اوہ نیس اکس نامہ اعمال  
 دنہ بیہ دچھنس اتھس کیتھہ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَّسِيْرًا پس نزدیک جھوکہ حساب بیہ ہنہ تس  
 حسابہ سہل تہ آسان وَيُنْقَلَبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُوْرًا واپس پھیرہ سوپنہ نین باثرن کن خوش سیت  
 وَاَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتٰبَهُ وَّرَآءَ ظَهْرِهِ بیہ لیس اکس دنہ بیہ نامہ اعمال پنون تھر تچکن کھاورس اتھس کیتھہ

مَسْرُورًا ۹) وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَأَى ظَهْرَهُ ۱۰) فَسَوْفَ  
 يَدْعُو ثُبُورًا ۱۱) وَيَصْلِي سَعِيرًا ۱۲) إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ  
 مَسْرُورًا ۱۳) إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ ۱۴) بَلَىٰ ۱۵) إِنَّ رَبَّهُ  
 كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۱۶) فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ ۱۷) وَاللَّيْلِ وَمَا  
 وَسَقَ ۱۸) وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ۱۹) لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ ۲۰) فَمَا  
 لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۲۱) وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۲۲)  
 بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ ۲۳) وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ ۲۴)

فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا سودیہ کریکہ تہ آلوگھ نَس پنے نَس پیٹھ یعنی پنے موتہ خیطرہ وَیَصْلِي سَعِيرًا  
 بیہ اثرہ سودوز نَس نَس إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا پڑپاٹ اوس سودنیاعس اندر پنے نین باژن منز  
 خوش بے غم إِنَّهُ ظَنَّ أَنْ لَنْ يَحُورَ پڑپاٹ تَس اوس گمان زہ خدا یس گُن چھونہ رجوع کرن بَلَى  
 البتہ تَس چھو ضرور خدا یس گُن رجوع کرن إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا پڑپاٹ تم سُند پروردگار اوس  
 تمسزہ ساری کامہ وارہ وچھان فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ پس چھوس یو قسم ہاوان تمہ سرخی ہیوندیہ  
 آفتاب لوست آسما جس اندس پیٹھ چھ آسان وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ بیہ چھوس قسم ہاوان راژ ہیوند  
 بیہ تمہ سار کوی ہتھ رات چھ سمران وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ بیہ چھوس قسم ہاوان زونہ ہیوندیلہ سومثر نہ  
 یوان چھ پورسپدان چھ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَن طَبَقٍ توہہ کھیو ضرور کہ حالہ پتہ بیس حالس فَمَا لَهُمْ  
 لَا يُؤْمِنُونَ پس کیاہ گو کافر ن تم چھنہ یوت ونت تہ پڑھ کران وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ  
 بیہ یلہ تمں پیٹھ قرآن مجید چھو پرنہ یوان تَج فصحاحت و بلاغت بوزت چھنہ تم سجدہ دوآن سر تسلیم خم  
 کران بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْذِبُونَ بلکہ یمولو کو پڑھ کرنہ تم چھ اتھ قرآن مجیدس اپر گز ران وَاللَّهُ

فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ۳۴ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا  
الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ۳۵ ع

اَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ اللهُ تعالیٰ چھوڑانا تہ سوروی یہ تم دلن منز تھاوان چھ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ  
پس خوشخبر و نیو تمن دودودہ ونہ عذاب سارنی إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر یمو پڑھ  
کر تہ رزہ علمہ کر کہ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ تہمدہ خیطرہ چھ مزور حدہ رستوی منہ وراہی۔



## سُورَةُ الْبُرُوجِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۱ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ ۲ وَشَاهِدِ ۳  
 وَمَشْهُودِ ۴ قَتَلَ أَصْحَابُ الْأَخْذُودِ ۵ النَّارِ ذَاتِ  
 الْوُقُودِ ۶ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ۷ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ  
 بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ۸ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ  
 الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۹ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَ  
 اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ۱۰ إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ


وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ قسم آسمانک بس بر جہ وول چھو وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ بے تمہ دو ہوک سمیوک  
 وعدہ تھاونہ آمت چھو یعنی قیامتجہ دو ہک وَشَاهِدِ وَمَشْهُودِ بے چھو قسم گواہ سند بے کس بیٹھ گواہ  
 روزہ قَتَلَ أَصْحَابُ الْأَخْذُودِ مارنہ آے کھے کھن وال النَّارِ ذَاتِ الْوُقُودِ سموتن کھن منز  
 نار زول سٹھاہ زیون تراوت مسلمان تھہ نارس منز تراوت عذاب کرنہ خیرہ إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ یلہ  
 آس تم تمکن نارہ کھڈن ہندس بٹھس پٹھ بہت وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ تم کس  
 تکلیف مسلمان دو ان آس تہ آس پانہ وچھان وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ  
 تمکن مسلمان آسنہ تم انتقام تہ بدل ہو ان مگر یہ گوی کہ تم آس پڑھ کر ان معبود برحقس کس سٹھاہ  
 عز تہ وول تہ سٹھاہ تعریف کرنہ آمت چھو الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ کس پادشاہت چھہ  
 آسمانن تہ زمین ہنز وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ تہ علاوہ چھو اللہ تعالیٰ پرت چیز پانہ وچھان إِنَّ الَّذِينَ

وَالْمُؤْمِنَاتِ نَمَلَهُمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَأَلَهُمْ عَذَابٌ  
 الْحَرِيقِ ۝۱۰ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ جَنَّاتٌ  
 تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۝ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ ۝۱۱ إِنَّ  
 بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ۝۱۲ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ ۝۱۳  
 وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ ۝۱۴ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ ۝۱۵ فَعَالٌ لَمَّا  
 يُرِيدُ ۝۱۶ هَلْ أُنْتِكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ۝۱۷ فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ ۝۱۸

فَتَنُوا الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ پڑپاٹ یمولو کو آزمائش کر با ایمان مردن تہ با ایمان زنانن عذابس گرفتار  
 کرنہ سیت نَمَلَهُمْ يَتُوبُوا تو پتہ کرو کھنہ توبہ تمہ نشہ فَالَهُمْ عَذَابٌ جَهَنَّمَ وَأَلَهُمْ عَذَابٌ الْحَرِيقِ پس  
 تمنی کیئہ چھو دو زحک عذاب آخرتس اندر بیہ چھو تمنی کیئہ دز نک عذاب دنیاء سی اندر سیتھ پاٹ  
 اصحاب الاخذ و زال اللہ تعالیٰ ان تھہ نارس اندر نیس مسلمان ہندہ خیطرہ تیار کرمت اوسک اِنَّ الَّذِیْنَ  
 آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تھہنن یمو ایمان اون تہ رزہ عملہ کر کھ لَمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ  
 تمن تھہ چھ تہ باغ یمن اندر جو یہ پکان چھ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْكَبِيرُ جیہ چھ بندہ ستگاری اِنَّ بَطْشَ  
 رَبِّكَ لَشَدِيدٌ پڑپاٹ رشن چینس پروردگارہ سُنَد چھو سٹھاہ سخت اِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ پڑپاٹ  
 سوی چھ سُوئس گوڈہ پیدہ کران پھو سو کرہ مرنہ پتہ بیہ پیدہ وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ سوی پھو سٹھاہ گنہ  
 عَشُونَ سوی چھو لوٹھ تھوادہ ون بندس ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ سوی چھہ عرشہ دول سوی چھہ بزرگ  
 تہ بوڈا تہ کن تہ صفتو کن تہ فَعَالٌ لَمَّا يُرِيدُ کرہ ون تہ یہ یژہ هَلْ أُنْتِكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ای پیغمبر کیا  
 توبہ نش واژہ خبر خدا یہ سندن دشمن ہنزن لشکرن ہنزن تم ساری گل کفرہ تہ نافرمانی ہندہ سبہ بہ  
 فِرْعَوْنَ وَثَمُودَ تم گے فرعون تہ قوم ثمود ازیگ کافر چھہ نہ واقعاتو سیت کانہ عبرت رٹان بِل  
 الَّذِیْنَ كَفَرُوا فِي تَكْوِينِ بلكہ ازیگ کافر چھہ تمن واقعاتن اپز گنزران مگر گنہن کوت وَاللّٰهُ مِنْ

بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ ۝۱۹ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ۝۲۰  
 بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ ۝۲۱ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ ۝۲۲

وَرَاءَهُمْ مُحِيطٌ اللہ تعالیٰ چھ پرت طرفہ تمن گھیر کرت قرآن مجید چھونہ تو تھ چیزہ ستھ تہندہ اپز  
 گزرنہ سیت کینہہ کم گڑھہ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَجِيدٌ \* فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ بلکہ چھو قرآن سٹھاہ تھود مرتبہ کن  
 اکس رآچھ کرنہ آمر اکس سفید مختہ ہچ پیٹھ لیکھنہ آمت تو پتہ عرش مجیدس الوند تراوت ملکس اکسنزہ  
 کوچھ کت تھاونہ آمت -



## سُورَةُ الطَّارِقِ


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝۱ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝۲  
 النُّجْمُ الثَّاقِبُ ۝۳ إِنَّ كُلَّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝۴  
 فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝۵ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۝۶  
 يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝۷ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ  
 لَقَادِرٌ ۝۸ يَوْمَ تُبْلَى السَّرَائِرُ ۝۹ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ کہ شبہ اوس ابو طالب آمت در خدمت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت تو اوس تس کیوت طعام کرمت تیار۔ یہ ساتہ دونوے آس سوطعام کھوان اتی پیو آسمانہ اکھ تارکھ سوسی سپدتیوت نزدیک زمینس کہ سومکان بہتہ منز آنحضرت ﷺ تشریف تھوت آس سو سپد منور ابو طالبس گیہ اچھ خیرہ ڈپنہ لگ یہ کیاہ سناسپد آنحضرت تو فرماوس یہ چھو تارک ملایک چھہ اتھہ لایان تمس شیطانن پٹھ ہم کن دنہ چھو کھسان آسمانس نکھ۔ بیہ چھو یہ خدایہ سندہ قدرنگ اکھ نشانہ ابو طالبس لاج ڈھپہ۔ اتی سپد جبریل امین نازل یہ سورہ شریفہ ہیبت وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ آسماگ قسم بیہ تمہ چیزک قسم بس رات کہ وقت ننان چھو وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ توه کوه چیز زازاوه یارسول اللہ کہ سورات کیوت اوہون گوہ چیز چھو النُّجْمُ الثَّاقِبُ سُوگو تارکھ پرزلہ ون جواب قسم چھو لَانْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ہٹھنہ کانہ شخصہ مگر تس پٹھ چھو اکھ راجھہ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ پس وچھن انسان کہہ نشہ آوسو پیدہ کرنہ تمس نے یاد چھو بوزن خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ سو آوپیدہ کرنہ انزالہ کہہ وقتہہ ووٹھہ دوہونہ آہ نشہ یعنی منی يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ یس نیران مردن



نَاصِرًا ۱۰ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ ۱۱ وَالْأَرْضِ ذَاتِ  
 الصَّدْعِ ۱۲ إِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ ۱۳ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ ۱۴ إِنَّهُمْ  
 يَكِيدُونَ كَيْدًا ۱۵ وَآكِيدُ كَيْدًا ۱۶ فَمَهْلِكُ الْكَافِرِينَ  
 أَمْهَلُهُمْ رُويًا ۱۷

ہندو پستو منزہ زنانن ہنزوسینہ تریو منزہ اِنَّهُ عَلٰی رَجْعِهِ لَقَادِرٌ پزپاٹ اللہ تعالیٰ چھو تس انسا نس  
 مرنہ پتہ بیہ زندہ کرنس پٹھ قدرتہ دول یَوْمَ تَنْبُلُ السَّعْیُرُ بیہ دوہہ نروانہ تہ پرکھا ونہ ین ولن  
 ہندو پٹھ شیدہ خیال فَمَالَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرًا پس آسنہ تمہ دوہہ اس انسا نس کانہہ طاقتہ نہ کانہہ  
 مددگارہ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ بیہ چھو قسم رود تراوہ ونہ آسما نک وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ بیہ  
 چھو قسم پٹھ ونہ زینک اِنَّهُ لَقَوْلُ فَصْلٍ پزپاٹ یہ قرآن مجید چھو کلامہ فیصلہ کرہ ون وَا  
 هُوَ بِالْهَزْلِ چھونہ سو ٹھٹھ کتھاہ اِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا \* وَآكِيدُ كَيْدًا پزپاٹھ کافر چھہ پزس انکار  
 کرنس اندر رنکارنگ مکرتہ حیلہ کران بوتہ چھوس پوزنر اون خیطرہ تدبیر کران۔ فَمَهْلِكُ الْكَافِرِينَ  
 پس مہلت دیوتوہ کافر ن اَمْهَلُهُمْ رُويًا سوی مہلت دیوکھ کم کینہہ کالہ وچھو تمن کیاہ بنہ۔




## سُورَةُ الْأَعْلَىٰ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ ۝<sup>۱</sup> الَّذِي خَلَقَ قَسْوَىٰ ۝<sup>۲</sup> وَالَّذِي قَدَّرَ  
 فَهْدَىٰ ۝<sup>۳</sup> وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ ۝<sup>۴</sup> فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ ۝<sup>۵</sup>  
 سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ ۝<sup>۶</sup> إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۝<sup>۷</sup> إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا  
 يَخْفَىٰ ۝<sup>۸</sup> وَنُبَيِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ ۝<sup>۹</sup> فَذَكِّرْ ۝<sup>۱۰</sup> إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ ۝<sup>۱۱</sup> سَيَذَكِّرُ  
 مَنْ يَخْتِىٰ ۝<sup>۱۲</sup> وَيَجْنِبُهَا الْأَشْقَىٰ ۝<sup>۱۳</sup> الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ۝<sup>۱۴</sup>

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَىٰ پاک گزریو ناو پنه نس پروردگار ه سُد نَس سٹھاہ تھد جھویار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الَّذِي خَلَقَ قَسْوَىٰ یم سوروی پیدہ کریس گرن برابر موزون وَالَّذِي قَدَّرَ فَهْدَىٰ بیہ یم پر تھ اسندہ خیطرہ کوم مقرر کر توپتہ ہانس تھ گن وتھ وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَىٰ بیہ یم کھور زمینہ منز گاسہ فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ توپتہ گرن سوگاسہ خشک زھوٹھ تہ سیاہ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ اَس پرہ ناوووہ توہ یار سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیہ قرآن مجید نَس مشراوونہ توہ کینہہ تہ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ مگر تی بیہ اللہ تعالیٰ یرہ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَىٰ بے شک اللہ تعالیٰ چھوزانان تہ بدہ ہرن تہ لو تہ پرن تہ وَنُبَيِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ بیہ کوراس سہل تہ آسان تہوندہ خیطرہ آسان شریعت فَذَكِّرْ ۝<sup>۱۰</sup> نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ پس پر یو توہ لوکن وعظ ہر گاہ وعظ پرن لوکن فائدہ تہ نفع دیہ سَيَذَكِّرُ مَنْ يَخْتِىٰ نصیحت رتہ سوی نَس عذابس کھوڑہ وَيَجْنِبُهَا الْأَشْقَىٰ لوب روز نصیحت بوزنہ نشہ بوڈ بد قسمت الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ نَس وائتہ بدس نارس سوگوناہ جہنم ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ توپت نہ مرہ تھ اندر زانہ نہ روزہ زندہ

ثُمَّ لَا يَسُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۗ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ ۗ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ۗ بَلْ تُؤَثِّرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۗ وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ ۗ أَبْقَىٰ ۗ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ ۗ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ ۗ

آرامہ سان قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّىٰ تھمت نجات لب تم ٹس پاک پُید و ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ بیہ یکا پنہ نس پروردگارہ سُنَد نام پاک بہت نماز پر بَلْ تُؤَثِّرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ای منکر و توه چھوہ نہ آخر تک سامانہ کران بلکہ چھوہ توه بہند کران دنیا عج ناپا ندر زندگی وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ ۗ أَبْقَىٰ حالانکہ آخرت چھو بہتر تہ پوشہ ون دنیا خوتہ إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَىٰ \* صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ پزپاٹ یہوی مضمون چھو برو تھمین کتابن اندر بیان کرنہ آمت حضرت ابراہیمہ سزین کتابن اندر تہ حضرت موسیٰ سزین کتابن اندر تہ۔ حضرت ابراہیمس پیٹھ آس دہ صحیفہ نازل سپد مت حضرت موسیٰ اس پیٹھ تہ آس توراتہ برو تھ دہ صحیفہ نازل سپد مت رواہ عبد ابن حمید کمانی روح المعانی۔



سُورَةُ الْغَاشِيَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ ① وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ② عَابِلَةٌ  
 تَأْتِيهَا نَارٌ آحَامِيَةٌ ③ تَصْلِي نَارًا آحَامِيَةً ④ تُسْقَى مِنْ عَيْنٍ أَنْبِيَةٍ ⑤ لَيْسَ  
 لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ صَرِيحٍ ⑥ لَا يُسِينُونَ وَلَا يُعْنُونَ مِنْ جُوعٍ ⑦  
 وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ ⑧ لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ ⑨ فِي جَنَّةٍ  
 عَالِيَةٍ ⑩ لَا تَسْمَعُ فِيهَا الْأَغْنِيَةَ ⑪ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ⑫ فِيهَا  
 سُرٌّ مَرْفُوعَةٌ ⑬ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ ⑭ وَنَسَارِقٌ

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ کیا تو بہ نشہ واژہ خبر یار رسول اللہ قیامت کے لوکن پنہ نیو نختیو سیت احاطہ کرہ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ کینہہ یو تھ آس تمہ دوہ تھار میت عَابِلَةٌ تَأْتِيهَا نَارٌ آحَامِيَةٌ تے اثن نارس یس سخت گرم چھو سُقَى مِنْ عَيْنٍ أَنْبِيَةٍ چاونہ ین نبتہ تمی ناگہ منز یس گرکان آسہ۔ لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ صَرِيحٍ چھونہ تمہن دوزخین کھن مگرز ہر دار کڈ لَا يُسِينُونَ وَلَا يُعْنُونَ مِنْ جُوعٍ نہ دُھراوہ سونہ ژلراوہ یوچھ وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاعِمَةٌ کینہہ بو تھ آس تمہ دوہہ ترو تازہ تہ خوش لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ پنہ نین رژن عملن ہونڈ توآب وچھت آس راضی فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ تھدین جتن اندر لَا تَسْمَعُ فِيهَا الْأَغْنِيَةَ بوزن نہ تم تھہ جنس اندر بیہودہ تھہ فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ تھہ جنس منز آسہ ناگہ پکہ ون فِيهَا سُرٌّ مَرْفُوعَةٌ تھہ جنس منز آس تھہ پلنگ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ بیہ آس آنجور ژکہ تھہ تھاونہ آمت برو تھہ کنہہ وَنَسَارِقٌ مَصْفُوفَةٌ بیہ آس شانہ

مَصْفُوفَةً ۱۵ وَلَا وَرَائِي مَبْنُوتَةٌ ۱۶ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ  
 كَيْفَ خُلِقَتْ ۱۷ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ۱۸ وَإِلَى الْجِبَالِ  
 كَيْفَ نُصِبَتْ ۱۹ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ۲۰ فَذَكِّرْ ۲۱  
 إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۲۲ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِبَصِيرٍ ۲۳ إِلَّا مَنْ  
 تَوَلَّى وَكَفَرَ ۲۴ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۲۵ إِنَّ إِلَيْنَا  
 إِيَابَهُمْ ۲۶ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۲۷

گنڈنگہ لاگنے آمت وَرَائِي مَبْنُوتَةٌ بیہ آسن ریشی تالین پرت طرفہ و تھرنہ آمت یتنس خوش  
 کرکھ یتنس بہن أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ کیسا نو چھان چھان چھانیم منک کافروئن کن کتھ پاٹ  
 چھو تم پیدہ کرنہ آمت وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ بیہ آسمانس کن کتھ پاٹ چھو سو بلند کرنہ آمت  
 وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ بیہ کوہن کن کتھ چھ تم تھاسنہ آمت وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ بیہ  
 زمینس کن کتھ پاٹ چھو سو ہراونہ آمت فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ پس کریو توه نصیحت وعظ توه چھو  
 نہ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر نصیحت فرماوہون لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِبَصِيرٍ توه چھونہ تمن پیٹھ  
 مسلط کرنہ آمت یوتھ زورہ مانراویو کہہ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ لیکن کس اکھاہ بوتھ پھرہ تہ کافر سپدہ  
 فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ پس عذاب کرہ اللہ تعالیٰ تس بوڈ عذاب آخرتس اندر إِنَّ إِلَيْنَا  
 إِيَابَهُمْ پزپاٹ اس کن چھو واپس کن تمن ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ تمہ پتہ چھو پزپاٹ اس منہ تمن  
 حساب ہیون -

## سُورَةُ الْفَجْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 وَالْفَجْرِ ۱) وَلَيَالٍ عَشْرٍ ۲) وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۳) وَالْبَيْلِ إِذَا  
 يَسِرُّهٗ ۴) هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حَجْرِ ۵) أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ  
 رَبُّكَ بِعَادٍ ۶) إِرْمَادَاتِ الْعِمَادِ ۷) الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا  
 فِي الْبِلَادِ ۸) وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ ۹) <sup>لَا</sup>  
 وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ ۱۰) الَّذِينَ طَعَوْا فِي الْبِلَادِ ۱۱) <sup>لَا</sup>

وَالْفَجْرِ صبحِ تسم و لَيَالٍ عَشْرٍ بیہ دہن راتن ہیوند تسم وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ جہنگ تہ طاقک تسم  
 وَالْبَيْلِ إِذَا يَسِرُّهٗ بیہ راژ ہیوند تسم یلہ سو گذران چہ هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ لِذِي حَجْرِ چہواتہ تسم  
 اندر تسمہ کافی تہ معتبر عقلہ والس کیتہ۔ جواب تسم یعنی بیمہ خیطرہ بیم تسم ہاونہ آے سو چہو حذف کرنہ  
 آمت سو گو لتعذب یعنی ای منکر و توه ایوہ ضرور عذاب کرنہ برو نظمین منکرن ہندپاک أَلَمْ تَرَ كَيْفَ  
 فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ توه و چہوہ ناکیاہ کور پروردگارن تہوند قوم عا دس إِرْمَادَاتِ عَادٍ عا دارم آس ذات  
 الْعِمَادِ بیم تھد قہ وال آس تمواندر زیتش شخصہ سُد قد اوس ژور ہت گز شرعی الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ  
 مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ بیہ گو سو قبیلہ یمن ہیو پیدہ آونہ کرنہ قد و قاتس تہ قوتس طاقس منز بین شہرن  
 اندر کانہہ قبیلہ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ بیہ و چہونا توه تہوند پروردگارن کیاہ کور قوم  
 ثمودس بیوکوہ تہ پل ژٹتہ وادی القراءس منز مضبوط گرہ بناو وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ بیہ کیاہ گرن  
 تس فرعونس نُس میڈ و ول اوس سونہ سنزو میخوسیت اوس گرن نال لاگان الَّذِينَ طَعَوْا فِي الْبِلَادِ

فَاكْثُرُوا فِيهَا الْفَسَادَ ۝۱۳۱ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ  
عَذَابٍ ۝۱۳۲ اِنَّ رَبَّكَ لِبَالِ الْبُرْصَادِ ۝۱۳۳ فَاَمَّا الْاِنْسَانُ اِذَا مَا  
اَبْتَلَهُ رَبُّهُ فَآكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ ۝۱۳۴ فَيَقُولُ رَبِّيَ الْاَكْرَمَنُ ۝۱۳۵  
وَ اَمَّا اِذَا مَا اَبْتَلَهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ ۝۱۳۶ فَيَقُولُ رَبِّيَ  
اَهَانِ ۝۱۳۷ كَلَّا بَلْ لَّا تُكْرَمُونَ الْيَتِيْمَ ۝۱۳۸ وَلَا تَحْضُونَ  
عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِيْنَ ۝۱۳۹ وَ تَأْكُلُوْنَ التَّرَاثَ الْاَكْلَالِيًّا ۝۱۴۰  
وَ تَحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا ۝۱۴۱ كَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا

یوم ساروی کر سرکشی شهرن اندر فَاكْثُرُوا فِيهَا الْفَسَادَ پس کرک سٹھاہ تمن شهرن اندر تباہی  
فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ پس لوی تمن تہوند پروردگارن عذابک قچہ تمی سیت گالین  
اِنَّ رَبَّكَ لِبَالِ الْبُرْصَادِ پڑپاٹ تہوند پروردگار چھوڑاگئے چہ جایہ ژرژان سارنی نافرمان ہیوند حال  
فَاَمَّا الْاِنْسَانُ پس نافرمان انسان نُس چھو اِذَا مَا اَبْتَلَهُ رَبُّهُ یلہ تس تہند پروردگار تہندہ ایمانچ آزمائش  
چھو کران فَآكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ پس چھس عزت دوان بیہ نعت عطا کران فَيَقُولُ رَبِّيَ الْاَكْرَمَنُ نُس  
چھو دپان پروردگارن کرم ہڈ مہربانی وَ اَمَّا اِذَا مَا اَبْتَلَهُ لیکن یلہ سوتس ایمانی آزمائش چھو کران  
فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ تو پتہ چھس رزقس اندر تنگی کران فَيَقُولُ رَبِّيَ اَهَانِ تمہ ساتہ چھو دپان  
پروردگارن کُرنس ذلیل کَلَّا حالانکہ بیہ چھنہ حقیقت بَلْ لَّا تُكْرَمُونَ الْيَتِيْمَ بلکہ خواری تہنز چھہ  
امی سببہ کہ عزت چھونہ تہہ کران تیسس وَلَا تَحْضُونَ عَلَى طَعَامِ الْمُسْكِيْنَ بیہ چھوہ نہر رغبت دوان  
مسکین کھیاونک وَ تَأْكُلُوْنَ التَّرَاثَ الْاَكْلَالِيًّا بیہ چھہ میراٹک مال کھوان اورہ یورہ سہر او تھہ نین ہندحق  
وَ تَحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا بیہ چھوہ مال دنیا ٹوٹھ تھواون سٹھاہ زیادہ کَلَّا بیہ لگنہ کرن امیوک نتیجہ  
چھو سٹھاہ کریوٹھ اِذَا دُكَّتِ الْاَرْضُ دَكًّا سووہ پایوژتیسس یہ دوہ سم ستریہ کرنہ زمینس پے

دَكَاً ۱۱) وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا ۱۲) وَجَاءَ  
 يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ ۱۳) يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ  
 الذِّكْرَى ۱۴) يَقُولُ يَلِيَّتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي ۱۵) فَيَوْمَئِذٍ  
 لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ ۱۶) وَلَا يُؤْتِيهِمْ شِقَاقَ  
 أَحَدٍ ۱۷) يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۱۸) ارْجِعِي إِلَىٰ  
 رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۱۹) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ۲۰)  
 وَادْخُلِي جَنَّاتٍ ۲۱)

در پے ہنلبوسیت وَّجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا بیہ تہند پروردگار بیہ ین ساری ملک صف بھفت  
 روزن محشر ہ کس میدانس اندر وَجَاءَ یَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ بیہ بیہ اند نہ تمہ دوہ جہنم یَوْمَئِذٍ یَتَذَكَّرُ  
 الْإِنْسَانُ تمی دوہ کیارٹ نہیب انسان وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى مگر سوکتہ آسہ تمہ دوہہ تمس نصیحت  
 ربک موقہہ یَقُولُ یَلِيَّتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي دپنہ لہہ تمہ دوہہ کاشعہ بروٹھے آسہم سوز مرثہ کانہہ رز عملہ  
 بیہ علچہ زندگی خیطرہ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ کس کرنہ تمہ دوہہ خدایہ سند ہیو عذاب  
 کانہہ اکھاہ وَلَا يُؤْتِيهِمْ شِقَاقَ أَحَدٍ بیہ کرنہ بند کانہہ اکھاہ خدایہ سند ہیو بند کرن یَا أَيَّتُهَا  
 النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ای آرام رٹونہ نفسہ ار جعی الی ربک گڑھہ پنہس پروردگار سن  
 رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ہتھہ حالس اندر کہ ژہ تس نش راضی سوژہ نشہ راضی فَادْخُلِي فِي عِبَادِي  
 \* وَادْخُلِي جَنَّاتٍ پس شامل سپد میانن خاص بدنن ہنزہہ جماژ اندر بیہ اٹھہ مینس جنٹس اندر۔




## سُورَةُ الْبَلَدِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ ۱ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ ۲ وَالْوَالِدِ وَمَا  
 وَكَّدَ ۳ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ ۴ أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ  
 عَلَيْهِ أَحَدٌ ۵ يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَا لَا لَبَدًا ۶ أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ  
 أَحَدٌ ۷ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ ۸ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۹ وَهَدَيْنَاهُ  
 النَّجْدَيْنِ ۱۰ فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ ۱۱ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ۱۲ فَكُ

لَا أُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ قسم چھس بوبادوان یمہ شہرک یعنی مکہ معظمہک وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ یتھ  
 حالس اندر کہ توه آسواتھ شہرس اندر تشریف تھاوت یا توه آسواتھ شہرس اندر فاتحانہ صورتس منز  
 ساروی پابند یورائے خدایہ سندون دشمن تہ تیغ آناں وَالْوَالِدِ وَمَا وَكَّدَ بیہ چھس قسم ہاوان مال سند  
 بیہ اولادن ہوند یعنی تمام مخلوقاتن ہوند لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي كَبَدٍ پز پٹھ پیدہ کراسہ انسان سختی  
 تہ مشقتس اندر أَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ کیا گمان چھاتس کہ تمس کیا پوشنہ کبے يَقُولُ أَهْلَكْتُ  
 مَا لَا لَبَدًا وانان چھہ مہ مگر خرچ سونبرمت واریاہ مال پز کس مخالفتس اندر ژورہ ژورہ أَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ  
 أَحَدٌ امس چھا گمان کہ وچسم نہ کانہ۔ خدائے چھو سوری وچھان أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ کیا اسہ کرہ نا  
 پیدہ امس اچھہ زہ یہ یلہ تموا اچھو سیت وچھت بیہ اچھہ پیدہ کرون مخلوقن بینائی عطا کرہ ون بہنا بندن  
 ہوند حال وچھت وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ بیہ زیوتہ وٹھ زہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ بیہ ہاواسہ تس وٹھ خیرس  
 تہ شرس گن یادون تھرن گن یعنی دودو جن دون جاين گن فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ کس زھنڈہ نہ تم ٹھ تہ بال  
 یعنی ماجہ ہند دینہ چہ کامہ کرنس اندر تجن نہ محنت تہ مشقت وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ ژہیہ کوہ چیزانراوی

رَقَبَةً ۱۳) أَوْ اطْعَمُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ ۱۴) يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ ۱۵)  
 أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ۱۶) ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا  
 بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالرِّحْمَةِ ۱۷) أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ ۱۸)  
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِالْإِيتِنَاهُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ ۱۹) عَلَيْهِمُ نَارُ مُؤَصَّدَةٌ ۲۰)

سوعقبہ کیاہے گو سوگو فَاك رَقَبَةً گردنہ آزاد کرن سے موکہ لاون یعنی غلام یا کنیز آزاد کرن یا قرضدارہ  
 سز گردن قرضہ نشہ موکہ لاون أَوْ اطْعَمُ فِي يَوْمِ ذِي مَسْغَبَةٍ نہ کھیاون کا نہ شخصہاہ بوجھ ہندہ دودہ  
 یعنی فطس منز يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ کینہ رشتہ دار یتیمس أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ نہ کا نہ مژہ سیت میلتمس  
 مسکینس یعنی پتھر پے قس محتاجس ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا تمہ پتہ آسہ سو گردن آزاد کرہ دن کھین  
 دودہ دن یتیمس نہ مسکین تمواندر یو ایمان اون کیاہہ یتیم ہندہ قبولیتگ شرط چھو با ایمان آسُن  
 وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ بیہ کرک وصیت اکھ اس صبر کرئج عبادت کرنس نہ گنہوش نہ پیتھ روزہ نس پٹھ  
 وَتَوَاصَوْا بِالرِّحْمَةِ بیہ کرکھ وصیت مخلوقن پیٹھ رحم کرئج أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ تمہ چھ  
 نصیبہ وال بختہ ہڈ یمن دھنس اتھس کیت نامہ اعمال دنہ بیہ بیہ یمن عرشہ مجیدہ کہ دچھنہ طرفہ  
 روزئج جای دنہ بیہ۔ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِالْإِيتِنَاهُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ یمولو کو انکار کر سانین آیاتن تم گئے  
 پھشل نحوستہ وال عَلَيْهِمُ نَارُ مُؤَصَّدَةٌ تمہن پٹھ سپدہ نار مسلط ٹھانڈنہ آمت یتھ منز نہ دہ نہ نیرک -




سُورَةُ الشَّمْسِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ① وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا ② وَالنَّهَارِ إِذَا  
 جَدَّهَا ③ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ④ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَدَهَا ⑤  
 وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَّهَا ⑥ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ⑦ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا  
 وَتَقْوَاهَا ⑧ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ④ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ⑩  
 كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ⑪ إِذِ ابْنَعَتْ آشْقَاهَا ⑫ فَقَالَ لَهُمُ

وَالشَّمْسِ آفتابگ قسم وَضُحَاهَا بیه تمحه تاپک قسم وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَّهَا بیه زونه هیوند قسم یله سو پته چهه پکان اتھ آفتابس وَالنَّهَارِ إِذَا جَدَّهَا بیه دو هوک قسم یله سواتھ آفتابس روشن چھو کران وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا بیه رازھ هیوند قسم یله سوہ ولان چھواتھ آفتابس وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَدَهَا بیه آسمانگ قسم بیه یم سو بناکور وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَّهَا بیه زمینگ قسم بیه یم سو ہوارگرتہ و ہراو وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا بیه انسانہ سندہ نفسگ قسم بیه یم سو برابر کر یعنی یم سو سیودگر فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پس دلس منز تراونس بدی تہ گناہ تھند بیه نیکی تہ پرہیز گاری تھنز یم ساری قسم آی ہاونہ بیه تھہ خیطرہ کہ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا بے تحقیق کامیاب رستہ گار سید تہ مطلبس ووت سو شخص یم پاک گر پنون نفس یعنی تم سمن نفس نافرمانیو نشہ پاک کرت تقویٰ و فرمان برداری پیٹھ آمادہ گر وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ناکام تہ نامراد سید یم سو نفس پھا ٹو بدین اندر جواب قسم چھو سارنی قسمن ہوند ای کہ مکہ ہک کافر و فاجر تہ بدکار چھوہ توه لوک توه چھو ضرور غضبس تہ ہلاکس گر فقا سپدن دنیا و آخرتس منز آنتھ پاٹھ قوم ثمود گر فقا سید یمن ہوند قصہ امہ پتہ بیان چھو یوان کرنہ کَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا قوم ثمودن گر تکذیب

رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقِّيَهَا ۱۳ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا وَأَصْلَدُم  
عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا ۱۴ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا ۱۵

پندہ شرارت و سرکشی سببہ پنہ نس پیغمبر صلی علیہ السلام یہ چھو تمہ و تمگ قصہ اِذْ اَنْعَثَ اَسْقَمَهَا  
یلہ تمہ قوم ثمودہ منزہ ووتھ سخت شقیہا اکھ سوی سپد آمادہ تس وونئذہ تکلیف و اتناوتس پیٹھ، سیت رودس  
بے لوک تہ، امیوک اطلاع یلہ ووت صالح علیہ السلام فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقِّيَهَا  
پس فر مووئتمن اللہ تعالیٰ سند پیغمبرن یعنی صالح علیہ السلام خبر درار روز یوامس خدایہ سنزہ وونئذہ  
ہندہ حقہ، بیہ تمسندہ تریشہ ہندہ حقہ یوتھنہ سووئٹن ماریون یا کریوتس تریش چنس اندر کونہ قسمہ  
مزاحمت۔ امس وونئذہ فر موواللہ تعالیٰ ان ناقۃ اللہ یعنی خدایہ سنزوئٹن۔ کیا زہ یہ آس اکھ ہڈ دلیلاہ تہ  
معجزہ صالح علیہ السلامہ سندہ نبوت و پیغمبری ہنز تس تعظیم کرن اوس لازم تہ واجب۔ یمو کرتھ  
ساری ادلہ بدل فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا پس کرتھ تس پیغمبرس انکار سووونکھ اُپز یور۔ بیہ تھجھ امس  
وونئذہ نیکہ نیر اتھ پاتھ مارکھ سہ فَذَمُّوا عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّاهَا پس تراوئتمن ہڈ بلای تہند  
پروردگارن تہندہ تا فرمانی تہ گناہ سببہ سوی بلای و اتناوتک سارنی برابر یعنی ساری گلن اند ہتھ وَلَا  
يَخَافُ عُقْبَاهَا اللہ تعالیٰ چھونہ کھوژان امہ کس تھجس۔ ہتھ پاتھ دنیاء ک پادشاہ اندیشہ چھ کران  
کونہ وقتہ جُر من سزاد نس اندر کہ خبر چھا امیوک نتیجہ مانیرہ خراب۔ مُلْكُكُمْ اَنْدَر ماسپدہ کانہہ شورش یا  
ملکی معاملاتن اندر مایہ کانھ خلل۔ اللہ تعالیٰ اس چھنہ اثرھن تھن ہیوند کانہ پروا۔



## سُورَةُ الْيَلَاءِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 وَالْيَلِيلِ إِذَا يَغْشَى ① وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى ② وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ  
 وَالْأُنثَى ③ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى ④ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى ⑤  
 وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى ⑥ فَسَنبِئْهُهُ لَلْيُسْرَى ⑦ وَأَمَّا مَنْ  
 بَخِلَ وَاسْتَغْنَى ⑧ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى ⑨ فَسَنبِئْهُهُ  
 لَلْعُسْرَى ⑩ وَمَا يَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى ⑪ إِنَّ عَلَيْنَا


وَالْيَلِيلِ إِذَا يَغْشَى قسم چھو راتک یلہ سُوولان چھہ عالس گہ سیت وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى بیہ چھو قسم دو ہک پلہ سو روشن چھو سپدان وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى بیہ چھو قسم تس ذاتہ سند یم نرتہ مادہ پیدہ کر یمن قسمن ہیوند جواب چھو امہ پتہ یعنی یم قسم تھہ پیٹھ آے ہاونہ إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى تھہ پیٹھ کہ بے شک تو ہنزہ کوششہ یعنی عملہ چھ مختلف کانسہ ہنز عمل چھہ رثہ۔ تہ جان کانسہ ہنز عمل چھہ پیٹھ تہ خراب آتھہ پاٹھ چھہ امیک شمرا تہ نتائج تہ مختلف رثہ عملہ چھو رثہ جزا پیٹھ عملہ چھو پیٹھ سزا۔ سچ مثال گیہ کہ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى پس یم خدایہ سزہ و تہ اندر دیوت مال پنون۔ تو پتہ کھوڑ خبر چھا قبول کر مہ کنہ رد کر یم وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى بیہ زون پوزروت کلمہ یعنی کلمہ توحید، اختیار کرن دین اسلام فَسَنبِئْهُهُ لَلْيُسْرَى پس کرو اس تہندہ راحتمہ چیزہ خیطرہ سامان مہیا۔ راحت کہ چیزہ اندرہ چھہ مراد رثہ عمل رثہ عملہ ہندہ واسطہ کرو س عطا جنت وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وین یم واجب حقوق ادا کرنہ نشہ بخل کر بیہ خدایس کھوڑ نہ بدل لوگن بے پروا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى بیہ گزرن اپزرت کلمہ یعنی اسلام کرن نہ قبول فَسَنبِئْهُهُ لَلْعُسْرَى تلہ کرو اس تہندہ سختی تہ تکلیفہ خیطرہ سامان مہیا تکلیفہ کہ چیزہ سیت چھہ مراد پیٹھ عمل پیٹھ عملہ ہندہ واسطہ کرو ن داخل نار جہنم وَمَا يَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى کاہنہ

لِلْهُدَىٰ ۚ ﴿۱۲﴾ وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ ﴿۱۳﴾ فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ ﴿۱۴﴾ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ ﴿۱۵﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿۱۶﴾ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ ﴿۱۷﴾ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ ﴿۱۸﴾ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ ﴿۱۹﴾ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ

فائدہ دینے تس مال و دولت پہنن یلہ بوتھ کن پیہ تہ ڈولہ گوہ سونار جہنم اندر اِن عَلَيْنَا لِلْهُدَىٰ واقفی سانہ ملہ اوس تفضل واحسانہ موجب و تھ ہاون سہ و تھ ہاواسہ وارہ پاٹھ پس کر کانہ اختیار ایمان و طاعت و تھ کر کانہ کر اختیار کفر و نافرمانی ہنز و تھ یہ فسح کانہ شخص و تھ اختیار کرہ تی قسمک پھل تولہ سو۔ وَإِنَّ لَنَا لِلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ کیاہہ سانس اٹھس تہ اختیار س منز چھو آخرت تہ دنیا تہ دنیا کس منز کر اسہ احکام مقرر یمولو کو تموا حکامو موجب عمل کر تمن بیہ رتہ مزدور نہ آخرتس اندر یمولو تمن احکامن ہنز مخالفت کر تمن بیہ آخرتس اندر پور سزاندہ یمولو بیان کرنہ او فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ پس کر موہ مہہ بیم تمہ نازک نئس شعلہ ماران تہ رہ تراوان چھو لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَىٰ تھہ نارس منز واتنہ ہیٹگی بند روزنہ خاطر مگر سوی شخص نئس یڑ شقی تہ بد بخت آسہ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ یم اپز گنزر دین حق تہ پیغمبر بر حق بیہ کرن۔ روگردانی۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَىٰ قریب چھو کہ بیہ بیہ تمہ نارہ نشہ لوب تھاونہ تہ پتھ رٹنہ سو شخص نئس سٹھاہ متقی تہ پرہیز گار آسہ الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّىٰ نئس مال پنون خرچ کران چھہ محض بیہ غرضہ خیطرہ کہ سو گوژہ گنہوہ نشہ پاک سپدن یعنی محض خدا یہ سز رضا مندی حاصل کرنہ خیطرہ اگرچہ یمن آیات کر یمن ہند الفاظ چھہ عام مگر سبب نزول چھو یمن آیات کر یمن ہونند قصہ ابو بکر صدیق ؓ یلہ تموبلال حبشی ؓ وغیرہ صحابہ صیب کافرن نشہ مول ہنت محض خدا یہ سہہ رضا خیطرہ آزاد کور۔ چنانچہ تفسیر دُر منشورس اندر چھویو ہے شان نزول ذکر کرنہ آمت وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ چھونہ کانہ اسندتس نشہ کانہ تھاہ تہ احسانہ تمہ کوی بدلہ تہ

## رَبِّهِ الْأَعْلَى ۲۰) وَكَسَوْفَ يَرْضَى ۲۱) ع

عوض کیا آسہا تہ دنہ یوان اِلَّا لِبِعَاءٍ وَجْهَ رَبِّهِ الْأَعْلَى مگر پچھو سومال پنون خرچ کران محض پنہ  
نس بڈس تہ تھدس پروردگارہ سندر ضاژھانڈہ نہ خیطرہ وَكَسَوْفَ يَرْضَى سو شخص سپدہ بروٹھ ضرور  
مقصدس تہ مطلبس واتنہ سیت خوش تہ راضی۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 وَالصُّحَىٰ ۱ وَاللَّيْلِ ۱ إِذَا سَجَىٰ ۲ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۳  
 وَلَا آخِرَةَ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ ۴ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ

وَالصُّحَىٰ \* وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ یہ سورہ شریفک سبب نزول ہجھوہ کہ پھرہ کونہ بیاری یا تکلیفہ سبہ بہ ہیگ نہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کہ وقت نماز تہجد خیطرہ و تہت بیہ سپد اتفاق کہ جبریل امینہ سندس وحی ہست نیس اندر نہ سپز کینشن دوہن درنگی مُشْرک لگ ونہ نہ کہ حضرت محمد ﷺ تروو پینن پروردگارن۔ تمن سیت لوک لگ دشمنی کرنہ بعضے لگ ونہ نہ کہ یہ صاحب تروو پینن شیطانن (نعوذ باللہ) تمنجھن ہندہ تردیدہ خیطرہ سپد نازل یم آیات کریمہ اللہ تعالیٰ چھونا فرماون کہ وَالصُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ کہ قسم چھومہ چاشمہ ونگ نیس روشن چھو آسان آفتاب کہ کھنہ سیت بیہ چھو قسم راث ہوندیمہ ساتہ نجانہ گھٹ چھو پور سپدان مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ تونہ حض تراویونہ پینن پروردگارن، بیہ کرن نہ تونہ سیت کونہ قسمہ دشمنی یار رسول اللہ۔ کیازہ گوڑہ آیہ نہ تونہ نشہ کانہ کتھ تیوہ۔ توپتہ چھو عادتہ اللہ اندرہ حضرات انبیاءن نسبت یوتھ معاملہ سپدن محال۔ لہذا مہ گڑھیو تونہ کافرن نہ مُشْرکن ہندہ وورنہ سیت آزرده۔ تونہ پیٹھ روزہ وچ نعمت ہمیشہ جاری۔ یہ نزول وحی چھو شرف و کرامت تہوند خیطرہ دنیائس اندر وَلَا آخِرَةَ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ البتہ آخرت چھو بہتر تونہندہ خیطرہ دنیائ خوتہ کیازہ آخرتس اندر کہہ اللہ تعالیٰ تونہ عطا زیادہ نعموہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ بیہ کرہ عطا تونہ پون پروردگارتی یہ سیت تونہ راضی گوہیو حدیث شریفس منز چھ فرمومت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد ﷺ سپد نہ توتان راضی یوتان تہند یو ایو اندرہ اکھ شخص نہ روزہ جہنمس اندر صلی اللہ علیہ وسلم اَللّٰهُ يَخْتَارُ لَكَ خَيْرًا مِّنْ اُولٰٓئِكَ وَتَرْضٰى لَكَ مَا يَخْتَارُ لَكَ خَيْرًا مِّنْ اُولٰٓئِكَ تونہ راضی گوہیو حدیث شریفس منز چھ فرمومت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد ﷺ سپد نہ توتان راضی یوتان تہند یو ایو اندرہ اکھ شخص نہ روزہ جہنمس اندر صلی اللہ علیہ وسلم اَللّٰهُ يَخْتَارُ لَكَ خَيْرًا مِّنْ اُولٰٓئِكَ وَتَرْضٰى لَكَ مَا يَخْتَارُ لَكَ خَيْرًا مِّنْ اُولٰٓئِكَ تونہ راضی گوہیو حدیث شریفس منز چھ فرمومت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد ﷺ سپد نہ توتان راضی یوتان تہند یو ایو اندرہ اکھ شخص نہ روزہ جہنمس اندر صلی اللہ علیہ وسلم اَللّٰهُ يَخْتَارُ لَكَ خَيْرًا مِّنْ اُولٰٓئِكَ وَتَرْضٰى لَكَ مَا يَخْتَارُ لَكَ خَيْرًا مِّنْ اُولٰٓئِكَ تونہ راضی گوہیو حدیث شریفس منز چھ فرمومت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ محمد ﷺ سپد نہ توتان راضی یوتان تہند یو ایو اندرہ اکھ شخص نہ روزہ جہنمس اندر صلی اللہ علیہ وسلم اَللّٰهُ يَخْتَارُ لَكَ خَيْرًا مِّنْ اُولٰٓئِكَ وَتَرْضٰى لَكَ مَا يَخْتَارُ لَكَ خَيْرًا مِّنْ اُولٰٓئِكَ



فَتَرْضَىٰ ۝۱۰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ ۝۶ وَوَجَدَكَ ضَالًّا  
فَهَدَىٰ ۝۷ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ۝۸ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ ۝۹  
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ ۝۱۰ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ ۝۱۱

اندر۔ تو پتہ آس تم شوروی یلہ والدہ ماجدہ یمہ عالمہ یکجہ تو پتہ رود عبدالمطلبس نشہ یوتان تم آٹھ  
وہرات۔ تمہ پتہ رود تم ابوطالبس نشہ سواتیس کالس زندہ اوس تہ تیتس کالس تم مگر تہنز پرورش تہ  
بجہانی نہایت جانفشانی سیت تو پتہ کر تہندہ مر نہ پتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریفس کن  
ہجرت تہہ بخوش اللہ تعالیٰ ان تہندہ خدمت و حفاظتک شرف قبیلہ اوس و خزرجس یعنی مدینہ شریفہ  
کیں انصارن تمو مگر تہہ پاٹھ تہنز خدمت و جانفشانی تہج نظیر دنیا س اندر مفقود چہہ۔ یمہ ساری  
صورثہ چہہ لفظ فاوی اس تل داخل سپدان وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ بیہ لبوہ توہ اللہ تعالیٰ ان  
شریعتہ کہ علمہ نشہ بے خبر تو پتہ ہاونوہ تہہ کن و تہہ۔ بیہ ہونوہ سوروی علم شریعت وَوَجَدَكَ عَائِلًا  
فَأَغْنَىٰ بیہ لبوہ توہ اللہ تعالیٰ ان فقیر، پس کرنوہ تو بیہ بے نیاز یمہ طریقہ کہ ام المؤمنین خدمتہ کبریٰ  
سندہ طرفہ گوہہ توہ مال تجارت ہیبت تہہ اندر سپد تو ہیہ نفع حاصل بیہ گور خدیجہ کبریٰ ان توہ سیت  
نکاح۔ تمو گور پنون سوروی مال تو ہندس خدمتس اندر پیش یہ گو غنای ظاہری غنای قلبی تہ غنای باطنی  
گور توہ تیوت عطا سمیوک نہ اندازے ہجہ کانہ شخص کرت۔ غرض یم پروردگارن تو ہیہ سیت ابتداء  
پیٹھ امہ قسمک معاملہ گور سوہنجیا توہ پیٹھ ناراض گوہت تہ تو ہیہ تراوت۔ مگر پروردگارہ سندین یمن  
الطافن تہ مہربانین ہیوند شکرانہ گو کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وین یس یتیم آسہ تس مہز آسیو خشم تہ  
گرنز کران۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وین یوس فقیر محتاج تہ منگون آسہ سومہ آسیون زورہ زبردستی  
سیت نہر کڈت خالی تراوان وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وین یمہ نموہ تہوند پروردگارن تو ہیہ عطا کرہ  
تمن ہیوند کریو توہ بیان تہندن ارشاداتن تہ کلام شریفس سیت حدیث ناو آمت چہو تھانہ سوچھو غالباً  
امی لفظ حدیث اندرہ کڈنہ آمت واللہ اعلم۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ ۱ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ ۲  
 الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ ۳ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ۴ فَإِنَّ مَعَ

أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ کیا اسے کرنا تہوندہ خیطرہ تہوند سینہ مبارک کھول نہ شہادہ علم سیت یعنی علم  
 نہ گراسہ توہیہ شہاہ زیادہ عطا۔ بیہ نُس تکلیفہا توہیہ تبلیغ حق کرنس پیٹھ دشمن ہندہ طرفہ ووت  
 سو برداشت کرنہ خیطرہ کراسہ توہیہ حلم نہ تحمل عطا۔ یا نحو اشارہ امہ اندرہ تھ شق صدر شریفس گن  
 یس متعدد بار طور کرنہ آو۔ اکھ یلہ تم دودہ ماجہ نش یعنی حضرت حلیمہ سعدیس نش آس۔ بیہ یلہ بالغ  
 سپد۔ بیہ یلہ خلعت نبوت ولنہ آکھ یعنی یلہ ژتجہ وہر آس بیہ یلہ بعالم بالا کھارنہ آے در شہب معراج  
 وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ بیہ نکل اسہ توہیہ نشہ تہوند سو بور الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ یم بار گبر وومت  
 اوس پُشت مبارکس تہوند۔ تہوند بُور اوس معنوی اکھ بُورہ یا اوس سوزول وچک بُور نُس ابتداءس اندر  
 شہاہ مُشکل اوس پتہ سپد سہل نہ آسان یا اوس منصب رسالت چن ذمہ دارین ہوند بُوریمہ کہ محسوس  
 سپدنہ سیت خاطر عاطر تہوند مہکد رسپدان اوس سوی گور اللہ تعالیٰ ان دور۔ حضرت شاہ عبدالعزیز  
 صاحب دہلوی چھ فرماوان کہ امہ اندرہ چھو مراد کہ تہوند ہمت عالی نہ پیدائشی استعداد یمن کمالاتن  
 نہ مقاماتن واثن منگان اوس دلہارگس اوس جسمانی تزکیہ نہ نفسانی تشویشاتن گن نظر کرت تمن  
 کمالاتن پٹھ فائز سپدن دشوار بوزنہ یوان۔ مگر اللہ تعالیٰ ان یلہ شرح صدرہ سیت مزید استعداد عطا  
 کر کہ اتی سپدک تم ساری کمالات حاصل تمیوک نُس بارہ دل مبارکس پٹھ اوس سو تھ وَرَفَعْنَا لَكَ  
 ذِكْرَكَ بیہ کورنا اسہ بلند نہ تھود تہوندہ خیطرہ تہوند ذکر۔ حدیث قدسیس اندر چھو اچ وضاحت کہ  
 اللہ تعالیٰ ان فرمو کہ اذًا ذُکِرْتَ ذُکِرْتَ مَعِيَ (تفسیر ابن جریو ابن کثیر و ابن ابی حاتم) یلہ میون  
 ذکر کرنہ آسہ یوان تلہ بیہ کرنہ تہوند تذکرہ نہ۔ چنانچہ بانگہ منز تکبیرس منز نمازہ منز تشہدس منز



## سُورَةُ التِّينِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ ① وَطُورِ سِينِينَ ② وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ ③  
 لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ④ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ  
 سَفِيلِينَ ⑤ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ⑥  
 فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّكْرِ ⑦ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ ⑧

وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ قسم چھوانجیرک یا انجیر کلک بیہ چھو قسم زیتون نک یا زیتون کلک ایم دو شوے چھ  
 بابرکت میوہ تہ کل تہ یا چھو مراد تمہ جاہیہ ہیوند تہ تمہ شہرک قسم یتہ انجیر کل تہ زیتون کل بکثرت  
 پیدہ سپدان چھواکھ جای گئیہ ہتھ گن ابرہیم علیہ السلامن ہجرت کر مرچھ۔ بیاکھ جای گئیہ یتہ عیسیٰ  
 روح اللہ تولد سپدمت چھہ وَطُورِ سِينِينَ بیہ چھوکوہ طورک قسم ہتھ پیٹھ موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ  
 سیت ہم کلام سپد وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ بیہ چھو قسم یمہ امکہ شہرک ہتھ شہرس منز کعبۃ اللہ واقع چھو  
 بیہ یس شہر حضرت سید المرسلین سندہ ولادت باسعادت تلک شہر چھو یمہ ژور قسم ہاوتھ چھو فرماوان اللہ  
 تعالیٰ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ بے شک پیدہ کراسہ انسان رتس اندازس اندر بہترین  
 شکل و صورت کرس عطا ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَفِيلِينَ تو پتہ وول اسہ سہ یوئمہ درجہ کیو لو کو اندرہ تہ زیاد  
 بون۔ نافرمانی تہ کفر و شرک سبہ۔ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر یمو لو کو ایمان اون بیہ کرکیکہ رتہ  
 عملہ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ تہندہ خاطرہ چھو سو ثواب ئس نہ زانہ تہ خم گڑہ یا وبرہ یلہ اللہ تعالیٰ پیدہ کرنس  
 پیٹھ بیہ احوال بدلاونس پیٹھ پور قدر تہ وول چھو۔ اے انسانہ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالذِّكْرِ ادہ کوہ چیز  
 چھوی ژہ تکذیب تہ انکار کرناوان جزا گس دوہس أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ کیا اللہ تعالیٰ چھنا حاکمن  
 ہوند بوڈ حاکم ئس تصرف چھو دنیا کی سارنی امورن پیٹھ تہ آخر تہ کین سارنی امورن پیٹھ تہ۔

## سُورَةُ الْعَلَقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۱ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۲  
 اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۳ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۴ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ یہ سورہ شریفک یم ابتدائی پانژھ آیہ کریمہ چھ ساری قرآن مجیدہ بروئٹھ نازل سپد مت سمیوک قصہ چھو صحیفن منز ذکر کرنہ آئت کہ نبوت عطا سپد نہ بروئٹھ آس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود خلوت نشینی پسند کران۔ چنانچہ مکہ شریفن منز اوس غار حراء تہہ منز آس تشریف تھوان۔ تہ معبود برحقہ سنز عبادت کران۔ رات کہ وقت تہ آس اتھہ غارس اندر روزان اکہ شبہ آس غارہ شریفہ منزہ نبرگن درامت آتی و جھک آسمان وز مینس منز معلق اکہ عتھہ تہہ پیٹھ و جھک اکہ شخصہ سٹھہ بوڈیہوی ڈتھہ امہ تختہ پیٹھ توپتہ آویمن بروئٹھ گن امی دپوک اقرأ پر یو فرموس مالنا بقاری بو جھسنہ پرہون توپتہ رٹن پانس سیت چیر و تھہ تراون یلہ۔ بیہ ڈپنک اقرأ پر یو فرموس بیہ یہوی جواب کہ بو جھسنہ پرہون توپتہ رٹن بیہ پانس سیت بیہ دیونک چیر دویمہ لہ خونہ زیادہ تیوت چیر کہ قریب اوس تم سپد ہنس بے ہوش توپتہ تراون یلہ۔ ڈپنک اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ پر یوپنہ نس پروردگارہ سندا و ہمت تم پروردگارن ساری مخلوق پیدہ کر خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ یم انسان پید کور موٹس خونس یعنی خونہ دتھہ امہ اندرہ چھہ مراد انسانس تبنہ کرن کہ ای انسانہ زہ پٹھہ چھہ خدایہ سنز نعمت سٹھہ ہڈ کہ بے جان چیزہ نشہ پیدہ کرت تھہ در جس و اتا و تکھ شکل و صورت تہ عقل و علم کرنے عطا۔ ژہ پزن زیادہ شکر و شادین ذکر و فکرہ اندر مشغول روزن اقرأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ توہیہ آسیویا رسول اللہ قرآن مجید پران تہوند پروردگارہ چھو سیٹھہ کریم۔ سوہ یژھان چھو تہ چھو عطا کران۔ سوچھو پر نہ و رای پرہ ناوان۔ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ یم پروردگارن لکھمت ہرمت لوک چھناو بذریعہ قلم عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ یہ انسان چھو نون تہ چیز سمنہ تس معلومے آس مطلب چھو اکہ زہ تعلیم تہ چھناو چھہ نہ موقوف لکھن تہ پر نی پیٹھ بی بی اسباب و ذرائع تہ چھہ یمو سیت علوم

لَمْ يَعْلَمْ ۵ كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَبَّارٍ ۶ أَنْ رَأَاهُ اسْتَعْنَى ۷ إِنَّ  
إِلَىٰ رَبِّكَ الرَّجْعِي ۸ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ ۹ عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ ۱۰ ۵

حاصل سہدت ہن۔ دویم کتھ چھ پیے کہ اسباب و ذرائع چھنہ بذات خود کنہ اثر کرت ہکان بلکہ چھو موثر حقیقی اللہ تعالیٰ۔ لہذا ہر گہ تو ہیہ یار رسول اللہ پرہ ون چھوہ نہ۔ تمیوک مہ بر یوکانہ پروا۔ ایس یلہ تو ہیہ حکم کروہہ پر نک تو ہیہ ہکیو اسباب و ذریعو و رای سانہ حکمہ ہرت یہ ایس پرہ ناؤن یثھوہ۔ اس ہکوہہ تو ہیہ پرہ ناوت۔ یتھ پاٹ آسہ خوش کرہ۔ اس ہکوہہ تو ہیہ سو طاقت تہ سہ قدرت عطا کرت یہ سیت تو ہیہ ہرت ہکیو۔ علوم وحی یاد ہکیو تھات چنانچہ تی سہ۔ تفسیر عزیز لیس اندر چھو۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تموا گر چہ اوس نہ لکھن ہرن ہتھت مگر اللہ تعالیٰ ان فر موو کہ قلمہ کہ ذریعہ تہ چھس بوی ہتھنا وان قلمہ و رای تہ ہک بوی ہتھناوت ممکن چھو۔ یتھ کتھ گن تہ آسہ اشارہ کہ یتھ پاٹھ فیض و وہ نس تہ فیض رنہ و نس منز قلم چھو واسطہ تہ ذریعہ سپدان۔ یتھ پاٹھ آسہ باری تعالیٰ اس منز تہ پیغمبرن بر حقس منز جبریل امین محض اکھ واسطہ تہ ذریعہ۔ بیہ اتھ پاٹھ قلمک ذریعہ فیض سپدن چھونہ یتھ کتھ لازم کہ قلم کیا چھو تس فیض رنہ ون سندہ خوتہ افضل تہ بہتر۔ یتھ پاٹھ چھنہ یہ کتھ تہ لازم کہ حقیقت جبریلیہ کیا آسہ ہا افضل حقیقت محمدیہ خوتہ۔ لہذا چھو جبریل امین تہندہ حقہ ممنزلہ قلم کَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِكَبَّارٍ ۶ \* أَنْ رَأَاهُ اسْتَعْنَى ۷ بہ تحقیق یہ انسان لیس اسی خونہ دتہ پیدہ کور لیس حقیر و ذلیل چیزاہ اوس۔ لیس جاہل مطلق اوس اسی ہتھناؤ۔ اس روزنہ ہن اصلی حقیقت یادای یہ لگ دنیاہ کہ مال دولت سیت مغرور سہدت سر کشی کرنہ۔ خیال چھس مہ چھونہ کانہ ہوند پروا اِنَّ اِلَىٰ رَبِّكَ الرَّجْعِي ۸ بے شک چیلسی پروردگار س گن چھو سارنی واپس وائن۔ یتہ تہ آسہ یہ انسان تہنزی قدر تہ کس احاطس منز ولنہ تہ بند کرنہ اُمّت یہ منزہ ثلث ہکنہ گن تہ۔ یوتھ عاجز تہ بے بس انسان تھہ پاٹھ ہکھ اتھس قادر و قاہر خدا ایس نشہ مستغنی تہ بے پروا آتھ۔ وین تسمد پنون پان مستغنی زانن یہ گیہ محض سفاہیت تہ حماقت یعنی بالکل ثور تہ احمق لاگن۔ امہ پتہ چھو اس انسانہ سنزن بعضے بچھ کائین ہوند بطریقہ استفہام ذکر یوان کرنہ اکھ دوہہ آس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرامس منز نماز پران ابو جہل آو تم دوپ تمس آسے تو ہیہ واریاہ پھرہ یہ کرنہ نشہ منع کور تہند کیا ز چھونہ پتھ روزان۔ تمو کرس اتھ


أَرَعَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَىٰ ۙ أَوْ أَمَرَ بِالْتَّقْوَىٰ ۙ أَرَعَيْتَ إِنْ  
 كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ۙ أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ ۙ كَلَّا لَئِنْ لَمْ يَنْتَهَ ۙ  
 لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ۙ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ ۙ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ۙ

پیٹھ سخت خشم تہ گرز سولگ دپنہ شہر مکس منز چھہ ساروی اندرہ بین جماعت واریاہ بند۔ ہرگہ آئندہ  
 بوو چھوادہ توہ بیہ نماز ہران بوتھاوہ توہنزہ گردن پیٹھ کھور توپتہ و اتا و وہ سٹھاہ تکلیف۔ چنانچہ اکہ پھرہ  
 آس تم نماز ہران توپتہ آو سو تکلیف و اتا و نہ کہ قصدہ مگر نزدیک و اتھہ پھیور واپس لو کو پڑھہ ہس ژہ کیا  
 گوی دوپن یتھوی بو تم ن نزدیک و ائس تھوی وچھہ مہ اکھ خندقہ تھہ منز وچھہ مہ کچھ کرت جانور یم  
 و ہجھت یو کھو ژس فر مونی کر یم ن صلی اللہ علیہ وسلم تم آس ملائک ہرگہ سو بروٹھ پکے ہا تمس ژہلین  
 تم باز آرَعَيْتَ الَّذِي يَنْهَىٰ \* عَبْدًا إِذَا صَلَّىٰ اِی مخاطب ژی کرتہ بیان تشخصہ سند حال ئس سانس اس  
 خاص بندس منع چھو کران تہ پتھ چھو ران یلہ سو نماز چھو پران۔ یعنی معبود برحقہ سز عبادت کرہ و نس  
 عبادتہ نشہ نماز پر نہ نشہ پتھ رٹن۔ یا تس گا نگل کرن کوتاہ گناہ تہ کثیرا ہ پچھ کوم چھہ آرَعَيْتَ إِنْ كَانَ عَلَى  
 الْهُدَىٰ ژہ و نتہ مہ بیہ کوتاہ گناہ چھو خصوصاً یلہ سو بندہ خاص عین ہدایتس تہ راہ راستس پیٹھ آسہ

أَوْ أَمَرَ بِالْتَّقْوَىٰ یا آسہ سو بین لو کن تہ خدا یس کھو نچ تعلیم دو ان تم ن تہ معبود برحقہ سندہ عبادتک  
 امر کران آرَعَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ژہ و نتہ مہ ہرگہ سو پھ رٹہ و ن شخص پانہ دین حقس آسہ اپز  
 گز ران۔ بیہ آسہ دین حقہ نشہ بو تھ پھر ان اَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَىٰ کیا تس پتھ رٹہ و نس تہ نمازہ نشہ  
 منع کرہ و نس چھنا خبر کہ اللہ تعالیٰ چھو بے شک تسزہ یمہ پچھ کامہ و چھان سو دیہ ضرور اس یم ن پچھ  
 کائین ہوند سزا کلاگ اس پزہ ہانہ ہرگز یمہ پچھ کامہ کرنہ لَئِنْ لَمْ يَنْتَهَ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ ہرگہ نے سو  
 آئند یمو پچھ کامیو نشہ پتھ روزہ۔ ایس پکنا و ون ژھاگہ رٹھہ یعنی کلہ کہ مسہ رٹھہ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ  
 یس مست اپز تہ خطا کار چھو۔ کیا زہ تمسدہ بدگین موی ن موی ن چھو گنہن ہیوند ارٹو تم تہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ \*  
 سَدَّ عُرْوَانَ بِنَاتٍ ہرگہ تمس پنہ نین لو کن تہ پنچہ ژاٹن ہندہ مددک خیال چھو دین سو تم ن آلو  
 آستہ و مو آلو جہنمہ کین عذابہ کین ملائک۔ امام طبرائین کر روایت از قتادہ تمو فر مود نبی کر یم ن صلی

## سَدُّ عُرِّ الرَّبَّانِيَّةِ ⑱ كَلَّا لَا تَطْعُهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ ⑲ السَّجْدَةَ

اللہ علیہ وسلم ہر گہ امہ وقتہ ابو جہل کنہ کرہ ہاضرور رٹھن تس جہنمک ملک نین پاٹھ کلا تس پڑہ نہ ہر گزیہ کرن لَاتَطْعُهُ مگر توہیہ مہ حض بوزیو امس خیشہ سُنَد یعنی توہیہ مہ تراویو نماز پر ن امسندہ ونہ نہ موجب وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ بلکہ روزیو توہ بدستور نماز پر ان بیہ خدایہ سُنَد قرب یتہ نزدیکی حاصل کران۔ اللہ تعالیٰ رچھہ توہہ تہندہ شرہ نشہ کیازہ نمازہ سیت سپدہ توہیہ قرب خدا حاصل۔ قرب خدا چھو حفاظتک بوڈر یعہ لہذا امہ کریو توہیہ یمن دُشمن ہنزن تھن گن کانہ التفات۔





## سُورَةُ الْقَدْرِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۱ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۲ لَيْلَةُ  
 الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۳ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا  
 بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ كُلِّ أَمْرٍ ۴ سَلَّمَ ۵ هِيَ حَتَّىٰ مَطَلَعِ الْفَجْرِ ۶

اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک اسے کرنازل یہ قرآن مجید تجھ ذکر سورہ علقس اندر چھ شب قدر  
 اندر وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ توہم یہ کہہ چیز زانراوہ کہ شب قدر کیاہ شب چھو۔ بوی فرماووہ تمیوک  
 حال تہ شان لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ شب قدر چھو بہتر ساسہ ریتہ خوتہ، یعنی ساس  
 ریتس عبادت کرنس یوت ثواب چھو، تمو خوتہ زیادہ ثواب چھ اتھ شمس اندر عبادت کرنس،  
 آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کر آکہ دودھ بیان کہ بنی اسرائیل آس ساس ریتس عبادت کران۔  
 کیاہ تمس آسہ زچھ عمرہ۔ یہ بوزت سپد صحابہ صمیم سخت افسوس تہ دینہ لگ آسہ تے آیشہ عمر آسہا  
 آسہ آسہو ایشہ عبادت کران۔ اتی سپد یہ سورہ شریفہ نازل تھ اندر اللہ تعالیٰ ان فرموو کہ اکی مینس  
 حبیبہ سند یو اقیو توہم یہ کر مہ عطاشب قدر لیس ساسہ ریتہ خوتہ بہتر چھ تھ شمس منز لیس عبادت کرہ زن  
 تم ساس ریتہ خوتہ زیادہ کالس عبادت کر تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا سو چھو تھوی شب کہ  
 نازل چھ سپد ان تھ شمس منز ملائک بے روح القدس یعنی جبریل امین زمینس پیٹھ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِّنْ  
 كُلِّ أَمْرٍ \* سَلَّمَ پنہ نس پروردگارہ سندہ حکمہ پرت کج خیر و برکت تہ سلامتی ہمت سوی خیر تہ برکت  
 چھنہ آسان تمہ شبہ کونہ معین حصص اندر هِيَ حَتَّىٰ مَطَلَعِ الْفَجْرِ بلکہ چھو آسان سو خیر و برکت  
 سار سئی شمس طلوع فجرس تان۔ چنانچہ حدیث شریفس اندر چھو آمت کہ جبریل امین چھ ملائک ہنز  
 اکھ ہنڈ جماعت سیت تلت، دنیا عس اندر ڈو پیر پھیر ان نس شخصس و چھان چھو مشغول نمازہ سیت تہ  
 یاد خداس سیت تس چھو دعاء رحمت سوزان، بیس روایتس اندر چھو تس چھ جبریل امین سلام کران  
 امیوک معنی تہ گو دعاء رحمت تی چھو مراد سلام اندرہ، امر خیرہ اندرہ تہ چھو ای مراد۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفِكِينَ  
 حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ① رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ②  
 فِيهَا كُتِبَ قِيمَةٌ ③ وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ


لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفِكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَةُ ①  
 مشرکوں اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سندہ سوزنہ بینہ بروٹھ کافر آس۔ تم آسنہ پنہ نہ کفرہ نشہ پتھ  
 روزہ و سن پوتان نہ تم نشہ و اتھہ نی تہ واضح دلیل ② رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ③  
 سہ واضح دلیل گیہ پیغمبرہ خدا یہ سندہ طرفہ سوی آسہا پاران تمہن پیٹھ پاک و پاکیزہ سورہ تہ مضامین یمن  
 منز بروٹھن نازل کرنہ آسٹران آسانی کتابن ہند درست مضامین لکھت تہ درج آسہن کرنہ آمت  
 یعنی تمہن کافرن ہیوند گھر اوس توتھ سخت تہ شدید کہ تہوند سوجمل تہ گھر ہیجہ ہینہ دور سپت بدس  
 عظیم الشان پیغمبرہ سندہ سوزنہ و رای۔ تمی موکھ سوز اللہ تعالیٰ ان تمہن پیٹھ اتمام حجت کرنہ خیطرہ سو  
 عظیم الشان پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید ہیئت جلیل القدر اکھ کتابا ہست و سن  
 اوس لازم کہ تم زانہن اتھہ غنیمت تمہن کرہ ہن تلقی بالقبول تہ تمہن انہن ایمان مگر یو اندرہ یم اہل  
 کتاب یعنی یہود و نصاریٰ آس تمہن گہیہ گہ و ن جھنہ بین کافرن ہنز کھے وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
 إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَةُ ③ مختلف تہ الگ الگ سپنہ نہ اہل کتاب مگر تمہن نشہ واضح دلیل و اتنہ پتہ  
 یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہ بروٹھ آس تم متحد تہ متفق تہمدس حقس اندر بغض و عنادہ سبہ بہ  
 کر کہ تمہن انکار تہمدہ تشریف انہ نہ پتہ اڈو اون ایمان اڈو یو گرانکار۔ یوتھ جلیل القدر پیغمبر تہ ایشہ  
 عظیم الشان کتاب و اتھہ گوٹھ تہوند دین حقس یعنی اسلامس پیٹھ مجمع تہ متفق سپن ہنن بروٹھم  
 اختلاف تراوت گڑھ ساری اختلافات تراون تمہ چہ جایہ سپن تمہندہ تشریف آوری پتہ پانہ وان

بَعْدَ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيْتَةُ ۖ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ  
 مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ۚ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ  
 وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْ  
 مُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۖ  
 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ۗ

سخت اختلاف وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ حالانکہ تمہیں لو کہن اوس  
 برو نظمیں کتابیں اندر یہوی حکم کرنے آمت کہ عبادت کریو اللہ تعالیٰ اس بیٹھ پاٹھ کہ عبادت زانیو  
 خاص تہ سزاوار تمس یا ثابتا باطل دنیوی شرکہ کیودنیونشہ یکسو تہ الگ سہدت وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا  
 الزَّكَاةَ بیہ اوس تمہیں حکم کرنے آمت نماز برپا تھا تک بیہ ماہج زکوٰۃ ادا کر تک وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ  
 یہوی چھو مضبوط تہ محکم ملت بیٹھ پیٹھ ساری حضرات انبیاء پکان آئے إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ  
 الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ بے شک یمولو کواہل کتابو اندرہ انکار کر پیٹھ بر حقس بیہ مشرک  
 تمواتن ساری جہنمس اندر خلدین فیہا بیہ تمہیں ہمیشہ روزن چھو اُولَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ بیہ لو کہ  
 کیا گئے ساری مخلوق اندرہ بدتر إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ بے شک یو  
 لو کہو ایمان اون خدا بیس تہ جہدس پیٹھ برس بیہ یمن چیزن ایمان انن لازم چٹھو۔ بیہ کر کیکھ رتہ عملہ تے  
 لو کہ کیا گئے ساروی مخلوق اندر بہتر جَزَاءُ لَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ مزور تہ جزا  
 تہوند چھو جہدس پرودگارس نشہ تم جنت یوم بن کن کولہ پکان آسن۔ خلدین فیہا ابدا تے جنتن  
 منز روزن تم ہمیشہ ابد الآباد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ اللہ تعالیٰ روزہ تمہیں نشہ راضی۔ تم روزن

جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ ۝٤

اللہ تعالیٰ اس نشہ خوش تہ راضی ذلک لمن خشی ربہ یہ جنت تہ یہ رضامندی ہیوند خلعت بیہ تس عطا کرنہ بس پنہ نس خدایس کھوژان آسہ یعنی یہ تھود مقام بیہ نہ عطا کرنہ مگر تس بس پنہ نس پروردگارہ سزہ بیزاری کھوژان آسہ۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ① وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ②  
 وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ③ يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا ④ بِأَنَّ  
 رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ⑤ يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا ۱ یلہ زمین پنہ نہ ذاتی سخت حرکتہ سیت الراونہ پیہ۔ یمہ کہ صدمہ سیت  
 کانہ عمارتہ کانہ کوباہ کانہ کلہ زمینس پیٹھ باقی روزہ نہ ساری بیرہ تہ تھڑ رسپدن برابر تہ ہمواریو تھ  
 محشرک میدان لوکن ہندہ سمنہ خیطرہ صاف سپدہ۔ یہ سپدہ یلہ پوغس منز دوئم پھو کہ دنہ پیہ  
 وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ۲ یلہ زمین پنہ ساری گوب گوب چیز نمبردیہ دارت۔ مثلاً انسان یاسون تہ  
 روپیہ۔ وغیرہ وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا ۳ یہ حالت وچھت گزہ صن کافر انسان حیران دپنہ لگن۔ یتھ  
 زمینس کیاہ سناگدریو یہ بوت بونیول کیاہہ آو آئم اندریم چیز کیاہ سنازہ دتن نبردات یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ  
 أَخْبَارَهَا ۴ تمہ دودہ ونہ زمین پنہ نہ سارے رزہ تہ پچھ خبرہ۔ تم سارے واقعات یم بنی آدمس یعنی  
 انسان ہندہ اتھ زمینس پٹھ واقع سپدمت آسن مثلاً زمین دیہ بیان کہ فلاں شخصس پتر مہ پیٹھ نماز  
 فلاں شخصس کمر مہ پیٹھ ڈور۔ فلاں شخصس کمر مہ پٹھ زنا۔ فلاں شخصس کمر مہ پیٹھ خون ناحق وغیرہ وغیرہ  
 بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۵ کیاہہ تس زمینس آسہ تہوند پروردگارن۔ ہوی حکم کرمت۔ یعنی از کہ زمانہ کہ  
 اصطلاحہ موجب بوز تہ ڈہ یتھ پاٹھ کہ یمہ یمہ کامہ لوک اتھ زمینس پیٹھ کران چھ رزہ یا پچھ تمن


سارنی کامین ہیوند رکارڈ چھونا برنہ یوان زمینس اندرتے، رکارڈ چھ موجود تہ محفوظ تھوانہ یوان۔  
 قیامتک دوہ ین تے رکارڈ مٹراونہ۔ زمینس منز پھو اللہ تعالیٰ ان اکھ مادہ تہ اکھ مسالہ پیدہ کرمت کس  
 مسالہ مصورین (فوٹو گرافر) شیش مٹھتھ تصویر تیلان چھو سو مسالہ چھو پورہ پورا تھ زمینس منز

# اعمالهم ۶) فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ وَمَنْ

## يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ ۸

موجود۔ لہذا تمہ زہینس پیٹھ ہنس شخصہاہ کانہ کاماہ چھو کر ان خدایہ سدہ حمہ سیت پچھ صح صورت شکل تہ (فوٹو) زمینس اندر خود بخود تھان۔ تمہ رکارڈ تہ تمہ تصویرین بطور شہادت قیامتک دودہ پیش کرنہ۔ چنانچہ حدیث شریف چھو صحیح ترمذی وغیرہ کتب حدیث اندر کہ یم شخصن زمینس پیٹھ کانہ رثیا پچھ عملہ کر مژ آسہ زمین دیہ تہ گواہی خدا لیس بروٹھ کنہ۔ یَوْمَ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ

تمہ دودہ نیرن واپس مختلف جماثر حساب دتھ مختلف جاين گن نیکو کار با ایمان گوہن جنس گن کافر تہ مشرکین و اتاودہ نہ جہنم گن یوتھ ساری پنہ نین عملن ہیوند پھل تکلن فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۗ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ۗ پس ہنس شخصہاہ اکس ذرس برابر دنیا س اندر رث کو مہ کرہ تھ تہ لبہ سو آخرتس اندر۔ بیہ ہنس شخصہاہ اکس ذرس برابر بدی کرہ دنیا س اندر تھ تہ لبہ سو آخرتس اندر۔ بشرطیکہ سونکی یا بدی آسہ تھ و قس تان باقی ورنہ ہر گہ نیکی تہندہ گھرہ سیت ختم آسہ گمہ۔ یا آسہ ایمان و توبہ سیت سہ بدی یا شر زائل سپدمت تلہ چھ بدل تھ، تلہ آسنہ سو خیر خیر رودمت۔ سو شر رودمت۔



سُورَةُ الْعَادِيَاتِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 وَالْعَدِيَّتِ صُبْحًا<sup>١</sup> وَالْمُورِيَّتِ قَدْحًا<sup>٢</sup> وَالْمُغِيرَتِ صُبْحًا<sup>٣</sup>  
 فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا<sup>٤</sup> فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا<sup>٥</sup> إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ  
 لَكَنُودٌ<sup>٦</sup> وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ<sup>٧</sup> وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ<sup>٨</sup>  
 أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ<sup>٩</sup> وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ<sup>١٠</sup>  
 إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ<sup>١١</sup>

وَالْعَدِيَّتِ صُبْحًا قسم چھو تمس گرں ہوں دین دور تلمنہ وزہ پھر ک کھسان چھو وَالْمُورِيَّتِ قَدْحًا تو پتہ چھو قسم تمس گرں ہوں دیم کنین پیٹھ نعل دار پڈر تراونہ سیت رہہ تراوان چھہ وَالْمُغِيرَتِ صُبْحًا تو پتہ چھو قسم تمس گرں ہوں دیم صکے لگاہ چھہ دشمن پیٹھ واتھہ پوان، توپہ چھہ تمس لوٹ تہ غارت کران فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا بیہ یم گرتہ ساتہ گردو غبار چھہ تکان فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا توپتہ چھہ تمی وقتہ دشمن ہندس جماعتس تہ لشکرہ منز اثران۔ یمن قسمن ہوں دجو اب چھو یعنی یم قسم آئی ہاونہ تھہ کتھہ پیٹھ کہہ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ پزپاٹھ یہ کافر انسان چھو پنہ نس خدا یہ سزنا شکری کران وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَٰلِكَ لَشَهِيدٌ بیہ چھو بے شک یہ انسان پانہ تھہ پیٹھ مطلع تہ گواہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ بیہ چھو بیشک یہ انسان مالہ کس محبتس اندر سیٹھاہ مضبوط تمی چھہ کتہ تہ درمٹھ یوان مالکس محبتس اندر چھو تپو تھہ ہڈمت غرق گوتمت کہ منعم حقیقی سزہ نعمو چھہ بوزنہ یوان أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ کیاسنا امس انسانس چھنا سو وقت تہ تسی یمہ وقتہ قبر و منزہ پریشٹھ کڈنہ بیہ تہ سو روی یہ تھہ منز آسہ مردہ وغیرہ وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ بیہ آیہ نسر اونہ تہ سو روی یہ یمن تہ دل منز آسہ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ پزپاٹ تہوں د پروردگار آسہ تمہ دوه تھہندن سارنی حالاتن پیٹھ بانجر تہ پورا واقف سو دیہ تمس سو بدلہ کس تمس شوہہ۔

## سُورَةُ الْقَارِعَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 الْقَارِعَةُ ① مَا الْقَارِعَةُ ② وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ③  
 يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ ④ وَتَكُونُ الْجِبَالُ  
 كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ ⑤ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ ⑥ فَهُوَ  
 فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ ⑦ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ⑧ فَأُمُّهُ  
 هَاوِيَةٌ ⑨ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ⑩ نَارُ حَامِيَةٍ ⑪

الْقَارِعَةُ \* مَا الْقَارِعَةُ قیامت یوسہ ژیب وین چھ دلن ہیبتہ سیت یوسہ زربا وہ وین چھ کنن خطرناک کرکیو سیت۔ ژہ کیا ونے بوسودوہ کوتاہ مشکل چھو وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ کوه چیز زانراوی ژہ کہ کوتاہ خطرناک چھو سو قیامتک دوہ یَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ یمہ دوہ لوک آسن بھسرنہ آمت پونپر ہی۔ تھہ پانٹھ پونپر چھہ انہ گھہ منزناہ کس گاشش کن سمت یوان توپتہ تھہ نارس منزبان زالان تھہ پانٹھ آسن کافر تہ نافرمان لوک جھنمس منزوزنہ خیطرہ ولس پوان وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ بیہ آسن کوه دونہ نہ آمت پھبپ ہی۔ یوتان نہ تم تہہ زمینس سیت ذبہ بہن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ پس سمسین نیکن ہوند پوترگوب لکھ یعنی سو آسہ باایمان فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ سوواتہ تسلی بخش آرامس اندر وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ وین سمسین نیکن ہوند پوترگوب لکھ یعنی سو آسہ کافر فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ تمسدہ روزہ نچ جای آسہ ہاویہ یعنی جھنمک بینوم طبقہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ژہ کوه چیز زانراوی سو ہاویہ کیاہ چھو نَارُ حَامِيَةٍ سو چھو گرم کرنہ آمت نار۔ نار چھو گرمے مگر آسہ بیہ گرم کرنہ آمت۔ بیہ نار، زن نہ آسن تھہ نسبت گرمی۔






بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ ۱ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ۲ كَلَّا سَوْفَ  
 تَعْلَمُونَ ۳ ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ۴ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ  
 الْيَقِينِ ۵ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ۶ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۷

أَلْهَكُمُ التَّكَاثُرُ دنیوی سامانں پیٹھ فخر کرن گروہ توہیہ غافل آخرتہ نشہ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ یوتان توہیہ واتوقبرن منز کلا یم دنیوی چیز چھنہ ہرگز قابل فخر، یمو چیز وسیت گھنہ تھن ہرگز بیہ چھونہ آخرت ہرگز مشراونس نہ انکارس قابل سَوْفَ تَعْلَمُونَ توه سپدہ جلدی قبرن منزواتہ ونوی سوروی معلوم ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ بیہ چھسونان کہ یم چیز ہرگز تھکنس قابل چھنہ آخرت غفلتس نہ انکار کرنس قابل چھونہ توہیہ سپدہ برونٹھ پین جلدی معلوم۔ یدہ قبر و منزہ نیرت میدان محشرس منزواتیو کلا تریمہ پھرہ چھسوبیہ توه مٹوجہ کران کہ یم دنیوی چیز تھکنس نہ فخر کرنس قابل چھنہ آخرت قابل غفلت و انکار چھونہ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ہر گاہ توہیہ لوک یمہ کتھ پور زامہیو علم الیقینہ پاٹھ صحیح دلیلو سیت یمن دلین ہنز متابعت کرن لازمی آس تلہ سپدہ ہونہ فخر و مباہاتس اندر مشغول سبت آخرتہ نشہ غافل تہ بے پروا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ قسم خدا توہیہ و چھون ضرور آخرتس اندر نار جہنم ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ توپتہ چھسوبیہ تاکیدہ خیطرہ فرماوان قسم ہاوت کہ توہیہ و چھو ضرور نار جہنم یقینہ چہ نظرہ بلاشک و تردد ثُمَّ لَتَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ توپتہ بیہ تمہ دوہ توہیہ سارنی پرژھنہ نعمن ہونہ۔ حدیث شریف چھو بروایت طبرانی بیہ ابن حبان رحمہما اللہ۔ از حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماوک امہ دوہ آئے دوپہرہ کہ وقت سخت گرمی اندر حضرت ابو بکر صدیق مسجد نبولیس اندر۔ توپتہ یوز حضرت عمرن تم تہ آئے ابو بکر صدیقن پروژہ

## ثُمَّ لَسْتُمْ لَنْ يَوْمٍ مِنْ عَنِ النَّعِيمِ ۝

عمر فاروقس۔ بیتھ گرمی اندر کم حض چیزن کڈوہ تہہ گرہ منزہ۔ تمو فر موس بو کڈسنہ کونہ چیزن بوچھ ہند سختی وراى۔ تمو فر موس قسم خدا بو تہ در اس گرہ منز بوچھ ہندہ سختی سبہ بے یم آس پانوان کتھے کران اتی اون تشریف حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تموتہ پروژہ یمن دون صاحبن توہیہ کتھہ پاٹھ دراوہ گرو منزہ بیتھ تاپہ کرایہ اندر، تمو کر ہک عرض ایس حض محض بوچھ ہنز سختی تمو فر مووک قسم چھومہ تس پروردگارہ سند تسم اتھ میون روح چٹھو بو تہ کڈس نہ کونہ چیزن بوچھ وراى۔ توپتہ آئے تر شوے صاحب حضرت ابو ایوب انصاری سُد گرہ تمو کر کھ پیش خضر کلک اکھ شانہ، بیتھ منز پرت قسمک خضر آس۔ بیہ اونن آب سرد۔ بیہ اونن بوز تھ ماز۔ امی ساتہ فرماؤ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہذہ النعیم الذی تستلون عنہ یعنی یہ کیاہ گیہ سہ نعمت یوک توہہ پرژہنہ لیہ یہ کتھ گذریہ یمن صحابہ صہن سخت دشوار توپتہ فرماوک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم إذا أصبتم مثل هذا وضربتم بایديکم یلہ توہہ یژہ نعمتھاہ واتان آسہ توپتہ آسیوسر کھیوان تمہ ساتہ گڑھہ پرون تہوند بسم اللہ یلہ توہ کتھ سیر سپدان آسیو توپتہ گڑھہ تہوند پرن الحمد لله الذی اشبعنا وانعم علینا وافضل حمد یونین تس پروردگار س یمہ اسہ نعمت عطا کر سوی کرن رژ نعمت عطا فان هذا کفاف هذا اکی پرن چھوامہ نعمتک بدلہ۔






# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝ وَالْعَصْرِ ۱ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ۲ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا

سورہ والضحیٰ کس تمہیدس اندر یمن ضروری تھن ہونڈ کر کرنہ آو۔ تمواندرہ چھہ اکھہ تھہ کہ پنن عمر گڑھنہ ضالچ کرن بے ہودہ کامن اندر۔ بلکہ گڑھہ عمر صرف کرن طاعات و نیکن اندر۔ وَالْعَصْرِ عصر چھہ ونان زمانس یعنی قسم چھو زمانک یتھہ منز انسانہ سنز عمر تہ داخل چھہ یتھہ عمرہ اندر سو تحصیل کمالات و سعادات کرت ہکان چھو گویا یہ عمر چھہ تہندہ خیطرہ بے بہا متاعاہ۔ یا چھو قسم عصر کہ و تچہ نمازہ ہونڈہ کیا زہ تھہ فر مو اللہ تعالیٰ ان صلوة الوسطی چنانچہ حدیث شریفس منز چھو صلوة و وسطی گیہ دگر نماز بیس حدیث شریفس منز چھو امت بس اس نماز دیگر فوت سپدہ تہ پر نک موقعہ اینہ تمس چھو تیوت نقصان و اتان زن تمس اہل و عیال تہ مال و دولتس لوٹ کرنہ آو۔ یہ قسم چھو یتھہ تھہ پٹھہ کہ

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ہز پاتھہ یہ انسان چھو عمر پنن ضالچ کرنہ کہ وجہ ہڈس نقصانس اندر إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مگر یو لو کو ایمان اون تہ یقین کور بیہ کر کیکہ رتھہ عملہ و تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ و تَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ بیہ کر کہ اکھ اکھ اس وصیت پزس اعتقادس تہ پزس دینس پٹھہ قائم روزنج بیہ کر کہ اکھ اکھ اس وصیت صبرنج یعنی رتھن اعمالن پیٹھہ پابندی کرننج دین اسلام لوکن و اتانوس اندر محنت تہ مشقن پٹھہ صبر کرننج۔ یعنی انسانس چھہ نقصانہ نشہ چنہ خیطرہ ژون تھن ہنز ضرورت اکھ گڑھہ خداور رسول خداس پیٹھہ ایمان ان۔ بیہ گڑھہ تہندین ارشاداتن تہ ہدایاتن پیٹھہ بیہ تہندین وعدن پیٹھہ اودہ تم دنیاوس متعلق آستن یا آخرتس متعلق آستن یقین کرن۔ دو کم گڑھہنہ امہ یقینک اثر دل و دماغسی تان تھاون بلکہ گڑھہنہ امہ یقینک اثر اعضاوتہ تانوسیت تہ ظاہر کرن بلکہ گڑھہ امسنز عملی زندگی آسن امندہ دلکہ ایمانک آئینہ۔ تریوم امند گڑھہنہ خاص پنہ نہ ذاتہ کسی اصلاح و فلاس پیٹھہ قعات کرن، بلکہ گڑھہ قوم و ملتک اجتماعی مفاد پیش نظر تھاون۔ یلہ زہ مسلمان پانہ وان ملاقات کرن تہونڈ گڑھہ پنہ

## وَعَمَلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّاصُوا بِالْحَقِّ ۗ وَتَوَّاصُوا بِالصَّبْرِ ۝۴

نہ قول و فعل سیت پزس دینس تہ پرتھہ معاملس متعلق پزرتہ صداقت اختیار کرنک تاکید کرن ژورم گو پرت آکسز گزٹھہ بیس شخصس بیہ نصیحت تہ وصیت کرن کہ پزہ کس معاملس تہ شخصی یا قومی اصلاح چہ و تہ اندر یم تکلیف تہ یمہ سختی تہ دشواری پیش ین۔ یا خلاف طبیعت پیہ بعضے چیزن پیٹھہ تحمل کرن تمن پیٹھہ گزٹھہ صبر و استقامہ سیت کوم بین۔ کونہ صورتس اندر گزٹھہہ نیکن گن پاد پوت پھیرن تہ سست سپدن۔ یم خوش قسمت لوک ژون صفقن ہند جامع آسن۔ پانہ کامل آستھہ بین لوکن کامل بناونچ کوشش کرن تہوندناوروزہ ہمیشہ وجودہ کس دفترس اندر موجود تہند آثار روزن بطور باقیات الصالحات تہندس اجر و ثوابس ہمیشہ ترقی دیوان۔ حقیقتس اندر چھویہ مختصر تہ لوکٹ سورہ شریفہ مگر ساری دین و حکمتک خلاصہ تہ جوہر۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آس فرماوان کہ ہر گہ ساری قرآن مجیدہ اندرہ یہوی اکھ سورہ شریفہ پرنہ بیہ ہا۔ تہ عاقل دانائہ سمجھ دار بندن ہندہ ہدایہ خیطرہ اوس یہوی اکھ سورہ شریفہ کافی۔ بزرگان دین سلف صالحین آس پانہ وان ملاقاتہ وزہ اکھ اکس یہ سورہ شریفہ بوزناوان





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ۱ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ۲  
 يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ ۳ كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ ۴ وَمَا  
 أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ ۵ نَارُ اللَّهِ الْمَوْقُودَةُ ۶ الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى  
 الْأَفْئِدَةِ ۷ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُّوَصَّدَةٌ ۸ فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ ۹

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ ویل ہے انفسوس تس شخصہ سہہ خیرہ ہئس عیب پھران آسہ ہئس غیبت کران ہے  
 طعنہ دوران آسہ ۱ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ ہئس غایت درجہ طامع ہے حریص آسہ تھی اسہ مال جمع  
 کران سوی آسہ گرہ گرہ گزیر گزیر تھاوان۔ تمسندیہ کرنہ اندر چھو معلوم سپدان کہ یَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ  
 أَخْلَدَهُ سوہ چھو گمانہ کران ہے خیال تھاوان کہ یہ امسند مال پوشناوہ اس یعنی زندہ تھاویس ہمیشہ کَلَّا ہے  
 بنہ نہ ہر گزیر روزہ یہ شخص نہ روزہ امسندیہ مال دولت لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ قسم خدا سو آویہ دارت دنہ  
 ژھہ تراوہ وئس ہے کوچہ کوچہ کرہ وئس نارس اندر وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ توہہ کوہ چیز زانراوہ سو کوچہ  
 کوچہ کرہ ون نار کیاہ گو۔ بوزیواس کرہ بیان نَارُ اللَّهِ الْمَوْقُودَةُ \* الَّتِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ سوہ چھو خدا یہ  
 سُنَد سوی نار ہئس تہندہ حمہ زانہ آمت چھو ہئس نار بدن سیت لہہ ونوی دلن پیٹھ اثر کرہ ۱ إِنَّهَا عَلَيْهِمْ  
 مُّوَصَّدَةٌ \* فِي عَمَدٍ مُّمَدَّدَةٍ پڑاٹھ سونار آسہ تمس پیٹھ ٹھانڈنہ آمت۔ تمیک دروازہ آسن بند کرنہ  
 آمت یہ اندر نہ نیر تھے ہنہ نہ زانہ تمے آسن گنڈ پھرت تھاوانہ آمت نارہ کین ز میٹھن تھن سیت





## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْمُتَرَكِّيفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۝ أَلَمْ يَجْعَلْ

حشکس پادشاہ سندھ طرفہ اوس سمنس اندر اکھ حاکم تس اوس ابرہہ ناو سو اوس عیسائی، تھی اوس سمنس منز بمقام صنعاء اکھ کینہہ یعنی عیسائین ہوند اکھ گر جا اکھ بناومت۔ یتھ بے شمار ہارہ گامرہہ آسن یتھ متصل راحتک ارامک تہ دلکشی ہند سامانہ آسن مہیا کرمت یو تھ تھی سیت لوکن ہند دل تھ کن راغب سدن تہ مکہ کس کعبس پر ژھنہ کلانہ تہ تمس اوس خیال کہ یتھ پاٹھ لوک چھ خانہ کعبہ کہ زیارتہ خطیرہ گدھان یتھ پاٹھ گوڑہ لوکن ہوند یہہ گر جہ خطیرہ تہ یون۔ چنانچہ برت طرفہ کرہ ناؤن امیوک اعلان عربہ کن لوکن خصوصاً قریشن گو یہ سیٹھاہ ناگوار۔ توپتہ آوکوہ تان فخص تم کور راتھ کیوت اتھ گرجس منز ناپاکی۔ بیس روایتس منز چھو کہ اتھ متصل آو نارزانہ نارووت ہوا کہ ذریعہ اتھ گرجس تان تہ یہہ گر جہ دود سوروی اتھ پیٹھ دود ابرہہ۔ تمس گڈن نار۔ تمس کھوت سخت غصہ، سو آوبڈ لشکر ہمت یتھ لشکرہ سیت ہست تہ آس شامل خانہ کعبہ مہدم کرنے خطیرہ یلہ سو بمقام خمس دوت تہ پیٹھ سوزن عبدالمطلبس بس تہ وقتہ ریش مکہ اوس پیغام کہ بو پھس نہ جنگ کرنے آمت بلکہ پھس بو صرف کعبہ مہدم کرنے خطیرہ پکان۔ ہرگہ کانہہ شخصہ تھ اندر مہ مزاحمت کرہ البتہ تس سیت کرہ بو ضرور جنگ۔ عبدالمطلبس سوزس جواب اتھ گرس تہ چھ کانہہ مالکاہ سو کرہ پائے امہ گرج حفاظت توپتہ سوزن بیہ عبدالمطلبس ملاقات کرنک پیغام زبان تہ سپدای قسمک گفتگو۔ تمس نشہ واپس بیت نبی عبدالمطلبس ساری قریش توپتہ کھت تم کو ہن پٹھ پان پننن بچانہ خطیرہ امہ لشکرہ ہندہ شرہ نشہ، توپتہ آو ابرہہ فوج بیھ مکس کن یلہ تم وادئ محرس منز بس میدان مزد لفس نزدیک چھو۔ سمندرہ کہ طرفہ آئے سبز تہ زرد جانور کینہہ، کو ترن ہندہ خوتہ لوکٹ، تھے آس پنجن تہ تو تھن منز مسور پھلن تہ چنہ پھلن برابر کنہ پھل تھے ہتھ تراون اتھ لشکرہ پیٹھ۔ خدایہ سزہ قدر تہ سیت اوس یہوی کنہ پھول لگانا یمن گولین ہند پاٹھ۔ بس لگان اوس سوی اوس تھے گلان تہ

كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ ۝۵ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ ۝۶  
تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ ۝۷ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُولٍ ۝۸


ہلاک سپدان۔ بعضے لوک ژل تم تہ گئے جیو جیو بیمار یوسیت ہلاک تہ تباہ۔ یہ واقعہ چھو سپد مت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہندہ تولد سپدنہ بروٹھ پترہ دودہ یہ واقعہ سپد مت ماہ محرمہ کس اخیر س اندرامہ پتہ چھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کس ابتدا س اندر تولد سپد مت بعضے راوی چھ فرماوان تمی شبہ سپد تولد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ چھو فرماوان اَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِاَصْحَابِ الْفَيْلِ كَيْفَا تُوُه چھنا معلوم کہ تھونڈ پروردگارن کیاہ معاملہ کرہست والین سیت توہیہ زانوہ کیوتھ قدرتہ وول چھو تھونڈ پروردگار اَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ کیا تھونڈ تدبیر نئس کعبہ شریفک لورہ نس تہ منہدم کرہ نس متعلق اوس سوگرتا اللہ تعالیٰ ان بیکار تہ غلط وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ سوزن تمں پیٹھ جانور فوجو فوجو تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ تمے جانور آس تراوان تمں ہست والین پیٹھ کنہ پھل یم دراصل مڑہ پھل آس کنہ پھل ہی فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُولٍ پس کتر تم اللہ تعالیٰ ان ژاپنہ آمت گاسہ ہی یعنی تباہ و برباد۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ۱) الْفِهِمِ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ ۲) فَلْيَعْبُدُوا  
 رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ ۳) الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ ۴)

لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ ای مخاطب تعجب کر قریش ہندہ ملہ تارک تہ باہمی الفتح الْفِهِمِ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ خصوصاً چھو تہوند باہمی الفت وند کس تہ رتہ کالہ کس سفر س اندر۔ وندس اندر چھہ تم سفر کران تمس گن، رتہ کالس چھہ سفر کران شامس گن۔ یمن دون جاین چھہ یم قریش تجارت کران یمن دوشوین ملکن ہند لوک آس یمن سیٹھاہ تعظیم و تکریم کران کعبہ شریفک ہمسایہ تہ خادم آسنہ موکھ تمں یلہ یہ سو روی تعظیم و تکریم چھو امی کعبہ شریفہ کہ برکتہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ پس کرن تم امہ عظیم الشان گرہ کس مالکہ سز عبادت بت پرستی نشہ روزن دور الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ یم مالکن یمن طعام عطا کور بوچھ وزہ، بیہ یم امن و امان دیوتک خوفہ نشہ کس اندر اوس نہ غلہ پیدہ سپدان کینہہ تہ، تمہ موکھ آس اتک لوک قریش و رہس اندر تجارتہ خیطرہ دوویہ پھرہ سفر کران۔ گرمی اندر شامس گن۔ سردی اندر تمس گن۔ تمں ملکن ہند لوک آس یمن اہل حرم بیہ خادم بیت اللہ آسنہ موکھ سٹھاہ تعظیم کران۔ یہندہ جان و مالچ حفاظت کران و تہ تہ اوسنہ کونہ جایہ یہندس مالس کانہ اکھ تعرض کران۔ نفع تہ اوس یمن کافی حاصل سپدان۔ باقی و قس آس یم قریش آرام و عیشہ سان زندگی بسر کران۔ تہ سورس منز چھو امی واقعک ذکر۔








بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ ۚ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ ۙ وَ  
 لَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ۚ قَوْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ ۚ الَّذِينَ هُمْ عَنْ

اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالْإِيمَانِ کیا تو بہہ وچھوونہ سو شخص نئس جزاء کس دوہس اپز زانان چھو۔ ہر گہ توہہ  
 تسمد حال بوزن یرھان چھوہ تلہ بوز بو فذلك الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ سو گوی سوی شخص نئس تيمس دکہ  
 دیوان چھو وَلَا يَحْضُ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ بیہ چھوونہ مسکینس طعام دنوک ترغیب بیئس تہ کران یعنی نہ  
 پانہ مسکینس کھیوان نہ چھو بیئس کھیوانک ترغیب دوآن یلہ بندہ سند حق ضائع کرن یوت بیچہ چھو تہ  
 خدا یہ سند حق ضائع کرن کوتاہ زیادہ بیچہ گڑھ آسن اوانہ کرنہ خیطرہ قَوْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ \* الَّذِينَ هُمْ عَنْ  
 صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ پس امہ اندر سپد ثابت کہ اتھن نماز پرہ ونین ہندہ خیطرہ چھو بوڈا فسوس تہ خرابی  
 یم پنہ نہ نمازہ نشہ غافل سپدان چھہ، دنیوی کامین اندر مشغول سپدت ہجھ نہ نماز پران یادی روزان تم  
 ہجھنہ زانان یہ پران کیاہ قصہ چھو۔ امہ نمازہ اندرہ کیاہ مقصود چھو۔ یہ نماز چھہ پنہ نئس مانکس تہ آغس  
 بروٹھ کنہ ہن مطالبات پیش کرن۔ یہ نماز گڑھ نہایت اہتمامہ سان تہ وقتہ چہ پابندی سان پران۔ یم  
 یم وقت مولان مقرر کر مت چھہ تمن وقتن پٹھ حاضر سپدت بکمال خشوع و خضوع یہ نماز اکران چھو  
 لازم مگر یم لوک بیئس نماز دنیا کیلن کامین سیت مشغول سپدت زاننت کرت وقت ضائع کرن آخر وقتس  
 پیٹھ دگہ دارہ و تھا بیٹھی ہند پائٹھ ادا چھہ کران تہندی خیطرہ چھو بوڈو ویل تہ افسوس الَّذِينَ هُمْ بِرَأْوُونَ  
 لوک نمازہ ہنز کیاہ چھہ کتھے سارے عملہ لوکن ہاونہ خیطرہ کمران چھہ وَيَتَنَعَوْنَ الْبَاعُونَ بیہ ہم  
 مانس اندر خدا یہ سند حق ادا ہجھنہ کران یعنی زکوٰۃ ہجھنہ دیوان چونکہ اتھ اندر چھوونہ کونہ قسم اظہار تہ  
 موکھ چھہ یہ لوتہ پائٹھی کھیوان۔ بخلاف نماز چونکہ اتھ اندر چھو نمودو نمائش، تہ موکھ چھہ کونہ وقتہ

# صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴿۱﴾ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ ﴿۲﴾ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ ﴿۳﴾

پران کونہ وقتہ ترک کران بعضے مفسر و فرمود کہ ماعون گئے معمولی استعمالی چیز، تم نہ چھنہ اکھ اکس عارضی پاٹھہ نہ پڑھہ پاٹھہ دیوان۔ سو گوئو کہ ہیور ز ہش۔ دیگہ ہیو۔ پتلہ ہیو مکہ ہش۔ یاسون نہ پنہ داو ہش یمن ہندہ اورہ یوردنک دنیا س اندر پڑھہ پاٹھہ دنک عام رواج چھو۔ دین یمن لوک ہندہ ٹٹلگ نہ خشک حال امہ قسمگ آسہ تہندہ حقہ کیا فائدہ چھو ریاکاری ہنزہ نمازہ ہیوند۔





## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ ۝۱ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْسِرْ ۝۲ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ۝۳

یہ سورہ شریفک شان نزول پھوکہ حضرت آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیوند زیوٹھ ہیو فرزند حضرت قاسم رضی اللہ عنہ یل یہ عالم گئے مکہ کیو کافرو خصوصاً عاص بن وائلن دوپ حضرت محمد سُنْد نسل سُوْدُوْن منقطع۔ تم سپد (نعوذ باللہ) ابتر۔ یعنی بے نام و نشان مطلب اوس تمہ اندرہ کہ وُوْن چھوامہ یہندہ دینگ چرچہ کسی کالس تان۔ اتی سپد نازل یہ سورہ شریفہ تمہ کافرن ہندہ تردیدہ خیطرہ **إِنَّا أَعْطَيْنَكَ الْكَوْثَرَ** تحقیق اسہ کر توه عطایا رسول اللہ خیر کثیر۔ یعنی سیٹھاہ خیر۔ دنیاہ ک خیر تہ یعنی دینگ باقی روزن اسلامک سیٹھاہ ترقی لبن بیہ آخر تک خیر یعنی قُرْبُک تھد مرتبہ تہ تھد درجہ ہر گہ اکھ فرزند تہوند یہ عالمہ گویتھ پیٹھ تہوند دشمن خوش چھ سپد مت مگر توه مہ سپد یو تمہ سیت غم گین تہ ناخوش، کیا زہ اسہ کر توه تمہ خوتہ بہتر فضل تہ نعت عطایتھ نہ نہایتھ چھ کونہ بیہ کر اسہ عطا توه حوض کوثر آخرتس اندر اکھ تلاواہ تھ متعلق حدیث شریف چھو متفق علیہ فرمود حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حَوْضِ مَسِيرَةِ شَهْرِ مِیوْن حَوْضِ چھوا کہ رتہ کس مساقس برابر ذواہ سواہ تمہی اند تہ کنارہ چھ برابر پرت طرفہ ماوہ اَبِیْضُ مِنَ اللَّبْنِ وَرِيْحُهُ اَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ وَكِيْرَانُهُ كَنْجُوْمِ السَّمَاءِ اَب تَمِيْك چھو دودھ خوتہ زیادہ سفید۔ نافہ خوتہ یز خوشبو۔ تمیک لوٹھ چھ تیت ایت آسمانک ستارہ مَن يَشْرَبُ مِنْهَا فَلَا يَظْمَأُ اَبْدًا لِس اکھاہ تمیک آب چہ تیس لکھ نہ زانہ تہ تریش **فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَاحْسِرْ** پس یمن نعمن ہندس شکرس اندر پر یو توبہ نماز محض پنہ نس پروردگارہ سندہ خیطرہ۔ کیا زہ بجن نعمن ہندس شکرس اندر گزھہ بڈ عبادت ادا کرن سو بڈ عبادت گیہ نماز۔ تکمیل شکرہ خیطرہ گزھہ اتھ بدنی عبادتس یعنی نمازہ سیت مالی عبادت تہ کرن سو گو قربان کرن **إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ** پزٹھ تہوند دشمن چھوا بتر، لٹ ژوٹ یعنی بے نام و نشان کیا زہ تم چھو معبود برحقس ورا ی بین چیزن ہنز عبادت تہ پرستش کران۔ بیہ چھ تیس ورا ی بین مخلوقن بڈن ناوَن پٹھ تہند قرب تہ نزدیکی حاصل کرنہ خیطرہ ذن تہ قربان وغیرہ کران۔



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ۝  
 قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ۝۱ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۝۲  
 وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝۳ وَلَا أَنَا عَابِدُ مَا عَبَدْتُمْ ۝۴ وَلَا  
 أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ۝۵ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ۝۶


سبب نزول چھویمہ سورہ شریفک کہ اکہ دوہ آی کہنہ اشخاص کافرن ہند زٹھ زٹھ نبی کریم نشہ تموے کوز عرض چٹھنا صلاح توبہ کریوسانین معبودن ہنز عبادت اُس تہ کرو تہندس معبودہ سنز عبادت اُس تہ توبہ کرو مشترکہ دین قائم۔ اتھ منزئیس روت تہ جان طریقہ آسہ تمبوک فائدہ وایتہ توبہ تہ آسہ تہ۔ اتھ موقعس پٹھ سپد یہ سورہ شریفہ نازل قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ \* لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ فرمایو کہ توه یارسول اللہ ای کافرو میون تہ تہوند طریقہ بیکنہ کٹوی سپد تہ بوہٹھنہ عبادت کران تہوندن معبودن ہنز۔ ون کنس تہ وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ نہ چھوہ توه عبادت کران مینس معبودہ سنز وَلَا أَنَا عَابِدُ مَا عَبَدْتُمْ \* وَلَا أَنْتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ نہ ہیکنہ یہ آئندہ زانہ بنت کہ بوکیا کرہ عبادت تہندین معبودن ہنز نہ بنت تہ کہ توه کیا کریو عبادت مینس معبودہ سنز۔ یعنی بوکیا نہ موحد آتھ خدائیس شرک انتھ زانہ۔ نہ ہیکیو توه مشرک آتھ موحد بنت زانہ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ توه تہ پنون دین متہ پنون دین۔ توه تہ پنون بدلہ تہ عوض متہ پنون بدلہ تہ عوض۔





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
 إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ  
 اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝

اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۝ یلہ خدایہ سند مدد تہ فتح مکہ پنہ نیو آثار و تہ نتا بجز سان تہ وودت تہ حاصل سپد۔  
 تمیک آثار یم تہ پیٹھ مرتب سپدہ ون چھ تم گے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا ۝ بیہ  
 یلہ وچھیوک تہ خدایہ سندس دینس یعنی اسلامس اندر لوک داخل سپدان فوجو فوجو تہ ساتہ زانیو تہ  
 کہ دنیا س منزروز تک مقصود سپد حاصل۔ بیہ ئس تہندہ پیغمبر بناونہ اندرہ تکمیل دین مقصود اوس تہ  
 سپد مکمل وون چھوسفر آخرت قریب لہذا کریو تہ تیاری فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ پس آسیون  
 تہ پون پروردگار منزہ تہ پاک زانان بیہ آسیوتس حمد پان۔ بیہ آسیوتس مغفرت منگان پنہ نہ خیطرہ  
 بیہ پنھن اتین ہندہ خیطرہ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝ بے شک سوچھو سیٹھاہ تہ قبول کرہ ون۔






بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ① مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا  
 كَسَبَ ② سَيَصْلَىٰ نَارًا إِذْ أَتَا لَهَبًا ③ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ

یہ سورہ شریفک شان نزول چھو کہ یلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پٹھہ یہ آیہ کریمہ نازل سپد وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ تم کھت کوه صفاس پٹھہ توه پتہ دنگ سارنی قبیلن آلو ساری یلہ جمع سپد تمن دنگ اسلامس گن دعوت ابو لهب لیس تہوند پتر اوس مگر بدترین دشمن تہ اوس سو لگ ونہ نہ تبالک لسائر الیوم الہذا جمعنا یعنی بر باد گرھہ ژہ کیا ای خیطرہ سو نبر او تھاہ ژہ آیہ اتی سپد یہ سورہ شریفہ نازل امہ و وہوک جواب دس پانہ اللہ تعالیٰ ان۔ اس ابو لہبس اس زانہ ام جمیل تس تہ اوس سخت حسد تہ عداوت حضرت رسول کریمہ سند چنانچہ سہ اس کنڈ کل جنگلہ منز ژٹت انان تہ اس تمن وتن و ہراوان یمو و تونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکن اوس آسان تمنی کنڈ مورن ہوند بور اس سو کبرس پٹھہ تلت انان تہ اوس ونہ حمالہ الحطب دو شوین متعلق چھو اللہ تعالیٰ فرماوان تَبَّتْ يَدَا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ابو لہبس پین پانس دو شوے اتھ و سٹھ پانہ گرھن سو بر باد تہ تباہ۔ چنانچہ یہ بد دعا چہو تس پانس، جنگ بدرہ پتہ ستہ دوہ در اوس طاعونی پھپھرہ تو پتہ دراوگرہ منز نبر۔ یوتھنہ بیہ کانہہ گرس منز امیوک اثر تہ اتھ حالس منز مود۔ ترن دوھن تان آسنہ بھٹل کانہہ، تر یہ دوہ اچھہ حبشی مزور تموی دتس ہمہ تلیو سیت دکہ دکہ، تو پتہ تراو کھ اکس کھوڈس اندر، پٹھہ تراو بس کنہ سیکھ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ کانہہ فاندہ دیوت نہ تس مالن تہند تہ تم مالن لیس سبزمت اوسن تہ تم مالن لیس کمومت اوسن کونہ قسمک مالن ہیوک نہ سو بچاوت ہلاکتہ نشہ یہ گوامند حال دنیاوس اندر آخرتس اندر آسہ امند حال کہ سَيَصْلَىٰ نَارًا إِذْ أَتَا لَهَبًا \* وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ سواتہ عنقریب اکس رہہ تراوہ و نس

## الْحَطْبُ ۷۷ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۷۸ ع

نارس اندر اکھ پانہ بیہ تہنز آسن، یوسہ کنڈدار زیون تہ مورہ کبرس پیٹھ تلت انان آس، فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ تمسندہ گردن منز چھ خضر دلن ہنز و ٹھمز رز۔ اس امسند زانہ آس قیمتی اکھ ختہ مالہ اکھ ہٹس تل، دپان آس سویبے ختہ مال کرن بو خرچ محمدہ سندس مخالفس اندر جہنمس اندر تہ آسہ تس نارور ز ہٹس گنڈت۔






## بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ① اللَّهُ الصَّمَدُ ② لَمْ يَلِدْ لَهُ وَلَمْ

اکہ پھرہ پر ژہ مثر کونبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمن کہ خدایہ سند نسب کیاہ چھو۔ تسد صفت کم چھہ تھہ پٹھہ سُدیہ سورہ شریفہ نازل **قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ** توہ فرماویو یارسول اللہ یمن لوکن کہ اللہ تعالیٰ چھو کُنوی ذالہ کن تہ صفتوکن۔ نہ پھس ذالتس منز کانہہ شریک نہ صفقن منز تہندہ ذاتک کمال پھو کہ سو پھو واجب الوجود۔ تہند صفت چھو کہ سو چھو علم تہ قدر تہ محیط تہ **اللَّهُ الصَّمَدُ** اللہ تعالیٰ چھو تہو تھہ بے نیاز کہ سو چھونہ کانہہ کُن محتاج یم تس و رای چھہ تم چھہ تمس کُن محتاج پرت چیزس اندر **لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ** نہ زاس کانہہ نہ زاونہہ **وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ** بیہ جھہ تس ہیو کانہہ اکھاہ توحیدہ کین مکران چھہ واریاہ قسم۔ بعضے گے تم یم خدایہ سندس وجودس مکر چھہ۔ بعضے گئے یم تسدس واجب الوجود آسہ نس مکر چھہ۔ بعضے گے تم یم تہندن کمالہ کین صفقن مکر چھہ۔ بعضے گے یم تس عبادتس اندر شریک ٹھہراوان چھہ اتھ فرمود اللہ تعالیٰ ان **اللَّهُ أَحَدٌ** سیت رد بعضے گے تم یم مشرک فی استعانہ چھو یعنی یم تس و رای چھہ بین نشہ یاری تہ مدد ژھانڈان بیہ تمنی پن حاجت منگان۔ تمن پھو رد **اللَّهُ الصَّمَدُ** سیت یعنی حاجت گڑھ تس نشہ ژھانڈان بس نہ پان کانہہ کُن محتاج آسہ سو پھونہ کانہہ تہ تس ذات پاکس و رای تس و رای یم چھہ تم ساری چھہ تس کُن محتاج ساری چھہ تس بروٹھ کنہ پنہن پستی تہ عاجزی نراوان۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ تہ چھو فرماوان **يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ** یعنی ای لوکو توہ ساری چھو محتاج اللہ تعالیٰ اس کُن پرت وقتہ تہ پرت حالس اندر۔ اللہ تعالیٰ ای پھو بے نیاز حاجت آسہ نشہ منزہ تہ پاک۔ حمد پنہ آمت تعریف کرنہ آمت۔ حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آس دعاء کران اللهم إني ضعيف فقوني وإني مريض فاشفني وإني ذليل فأعزني وإني فقير فارقني یعنی یا اللہ بو پھس کمزور تہ ناتوان ژہ کرم قوت تہ طاقت عطا بو پھس بیمار ژہ کرم شفا عطا۔ بو پھس ذلیل ژہ کرم عزت عطا۔ بو پھس محتاج ژہ کرم حاجت روا۔



## يُولَدُ ۳۰ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ۴

بوچھس نادار تہ فقیر ژہ کرم رزق عطا بیا کہ جماعت یم تس کورہ تہ نچولا گان چھ تمن چھور دلہ بیلا  
 کانہہ نہ زاس سیت یم لوک بعضے بشرن تہ جن پنن معبود چھ زانان تمن آورد کرنہ وَلَمْ يُولَدُ تہ نہ زاؤ  
 کانہہ سیت کیا زہ تم ساری چھ مولود یعنی زامت۔ بیا کہ گو معبود برحق سو چھونہ کانہہ تہ زامت بعضے  
 لوکن ہند اعتقاد چھو کہ تس برابر چھو بیہ تہ کانہہ چنانچہ بوسن ہیوند اعتقاد چھو خدا چھ زہ اکھ گویزدان  
 بیا کہ گواہر من اکس اتھ چھو خیر تہ بیس اتھ چھو شرمیم دو شوے چھ اکھ اکسند یہی تہ ہمسر۔ اتھ کور  
 اللہ تعالیٰ ان رد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ سیت یعنی تس ہیو چھہ کانہہ تہ نہ چھو سو کانہہ ہیو۔ غرض چھو  
 کہ نہ زاؤ تس کانہہ نہ زاؤ سو کانہہ۔ نہ چھو کانہہ تس ہیونہ چھو سو کانہہ ہیو۔



## سُورَةُ الْفَلَقِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ۱ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ۲ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا  
 وَقَبَ ۳ وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ ۴ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ ۵

یہ سورہ بیہ سورہ الناس یمن دوشوین سورہ شریفین ہیوند شان نزول چھو کہ لبید بن اعجم اوس اکھ ساحراہ مدینہ شریفین منزتس آسہ کورہ تہ سحر کرہ ونہ تمی لبید بن اعجم تہ تہنز و کور یوگر سحر تہ جو د نبی کر تمس صلی اللہ علیہ وسلم یمہ کہ اثرہ سیت تمن سخت تکلیف اوس۔ امہ اندرہ اوس اللہ تعالیٰ اس نراون کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ساحر ہجنہ ہرگہ تم ساحر آسہن تہتہ پاٹھ دشمن تمن ونان آس۔ تلہ کرہ ہنہ کانہ ہوند سحر تمن پٹھ اثر۔ کیا زہ یہ تھہ آس تمن سارنی نش مسلم کہ ساحر س پیٹھ ہجنہ بیٹس ساحرہ سندن سحر اثر کران۔ تو تہ گردعانی کر یمن صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سحرک اثر دور گروہنہ خیطرہ منگو کہ دعاء اللہ تعالیٰ ان گرانزل یم زہ سورہ شریفہ۔ بیہ کر تک اطلاع کہ فلین شخصن چٹھو فلین جایہ تہتہ فلین چیزس اندر توہ پٹھ سحر کرمت۔ چنانچہ تموسوز حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہتہ جایہ تہتہ آنکھ کہ کیرہ منزہ کڈت اکھ کنگواہ تہتہ آس مؤی آمت بند کرنے سوی یلہ ووت در خدمت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تموبیت یمن دون سورہ شریفین ہند آیات کریمہ پر ن اکھ اکھ گڈاوس مژرنہ یوان۔ چنانچہ امہ پتہ سپد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہ تکلیفہ نشہ بالکل آزاد۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ \* مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ توہ آسیویار رسول اللہ پانہ تہ پنے نہ خیطرہ ہ پر ان بے تہ آسیویکہ بیچھناوان یہ پر ن پناہ چھوس بومنگان صبح کس لبس یعنی لبس راؤ تہنز ہ گٹھ پر اٹھتہ گاش چھو پھولہ راوان سارنے مخلوقاتن ہندہ شرہ نشہ۔ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ بیہ چھوس خصوصاً پناہ منگان راؤ ہنزہ تاریکی نشہ یلہ سہ و ہراونہ بیہ راؤ اندر چھو شر ن ہوند احتمال ظاہرے وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ بیہ چھوس خصوصاً پناہ منگان تمن زنانن نشہ یمہ پنے گڈن پٹھ پٹھو کہ دوان چھ یعنی سحر کرہ و نین زنانن نشہ۔ مراد چھہ تمواندرہ لبید بن اعجمہ سزہ کورہ۔ یا عام ساحر زنانہ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بیہ پرت حسد کرہ و نس نشہ یلہ سو حسد کرہ۔

## سُورَةُ النَّاسِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ○  
 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ① مَلِكِ النَّاسِ ② إِلَهِ النَّاسِ ③  
 مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ ④ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي  
 صُدُورِ النَّاسِ ⑤ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ⑥

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ تو آسویا رسول اللہ پانہ تہ پران بیہ آسویو کھ لوکھ تہ بیچھناوان پرن بو چھس پناہ منگان لوکن ہندس خدایس مَلِكِ النَّاسِ لوکن ہندس پادشہس إِلَهِ النَّاسِ لوکن ہندس معبود برحقس مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ وسوسہ تراوہ نُس شیطانہ سندہ شرہ نشہ الْخَنَّاسِ نُس یاد خدا کرن وزہ پتھ چھو ژلان الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ نُس شیطان اکثر لوکن ہندن دلن اندر چھو وسوسہ تراوان مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ادہ سووسوسہ تراون وول جن آستن یا انسان قرآن مجیدک ابتداء چھو حرف باء سیت انتہاء چھو حرف سینہ سیت یعنی بسم اللہ ہک بے والناسک سین اتھ چھو بنان لفظ بس۔ بس چھو عربی لفظ لغتہ چن کتابن اندر امیوک معنی فحسب یعنی بیوی۔ امہ اندرہ چھو اشارہ کہ یہ کہیوہا یمن دون حرفن منز چھو کہانی لوکن ہندہ خیطرہ بیاکھ اکھ لطیفہ چھو بیتھ سُوْرَس منزتمہ اندرہ ظاہر چھو سپدان قرآن مجیدک حسن آغاز و انجام سوگوای زہ امہ سورہ شریفک مضامین تہ سورہ فاتحک مضامین چھہ پنہ وان متقارب یعنی اکھ اکس سیت رلان چنانچہ رب الناس مناسب چھو رب العالمین ملک الناس مناسب چھو ملک یوم الدین الہ الناس سیت چھو مناسب ایاک نعبد اعوذس چھو مناسب ایاک نستعینس سیت الوسواس الخناس چھہ مناسب اهدنا اس سیت صدق اللہ مولنا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن علی ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد لله رب العلمین

## رموز اوقاف قرآن مجید

ہر زبان کے اہل زبان جب گفتگو کرتے ہیں تو کہیں ٹھہر جاتے ہیں، کہیں نہیں ٹھہرتے۔ کہیں کم ٹھہرتے ہیں، کہیں زیادہ اور اس ٹھہرنے اور نہ ٹھہرنے کو بات کے صحیح بیان کرنے اور اس کا صحیح مطلب سمجھنے میں بہت دخل ہے۔ قرآن مجید کی عبارت بھی گفتگو کے انداز میں واقع ہوئی ہے۔ اسی لئے اہل علم نے اس کے ٹھہرنے نہ ٹھہرنے کی علامتیں مقرر کر دی ہیں، جن کو رموز اوقاف قرآن مجید کہتے ہیں۔ ضروری ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے ان رموز کو ملحوظ رکھیں اور وہ یہ ہیں :

○ جہاں بات پوری ہو جاتی ہے، وہاں چھوٹا سا دائرہ لگا دیتے ہیں۔ یہ حقیقت میں گول (ت) جو بصورت (ة) لکھی جاتی ہے۔ اور یہ وقف تام کی علامت ہے یعنی اس پر ٹھہرنا چاہیے، اب (ة) تو نہیں لکھی جاتی۔ چھوٹا سا دائرہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کو آیت کہتے ہیں۔ دائرہ پر اگر کوئی اور علامت نہ ہو تو رک جائیں ورنہ علامت کے مطابق عمل کریں۔


۵ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس موقع پر غیر کو فیہن کے نزدیک آیت ہے۔ وقف کریں تو اعادہ کی ضرورت نہیں۔ اس کا حکم بھی وہی ہے جو دائرہ کا ہے۔

مر یہ علامت وقف لازم کی ہے۔ اس پر ضرور ٹھہرنا چاہیے۔ اگر نہ ٹھہرا جائے تو احتمال ہے کہ مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے۔ اس کی مثال اردو میں یوں سمجھنی چاہیے کہ مثلاً کسی کو یہ کہنا ہو کہ ”اٹھو۔ مت بیٹھو“ جس میں اٹھنے کا امر اور بیٹھنے کی نہی ہے۔ تو اٹھو پر ٹھہرنا لازم ہے، اگر ٹھہرنا نہ جائے تو ”اٹھو مت۔ بیٹھو“ ہو جائے گا۔ جس میں اٹھنے کی نہی اور بیٹھنے کے امر کا احتمال ہے۔ اور یہ قائل کے مطلب کے خلاف ہو جائے گا۔

ط وقف مطلق کی علامت ہے۔ اس پر ٹھہرنا چاہیے۔ یہ علامت وہاں ہوتی ہے جہاں مطلب تمام نہیں ہوتا اور بات کہنے والا ابھی کچھ اور کہنا چاہتا ہے۔

ج وقف جائز کی علامت ہے۔ یہاں ٹھہرنا بہتر اور نہ ٹھہرنا جائز ہے۔

- ز علامت وقف مجوز کی ہے۔ یہاں نہ ٹھہرنا بہتر ہے۔
- ص علامت وقف مرخص کی ہے۔ یہاں ملا کر پڑنا چاہیے لیکن اگر کوئی تھک کر ٹھہر جائے تو رخصت ہے۔ معلوم رہے کہ (ص) پر ملا کر پڑھنا (ز) کی نسبت زیادہ ترجیح رکھتا ہے۔
- صلے الوصل اولیٰ کا اختصار ہے۔ یہاں ملا کر پڑھنا بہتر ہے۔
- ق قبل علیہ الوقف کا خلاصہ ہے۔ یہاں ٹھہرنا نہیں چاہیے۔
- صل قد یوصل کا مخفف ہے۔ یہاں ٹھہرا بھی جاتا ہے اور کبھی نہیں۔ بوقت ضرورت وقف کر سکتے ہیں۔
- قف یہ لفظ وقف ہے۔ جس کے معنی ہیں ٹھہر جاؤ۔ اور یہ علامت وہاں استعمال کی جاتی ہے، جہاں پڑھنے والے کے ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو۔
- سکتہ سکتہ کی علامت ہے۔ یہاں کسی قدر ٹھہر جانا چاہیے مگر سانس نہ ٹوٹے پائے۔
- وقفہ وقفہ لے سکتہ کی علامت ہے۔ یہاں سکتہ کی نسبت زیادہ ٹھہرنا چاہیے لیکن سانس نہ توڑیں۔ سکتہ اور وقفہ میں یہ فرق ہے کہ سکتہ میں کم ٹھہرنا ہوتا ہے، وقفہ میں زیادہ۔
- لا لا کے معنی نہیں کے ہیں۔ یہ علامت کہیں آیت کے اوپر استعمال کی جاتی ہے اور کہیں عبارت کے اندر۔ عبارت کے اندر ہو تو ہرگز نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ آیت کے اوپر ہو تو اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک ٹھہر جانا چاہیے بعض کے نزدیک نہیں ٹھہرنا چاہیے لیکن ٹھہرا جائے یا نہ ٹھہرا جائے اس سے مطلب میں خلل واقع نہیں ہوتا۔
- ك كذلك کا مخفف ہے، اس سے مراد ہے کہ جو رمزاں سے پہلی آیت میں آچکی ہے، اس کا حکم اس پر بھی ہے۔
- نہ یہ تین نقاط والے دو وقف قریب قریب آتے ہیں۔ ان کو معانقہ کہتے ہیں۔ کبھی اس کو مختصر کر کے (مع) لکھ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں وقف گویا معانقہ کر رہے ہیں۔ ان کا حکم یہ ہے کہ ان میں سے ایک پر ٹھہرنا چاہیے دوسرے پر نہیں۔ ہاں وقف کرنے میں رموز کی قوت اور ضعف کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔



# قرآن مجید کن سون ہند فہرست

شمار پارہ	صفحہ نمبر	سورک نام	شمار ورقہ
۱	۱	سُورَةُ الْفَاتِحَةِ	۱
۳ - ۲ - ۱	۲	سُورَةُ الْبَقَرَةِ	۲
۴ - ۳	۱۴۱	سُورَةُ آلِ عِمْرَانَ	۳
۶ - ۵ - ۴	۲۱۳	سُورَةُ النِّسَاءِ	۴
۷ - ۶	۲۸۸	سُورَةُ الْمَائِدَةِ	۵
۸ - ۷	۳۴۵	سُورَةُ الْأَنْعَامِ	۶
۹ - ۸	۴۰۸	سُورَةُ الْأَعْرَافِ	۷
۱۰ - ۹	۴۸۰	سُورَةُ الْأَنْفَالِ	۸
۱۱ - ۱۰	۵۰۵	سُورَةُ التَّوْبَةِ	۹
۱۱	۵۵۶	سُورَةُ يُوسُفَ	۱۰
۱۲ - ۱۱	۵۸۹	سُورَةُ هُودَ	۱۱
۱۳ - ۱۲	۶۲۴	سُورَةُ يُوسُفَ	۱۲
۱۳	۶۶۰	سُورَةُ الرَّعْدِ	۱۳
۱۳	۶۷۷	سُورَةُ إِبْرَاهِيمَ	۱۴
۱۴ - ۱۳	۶۹۲	سُورَةُ الْحِجْرِ	۱۵
۱۴	۷۰۶	سُورَةُ النَّحْلِ	۱۶
۱۵	۷۴۱	سُورَةُ بَنِي إِسْرَائِيلَ	۱۷
۱۶ - ۱۵	۷۷۴	سُورَةُ الْكَافِرَاتِ	۱۸
۱۶	۸۰۹	سُورَةُ مَرْيَمَ	۱۹
۱۶	۸۲۸	سُورَةُ طهَ	۲۰
۱۷	۸۵۴	سُورَةُ الْأَنْبِيَاءِ	۲۱
۱۷	۸۷۹	سُورَةُ الْحَاجِّ	۲۲
۱۸	۹۰۴	سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ	۲۳

شماره پاره	صفحه	سورک نام	شماره
۱۸	۹۲۵	سُورَةُ التَّوْر	۲۳
۱۸ - ۱۹	۹۵۱	سُورَةُ الْفُرْقَان	۲۵
۱۹	۹۷۰	سُورَةُ الشُّعْرَاء	۲۶
۱۹ - ۲۰	۹۹۵	سُورَةُ النَّمل	۲۷
۲۰	۱۰۲۰	سُورَةُ الْقَصَص	۲۸
۲۰ - ۲۱	۱۰۳۹	سُورَةُ الْعنْكَبوت	۲۹
۲۱	۱۰۷۰	سُورَةُ الرُّوم	۳۰
۲۱	۱۰۸۷	سُورَةُ لُقْمَان	۳۱
۲۱	۱۰۹۸	سُورَةُ السَّجْدَة	۳۲
۲۱ - ۲۲	۱۱۰۶	سُورَةُ الْأَحْزَاب	۳۳
۲۲	۱۱۳۳	سُورَةُ سَبَأ	۳۴
۲۲	۱۱۵۱	سُورَةُ قَاطِر	۳۵
۲۲ - ۲۳	۱۱۶۸	سُورَةُ أَيْت	۳۶
۲۳	۱۱۸۳	سُورَةُ الصَّافَات	۳۷
۲۳	۱۲۰۱	سُورَةُ ص	۳۸
۲۳ - ۲۴	۱۲۱۷	سُورَةُ الزَّمَر	۳۹
۲۴	۱۲۴۱	سُورَةُ الْمُؤْمِن	۴۰
۲۴ - ۲۵	۱۲۶۴	سُورَةُ حَم السَّجْدَة	۴۱
۲۵	۱۲۸۰	سُورَةُ الشُّورَى	۴۲
۲۵	۱۲۹۸	سُورَةُ الزُّحُف	۴۳
۲۵	۱۳۱۶	سُورَةُ الدُّخَان	۴۴
۲۵	۱۳۲۴	سُورَةُ الْجَاثِيَة	۴۵
۲۶	۱۳۳۴	سُورَةُ الْأَحْقَاف	۴۶
۲۶	۱۳۴۸	سُورَةُ مُحَمَّد	۴۷



شماره پاره	صفحه	سورک نام	شماره
۲۶	۱۳۶۰	سُورَةُ الْفَتْحِ	۴۸
۲۶	۱۳۷۲	سُورَةُ الْحُجُرَاتِ	۴۹
۲۶	۱۳۸۰	سُورَةُ ق	۵۰
۲۷ - ۲۷	۱۳۸۹	سُورَةُ الذَّارِيَاتِ	۵۱
۲۷	۱۳۹۷	سُورَةُ الطُّورِ	۵۲
۲۷	۱۴۰۴	سُورَةُ النَّجْمِ	۵۳
۲۷	۱۴۱۶	سُورَةُ الْقَمَرِ	۵۴
۲۷	۱۴۲۵	سُورَةُ الرَّحْمَنِ	۵۵
۲۷	۱۴۳۴	سُورَةُ الْوَاقِعَةِ	۵۶
۲۷	۱۴۴۴	سُورَةُ الْحَدِيدِ	۵۷
۲۸	۱۴۵۸	سُورَةُ الْمَجَادِلَةِ	۵۸
۲۸	۱۴۶۸	سُورَةُ الْحَشْرِ	۵۹
۲۸	۱۴۸۰	سُورَةُ الْمُتَحَنِّنِ	۶۰
۲۸	۱۴۸۹	سُورَةُ الصَّفِّ	۶۱
۲۸	۱۴۹۴	سُورَةُ الْجُمُعَةِ	۶۲
۲۸	۱۴۹۸	سُورَةُ الْمُنَافِقِينَ	۶۳
۲۸	۱۵۰۳	سُورَةُ التَّغَابُنِ	۶۴
۲۸	۱۵۰۹	سُورَةُ الطَّلَاقِ	۶۵
۲۸	۱۵۱۵	سُورَةُ التَّحْرِيمِ	۶۶
۲۹	۱۵۲۳	سُورَةُ الْمُلْكِ	۶۷
۲۹	۱۵۳۱	سُورَةُ الْقَلَمِ	۶۸
۲۹	۱۵۴۰	سُورَةُ الْحَاقَّةِ	۶۹
۲۹	۱۵۴۷	سُورَةُ الْمَعَارِجِ	۷۰
۲۹	۱۵۵۳	سُورَةُ نُوحٍ	۷۱

شماره پاره	صفحه	سورک نام	شماره
۲۹	۱۵۵۸	سُورَةُ الْجِنِّ	۷۲
۲۹	۱۵۶۵	سُورَةُ الْمَزَّيِّلِ	۷۳
۲۹	۱۵۷۱	سُورَةُ الْمَدَّيْنِ	۷۴
۲۹	۱۵۷۹	سُورَةُ الْقِيَامَةِ	۷۵
۲۹	۱۵۸۵	سُورَةُ الدَّهْرِ	۷۶
۲۹	۱۵۹۲	سُورَةُ الْمُرْسَلَاتِ	۷۷
۳۰	۱۵۹۷	سُورَةُ النَّبَاِ	۷۸
۳۰	۱۶۰۱	سُورَةُ النَّازِعَاتِ	۷۹
۳۰	۱۶۰۵	سُورَةُ عَبَسَ	۸۰
۳۰	۱۶۰۸	سُورَةُ التَّكْوِيْنِ	۸۱
۳۰	۱۶۱۰	سُورَةُ الْاِنْفِطَارِ	۸۲
۳۰	۱۶۱۲	سُورَةُ الْمُطَفِّفِيْنَ	۸۳
۳۰	۱۶۱۶	سُورَةُ الْاِنْشِقَاقِ	۸۴
۳۰	۱۶۱۹	سُورَةُ الْبُرُوْجِ	۸۵
۳۰	۱۶۲۲	سُورَةُ الطَّارِقِ	۸۶
۳۰	۱۶۲۳	سُورَةُ الْاَعْلٰی	۸۷
۳۰	۱۶۲۶	سُورَةُ الْغَاشِيَةِ	۸۸
۳۰	۱۶۲۸	سُورَةُ الْفَجْرِ	۸۹
۳۰	۱۶۳۱	سُورَةُ الْبَلَدِ	۹۰
۳۰	۱۶۳۳	سُورَةُ الشَّمْسِ	۹۱
۳۰	۱۶۳۵	سُورَةُ اللَّيْلِ	۹۲
۳۰	۱۶۳۸	سُورَةُ الضُّحٰی	۹۳
۳۰	۱۶۴۰	سُورَةُ الشَّرْحِ	۹۴
۳۰	۱۶۴۲	سُورَةُ التِّيْنِ	۹۵
۳۰	۱۶۴۳	سُورَةُ الْعَلَقِ	۹۶

شماره پاره	صفحه	سورک ناو	شماره
۳۰	۱۶۴۷	سُورَةُ الْقَدْرِ	۹۷
۳۰	۱۶۴۸	سُورَةُ الْبَيِّنَاتِ	۹۸
۳۰	۱۶۵۱	سُورَةُ الزَّلْزَالِ	۹۹
۳۰	۱۶۵۳	سُورَةُ الْعَادِيَاتِ	۱۰۰
۳۰	۱۶۵۴	سُورَةُ الْقَارِعَةِ	۱۰۱
۳۰	۱۶۵۵	سُورَةُ التَّكْوِيْنِ	۱۰۲
۳۰	۱۶۵۷	سُورَةُ الْعَصْرِ	۱۰۳
۳۰	۱۶۵۹	سُورَةُ الْهُمَزَةِ	۱۰۴
۳۰	۱۶۶۰	سُورَةُ الْفِيلِ	۱۰۵
۳۰	۱۶۶۲	سُورَةُ قُرَيْشٍ	۱۰۶
۳۰	۱۶۶۳	سُورَةُ الْمَاعُونِ	۱۰۷
۳۰	۱۶۶۵	سُورَةُ الْكَوْثَرِ	۱۰۸
۳۰	۱۶۶۶	سُورَةُ الْكَافِرِيْنَ	۱۰۹
۳۰	۱۶۶۷	سُورَةُ النَّصْرِ	۱۱۰
۳۰	۱۶۶۸	سُورَةُ تَبَّتْ	۱۱۱
۳۰	۱۶۷۰	سُورَةُ الْاِخْلَاصِ	۱۱۲
۳۰	۱۶۷۲	سُورَةُ الْفَلَقِ	۱۱۳
۳۰	۱۶۷۳	سُورَةُ النَّاسِ	۱۱۴

إِنَّ وَزْأَرَ الشُّؤُونَ الْإِسْلَامِيَّةَ وَالْأَوْفَانَ وَاللَّعْمُونَ وَالْإِسْأَانَ

في المملكة العربية السعودية

المشرفة على مجمع الملك فهد

لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة

إذيسرها أن يصدر المجمع هذه الطبعة من القرآن الكريم

وترجمة معانية إلى اللغة الكشميرية

تسأل الله أن ينفع بها الناس

وأن يحضري


خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

أحسن الجزاء على جهوده العظيمة في نشر كتاب الله الكريم

والله ولي التوفيق

مملکت سعودی عروج وزارت برائے مذہبی امور، اوقاف، دعوت  
تہ ارشاد، نئس مدینہ منورس منز قرآن کریم چھاپن واپس شاہ فہد  
سندس مجمعس نگرانی چھہ کران، تھہ چھہ قرآن کریمس تھہ ایڈیشنس  
تہ ایمکس کاشرہ تفسیر کس اجراءس پیٹھ خوشی سپدان۔

بہ چھہ سہ اللہ تعالیٰ اس دعاء کران کہ امہ سیت واتن لوکن  
فائدہ تہ نفع۔ بہ دین خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز  
آل سعودن قرآن کریمس نشر و اشاعتس پیٹھ تہنزن عظیم کوشش  
ہندرت جزاء۔ اللہ تعالیٰ چھرت توفیق دہ وول۔




حَقُوقُ الطَّبَعِ مَحْفُوظَةٌ

الْمَجْمَعُ الْمَلِكِيُّ وَهَذَا الطَّبَاعَةُ الْمُصَنَّفُ لِشَرِّهِمْ

ص. ب. ٦٢٦٢ - المدينة المنورة

[www.qurancomplex.gov.sa](http://www.qurancomplex.gov.sa)

[contact@qurancomplex.gov.sa](mailto:contact@qurancomplex.gov.sa)



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
تہ توفیق سے تہ سید مکمل یرہ قرآن کریمک  
تہ املکہ تفسیرک چھاپ مجھ شاہ فہد برائے  
طباعت قرآن کریم مدینہ منورس منور، زیر  
نگرانی وزارت برائے مذہبی امور، اوقاف،  
دعوت تہ ارشاد مملکت سعودی عرب  
سنہ ۱۴۳۶ھ منور

حقوق طبع چھ محفوظ بنام  
مجمع شاہ فہد برائے طباعت مصحف شریف

ص ب ۶۲۶۲ - مدینہ منورہ  
[www.qurancomplex.gov.sa](http://www.qurancomplex.gov.sa)  
[contact@qurancomplex.gov.sa](mailto:contact@qurancomplex.gov.sa)

③ مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ١٤٣٦ هـ  
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف  
ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الكشميرية / مجمع الملك فهد  
لطباعة المصحف الشريف - ط ٢ - المدينة المنورة، ١٤٣٦ هـ  
١٦٩٦ ص؛ ١٤ × ٢١ سم.

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٨١٤٨-٧٩-٢

١- القرآن - ترجمة - اللغة الكشميرية أ. العنوان

ديوي ٢٢١،٤٩١٤٩٩ ١٤٣٥/٨٦٧٣


رقم الإيداع: ١٤٣٥ / ٨٦٧٣

ردمك: ٩٧٨-٦٠٣-٨١٤٨-٧٩-٢



9 786038 148792







١٦

ردمك : ٩٧٨-٦٠٣-٨١٤٨-٧٩-٢

٣٠٣/٤٠٠ (٨) (٠١)

قرآن مجید  
تئیک کاشر تفسیر

تلام و مین فر بیچین شیخ سلیمان بن عبدالعزیز آل سعود مدینه طریقی وقت  
الله تعالی سزور شامدی حاصل کرد فیضیه  
و بیگ کسین بیست و چهار  
مشت قسم کرد فیضیه